

مختصر اردو لغت



قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

ویسٹ بلاک - 1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110 066

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

1987 : پہلی اشاعت

1997 : دوسری اشاعت

2009 : تیسری طباعت

1100 : تعداد

320/- روپے : قیمت

560 : سلسلہ مطبوعات

Mukhtasar Urdu Lughat

ISBN : 81-7587-273-X

ناشر: ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی۔ 110066

فون نمبر: 26103938، 26103381، 26179657، فیکس: 26108159

ای۔میل: urducouncil@gmail.com، ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in

طابع: ہائی ٹیک گرافکس، 167/8، سونا پریا چمبرس، جو لینا، نئی دہلی۔ 110025

On 70 GSM TNPL (Tamil Nadu News Print and Papers Ltd.)

پیش لفظ

قومی اردو کونسل برائے فروغ اردو زبان، ہندوستان میں اردو زبان و ادب کی ہمدست ترقی و ترویج میں مصروف ہے۔ اس کے دائرہ کار میں ملک کے گراں قدر علمی و ادبی لوگوں سے رابطہ قائم کرنا، ان کی اہم ادبی سرگرمیوں میں ان کی معاونت کرنا اور زبان کی ترقی و فروغ کے لئے علم و ادب کے محققین و ماہرین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شامل ہے۔ قومی اردو کونسل کے اہم اغراض و مقاصد میں اصطلاح سازی، اردو انسائیکلو پیڈیا، حوالہ کی کتابیں تیار کرانے کے ساتھ تدوین لغات کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ لغت کی تدوین و اشاعت کے لئے زبان و ادب کے ممتاز ماہرین کی خدمات درکار ہوتی ہیں۔ نیز اس پروجیکٹ کے لئے کثیر رقم کے علاوہ دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے مختصر اردو لغت کی تیاری کے لئے ماہرین کے مشوروں سے معیار اور حدود متعین کئے گئے۔ مہلوات اور الفاظ کے انتخاب اندراج، معنی اور آخذ کے بارے میں رہنما اصول بتائے گئے انگریزی و دیگر ہندوستانی زبانوں کے کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ کو بھی لغت میں شامل کیا گیا۔ اور ان کی نشاندہی مخففات کے ذریعہ کی گئی ہے جیسے ہ۔ ہندی، ف۔ فارسی، ا۔ انگریزی، ج۔ عربی، ت۔ ترکی، وغیرہ ان مراحل کے طے ہونے کے بعد یہ کام 1974ء میں انجمن اسلام ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ممبئی کو سونپ دیا گیا۔ اس وقت سید شہاب الدین و سنوی (انجمن اسلام کے سکرٹری) کو اس پروجیکٹ کا نگران مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر سید ظہیر الدین مدنی (1974-75ء) اور ان کے بعد ڈاکٹر شیخ فرید (77-1975ء) تک پروجیکٹ کے ڈائریکٹر اور مولوی حفیظ الدین (مرحوم) کل وقت محلوں ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔

اس لغت کے لئے نور اللغات کے اساسی الفاظ سامنے رکھے گئے اور ان میں تنقید و دیگر اصناف کے جدید الفاظ کا اضافہ، جزوقتی ڈائریکٹر عبداللہ کمال کی مدد سے کیا گیا۔

ان ماہرین کے ساتھ وقتاً فوقتاً ماہروں سے بھی استفادہ کیا جاتا رہا جب یہ لغت تیار ہو کر دفتر آگئی تو نظر ثانی کی ذمہ داری پروفیسر نور الحسن ہاشمی، سابق صدر شعبہ اردو فارسی، لکھنؤ یونیورسٹی کے ذمہ کی گئی۔ اس ذمہ داری کو نبھانے میں ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی و دیگر ماہرین محلوں کو مددگار رہے۔ احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر اس لغت کے کتابت شدہ صفحات کو ایک بار پھر

علی گڑھ بھیجا گیا جہاں پروفیسر مسعود حسین خاں صاحب کی ہدایت کے مطابق جناب انوار احمد نے اس پر نظر طائرانہ ڈالی۔
طباعت کے مرحلوں سے گذر کر یہ لغت 1987 میں شائع ہوئی۔ طلباء و قارئین کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا
دوسرا ایڈیشن پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلے ایڈیشن کی بعض طباعتی اغلاط کو دور کر دیا گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ موجودہ صورت
میں یہ لغت پہلے سے زیادہ مفید ثابت ہوگی۔
میں لغت کے مرتبین اور اس پروجیکٹ میں شامل سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس کام کی تکمیل میں
اپنا بھرپور تعاون دیا۔

رشی چودھری

(ڈائریکٹر انچارج)

ترتیب اندراجات

73	—	7	ایہام گوئی	اب	—	الف مقصورہ
91	—	74	آیہ رحمت	آ	—	ممدودہ
153	—	92	بیہوش	باب	—	ب
168	—	153	بھینسی	بھابی	—	پ
226	—	167	پے ہونا	پا	—	پچھ
235	—	226	پھینسی	پھاپا کشتی	—	ت
284	—	236	تھینسی	تا	—	تھ
288	—	284	تھیوری	تھاپ	—	ٹ
303	—	286	ٹیشن	ٹاپ	—	ٹھ
309	—	303	ٹھینگی سے	ٹھا	—	ث
311	—	310	نور	ثابت	—	ج
347	—	312	جیون کان	جا	—	جھ
356	—	347	جھینگر لگنا	جھابا	—	چ
389	—	357	چیونگم	چاب	—	چھ
398	—	389	چھینسی	چھاپ	—	ح
415	—	398	حیوانیت	حاتم	—	خ
439	—	416	خیمہ استاد ہونا	خاتم	—	د
481	—	439	دھیم	داب	—	دھ
490	—	481	دھیوت	دھا	—	ڈ
501	—	491	ڈھیم	ڈاب	—	ڈھ
504	—	504	ڈھینگر	ڈھابا	—	

الف مقصورہ

اء آردو، نروف تہجی کا پہلا حرف، محل (ابجد) میں ایک عدد۔

آپانا، کسی کھانے کی چیز کو پانی میں جوش دے کر کچا پی ڈوڈ کر دینا۔

ا۔ ب

— سبباً، (سبباً تا بیج مہل ہے) (جو) بے مسالے اور بے رومن کا، بے مزہ۔

آب، اس وقت، فوراً۔

ابتداء، (ع) موتش؛ پہل، شروع، آغاز۔

ابتدائی، پہلا، شروع کا۔

— پچھتائے کا (کیا) ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، نخل؛ موقع ہاتھ سے نکل جانے پر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔

— سماعت، (ع) موتش؛ (قانونی اصطلاح) مقدمے کی پہلی پیشی۔

— تب، مثال مثل، جیلے حالے۔

ابتدائیہ، (ن) مذکر؛ (کتاب کا) تمہیدی مضمون۔

— سے دُور، اس بات سے خدا محفوظ رکھے، ادعا تیرہ جملہ؛

ابتدائی، (ع) مذکر؛ ہلکا پن، ادنیٰ قسم کی بات۔

ماضی کی کسی برسی بات کے ذکر کے وقت،

آبخر، (ع) پریشان، بتر، بڑا، خراب۔

— کے حساب / حسابوں، اس وقت کے اعتبار سے۔

ابتلا، (ع) موتش؛ آزمائش، بلا میں پڑنا، مصیبت میں گرفتار ہونا۔

— ذتب، کبھی نہیں، نہ اس وقت نہ پھر کبھی۔

آبستہ، (ع) مذکر؛ خوشی، مسرت۔

آبا، مذکر؛ (۱) باپ۔ (۲) چچا، تایا، دادا، خاندان کے دوسرے بزرگوں

آبٹن، مذکر؛ بٹنا، بٹنا، خوش بودار مرکب جو چہرے یا جسم پر رنگ

کو بھی کہتے ہیں، (تعلیم یا پیار سے) جی، جان، جانی، میاں

نکھارنے کے لئے نکلا جاتا ہے۔

کے ساتھ۔

— آبتنا کھیلنا، ڈو ہلا ڈاہن کے آبتنا نٹنے کے موقعے پر ہم جویوں

آبا، (ع) موتش؛ انکار۔

کادل گی میں ایک دوسرے کے منہ یا بدن پر آبتنا لگا دینا۔

آبازیل، (ع) موتش؛ ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پرندہ، جس

آبجد، (ع) موتش؛ عربی حروف تہجی کے عربی حروف تہجی کے ۲۸ حروفوں کو

کے سینے کے پر سفید ہوتے ہیں۔

آبظہن، (ع) موتش؛ عربی حروف تہجی کے عربی حروف تہجی کے اعداد مقرر

آباحت، (ع) موتش؛ ہانک ہونا، مباح ہونا۔

آبہ، (ع) موتش؛ عربی حروف تہجی کے عربی حروف تہجی کے اعداد مقرر

آبال، مذکر؛ کت، آگ پر پکنے سے اُپر آجانے والا پھین، ہانڈی

آبجد، (ع) موتش؛ عربی حروف تہجی کے عربی حروف تہجی کے اعداد مقرر

کا جوش۔

آبلا، (ع) موتش؛ عربی حروف تہجی کے عربی حروف تہجی کے اعداد مقرر

آبالا، (۱) بے پختائی کا؛ (۲) صرف پانی میں آبالا ہوا، بے مزہ کھانا۔

— الہول (اہل ہول)؛ (ع) مذکر؛ مصر کے ایک دیہت بن کا

نام جس کا بدن شیر کا ہے چہرہ عورت کی طرح
آبوا؛ مذکر؛ باپ، باپ کو پیار سے مخاطب کرنے کا لفظ۔

آبواب؛ (ع) مذکر؛ جمع باب کی؛ (۱) دروازے، (۲) کتاب
کے حصے کا جو مضمون کے اعتبار سے کیے جاتیں

آبہام؛ (ع) مذکر؛ (۱) انگوٹھا، (۲) بات کھول کر نہ کہنا (۳) ایک
ادبی صنعت کا نام، جس میں بات کچھ چھپا کر کہی جاتی ہے۔

آبائی؛ لگی ڈنڈا کیلنے میں لگی پٹو ڈنڈے کی پہلی چوٹ، (دوسری
چوٹ دُئی)۔

— دُئی کھیلنا؛ لگی ڈنڈا کھیلنا۔

آبے؛ (تحقیق کا خطاب)؛ کبھی بے تکلفی اور پیار سے۔

— تھے کرنا؛ بدتمیزی سے بات کرنا، نا ملائم بات کہنا۔

آبیات؛ (ع) مذکر؛ جمع بیت کی، اشعار۔

آبیر؛ مذکر؛ لال رنگ کا ایک خوشبودار سفوف جو صندل اور ابرک کے

برادے سے مل کر بنتا ہے۔

آبیسف؛ (ع) سفید۔

آبیل و سبیل؛ کم زور، دبنے والا۔

آبجھار؛ مذکر؛ اٹھان، نمو، اونچائی۔

— دینا؛ (۱) کسی چیز کو اونچا کر دینا، (۲) بہکا دینا، ترفیب دینا،
کسی کام کے لئے آنا دہ کرنا۔

آبھاگ؛ (۵) مذکر؛ بد قسمتی، بد نصیبی، کم بختی۔

آبھاگا؛ (۵) مذکر؛ بد قسمت، بد نصیب، کم بخت۔

آبھرتا؛ اونچا ہونا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔

آبھلاشا؛ (۵) موٹھ؛ آرزو، ارمان، شوق۔

آبھی؛ فوراً، جلدی، اسی وقت۔

— دلی دُور ہے، (مشل)؛ ابھی مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔

— کچی کلمی ہے، کم سن، ناتجربہ کار۔

— منہ سے دودھ کی پُواتی ہے، [مشل]؛ (ظنراً) ناتجربہ کار بچہ

— ہونٹوں کا دودھ نہیں سوکھا؛ ظاہر کرنا۔

— پرسی، نازک بدن، خوب صورت عورت۔

ابلاغ؛ (ع) پہنچانا، بھیجنا، خیالات کا اظہار۔

آبلیق؛ (ع) مذکر؛ (۱) دورنگ والا، خصوصاً کالا اور سفید (۲) خاص کر

سیا سفید گھونٹا (۳) جس کے جسم پر سفید داغ ہوں، چنگیرا۔

— آیام / روزگار؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکرات دن۔

آبلیقا؛ مذکر؛ ایک اچھی آواز کا چنگیرا پر بندہ۔

آبکنا؛ جوش کھانا، پتلی چیز کا بہت گرم ہو جانا۔

آبل آنا؛ سو جانا، آشوب ہو جانا، جیسے آنکھ آبل آنا۔

— پڑنا؛ (رکنیشت)؛ (۱) آبر بھلا کہنا، بہت خفا دنا (۲) اوچھ پن سے

بھید نہ چھپانا، جو منہ میں آئے کبھی مٹھنا (۳) کسی چیز کا بہتات

سے ہونا۔

آبلہ؛ (ف) مذکر؛ احمق، بھولا بھالا۔

— فریب؛ مذکر؛ احمقوں کو دھوکا دینے والا۔

ابلیس؛ (ع) مذکر؛ (۱) شیطان، (۲) جہازاً مفسد / شریر۔

ابن؛ (ع) مذکر؛ بیٹا۔

— الوقت (اب۔ کل۔ وقت)؛ (ع) مذکر؛ زمانہ ساز، طلبی۔

— مزہم؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ حضرت مریم کے

بڑے حضرت عیسیٰ (مجازاً)؛ سچا نفس

— السبیل (اب۔ نس۔ سبیل)؛ (ع) مذکر؛ مسافر، راہی۔

— زیادہ؛ (اضافت کے ساتھ) یزید کے عہد میں کوٹے کا گورنر۔

آبتار؛ (ع) مذکر؛ جمع ابن کی؛ بیٹے، ساتھی، ہم جنس۔

آبتائے مجلس؛ (ف) مذکر؛ ہم جنس لوگ، انسان۔

— جہاں / دنیا / زمانہ؛ (ف) مذکر؛ انسان، دنیا والے لوگ۔

— وطن؛ (ف) وطن کے لوگ، وطنی بھائی۔

آبوا؛ (ع) مذکر؛ باپ

— البشر (آبل۔ بشر)؛ (ع)؛ انسانوں کے باپ،

حضرت آدم کی کنیت۔

— تراب؛ (ع) حضرت علیؑ کی کنیت۔

— الکلام (آبل کلام)؛ مولانا محمد الدین احمد ابوالکلام آزاد بہت

بڑے عالم، مقررہ مصنف اور آزادی کی جدوجہد کی صفحہ

اولیٰ کے لیڈر کا لقب۔

ہوا ایندھن۔
 آپٹان (۵)؛ ڈکڑا بے عزتی، جنگ و توہین۔
 آپٹا (۱)؛ اپنی ذات کا، اپنے قبضے کا (۲)؛ عزیز، رشتے دار، قریبی
 تعلق والا، بھجانہ۔

— اُو سیدھا کرنا؛ کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نکال لینا، کسی
 دُکسی طرح اپنا مطلب نکال لینا۔
 — اُو کھیں نہیں گیا، (مقولہ) ہر صورت میں نفع حاصل ہوتا کوئی
 دُکوئی اُو قبضے گا اور مطلب حاصل کرے گا۔
 — اپنا کرنا اپنا بھرنانا، (مقولہ) جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا،
 اپنی کرنی اپنی بھرنی۔
 — پیٹ ٹوکتا بھی پاتا ہے، (مقولہ) اس شخص کی ملامت کے
 لئے جو صرف اپنا تن پالے۔
 — پیسہ / سونا کھولنا، پر کھنے والے کا کیا دوس / دوش، (مثلاً)
 خود اپنی چیز بری ہو تو چاٹنے والے کی کیا خطا۔
 — تو تن پہلے ڈھا کھو، دوسرے کو ننگا کچھ کہنا، (مثلاً)؛ (اپنی
 بُرائیاں پہلے دُکرو پھر دوسرے کو بگھنا)؛ دوسروں کو بُرا کسی
 حال میں کہنا کہ وہی برائیاں اپنے میں موجود نہ ہوں۔
 — تو شہ اپنا بھروسہ؛ اپنی ہی چیز پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔
 — شہکا دُکرا لینا؛ (۱) اپنی روزی کا انتظام کر لینا، موجودہ ملازمت
 چھوڑ کر دوسری ملازمت کا انتظام کر لینا (۲)؛ موجودہ حالت
 کی جگہ کوئی اور صورت اختیار کر لینا۔
 — جُو بَر کرنا؛ اپنا خون کرنا، خود کُشی کرنا۔
 — نَکھ پرایا کچھ؛ (مثلاً) اپنی چیز بچائے رکھنا، دوسرے کی
 استعمال کرنا۔
 — سافندہ لے کر رہ جانا؛ (۱) خفیہ ہونا، مشر مندہ ہونا۔
 (۲) جواب نہ بنی ٹرنا۔
 — سر پٹنا؛ خود رانی کا نتیجہ جھگٹنا۔
 — کیا آگے آنا؛ اپنا کیا پانا؛ کسی بُرے کام کا بدلہ پانا، اپنے
 سنے کا نتیجہ جھگٹنا۔
 — گھر بھرنا؛ کسی کا مال و دولت تھوٹا تھوڑا کر کے بد دیا یعنی
 سے اپنے قبضے میں کرنا۔
 — لعل گنوا کے ڈر ڈر مانگے بھیک؛ اپنی پونجی ضائع کر کے

آکھیا س؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ عادت، مشق۔
 آکھی مان؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ گھنڈ، غرور، خود پستی۔
 آکھی مانی؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ غرور، گھنڈی، خود پسند۔

اپ

آپا س؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ روزہ، خاقہ۔
 آپا کُچ؛ (۱)؛ جس کے ہاتھ پاؤں درست و توانا نہ ہوں، چلنے پھرنے سے
 محذورہ (۲)؛ (مجازاً) کاہلی، سست، ناکارہ شخص۔
 آپا تے؛ (۵)؛ موٹ، ترکیب، عجزت، تدبیر۔
 آپ بھر نش؛ (سنسکرت)؛ موٹ، (۱)؛ عام بول چال کی زبان۔
 عوام کی بولی (۲)؛ شہ سے ستائہ تک ہندوستان میں
 بولی جانے والی زبان پراکرت۔
 آپج؛ موٹ، اتنی بات پیدا کرنا، ایجاد، تادرو نیا حیاں۔
 آپجاؤ؛ (۵)؛ زرخیز۔
 آپجنا؛ (۱)؛ گناہ پیدا ہونا (۲)؛ نئی نئی تائیں لگانا۔
 آپدیش؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ ہدایت، نصیحت، تلقین۔
 آپدیشک؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ ناصح، نصیحت کرنے والا۔
 آپرادھ؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ جرم، قصور، گناہ، پاپ۔
 آپرادھی؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ قصور دار، گنہگار، مجرم، پاپی۔
 آپرم پار؛ (۵)؛ بے حد، بے شمار، لانتہا، غیر محدود۔
 آپرن نش؛ APPRENTICE (انگ)؛ ڈکڑا (۱)؛ کسی
 نئی یا پیشے کی تربیت پالنے والا (۲)؛ کار آموز۔
 آپریل؛ (انگ)؛ ڈکڑا؛ انگریزی کا چوتھا مہینہ۔
 — فوٹ؛ (انگ)؛ آپریل کا اتنے سپی آپریل کو دوست احباب
 اور عام لوگوں کو مزاجا بے وقوف بنانے کا دستور۔
 آپسرا؛ (۵)؛ موٹ؛ پُرسی، نہایت حسین عورت، اہڈر کے دربار کی
 تانچنے والی۔
 آپسار؛ (۵)؛ ڈکڑا؛ بھلائی، مہمان۔
 آپلا؛ ڈکڑا؛ کنڈا، گائے بھینس کے گوبر کو گول موٹی کھلی کی شکل میں تھپا

ضائع کر کے دوسروں کا سہارا ذات کے ساتھ ڈھونڈنا۔

_____ ہاتھوں اپنی قبر کھودنا، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔
اپوزیشن؛ (انگ) موٹس؛
(۱) حزب مخالف، مخالف پارٹی یا جماعت (۲) مخالفت۔
اپیلون؛ (۵) مذکر؛ بارغ۔

_____ اسپہارہ؛ (۵) مذکر؛ بھینٹ، نذر، تحفہ۔

_____ آبی؛ پھلتی ہوئی تیزیز، چاقو، خنجر، تلوار وغیرہ۔
اپیل؛ (انگ) مذکر اور موٹس؛ (۱) نظر ثانی، نظر ثانی کے لئے کسی
فیصلے کے خلاف بڑی عدالت میں درخواست کرنا، (۲) انصاف،
مہربانی یا مدد کے لئے خاص توجہ دلانا۔

_____ بحال ہونا؛ اپیل کا غور کے لئے عدالت میں قبول ہونا۔

_____ ڈس مس ہونا؛ نا منظور ہونا / خارج ہونا؛ اپیل کرنے
والے کے خلاف فیصلہ ہونا۔

_____ ڈگری ہونا؛ اپیل کرنے والے کے حق میں فیصلہ ہونا۔

_____ اسپیلٹ؛ (انگ) مذکر؛ اپیل کرنے والا۔

_____ اچھارہ؛ مذکر؛ پیٹ پھولنا۔

_____ اچھرنانا / اچھرنانا؛ (۱) پیٹ کا پھول جانا، (۲) مجازاً، کم ظرفی
سے تھوڑے سے مال پر اترنا یا تھوڑی سی حیثیت پر گھنڈ کرنا۔

_____ آتا پتیا؛ (۱) تاج مہل، مذکر؛ کچھ ایسے اشارے جن سے کسی چیز
کا پتہ چلنے میں آسانی ہونا اور مدد ملنا۔

_____ آتارہ؛ مذکر؛ (۱) ڈھال و نشیب، (۲) کمی، گھٹاؤ، (۳) زہر یا نشہ
یا آسیب کا دور کرنا، (۴) صدقہ، گھاٹ۔

_____ چڑھاؤ؛ مذکر؛ (۱) نیچا اونچا، پستی بلندی، (۲) برائی بھلائی۔
بیچ اونچ، (۳) بھلاؤ (ترخ) کی کمی اور زیادتی، (۴) مہر، کا
دھیما اونچا ہونا، (۵) کمان یا ستار کا ڈھلاؤ کھینچاؤ۔

_____ (۶) سمندر کا جوار بھلاؤ، (۷) حکمت عملی، پالیسی۔

_____ چڑھاؤ بتانا / (دینا)، دھوکا دینا، دم دینا، جھانسا دینا۔

_____ آتارہ؛ مذکر؛ (۱) بلا یا مری نظر کے دور کرنے کا، ٹوٹنے کے طور پر
صدقہ، (۲) گھاٹ، (۳) چڑاؤ، فرود گاہ، (۴) دریا کا پاٹ،

_____ آپ کو کھینچنا؛ غرور کرنا، سب سے الگ ٹھلگ رہنا۔

_____ آپے سے گزر جانا؛ بہت مہرور ہو جانا، غصے سے بدحواس
ہو کر اپنی حد سے بڑھ جانا۔

_____ آگے کسی کو نہیں گڈنا، خود پسند ہونا، اپنے سے بہتر کسی کو
نہ جانا۔

_____ پانوں پر کھڑا ہونا؛ کسی کے سہارے بغیر اپنا کام خود چلانا۔

_____ پانوں میں آپ کلباڑی مارتا؛ خود اپنا نقصان کرنا، جان بوجھ
کر مصیبت میں گرفتار ہونا۔

_____ پراتے کی ٹٹو کریں کھانا؛ سب لوگوں سے ذات بھراؤ دکھ
اٹھانا۔

_____ تئیں؛ اپنے آپ کو، اپنی ذات (اب یہ متروک ہے)

_____ تئیں لیے رہنا، خود داری کا خیال رکھنا۔

_____ جا سے باہر ہونا / مغل جانا؛ خوشی یا غصے میں اپنے آپ
میں نہ رہنا۔ بے قابو ہو جانا، قابو

_____ حق میں کانٹے بونا؛ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کام کرنا۔

_____ دام کھوٹے پر کھنے والے کا کیا دوش / دوس، خشل؛ جب

_____ اپنے آدمی کے کتوت بڑے میں تو برا کہنے والوں سے کیا شکایت۔

_____ دہی / چھاچھ کو کوئی کھٹا جہیں کہتا؛ اپنی چیز کو کوئی برا نہیں کہتا۔

_____ ڈھائی چاول الگ گلانا؛ سب سے الگ بات کرنا، اپنی
ہی بانٹنا۔

_____ سر اڑھ لینا؛ کسی کی ذمہ داری یا غلطی کو اپنے سر لینا۔

_____ کئے کا کیا علاج / اپنے کئے کا علاج نہیں، اپنے کئے کو
مٹانے سے عاجز رہنا۔

_____ گریبان میں منہ ڈالنا / منہ ڈال کر دیکھنا، (۱) اپنی خامیوں
پر شرمنا، (۲) خود اپنی برائیوں کی طرف متوجہ ہونا۔

_____ گھر تاسا کس کو بڑا لگتا ہے؛ خشل؛ اپنا قائمہ کسی کو برا نہیں
معلوم ہوتا، اپنا نفع سب پسند کرتے ہیں۔

_____ گھراتے کئے کو کبھی نہیں دھتکار تے؛ خشل؛ مہان کے ساتھ
برابر تاؤ نہیں کہتے۔

_____ منہ میاں مشمو؛ خشل؛ خود اپنی تعریف کرنا۔

_____ نیلیں گونا کے در در مانگے بھیک؛ خشل؛ اپنا مال و دولت

— پیژن، (ع)؛ (پیژن تا بچہ)؛ موتھ؛ حمارت سے، اترے
 اترے کپڑے پہنے پہنائے کپڑے۔
 اترنا؛ (۱) نیچے آنا؛ (۲) سستا ہونا؛ (۳) ڈھلنا (جوانی کے لئے)۔
 (۴) بھول جانا (ذہن و خیال کے ساتھ)؛ (۵) حیر ہو جانا؛ ذلیل
 ہو جانا (نظر یا دل کے ساتھ)۔
 اتری ہوئی؛ ردی کی ہوئی، چھوٹی ہوئی۔
 — ہوئی پالوش؛ بے قدر اور بے حقیقت چیز۔
 اُتساہ؛ (۵) مذکر؛ خوشی، جاو، دلولا، جوش، حوصلہ، بہت۔
 اُتسوا؛ (۵) مذکر؛ تیوہار، جشنی، جلسہ۔
 اُتصال؛ (ع) مذکر؛ ملا جلا ہونا؛ ملنا۔
 اُتصالی؛ (ع) صفت؛ بڑھنے والا، ملنے والا، ایک دوسرے سے
 مل جانے والی خصوصیت۔
 اُتقاق؛ (ع) باہم ملنا، موافقت کرنا۔
 اُتقاقا؛ یکا یک۔
 اُتقاقا؛ مذکر؛ بغیر کسی اطلاع اور ارادے کے کوئی امر واقع
 ہونا؛ زمانے کے اٹل پیر سے کوئی نئی بات پیدا ہو جانا؛ (جمع)
 اُتقاہ؛ (ع) اُتقاقی؛ خلاف توقع۔
 اُتقاہ؛ (ع) مذکر؛ پرہیزگار ہونا، پرہیزگاری، شرع میں منع کی ہوئی نئی
 باتوں سے ہونا۔
 اُتقیہ؛ (ع) (جمع لفظی کی) پرہیزگار لوگ۔
 اُتکلاف؛ (ع) ضائع کرنا، تلف کرنا۔
 اُتکم؛ (۵) بہت اچھا، عمدہ، اعلیٰ۔
 اُتتام؛ (ع) پورا کرنا، انجام کو پہنچانا۔
 — حجت؛ (اضافے کے ساتھ) حجت کا پورا کرنا؛ کسی امر میں
 آخر مرتبہ سمجھانا۔
 اُتت؛ کم یا زیادہ بقدر بتانے کا اشارہ۔
 — کھائے کچھ؛ (مقول) رشوت وغیرہ میں لوٹ نہ چھانا،
 اعتدال سے کھانا۔
 — نہ گدگد آؤ کہ آدمی رود سے؛ ایسا مذاق نہ کرو جو ناگوار ہو۔
 اُتو؛ (ف) مذکر؛ ابھرے نقش نالے کا لہر، کپڑوں پر بنایا ہوا نقش۔
 — سازگر کرشم؛ اُتو کر کے والا۔

(اس سرے سے اُس سرے تک کا فاصلہ)؛ (۵) دیا سے پار
 ہونا۔
 اُتارن / اُتارن؛ مذکر، موتھ؛ پہننا ہوا لباس (وہ کپڑے جو پہن کر
 اتار دیں پھر نہ پہنیں)۔
 اُتارنا؛ (۱) کسی چیز کو اونچی جگہ سے نیچے لانا؛ (۲) دریا کے پار لے جانا۔
 (۳) بدن سے لباس جدا کرنا؛ (۴) چہرہ کھینچنا؛ (۵) کاٹنا، جدا
 کرنا؛ (۶) ٹھہرانا، جگہ دینا؛ (۷) ذلیل اور حقیر کرنا؛ (۸) بھول
 کرنا۔ (۹) ٹھکانا (حلق سے نیچے اتارنا)؛ (۱۰) بھونکنا، پیوست
 کرنا؛ (۱۱) پورا کرنا؛ (۱۲) ذہن نشین کرنا۔
 اُتارو / اُتارے ہونا؛ جھپٹے پڑ جانا، آمادہ ہونا؛ پار لگانے والا؛
 اُتاشی؛ (ترکی) سفارت خانے کے محلے کا ایک عہدے دار۔
 اُتالیق؛ (ترکی) مذکر؛ ادب سکھانے والا؛ استاد۔
 اُتاو لا؛ جلدی کرنے والا۔ جلد باز۔
 اُتائی؛ جس نے کسی یا ہنر کو باقاعدہ نہ سیکھا ہو۔
 اُتساع؛ (ع) موتھ؛ بیروی کرنا؛ پری۔
 اُتجاو؛ یک سال ہونا، میل جول، اُتقاق۔
 اُتتر؛ (۵) مذکر؛ (۱) شمال؛ (۲) جواب۔
 اُترا؛ اُتر ہوا۔
 — شمتہ؛ مرد کو نام، خُلق، عہدے اور منصب سے اترنے
 کے بعد انسان کی وہ وقت نہیں رہتی۔
 اُترانا؛ ذرا سی بات پر بے جا فخر کرنا کسی چیز پر ناز ہونا، گھمنٹ
 ظاہر کرنا۔
 اُترانا؛ (۵) ترنا؛ بے جان چیز کا پانی کی سطح پر آ جانا۔
 اُترائی؛ موتھ؛ کسی چیز کے اترنے کی مزدوری، دریا پار کرنے کا
 کرایہ۔
 اُترتا چاند؛ (ع) چاند کے چہنے کا آخری حصہ۔
 اُترتی برسات؛ قطعی برسات، جاتی ہوئی برسات۔
 — ہندی کنارے ڈھائے، مثل؛ انسان کا جب کسی پر زور
 نہیں جلتا تو بے بس غریب کو سستا ہے۔
 اُترسول؛ برسوں کے بعد کادن۔
 اُترن؛ دیکھو اُتارن، اُترے اُترے کپڑے۔

جھک، شبہہ، تائل۔
 — جاننا، (۱) پھنس جانا، (۲) لگاؤ ہونا، (۳) مشغول ہو جانا۔
 آنکنا بنیا سودا دے / کرے، متشل، غرض مند کا مجبوراً معاطہ کرنا۔

آنکنا، (۱) روکنا، (۲) جھٹلانا، (۳) لٹکانے رکھنا، کسی چیز کو کسی چیز میں اُلٹانا۔

آنکاؤ / آنکاو، مذکر، روک، رکاوٹ، رکنے کا سبب۔
 آنکل، اندازہ، تمیز، شور۔

آنکھ، بے اندازہ بات، بے سمجھے بوجھے کچھ کہنا، واہیات
 آنکھتا، جھکنا، خم جانا، پھنسنا۔

آنکلن، بٹکن، مذکورہ چھوٹے بچوں کا ایک کھیل، (۲) (مجانا) بے کار اور بے فائدہ کام کرنا۔

آنکھیلی، موت؛ چال میں شوخی، مستانہ چال، اٹھلا کے چلنا، خراب ناز۔

آنٹ، (۵) مذکر، (۱) اپنی جگہ سے نہ بے، نہ ٹلے، مضبوط، (۲) (دہل)، (مجانا) کھاکر آسودہ ہو جانا، سیر ہو جانا۔

آنٹلس، ATLAS، (انگ) مذکر، ملکوں کے نقشوں کی کتاب۔

آنٹم، (۵) مذکر، ڈومیر، انبار۔

آنٹار آٹ جانا، گردوغبار میں بھر جانا۔

آنٹنگا، اوپر چڑھا ہوا، اونچا۔

آنٹنگن، (۵) مذکر، ایک کاسٹے والا درخت جس کی پتیاں یا شاخیں جسم میں چھو جانے سے کھلی پیدا کر دیتی ہیں

آنٹوٹی کھٹوٹی، ٹوٹی چھوٹی چار پائی بستری۔

آنٹوٹی لے کر پڑھنا، علم، غصے یا رنج کی حالت میں سب سے انگ ہو کر پڑھنا۔

آنٹیرن، موت؛ سؤت، لپیٹ کر انٹی بنانے کا آلہ، چرخی۔

آنٹیرنا، گھوڑا پھرنے کا ایک طریقہ۔

آنٹو، شراب گھوڑے کے گلے میں رسی باندھ کر دائرے کے بیچ میں گھڑے ہو جانا اور اس کو پھیرے (پھکر) دینا۔

آنٹو، ڈبل تھلا ہونا، ہڈیاں نکل آنا، پھر گھاسو کھا، بھگ ہوتی ہڈیوں

کرننا، (۱) کپڑے پر آؤ کا کام کرنا، (۲) مجازاً، اتنا مارنا کہ بدن پر مارنے کے نشان (بڈھیاں) پڑ جائیں، خوب پیٹنا۔
 — بنانا، زمیں پر اچھلتے چلنا، ایسی شوخی سے چلنا کہ قدم کے نشان بن جائیں۔

آنوار، (۵) مذکر؛ یکشنبہ، (انگ) سٹڈے۔

آنوار، (۵) موت؛ تاریخ، داستان، قصہ۔

آنوار، (۵) مذکر؛ جہان جوڑنا، جہت، جہت لگانا۔

آتی آتی، (۵) بہت زیادہ، زیادتی، کثرت۔

آتی چار، (۵) مذکر؛ ظلم، جبر، نا انصافی۔

آتی چاری، (۵) ظالم، جابر، نا انصاف۔

آتھاہ، (۵) جس کی تہ کی زمیں نہ ملے، بہت گہرا۔

آتھک، نہ چھکنے والا، بہت سختی۔

آتھل، (۵) جس میں کم گہرائی ہو، سطحی۔

آتھلا، (۱) کم گہرائی، (۲) (کٹاٹا) چھوڑا، پھیل خور۔

آتھل پھیل، (۵) اٹا پٹا، تلے اوپر، زیر و زبر، مجازاً، پھیلنے، شورش

ا-ٹ، ٹھ

آٹاچی، ATTACHE، (انگ) مذکر، (۱) سفارت خانے کے اٹلے لارکن، (۲) بیگ۔

آٹارنی، ATTORNEY، (انگ) قانونی مشیر۔

آٹاری، (۵) موت؛ کوٹھا، بالا غار۔

آٹالا، (۵) مذکر؛ (۱) نہ ٹلنے والا، ضروری، (۲) گھر گھر ہستی کی چیزیں، کاٹھ کساڑ۔

آٹا پٹا، (۵) اٹا سیدھا، عجیب، غیر متوقع۔

آٹرنی، (انگ) دوہ وکیل یا مختار جو خود پرہوی نہیں کرتا بلکہ مقدمہ مرتب کر کے پیر شریا وکیل کے سپرد کر دیتا ہے۔

آٹ سٹٹ، (۵) موت؛ (۱) بے ٹکی باتیں، (۲) جوڑ توڑ، سازش، پیریشانی، فکر آشنائی

آٹک، موت؛ (انگ) حاصل مصدر؛ روک، مزاحمت؛

ا ش

آثبات البیت: (۱) ائمانی بیعت، (۲) عہد گھر کا سامان، گھر گھرستی کی چیزیں۔

آٹھ: (۱) عہد، مذکر، کپڑا، زبور، اسباب، پونجی، سرمایہ۔

آثبات: (۱) عہد، مذکر، ثبات کرنا، نبوت، تصدیق۔

آئز: (۱) عہد، مذکر، (۲) نشان، (۳) جو کچھ کسی چیز کے ختم ہونے کے بعد

باقی رہے، (۳) سنت نبوی، (۴) تیسرے، (۵) تاثیر۔

— پذیر و جو چیز اثر قبول کرے۔

— دارا اثر کرنے والی چیز، اثر کرنے والی چیز۔

— میں ہونا، کسی کے قابو میں ہونا، دباؤ میں ہونا۔

اثریت: (۱) عہد، موت، تاثیر، کیفیت، متاثر کرنے کی خاصیت۔

اٹم: (۱) عہد، مذکر، گناہ، قصور۔

اٹکار: (۱) عہد، مذکر، جمع شرک، اچھل۔

اٹشا: (۱) عہد، مذکر، بیچ، درمیان۔

اٹنا عشری / عشریہ: (۱) عہد، اہل تشیع، بارہ اماموں کو ماننے

والے شیعہ، امامیہ طریقہ کے لوگ۔

اٹم: (۱) عہد، گنہگار۔

ا ج

اجابت: (۱) عہد، موت، قبولیت، (طبی اصطلاح) پاخانہ۔

اجارہ: (۱) عہد، مذکر، ٹھیکہ لینا، ٹھیکہ، گرایہ پر کوئی چیز دینا۔

— پاندرہنا، قبضہ کرنا، ٹھیکہ لے لینا۔

— دار، ٹھیکے دار، اختیار دار، قابو کی چیز۔

— داری، موت، (۱) ٹھیکے داری، (۲) ٹھیکے داری، (۳) ٹھیکے داری۔

اجارہ: اجڑا ہوا، ویران، خراب۔

اجارنا: تباہ کرنا، ویران کرنا، مٹانا۔

اجازت: (۱) عہد، موت، پرواگی، منظوری۔

— طلب: اجازت چاہنے والا، جس میں اجازت ضروری ہو۔

کی مالا ہو جانا۔

اٹھا: مذکر، آٹھ نشان، والاتاش کا پتہ۔

اٹھا بیٹھی / اٹھ بیٹھ: موت، (۱) بار بار اٹھنا بیٹھنا، (۲) لوگوں

یا طلبا کو کان پڑ کر اٹھنے بیٹھنے کی سزا۔

اٹھا رکھنا: باقی رکھنا، آئندہ کے لئے اٹھا رکھنا۔

اٹھا رہ: دس اور آٹھ۔

اٹھا سہی: اسی اور آٹھ۔

اٹھان: موت، ابھار، بایدگی، نشوونما کی قوت، لڑکپن یا جوانی

کا آغاز۔

اٹھانا: (۱) اٹھنا کرنا، (۲) جگانا، تعمیر کرنا، صرف کرنا۔

اٹھا نوے: (۱) نوے اور آٹھ۔

اٹھا ون: پچاس اور آٹھ۔

اٹھا وچوٹھا: مذکر، (۱) وہ چوٹھا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ

لے جا سکے (۲) مجازاً، ایک جگہ ٹک کر نہ رہنے والا آدمی،

خانہ بدوش۔

اٹھا و میرا مکنا (مفتوح) گھر سنبھالوں اپنا: مثل، یہ اس

بے لحاظ عورت کے بارے میں کہتے ہیں جو بیاہ ہوتے ہی اپنے

شوہر کو لے کر خاندان سے الگ رہنے لگے۔

اٹھالی گیرا: چور، گھٹیا چور جو کوئی معمولی چیز بھی پا جاتے تو لے بھاگ

بدلیں، اچھا۔

اٹھتی جوانی: جوانی کا آغاز۔

اٹھتی کو نپل / کو پل: شروع جوانی، نو کے دن۔

اٹھتی جوانی بیٹھتے لات: (کنایتاً) نہایت ذلت سے رکھنا،

ہر وقت ڈانٹ پٹکار۔

اٹھ جانا: (۱) مرجانا، (۲) رسم کا ترک ہو جانا، ختم ہو جانا۔

اٹھلاٹا: شوخی و ناز کی حرکتیں کرنا، ناز سے چلنا، اترانا۔

اٹھنی: موت، جب رو پر یہ سولہ آفوں کا ہوا کرتا تھا اس وقت سے

روپے کے آدھے حصے کے سٹکے کو کہتے تھے، پچاس پیسے کا

— بٹھ، پوری رقم کا یا کام کا آدھا۔

اٹھو آٹھ: مذکر، اٹھوں میں پیدا ہونے والا بچہ۔

— صورت، بد صورت، بد نما۔

اِجْرَامُ: (ع) مذکر؛ (جزم کی جمع) جسم، جواہر، پتھر، ستارے وغیرہ۔
— فلکی/اسماوی: (اضافے کے ساتھ) آسمان کی مادی چیزیں۔

سورج چاند ستارے وغیرہ۔

اِجْرَاتے سَمَن / ڈگری: (عدالتی اصطلاح) ستم نافذ ہونا، ستم
جاری ہونا، ظلمی کا حکم۔

اُجَاگَر: (ہ) جاگتا ہوا، روشن۔

اُجَالَا: مذکر؛ (۱) روشنی، (۲) صبح کا ترکاہ (۳) رونق پہل پہل۔
اُجَالَانَا: چمکانا، صاف کرنا۔

اُجَان: (ہ) انجان، بے خبر، نادان، جاہل، اجتن۔

اُجُنْجُک / اُزْبِک: (ترکی) مذکر؛ روس کے ایک علاقے ازبکستان
کارہنے والا، تاتاری، مجازاً، لبا بے سلیقہ۔

اُجْمَاع: مذکر؛ (۱) جماعت، اکٹھا ہونا، (۲) نجوم کی اصطلاح میں ایک
وقت ایک ہی برج میں سورج اور چاند کا جمع ہو جانا۔

— ضَمَائِن / نقیضین: (اضافے کے ساتھ) فلسفے کی اصطلاح
میں دو ایسی مخالف چیزوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا جن کی یکجائی
ممکن نہیں، مثلاً سفیدی سیاہی۔

اُجْمَاعِي: جماعتی۔

— شعور: مذکر؛ سماجی نگہی، جماعتی مسائل کا ادراک۔

اُجْمَاعِيَّت: یکجا نیت، جماعتی خصوصیت۔

اُجْمَاعِيَّتَاب: (ع) مذکر؛ بچنا، پرہیز، کنارہ کشی۔

اُجْمَاعِيَّة: (ع) مذکر؛ (۱) کوشش کرنا، جھگڑنے سے سوچ کر بات کالنا۔
(۲) شرعی مسائل میں عالم کو اپنی رائے قائم کرنا۔ (۳) کسی ماہر
فنی کا اپنے فن کے مسئلے میں اپنی خاص رائے قائم کرنا۔ (۴) جدو
جدو، (۵) جدت، اختراع، ایجاد۔

اُجْدَاد: (ع) مذکر؛ (جمع جد کی) دادا اور اُوپر کی پیرمی، باپ دادا،
بزرگ۔

اُجْدَل: (ہ) گنوار، آن گھلا، گاودی، بے تہذیب و بے سلیقہ شخص، جاہل،
اُفْر۔

اُجْر: (ع) بدلہ، نیک کام کا صلہ، ثواب، مزدوری۔

اُجْرَاء: (ع) مذکر؛ جاری کرنا/ ہونا، کام چلانا۔

اُجْرَت: (ع) موت؛ مزدوری، کام کا معاوضہ۔

اُجْرَاء: (ع) مذکر؛ (۱) ویران، تباہ، برباد، (۲) (مو) بگڑا، ٹوا۔
— وُجْرَاء: (جمع مہل) ویران، بے رونق۔

اُجْرَتَانَا: (ہ) برباد ہونا، کسی مکان یا جگہ کا تباہ ہونا۔

اُجْرَتے گَاوَل سے کیا ناطہ: مثل، جو جگہ چھوڑیں اس سے کوئی
تعلق نہیں رہتا۔

اُجْرَاء: (ع) مذکر؛ (جمع جُز کی) ٹکڑے، حصے۔

اُجْسَاو: (ع) مذکر؛ (جمع جَسَد کی) جسم، بدن۔

اُجْسَام: (ع) مذکر؛ (جمع جَسَم کی) جسم، بدن

اُجْل: (اُجْل)؛ (ع) بہت بزرگ، بڑی شان والا۔

اُجْل: (ع) موت؛ موت، قضا۔

— رَسِيد: (ع) موت؛ (رنے کے قریب جیسے موت آیا جانتی ہو

اُجْلُک: (ہ) مذکر؛ اُردو، بہت بڑا بے زہر سانپ۔

— رُگْرُفْت: موت کے پکڑ میں ہونا، جس کو اُجیل آجائے۔

اُجْلَا: (ہ) مذکر؛ سفید، صاف ستھرا۔

— اِنْخِطَام: صاف ستھرا، انتظام، سلیقے کا انتظام۔

— پِن: صفائی، چمک، رونق۔

اُجْلَاس: (ع) مذکر؛ (۱) جلسہ، نشست، (۲) دربار، (۳) حاکم

کے مقدمات کرنے کی جگہ۔

— کَرْنَا: حاکم کا مقدمے سننا اور فیصلہ کرنا۔

اُجْلَاف: (ع) مذکر؛ رذیل، کینے لوگ۔

اُجْلَال: (ع) مذکر؛ بزرگی، شان و شوکت۔

اُجْلِي: (ہ) موت؛ (۱) صاف ستھری، (۲) (مو) دھوین (رات کے

وقت عورتیں خوشی کے خیال سے دھوین کو اُجلی کہتی ہیں)۔

اُجْمَاع: (ع) مذکر؛ (۱) جمع ہونا، اکٹھا ہونا، (۲) کسی بات پر اتفاق

ہونا، (۳) اصطلاح فقہ میں کسی دینی مسئلہ پر علماء کا متفق ہونا۔

اُجْمَال: (ع) مذکر؛ تحریر یا تقریر میں کم سے کم لفظوں میں پوری بات

کہنا، مختصر، اختصار، مستحکم

اُجْمَالِس: (ع)؛ (جمع جَمَلِس کی) چیزیں، قسمیں۔

اُجْمَلِي: (ع) جس سے جان سپان نہ ہو، پرہیزی، ناواقف۔

اُجْمَلِيَّة: (ع) (جمع جَمَلِي کی) وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو۔

— لے جانا، اڑا لے جانا، جھپٹ لے جانا، کوئی چیز جالا کی سے لے جائیگا۔

اُچکا؛ چیزیں اُچک لے جانے والا، چالاک چور۔

اُچکانا؛ اوپر اٹھانا، اونچا کرنا۔

اُچکن (۵)؛ موتی؛ پرانی وضع کی شیروانی۔

اُچکنا (۵)؛ کودنا، پھاندنا، ابھرننا، زمین سے اونچا ہونا۔

اُچکھا (اُچکھا)؛ مذکر، تعجب، حیرت۔

اُچوک؛ نہ چونے والا یقینی۔

اُچھا؛ ٹھیک جیسا چاہئے ویسا، عمدہ، خوب، کسی بات کا اقرار، تاکید۔

اُچھا بھلا؛ (۱) تندرست، بھلا چنگا۔ (۲) شریف، بے عیب۔

— خاصا، ٹھیک، تندرست، جس میں کوئی خاص خرابی نہ ہو۔

— ہونا، شفا پانا، بہتر ہونا۔

اُچھا؛ (۵)؛ موتی؛ خواہش، مرضی، منشا، ارادہ۔

اُچھا چھکا؛ موتی؛ (عو) چھنا، بدکار عورت۔

اُچھالنا؛ (۱) کسی چیز کو اوپر کی طرف پھینکنا، بلندی کی طرف پھینکنا،

اونچا پھینکنا (۲) دو برتنوں میں رقیق چیز اوپر سے نیچے، نیچے سے

اُپر اُچھے خاصے خاصے سے ڈالنا (جیسے دودھ، چائے)۔

اُچھت / اُچھوت؛ (۱) نہ چھونے کے قابل، جو کس نہ ہو اچھو۔

(۲) کورا برتن یا استعمال میں نہ آئی ہوئی چیز۔

اُچھل پڑنا؛ یک بارگی اپنی نشست سے اوپر اُٹھ جانا، دفعتاً اپنی

نیشی ہوئی جگہ سے بے اختیار اوپر کی طرف حرکت کرنا (خوشی

یا خوف سے)۔

اُچھل کود؛ موتی؛ کود پھاند، کھیل کود۔

اُچھلنا؛ (۵) کودنا، اپنی جگہ سے اوپر ہو جانا، تیزی سے تڑپ کر نکلنا۔

اُچھو؛ گلے میں بانی یا رقیق چیز کا پھندا پڑ جانا (آنا، گلنا یا ہونکے ساتھ)۔

اُچھوانی؛ (۵)؛ موتی؛ زچہ کی تقویت کے لئے پھلایا جانے والا ایک

خاص قسم کا حیرہ۔

اُچھوتا؛ (۵) صفت؛ (۱) غیر چھوٹی ہوئی چیز، (۲) پارسا، پاک صاف۔

(۳) نیا۔

اُچھوتی؛ کنواری۔

اُچھے؛ (۱) بزرگ، مرتب، (۲) تندرست، (۳) شریف۔

— (ع) جن کی جمع بولتے ہیں۔

اُجھل؛ (ع)؛ بڑا جاہل، بہت اُجڈ، جہالت سے بھرا ہوا۔

اُچی؛ (۵)؛ (۱) سے جی کا معنی؛ مخاطب کرنے کا کلمہ، (۱) اے صاحب

اے جناب، (۲) عورتوں کو اپنے خاندنوں کو مخاطب کرنے

کا کلمہ۔

اُجیالا؛ (۵) مذکر؛ اُجالا، روشنی۔

اُجیالی؛ موتی؛ گھوڑے کی اندھیری، چمڑے یا کپڑے کا وہ

پردہ جو شہر اور شوخ گھوڑے کی آنکھوں پر باندھے ہیں۔

اُجیر؛ (ع) اجرت پر کام کرنے والا، مزدور۔

اُجیرن؛ (س) کسی چیز کا دو بھر ہونا، بار بار خاطر، ناگوار۔

اُچایت؛ (۵)؛ موتی؛ (۱) کسی دکان دار سے ادھار لین دین۔

(۲) شور و غل، کود پھاند، (عو) بد معاشی

اُچا پتی؛ (عو) شوخ اور شریر لڑکا۔

اُچاٹ؛ اُداس، اُگتا یا ہوا، بے زار۔

اُچار؛ (ف)؛ اُچار؛ مذکر؛ سرکہ، تیل یا یلموں کے عرق میں دیگر

مسالوں کے ساتھ آم یا دوسرے پھلوں کا بنا یا ہوا چٹ پٹا

مرگب۔

— ڈالنا؛ (۱) اُچارنا، (۲) کسی چیز کو بے ضرورت ایک

مَدّت تک رکھ چھوڑنا۔

— نکال دینا، (تعدی) بے انتہا مارنا، خوب مارنا۔

اُچاری؛ اُچار رکھنے کا برتن۔

اُچانک؛ (۵)؛ یکایک، دفعتاً۔

اُچیل؛ چل بلا، شوخ۔

اُچیل ہٹ؛ چل بلا، شوخی۔

اُچھلنا؛ پھندا، بھڑکنا، اُٹک ہو جانا، سرسری، ادھورے زار ہونا۔

اُخرج؛ (۵)؛ اٹکھا، تعجب، اچھبھا۔

اُچک؛ اُبھار، بلندی۔

— پھاند، کودنا، پھلا گنا۔

وقت (۱) اچھا زمانہ (۲) میں ضرورت کے وقت، میں
موقع پر (۳) (ظن) بے موقع، بے عمل۔

ا—ح

احادیث (ع) مذکر (جمع حدیث کی) حضرت محمد کے اقوال۔
احاطہ (ع) گھیرنا، چار دیواری کا گھیرا، گھری ہوئی جگہ (بائز تار،
دیوار وغیرہ سے۔)

اچھا (ع) مذکر (جمع حبیب کی) دوست۔

آجباب (ع) مذکر (جمع حبیب کی) دوست۔

آجیار (ع) مذکر (جمع جر کی) دانا، یہودیوں کا عالم۔

اقتباس (ع) کرنا، بندھونا، سانس کرنا، پھرتا، ہوا کرنا۔ (ع)

اقتجاج (ع) مذکر اختلاف کا اظہار، تاق کے خلاف اٹھائی جانے
والی آواز (انگ) پروٹسٹ۔

اقتراز (ع) مذکر پرہیز کرنا، بچنا، کنارہ کشی

اقتراق (ع) مذکر (۱) جلا، جلنا، (۲) لب کی ایک اصطلاح۔

(۳) نجومیوں کی ایک اصطلاح۔

اقترام (ع) مذکر عزت، توقیر۔

اقتساب (ع) مذکر گننا، شمار کرنا، پکڑ، گرفت، مواخذہ۔

اقتشام (ع) مذکر شان و شوکت۔

اقتکار (ع) (۱) بھکار، (۲) مذکر ذخیرہ اندوزی۔

اقتلام (ع) مذکر نیند میں انزال ہونا، خواب میں کسی کا نکل جانا۔

اقتمال (ع) مذکر شک، گمان، اندیشہ۔

اقتیاج (ع) موت؛ حاجت، ضرورت۔

اقتیاط (ع) موت؛ (۱) بچنا، (۲) ہوشیاری برتنا، سوجھ بوجھ
سے کام کرنا (۳) حفاظت کرنا۔

رکنا، خیال رکھنا۔

رکنا سے رکنا؛ حفاظت سے رکنا۔

رکنا (۱) حفاظت کے خیال سے پیش بندی کرنا (۲) حفاظت کا خیال رکھنا۔

أحد: ایک، اکیلا، یگانہ۔

أحد: عینے کے قریب ایک پہاڑی جہاں جنگ میں حضرت محمد کے دو ہاتھ شہید ہوئے تھے

أحدی، سست، بچھا، کابل۔

أحدی (ع) (۱) ایک شاہی منصب جس میں ہمیشہ حاضر رہا جاتا ہے۔

أخرار (ع) مذکر باج عرق، آزاد۔

أخرام (ع) مذکر مقررہ مقامات سے لے کر زیارت کعبہ تک

کچھ دنوں بعض چیزوں کا اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا۔

أبندھنا (۱) مقررہ مقام پر پہنچ کر نیت کج کرنے والوں کا

سے کپڑے اتار کر بے سلسلے کپڑے پہننا (۲) سفر کی نیت کرنا۔

أحساس (ع) مذکر؛ حواس کے ذریعے کسی چیز کا اندازہ ہونا

محسوس کرنا۔

أحسان (ع) مذکر اچھا سلوک، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا،

نیکی، عنایت۔

أفراوش (ع) احسان کو بھول جانے والا، ناشکر۔

أفندر (ع) شکر گزار، احسان ماننے والا۔

أحسن (ع) بہت اچھا، بہت خوب۔

أحسنت (ع) بہت اچھا کیا تو نے، امر جادو شاہان۔

أحصاء (ع) مذکر گننا، شمار میں لانا۔

أحفاد (ع) مذکر (جمع حد کی) پوتے، نواسے۔

أحقاق (ع) مذکر کسی کا حق قائم کرنا، کسی بات کی صداقت

ثابت کرنا/ قائم کرنا۔

أحققر (ع) مذکر بہت حقیر، محترم کا اپنے آپ کو انکسار سے کہنا۔

فانکار۔

أحكام (ع) مذکر (جمع حکم کی) فرمان، آرڈر۔

أحمد (ع) بہت تعریف کیا گیا، پیغمبر اسلام کا نام مبارک۔

أحمدی کی پیکری محمود کے سر (دخ) کسی کی چیز کسی کو دے دینا،

کسی کی بات کسی اور کی طرف منسوب کر دینا۔

أحمدی (۱) سلطان ٹیپو کے مہد کی اشرفی اور احمد شاہ کادلی میں

جاری کیا ہوا سکہ، (۲) مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو۔

أحمدی (ع) لال، سرخ، بہت لال۔

أحق (ع) نادان، بے وقوف، بے عقل۔

أحمدی (ع) (جمع لڈی) بے وقوف آدمی۔

أحقاس (ع) (جمع حق ناس) لوگوں میں سب سے زیادہ

بے عقل۔

احوال: (ع) مذکر؛ (جمع حال کی کیفیت۔

پُرسی، حال پوچھنا، غیر وعافیت دریافت کرنا۔

احْوَل: (ع) مذکر، بھینکا، جو ایک کو دوسرے دیکھے جس کے دیدے

میں دیکھتے وقت کچی آئے۔

چشم: جس کے دیدوں میں بھینگانا ہو۔

أَحْيَاءُ: (ع) کبھی کبھی، اتفاقاً۔

أَحْيَاءُ: (ع) مذکر؛ زندہ کرنا، جان ڈالنا، تجدید لو۔

أَحْيَاءُ تَمِيتُ: (ع) (یا، آئی، میت) (ع) موت؛ دوبارہ زندہ

کرنا، دوبارہ زندہ کرنے کا عمل۔

ا ح خ

أَحْج: (ع) مذکر، بھائی۔

أَحْج: کھنکارنے کی آواز (کبھی تدرقی طور پر، کبھی عمداً حقارت یا کراہت سے۔)

أَحْو: (ع) کھنکارنا، (۱) کراہت کرنا، حقارت و نفرت کرنا، (۲)

باکوں کا سرخیوں کو جھینج کرنا۔

أَحْو: (ع) جھڑی، جھڑی ہونا، نفرت ہونا۔

أَحْوَ: (ع) (آخ، خاذ)، (ع)؛ لینے والا، پکڑنے والا، اخذ کرنے

والا۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ جمع خبر کی (احادیث، تواریخ) (۱) خبریں،

حالات، (۲) احادیث، خبروں کا پرچہ۔

أَحْبَار: (ع) خبریں لکھنے والا، ڈیڑھ، نامہ نگار وغیرہ، مہمانی۔

أَحْبَار: (ع) صحافت کا پیشہ، صحافت کا میدان۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ ختم کرنا، خاتمہ، ختم۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ ستارہ، طالع، ستارہ۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ نصیب جانا، دل پھرتا۔

أَحْبَار: (ع) موت؛ (۱) (۱) تار سے لٹنا، (۲) مجازاً، بے چینی سے

رات جاگتے گذارنا۔

أَحْبَار: (ع) نجومی، جوتسی۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ نئی بات پیدا کرنا۔

أَحْبَار: (ع) مختصر کرنا، مطلب کو تھوڑے لفظوں میں بیان کرنا۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ (۱) خاص کرنا، (۲) خصوصیت رکھنا، خصوصیت

(۳) کسی شے میں خصوصی ڈگری لینا۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ دل دھڑلانا۔

أَحْبَار: (ع) (اضافہ کے ساتھ) ہول دل کی بیماری، دل کا گھبراہٹ

سے تیز تیز دھڑلانا۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ میل جول، ربط ضبط، بے تکلفی۔

أَحْبَار: (ع) پیارا اور بے تکلفی کی باتیں، گرم جوشی، محبت کی

چھیڑ چھاڑ۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ خلاف، ناموافقیت، پھوٹ، اُن بن۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ غلغلہ، غلغلہ مٹانا، غلغلہ مٹانا، غلغلہ۔

أَحْبَار: (ع) (اضافہ کے ساتھ) حواس میں فتور آنا، حواس

مضطرب ہونا، حواس ٹھیک نہ رہنا۔

أَحْبَار: (ع) موت؛ کٹھ پتلیوں کے تماشے کی دو کٹھ پتلیوں کے نام۔

أَحْبَار: (ع) (دیکھو آختہ)، بدصیا کرنا، نصی کرنا۔

أَحْبَار: (ع) جانوروں کو آختہ کرنے والا۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ پسند کرنا، قابو، پس۔

أَحْبَار: (ع) (اضافہ کے ساتھ) مقدمہ سننے کا اختیار۔

أَحْبَار: (ع) جس کے کرنے کے لئے کو حق حاصل ہو۔

أَحْبَار: (ع) چھٹی / تعطیل، حکومت یا کسی ادارے کی وہ چھٹی جسے لینے لینے

کا حق ملازم کو حاصل ہو۔

أَحْبَار: (ع) وہ مضمون جسے لینے یا نہ لینے کا طالب علم کو اختیار

ہو۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ پکڑ لینا، حاصل کرنا، اختیار کرنا۔

أَحْبَار: (ع) (بل، جز)، زبردستی لینا، بلا رضا بندی لینا۔

أَحْبَار: (ع) کرنا، لینا، چھنا، استنباط کرنا، بات سے بات نکالنا۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ (۱) اٹھکانا، خارج کرنا، (۲) شہر بدر کرنا۔

أَحْبَار: (ع) (جمع خرج کی) مصارت، خرچ، لاگت۔

أَحْبَار: (ع) مذکر؛ ایک میوہ۔

أَحْبَار: (ع) ہزار رنگ، سبز چیز۔

ادوکاری: (۱) موتھ؛ (فلسفی اصطلاح) اسٹیک پر یا ظلم میں کسی کردار کا کام۔

اداہرٹ: موتھ؛ اڈواہن، نیلا پن۔

ادب: (۱) مذکر؛ (۲) ہر چیز کا اندازہ اور حد قائم رکھنا؛ (۳) قاعدہ تیز (۳) سلام، (۴) لٹریچر۔

— آداب: تہذیب، شائستگی، معظ مراتب، لحاظ، تمیز۔
— آموزہ ادب سکھانے والا، اتالیق۔

— کرنا: (۱) لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھنا؛ (۲) اپنے سے بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آنا؛ (۳) قاعدے اور تمیز کے ساتھ رہنا؛ (۴) حد دے آگے نہ بھٹنا۔

اڈواہ: مذکر؛ (جمع ادیب کی) ادب جاننے والے۔

ادبار: (۱) مذکر؛ بد نصیبی، بد بختی، پریشانی۔

اڈبلا کر: گھبرا کر مضطرب ہو کر، جان بوجھ کے، ضد کے مارے، ستانے کو۔

ادبیت: (۱) بی، بیت؛ موتھ؛ ادبی خصوصیت۔

اڈخال: (۱) مذکر؛ داخل کرنا۔

اڈزارہ: (۱) مذکر؛ جاری ہونا، کھل کر پیشاب آنا۔

اڈراک: (۱) مذکر؛ دریافت کرنا، حاصل، فہم۔

اڈرک: موتھ؛ مسالوں اور دواؤں میں استعمال ہونے والی ایک پودے کی مشہور جڑ، (جو سکھانے جانے پر سوتھ کھلاتی ہے)۔

اڈرہا: (۱) مذکر؛ کسی بات کا دعویٰ کرنا، خواہش کرنا، اپنی طرف

ایسی بات منسوب کرنا جو واقعی نہ ہو، بے دلیل بات کرنا۔

اڈرہیہ: (۱) مذکر؛ موتھ؛ (جمع دھاک کی) دھائیں۔

— ماثورہ: رسالت مآب سے متعلق دھائیں۔

اڈغام: (۱) مذکر؛ (۲) ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، (۳) (قواہد کی ایک اصطلاح) ایک جلس کے دو متصل حرفوں کو

ایک دوسرے میں ملا دینا۔

اڈق: (۱) بڑا دقت، نہایت مشکل۔

اڈقچہ: (ترکی): مذکر؛ پلنگ کی سفید چادر جس کے حاشیہ پر

کارچوبی کا کام بنا ہوتا تھا۔

اڈگھان: (۱) مذکر؛ احتجاج؛ کھولنا۔

اڈخا: (۱) مذکر؛ پوشیدہ رکھنا، پھپھانا۔

اڈجگر: (۱) مذکر؛ چنگاری، انگارہ۔

اڈخالص: (۱) مذکر؛ خلوص، دوستی، ربط ضبط، پیار، محبت۔

اڈخالق: (۱) مذکر؛ (جمع خلق کی) چال چلن، عادات، خصائل، اچھی خصلتیں، فلسفاری، مروت، انسانیت۔

اڈخوان: (۱) مذکر؛ (جمع اخ کی) نگے بھائی، بھائی بند۔

اڈخوت: (۱) بھائی ہونا، بھائی چارہ، بھائیوں کی طرح اپنائیت۔

اڈخو: (۱) یا تے نسبتی کے ساتھ، میرا بھائی۔

اڈخار: (۱) مذکر؛ (جمع خیر کی) اچھے لوگ، بھلے لوگ۔

اڈخانی: (۱) وہ بھائی بہن جن کے باپ الگ اور ماں ایک ہو۔

اڈخیر: (۱) پھلا، سب سے آخر، تمام، انتہاء، حد۔

— وقت: (۱) کسی چیز کے خاتمے کا وقت، (۲) (کنایتاً) نزع کا وقت۔

— ہونا، تمام ہونا، ختم ہو جانا، ختم ہونے کے قریب ہونا۔

د

اد: مذکر؛ آدھا

اڈا: (۱) موتھ؛ (۲) چکلتا، بے باق، (۳) اندازہ، ناز و نخرہ۔

— شناس: (۱) صفت، اشارہ سمجھنے والا، مزاج سمجھنے والا۔

اڈاریہ: (۱) مذکر؛ اڈیر کا کھا ہوا مضمون، اڈیڈیوریل۔

اڈاس: (۱) افسردہ، غم گین، (۲) بے روتی، سونا۔

— رہنا، غم گین رہنا، افسردہ رہنا۔

اڈاسا: مذکر؛ غم گین، فقہروں کی اصطلاح میں بوریابستر۔

— کستا، بوریابستر باندھنا، سفر کا ارادہ کرنا۔

اڈاسا کھینچنا: ہر طرف سے قطع تعلق کر کے دھیان گیان میں لگ

جانا، سب سے الگ ہو کر ایک ٹلو ہو جانا۔

اڈاسی: موتھ؛ افسردگی، ستاننا۔

— برسنا، چھانا، سونا سونا لگانا، بے روتی معلوم ہونا۔

اڈاکارہ: (۱) مذکر؛ ظلم یا ڈرامے میں کسی کردار کو ادا کرنے والا۔

آڈل بدل / آڈلا بدلا (۱) ایک چیز سے کڑاؤس کے عوض دوسری چیز لینا، عوض، معاوضہ (۲) تغیر، تبدیل، الٹ پھیر۔
 آڈنا / آڈنی : چھوٹے درجے کا، کم تر، چھوٹا، خفیف۔
 آڈوان / آڈوائن : موت؛ چار پائی کی پختی کئے کی رسی۔
 آڈیان : (ع) (جمع دیکھ کی) ذرا سب۔
 آڈین : (۵) مذکر کھوٹا ہوا پانی، خشک یا دال پکانے کا گرم پانی۔
 آڈویہ : (ع) موت؛ (جمع روکی) دو تین، چھری پوٹیاں۔
 آڈیب : (ع) علم ادب جانتے والا، زبان دان۔

ادھ

آدھ : (۵) آدھا کا محقق۔

— گٹی : ادھوری بات، ناقص، ناقص۔

— گچھا : جو پورا پکا نہ ہو، ادھورا پکا ہوا۔

— کچرا : کھڑا رکھنا۔

— مٹوا : مرا ہوا ساء، ہلاکت کے قریب، نیم جان۔

آدھا : آدھا : مذکر : (۱) کسی مقدار کا نصف، (۲) ایک قسم کی سواری، (۳) شراب کی بوتل، (۴) ادھی بوتل۔

آدھار : (۵) ناشتہ کے طور پر کچھ کھالینا۔

آدھار : مذکر : قرض۔

— کھاتے بیٹھے ہیں / کھاتے جوتے ہیں : کسی کام کے لیے لگ جانا، جہتہ مستعد ہونا، دشمن پر آمادہ ہونا۔

آدھر : (۵) بے سہارا، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں، محقق، (۲) ایک سوئی نہ ہونا، (۳) (۵) جوتہ۔

ادھر : (۱) یہاں، قریب، (۲) اس زمانے میں، ان دنوں۔

— آدھر : (۱) اس پاس، (۲) یہاں، دہان، پاس طرف اس طرف، (۳) تیز رفتور، پر اگندہ۔ وہاں

— ادھر کر دینا، فاسب کر دینا، چالینا، کہیں چھپا کر رکھ دینا۔

ادھر ادھر کی باتیں / کی کہنا : بغیر کسی خاص معاملے یا موضوع

کے عام گفتگو کرنا؛ غیر متعلق باتیں کرنا۔

— آیا ادھر گیا، ذرا قیام نہیں، ذرا ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی دیر میں۔

— کا نہ ادھر کا، کسی طرف کا نہیں، کسی شمار میں نہیں۔

ادھر گنواں ادھر کھاتی : (مثل)؛ ہر طرف مشکل ہے، ہر جانب خلہ ہے۔

— کی ادھر کرنا، لگانا، لگائی بھائی کرنا، اس کی بات اُس سے اُس کی بات اس سے کہنا۔

— کی دنیا ادھر ہو جانا، زمانے کا درہم برہم ہو جانا، بہت بڑا انقلاب آ جانا؛ آفت چلانا۔

— کی نہ ادھر کی، یہ بلا کدھری، مقولہ، جسے کوئی نہ پوچھے، جو کسی کام کا نہ ہو،

ادھر : (۱) دور، جو پاس نہ ہو، (۲) کنایتاً؛ خدا کی طرف اشارہ۔

— ہی ادھر : بالا بالا، اوپر ہی اوپر۔

— ادھر : (۵) مذکر، شور، محل، ہنگامہ۔

— ادھر مٹوا : (۵) ادھا مٹوا، نیم جان۔

— ادھیانک : (۵) مذکر؛ پڑھانے والا، استاد، معلم، مدرس۔

— ادھر مٹنا : (۵) سیون گھٹنا، ٹانگے ٹوٹ جانا۔

ادھورا : مذکر : ناقص، جو پورا نہ ہو، (۲) (مجازاً)؛ جو شخص اپنے فنی

کو پورا نہ سیکھا ہو، یا تعلیم کی مقررہ حد تک نہ پہنچا ہو۔

— ادھی : موت؛ (۱) ایک قسم کا باریک سفید عمدہ سوئی کپڑا، (۲)

پرانے پیسے کا آٹھواں حصہ، (۳) دھڑکی کا آدھا حصہ۔

— ادھیہا : پیداوار کے دو حصوں کی بانٹ، آدھوں آدھ بانٹنا، دو برابر حصے کرنا، جو شخص حد کم کو نہ پہنچا ہو۔

— ادھیڑ : نہ جوان نہ بہت بوڑھا، درمیانی عمر کا۔

— ادھیڑ مین : موت؛ سوچ، بچار، تردد، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا پھر موقوف کرنا۔

— ادھیڑنا : (۱) چھوڑنا، (۲) بگاڑنا، (۳) بگڑنا، (۴) سیون کھولنا۔ (۵) (مجازاً)؛ بہت مارنا۔

— ادھیکار : (۵) مذکر؛ اختیار، حق، قبضہ، محمد۔

— ادھیکاری : (۵) صاحب اختیار، عہدہ دار، حق دار۔

ارادی، اختیار۔

آراؤیل، (ع) مذکر؛ جمع ارڈیل کی، کہنے، کم ذات۔

آراؤرا کے بیٹھ جانا / کے گر پڑنا، دفعتاً گر پڑنا، بیک کسی چھت کا بیٹھ جانا، کسی عمارت یا درخت کا بڑی آواز کے ساتھ گر جانا۔

آراوٹ، (انگ) ARROWROOT (انگ) مذکر؛ ایک

درخت کی جڑ سے حاصل کیا ہوا آکھاجس سے بسکت بنائے جاتے ہیں۔

آراضی، (ع) موت؛ جمع ارض (زمین) کی، زمین، کھیت۔

— افتادہ، غیر آباد زمین، کھیتی نہ کی جانے والی زمین۔

— سکنی، رہنے سہنے کے مکان بنانے کی زمین

آراکین، (ع) مذکر؛ جمع ارکان کی، جمع الجمع کی، (۱) ممبر، (۲) (مجاد) امرا، وزراء، (۳) کسی خاص جماعت میں امتیاز و اختیار والے لوگ۔

آرب، (ہ) سو کروڑ کی تعداد۔

آرباب، (ع) مذکر؛ جمع رب کی، مالک، پرورش کرنے والا، صاحب۔

— سخن، (اضافت کے ساتھ) فن ادب کے جاننے والے، شعرا، ادیب

— معنی، (اضافت کے ساتھ) خدا شناس، عارف لوگ۔

— نشاط، (اضافت کے ساتھ) گانے بجانے، ناچنے والے لوگ

(خصوصاً طوائف اور ڈوم)

— انکم، (اضافت کے ساتھ) ہمت والے لوگ، بلند حوصلے

رکھنے والے لوگ۔

— حل و عقد، (اضافت کے ساتھ) مسائل کو حل کرنے والے

سوچ بوجھ والے لوگ، صاحب اختیار لوگ

آربیع، (ع) چار۔

— متناسبہ، اصطلاح علمِ نجوم۔

آربعلین، (ع) مذکر؛ چالیس دن، چہلم، چلہ۔

آربتباط، (ع) مذکر؛ میل جول، دوستی۔

آربتجالی، (ع) رجعت پسند، قدامت پسند۔

آربتجال، (ع) مذکر؛ رحلت کرنا، مرجانا۔

آربتداد، (ع) مذکر؛ مذہب سے پھر جانا، اسلام چھوڑ دینا، مرتد ہوجانا۔

آربتسام، (ع) مذکر؛ نقاشی، مصوری، (جمع) آربتسامات۔

ط
ا

آدا، مذکر؛ (۱) پالتو چڑیوں کے بیٹے کی بیٹھک، (۲) جال کاڑھنے اور کار چولہی بنانے کا چوکھا، (۳) کرایے کے تانگوں، بسوں، رکشوں کے ملنے کا ٹھکانہ، (۴) مذاق، وہ جگہ جہاں کوئی شخص

اکثر بیٹھتا ہو۔
آڈوانس / آڈوانس؛ ADVANCE (انگ) پیشگی،

آڈیٹنگ؛ EDITING (انگ) موت؛ غیر ضروری مواد نکال کر مرتب کرنا، ادارت، تدوین۔

آڈیشنل / آڈیشنل؛ ADDITIONAL (انگ) ضمنی، زائد، (جیسے ایڈیشنل مجسٹریٹ، ایڈیشنل جج)۔

ا
ا

آڈان، (ع) موت؛ نماز کے لئے بلانے کی مقررہ معروف صدر بانگ۔

آڈعان، (ع) مذکر؛ یقین، یقین کرنا۔

آڈعائیت، موت؛ بے دلیل دعویٰ، ادعا۔

آڈفر، (ع) خاص اور تیز فوڈائی چیز۔

آڈکار، (ع) جمع ذکر کی۔

آڈون، (ع) مذکر؛ اجازت، حکم۔

آڈوان، (ع) جمع ذہنی کی۔

آڈویت، (ع) موت؛ تکلیف، دکھ۔

آڈویت پسندی، (ع + ن) موت؛ تکلیف دینے کو پسند کرنا۔

ا
ا

آرابہ، (ن) مذکر؛ چکر، گاڑی، گولہ بارود کی گاڑی۔

آرادت، (ع) موت؛ اعتقاد، عقیدت۔

— مند معتقد۔

آرادہ، (ع) مذکر؛ خواہش، قصد۔

اُرتسامی، (ع) تحاساتی، تاثراتی۔

اُرتسائیت، (ع) مونت؛ (ادبی اصطلاح) کسی تخلیق کی وہ خصوصیت جس سے اس کی تصویر سامنے آجاتے۔

اُرتعاش، (ع) مذکر؛ کا دنیا، عرش، قمر، قمر، اہل۔

اُرتقاع، (ع) مذکر؛ اونچائی، بلندی، رفت۔

اُرتقاہ، (ع) مذکر؛ (۱) اور چڑھنا، ترقی کرنا، (۲) تدریج آگے بڑھنا۔ آہستہ آہستہ ترقی کرنا۔

اُرتقائیت، (اُرتقاع، آئی، یت)، (ع) مونت؛ تدریج ترقی کرنے کی صلاحیت۔

اُرتکاب، (ع) مذکر؛ کرنا، عمل کرنا، ناجائز کام یا جرم کرنا۔

اُرتھمیٹک؛ ARITHMETIC (انگ) علم حساب۔

اُرتھی، (۵) مونت؛ ہندوؤں کا جازہ۔

اُرتھ، (ع) مونت؛ ترک، میراث، وراثت۔

اُرتھند / اُرتھنند، قدر و عزت والا، اُرتے والا۔

اُرتھن، (۵) راجہ پانڈو کا تیسرا بیٹا، میرحشر کا بھائی۔

اُرتھنٹ؛ URGENT (انگ) (۱) فوری، تعمیل طلب

(۲) نہایت ضروری، اشد ضروری۔

اُرتحم، (ع) بڑا رحم کرنے والا۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

اُردو، (۳) مونت؛ ماش، ایک غلہ۔

چراہی۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُردو، (ترکی) موت، لشکر، لشکرگاہ، ہندوستان کی مشہور زبان جو پورے ملک میں عام طور پر بولی اور کھی جاتی ہے۔

اُریب / اُوریب : ان، اُڑا تر چھا، عوام اُوریب ہوتے ہیں۔
اُوریبی پا جامہ، تر چھی کاٹ کا پا جامہ۔

ا

اُڑ : (۵) موٹ؛ ہٹ، ضد قبض جو بچوں کو غذا ہضم نہ ہونے سے پہنچاتا
اُڑا، نایاب، کیاب، پرواز کرنا۔
پھرنا، جلد جلد ادھر ادھر آتے جاتے رہنا، بھاگے بھاگے
بھرنا۔

دینا، ختم کر دینا، موقوف کر دینا، غائب کر دینا، غلبات۔
اُڑان، موٹ؛ اُڑنے کی صلاحیت، پرواز۔

اُڑانا، (۵) نڈکر؛ (۱) وہ مضبوط لکڑی جو دیوار یا چھت کے روکنے
کے لئے لگائی جاتی ہے، (متقدسی) (۲) اٹکانا، چھسانا۔
اُڑانا، (۱) پتنگ یا پرنڈ کا اُڑانا، پرواز میں لانا، (۲) کاٹنا، قلم
کرنا، صاف کر دینا، (۳) مبالغہ آمیز تعریف کرنا، (۴)
ختم کر دینا۔

اُڑاؤ؛ فضول خرچ۔

اُڑنگا، (۵) نڈکر؛ (۱) جھیل، جھگڑا، رخنہ، (۲) ٹیڑھا، پیچیدہ۔
اُڑنی بیماری، چھوت کی بیماری۔

اُڑتی خبر، افواہ، ادھر ادھر سے ملی ہوئی خبر، غیر معتبر خبر۔
اُڑول؛ کچھ کم تول۔

اُڑیا کے پر گزنا، ذہانت سے دل کی بات سمجھ لینا، فراست
سے یور پہچان لینا، بہت تجربے کا راور ہوشیار ہونا۔
اُڑتی سی/مات خبر؛ سنی سنائی بے تحقیق بات، گپ افواہ
جھنگ۔

اُڑ جانا، (۱) دُور ہو جانا، تیزی سے جانا، پرواز کر جانا، (۲)
مٹ جانا، برباد ہو جانا، (۳) مشہور ہو جانا، بات سب
میں پھیل جانا۔

اُڑ چلنا، (۱) اپنی بساط سے بڑھ کر کوئی کام کرنا، حد سے بڑھ
جانا، غرور کرنا، (۲) آوارہ

ایک مرتب خوشبو۔

اُڑل؛ EARL (انگ) نڈکر؛ نواب، انگلستان کے
تیسرے درجے کے امیر کا خطاب۔

اُڑم؛ (ع) نڈکر؛ موٹ؛ (۱) بہشت، (۲) وہ شہر جس میں قوم عاد
آباد تھی، (۳) شتراد کی بہشت۔

اُڑمان؛ (ترکی) نڈکر؛ آرزو، تمنا، حسرت، حوصلہ۔
— جی کاجی میں رہنا؛ ارمان نہ نکھنا، حسرت دل ہی دل میں
رہ جانا۔

اُڑمغان؛ (ف) نڈکر؛ حقد، سوغات۔

اُڑنا؛ (س) نڈکر؛ (۱) جنگلی بھینسا، (۲) عوم (عم) بہت موٹا
اور کالا آدمی۔

اُڑندہ؛ (س) نڈکر؛ ریڈی کا درخت، جس کی لکڑی بہت کمزور
ہوتی ہے، اور بیج سے تیل نکالا جاتا ہے۔

اُڑ بوزہ؛ پیدیا۔

اُڑنی؛ (اُڑنی)؛ (ع)؛ (دکھا جی) حضرت موسیٰ کا وہ کلمہ جو
انہوں نے خدا سے اپنا جلوہ دکھانے کے لئے کہا تھا۔

اُڑنا؛ طالب دیدار ہونا۔

اُڑو؛ مراد حضرت موسیٰ سے۔

اُڑو اُح؛ (ع)؛ (جمع روح کی)، روحیں،

— بھٹکنا، روح کا پریشان ہونا، روح کا مارے مارے پھرنا۔

— بھر جانا، جی بھر جانا، طبیعت سیر ہو جانا۔

— خبیثہ؛ (انصاف کے ساتھ) بُری روحیں، شیطان، بھوت،
بُڑیل۔

اُڑوی؛ ایک ترکاری، گھٹیاں۔

اُڑو ہر؛ موٹ؛ دال کی ایک مشہور قسم۔

اُڑی؛ موٹ؛ کلمہ خطاب، کبھی حقارت سے، کبھی پیار سے، کبھی
سادہ طور پر۔

اُڑ سے؛ نڈکر؛ (کلمہ خطاب)، حقارت سے، پیار سے، اور کبھی
سادہ طور پر، کبھی کلمہ تعجب و تاسف کے طور پر۔

— تر سے کرنا، آجے نیجے کہنا، بے تیزی سے بات کرنا، حد و
تہذیب سے تجاوز کر جانا۔

منہ میں کھیل نہ جانا، ڈراسی غذا بھی نہ ہونا، بالکل بے کھانے بنے رہنا۔

اڑم، مذکر، ڈھیر، اختیار۔

اڑنا، جگہ سے نہ سڑنا، ضد کرنا، انک جانا، پھنس جانا، رکاوٹ بن جانا۔

اڑنا، پرواز کرنا، ہوا میں تیرنا۔

اڑناگن / ناگنی، اڑ کر کاٹنے والی ناگن جو اڑکے کاٹی ہے۔

اڑن تھوڑا ہوجانا، فوراً غائب ہوجانا، بھوا ہوجانا۔

اڑن کھولا، (۱) اڑنے والا کھولا، (۲) کناٹا، کہانی میں ہیروں کا ہوا میں اڑنے والا تخت۔ (۳) ہنومان جی کا روایتی کھولا۔

اڑن گھاتی، موٹ، بندھی چوٹیں، (۲) شہدہ بازی، پھکتیوں کے فن کی اصطلاح، (۳) مجازاً، فریب، دھوکہ، بہت چالاک۔

اڑنگ، مذکر، ڈھیر، اٹم۔

اڑنگ، مہل، بے سرو پابا، ڈینگیں مارنا، نشے میں بے ہوشی آتیں کرنا۔

اڑنگ اڑنگ ہوجانا، (عو)، جگہ سے ہٹ جانا، بے ترتیب ہوجانا۔

ہوجانا۔

اڑنگا، مذکر، (۱) گشتی کا ایک بیج، (۲) رخنہ، جمیلا، (۳) روک، چھت میں ٹیکن کے طور پر لگا ہوا سہارا۔

اڑنگا، (۱) کسی کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر گرانے کی کوشش کرنا۔ (۲) مجازاً، چلتے چلنے والوں میں رکاوٹ ڈالنا، رخنہ ڈالنا۔

اڑنگے پر چڑھا کر اڑنگے پر مارنا، گشتی میں اڑنگے بیج سے حریف کو گرا دینا۔

اڑنگے پر چڑھانا، دائوں پر لانا، خاص ترکیب سے جمل دینا، جھانسا دینا۔

اڑواڑ، موٹ، ٹیکن، کلہی (کھا)، پرانی چھت کو سنبھالنے کے لئے لگا ہوا سہارا۔

اڑوس، ٹروس، (اڑوس تابع مہل)، ہم سایہ، آس پاس۔

اڑسی، موٹ، (۱) مشکل کا وقت، مصیبت کا زمانہ، (۲) چوسر، چھسی کھیلنے والوں کی اصطلاح، چوٹ کی زد پر پھنسی ہوئی۔

گوٹ۔

کار، دغا باز، جعل ساز۔

اڑسی اڑسی لاق بیٹھی، بھل، کسی بات کا چرچا ہوتے ہوتے سب میں پھیل جانا، کسی بات کا رفتہ رفتہ پوری طرح شہرت حاصل کر لینا۔

اڑے وقت، (عو) مصیبت کے وقت۔

اڑگنا، بھل، وہ چیز جو مشکل وقت پر کام آئے۔

اڑیل، سرکش، اڑ جانے والا، چلتے چلتے رک جانے والا۔

اڑھائی، ڈھائی۔

اڑھار، مختصر مگر نہایت پرتاثر باتیں۔

اڑھائی جاوڑ، الگ گھانا، سب سے الگ تھلگ روش اختیار کرنا۔

اڑھائی جاوڑ، الگ گھانا، کسی سے تعاون نہ کرنا۔

اڑھائی جاوڑ، (۱) مجازاً، چند روز کا عیش، ناپائیدار خوشی، (۲) کناٹا، چند دنوں کا اقتدار۔

اڑ

اڑ (ن)، سے۔

اڑ، منہ زبانی، زبانی یاد ہونا۔

اڑ، بہت، نہایت۔

اڑ، نہایت حد سے زیادہ۔

اڑواڑ، خطا و اڑ بزرگان، عطا، چھوٹوں کی غلطی بزرگ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹوں سے قصور مہو ہی جاتا ہے بڑے معاف کر دیتے ہیں۔

اڑوڑ، اپنے آپ، خود خود۔

اڑوڑ، آپ سے باہر بے خود۔

اڑوڑ، کسی چیز کی بنیاد پر، بغرض، برہنہ۔

اڑوڑ، سر سے پاؤں تک، شروع سے آخر تک۔

اڑوڑ، سر سے، پھر سے۔

اڑوڑ، خلاف توقع کسی چیز کا غیب سے ظاہر ہوجانا ناگہانی

اڑوڑ، بے کار وقت، بے کار دے مصرت چیز۔

اُڑو ہا، (ف) نڈرگ، بڑا موٹا سانپ، اُڑوہ، اُجگر۔
اُڑو ہے کے دانت بونا؛ (۱) شکر کو ہوا دینا، بڑا چاہنا، بڑھانا۔
(۲) مصیبتوں کے لئے راہ ہموار کرنا، (۳) خطرات کو آواز دینا۔

ا س

اس؛ اشارہ قریب، یہ، یہی۔
— کان سن کر اس کان اُڑا دینا، کہنا نہ ماننا، کسی بات پر انتہا نہ کرنا، بات کا خیال نہ کرنا۔
— کونٹھی کے دھان اس کونٹھی میں کرنا، بے کاری میں کسی کام کا الٹ پھیر کرتے رہنا، بے ضرورت اور بے فائدہ کام۔
— گھر کا باوا آدم ہی نرالا ہے؛ (مقولہ) نرالا چلن، عام رواج سے ہٹتی ہوئی روش یا چلن۔
— ہاتھ دے اس ہاتھ لے؛ (مقولہ) اعمال کی جزا دینا سے ہر کام کا بدلہ فوراً ملتا ہے۔
اس؛ (۱) اشارہ بعید، (۲) کبھی اللہ کی طرف اشارہ۔
— کی لٹھی میں آواز نہیں؛ (مقولہ) خدا کی مارنا کہانی ہے، خدا کا قہر اچانک ٹوٹتا ہے۔
— دینے کے ہزاروں ہاتھ ہیں؛ (مثل) خدا کے دینے کی بہت لاپس ہیں، بہت ذریعے ہیں۔
استادہ؛ (جمع استاذ کی)؛ استاد، کا ملان فن، کوئی فن سکھانے والے۔

اُسا را، برآمدہ، پھپھر، سائبان۔
اُساڑھ، برسات کا پہلا مہینہ۔
اُساس؛ (ع) موٹ؛ بنیاد، جڑ، نیو۔
اُسا طیر؛ (ع) نڈرگ؛ دیوتاؤں کے قہقے، دیوالا۔
اُسا طہری؛ (ع) دیوی دیوتاؤں کے قہقے، کہانیوں سے متعلق، دیوالاتی۔

اُسا لیب؛ (ع) نڈرگ؛ (جمع اسلوب کی) طرز، طریق، طور۔
اُسامی؛ (ع) (جمع الجمع اسم کی) اردو میں واحد (۱) کسان، کاشتکار،

— باست کبریاست (مقولہ) اپنے کیے کا بڑا پھل ہے، اپنے ہی کروت کا نتیجہ ہے۔
اُزیاں سُوراندہ و اُزیاں سُودُر ماندہ؛ (مقولہ) اپنا ہی کیا دھرا ہے، نہ دھر کے رہے نہ دھر کے۔
اُزار؛ (ع) موٹ؛ پا جامہ۔
— بند؛ نڈرگ؛ کمر بند۔
— بند کا ڈھیلا ڈھیلا؛ کمزور اخلاق کا، جسے اپنے جنسی جذبات پر قابو نہ ہو۔

— بندھی رشتہ، سسرال کی طرف کا رشتہ، جوڑو کی طرف کا رشتہ (بے تکلفی میں)۔

اُزالہ؛ (ع) نڈرگ؛ دُور کرنا، زائل کرنا، ہٹانا۔
— حیثیتِ عرفی؛ کسی کی نیک نامی کو مٹانے کی کوشش، جھک عزت۔

اُزبک؛ (تاتاری) دیکھو، اُجک، لمبا بے سلیقہ
اُردھام؛ (ع) نڈرگ؛ بہت بڑی بھیر، جھاؤ، جھوم۔

اُردواج؛ (ع) نڈرگ؛ نکاح کرنا، بیاہ کرنا۔
اُزرق؛ (ع) اُزرق، نیلا، نیلگوں، وہ آدمی جس کی آنکھ لٹی ہو۔
اُزگیا؛ (جمع زگی کی)؛ نیک لوگ، پاک لوگ۔

اُزلا؛ (ع) (۱) وہ زمانہ جس کی ابتدا معلوم نہ ہو، (۲) مجازاً آغاز خلقت کا زمانہ۔
اُزلی؛ شروع سے موجود۔

اُزمنہ / اُزمان؛ (ع) (جمع زمان کی) زمانہ۔
اُزواج؛ (ع) (جمع زوج کی) بیویاں۔
— مُطہرات؛ (اضافت کے ساتھ) پاک بیویاں، آن حضرت کی بیویاں۔

اُزوقہ، اُزوقہ، تھوڑا کھانا، تھوڑی غذا۔
اُزہار؛ (ع) نڈرگ؛ (جمع زہرہ کی) کلیاں۔
اُزہر؛ (ع) (۱) بہت روشن، (۲) قہرہ (مصر) کی ایک قدیم یونیورسٹی۔

ا ش

اُژوہ، (ف) اُژوہا، اُجگر۔

گاؤں کی رعیت، (۲) یوں دین رکھنے والا، (۳) مہمدہ، نوکری۔
 (۴) مگاپک، خریدار، (۵) شخص۔
 آسانا: داتے ہوتے لٹے کو ٹوکری میں رکھ کر جو اسکے رخ اڑانا۔
 آسانیدہ: (ع) جمع اسناد کی، سندیں۔

آساوری: (ع) آسٹریا (۵) مذکر، (۱) پانچ راگنیوں میں سے ایک راگنی کا نام، (۲) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

آسیاب: (ع) مذکر (جمع سبب کی) (۱) سامان، (۲) وجوہ، ذرائع

آسبٹاس / آسبٹوس: ASBESTOS (انگ)

مذکر؛ ایک طرح کے ریش دار مادہ سے بنی ہوئی چادر جو چھت بنانے کے کام آتی ہے اور اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔

آسٹ: (ف) مذکر، (۱) گھوڑا، (۲) شطرنج کے ایک ٹپڑے کا نام۔

آسپتال / ہسپتال: HOSPITAL (انگ)
 مذکر؛ دو خانہ، مشفق خانہ۔

آسپیرٹ: SPIRIT (انگ) موتھ؛ (۱) روح، جوہر، جذبہ، نفس، (۲) شراب کی روح یعنی تیز قسم کی شراب۔

آسپرنگ: SPRING (انگ) موتھ؛ کانی، چکدار۔

آسٹیفول: مذکر؛ ایک قسم کا لعاب دار دانت جو دو آؤں میں کام آتا ہے۔

آسٹینڈر: (ف) مذکر؛ نظر بد دور کرنے کے لئے ٹوٹھے کے طور پر یا ٹوٹکا دور کرنے کے لئے جلا یا جانے والا ایک کالا دانت۔

کرتا؛ نظر بد دور کرنے کے لئے اسپنڈر جلاتا۔
 خاص، مخصوص، غیر معمولی۔

آسپورٹ: SPORT (انگ) مذکر؛ کھیل کود، تماشہ، تفریح۔

آسپیچ: SPEECH (انگ) موتھ؛ تقریر، لکچر۔
 اسپیشل (اس پے وشل):

اسپیکر: SPEAKER (انگ) مذکر؛ (۱) تقریر کرنے والا، (۲) اسمبلی یا پارلیمنٹ کی ریلوں کے اجلاس کی صدارت کرنے والا۔

استادہ: (ف) موتھ؛ تھے، درشایانے کی بیخ اور چوب۔

استادہ: (ف) مذکر؛ معتمد، سکھانے والا، کامل فن، آزمودہ کار، (۲) چالاک، عیار۔

آستادی: معلمی، چالاک، ماہرانہ انداز۔

آستاد: استاد کا معرب، استاد۔

آستائبول / آستیمبول: (ترکی) شہر تسلطنیہ کا جدید نام۔

آستیدار: (ع) خود مختاری، ضد، ہٹ، ظلم، دباؤ۔

آستینتا: (ع) موتھ؛ علاحدہ الگ

آستحاکہ: (ع) مذکر؛ (۱) محال ہونا، دشوار جاننا، (۲) ناممکن، (طب و کیمیا کی اصطلاح)۔

آستحالیہ کیمیائی: ایک ماہیت سے دوسری ماہیت میں بدل جانا۔

آستحسان: (ع) مذکر؛ نیک گفتا، پسندیدگی تعریف

آستحصالی: (ع) مذکر؛ حاصل کرنا، ناجائز فائدہ اٹھانا۔

آستحصال: (استحصالی چیز)؛ زبردستی حاصل کرنا، ڈرادھکا کر کوئی چیز حاصل کرنا۔

آستحقاق: (ع) مذکر؛ حق دار ہونا، حق، دعویٰ، قابلیت۔

آستحکام: (ع) مذکر؛ مضبوطی، پختگی۔

آستحارہ: (ع) مذکر؛ (طلب خیر کرنا)، کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لئے خاص طریقے سے اشارہ غیبی چاہنا۔

آنا / کراہ دینا: استخارے کے ذریعے اجازت ملنا۔

کام مانع ہونا: استخارے میں کسی کام کے کرنے سے منع آنا۔

کا واجب آنا: کسی بات کی اجازت آنے کے بعد اس کے ترک پر ممانعت آنا۔

استخراج: (ع) کسی بات کا نکالنا، علم منطقی کی ایک اصطلاح۔

استخفاف: (ع) مذکر؛ ہلکا سمنا، خفیف سمنا، حقارت، سسکی۔

آستخوان: (ف) مذکر؛ ہڈی۔

استیدراج: (ع) مذکر؛ غیر مسلم سے ظاہر ہونے والا خلاف معمول واقع آہستہ آہستہ آگ بڑھنا یا بٹھانا

استیدعا: (ع) موتھ؛ درخواست، خواہش، التجا۔

استیدلال: مذکر؛ دلیل طلب کرنا، دلیل لانا۔

استیرہ: (ف) مذکر؛ دہرے یا روٹی دار کپڑے کی بیچگی

چونے کا: دیوار کی قلعی سے پہلے چونا پھیرنا۔

کاری: اینٹ کی دیواروں پر پلستر یا لپائی۔

آسترا: (ف) مذکر؛ بال موٹڈے کا مشہور آلہ۔

اَسْتَعْفِرُ اللّٰهَ : (اَسْتَعْفِرُ لَآءُ) : مغفرت چاہتا ہوں میں اللہ سے
تو بیکرنا، کسی چیز سے نفرت یا بچنے کا اظہار، کسی چیز سے
انکار۔

اِسْتَعْنَا : (ع) موتش؛ بے پروائی، بے نیازی۔
اِسْتَفَادَہ : (ع) مذکر؛ فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانا۔
اِسْتَفَاہَہ : (ع) مذکر؛ فیض حاصل کرنا، نفع پانا۔
اِسْتَفَاہَہ : (ع) مذکر؛ فتویٰ چاہنا، مسئلہ دریافت کرنا۔
اِسْتَفْرَاغَہ : (ع) مذکر؛ تے، متلی۔
اِسْتَفْسَارَہ : (ع) مذکر؛ دریافت کرنا، پوچھنا۔
اِسْتَفْہَامَہ : (ع) مذکر؛ کسی بات کا پوچھنا، کوئی بات کسی سے
سمجھنا۔

اِسْتِفْقَاہَمَتَہ : (ع) موتش؛ استیقلال، کسی بات پر مضبوطی سے
قائم رہنا۔
اِسْتِقْبَالَہ : (ع) مذکر؛ (۱) آئندہ زمانہ، (۲) پیشوائی خیر مقدم۔
قبلہ، منہ قبلہ کی طرف ہونا۔

اِسْتِقْبَالِیَہ : (ع) مذکر؛ خیر مقدمی تقریب یا جلسہ۔
اِسْتِقْرَاہ : (ع) مذکر؛ (۱) تلاش کرنا، جمع کرنا، جمع کرنا، (۲) منطق
کی ایک اصطلاح۔
اِسْتِقْرَارَہ : (ع) مذکر؛ تصدیق، اظہار۔

حمل، (اضافت کے ساتھ)؛ (بطنی اصطلاح) حمل کا قرار پانا،
ظہر جانا۔

اِسْتِقْرَانِیَہ : (ع) مذکر؛ (منطق اصطلاح) جزئی مثالوں سے نکالا
ہوا کلی نتیجہ۔ خاص چیزوں سے اخلاکاً ہوا عام نتیجہ۔
اِسْتِقْلَالَہ : (ع) مذکر؛ انضبط و تحمل، ثابت قدمی، (۲) پائے داری،
ثبات۔

اِسْتِحْرَاہ : (ع) مذکر؛ نفرت کرنا، کراہت ہونا۔
اِسْتِحْمَالَتَہ : (ع) موتش؛ دل جوئی، دل داری، خوشامد۔

اِسْتِحْدَاہ : (ع) موتش؛ مدد چاہنا، امداد طلب کرنا۔
اِسْتِحْرَارَہ : (ع) مذکر؛ ہمیشہ رہنا، بے ہنگامی۔
اِسْتِحْرَارِیَہ : (ع) (وصف) دوامی، ہمیشہ کے لئے۔
اِسْتِحْرَاجَہ : (ع) مذکر؛ مزاج پوچھنا، رائے دریافت کرنا۔

اِسْتِحْرَاحَتَہ : (ع) موتش؛ آرام، سکھ، چین۔
اِسْتِرْسِیَہ : موتش؛ (۱) پکڑوں کی شکن مٹانے کا اور تہ ٹھیک کرنے کا
مشہور آکر، (۲) عورت یا بیوی۔

اِسْتِسْقَاہ : (ع) مذکر؛ (پانی مانگنا)، بہت پیاس لگنے کی بیماری۔
جلد نہر۔

کی ناز، بارش کے لئے میدان میں جمع ہو کر پڑھی جانے والی
ناز۔

اِسْتِصْوَابَہ : (ع) مذکر؛ راستے لینا، مشورہ مانگنا۔
اِسْتِصْوَابَہ رَاسَہ : (ع) کسی خاص مسئلے پر عوام کی رائے معلوم
کرنا۔

اِسْتِطَاعَتَہ : (ع) موتش؛ مقدور، بساط، قدرت۔
اِسْتِعْرَاہ : (ع) مذکر؛ (علم بیان کی اصطلاح) مجازی اور حقیقی
معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہونا۔

بالتصریح؛ (بت تصریح) استعارے کی وہ قسم جس میں مشبہ
بعینہ مشبہ پر قرار دیا جاتے۔

تختلیلیہ؛ مشبہ بہ ترک کیا جاتے پھر جس قرینے سے وہ سمجھ
میں آتے اس قرینے کو استعارہ تختلیلیہ کہتے ہیں۔

بالکنایہ؛ (بلی کنایہ) جب مشبہ، مذکور ہوا اور مشبہ بہ متروک
ہو۔

اِسْتِعْنَانَتَہ : (ع) موتش؛ مدد چاہنا، معاونت۔
اِسْتِعْجَابَہ : (ع) مذکر؛ تعجب۔

اِسْتِعْجَالَہ : (ع) مذکر؛ جلدی کرنا، عجلت۔
اِسْتِعْدَاہ : (ع) موتش؛ فطری صلاحیت، قابلیت، لیاقت۔

اِسْتِعْفَاہ : (ع) مذکر؛ (۱) نوکری ترک کرنے کی درخواست (۲)
وزارت یا کسی ذمے داری سے سبک دوش ہونا۔

اِسْتِعْمَارَہ : (ع) مذکر؛ نوآبادی، کسی وحشی مقام پر قبضہ کر کے
اس کی آبادی بڑھانا۔

اِسْتِعْمَالَہ : (ع) مذکر؛ عمل میں لانا۔ برتنا۔
اِسْتِعْفَاہَہ : (ع) مذکر؛ داؤ خواہی، فریاد، نالیش، مستغیث۔

اِسْتِعْرَاقَہ : (ع) مذکر؛ کسی فکر یا خیال میں ڈوبنا، محو ہو جانا۔
اِسْتِعْفَاہَہ : (ع) موتش؛ مغفرت چاہنا، گناہ بخشوانا، توبہ۔

- استناد (ع) مذکر/موتھ؛ سندلانا، سند پیش کرنا۔
 استنباط (اس) تمہیماط (ع) مذکر؛ بات سے بات پیدا کرنا، دلائل سے تیجواخذ کرنا۔
 استنبہا (ع) مذکر؛ پیشاب پاخانے کے بعد پانی سے جاتے مخصوص کو پاک کرنا، آب دست لینا۔
 استنبجے کا ڈھیللا (۱) وہ ڈھیللا جس سے ناپاکی دور کی گئی ہو۔
 (۲) مجازاً؛ بے قدر و قیمت چیز (حقارت سے)۔
 استنوا (ع) مذکر؛ برابری، برابر ہونا۔
 استنوار (ف) مضبوط، پائے دار۔
 استنہرا (ع) مذکر؛ ہنسی مذاق اڑانا، مسخر۔
 استیقصال (ع) مذکر؛ جڑ سے اکھاڑنا، بربادی، بیخ کنی، صفایا کر دینا۔
 استیعاب (ع) کل، تمام تر، شروع سے (عموماً بالاستیعاب تمام ترکے معنی میں استعمال ہوتا ہے)۔
 استیلا (ع) مذکر؛ غلبہ، تسلط۔
 استھاپت (ع) قائم۔
 استھان (ع) مذکر؛ مقام جگہ، مسکن، گھر۔
 استنابری (ع) موتھ، ایک بھاڑی کا پھل جو پہاڑی جگہوں پر ہوتا ہے۔
 استاب (ع) (انگ) مذکر؛ اڈہ، ٹھہرنے کی جگہ (فعل) ٹھہرنا، رکنا۔
 پریس (ع) (انگ) مذکر؛ اخبار چھپنے وقت شامل کی جانے والی تازہ ترین خبریں۔ متوقع خبر کے لئے خالی چھوڑی گئی جگہ۔
 استار (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) ستارہ (۲) (فلم) ممتاز اداکار۔
 استارٹ (ع) (انگ) (۱) ابتدا کرنا، چالو کرنا۔ شروع کرنا (۲) ابتدا، شروع۔
 اسٹاف (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) ملازمین، عملہ۔ (۲) ڈنڈا عصا۔
 اسٹاک (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) مال، سامان، ذخیرہ (۲) کسی کمپنی کا مشترکہ سرمایہ۔
 اسٹاکسٹ (ع) (انگ) مذکر؛ ذخیرہ رکھنے والا، تھوک فروش۔
 اسٹال (ع) (انگ) مذکر؛ ٹیبلین کی بنی ہوئی عارضی دکان۔
 اسٹامپ (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) ڈاک خانے کے ٹمکٹ۔ (۲) دستاویز لکھنے کا سرکاری کاغذ (۳) موتھ، مہر۔
 اسٹائل (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) ڈھنگ، طریقہ، انداز، (۲) طرزِ تحریر، اسلوب، بیان، طرزِ ادا۔
 اسٹڈی (ع) (انگ) موتھ؛ مطالعہ، کتب بینی۔
 اسٹرائیک (ع) (انگ) موتھ؛ ہڑتال، احتجاج۔
 اسٹریلنگ (ع) (انگ) مذکر؛ برطانوی کرنسی، برطانیہ کا ملکی سکہ۔
 اسٹریٹ (ع) (انگ) موتھ؛ سڑک، گلی، کوچہ، راستہ، راگ۔
 اسٹریچر (ع) (انگ) مذکر؛ بیماروں کو لیٹا کر لے جانے والی چیز جو دو لمبے ڈنڈے کے درمیان مضبوط زین لگا کر بنائی جاتی ہے۔
 اسٹنٹ (ع) (انگ) مذکر؛ کام کی نمائش، کسی غیر معمولی کام یا ہنر کی نمائش / دکھاوا، دھوکہ۔
 اسٹو (ع) (انگ) مذکر؛ گوشت پیاز وغیرہ کا دم بخت سامن۔
 اسٹوڈنٹ (ع) (انگ) طالب علم۔
 اسٹوڈیو (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) مصوری، فوٹو گرافی اور صدا بندی کے لئے مخصوص کمرہ۔
 اسٹوڈنٹ (ع) (۲) وہ عمارت جس میں فلم بندی کا کام ہوتا ہے۔ (۳) ریڈیو اسٹیشن کا وہ کمرہ جہاں سے گانے اور تقریریں وغیرہ نشر کی جاتی ہیں۔
 اسٹور (ع) (انگ) مذکر؛ گودام، دکان۔

گرافی: GRAPHY (انگ) موٹ: مختصر نویسی۔

اسحاق: (ع) مذکر؛ ایک پیغمبر کا نام، حضرت ابراہیم کے بیٹے۔

آسند: (ع) مذکر؛ شیر۔

آسند اللہ: اللہ کا شیر حضرت علی کا لقب۔

آسکر: اسکر (۵) مذکر؛ (۱) دیو، راکشس، بھوت، شیطان، (۲) مجازاً، ظالم، جاہل۔

آسرار: (ع) مذکر؛ (جمع مہرکی) بھید، راز۔

آسراف: (ع) مذکر؛ فضول خرچی، بے جا خرچ۔

آسرافیل: (ع) قیامت کے دن صور بھونکنے والے فرشتے کا نام۔

آسرائیل: (عبرانی) (۱) حضرت یعقوب کا نام جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، (۲) ملک فلسطین کا نیا نام جہاں یہودیوں کی حکومت ہے۔

آسیسٹنٹ: ASSISTANT (انگ) مذکر؛ ماتحت، مددگار، معاون، نائب۔

آسٹراب: (ع) مذکر؛ ستاروں کی بلندی، جگہ اور رفتار معلوم کرنے کا آلہ۔

آسفل: (ع) سب سے نیچا، کمینہ، کم رتبہ۔

آسفلین: (اسفلن سافلین) دوزخ کا سب سے نیچے والا درجہ (طبقہ)۔

آسفلج: مذکر؛ (اسفلج کا معرب) ابر مردہ، ایک سمندری مخلوق جس کی بناوٹ خانہ دار ہوتی ہے جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور پھوٹنے پر فوراً خشک ہو جاتا ہے۔

آسفدیار: (ف) مذکر؛ (۱) شاہ ایران گشتاسپ کا بڑا بہادر پہلوان بیٹا، (۲) مجازاً، بہت بہادر۔

آسقاط: مذکر؛ گرانہ، حمل گرانہ، حمل ضائع ہونا۔

آسقام: (ع) مذکر؛ جمع سقم کی، برائیاں، میوب۔

آسقف: (ع) مذکر؛ لاٹ پادری، لارڈ بشپ

اسکاٹ: SCOT (انگ) مذکر؛ اسکاٹ لینڈ کا باشندہ، اسکاچ

اسٹوری: STORY (انگ) موٹ؛ قصہ، کہانی، منزل

اسٹول: STOOL (انگ) مذکر؛ تپائی؛ فضلہ

اسٹوو: STOVE (انگ) مذکر؛ مٹی کے تیل یا گیس کا بولہا۔

اسٹیٹ: STATE/ESTATE (انگ) موٹ؛ (۱) ریاست، مملکت، (۲) حال، حالت، (۳) جائداد۔

اسٹیج: STAGE (انگ) مذکر؛ (۱) پنج، تقریر، ڈرامہ یا تاشہ کرنے کا اونچا چوترہ۔

اسٹیٹس: STATUS (انگ) مذکر؛ جمہوریت، مورت۔

اسٹیڈیم: STADIUM (انگ) مذکر؛ کھیل کا وہ میدان جس میں چاروں طرف نشست کا انتظام ہو۔

اسٹیشن: STATION (انگ) مذکر؛ ریل کے ٹھہرنے کا خاص مقام، چوکی۔

اسٹیشنر: STATIONER (انگ) مذکر؛ قلم، کاغذ، روشنائی وغیرہ بیچنے والا۔

اسٹیشنری: STATIONERY (انگ) موٹ؛ کاغذ، سیاہی وغیرہ، سامان تحریر۔

اسٹیل: STEEL (انگ) مذکر؛ اسپات، فولاد۔

اسٹیم: STEAM (انگ) موٹ؛ بھاپ۔

اسٹیمر: STEAMER (انگ) مذکر؛ دخانی کشتی، پانی میں چلنے والا چھوٹا جہاز۔

اسٹیمیٹ: ESTIMATE (انگ) مذکر؛ تخمینہ، اندازہ۔

اسٹینڈ: STAND (انگ) مذکر؛ (۱) گارڈوں کا آڈہ، مقام، جگہ۔ (۲) تپائی، گھروچی۔

اسٹینڈرڈ: STANDARD (انگ) مذکر؛ (۱) معیار، کسوٹی، (۲) مستند، مانا ہوا۔

اسٹینیل: STENCIL (انگ) مذکر؛ وہ پتلی سی تختی جس پر حروف یا نقش کاٹ کر بناتے ہیں اور پھر اس سے کسی چیز یا کاغذ پر اتار لیتے ہیں، نقش ساز تختی وہ چلی بنا کاغذ جس پر حروف کاٹتے ہیں

اسٹینوگرافر: STENOGRAPHER (انگ) مذکر؛ مختصر نویس۔

اسکواڈرن / اسکویڈرن : SQUADRON (انگ)

مذکر؛ دو گروپ یعنی ۱۳۰ سے ۲۰۰ تک سواروں کا فوجی دستہ۔
اسکوائر : ESQUIRE/SQUIRE (انگ) (۱) جناب، تعظیمی

لفظ (۲) مربع، چوراہہ۔

اسکورہ : SCORE (انگ) مذکر؛ وہ تعداد جو کھلاڑی

ٹیم کھیل میں حاصل کرے (جیسے کرکٹ میں ہینرڈن کی تعداد)

اسکول : SCHOOL (انگ) مذکر؛ (۱) ابتدائی اور

ثانوی مدرسہ، تعلیم گاہ، مدرسہ، مکتب، (۲) دبستان۔

اسکولیش : SQUASH (انگ) مذکر؛ (۱) عرق، شربت،

(۲) ایک کھیل۔

اسکیچ : SKETCH (انگ) مذکر؛ (۱) خاکہ، (۲) خلاصہ۔

اسکیم : SCHEME (انگ) مونث؛ (۱) تجویز،

منصوبہ، (۲) چال، سازش۔

اسکینڈل : SCANDAL (انگ) رسوائی، تہمت،

شرمنگ واقعہ۔

اسلاف : (ع) (جمع سَلَف کی) اگلے وقت کے لوگ، خاندانی

سلسلے کے بزرگ۔

اسلام : (ع) مذکر؛ (گردن جھکانا، ماننا، اطاعت کرنا) دنیا

کا ایک مشہور مذہب۔

اسلحہ : (ع) مذکر؛ (جمع سلاح کی) جنگی ہتھیار، تلوار، توپ،

بندوق وغیرہ۔

اسلحہ رکھنے کی جگہ۔

اسلیم : (ع) صفت؛ نہایت مضبوط۔

اسلوب : (ع) مذکر؛ راہ، طور، طرز، روش، طریقہ، صورت۔

اسم : (ع) مذکر؛ (۱) نام، (۲) علم نحو کی ایک اصطلاح۔

اعظم : خدا کا بزرگ تر نام۔

بائنسٹی : جیسا نام ویسے ہی صفات، نام کے معنی میں

جو خوبی ہو وہی نام والے کی ذات میں ہوتا۔

جلالی : خدا کا شانِ جلال والا نام۔

جمالی : خدا کا شانِ رحمت و جمال والا نام۔

ذات : خدا کا نام، اظہر جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔

علم صرف دعویٰ ایک اصطلاح۔

لینڈ یارڈ : LANDYARD (انگ)۔

مذکر؛ لندن کی خفیہ پولیس۔

اسکاچ : SCOTCH (انگ) مونث؛ اسکاٹ لینڈ

کی انگریزی بلی، اسکاٹ لینڈ میں بنی شراب

مذکر؛ اسکاٹ لینڈ کا باشندہ۔

صفت؛ اسکاٹ لینڈ یا وہاں کے باشندوں کے متعلق۔

وہسکی : WHISKY (انگ) مونث؛

اسکاٹ لینڈ میں بننے والی شراب، یا اس کی نقل، جو کسی

دوسری جگہ کشید کی گئی ہو۔

اسکالر : SCHOLAR (انگ) مذکر؛ (۱) طالب علم۔

(۲) عالم فاضل۔

شپ : SHIP (انگ) مذکر؛

(۱) تعلیمی وظیفہ، (۲) علیت، فضیلت۔

اسکانا : (عم) آکسانا، چراغ کی روشنی بڑھانے کے لئے

بتی کو ابھارنا، کسی کو جوش دلانا، کسی کام کے لئے ابھارنا۔

اسکاؤٹ : SCOUT (انگ) مذکر؛ (۱) بچوں

میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے والی ایک عالم گیر جماعت، (۲)

دشمن کی سرگرمیوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے والے

سپاہی، رضا کار

اسکرپٹ : SCRIPT (انگ) مونث؛ کہانی یا

ڈرامے کا مسودہ، (۲) دستی تحریر۔

اسکرٹ : SKIRT (انگ) مذکر؛ عورتوں کا ایک قسم

کا لباس، سایہ، لہنگا

اسکرین : SCREEN (انگ) مذکر / مونث؛ پردہ،

پتلی، آئڑ، اوٹ۔

اسکرین پلے : SCREEN PLAY (انگ) مذکر؛

منظر نامہ۔

اسکندر : سکندر، (۱) یونان کے ایک بادشاہ اور مشہور فاتح کا

نام، (۲) دیوارِ سکندری کا بنانے والا۔

اسکواڈ : SQUAD (انگ) مذکر؛ فوجی سپاہیوں کا

چھوٹا دستہ۔

جانے والے لوگ جو مقدمات سننے کے بعد جج کو راستے دیتے ہیں۔

ا ش

ا ش : بہت چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو پیشاب کرانے کا اشارہ۔
ا شارات : (ع) مذکر؛ (جمع اشارہ کی) رمز، کنایہ
ا شارت : (ع) موت؛ (جمع اشارہ)۔
ا شاروں ا شاروں میں کہنا : اشاروں میں سارا دلی مطلب بیان کر جانا۔

ا شارہ : (ف) مذکر؛ ایما، کنایہ۔

ا شارے : اشارے پر چلنا : (۱) مرضی کے مطابق کام کرنا
(۲) ایما پر عمل کرنا۔

ا شازی : اشاروں میں دلی مطلب ظاہر کرنا : برسی باتوں کی طرف اشاروں میں مائل کرنا۔

ا شاریت : (ع) موت؛ (۱) ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب بیان کرنا : (۲) فیرواضح انداز : (۳) اہمام
ا شاریت : (ع) موت؛ (۱) ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب بیان کرنا : (۲) فیرواضح انداز : (۳) اہمام

ا شاریت : (ع) موت؛ (۱) ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب بیان کرنا : (۲) فیرواضح انداز : (۳) اہمام
ا شاریت : (ع) موت؛ (۱) ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب بیان کرنا : (۲) فیرواضح انداز : (۳) اہمام

ا ش : غیر معمولی بات پر انتہائی تعجب حیرت یا خوشی کا اظہار کرنا

ا شاعت : (ع) موت؛ شائع کرنا، مشہور کرنا، شہرت۔
ا شانت : (ع) بے چین، بے قرار، مضطرب۔

ا شباع : (ع) مذکر؛ علم عروض کی ایک اصطلاح، حرکات کو اتنا دراز کرنا کہ زبر زیر، پیش، العت، ہی ادد واو کی سی آواز دینے لگیں۔

ا شباہ : (ع) مذکر؛ (جمع متبہ کی) نظیریں، تشکیلیں، صورتیں۔
ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔
ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

ا شباہ : (ع) کسی کے مانند ہونا، متشابہ ہونا۔

- **آشجھہ**؛ (۵) نام مبارک، منحوس۔
آشبتیاہ؛ (ع) مذکر؛ (۱) شبہہ کرنا، شک، گمان؛ (۲) مشابہ ہونا۔
- **آشبتدادہ**؛ (ع) مذکر؛ شدت، زیادتی، شدت پیدا ہونا۔
آشتر؛ (ف) مذکر؛ اونٹ، کھتر۔
- **آشتر اک**؛ (ع) مذکر؛ سا بھا، شرکت، میل۔
- **آشتر اگیت**؛ (ع) مؤنث؛ (۱) سوشلزم؛ (۲) سماج کا وہ نظام جس میں پیداوار کی مساوی تقسیم ہو؛ (۳) اجتماعی طور پر کوئی کام کرتا۔
- **آشترعال**؛ (ع) مذکر؛ (۱) بھڑکنا، شعلہ اٹھانا؛ (۲) ہم ہی اور چوٹا پیدا ہونا۔
- **آشترالک**؛ مؤنث؛ بھڑکانا، چراغ کی تبی اسکانا۔
- **آشترغال**؛ (ع) مذکر؛ مشغول ہونا، مشغولیت۔
- **آشترقاق**؛ (ع) صفت؛ (۱) ٹوٹ جانے والا، ٹوٹ کر الگ ہونے کی خصوصیت؛ (۲) ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا مشق کرنا، چیرنا۔
- **آشترمالیت**؛ (ع) مؤنث؛ کمیونزم، جس کا بانی کارل مارکس۔
- **آشترتباہ**؛ (ع) مؤنث؛ خواہش، بھوک۔
- **آشترتبارہ**؛ (ع) مذکر؛ اعلان، اطلاع عام، شہرت دینا۔
- **آشترتبارہ بازی**؛ ہستی شہرت حاصل کرنے یا نام کا نیبنا کھیلنے یا شہرت کو استعمال کرنا۔
- **آشترتبارہی**؛ (۱) اشترتبارہ ہوتی چیزیں؛ (۲) وہ مجرم جس کی گرفتاری کا اشترتبارہ دیا گیا ہو۔
- **آشترتیاق**؛ (ع) مذکر؛ شوق، آرزو۔
- **آشترجہ**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شجر کی) پیڑ، درخت۔
- **آشترخاص**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شخص کی) لوگ۔
- **آشترہ**؛ (ع) بہت سخت، شدید ترین۔
- **آشترہدہ**؛ (۵) ناپاک، ناصاف، غیر خالص۔
- **آشترہ**؛ (ع) بڑا شیر۔
- **آشترہ ناس**؛ (آشترہ ناس) لوگوں میں سب سے بڑا شیر، بدترین آدمی۔
- **آشترارہ**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شری کی) شری لوگ۔
- **آشتراف**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شریف کی) اچھے حسب و نسب لوگ۔
- **پاؤں پڑے**؛ کینہہ سر چڑھے؛ نسل؛ کینہہ شریف کی نرمی اور تواضع پر اٹا اور دلیر ہو جاتا ہے۔
- **آشترافیت**؛ مؤنث؛ چند لوگوں کی حکومت، حکومت امرا۔
- **آشترافیہ**؛ (آشترانی یا) (ع) مذکر؛ (۱) شریف لوگ، شریفوں کا طبقہ؛ (۲) بااثر لوگ، جماعت امرا۔
- **آشتراق**؛ (ع) مذکر؛ (۱) صبح کے بعد کی روشنی کا وقت؛ (۲) مجازاً، روشن ضمیر، صفائے باطن۔
- **کی نماز / اشتراق**؛ صبح کے بعد سورج بلند ہو جانے پر پڑھی جانے والی نفل نماز۔
- **آشتراقیبین**؛ وہ گروہ حکما جو اپنے شاگردوں کو دُور بیٹھے توجہ کشف سے تعلیم دیتے تھے۔
- **آشتراف**؛ (ع) مذکر؛ بڑا شریف، زیادہ بزرگ۔
- **المخلوقات**؛ (آشترقل مخلوقات)؛ (۱) تمام مخلوق میں بہترین مخلوق؛ (۲) (کتابتاً) انسان۔
- **آشترنی**؛ (ف) مؤنث؛ سونے کا سکہ۔
- **بُوٹی**؛ زربفت اور کخواب وغیرہ پر اشترنی کے برابر گول بوٹیاں۔
- **کا پھول**؛ ایک زرد پھول (کچی بہار کا)، گل اشترنی۔
- **آشتریاں**؛ کٹیاں کو تلوں پر مہر؛ نسل؛ قیمتی چیزوں اور بڑی رقموں کی پروا نہ کرنا اور چھوٹی چیزوں کی حفاظت اور معمولی خرچ پر نظر رکھنا۔
- **آشعارہ**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شعر کی) آیات۔
- **آشغال**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شغل کی) کام، مشغلہ۔
- **آشغلاہ**؛ مذکر؛ فتنہ فساد والی بات۔
- **آشقیہ**؛ (ع) مذکر؛ (جمع شقی کی) کٹر لوگ، سنگ دل، بد نصیب۔
- **آشک**؛ (ف) مذکر؛ آنسو۔
- **بُلبُل**؛ (کھنٹو) (اضافت کے ساتھ) ایم کی بہت کم مقدار۔
- **حشرت**؛ (اضافت کے ساتھ) غم اور افسوس کے آنسو۔
- **ریزہ**؛ آنسو جاری رکھنے والا، آنسو پکانے و گرانے والا۔
- **شیع**؛ (اضافت کے ساتھ) جلتی ہوئی شمع سے گرنے والے موم کے قطرے۔

اختیار کرنے والوں کو زرد پانی میں غوطہ دینے کی رسم۔

(بتسمہ دینا)۔

اَصْطَبِلُ / اَصْطَبِيلُ : (ع) مذکر؛ طویلہ گھوڑوں کے باندھنے کا جھت دار ٹھکانہ۔

اَصْطِرْلَابُ : (یونانی) مذکر؛ علم نجوم کے احکام کے مجوز جب نقوش اور خطوط کھدا ہوا ایک برنجی آلہ۔

اَصْطِلَاحُ : (ع) (۱) ایک گروہ کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، (۲) کسی جماعت کا کسی لفظ کو اصلی معنی سے الگ کسی خاص معنی کا حامل قرار دینا، (۳) کسی علم فن یا حرفے کا خاص لفظ۔

اَصْغَرُ : (ع) چھوٹا، بہت چھوٹا۔

اَصْفَهَانُ / اَصْفَهَانُ : (ف) ایران کا ایک مشہور شہر۔

اَصْفِيَاءُ : (ع) مذکر۔ (جمع صغریٰ) نیک لوگ۔ برگزیدہ لوگ۔

اَصْلُ : (ع) موت؛ جڑ، بنیاد، مادہ، ماخذ، حقیقت، اصلی، بے میل۔

اَصْلُ ہے نقل نقل ہے؛ (مقولہ) جو عودگی اصل میں ہوتی ہے وہ نقل میں نہیں ہوتی۔

الاصول : (اَصْلُ اَصْوَالُ) مذکر؛ لب لباب، خلاصہ۔

خیر سے؛ (عو) سلامتی سے، خیر خوبی کے ساتھ۔

رَقْمٌ / سُرْمَانِيَّةٌ : اصل پونجی، اصل رقم سود نفع وغیرہ چھوڑ کر

سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں؛ مقولہ؛ شریف

کبھی برائی نہیں کرتا، کینے سے کبھی بھلائی نہیں ہوتی۔

اَصْلَاءُ : (ع) ہرگز، کسی طرح۔

اَصْلَاحُ : (ع) درست کرنا، سنوارنا، خط بنانا

اَصْلِيٌّ : واقعی، ٹھیک۔

اَصْلِيَّةٌ : واقعت، حقیقت۔

دینا؛ درست کرنا، نقص درست کرنا۔

اَصْتِمَامٌ : (ع) مذکر؛ (جمع صغریٰ) (۱) جبت، (۲) (جہاز) مشوق۔

اَصْوَالُ : (ع) مذکر؛ (جمع اصل کی) قاعدے، قانون۔

موضوعہ؛ (اضافہ کے ساتھ) علم ریاضی میں کچھ عمل

اور باتیں دوسری چیزوں کے ثابت کرنے کے لئے مان لینا۔

اَصْيَلُ : (ع) (۱) وہ انسان جس کے باپ دادا شریف تھے۔

اور گلیں؛ موت؛ آنسو لانے والی گلیں، آنسو گلیں۔

اَشْكَالُ : (ع) مذکر؛ (جمع شکل کی) شکلیں۔

اَشْكَالُ : (ع) مذکر؛ مشکل، دقت، شک، شبہ۔

اَشْلُوكُ : (ع) مذکر؛ (۱) شعر، دوہا، مقفا فقرے۔

(۲) ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی عبارتیں۔

اَشْتَانُ : (ع) مذکر؛ نہانا، غسل۔

اَشْوَكُ : (ع) مذکر؛ (۱) ایک درخت کا نام، (۲) قدم۔

ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ۔

اَشْهَبُ : (ع) (۱) سیاہ رنگ جس میں سفیدی غالب

ہو، (۲) مذکر؛ سبزہ گھوڑا، (۳) گھوڑا۔

اَشْيَاءُ : (ع) موت؛ (جمع شے کی)، چیزیں۔

ا ص

اَصَابَتْ : (ع) موت؛ پانی پہنچ چنگی، معرہ درستی۔

اَصَالَتُ : (ع) موت؛ لطفے کی تاثیر، ذات اور خاندان کا اثر

نسل کی خاصیت۔

پر آجانا / جانا؛ کینے کا کینہ پر کرنا۔

اَصَالَتًا : (اَصَالَتُنْ)؛ بذات خود، بلا واسطہ۔

اَصْحَحُ : (ع) بہت صحیح۔

اَصْحَابُ : (ع) مذکر؛ (جمع صاحب کی) (۱) دوست،

ساتھی، مصاحب، (۲) وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے یا آپ کو

دیکھا۔

فیل؛ (اضافہ کے ساتھ) اَبْرُجِہ کے ساتھ ہاتھی

لے کر خانہ کعبہ ڈھانے کے لئے آئے ہوئے لوگ۔

کہف؛ (اضافہ کے ساتھ) وہ سات ظہر تہجد قیامتوں

بادشاہ کے خوف سے غار میں چھپ کر ایک مدت تک سوتے

رہے۔ اُن کے ساتھ اُن کا ایک کتابھی تھا۔

اَصْرَارُ : (ع) مذکر؛ حکمران، کسی امر میں بار بار تاکید۔

اَهْرَافُ : (ع) مذکر؛ صوف کی جمع، اتراجات۔

اصطباغ؛ (ع) رنگنا، غوطہ دینا، (۲) مذہب عیسوی کے

اضطراب، (ع) مذکر: گھبراہٹ، بے قراری۔
اضطراب، (ع) مذکر: کسی کام کرنے پر مجبور ہونا،
بے قراری۔ بے اختیار۔

اضطرابیت، (ع) مؤنث: بے چینی کی حالت۔ بے قراری۔
أَضْعَافٌ، (ع) دُغْنَا،

أَضْعَافًا مَضَاعِفًا، (ع) دُغْنَا، دُغْنَا۔

أَضْعَفٌ، (ع) بہت کمزور، بہت ضعیف۔

أَضْلَاعٌ، (ع) مذکر: (جمع ضلع کی) (۱) پہلو، اطراف۔ (۲) صوبے
کے چھوٹے حصے، (۳) جیومیٹری کی ایک اصطلاح۔

إِضْمِحَالٌ، (ع) مذکر: مرجحانا، پڑھ کر۔

ا ط

إِطَاعَةٌ، (ع) مؤنث: حکم ماننا، تابع داری، فرمان برداری۔

أَطَالُومِيٌّ، (مغرب) مذکر: اٹلی کا باشندہ، اٹلی کی زبان۔

أَطْبَا، (ع) مذکر: (جمع طبیب کی) حکیم، معالج۔

أَطْرَافٌ، (ع) (جمع طرف کی) (۱) کنارے، سمت، حوالہ۔

(۲) اصطلاح المباحین ہاتھ پاؤں۔

إِطْرِيْقٌ، (ع) مذکر: (ترجیح کا مغرب) ترپھلا، ایک

مبجوں کا نام جو پٹ، بہیڑے اور آلے سے تیار کی جاتی ہے۔

أَطْعَمَهُ، (جمع طعام کی) کھانے۔

أَطْفَا، (ع) مذکر: بچھانا۔

أَطْفَالٌ، (جمع طفل کی) چھوٹے بچے۔

إِطْلَاعٌ، (ع) مؤنث: آگاہی، خبر۔

إِطْلَاقٌ، (ع) مذکر: کہنا، بولا جانا، ایک چیز کا دوسری چیز پر بولنا۔

أَطْلَسٌ، (ع) مؤنث: ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

إِطْمِينَانٌ، (ع) مذکر: تسبی، تشقی

إِطْنَابٌ، (ع) مذکر: بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بات یا عبارت

کو طول دینا، مبالغہ آرائی کرنا۔

أَطْوَارٌ، (ع) (جمع طور کی) روش، ڈھنگ، چال چلن۔

أَطْهَارٌ، (ع) مذکر: (جمع طہار کی) پاک لوگ۔

(۲) کھانا پکانے والی ماما، خدمت گار عورت۔

تَبِيْعٌ، اچھے لوہے کی تلوار۔

تَهْوِيْرٌ، اچھی نسل کا گھوڑا۔

تَهْوِيْرٌ، گھوڑے کو چاہا کی حاجت نہیں، امراد؛ جو نہار

لڑکے کو تنبیہ اور سختی کی ضرورت نہیں۔

مُرْعٌ، لڑنے لڑانے والا مُرْعٌ۔ اچھی نسل کا مرغ۔

ا ض

إِضَافَةٌ، (ع) مؤنث، (۱) لگاؤ، نسبت، علاقہ (۲) اصطلاح

نحو میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا۔

بیانی، (اضافت کے ساتھ) جس اضافت میں مضاف الیہ

مضاف کا بیان واقع ہو، مثلاً سونے کا پہاڑ، ککڑی کے

دروازے۔

تخصیصی، (اضافت کے ساتھ) جس اضافت سے

مضاف سے مضاف الیہ کا خاص ہونا سمجھا جائے۔

مثلاً میرا کام، تیرا لڑکا۔

تملیکی، (اضافت کے ساتھ) جس اضافت میں مضاف،

مضاف الیہ کا مالک ہونا سمجھا جائے، مثلاً، میرا مال،

تیری مثال۔

توصیفی، (اضافت کے ساتھ) جس میں مضاف الیہ

مضاف کی صفت ہو، مثلاً، روز روشن۔

توضیحی، (اضافت کے ساتھ) جس میں مضاف، مضاف

الیہ کی وضاحت کرے مثلاً مارچ کا مہینہ، جمعہ کادن۔

ظرفی، (اضافت کے ساتھ) وہ اضافت جس میں مضاف

کا مضاف الیہ طرف سمجھا جائے یا اس کے برعکس، مثلاً،

یانی کا کٹورہ۔

إِضَافَةٌ، (ع) مذکر: کسی چیز پر کچھ بڑھانا، بیشی، ترقی۔

إِضَافِيٌّ، (ع) صفت، نسبتی، زائد، اضافہ کیا ہوا بغیر مطلق۔

إِضَافِيَّاتٌ، (ع) مذکر: (ساتھ ہی اصطلاح) نظریہ اضافت۔

إِضَافِيَّةٌ، (ع) مؤنث: نظریہ اضافیت نسبتی یا اضافی ہونا۔

آظہر: بہت پاک۔

ا۔ ظ

اظہار: (ع) مذکر؛ کھولنا، ظاہر کرنا، بیان۔

— دینا، عدالت میں مقدمے کی حقیقت بیان کرنا یا لکھوانا۔
گوہوں کا بیان دینا، فنون لطیفہ کی ایک اصطلاح۔

اظہاریت: موت؛ ادا سے مطلب، اظہار کا وصف۔
آظہر: (ع) بہت کھلا ہوا بہت روشن۔

— من الشمس، آظہر من الشمس (سورج سے زیادہ روشن۔
بین، واضح

ا۔ ع

اعادہ: (ع) مذکر؛ پھرنا، کسی فعل یا بات کو دہرانا۔

اعانت: (ع) موت؛ مدد، مدد دینا۔

اعتبار: (ع) مذکر؛ بھروسہ، یقین، اعتماد۔

اعتباری: معتبر، بھروسہ کے لائق

اعتدال: (ع) مذکر؛ برابر اور یکساں ہونا، کمی زیادتی،
میان روی۔

— پر آنا: (۱) معتدل ہونا، (۲) بحال ہونا، (طبیعت کے
دواسطے)۔

اعتدار: (ع) مذکر؛ عقد کرنا، تعہد کرنا۔

اعتراض: (ع) مذکر؛ شبہہ کرنا، عیب نکالنا۔

— اٹھنا: (۱) اعتراض رفع ہونا، (۲) کسی پر اعتراض ہونا۔

اعتراض: (ع) مذکر؛ مان لینا، اقرار تسلیم کرنا۔

اعتقاد: (ع) مذکر؛ دل میں کوئی بات مضبوطی سے قائم ہونا۔

اعتکاف: (ع) مذکر؛ (۱) مقررہ مدت تک عبادت کے لئے
مسجد میں بیٹھ جانا اور سوائے ضروری حاجتوں کے کسی

اور کام سے باہر نہ جانا، (۲) عبادت کے لئے گوشہ نشینی۔

اعتماد: (ع) مذکر؛ یقین، ساکھ، بھروسہ۔

اعتناء: (ع) موت؛ مذکر؛ غم خواری کرنا، اہتمام، پروا، توجہ۔

اعجاز: (ع) مذکر؛ (۱) معجزہ، خرقہ عادت، انسانی طاقت سے

بڑھ کر کوئی کرامت۔ (۲) مجازاً، غیر معمولی کمال۔

— بیان: (۱) اضافت کے ساتھ) تقریر اور کلام کا پرتاثر ہونا۔

— مسیحائی: (۱) اضافت کے ساتھ) حضرت عیسیٰ کا مردوں کو

زندہ کرنے کا معجزہ۔

اعجوبہ (اعجوبہ): (ع) عجیب، انوکھا، نادر، عجیب چیز،
اچھٹا۔

اعداء: (ع) مذکر؛ (جمع عدوی) دشمن، مخالف۔

اعداد: (ع) مذکر؛ (جمع عددی) ہندسے۔

اعراب: (ع) مذکر؛ عرب کے صحرائین۔

اعراب: (ع) مذکر؛ حرکات و سکنات، زیر، زبر، پیش وغیرہ۔

اعرابی: اعراب کی طرف منسوب، عرب کا صحرائین۔

اعراض: (ع) مذکر؛ (جمع عرض کی) اصطلاح فلسفہ و منطق۔

برذات خود قائم نہ رہنے والی چیزیں، کسی سے وابستہ رہنے

والا وجود جیسے رنگ۔

اعراض: (ع) مذکر؛ روگردانی، چشم پوشی، بے التفاتی۔

اعراف: (ع) مذکر؛ دوزخ اور بہشت کے بیچ میں ایک مقام۔

اعزّاء: (ع) مذکر؛ (جمع عزیز کی) بھائی بندا رشتے دار۔

اعزاز: (ع) مذکر؛ عزت، توقیر، مرتبہ، عزت دینا۔

اعصاب: (ع) مذکر؛ (جمع عصب کی) بدن کے پٹھے پھاڑ پھوس

اعصاب زدگی: (ع-ق) موت؛ ذہنی تناؤ، بے سکونی،

بے چینی و انتشار۔

اعضاء: (ع) مذکر؛ (جمع عضو کی) بدن کے اجزاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔

— ٹوٹنا؛ بدن کے جوڑ میں درد ہونا۔

— ٹھکنی؛ بدن ٹوٹنا، سارے جسم میں درد ہونا۔

اعضاء تملیسیہ: جسم کے اہم حصے، دل، جگر اور دماغ وغیرہ۔

اعظم: (ع) بہت بڑا، سب سے بڑا۔

اعلیٰ الاعلا: (ع) بہت بلند، معزز آدمی۔

اعلام: (ع) مذکر؛ خبر دینا، پروانہ، نوٹس، سرکاری اعلان۔

اعلام: (ع) مذکر؛ علم کی جمع، جھنڈے

اعلامیہ: (ع) مذکر؛ (۱) کسی حکومت یا موثر جماعت کی طرف

سے جاری کیا گیا اعلان، (۲) اطلاع، اعلان،

اَعْلَان : (ع) مذکر؛ اظہار، ظاہر کرنا، عام اطلاق۔

اَعْمَال : (ع) جمع عمل کی، افعال، کام۔

نامہ؛ وہ رجسٹر جس میں کرنا کا تہین انسان کے اچھے برے

اعمال لکھتے ہیں، وہ رجسٹر جس میں سرکاری ملازمین کے حالات درج ہوتے ہیں

اَعْوَان : مذکر؛ جمع عون کی، مددگار۔

اَعْيَان : (أعْ - یان) (ع) موت؛ (۱) پانی کا چشمہ، سورج،

کرن، سونا، (۲) تصوف کی اصطلاح) چیز کی اصلی حقیقت۔

ثابتہ، (ثا - بتا) (تصوف کی اصطلاح) تخلیق کائنات

سے پہلے خدا کے علم میں کائنات و موجودات کی صورتیں۔

خارجہ (خا - رجا) (تصوف کی اصطلاح) اعیان ثابتہ

کا اظہار جسم و صورت میں، مظاہر و موجودات، عالم ظاہر۔

ا - غ

اَغْذِیْبہ : (ع) موت؛ (جمع غذا کی) غذائیں۔

اَغْرَاض : (ع) مذکر؛ (جمع غرض کی) حاجتیں، مطالب۔

اَغْلَاط : (ع) مذکر؛ (جمع غلط کی) غلطیاں، بھول چوک۔

اَغْلَاق : (ع) مذکر؛ مشکل کرنا، مُنْغَلِق کرنا، پیچیدہ ہونا۔

اَغْلَام : (ع) مذکر؛ لڑکے کے ساتھ بُرا فعل کرنا، لواطت۔

اَغْلَب : (ع) قوی گمان، غالب تر۔

اَغْل بَعْل : (اغل تابع مہل) ادھر ادھر، داتیں باتیں، آس پاس۔

اَغْمَاض : (ع) مذکر؛ بے پروائی، بے التفاتی۔

اَغْنِیَا : (ع) مذکر؛ (جمع فنی کی) دولت مند لوگ۔

اَغْوَا : (ع) مذکر؛ (۱) ورغلا، ہپکانا۔

اٹھالے جانا، غائب کر دینا۔

اَغْیَار : (ع) مذکر؛ (جمع غیر کی) بیگانے جو عزیز یا دوست

نہوں، (۲) مجازاً دشمن یا رقیب۔

ا - ف

اَف : (ع) موت؛ (۱) بے چین اور تکلیف کے اظہار کا کلمہ، اوہ

اور آہ کے ہم معنی، (۲) کلمہ افسوس

اَف کرنا، کراہنا، آہ آہ کرنا۔

اَفْرَاکَاثَا نہ جتنے، (مقولہ) تجھ یا اُس ایسے نہایت مفسد

اور دغا باز کی فتنہ پردازی کا علاج نہیں، اس کی شر انگیزی

سے بچنا محال ہے۔

اَفْرَسے، ہائے رے، کسی چیز کی بے حد زیادتی کا اظہار۔

اَفْر کرنا: بہت ضبط کرنا، کسی تکلیف کا شاک نہ ہونا۔

اِفَادَات : (ع) موت؛ فائدہ پہنچانا، مفید ہونا

اِفَادہ : (ف) مذکر؛ فائدہ، نفع۔

اِفَادِیْت : (ع) موت؛ فائدہ مندی، منفعت، نفع،

مقصدیت۔

اِفْسَد : (ا) فائدہ چاہنے والا، ہر کام نفع کی خاطر کرنے

والا، (۲) افساد، تاجرانہ ذہنیت رکھنے والا

اِفْغَمَہ : (ف) مذکر؛ (جمع افغان کی) افغانی۔

اِفْاَقَہ : (ع) مذکر؛ بیماری کی تکلیف میں کمی ہونا، بیماری گھٹنے

لگنا، صحت پانا، آرام۔

اِفْتَاوہ : (ف) موت؛ (۱) اتفاقہ حادثہ، سانحہ، (۲) ڈھنگ،

خلقت، فطرت، عادت۔

اِفْتِیْح : (اضافت کے ساتھ) مزاج کا ڈھنگ، عادت۔

اِفْتِیْح لگی، عاجزی، خاکساری، بے چارگی۔

اِفْتَاوہ : (۱) گرا ہوا، عاجز، (۲) زمین، غیر آباد، وہ زمین جس

پر کاشت نہ ہوتی ہو۔

اِفْتَاوہ و خِزَاوہ : (ف) گرتے پڑتے، بدحواسی کی حالت۔

اِفْتِیْح : (ع) مذکر؛ کھولنا، شروع کرنا، اُدْکھاٹنا۔

اِفْتِیْحَار : (ع) مذکر؛ (۱) فخر کرنا، تاز کرنا، عزت۔

اِفْتِیْحَار : (ع) مذکر؛ بہتان، تہمت۔

اِفْتِیْحَار : تہمت لگانے والا، مفسد۔

اِفْتِیْح : (ع) مذکر؛ جدا کرنا، جدائی بھوٹ۔

اِفْتِیْح : موت؛ اہل چل، گھبراہٹ، تہلکہ، بد نظمی۔

آفشر وہ: (ف) کسی کئی چیز کا پختہ ہوا عرق، وہ شربت جس میں لیموں نالے وغیرہ کا عرق پختہ کرکھٹا س کے لئے شامل کیا گیا ہو پختہ ہوا۔

آفشرہ: آفشرہ کا مخفف۔

آفصح: (ع) بہت فصیح۔

آفضال: (ع) مذکر؛ (جمع فضل کی) بخشش کرنا، مہربانی کرنا، مہربانی، فضل۔

آفضل: بہت فضیلت رکھنے والا۔ سب سے اچھا۔

آفضلیت: موت؛ بزرگی، بڑائی۔

آفطار: (ع) مذکر، روزہ کھولنا۔

آفطاری: روزہ کھولنے کے لئے کھائی جانے والی چیزیں۔

آفعال: مذکر؛ (جمع فعل کی) (۱) کام، اعمال۔ (۲) تاثیریں، خواص۔

آفعی: (ف) مذکر؛ (۱) ایک نہایت زہریلا سانپ جس کے متعلق مشہور ہے کہ زہر دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، (۲)

عام زہریلا سانپ، (۳) مجازاً نہایت چالاک، شہیرا، بڑا موزی انسان۔

آفغان: (ف) مذکر؛ (۱) افغانستان کا رہنے والا، پٹھان۔ (۲) موت؛ فریاد، نالہ، شور، فغان۔

آفغانستان: آفغانوں (پٹھانوں) کا ملک۔

آفقی / آفقی: (ع) مذکر؛ آسمان کا کنارہ، آسمان کا زمین سے ملنا نظر آنے والا حصہ۔

آفکار: (جمع فکر کی) (۱) تردد، انتشار، (۲) کلام، شعر و سخن۔

آفکار / فرکار: (ف) زخمی، چاک چاک۔

آفلاس (افلاس): مذکر، غریبی، محتاجی، مفلسی۔

آفلاطون / فلاطون: (۱) یونان کا ایک مشہور فلسفی۔

پلیٹو کا مقرب، ارسطو کا استاد، سقراط کا شاگرد، (۲) مجازاً: بڑا چالاک آدمی یا تیز ذہن کا آدمی۔

آفلاک: (ع) مذکر؛ (جمع فلک کی) آسمان۔

آفواج: (ع) موت؛ (جمع فوج کی) لشکر۔

آفراد: (ع) مذکر؛ (جمع فرد کی) اشخاص، لوگ۔
آفراسیاب: (ف) توران کے ایک مشہور بادشاہ کا نام (۲) طلسم جو شہر یا ایک کمر دار

آفراط: (ع) موٹ؛ کثرت؛ زیادتی حد اعتدال سے بڑھ جانا۔
آفراط و تفریط: حد اعتدال سے بڑھی ہوئی کمی یا زیادتی۔
توازن باقی نہ رہنا۔

آفراط زر: (موت؛) دولت کا پھیلاؤ، بتات زر، ملک میں مصنوعی طریقے سے دولت کا پھیلاؤ۔

آفرائش: (ف) موت؛ بڑھوتری، زیادہ ہونا، ترقی۔

آفسانہ: (ف) مذکر؛ کہانی، قصہ، داستان، بے اصل بات۔
چھڑنا، چرچے ہونا، بات کا پھیلنا۔

چھیڑنا، ہمزگشت بیان کرنا، قصے شروع کرنا۔

خواں؛ داستان کہنے والا قصہ گو۔

رہ جانا، اصل چیز نہ رہنا، اس کا چرچا باقی رہ جانا۔

ہونا، شہرت پانا، مشہور ہونا۔

آفسر: (ف) مذکر؛ تاج۔

آفسر: مذکر؛ (آفسر) حاکم، سردار، سربراہ۔

آفسردگی: (ف) طبیعت کا مرجھانا، اداسی۔

آفسردہ: مرجھایا ہوا، اداس، غمگین۔

خاطر / دل، اداس، رنجیدہ، ملول۔

آفسوس: مذکر؛ رنج و تاسف، حسرت۔

دل گڑھے میں؛ (مزاحاً) کسی چیز کو دیکھ دیکھ کر لپٹا پانا اور بس نہ چلنا۔

آفسول: (ف) مذکر؛ جادو، منتر۔ (۲) فریب، مکر۔

چھوکنکا، منتر پڑھ کر دم کرنا۔

چلنا، جادو کا کر ہونا، منتر کا اثر ہونا، تدبیر کا اثر ہونا۔

ساز، جادوگر۔

افشا: (ع) ظاہر کرنا، فاش کرنا۔

آفشاں: ماتھے اور بالوں پر پھڑکنے کی مقیش یا گونے کی کڑن۔

آترنا، جینی ہوئی افشاں کا چھوٹ جانا۔

چھننا یا جھننا، ماتھے بالوں پر افشاں لگانا یا چھڑکانا۔

- اقواہ: موت؛ (جمع فوہ کی) (اردو میں بطور واحد مستعمل ہے)۔
 اڑتی ہوئی خبر، شہرت پائی ہوئی ہے اصل خبر۔
 عام: (اضافت کے ساتھ) عام چرچا، عام لوگوں میں
 پھیلی ہوئی بات۔
 اقواہا: (اقواہیں) ایک عام خبر کے طور پر جس کی صحت و عدم
 صحت مشتبہ ہو۔
 اقوہ: (۱) تعجب کا کلمہ، (۲) زیادہ تکلیف کے اظہار کا کلمہ۔
 افہام: (ع) مذکر؛ سمجھانا۔
 تفہیم: سمجھا بھکا کر، سمجھنا سمجھانا۔
 اقیوم / اقیون: موت؛ مشہور نشیلمی چیز۔
 چڑا: بہت اقیوم کھانے والا۔
 اقیوم / اقیومی: اقیوم کا عادی، اقیوم کا نشہ کرنے والا۔
 اقیون: (ع) موت؛ اقیوم۔
 گھولنا: اقیوموں کے خاص انداز میں اقیوم روئی سے پانی میں گھولنا۔
 اقیونی: اقیوم کا عادی، نشہ باز۔
 جنونی: مقولہ؛ بھکی۔
- ## اق
- اقارب: (ع) مذکر؛ (جمع اقرب کی) رشتے دار، عزیز،
 قرابت والے۔
 اقالیم: (ع) (جمع اقلیم کی) ممالک
 اقبال: (ع) مذکر؛ خوش نصیبی، زمانے کا موافق ہونا۔
 — بلند ہونا، چمکانا، نصیب اونچے ہونا، حالات بہت سازگار ہونا
 — منغنا؛ قسمت کا حسن، خوش نصیب، اقبال مند۔
 اقبالی: اقبال کرنے والا، اقرار کرنے والا۔
 مجرم: اپنے جرم کو مان لینے والا مجرم۔
 اقبالیس: (ع) مذکر؛ (۱) روشنی لینا، (۲) کسی عبارت سے
 کوئی مفید مطلب نکلوانے لینا۔
 اقتدار: (ع) موت؛ (۱) پیروی کرنا، کسی کی تقلید (۲) امام
 کے پیچھے نماز پڑھنا۔
- اقتدار: (ع) مذکر؛ طاقت و ہونا، مترادف اختیار، طاقت۔
 اقتران: (ع) مذکر؛ نزدیک ہونا۔
 اقتضا: (ع) مذکر؛ چاہنا، خواہش کرنا، سزاوار، تقاضا۔
 اقدار: (ع) مذکر؛ موت؛ (قدر کی جمع) مجازاً اصول۔
 اقدام: (ع) مذکر؛ (جمع قدم کی) پاؤں، قدم۔
 اقدام: (ع) مذکر؛ پیش قدمی کرنا۔
 خودکشی: (اضافت کے ساتھ) اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی
 کوشش کرنا۔
 قتل: (اضافت کے ساتھ) کسی کو مار ڈالنے کے لئے کوئی
 حرکت یا عمل کرنا۔
 اقدس: (ع) بہت پاک۔
 اقرار: (ع) مذکر؛ قبول کرنا، وعدہ، عہد و پیمانہ۔
 اقراری: اقبالی، اعتراف کرنے والا۔
 اقران: (ع) مذکر؛ (جمع قرین کی) پاس نزدیک کے لوگ۔
 اقرب: (ع) بہت نزدیک۔
 اقربا: (جمع قریب کی) بھائی بند، نزدیک رشتے دار۔
 اقساط: (ع) مذکر؛ (جمع قسط کی) (۱) حصے، ٹکڑے، (۲) مجازاً،
 ٹکڑے ٹکڑے کر کے رفتہ رفتہ ادا کی جانے والی رقم (۳) کسی
 چیز یا مضمون وغیرہ کے تھوڑے تھوڑے حصے۔
 اقسام: (ع) (جمع قسم کی) کئی طرح کے۔
 اقصی / اقصا: (ع) بہت دور۔
 اقطار: (ع) (جمع قطر کی) کنارے۔
 (ن) (جمع قطار کی) صفیں۔
 اقطاع: (ع) مذکر؛ (جمع قطعہ کی) ٹکڑے، اطراف زمین۔
 اقل: (ع) بہت کم، بہت چھوٹا، حقیر۔
 — درجہ کم سے کم۔
 اقلیت: موت؛ کم تعداد والا فرقہ یا گروہ (سیاسی اصطلاح)
 اقلیدس: (۱) علم ہندسہ، (۲) مصر کے ایک شہور ریاضی دان کا نام
 اقوال: (ع) (جمع قول کی) باتیں، مقولے۔
 اقوام: (ع) (جمع قوم کی) قومیں۔

اک

- اکارت (۵) بے کار، بے نتیجہ، برباد، بے فائدہ۔
اکال (۵) موت؛ قحط، خشک سال۔
اکالی (۵) (۱) سکھ قوم کا ایک فرقہ۔
اکاؤنٹ؛ اکاؤنٹ (انگ) مذکر؛ حساب، شمار
اکب؛ اکب (انگ) موت؛
حساب کی کتاب، یہی حکارت۔
اکاؤنٹینٹ؛ اکاؤنٹینٹ (انگ) مذکر؛
محاسب، حساب آنے والا منیم۔
جنرل؛ جنرل (انگ) مذکر؛
محکمہ حسابات کا اعلیٰ افسر، صدر محاسب۔
اکاؤنٹینسی؛ اکاؤنٹینسی (انگ) حساب
رکھنے کا فن۔
اکائی (۵) موت؛ (۱) ایک (۲) شمار کا پہلا درجہ، (۳) ایک سے
تو تک پر ہندسے کا نام۔
اکبر (۱۱) بہت بڑا، (۲) خاندانِ مغلیہ کا تیسرا بادشاہ جلال الدین
محمد اکبر۔
اکتانا؛ کسی چیز سے دل بھر جانا، بیزار ہونا، طبیعت اُچٹ جانا
اکتساب؛ (ع) مذکر؛ خود اپنی کوشش سے حاصل کرنا، کمانا۔
اکتفاء؛ (ع) موت؛ مذکر؛ کفایت کرنا، بس کرنا۔
کرنا، قناعت کرنا، کافی سمجھنا، زیادہ لالچ نہ کرنا۔
اکتوبر؛ (انگ) مذکر؛ عیسوی سال کا دسواں مہینہ۔
اکثر (ع) بہت زیادہ، کئی بار، بار بار
اکرام؛ (ع) مذکر؛ بزرگی، عزت، توقیر۔
اکثریت؛ (موت)؛ وہ قوم جس کے افراد کی تعداد دوسری قوموں کی تعداد سے زیادہ ہو
(سیاسی اصطلاح)۔
اکراہ؛ (ع) مذکر؛ کراہت، نفرت۔
اکڑ؛ موت؛ تناؤ؛ خود داری، گھمنڈ، آن بان۔
باز؛ نہایت مغرور، اکڑ دکھانے والا۔
اکڑ؛ (مکر، تالیق، مہل) آن بان، جوش، بانک پن۔
اکڑ؛ (مکر، تالیق، مہل) آن بان، جوش، بانک پن۔
اکڑنا؛ (۱) تننا، سینہ ابھرنا، کسی بات پر لیش سے اڑنا، (۲) گھمنڈ
کرنا، (۳) کشیدہ رہنا، بگڑ بیٹھنا، (۴) اعضاء کا بیٹھ جانا۔
- اک، ایک، ایک کا محقق۔
اکیلا، تنہا۔
بات کی بات (۱) دم بھر (۲) اکتائیاً، بہت تھوڑا زمانہ۔
بار، دفعتاً، یکا یک، ایک مرتبہ۔
بارگی (۱) ایک ہی دفعہ (۲) دفعتاً، یکا یک،
اچانک۔
تاراج (۱) مہین در در اکپڑا، (۲) ایک تار کا باجا۔
جا، اکٹھا، ایک جگہ۔
چیز ہونا، یکساں ہونا، نایاب ہونا، قابل قدر ہونا۔
خدائی، تمام عالم، بہت سے لوگ۔
درا، ایک در کا والان۔
دل ہونا، متفق ہونا۔
دم، اک بارگی۔
ڈال (۱) ایک قسم کی دیکساں، (۲) کسی ایک ہی چیز کی
مکمل بنی ہوئی چیز۔
ذرا، تھوڑا سا، کچھ۔
رُخی، ایک طرف کے رُخ کی۔
سار، یکساں، برابر، سطح۔
عمر، بہت مدت، بڑا وقت۔
یک قلم، بالکل، یک لخت۔
چگونہ، کسی قدر، تھوڑا سا۔
لخت، بالکل، تمام و کمال۔
اکا (یکٹ)؛ مذکر؛ (۱) دیکھو یکٹ، (۲) تاش کے ایک نشان کا
پتہ، (۳) بازو پر باندھنے کا ایک زیور جس میں ایک بڑا گینگنہ
بجرا ہوتا ہے۔
تنہا، صرف خود تنہا، اکیلا۔
دگکا، غیر زیادہ ساتھیوں کے، ایک آدھ، خال خال۔
اکا پر؛ (ع) (جمع اکبر کی) بڑے آدمی، مقتدر لوگ۔

اکڑوا / اکڑوں: گھٹنا، دوڑنا۔

— بیٹھنا، ایک قسم کی بیٹھک، گھٹنے پیٹ سے اور پٹلیاں رانوں سے ملا کر ٹھوں کے بل بیٹھنا۔

اکڑی بی ٹر: EXHIBITOR (انگ) نمائش کرنے والا۔
اکڑ بیٹیشن: EXHIBITION (انگ) موتش؛ نمائش، تماشا۔

اکسانا، اکسانا، ابھارنا، آمادہ کرنا۔

اکساتر: EXCISE (انگ) مذکر؛ پنکی، محصول۔

ڈیپارٹمنٹ: DEPARTMENT (انگ) آب کاری کا محکمہ۔

اکسپرٹ: EXPERT (انگ) صفت) ماہر، متشاق۔

اکسپورٹ: EXPORT (انگ) تجارتی مال دوسرے ملکوں کو بھیجنا۔

اکسپریس: EXPRESS (انگ) خاص، تیزی سے۔
اکسپریس ٹرین: TRAIN (انگ) خاص خاص

اسٹیشنوں پر ٹھہرنے والی تیز رفتار گاڑی۔

ڈیلیوری: DELIVERY (انگ) وہ ڈاک جس کی تقسیم خاص ہر کارہ فوراً کرتا ہے۔

اکسٹرا: EXTRA (انگ) (۱) قاتو، ضرورت سے زائد۔ (۲) فلمی اصطلاح) وہ (داکار جن کو فلم میں بہت معمولی کام کے لئے عارضی طور پر رکھا گیا ہو۔

اکسٹنسا، اکسٹنسا، ہڈینا، ہلنا، سر اٹھانا، پنپنا۔

اکسیر / اکسیر: موتش؛ (۱) کیمیا، (۲) وہ خے جس سے تانے کو سونا اور رانگے کو چاندی بنا تے ہیں (۳) کسی بیماری کی زود اثر دوا، (۴) (حجاز) نہایت فائدہ مند۔

اکفاہ (ع) مذکر؛ علم عروض کی ایک اصطلاح، قافیے کا ایک سبب۔
اکمل (ع) مذکر؛ کھانا۔

حلال، (اضاف کے ساتھ) حلال کائی، محنت کی جائز کائی۔

دشرب، کھانا پنپنا۔

اکل گھرا، مذکر؛ کسی کو شریک نہ کر کے اکیلا اکیلا کھانے والا۔

خود غرض، تنہا اپنا فائدہ چاہنے والا۔

اکھوتا، اکیلا

اکھوتی اولاد، اکیلا بیٹا یا بیٹی۔

اکمال (ع) مذکر؛ پورا ہونا، کامل ہونا۔

اکمل (ع) بہت بڑا، بہت کامل، بالکل پورا۔

اکتاف (ع) مذکر؛ اطراف۔

اکتابت جمنٹ: ACKNOWLEDGEMENT (انگ)

موتش؛ رسید، اقرار، سند وصولیابی۔

اکول (ع) بیٹھو، بہت کھانے والا۔

اکہرا، جس میں دوئی نہ ہو، ایک تک، مجرد، اکائی۔

— بڈن، ڈوبلا اور پھیلا ہوا۔

اکہرا، مذکر؛ (۱) ایک تک، (۲) سیدھا سادہ، سادہ مزاج۔

(۳) سلجھا ہوا، بے نقاب (شخص)، (۴) بے باک۔

— پن، (۱) سیدھا پن، سادگی، سادہ مزاجی (۲) سلجھی ہوئی ذہنیت (۳) بے باکی۔

اکہری سواری، ڈوٹی، ایک ہی شخص کے بیٹھنے کے قابل سواری، تنہا سواری۔

اکید، محکم، استوار۔

اکیدیگی / اکاڈمی / اکادمی: ACADEMY (انگ)

موتش؛ (۱) اسکول، علمی ادارہ، (۲) انجمن، (۳) افلاطون کا مدرسہ۔

رائیس؛ ۲۱ کا عدد، بیس اور ایک۔

— پان کا پیرا؛ دو لھا کو آرسی مصحف کے بعد رسما کھلایا جانے والا پان کا پیرا۔

— ہونا، رہنا، غالب ہونا، غالب رہنا۔

اکیلہ، تنہا۔

— چٹا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا؛ شش؛ جو کام کئی آدمیوں کے بغیر ممکن نہ ہو اکیلا آدمی نہیں کر سکتا۔

— ہنستا بھلا نہ روتا، خٹل؛ انسان تنہا ہو تو خوشی یا غم کسی میں مزا نہیں ملتا یعنی آدمی سماج میں رہتا ہے تو سب کے ساتھ ہریات میں شرکت اچھی لگتی ہے۔

اکیلٹنا، (عم) (۱) پھیلنا، ادھیڑنا، (۲) بٹے ہوتے دھاگے کا

نیل کھولنا۔
 اکیلے ڈکیلے، ایک دو آدمی، بہت کم تعداد۔
 — کا اسی سبب، تنہا آدمی کا خدا حافظ، اکیلا انسان ہمیشہ خطر
 میں رہتا ہے۔
 دینا، اکھاڑنا، کسی کی صحبت سے نکلنا دینا۔

ا۔ گ، گھ

ا۔ کھ

اگلا نا، متعدی؛ کنویں کی مٹی نکالنا، کنواں صاف کرنا۔
 اگلاڑی، موت؛ آگے، گھوڑے یا گدھے کے اگلے پاؤں باندھ
 کر میخوں میں باندھنے کی رسی۔
 — بھاری ٹھکانا، تام بندھنوں کو توڑ کر بھاگ کھڑے ہونا۔
 اگال؛ مذکر؛ پان کھا کر سھوک وغیرہ ملا جو اتھوک۔
 — دان، بیگ دان، اگال وغیرہ توکنے کا برتن۔
 اگانا، پیدا کرنا۔
 اگانا ہنا؛ کرایہ، چندہ، قرض کی قسطیں، واجبات وصول کرنا۔
 اکٹھا کرنا۔

اگاہی، قسطوں میں وصول کیا جانے والا سودی قرض۔
 اگد؛ آگے بڑھانے کے لئے فیصل بان کا ہاتھی کو بار بار کہنے کا کلمہ،
 اگد اگد اگد۔

اگر؛ حرف شرط۔
 اگرچہ؛ اگر کے ساتھ 'چہ' تاکید یا کبھی حسین بیان کے لئے۔
 ہر چند، باوجودے کہ۔

اگر؛ حیلہ حوالہ، لیت و لعل۔
 — مگر کرنا؛ ہچکچانا، پس و پیش کرنا۔

اگر؛ چلنے سے خوشبو دینے والی پہاڑی درخت کی لکڑی۔
 — بیتی، اگر کے برادے اور دوسری چیزیں ملا کر جلانے کے لئے
 بنائی جانے والی تہی۔

— دان / سوز، اگر بیتی لگا کر جلانے کی چیز۔

اگرنا؛ لازم؛ کنویں کا صاف ہونا۔

اگر وال؛ بنیا قوم کا ایک فرقہ۔

اگر می؛ گہرے کشمشی رنگ سے ملتا جلتا رنگ۔

اکھاڑا؛ مذکر؛ (۱) کشتی کی جگہ، دھکل، پہلو، انوں کے کسرت کرنے
 اور کشتی بڑنے کی جگہ (۲) خاص خاص لوگوں کا جم گھٹا۔
 — بانک پٹے والوں کا؛ پھلکیت اور بانک پٹے والوں کا جم گھٹا۔
 — جتنا؛ کھلاڑیوں کا اکھاڑے میں جمع ہونا۔
 اکھاڑے کا جوان؛ مضبوط، مرد میدان۔
 — میں اترنا، بڑنے کے لئے پہلو انوں کا اکھاڑے میں آنا۔
 اکھاڑ بھٹا؛ موت؛ (۱) موتوفی، بحالی، تغیر تبدیل، درہی برہی
 (۲) لگائی بھائی، دراندازی۔

اکھاڑنا؛ (۱) جی ہوتی چیز کو بنیاد سے نکال دینا، درخت کو
 جڑ سے نکال دینا، (۲) جوڑے سے ہٹا دینا، (۳) کسی کی رٹے
 بدل دینا، ارادے سے باز رکھنا، ہٹا دینا۔
 اکھٹا / اکٹھا؛ ایک جگہ ہونا، جمع، فراہم، ایک ساتھ۔
 اکھڑنا؛ (دہلی) کھل جانا، ناگوار گذرنا، بار خاطر ہونا۔
 اکھڑے؛ اچھ، سخت مزاج، گنوار۔

— پن، اچھ پن، چھالت، سخت مزاجی۔
 اکھڑا رہنا؛ میل ملاپ نہ رکھنا، الگ تھلگ رہنا۔
 اکھڑنا؛ (۱) جی ہوتی چیز کا بنیاد سے الگ ہونا، جڑ سے نکل جانا، عضو
 کا جوڑے سے ہٹ جانا، (۲) بے زار اور برداشتہ خاطر ہونا۔
 بھاگ نکلنا، (۳) مغلوب اور عاجز ہونا، رسوخ جانا رہنا۔
 اکھڑی اکھڑی باتیں / اکھڑی گفتگو؛ بے سرو پاتیاں،
 بے لگی باتیں، سوال کچھ جواب کچھ، ریشم آمیز باتیں۔

اکشتر؛ (۵) مذکر؛ حروف تہجی۔

اکھٹد؛ مذکر؛ پورا، سالم، تمام۔

اکھوٹھو؛ موت؛ عورتوں کا کھلا ہاتھ چراغ کی ٹوکے قریب

جو آدھن تیار ہوتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں۔
اگلیا (۱) اگلیا (۵) موتش؛ حکم، اجازت۔
اگلیا بیتال؛ مذکر؛ غول بیابانی، جنگل میں رات کے وقت مسافر
کو بہکانے کے لئے اپنے منہ سے شعلے نکالنے والے بھوت۔
اگلیان؛ (۵) مذکر؛ جہل، لاعلمی، نادانی۔
اگھوری؛ (۵) (۱) ڈراونا، ہولناک، خوفناک (۲) ایک فرقہ
کا نام جو انسان کا گوشت اور بول و براز وغیرہ بھی کھاتا ہے۔
(۳) مجازاً؛ کیفیت طبیعت والے لوگ۔

ا ل

الآ؛ (ع) بحرف تنبیہ؛ ہوشیار، خبردار۔
الآ؛ (ع) حرف استثناء؛ لیکن، برعکس۔
اللہ؛ (ال لہ اللہ) (۱) کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک
جزء (۲) اہل ذکر اس سے دل پر ضرب لگاتے ہیں (۳)
دفعاً کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، حکیمیت کے موقع پر،
کوئی وزنی چیز اٹھانے یا کھینچنے وقت، حرین کے مورچے
پر حملہ کرتے وقت یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔
ماشا را اللہ؛ (ال لا ماشا ال لآء) مگر جو اللہ چاہے، کبھی کبھی
شاذ و نادر۔
الذی نہ اللذی؛ (ال لکن لذی نہ ال لکن لذی) نہ ادھر کا
نہ ادھر کا۔

الابلا؛ (الا، تابع ہول) بری چیز، بیکار اور خراب چیز۔
ابرا؛ (۵) مقررہ وقت، ساری مصیبت ملا کی گردن پر۔
کسی ملا کے کہنے یا فتوے پر کوئی کام کرنا خواہ خود اس
سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔
الاب؛ موتش؛ آواز کا تار چڑھاؤ، سر طانا، راگ، آہنگ۔
الابنا؛ گانا شروع کرنا، تانیں لگانا۔
الاط؛ (۱) مقررہ حصہ (۲) تعلق، نامزدگی (۳) ہزارہ۔
الاجا؛ (۱) ایسا؛ مذکر؛ (۲) ایک قسم کا دھاری دار کپڑا۔

اکرم بگڑم؛ (۱) مہل لائیتی باتیں (۲) آناپ شناپ چیزیں۔
اکست؛ (انگ) مذکر؛ عیسوی سال کا آٹھواں مہینہ۔
اگل؛ آنا/ اگل پڑنا؛ (۱) نگلی ہوئی چیز کا باہر نکل پڑنا، (۲)
باہر ابھرا ہوا ہونا۔
اگل؛ اگل کے کھانا؛ بے رغبتی سے کھانا، جی نہ چاہنے کی حالت
میں کھانا۔
اگل دینا؛ (۱) کسی چیز کا پیٹ سے نکال ڈالنا (۲) ہر اہل
کہہ دینا (۳) صحیح صحیح واقعہ بیان کر دینا۔
اگلنا؛ (۱) منہ سے باہر نکلنا، تھوکانا، (۲) تلوار کا میان سے
نکل پڑنا (۳) کوئی راز کی بات پیٹ میں نہ سنانا، بیان
کر دینا۔
اگل نکل کر کھانا؛ بہت بے رغبتی سے کھانا نہ ہر مار کر لینا۔
اگلا؛ (۱) پہلا، گذشتہ (۲) آئندہ۔
اگلا؛ پہلا اور پچھلا۔
اگلی باتیں؛ پرانی باتیں۔
اگلے کھلے؛ متقدّمین اور متاخرین، پہلے اور بعد والے۔
اگے؛ (۱) پرانے زمانے کے لوگ، پرانے آدمی۔
(۲) مجازاً؛ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ۔
اگے؛ (۱) کیا پچھلے برائی، مثل؛ بڑے نے قصور کیا چھوٹے نے
سزا پائی۔ کیا کس نے تھپ گیا کس کے سر۔
اگن؛ (۱) ایک چھوٹے خوش آواز پرندے کا نام (۲) آگ۔
اگن؛ (۵) بے گن، بے ہنر، بے وقوف۔
اگنا؛ نباتات کا پیدا ہونا، نکلنا۔
اگنی؛ موتش؛ آگ۔
اگوا؛ چھوٹا موٹا ٹیڈر، پیشوا، سردار، مکھیا، سماجی حلقے کے
کاموں کو نبھانے والا۔
اگواڑا؛ مکان سے علیحدہ مکان کے آگے کا حصہ، مکان کے
سامنے کا رخ۔
اگہن؛ (۵) ہندی سال کا نواں مہینہ۔
اگہن؛ آدھن، کہاوت؛ اگہن کے مہینے کے چھوٹے دن

- بیگ، (۱) کٹھن تلیوں میں ایک بد وضع تیل (۲) مجازاً و مزاحاً؛ دہلا تپلا بد قطع شخص۔
- الایچی / الایچی؛ ایک چھوٹا سا مشہور خوشبودار پھل، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، چھوٹی الایچی اور بڑی الایچی۔
- دانے؛ مٹھائی کی ایک قسم، شکر کے شیرے میں ڈال کر بنائے ہوئے الایچی دانے، شکر چڑھے ہوئے الایچی دانے۔
- بڑی؛ سالن اور دواؤں میں استعمال کی جانے والی بڑی اور سیاہ رنگ کی الایچی۔
- الار؛ گاڑی کے پچھلے حصے میں زیادہ بوجھ ہونے سے اگلے حصے کا اٹھنے لگنا۔
- الارم؛ (۱) انگ، مذکر؛ (۲) خطرے کی آگاہی۔
- (۳) گھڑی کی گھنٹی (۴) تیار کی کا بگل۔
- الاسٹیک؛ (۱) انگ، موٹھ؛ لچک دار چیز، وہ چیز جو کھینچنے سے بڑھ جاتی ہے۔
- الاقارب؛ کالعقارب؛ (ع) (الاقارب کالعقارب) مقولہ؛ عزیز بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں۔
- الآمان؛ (ع) موٹھ؛ امن مانگنا، پناہ، کسی بات سے تنگ آجانا۔
- الأمرفوق الآدب؛ (ع) (الأمرفوق الآدب) مقولہ؛ ضروری اور نہایت لازمی ادب آداب کو بھی ترک کر کے حکم ماننا چاہئے، حکم ماننا آداب پر فوقیت رکھتا ہے۔
- الإنشطار أشد من الموت؛ (ع) (الإنشطار أشد من الموت) مقولہ؛ انشطار موت سے زیادہ سخت ہے) انشطار کرنا سخت مصیبت ہے۔
- الانگھنا؛ پھاندنا، کسی چیز سے کوڈ جانا۔
- الآؤ؛ (۵) مذکر؛ کوزا کرکٹ ٹھاس پٹوس، جمع کر کے آگ لگانا۔
- الآؤنس؛ (انگ) مذکر؛ ملازم
- کو کسی خاص دہر سے تنخواہ کے علاوہ دی جانے والی نامزد رقم۔ مثلاً گرانی الآؤنس، کرایہ مکان الآؤنس، سواری الآؤنس۔
- الانہنا؛ مذکر؛ گل، شکایت، طعنے، التزام دینا۔
- اتارنا؛ (ع) گلہ الزام دفع کرنا۔
- الآباب؛ (ع) (جمع کب کی) عقلمیں، اتہا مستعمل نہیں۔ دیکھو اولوالآباب۔
- البتہ؛ (ع) یقیناً، ضرور، بے شک۔
- البل؛ مذکر؛ (۱) گھنڈ، غرور، اکثر فون (۲) صدقے، قربان۔ (۳) فرق۔
- الہیم؛ ALBUM (انگ) مذکر؛ تصویریں رکھنے کی ایک خاص قسم کی کاپی، مرقع۔
- الہیللا؛ مذکر؛ (۱) بانگ، رنگیلا، (۲) آزاد طبع، بے پروا، بھولا بھلا۔
- پن / وضع؛ بھولان، آزاد مزاجی۔
- الہیسی چال؛ مستانہ چال، بانگی ترجمہ چال۔
- الآپا کا؛ ALPACA (انگ) مذکر؛ (۱) ملام اور بے سیاہ بال والا امریکہ کا جانور، (۲) ایک قسم کا سیاہ کپڑا۔
- الہین / آلین؛ ALPIN (پرنگالی) موٹھ؛ کاغذ نسی کرنے کی لوہے کی گھنڈی دار سوئی۔
- اللباس؛ (ع) مذکر؛ (۱) ہم شکل ہونے کے باعث شبہہ پڑنا۔ (۲) تجنیس مطلق۔
- اللتجا؛ (ع) موٹھ؛ منت سماجت، خوشامد۔
- اللتزام؛ (ع) مذکر؛ کسی بات کو لازم کر لینا۔
- اللتفات؛ (ع) مذکر؛ توجہ، مہربانی۔
- اللباس؛ (ع) موٹھ؛ مذکر؛ عرض، گزارش، درخواست۔
- اللتوا؛ (ع) مذکر؛ ملتوی کرنا، کسی کام کو روک کر کسی اور وقت پر اٹھا رکھنا۔
- اللتہاب؛ (ع) شعلہ بھڑکانا، آگ کا بھڑکانا، جلن، سوزش۔
- اللتیام؛ (ع) مذکر؛ میل ملاپ، زخم کا بھرنا۔
- اللتنا؛ (ع) اللتا سے صیغہ امر، برکتس۔
- پڑنا، برہم ہونا، برس پڑنا۔
- پکٹ؛ موٹھ؛ اللتا پکٹنا، اوپر سے تلے اور تلے سے اوپر؛ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔
- پھیر؛ مذکر؛ برگشتگی، رد و بدل، پیچ، آدل بدل۔

- پھیرا پھیری۔
 — پھیر میں آجاتا، کسی کے قریب میں آجاتا۔ دھوکہ کھا جانا۔
 — جانا، (۱) ایک رخ سے دوسرے رخ ہو جانا، روگرداں ہو جانا، (۲) تہس نہس ہو جانا، برباد ہو جانا۔
 — دینا، (۱) تباہ کر دینا، (۲) دھر سے دھر کر دینا، (۳) چٹ کر پھٹ کر دینا۔
 — کے خبر نہ لینا، توجہ نہ کرنا، خبر نہ ہونا، انتہا کی غفلت کرنا۔
 — اُلٹا، (۱) سیدھی کی ضد، (۲) خلاف، برعکس، پٹا ہوا، اوندھا۔
 — پاسا/پانس، کھینے والے کے خلاف پڑنے والا پانس۔
 — پانوں، بایاں پانوں۔
 — چٹا، بے ترتیب، تلے اوپر، بے ڈھنگا، بے جوڑ۔
 — پٹٹی، اکھاڑ بچھاڑ، درمی برمی۔
 — پیدا ہونا، ماں کے پیٹ سے بجائے سر کے پہلے پانوں باہر آنا۔
 — تاجا/تاجا، ہاتھ کی پشت کی طرف سے تاجا مارنا۔
 — تواء، کالا، سیاہ، کالا بھجنگ۔
 — دریا ہونا، خلاف دستور کوئی بات ہونا، انقلاب زمانہ۔
 — دم آنا، اوپر کی طرف سانس چلنا، سانس اُکھڑ جانا، حالت نزع۔
 — سیدھا، جیسا تیسرا، بے قاعدہ، بے ترتیب۔
 — اُلٹنا، (۱) پلٹنا، اوندھا کر دینا، (۲) اٹھانا، ہٹانا، (۳) ایک رخ سے دوسرے رخ کر دینا، (۴) گرا دینا، پچھاڑ دینا، (۵) بدل دینا، کچھ سے کچھ کر دینا، (۶) ویران کرنا، اجاڑنا۔
 — (۷) اُٹھ لینا، ڈالنا۔
 — اُلٹی، سیدھی کے برعکس۔
 — الٹی سانسیں بھرنا، پیٹ میں سانس نہ سانا۔
 — آنتیں گلے پڑنا، نیش؛ لینے کے دینے پڑنا، اُلٹے کسی بلا میں مبتلا ہونا، بھلائی کا بدلہ برامتنا۔
 — پٹی پڑھانا، بہکانا، کسی بات کو برعکس ذہن نشین کرانا۔
 — پٹٹی باتیں، بے ڈھنگی باتیں، بے سوچیری باتیں۔
 — پھری سے ذبح کرنا، سخت ظلم کرنا، بے حد سختی کرنا۔
- بجھے نہ سیدھی سمجھے، جو صحیح اور غلط دلیل کی تمیز نہ کرے۔
 — سیدھی باتیں کرنا، بہت دھرمی کرنا، اپنی بات کی طرح کرنا۔
 — سیفی، سیفی وہ عمل ہے جو دشمن کی تباہی اور موت کے لئے چڑھا جاتا ہے اس کا اٹھا اثر عاقل پر پڑنا۔
 — کبیر کی، فقیر کبیر داس عام کہاوتوں اور مقولوں کے اُلٹے سے ہی مضمون پیدا کرتے ہیں اس لئے کبیر کی باتوں کو اُلٹی کبیر کی کہتے ہیں۔
 — کھوٹھی/اوندھی کھوٹھی، اوندھی عقل، کم عقل، اُلٹی سمجھ والا۔
 — گنگا بہانا، خلاف دستور بات کرنا، عام رسم و رواج کے خلاف کوئی کام کرنا۔
 — مالالہ تبسیر پھیرنا، کسی کو بلاکت یا مصیبت میں مبتلا کرنے کے لئے الٹی تبسیر یا مالالہ پر وظیفہ پڑھنا۔
 — اُلٹی ممت، الٹی رائے، کج فہم، ٹیڑھی بات سوچنے والا۔
 — اُلٹی میٹیم؛ ULTIMATUM (انگ) مذکر، تہجید، چیلنج۔
 — اُلٹے، برعکس، جیسا چاہتے اس کے خلاف۔
 — اُسترے سے سر منڈوانا، تبدیل کے خیال سے بری سزا دینا، سخت ذلت آمیز سزا۔
 — بانس بریلی، نیش؛ برعکس معاملہ، اُلٹی بات ہونا۔ (بریلی میں کثرت سے بانس ہوتے ہیں وہیں بانس بھیجنا حماقت کی بات ہے۔)
 — پانوں پھیرنا، بغیر توقع واپس ہونا، آکے فوراً پلٹ جانا۔
 — چور کو توال کو ڈانٹے، نیش؛ خطا کرنے والے کو اس کی خطا پر اگر کوئی پکڑے تو خطا کار اُلٹا اسے پھسکارے، چوری اور سینہ زوری۔
 — گدھے پر چڑھانا، ذلیل کرنا، (پہلے زمانے میں کسی کی تحقیر و تذلیل کے لئے سر منڈا کر من پر کالک لگا کر گدھے کی دم کی طرف منڈا کر کے بٹھانے اور بازاروں میں گھماتے تھے یہ ایک قسم کی سزا تھی۔)
 — ہاتھ کا گھیل، نہایت سہل کام، بہت آسان کام۔

بیماری جو کچھ لوگوں کو بعض خاص غذاؤں کے استعمال سے ہو جاتی ہے۔

الزمام: (ع) قصور وار ٹھہرانا، اتہام، کسی جرم کے ارتکاب کا سرسری طور پر منسوب کرنا۔

اٹھانا: اپنے سر پر بذنامی لینا، موردِ ملامت ٹھہرنا۔

الکسانا: سست ہونا، کاہل ہونا، تھکننا، اونگھنا۔

الکسبت: (ع) اشارہ ہے "آکسبت برکبکم" کی آیت کی طرف۔

(خدا نے روحوں سے پیدا کرنے کے بعد پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا

خدا نہیں ہوں؟ سب نے کہا، "جی ہاں، یہ روزِ میثاق

کہلاتا ہے یا یوم الکسبت۔)

السلام علیکم: (ع) سلام، تم پر سلامتی ہو، مسلمانوں

کا سلام۔

الغسرة: (انگ) ULCER (انگ) نذکرہ گھاؤ، ناسور، جسم کے

اندریا باہر کا زخم، جس میں مواد ہو۔

اللسنة: (ع) (جمع لسان کی) زبانیں۔

الاسی: موتی؛ ایک پودا اور اس کے بیج کا نام جس کا تیل مختلف

کاموں اور بیج دوا میں استعمال ہوتا ہے۔

اللطاف: (ع) نذکرہ (جمع لطف کی) مہربانیاں، عنایتیں۔

نامہ: دوست اور بڑوں کا خط۔

اللقب: (ع) نذکرہ؛ بندہ، فدوی۔

اللقطش: (ع) موتی یا س کی شدت۔

العظمت للہ: (ع) اَلْعِظْمَةُ لِلّٰہ (بڑائی خدا کے واسطے

ہے) اللہ کے بڑی قدرت و عظمت والا ہونے کا اظہار و

اعتراف۔

القارون: (ترکی) بہت، کثرت سے، بے حد۔

القراض: (ع) القراض، خلاصہ یہ، غرض کہ۔

القوز: (ع) نذکرہ؛ بائسری کی قسم کا ایک باجا۔

القنایات: (ع) موتی؛ مصیبت، خوف، خدا سے مصیبت میں

مدد چاہنے کا لفظ فریاد۔

الرف: (ع) نذکرہ؛ اردو حروف تہجی کا پہلا حرف۔

الرف اللہ: آزاد فقیروں کے ماتھے پر کھینچی ہوئی سیدھی لکیر۔

الجبراء: (ع) نذکرہ؛ علم حیرت و مقابلہ۔

الجھاء: نذکرہ؛ تاگے میں بڑ جانے والی گھسی، گرہ یا پھندا پڑ جانا۔

الجھاق: نذکرہ؛ جھگڑا، بکھیرا، مشکل، دقت، گھسی۔

الجھنا: گھسی پڑنا، پھنسا، اٹلنا، مشغول ہونا، مصروف ہونا،

جھگڑا پڑنا، بحث کرنا، طول دینا۔

الجھیراء: جھگڑا، بکھیرا، جھن جھٹ، کشمکش۔

الجھنا: پانی اٹھا اٹھا کر کسی جگہ سے پینک کر اُسے خالی کرنا۔

الجحاح: (ع) موتی؛ کسی کام کے کرانے کے لئے رونا دھونا،

الجا، خوشامد۔

الجحاد: (ع) نذکرہ؛ خدا کو نہ ماننا، دین سے انکار۔

الجاصل: (ع) آخر کار، قصہ کو تاہ، خلاصہ کلام۔

الجاق: (ع) نذکرہ؛ ایک کو دوسرے سے بلا دینا، شامل کرنا،

شمول، جو موجود ہو اس میں کچھ اور ملا دینا۔

الجحال: (ع) ابھی اس وقت۔

الجحان: (ع) نذکرہ؛ (جمع لحن کی) (۱) اچھی آواز سے پڑھنا یا گانا،

سری آواز (۲) گیت۔

الجذرة: (ع) جذر دار، آگاہ ہو جاؤ، امان لان۔

کرنا؛ پناہ مانگنا۔

الجھفظ: (ع) خدا کی پناہ۔

الجھی: (ع) بے شک، فی الحقیقت، یقیناً، سچ یہ ہے۔

الجھد: قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس کی ابتدا الحمد سے

ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ۔

الجھد: (سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں) عموماً خدا کے احسان

و شکر کے موقع پر مزاج پرسی کے جواب کے آداب میں،

کھانے کے بعد، چھتیک آنے پر کہا جانے والا لفظ۔

الجھ: (ع) (الی آخرہ کا مخفف) بڑی عبارت کے ابتدائی دو

ایک لفظ لکھ کر الجھ لکھ دینے کا مطلب یہ کہ آخر تک پڑھ لو۔

الجھاموشی نیم رضا، مقولہ؛ کسی بات پر خاموش رہنا گویا اس کی

منکوری کی آدمی رضا ہے، چپ میں بھی ایک قسم کی رضامندی

پوشیدہ ہے۔

الجھ: (انگ) موتی؛ ایک نفسیاتی

ALLERGY

— کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، نکال دینا، جواب دے دینا۔
الک: (۵) مذکر؛ گھنگھر والے بال، زلف، گیسو۔

الکاء: (۵) موت؛ (۱) وہ ستارہ جو رات کو ٹوٹتا ہے، (۲) شہابِ ثاقب۔
الکحل: (۱) الکحل (ALCOHOL) موت؛ شراب کاست یا جوہر۔

الکریم اذا وعد وفاقا: (ع) (مقولہ) شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔

الکس / الکسی: سستی، کاہلی۔
الکسی آنا: سستی آنا، کسی کام کے کرنے کو نہ جی چاہنا۔
الکسا نا: سستی کرنا، کاہلی کرنا۔
الکن: (ع) ہکلا، گفت کرنے والا، صاف نوبل سنا۔
الک: علاحدہ، فرق سے، کچھ فاصلے سے، نرالا، انوکھا، جدا، جو کسی سے میل نہ کھائے۔
 ہونا: (چھوٹ گیا ہے)

— ہی الگ، اوپر ہی اوپر، اکیلے اکیلے۔
الکني: موت؛ کپڑے ڈالنے کے لئے ٹھکانی ہوتی ڈوری یا تار۔
 — پروٹانے کے قابل ہو گئے، بہت دُبلے ہو گئے۔

الکس / الکل: پو، ناسمجھی کی بات، بے تکلی بات، بے سوچے کھی بات۔
اللذی نہ اللذی: (الل لَل لَذِي نُل لَل لَذِي) ادھر کا نہ ادھر کا، اس میں نہ اس میں، ڈانوا ڈول۔

اللنا: (لازم) ایک طرف اونچا ہونا، دوسری طرف جھک جانا، اُلا رہنا۔

اللے تللے: عیش و عشرت، ریل پیل، خوب جی بھر کر عیش و آرام پر خرچ کرنا۔

— کو تا، پیسہ بے دریغ صرف کر کے مزے اڑانا، فضول خرچی کرنا
الک: مذکر؛ رنج، غم، دکھ۔

الماری: (پریشانی) کتابیں اور کپڑے وغیرہ رکھنے کی صندوق کی طرح نگر ٹھہری خانہ دار چیز۔

— آزاد کا، مسلمان فقیروں میں مذہبی پابندیوں اور قیود سے آزاد فرق۔

— بے، موت؛ حروف تہجی کی الف سے ہی تک پوری تھی۔
 — بے تے پڑھانا، ناسمجھ اور بے وقوف کو کوئی بات خوب کھول کر سمجھانا۔

— سے بے نہ سننا، اپنے متعلق ذرا بھی بری بات نہ سننا۔
 — سے بے نہ کہنا، کسی کو ذرا بھی بُرا نہ کہنا۔

— کے نام بے نہیں جانتے، بالکل ان پڑھ، جاہل مطلق، بے تمیز۔
الف لیلہ / الف لیلہ: (ع) ہزار راتوں والی داستانوں کی ایک مشہور عربی کتاب جس کا ترجمہ اردو اور کئی دوسری زبانوں میں ہو چکا ہے۔

الف ہونا: (۱) گھوڑے کا پچھلے پانڈ پر کھڑا ہونا اور اگلے دونوں پاؤں اٹھا لینا، (۲) مجازاً چراغ پا ہونا، بے حد غصے میں آجانا۔

الفاب: ALPHABET (انگ) مذکر؛ حروف تہجی، ا، ب، ت، وغیرہ۔

الفاظ: (ع) مذکر؛ (جمع لفظ کی) لفظیں۔
الفقت: (ع) موت؛ محبت، لگاؤ، چاہت۔
الفق: (ع) موت؛ فلسطینی عربوں کی ایک انقلابی تنظیم۔
الفراق: (ع) جدائی کے وقت حسرت و افسوس کا کلمہ و داغ۔
الفرب خواہ خواہ مَرُد آدی: مقولہ؛ (مذاق) تن و توش والا ہونا، تازہ آدمی جس میں فربہ سے وجاہت پیدا ہوجاتی ہے۔

الفقر فخرنی: (ع) (مسکینی میرے لئے فخر کا باعث ہے)۔
 یہ طور حدیث رسول اللہ کی طرف منسوب مقولہ۔

القاه: (ع) مذکر؛ الہام، خدا کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات۔
القاب: (ع) مذکر؛ (جمع لقب کی) (۱) کچھ خاص صفاتوں کے ساتھ شہرت پایا ہوا نام خطاب، (۲) خط کھنے میں چھوٹوں بڑوں کو ان کے مرتبے کے مطابق مخاطب کرنے کے الفاظ۔

القصة: (ع) حاصل کلام، قصہ مختصر، یعنی۔
القط: (ع) بس، ختم، بیت بازی کی ایک اصطلاح جس میں قسط شعر پر ٹوک دیا جاتا ہے۔

أَلْوَاذِ مَذْكُرَةٌ (۱) مشہور پرندہ جومات کو اڑتا ہے، (۲) مہازرا؛ بے وقوف یا منحوس۔

— بنانا، بیوقوف بنانا، خوب لٹھانا۔

— بولنا / بول گیا، اجاڑ ہو گیا، ویران ہو گیا۔

— پھنسنا، کسی بے وقوف کا قابو میں آنا، فریب کھانا۔

أَلْوَاكِبُ مَشَا، نہایت بے وقوف، احمق۔

— کی دم فاختہ، بے وقوف۔

— کی بچوک، انوکھی اہول ناک، بولی۔

— کی ماں کا خلی سچا / بیٹا، مقولہ؛ موروثی احمق یعنی ماں بھی خبیلی تھی بیٹا بھی احمق ہے۔

— ہو جانا، نشتے میں چڑ، نشتے میں بے ہوش۔

أَلْوَاحِ؛ (ع) مذکر؛ (جمع لوح کی) تختیاں۔

أَلْوَانِ؛ (ع) مذکر؛ (جمع لون کی) (۱) بہت سے رنگ، (۲) (درد) دُشالے تیار کرنے کا پشمینہ۔

أَلْوَابِ؛ (۵) چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی۔

— آئین، آنکھوں میں لگا کر غائب ہو جانے کی شہرت والا کاجل۔

— ہو جانا، فائب ہو جانا۔

— رُوب؛ (۵) مذکر؛ انوکھی شکلیں، نئی نئی کاریگری، اختراقات۔

أَلْوَدَاعِ؛ (ع) مؤنث؛ رخصت، بڈائی۔

أَلْوَدِئِيَّتِ؛ (ع) مؤنث؛ اللہ جونا، وحدانیت۔

الْعُدَّةُ؛ (ع) خدائے تعالیٰ کا اسم ذات۔

— اٹھالے، موت آجائے، مار ڈالے۔

— اکبر؛ (اللہ ہی سب سے بڑا ہے) (۱) اصطلاحاً؛ تکبیر، اذان میں، نماز میں کہا جانے والا کلمہ، (۲) فرد مباحث کی جگہ۔

(۳) تعجب اور حیرت کا مقام پر، (۴) غریبے کے طور پر۔

اللَّهُ اللّٰهُ؛ تعجب کی جگہ، کمال مبالغے کے موقع پر، شکوے شکایت کے موقع پر۔

— اللہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ جھوٹ نہ بولو، غلط بات نہ کرو، اپنی

غلط بات نہ کر کے اللہ کا ذکر کرو۔

— آئین، مؤنث؛ منتوں مرادوں سے اچھے دن نصیب ہونا۔

أَلْمَاسِ؛ (۱) مذکر؛ ہیرا۔

— کی سختی، ہیرے کا چھوٹا سا لمبا پوٹا گلینڈ۔

أَلْمَاغُوجِي؛ (۱) مجہول نسب کا آدمی، (۲) کبھی دغا بازی اور دھاندلی کرنے کوئی چیز دبا بیٹھنے والا، (۳) خراب، ناکارہ، الم علم۔

أَلْمَخْصَرُ؛ (ع) الی اصل، القصد، یعنی، مختصر یہ کہ۔

أَلْمَدْرَةُ؛ (ع) مددگر، سہارا دے۔

أَلْمَرْمِيَّةُ تَقْيِيسُ عَلَى نَفْسِهِ؛ (ع) مقولہ؛ (آدمی قیاس کرتا ہے اپنے نفس پر) جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔

أَلْمَضَا عَيْفُ؛ (ع) دونا، دو چند، کمی گنا۔

أَلْمَعْنَى فِي بَطْنِ الشَّاعِرِ؛ (ع) مقولہ؛ شاعر کے معنی شاعر کے پیٹ (دل) میں ہیں، ایسا شاعر جس کا مطلب ظاہر نہیں ہوتا۔

أَلْمُ عِلْمُ؛ بے معنی اور مہمل باتیں، اناپ شناپ، بے کار نکتہ چیزی۔

— کرنا، غبن کرنا، حساب کھڑکڑ کرنا۔

— کھانا، خراب اور اورا ہیات چیزیں کھا

أَلْمَكْتُوبِ نِصْفُ الْمَلَكَاتِ؛ (ع) مقولہ؛ خط آدمی ملاقات ہے۔

أَلْمَنْتَةُ لِلَّهِ؛ (أَلْ مَنْتَةُ لِلَّهِ) (ع) ترجمہ؛ احسان اللہ کے واسطے ہے، خدا کا شکر۔

أَلْمَشْرُوحِ؛ (ع) (۱) قرآن کی ایک سورت کا نام، (۲) مشہور، ظاہر، معروف، روشن۔

الْمُنِيمِ / أَلْيُولُ مِينِيمِ؛ ALUMINIUM (تنگ) مذکر؛ ایک قسم کی دھات جو وزن میں بہت ہلکی ہوتی ہے۔

أَلْمِيَّاتِي؛ (ع) مؤنث؛ (۱) دکھ درد سے بھرا ہوا، (۲) درد ناک، غم انگیز

أَلْتَادِرُ كَالْمَعْدُومِ؛ (أَلْتَادِرُ كَالْمَعْدُومِ) (ع) مقولہ؛ جو چیز بہت کم دستیاب ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

أَلْنَكَارَةُ؛ (۵) مذکر؛ (۱) آرائش، زیور اور لباس سے زیب و زینت دینا۔ (۲) صنائع لفظی و معنوی، صنائع و بدائع۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

أَلْنِجْ؛ مؤنث؛ سمت، پہلو۔

— آئین سے پالتا، ناز و نعم سے پالتا، لاڈ و پیار سے پالتا، دعائیں اور منتیں مانگ مانگ کر پالتا۔
 — آئین کا، نازوں کا پلا ہوا، بہت عزیز اور پیارا بچہ۔
 — آئین کرنا، بچے کی دیکھ بھال کرنا، خیر و خوبی کی دعا کرتے رہنا۔
 — اللہ خیر سلا، اس سے آگے کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔
 — اللہ سے، مبالغے کے لئے۔
 — اللہ کر کے، خدا خدا کر کے، بڑی مشکل کے بعد، نہایت مشکل سے۔
 — اللہ کرنا، (۱) وظیفہ پڑھنا، عبادت الہی میں مشغول رہنا (۲) فقرا کا سلام۔
 — بس باقی ہوس، مقولہ؛ خدا کے سوا سب بیچ ہے بس خدا ہی کی طلب ہونا چاہئے۔
 — بیل، (ع) خدا حافظ، فی امان اللہ۔
 — تو کلی، خدا کے بھروسے پر۔
 — حافظ / نگہبان، خدا حافظ، خدا کی امان میں۔
 — دے اور بندہ لے، کسی بات کی کثرت یا زیادتی کا اظہار۔
 — رے، بل بے، اُت رے، (مبالغے کے موقع پر) غنی، (۱) مبالغے کے ساتھ اظہارِ عظمت، (۲) تعجب کے اظہار کے لئے، (۳) کسی صدمے اور تکلیف کے وقت۔
 — کا کلام، قرآن شریف۔
 — کا گھر، خانہ کعبہ، مسجد۔
 — کو پیارا ہونا، (کنایتاً) مرجانا۔
 — کو سونپنا، خدا کے سپرد کرنا، خدا کی حفاظت میں دینا۔
 — کو مانو، خدا کا خوف کرو، اس بات سے باز آؤ، (ایک طرح کی قسم)۔
 — کو مُنہ دکھانا ہے، بد فعلیوں سے بچنا چاہئے، خدا کے آگے ایک روز جانا اور اپنے اعمال و افعال کا حساب دینا ہے۔
 — کی امان، خدا کی پناہ، خدا بچائے، خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔

— کی پناہ، خدا محفوظ رکھے، خدا اپنی پناہ میں رکھے، مقولہ۔
 — کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری، مقولہ؛ غلامیہ کوئی بے ہودہ کام کرنا اور رکھنا، دیدہ دلیری۔
 — کی راہ میں، (۱) نیک کام اور ثواب کے کام جو خدا کے لئے کئے جائیں، (۲) فقیروں کے سوال کرنے کا کلمہ۔
 — کی سٹوار، (ع) (تہذیب کے ساتھ) بددعا، کوسنا۔
 — کے بڑے بڑے ہاتھ میں، مقولہ؛ خدا کے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں۔
 — کے مُست، مجذوب، خدا رسیدہ۔
 — کے نام پر، خدا کی راہ میں، فی سبیل اللہ۔
 — کے گھر سے پھرنا، مرتے مرتے بچ جانا۔
 — لگتی، سچی سچی بات، انصاف کی بات۔
 — مارا، (ع) ٹکڑا، مصیبت زدہ۔
 — کی لاش میں آواز نہیں، مقولہ؛ خدا ظلم کا بدلہ اس طرح دیتا ہے کہ جس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔
 — میاں، خدا کو انتہائی محبت اور تعظیم سے پکارنا۔
 — میاں کا رحم، رت جگے میں گل گلوں کے ساتھ چاول اُٹے میں شکر ملا کر بنایا ہوا لڈو۔
 — میاں کی گائے، بہت بھولا بھالا آدمی۔ بہت سیدھا آدمی۔
 — یار ہے تو بڑا پیار ہے، مقولہ؛ خدا مددگار ہے تو سب کام آسان ہیں۔
 — اُلوہی، (ع) خدائی، خدا صفت۔
 — اِلہ، (ع) مذکر؛ خدا، معبود۔
 — العالمین، (اَلْعَالَمِیْنَ) سب جہانوں کا معبود۔
 — اِلہام، (ع) مذکر؛ اللہ کی طرف سے دل میں کوئی خیال آنا۔ قدرتی رہنمائی۔
 — الہی، میرے خدا، اے خدا۔
 — اِلہیات، مسائل مابعد الطبیعیات۔ وجود باری تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے مسائل، علم حکمت کی ایک قسم۔
 — الہی پناہ، الہی خیر، کسی آفت کے امیدیشے رہ بہ طور دعا۔

— مقدسہ/شریفہ: زیارت گاہیں، مقدس مقامات۔
 اِمَاكَة: مذکر؛ (۱) مائل کرنا، (۲) علم صرف کی اصطلاح میں الفاظ کے آخر میں آئے ہوئے الف یا ہائے ہوز کو یا تے جھول سے بدلنا، جیسے بندہ سے بندے، عرفا سے عرفے۔
 امام: (ع) (۱) پیشوا، (۲) ہادی، (۳) نماز پڑھانے والا، (۴) کسی علم یا ہنر میں انتہائی کمال رکھنے والا شخص۔
 امام باڑا: مذکر؛ تعزیہ داری کے لئے بنائی ہوئی عمارت۔
 — تسبیح: سب سے لمبا دانہ، تسبیح کے سرے پر لگا ہوا دانہ۔

— ضامن کا پیسا، سفر پر جانے والے کے بازو پر باندھا ہوا منت (حفظ وامان) کا پیسا۔

اِمَامَت: (ع) نماز میں امام ہونا، پیشوائی کرنا۔
 اِمَامِيَّة: اہل تشیع کا بارہ اماموں کو ماننے والا فرقہ۔
 امام مہدی: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے آخری امام۔

اِمَّاك: مونت؛ ماں، والدہ، بڑے رشتے داروں کے لئے بھی پیار یا تعظیم سے، مثلاً خالہ اماں، پوجھی اماں، خود ماں کو بھی محبت اور تعظیم سے امان جان، اسی جان، اماں جانی وغیرہ، غیر رشتہ دار مہر عورت کو بھی تعظیم سے مخاطب کرنے کے لیے۔

اِمَّاك: (ع) مونت، پناہ۔
 اِمَانَت: (ع) مونت؛ (۱) بطور امانت کسی کے پاس رکھوادی جانے والی چیز، (۲) حفاظت کے خیال سے کسی کے سپرد کی جانے والی چیز۔
 — دارہ امانت رکھنے والا شخص، امین۔

— میں خیانت، کسی کی رکھی ہوئی چیز میں بے ایمانی کرنا، تعصّف کرنا۔

اِمَانِي: وہ کام جو اپنی نگرانی میں روزانہ کرایا جاتے۔
 بھنڈ، آم کے باغ۔

اِمْرِيكَا: AMERICA (انگ) مذکر؛ مشہور عالم
 اِمَاوِس: (ع) قمری مہینے کا آخری دن، وہ رات جس میں چاند

اَلْكَرْم: (انگ) (۱) بھولا بھالا، کم سن، نادان، (۲) پھیرا۔
 — پین/پینا، مذکر؛ نادانی، کم سنی، بھولاپن۔

اَلْكِبَا: (ع) مذکر؛ شکایت۔
 اَلْكِبَا: مونت؛ (۱) ایک راگنی کا نام، (۲) آٹھ گانے والا۔
 اَلْكِبَا: ایک مشہور پیغمبر کا نام۔
 اَلْكِبَا/اَلْكِبَا: کسی جگہ سے پانی نکال کر پھینکنا۔

اَلْكِبَا: (انگ) بجلی کا برقی۔
 اَلْكِبَا: (انگ) مذکر؛ انتخاب چناؤ۔

اَلْكِبَا: (ع) دروناک۔
 اَلْكِبَا/اَلْكِبَا: پانی یا کسی تیلی چیز کو الٹ کر گردینا، کسی رقیق چیز کو برتن میں سے لٹھا کر یا اونڈھا کر کے نکالنا۔

ا م

اَمّ: ماں۔

— الامراض: (ع) (بیماریوں کی ماں) بیماریوں کی جڑ، دوسرے بہت سے امراض پیدا کرنے والی بیماری، مثلاً زکام اور قبض۔

— انجیانت، مونت؛ تمام خرابیوں کی جڑ، (مجازاً) شراب۔

— اَلْقَبِيَان: بچوں کی ایک بیماری ڈبّا۔

— اَلْقُرَى: (انگ) قمری (ع) مکہ۔

— اَلْكِتَاب: (ع) مونت؛ (۱) قرآن پاک، (۲) سورۃ فاتحہ۔ (۳) لوح محفوظ۔

— اَلْوَلَد: (ع) وہ لونڈی جس کے اپنے مالک سے کوئی اولاد ہو۔

— ماں۔ (۲) (مجازاً) بے پڑھا لکھا آدمی، (۳) آنحضرتؐ کا لقب۔

اِمَا بَعْد: (ع) اس کے بعد، حمد و نعت کے بعد۔

اِمَارَت: (ع) مونت؛ دولت، حکومت، سرداری۔

اِمَّاكِن: (ع) مذکر؛ (جمع) مجمع مکان کی، مکانات۔

آئٹشلہ؛ (ع) مذکر؛ (جمع مثل کی) مانند، ہم صورت، برابر والا۔
 اُم جاننا، ایک قسم کی بیماری، جسم کے اعضا بھاری ہو جانا۔
 بھر جانا، شل ہو جانا۔

اُمجدہ؛ (ع) بہت بزرگ۔
 اُمجورہ؛ مذکر؛ (۱) کچے آم کی سوکھی ہوئی پھاٹکیں، کھانی۔
 (۲) مجازاً؛ دُبلّا سوکھا آدمی۔

اُمداوہ؛ (ع) موت؛ مدد، مدد کرنا۔
 اُمداویا، اُمی، (ن) موت؛ ایک دوسرے کی مدد کرنا، باہم
 مدد کرنا۔

اُمردہ؛ (ع) مذکر؛ (۱) حکم، (۲) بات، (۳) کام، فعل، (۴) (م)
 باب، معاملہ، (۵) قواعد صرف کا ایک صیف۔

اُمردو، (ع) اُمردو، (جمع اُمردو)، اُمردو، (جمع اُمردو) کا حکم دینا۔
 اُمردو، (ع) دمرنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔

اُمردا، (ع) (جمع امیر کی) دولت مند، اراکین سلطنت، رؤسا۔
 اُمراض؛ (ع) مذکر؛ (جمع مرض کی) بیماریاں۔
 اُمربیل؛ موت؛ آکاس بیل۔

اُمردت؛ (س) مذکر؛ (۱) آب حیات، (۲) مجازاً، لذیذ اور
 خریدار چیز۔
 اُمربانی؛ موت؛ خوش کلامی، خوش بیانی۔

اُمردتی؛ موت؛ جلیبی کی طرح ایک مشہور مٹھائی۔
 اُمردو؛ (ع) وہ ملاک جس کے ڈارمی مونچھ نہ نکلی ہو سبے ریش
 و بردت۔

اُمردستی؛ خوب صورت لڑکوں سے عشق و محبت کرنا۔
 اُمردس؛ مذکر؛ پکے آموں کا سکھایا ہو اس۔
 اُمردتا؛ (و) موت؛ امر بیل۔

اُمردو، (ن) مذکر؛ ہندوستان کا بہت مشہور پھل، جام۔
 اُمردو، (ن) آج۔
 اُمردا؛ موت؛ (۱) آج کل، مال ٹول، جیلے حوالے۔
 (۲) جلد، عنقریب۔

اُمردیاں؛ موت؛ (اُمردی کی جمع) آموں کے درختوں کے
 اُمردین؛ AMERICAN؛ ملک امریکا کا باشندہ۔

بالکل نہیں نکلتا۔

اماؤنٹ؛ AMOUNT؛ (لگ) موٹ، رقم، زر، لگ،
 مجموعہ، مقدار، میزان۔

اُمبیر؛ (و) مذکر؛ آسمان۔
 اُمبیا / اُمبیا؛ (و) موٹ؛ چوٹا اور کچا آم۔
 اُمبلی فائر؛ AMPLIFIER؛ (لگ) مذکر؛ آواز
 بڑھانے والا آلہ، آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل
 کرنے والا آلہ۔

امپورٹ؛ IMPORT؛ (لگ) کسی باہر کے ملک
 سے اپنے ملک میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تجارتی مل۔
 درآمد۔

ایکسپورٹ؛ EXPORT؛ (لگ)
 درآمد، برآمد، غیر ملک سے تجارتی اشیاء منگوانے اور
 بیچنے کا کاروبار۔

اُمیرت؛ (ع) موٹ؛ سپر کایر اور تاج گروہ، قوم۔
 اُمکتی؛ (ع) اُمکت کے لوگ۔

اُمیشال؛ (ع) مذکر؛ حکم ماننا۔
 اُمتحان؛ (ع) مذکر؛ آزمائش، جانچ۔
 پاس کرنا، امتحان میں کامیاب ہونا، پورا کرنا۔

اُمیتداد؛ (ع) مذکر؛ درازی، طول۔
 اُمعراج؛ (ع) مذکر؛ طمانہ آمیزش کرنا۔

اُمیمیائی؛ کیمسٹری میں دو یا دو سے زیادہ مختلف الخواص
 چیزوں کے ملنے سے ایک اور ہی شے کا پیدا ہونا جس کی
 خاصیت مختلف ہو۔

اُمیتلا؛ (ع) مذکر؛ موٹ؛ بد معنی، اُمی کی کیفیت پیدا ہونا۔
 اُمیتناع؛ (ع) مذکر؛ روک، ممانعت۔
 اُمیتنان؛ (ع) مذکر؛ کسی پر احسان رکھنا۔

اُمیتیارہ؛ (ع) مذکر؛ (۱) فرق، شناخت، تیز، چپان، (۲)
 مرتبہ، ٹرائی، تزیج۔
 اُمیت؛ (و) نہ ٹٹے والا۔

اُمیشال؛ (ع) مذکر؛ (جمع مثل کی) کہاوتیں۔

- اُمسُ: موت؛ برسات کی گھٹی ہوئی گرمی، بھیس۔
 اُمساک: (ع) مذکر؛ (۱) مڑکاؤ، روک، خست، کجوسی۔
 — باران، (اضافت کے ساتھ) مینہ کا وقت پرز برنا۔
 اُمسال: (ن) مذکر؛ اب کے برس۔
 اُمصار: (جمع مصر کی) شہر۔
 اُمعان: (ع) مذکر؛ گہری نظر کرنا، خوب سوچنا۔
 اُمکان: (ع) مذکر؛ (۱) طاقت، قدرت، مجال، (۲) کسی شے کا عدم وجود ضروری نہ ہونا، (۳) مقدور، قدرت، اختیار۔
 اُمکانی: جو ممکن ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، امکان سے نسبت رکھنے والا۔
 اُمک ڈھمک: (۱) اُپر سے غیر سے، حقیر لوگ، (۲) اُم غم۔
 خراب اور کجی چیزیں۔
 اُمکا ڈھمکا: ایسا ویسا، آیرا غیرا، (تحقیر سے) غیر آہم۔
 اُمک: (ع) مذکر؛ امید۔
 اُملا: (ع) مذکر و موت؛ (۱) زبانی یادداشت سے لکھوانا، (۲) رسم خط کے مطابق لکھنا، (۳) رسم خط درست کرنے کے لئے مبتدیوں کو عسارتیں لکھوانا۔
 اُملا کرانا: کوئی عبارت لکھوانا۔
 اُملاک: (ع) (جمع ملک کی) موت؛ جائیداد۔
 اُمَل سید: مذکر؛ ایک قسم کا نہایت کھٹا لیٹو۔
 اُمَلتاش: مذکر؛ ایک درخت کی پھل۔
 اُملی: ہندوستان کے ایک مشہور درخت اور اُس کی ترش پھل کا نام۔
 اُمْن / اُمْن: (ع) مذکر؛ پناہ، حفاظت، امن ہیں۔
 — و امان، حفاظت، پناہ، اطمینان، عام سلامتی۔
 اُمَنْڈرنا: (۱) جوش پر آنا، (۲) جوش کرنا، (۳) چڑھنا، طغیانی پر آنا۔
 اُمَنگ: موت؛ جوش، ترنگ، شوق۔
 — پر ہونا، آنا، ترنگ میں بھرا ہونا۔
- اُموات: (ع) (جمع موت کی) موتیں۔
 اُمواج: (ع) (جمع موج کی) لہریں۔
 اُموال: (ع) (جمع مال کی) کل دولت۔
 اُمور: (ع) (جمع امر کی) معاملات، کام۔
 اُمہات المؤمنین: مسلمانوں کی ماں، مراد رسول اللہ کی بیویاں۔
 اُمّی: موت؛ ماں، تغلیب یا پیار سے اُمّی جان۔
 اُمّی: (۱) (ام، ماں، یا تے نسبتی = میری ماں) اردو میں اُمّی، اُمّیٹھنا، مروڑنا، ابل دینا۔
 اُمّیٹیشن: IMITATION (انگ) مذکر؛ (۱) مقلد، (۲) مصنوعی جو اہر، (۳) تقلید، نقل۔
 اُمّی عجمی: (ع) سکون اور اطمینان کی حالت، بے فکری کا زمانہ۔
 اُمید: (ع) موت؛ اُس، توقع، آرزو، خواہش۔
 — سے ہونا، پیٹ سے ہونا، حاطہ ہونا۔
 — برآنا، آرزو پوری ہونا۔
 — گاہ، امید کی جگہ، جس پر ٹکیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔
 — لگنا، آسرا ہونا، سہارے توقع ہونا۔
 — دار، توقع رکھنے والا، ملازمت چاہنے والا۔
 — و بیم، اطمینان اور خوف کی حالت، ایسی کیفیت کہ کچھ توقع ہو کچھ نا امیدی، یک سوئی نہ ہونا۔
 اُمیر: (ع) (۱) حاکم، افسر، (۲) بڑا آدمی، (۳) دولت مند، (۴) سردار۔
 اُمیر الامرا: بہت بڑا رئیس، نہایت دولت مند۔
 — البحر، بحری فوج کا بڑا افسر۔
 — المؤمنین: مسلمانوں کا سردار، خلیفہ وقت، مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم۔
 اُمین: (ع) (۱) امانت دار، (۲) سرکاری عہدے دار، سائنس کرنے والا، بٹوارہ کرنے والا، قرق کرنے والا، قرق امین۔

ا ن

مرتبہ کا اظہار۔
 اَنَا اَنْحِي، اَنْحِي (اَنْحِي، اَنْحِي) (ع) میں خدا ہوں، اکتیسا) مست فقیروں
 کا غیر شرعی نعرہ۔ نعرہ معرفت کا مشہور صوتی منصوبہ کا حالت
 جذب میں کہا ہوا بول۔

اَنَا پَشْتَاب، بے معنی، فضول باتیں، لغو اور مہمل۔
 کھانا، اَنْحِي کھانا، بے اندازہ کھانا۔

اَنَا تَحَد، (ہ) بے سہارا، بے شوہر، یتیم۔

اَنَا شَرْم، (ہ) محتاج خانہ، یتیم خانہ۔

اَنَا تَحَاكِي، (ہ) یتیم خانہ، محتاج خانہ۔

اَنَا تَشْتَاب، (ع) جمع اَنْحِي کی؛ خواتین۔

اَنَا حَج، مذکر؛ غلہ۔

اَنَا جَبِيل، (ع) جمع اَنْحِيل کی۔

اَنْحِي، (اضافت کے ساتھ) چاروں اَنْحِيلیں؛ تہی، نمرقس،
 لُوْتَا، لُوْتِيَتَا۔

اَنْحَار، (۱) ایک مشہور میوہ جس میں سفید یا سرخ دانے ہوتے ہیں؛
 (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔

اَنْحَار كَرْسِيْت، ANARCHIST (انگ) مذکر؛
 حکومت دشمن، فساد پسند گروہ جو کسی نظام کا قائل نہ ہو۔

اَنْحَارِي، پھوپھڑ، نا تجربے کار، ناواقف۔

اَنْحَارِي، ناواقفیت، نا تجربہ کاری۔

اَنْحَارِي كَوَانَا اَلْمِيْرَا جَعُوْن، (ع) ترجمہ: ہم اللہ کے واسطے
 ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، (۱)

مرنے کی خبر پر کہا جانے والا جملہ، (۲) کوئی چیز گم جانے یا
 نقصان ہو جانے پر کہا جانے والا کلمہ

اَنْحَام، (ع) مخلوقات، خلق اللہ۔

(ہ) بے نام، گناہ۔

اَنْحَابِل، (ع) موت؛ (جمع اَنْحَابِل کی) انگلیاں۔

اَنْحَابِر، (ف) مذکر؛ ڈھیر، ذخیرہ۔

اَنْحَابِط، (ع) موت، مذکر؛ خوشی، مسرت۔

اَنْحَابِط، (ف) مذکر؛ بیٹھ، بیچوم۔

اَنْحَابِط، (ف) مذکر؛ آم، آم کا درخت۔

اَنْحَابِط، (دس) مذکر؛ (۱) غلہ، اناج (۲) (مجازاً) خدا۔

اَنْحَابِط، موت؛ بگاڑ، نا اتفاق، ناموافقیت۔

اَنْحَابِط، بے چرخا۔

اَنْحَابِط، نہ تھکنے والا، اَتْحَاك، بغیر تھکے ہوتے۔

اَنْحَابِط، نہ جاننے والا، ناواقف۔

اَنْحَابِط، بنا؛ جان بوجھ کر ناواقف بنا۔

اَنْحَابِط، اَنْحَابِط، پالنے والا، آقا، خدا۔

اَنْحَابِط، موت؛ (۱) بغیر سنی ہوئی بات (۲) عجیب۔

اَنْحَابِط، کہی، کہی نہ جاسکنے والی بات۔

اَنْحَابِط، (ع) عورتوں کے عقیدے میں بچنے کی ٹمر کا
 آٹھواں سال بچے پر بھاری ہوتا ہے۔

اَنْحَابِط، (ع) حمل کا آٹھواں مہینہ، (۱) اس مہینے کو بھی
 سخت سمجھا جاتا ہے۔

اَنْحَابِط، بے شمار۔

اَنْحَابِط، بے جوڑ، بے تکی، بے ڈھنگے کام۔

اَنْحَابِط، بے جوڑ باتوں کو بوجھنے اور دل بہلا دے کے

لئے دو سخی یا کہہ کرنی کی طرح بنالینا۔

اَنْحَابِط، قابل قدر، بے بہا۔

اَنْحَابِط، نہ ہوسکنے والی بات، ناممکن، محال۔

اِنْحَابِط، اسم اشارہ قریب، (جمع اِنْحَابِط کی)

اِنْحَابِطوں میں تیل نہیں؛ بہت بے مروت، رکھائی برتنے
 والا، بوجھ۔

اِنْحَابِطوں / اِنْحَابِطوں، آج کل، اس زمانے میں۔

اِنْحَابِط، اسم اشارہ بیدار، (جمع اِنْحَابِط کی)

اِنْحَابِط، (ترکی) بچے کو دودھ پلانے والی ملازمہ، دودھ پلائی۔

اِنْحَابِط، (ع) موت؛ ذات، اپنی پہچان، خود آگاہی، اپنی

پہچان کا نشہ ایغو۔

اِنْحَابِط، (ع) موت؛ خودی، خود شناسی، اپنی پہچان

- آبِئِیاءِ موتش؛ جالی نہ پڑا ہوا کچا آم۔
 آبِئِیاءِ (ع) جمع نبی کی؛ رسول، پیغمبر۔
 اَن پانی؛ (ہ) مذکر؛ کھانا پانی، آب و دان۔
 اَن پوزنہ؛ (ہ) موتش؛ غذا کی دیوی، دُرگادیوی۔
 اَن سِدہ UNPAID (انگ) (۱) وہ پارسل وغیرہ جس کا محصول ادا نہ کیا گیا ہو؛ (۲) بلاخواہ۔
 اَنس؛ (ہ) مذکر؛ انجم، آخرہ، خاتمہ، انتہا۔
 اَنسنت؛ لا انتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں۔
 اَبتِیاءِ (ع) آگاہی، اطلاع، تمبیہ۔
 اَبتِیابِ (ع) مذکر؛ چننا، پسند کرنا، منتخب اور چیدہ۔
 اَبتِیابِیتِ (ع) موتش، منتخب کرنے کی خوبی۔
 اَبتِیابِ (اِنی-بند-ب) (ع) (۱) کام کے لئے بلانا۔
 (۲) سیاسی اصطلاح، اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ کو نسل کی طرف سے کسی حکومت کو کسی دوسرے ملک پر عارضی طور پر حکومت کرنے کا اختیار دینا، تولیت اُتْرہ (ہ) فرق، بھید، راز، فاصلہ۔
 اَبامی؛ (ہ) ہمیشہ دل میں رہنے والا، عالم الغیب۔
 اَبتر مشرہ (اَبتر تابع ہزل) مذکر؛ جاڈو ٹونا، جھار چونکہ اَبتر می و موتش؛ آنت۔
 اَبتریاں جھلنا؛ بہت بھوکا ہونا۔
 اَبتریوں کا قفل ہوا اُنڈ شروع کر دینا/ پڑھنا؛ بہت بھوک لگنا، بھوک کی شدت۔
 اَبتریوں کو مسوس کر رہ جانا؛ بھوک ضبط کرنا، سخت بھوک برداشت کرنا۔
 اَبترع (ع) مذکر؛ اکھڑنا، چوڑنا، اکھاڑنا۔
 اَبترساب (ع) مذکر؛ لگاؤ، نسبت، تعلق ہونا۔
 اَبترشارہ (ع) مذکر؛ گھبراہٹ، پریشانی، بتر بتر ہونا۔
 اَبسندہ بدامنی اور بدظنی پھیلانے والا، شر پسند، دہشت پسند۔
 اَبواس (اضافت کے ساتھ) حواس بگڑ جانا، حواس کا ٹھکانے نہ ہونا۔
 اَبتظارہ (ع) مذکر؛ راہ دیکھنا۔
 اَبتظارا کرنا/ ہونا؛ انتظار میں رہنا۔
 اَبتظارا؛ انتظار۔
 اَبتظام (ع) مذکر؛ بندوبست، اہتمام۔
 اَبتظنا (دہلی) قاعدے سے بندوبست ہو جانا۔
 اَبتظاع (ع) مذکر؛ فائدہ حاصل کرنا، نفع ہونا۔
 اَبتظال (ع) مذکر؛ (۱) نقل و حرکت، جگہ بدلنا، نقل مکانی، (۲) (کنسیٹا) مرجانا، (۳) الجرائی ایک اصطلاح اَبتظال جایداہ (اضافت کے ساتھ) جا تدا د کا دوسرے کے نام ہو جانا۔
 اَبزہنی (اضافت کے ساتھ) ذہن کا ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونا
 اَبزہنی؛ معنی کی تبدیلی، کسی لفظ کے معنی بدل جانا۔
 اَبزہام (ع) مذکر؛ بدلہ، عوض۔
 اَبزہم (ہ) بچھلا، آخری۔
 اَبزہا؛ (ع) موتش؛ حد، نہایت، بے حد۔
 اَبزہا؛ پتے سرے کا، حد سے زیادہ۔
 اَبزہا؛ کسی بات کی حد کا اندازہ لینا، کسی بات کی تھاکا پتہ لگانا۔
 اَبزہی؛ (ہ) موتش؛ ترقی۔
 اَبزہیاں؛ موتش؛ ایک قسم کا عورتوں کے کان کا زیور۔
 اَبزہا؛ مذکر؛ (۱) ایم کی بڑی گولی، (۲) بچوں کے کھیلنے کی شیشے کی بڑی گولی۔
 اَبزہیل جو جانا، مرجانا، (ظرافت سے) غفیل ہونا، نشے میں پور ہونا، بدست ہونا۔
 اَبزہ؛ INTER (انگ) مذکر؛ درمیانی درجہ، درمیانی۔
 اَبزہر پٹیر؛ INTER PRETER (انگ) ترجمان، شارح۔ دو مختلف زبان جاننے والے آدمیوں کی گفتگو ایک دوسرے کو سمجھانے والا۔
 اَبزہسٹ؛ INTEREST (انگ) مذکر؛

پرزے اور اجزا۔

ڈھیلے ہو جانا؛ جوڑ جوڑ مل جانا؛ عضو عضو تک جانا۔
 انجکشن؛ INJECTION (انگ)؛ مڈکڑا؛ (۱)؛ پکھاری
 دینا۔ سوئی لگانا؛ (۲)؛ سیال دوا کا سوئی کے ذریعے
 جسم میں داخل کرنا؛ (۳)؛ دوا جس کی سوئی لگائی جاتی

انجیل / انجیلی؛ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایک طرف کی شکل
 بنالینا۔

انجلی نکالنا؛ کسانوں کا فصل کٹ کر گھر آنے کے بعد غریبوں
 اور فقیروں کو انجیل بھر بھر کر دینا۔

انجم؛ (ع)؛ مڈکڑا؛ (جمع نجم کی) ستارے۔

انجمنستان؛ (ن)؛ موٹ؛ ستاروں کا جھرمٹ،
 انجمن؛ (ن)؛ موٹ؛ محفل، کمیٹی، مجلس۔
 آسمان۔

انجن؛ (س)؛ کاجل، آنکھوں میں سرے کی طرح لگائی جانے
 والی ایک چیز، سر۔

انجن؛ ENGINE (انگ)؛ مڈکڑا؛ مشین،
 بھاپ کی کل، آلہ۔

انجیر؛ (ن)؛ مڈکڑا؛ ایک مشہور میوہ۔

انجیل؛ (انگ)؛ موٹ؛ حضرت عیسیٰ پر اتاری ہوئی آسانی
 کتاب۔

انجینیر؛ ENGINEER (انگ)؛ تعمیرات
 یا مشینوں کا کام جانتے والا، کل سار، مہندس۔

انچ؛ INCH (انگ)؛ فٹ کا بارہواں حصہ۔

انچارج؛ INCHARGE (انگ)؛ انتظام کا ذمہ دار
 شخص، سربراہ کار۔

انچے انچے رہنا؛ کھینچے کھینچے رہنا، دُور دُور رہنا۔

آنچر؛ (ہ)؛ مڈکڑا؛ حرف، جادو مٹر کے فقرے، بہت اثر
 کرنے والی بات۔

آنچر؛ پڑھ کر مارنا؛ جادو کرنا، دانوں یا ننگریوں پر جادو
 مٹر کے بول پڑھ کر مارنا۔

(۱)؛ بیاج، سود، منافع؛ (۲)؛ شوق، دلچسپی۔

انٹرمیڈیٹ؛ INTERMEDIATE (انگ)؛ مڈکڑا؛

درمیانی، وسطی (دربار کے ساتھ)

انٹرنس؛ ENTRANCE (انگ)؛ مڈکڑا؛

(۱)؛ دروازہ، داخلہ؛ (۲)؛ ایک مقررہ درجہ، یونیورسٹی کے
 داخلہ کا امتحان۔

انٹرنیشنل؛ INTERNATIONAL (انگ)؛

بین الاقوامی، بین اقوامی۔

انٹروڈکشن؛ INTRODUCTION (انگ)؛ مڈکڑا؛

تعارف، جان پہچان، شناسائی۔

انٹروال؛ INTERVAL (انگ)؛ درمیانی وقفہ۔

انٹ سنٹ / انٹ کا سنٹ؛ اوٹ پٹانگ، مہل، لغو۔

انٹ سنٹ؛ (ہ)؛ مہل، بے معنی، بے حکم، اناپ شناپ۔

انٹلکچوئل؛ INFELLECTUAL (انگ)؛ دانش مند؛

ذہن، روشن خیال۔

انٹی؛ موٹ؛ (۱)؛ گرہ، نات سے نیچے پہننے ہوئے کیڑے میں

کمر کے پاس رقم وغیرہ رکھ کر لگائی جانے والی گرہ۔

(۲)؛ سوت یا ریشم کی لمبی، دو انگلیوں کی زنج کی جگہ، گھائی۔

(۳)؛ سوت چڑھانے کی لکڑی؛ (۴)؛ جیب۔

انٹی باز / مارہ؛ (۱)؛ وہ شخص جو انگلیوں کی گھائیوں میں کوئی

چیز چھپالے؛ (۲)؛ مجازاً؛ فریبی، چالاک۔

پر چڑھانا؛ اپنے مطلب پر لگانا، دام میں لانا، قابو میں

لانا۔

دینا؛ گردنی دینا؛ گردن ناپنا۔

کرنا؛ (۱)؛ سوت لپیٹ کر انٹی بنانا؛ (۲)؛ فریب اور

دھوکے سے کسی کا مال لے لینا۔

انجام؛ (ع)؛ مڈکڑا؛ خاتمہ، نتیجہ، انتہا۔

بہ خیر ہونا؛ خیر اچھا نکلنا، خاتمہ اچھا ہونا، ایمان

کے ساتھ مرنا۔

سوچنا؛ نتیجے پر نظر رکھنا، عاقبت اندیشی۔

آنچر؛ مڈکڑا؛ ہڈی ہڈی، جوڑ جوڑ، اعضاء، کسی چیز کے

انحراف: (ع) مذکر؛ پھر جاننا، مخالفت کرنا، نافرمانی سرکشی۔

انحصار: (ع) مذکر؛ گھیرنا، کسی پر مشوق ہونا۔

انحطاط: (ع) مذکر؛ گھٹاؤ، اترنا۔

انجلا: (ع) مذکر؛ کسی جگہ کو خالی کرنا۔

انذار: مذکر؛ بہت بڑا پختہ کنواں۔

انداز: (ف) مذکر (۱) ڈھنگ، طور، طرز (۲) مشوقانہ ادا، ناز (۳) اہل، قرینہ، تخمینہ (۴) حلاوت،

مقدار میں (۵) نمونہ، پیمانہ۔

اثرانہ: کسی کا ڈھنگ اختیار کر لینا۔

آندازہ: (ف) مذکر؛ اہل، چاچ، تخمینہ۔

آندام: (ف) مذکر؛ بدن۔

زہانی: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) عورتوں کی شرمگاہ۔

اندر: باہر کی ضد۔

کی سانس اندر، باہر کی سانس باہر سانس لینا

دشوار ہو جانا حیرت اور سکتے کی کیفیت۔

والا: (کنایتاً) (۱) دل، جی (۲) ماں کے پیٹ میں کا

بچہ۔

ہی اندر؛ چکے چکے، پردے پردے میں۔

اندر دیوتاؤں کا راجہ۔

جال: (راجہ اندر کا دشمن کو دھوکہ دینے والا جال)

بجائز؛ دھوکہ، شعبدہ۔

جو: جو سے ملتا ہوا ایک لال بیج۔

کا اکھاڑہ: (۱) راجہ اندر کی سبھا (کنایتاً) (۲)

خوب صورت عورتوں کا مجمع، ٹھہرٹ۔

اندر: (۵) موٹ؛ دولت کی دیوی، لہجی، لکشمی۔

اندر: (ع) مذکر؛ لکھا، داخل ہونا، درج کرنا۔

اندراج: (جمع اندراج کی) لکھے ہوئے، درج کئے ہوئے

اندر: راجہ اندر کا تخت۔

اندر: (۱) ایک پھل جو دیکھنے میں خوب صورت

اور مزے میں بہت کڑوا ہوتا ہے (۲) (بجائز) صورت

میں اچھا اور سیرت میں بُرا۔
— کا پھل دیکھنے کا ہے چکھنے کا نہیں، (مثل) جس کا ظاہر اچھا

ہو باطن خراب، خوب صورت بد کردار۔

اندر پوری: (۵) راجہ اندر کا پایہ تخت۔

اندر دھنش: (۵) مذکر؛ ڈھنگ، قوس قزح۔

اندر سا: ایک قسم کی مٹھائی جو چاول کے آٹے میں شکر ملا کر

اندر لوک: (۵) مذکر؛ راجہ اندر کے رہنے کا ملک یعنی

بہشت۔

اور خیر بنا کر پتی تلی ٹکیوں کی شکل میں تلتے ہیں اور جو

گولیوں کی شکل میں بناتے ہیں انہیں اندر سے کی گولیاں

کہتے ہیں۔

اندر: (۱) مذکر؛ اندر، بھیر، (۲) (کنایتاً) باطن۔

خانہ: (اضافت کے ساتھ) آپس میں، گھر کے اندر،

چھپے چھپے۔

اندر: (ع) مذکر؛ دُور ہونا، دفع ہونا۔

اندر: (ف) تھوڑا سا، ذرا سا، کم۔

اندر: (ع) مذکر؛ زخم کا بھرا آنا۔

اندر: (ف) مذکر؛ جمع کیا ہوا مال (روپیہ پیسہ)۔

اندر: (ف) مذکر؛ رنج و غم۔

— گیں، غم گین، رنجیدہ۔

ناک: دکھ پہنچانے والا، بہت رنج دینے والا۔

اندر: (ف) مذکر؛ دھڑکا، کھٹکا، خوف، فکر۔

ناک، خوف ناک، پرخطر۔

اندر: (۱) جسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جس کی آنکھوں میں روشنی

نہ ہو، (۲) (بجائز) نا قدر شناس۔

— ہونا: (۱) آنکھ کی روشنی جاتی رہنا (۲) بے طلعی کا

گھر، جس گھر میں پتائی نہ ہوتی ہو۔

— بانٹے ریوڑیاں ہر پھر اپنوں ہی کو دے، (مثل) صرف

اپنوں ہی کو نفع پہنچانا۔

— بنانا: بے وقوف بنانا، آنکھوں میں خاک ڈالنا۔

— بھینسا، لڑکوں کا ایک کھیل

— کے آگے روئے اپنی آنکھیں / دیدے کھوئے: (مثل)
 بے عقل کو سمجھانا اپنی عقل کھپانا ہے۔
 — کے ہاتھ پیر لگنا: (مثل) نااہل کو اس کی لیاقت سے
 زیادہ چیز مل جانا۔

اندھیارا، اندھیرا۔
 — اندھیار سے اُجالے: اندھیرے اُجالے۔
 — اندھیرا، مذکر، بد نظمی، بے انصافی، غضب، ستم۔
 — کھاتا، بے ایمانی، بد معاملگی۔
 — مچانا / ڈھانا، ظلم و ستم ڈھانا، کھلم کھلا بے ہودہ حرکتیں
 کرنا، لوٹ مار مچانا۔
 — اندھیرا، مذکر، تاریکی۔

— چھانا: بہت تاریکی ہو جانا۔
 — گھپ، انتہائی تاریکی۔
 — اندھیری، موت؛ گھوڑے کو چکنے سے بچانے کے لئے
 اس کی آنکھوں پر بانڈھنے کا چڑے یا کپڑے کا پردہ۔
 — رات، جس رات میں چاندنی نہ ہو۔

— کوٹھری، (۱) جیل خانوں میں قید تنہائی والے قیدی کو
 سب سے الگ تھلک رکھنے کی کوٹھری، (۲) مجازاً، انسانی
 جسم کا اندرونی حصہ۔

— اندھیر سے اُجالے: کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، موقع بے موقع۔
 — اندھیرے گھر کا اجالا چراغ: (۱) بہت پیارا، جس سے
 گھر کی رونق ہو، زیادہ تر اولاد، (۲) مجازاً، بیٹا۔
 — اندھیرے منہ: بہت سویرے، تڑکے۔

— اٹڈا، (۵) مذکر، بیضہ، خضیبہ، فوطہ۔
 — بٹھانا، اٹڈے سینے کے لئے مرغی کے پیچے رکھنا۔
 — کھٹکنا، پرندے کے پیچے کا نکلنے سے پہلے اپنی چونچ
 سے مار مار کر اٹڈے کا خول چٹھا دینا۔

— گندہ ہونا، اٹڈا بگڑ جانا، اس کی طبعی حالت باقی نہ رہنا۔
 — اٹڈے اُڑانا، (دہلی) مجازاً، بہت جھوٹ بولنا۔
 — بٹول میں، اپنے کھجور میں، (مثل) ضرورت کی چیزیں
 ٹھکانے سے نہ رہنا، کوئی نہیں ہے تو کوئی کہیں۔

— تب تپتا ہے، جب دونوں آنکھیں پاتے، (مثل)
 غرض مند کام ہو جائے تو اطمینان ہو۔

— دربار، ہزاراج۔
 — دھند: (۱) بے سوچے سمجھے (۲) اندھیر،
 نا انصافی۔

— دھندا، جسے سمجھائی نہ دے (دھندا تاج پہل)
 — راجہ چوہٹ نگرسی، (مثل) بے وقوف حکمران، رعایا
 کے حال سے ناواقف، (نتیجہ، ملک کی بربادی)۔
 — گنواں، سوکھا اور تاریک کنواں۔

— کیا جانے بسنت کی بہار، (مثل) ناقدرا، جسے اپنے
 بُرے کی تمیز نہ ہو۔
 — کیا چاہے، دو آنکھیں، (مثل) حاجت مند اپنی
 حاجت روائی چاہتا ہے۔
 — گاتے بہرا بجاتے، (مثل) کسی کام میں نااہلوں کا جمع
 ہو جانا۔

— گھوڑا، (آزاد فقیروں کی اصطلاح) جوتا۔
 — مٹلا ٹوٹی مسجد، (مثل) جیسا ناقص آدمی ہو ویسی ہی
 ناقص چیز پائے گا۔
 — ہونا، (مجازاً) برا بھلا نہ سوچنا۔

— اندھوں میں کانارا جہ، (مثل) نادانوں میں جو ذرا سمجھ والا
 ہو وہ سردار بن جاتا ہے۔

— اندھی نگرسی چوہٹ راج، (مثل) بد نظمی پھیلنا، بُرے
 اندھیر نگرسی چوہٹ راج، [جلے کی تیز لٹکھ جانا۔

— مکھے سیر بھاجی مکھے سیر کھاجی [اندھے کو اندھا کیوں گرا ستمہ بتاتے، (مقولہ) جو
 خود نہ جانتا ہو دوسروں کی رہبری کیا کرے گا۔
 — اندھے کی جوڑو کا اٹڈ والی، (مثل) معذور شخص کا اپنی
 چیز کی حفاظت نہ کر سکتا۔

— کدا دن فریاد لٹھی، مار پیٹے گا، (مثل) انجان اور معذور
 کی بے عزتی کی کوئی پیلو دھکڑ نہیں ہو سکتی۔
 — کی لاطھی / کلٹھی، کمزوری کا سہارا، بے کس کا آسرا۔

آئڈیلینا، برتن کو جھکا کر یا الٹ کر اس میں کی چیز لینا، خصوصاً پانی۔

انڈین: INDIAN (انگ) ہندوستانی، ہندوستان کا باشندہ۔

پینل کوڈ: PENAL CODE (انگ)

مذکر، تعزیرات ہند

انزال: (ع) مذکر؛ (۱) اتارنا، (۲) منی کا خارج ہونا۔

انس: (ع) مذکر، انسان۔

وجان، انسان اور جن۔

انس: (ع) مذکر، مانوس ہونا، محبت، الفت۔

انسان: (ع) مذکر؛ (۱) بنی آدم، آدمی، (۲) مہذب،

اخلاق سے آراستہ۔

بنانا، آدمیت سکھانا، اچھا آدمی بنانا۔

انسائیکلو پیڈیا: ENCYCLOPAEDIA (انگ)

جامع العلوم، ذخیرہ معلومات، قاموس العلوم، وہ کتاب

جس میں جملہ فنون کی کل معلومات مندرج ہوں۔

انسٹیب: (ع) بہت مناسب۔

انسپیکٹر: INSPECTOR (انگ) معائنہ کرنے والا۔

نگراں۔ مثلاً، انسپیکٹر پولیس، انسپیکٹر تعلیمات۔

جنرل: GENERAL (انگ) مذکر؛

ناظم اعلیٰ، مہتمم اعلیٰ۔

انسپیکشن: INSPECTION (انگ) مذکر؛

چارج، معائنہ، ملاحظہ۔

انسٹرکٹر: INSTRUCTOR (انگ) مذکر؛

ہدایت دینے والا، درس دینے والا، معلم، اتالیق۔

انسٹرکشن: INSTRUCTION (انگ) مذکر؛

(۱) ہدایت، حکم، (۲) درس، تعلیم۔

انسٹیٹیوٹ: INSTITUTE (انگ) مذکر؛

علمی مجلس یا ادارہ، محکمہ۔

انسٹیٹیوشن: INSTITUTION (انگ) مذکر؛

ادارہ، کسی ادارہ کی عمارت، (کنایتاً) درس گاہ۔

بیچے، (مجازاً) لڑکے، بچے، متعلقین۔

تلنا، انڈوں کا خاکینہ یا چٹے بنانا۔

چھوڑ دینا (جیل کا)، سخت گرمی پڑنا۔

دینا (پرنڈ سے کلاہ انڈے پیدا کرنا، انڈے چھوڑنا۔

سینا، پرنڈ کا بیجے نکالنے کے لئے انڈوں پر بیٹھنا۔

سیوے فاختہ کو سے میوے کھائیں [مشکل، مشقت

سیوے کوئی بیچے کیوے کوئی کرنے والا

محرور رہ جائے، مزے کوئی اور اڑائے۔

انڈر: UNDER (انگ) تابع، تحت، نیچے،

زیر فرمان۔

گراؤنڈ: GROUND (انگ) زمین، دوز،

زوپوش۔

لائن: LINE (انگ) خط کشیدہ،

کسی لفظ یا عبارت کے نیچے خط کھینچنا۔

ویئر: WEAR (انگ) پاجامہ،

پتلون وغیرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا، زیر جامہ۔

انڈیکس: INDEX (انگ) مذکر، اشاریہ، کتاب

کے مضامین کی فہرست۔

انڈلانا، اٹھلانا، اٹھنا۔

انڈل پڑنا، گر پڑنا (کسی چیز کا)

انڈنٹ: INDENT (انگ) مذکر؛ (۱) سامان

کا مطالبہ کرنے والا کاغذ (۲) سرکاری تحریر جس

انڈوا، مذکر؛ گڈنی، گھڑے رکھنے یا مزدور کا سر پر رکھ

کر بوجھ اٹھانے کا پرانے کپڑوں یا بان کا حلقہ۔

انڈور شوٹنگ: INDOOR SHOOTING (انگ)

موٹ؛ دیکھو شوٹنگ۔

انڈوسی، موٹ؛ خوب صورتی کے لئے بازوؤں پر یا

بالوں کے جوڑے میں بالہ منے کی عمدہ کپڑے اور

ٹھکے کی کٹڈلی۔

میں سامان رسد کا مطالبہ ہو۔

انڈیا: INDIA (انگ) مذکر؛ بھارت، ہندوستان۔

اوقات، (اضافت کے ساتھ) وقت کی تقسیم۔
انضمام: (ع) مذکر؛ مل جانا، پیوست ہونا، پیوند ہونا،
ضم کر لینا۔

انطباق: (ع) مذکر؛ چھینا، نقش ہونا۔
انطباق: (ع) مذکر؛ آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے
مطابقی ہونا۔

انعام: (ع) مذکر؛ بخشش، کسی بات کا صلہ، عطیہ۔
واکرام: (ع) انعام، صلہ اور عزت، مرتبہ بڑھانا۔
انتقاد: (ع) مذکر؛ بندھنا، جلسہ محفل وغیرہ کا ہونا، منقذ
ہونا۔

انعکاس: (ع) مذکر؛ اٹنا، عکس کا کسی شفاف چیز جیسے
شیشے یا پانی وغیرہ سے نمودار ہونا۔

انفار: (ع) مذکر؛ (جمع نفکر) (۱) لوگ، عوام، (۲)
سپاہی، (۳) (حجرات سے) کہنے۔

انفارمیشن: (انفارمیشن سے) کہنے۔
انفارمیشن: (انفارمیشن سے) کہنے۔

انفارمیشن: (انفارمیشن سے) کہنے۔
انفارمیشن: (انفارمیشن سے) کہنے۔

انفاس: (ع) مذکر؛ (جمع نفس کی) سانس، دم۔
آن فٹ: (انگ) (۱) ناقابل دنا موزوں
ناہل۔ (۲) غیر تندرست (جسمانی اور دماغی اعتبار سے)

انفرادیت: (ع) مذکر؛ ایلا ہونا، تنہا ہونا۔
انفرادیت: (ع) مذکر؛ ذاتی اور شخصی خصوصیات، شخصی
پہچان، شخصیت

انفرا ریڈ: (ع) فراغت، فارغ ہونا، کسی کام کو نپٹا دینا۔
انفصاح: (ع) مذکر؛ ٹوٹ جانا، فسخ ہو جانا۔

انفصال: (ع) مذکر؛ جدا ہونا، فیصلہ۔
انفعال: (ع) مذکر؛ ہدامت، شرمندگی، شرمندہ ہونا۔

انفعالیات: (انفعالیات سے) کہنے۔
انفعالیات: (انفعالیات سے) کہنے۔

انفکاک: (ع) مذکر؛ جدا ہونا، الگ ہونا، چھوڑنا۔

انسداد: (ع) مذکر؛ بند ہو جانا، روک تھام۔
انسلاک: (ع) مذکر؛ منسلک ہونا، ہم رشتہ ہونا۔
(جمع) انسلاکات۔

انسلاکات: (ع) مذکر؛ جمع انسلاک کی۔
انسٹلٹ: (انگ) مونث؛ اہے عزتی،

توہین، حقارت، ذلت، جتک۔
انشاء: (ع) مونث؛ عمارت، مضمون لکھنا، تحریر، قواعد
خط نویسی یا خطوط کی کتاب۔

پر داز: (ع) اچھی عبارت لکھنے والا، منشی، اچھا
مضمون نگار۔

انشاء اللہ: (ع) (اگر اللہ نے چاہا) کسی بات کے
ارادے یا وعدہ پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کا بطل
شرط کہا جانے والا جملہ۔

انشائیہ: (۱) (شوکی ایک اصطلاح) (۲) (۱) مگر بڑی لفظ
مضمون۔

انشریح: (ع) مذکر؛ کھلنا، کشادہ ہونا۔
صدر: (ع) دل کا کھلنا، کشادہ دلی، کسی بات کا
پورے یقین کے ساتھ ظاہر کرنا۔

انشورنس: (انگ) (۱) انشورنس کی رقم۔
انصار: (ع) جمع ناصر کی؛ (۱) مددگار، (۲) مدینے کے
وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں
کی ہجرت کر کے مدینہ آنے پر مدد کی تھی۔

انصاری: انصار سے منسوب۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔
انصاف: (ع) مذکر؛ داد، عدل۔

کمانی، حاصل، یافت۔
 ٹیکس؛ TAX (انگ) مذکر؛
 لوگوں کی آمدنی کی مقررہ حد پر سرکاری ٹیکس، آمدنی
 ٹیکس۔

انگنا؛ (۱) جنینا، مخمینه ہونا، (۲) گلہنی گلانے کا عمل یا منتر۔
 آنکھری / آنکھڑی؛ (۵) موٹ، (۶) آنکھ کی تصغیر، آنکھ
 جھلک، محبت کی نظر۔

آنکھڑیاں؛ (جمع آنکھڑی کی) آنکھیں، (پیارے)، مشوق
 کسی آنکھیں۔

آنکھو / آنکھو؛ مذکر؛ پہلے پہل بیج میں سے پھوٹ کر پیدا
 ہونے والی سوتی سی باریک اور سفید چیز۔
 آنکھیارا؛ آنکھوں والا، صاحب بصیرت۔
 آنکھیاں؛ (جمع آنکھ کی) آنکھیں۔

انکوائری؛ INQUIRY (انگ) پوچھنا، تفتیش،
 دریافت، استفسار۔

آفس؛ OFFICE (انگ) مذکر؛
 پوچھنا، پوچھنا، دفتر، دفتر معلومات، معلومات حاصل
 کرنے کا دفتر۔

انگ؛ مذکر؛ (۱) بدن، جسم، (۲) چوڑ، عضو۔
 لگنا، غذا کا بدن کا جز بننا۔

انگکا؛ (۵) مذکر؛ انگرکھا۔

انگکار؛ موٹ؛ انگ۔

انگکارا؛ مذکر؛ (۱) آگ کا دہکتا ہوا ٹکڑا، (۲) تشبیہاً بے آہ
 سرخ چیز۔

انگنا؛ ہو جانا، غصے کے مارے لال ہو جانا۔

انگواروں پر لوٹنا؛ کنایتاً، تڑپنا، بے تاب ہونا، بے قرار
 ہونا، جلتا (رنگ و حد سے)۔

انگوارے پھاٹکنا؛ بہت سخت پاداش والا کام کرنا۔

انگین؛ (۶) مذکر؛ شہید۔

انگکھا؛ آنکھ سے متعلق، ایک پوشاک۔

انگریز / انگریزہ؛ (انگ ریڈ) فرنگی، انگلستان کا رہنے والا۔

انفلوینزا؛ INFLUENZA (انگ) مذکر؛
 مشہور بیماری، زکامی بخار، وبائی بخار۔ فلو۔

انفٹری؛ INFANTORY (انگ) موٹ؛ پیادہ
 فوج، پلٹن۔

انقباض؛ (ع) مذکر؛ مسکرتا، طبیعت کا ناشگفتہ ہونا۔

انقسام؛ (ع) مذکر؛ حصہ حصہ ہونا، تقسیم ہونا۔

انقباض؛ (ع) مذکر؛ پورا ہونا، گذرنا، ختم ہونا۔

مدت؛ (اضافت کے ساتھ) مقررہ مدت کا گذر جانا۔

انقطاع؛ (ع) مذکر؛ کٹ جانا، الگ ہو جانا، بند ہو جانا۔

انقلاب؛ (ع) مذکر؛ الٹ پلٹ، یک سر تبدیلی۔

آساں؛ (اضافت کے ساتھ) وقت کی
 دہرہ؛ کا یا پلٹ، زمانے کی گردش۔

زمانہ؛

زندہ باد؛ (انقلاب زندہ رہے) کسی تبدیلی کے خواہاں
 سیاسی اور سماجی تحریکوں کا نعرہ۔

انقلاب رنجی؛ (ع) مذکر؛ جوانی انقلاب (انگ)؛ کاؤنٹر
 ریویوشن۔

انقیاد؛ (ع) مذکر؛ فرماں برداری۔

انگ؛ (انگ) موٹ؛ روشنائی، سیاہی۔

اسٹیٹ؛ STAND (انگ) قلمدان۔

پاٹ؛ POT (انگ) دوات۔

انگکارہ؛ (ع) مذکر؛ نہ ماننا، ناپسند کرنا۔
 آنکر؛ (۵) مذکر؛ بیج بونے کے بعد پہلے پہل نکلنے والا آنکھو،
 آنکھو، کونیل، نوزائیدہ۔

انگسارہ؛ (ع) مذکر؛ خاکساری، فروتنی۔

انگشافت؛ (ع) مذکر؛ گلہنا، کھولنا، ظاہر ہونا۔

آنکل؛ UNCLE (انگ) مذکر؛ چچا یا ماموں،
 چھوچھا، خالو۔

آن کلیمڈ؛ UNCLAIMED (انگ) لاوارث،
 جس کا کوئی دعویدار نہ ہو۔

انکم؛ INCOME (انگ) موٹ؛ آمدنی،

انگریزی: (یا بے نسبت) انگریز سے منسوب ہر چیز، انگریزی زبان، لباس۔

انگڑائی: دونوں ہاتھ اور اٹھارہ جسم کو کھینچنا یا تاننا۔

— توڑنا/لینا، (۱) انگڑائی لیتے وقت کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے جسم کا بار اس پر ڈالنا، (۲) مجازاً؛ ٹھکانا رہنا، بے کار رہنا۔

انگڑ کھنکڑ: مذکر، (۱) کاٹھ کبار، گھر کا ضروری اور غیر ضروری اسباب۔ (۲) (مجازاً) بہت سی بے ترتیب چیزیں ہوتی چیزیں۔

ناموزوں، بے ترتیب۔

انگشت، (ان) موٹ: انگلی۔

انگشتانہ، (ان) مذکر؛ سیتے وقت چنگلیا کے پاس کی انگلی میں پہن لینے کا لوہے یا چمچ کا خول۔

انگشت بدندان: ہونا، دانتوں تلے انگلی دبانا (حیرت سے)۔

— بر لب ہونا، ہونٹوں پر انگلی رکھنا (چُب ہونے کا اشارہ)۔ انگشتر / انگشتری: موٹ؛ انگوٹھی۔

انگشت شہادت: (اضافت کے ساتھ) کلے کی انگلی۔ (انگوٹھے کے پاس کی انگلی)۔

— نما ہونا / کرنا، بدنام ہونا، رسوا ہونا۔

— نمائی، بدنامی، رسوائی۔

انگل: مذکر، ایک انگلی کی چوڑائی کی مقدار (انگلی کی چوڑائی کے برابر)۔

انگلش، ENGLISH انگلستان کی طرف

منسوب چیز، زبان، قوم وغیرہ۔

انگلی: معوجودہ تحصیل اور پاؤں کے ساتھ پانچ پانچ لگے ہوتے ہیں۔ انگشت۔

— پکڑتے پکڑتے پہنچ پکڑنا (خُل) ہٹوڑا سا سہارا یا کر زیادہ کا مطالبہ کرنا۔ تھوڑی سی رعایت پا کر اور اگلے بڑھتے جانا، حد سے تجاوز کرنا۔

— پکڑ کر چلنا / سیکھانا، مجازاً، کسی آدمی کو کوئی فن بالکل

ابتداء سے سکھانا۔

— پکڑنا، سہارا لینا۔

— دانت تلے دبانا، حیران ہونا، افسوس کرنا۔

— دکھانا، ڈرانا، دھمکانا۔

— رکھنا، عیب نکالنا، نکتہ چینی کرنا۔

— کرنا، (۱) کنایتاً؛ کسی کو پوشیدہ آزار پہنچانا، (۲) چھیڑنا۔

— میں اہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا، کسی کام میں ذرا سا دخل دے کر اس کام کے کرنے والوں میں شامل سمجھنا یا حق دار ہونا۔

— نلگانا، ذرا تھوٹا، ہاتھ نہ لگانا، کسی کو (خصوصاً بچوں کو) ہلکے سے بھی نہ مارنا۔

— / انگلیاں اٹھنا، کسی کی طرف کوئی خاص اچھی یا بری بات کی شہرت کی وجہ سے اشارہ کرنا، مطلق اشارہ، شہرت ہونا۔

انگلیاں توڑنا، انگلیوں کو اس طرح دبانا یا کھینچنا کہ چٹ چٹ آواز ملے، عورتوں کا محبت سے کسی کی بلائیں لے کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر انگلیاں توڑنا، کسی کو کوسنا ہو تو یہ انداز اختیار کرنا۔

— چمکانا / چھیچھانا، انگلیاں توڑنا۔

— کاٹنا، بہت افسوس کرنا، حیرانی ہونا۔

— کانوں میں دینا، نہ سننے کی کوشش کرنا، کسی بات سے بیزاری ظاہر کرنا۔

— شکانا / چمکانا / سچھانا، ہاتھ اٹھا کر انگلیوں کو سچھنا / نچا کر بات کرنا۔

انگلیوں پر سچھانا، کسی سے من مانی کرنا، کسی کی ہنسی اڑانا۔ انگلینڈ، ENGLAND (انگ) مذکر؛ ملک۔

انگلستان، انگریزوں کا ملک۔

انگناتی، موٹ؛ آنگن، صحن۔

انگنت، (ہ) بے شمار۔

انگوشٹا، ہاتھ اور پیر کی پہلی اور سب سے موٹی انگلی۔

— چوسنا، سیانے آدمی کا بچوں کی کسی نا بھگی بات کرنا۔

دکھانا: (ع) اٹھارنا (تسفر سے) ، بے پروائی جتانہ۔
 آنکھ ٹٹھی ، موتھی ، انگلی میں پہننے کا زور یا نگہ کشی۔
 آنکھو جھا ، مذکر عام دیہاتیوں کا تولیہ یا لنگی کے طور پر استعمال
 کرنے کا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا۔
 آنکھورہ ، مذکر مشہور سیوہ۔

بندھنا (زخم کا) ، زخم اچھا ہو کر ایک سرخ سے دانے کی
 طرح گوشت پیدا ہونا۔
 پھٹ جانا ، بھرتے ہوئے زخم کا پھٹ جانا۔
 کا پھوٹ بہنا

کٹھے نہیں ، (مخل) باوجود حاصل کرنے کی خواہش کے
 کسی چیز کے نہ ملنے پر اپنی جینپ مٹانا۔
 آنکھوری بیل ، کپڑے پر بنی ہوئی آنکھوری بیل۔

آنکھیا ، (ہ) موتھی ؛ سینہ بند ، چلی۔
 آنکھ ٹٹھی ، موتھی ؛ آگ رکھ کر کھانا پکانے اور دوسرے کاموں
 میں لایا جانے والا ایک خاص وضع کا ظرف۔
 آنکھیر کرنا ، برداشت کرنا ، گوارا کرنا۔

آنکھیرنا ، جبر سہ لینا۔
 آنکھڑ ، (ہ) بھڑا ، بد صورت ، ناہوار ، غیر اصلاح شدہ۔
 آنکھاس ، مذکر ایک مشہور سپل۔
 آنکھنت ، (ہ) بے حد ، بے پایاں ، کبھی د ختم ہونے والا۔
 آنکھ کے تار بجانا ، (دہلی) موج اڑانا ، مگن ہونا ، عیش و عشرت
 کے ساتھ بسر کرنا ، خوشی کے گیت گانا۔

آنوارہ (ع) ، جمع نور کی ؛ روشنی۔
 آنوارا سنا ، کور سے برتن کو دکھانا۔
 آنوارا سی ؛ برتی ہوئی ، استعمال کی ہوئی ، جو کوری نہ ہو۔
 آنوارہ (ع) ، (جمع نوع کی) ، قسم۔
 آنو بھو ، (ہ) مذکر ، تجربہ ، عقل ، احساس۔
 آنو بھوی ، (ہ) تجربہ رکھنے والا ، تجربہ کار۔
 آنوپ ، (ہ) اعلیٰ ، عمدہ ، نادر ، بے نظیر۔
 آنوشا ، (ہ) وہ کھانا جو جھوٹا نہ ہو ، (۲) انوکھا۔
 آنوشی بات ؛ نئی بات ، نوکھی بات۔

آنورہ (ع) ، بہت روشن۔
 آنوراک ، (ہ) مذکر ، پیار ، محبت ، رغبت ، عشق۔
 آنورانی ، (ہ) پریمی ، محبت رکھنے والا۔
 آنوسار ، (ہ) مطابق ، بہ موجب۔
 آنوکھا ، مذکر ، انرالا ، عجیب و غریب۔
 آنومان ، (ہ) مذکر ، شک ، شبہ ، گمان ، اندازہ ، خیال۔
 آنومتی ، (ہ) موتھی ؛ حکم ، اجازت ، خواہش۔
 آنواد ، (ہ) ترجمہ۔

آنو واڈک ، (ہ) مذکر ، ترجمہ کرنے والا ، مترجم۔
 آنہد ام ، (ع) مذکر ، اجڑنا ، ویران ہونا ، سمار ہونا ، ڈھانڈنا۔
 آنہماک ، (ع) مذکر ، کسی کام میں کھوجانا ، محو ہوجانا ، کسی کام
 میں ڈوبے رہنا ، کام میں بہت گہری مشغولیت۔

آنی ، موتھی ؛ کسی چیز کی چوٹی ، آخری سرا ، (بھالے ، درخت وغیرہ)
 کا ہاتھ ،
 کی چوٹ ؛
 ضرب ؛
 (پھیکتوں کی اصطلاح)

آنیاتے ؛ (ہ) مذکر ، بے انصافی ، ظلم۔
 آنیس ؛ (ع) ، آنس رکھنے والا ، دوست ، ہمدم۔
 آئیگ ؛ (ہ) ایک سے زیادہ ، بہت ، گونا گوں۔
 آئیلا ؛ مذکر ؛ ناواقف ، نا تجربہ کار ، نادان۔
 آئیلا پن ؛ (ہ) مذکر ؛ بھولاپن ،
 نادانی ، سادگی ، نا تجربہ کاری۔

آنھ / اونھ ؛ موتھی ؛ (۱) بے پروائی کی آواز ، (۲)
 کراہنے کی آواز ، (۳) اظہار نفرت یا بے زاری کا لفظ۔
 آنھوریاں / آنھووریاں ؛ گرمی دانے ، شدت گرمی سے
 تھکنے والی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔

ا و

ا و ؛ (حرف تینا) ، اے ، ارے ، آپ (پکارنے یا خطاب
 کرنے کے لئے)۔
 او آثر ؛ (ع) ، (جمع آخر کی) ، پچھلے حصے ، انتہا ، ختم۔

اوتار: (۵) مذکر؛ اوپر سے نیچے اترنا، جہم لینا، پیدا ہونا، جلوہ گر ہونا (ہندو عقیدے کے مطابق) خدا کا کسی بڑے کام کی انجام دہی کے لئے انسان یا کسی اور صورت یا جسم ظاہری میں ظاہر ہونا۔

اوط: موت؛ آڑ، پردہ، اوجھل، غائب۔

اوتا: مذکر؛ چرخی اوتے والا۔

اوتنا: چرخی کے ذریعہ روٹی میں سے ٹولے الگ کرنا۔

اوتنی: روٹی اٹنے کی چرخی۔

اوت پٹانگ: بے تنک، بے جوڑ، مہل، بے ہودہ۔

اوج: (ع) مذکر؛ بلندی۔

— توج: مذکر؛ شان و شوکت، بلند قبالی۔

اوجوٹ: نگرسی سونو دلسی، دیران جگہ۔

اوجھ: مذکر؛ پیٹ، آنتیں۔

اوجھڑی: موت؛ جانوروں کا معدہ، آنتیں۔

اوجھل: آڑ، پردہ، غائب۔

اوجھا، ہلکا، کم ظرف، جس میں سمائی نہ ہو، اٹھلا۔

— برتن ابلتا ہے: (منش) کم ظرفی دکھانا، تھوڑی سی

پونجی پر اترنا، سمائی نہ ہونا۔

— پن: کم ظرفی۔

— زخم: ہلکا زخم، کم گہرا زخم۔

— وار/باتھ پڑنا، اچلتی ہوئی مار، ہلکا حملہ۔

اوپھے کی پیت اور بالو کی بھیت؛ مثل؛ اوپھے کی

محبت کا بھروسہ نہیں، جو ریت کی دیوار کی طرح ہے۔

— کے گھر کھانا، جہم جہم کا طعنہ، دشمنی کے کا احسان لینا

ہمیشہ طعنہ کھانا ہے۔

اوجھن لوچھن: مذکر؛ کھا چکنے کے بعد برتنوں میں لگا رہ جانے

والا کھانا۔

اوجھی پوجھی: (۵) موت؛ کم سرمایہ۔

اوجھیشتن گم است کرنا بہری گند، (مقولہ) وہ خود

گمراہ ہے دوسرے کی رہبری کیا کرے گا، نااہل رہبری

نہیں کر سکتا۔

اواٹل: (ع) (جمع اول کی) پہلے حصے، ابتداء آغاز۔

اوباش: (ع) بد چلن، آوارہ مزاج۔

اوپڑ کھا بڑ: (۵) ناہموار، غیر مسلح (زمین یا راستہ)۔

اوبنا: اکتانا۔

اوبنی: موت؛ ہاتھی کے پھسانے کے لئے جھگ میں گھاس

پھوس سے ڈھانپ کر تیار کیا ہوا گڑھا۔

اوپ: موت؛ اچک، آب و تاب، رونق۔

اوپچی: مذکر؛ ہتھیار بند، بانکاسا ہی، مسلح۔

اوپڑ: حرف ظرف؛ پر، بالا، نیچے کی نسبت سے اونچا، سہارے

پر بستے پر۔

— اوپر، الگ الگ، بالابالا۔

— تلے، متواتر، ایک کے اوپر ایک، نیچے اوپر۔

— دھڑسی، مفت کی تھمت۔

— کا کام، فالتو کام، مقررہ کام سے زیادہ کام۔

— کے دل سے، دکھاوے کے لئے، ظاہر داری سے،

بے دل سے۔

— کے دم آنا بھرتا: (۱) اٹلی سانس چلنا، مرنے کے قریب

ہونا۔ (۲) کٹنا (تیا) نزع کی حالت۔

— والا: خدا، نیا جاندار، اوپر کے کام کرنے والا ملازم۔

— والے: (۱) غیر راجن کو کوئی واسطہ اور تن نہ ہو، (۲) منتظم

اور کارکن۔

— والیاں: (۱) چیلیں، (۲) پریاں، (۳) چڑیلیں۔

(۳) اھیلیں۔

اوپری: (۱) بد زیب، ناموزوں، (۲) ظاہری، (۳) غیر

اجنبی۔

— آمدنی، رشوت، بالائی آمدنی۔

اوت: (۵) مذکر؛ (۱) جو جوان ہونے کے بعد پن بیاملا

مرحلتے، (۲) مجازاً، کم عقل، ہلا۔

اوتاد: (ع) (جمع وٹکی) مینیں، اولیاء اللہ میں سے وہ

بزرگ جن کا بادی کے اندولی انتظام میں روحانی عمل

دخل ہوتا ہے جو اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹتے۔

اودا: سیاہی سرخی لئے ملا ہوا رنگ، گہرا نیلا۔

اودا ہٹ: گہرا نیلا پن، اودا ہونا۔

اود پلاؤ: مذکر؛ بی سے ملتا جلتا پانی کے کنارے رہنے والا جانور۔

اودھم، اُدھم، شد و غل، طوفان بدتمیزی۔

اور: پھر، مگر اگر، زیادہ، مزید، مقابلہ (حیرت سے)، ہی، دوسرا۔

— سے اور ہو جانا: حالت پلٹ جانا۔

— عالم / کیفیت / رنگ میں ہونا: آپ میں نہ ہونا، دوسرے رنگ میں ڈوبا ہونا۔

— کو نصیحت انٹے نہیں فضیحت: (مقولہ) دوسروں کو نصیحت کرنا مگر خود عمل نہ کرنا۔

— کے نام اٹلے سے بچتے ہمارے نام گڑگڑ (تمثل) دوسروں کے لئے سب کچھ ہمارے لئے کچھ نہیں۔ (شکایت)۔

— گھر دیکھو: (زیادہ تر فقیر اور سائل) کو ٹانے کا کلمہ۔ اور: (ہ) موت، طرف، سمت۔

— چھوڑو: مذکر؛ حد، کنارہ، انتہا۔

اورادہ: (ع) مذکر؛ (جمع وردکی) وظیفہ۔

اوراق: (ع) مذکر؛ (جمع ورق کی) کاغذ کی پرت، (دو صفحوں کا ایک ورق ہوتا ہے)، درخت کے پتے۔

اور: (انگ) OVER ایک طرف کے بلور کی چھ گیندیں بھینکنے کی بلوری، (۲) اسیارنگا بلوری ختم کرنے کا اعلان۔

— ایکنگ: ACTING (ڈرامہ) پارٹ میں ضرورت سے زیادہ ادکاری دکھانا۔

— کوٹ: COAT پاؤں تک لمبا کوٹ جو جاتوں میں پہنتے ہیں۔

— ہال: HAUL مشین کے کل پزروں کی صفائی اور مرمت۔

اورنگ: (ن) مذکر؛ شاہی تخت۔

— زیب: ہندوستان کا مشہور مثل بادشاہ۔

— زیبی، ایک پٹریا اور رنگ زیب کے فوجیوں کا مرض۔

اوریب: (ہ) موٹ؛ ترہی چال، پڑے کی ترہی کاٹ۔

اوریکبتل: ORIGINAL (انگ) صفت؛ طبع زاد، ابتدائی۔

اُوڑھ لی لوٹی تو کیا کرے گا کوئی؛ مثل؛ بے حیاتی / منہ کی گئی لوٹی تو کیا کرے گا کوئی؛ لادینا، بد لحاظ ہو جانا۔

اُوڑھ لینا: (۱) جسم پر کپڑے ڈال لینا، جسم کسی چادر یا رضائی وغیرہ سے ڈھک لینا، (۲) مجازاً اپنے ذمے لے لینا، گوارہ کرنا۔

اُوڑھنا، مذکر؛ اُوڑھنے کی کوئی چیز، چادر، لحاف وغیرہ۔

— بھوننا: (۱) پورا بستر، اُوڑھنے بھوننے کی چیزیں، (۲) (کنایت) ہر وقت کسی چیز کا استعمال کرتے رہنا۔

اُوڑھنی: (۱) چھوٹا دوپٹہ، (۲) دلہن کے جوڑے میں لگایا جانے والا کارچونی مسالے کا دوپٹہ۔

اُوڑارہ: (ع) مذکر؛ آلے، ہتھیار۔

اُوَس: موٹ؛ شبنم۔

— پڑنا: (۱) اُوَس کرنا، (۲) مجازاً اُداسی چھا جانا۔

باپوسی ہونا۔

— چاٹے پیاس نہیں بھتی؛ (مقولہ) جس چیز کی سے پیاس نہیں بھتی؛ زیادہ مقدار میں ضرورت ہو وہ تھوڑی سی ملنا

— اُوَس کرنا؛ شبنم کرنا، بے رونقی برسننا۔

اُوَسان، مذکر؛ حماس، ہوش۔

— اُوڑ جانا / جانا، بدحواس ہو جانا، ہوش اڑ جانا۔

— گئی، موٹ؛ (ع) بدحواس عورت۔

اُوَسْتا؛ (آ۔ وِس۔ تا)، موٹ؛ (۱) زرقشتی اصول کی کتاب ۲، آتش پرستوں کی مذہبی کتاب۔

اُوَسْتھا؛ (ہ) موٹ؛ حالت، کیفیت، عمر۔

اُوَسْر؛ (ہ) موٹ؛ بغیر بچہ کی نوجوان بھینس، (۲) موقع۔

- اوسر، موتث؛ بنجر زمین۔
 اوسر کھیت میں کیسیر، مثل؛ (۱) بصورتوں میں خوبصورت۔
 (۲) نااہلوں میں اہلیت رکھنے والا۔
- اوسط، (ع) (۱) بیچ کا، درمیانی، میاد (۲) برابر کا پرتا۔
 اوصاف، (ع) مذکر؛ (جمع وصف کی) صفات، کمالات،
 ہنر، جوہرہ عادات و اخلاق۔
- اوضاع، (ع) مذکر؛ (جمع وضع کی) افعال، کردار، ڈھنگ۔
 اوقات، (ع) (جمع وقت کی) (۱) گذر سکی صورت (۲) زندگی،
 حیثیت، بساط کائنات (۳) زندگی۔
- اوسر کرنا، زندگی کے دن کاٹنا، گذر کرنا۔
 اوقاف، (ع) (جمع وقف کی) اشد کے نام پر مال یا جائیداد
 کسی کام کے لئے مخصوص کر دینا، جو کسی خاص شخص
 کی ملکیت نہ رہے۔
- اوک، مذکر؛ چٹو۔
 اوکنا، تے کرنا۔
 اوکھ، موتث؛ گنے کی ایک قسم۔
 اوکھلی، موتث؛ غلہ وغیرہ کو ٹٹنی لکڑی یا پتھر کی گہری کوٹنی
 میں سر دیا تو ڈھکوں/موسلوں سے کیا ڈر، (مثل)
 جان بوجھ کر مصیبت مول لی ہے تو پھر ڈھکوں یا
 موسلوں سے کیا ڈرنا، ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے
 لیے تیار ہونا۔
- اوسر دینا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، خود ہی
 سخت مصیبت میں پڑنا۔
 اوگھٹ گھاٹی، (ع) موتث؛ نا، ہوار جگہ، دشوار گزار مقام۔
 اوّل، (ع) ابتدا، آغاز، پہلا، بہتر، اعلیٰ۔
- اوّل، پہلے پہلے، شروع میں۔
 آخر، مذکر؛ (۱) ابتدا انتہا (۲) باپ والا اولاد۔
- خویش بعدہ درویش، (مقولہ) پہلے اپنوں کے ساتھ
 سلوک پھر دوسروں کے ساتھ۔
- منزل، (مردے کی) (کنایتاً) قبر۔
 منزل پہنچانا، مردے کو قبر میں رکھنا، دفن کرنا۔
- اولین، اگلے لوح، سب سے پہلا۔
 اولیٰ/اولاد، (ع) بہت بہتر، سب سے اچھا، اوّل۔
 اولاد، مذکر؛ برف کے ڈیلوں یا ٹکڑیوں کی شکل میں آسمان سے
 گرنے والا پانی۔ پتھر۔
- ہو جانا، (مجازاً) بہت زیادہ ٹھنڈی چیز۔
 اولاد، (ع) موتث؛ (جمع ولد کی) بیٹا، بیٹی، بال بچے،
 ایک خاندان کے لوگ۔
- آدم، (اضافہ کے ساتھ) آدمی، انسان۔
 کی آپن بڑی ہوتی ہے، (مثل) اولاد کی مانند بڑی
 ہوتی ہے۔
- اولاد مولد، بے وقوف، اوّل بھولوں۔
 اول قول بکننا، سخت و سست کہنا، فحش بکنا،
 بے ہودہ بات کرنا۔
- اولو الابصار، (الابصار)؛ (ع) صاحب بصیرت،
 دل کی روشن آنکھوں والا۔ سمجھدار۔
- اولو العزم، (الاعزم)؛ (ع) باہمت، فراخ حوصلہ،
 پکے ارادے والا۔
- اولیاء، (ع) جمع ولی کی؛ (۱) اشد والے، خدارسیدہ، اہل اشد۔
 (۲) (مجازاً) سیدھے سادے اور بھولے آدمی۔
- اون، موتث؛ بھیڑ بکریوں کی کھال سے تراشے ہوئے بال۔
 پہاڑی بھیڑ بکریوں کے بال۔
- اونٹ، مذکر؛ مشہور جانور، شتر۔
- جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے، تب اپنے آپ کو
 سمجھتا ہے، (مثل) اپنے سے زبردست کے مقابلے
 میں قدر و عاقبت معلوم ہوتی ہے، اپنے سے بڑے
 کے آگے اپنی حقیقت کھلتی ہے۔
- دیکھنے کس شکل/پہلو بیٹھے (بیٹھتا ہے)، (مثل)
 دیکھے معاملہ کیا صورت اختیار کرتا ہے، کیا نتیجہ
 نکلتا ہے۔
- رے اونٹ تیری کون سی گل سیدی، (مثل) بے ڈھنگے
 آدمی کا کوئی فعل ٹھیک نہیں ہوتا۔

— کٹار، مشہور کانٹوں دار جھاڑی۔
 — کی چوٹی، ٹھوسے ٹھوسے / بھلے بھلے، (مثل، ایسی
 بُنائی جو چھپائے نہ چھپے، جسے چھپانا چاہیں تو چھپ
 نہ سکے۔

— کے منہ کا / میں زیرہ، اُنک (ٹرسے پیٹ والے کے لئے
 ذرا سی چیز ضرورت کے اعتبار سے بہت کم مقدار پر
 اوشانار، اوشانا، کھولانا، جوشس دینا۔

اوشچا، (۱۱) بلند، (۲) معزز، عالی مرتبہ۔

— سنائی دینا، کم سنائی دینا۔

اوشچی دکان پھیکا پکوان، (مثل) نام اور شہرت سے
 بہت کم حیثیت کی چیز، (طنزاً)

— ناک والا، مغرور، فصیح غور۔

— ناک ہونا، (مو) اپنے آس پاس کے اور ہم مرتبہ
 لوگوں میں عزت ہونا۔

اوشچ، (۱) موت، (۱) تار چڑھاؤ، نشیب و فراز۔
 (۲) بھلا بُرا۔

— بتانا / سمجھانا / سمجھانا، بھلا بُرا بتانا، نشیب و فراز
 سمجھانا۔

— دکھانا، پریشان کرنا، کنوس بھٹکانا۔

— ہو جانا، خرابی پڑ جانا، قہاحت پیش آنا۔

اوندھا، اٹا، منہ کے بل، پٹ۔

اوندھی کھوٹری کا، اُنٹی سمجھ والا، احمق۔

اوندھے منہ گزرتا، منہ کے بل گزرتا، ترک اٹھانا، اپنی غلطی پر
 خفیہ ہونا۔

اونس، OUNCE (انگ) نڈکڑا، انگریزی وزن
 میں ایک پونڈ کا سو پھول حصہ۔

اوندھ، موت، نیند کے جھونکے، غنودگی، پنگ۔

اوندھتے کو چھیلنے کا بہانہ، مثل، خود کام کرنے کو جی نہ چاہے
 اور کسی معمولی سی گر کاوٹ کو کام نہ کرنے کا سبب یا
 جیلہ بنالے۔

اوندھنا، (۱) نیند کے جھونکے لینا، غنودگی، (۲) مجازاً، مست

کام کرنا، آہستہ قدم اٹھانا۔

اُونے پُونے، کسی چیز کو اصل قیمت سے بہت کم قیمت پر
 اُوور، OVER (انگ) نڈکڑا، (۱) کرکٹ میں
 بیچ ڈالنا۔

اوبام، نڈکڑا، (جمع وہم کی) اندیشے، دوسے۔

اوبو، اُتھو، تعجب اور حیرت یا خاموشی و مسرت ظاہر
 کرنے کا کلمہ۔

اوتی، (مو) حکیمت و درد سے یا ناز و خور سے یا تکیہ کلام
 کی طرح ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کا کلمہ۔

اوبیر سویر، دیر سے یا جلدی سے، آگے پیچھے، کسی جلدی کسی
 دیر سے۔

اویس قرنی، عاشق رسول، رسول خدا کے ایک نایدیدہ
 شیدائی (جو ملکین کے ایک مشہور قبیلہ قرن سے تعلق
 رکھتے تھے)۔

۵ — |

آبار آبار، (۱) کُلف، نشاستے وغیرہ کی بٹی، کھانا، غذا۔
 آہالی، (ع) جمع اہل کی؛ کام والے لوگ، صاحبان۔

— موالی (ہالی موالی) نڈکڑا، (جمع موالی کی یہ معنی یاران)۔
 گے لینے لوگ، دوست، مصاحب، لوگو چاکر، عمل۔

آبائت، (ع) موت، سبکی، حقیر، توہین۔

آہنزار، (ع) نڈکڑا، (۱) ہوا کا چلنا، (۲) پھولوں کا کھلنا۔

(۳) مجازاً شگفتگی اور خوشی محسوس ہونا۔

آہتمام، (ع) نڈکڑا، انتظام، جدوجہت۔

آہرام مصری، مخروطی شکل کے مصر کے قدیم شلت نامینار۔

آہرن، نڈکڑا، لہجے کی نہائی۔

آہل، (ع) صاحب، مالک، لائق، صلاحیت رکھنے والا۔

— اللہ، (آہل اللہ) اللہ والے، ولی، بزرگ۔

— باطن، (اضافت کے ساتھ) عارت، روشن ضمیر۔

— پینت، (اضافت کے ساتھ) گھر کے لوگ، (کنایتاً)

حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔

- _____ **تَسْتَنُّ**، (اضافت کے ساتھ) اہل سنت والجماعت۔
 _____ **تَشْيِيعٌ**، (اضافت کے ساتھ) شیخ۔
 _____ **جَرْدٌ**، (اضافت کے ساتھ) پیشہ ور لوگ۔
 _____ **خَانَةٌ**، (اضافت کے ساتھ) گھر کے لوگ۔ بیوی۔
 _____ **دَلٌّ**، (اضافت کے ساتھ) دل والے لوگ، اہل باطن۔
 _____ **دَوْلٌ**، (اضافت کے ساتھ) (جمع دولت کی) دولت مند لوگ۔
 _____ **زَبَانٌ**، (اضافت کے ساتھ) وہ لوگ جن کی زبان سند بانی گنتی ہو۔
 _____ **شَعْنٌ**، (اضافت کے ساتھ) شاعر۔
 _____ **سُنَّتٌ**، (اضافت کے ساتھ) مستحق فرقے کے لوگ۔
 _____ **سَيْفٌ**، (اضافت کے ساتھ) (تواری والے) فوجی، سپاہ پیشہ۔
 _____ **قَلَمٌ**، (اضافت کے ساتھ) انشا پرداز، پڑھے لکھے، مضمون نگار۔
 _____ **كَارٌ**، (اضافت کے ساتھ) محرز، کارندہ۔
 _____ **كِتَابٌ**، (اضافت کے ساتھ) جس قوم کے پیغمبر پر آسانی نکلتا ہوگا
اَہْلُکَ، پیش کردہ تحت محرز۔
اَہْلٌ نظر، گہری نظر رکھنے والے، بعیرت رکھنے والے، باریک بین۔ بات کی گہرائی تک پہنچنے والے۔
اَہْلٌ و **عِیَالٌ**، بال بچے، متعلقین۔
اَہْلِیَّتٌ، موثقت، قابلیت، لیاقت، صلاحیت۔
اَہْلٌ گیلے پھرنا، اتراتے پھرنا، ناز کرتے پھرنا، خوش فعلیاں کرتے پھرنا۔
اَہْلِیَّةٌ، موثقت؛ بیوسی، مجوزہ۔
اَہْمٌ، (ع) بہت اہمیت والا، بہت ضروری۔
اَہْمِیَّتٌ، (ع) موثقت؛ ضرورت، وقعت، منزلت۔
اَہْمِیْرٌ، (ع) مذکر؛ گوالا، گھوس۔
- _____ **اِسْمٌ**، (ع) (جمع امام کی) دین کے پیشوا، بہت بڑے عالم۔

- _____ **اِسْمٌ**، (ع) حرف ندا، جس کا استعمال زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں۔
 _____ **بَادِصِبَا**، (ع) آورقہ، تست، (ع) بطور مش مستعمل؛ یہ سارا فساد تمہارا ہی اٹھایا ہوا ہے۔
 _____ **رُوشَنِیٌّ**، (ع) طبع تو برین بلا شدی، (بطور مش) اپنی ذہانت کا اپنی ہی مصیبت اور نقصان کا باعث ہونا۔
 _____ **اِسْمٌ**، (ع) (۱) کیوں نہ ہو، کیا خوب، (۲) حسرت و افسوس کا کلمہ۔
 _____ **ہَاں**، (ع) کسی بات سے بے زاری ظاہر کرنا یا بھولی ہوتی بات یاد آنے کے موقع پر (بطور تکیہ کلام)۔
 _____ **ہے**، (ع) افسوس اور تعجب کا اظہار کلمہ۔
اَیَازٌ، (ع) سلطان محمود غزنوی کا وفادار اور چہیتا غلام۔
قَدْرٌ خود بہ شناس، (ع) بخش، اپنی حیثیت پہنچا نو۔
اَیَاغٌ، (ع) (ترکی) مذکر؛ پیالہ، شراب پینے کا پیالہ۔
اَیَالٌ، (ع) مذکر؛ گھوٹے کی گردن کے لیے تے پیال۔
اَیَامٌ، (ع) (جمع یوم کی) (۱) دن، زمانہ، شب و روز۔ (۲) حیض کے دن۔
رِیضٌ، (ع) (اضافت کے ساتھ) چاند کے پینے کی تیر ہو، چودھویں اور پندرہویں تاریخیں۔
 _____ **سے ہونا**، (ع) حیض سے ہونا۔
 _____ **گِذَارِیٌّ**، (ع) دن کا ٹٹا، وقت بتانا۔
اِسْرِنٌ، (ع) (انگ) مذکر؛ پیش بندہ کام کرتے وقت لباس کی حفاظت کے لئے باندھا جانے والا کپڑا۔
اِسْتِلَافٌ، (ع) مذکر؛ بلا پ، اجتماع۔
اِیْتھَرٌ، (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) ایک رقیق نشے جو دواؤں میں کام آتی ہے (۲) خلا میں بھرا ہوا لطیف مادہ۔
اِیْتھِمٌ، (ع) (انگ) مذکر؛ (۱) ذرہ (۲) جوہر۔ (۳) کھلمے قدم کے نزدیک تقسیم نہ کیا جاسکتے والا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا مادہ لیکن جدید سائنس نے اسے توڑ کر انتہائی توانائی حاصل کی ہے۔

ایڈووکیٹ بیٹھو۔
 (انگ) مڈگرا،
 ADVOCATE
 وکیل، مشیر، ہر عدالت میں وکالت کا حق رکھنے والا وکیل
 جنرل؛
 GENERAL
 ریاستی یا مرکزی
 حکومت کی طرف سے عدالت میں پیش ہونے والا وکیل۔
 ایڈیٹر؛
 EDITOR
 کسی رسالے یا اخبار کا
 مرتب، مدیر۔
 ایڈا؛ (ع) موت؛ دکھ، تکلیف۔
 — رسائی، دکھ دینا، تکلیف پہنچانا۔
 ایراپھیری؛ موت؛ کسی چیز کا بار بار پھیرنا، مطلق آنا جانا،
 پھیرے لگانا، چکر لگانا۔
 ایرا غیر انتھو خیرا؛ کم حقیقت لوگ، باہر کے معمولی لوگ،
 جن کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسا دیا۔
 اپران؛ ایک ملک کا نام۔
 — توڑان کرنا؛ زمین آسمان ایک کرنا، بڑی کوشش
 سے تلاش کرنا۔
 توڑان کی ہانگنا، شنی بگھارنا، باتیں اڑانا۔
 ایرپھیر؛ (۱) بیوپار، تجارتی مال بار بار خریدنا بیچنا، آدل
 بدل کرنا؛ (۲) الٹ پلٹ، گردل۔
 — کے تولنا، کسی چیز کا کسی ایک پلے میں کسی دوسرے
 پلے میں ادل بدل کر تولنا۔
 ایرسے پھیرے؛ چکر لگانا، کسی مکان وغیرہ کے چاروں
 طرف پھرا کرنا، بار بار آنا جانا۔
 ایر غیر ایر سے غیر سے؛ غیر لوگ، ایما رجی سے کوئی واسطہ
 نہ ہو۔
 ایر سے غیر سے چکلیان؛ ادھر ادھر کے بے تعلق لوگ،
 ایسے بے حقیقت لوگ جنی کا آپس میں کوئی میل و تعلق
 نہ ہو، رنگ برنگے۔
 ایریا؛
 AREA
 (انگ) مڈگرا؛ رقبہ، علاقہ۔
 ایریکل؛
 AERIAL
 (انگ) صفت؛
 (۱) فضائی، ہوائی؛ (۲) ریڈیو یا وائرلس کا وہ تار جو

ایٹ ہوم؛
 AT-HOME
 (انگ) مڈگرا،
 (۲) ناشر۔
 ایٹی کیٹ؛
 ETIQUETTE
 (انگ) مڈگرا،
 آداب مجلس۔
 اپٹارہ؛ (ع) مڈگرا؛ اپنے نفس کو مار کر دوسروں کی بھلائی کرنا۔
 اپنا حق دوسروں کو دینا، قربانی دینا۔
 اپجاسیہ؛ (ع) مڈگرا؛ ماننا، قبول کرنا، منظور کرنا۔
 — وقبول؛ فقہی (مذہبی) اصطلاح میں اقرار، دو لہا
 وطن کا ازدواجی رشتے کے لئے رضامندی ظاہر کرنا۔
 اپجاد؛ (ع) مڈگرا؛ موت، تسی بات پیدا کرنا، تسی چیز بنانا،
 اختراع۔
 — بندہ اگر چہ گندہ؛ (مزاخا یا طنز) کوئی یہودہ ایجاد
 کرنا، کوئی نیالے ہودہ طریقہ اختیار کرنا۔
 اپجازہ؛ (ع) مڈگرا؛ چھوٹا کرنا، مختصر کرنا، (مضمون)
 ایجنٹ؛
 AGENT
 (انگ) مڈگرا؛ آرٹھی،
 گماشتہ۔
 ایجنڈا؛
 AGENDA
 (انگ) مڈگرا؛ کسی جلسے
 کے حعلق کارروائی کی فہرست جو اجلاس سے قبل تمام ممبران
 کو بھیجی جاتی ہے۔
 ایجنسی؛
 AGENCY
 (انگ) مڈگرا؛ آرٹھ،
 وہ دوکان جس کی معرفت کسی کمپنی یا فرم کے تیار کئے ہوئے
 سامان کی خرید و فروخت ہو۔
 ایجی ٹیشن؛
 AGITATION
 (انگ) مڈگرا،
 ستیہ گن، تحریک، شورش۔
 ایچ بی؛ (ایچ تاج اہل) (۱) ایرپھیر، چکر؛ (۲) دھوکہ بازی
 مکر، فریب۔
 — کی باتیں، پیچ دار باتیں، فریب کی باتیں۔
 ایڈریس؛
 ADDRESS
 (انگ) مڈگرا؛ تہ، القاب،
 سپاسنامہ، طلبہ، کسی مجلس کو مخاطب کرنا۔
 دینا، سپاسنامہ پیش کرنا۔
 ایڈوانس؛
 ADVANCE
 (انگ) مڈگرا؛ پیشگی،

— ثواب: (اضافت کے ساتھ) ثواب پہنچا، مرے ہوؤں
کی روح کو اجر ملنے کے لئے کوئی اچھا کام کرنا۔

ایضاً: (ع) وہی، یہ بھی، ویسا ہی۔

ایضاً: (ع) (اصطلاح عروض) شعر کے دونوں قافیوں کا ہم شکل
اور ہم معنی ہونا۔

اِطّاء: (ع) (اصطلاح عروض) شعر کے قافیوں کی تکرار کا
واضح عیب۔

— خطی: (اصطلاح عروض) شعر میں قافیوں کی تکرار کا
جھپٹا ہوا عیب۔

ایفوا: مذکر؛ EFO آتا۔

ایفاء: (ع) مذکر؛ پورا ہونا، ادا، انجام۔

ایفائے وعدہ / عقدہ: اقرار پورا کرنا۔

ایک: سب سے پہلا عدد۔ تنہا۔

— آنارٹو بیمار: (کھل) چیز ایک لینے والے بہت،
چیز تھوڑی حاجت مند بہت۔

— انٹا وہ بھی گندا: (۱) چیز ایک وہ بھی ناکارہ، (۲)

(مجازاً) ایک بٹا وہ بھی نالائق۔

— انگور سوز نور: (کھل) تھوڑی چیز کے بہت سے
حاجت مند۔

— اور ایک گیارہ: ایک سے دو بہتر، ایک سے دوسرا
مل کر قوت بڑھ جاتی ہے۔

— ایک: ہر ایک، سب، فرداً فرداً، باری باری۔

— ایک کا منہ گنگنا / دیکھنا: حیرت اور حسرت کے عالم
میں ہونا کہ شاید کوئی کچھ کام آئے۔

— ایک کی چار چار لگانا: میلانے کے ساتھ چھل کھانا

— ایک گھڑی بھاری ہونا / پہاڑ ہونا: ایک ایک
تھمے ناگوار ہونا، وقت کاٹنے نہ کھانا۔

— اینٹ کے لئے مسجد ڈھانا: ذرا سے نفع کے لئے
بڑا نقصان پہنچانا۔

— آدھ: اکا دکا، کم۔

— آجج کی کسر رہ جانا: کیسیا بنانے والوں کا ناکامی کے

فضا سے ہوائی لہریں حاصل کرتا ہے۔

ایڑ کرنا / لگانا: گھوڑے کو تیز چلنے کے لئے ایڑی سے ماننا
یاد دینا۔

ایڑی: پانچو کے پنجے کے دوسری طرف کا (آخری) حصہ۔

— چوٹی پر قربان کرنا / صدقے کرنا / وارنا: (غصے
یا نفرت سے) کسی کو صدقے کی طرح اپنے اوپر اتار
کر پھینک دینا۔

— سے چوٹی تک: پورا جسم۔

— کا پسینہ سر کو آنا: ہر سے سواد ڈر دھوپ اور محنت کرنا۔
ایڑیاں رگڑنے کے رگڑ رگڑ کر مرنا: بے بسی اور سخت اذیت
سے مرنا۔

ایڑیاں رگڑنا: (۱) بچوں کا چھلنا، ضد کرنا، (۲) دوڑ دھوپ،
بہت کوشش، سخت محنت، (۳) جان کنی کی اذیت
رٹھانا۔

ایڑیاں گھس جانا: انتہائی دوڑ دھوپ۔

ایڑا: مذکر؛ زیادہ۔

ایڑ / ایڑ: (ت) خدا۔

ایسا: اس کی طرح، اس قسم کا، اس شکل کا، مانند، مثل۔
ایسا ایسا: گرا بڑھا، بے حقیقت۔

— ویسا / ایسی / ویسی / ایسے / ویسے: معمولی، رسمی،
گھٹیل۔

— ایسی تیلیسی / ایسی کی تیلیسی: ہنڈب لوگوں کی گالی۔

— ایسٹر: EASTER (انگ) مذکر؛ عیسائیوں کا
ایک تہوار جو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زندہ ہونے کی
یاد میں منایا جاتا ہے۔

— ایسڈ: ACID (انگ) مذکر؛ تیزاب، حرضی،
مٹھائی۔

— ایسوسی ایشن: ASSOCIATION (انگ) مؤنث؛
الجمن، بزم، سبھا، مجلس۔

— ایشورہ: (۵) مذکر؛ حاکم، ڈاک، بادشاہ، خدا۔

— ایصال: (ع) مذکر؛ پہنچانا، ملانا۔

- موسقے پر عام مقولہ، مطلق معنوں میں کسی کام میں ذرا
 کسی کی رہ جانا، تھوڑی کسر رہ جانا۔
- آنکھ سے سب کو دیکھنا؛ سب کو برابر جانا۔
- آنکھ سب کو دیکھنا؛ سب سے یکساں برتاؤ
 کرنا۔
- آنکھ میں لہر لہر، ایک میں خدا کا قہر، (۱) اولاد یا
 عزیزوں میں سے ایک پر مہربان ہونا دوسرے پر
 نا مہربان (۲) مگر کسی میں کسی سے اچھا برتاؤ، تھوڑی
 دیر میں برابر تاؤ تو ن مزاجی۔
- آنکھ نہ بھانا/ نہ دیکھ سکتا، ذرا مطلق بالکل نہ بھانا، نہ دیکھ
 آوے کے برتن ہیں، (مثلاً) سب ایک ہی سے ہیں۔
- ایک ہی گھرانے کے۔
- بات، بچی بات، مضبوط بات، ایک دام۔
- بات ہزار منہ، ایک امر میں ہر شخص کی ایک نئی بات۔
- بغل ہو جانا، بیچ سے ایک طرف ہٹ جانا، کنارے
 ہو جانا۔
- پانی ناؤ کو ڈبو تا ہے، مثل ایک کی بد چلنی سے گھر کا گھر
 تباہ ہو جاتا ہے، قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔
- پالو سے کھڑا رہنا، بہت فرماں برداری کرنا، بے انتہا
 اطاعت کرنا۔
- پر ایک گزنا/ ٹوٹنا چڑنا، بے حد جھوم کرنا، اتنا جگمگا
 ہونا کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔
- ہلک، تھوڑی دیر، دم بھر، پل بھر۔
- پتھہ دو کاج، (مثلاً) ایک تدییر سے دو کام نکلانا۔
- پیٹ کے، بالکل گئے، ایک پیٹ سے پیدا، گئے
 بھائی، گئے بھائی بہن۔
- تر کش کے تیر، ایک آوے کے برتن، سب ایک سے۔
- تنکے کا سپہارا نہیں، کسی سے فلا بھی امداد کی امید
 نہیں۔
- تو چوری اس پر سینہ زوری، (مثلاً) قصور
 کر کے اثاڈ صفائی دکھانا، اکڑ دکھانا، جھوم کرنا اور
- اکڑنا۔
- تو کڑوا کر تیل دوسرے نیم چڑھا، (مثلاً) بڑے کے
 لئے اور بڑائی کا سامان پیدا ہو جانا۔
- تول، یکساں، مساوی۔
- تو سے کی روٹی کیا چھوٹی ملی موٹی، (مثلاً) ایک نسل یا
 خاندان کے چھوٹے بڑے ایک ہی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔
- قھیلی کے پختے پختے، (مثلاً) ذم کا پہلو، ایک
 آوے کے برتن، ایک ہی گروہ کے لوگ۔
- جانا، برابر جانا، یکساں سمجھنا۔
- جان دو تین/ قابل، دو آدمیوں میں بہت اچھا دو
 اتفاق ہونا، بہت گہری دوستی۔
- جان ہزار آرمان، (مثلاً) انسان کی جان تو ایک ہے
 لیکن ہزاروں ارمان رکھتا ہے۔
- جان ہونا/ کرنا، مختلف چیزوں کا مل کر بالکل ایک
 ہو جانا۔
- چپ لاکھ بلا طاعتی ہے، (مثلاً) چپ رہنے سے
 ہزاروں آفتیں مل جاتی ہیں۔
- چپ ہزار کو ہر دے، (مثلاً) خاموشی سب کا
 چپ ہزار چپ، منہ بند کر دیتی ہے۔
- چنا بھار نہیں بھوڑ سکتا، (مثلاً) ایسا آدمی کتنا ہی
 قابل ہو وہ کام نہیں کر سکتا جو سب کے مل کر کرنے
 کا ہے۔
- حجام میں سب جھنگے، (مثلاً) سب کا ایک رنگ ہے۔
- خطا دو خطا تیسری خطا مادر یہ خطا، ایک دو مرتبہ کی
 بول چوک تو انسانی کمزوری، مگر تیسری غلطی دانستہ
 شرارت اور کینے ہی کی علامت ہے۔
- در بند ہزار در کھلے، (مثلاً) رزق کا ایک ذریعہ ختم
 ہو تو دوسرے ہزار ذریعے پیدا ہو جاتے ہیں۔
- دل ہزار داغ، (مثلاً) ایک جان ہزار غم، حد سے
 زیادہ غموں سے بھرا ہوا دل۔
- ذم، (۱) فوراً، ایک لمحے میں، (۲) ایک ساتھ، یکایک۔

- (۳) اکیل جان۔
 — دم آیا نہ آیا، زندگی کا بھروسہ نہیں، سانس
 — دم آیا آیا نہ آیا نہ آیا، بند ہو جائے ختم۔
 — ڈال، بغیر کسی جوڑ کے ایک ہی چیز سے بنی ہوئی شے۔
 (۲) ایک ہی وضع قطع کی چیز، یکساں۔
 — ذات، ایک جنس، ایک سے، ایک قسم۔
 — رتی باون تولے، دیکھو باون تولے پاؤرتی۔
 — رنگ، ایک وضع کا (سچا دوست)۔
 — رنگ آنا ایک جانا، منہ پر ہوا تیاں اڑنا، چہرے کا
 رنگ فق ہو جانا۔
 — زبان، متفق۔
 — سا/ساں، برابر، یکساں۔
 — سانس میں کچھ دوسری سانس میں کچھ، دم بھر میں
 کچھ کہنا دم بھر میں کچھ۔
 — ستر ہزار سودا، ایک آدمی ہزار کام، ایک انسان
 سو فکریں۔
 — سے ایک اعلیٰ سبحان رتی الا اعلیٰ، (طنزاً) جہاں بُرائی
 اور خرابی میں ایک سے ایک بڑھ کر ہو۔
 — سے دو بھلے، ایک کے مقابلے میں کسی دوسرے کا
 ساتھ مفید ہے۔
 — شیر مارتا ہے سو لوٹریاں رگیدڑ کھاتے ہیں؛
 (مثلاً) ایک بہت والے کے کمانی پر سو پرورش پاتے
 ہیں۔
 — طرف ہو جانا، (۱) کنارے ہو جانا، (۲) کسی ایک کی
 جانب ہو جانا، (۳) پردہ کر لینا۔
 — کرے دس بھریں، ایک قصور کرے پوری
 جماعت غیازہ بھگتے۔
 — کوسانی ایک کو بے جھانی، (مثلاً) مکرو فریب سے
 کام رکھنا۔
 — کی ایک، سہرا، لگائی بھائی کرنا۔
 — گھاٹ اُٹارتا، سب کے ساتھ بلا امتیاز سلوک
- کرنا۔ (اس میں تعریف کا پہلو ہے)۔
 — گھاٹ پانی پینا، انتہائی منصفانہ برتاؤ ہونا، امن و
 امان ہونا۔
 — لالچی سے سب کو ہانکنا، اعلیٰ و ادنیٰ میں امتیاز کتنے
 بغیر سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا۔
 — مچھلی سارے تالاب کو گندہ کرتی ہے، (مثلاً)
 ایک کی نالائقی سے پوری جماعت یا قوم بدنام ہو جاتی
 ہے۔ ایک برا شخص پورے سماج کو رُصوا کر دیتا ہے۔
 — مُشت / ایک مُشت، اکٹھا۔
 — میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں، (مثلاً) ایک ہی
 چیز کے دو خواہش مندوں میں ایک ساتھ نہیں بچھ سکتی۔
 — نظر ڈالنا، دیکھنا، ذرا سا دیکھ لینا، سرسری طور پر
 دیکھ لینا۔
 — نہ چلنا، کچھ اثر نہ ہونا، کوئی ترکیب کارگر نہ ہونا۔
 — نہ سُسننا، کوئی بات نہ ماننا، ذرا توجہ نہ کرنا۔
 — نہ سُشد دُوشد / یک نہ سُشد دُوشد، ایک امر تو تھا ہی
 دوسرا اور پیدا ہو گیا۔
 — نہیں ستر بلا طاعتی ہے، تھوڑی بے مروتی بہت سی
 آفتوں سے بچاتی ہے۔
 — ہاتھ سے تالی نہیں بچتی، باہمی تعلقات کا بگڑنا یا
 بھگانا طرفین کے رویے پر موقوف ہے، صرف ایک
 فریق کے کئے کچھ نہیں ہوتا۔
 — ہو جانا، ایک کر لینا، متفق ہو جانا۔
 — ایسا، مذکر، اتفاق، ایک دلی دوستی۔
 — ایچی، اچانک، دفعتاً۔
 — ایکانت، (۵) موت؛ انتہائی گوشہ، الگ، علاحدہ۔
 — ایکستا، (۵) موت؛ اتفاق، اتحاد، برابری
 ایکٹ : ACT - (انگ) مذکر؛ (۱) نقل، سوانگ،
 ڈرامے کا ایک حصہ، باب - (۲) قانون، دفعہ۔
 ایکٹر : ACTOR (انگ) مذکر؛ اداکار۔
 ایکٹریس : ACTRESS (انگ) مؤنث؛ اداکارہ۔

ایکٹنگ : ACTING (ایک) موتھ؛ اداکاری۔

ایکھ؛ موتھ؛ ایک قسم کا پتلا گتھا۔

ایچی؛ مذکر؛ پیغام پہنچانے والا، سفر۔

کوزوال نہیں؛ پیامبر محفوظ رہتا ہے کوئی اُسے نقصان نہیں پہنچاتا۔

ایلو؛ مذکر؛ دوا کے کام آنے والی ایک سیاہ کڑوی چیز، مہتر۔

ایم-پی؛ M.P. (ایک) ممبر آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کا ممبر، ہندوستان کے ایک صوبہ کا نام مدھیہ پردیش

ایم-او-ایل؛ M.O.L.

ماسٹر آف اورینٹل لٹریچر، کا مخفف، مشرقی زبانوں کی اعلیٰ ڈگری۔

ایم-اے؛ M.A.

ماسٹر آف آرٹس، کا مخفف، تعلیم کی اعلیٰ ڈگری۔

ایم-ایس-سی؛ M.SC.

ماسٹر آف سائنس، کا مخفف، سائنس کی اعلیٰ ڈگری۔

ایکا؛ (ع) مذکر؛ اشارہ، حکم، منشا، حدید۔

ایکان؛ (ع) امن دینا، بے خوف کرنا، شریعت اسلام میں ولی سے خدا اور رسول پر یقین لانا اور ذہن سے اس کا اعلان

کرنا۔

بغض میں دیکھنا/ مار لینا، (۱) جھٹ دھرمی کرنا،

بے ایمانی کرنا، (۲) ایمان کو چھپانا۔

دارہ سچا، دیانت دار، انصاف پسند۔

ڈانواں ڈول ہونا؛ ایمان ڈگنا جانا، ایمان لوٹ کر

جانا، نیت میں فرق آجانا۔

لانا؛ اسلام قبول کرنا، کسی پر یقین لانا، کسی کو سچا ماننا۔

ایمانی؛ (ع) صفت؛ اشارتی، اشارے میں کہی جانے والی بات۔

ایمانیت؛ موتھ؛ اشارت، رمزیت، اشارے سے کہنے میں بات کہنے کا انداز۔

ایمن؛ (ع) مذکر؛ (۱) خوف ہے، دہشت، (۲) وہ دہشت جس

کے جانب راست کوہ طور واقع ہے۔

ایں؛ تعجب، استہمام اور تاکید کا کلمہ۔

ایں؛ (ن) اسم اشارہ قریب۔

جانب؛ ہم (بابہ دولت)۔

خاند تمام آفتاب است؛ (ن) گھر کا ہر شخص قابل

تعریف ہے، (کبھی تعریف کبھی طنز)۔

کار از تو آید و مرداں خنیں گنند؛ (مقولہ) (ن) یہ کام

تم ہی سے ہو سکتا ہے اور (بہادر) مرد ہی ایسے کام کر سکتے

ہیں، (تعریف و طنز دونوں طرح)۔

محل دیگر شکفت؛ (ن) (مقولہ) (یہ لو) یہ ایک دوسرا

شکوہ فکھلا، یہ ایک نئی بات پیدا ہوئی۔

ہم اندر عاشقی بالائے غمہائے دیگر؛ (ن) (مقولہ)

عاشقی میں جاں اور مصیبتیں اٹھانا جس دہاں یہ ایک اور۔

ہم بچہ تشر است؛ (ن) (مقولہ) (یہ بھی اس گروہ

سے ہے)؛ طاقت سے اپنے آپ کو اپنے سے اونچی

عزت والوں میں سمجھنا۔

اینٹ؛ موتھ؛ (۱) بیٹی کی بیٹی اور بھتیجی کی بچی ہوئی مستطیل

چیز جو عمارتوں میں کام آتی ہے، بخت، (۲) اینٹ کی

طرح کے سونے چاندی کے ٹکڑے۔

سے اینٹ بجانا؛ بالکل برباد کر دینا، بالکل تباہ کر دینا۔

ایٹھ؛ موتھ؛ اکڑ، مروڑ، شنی۔

جانا؛ اکڑ جانا، خفا ہو جانا۔

کر چلنا؛ اکڑ کر چلنا، اترا نا۔

لینا؛ کسی کی چیز ہتھیالینا، دہالینا، چھین لینا۔

کینٹھن؛ (۱) رگوں کا کھنچاؤ، مروڑ، (۲) ٹھنڈا جانا، (۳)

روٹھنا، آندہ ہونا۔

اینچا؛ کھنچا ہوا، تنا ہوا۔

اینچا تانا؛ مذکر؛ بھنگا۔

اینچا تانی؛ اینچا کھینچی، کیش کش۔

اینچا کھنچی؛ ایک چیز کو دو حصوں کا اپنی طرف کھینچنا۔

ایچ تان؛ (کھینچ تان) بہت شکل سے بہت دقت سے۔

وہ ہندوستانی عیسائی جس کے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک انگریز ہو۔

ایوان: (ع) مذکر؛ (ا) مکان، محل، مجلس، (ب) (سیاسی اصطلاح)، وہ مقام جہاں حکومت کے عوامی نمائندوں کا اجلاس ہوتا ہے، قانون ساز مجلس۔

ایوانب: ایک پیغمبر کا نام جن کا صبرِ عرب النمل ہے۔
 ابہام: (ع) مذکر؛ (لغوی معنی: وہم میں ڈالنا) شاعری میں ایک صنعت، ایک ایسا لفظ شعر میں استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب اور دوسرے بعید کے، لیکن شاعر بعید کے معنی سے مراد لے۔

گوئی: اشعار میں صنعت ابہام سے کام لینا۔

ایچ لینا: کھینچنا، نکال لینا دم لگانا۔
 اپنڈھن: کھانا جلانے کی چیزیں، (کڑھی، کوندلہ وغیرہ) اینڈنا، کڑنا فرو کرنا، لیٹے لیٹے انگڑا تیاں لینا، بدن کوتا نا۔

اینڈھونا، بگڑانا، بگڑنا۔

اینڈھی اینڈھی: بڑھی ترھی بات، سخت سست، ناخوشنہ بات۔

چال: متاز چال۔

سہنا: گالیاں دینا، بے ہودہ کلمات نکالنا۔

اینگلو انڈین: (انگ) ANGLO INDIAN

(ص ۱)، ہندوستان میں رہنے والا انگریز۔ (۲)

الف ممدوده: آ

آ: الف ممدوده (آ)؛ وہ الف جس پر مد ہوتا ہے اور وہ الف کی آواز دیتا ہے و تارتخ گوی میں (بل راجد) کے حساب سے بعض ادیبوں نے اس کے دو صد شمار کیے ہیں۔
عام طور سے صرت ایک صد لیا جاتا ہے۔

آ: (۱) آنا کا صیغہ امر؛ ماہ تیر (۲) گانوں کی ابتدا میں سُر ملانے کی آواز۔

بلا گلے لگ؛ مفت کا جھگڑا مول لینا۔

بیل، محجے مار؛ (دل) خواہ مخواہ کے جھگڑے میں پڑنا۔

بجنا؛ ہٹنا، چڑھ کر آنا، حملہ کرنا۔

ڈھمکننا؛ بے دھڑک چلے آنا۔

ڈٹنا؛ موجود ہونا، آ کر حم مانا۔

لگنا؛ (۱) قریب ہو جانا (۲) گھات میں بیٹھ رہنا۔

مَرنا؛ (فترت) آ جانا؛ بے موقع آ جانا۔

نکلنا؛ بلا ارادہ چلے آنا۔

آ- ب، بھ

آب؛ (د)؛ مذکر؛ (۱) پانی؛ موتھ؛ (۲) صفائی؛ (۳) چمک۔

آترنا؛ (۱) چمک جاتی رہنا؛ (۲) ہتھیار کی بارش اور تیزی جاتی رہنا۔

آرنا؛ آب آتر جانا، چمک جاتی رہنا۔

آب کر مَر گئے؛ سر رانے دھرا رہا پانی؛ (دل)

اپنی عام بول چال کے خلاف بات کرنے والے کی نسبت

ایسا طنز سے بولتے ہیں۔

آب ہونا؛ شرمندہ ہونا، خفیت ہونا۔

آ جانا؛ (۱) ہتھیار کی دھار میں تیزی آ جانا، بارش چڑھ جانا؛ (۲) چہرے پر مدون آ جانا چمک دمک آ جانا۔

آمدیمم برخواست؛ (د)؛ (دل) پانی آ گیا تیرم ختم ہوا، اہل چیز حاصل ہونے تو مجبوراً ہتھیار کی ہوتی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔

آب آئینہ؛ (اضافہ کے ساتھ) (د)؛ موتھ؛ آئینے کی چلا۔
صفائی، چمک۔

آبقا؛ (اضافہ کے ساتھ) (د)؛ مذکر؛ زندگی باقی رکھنے والا

پانی۔ آب حیات۔

بگرنا؛ آب آتر جانا، چمک جاتی رہنا۔

پاش؛ (د)؛ مذکر؛ پانی پھرنے کا سوراخ دار برتن، قوالب۔

پاشی؛ (د)؛ موتھ؛ (۱) پانی کا چھڑکاؤ (۲) پانی پھرنے والا، بہتی دہشتی (۳) نہر کے ٹکے کا نام (۴) نصیبتوں کو سنبھلنا۔

تاب؛ موتھ، چمک، دمک، آرائش، رونق۔

جو؛ (د)؛ موتھ؛ بہرہ ندی۔

جوش؛ (د)؛ مذکر؛ (۱)۔ سخن، گوشت کا عرق (۲) پانی میں جوش دیا ہوا صاف اور پیلا شقا۔

چڑھانا؛ ہتھیار کو چلا دینا، بارش رکھنا، پتھر پھینکانا۔

چشم؛ (اضافہ کے ساتھ) (د)؛ مذکر؛ آنکھ کا پانی، آنسو۔

حیات؛ (اضافہ کے ساتھ) (د)؛ مذکر؛ (۱) آب

حیوان؛ زندگی، آب بقا، (۲) غلات کے ایک

جنس؛ چیتے کا نام۔

خاصہ؛ (اضافہ کے ساتھ) (د)؛ مذکر؛ بادشاہوں، امیروں کی بیوی کے پتہ پکانے

خورا؛ (د)؛ مذکر؛ پانی پینے کا چھوٹا پی کا برتن۔

دار؛ (د)؛ مذکر؛ (۱) پانی رکھنے اور پلانے کے کام پر

مقرر خادم (۲) چمک دار، (۳) تیر دھار والا (۴) لطیف اور اچھا (طنز یا مضمون)۔

دارخانہ؛ (د)؛ مذکر؛ پانی اور اس سے تعلق چیزیں، گھرے، گلاس وغیرہ رکھنے کی جگہ۔

دارنی؛ (د)؛ موتھ؛ (۱) چمک دمک (۲) بارش اور تیزی (۳) خوبی اور لطافت (نشر یا نظم میں)

دارانہ؛ رزق، دیکھو آب ودانہ۔

دوست؛ مذکر؛ استنجا و طہارت

دوڑ دگشتی؛ موتھ؛ ڈکنی کشتی، پانی کے اندازدار

چلنے والی کشتی۔

دیدہ ہونا؛ آنکھ کا ڈبڈبائی ہونا، آنکھ میں آنسو

چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔

بھرا آنا، روم لٹا ہو جانا۔

آب و روانہ اٹھ جانا، رزق اٹھ جانا، (مجانا) مر جانا، زندگی کا خاتمہ ہو جانا، کہیں سے شخصت ہونے کا وقت آ جانا، روزگار سے برطرف ہو جانا۔

— ورنگ : (ر) ، مذکر؛ (ا) آب و تاب، رونق، جھول بھونتی۔

(۲) رنگ روپ (۳) شاعرانہ خوبیاں۔

— وگل : (ر) ، مؤنث؛ (ا) پانی اور مٹی (۲) طینت، فطرت،

(۳) جسم، خمیر۔

— وٹان : (ر) ، مؤنث؛ کھانا پانی، رزق۔

— وٹمک : (ر) ، مذکر؛ مزہ، سواد، کھانے میں ٹمک، مرچ، مسٹک کا توازن۔

— وٹوا : (ر) ، مؤنث؛ پانی اور ہوا کی تاثیر و کیفیت، موسم رت۔

— یاری : (ر) ، مؤنث؛ باغوں، کھیتوں کو سینچنا، پانی دینا۔

آبا : (ر) ، مذکر؛ جمع آب کی، باپ دادا۔

— واجداد : (ر) ، مذکر؛ آب و جد، باپ دادا۔

آباد : (ر) ، بسا ہوا، رونق، چہل پہل۔

آبادان : (ر) ، آباد، بسا ہوا، رونق، چہل پہل۔

آباد کاری : (ر) ، مؤنث؛ بسانا، آباد کرنا۔

آبادی : مؤنث؛ بستی، لوگوں کی تعداد (درمدم شماری)۔

آبائی : (ر) ، مؤنث؛ باپ دادا کے وقت کی۔

آب پیما : پانی ناپنے کا آلہ، جس سے پانی کے خالص یا نخالص ہونے کی جانچ کی جاتی ہے، ڈائیڈرو میٹر۔

آب ترسی : (آب ترسی) ، (ر) ، مؤنث؛ (ا) پانی دیکھ کر

ڈرنے کی بیماری جس میں مریض پانی سے ڈرتا ہے (۲) ایک

بیماری جو کتے کے کانٹے سے انسان کو ہوجاتی ہے (ڈائیڈرو تومیا)

آبرو : (ر) ، مؤنث؛ (ا) ناموس، عصمت (۲) قدر و شرف، شرف،

ناموری، (۳) امارت، وجاہت (۴) ساکھ، اعتبارات (۵) شرم،

لاج، (۶) حیثیت۔

— اتارنا / بگاڑنا : ذلیل کرنا، بے آبرو کرنا، کسی کی عزت لینا۔

— پیدا کرنا : (ا) اچھا نام پیدا کرنا، عزت حاصل کرنا (۲) ساکھ

جاننا، اعتبار پیدا کرنا۔

آب رسیدہ : (ر) ، پانی یا مٹی سے غراب ہو جانے والی چیز۔

— اروال : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) (ا) ایک نہایت

باریک کپڑے کا ٹم، (۲) بہتا پانی۔

— زر : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ سونا نل کیا ہوا

پانی۔

— زلال : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ (ا) صاف

شکافت میٹھا پانی، نھرا ہوا پانی (۲) کسی بیگی ہونی دوا

کا چھنا ہوا پانی۔

— زمزم : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ زم زم کا

پانی (زم زم کعبہ کے کنوئیں کا نام ہے)

— سبیل : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ پیاسوں کے

پینے کے لیے راستوں میں رکھا ہوا پانی، پیادو۔

— شورہ : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ کھاری پانی۔

— شورہ : (ر) ، مذکر؛ شکر اور لمیوں کا شربت۔

— کاری : (ا) ، شراب کھینچنے کا کارخانہ (۲) نشلانے والی

چیزوں سے متعلق سرکاری محکمہ۔

— کوثر : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ) بہشت کی ایک مشہور نہر کا پانی

— کوثر سے دھلی زبان : (اضافہ کے ساتھ) صاف اور

پاکیزہ زبان، بہت اچھے بول۔

— کپیر : (ر) ، مذکر؛ تالاب، جمیل، حوض۔

— نظرہ : (اضافہ کے ساتھ)؛ (ر) ، مذکر؛ چاندی کا

پانی۔ چاندی کا مائع۔

— نئے : (ر) ، مؤنث؛ حق کے پانی میں ڈوبا نیچے کا حقہ۔

— نیسآل : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ)؛ مذکر؛ موسم بہار

کی وہ بارش جس کے قطرے سیپ میں داخل ہوں تو موتی

بن جاتے ہیں، اور باش میں داخل ہوں تو بسلو بن۔

— وتاب : (ر) ، مؤنث؛ چمک دمک، رونق، روشنی۔

— حسن و خوبی۔ لطافت۔

— ووانہ : (ر) ، (اضافہ کے ساتھ)؛ (ا) کھانا پانی، رزق

روزی (۲) تقدیر، قسمت، نصیب۔

آبرو و جگ میں رہے تو بادشاہی جانیے؛ (مقولہ) آبروشاہی کے برابر ہے، عزت بڑی چیز ہے۔

دار، (د) عزت والا، شریف، حیا دار۔

ڈوڈو پینا / ڈوڈو، عزت کھونا، بے حرمت ہونا۔

ڈوب جانا، عزت جاتی رہنا۔

ریزی، (د) ہونٹ، عزت کی بربادی، عصمت و ناموس کی تباہی، ذلت، توہین، عورت کی عصمت بگڑنا۔

ساری روپے کی ہے؛ (مقولہ) اگر روپے پسا نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں کرتا۔

کا صدقہ جان؛ (مقولہ) چاہے جان ملی جائے مگر آبرو رہے یعنی آبرو کے لیے جان دے دینا بہتر ہے۔

موتی کی آب ہے؛ (مقولہ) آبرو و عزت، بہت نازک چیز ہے، (موتی کی آب کی طرح)

میں بٹا لگانا، عزت میں نعل ڈالنا، بے وقعت کرنا۔

آبزروائٹری OBSERVATORY (انگ) ہونٹ؛ دیکھو درمہ گاہ۔

آبشار؛ (د) مندر؛ جھرنہ، کسی اونچی جگہ سے گرنے والا، قدرتی چشمے یا دریا کا پانی۔

آبگینہ؛ (د) مندر؛ (۱) شیشہ، کاغذ، آئینہ، بلور، (۲) الماس (۳) انگوری شراب (۴) استعارہ، دل سے۔

آبلہ؛ (د) مندر؛ چھالا، پھپھولا۔

آبنا؛ (د) مندر؛ چھالے میں سے پانی بہنا۔

آبنا؛ (د) مندر؛ (۱) پانی کی راہ (۲) (اصطلاح جغرافیہ) پانی کا وہ تنگ حصہ جو پانی کے دو بڑے حصوں کو ملائے۔

آبوس؛ (د) مندر؛ (۱) وزنی اور سیاہ لکڑی کا ایک مشہور درخت (۲) دکھائیے، کالے رنگ کا آدمی۔

آبی؛ (د) پانی کا رہنے والا، جیسے آبی جانور۔

آبگ؛ (د) پانی سے ملا ہوا رنگ۔

آبان؛ خمیری روئی کی ایک قسم۔

آبرج؛ آسمان کے بارہ بروجوں میں سے ۷ برج جن کی صفت آبی ہے، یعنی سرطان، عقرب اور حوت۔

آبھا؛ (د) ہونٹ، چمک، روشنی، جلال۔

آبھوشن؛ (د) مندر؛ زیور، گہنا، آرائشی پوشاک۔

آ۔ پ، ت

آپ؛ ضمیر مخاطب، تزاؤ تم سے زیادہ تعظیم کا لفظ، مشکل کے لیے بھی خود کے معنی میں اور غائب کے لیے تعظیماً۔

اپنی قبر کھودنا؛ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔

اپنے لیے کاٹنے پونام؛ اپنے ہاتھوں آپ مصیبت میں

اپنے حق میں کاٹنے پونام؛ ڈالنا، ایسے کام کرنا جس کے نتیجے میں مصیبت اٹھانا پڑے۔

اپنے منہ میاں مٹھو بننا؛ خود اپنی تعریف کرنا۔

آپ کہنا کر کرنا؛ خوشامد کرنا، تعریف کرنا۔

بھلے اپنا گھر بھلا؛ دنیا جہان کے جھنجھٹوں سے الگ بننا، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔

بھلے تو جگ بھلا؛ (مقولہ) انسان خود اچھا ہو تو دنیا اُس کے ساتھ اچھا بننا و کرتی ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہوتی۔

دھاب / آپا دھابی؛ نفسی، نفسی، اپنی اپنی فکر۔

ڈال ڈال پیں تو میں پات پات؛ (دش) میں آپ سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہوں۔

ڈوبے تو جگ ڈوبا؛ آپ تباہ ہوئے تو گویا تمام عالم تباہ ہوا، آپ مرے تو گویا ساری دنیا مر گئی۔

سے آئے لو آئے دے؛ (دش) جہاں کسی کا مال بغیر کسی تدبیر و کوشش کے مفت ہاتھ لگے اور کوئی اس کے لینے کا ارادہ کرے، وہاں یہ شل بولی جاتی ہے۔

فضیحت اور کونصیحت؛ (مقولہ) خود بُرے کام میں مبتلا ہونا، دوسرے کو بچنے کی نصیحت کرنا۔

کاج مہا کاج؛ (دش) اپنا کیا کام بڑا کام ہے، جو کام انسان خود کرے وہی بڑا اور اچھا کام ہوتا ہے، اپنا کیا ہوا

آتش / آتش پرست : (د) آگ پوجنے والا، مجوسی، پارسی، زرتشت کا پیرو۔

— دان : (د) مذکر؛ ایکٹھی۔

— دروڑوں : (د) موٹا؛ اندرونی آگ، دل کی سوزش۔

— زُدگی : (د) آگ لگنا۔

— زرنی : (د) آگ لگانا، فساد کرانا۔

— سیال : (د) موٹا، (د) بیٹے والی آگ (۲) (مجازاً)

— شراب۔

— طبع : (د) غمہ ورتند ورتند تیز مزاج۔

— طور : (د) اضافت کے ساتھ، (د) موٹا؛ وہ نورانی تھلی

جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔

— فتنال : (د) چنگاریاں دینے والا (۲) آگ اور

لاوا اگلنے والا پہاڑ۔

— کا پر کالم : (۱) آگ کا ٹکڑا، (۲) (مجازاً) بہت شریہ

شوخی شنگ، (۳) ذہین، ہوشیار۔

— کدہ : (د) مذکر؛ ندرتھیول کی عبادت گاہ۔

— رمزانج : (د) تیز مزاج، گرم مزاج۔

— نمروود : (د) موٹا، (د) اضافت کے ساتھ وہ آگ

جو نمروود نے حضرت ابراہیم کے جلانے کے لیے روشن

کرائی تھی اور خدا نے اسے گلزار بنا دیا تھا۔

— آتشک : (د) مذکر؛ ایک جنسی بیماری۔

— آتشی شیشہ : ایک محدب شکل کا شیشہ جس سے

گزر کر سورج کی کرنیں ایک نقطہ پر مرکوز ہو کر اتنی گرمی

پیدا کرتی ہیں کہ روٹی کا خذ وغیرہ آگ بکھڑے۔

— آتشی اسلحہ : آگ برسانے والا ہتھیار، جیسے بندوق،

رائفل، توپ وغیرہ۔

— آتما : (د) موٹا، (د) روح، دل، جان، ماں کی محبت باپ

کی شفقت (۲) غالباً ذات اور ذات نوری جو کل میں محیط ہو۔

— ٹھنڈی ہونا : جی خوش ہونا، جو کے کا پیٹ بھر جانا۔

— کلیانا : (د) جی دکھانا۔

— کی آہنچ : موٹا، ماتا، ماں کی محبت۔

کام خوبی سے انجام پاتا ہے۔

— آپ کا قطع کلام ہوتا ہے / آپ کا سخن بالا، جب کسی کی

بات کاٹ کر کچھ کہنا ہو تو یہ طور معذرت کے یہ فقرہ

کہہ کر اپنی بات کہتے ہیں۔

— آپ کے بھی صدقے جائیے : مخاطب کی نادانی یا حماقت کی

کسی بات پر کہنے کا کلمہ۔

— کھائے بلی کو بتائیے : (مثل) اپنا قصور دوسرے

کے سر رکھنا۔

— آبا : (ترکی) موٹا، بڑی ہیں۔

— دھاپی : (د) اپنی اپنی فکر، نفسی نفسی، خود غرضی۔

— آپتی : (د)

— آپریٹر : OPERATOR (انگ) مذکر؛ (۱) کل پرزوں میں

پر کام کرنے والا، (۲) کسی خفیہ مہم کا نائیدہ۔

— آپریشن : OPERATION (انگ) مذکر؛ (۱) جراحی، عمل

جراحی (۲) کوئی مخصوص مہم کو سر کرنا۔

— تھپڑ : مذکر؛ جراحی گاہ، وہ کمرہ جو عمل جراحی کے لیے

مخصوص ہو۔

— آپ روپ : (د) مذکر؛ اپنی شکل، اپنا ظہور وہ جو خود

بخود ظہور پذیر ہو۔

— آپس : باہم، اپنائیت، قربی لوگ۔

— داری : موٹا، میل جول، آپس کا معاملہ۔

— آتش / آتش : موٹا، آگ۔

— افروز / انگیز : (د) مذکر؛ موٹا؛ (۱) آگ بھڑکانے

والا، (۲) (مجازاً) مفسد، جھگڑا پھیلانے والا۔

— بار : (د) (۱) آگ برسانے والا (۲) (کنایتاً) بہت

سخت اور جو شمعی تقریر کرنے والا۔

— بازی : (د) آگ کے کھیل کے سامان یعنی پھلہڑی،

مہتابی، ہوتی، پٹانے وغیرہ۔

— بیان : (د) سخت اور تیز تقریر کرنے والا، پر جوش

مقرر۔

— پار زریہ پا : (د) (۱) بے قرار بے چین، مضطرب (۲) تیز رفتار۔

آتم رکشا: (۱) موت؛ اپنے آپ کی حفاظت، حفاظتِ خود اختیاری۔

آتم ہتیا: (۲) موت؛ خودکشی۔

آتو / آتوں: (ترکی) موت؛ لڑکیوں کو پڑھانے والی اُستانی۔

آتی پاتی: (۳) موت؛ بچوں کا ایک کھیل۔

آتی ہے ہاتھی کے پانوں اور جانی ہے چوٹی کے پانوں: (۴) (ہمارے) کے متعلق بہت تیزی سے آتی ہے، آہستہ آہستہ دیر سے

جاتی ہے۔

آٹا: (۱) ذرے؛ پسپا ہوا آٹہ۔

گیلا ہوتا: (۲) آٹے سے پانی زیادہ پڑ جانے اور اجازتِ معیت میں پڑنا۔

آٹے دال کا بھار معلوم ہونا: (۳) دنیا کے نشیب و فراز کا اندازہ

ہونا، جیسے کہ یہ بچہ کھلیں اور معیت میں ٹھکانا پڑتی ہیں اس کا اندازہ ہونا۔

آٹے دال کی فکر: بیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی فکر، روزی کمانگی، گوش

آٹے میں نمک: (۴) (دل) بہت تھوڑا سا، معمولی۔

آٹو بیوگرافی: AUTO-BIOGRAPHY (انگ) موت؛

خودنوشت سوانح حیات، آپ بیتی۔

آٹو گراف: AUTO-GRAPH (انگ) مذکر؛ (۱) دستخط (جو

یادگار کے طور پر محفوظ کیا جائے)؛ یادگاری دستخط۔

آٹو ٹومی: AUTONOMY (انگ) موت؛ خوداختیاری نظم و نسق۔

آٹھ: (۱) مذکر؛ چار کا دوگنا عدد۔

آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ: پھوٹ پھوٹ کر ہونا، دہائیں ماما کر

رہنا، بہت رہنا۔

آٹھ سپہر: بھرا دن اور رات، چوبیس گھنٹے۔

آ-ث

آثار: (۱) مذکر؛ (جمع اشک)؛ (۲) صحابہ کرام کے اقوال و

افعال۔ (۳) سنت رسول اللہ (۴) اہلبیت (۵) ہلامات (۶)

تیسرے، انداز، اطوار، قرآن (۷) نشانیوں (۸)

موت، نیو، بنیاد، دیوار کی چوڑائی۔

آٹھم: (۱) مذکر؛ گنہگار، حامی۔

آ-ج

آج: (۱) مذکر، موجودہ دن، انہ روز۔

کُل: (۲) بہت جلد (۳) موجودہ زمانے میں۔

کُل کرنا: وعدے کر کے ٹھکانا۔

کُل دوسرا دن: دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیدگی کھانے کا

آجر: (۱) جر، (۲) اجرت دے کر کام لینے والا، (۳) ایپلاٹر

آ-ح

آچاریر: (۱) سنسکرت؛ مذکر؛ استاد، گرو،

پینٹ، کسی فرقے کا بانی، روحانی مرشد۔ عالم۔

آ-خ

آخ / آخ: (۱) ملحق کی ایک آواز۔

آخ تھو: (۲) حسرت کا کلمہ، کسی کو ناپائیدگی اور ذلیل کرنے کا اظہار۔

آختہ: (۳) مذکر؛ جعقی کیا ہوا جانور۔

آخر: (۴) چھپے، پھلا، ختم ہونے کے قریب، تمام۔

بین: (۵) (۱) انجام پر نظر رکھنے والا، عاقبت اندیش۔

زمانہ: (۶) مذکر؛ قیامت کے قریب کا زمانہ، کسی چیز کا آخری

دور۔ عمر کا آخری حصہ۔

وقت: (۷) مذکر؛ مرنے کے قریب، نزع کا وقت۔

آخرت: (۸) موت؛ عقابا مرنے کے بعد والی دنیا (پہر لوک)

آخری: (۹) آخر کی طرف منسوب، اخیر والا، اخیر کا۔

دیوار: (۱۰) مذکر؛ میت اٹھانے سے پہلے کا دیدار، مرنے

کے بعد دفن سے پہلے منہ دکھانا۔

آخور: (۱۱) (۱) موت؛ (۲) گھوڑوں کے کھانے سے بچ رہی گھاس

(۳) نکمی اسیلے کار چیزیں (۴) نکمے اور نالائقیوں کا

جتمہ (۵) کسی مجموعہ تحریر میں نئے مضمونوں کی کثرت (۶) کوزا کرکٹ ہی

آخون: (۷) مذکر؛ استاد، معلم، پڑھانے والا۔

د، دھ، ڈ

آداب: (۱) مذکر؛ (جمع ادب کی) مرتبے کا پاس، سزا،

آدھا تیترا آدھا بیٹسر: (مثل) بے جوڑ، بے میل، بے تکا،
دو مختلف قسموں کا۔

— رہ جانا، بہت ڈبلا ہو جانا، کمزور ہو جانا۔

— سیسی: (۵) مذکر؛ آدھے سر کا درد۔

آدھم سا جھا: مذکر؛ لڑکوں کا ایک کھیل۔

آدھوں آدھ: مذکر؛ بالکل برابر کے دو حصے، برابر کے دو ٹکڑے۔

آدھی بات: موٹھ؛ (۱) ناتمام بات، ادھوری بات (۲) اسی ہی گواہی

— بات نہ پوچھنا، قدر نہ کرنا، ذرا توجہ نہ کرنا۔

— کوچھوڑ ساری کو دوڑھے، آدھی رہے نہ ساری، (مثل)

جو تھوڑے پر قناعت نہ کرے، جو شخص موجود چیز کو چھوڑ کر لالچ کے مارے

اس سے زیادہ کے لیے دوڑتا ہے وہ اتنی ہی ہاتھ سے کھوتا ہے۔

آڈٹ: AUDIT (انگ) مذکر؛ حساب کی جانچ پڑتال، محاسب۔

آڈیٹر: (AUDITOR) (انگ) مذکر؛ ظاہری شٹاٹ باٹ،

بناوٹ، بھکر، ڈھونگ۔

آڈیٹر: AUDITOR (انگ) مذکر؛ محاسب، حسابات کی

جانچ پڑتال کرنے والا۔

آ۔ ذ

آذر: (ذ) مذکر؛ (۱) ایرانی شمسی سال کا نواں مہینہ جو پہلی

مہینے پڑس اور انگریزی مہینے جنوری کے مطابق ہوتا ہے (۲) آگ۔

— پرست: (ذ) (صفت) آتش پرست، مجوسی۔

آ۔ ر، ڈ

آر: (۵) موٹھ؛ (۱) بیلیوں کو تیرا بننے کے لیے ڈنڈی میں لگی ٹوکھار

کیل، (۲) ٹوکھا ٹوک دار سچلا سہرا۔

آرا: مذکر؛ لکڑیاں جیرنے کا لوہے کا دندنے والا اوزار۔

(۵) موٹھ؛ (۱) رٹائے کی جمع، مشورے، نیمالات۔

آرادھنا: (۵) موٹھ؛ عبادت، پرستش، پوجا، مذہبی خدمت،

بندگی، اتھاس کرنا، پورا کرنا۔

آراستہ: (ذ) سجایا ہوا، سنوارا ہوا۔

آراضی: (۵) (ذ) جمع (ارض کی) زمین۔

حفظ مراتب، تسلیم، سلام۔

آداب سجالاتا: عجز و انکسار سے سلام کرنا (مطمن) سلام کرنا،

قابل کرنا، شرمندہ کرنا۔

— شاہی: (اضافت کے ساتھ)، (ذ)؛ مذکر؛ دربار میں

ماضی کے طور پر، بادشاہوں کو سلام کرنے یا ان سے

گفتگو کرنے کے طریقے اور ڈھنگ۔

— و انقباب: مذکر؛ خطوں میں مکتوب ایہ کو اس کے مرتبے

کے مطابق مخاطب کرنے کا لفظ۔

آدر: (۵) مذکر؛ عزت، آدھمبگت، حرمت، تعظیم

قدر و منزلت، احترام، خاطر مدارات۔

آدرش: (۵) مذکر؛ اصول، مثال، نمونہ، اخلاق مثالی۔

آدرمان: (۵) مذکر؛ عزت، توقیر، تعظیم و تکریم۔

آدرنیہ: (۵) قابل احترام، محترم۔

آدم: (۵) مذکر؛ نسل انسانی کا سب سے پہلا انسان۔

— ثانی: (اضافت کے ساتھ)، (ذ)؛ مذکر؛ حضرت نوح کا لقب۔

— خور: (ذ)؛ مذکر؛ انسانوں کو کھا جانے والا زندہ۔

— زراو: (ذ)؛ مذکر؛ انسان، آدم کی اولاد۔

— نما: (ذ)؛ آدمی سے ملتا جلتا، جیسے بنائے گئے اور پانچ

آدمی: (ذ)؛ مذکر؛ آدم کی طرف منسوب، انسان، اچھے اخلاق

والا، انسانیت اور آدھیت والا، نوکر چاکر، ملازم،

قاصد، خاوند، جو رو، آشنا۔

— اناج کا کپڑا ہے: آدمی کی زندگی اناج سے ہے، انسان

کی زندگی کھانے کے بغیر ممکن نہیں۔

— آدمی آشتو، کوئی ہیرا کوئی گنکر: (۵) (مثل) سب

آدمی یکساں نہیں ہوتے، آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے۔

— جانے بیسے سونا جانے کسے: (مثل) آدمی کی اچھائی بڑائی

امتحان کے بغیر نہیں معلوم ہوتی۔

آدمیت: (ذ)؛ موٹھ؛ انسانیت، اچھی خصالتیں۔

آدمیش: (۵) مذکر؛ حکم، اجازت، فرمان۔

آدینہ: (ذ)؛ مذکر؛ جمعہ۔

آدھ/آدھا: پورے کا نصف؛ $\frac{1}{2}$ ۔

آر سی مصحف ہونٹ؛ ہندوستانی مسلمانوں کے بعض طبقوں میں شادی کا ایک رسم جس میں دولہا اپنی دھن کا سنہ پہلی پانچھنیں دیکھتا ہے۔

آر فیت (آر سی بیت) ہونٹ، اہام پرستی۔

آر کیا لوجی ARCHAEOLGY (انگ) مذکر علم آثار قدیمہ۔

آرگن ORGAN (انگ) مذکر؛ (۱) ایک قسم کا انگریزی باغداد (۲) ترجمان، اخبار یا رسالہ جو کسی جماعت کے متعلق مرتب کیے

آر می: (ARMY) (انگ) ہونٹ؛ فوج، لشکر، عسکر۔

آریا: (سنسکرت) مذکر؛ (۱) وسط ایشیا کی ایک پرانی قوم (۲) بڑا، بزرگ، معزز شریف، نجیب، اہل، قابل عزت۔

سماج: آریا لوگوں کی انجمن یا فرقہ جو دیوں پر عمل کرنے کا مذہب ہے۔

وگرت: آریا لوگوں کے رہنے کا مقام، یعنی ہندستان۔

آرٹ: ہونٹ؛ پردہ، اوٹ، حجاب، پناہ، سہارا۔

آرٹا: (۱) ٹیڑھا، ترچھا، ایک قسم کا دھاری دار ریشمی کپڑا۔

آرٹو: مذکر؛ ایک پھل و شتالو۔

آرٹھی: مذکر؛ ساتھی، دوست، لشکر کے کبیل میں اپنے اپنے گروہ کے ساتھی۔

آرٹے آنا: برے وقت پر کسی کے کام آنا حمایت کرنا مصیبت میں کسی کو مدد

ہاتھوں لینا، کھری کھری سنا، تاشا، کسی کی خوب خبر لینا۔

آ-ز

آز: (د) ہونٹ؛ حروس، لالچ، طبع۔

آزاد: (د) جو غلام نہ ہو، کسی کو پانہندہ ہو، مجبور نہ ہو، بے غم،

جدا (۲) فقروں کا ایک فرقہ جو کسی مذہب کا پانہندہ نہیں ہوتا (۳)

بے ضرورت، بچوں کا آدمی، خود مختار۔

آزاد: (د) شریف، آدمی، کسی کی پاسداری نہ کرنے والا بے تعلق۔

آزاد: (د) ایک ننگ بے تیر، آزادی تعلقات سے پاک بے لوث۔

آزاد: (د) آزادی، آزادی، آزادی کا آدمی۔

آزادانہ وضع: آزادیوں کے لوگوں کی وضع، دنیا داروں کے وضع۔

آزادانہ وضع: ہونٹ؛ وہ نظم جو روایت و تقاضا کی پانہندی سے آزاد ہو۔

آزادہ روی: (د) ہونٹ؛ (۱) آزادی سے کام کرنے کا طریق (۲) اپنی

آرام: (د) مذکر؛ شکم، چین، تسکین، شفا، صحت، افاقہ، راحت، نیند۔

آرام پسند/طلب: (د) سست، کاہل۔

آر سی: ہونٹ؛ بچے دار کرسی، آدھا بیٹھنے کی کرسی۔

آرایش: (د) ہونٹ؛ سجادہ، بناؤ، سنگار۔

آریار: ایک طرف سے دوسری طرف تک اس سرے سے اس طرف تک۔

آرٹی: (۱) ہونٹ؛ وہ روشنی جو چوہا کے وقت دیوتاؤں کے سامنے پھرائی جاتی ہے۔

آرٹ: (انگ) مذکر؛ ہنر، فن، معنائی، سلیقہ۔

آرٹس: (انگ) مذکر؛ معلوم، فنون، ادبیات۔

آرٹسٹ: (انگ) مذکر؛ (۱) فن کار، کلا کار،

استاد، بالکل ایکٹر (۲) صنایع ہنست گر، صنعت کار جس کا راجہ دستور۔

آرٹیکل: (انگ) مذکر؛ (۱) مضمون، مقالہ (۲)

ضابطہ یا دفعہ (قانونی اصطلاح)

آرٹشپ: (انگ) مذکر؛ (۱)

عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری (۲) لاٹ پادری۔

آرٹو: (د) مذکر؛ آٹا پسا ہوا تھلہ۔

آرڈر: (انگ) مذکر؛ (۱) حکم، ہدایت ترتیب

(۲) مانگ، طلبی، فرمائش۔

آرڈنری: (انگ) معمولی، رسمی۔

آرڈیننس: (انگ) (۱) اسلحہ خانہ

(۲) توپ خانہ، (۳) دستے والی بندوق۔ توپ۔

آرڈیننس: فوجی کارخانہ۔

آرڈیننس: (انگ) مذکر؛ (۱) ضابطہ:

(۲) مذہبی رسم (۳) غیر معمولی حکم (رسم کاری) (۴)

پچھائی حالات میں نافذ کیا گیا قانون۔

آرزو: (د) ہونٹ؛ حسرت، متنا، خواہش۔

آزاد: (د) آزادی رکھنے والا، تنہا کرنے والا۔

آر سی: (۱) ہونٹ؛ آئینہ، عورتوں کے ہاتھ کے انگوٹھے میں

پہننے کا شیشہ جو آرزو دہندہ۔

آسرا: مذکر، سہارا، امید، بھروسا۔
 آشکر آوارٹو: OSCAR AWARD (انگ)، مذکر، مشہور فلمی انعام۔
 آسمان: (د) مذکر، آکاش، فلک۔
 — اور زمین کا رونا: غم کا عام ہونا۔
 — بنا دینا: بسا لند کر کے بہت بڑھا دینا، آڈنا کو اعلانا، چھوٹے کو بڑا کر دینا۔
 — پر بڑھچھا دینا / پر چڑھا دینا / پر چڑھانا: (۱) تعریف میں بسا لند کرنا، (۲) منور کر دینا، (۳) عزت دینا۔
 — پر دماغ رہنا / ہونا / پر مزاج ہونا: منور ہونا، گھمنڈ ہونا، مزاج میں غرور و نخوت سما جانا۔
 — پھٹ پڑنا: بہت بڑی مصیبت آ پڑنا، ناگہانی مصیبت آجانا۔
 — تھرا آنا: (۱) شدید ظلم (۲) کسی عظیم واقعے یا حادثے کا ظہور ہونا۔
 (۳) بے کسی کی فریاد (۴) شجاعت کی دھاگ نندھنا۔
 — ٹوٹنا / ٹوٹ پڑنا: کسی انتہائی مصیبت میں پھنس جانا۔
 — زمین ایک کر دینا / کر ڈالنا: (۱) بے حد کوشش کرنا، بہت دوڑ دھوپ کرنا، (۲) ہلڑھا دینا، ہل چل ڈالنا۔
 — زمین کے قلابے ملانا: (۱) انتہائی کوشش کر ڈالنا، (۲) بسا لند سے زیادہ کرنا، بے فائدہ باتیں بنانا، بے حد جھوٹ بولنا۔
 (۳) بیماری، توڑ چوڑ (۴) ہنگامہ برپا کرنا، ہل چل ڈالنا۔
 سر سر آٹھانا / آٹھالینا: شور و غل کرنا، اودھم مچانا، چیخنا، چلاتا۔
 — سے باتیں کرنا: عمارت یا کسی اور چیز کا بہت اونچا ہونا۔
 — سے تارے آتار لانا: بہت دُشوار کام کرنا، بظاہر ناممکن کام انجام دینا۔
 — سے گرا اکھوڑ میں آٹھکا: ایک بلا سے چھوٹا دوسری میں پھنسا۔
 — کا تارا: (۱) نایاب چیز، نادر چیز (۲) بہت اونچائی اور بلندی پر پہنچ کر ٹینگ یا کسی چیز کا چھوٹا نظر آنا۔
 — کا تھو کا اپنے ہی منہ پر آنا ہے: (دش) تہمت لگانے والا ہی رونا ہوتا ہے، پاکستان ہستان سے بدنام نہیں ہوتا۔
 — میں تھکلی لگانا: (۱) دُشوار کام کرنا (۲) جیتاری کرنا، چالاک کرنا۔

راہ چلنا۔
 آزار (دش) مذکر، بیماری، دکھ، روگ، ایذا، رنج۔
 آزر: (د) مذکر، حضرت ابراہیم کے زمانے کا مشہور بت تراش۔
 آزر قہ: (دش) اناس، رنجیدہ، ناخوش، افسردہ، طویل۔
 آزر قہ / آزر قہ: (دش) مذکر، تھوڑی غذا، تھوڑا بڑق۔
 آزمائنا: جانچنا، تجربہ کرنا، امتحان لینا۔
 آزمائش: (دش) موٹھ، تجربہ، امتحان۔
 آزمودہ: (دش) آزمایا ہوا۔

آ۔ س

آس: موٹھ، (۱) ہتھ بھروسا، آسرا (۲) دھاروں کی اصطلاح، ٹیک، سہارا (۳) دگوتوں کی اصطلاح لگانے والوں کو سہارا دینا۔
 — پاس: ارد گرد، قریب، گرد و پیش، ادھر ادھر۔
 — پاس برسے، دلی بڑی ترسے، (دش) کسی کی ذات سے غیر فائدہ اٹھائیں اپنے اور حقدار محروم رہیں۔
 آس رہنا / سے ہونا / آسید سے ہونا: پیٹھ سے رہنا، عالم رہنا، سچ پیدا ہونے کی توقع ہونا۔
 آسا: (دش) مذکر، امید رکھنے والا، آس رکھنے والا، بایس نہ ہونے والا۔
 آسا: (دش) مانند، مثل، جیسا۔
 آسائش: (دش) توٹ، آسان جھوٹ کہا ہے، ہونڈ، آرام دینا۔
 آستاں / آستمان: (دش) مذکر، چوکھٹ، راحت رانا، بزدلوں کے مکان، درگاہ، بارگاہ۔
 — بوسی: (دش) (۱) چوکھٹ چومنا، (دھمازا)، تسلیم، خدمت گزار (۲) آستاں پوس ہونا، بزدلوں یا بڑوں کے مکانوں یا مزاروں پر چاھری دینا، ادب وانکسا کرنا۔
 آستین: (دش) موٹھ، کرتے قمیص، شیروانی، کوٹ وغیرہ کے بازو کا حصہ۔
 — چڑھا نا: (۱) کسی کام کے لیے مستعد ہونا، (۲) لڑنے کے لیے غصے اور غضب کی حالت میں تیار ہونا۔
 — کاساٹپ: مذکر، چھپا ہوا دشمن، دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والا، مل کر دھوکا دینے والا۔

زندگی کی چار حالتیں: (۱) برہم چرہ (۲) گارتھ (۳) وان پرتھ (۴) سلیاس (۵) مکرہ سکوت گاہ تھاگاہا مقام، جگہ، مکان، گھر۔
 آشفٹگی: (د) موت؛ پریشان، پرانگندگی۔
 آشفقتہ: (د) پریشان، پرانگندہ، بدحواس۔
 ستر: (د) بشری، سودا، بدحواس۔
 مؤ: (د) بھڑے بال والا (۲) کنایا (مغموم، پریشان، غمزہ)۔
 آشکارا / آشکارا: (د) ظاہر، واضح، اعلانیہ، کھلا ہوا۔
 آشنا: (د) دوست، شناسا، واقع، جان پہچان (۲) نامائزہ تعلقات رکھنے والا مرد یا عورت۔

آشنائی: (د) محبت، دوستی، پناہ، (۲) صاحب سلامت معولی جان پہچان، شناسائی (۳) عورت مرد کا ناجائز تعلق۔
 آشوب: (د) مذکر، شور، غوغا، فتنہ، فساد۔
 چشم: (د) مذکر، آنکھ کا جوش کرانا، آنکھ آنا، (۲) آنکھ دکھنا۔
 آشیائیں / آشیانہ: (د) مذکر، گھونٹلا، پرندوں کا گھر، (۲) آدمیوں کے رہنے سہنے کی جگہ، ٹھکانا۔
 آشپرواد: (د) سنسکرت، مذکر؛ خیر یا خیر کی خواہش ظاہر کرنے والا فقرہ، آتشش، دعا، دعا، نغیر۔

آ - ص

آصف: حضرت یلمان کے وزیر کا نام۔
 آصف الدولہ (آصف الدولہ) اودھ کے فرماں روا، بھل الدولہ کے بیٹے محمد یحییٰ عرف مرزا امانی کا لقب۔
 آصف جاہ: سابق حیدرآباد کے فرماں روا اور لقب۔
 خانانی: ایک قسم کا شلوکہ۔

آ - غ

آغا: (د) مذکر، (۱) آقا، بڑا بھائی، (د) تعظیماً
 مہر کی دانی سب سیکھی سیکھائی: (د) بھل سگین پوری، نہایت چالاک اور عیار عورت۔
 مہر کی ڈیوڑھی: بکنو کا ایک مشہور محلہ شاہ اور غازی الدین حیدر کے وزیر محمد الدولہ آغا میر کی طرف منسوب۔

آسمانی: (د) (۱) آسمان کی طرف منسوب (۲) آسمانی رنگ، نیل گوں (۳) ناگہانی، قدرت کی طرف سے۔
 کتاب: موت؛ خدا کی طرف کسی پیغمبر پر اتاری ہوئی کتاب۔
 آسن: (د) مذکر، (۱) جوگیوں کے بیٹھے کا ڈھنگ (۲) ابن ہندو کے بیٹھے کر پوجا پاٹ کرنے کا پڑا پٹائی (۳) ہندوؤں کے کھانا کھانے کی خاص چٹائی (۴) گھوڑے کی سواری میں سواری گھوڑے کی پیٹھ پر لان سے جو بٹو گرفت (۵) کڑی تخت (۶) مباشرت کا طریقہ۔
 گانٹھنا / لینا: مباشرت ہونا یا کرنا۔
 مار کر بیٹھنا: چارٹو جوگیوں کی طرح بیٹھنا، ہڈاٹھنے کے ارادے سے بیٹھنا۔

آسنی: (د) موت؛ ہندوؤں کے بچا کر کھانا کھانے کا پڑا پٹائی آسودگان خاک: (د) مذکر، مُردے، قبر والے۔
 آسودگی: (د) موت؛ (۱) راحت، آرام، سکھ، اطمینان، (۲) خوش حالی (۳) سیری (۴) امن و امان۔
 آسودہ: (۱) راحت پایا ہوا، مطمئن (۲) جو جی بھر کر کھا چکا ہو۔
 حال: خوش حال، فارغ اہمال۔

آسیا: (د) موت؛ جیتی۔
 آسیب: (د) مذکر، (۱) آلم، کوٹ، تکلیف والا صدر (۲) موت پری، جیت کا سایہ (۳) دشمنی، عداوت (۴) بلا، آفت۔
 زدہ: جن بھوت کا اثر لیا ہوا۔

کاخل / دخل / گزر: آسیب کا اثر۔
 آسیہ: (د) موت؛ دھون کی ہوئی کھانچ حضرت دکنی پریاں آتی تھیں۔

آ - سن

آش: (د) موت؛ بچی ہوئی تلی چیز پی جانے والی تلی غذا۔
 جو: (د) منافق کے ساتھ، (د) مذکر؛ چھلے اور بھنے ہوئے جو کا جوش دیا ہوا پانی۔

آشنا: (د) موت؛ خواہش، امید، آرزو، آسرا۔
 آشتی: (د) موت؛ طلب، صلح، نرمی، محبت، امن، صفائی۔
 آشرم (سنسکرت): مذکر؛ (۱) شیوں اور شیوں کے رہنے کی جگہ (۲) آپڑوں، بکنے یا ٹھہرنے کی جگہ، سادھو سنت کے رہنے کی جگہ (۳) اسمرتی کے مطابق ہندوؤں کی

آغاز: (ت) ابتدا، شروع، پہل، عنوان۔

آغوش: (ت) ہتھ پھرا ہوا، آلودہ۔

آغوش: (ت) موت؛ مذکر؛ گود بھل؛ کنارہ۔

— کا پروردہ: گود کا پالا، دکنا تیا، اولاد۔

— گرم کرنا: گود میں لینا، گود میں جانا۔

آغوں غئے، دودھ پی کر میاں ہوئے مٹے: چھوٹے

دودھ پیتے بچوں سے جو ابھی نہ چل پاتے ہیں اور نہ بول

پاتے ہیں بڑی بوڑھیاں جہل بوش ملیں سے ہتی ہیں۔

آ - ف

آفات: جمع آفت کی (ت) مذکر؛ موت، بلا، بے مصیبتیں دکھ، تکلیفیں۔

— ارضی: (ت) امانت کے ساتھ، (ت) مذکر؛ موت؛ زمین

سے پیدا ہونے والی برائیاں، مصیبتیں، بلائیں، مشکلیں، مشاغل،

— آسمانی / سماوی: (ت) امانت کے ساتھ، (ت) مذکر؛

موت؛ آسمانی حوادث، ناگہانی بلائیں، قسمت کی طرف سے

آئی ہوئی مشکلیں، (ت) مشاغل طوفانی بارش)

آفاق: (ت) مذکر؛ (جمع افق کی)؛ آسمان کے کنارے، (ت) جہان

دنیا، جہان (اردو میں واحد استعمال کیا جاتا ہے)

آفاقی: (ت) صفت؛ ساری دنیا سے متعلق، کائناتی، عالمگیر۔

آفاقیقت: (ت) موت؛ (ت) دنیا، دنیاوی خاصیت؛ (ت)

ہرگز ہونا، وسیع تر ہونا، (ت) خیال یا عقولت کا۔

آف پریٹ OFF PRINT، (ت) ایک، مذکر؛ کسی مطبوعہ نمونہ کی زیادہ پیا۔

آفت زور، موت، ہرج، (ت) دکھ، سختی (ت) تکلیف، جھگڑا (ت) تہر

غضب (ت) شریر، شوخ، چالاک، بے ڈھب۔

— جوتنا: ہنگامہ، ہرا کرنا۔

— دوران / روزگار / زمانہ: (ت) مذکر؛ (ت) امانت کے ساتھ

(ت) چالاک، تیار، زملنے کا چٹا ہوا (ت) کنا تیا؛ مشوق۔

— رسیدہ: (ت) جسے دکھ بچا ہوا مصیبت کا مارا ہوگی۔

— سر سے ٹلنا: کسی آنے والی مصیبت سے بچ جانا۔

— کا پر کالا: آفت کا ٹکڑا، آفت کا بنا ہوا، غضب کا پتلا

رہا، چالاک، بدفیات، شریر، تیار۔

— کی پڑیا / کی پوٹ: (ت) صفت؛ (ت) شریر، تیار، چالاک

دغاباز، مکار۔

آفتاب: (ت) مذکر؛ (ت) سورج، (ت) دھوپ (ت) بلند مرتبہ، خوبیل

سے بھرا ہوا (ت) شراب (ت) خوبصورت؛ (ت) جہان؛ مشوق۔

— ایک نیزے پر آنا / سوا نیزے پر آنا: قیامت ہونا،

— مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سورج کا زمین سے سوا نیزے کے قاصرے پر جانا۔

— بام / لب بام: (ت) امانت کے ساتھ، (ت) (ت) زوال کے

قریب سوز (ت) دکنا تیا، بوڑھا، آخری عمر والا، چراغ سہی۔

— سر پر آنا: دوسرے پر ہونا۔

— مغرب سے نکلنا: (ت) قیامت کے آثار (ت) (ت) جہان؛ ناممکن

بات ظہور میں آنا۔

آفتابہ: (ت) مذکر؛ ایک قسم کا دھنک اور دستہ والا ٹوٹا۔

آفتابی: (ت) (ت) دھوپ کھایا ہوا (ت) ایک قسم کی آتش بازی

(ت) سورج کی طرح گول (ت) چہرے کو دھوپ سے بچانے کی چھوٹی پٹی۔

— چہرہ: مذکر؛ گول چہرہ۔

آفریدگار: (ت) مذکر؛ پیدا کرنے والا، خدا۔

آفریدہ: (ت) پیدا کیا گیا، مخلوق۔

آفریش: (ت) موت؛ پیدا، جنم۔

آفریں: (ت) موت؛ (ت) حسین، واہ وا، شاباش۔

— بادبرائیں ہمت مردانہ: (ت) مقولہ، (ت) ترجمہ آفرین

جے تیری اس مردانہ ہمت پر، نہ جو صلہ کھانے پر یا بہادری کی تہنیت میں ہیں

آفرینندہ: (ت) مذکر؛ پیدا کرنے والا، آفرینندہ عالم بارزنگار، خدا۔

آفس: (ت) OFFICE (ت) مذکر؛ دفتر، آفس۔

آفیسر: (ت) OFFICER (ت) مذکر؛ حاکم، آفسر۔

آفیشین: (ت) OFFICIAL (ت) مذکر؛ صفت؛ سرکاری، دفتری

مذکر؛ عہدے دار۔

آ - ق - آک

آقا: (ت) مذکر؛ مالک، حاکم، خداوند۔

آک / آکھ: مذکر؛ مدار کا ذبح۔

— کی بڑھیا: مدار کے پھل کی روٹی۔

آکا: (ت) مذکر؛ (ت) بڑا بھائی (ت) کلمہ خطاب۔

آسکار : (۴) نکر، روپ، صورت، شکل، چہرہ، ہیئت۔

آکاش : (۵) نکر؛ آسمان۔

گنگا : کہکشاں، بہشت کی ایک ندی۔

وانی : (۱) آواز جو آسمان سے سنائی دے، آسانی

آواز (۲) آل انٹرایڈیو کا نام۔

آکرشک : (۵) کھینچنے والا، جاذبِ توجہ، پرکشش۔

آکرشن : (۵) نکر؛ کشش، جاذبیت۔

آکرمن : (۵) نکر حملہ، چڑھائی۔

آکسن : OXON (انگ) آکسفورڈ یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ۔

آکسیجن : آگ - سی - جن : OXYGEN (انگ) آکسیجن

ایگس جو پانی ہوا اور تپتی کا جو ہے اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے

آگ

آگ : ہونٹ، (۱) آتش، (۲) انگارہ، (۳) سوزش، تپش، (۴) تیزی، چہرہ،

اور تیزی کو کم نہ سمجھیے، (دش) آگ کو توڑی اور دش

کو حقیر بناؤ، نرونگی ہوں تو خطرے سے خالی نہیں۔

اور رزوی کی کیا دوستی : (دش) دوستی چھوڑنا کا

کیا میل، مختلف مزاج لوگوں میں آپس میں نہیں بن سکتی۔

بھجانا : آگ ٹھنڈی کرنا، (بھجانا) بھگڑا فساد دھڑکنا،

غصہ فرو کرنا۔

پریشنا : شدت کی گرمی ہونا، تڑپنے کی دھوپ پڑنا۔

بھولا / بھولا : (۱) لال لال دکھایا ہوا، جلتا بھتا (۲) ہفتے

میں بھرا ہوا، تیز تند، گرم مزاج۔

بھبھوکا ہونا / بن جانا : ہفتے سے لال ہو جانا، غصہ

سے چہرہ تپتا اٹھنا۔

پر پانی ڈالنا : فتنہ فساد دبا دینا، کسی کا غصہ فرو کرنا

فقہور کو ٹھنڈا کرنا۔

پر تیل ڈالنا / ٹپکانا / چھڑکانا : شعلے کو اور بڑھانا

فتنہ فساد بڑھانے والی بات کرنا۔

پڑ جانا : (۱) جلن پیدا ہو جانا (۲) علوت ہو جانا، بٹلے لگنا۔

تیلوں سے لگنا : بہت غصہ آنا، جل جانا، رشک کی

آگ بھڑکانا۔

آگ ٹھنڈی کرنا : (۱) آگ بجھانا (۲) مجازاً فتنہ فساد فرو کرنا۔

جاگ اٹھنا : (۱) مریضی ہونی یا دلی ہونی آگ کا پھر

بھڑک اٹھنا (۲) بھاننا، دبا ہوا شوق دوبارہ بڑھ جانا۔

جانے کہا جانے، دھونکنے والے کی بلا جانے : (دش)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ کام کسی کے حکم سے کرتے ہیں۔ ہم

اس کے نتیجے کے بالکل ذمہ دار نہیں ہیں۔

سُلاگانا : آگ جلانا، آگ روشن کرنا۔

کا پیر کالہ : نکر؛ آگ کا ٹکڑا، انگارہ۔

کا ہنسا : اٹلے توڑے کی کالک پر یا تنور میں آگ کے

مہین چمکتے ہوئے دانے۔

کھلانا : آگ سلگ سلگ کر کالی رہ جانا، خشک طور پر

روشن نہ ہونا۔

کے مول / آگ کے مولوں : بہت مہنگا، گراں قیمت۔

کھائے گا / بھجائے گا : بڑے کام کا انجام برا ہے۔

جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔

لگا کر پانی کو دوڑنا : خود تکلیف پہنچا کر یا خرابی پیدا کر کے

دکھانے کے لیے مدد مانگنا، دھوکا دینے کی سازش سے بھڑکنا۔

لگانا : (۱) جلانا، آگ دینا، (۲) بھاننا، لگائی بھائی کرنا،

(۳) شوق و ولولہ پیدا کرنا، (۴) شوخی، شرارت (۵) چہرہ اٹھ

(۶) بڑا دکھ کرنا، نفرت کرنا، (۷) لٹا میٹ کرنا، غارت کرنا، بھگڑ دینا

(۸) دل جلانا، کلبجا چونک دینا۔

لگے : دھوا، بددعا، غارت ہو، اُجڑ جائے، مٹ جائے۔

میں ٹوٹنا : (۱) تڑپنا، بے قرار ہونا (۲) رشک کرنا، حسد کرنا۔

آگ : سامنا، مہرہ، کسی چیز کا اگلا حقہ۔

بھاری ہونا : (۱) راستے کا پرخطر ہونا (۲) صورت کھالہ

ہونا، پریش سے ہونا۔

پیچھا سوچنا : آغا ز اور انجام پر غور کرنا، انجام سوچنا۔

آگامی : (۵) آنے والا، آئندہ، ہونے والا۔

آگاہ / آگ : (دش) واقعہ، ہوشیار جاننے والا۔

آگاہی / آگہی : ہوش، واقفیت، علم، جان کاری،

ہوشیاری۔

آگن : (۱۸) مذکر؛ آنا، وارد ہونا۔

آگے : (۱) مقابلے میں سامنے، (۲) اس سے پہلے، سابق زمانے میں، پیش تر۔ (۳) آئندہ، اس کے بعد۔ دُور۔

آنا : (۱) کچھ کچھ ملنا، تیرہ حاصل ہونا، سزا ملنا (۲) ہوتیوں کا کسی سے پرہیز کر کے اس کے سامنے آنا، مدبر و آنا۔ (۳) کام آنا۔ پشت پناہ ہونا۔

آیت : تقریر یا تحریر کا خاتمہ۔

پچھے : (۱) ادھر (۲) ادھر (۳) حاضر خائب (۴) بچے درجے (۵) بے ترتیب (۶) دیر سویر۔

خدا کا نام : پس خاتمہ ہے، انتہا ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں۔

سے ہوتی آئی ہے : پہلے سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔

قدیم زمانے سے جاری۔

کنواں پیچھے کھائی : جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے دونوں میں خرابی ہو۔ آگے پیچھے کوئی راہ کھلی نہ ہو۔

کوکان ہوئے : آئندہ کے لیے متنبہ ہوئے، آئندہ ایسا نہ ہوگا، آئندہ احتیاط رہے گی۔

نا تھ نہ پیچھے بچھا : (مثل) آگے نکلیں اور پیچھے پھانسی کی سی، آزاد، لاوا، ارشاد جس کے اولاد نہ ہو، جس کا کوئی پوتھنے اولاد نہ ہو۔

پا تھ نہ پیچھے پات : (مثل) نہایت مناس جسے ستر ڈھلکے کو تھنرا بھی میسر نہ ہو، کھنگال۔

آگیا / آگیا : (۱۸) مؤنث، حکم، اجازت، ارشاد و فرمان۔

آ-ل

آل : (۱) مؤنث، (۲) اولاد، بیٹے، پوتے (۳) کنہ، خاندان۔

آلا : (۱) مذکر، (۲) دیوار میں چھراغ وغیرہ رکھنے کی جگہ، طاقتور (۳) وہ زخم جو بھر گیا ہو مگر پوری طرح سوکھا نہ ہو۔

آلات : (۱) مذکر، (۲) جمع آلہ کی (۳) ہتھیار اور زار (۴) ساز و سامان۔

آلام : (۱) مؤنث، (۲) جمع الم کی، رنج و غم۔

آل اولاد : مؤنث، بال بچے، خاندان۔

آلائش : (۱) مؤنث، (۲) اہل کبیل، آلودگی (۳) پیٹ کی

انتڑیاں (۳) پیٹ ہو وغیرہ، فائدہ مادہ۔

آلِ ہیسر / رسول / سی : (۱) مؤنث، (۲) اضافت کے ساتھ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد و مساجد۔

آلِ عبا : (۱) مؤنث، (۲) اضافت کے ساتھ حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ (سے مراد)

آلِ کارنگ : مذکر، ایک درخت کی لکڑی سے نکلنے والا لال رنگ۔

آلبین : دیکھو الپین۔

آلتی / رپالسی : مؤنث، چارنوا نو بکر ٹیٹیا، ایک قسم کی نشست۔

آلس : سستی، کاپی، آسکت۔

آلسی : سست، کابل۔

آلس : (۱) مذکر، آلس، کاپی، سستی۔

آلسی : مؤنث، کاپی، سستی۔

آلو : زمین کے اندر جڑ میں پیدا ہونے والی ایک ترکاری۔

سُخارا : (۱) مؤنث، ایک ترش پھل۔

چہ : (۱) مؤنث، آلو جھاڑ سے ملتا ہوا ایک ترش پھل۔

آلو جھٹا : (۱) جاپننا، غور کرنا، نظر ثانی کرنا، تنقید کرنا۔

آلودگی : (۱) مؤنث، گندگی، آلائش، نہجاست۔

آلودہ : (۱) بھرا ہوا، (۲) بڑے کاموں میں چھنسا ہوا ہوش، بڑے افعال کا مرتکب۔

آلہ : (۱) مذکر، (۲) عمل دینے کا آلہ (۳) ہتھیار (۴) اوزار (۵) (۶) محاذ کی کسی شے کے حصول کا ذریعہ۔

کار : (۱) مؤنث، کام کا ذریعہ، جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے۔

آلھا : (۱) مؤنث، (۲) یونہی کے ایک بیباک راجا کا نام (۳) شمالی ہند کے عوام میں برسات میں گائے جانے والے تھے اور گانے

(۴) بجانا، طول طویل بے سر و پایا ہیں۔

آلھا اول : ایک زریعہ نظم جس میں دورا جاتوں کی جنگ کی داستان بیان کی گئی ہے۔

آ-م

آم : مذکر، ہندستان کا مشہور پھل۔

پال رکھنا / ڈالنا : گدرے یا کچے آموں کو پکنے کے لیے

خدا یہ دعا قبول کرے۔

آ-ن

آن : (ر) موت؛ وقت، ساعت، تھوڑی دیر، دم بھر، لحظہ بھر۔

— (ر) موت؛ شان، ناز و ادا۔

— (ر) موت؛ قسم، عہد، شان، عادت۔

— بان : (ر) موت؛ شان و شوکت، سبب و وجہ۔

— کی آن میں : فوراً، ذرا سی دیر میں۔

آن حضرت : (ر) مذکر؛ وہ حضرت، حضرت محمد رسول اللہ۔

— آنا : کسی کے پاس یا قریب جانا۔

— آنا پانی کا حساب : کوڑی کوڑی کا حساب، پورا حساب۔

— آناف آنا : فوراً، دم بھر میں۔

— آفتب : (ر) مذکر؛ آسم۔

— آفتبا ہلدی : موت؛ دو اکے کام آنے والی ایک قسم کی ہلدی۔

— آفتب : موت؛ انتہی۔

— آفتبنا بیٹ کی آفتب جلی توڑ کر فوطے میں آفتبنا، قفق۔

— آفتبوں کا قتل : مہوا اللہ پڑھنا؛ بہت سبھو کا ہونا، بھوک

کی شدت۔

— آفتبیں مہتہ کو آنا : نہایت بے قرار ہونا، بہت بے چین ہوجانا۔

— آفتب سائٹب : موت؛ سائنش، ملی جگت۔

— آفتب / آفتب : موت؛ گروہ، گانٹھ، بیچ۔

— آفتب : (ر) آگ، چینی، ممانی، خالہ۔

— آفتبھی : موت؛ (۱) گروہ، (۲) کینہ، دشمنی (۳) جا بھاد ہی کا تھکا۔

— آفتب : موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

— آفتب : (ر) موت؛ آگ کی ٹو، شعلہ۔

بھوس وغیرہ میں رکھنا۔

— آم کی گیزی / آمی : کچھ چھوٹے آم۔

— کھانے سے کام یا پیر گننے سے : (ر) مثل) مطلب سے

مطلب ہے، بے فائدہ محنت سے کیا حاصل۔

— کھائے پال کا، خنزیر کا کھائے ڈال کا پانی پیے

تال کا ذہب طور عام قادم سے کے ضربی ایش کی طرح کہا جاتا ہے۔

— کے آم، ٹھیلیوں کے دام : (ر) مثل) جس کام میں ہر صورت

سے نفع یا ڈھیر فائدہ ہو۔

— آماج : (ر) بہت، نشانہ۔

— گاہ : (ر) نشانے کی جگہ۔

— آمادہ : (ر) تیار، مستعد، راضی۔

— آماس : (ر) مذکر؛ سوجن، عوم۔

— آمد : (ر) موت؛ بلا کسی کے آنے کے کہا یا خیر (۲) آمدنی (۳) بناؤنگ غیر

اور بیساختگی سے دل میں پیدا ہونے والے غلٹالات، خیر الاکارٹائی سے پلا ہونے

آمدن بہ ارادت و رفتن بہ اجازت : (ر) (ر) مثل)

کھانپنے ارادے سے ہوتا ہے، جانا رخصت ہونا، دوسرے

— (میزبان) کی اجازت سے چاہیے۔

— آمدنی : موت؛ یافت، مدخل، حاصل ہونے والی رقم، بچت، نفع۔

— آمر : (ر) حاکم، مطلق العنان، ڈکٹیٹر۔

— آمرانہ : (ر) تانا شاہی، مطلق العنانی، ڈکٹیٹر شپ۔

— آمناسا منیا : مذکر؛ (۱) مقابلہ، مدعی (۲) بے پردگی۔

— آمتا و صدقتنا : (ر) (ہم ایمان لائے اور تم نے پہچانا، بجا و درست۔

— آمریت : (ر) آسم، موت؛ مطلق العنانی، ڈکٹیٹر شپ، تانا شاہی۔

— آملہ : (ر) مذکر؛ آفلا، ایک قسم کا ترش یا کھٹا کسٹلا پھل۔

— آمرز نش : (ر) موت؛ بخشش، خطاؤں کی معافی۔

— آمرز گار : (ر) مذکر؛ خدا نے گناہوں اور خطاؤں

کو معاف کرنے والا، بخشنے والا۔

— آموختہ : (ر) مذکر؛ پڑھا ہوا، پچھلا سبق۔

— آموزگار : (ر) سکھانے والا، استاد۔

— آمیزش : (ر) موت؛ میل، ملاوٹ۔

— آہین : (ر) موت؛ دل سے خدا ایسا ہی ہو، (دعا یہ کلمہ)

بینائی (۱۵) پرکھ و واقفیت، شناخت (۱۴) بصیرت، حق شناسی
 اندر یعنی، روحانی روشنی (۱۵) آس، اُمید۔
 آنکھ اُفتنگی ہونا: سرخ رو ہونا، ذلت و درہنہ، ساتھیوں میں
 برابری اور عزت حاصل ہونا۔
 — آنا: آنکھ دکھنا، آشوب چشم۔
 — ہٹانا: آنکھ سے اشارہ کرنا۔
 — بچانا: دیکھ کر اتھان بن جانا، بے مروتی کرنا، اغماض کرنا۔
 — بچی نمال دوستوں کا: ذرا سی غفلت ہوئی مال چوری
 ہوئی۔ ذرا نظر لگی شاطروں نے چیز اُڑالی۔
 — بدل جانا: محبت میں فرق آ جانا، اگلی سی بات نہ رہنا۔
 — برابر نہ کر سکتا، بھرم و محاط سے آنکھ سامنے نہ کر سکتا
 جیسا سے نظر نہ ملانا۔
 — آنکھیں بند کر کے کام کرنا، بے پروائی اور اندھے پن سے
 کام کرنا، بے دیکھے بجائے سوچے سمجھے کام کرنا۔
 — پھوٹ پٹا: (۱) ایک بڑا بے رنگ کا ٹٹا، (۲) (مجانا)
 منفرد، حاسد اور ناحق بُرائی کرنے والا۔
 — پھوٹنا: (۱) اندھا کر دینا، (۲) (مجانا) باریک اور نازک
 کام کرنے میں مشقت اٹھانا۔
 — آنکھیں پھیر لینا: بے مروتی کرنا، بے توجہی کرنا۔
 — آنکھیں جھپکنے: (۱) تھوڑی دیر کے لیے ذرا سو جانا۔
 (۲) چمک، روشنی، یا کسی وجہ سے آنکھ ملا کر دیکھ نہ سکتا
 دیکھنے میں مقابلے کی تاب نہ لاسکتا۔
 — آنکھیں پھیرانا: نگاہ بچانا، کترانا، منہ چھپانا۔
 — آنکھیں چار ہونا: نگاہ سے نگاہ کا ملنا، سامنا ہونا،
 نظروں کا باہم ملنا۔
 — سے اوجھل ہونا: نظر کے سامنے نہ ہونا، نظر سے غائب ہونا۔
 — سے کا جل پھیرانا: چہرہ کا اتھال صفا اور چالاک سے
 چوری کرنا، بہت تیار چور ہونا۔
 — سے گر جانا: بغیر ہو جانا، وقعت نہ رہنا، نظروں سے گرجانا۔
 — کا اندھا گانٹھ کا پورا: (۱) بے وقوف مال دار،
 (۲) فضول خرچ، (۳) اناڑی گاہک (۴) بڑھو دولت مند۔

آپہل میں بات باندھ رکھنا: بات خوب یاد رکھنا، نصیحت
 یا وعدہ وغیرہ نہ بھولنے کی تاکید۔
 آجھی: موٹھ، (۱) گرد و غبار طلی ہوئی بہت تیز ہوا (۲) (مجانا)
 نہایت چالاک، مستعد، تیز۔
 — روگ آنا: کسی کام کو متواتر کرتے کرتے تمک جانا، عاجز آ جانا۔
 — کے آم: مذکورہ (۱) آجھی کے دور سے گرنے والے پہل (۲)
 (مجانا) ازراں چیز و مفت کی چیز بے قدر چیز۔
 آئز: HONOUR (آگ) عزت، عظمت، توقیر، اعزاز،
 احترام، قدر، منزلت۔
 آئزبیل: HONOURABLE (آگ) ذی عزت صاحب تہ۔
 آئزبیری: HONORARY (آگ) بلا معاوضہ، اعزازی۔
 آئسو: مذکورہ غم یا خوشی سے آنکھوں میں پیدا ہونے والا پانی۔
 — بھر آنا / لانا: آبدیدہ ہو جانا، رونے کے قریب ہونا۔
 — پوسچھنا: (۱) آنکھ سے آنسو پونچھ دینا، (۲) (مجانا) تسکین
 دینا، دلاسا دینا مصیبت کے بارے میں مظلوم کی دادرسی۔
 — پینا: (۱) آنسو آنکھ سے باہر نہ نکلنے دینا، (۲) (مجانا) ہٹنے
 کو روکنا، ضبط کرنا، صبر کرنا۔
 — خشک ہو جانا: کسی غم کی بات پر رونانا، اندام اور انتہالی
 رنج و غم۔
 — ڈبڈبا آنا: آنکھوں میں آنسو بھر آنا، آنکھ آنسوؤں سے
 بھر جانا۔
 — سوکھ جانا: خشک ہونا: غم کی شدت کی وجہ سے
 آنسو کا نہ نکلنا۔
 — آنسوؤں سے پیاس نہیں بچتی: رونے یا آنسو پانی جانے
 سے غم دور نہیں ہوتا۔
 — سے منہ دھونا: ناز زار رونا، اتنا رونا کہ آنسوؤں
 سے چہرہ بھیج جائے۔
 آنکھڑا: مذکورہ (۱) کاٹنا، (۲) لوہے کی پیرھی سیخ (۳) ہندسہ۔
 آنکس: مذکورہ بگ، ہتھی کو لٹکے کا ٹھیرا، ہنی آلہ۔
 آنکنا: بچنے کرنا، جانچنا، پرکھنا، تابوں کا پڑے خصوصی نشان لگانا۔
 آنکھ: (۱) موٹھ، (۲) دیکھنے کے عضو کا نام، (۳) دیکھنے کی قوت، بصارت،

آنکھ کا پانی مرجانا: شرم نہ رہنا، حیا و محاظ نہ رہنا۔

— کا پردہ: مذکر، عورتوں کا ظہر مردوں سے لحاظ۔

— کی پستلی: (۱) دیدے کا سیاہ حصہ (۲) دھماڑا، نہایت عزیز اور پیارا۔

— کے اشارے پر چلنا: ذرا سے اشارے پر حکم کی تعمیل کرنا، معمولی سا اشارہ پاتے ہی کام کر دینا۔

— کھلنا: (۱) جاگنا، (۲) غفلت دور ہونا، کسی بات کے نتیجے میں سبق حاصل کرنا، نصیحت لینا (۳) جانوروں جی، کتے شیر وغیرہ کے بچوں کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد آنکھ کھلنا۔

— لگنا: (۱) نیند آنا، سونا، (۲) سہارا۔

— رچولی / رچولا: بچوں کا کھیل، آنکھ چھوٹی۔

— میچنا: آنکھ بند کر لینا، ہوجانا تیز روشنی سے آنکھیں میچ لینا۔

— میٹلی نہ ہونا: (۱) کسی صدمے کو خاطر میں نہ لانا، دکھ درد میں ذرا بھی جوڑی پر عمل نہ لانا، (۲) بے رخی نہ کرنا، ذرا بھی غم نہ دکھانا، دل میں تھوڑی سی کدورت بھی نہ لانا۔

— میں پانی آتر آنا: نزلے سے آنکھ کی جھلی میں پانی آجانا، (جس سے بصارت منانے ہوجاتی ہے)

— آنکھوں میں کھٹکنا: آنکھوں میں چھینا، بہت بُرا معلوم ہونا، ناگوار ہونا۔

— آنکھوں میں گھومنا: پسند آنا، بھلا معلوم ہونا، یاد تازہ ہونا۔

— ناک سے دُورست: معمولی قبول صورت، بدظاہر کوئی جسمانی عیب نہ ہونا، نہ بہت خوبصورت نہ بہت بُری صورت۔
— نہ آنکھ سلکنا: شرم و ندامت سے نگاہ نیچی رہنا، کمزوری اور ضعف سے نظر نہ اٹھنا۔

— آنکھوں آنکھوں / آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوجانا: (مادہ) آنکھوں کے اشاروں سے باتیں ہوجانا۔

— آنکھوں میں رات کٹنا: رات جاگتے گزر جانا، تمام نہ سونا۔

— پر بٹھانا: بہت زیادہ عزت کرنا، انتہائی خاطر تواضع۔

— پر پردے پڑ جانا: بغیر ہوجانا، غافل ہوجانا،

کچھ نہ سوچنا۔

— آنکھوں پر ٹھیکری / ٹھیکریاں رکھ لینا: بے حیائی میں ڈھیٹ ہوجانا، کسی آئے گئے کی شرم اور محاظ نہ کرنا، بے مروتی، بے دردی، سنگ دلی برتنا، انانصافی کرنا۔

— پر چربی چھانا: بے باک و بے حیا ہونا، سستی چھاجانا، غرور اور گمنڈ پیدا ہوجانا۔

— دیکھا حال: مذکر، کھیل تماشے، جلے جلوس، میچ وغیرہ کی روداد دیکھنے والے کا بیان کرنا، یا رٹ پور پرنشر کرنا۔

— دیکھی مکھی نہیں بھگی جاتی: (دش)، جان بوجھ کر کوئی کام عقل اور شان کے خلاف نہیں کیا جاتا۔

— سے: بہت خوشی سے، پر سر و شہم۔

— سے کسی چیز کو: لگانا: پیار محبت یا غفلت یا تقدس کے خیال سے

— سے نیل ڈھلنا / ڈھل جانا: مرتے وقت آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے قطرے۔

— کا تارا: مذکر، (۱) آنکھ تامل (۲) دھماڑا، محبوب، پیارا، اولاد۔

— کاتیل نکالنا: آنکھوں پر نرسوڑا ل کر کھن کام کرنا، دیدہ دلدا پرغیر معمولی بار پڑنا، دیدہ ریزی کا کام۔

— کا نور: (۱) آنکھوں کی روشنی (۲) دھماڑا، اولاد۔

— کو جیکا چوندی آنا: روشنی کے سامنے نظر نہ ٹھہرنا۔

— کی پستلی: (۱) دیدے پر سیاہ یا کرنبی یا بھوسے رنگ کے نیچولے میچ گول دائرہ (۲) دھماڑا، زیادہ عزیز اور پیارا۔

— کی سوتیلیاں نکالنا: گمی ہیں: (دش) بہت محنت مشقت اٹھانے کے بعد تھوڑی سی کمی رہ جانا۔

— کے اندھے نام میں سکھ: (دش) چھوٹے اور بے وقوفی کے باوجود اپنے تیز دار ادا ہونے کا دعویٰ کرنا، اپنی بُرائی کو نہ پہچاننے اور اپنے میں اچھائی ہونے کا اظہار کرنا۔

— کے آگے ناک، سوجھے کیا ناک: (دش) بے وقوفی بے اکل شخص کو سامنے ٹہری ہوئی چیز سوجھے اور دھڑ دھڑھوڑتا ہے۔

— میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا: دشمنی سے نظر لاکر بات کرنا، دلیری سے برابر دیکھتے ہوئے بات کرنا، قصور کے بعد بھی بے شرمی سے نظر ملا کر ڈٹ کر بات کرنا۔

آنکھوں میں پھر جانا: کسی چیز کی نہ سبب شکل آنکھوں کے سامنے آجاتا، اسی غائب چیز کا تصور میں آجاتا۔
 — میں تر مڑے کڑنا: دائمی کمزوری سے آنکھوں کے سامنے قندے ذرے رہا چمکتے تھے سے نظر آنا۔
 — میں ٹھنک پڑنا: جی خوش ہونا، آنکھوں میں تروت آنا۔
 — میں جان اگنا: کسی کو دیکھنے کی آرزو نہ ہوتی تھی جا کا کارہنا۔
 — میں جان آنا: (۱) آنکھوں کو جھلا معلوم ہونا، دل کو راحت ملنا (۲) تمام جسم سے جان نکل کر آنکھوں میں آجاتا، انسان کا آخری وقت۔
 — میں چکا چوکھو ہونا / آنا: ہچک کے سامنے نظر کا نہ ٹھہرنا۔
 — میں جڑی چھا جانا، مغرور ہونا، نخوت دکھانا، اپنے مرتبے سے بڑھ کر چلنا۔
 — میں خاک ڈالنا: جھوٹا کھانا کھل ہونی، بات کا کرنا، گھلا دکھانا دینا بیچنے والے کا ملاحظہ نہ ہری چیز کو اچھی کہہ کر بیچنا۔
 — میں خون آنا: غصے سے آنکھیں سرخ ہو جانا۔
 — میں رات گنا: رات بھر کسی وجہ سے سو سکتا جاگے جاگے رات گزار دینا۔
 — میں رہنا: بہت عزیز ہونا، ہمیشہ یاد اور نظر میں رہنا۔
 — میں سرسوں پھولنا: نردہی زرد نظر آنا، ہر چیز بھل گنا۔ بہت خوش ہونا۔
 — میں سماتا: آنکھوں میں بس جانا، ہمیشہ نظروں میں پھرتے رہنا، بہت عزیز ہونا۔
 — میں کھائے جانا: رخصت کی نگاہ سے دیکھنا، بہت چاہ کی نظر سے دیکھنا۔
 — میں نقشا پھر جانا / رکھنا جانا: کسی چیز کی ہو بہ ہو تصور نظروں کے سامنے آجاتا۔
 — آنکھیں اُگلی پڑنا: شدت بخاری کسی وجہ سے دہروں کا اظہار آنا۔
 — ریکھنا: بہت خاطر دلالت کرتا، بہت عزت و تعظیم سے پیش آنا۔
 — بدل جانا: بے مروت ہو جانا۔
 — بدلنا: (۱) بے مروتی کرتا (۲) نزع کے وقت تیلیاں بدلنا۔
 — پٹ پٹانا / پٹ پٹ کرنا: جلد جلد آنکھیں کھولنا بند کرنا۔
 — پھیرے طوطے کی سی باتیں کرے میاکی سی (دش)

خود غرض اور بے مروت شخص ظاہر داری سے شمس میں لگاوت کی باتیں کرے۔ مروت نام کو نہ ہو۔
 — آنکھیں چھپکانا: (۱) پلک مارنا (۲) دکھانا، بہت تھوڑی دیر کے لیے کھلنا۔
 — چھپکانا: (۱) نظرس پھانا، چشم پوشی کرنا، کترانا (۲) آنکھیں سامنے نہ کرنا، شرمانا، بھانا، جھا کرنا، (۳) بے مروتی کرنا۔
 — دکھانا: رہنا، منہ سے کچھ نہ کہنا، آنکھوں سے غصے اور خفگی کا اظہار کرنا، چشم نہانی۔
 — دوچار ہونا: آسنا سنا ہونا، ملاقات ہونا۔
 — ڈگر ڈگر کرنا: کمزوری سے آنکھوں میں حلقے پڑنا۔
 — آنکھوں سے ضعف ظاہر ہونا۔
 — روشن ہونا: کسی چیز کو دیکھ کر آنکھوں میں تازگی آنا، نور آنا۔
 — فرش راہ کرنا: بہت عاجزی اور عقیدت سے کسی کے استقبال کا شوق ظاہر کرنا، بہت تعظیم و تکریم کرنا۔
 — گھل جانا: آنکھیں روشن ہو جانا، حقیقت کھل جانا۔
 — گھولنا: ہلے ہونا، ہوش سمجھانا، ہوشیار ہونا (۲) باغ ہونا۔
 — لڑانا: (۱) آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھنا (۲) کسی پر فریفتہ ہونا۔
 — لگی رہنا: انتظار کرنا، کسی کی طرف خشکی بندھی ہونا۔
 — مندنا: (۱) آنکھیں بند ہونا (۲) مر جانا۔
 — نکال کے دیکھنا: غصے سے دیدے کمال کے دیکھنا، نضا ہونا۔
 — نکل آنا / پڑنا: لافزی سے آنکھوں کے حلقے دھس جانا، دھیل کا بھرتا۔
 — پہلی پہلی کرنا: قہر اور غصے کی نظر سے دیکھنا، غصے سے لال پہلا ہونا۔
 — آنکھیں: مذکر، صحن، انگنائی۔
 — آنکھ: خوشی، اطمینان، چین۔
 — آنو: مونت، ہمیش میں آتوں سے نکلنے والی رطوبت۔
 — آنولا / آملہ: مذکر، ایک ترش کھیلا جھیل، (دیکھو آملہ)
 — آنول نال: مونت، نومو روڑے، کئی نوت سے نگی ہوئی نالی کے سرے کے گوشت کا ٹھنڈا (جونا نال) کے بعد گارو یا جاتا ہے)
 — آئی جانی چیز: نال پائے مار، قائم نہ رہنے وال، فانی۔
 — آو / آوہ: (۱) مذکر، کہہا کی جھتی، پڑا (۲) پڑا (۳)

آوارہ : (د) سرگرداں، پریشان، مارا مارا پھرنے والا، بدچلن۔
 وطن : (د) پردیسی، مسافر، غریب الوطن۔

آویزاں : (د) لٹکا ہوا۔
 آویزہ : (د) تذکرہ، کان میں پہننے کا ایک زیور، بُندا۔

آ - ۵

آواز : (د) موٹ، صدا۔
 اٹھانا : آواز اونچی کرنا، اونچے سُر میں گانا۔

آہ : (د) موٹ؛ (د) کڑا، فوس (۲) تکلیف سے کر لینے کی آواز۔
 آہیں بھرننا : آہ کرنا، غم میں تڑپنا۔

بیٹھنا / بیٹھنا : عملاً بیٹھ جانا، آواز کھٹی ہوتی ہونا۔
 پھٹنا : آواز کا بھاری ہو جانا۔

پرٹنا / لگنا : صبر بڑھانا، مظلوم کی آہ کا اثر ہونا۔
 سر د بھرننا : (د) اضافت کے ساتھ، ٹھنڈی سانس لینا۔

دینا : پکارنا، بلانا۔
 کایاٹ : تذکرہ، آواز کی رسائی، آواز کی حد۔

سحر گاہ : (د) اضافت کے ساتھ، صبح کی آہ، قبولیت کے وقت کی دعا۔
 نیم شب : (د) اضافت کے ساتھ، موٹ، آدھی رات کی

کان پڑنا : آواز سنائی دینا، آواز کا کان تک پہنچ جانا۔
 گونجنا : کسی چیز سے لگا کر ہوا میں دیر تک آواز کا اثر باقی رہنا۔

آہ، قبولیت اور اثر ایز وقت کی دعا۔
 و بکا / وزاری / وقفال : موٹ، رونائیتا، نالہ و فریاد۔

میں پنی لگنا : سمجھنے سے آواز کا بھاری ہو جانا۔
 زیادہ گانے یا بولنے سے آواز کا بھاری ہو جانا۔

آہوں کا دھواں : مذکر، مسلسل آہیں۔
 آہا / آہا : تعجب یا خوشی ظاہر کرنے کا کلمہ۔

آوازہ : (د) تذکرہ، دا، دھوم، شہرہ، غلغلہ (۲) طعن و تشنیع۔
 آواز کے گنا : آواز سے سنانا، طعن و تشنیع کرنا۔

آہا / آہا : (د) تذکرہ، کاغذ اور مٹیوں پر پھیرنے کی نشانی، خیر و برکت کی۔
 آہا : (د) کھانا، خوراک۔

آواز کے گنا : آواز سے سنانا، طعن و تشنیع کرنا۔
 تذکرہ، آواز جانا، ہرنا، جینا، بار

آہٹ : موٹ، پاؤں کی آواز، آہستہ آہستہ چلنے کی چاپ۔
 آہستہ آہستہ : (د) ٹھہر ٹھہر کر دھیرے دھیرے،

بارجم لینا، تنازع۔
 آؤ بھاؤ : (د) تذکرہ، عزت، توقیر۔

زری سے، آہستگی، تحمل اور سہولت۔
 آہن : (د) تذکرہ، لوہا۔

بھلگت : (د) تعظیم و تحکیم، خاطر تواضع۔
 تاؤ : (د) رنگ، ڈھنگ، تحمل، موقع۔

آہن پوش : (د) صفت، دا، زرہ بکتر پہننے ہوئے (۲)۔
 دکنائیا، بے اثر، بے حس، جامد۔

آؤٹ ڈور شوٹنگ : (د) علمی اصطلاح، کسی فلم کی وہ شوٹنگ جو اسٹوڈیو سے
 موٹ، (د) علمی اصطلاح، کسی فلم کی وہ شوٹنگ جو اسٹوڈیو سے

آہنگ : (د) تذکرہ، (د) قصداً (۲) موٹ، آواز، نغمہ، الپتہ،
 آہٹ : (د) تذکرہ، ہرن۔

باہر کی بیرونی مقام پر کی جائے، (۲) بیرونی قلم بندی۔
 آؤرد : (د) موٹ، (د) بناوٹ اور تکلف سے کسی بات کا پیل

چشم : (د) (۱) ہرن کی سی آنکھ رکھنے والا (۲)۔
 (د) ہماز، مشتوق۔

کرنا (۲) فطری طور پر وہ بات طبیعت میں نہ ہونا۔
 آؤردہ : (د) تذکرہ، لایا ہوا، کسی کی سفارش پر رکھا ہوا

آہوئے چرخ / فلک : (د) دکنائیا، سورج۔
 حُرْم : (د) مکہ معظمہ کی ایک مقررہ حد میں

ملازم، لائی ہوئی چیز۔
 آؤشیک : (د) ضروری، لازمی۔

رہنے والے ہرن جن کا شکار ممنوع ہے۔
 آ - م

آؤش / آؤش : (د) (۱) OUNCE (د) تذکرہ، ایک پونڈ
 (د) وزن کا سولھواں حصہ۔

آہی : موٹ، (د) ہماز، قضا، موت۔

آئینہ رخ / رؤ / رخسار : (دفعہ) دکھنا، حسین اور مشوق۔
 — ساز / گر : (دفعہ)؛ آئینہ بنانے والا۔
 آئینے میں بال آجانا / بیڑ جانا : (۱) آئینے میں کسی وجہ سے ٹوٹنے
 کا خفیہ سائنشن لیکر کسی شکل میں ہوجانا (۲) (مجازاً) کسی کی
 طرف سے کسی کے دل میں ملال پیدا ہوجانا، ہلکا سا فرق آجانا۔
 آئینی : (دفعہ) صفت، قافلی، دستور، اساس کے مطابق۔

آ - می / ے

آیا : پرنگال، موٹ، بچوں کی دیکھ بھال کرنے اور کھلانے
 بہلانے والی خادمہ۔
 آیا : (دفعہ) کلمہ استفہام و تعجب۔
 آیا گیا : مذکر؛ آنے جانے والا، مہمان، مسافر۔
 — ہونا : سببوں جانا، بے باقی ہوجانا، رفت و گذشت ہونا۔
 آیات متشابہ جمع، مشکل اور دشوار آتیں۔
 — محکمہ : (دفعہ) (اضافت کے ساتھ) وہ آیات جن کے معنی
 صاف ہوں، ان میں تاویل کی ضرورت نہ ہو۔
 آیت : (دفعہ) موٹ، (۱) نشانِ علامت (۲) (اصطلاح) قرآن کا ایک پورا جملہ۔
 — سجدہ : (دفعہ) قرآن کی وہ آیتیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہے۔
 آئیز ویدک : (۱) ہندوستانی طریقہ علاج متعلق۔
 آئس کریم : ICE CREAM (انگ) موٹ، ملائی برف۔
 آئندورؤند : (دفعہ) آنے جانے والے۔
 آئندہ : (دفعہ) آنے والا زمانہ / وقت؛ آگے۔
 — کوکان ہو گئے : آئندہ کے لیے احتیاط ہو گئی۔
 آئیڈیل : IDEAL (انگ) مذکر؛ مثالی، میاری، فکری،
 تصوری یعنی، رسمی، خیالی، نفسی، عین، طبع نظر، آدرش۔
 آیو : (دفعہ) موٹ، عمر، مدت، حیات، زندگی۔
 آبیہ : (دفعہ) قرآن کا مکمل جملہ۔
 — رحمت : (اضافت کے ساتھ) (دفعہ) مذکر؛ (۱) قرآن
 شریف کی وہ آیت جس میں رحمت باری تعالیٰ (اللہ) کا
 ذکر ہو (۲) صفت، بہت رحم مزاج اللہ تعالیٰ کی رحمت
 کا نمونہ۔

آئی بلا ٹالنا / آئی بلا (سکر) ٹالنا : آئی ہیں نصیحت
 کو دور کر دینا۔
 — نہیں ملتی / ہوئی نہیں ملتی : موت اپنے وقت
 سے نہیں ملتی۔
 — ہے جان کے ساتھ، جائے گی جنازے کے ساتھ :
 (دفعہ) بڑی عادت مرنے تک نہیں چھوٹی۔
 آئے حواس جانا / ہوش جانا / کھونا : بد حواس ہونا۔
 اوسان کھو دینا۔
 — دن : ہر روز، ہمیشہ۔
 — کی خوشی، نہ گئے کا غم : (دفعہ) نہ کسی چیز کے آنے
 کی خوشی نہ جانے کا غم، استغنا کی شان، بے حقیقت۔
 آئین : (دفعہ) مذکر؛ (۱) دستور، قانون، ضابطہ، قاعدہ (۲)
 رسم و رواج، طرز و روش، طریقہ طریقہ، فرمان۔
 آئیں بائیں شائیں : موٹ؛ زلزلے سے منی بات، مہل
 بات، بے سربازوں کی بات۔
 آئینہ : (دفعہ) مذکر؛ (۱) درپن، آرسی، دیکھنے کا شیشہ (۲) (مجازاً)
 بہت صاف، شگفتہ چیز۔
 — اندھا ہوجانا : مگس نہ دکھائی دینے والا آئینہ، خراب
 آئینہ۔
 — اندھے کو دکھانا : ایسے شخص کو نصیحت کرنا جس میں
 اچھے بُرے کی تمیز نہ ہو، صبح بات کی صلاحیت نہ رکھنے والا شخص۔
 — تمثال : (دفعہ) (۱) آئینے کی طرح (۲) (کنایتاً) مشوق۔
 — چاند دیکھ کر دیکھنا : ایک عام رسم ہے کہ سوائے قوم کے
 سب کتنے چاند دیکھنے کے بعد کسی اچھی صورت اور سیرت
 والے کو آئینے میں خود اپنی ہی صورت دیکھنا۔
 آئینہ خانہ : (دفعہ) مذکر؛ چاروں طرف آئینے لگا ہوا مکان۔
 — داری : (دفعہ) موٹ؛ آئینہ دکھانے کی خدمت؛
 — دکھانا : (۱) سفر سربانے والے عین زین کی پیٹھ کو خیریت واپسی کے
 لیے ٹھیکے کے طور پر آئینہ دکھانا (۲) نالی کا پینے جیمانوں کو دیوالی
 دہوا اور تیرہ عید کے موقع پر آئینہ دکھا کر انعام لینا (۳) سکتے کے
 مرے کے سامنے آئینہ رکھ کر سانس سے زندگی کے آثار دیکھنا۔

ب

ب-ا

- ب : (بے) حروف تہجی کا دوسرا حرف، جن (ا، ب، ہ) میں دو عدد
باب : (ب) ذکر : (۱) دروازہ، کواڑ (۲) قسم، نوع (۳) کتاب کا ایک حصہ
(۴) امر، معاملہ، حق، ثابت، مستحق (۵) دنگاہ، دیوار۔
— اہمیت : (۱) اضافت کے ساتھ : دعا قبول ہونے کا دروازہ
— بازو وا ہونا : دروازہ کھلنا۔
— توہر : (۱) اضافت کے ساتھ : توہر قبول ہونے کا دروازہ۔
— عالی : ذکر : (۱) اضافت کے ساتھ : حاکمی سلطنت کے دارالندار کا نام۔
بابا / باباوا : (۱) بچہ۔ (۲) بیٹا، بزرگ، مددگار، فقیر، باپ، دارالاحسنیت
جناب، صاحب۔
— آدم، ذکر : پہلا انسان، ابوالبشر۔
— آدم بدل جانا : پرانی وضع قائم نہ رہنا، نیا طریقہ آجانا۔
— آدم نہ والا ہونا : انوکھی وضع کا ہونا، عجیب رویہ ہونا، نیا انداز
ہونا۔
باباجی : ذکر : جوگی سنیا سیوں کا ایک درجہ، سادھو۔
بابت : (ب) ؛ ہاسے میں، معاملے میں، نسبت۔
بابر : (ب) شیر، خانان مظفر کا پہلا شہنشاہ۔
بابلی / بابلی : (ب) ذکر : عراق کا بہت پرانا تاریخی شہر، جہاں کاسر
اور انیسویں شہور تھا۔
بابلی : (۱) (۱) باپ، پتہ، والد (۲) ایک عدد انگیز گیت جو بایکے سے دوسرے
کی صحبتی کے وقت گایا جاتا ہے۔
بابون BOBBIN : (ب) ڈانگ، ٹوٹک : (۱) پھر کی جس پر دھاگا
پیٹھتے ہیں (۲) سلائی کی نشین کا ایک ہرزہ کہ گے کی پرچی۔
بابو : ذکر : (۱) خیر کے ایک کارکن لقب، کلک (۲) عزت دار آدمی کا لقب
(۳) بچہ، مالک۔
- پابی : (ب) ذکر : سید علی محمد باب شیرازی کے ماننے والے۔
پاپ : ذکر : والد، پدر، بزرگ، بڑا۔
— بنانا : (۱) باپ کی طرح بزرگ سمجھنا (۲) خوشا مد کرنا۔
— داوا : ذکر : بڑے بڑے، پیڑھی، پشت۔
— رے باپ : خدا کی پناہ، اوقہ، خدا چائے۔
— نہ داوے سات پشت حرام زاوے : بخش، پشت، پشت
کاہذاں ہمیشہ کا نعتہ انگیز۔
— نہ مارے پدڑی بیٹا تیر انداز : بخش، کوئی ایسا بڑا کام کرے جو
اس کے خاندان کے کسی آدمی نے نہ کیا ہو، اور اس پر نازاں ہو یا
ایسے بڑے کام کی جرأت کرے (طنز)۔
بات : مؤنث ؛ (۱) بول، لفظ، تقریر، بیان (۲) قول، چیز (۳) خوبی،
معاملہ، واقعہ، قصور، کام، گفتگو، حکم، عزت۔
— اڑنا : (۱) خبر مشہور ہونا، گپ پھیلانا (۲) جھلنے کا بول میں پڑنا،
بات کاٹنا۔
— اکارت جانا : بات بے کار جانا، ضایع جانا۔
— اُلٹنا : بات بدلنا، پہلے کہے کے خلاف کہنا، کہہ کر دوسری
بات بنانا۔
— آور ہونا : سبھی ہوئی بات سے مختلف ہونا، متعلق بات کے خلاف
بات ہونا۔
— اونچی رہنا : سب باتوں میں اس کی بات مانی جانا، بات
بالا رہنا۔
— آنا : (۱) الزام آنا (۲) نسبت کا پیغام آنا، نسبت آنا۔
— آچھل میں پاندھنا : کسی کے قول کو اچھی طرح یاد رکھنے کا اہتمام
کرنا، بات خوب ذہن نشین کر لینا۔

- آئی گئی ہو جانا : بات کا بھول میں بڑ جانا ، بات ختم ہو جانا ، رفت و گزشت ہو جانا ۔
- آئینہ ہونا ، حال ظاہر ہونا ، واضح طور پر بات معلوم ہونا ۔
- بات : ہر بات ، ہر نعرہ ، ہر انداز ۔
- بات میں چھری کٹ گئی : ہر بات پر لڑنے کو تیار ۔
- بات میں موٹی پڑو نا ، باتیں بنانا ، سخن سازی کرنا ۔
- بدلنا ، کہہ کر ٹھکنا ، بات کے دوسرے معنی پہنانا ۔
- بات بڑی کرنا : دہلی ، ہاں میں ہاں ملانا ، قطع کلام کرنا ، بات کاٹنا ۔
- بڑھانا : جگڑے کو طول دینا ، بحث بڑھانا ۔
- بگڑنا : کام بگڑنا ، الزام آنا ، عیب لگنا ، عزت میں فرق آنا ۔
- بن آنا ، بن جانا : معاملہ ٹھیک ہو جانا ۔
- بنانا : بناوٹ سے گنتھکو کرنا ، بات کہہ رہے بنا کر کہہ ادر کہنا ، بات درست کر دینا ، حقیقت کے خلاف بات توڑ موڑ کر کرنا ، سخن سازی ۔
- بنانے رکھنا : ساکھ قائم رکھنا ، ساکھ بنانا ۔
- بننا : (۱) کامیابی ہونا ، (۲) ساکھ بننا ، مراد حاصل ہونا ۔
- بنی رہنا : ساکھ اور عزت قائم رہنا ، اعتبار میں فرق نہ آنا ۔
- بیچ میں سے لینا ، بات کاٹنا ، دہلی در معقولات دینا ، جاری گفتگو کے بیچ میں سے بات لے لینا ۔
- پر آنا / آ جانا : (۱) بات پر اڑنا ، اچھے رہنا ، بند کرنا ، (۲) قول کی بیچ کرنا ، (۳) ارادہ ، ہمت ۔
- پر چلنا : کسی واقعے کے سلسلہ میں اسی قسم کے دوسرے واقعے کا ذکر نکلنا ۔
- پر بات کہنا ، جواب میں کچھ کہنا ، کسی تذکرے پر کچھ بولنا ۔
- پر قلم رہنا / ہونا : اپنے قول پر بیٹھ رہنا ، قول سے نہ پھرنا ، قول پر برقرار رہنا ۔
- پر کان رکھنا / دھرنا : بات کو غور سے سنانا ۔
- پر مرشنا ، ہر شے آن مان بہر نام کیلئے ہر اذیتا ہاں کی بیچ دیکھنے کو دھرنا ۔
- پھوٹنا : کسی قول کی گرفت کرنا ، حرف گیری کرنا ، ٹھیکہ چینی کرنا ۔
- بیچ کرنا : (۱) معاملہ چھڑ کرنا ، پختہ قرار لینا ، (۲) لڑکی لڑکے کی نسبت بیچنی کرنا ۔
- پچے نہ پڑنا : معاملہ ربات سمجھ میں نہ آنا ۔
- پلوچھنا : (۱) کیا بات ہے معلوم کرنا ، (۲) خبر لینا ، پیمانہ حال ہونا ، (۳) آؤ بھگت کرنا ، تھرو توڑ کرنا ، انصاف کرنا ۔
- پلوچھنا ، بات کی جڑ پلوچھنا : کڑی کڑی کر پلوچھنا ، کسی بات کی حد سے زیادہ جزئیات پلوچھنا ۔
- پیدا کرنا : (۱) بہانہ بنا کر کرنا ، (۲) کوئی ہاریک نکتہ پیدا کر لینا ۔
- پی جانا : سُن کر چپ رہ جانا ، خواہ اس سے گفتگو ہو ، خاموشی سے برداشت کرنا ، غفلت کرنا ۔
- تلخ ہونا : کڑوی بات ہونا ، بات ناگوار اور بد مزہ ہونا ۔
- ٹھنڈی پڑنا : معاملہ دُب جانا ، کم زور پڑ جانا ۔
- ٹھیرانا / ٹھہرانا : کوئی اصرار کرنا ، کوئی بات قرار دے لینا ۔
- جانا : (۱) ساکھ چلی جانا ، بدنامی ہونا ، اعتبار باقی نہ رہنا ، (۲) بیچنا ، پہنچنا ۔ خبر پہنچنا ، (۳) موقع نکل جانا ، (۴) منگنی کا پیام جانا ۔
- جرم جانا : بات کا اثر پیدا ہونا ، بات ذمہ نشین ہونا ، بات دہلی میں بیٹھ جانا ۔
- جی کو لگنا : بات دل کو لگنا ، معقول اچھی بات معلوم ہونا ۔
- جی میں بیٹھنا : بات کا دل پر اثر ہونا ، منصوبے کا جی میں مضبوطی سے بیٹھنا ، بات کا قرین قیاس ہونا ۔
- چبا چبا کے کرنا : (۱) صاف صاف گفتگو نہ کرنا ، بباد باکے بات کرنا ، (۲) اصل مطلب چھپانا ۔
- چکیوں میں اڑانا : بات کو ہنسی میں مال دینا ، بات کی اہمیت کو ختم کر دینا ۔
- حاصل ہونا : ہمارت حاصل ہونا ، کمال حاصل ہونا ۔
- خالی جانا : کہنے کا اثر نہ ہونا ، بات مانی نہ جانا ۔
- ختم ہونا : بات پوری ہونا ، کوئی خوبی مکمل طور پر پائی جانا ۔
- دُباننا : ضبط کرنا ، معاملے کو چھپا کے رکھنا ۔
- دُباننا : بات کا چھپنا ، بچکا ہٹ کے ساتھ بات ہونا ۔
- دل پر نقش ہونا : بات دل میں خوب بیٹھ جانا ، بہت گہرا اثر ہونا ۔
- بات دل میں اتر جانا / ربات دل میں بیٹھ جانا : بات کا

- دل میں گھر کر لینا، اثر ہو جانا۔
 — داغ سے نکلنا؛ کوئی نئی بات پیدا کرنا، کوئی اختراع کرنا۔
 — دو کوڑی کی ہوتا؛ بھرم نہ رہنا، بے وقت ہونا، ساکھ جانا۔
 — دُور پہنچنا؛ بات کا بہت پھیل جانا، کلام کا پھیلنا، معاملے میں طوالت ہونا۔
 — ڈھرانا؛ اپنی یا کسی اور کی کبھی ہوئی بات پھر کہنا۔
 — ذہن سے اتر جانا؛ بات کا بھول میں پڑ جانا، بات دھیان سے جاتی رہنا۔
 — رُفت و گزشت ہونا؛ بات گئی گزری ہو جانا، ختم ہو جانا، موقع نکل جانا، کسی امر کا بھول میں پڑ جانا۔
 — رکھ لینا؛ (۱) کہاں لینا (۲) عزت آبرو رکھ لینا۔
 — رو میں نکل جانا؛ بات چیت کے جوش یا بے خیالی میں جو بات نہ کہنی تھی اس کا زبان سے نکل جانا۔
 — رہ جاتی ہے وقت نکل جاتا ہے، جھٹولا؛ مصیبت کا وقت ٹل جاتا ہے مگر بڑا ویا درہ جاتا ہے۔
 — رہ جانا؛ (۱) آبرو رہ جانا، عزت رہ جانا (۲) یادگار باقی رہ جانا، یاد رکھ رہ جانا (۳) بات مان لی جانا، بات پوری ہو جانا۔
 — رہنا؛ عزت قائم رہنا، اعتبار رہ جانا، ساکھ رہ جانا۔
 — زہر لگنا / ہونا؛ گفتگو کا بے حد ناپسند ہونا، بات ناگوار اور مذاہب جان محسوس ہونا۔
 — سوجھنا؛ نیا مضمون خیال میں آنا، معاملے کی تہ کو پہنچنا، تدبیر سمجھ میں آنا۔
 — سے کان آشنا ہونا؛ آواز جانی پہچانی ہونا، پہلے کبھی سنی ہوئی آواز معلوم ہونا، آواز سنانی دینا۔
 — سے نکل جانا؛ بات سے پھر جانا، اپنے قول پر قائم نہ رہنا۔
 — ضائع جانا؛ (۱) بات کھونا، بات بے کار جانا، (۲) مجازاً؛ ساکھ اور آبرو دہلی جانا۔
 — کا اُدھر چھوڑ؛ بات کا سر پیر، بات کا مطلب۔
 — کا آشنا ہونا؛ بات سے واقف ہونا، برتاؤ کا جوگر ہونا۔
 — کا پورا پورا پتلا / پتلا دھنی؛ جو کہ وہ پورا کرے، سچے قول والا باوقا۔
- کاٹنا؛ کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کے بیچ میں بولنا، کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹ کر بیچ میں بولنا۔
 — کا بتنگڑا / بتستگڑ جانا؛ ذرا سی بات کو بڑی کر دینا، دوسرے کی بات کو مہلک سے بیان کرنا معمولی بات میں جھگڑا پیدا کرنا۔
 — کا چھینٹنا؛ بات کا اشارہ اگنا، چٹکلا۔
 — کا سر پیر نہ ہونا؛ گفتگو کا بے سلسلہ ہونا بات چیت میں الجھا ہونا۔
 — کا کچا / چھینٹا؛ جو بات پر قائم نہ رہے، جس کی بات بھروسے کے قابل نہ ہو، جو پختی اور مضبوط بات نہ کرے۔
 — کان میں پڑنا؛ بات کسی نہ کسی ذریعے اپنے آپ کا نون تک پہنچ جانا، نکلنے میں آنا۔
 — کان میں پڑی رہنا؛ بات دھیان میں رہنا، معاملہ یا درہنا، بات کان میں محفوظ رہنا۔
 — کان میں ڈال دینا؛ بات پہنچا دینا تاکہ وقت ضرورت کام آئے یا کسی بات سے خبر کر دینا۔
 — کرنے میں پھول جھڑنا؛ شگفتہ بات کرنا، شیریں گفتاری۔
 — کو چکر دینا؛ بات گھما کر کہنا، بات پھیر پھار کر کہنا۔
 — کوڑی کی ہو جانا؛ دیکھو، بات دو کوڑی کی ہونا۔
 — کہہ کر گنہگار ہونا؛ کچھ بول کے پھٹانا، کچھ کہہ کے شرمندہ ہونا۔
 — دبات پختی جو مگر کہنے کے خطا دار ہونا۔
 — کہنے کی لاج / کی بیج؛ کہی بات کو ناپہنچا، سخن پروردی، اپنی بات کا پاس رکھنا۔
 — کہی اور پرانی ہوئی؛ شش؛ منہ سے بات نکلتے ہی پھیل جاتی ہے، راز نہیں رہتی۔
 — کی بات؛ (۱) معمولی بات (۲) بہت تھوڑا وقت۔
 — کی بات میں؛ فزا، ذرا سی دیر میں۔
 — کی گرفت؛ بات کی پکڑ، بات کی روک ٹوک، اعتراف۔
 — کے شاخسانے؛ بات کے پہلو، ایک بات سے اور دوسری چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا ہونا۔
 — کھٹائی میں پڑنا؛ معاملے میں بگاڑ پیدا ہو جانا، بات التوا میں پڑ جانا۔
 — کھٹائی میں ڈالنا؛ بات اٹکار کرنا، بات یک سوز نہ کرنا، قلعی باوقا۔

- فیصلہ نہ کرنا۔
 کھلنا: بات پھوٹنا، عیب ظاہر ہوجانا۔
 کھونا: بات سچی کرنا، بے آبرو ہونا، بے وقعت ہونا۔
 گڑھنسا / گڑھنا: جی سے بات بنانا، خلاف واقعہ بات دل سے بنانا۔
 گلے سے اُترنا: بات قبول کرنے کے قابل ہونا، بات اعتبار کے لائق ہونا۔
 گول کر جانا: بات کو ٹالنا، بات اڑا جانا، صاف صاف بات کہنا۔
 گئی گزری ہونا: بات بھولی بسری ہوجانا، معاملہ رفت گذشت ہوجانا، معاملہ ختم ہوجانا۔
 لکھ رکھنا: بات کا قطعی طور پر ہونا، ادریقینی ہونا۔
 لگانا: (۱) لگائی، کھائی کرنا، بچھلی کھانا (۲) نسبت یا ملگنی کرنا، (۳) تہمت لگانا۔
 مہنہ سے نکلی پرانی ہوئی: بات زبان سے نکلنے پر پھیل جاتی ہے، راز نہیں رہتی۔
 مہنہ سے نہ نکالنا: خاموشی اختیار کرنا، عذر یا شیکوہ نہ کرنا۔
 راضی برضا رہنا۔
 میں بات نہ کھلنا: ایک بات میں دوسری نئی بات پیدا ہونا
 ایک گفتگو کے سلسلہ میں اسی قسم کی دوسری باتوں کا ذکر ہونا۔
 میں بُل ہوتا: بات جھوٹ ہونا، بات میں جھوٹ کی ملاوٹ ہونا۔
 میں صبح نکالنا: عرصہ چینی کرنا، اعتراف کرنا۔
 میں فی ٹھکانا / نکالنا: کسی بات میں کھوٹ کھانا، کتہہ چینی کرنا، اعتراف کرنا۔
 میں قند گھولنا: ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، پُھل کرنا۔
 میں لگانا: گفتگو میں مشغول رکھنا، بھلانا، الجھانا۔
 میں لگا لینا: فریب میں پھانسا، مشغول کر دینا۔
 نیباہنا: وضع پر قائم رہنا، جو بات ایک دفعہ ہوگئی اسے چلا جانا۔
 نڈھرت ہونا: بات ناگوار ہونا، بات چھٹنا۔
 نظر میں ہونا: بات دھیان میں رہنا، معاملہ یاد رہنا،
- بات کا خیال رہنا۔
 ٹھکانا / ٹھکانا: نتیجہ کھانا، قرعہ کھانا۔
 نہ پوچھنا: خبر نہ لینا، توہرہ نہ کرنا، بے پروائی برستا، خاطر تواضع چکرنا۔
 ہاتھ آنا / لگانا: نتیجہ حاصل ہونا، بات کا خلاصہ معلوم ہونا۔
 ہنسی میں اڑا دینا: بات کو اہمیت نہ دینا، بات کو مذاق میں ختم کر دینا۔
 میدی ہونا: بات گرجانا، ساکھ بچکانا، بات بے وقعت ہونا، نیکی ہونا۔
 باتوں / باتوں / باتوں / باتوں: بہت باتیں کرنے والا، بکلی۔
 باتوں: جمع بات کی۔
 باتوں میں: (۱) گفتگو میں، باتوں میں (۲) چٹکوں میں، ٹیلیفون میں، بات چیت میں (۳) مفت (۴) آسانی سے، ترکیب سے (۵) مذاق میں، ہنسی میں (۶) دوران گفتگو۔
 کا ازمِ نَشْرُوح کرنا: ڈھنڈورا پیٹنا، باتوں کو شہرت دینا، راز کھول کر بیان کر دینا۔
 کا جمع خرچ: خالی خولی باتیں، لغافی۔
 کا چھاڑ / کا فالوئس: باتوں کا سلسلہ، باتوں کی جھڑی۔
 کا لچھا: باتوں کا بیج، باتوں کا سلسلہ۔
 میں کھلنا / میں کھل جانا: باتوں میں اصلی بات کہہ دینا۔
 باتوں میں بے تکلف ہوجانا: دل کھول کر بات کرنا۔
 ہاتھ روم BATH ROOM (انگ) مذکر: غسل خانہ۔
 باتیں: مَوْتَه: جمع بات کی؛ (۱) آسان کام (۲) ہماز، قاعدے قانون (۳) مثالیں (۴) روز قرآن بے تکلف کلام (۵) کچھن، حرکتیں۔
 بنانا: (۱) جھوٹ بولنا، جیلے حوالے کرنا، ڈینگ مارنا، (۲) چاہلوسی کرنا۔
 چچا چچا کر کرنا: (۱) گھنڈے کے ساتھ اڑا کر بولنا (۲) شہنی مارنا۔
 ٹھکانا: (۱) حالات سنانا، قصہ سنانا (۲) سخت سخت کہنا۔

- لہنے لٹنے دینا۔
 سننا : (۱) بڑا سہلا سننا، صلواتیں سننا (۲) گفتگو سننا۔
 قیامت ہونا : باتوں میں حد سے بڑھی ہوئی شوخی ہونا،
 غیر معمولی ادائیں ہونا۔
 ملانا : ہاں میں ہاں ملانا، جی جنوری کرنا، خوشامد کرنا۔
 ہوجانا : مشورہ ہوجانا، بات چیت ہونا۔
 پاٹ : مذکر؛ (۱) کسی چیز کے توڑنے کے لیے پتھر، لہجے و پتیل کے
 مقررہ وزن کے ٹکڑے، (۲) راہ راستہ۔
 مارتا : راستہ کھولنا کرنا، نقصان پہنچانا۔
 پارچ : دف، مذکر؛ ٹیکس، محصول، خراج، لگان۔
 گزار : اپنے سے بڑے حکمران کو خراج دینے والا۔
 گپر : (۱) محصول لینے والا، (دھرم)؛ (۲) دھاڑا، طاقتور
 فراں روا۔
 باجا : مذکر؛ بجنے والی چیز۔ مزا پیر، ساز۔
 گاجا : دھا جاتا جہاں؛ مختلف قسم کے ہاجے۔
 باجھسی : برہمنوں کا ایک گوت۔
 باجرا : مذکر؛ (۱) ایک مشہور نغمہ (۲) ڈلی کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
 جو باجرے کی طرح ہمیں کڑے جاتے ہیں۔
 برشتنا : پھوار پڑنا، ترشح ہونا، باجرے کی طرح باریک
 باریک ہونے پرستنا۔
 باچھ : مؤنث؛ ہونٹ کا سرا۔
 باچھیں آنا / پکینا / پھٹنا : ہونٹوں کے کونوں کا پک جانا۔
 کھلنا / کھیل جانا : بے حد خوش ہونا، بہت زیادہ ہنسنا۔
 باد : دف، مؤنث؛ ہوا۔
 آؤر / آؤرد : دف؛ (۱) ایک دوا کا نام، (۲) خسرو دیز
 کے خزانے کا نام۔
 بان : مذکر؛ پال، وہ پردہ جو کشتیوں کو چلانے اور ان کا رخ
 بدلنے کے لیے لگاتے ہیں۔
 بانی جہاز : مذکر؛ وہ جہاز جو بادبان کے ذریعے چلتے تھے
 (دھرم)۔
 بہار / بہاری : (۱) اضافت کے ساتھ؛ موسم بہار کی ہوا۔
- پا : (۱) تیز قدم؛ (۲) دکھائی؛ ہوا کی طرح تیز نہ گھوڑا۔
 پینا : (۱) ہوا کی طرح تیز چلنے والا گھوڑا (۲) وہ آرجس سے
 ہوا کا دباؤ معلوم کیا جاتا ہے، انگ، بیرو میٹر۔
 پینا کی : فضول کام، بے کار بات۔
 پیند : (۱) اضافت کے ساتھ؛ تیز ہوا، آمدی، طوفان۔
 خزماں : (۱) اضافت کے ساتھ، مؤنث، پت جھڑکی ہوا، خزاں
 کی ہوا۔
 رفتار : (۱) تیز چلنے والا گھوڑا، (۲) تیز چلنے والا۔
 مشموم : (۱) اضافت کے ساتھ؛ لڑ، بہت گرم ہوا، زہریلی لڑ۔
 صبا : (۱) اضافت کے ساتھ، صبح کے وقت کی ہوا۔
 ضرصر : (۱) اضافت کے ساتھ، تیز ہوا، آمدی۔
 فرنگک : (۱) اضافت کے ساتھ؛ آئیٹک، ایک مشہور خطرناک
 بیماری۔
 کشن : لٹکا کر سی سے کھینچنے والا لمبا چوڑا پنکھا۔
 گرد : بگولا۔
 مخالف : (۱) اضافت کے ساتھ؛ وہ ہوا جو کشتی کے خلاف ہوا
 طوفان، آمدی۔
 سنا : مذکر؛ وہ آرجس سے ہوا کا رخ معلوم ہوتا ہے۔
 ہوائی : جموٹا دھبہ، نمو، بے ہودہ باتیں، ہل باتیں۔
 بادام : دف؛ مذکر؛ ایک مشہور میوہ۔
 بادامی : ہلکا زرد رنگ، بادام کی قطع کا، ایک قسم کا چاول۔
 آکھ : چھوٹی بیضی آکھ۔
 بادشاہ / بادشہ / بادشاہ؛ : ملک کا مطلق العنان حکمراں، سلطان،
 تابع و تخت کا مالک۔
 بادشاہت / بادشاہی / بادشائی : سلطنت، بادشاہ کا ملک۔
 بادل : مذکر؛ ابر۔
 آسٹنا / آسٹن کے آنا : گھٹا چھانچا، بہت سے بادلوں کا
 ہوجانا۔
 آنا / آختنا : ابر آسان پر نمودار ہونا۔
 جھوم کے آنا : ابر کا زور شور سے چھانچانا۔
 کا جھوم جھوم کر برسنا، بادل کا زور شور سے برستا۔

بار : BAR (بارگ، مذکر؛ (۱) وکیلوں کی جماعت (۲) ہوٹل میں شراب خانہ
 ایسوسی ایشن : ASSOCIATION — وکیلوں کی انجمن (مجلس)
 روم : ROOM — وکیلوں کے بیٹھنے کا مخصوص کمرہ۔
 بار : دف : مذکر (۱) بوجھ، وزن، (۲) رزخوں کے پھول پھل کا زنا (۳) دفو، مرتبہ۔
 اہل / اہلہا : (اضافت کے ساتھ) ؛ اسے خدا، اسے بزرگ خدا آؤڑ ہونا؛ پہل لانا، نتیجہ خیز ہونا۔
 بار : کئی مرتبہ بار بار، کئی دفعہ، لگاتار
 بردار : بوجھ اٹھانے والا۔
 برداری : (۱) وہ بوجھ مزدوری پر لے جایا جائے (۲) مزدوری (۳) کرایہ چمکڑے بیٹھے وغیرہ کا۔
 پانا : داخل ہونا، گھس جانا۔
 ثبوت : (اضافت کے ساتھ) ؛ ثابت کرنے کی ذمہ داری۔
 خاطر نہیں یا رشاٹر ہونا : (اضافت کے ساتھ) ؛ (مقول) ؛ ایسا سچا دوست جس سے ایذا نہ پہنچے۔
 خاطر ہونا : (اضافت کے ساتھ) ؛ ناگوار ہونا، طبیعت کے خلاف ہونا۔
 خدا / خدایا : (اضافت کے ساتھ) ؛ خدائے بزرگ، باراہ، دار : پہلا ہوا درخت۔
 دانہ : مذکر؛ (۱) تھیلا، بوری (۲) فوج یا لشکر کے کھانے پینے کا سامان، (۳) سوداگری کے خالی بکس بورے وغیرہ۔
 کش : جس پر بوجھ لاداجائے، (عام طور پر جانور)
 گاہ : (۱) دربار، اجلاس، محل شاہی، عدالت (۲) میلاد خوانی کی وہ بھی سماں جگہ جہاں سے میلاد پڑھا جاتا ہے۔
 گہر : بوجھ اٹھانے والے جانور۔
 وڑ : (۱) پہل لانے والا (۲) کامیاب، (۳) نتیجہ خیز، (۴) صاحب اولاد۔
 یاب : اجازت پانے والا، حضوری حاصل کرنے والا۔
 یابی : حضوری، حاضری، بارگاہ کا داخلہ۔

کوٹکنا / گر جتا : بادلوں کا آپس میں ٹکرانے سے آواز ہونا۔
 کھٹنا : آسان کا صاف ہونا۔
 گہرا آنا / گہرنا : بادلوں کا بیچ ہونا۔
 بادلا : (بادلہ، مذکر؛ (۱) سونے چاندی کے تار جو گونا گونے لہکلاتو بننے کے کام آتے ہیں (۲) زلیفت۔
 بادبجان : بیٹکن۔
 بادہ : (دف، مذکر؛ شراب، دارو۔
 پڑستی / پیٹائی : مونث؛ شراب بیٹا، شراب خودی سے نوشی؛
 پیٹا / کش / نوش / خوار : شرابی؛ شراب پینے والا۔
 ڈوشینہ : (اضافت کے ساتھ) گزری ہوئی رات کی شراب۔
 سُر جوش : وہ صاف شراب جس میں تیل چھٹ نہ ہو۔
 شیانہ : (اضافت کے ساتھ) وہ شراب جو پہلی رات کو پی گئی ہو۔
 گھسار : شراب پینے والا، بادہ خوار۔
 بادی : (۱) (ف) ؛ مونث؛ گھٹیا، جوڑوں کا درد، بانی، وضع معانی (۲) جسم چھلادینے والا مادہ، یاج پیدا کرنے والا مادہ، (۳) (ع) شروع کرنے والا، ہر شے کا اول۔
 الشطر : (بادی، اُن، نقر،) پہلی نظر میں، ابتدائی رائے میں، سرسری رائے میں۔
 بو اسپر : جس بو اسپر میں خون نہیں نکلتا، صرف ہوا خارج ہوا کرتی ہے۔
 کابدن : مٹا بدن جو بادی کی وجہ سے ہو، وہ مٹا پاجولیم کی وجہ سے ہو۔
 بادیان : (دف، سولف۔
 بادیر : (۱) (دف) ؛ مذکر؛ (۱) بڑا کٹھیا بڑا پیالہ، (۲) (ع) ؛ جنگل یا باہان۔
 پیٹا / گزرد : جنگل میں پھرنے والا، صحرانورد۔
 پاڈی BODY : (انگ،) مونث؛ (۱) بدن جسم (۲) جماعت، گروہ، انجمن۔
 گارڈ : GUARD — (انگ، مذکر؛ (۱) محافظ (جو کسی شخص کی حفاظت کے لیے مقرر ہو، (۲) حفاظتی دستہ۔

- بار : موت ؛ (۱) عرصہ، دیر (۲) موقع، مرتبہ، نوبت۔
- بارات / برات : شادی، شادی کا جلوس۔
- بارا ڈری : موت؛ گرمی کے موسم میں رہنے کا مکان (دیکھو بارہ دری)
- باران : (ف) ؛ مذکر، مینہ، موسمِ برسات۔
- باردہ : (۱) جو برسات کی تکلیف اٹھا چکا ہو (۲) تجربہ کار۔
- بارخست : (اضافہ کے ساتھ) رحمت کی بارش۔
- بارانی : (۱) برسنے والا، (۲) موسمِ باران کی چیز، (۳) وہ زمین جس سے فصلیں صرف برساتی پانی سے لی جاتی ہیں۔
- باربد / بُد : مذکر ؛ (۱) حاضر باش (۲) خسرو پرویز کے مشہور متفقہ کا نام۔
- باربر : (ع) ؛ مخنڈ، سرد۔
- بارڈر : (انگ) ؛ (۱) حد، سرحد، کنارہ۔
- بارش : موت؛ برسات، مینہ۔
- بارتار : مذکر ؛ جڑی، مینہ کا سلسلہ۔
- بارک : (انگ) ؛ (۱) مکان، (۲) سپاہیوں اور فوجیوں کے رہنے کی کوٹھریاں۔
- بارک اللہ : (بارک اللہ) ؛ (ع) ؛ (خدا تجھ کو برکت دے) ؛ کلہ تعریف ہے۔ سبحان اللہ کوئی کھانے کے لیے بلائے تو یہ طور دعایہ کلہ کہا جاتا ہے، (ہاروت، ترک، باور)۔
- بارلی : (انگ) ؛ (۱) ذرا، جو، اناج کی ایک قسم۔
- بارود : (ف) ؛ باروت ؛ وہ آتش گیر مادہ (سفوف) جس سے توپ بندوق چھوڑتے ہیں اور آتش بازی بناتے ہیں۔
- بارہ : عدد ۱۲، دس اور دو۔
- آبِ حَرَمِ سُوَءِ سَنَّاگَر : عورتوں کا پورا سنَّاگَر یعنی بارہ زیور اور سولہ آرایش وزینت کے عمل جس میں منہدی لگانا، انگلی جوئی کرنا بارہ زیور پہننا وغیرہ سب شامل ہے۔
- امام : شیعوں میں فرقہ امامیہ کے بارہ امام جو ان کے عقائد کے مطابق معصوم ہوتے ہیں۔
- باٹ : متفرق، جدا جدا، منتشر۔
- بارہ چوبیس کوس : بہت بڑا فاصلہ، بہت دور تک۔
- برج : نجومیوں نے آسمان کے بارہ بُرج فرض کیے ہیں، جن میں چاند، سورج، ستارے آتے جاتے رہتے ہیں۔
- برس بعد گھورے کے دن بھی پھر جاتے ہیں : (مثل) پریشانی اور مصیبت کا زمانہ سدا نہیں رہتا، ایک مدت کے بعد کم تر بھی اٹھا ہوا جاتا ہے۔
- برس دلی میں رہے اور سہاڑ جھونکا : (مثل) ؛ وہ شخص جو کسی اچھی جگہ یا صحبت میں رہنے کے بعد بھی کوئی ہنر یا سلیقہ نہ سیکھے، انوار کا انوار ہی رہے۔
- برس فقیری اور امپیری کی بو نہیں جاتی : (مثل) ؛ عادت بہت عرصے کے بعد چھوٹی ہے، خود لو عرصے تک نہیں جاتی۔
- پیشتر باہر کرنا : کسی کو حد و آبادی سے خارج کر دینا۔
- دری : موت؛ بارہ دروازوں کا ہوا دار مکان۔
- سنگھا : مذکر ؛ ایک قسم کا جھکی ہرن جس کے سپنگ شاخ درشا بہت لمبے ہوتے ہیں۔
- ماسر / ماسا : بارہ ٹکڑوں کا ہندی گیت جس میں عورتوں کی زبان سے بارہوں مہینوں کے فراق کا بیان کیا جاتا ہے۔
- ماسی : (۱) وہ درخت جو ہمیشہ پھل دے (۲) وہ مزدور جو پانہ مہینوں کے لیے نوکر رکھا جائے، (۳) ہر وہ کام جو بارہ مہینے جا کر رہے۔
- مسالے : وہ بارہ مسالے جو عام طور پر ہندوستانی کھانوں میں ڈالے جاتے ہیں، (ہلدی، دھنیا، نمک مرچ وغیرہ)۔
- مقام : ایرانی تقسیم کے مطابق موسیقی کے بارہ پردے۔
- مہینے تپس دن : ہر وقت، ہمیشہ۔
- وفات (عم) : عورتوں نے مہینوں کے جو نام رکھے ہیں ان میں ریح الاؤل کا نام بارہ وفات ہے، مرد بھی یہ نام استعمال کرتے ہیں۔
- باری : (ع) ؛ مذکر ؛ پیدا کرنے والا، خدائے تعالیٰ۔
- موت؛ باغ، خانہ باغ، احاطہ۔
- باری : نوبت، موقع، کسی سلسلے میں نمبر آنا۔
- دار : پہرے چوکی والا، جس کی ڈیوٹی کا وقت ہو۔

— یافت : (ف) ، مَوْتَش ؛ کسی کھوئی ہوئی چیز کا پھر مل جانا۔
کوئی چیز قبضے سے جا کر واپس حاصل ہو جانا ، ماضی کا دوبارہ
حصول۔

بازار آفرینی : (ف) ، مَوْتَش ؛ (۱) پھر سے پیدا کرنا ؛ (۲) کسی تجربے
مشابہ سے یا تخلیق کو اس طرح سمو کر پیش کرنا کہ وہ خود ایک نئی
تخلیق معلوم ہونے لگے۔

بازار : (ف) ، مذکر ؛ خرید و فروخت کی مقررہ جگہ ، باٹ ،
— اس کا جولے کے دے ؛ (دش) ؛ معاملے کا صاف رکھنا
اعتبار کا باعث ہوتا ہے ، ساکھ اُسی کی رہتی ہے جولے کے
دے۔

— تیز ہونا : نرغ بڑھ جانا ، مہنگائی ہونا۔

— ٹھنڈا کرنا / ہونا : (۱) بازار سرد ہونا (۲) کسی کا عروج
اور زور گھٹا دینا ، بے رونق کر دینا۔

— دکھانا : کسی چیز کو بیچنے کے واسطے بازار لے جانا ، بیچ ڈالنا۔
— کا بھاؤ / مول : کھلا نرغ ، بازاری نرغ ، راہی قیمت۔

— گرم ہونا : خوب خرید و فروخت ہونا ، بازار میں کثرت سے
مال کی مانگ ہونا ، بازار میں چہل پہل ہونا۔

— لگانا : (۱) گمانیں کھولنا (۲) چیزوں کا پھیلانا ، بے ترتیب
رکھنا (۳) بھڑ ہونا۔

— میں بیچ لینا : (رکنا تھا) ؛ بے حد چالاک ، عیار اور شریر ہونا ،
بازار رو ؛ وہ چیز جو ناپا سے وار معمول ہو ، بازار کی بھری کی چیز۔

بازاری : (۱) بازار کا (۲) عام معمول آدمی (۳) غیر معتبر خبیر (۴)
راج الوقت (۵) بازار کے بیٹھنے والے شہدے ، عوام۔

بازو ؛ (ف) ، مذکر ؛ (۱) کئی سے کندھے تک انسان کے جسم کا حصہ ،
ڈنڈ (۲) پرندوں کے جسم کا وہ حصہ جس میں اڑنے کے لیے پر
ہیں (۳) چوہوں کے سامنے کے پاؤں کا وہ حصہ جو ان کے
گھٹنوں سے آخر تک ہوتا ہے (۴) ، مجازاً ، قوت ، سہارا (۵) ،

میدان جنگ میں داییں بائیں کی فوج (۶) مقابل ، دوسرا ، ثانی ۔
جواب ، برابر کا ، برابر (۷) ، دوست ، ساتھی ، جوڑ (۸) ، انگلیا

کے وہ حصے جو دونوں پہلوؤں کو چھپاتے ہیں (۹) ، سوزخوال
کو آس دینے والے ساتھی۔

— کا شمار : وہ تپ جو ایک دودن کے نامے سے آتا ہے۔

بارے ؛ (ف) ، غیر ، العرض

بارپک ؛ (ف) ؛ پتلا ؛ مہین ، نازک ، لطیف ، مشکل۔

— بین / نظمو خیال : معاملے کے نازک سے نازک پہلو پر
نظر ڈالنے والا۔ شُبَّير ، وَقِيعَة شِشاس ، وَبِقَدْرَس۔

بارپکی : مَوْتَش ؛ پتلا پن ، نزاکت ، لطافت۔

— لگانا : نکتہ چینی کرنا ، اعتراض کرنا ، بہت ہی چھوٹے عیب
نکالنا۔

باڑ / باڑھ : دھار ، احاطہ ، ان درختوں کی قطار ، جن کو کاٹ پھاٹ
کر حد قائم کی جاتی ہے۔

باڑا ؛ احاطہ ، چار دیواری ، قبرستان ، تنکیہ۔

— بٹنا ؛ خیرات تقسیم ہونا۔

باڑی : مَوْتَش ؛ کھیتی ، زراعت ، رہنے کی جگہ ، وہ باغ جو گھر میں
لگائے ہیں ؛ ؛ پائیں باغ۔

باڑھ / باڑ ؛ (۱) سیلاب (۲) دھار۔

— اڑانا ؛ سپاہیوں کا قطار باندھ کر ایک ساتھ بندوق چلانا ،
فیر کرنا۔

— پیر چڑھنا ؛ (۱) دھار تیز ہونا ، (۲) طبیعت کا تیز ہونا ، (۳)
باڑھ پر رکھنا (۴) فریب میں آنا۔

— پیر ہونا ؛ (۱) ترقی پر ہونا ، (۲) سیلاب پر ہونا۔

— رکھنا / رکھوانا ؛ دھار تیز کرنا ، دھار تیز کرانا۔

— کاٹے نام تلوار کا ؛ (دش) ؛ کام کوئی کرے نام کسی کا جو۔
سپاہی لڑنے میں اور فتح سردار کی کہلاتی ہے۔

باز ؛ (ف) ، مذکر ؛ ایک شکار پر بندے کا نام ، شکار۔

— آنا ؛ چھوڑ دینا ، احترام کرنا ، بے زار ہو جانا ، ترک کرنا۔

— پُڑس کرنا / ہونا ؛ ہلچل مچ کرنا ، حقیقتات ہونا ، جواب طلب
کرنا۔

— دہر ؛ کوئی شخص لٹنے کے لیے آئے تو اس کے جواب میں لٹنے
کے لیے جانا۔

— گشت ؛ (ف) ، مَوْتَش ؛ واپسی ، پھر کر آنا ، لوٹنا ، مراجعت ؛
پیچھے رہنا۔

— عید: موتی! عید کا دوسرا روز۔
— کڑھی میں اُبال آنا: بے وقت کسی کام کا ہونا؛ بڑھاپے میں جوانی کا جوش اور صبح ہونا، گئی گزری بات از سر نو تازہ کرنا۔

— کوسمی: کوئی تاج مہل؛ باسی۔

— مُنہ: (صح) بغیر منہ دھوئے۔

— باشُد: (رف)؛ ہوا کرے؛ کچھ بھی ہو؛ کچھ پروا نہیں۔

— باشُدہ: (رف)؛ باشی رہنے والا، بسنے والا۔

— باصرہ: (رع) دیکھنے کی قوت۔

— باطل: (رع) مذکر؛ جھوٹ، غلط، بے کار، ضائع، بے ہودہ۔

— باطن: (رع) مذکر؛ چُپا ہوا، اندرون پیٹ، اندرونی صحت،

دل، خیال، طبیعت، ضمیر۔

— باطنی: (رع)؛ صف؛ (دا) اندرونی، داخلی، ولی، (۲) ایک فرقہ

جو حضرت اسمعیل کو آخری امام ظاہر مانتا ہے، آغاخان

جس کے روحانی پیشوا ہیں، (۳) ظاہری کی ضد۔

— باطنیت: (دباطنی۔ یت)؛ (رع)؛ موتی (۱) داخلیت (۲) انفرادیت

(۳) باطنی مسلک،

— باطنیہ: (رع) مذکر؛ مسلمانوں کا ایک فرقہ جس کے اعتقاد میں

ہر امر شرعی کے دو پہلو ظاہری اور باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہر کچھ

اور ہے باطن کچھ اور، مثلاً نماز کا باطن امام کی فرمانبرداری،

روزے کا باطن مذہب کو پوشیدہ رکھنا، وغیرہ۔

— باعش: (رع)؛ مذکر؛ سبب، وجہ، علت، موجب، بنیاد۔

— کھلنا: سبب ظاہر ہونا، وجہ معلوم ہونا۔

— باغ: (رع)؛ (رف)؛ مذکر؛ (۱) پھلواری، گل زار، جہاں بہت سے

پھلوں کے درخت لگائے گئے ہوں (۲) مجازاً، آل اولاد، مال، پتے،

(۳) دنیا (۴) فردوس۔

— ابراہیم: (دخانت کے ساتھ)؛ گل زار ابراہیم، وہ آگ

جس میں نروٹے حضرت ابراہیم کو ڈال دیا تھا، اور وہ باغ

ہو گئی تھی۔

— پاڑی: (۱) پھلواری (۲) وہ کاغذی آرائشی چمن جو برات

کے ساتھ لے جاتے ہیں اور دُھن کے مکان کے قریب لٹایا جاتا ہے۔

— بَند: (رف) مذکر؛ عورتوں کا ایک زیور جو بازو پر باندھا جاتا ہے۔

— تولنا: (دا) پرندے کا اڑنے پر تیار ہونا (۲) (مراٹھا)؛ کسی

شخص کا کہیں جانے کے لیے آمادہ ہونا۔

— ٹوٹنا: مجازاً، قوت اور سہانا جانا رہنا۔

— کی مچھلی: بازو کے اندر کا وہ گوشت جو کچھ مچھلی کے مشابہا ہوا

ہوا رہتا ہے۔

— باز نطہنی: (بازن طہنی)؛ روی، ملک روم سے تعلق رکھنے والا۔

— بازی: (رف)؛ موتی؛ کھیل، کرتب، تماشا، شرط، چال، دھوکا،

داؤ۔

— بازی باریش یا باہم بازی: (دش) جب کوئی چھوٹا اپنے

بڑوں سے اُچھتا ہے تو اس چھوٹے کی نسبت بولتے ہیں۔

— جیتنا: شرط جیتنا۔

— چہ (یا بچہ)؛ کھیل، کھلونا، تماشا۔

— کھانا: ہانا۔ مات کھانا، کبوتر کا گرہ لگانا، نٹوں کا کھانا۔

— گر: (رف) مذکر؛ تماشا دکھانے والا، نٹ، ماری۔

— لے جانا: جیتنا، غالب رہنا، سبقت لے جانا۔

— باس: (۵)؛ موتی؛ ہبک، لولا۔

— باس: BOSS؛ (ہبک) مذکر؛ آقا، افسر۔

— باسٹھ: (۵) ساتھ اور دو۔

— باسط: (رع)؛ صف؛ (۱) خدا کا ایک صفاتی نام (۲) فرانی دینے والا

— باسکٹ: (BASKET)؛ (ہبک)؛ موتی؛ لٹکری،

پٹاری۔

— باس متی: مذکر؛ ایک قسم کا خوش بو دار چاول۔

— باسن: مذکر؛ برتن۔

— باسی: (۵) رہنے والا، بسنے والا۔

— باسی: (۱) رات کا پچا ہوا کھانا، یا کھانے کی کوئی چیز (۲) مرحیلا

ہوا۔

— پیچے نہ کتا کھانے، (دش) جو کچھ ہوسب خرچ کر ڈانا، چاٹ

کر کھا لینا۔

— تباسی: دو تین دن کا باسی کھانا۔

باکسنگ : BOXING (انگ، ٹوٹھ؛ مٹکا بازی، ایک

قسم کا دلائی کیل جس میں مکوں سے لڑتے ہیں۔

باکسنگ باکسنگ : ڈکڑ؛ مویشیوں کا ہڈا۔

باگ : ٹوٹھ؛ راس، لگام۔

اسٹانا : دکناٹیا، گھوڑا اور ڈانا، گھوڑے کو دعاں کرنا۔

پھیڑنا : باگ موڑنا۔

ڈال دینا : (۱) باگ چھوڑ دینا (۲) دھماکا، بنگرانی ترک کر دینا۔

ڈور : ٹوٹھ؛ (۱) وہ رسی جسے سائیس گھوڑے کی گردن یا دپا

میں باندھ کر ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ گھوڑا قابو میں رہے (۲) دھماکا،

اختیار۔

ڈھیلی کرنا : (۱) باگ کو کڑی نہ رکھنا تاکہ گھوڑا خوب دوڑے

(۲) دھماکا، استھام میں ڈھیل ڈالنا۔

سنبھالنا : دکناٹیا، سوار کا چلنے پر مستعد ہونا، اختیار ہاتھ

میں لینا۔

مڑھانا : (۱) لگام پھیرنا، گھوڑے کا رخ پلٹ جانا (۲) چھپک

کے دائروں کا مڑھانا۔

ہاتھ سے چھوٹنا : بے قابو ہونا، موقع ہاتھ سے جانا رہنا،

بے اختیار ہو جانا۔

باگڑ : ہرنوں کی ڈار، ہرنوں کا جھنڈ۔

بلا : ڈکڑ؛ ایک قسم کا بڑا پلا۔

باگھ : ڈکڑ؛ چند دستاں شیر، چیتا۔

بجری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں : (مشل، بیز کسی کی

طرف داری کے انصاف ہونا، کم ندر کو طاقت و نقصان نہیں

چھینا سکتا، ہر طرح امن و امان ہے۔

بال : BALL؛ (انگ)؛ (۱) گیند (۲) ایک قسم کا انگریزی

تاج۔

بال : ڈکڑ؛ (۱) روٹنگا، رداں، مو (۲) پڑ، پڑندہ کا بازو (۳) ٹوٹھ۔

گیہوں، پاجرا جوڑ کے کچھ (خوشے)، بالی۔

آنا : (۱) ہال نکھانا، خطا نکھانا (۲) شیشے، تلوار اور چینی کے

پر تنوں میں مہین خطا پڑ جانا، ٹوٹنے کا اثر ظاہر ہونا۔

بال : سر سے پاؤں تک، جسم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ تک۔

باغ ہونا، خوش ہونا، شگفتہ ہونا، شادوں و فرماں ہونا۔

بان : مال۔

فکھیل : (اضاف کے ساتھ) باغ ابراہیم، فکھیل اللہ

پڑھنا، (اضاف کے ساتھ) دف، ڈکڑ، جنت۔

شداد : (اضاف کے ساتھ) شداد کی بنائی ہوئی جنت۔

شدس : (اضاف کے ساتھ) دف، بہشت۔

وہبار : خوش خوش، آراستہ، ہلوانج۔

باغی : سرکش، مغرب، مغد۔

باغیچہ : چمن، چھوٹا باغ۔

باقت : (دعا، ٹوٹھ؛ بناوٹ، ساخت و ترتیب۔

باقر خانی : ایک قسم کی روٹی، ایک قسم کی شیرال۔

باقلاد : (دع) ایک قسم کی چھلیاں جو پکا کر کھائی جاتی ہیں۔

باتی : (دع)؛ ٹوٹھ؛ (۱) جو پڑ رہے، پکا کھیا، رہا سہا، (۲) واجبلاد

واجب الوصول (۳) تمام، زبرد، موٹھ۔

دار : جس پر کوئی مطالبہ کیا ہو، حساب بے باقی نہ ہو۔

ساتی : ٹوٹھ؛ (ساتی تالاہل)؛ زیادہ رہا سہا، بیسی

بڑھتی، پکا کھیا، فاضل۔

ماندہ : پکا ہوا، بقایا، جو ادا ہونے سے رہ گیا ہو۔

نکالنا : حساب کے بعد کسی رقم کا باقی رہ جانا۔

باقیات : (جمع باقی کی) وہ بھیا جو وصول نہ ہو۔

باقیات العمارات : (باقیات نفس صالحات)؛ (دع، ٹوٹھ)؛ (۱)

عام فائدے کے لیے کوئی کام، صدقہ جاریہ (۲) جہاز؛ اولاد

صالح، نیک اولاد۔

باگ : (دع)؛ ڈکڑ؛ ہراس، خوف، ڈر، اندیش۔

باگرہ : (دع)؛ ٹوٹھ؛ کنواری، ناکتھ عورت۔

باکس : BOX؛ (انگ، ڈکڑ)؛ (۱) بکس، صندوق (۲) تھیر

دوڑہ میں طاحہ نشست گاہ (۳) سنتری یا سنگل ولے کی

کاٹھ کوٹری۔

باکس آفس : BOX OFFICE؛ (انگ، ڈکڑ؛ دلی اصطلاح)

بانک یا سینٹر لاکٹنگ مگر۔

باکسر : BOXER؛ (انگ)؛ ڈکڑ؛ کتے باز، گھونے باز۔

- ہر ایک بال۔
- بال بچنا: بہت ہی قریب پہنچے ہوئے مدد سے محفوظ رہ جانا۔
- بندھنا: بالکل جکڑے ہوئے ہونا۔
- بال بچ مونی پڑونا: خوب سنوارنا، سر سے پاؤں تک آراستہ کرنا۔
- بال کا ہونا: (۱) بال بیکا ہونا (۲) (بجائز)، ذرا سی تکلیف پہنچنا
- بچنے: لڑکے، بالے، اہل و عیال۔
- برابر لگی نہ رکھنا: ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، کوئی کسر نہ چھوڑنا۔
- بنانا: (۱) خط بنانا، عجاہت بنانا (۲) چوٹی گوندھنا، بالوں کو سنوارنا۔
- بیکا ہونا: (۱) بیڑھا ترچھا ہونا، بے ترتیب ہونا (۲) (بجائز)، تھوڑا مدد پہنچنا، ذرا نقصان ہونا۔
- بھونڈی: مونڈت! گھوڑے کا ایک عیب جسے لوگ منوس سمجھتے ہیں۔
- پکنا: بالوں کا سفید ہو جانا۔
- ٹوڑ: مذکر؛ وہ پھنسی جو بال ٹوٹ جانے سے پیدا ہو جائے۔
- بل توڑ۔
- چنونا: مونچے سے بالوں کو نکالنا۔
- چھتری: (۱) رکھن، کبوتروں کے بیٹھنے کی چھتری (۲) (دہلی)، انسان کے سر کی چند ایک کے بال (۳) شاہجہانی پگڑی۔
- چھڑ: مذکر؛ ایک خوش بودار بوٹی کا نام۔
- خودا: مذکر؛ ایک قسم کی بیماری جس سے بال جھبڑ جاتے ہیں۔
- دھوپ میں سفید کرنا: (دکائیٹا) بوڑھے ہونے پر بھی نا تجربہ کار رہنا۔
- کا پھندا: بال کا وہ حلقہ جس سے چڑیاں پکڑتے ہیں۔
- کا کبیل بیتانا: چھوٹی بات کو بڑا کر کے دکھانا، بے حد مبالغہ کرنا۔
- بال کمانی: مونڈت! گڑھی کے اندر کی وہ کمانی جو بہت باریک ہوتی ہے۔
- بالکٹی: BALCONY: مونڈت! بالا خانہ۔
- بال کی کھال کھینچنا/ نکالنا: باریکیاں نکالنا، بہت بھان بن کرنا، موشگافی کرنا۔
- بال کھجڑی ہونا: کچھ بال سیاہ رہنا کچھ سفید ہو جانا۔
- گوندھنا: چوٹی بنانا۔
- ٹوچنا: بالوں کو کھینچنا، اکھاڑنا۔
- و پڑ (۱) بازو اور ہر (۲) (بجائز): وسیلہ، ذریعہ۔
- و پڑ نکالنا: (۱) پر ہڑے نکالنا، اڑنے کے قابل ہونا، طاقت ور ہونا (۲) (اندرونی شرارت ظاہر کرنا، فتنہ اٹھانی، کھڑی کرنا۔
- ہٹ: مونڈت! لڑکپن کی ضد۔
- بالا: (۱) آدمی کا پیر، لڑکا (۲) کان کا ایک زیور (۳) کچھ نولان (۴) فریب، جھیل۔
- بالا: (ف) اوپر، اونچا، بلند۔
- بالا: اوپر ہی اوپر، الگ ہی الگ، بے اطلاع۔
- پٹن، لڑکپن، کم عمری۔
- خانہ، مذکر؛ کوشا، چھت کے اوپر کا کمرہ۔
- بالا دست: افسر، بلند مرتبہ، زبردست۔
- کپٹی: مونڈت! وہ آرجس سے وزنی چیزیں اوپر اٹھاتے ہیں۔
- چتر تیشق۔ (انگ، کرین)
- نشین: مدد نشین، وہ شخص جو خاص عزت کی جگہ بیٹھے۔
- بالائی: (دع) (۱) ملائی (۲) اوپر کا، بلندی کا۔
- آمدنی/ آمد: (۱) وہ آمدنی جو علاوہ معمولی آمدنی کے ہو۔ (۲) رشوت (۳) غیر معمولی آمدنی۔
- خرچ: مقررہ خرچ کے علاوہ اوپر کا خرچ، وقتاً فوقتاً جو غیر معمولی خرچ پیش آئے۔
- یافت: رشوت۔
- بالائے طاق رکھنا/ طاق پر رکھنا: کنارے رکھنا، کسی کام سے بے تعلق ہونا، الگ، علاحدہ۔
- بالا حصار: (بالا، حصار) (دع) مذکر؛ (۱) گڑھی، تعلقہ (۲) پناہ گاہ۔
- بالپین: (دہ) مذکر؛ لڑکپن۔
- بالٹی: ٹین، لوہے، راجست، پتیل، یا پلاسٹک کا بنا ہوا پانی بھرنے کا برتن، ڈول۔

بام : مذکر ؛ (۱) کوٹھا، چھت، بالاخانہ (۲) ایک قسم کی سانپ کی طرح لمبی پھل۔
 بامزن : مذکر ؛ برہمن، پنڈت، ویدوں کا عالم۔
 بامنی : (۱) چھپکلی کی طرح کا ایک کڑا جس کی دم سرخ اور جسم چمک دار ہوتا ہے، (۲) آٹھ کی بیماری جس میں پلکیں جھڑ جاتی ہیں۔
 بان : مذکر ؛ سوخا کڑی (۲) ایک قسم کی آتش بازی، ہوائی، (۳) پیر۔
 بانا : (۱) ہڈیاں، لباس (۲) جوتا کر کے کی بنائی میں چوڑائی کی طرف ہوتے ہیں (۳) دردی، وضع، بھیس (۴) وہ سنہری تقری بنی ڈھکی ڈور جس کا حلقہ بنا کر ایک پائلیں بطور بہادری و استاد کی علامت ڈالتے ہیں (۵) ایک خاص قسم کی ٹھوڑی جسے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر چمکیت پھرتے ہیں۔
 بانڈھنا : دعوے کے ساتھ کسی کام کرنے کا ذرا لینا، بیڑا اٹھانا۔
 بانپا : (۱) مونتھ ؛ ایک قسم کا اونی دیر اور گرم کپڑا۔
 بانسی : مونتھ ؛ سانپ کا بیل۔
 بانٹ : مونتھ ؛ (۱) تقسیم، بٹوارا (۲) خارج قسمت / حاصل قسمت۔
 (۳) وہ چارا دانہ جو دودھ دوہتے وقت جانور کے سامنے رکھ دیتے ہیں (۴) تولنے کے وہ اوزان جنہیں ہاتھ یا برتن بھی بولتے ہیں۔
 بانٹ / چوٹ کرنا : تقسیم کرنا۔
 کھانا : تقسیم کر کے کھانا، اور دو کو بھی دے کر کھانا۔
 بانٹنا : تقسیم کرنا، حصے لگانا۔
 بانج / بانچھ : (۱) وہ مادہ (انسان یا جانور) جس کے پچھلے ہونٹ نہ ہوتا ہو۔
 جو بھی حاملہ نہ ہو، (۲) بجز زمین۔
 بانڈا : وہ پودے جو درختوں پر پیدا ہوتے ہیں۔
 بانڈی : مونتھ ؛ لونڈی، کینز۔
 بانڈھ : مذکر ؛ بند، بندھن، پٹشتہ۔
 کپسہ کھاہر لیسہ : (مثل، دھریسا، عربی کھانا ؛ طیم، روپے کی حفاظت کرو ہر قسم کے مرنے اڑاؤ۔
 بانڈھنا : تلہ اور کھانا، پلینا کسی چیز کو گرت میں لینا، بکونا، گرتی کرنا بانڈھنا : مذکر ؛ وہ بندش جو رنگیز چندریاں رنگنے کے واسطے کپڑے میں بانڈھا کرتے ہیں تاکہ رنگ وہاں نہ پہنچے۔
 بانڈھنا : تہمت لگانا، جھوٹ بنا کر مشہور کرنا۔
 بانڈھو / بندھو : (۱) رشتہ دار، (۲) دوست۔

بانر BOWLER : (انگ) ؛ (۱) گیند پھینکنے والا (۲) کرکٹ کے کیبل میں گیند پھینکنے والا۔
 بارش : (۱) مذکر ؛ سرانہ، تیکہ، مسند۔
 بارشت : مذکر ؛ مونتھ ؛ ہاتھ کے انگوٹھے کی نوک سے چھٹکیا کی نوک تک فاصلہ، بارہ انگل کا پیمانہ۔
 بارشتیا : بونا، چھوٹے قد کا آدمی، بارشت برابر انسان۔
 بارشتیوک : BOLSHEVIK : (روسی) ؛ مذکر ؛ (۱) روسی کمیونسٹ کسان مزدوروں کا طرف دار، (۲) انتہا پسند، انقلابی۔
 رزم ISM : ؛ بارشتیوں کا نظریہ حیات۔
 بارلغ : (۱) مذکر ؛ سانا، جوان، جو سن بلوغ کو پہنچ گیا ہو۔
 نظر : کسی اہر کو گہری نظر سے دیکھنے والا، نکتہ رس، معاملے کی اچھی سمجھ رکھنے والا۔
 بالک : مذکر ؛ بچہ، چھوٹا لڑکا۔
 بالکا : بچہ، چھوٹا، جو اپنے بیٹے کی طرح ہو۔ (۵) چھوٹی لڑکی۔
 بال کاٹڈ : (۵) مذکر ؛ بچپن کا زمانہ، مہدی طفلی۔
 بال کمانی : مونتھ ؛ گھڑی کی وہ کمانی جو مشین کو چلاتی ہے اس پر بگ باٹم : (۵) مذکر ؛ (۱) عاشق (۲) خاوند چھپیارا، محبوب۔
 کھیرا : مذکر ؛ ایک قسم کا بڑا کھیرا۔
 بالو : مونتھ ؛ (۱) ریت، ریگ (۲) بٹنے کے وہ ریشے جو دائرہ کی طرح ہوتے ہیں۔
 شاہی : مذکر ؛ ایک قسم کی مشہور مٹھائی۔
 بال ہٹ : (۵) مونتھ ؛ بچے کی منہ ایسی منہ جو مانی نہ جاسکے۔
 بالی : مونتھ ؛ (۱) ایک زور جس کو عورتیں کان میں پہنتی ہیں (۲) کم عمر لڑکی۔
 عمر یا عمر : بچپن، چھوٹی عمر۔
 کی سونیاں : وہ چھوٹے چھوٹے سخت ریشے جو گہریوں اور جو کی بالیوں کے چاروں طرف ہوتے ہیں۔
 بالیدگی : مونتھ ؛ بڑھوتری، نمو، رویدگی، بڑھنا، توانائی۔
 ہالے میاں : مذکر ؛ سالار مسعود غازی کا لقب۔
 کی مینڈنی : وہ گروہ جو ہالے میاں کے قبیلے کے زلمے میں تظاہر تظاہر کرتا ہے۔
 بالپس : (۱) مونتھ ؛ سرانہ، تیکہ

- بانڈ: BOND: (بانگ، ذکر؛ اقرار نامہ، معاہدہ، وثیقہ۔
 بانڈا: (۱) دم کی اسیے دم کا (۲) تیرھی تاگوں والا۔
 بانس: ذکر؛ ایک لمبا پتلا کھوکھلا گروہ دار مشہور درخت۔
 — پیر چڑھانا: تعریف میں بہت مبالغہ کرنا کسی کی بری بات کو
 شہرت دینا، نام جھنڈے پر چڑھانا۔
 — سپوڑ/بیس سپوڑ: بانس کی ٹوکریاں اور چیزیں بنانے کا پیشہ
 کرنے والا۔
 — واڑھی: بانسوں کا جھنڈ۔
 بانسوں اچھلنا/بانسوں کو دنا: خوشی کے جوش یا غصے کی شدت
 میں بہت کودنا، اچھلنا۔
 بانسا: دونوں نمتوں کی بیج کی ہڈی، تاک کے اڈپر کی ہڈی۔
 — پھر جانا: نزع کے آثار پیدا ہوجانا۔
 بالسرئی/بالسلی: موتھ؛ مشہور باجا جسے منہ سے بجاتے ہیں،
 مری۔
 بانگ: موتھ؛ (۱) فن سپرگری کی ایک شاخ، یہ کیل نم دلو چھڑوں
 سے بیٹھ کر یا سٹ کر کھیلا جاتا ہے (۲) ایک قسم کی چوڑیاں (۳)
 دریا کا گھاؤ، موڑ۔
 — پٹا: یہ کیل لکڑی، تلوار یا خنجر سے فرم یا کسی خاص جلوس
 کے موقع پر اکھاڑے والے کھیلے ہیں۔
 — کے توڑ: بانگ کے فن کے داؤ پیچ۔
 بانگا: (۱) جھکا ہوا، ٹیڑھا، مڑا ہوا، خم دار (۲) ایک گروہ جو پگڑی
 اور ٹوپی تیرھی کر کے سر بند رکھتا تھا (۳) رنگیلا، پھیلا، ایک
 خاص وضع کا (۴) طرح دار، خوش وضع (۵) دھاڑا، مشق
 (۶) مزور، سرکش۔
 بانگ آہن: ذکر؛ ٹیڑھاپن، وضع داری جس میں خود سائی شامل ہو۔
 سرکشی، ناز و انداز، شوخی۔
 — کی لینا: غرور کرنا، بانگپن دکھانا۔
 بانگڑھی: موتھ؛ ایک قسم کی بیس جو کھنکھورے کی طرح ہوتی ہے۔
 بانگ: (د،) موتھ؛ (۱) آواز، صدا (۲) اذان (۳) مرنے کی آواز۔
 — کرا: (د) اصناف کے ساتھ؛ (د،) موتھ؛ تعلقہ کے گھنٹے کی
 رعایت کی آواز۔
- بانگر: ذکر؛ (۵) اپنی ہم وارز میں۔
 بانگڑو: کم حق، بے تمیز۔
 بانگڑی: موذن۔
 بانگڑی، موتھ؛ بان گی، نمونہ، چاشنی۔
 بانو: موتھ؛ بی بی، خاتون، عزت و دلورمت، بیگم۔
 بانہہ: موتھ؛ (۱) بازو، کہنی سے کندھے تک کا حصہ، ہاتھ (۲) پردہ
 (۳) کنایتاً؛ مدد، سہارا، حمایت، دست گیر، طاقت
 حوصلہ۔
 بانگڑنا: (۱) مدد کرنا (۲) روکنا (۳) دست گیری کرنا (۴) بصیرت
 میں لینا۔
 — گپے کی لاج: ہاتھ پکڑنے کا لانا، دست گیری کی شرم۔
 بانی: (دس)؛ موتھ؛ (۱) آواز، تقریر، نظم، گیت (۲) دو ہے،
 گیت، رباعی یا قصے کے طور پر (۳) سودا بیچنے والوں کی آوازیں
 (۴) بات، بولی، نغمہ، صدا۔
 بانی: (دع)؛ فیاد ڈالنے والا، لہا د کرنے والا، باعث، سبب،
 ذریعہ۔
 — فساد: (د) اصناف کے ساتھ؛ (د،) ذکر؛ فتنہ انگیز۔
 بس کی گانٹھ۔
 — مہانی: اصل باعث، واقعی سبب، موجود۔
 باو: موتھ؛ (۱) ہوا، ریاح، (۲) گھنڈ، غرور۔
 باو سول: ذکر؛ پیٹ کا ریاحی درد۔
 باو گولا: ذکر؛ توبیخ کا درد، مرڈ۔
 باوا: ذکر؛ باپ، فقیر، استاد، گرو، سردار۔
 — آدم: حضرت آدم، سب سے پہلا انسان۔
 — مریں گے تب بیل نہیں گے: (دکھل)، امید موجود۔
 باؤڑ: (د،) ذکر؛ بھروسا، یقین، اعتبار۔
 باورا: ذکر؛ پاگل، باولا۔
 باؤڑھی: (دکھی)؛ ذکر؛ کھانا پکانے والا، خانا ماں۔
 — خانہ: کھانا پکانے کی جگہ۔
 باولا: پاگل، دیوانہ۔
 — کتا: (۱) دیوانہ کتا؛ (۲) (د) بانا، وہ آدمی جو خواہ مخواہ دوسرے

کو ایذا پہنچائے۔

باؤلنگ BOWLING : (رنگ) ٹوٹ؛ گیند پھینکنا۔

(کرکٹ کے کیل میں)

باولی: (۱) بڑا پکا کٹواں جس میں سیڑھیاں بنی ہوں (۲) پاگل صورت۔

دینا: (۱) تعلیم دینا (۲) اشتعال دینا (۳) شکاری جانور کو شکار پر چھوڑ کر دیر کرنا (۴) بھڑی دینا۔

پاولے گئے گا کاشا: پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، ہڈیان کینا، بلاوجہ لوگوں کو ایذا پہنچانا۔

باولن: ۵۲: پچاس اور دو۔

تولے پاورتی: (دش)؛ بالکل ٹھیک بات مے شک و شبہ معالہ نہایت کارآمد۔

گڑکا: (۱) بہت لمبا درازند (۲) فطرتی آفت کا پرکار۔

باؤنڈری: BOUNDARY : (رنگ) ٹوٹ؛ (۱)

کیلوں کے میدان کی آخری حد (۲) سرحد، حدود، احاطہ۔

لگانا: کرکٹ کے میدان میں بے ہار کا اس طرح گیند مارنا کہ وہ حد سے باہر نکل جائے۔

باہ: (دع) ٹوٹ؛ قوت مردی۔

پاہر: میدان، سڑک، گھر یا محدود جگہ سے باہر پھریں۔

بھیت لگانا: بار بار امداد باہر آنا جانا۔

کی ہوا لگنا: (۱) باہر کا اثر قبول کرنا (۲) دکھنا، آوارہ ہونا اترانا۔

کے کھائیں، گھر کے / گائیں / گہیت گائیں: (دش) غیروں کو فائدہ پہنچنے اور گھروالے محروم رہیں۔

بائبل: BIBLE : (رنگ) ٹوٹ؛ انجیل، یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں کا مجموعہ۔

باتن: (دع)؛ وہ طلاق جس کے بعد رجوع نہ ہو سکے۔

بائی: (۱) عورت، خاتون (۲) تالیا، کبھی (۳) اینٹھن کی بیماری۔

بائیکل: BICYCLE : (رنگ)؛ ٹوٹ؛ سائیکل۔

بائیکاٹ: BOYCOTT : (رنگ)؛ مذکر، تعلقات

ختم کرنا، عدم تعاون۔

بائیں: اٹے ہاتھ کی طرف، چپ۔

آکھ پھڑکنا: شگون، کسی پھڑے ہوئے کے لٹنے کا۔

ہاتھ سے مال / چیز رکھو لینا: اپنی معمولی سی قوت سے کسی کو زیر کر کے مال وصول کر لینا۔

ہاتھ کا کام / کھیل: سہل کام، آسان کام۔

بایاں: مذکر؛ (۱) اٹھا ہاتھ، چپ (۲) وہ طبلہ جو بائیں ہاتھ کی طرف رہتا ہے۔

پانور پیڑ پوچنا: کسی کی استادی کا پوچھنا، کسی کے پانور پیڑ چوسنا: کمال کا قابل ہونا۔

بایاں بازو / بائیں بازو: (سیاسی، اصطلاح)؛ (۱) انتہا پسند جماعت (۲) اشتراکی نظریات کی حامی جماعت۔

بایدوشاید: (دع)؛ جیسا چاہیے، بہت مناسب۔

بالج: (دع)؛ بیچنے والا، بیچ کر دینا۔

بائے فارسی: (دع)؛ ٹوٹ؛ وہ 'ب' جس کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں۔ 'پ' (دے)؛

بائے موحدہ: (دع)؛ ٹوٹ؛ ایک نقطے والی 'ب'، 'الف' کے بعد اور 'پ' سے پہلا حرف 'ب' بے

ب - ب

بیر: شیر کی ایک قسم، جو بھورے رنگ کا ہوتا ہے، نر کے چہرے پر درازھی کی طرح بال چہرے کے گرد گرد بھرے رہتے ہیں

جس سے وہ — ہیبت ناک معلوم ہوتا ہے۔

بیوا: مذکر؛ (۱) بالو کی تعبیر (۲) پتہ (۳) کھلونا مٹی کا، پتلا؛ وہ پستلا جو جانوروں کو ڈرانے کے لیے کسان کھیتوں میں کھڑا کرتے ہیں۔

بیول: کانٹوں والا ایک درخت جس سے گوند بھی نکلتا ہے، کبکیر۔

کے پیڑ لونا: بڑے کام کرنا، ایسے کام کرنا جس کا نتیجہ بڑا ہو۔

بیولا جھڈک: پانی کا بلبل، حباب۔

بیبی: مینا کی قسم کا ایک چھوٹا پرند، بیبی۔

ب، پ، بچھ

بیا : دف، قائم۔

بیت / بیتا : موت؛ دکہ، مصیبت، آفت، سرگذشت۔

پروتا : مصیبت آنا، راندہ ہوجانا، بیوہ ہوجانا۔

بپتسمہ : BAPTISM (انگ)؛ مذکر؛ (۱) عیسائی بنانے

کی مذہبی رسم جس میں پانی جسم پر چھڑکتے ہیں یا پانی میں غوطہ دیتے

ہیں، (۲) بچوں کے نام رکھنے کی رسم (عیسائیوں میں)۔

پوتی : (۵) موت؛ میراث۔

بچھارا : مذکر؛ (۱) بچا، انجرا، بچا پ سے پسینہ نکالنا (۲) پسینا

لانے والی دعا۔

بچھرنا : غصہ ہونا، جھلانا، قابو سے باہر ہونا، بھلنا۔

بچھرے رذیل اور بھوکے آسٹراف سے ڈرنا چاہیے: بقول

شریف بھوک کی حالت میں رذیل غصے کی حالت میں خطرناک

ہوتا ہے۔

(ب-ت)

بت : بط، دف، موت؛ مرنا۔

بٹ : دف، مذکر؛ (۱) موت، پتلا، صنم، دھماڈا، معشوق (۲)

خاموش، چپ چاپ، بے وقوف، اجنبی۔

پرسنت : (۱) بت کو پوجنے والا (۲) حجاز، عاشق۔

تراش : بت بنانے والا۔

خانہ / کدہ : جہاں بت رکھے جائیں، مندر، شوالے۔

خانہ آذر : جو سیوں کا آتش کدہ، آتش پرستوں کا عبادت خانہ

بتا : (۵) مذکر؛ بانست۔

بتیا : دھوکا، جھانسا، دام، فریب۔

بتانا : دھوکا دینا، فریب دینا۔

بتاسا : مذکر؛ (۱) بلبل، حباب (۲) ایک قسم کی مشہور مٹھائی جو صرف

شکر کی ہوتی ہے۔

ساگھلنا : دفعتاً دہلا ہوجانا، لیکام بہت دہلا ہوجانا۔

بتا سے کی طرح بیٹھ جانا : [ایک دہلا ہوجانا جس طرح بتا سا پانی

کی طرح گھل جانا :] میں فوراً گھل جاتا ہے اسی طرح دفعتاً

دہلا ہوجانا۔

بتاشا / بتاشہ : دیکھو بتاسا۔

بتام : مذکر؛ بھن۔

بتانا : مذکر؛ (۱) ایک زیور (۲) وہ لوہے کا گڑا جو منہار ہاتھ کے

پیمانے کے طور پر جوڑی پہنانے کے لیے رکھے ہیں۔

بتانا / بتلانا : کہنا، بیان کرنا، جواب دینا، سمجھانا، سکھانا، ظاہر کرنا، دکھانا

بتانا، (۵) دم، چراغ، بھجانا۔

بتنگ : دف، استنگ، بے زار، ناخوش۔

آجا / ہونا : عاجز آنا، طول ہونا، بے زار ہونا۔

بتنگڑا : مذکر؛ بے فائدہ بات، طول طویل کلام۔

بتوری : موت؛ وہ دم جو نہایت سخت ہوجاتا ہے، عام طور پر

بتوڑی بولا جاتا ہے۔

بتوال : (۱) موت؛ (۲) رسول اللہ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ

لقب (۳) مسلمان عورتوں کا نام۔

بتولا : مذکر؛ دھوکا، فریب، مضحکہ کی بات، چکنی چوڑی باتیں۔

بتولے بتانا : جھانسنے دینا، بتولے دینا، فریب دینا۔

بتی : (۵) موت؛ (۱) وہ جی یا بی ہوتی رونی یا کپڑا جس کو تیل میں

ڈال کر جلاتے ہیں، نیتلا (۲) وہ قیل جو زخم چھا ہونے تک زخم کی

گہرائی میں ڈالتے ہیں، (۳) وہ قیل جسے آگ دکھا کر نذوق، توپ یا

آتش بازی کے لیے آگ دیتے ہیں (۴) شاذ (۵) شمع، روشنی (۶) اگر منڈل

دیو خوش ہوگا قیل (۷) جسم بٹنے سے جو میل قیل کی صورت میں چھوٹے:

اور بہت سی چیزیں جو بتی، قیلے، کی شکل کی ہوتی ہیں مثلاً

لاکھ کی قلم۔

بتی آکسانا : روشنی جھانسنے کے لیے چراغ کی بتی اونچی کرتا۔

بتی بنا کر رکھ چھوڑنا : (طنز)؛ کسی بے کار کا غذا یا چیسر کو

احتیاط و حفاظت سے رکھنا۔

چڑھانا : (۱) دو اک بتی بنا کر زخم کے گھاویں رکھنا (۲) فالوں

کھول، ہانڈی (شیشے کی) جھاڑ میں موم بتی لگانا۔

دینا / لگانا : آگ لگانا، ڈالنا۔

بتیا : موت؛ (۱) ہراکچا پھل، مذکر؛ (۲) دم، (۳) ایک قسم کا لمبا بینگن،

(۴) عموماً خربزے کے کچے پھل کو کہتے ہیں۔

بتیس : عدد ۳۲، تیس اور دو۔
آئرن : سرسے پاؤتیک بتیس ہندوستانی زیور۔
دانتوں میں زبان : دشل، (۱) زبردستوں کے درمیان کسی کردار کا سلامتی اور خوش اسلوبی کے ساتھ بسر کرنا (۲) بہت سے زبردستوں میں ایک کردار اور تنہا انسان۔
بتپسی : انسان کے دانتوں کی دونوں لڑیاں، نقلی دانتوں کے چوکے۔
بجنا : خوف یا سردی کی شدت کی لکپی میں دانتوں کا ایک دوسرے ٹکرا کر اڑنا۔
بند ہونا : دانتوں کا جکڑ جانا، دانتوں کا نہ کھلنا۔
دکھانا : دانت دکھانا، بے ہودہ طریقے سے ہنستا، منہ چڑھانا۔
بتھوارا : مذکر؛ ایک قسم کا مشہور ساگ، گیہوں کے کھیت میں بے غیر ہونے اپنے آپ ہوتا ہے۔

ب-ٹ

بٹ : (۱) وہ شکن جو مشاپے کی دہر سے پیٹ یا گردن میں پڑ جاتی ہے، (۲) وہ دم جو چوٹ کی دہر سے انسان کے جسم پر ہو جاتا ہے، (۳) بیل، سلوٹ (۴) تولنے کا باٹ (۵) مڑوڑ، بیچ (۶) راستہ، پگ ڈنڈی، باٹ (راہ) کا منتف۔
بار : لیرا، ڈاکو، راہ زن۔
موگرا : بڑی قسم کا موگرا، بڑی قسم کا سوتیے کا پھول۔
بتا : مذکر، لکھی لکھانا، (۲) باٹ کی تصغیر، چھٹا باٹ (۳) تولنے کا وزن (۴) دکھنا، داغ، عیب (۵) جھوٹ بھرائی، منہائی (۶) جس پتھر سے مل کر کوئی چیز پیسے میں دینا، کمی پوری کرنا، نقصان اٹھانا۔
لگاتا : (۱) کمی پوری کرنا، کٹوتی کا ٹٹا (۲) عیب لگانا۔
بتالیون : BATTALION (انگ) : مؤنث؛ پلٹن، فوجی دستہ۔
بتانا : ہانت لینا، تقسیم کرنا۔
بتائی : (۱) رستی بننے کی اجرت (۲) نفلے کی پیداوار کی تقسیم (۳) کسی چیز کی تقسیم، حصہ۔
بٹ جانا : (۱) تقسیم ہو جانا (۲) مڑوڑ لکھانا (۳) سڑک جانا، علاحدہ ہو جانا (دھرا دھر ہو جانا)۔

بٹلر : (انگ) : مذکر؛ خانہ سالماں، گھر کے کام کاج کا ملازم۔
بٹن : BUTTON (انگ) : بوتام، گھنڈی، بٹیکر۔
بٹنا / **اُبتنا** : اُبتن، ایک خوش بودار مسالا جو جسم پر ملا جاتا ہے۔
بٹنا : (۱) آپس میں تقسیم ہونا، حصے ہونا (۲) پریشان ہونا، اہتر ہونا۔
متفرق ہونا، جدا جدا ہونا (۳) بل دینا، لپیٹنا، مڑوڑنا (۴) خیال دھیان کا ایک طرف سے دوسری طرف چلا جانا۔
بٹوا : مذکر؛ (۱) کپڑے کی خانے دار پتیلی الایچی چھالیا وغیرہ رکھنے کی (۲) چوڑے کی چھوٹی تھیل جس میں روپیا پیسے رکھے ہیں، (انگ) : پیرس۔
بٹوارا : تقسیم زمین، جایداوار، روپیا پیسہ وغیرہ، خواہ باہمی ہو تو بدریغ عدالت۔

بٹورا : سوکے اپوں کا جلیا ہوا ڈھیر جس پر بٹس مل کر مٹی سے لپ دیتے ہیں کہ پانی اثر نہ کرے۔
بٹورنا : اکٹھا کرنا، سہینا، جمع کرنا۔
بٹورنا : بٹنی ہوئی، سہیمی ہوئی چیزیں۔
بتیلا : (۱) چھوٹی راہ، تنگ راستہ، بٹ (راہ) کی تصغیر، (۲) ناریل کی گری دکھول، (۳) چھوٹا بانٹ جس سے تولنے ہیں، (۴) پتھر کے چھوٹے ٹکڑے جو بلوے لائن پر ڈالنے جاتے ہیں۔
بتیلا : مؤنث؛ بیٹی کی تصغیر، لڑکی۔
بٹے باز : چالاک، دغا باز۔
بٹے پر خریدنا : نقصان سے خریدنا۔
بٹے کھاتے لکھنا / **بٹے کھاتے میں ڈالنا** : رقم کو ناقابل وصول قرار دینا۔

بٹیر : مذکر و مؤنث؛ تیرتے رنگ کا ایک چھوٹا پرندہ۔
باز : بیٹس پالنے اور لڑانے والا۔
بٹھا دینا : (۱) بیٹھے پر مجبور کر دینا (۲) کسی کام سے دست بردار کرنا (۳) مدرسے میں بھیجنا (۴) گلنتی کر دینا۔
بٹھا رکھنا : (۱) کوٹاری رکھنا (۲) لڑکی کو کسرال نہ بھیجنا (۳) بے کار رکھنا۔
بٹھانا : (۱) کھڑا یا لیٹا نہ رکھنا، درمیانی صورت میں بٹھانے کی حالت میں رکھنا (۲) کام پر لگانا (۳) کمزوری اور ضعف کا سبب ہونا۔

(۲) ٹھہرانا، انتشار کرنا، ٹھیک جگہ پر رکھنا۔

ب۔ بج، چھ

بجنا: دف، ٹھیک، درست، سج، (طسز) نامناسب، لغو، بے ہودہ۔

— آوری: تعمیل، انجام دہی، پیدا کرنا۔

بجانا: (۱) ہلے کی آواز نکالنا (۲) پڑکھنا، جانچنا۔

بجائے: دف، کسی کی جگہ پر، قائم مقام ہر مومن۔

— خود: اپنی سمجھ میں اپنے نزدیک، بیکری مدد کے، اپنی جگہ پر بیخ بجانا: کسی چیز کا سڑ جانا، اُس جانا، ایسا سڑنا کہ ٹھیلے آئیں۔

بجٹ: JUDGET دانگ؛ مذکر، (۱) سال بھر کی آمدنی اور خرچ کا قاعدہ، (۲) میزانہ۔

بجڑ: (۱) بھاری، بوجھل (۲) بہت آہستہ چلنے والا مسرت، کابل، مشا (۳) دو بھر، اجیرن (۴) بھاری پتھر، سنت پتھر۔

بجڑنوا: مذکر؛ (۱) ایک کالا بھلی بھلی جس کی مالا بناتے ہیں، (۲) ایک قسم کا کھلونا (۳) دھمازا؛ بے وقوف، نادان، کم عقل۔

بجڑا: مذکر؛ دنیا میں سیر کرنے کی ناول۔

بجڑی: مؤنث؛ (۱) کنکر (۲) لال کنکر ملی مٹی (۳) چھوٹے چھوٹے اولے۔

بجلی: مؤنث؛ (۱) وہ چمک جو بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔

(۲) برقی قوت (۳) حورتوں کے کان کا زور (۴) کچے آم کی گھٹی

کامزود (۵) بہت پھرتیلا مہالاک چست (۶) نیاں دراز، مُسند۔

— بسنت: تیز بھلی، بسنت کی تیز بھلی، تیز ہالاک۔

— پرٹنا: آم کی کیری میں گھٹی پرٹنا۔

— چکنار کوندنا: بادلوں کی رگڑ سے چمک نکلنا۔

— سا کور کا/ کی کورک: بادلوں کی رگڑ کی آواز۔

— سا کوندا: بادلوں کی رگڑ کی چمک۔

— کی لیکٹ: بجلی کی چمک۔

— کے بالے: بڑا ڈالے جو عورتیں کانوں میں پہنتی ہیں۔

— گرانا: دھمازا؛ آفت ڈھانا، صدمہ پہنچانا۔

— گرنا/ پرٹنا: (۱) بجلی کا کسی پرٹنا، بجلی گرنا (۲) دھماکانا۔

بڑی آفت یا مصیبت آنا۔

بجنا: (۱) آواز نکالنا، بولنا، آواز دینا (۲) کسی نام سے مشہور ہونا۔

بجنا: مذکر؛ بجی کے برابر ایک جانور جو قبروں میں گھس کر مردے کھا جاتا ہے۔

بجنا: بڑا وقت، مصیبت، بد نصیبی، حادثہ۔

بجنا: وہ شخص جو بوجھ میں ہو، کم نصیب، بد بخت۔

بجنا: جس پہل یا تزکاری میں بیخ بہت زیادہ ہوں۔

بجنا/ بجنا دینا: آگ، چراغ یا کسی جلیق ہوئی چیز کو سرد کرنا، گل کرنا۔

بجنا/ بجول: مؤنث؛ پہیلی، عوام کی زبان پر بڑے بڑے جھوٹوں، یا بجھی جھوٹ ہے۔

بجنا: کسی جلیق ہوئی چیز کا ٹھنڈا ہونا یا جلنا ختم ہونا۔

بجنا آگ: دھمازا، فتنہ، فساد، دہ جلتے۔

بجنا آواز: دھیمی اور بسنت آواز، مری مری سی آواز۔

بجنا: مؤنث؛ پہیلی، جیتان۔

بجنا/ بجیل: بھاری، وزنی، بوجھل۔

ب۔ بج، چھ

بجنا/ لوجنا: مذکر؛ جس کا کان کٹا ہوا ہو، چھوٹے کانوں والا۔

بجنا/ بجنا یا بجنا کھنا: بچا ہوا، باقی ماندہ۔

بجنا: (۱) حفاظت کرنا، امان میں رکھنا (۲) بچ کرنا، بچوڑنا۔

بجنا و: مذکر؛ (۱) حفاظت (۲) چٹکارا، نہات (۳) امن، پناہ (۴) غلڈ

معدت (۵) بہانہ، جملہ، پہلوئی (۶) حفاظت کی جگہ۔

بجنا/ وچار: (۵) مذکر؛ (۱) حساب، شمار، رلے، تجویز، فیصلہ

(۲) خیال، لحاظ، سوچ، فکر (۳) ارادہ، قیاس، اٹھل۔

(۴) خود، دھیان، سمجھ، تدبیر۔

بجنا/ بجنا کرنا: (۱) سوچنا (۲) آٹکنا (۳) غور کرنا، تصور کرنا

(۴) شاننا، ارادہ کرنا۔

بجنا/ بے چارا: سیدھا سادا، بھولا، غریب، مُغفل۔

بجنا: مذکر؛ لڑکھن، کم سنی۔

بجنا: مؤنث؛ (۱) جو صرف کرنے سے بچا ہو، بقیہ (۲) ماندہ؛

نفع (۳) مصیبت سے بچنے کی صورت (۴) حفاظت۔

پچکٹ: موتی؛ سبرک، ڈر، خوف
پچکانا: بچوں کے لائق چیز۔

پچکنا: ڈر جانا، سبرکنا، سبگانا۔

پچلا: بیج کا سمجھنا، درمیانی۔

پچلنا: پیس جانا، چوکننا، بہکنا، لغزش کرنا، پڑکنا، کام خراب
ہونا، سبرکنا۔

پچن / پچن: (دہ) مذکر؛ بات، عہد، وعدہ، قول قرار۔

پچنا / پچ جانا: باقی رہنا، بچت میں پڑنا، پس انداز ہونا، خالی جانا،
مغوظ رہنا۔

پچو: بچہ کی تفسیر، پیاری مزاح سے: چھوٹا بچہ۔

پچورنا: (د) توڑنا، کھولنا (د) کٹنا، مل کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

پچوٹاں: جمع بچہ کی؛ بچے۔

— سے گودی / گود بھری رہے: (دعا، کثرت سے اولاد ہوو
اولاد زندہ رہے۔

— کا کھیل: مذکر؛ آسان کام، سہل بات۔

پچک: (د) مذکر، میڈی ہوئی جان، چھوٹی عمر کا دلکا، چھوٹا انسان، جوان کی کس اولاد،

— بالا، لڑکا، بالا، اولاد۔

— بھرانہ: پرند کا چونچ سے بچے کو دان کھلانا۔

— دان / دانی: وہ جگہ جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔
بچہ دانی، رحم۔

بچے: (د) جمع بچہ کی؛ اولاد۔

— گئے: (د) مذکر، لڑکے والے، اولاد۔

بچھاوینا: (د) بچھونا کرنا، بستر کرنا، فرش کرنا، پھیلانا (د) پریشان کرنا۔

(د) آتھارنا، زمین پر گر جائے؛ خوف مارنا، پیٹنا۔

بچھ جانا: (د) بچھونے کی طرح پھیل جانا، فرش ہو جانا (د) فریفتہ ہو جانا،

(د) کٹنا، اٹھار سے جھک جانا، نہایت متواضع ہونا،

منت سماجت کرنا۔

بچھرا: مذکر، گتے کا تر بچہ۔

— کھوٹے کے بل کو داتا ہے: ذلیل، حیا کی بھروسے

پر تقویت ہوتی ہے، ہمت کسی حمایت کی مدد پر ہوتی ہے۔

بچھرا: جدا، الگ ہو جائے، دُور فائدہ، جو تھپے رہ جائے۔

بچھڑنا: (د) مذکر؛ جما ہونا، الگ ہونا۔

بچھڑناگ: ایک زہریلی بوٹی؛

بچھڑو: مذکر؛ (د) ڈنک مارنے والا کڑا، کڑوم، عقرب (د) ایک پہاڑی

پہاڑی جس کے چوہے سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے (د) کٹنا، بٹنا

چالاک، مستثنیٰ، خطرناک آدمی۔

بچھووا: (د) ایک قسم کا چھوٹا خمر جس کا پیل مڑا ہوتا ہے (د) ایک قسم کا زیور

جو بالکے آنکھوں میں پہنا جاتا ہے۔

بچھوونا: مذکر؛ بستر، فرش۔

بچھینا: گائے کا مادہ بچہ۔

بچھیرا / بچھیرا: مذکر؛ گھوڑے کا تر بچہ۔

ب-ح

بحال: (د) اصلی حالت پر، بہ دستور، خوش حال، اچھی حالت میں
ٹھیک، درست۔

بحشت: (د) موتی؛ (د) سوال جواب، مہارت، محبت، جھگڑا، (د) باب، فصل۔

— نہ ہونا: بے تعلق ہونا، سرد کار نہ ہونا، مزاحمت نہ ہونا۔

بجٹا / بجٹی: باہمی تکرار، محبت، مناظرہ، اختلاف۔

بجٹنا: (د) بحث کرنا، مذکرنا، محبت کرنا۔

بجھر: (د) موتی؛ شعر کا وزن، چند کلمات موزوں کا نام جن

سے شعر کا وزن ٹھیک کیا کرتے ہیں۔

بجھڑ: (د) مذکر؛ سمندر۔

— آبِ حین: (د) اضافت کے ساتھ، (سفید، وہ سمندر جو دوس

کے شمال میں واقع ہے۔

— اُحمر: (د) اضافت کے ساتھ، (سرخ، وہ سمندر جو افریقہ اور عرب

کے درمیان واقع ہے۔

— اُحضر: (د) اضافت کے ساتھ؛ (سبز، وہ سمندر جس کے شرق

میں چین ہے (د) اصطلاح شعرا میں آسمان۔

— اُسود: (د) اضافت کے ساتھ؛ (سیاہ، وہ سمندر جو ترکی کے

شمال و مغرب میں واقع ہے۔

— اُعظم: (د) اضافت کے ساتھ؛ بڑا سمندر۔

بحرالکابل: (بحرِ کابل، اہل)؛ ایک بہت بڑے سمندر کا نام جو امریکا کے

— بیدار / سار / گار / ہمالیوں : (اضاف کے ساتھ) خوش
نسب، (چھ قسمت والا۔
— خفتہ : (اضاف کے ساتھ) سویا ہوا نصیب، بگڑا ہوا
اقبال۔

— رسا / سبز : (اضاف کے ساتھ)؛ خوش نصیب، خوش قسمتی۔
— کھلنا : (۱) نصیب جاننا (۲) (ہماڑا)؛ بن بیاہے کی شادی ہونا۔
— و اتفاق / و وقت : بغیر کوشش کے اتفاقی طور پر نفع
پہنچ جانا۔

— واژوں / واژگوں : اونڈی قسمت، بگڑا ہوا نصیب۔
— بختوں جلی : مؤنث، (عو) (۱) بد نصیب، مصیبت زدہ (۲) وہ
عورت جس کے اولاد نہ ہو، بیوہ۔

— بختاورد : (۱) اقبال مند، خوش نصیب (۲) (طنز)؛ نموس، بد نصیب۔
— بختہ : (ف)؛ مذکر؛ جمع (۱) دو میں تنہا نہیں بولتے، جمع بختہ۔
— بختش : (ف)؛ مذکر؛ جمع (۱) کھانے کا وہ مکمل تازہ جس میں مختلف مرچ
تمام کھانے ہوتے ہیں جو تقریبات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

— دینا : بلا معاوضہ دے دینا، معاف کر دینا۔
— بختایش : (ف)؛ مذکر؛ گناہ کی معافی، قصور کی معافی۔
— گڑ : بخشنے والا، خداے تعالیٰ۔

— بختش : (ف)؛ مؤنث؛ انعام، معافی، عفو، جود و کرم، عطیہ۔
— بختنا : (۱) قصور معاف کرنا، گناہ معاف کرنا (۲) قرآن پڑھ کر ثواب
پہنچانا (۳) کوئی چیز مفت دینا (۴) پیر یا مرشد کا کسی عمل کے
لیے اجازت لینا۔

— بختو بی یلی چوہا لتور : (۱) ہی بھلا : (مث)؛ ہم جس حال میں ہیں
نیک ہیں ہم تمہارے جھانے میں نہیں آئیں گے۔

— بختشی : (ف)؛ مذکر؛ (۱) وہ شخص جو فوج میں تنخواہیں تقسیم کرتا اور اس کا
حساب رکھتا تھا (۲) شاہی زلمے کا ایک فوجی عہدہ (۳) فوج
کی حاضری لینے والا (۴) میر لشکر، سپہ سالار۔

— بختل : (ع)؛ مذکر؛ کنبوسی، تنگ دلی، جُز رسی، لالچ، طمع، حرص۔
— بختور : (ع)؛ مذکر؛ وہ چیزیں جن کے چلانے سے خوشی و مٹکتی ہے۔

— دان : وہ برتن جس میں عود لوبان، خوشبودار چینیہیں
چلاتے ہیں۔

مغرب کی طرف اور بڑا عظیم ایشیا کے مشرق کی طرف واقع ہے۔
— اوقیانوس : (اضاف کے ساتھ)؛ ایک بڑا سمندر جو امریکا کے
مشرق اور یورپ، افریقہ کے مغرب کی طرف واقع ہے۔
— ظلمات : بحر اوقیانوس۔
— ویر : تری و خشکی۔

— بحران : (ع)؛ مذکر؛ (۱) پھل، بے چینی، گرم ہوا، زہریلی ہوا (۲)
بیاری کے زور کا دن (۳) (جملہ) کسی کام میں شدت یا تنازل
جیسے سیاسی بحران، ادبی بحران وغیرہ۔
— بجل کرنا : (ف)؛ بختنا، معاف کرنا، دیکھنا غالباً بمال کا معاف
کے۔
— بختہ : (ع)؛ مذکر؛ بحر کی تھیر؛ جھوٹا سمندر۔

ب-خ

— بخار : (ع)؛ مذکر؛ (۱) تپ، حرارت (۲) بھاپ و دھواں، بخار
(۳) عفتہ، رنج، کدورت۔

— بھرا ہونا : شکوے سے لبریز ہونا، غبار سے پُر ہونا،
تپ آجانا۔

— چڑھنا / آنا : (۱) تپ آجانا (۲) (ہماڑا)؛ عفتہ آنا، عفتے میں
بھرنا، مددہ ہونا، ڈر لگنا۔

— بیکلنا : (۱) دل کا غبار بھگانا، دل کا جوش نکالنا (۲) عفتہ
اتارنا، عموں لینا، بدل لینا۔

— بخارات : (جمع بخار کی)؛ بخارے۔
— بخاری : (ف)؛ (۱) آتش دان، چینی، جو کرے کی دیوار میں مکلا، گرم
رکھنے کے واسطے بناتے ہیں، (۲) وہ کوٹھڑی جو غلے رکھنے کی غرض
سے بناتے ہیں، (بخاری) (۳) بخار کی طرف منسوب، شہ بخارا
کا رہنے والا۔

— بخت : (ف)؛ مذکر؛ نصیب، قسمت۔
— اڑ گئے بلندی رہ گئی : (مث)؛ ایسا شخص جو مفلسی میں
امیرانہ مزاج رکھے،

— آور / جوان / مند / یار : خوش قسمت، خوش نصیب۔
— برگشتہ : بد نصیب۔

خط: وہ شخص جس کا خط خراب ہو۔
 خصال / خصلت / خوا: بڑی عاقل والا، بڑے مزاج والا۔
 خلق: جس کا برتاؤ برا ہو، جو اچھے مزاج کا نہ ہو، رذکھا،
 کجا اخلاق۔
 خواب ہونا: (۱) نیند پوری نہ ہونا (۲) بڑا اور ڈرانا خواب
 دیکھنا (۳) احکام ہونا۔
 خواہ: بڑا چاہنے والا، دشمن، کینہ پرور۔
 دعا لگنا: بڑی دعا کا اثر ہونا۔

دل: دل بڑا ہونا، کسی کام سے دل اچھا ہونا، ناراض،
 ناخوش، شکستہ خاطر۔
 دماغ: پھڑپھڑا، بد مزاج، مغرور، نازک مزاج، ناخوش۔
 دیانت: بے ایمان، خیانت کرنے والا، فریبی، دغا باز۔
 ذات: تمہا، خراب طبیعت کا، متفرق، شوخ، کم ذات، کینہ،
 پاجی، سفلہ۔
 رنگ: کہیں کہیں سے رنگ اڑا ہوا، بہت مدہم رنگ (۲)،
 بد وضع کھوٹا، ناقص۔
 رؤ: بڑی شکل کا، بد نما، بد صورت۔
 زبان: بڑی زبان والا، گالی گلوچ کرنے والا، سخت زبان۔
 زینب: (۱) جو اچھا نہ لگے جو زیب نہ دے، خصوصاً کپڑا (۲)
 بے نور (۳)، بد نما، بھدا۔
 سرشت / سگال / طبیعت: خراب طبیعت کا، بری طبیعت
 کا، بد اندیش۔
 سلوکی: برابر تاد، خراب معاملت، ایسے ہودہ روش۔
 شکنی / شکونی: بد حالی، نحوست۔
 فلن: بد گمان، شکتی۔
 عہد: وعدہ خلاف، قول دستار سے پھرنے والا، بے وفا،
 پھیسال شکن۔
 فعلی: بد کاری، زنا، عیاشی۔
 قلمی: (۱) بے قلمی برسی (۲) جس مکان پر سفیدی نہ ہوئی ہو۔
 قماش: (د) بیلین، بد وضع۔
 قوارہ: بد شکل، بھدا۔

بھیٹنا: ایک قسم کی مضبوط سیلابی گنا؛ دوسرے ٹانگے والی سیلابی گنا۔
 بخیل: (د) کنوس، تنگ دل۔
 بخیل: (د) بکر؛ ایک قسم کی مضبوط سیلابی۔
 آدھرتا / آدھیرتا: (۱) ٹانگے لگنا (۲) قلبی لگنا (۳) باز فاش
 ہونا، (۴) عیب ظاہر ہونا۔
 کھٹنا: (۱) ٹانگے ادرھنا (۲) بھینڈنا ظاہر ہونا، پردہ فاش ہونا
 حقیقت معلوم ہونا۔

ب-د

بڈ: مونٹ؛ ڈبل کی طرح کی گھٹی جو پتہ دل میں نکلتی ہے۔
 بڈ: (د) بڑا، خراب، شریر، فساد، تکھا، ناقص۔
 اچھا بد نام بڑا: دہش، بڑی شہرت اور سوائی بد کاری
 سے بھی خراب ہے، بڑی شہرت سے پچھلچا پیسے۔
 اختر: بد نصیب، شوم۔
 آسلوب: بے ڈھنگ، بھدا، بد وضع، بڑے کردار کا۔
 امنی: امن و امان کا اٹھ جانا۔
 اندیش: دوسرے کا بڑا جھینڈنا والا، کسی کا بڑا چاہنے والا۔
 آموز: جس کی تعلیم و تربیت خراب ہو۔
 آپین: جو کسی اصول کا پابند نہ ہو، بے اصول۔
 باطن: خراب نیت والا، کینہ پرور، جس کا اندرون صاف
 نہ ہو۔
 بخت: بڑے نصیب والا، بد قسمت۔
 بلا: پزیر، پلید، نہایت شریر، آفت۔
 بوا: بڑی باس، خراب بوا۔
 پرہیز: بے احتیاطا بے پروا، مینز صحت غذا یا کام کرنے
 والا بے اعتدال۔
 تر: زیادہ خراب، آئیز۔
 جانور، سود، خنزیر۔
 چشم: بڑی نظر والا، بڑی نیت والا۔
 حواس: جس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہوں۔
 بے عقل۔

- کار: بُرے فعلوں والا، فاجر، زانی۔
- کرदार: فاسق، فاجر، جس کا کردار، اچلن، بُرا ہو، بدکار۔
- کیش: بے دین، بدخو۔
- گوشت: ایسے کارگوشت جو کسی جسمانی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور مونا بے حس ہوتا ہے۔
- گوہر/گہر: بداصل، جس کے نسب میں فرق ہو۔
- لحاظ: بے شرم، بے تمیز، گستاخ۔
- لگام: (۱) منزداد گوڑا جو لگام سے قابو میں نہ ہے (۲) (ہجاز) بد زبان منہ پھٹ آدمی۔
- مزگی: (۱) ذایقہ کی خرابی، بیماری (۲) بگاڑ، زبش، خفگی۔
- مزہ: (۱) سہنما، خراب، بُرے ذایقہ کا (۲) بیمار (۳) خفا، رنجیدہ ناراض۔
- مست: (۱) نئے میں پورا، مدہوش، شراب خوار، (۲) نفس پرست، شہوت پرست۔
- معاش: گھا، اٹھائی گرا، جس کی گزیر بُرے ذریعوں سے ہو۔ شہدا، فسادی۔
- معاہدہ: جو معاملے کا صاف نہ ہو، بدعہد، جو قول دستار کا پابند نہ ہو، چالاک، کھوتا۔
- مہر: نامہ ریان، کھڑکان، بے تپاک، جس کے برتاؤ میں خشکی ہو۔
- نام: رسوا، جس کی شہرت بُری ہو۔
- نام کیندہ: نیکو نامے چنند، نیک نام بزرگوں کو بدنام کرنے والا، ننگ، اسلاف۔
- نامی کا لوگرا: بدنامی کا الزام، بدنامی کا بوجھ۔
- کاشکا: رسوائی کا دارغ، کلک کا ٹیکا۔
- نفس: برآ آدمی، بُری سرشت کا۔
- نما: جو دیکھنے میں بُرا ہو، بدزیب۔
- نہاد: بد اصل، بد گہر، بُری سرشت کا۔
- نیت: بُرے ارادے کا، بے ایمان، عمیدہ، لالچی۔
- وضع: (۱) بُرے چلن کا، بد معاش، عیاش، ہمالوارہ (۲) ناموزوں، بُری قطع کا، نازیبا۔
- _____ ہضمی: غذا کا ہضم نہ ہونا، گرانی۔
- _____ ہیئت: بُری شکل کا، ڈرادی صورت، مہیب۔
- _____ بدی: بُرائی، بد خواہی، ہیبت۔
- _____ پر آنا: (۱) بُرائی کرنے پر آمادہ ہونا، دشمنی پر تیار ہونا (۲) جانور کا سرکشی کرنا۔
- _____ بدرا: مقزورہ، معین، قسمت میں لکھا ہوا، طے شدہ۔
- _____ بدی: حکمی، مشرطیہ، شرطیں بد بد کے بمثل، کچی، ہدم ہذا، کینہ دہی۔
- _____ بدی ہوئی بات: یقینی امر۔
- _____ بدرا: موت، رخصت۔
- _____ ہونا کرنا: لڑکی کا میکے سے رخصت ہونا، لڑکی کی گھر سے رخصتی۔
- _____ بد اہت: بدیہی: (دع، کھلی ہوئی بات ہونا، امر ہی ہونا، یقینی ہونا۔
- _____ بدانت: (دع، شرود کرنا، آغاز۔
- _____ بدراغ: (دع، جمع بدیل کے)؛ نئی چیزیں، عجائبات، علم بیان و معانی کی اصطلاح۔
- _____ بدائی: (دع، موت، چھٹی، روانگی، رخصتی۔
- _____ بدایوں کے کلا: (۱) شہر بدایوں کے مجولے سجائے لوگوں کی طرف اشارہ (۲) (ہجاز) بھولا بھالا، احمق، نادان، سادہ لوح۔
- _____ بد بد آنا: چکے چکے کہنا، مز میں آہستہ آہستہ بولنا، صاف صاف نہ کہنا۔
- _____ بدخشاں: (دع، افغانستان کے ایک حصے کا نام جہاں کے لوگ شہر میں بدزیدین کے قریب ایک جگہ کا نام جہاں کی جنگ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے (۲) پورا چاند، چودھویں رات کا چاند۔
- _____ بدرا: (دع، مذکر؛ بادل، ابر۔
- _____ بدرا: آہستہ آہستہ۔
- _____ کرنا، چکے چکے کہنا، آہستہ آہستہ بُرا بھلا کہنا۔
- _____ بدرا: (دع، موت، پانی باہر جانے کا راستہ، مٹری، پرتلا۔
- _____ بدرا: خارج کرنا، نکال دینا جلا وطن کرنا، دُشہر یا ملک کے ساتھ، بدرا: (دع، (۱) تلفظ کا تگ بان، (۲) رہنا (۲) محافظ، سپاہ، مظلایہ

- (۳) اصطلاح طلب میں، وہ دوا جو کسی دوسری دوا کی معاون ہو۔
- بدلی: مؤنث؛ (۱) وہ صحابی جو جنگ بدر میں شریک تھے (۲)
- (ف) چھوٹی تھیل۔
- بدلی: جست کے برتن، بن اور دوسری چیزوں پر چاندی سونے کا کام، اس کام کو دکن کے ایک مقام بیدر سے نسبت ہے۔
- بدعت: (دع) مؤنث؛ (۱) اختراع، ایجاد، دین کی باتوں میں کوئی نئی بات یا رسم نکالنا (۲) اصطلاح شریعت میں، دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرنا جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ تھی۔
- بد قوما: بیع، کم ذات، کم ظرف۔
- بدکانا: گھوڑے کو بھراکانا، چونکانا، ڈرانا، چونکتا کر دینا (۲) (دم)
- اکھڑنا، اچاٹ دینا۔
- بدکنٹا: اُچھلنا، چھدنٹا۔
- بدل: (دع) مذکر؛ بدلا، عوض، تبادلہ، معاوضہ،
- جانا: اپنے کبے سے پھر جانا، مکر جانا، یکسر انقلاب ہو جانا۔
- بدلا: مذکر؛ (۱) معاوضہ، عوض (۲) اجر، صلہ (۳) انعام، بخشش (۴) اجرت (۵) ہریہ، تاوان (۶) قصاص، انتقام۔
- آتارنا: کسی کے سلوک کا عموں کرنا۔
- بدلنا: پلٹنا، پھیرنا، تیز و تہدل ہونا۔
- بدلی: بادل کی تصنیف؛ (۱) بادل کا چھوٹا نمونہ (۲) ایک شخص کے کام پر دوسرے کا جانا۔ تبادلہ۔
- کی چھاؤ: (۱) بدلی کا سایہ (۲) (بھاڑا): ناپاے دار، بہت جلد مٹنے والا۔
- بدن: پٹلا، جسم، بدلی گوشت کا مرکب انسان یا حیوان)۔
- پیر بونی / پیر ہٹنا: مونث تازہ ہونا، مٹا پانا۔
- پھلنا / پھل جانا: جسم پر پھنسیاں یا چھوٹے دانے کثرت سے نکل آنا۔
- پھوٹ جانا: جسم میں زخم پڑ جانا، بدن چٹخ جانا۔
- بدن پھیکا ہونا: جسم گرم ہونا، خفیف حرارت ہونا، پستھا پھیکا ہونا۔
- توڑنا: آنکھوں کی لینا، مستی نکالنا۔
- ٹوٹنا: (۱) جوڑ جوڑ میں درد ہونا، اعصاب شکنی ہونا (۲) ریاضت سے جسم میں لویج پیدا ہو جانا۔
- جھکنٹا: جسم کا ڈبلا ہو جانا۔
- چرکانا: بدن کو سینٹنا، جسم کو چھپانا، جتنا جسم ہے اس سے کم اور سکڑا ہوا نظر آنا۔
- چوڑ چوڑ ہونا: رگ رگ میں تکلیف ہونا، درد محسوس ہونا۔
- دھرا ہونا: جسم کا بہت خمیدہ ہونا، بہت جھکنا۔
- ساکچے میں ڈھلنا: جسم کے اعصاب میں تناسب اور موازینت ہونا۔
- سوکھ کر کاٹنا ہو جانا: بہت ڈبلا اور لاغر ہونا۔
- میں آگ لگنا / آگ سی لگنا: بہت غصہ آنا، برا فروختہ ہونا۔
- میں جان نہ ہونا: بہت کمزوری اور ضعف ہونا۔
- بدنا: (۱) مقرر کرنا، نام زد کرنا (۲) بازی لگانا، قول قرار کرنا، شرط لگانا، عہد کرنا (۳) سمجھنا، ماننا، تسلیم کرنا۔
- بدو: (دع) (۱) آغاز، ابتدا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا (۲) شروع کرنا آغاز ہونا (۳) جنگ، بیابان۔
- بدومی: صومالیہ۔
- بدو: عرب کا دیہاتی۔
- بدہیتا / بدیہیتا: راجع بدیہی کی، کھلی ہوئی باتیں، ظاہر، روشن، جو محتاج دلیل نہ ہوں۔
- بدیا / ودیا: (۵) مؤنث؛ (۱) علم و ہنر (۲) فلسفہ (۳) شاستر کا علم (۴) پھل، قریب۔
- بدیس / ودیش: مذکر؛ دوسروں کا ملک، غیر ملک، باہر۔
- بدیسی / ودیشی: غیر ملک کا، دوسرے ملک کا، آجینبی، پرندسی۔
- بدیج: (دع) (۱) الونکھا، نادر، (۲) بنائے والا، موجد (۳) نو ایجاد شے۔
- بدیہہ: (دع) برجستہ، ظاہر، ٹھیک۔
- گوئی: مؤنث؛ بے غور و فکر کے کہنا، فوراً بر عمل کہنا۔

ب-ڈ

بڈ: BED (انگ) مذکر؛ بستر، بچونا۔
 رُوم ROOM — سونے کا کمرہ۔ خواب گاہ۔
 لیمنپ LAMP — وہ چھوٹا لیمنپ جو بستر کے پاس
 سونے وقت جلایا جاتا ہے۔
 بڈھا/بڈھڑھا، بڈکڑ: بڑی عمر آدمی۔
 ٹھڈا: بہت بوڑھا۔
 بڈھٹی گھوڑی لال لگام: (نسل) بڑھاپے میں جوانی کے نشانات
 ہات لباس اور وضع اختیار کرنا۔

ب-ڈ

بڈل: (دع) مذکر؛ عنایت، بخشش، داد و بخش۔
 بڈلکڑ: (دع)؛ چٹکلا، لطیفہ۔

ب-ر

بِر: مذکر؛ (۱) مکیتر، شوہر، (۲) کپڑے کی چوڑائی، عرض، (۳) منٹ بھڑ۔
 بَرزوان: مذکر؛ شادی کا عہدہ جو دلہن والوں کی طرف سے ددھاکو
 بھیجا جاتا ہے۔
 برزوانگھوڑا/دکھائی: نسبت پتی ہونے سے پہلے لڑکے کو سسرال
 والوں میں دیکھنے کے لیے بلانے کی رسم۔
 بر: (دع) پرا اوپر، (۲) تن جسم (۳) گود، بغل (۴) ہاں پھل۔
 آنکھنوتہ: غصے میں بھرا، آمادہ، دکھنا، ہونا کے ساتھ)
 آنکھنوتہ/برافروختہ، غصے میں بھرا ہوا۔
 آند: (دع) خرچ، مصارف، تجارت کے لیے مال اپنے ملک پہنچا کر کھپنا
 آند کرنا، کھوج لگانا، پوری مال نکالنا۔
 آند ہونا: (دع) ہاں نکالنا، پوری مال نکالنا، ظاہر ہونا۔
 انداز: (دع) خرچ، صرف۔
 آندہ: (دع) سامے بان، (انگ) ورا اندھا۔
 آنا: پورا ہونا، کامیاب ہونا، حاصل ہونا۔
 برآورد: تنخواہ کا کاغذ، تجنیے کی فرد، حساب کی فرد۔

بدمعہ: (دع)؛ وہ بات جو صاف عقل میں آئے، ظاہر روشن، یقین
 (مستحق کی ایک اصطلاح)

ب-دھ

بُدھ: مذکر؛ (۱) چہار شنبہ (۲) (اصطلاح نجوم میں) قطار در (۳) سمجھ
 عقل، تیز (۴) عارف، خدا شناس (۵) بڑھ مذہب کے ہانی
 گوتم کا لقب۔
 بدھ: (دع) مؤنث؛ (۱) جوڑا، میزبان، (۲) ڈھب، وضع، طور، (۳)
 اچھے ستاروں کا ملنا۔
 بدھ بلنا: (دع) حساب کا ٹیکہ ہونا، (۲) موافقت ہونا (۳) سبب
 کھل جانا، کسی بات کی تہہ مل جانا، زاپچے کے مطابق ہوجانا۔
 بدھانا/دوڈھانا: (دع) مذکر؛ خالی مٹلن۔
 بدھان/دوڈھان: (دع) مذکر؛ طریقہ، دستہ، رواج۔
 بدھاوا: (دع) مذکر؛ (۱) خوشیوں کی تقریب میں لوگ جو کپڑے تنھے
 میں بیٹھے ہیں۔ (۲) مبارک دینا، مبارک باد کا گیت، انعام و اکرام۔
 بدھائی: (دع) مؤنث؛ (۱) بڑھوتھی، بالیدگی، (۲) مبارکباد، انعام و
 اکرام، خوشی، مبارکبادی۔
 گانا: مبارک باد اور خوشی کے گیت گانا۔
 بدھنا: مذکر؛ مٹی کا ٹوٹی والا ٹوٹا۔
 بدھنا: (دع) پھنسا، (۲) رگ رگ میں اتر کر جانا، پیوست ہوجانا (۳)
 موتی میں سوراخ ہونا۔
 بدھو: (دع) مذکر؛ (دع) عقل مند (۲) (طنز)۔ بے سمجھ بے وقوف
 کم عقل۔
 بدھوا/دوڈھوا: (دع) مؤنث؛ بیوہ عورت۔ رائے۔
 بدھی: مؤنث؛ (دع) پھولوں کا خاص قسم کا پھل، زری کا خاص قسم کا پھل (۲)
 وہ نشان جو چٹائی بوسے پر لینے سے یا چوٹ لگنے یا وزنی بوجھ
 اٹانے سے جسم پر پڑ جاتا ہے (۳) بڑھنے کا ٹکڑا جس پر حمام
 اُستراسان کرتے ہیں (۴) عورتوں کا زیور۔
 بدھی: (دع) مؤنث؛ عقل، تیز سمجھ۔
 بدھی: وہ چوپایہ جس کے فلفل نکال دیئے گئے ہوں یا بے کار کر دیے
 گئے ہوں، آخر کیا ہوا جانور۔

بر آورد کرنا: نکانا، رقم نکانا (کسی مد سے، خزانے سے بنک سے)۔

برباد کرنا: ناس کرنا، تباہ کرنا، خراب کرنا، اجاڑنا۔

برپا کرنا: (۱) کھڑا کرنا، قائم کرنا، چمانا، اٹھانا، پھیلانا، آباد کرنا، خوش کرنا۔

برپا ہونا / رہنا: (۱) اٹھنا، چمنا، پیدا ہونا، (۲) پھلنا، پھولنا۔

برتر: بلند، بہتر، بزرگ، اعلیٰ، غالب۔

برجستہ: بے سوچے، بے نگو کیے لیے ساختہ، فی البدیہہ، بر عمل۔

برحق: سچا، سچ، ٹھیک، حق، درست۔

برخواست: بند، ختم، ملازمت سے علاحدہ، برطرف۔

برخاستہ خاطر / دل / طبیعت: کبچہ خاطر، رنجیدہ، آزرده دل۔

برخوردار: سعادت مند، نیک، فراں بردار، بلند اقبال۔

— داشت: مؤنت، مبرا، حق۔

— داشتہ خاطر / دل: اچان، اداس، رنجیدہ، بے دلی۔

برزبان تسیح و در دل گاو خر: دف، (مثل)؛ ظاہر میں اللہ والے ہیں، باطن میں دنیا دار، زبان پر پاک کلمات ہیں

دل لایح سے بھرا ہوا۔

— زبان کرنا / ہونا، برزبانی: خوب یاد کر لینا، خوب حفظ

ہونا۔

— سیر بازار: علانیہ، آشکارا، بھرے بازار میں، کسی کو شہسرت

دینا۔

— سیر خطا ہونا: غلطی پر ہونا، خطا وار ہونا، ملزم ہونا۔

— سیر کار ہونا: ملازمت سے لے رہنا، بے کار نہ رہنا۔

— سیر کین / کپینہ ہونا: جگڑے پر آمادہ رہنا، کپینہ برتنا۔

— طرف ہونا / کرنا: ملاحدہ کرنا، برخواست کرنا، موقوف کرنا،

دور کرنا۔

برفکس: اٹل، مخالفت، دستور کے خلاف۔

— عکس نیند نام زنگی کا فور: دف، (دش)، ایسا نام رکھنا جس

میں نام کے بائیں خلاف صفت ہو، مثلاً کالے کا نام گورا۔

— قرار: قائم، بحال، ثابت، باقی، موجود، زندہ۔

— گز پدہ: دف، چٹا ہوا، منتخب، مقبول، پسندیدہ۔

— مقل: (۱) ٹھیک جگہ پر، عین وقت پر، ٹھیک موٹے پر، (۲)

مناسب برحسبہ، موزوں۔

— کلا: کلمہ کلا، کھلے خزانے، آشکارا، علانیہ۔

— گشتہ آیام / اختور / بخت / دولت / طالع: بد نصیب،

بد قسمت۔

— گشتہ ہونا: پھرانا، مخالفت ہوجانا، باغی، سرکش ہوجانا۔

— برلانا: پورا کرنا، حاصل ہونا، تکمیل کو پہنچانا، آرزو، تمنا،

اور مراد کے ساتھ)

بتر / برتر: خشکی، زمین، جنگل۔

— اعظم: (اعانت کے ساتھ)؛ خشکی کا بڑا حصہ جس میں کئی ملک

شامل ہوں۔

بتری فوج: زمینی فوج۔

بتر: رع، نیکی، احسان۔

بتر / بڑا: مذکر، چنے یا ماش مونگ کی تلی ہوئی ٹھکیاں۔

بتر: خراب، ناگوار، بھونڈا، بھدا، بد۔

— آزار: وق کارمن، میل کارمن۔

— بتانا: رسوا کرنا، ملزم ٹھہرانا، مخالفت بنانا، بدنام کرنا۔

— بھلا: مذکر، (۱) گالی گوج، بدزبانی، سخت و سست (۲) اچھا،

معمولی، نیک۔

بڑا چاہنا: (۱) کسی کی بُرائی کا ہمتی ہونا (۲) دکھنا، حسد کرنا،

عناد رکھنا۔

بڑا ساسمٹہ بتانا: ناگواری ظاہر کرنا۔

بڑا لگنا: خراب معلوم ہونا، ناگوار ہونا، ناموزوں ہونا، بدنام

ہونا۔

بڑا ماننا: ناتواں ہونا، رنجیدہ ہونا، خفا ہونا۔

بڑا نہ ہونا: بددعا، تیرا بڑا ہونا، تجھ پر آئے۔

بڑا وقت: نازک وقت، مصیبت اور تکلیف کا زمانہ، تنگی

افلاس کے دن۔

بڑا بڑ: مقابل، ہم سہ، ٹھیک، مطابق، سیدھا، ہم وار، یکسا

ساتھ ساتھ، پہلو پہلو، مثل، مانند، پاس، قریب، ترتیب دار

ہمیشہ، متواتر، مسلسل، سراسر، لگاتار، بے شک، ضرور۔
 اُترنا: برابر جینا، یک ساں ہونا۔

بُرائی: (۱) ساتھ ساتھ، پاس پاس، قریب قریب، پہلو پہلو،
 (۲) لگاتار، مسلسل، ترتیب وار، باقاعدہ۔

چھوٹا (کشتی یا لڑائی میں): لڑائی میں کسی کی ہارجیت نہ ہونا۔

سُرا بُر ہونا: سُرا بُرا تاج ہل، یک ساں ہونا، مساوی ہونا، فرق نہ رہنا۔

سے جواب دینا، بے تیزی سے جواب دینا، گستاخی کرنا۔

کا ہونا: جوان ہونا، ہم سُریو، ہونا، ہونا، مقابل کا ہونا۔

کرنا: (آبادی یا کسی چیز کا نشان)، مٹا دینا، ختم کر دینا۔

کرنا: (روسیا، دولت، جا بَداد)، اُڑا دینا، برباد کر دینا۔
 کی چوٹ / ٹکڑ: برابر کی ٹکڑ، برابر کا مقابلہ،

ہونا: (۱) یک ساں ہونا، اُڑ جانا، بے باق ہونا، مٹ جانا،
 ختم ہونا (۲) ہم سوہم رتبہ ہونا، ہم وزن ہونا، ہم سطح ہونا،

(۳) آنے سے پہلے ہونا (۴) اکارت ہونا، بھڑ جانا، لہو بڑھ جانا
 (۵) یاد سے اُتر جانا۔

برابری کرنا: گستاخی کرنا، مقابلہ کرنا، ہم سہری کرنا۔

بُرائی: (دفع)، مؤنث؛ (۱) حکم نامہ، فرمان (۲) وہ تحریر جس کے ذریعہ
 سے خزانے سے تنخواہ نکالی جاتی ہے؛ (۳) بڑا دور (۴) (جماڑ)؛
 تنخواہ، گندہ لہری رقم کا نوشتہ۔

عاشقانِ بُرا شایخ آہو (معنات کے ساتھ) (مثل) حصولِ
 مقصد مشکل ہونا بلکہ ناممکن ہونا، وعدہ پورا ہونے کی توقع نہ ہونا۔

بُرائی / بُرا رات: مؤنث؛ (۱) شادی، (۲) شادی کا جلوس؛ (دولہا
 کے ساتھ کے لوگ، ۱۳، ۱۴، ۱۵، شادی کا دن، شادی کا مجمع۔

بُرائی: مذکر؛ جو لوگ دولہا کے ساتھ دلہن کے گریباہ کی تقریب میں جاتے ہیں
 بُرا راج مانا ہوتا؛ (۵) بیٹھنا، تشریف رکنا، تشریف لانا، زینت

بخشنا، سوار ہونا، گدی پر بیٹھنا۔

بُرا جتا: (۱) رونق افزہ ہونا، جلوہ فرمنا (۲) عیش و آرام سے رہنا۔
 بُرا دُر: (دفع)، مذکر؛ (۱) بھائی (۲) رشتہ دار، ہم قوم، ہم مذہب۔

اُختیانی: (معنات کے ساتھ)؛ جن کے باپ جدا جدا ہوں اور

ماں ایک ہو۔

حقیقی: (معنات کے ساتھ)؛ گئے بھائی (ایک ہی ماں باپ سے)۔

خُرد: (معنات کے ساتھ) چھوٹا بھائی۔

رضاعی: (معنات کے ساتھ)؛ دودھ شریک بھائی، وہ دو لڑکے
 جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو۔

عَلّاتی: (معنات کے ساتھ)؛ جن کی مائیں جدا جدا ہوں باپ ایک ہی ہو۔
 نسبتی: (معنات کے ساتھ)؛ مذکر، سالا، بیوی کا بھائی۔

پُرا درسی: بھائی بندی، ذلت، قوم، ارشد، داری، بھائی چارہ، قوم کے لوگ۔
 باہر کرنا / خار خُج کرنا: ذات سے باہر نکال دینا، اپنے جتن سے

علاحدہ کرنا، حقہ پانی بند کرنا۔

بُرا دُر: (دفع)، مذکر، لکھوی، لوسہ یا کسی چیز کا ہر ایک چورا،
 سُفوف۔

بُرا دُر کا سُٹ: BROADCAST: (انگ) ریڈیو کی نشریات
 (گانا، خبریں، یا کوئی اور پروگرام) لاسٹیکل نشریہ۔

بُرا دُر گنج: BROAD GAUGE: (انگ) چوڑی پٹری کی
 ریلوے لائن۔

بُرا دُر / بُرا ز: (دفع)؛ مذکر؛ گندگی، فُضلہ، غلاطت (اردو میں بول
 کے ساتھ استعمال ہوتا ہے)۔

بُرا عت اللہ استہلال: دیرِ اہل استہلال؛ علم ادب کی ایک
 صنعت کا نام جس کے بعض تمہیدی الفاظ سے موضوع کی طرف

اشارہ ہوتا ہے۔

بُرا ق: (دفع)؛ مذکر؛ (۱) وہ بہشتی جانور جس پر رسولِ خدا شبِ حجاج میں
 سوار ہو کر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے (۲) محرم کے زمانے میں

بنایا جانے والا وہ جانور جس کا دھڑ گھڑ سے کا سا اور چہرہ آدمی کے مانند ہوتا
 بُرا ق / بُرا ق: (دفع)؛ چمکیلا، نہایت سفید (۲) چالاک، مشاق،

ہوشیار (۳) تیز رو

بُرائی: مؤنث؛ چمک دک، تیزی۔

بُرا ہنک: (دفع)؛ (۱) بغداد میں برکی خاندان کے وزراء (۲)
 (دراں سنی امراء) روسار۔

بُرا ز: (دفع)؛ مذکر؛ بہت تیز، بڑا لاکھ کرنے والا۔

بُرا زان: (۱) تیند میں بڑ بڑانا، سوتے میں کچھ کھنا (۲) بہنکنا، بُد بُد کرنا

بِرْتَاؤ/بِرْتَاؤَا : مذکر؛ ڈھنگ، سلوک، طریقیہ، رواج، عمل
دستور۔

بِرْتَن : مذکر؛ باسن، ظرف۔

— بھانڈے : برتن، باسن۔

— سے برتن کھٹک ہی جاتا ہے : مقول، گھروالوں میں
کسی نہ کسی بات پر کھٹ پٹ ہوئی جاتی ہے۔

— کھٹکنا : (۱) سنی کے برتن کو شش ٹھنکا کر پھٹا کر ٹوٹا تو نہیں ہے
(۲) ٹوٹے برتن کی آواز۔

بِرْتَنَّا : (۱) استعمال کرنا، کام میں لانا (۲) تجربہ کرنا، آزمانا، (۳)
خرچ کرنا۔

بِرْتَنہ ڈے : BIRTH DAY : (انگ)؛ مذکر؛ سال
پیدائش کا دن۔

بِرْتَنہ کنٹرول : BIRTH CONTROL : (انگ)؛ مذکر؛
ضبط تولید۔

بِرْتَنش : BRITISH : (انگ)؛ (۱) انگریزی (۲) برطانوی۔
گورنمنٹ : GOVERNMENT : (انگ)۔

— مونسٹ : انگریزی حکومت، برطانوی حکومت۔

بِرْتَنج : BRIDGE : (انگ)؛ مذکر؛ (۱) ایک قسم کا
تاش کا کھیل، (۲) پل۔

بِرْتَنج : (ع)؛ مذکر؛ (۱) گنبد (۲) راس، سپیڑے کا گھریا مقام، فرض
آسانی دارے کا بارہواں حصہ۔

— آبی : (اضافہ کے ساتھ)؛ (ف)؛ تین درجوں کا مجموعہ (۱) برج
سرطان (دیکھو) (۲) برج عقرب (دیکھو) (۳) برج حوت (دیکھو)؛

— آتش : (اضافہ کے ساتھ)؛ (ف)؛ تین درجوں کا مجموعہ (۱) برج
حمل (دیکھو) (۲) برج اسد (دیکھو) (۳) برج قوس (دیکھو)۔

— بادمی : (اضافہ کے ساتھ)؛ (ف)؛ تین درجوں کا مجموعہ (۱) برج
توزا (دیکھو) (۲) برج میزان (دیکھو) (۳) برج کوز (دیکھو)۔

— خاکی : (اضافہ کے ساتھ)؛ (ف)؛ تین درجوں کا مجموعہ (۱) برج ثور
(دیکھو) (۲) برج سنبلہ (دیکھو) (۳) برج جدی (دیکھو)۔

بِرْتَنجی : برتن کی تصنیف چھوٹا برتن، چھوٹا گنبد، بھی
بِرْتَنج : مذکر؛ اتر پر دیش میں متھرا کا ضلع جس میں متھرا گوں اوردہ برتن

ذبیان کہتا۔

بِرْتَانَا : (ع)؛ مذکر؛ پتلیا، خیر کا بے گناہ۔

بِرْتَانَا : مونسٹ؛ مٹھ چڑانا، طے دینا، ملانا۔

بِرَانچ : BRANCH : (انگ)؛ مونسٹ؛ شاخ،
شعبہ۔

بِرَانڈ : BRAND : (انگ)؛ تجارتی نشان، مارکا،
قسم۔

بِرَانڈَا : (ع)؛ (انگ)؛ ورائڈا، دیکھو برآمدہ۔

بِرَانڈی : BRANDY : (انگ)؛ مونسٹ؛ ایک خاص قسم
کی تیز شراب۔

بِرَاؤن : BROWN : (انگ)؛ سمورا، مٹیالا،
گندی۔

بِرَاہِن : (ع)؛ مذکر؛ (جمع برہان کی)؛ دلیلین۔

بِرَاہِنَت : (ع)؛ مونسٹ؛ چھٹکارا، معافی، بچاؤ، بے زاری،
نجات۔

بِرَاے : (ف)؛ (۱) واسطے، ایسے (۲) وسیلے سے، برکت سے،
مدتے میں، غیظ میں۔

— بَریت : شریک مزدورت سے بھرتی کا لفظ استعمال کرنا،
زائد، حشو، فضول۔

— چُنڈے : مٹھوے دون کے لیے، چند دن کے واسطے۔

— خُدا : خدا کے واسطے، از بہر خدا، اللہ۔

— نام : دکاوسے کے لیے، فرضی، مٹھوڑا سا، گنتی گنانے کے
لیے۔

بِرَاہِیا : (ع)؛ مونسٹ؛ (جمع برہی کی)؛ مخلوق، خلق، خلاق۔

بِرہِی : (ف)؛ مسوب برہرہ (افریز) کی طرف، ایک سڈل ہرن
سے ملتی جلتی بھوس۔

بِرہِیَت : (ع)؛ مونسٹ، وحشی پن، سنگدلی۔

بِرہِیَط : (ف)؛ مذکر؛ ایک بابا، جس کی شکل بلیغ کے سینے کی طرح
ہوتی ہے؛ ۱۔ عود۔

بِرہِیَت : (ع)؛ مذکر؛ لفظ، آپاس۔

بِرہِیَتَا : مذکر؛ وقت، اہل، طاقت، لفظ، حوصلہ،

شامل ہیں، یہ بزرگ کرشن جی کی پیدائش کا مقام ہے۔

— بھاشا/بھاکا: مونث؛ برج کی بول۔

برجیس: BREECHES (انگ)؛ مذکر، ایک قسم کی

پتلون جو پنڈلیوں پر چست ہوتی ہے۔

برجوری: (د)؛ مونث؛ زبردست، زور آزمائی۔

برجیس: (د)؛ مذکر۔ ستارہ مشتری، اس ستارے کا نام جو

چھٹے آسمان پر ہے۔

برجیا: مذکر؛ بھالا، بلم۔

برجیسی: چھوٹا بھالا۔

برو: (د)؛ مذکر؛ جاڑے کا موسم، سردی، سرد۔

— اطراف: (اضافے کے ساتھ)؛ مذکر (اصطلاح طب میں)

جسم ٹھنڈا ہوجانا، موت کی علامت۔

برو: (د)؛ مونث؛ (۱) آمدنی، منافع، مفت کی رقم (۲) رشوت، بالائی آمد،

(۳) شطرنج کی ایک اصطلاح۔ سولے بادشاہ کے کوئی گوت نہ رہے۔

— مارنا: (۱) شطرنج کی نصف بازی جیتنا (۲) کامیابی حاصل کرنا (۳)

رشوت لینا (۴) کسی کامال مارنا، فائدہ حاصل کرنا۔

برو: (د)؛ مذکر؛ بیل، سانڈ۔

برو دار: سنجیدہ، متعل، برداشت کرنے والا۔

برو دہ: (د)؛ مذکر و مونث؛ بستہ، غلام، کینز، لڑائی کا

قدیمی۔

— فروش: (د)؛ لڑھی غلام بیچنے والا۔

برو نٹا: (۱) تنھے، چار پائی یا کسی چیز کا ٹیڑھا ہوجانا، آشفست۔

(۲) رجاڑا، عزد کرنا۔

برو زرخ: (د)؛ (۱) آڑہ پر دہ (۲) (اصطلاح مشرقی)؛ موت کے

بھسے قیامت تک کا زمانہ۔

برو زن: (د)؛ مذکر؛ گلی، کوٹہ، سڑک۔

بروسن: مذکر؛ سال، بارہ مہینے کا زمانہ۔

بروسن برس کا دن: وہ خوشی یا جشن کا دن جو سال بھر کے

بعد آئے۔

— گانٹھ: سال گرہ (د)؛ (دش گانٹھ)۔

بروسول: سال ہا سال۔

بروسوں دن: سال میں ایک دن ایک دفعہ۔

بروسسی: مونث؛ موت کی وہ تاریخ (دن) جو سال میں ایک بار آئے۔

برسات: مونث؛ پانی برسے کا زمانہ، بارش کا موسم۔

— کی چاندنی: ناپائے زاریز، چار دن کی چاندنی۔

برساتی: (۱)؛ بارانی (۲) برسات سے بچنے کا لمبا گوت (۳) گھر کی چھت

پر بے دروازے کا سارے بان (شید)۔

— فصل: برسات کی رت، وہ آماج کا بیج جو برسات میں بویا

جائے۔ وہ ظر جو برسات کی فصل سے حاصل ہو۔

— کپڑے: (۱) وہ چھوٹے کپڑے جو برسات میں پیدا ہوتے ہیں

(۲) رجاڑا، جو وقتی طور پر سامنے آئے۔

بروس پڑنا: (۱) مینہ کا ایک کڑا زور سے برس آنا، اچانک زور

سے پانی پڑنا، (۲) غفہ اُٹارنا، بے طرح غفہ ہونا، بھڑس

بھگانا۔

بروس نٹا: (۱) پانی پڑنا، بارش ہونا، (۲) حالت کا ظاہر ہونا۔

(۳) کیفیت یا آثار معلوم پڑنا، (۴) افراط سے آمدنی ہونا

کثرت سے ملنا۔

بروس پٹ / بروس پٹیت: (د)؛ (۱) جمعرات، بیخ شنبہ (۲)

ستارہ مشتری۔

بروس: BRUSH: (انگ)؛ مذکر؛ (۱) قلم،

معدن کا قلم (۲) دانت، کپڑے یا جوتے صاف کرنے کی چیز۔

(۳) نالون یا سخت بال کا بنا ہوا وہ قلم جس سے دانت

صاف کرتے ہیں۔

بروسش: (د)؛ مونث؛ کاٹ، تیزی۔

بروس شتہ: (د)؛ ٹھنا ہوا۔

بروس شکا / بروس شگال: (د)؛ مونث؛ بارش۔

بروسوں: مذکر؛ ایک بیماری جس سے بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے

ہیں، اور کوئی صلیف نہیں ہوتی۔

بروس صغیر: (د)؛ مذکر؛ کسی بڑے اعظم کے کچھ بڑے ٹکڑوں کا مجموعہ

جن میں یکسانیت پائی جائے۔

بروسف: (د)؛ مونث و مذکر؛ (۱) وہ پانی جو جم کر بہت ٹھنڈا اور

— ہونا، ترقی ہونا، زیادتی ہونا، (نیک شکون کے لیے) تمام ہونا، ختم ہونا۔

بزرگات / بزرگات: (دع) مذکر و مؤنث، (دع برکت کی، برکتیں۔
بزرگتا / بزرگت دینا: کسی چیز پر کوئی سفوف چھڑکانا، سفوف ڈالنا۔
بزرگھا، مؤنث: برسات، مینہ۔

بزرگ: (دع) مذکر، پتلا، خوش، سالان۔
بزرگ تینبول: (اضافے کے ساتھ) مذکر، پان۔

— **سبز:** (اضافے کے ساتھ)، دکھانا، کمینیت چیز، حیرت چیز۔

— **سبز آست سحفتہ ڈرویش:** (ترجمہ: ہر پتلا درویش کا تھنہ ہے، حیرت تھنہ، معمولی تھنہ۔

— **وبار:** پتے اور بھل۔

— **وساز / نوا:** ساز و سامان، زندگی بسر کرنے کا سامان، کھلنے پینے کا سامان، معاش کا اسباب، توشہ، خوراک۔

بزرگا: مذکر، جھونٹ لڑی، بانس کے جھونٹے جو قبر بند کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔

بزرگد: (دع) مذکر، بڑا درخت۔

— **کی جٹا / داڑھی:** مؤنث، بزرگ کی وہ جڑیں جو سستی کی طرح کھٹکتی ہیں اس میں بیٹے ہوتے ہیں، زمین تک پہنچ کر تباہی بن جاتی ہیں۔

پوڑلا: (دع) مذکر، اڑکا، نادر، عجیب، لاثان۔

پوڑنا: (دع) مذکر، (دع) لوبہ کا اوزار جس سے سوراخ کیا جاتا ہے (دع) ایک ملک کا نام جو ہندوستان کے — مشرق میں واقع ہے۔

پوڑنا: (دع) (۱) برے سے سوراخ کرنا (دع) (بھارڈا) زخمی کرنا، دل چھید دینا، بے چین کر دینا، گرمانا۔

پوڑم / راکش / پوڑم راکش: ایک قسم کی فہیٹ روح۔
پوڑن / ولان: مذکر، (دع) جنس، سراپا، طہیر (دع) ذات، قوم، ہندو کہ چار ذاتوں (برہمن، چھتری، ویش، شودر) میں سے کوئی ذات۔

پوڑنا پوڑ: مذکر، نوجوان، نوجوانوں (دع) جانا۔

پوڑنک: (دع) مذکر، (دع) پھیلنا، اجست، طاہر (دع) چاول۔

پوڑنکی: چھوٹی کیلی، (پہیل کی)۔

پوڑنگا: مذکر، لہوی کے جھونٹے تھنہ جو چھت پانٹنے کے کام میں آتے ہیں۔

سندھ ہوجاتا ہے، (دع) بہت ٹھنڈا، بہت سرد۔
بزرگ کی کھتی: وہ گڑھا جس میں قدرتی برف جمع کر کے محفوظ کر لی جاتی ہے۔

— میں لگانا: کسی چیز کو برف میں رکھ کر ٹھنڈا کر لینا۔

— **ناگ:** برف کی طرح ٹھنڈا، بہت ٹھنڈا، سرد ترین۔

بزرگاب: (دع) برف کا پھملا ہوا پانی، برف ڈالا ہوا ٹھنڈا پانی۔

بزرگانی: برف کی طرف منسوب، بہت ٹھنڈا، برف سے متاثر۔

بزرگی: (دع) دودھ سے بنی ایک مشہور مٹھائی۔

بزرگیلا: مذکر، برف کی طرح سرد، بہت ٹھنڈا، برفناک۔

بزرگی: (دع) مؤنث، (دع) بجلی (قدرتی اور مصنوعی دونوں)، (دع) تیز چالاک، ہوشیار، متاق (دع) صاف، شفاف، چمکیلا۔

— **خاطف:** (اضافے کے ساتھ) آنکھوں کو چمکا دینے والی چمک، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک۔

— **دوم:** (دع) وہ ہتھیار یا اوزار جس کی مدد بہت تیز ہو، دھاس طور پر سموار (دع) (بھارڈا) بہت تیز چالاک، ہوشیار۔

— **دمان:** چمکنے والی بجلی۔

— **رو:** بجلی کی رفتار سے چلنے والا، انتہائی تیز رفتار۔

— **وش:** بجلی کی طرح، تیز، چمکیلا، شوخ و طرار،

— ہونا، بہت تیز ہونا، بڑا چالاک، متاق، ازبر ہونا۔

بزرگ: (دع) مذکر، (دع) نقاب (دع) وہ خاص وضع کا لباس جسے پہن کر مددہ دار عورتیں باہر نکلتی ہیں۔

— **پوش:** برقع اور ٹھنڈے والی۔

بزرگداز: مذکر، بندوچی، محافظ سپاہی، بستودق والا، پاسبان۔

بزرگت: (دع) مذکر، ایک قسم کا اونٹنی پڑا جو اونٹوں کے بالوں سے بنایا جاتا ہے۔

بزرگت: (دع) لغت کی زیادتی، نیکی، ترقی، افزائش۔

— **اٹھنا / جانا / اٹھ جانا / اڑ جانا:** برکت جاتی رہنا، رونق دہنا، نکبت آنا۔

چار ذائقوں میں سے ایک چھوٹی کی ذات، (۲) ہندوست کے

علماء، روڈوانا، بھکاری، پنڈت، ہندوں کا مذہبی پیشوا۔

بزرگمیں: (۵) برہما یعنی خالق مطلق اور وید کا جاننے والا۔

بزرگنما: ہندوں کے عقیدے میں ایک دیوتا کا نام۔

بزرگمن: (۵) موت؛ محبوب یا شوہر کی جدائی میں کڑھنے والی

عمود۔

بزرگنہ: (۵) رن، ننگا، کھلا، عریاں۔

بزرگسای / بزرگسہی / بزرگسہی روتی: موت؛ وہ روتی جس میں دال

بھر کر پکاتے ہیں۔

بزرگھیلا / بزرگھیلا: بزرگ؛ جنگلی سور۔

بزرگی: موت؛ سچا، وہ دلہن کے کپڑے زیور اور پہل مٹھائی

دیجرہ جو دو لہکے گھر سے دلہن کے یہاں بھیجے جاتے ہیں۔

بزرگی / بزرگی: مونگ، ماش یا پنے کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، بزرگی

گولی کے برابر، جو مٹھائی جاتی ہیں اور سالن کی طرح پکائی جاتی ہیں

بزرگی: (۵) آزاد، مستنا، بے جرم، پاک، بے گناہ، بے عیب، قصور

بزرگی الیڈھتہ: (بزرگی بڈ ذرتہ)؛ ذرتہ داری سے سبکدوش، جس پر

کوئی ذمہ داری نہیں۔

بزرگی / بزرگی بزرگی دھت دھت: ہمتی کو چلنے کے لیے کہنے

کا کلمہ جو جہاد کہتے ہیں۔

بزرگی: موت؛ بڑا،

— آکھ ڈالنا: خراب نیت سے دیکھنا، بڑی نظر سے دیکھنا۔

— بسنت: حرام چیز، سود۔

— بلا: آفت، مصیبت۔

— بھل جاننا: اچھے بڑے کی تمیز ہونا، بھٹیا ہونا۔

— چیز: حرام چیز، سود۔

— سمانا: خراب دُمن ہونا، بڑی بات کا ارادہ ہونا۔

— مت: الٹی عقل، بیسی طبیعت، خراب دماغ۔

— نوبت ہونا: حالت خراب ہونا، نازک ہونا۔

— بزرگے دن: منہوس دن، مصیبت کا زمانہ۔

— کی جان پر: دشمن ہر۔

— وقت: ناوقت، نامناسب وقت پر، بے محل۔

بزرگنا: بزرگ؛ لکڑی کے چھوٹے تنے جو چھت پانٹنے کے کام میں آتے

ہیں۔

بزرگی ہنشا: وہ جگہ جہاں سے پلکیں نکلتی ہیں (۲) شیشے کے مرتبان،

لاچکے بڑے منہ کے برتن جو مرتبان کی طرح ہوتے ہیں، (۲)

بلند شہر بولی کا رہنے والا۔

بزرگوا: بزرگ؛ دا، خراب قسم کی بالو کی زمین (۲) ایک راگنی جس کے تعلق

کہا جاتا ہے کہ اس سے وحشی جانور رام ہو جاتے ہیں۔

بزرگوا: (۵) بزرگ؛ پلدار، درخت۔

بزرگوش: (۵) موچھ۔

بزرگوشا: بزرگ؛ دیو دھمی، اندرونی مکان کے دروازے سے ملا ہوا

باہری کمر، مردانہ پیشک۔

بزرگوش: (۵) راج بروج کی؛

بزرگوش: موت؛ ٹھنڈ، سردی۔

بزرگوش: جدائی، بجر۔

بزرگوش: موت؛ جدائی کی مصیبت میں مبتلا عورت۔

بزرگوش: بزرگ؛ بجر، نصیب، جدائی کی مصیبت میں گرفتار عاشق۔

بزرگوش: پہل لانے والا پیل، بار آمد دخت، فائدہ حاصل کرنے والا

مستند، کامیاب۔

بزرگوش: (۵) بزرگ؛ بزرگی یا بزرگ چھوٹا بچہ

بزرگوش: (۵) بزرگ؛ جدائی، بجر۔

بزرگوش: (۵) بزرگ؛ فراق کے مضمون کا گیت۔

بزرگوش: (۵) بزرگ؛ موت؛ بچی دلیل؛ وہ دلیل جس میں شک و شبہ

نہ ہو، قطعی دلیل۔

بزرگوش: غصہ، خفا، ناراض، پریشان، بے ترتیب۔

— بزرگوش / بزرگوش: بزرگوش: پریشان، بے ترتیب۔

بزرگوش: غصے کی حالت؛ ابروی پریشان۔

بزرگوش چاری: (۵) بزرگ؛ طالب علم، زاہد، متقی، انسان کی زندگی

کے چار مدارج ہیں، ان میں سے ابتدائی تین سال تک کی عمر

کو بزرگوش کہتے ہیں، اس عمر میں وہ صرف وید شاستر پڑھتا

ہے اور بیاہ نہیں کرتا۔

بزرگوش: (۵)؛ (بزرگوش / بزرگوش / بزرگوش) (۱) ہندوؤں کی

بریاں : (د) ، بھٹا ہوا ، تلا ہوا۔
بریاں : (د) ؛ ایک قسم کا نمکین پلاؤ جس میں گوشت بھون کر ڈالتے ہیں۔

بریاں : (د) ؛ ایک قسم کا نمکین پلاؤ جس میں گوشت بھون کر ڈالتے ہیں۔

برہنہ : مونتھ ؛ جرم سے کسی چیز سے ، بے تعلقی کا فیصلہ بے قصور ہونا ، نجات ، سبک دوشی ، پاک ہونا ، صاف ہونا ، باعزت رہائی ، بے عیب آزادی۔

برہنہ : (د) - عم ؛ مذکر مونتھ ؛ دھوبی بکڑا دھونے والا۔

برہنہ : (د) ، مذکر ؛ ابرہنہ۔

بریک : BRAKE : (انگ) مذکر ؛ 'رک' ، وہ پرزہ جس سے کسی طہنی مشین کو روکا جاتا ہے (۲) ریل کے گارڈ کا ڈبہ یا لھن ڈبہ۔

بریکٹ : BRACKET : (انگ) - مذکر ؛ توسین [] ، دو نشانات۔

بریکڈ : BRIGADE : (انگ) ، مذکر ، فوج کا ایک حصہ جو توپ خانہ ، رسالے اور پیدل فوج پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوئی منظم جماعت۔

برین : (د) برتر ، بلند ، عالی۔

برین : (۵) ، (۱) کسم کا بیج ، (۲) جمع برہین بھرا کی۔

ب - ب

ب : مذکر ، برگد۔

ب : مونتھ ؛ جبک ، بکواس ، دیوانوں ، مزدوروں کی باتیں۔

ب : مارنا ؛ مزدوروں کی سی باتیں کرنا ، لفاظی کرنا۔

ب : ہانکنا ؛ بڑا مارنا۔

ب : مذکر ؛ کلاں ، وسیع ، دراز ، لمبا ، چوڑا ، پھلا ، اعلا ، بلند ، عظیم الشان ، اونچا ، بہت ، بزرگ۔

ب : اُستاد ؛ گرو ، ہوشیار ، چالاک۔

ب : آدمی ؛ امیر عزت والا ، بلند جس شخص میں کسی قسم کی بڑائی ہو۔

ب : آزار / بڑا آزار ؛ سیل ، دق۔

ب : بوڑھا ؛ باپ دادا ، پرگھا ، سہرست ، ضعیف۔

ب : بول ؛ مذکر ؛ ڈینگ ، شینی ، خود ستانی ، غرور کی بات۔

بول آگے آنا / سامنے آنا ؛ مفرد کا سر نہچا ہونا ، غرور کی سزا ملنا ، مفرد کا ذلیل ہونا۔

بول بولنا ؛ غرور کی بات کرنا ، شینی ماننا۔

بیر مارنا ؛ (دھن سے) بہت بڑا کام کرنا ، بڑا حوصلہ دکھانا۔

بیشگی ؛ بہت بڑا ، وزنی۔

بون ؛ مذکر ؛ کرس مس ؛ عیسائیوں کا تہوار جو کیمپوسوں دسمبر کو ہوتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے۔

بوندہ ہونا ؛ مند ہونا ، شوخ چشم ہونا ، بے باک ہونا۔

بوزاروگ ؛ مذکر ، تپ دق۔

بوزارگھر ؛ (۱) شریف خاندان ، امیر گھرانا ، (۲) جیل خانہ۔

بوزارانا ؛ مالی خاندان ، معزز خاندان ، امیر گھر۔

بوزار کرنا ؛ بڑی عزت پیدا کرنا ، شہرت حاصل کرنا۔

بوزار کھانا ؛ بوزار بول نہ بولے ، (دش) ؛ بوزار کھانا بدتریزی ہے مگر بوزار بولنا اس سے بھی بدتر ہے۔

بوزاری ؛ مونتھ ؛ (۱) بزرگی ، عظمت ، (۲) درازی عمر (۳) جسامت (۴) تعریف ، توصیف ، مدح ، (۵) منصب ، درجہ (۶) طوالت ، لمبائی

او بوزاری ، عزت ، آبرو ، ادب ، لحاظ (۸) فضیلت ، خوبی (۹) شینی ، خود ستانی ، غرور ، گھمبہ۔

بوزار بڑ ؛ مونتھ ؛ بک بک ، زبان چلانا۔

بوزار بڑانا ؛ (۱) چپکے چپکے کینا کسی کو بڑا بھلا کرنا ، منہ میں کچھ بولے جانا (۲) چپکے چپکے پڑنا۔

بوزار بڑیا ؛ بھڑ بھڑیا ؛ بچی ، جو منہ میں آسے بک دے۔

بوزار بھس ؛ مونتھ ؛ بڑھاپے میں جوانی کی انگ ، وہ بدخوی اور بد مزاجی بڑھاپے میں ہوجاتی ہے ، بڑھاپے کی وجہ سے متعلق جاتی رہنا

بوزار پٹیا ؛ بڑے پیٹ والا ، لاپچی ، بہت کھانے والا۔

بوزار مٹھی ؛ سوزنی ، سوز کی مادہ۔

بوزار ٹکا ؛ مذکر ؛ کڑی ، شہتیر۔

بوزار ٹھن ؛ ایک چھوٹا کٹا میٹھا پھل۔

بوزاری ؛ مونتھ ؛ (۱) چھوٹی کی ضد ، کلاں ، دراز ، بزرگ (۲) نہایت ازحد۔

بوزاری بوزاری ؛ بزرگ عورت ، زیادہ عمر کی عورت ، سر پرست عورت

بوزاری بوزاری ؛ بزرگ عورت ، زیادہ عمر کی عورت ، سر پرست عورت

بوزاری بوزاری ؛ بزرگ عورت ، زیادہ عمر کی عورت ، سر پرست عورت

بوزاری بوزاری ؛ بزرگ عورت ، زیادہ عمر کی عورت ، سر پرست عورت

بوزاری بوزاری ؛ بزرگ عورت ، زیادہ عمر کی عورت ، سر پرست عورت

- بی: دعوت سے، بوڑھی عورت، بوڑھی ملازمہ۔
 چیز: (۱) اہم بات، امر عظیم، غیر معمولی (۲) دعویٰ قرآن شریف۔
 ڈبوڑھی / سرکار: (رجازاً): بڑے فیاض۔
 ناگ والا: (طنزاً): بڑی عزت والا، بڑی غیرت والا۔
 بڑے: بزرگ، بڑے بڑے، خاندان کا بڑا۔
 آبا: تباہ، تباہی، باپ کے بڑے بھائی۔
 باپ کا بیٹا: نامی شخص کا بیٹا، عالی خاندان، عزت والا، بڑا آدمی۔
 بڑے / بڑوں: اچھے اچھوں، اچھے اچھے نامی لوگ، معززین۔ ہوشیار، عقل مند، تجربہ کار۔
 بول کا سر نیچا: (مقولہ) غرور اور شیخی کا نتیجہ خفت اور ذلت ہے۔
 حکمت: بڑے چالاک، بڑے چال باز، بڑے شریک۔
 صاحب: دفتر یا ادارے کا سب سے بڑا افسر، رئیس یا بزرگ کا بڑا بیٹا، گھر کا بڑا بڑھا، بڑی عمر کا آدمی، (بڑے میاں)۔
 کا گوشت: گائے، بھینس یا بیل کا گوشت۔
 کی بڑائی نہ چھوٹے کی چھوٹائی رکھنا: (مقولہ) بے ادب ہونا بد لگانا ہونا، بے تمیزی کرنا۔
 میاں: دعوت و تعظیم سے، بڑی عمر کا آدمی، بوڑھا صاحب خانہ۔
 میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ: (مَثَل) بڑے میاں تو تیز ہیں ہی چھوٹے صاحب ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ گھر کا گھر تیز اور چالاک ہے۔
 بڑھ جانا: (۱) آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، آگے چلا جانا (۲) دولت زائد ہونا۔ عزت مرتبے میں ترقی کرنا، (۳) حد سے بڑھ جانا۔
 طوالت بھگانا (۴) چراغ بجھ جانا (۵) ایک چیز کا دوسری چیز سے زیادہ ہونا، دکان یا دسترخوان اٹھ جانا۔
 بڑھ چڑھ کے / بڑھا چڑھا کے: بہتر، برتر، بالاتر، صلاحیت (مباحثہ کے ساتھ)۔
 چلنا / بڑھ کے چلنا: (۱) گسٹن ہونا، مغرور ہونا (۲) حد سے بڑھ جانا (۳) آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا۔
- کے لینا: پیشوائی کرنا، آگے بڑھ کر استقبال کرنا۔
 بڑھانا: (۱) تعریف میں مبالغہ کرنا (۲) ترقی دینا۔
 بڑھا پیا: مذکر؛ عمر کا وہ حصہ جس میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پیری، عمر رسیدہ۔
 بڑھاؤ: مذکر؛ فریب، ترغیب، جھوٹی تعریف، مبالغہ، خوشامد۔
 بڑھتی: (۱) زائد، فاضل، فائز (۲) برکت، ترقی۔
 بڑھنا: (۱) نشوونما ہونا، قد و قامت زیادہ ہونا (۲) پھولنا، پھلنا، سرسبز ہونا (۳) طول طویل ہونا، لمبا ہو جانا (۴) آگے ہونا، سبقت لے جانا، آگے جانا۔
 بڑھو تری: موت؛ (۱) ترقی، سودا، نفع (۲) بچے کے بڑھے کا زمانہ، نشوونما بڑھوئی: (۵) موت، بڑھاپا، بڑھاپے کا زمانہ۔
 بڑھتی: مذکر؛ (۱) نچار، لکھمی کا کام کرنے والا (۲) ایک پرندہ کھٹ بڑھتی۔
 بڑھیا: اطلاع دینے کا، قیسمت، بہت اچھا۔
 بڑھیا: موت؛ (۱) بوڑھی عورت (۲) آگ اور سنبل کے درخت کی روٹی جو ہوا میں اڑتی ہے۔
 آفت کی پڑیا: فتنہ اٹھانے والی بوڑھی عورت، خطرناک بوڑھی عورت۔
 کا کاتا: ایک لچھے دار مٹھائی جو بڑھیا کے بالوں کی طرح ہوتی ہے

ب۔ ن

- بیز: (۱) بھری، بھری۔
 آخفش: (۱) اصناف کے ساتھ؛ (۲) اخفش کی بکری؛ (۳) نام فہم بے سمجھ ہاں میں ہاں ملانے والا۔
 دل / بڑولا: ڈرپوک، کم ہمت، کم حوصلہ، خالہ، پہاڑی بکری۔
 قصب: بکری کا گوشت بیچنے والا قصابی۔
 بیزار: بازار کا محف۔
 بیزار: (۱) مذکر؛ (۲) دینیز تشدید بھی؛ کپڑا بیچنے والا۔
 بیزار: کپڑا فروخت ہونے کا بازار۔

ب - س

بس: (۱) سنگت، قوت، طاقت، زور (۲) (۵) قابو، اختیار۔
بس: BUS (رائگ)؛ مونت؛ وہ موٹر جو عام موٹر گاڑی سے زیادہ بڑی اور لمبی ہوتی ہے اور بہت آدمیوں کو بھائی تھے۔
بس: (ف)؛ (تاکیدی کلمہ)؛ رکو، ٹھہرو، بہت، کافی، خاموش رہو، صرف۔

_____ چلنا؛ قابو ہونا، اختیار ہونا۔

_____ کہ؛ چونکہ، اس لیے۔

_____ کی بات؛ اختیاری معاملہ، قابو کی بات۔

بس: مذکر؛ (۱) زہر، (۲) فساد، کھجڑا، فتنہ، خطرناک شریر، مبینی۔

بس بھڑا: زہریلا، کینز پرور، فساد۔

_____ کی بڑیا؛ بس کی بوٹ، بس بھری، فساد پیلانے والی۔

_____ کی ٹخنہ؛ (۱) بس کی بڑیا، بس کی بوٹی، بس کی گرہ (۲) مجازاً؛

فساد، جھگڑا، مردم آزار۔

_____ کھڑا/کھپڑا/کھوپڑا؛ مذکر؛ (۱) ایک بوٹی (۲) ایک زہریلا

جالور بڑے گرگٹ کی ہمشکل ہوتا ہے۔

بسا: (ف)؛ بہت، اکثر،

_____ اوقات؛ بہت دفعہ، بار بار، اکثر۔

بساط: مونت؛ (۵) بساط (ع)، دیکھو بساط۔

بساط: (ع)؛ مونت؛ (۱) بھوتا، بستہ، فرسٹس (۲) شطرنج، چوسر

کھیلنے کے خانے والا تختہ، کپڑا (۳) سرلیہ، حوصلہ، حیثیت (۴)

طاقت، قوت، مقصد، اصل حقیقت (۵) گھر کا اسباب

اثاث البیت۔

بساط خاک: باعاف کے ساتھ؛ فری زمین۔

بساط خانہ: وہ مقام جہاں بساطی لوگ ان لگتے ہیں، بساطیوں کا

بازار۔

بساط سے باہر: مقدر سے زیادہ، حیثیت سے بڑھ کر۔

بسات: (ع)؛ مونت؛ دلیری، بہادری۔

بسان: (ف)؛ (حرفی تشبیہ) مانند، مثل۔

بسانا: (۱) خوش لودینا، معطر کر دینا؛ کسی چیز کی دوسری چیز میں بساؤ

بزرگ چہر: فوشیرواں عادل کے وزیر اعظم کا نام جو بڑا قابل اور لائق تھا۔

بزرگ: (۱) بڑا، سن رسیدہ، معزز، شریف، صاحب شان و شوکت، (۲) باپ دادا، (۳) متقی، پیر، میزگار، پارسا، زاہد، ولی (۵) (طنزاً)؛ شہر، چالاک آدمی، بڑے حضرت۔

_____ سال؛ بڑی عمر کا، بڑھا، سال خوردہ۔

_____ داشتت کرنا/ہونا؛ بزرگی کا احترام کرنا، کسی کی بڑائی کا لحاظ

کرنا، خاطر داری کرنا، خدمت کرنا، خبر گیری رکھنا۔

_____ پیش؛ اچھی سرشت کا، اچھی طبیعت کا، اچھی عادت و

طبیعت کا۔

بزرگانہ: بزرگوں کی طرح کا، بزرگوں کی وضع کا۔

بزرگوار: بزرگوں جیسا، بزرگ۔

بزرگوں کا ٹھکانا: موردی مکان، بزرگوں کی معمولی پس ماندہ

جگتے داد۔

بزرگی بہ عقل آست نہ بہ سال: (ف)؛ مقولہ؛ بزرگی عقل

سے ہے عمر سے نہیں۔

بزرگ: (ف)؛ پیش، باتیں، عرافت؛ لطیف۔

_____ سنج/گو؛ لطیف کہنے والا، عرافت کی باتیں کرنے والا

شیریں گفتار۔

بزم: (ف)؛ مونت؛ محفل، خوشی کی محفل، مجلس۔

_____ افروز؛ مجلس کی رونق، مجلس میں شریک ہونے والے۔

_____ آرا؛ محفل منعقد کرنے والا، محفل نشین۔

_____ سخن؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ مشاعرے کی محفل، شاعر کی مجلس

_____ نشاط؛ (اضافہ کے ساتھ) خوشی کی محفل۔

_____ نشین؛ (کنایتاً)؛ صاحب بزم، محفل منعقد کرنے والا۔

بزن: (ف)؛ قتل، حکم، مارنے کا حکم (۲) قتل عام (۳) جنگ، فوج

کاسحہ۔

_____ بولنا/کرنا؛ قتل عام کا حکم دینا، دھاوا کرنا، حملہ کرنا۔

بزنس: BUSINESS (رائگ)؛ مونت؛ پیشہ، مشغل،

کاروبار (۲) کام فرض منہی۔

_____ مین MAN (رائگ)؛ مذکر، مرد، تاجر۔

- ہونا (۲) آباد کرنا، شہرانا۔
 بسا ہند / بسا ہند: (۱) پھل کی سی بو، کچے گوشت کی سی بو (۲) اصلی
 عیب خاندانی بڑا اثر۔
 بسا ہند: (۱) بدبو کا جس میں بسا ہند آتی ہو (۲) غیر مہذب بات۔
 بساوت: موتھ؛ مہک، خوش بو، کسی قسم کی سی بوٹی ہو۔
 بسا ہا: مذکر؛ بیس ناخن اور زہریلے دانت والا کتا۔
 بسنت: (سبب؛ چیز، زیور، آئنا، دارو میں چیز کے ساتھ استعمال میں
 آتا ہے؛ چیز بست، تنہا نہیں بولتے۔)
 بستار: (۱) مذکر؛ بہت، کثرت، زیادتی (۲) پھیلاؤ، وسعت۔
 بستال / بستال: (۱) مذکر؛ پھولوں کا بلغ، گلزار۔
 بسترو: مذکر؛ پھونا، فرش۔
 استانا: (۱) کسی مقام کا رہنا سہنا چھڑ دینا، سکونت ترک
 کرنا (۲) چھینا، استانا، سمیٹنا۔
 سے پیٹھ لگ جانا: اتنے بیمار ہو جانا کہ بستر میں ہی لیٹے
 رہنا۔ صاحب فراش ہو جانا۔
 بسترا: دیکھو بستر؛ (۱) (فقر کی اصطلاح میں) لباس؛ پوشاک،
 کپڑا (۲) تکیہ فقیروں کے رہنے کی جگہ (۳) (م) بستر، اٹھنا چھونا۔
 بستگی: (۱) (اصطلاح طب) قبض، (۲) دل کے ساتھ
 دل بستگی، جی لگنا، تفریح، (۳) بند ہونا، تفریح نہ ہونا۔
 بستنی: (۱) موتھ؛ (۲) وہ کپڑا جس میں کپڑا بندھا جائے (۳) خلاف ستار
 سارنگی، پھرے کی پوشش۔
 بست و کشاد: (۱) بندھا اور کھلا ہوا (۲) الجھاور اور سلجھاؤ (۳) دل دھند
 (۴) بچھدگی اور اس کا صل۔
 بستہ: (۱) مذکر؛ کاغذات باندھے کا کپڑا، جزدان، پتھر (۲) جھاپوا
 بندھا ہوا (۳) بند، افسردہ۔
 بستنی: (۱) آباد جگہ، بسی ہوئی جگہ کاؤں قبضہ (۲) رون
 چل پہل۔
 بستر: (۱) موتھ؛ گند۔
 اوقات: گزر بسر۔
 کرنا: زندگی کا نسا، گزر کرنا، تمام کرنا، زندگی کے دن لپٹے
 کرنا۔
- بستر: مذکر؛ بھول۔
 بستر: بھولا ہوا، (اردو میں بھولا کے ساتھ)، بھولا بھرا۔
 بسترانا: بھلا دینا، غلط راستے پر چلانا
 بسترنا / بستر جانا: بھول جانا، بھوک جانا۔
 بسترآم / بسترآم: (م) / و بسترآم: (۱) مذکر؛ چین، آرام، توقف،
 بسنت: (۱) مذکر؛ پھیلاؤ، فراخی، کشادگی، وسعت، مہرحت، تفصیل
 بسنت: BISCUIT: (۱) دانگ، مذکر؛ آٹا اور میدے سے
 بنا ہوا خستہ ٹکڑا (۲) بھئی میں تیار کی ہوئی آٹے یا میدے
 کی ٹیکیاں۔
 بسم اللہ: (۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف (ترجمہ)؛ شروع
 کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے، (۲) ابتدا،
 آغاز، (۳) خدا کی امان میں۔
 اللہ اکبر کر دینا: دکانیٹا؛ ذبح کر دینا۔
 سے تمت تک: شروع سے آخر تک، ابتدا سے اختتام
 تک۔
 کرنا: شروع کرنا کھانا یا کوئی کام۔
 کی گنبد میں بیٹھنا / رہنا: دنیا سے الگ تھلک رہنا،
 گوش نشین ہونا، دنیاوی حالات سے بے خبر رہنا، ناقربہ کار ہونا۔
 تجرئی ہا و فرسنا ہا: (ترجمہ)؛ اس کشتی کا چلتا شہرنا اللہ کے نام
 سے ہے، سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا، خدا خیر دعافیت
 سے پہنچاے۔
 ہونا: ہم اللہ کی تقریب نیچے کی تطہیر کا آغاز (چار سال چار ماہ
 چار دن کی عمر میں)۔
 ہی غلط ہونا / کرنا: ابتدا ہی میں بھول چوک ہونا، پہلے کام
 ہی میں غلطی کرنا۔
 بسیل: (۱) گھائل، زخمی، (۲) رجاڑا؛ عاشق، ترشپنے والا،
 مفسر۔
 بسنا: آباد ہونا، شہرنا، بوسانا، خوش بودار ہونا۔
 بسنا: مرکز بودار ہونا، باسی تواسی، برمی باسی کا ہونا۔
 بسنت: مذکر موتھ؛ (۱) سرسوں پھولنے کے زمانے کا موسم، موسم بہا
 سرسوں کے پھول (۲) بسنت کے گیت۔

پینچی : موتھ ! ہندوں کا تہوار جو ماگھ سدی پینچی میں ہوتا ہے۔

پھولتا : (۱) سرسوں کے پھول کھلنا (۲) زردی چھا جانا، ہر طرف زرد ہی زرد دکھائی دینا۔

کی خبر ہونا / نہیں / بسنت کی خبر ہے / نہیں ہے : بے خبر ہونا، ناواقف ہونا، ناخبرہ کار ہونا۔

پینٹی : پیل رنگ، پیل رنگ کا لباس۔

پوٹھ : (۱) پیلے کپڑے پہننے والے (۲) (کناٹیا)؛ مٹھون۔

پسوا / پسوہ : مذکر؛ ایک بیگھ کا بیسوا حصہ۔

پسواسی : بسوے کا بیسوا حصہ۔

پسوری : وہ، موتھ؛ بانس کا جھگل۔

پسورنا : رہنا ہونا، چپکے چپکے رونا، رونے والے کی سی شکل بن جانا۔

پسولا : مذکر؛ لکڑی پھیلنے کا اوزار۔

پسولی : اینٹیں تراشنے کا اوزار۔

پسہا : دس، صفت، زہریلا۔

پسیارگو : باتونی، زیادہ بولنے والا۔

سفر باید تا پختہ شود خامے : (دفعہ)؛ (مقولہ)؛ (ترجمہ)؛ انسان میں پختگی پیدا ہونے کے لیے بہت سفر [ریاضت] کی ضرورت ہے، بہت سفر کرنے سے تجربہ اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔

پسیرا : (۵) شام کے وقت جہاں آرام کیا جائے، ٹھہرنے کی جگہ، ہرندوں کا گھونٹلا یا آڈا۔

گرنا / لینا : (۱) ہرندوں کا رات میں دختوں پر رہنا، (۲) (مجازاً)؛ انسان کا رات کو آرام لینا، ٹھہرنا۔

پسپٹ : (۱) پھیلا ہوا، لمبا چوڑا، وسیع، طویل، فراع (۲) مرو منی کی ایک بجز (۳) (اصطلاح حکامین)؛ بزرگ بجز، عنصر۔

پسینلا، زہریلا، زہر دار۔

پسینڈا / پسینڈھا : سڑا ہوا، بدبو دار۔

ب-ش

بشارت / بشارتھ : (دع)؛ (۱) خوش خبری، مزوہ، نوید، الہام۔

دینا : اچھی خبر سنانا۔

بشاش : (دع)؛ خوش، ہنس مکھ۔

بشاشتھ : خوشی، کشادہ روی، خوش اخلاقی، تازگی، فرحت۔

بشپ : BISHOP : (انگ)؛ مذکر؛ مگر جا کا ایک اصلا عہدے دار، بڑا پادری۔

بشمر : (دع)؛ مذکر؛ آدمی، انسان۔

بشمرتھ : (دع)؛ موتھ؛ آدمیت، انسانیت۔

بشمرہ / بشمرہ : (دع)؛ مذکر؛ چہرہ مہرہ، پیشانی، علیہ، تیانہ۔

بشریات : (دع)؛ موتھ؛ انسانی زندگی کے ارتقا کا علم، علم انسانیت۔

بشن : دشمن، خدا سے نگہ بان۔

بشپر : (دع)؛ مذکر؛ (۱) خوش خبری سنانے والا، بشارت دینے والا۔ (۲) حضرت محمد کا صفاتی نام۔

ب-ص-ض

بصارتھ : (دع)؛ موتھ؛ آنکھ کی روشنی دیکھنے کی قوت، بینائی، نظر۔

بصرو : (دع)؛ موتھ؛ (۱) بینائی (۲) (مجازاً)؛ آنکھ۔

بصیر : (دع)؛ مذکر؛ دیکھنے والا؛ بینا، داناء، دانش مند، ماہر، ہوشیار۔

بصیرت : (دع)؛ موتھ؛ دل کی بینائی، آگاہی، دانائی۔

بصاعتھ : (دع)؛ موتھ؛ پونجی، سرہیہ، حیثیت۔

ب-ط

بط : (دع)؛ بط۔

بے / صہبیا / باوہ : (اضاف کے ساتھ)؛ موتھ؛ بط کی

شکل کی شراب کی مراد۔

بطھا : مذکر؛ مکہ معتقد۔

بطع : موتھ؛ پالتو بط۔

بطریق : (دع)؛ مذکر؛ لغزار اور آتش پرستوں کا پیشوا۔

بططان کرنا : مذکر؛ تردید کرنا، مٹانا، رد کرنا، باطل ٹھہرانا۔

بططن : (دع)؛ مذکر؛ پیٹ، اندر، بھیڑ۔

بططوان : مذکر؛ (جمع لین کی)؛ عبید، اندلی، مال، راز، ارادہ۔

ب - ع ، ع ، غ

بَعَثْتُ / بَعَثْتُ : (ع) مَوْتٌ ؛ رسالت کا زمانہ -

بَعْدُ : (ع) پیچھے -

از خرابی بسیار / بَعَثْرُ : بڑی مہمیت گزر جانے پر عقل آنا،

بڑی تباہی پیش آنے کے بعد ہوش آنا، -

از مَرگِ او ایلا : مرنے کے بعد سرگرمی، کام ہو جانے کے بعد

مستعدی -

بَعْدَةُ : اس کے پیچھے، اس کے بعد میں، پھر -

بُعْدُ : (ع) مذکر؛ دوری، فاصلہ، فرق،

المُشْرِقِینَ : (بُعْدُ مَشْرِقِینَ) ؛ (ترجمہ؛ مشرق سے مغرب

تک فاصلہ) ؛ بہت بڑا فاصلہ -

بَعْضُ : (ع) ؛ تھوڑا، چند، کچھ، کوئی، متفرق

بَعْضِی / بَعْضِی : کوئی کوئی، چند، کوئی، کچھ -

بَعْدُ : (ع) ؛ دُور، فاصلہ پر -

العقل : (بَعْدُ عقل) ؛ عقل سے دور، خلاف عقل، بے عقلی

بات بے ہودہ -

القیاس (بَعْدُ قیاس) ؛ قیاس کے خلاف، سمجھ میں نہ

آنے والی بات یا امر -

بُعَاةُ : (ع) ؛ مذکر ؛ (۱) دیوار یا کپڑے کا بڑا چھید (۲) گہرا زخم (۳)

گڑھا -

بَعَاةُ : (ع) ؛ مَوْتٌ ؛ سرکشی، نافرمانی، غدار، روگردانی -

بَعْجُ : (ع) ؛ مذکر، چھوٹی گھڑی -

بَعْجِی / بَعْجِیَا : چھوٹی سی گھڑی -

بَعْدُ : (ع) ؛ قیہ بنانے والا پھرا، بڑا پھرا، موٹا پھرا -

بَعْضُ : (ع) ؛ مذکر؛ کینہ، دشمنی، عداوت، تیر -

بَعْضِی : (ع) ؛ احسان کے ساتھ ؛ (خدا کے واسطے دشمنی) ؛ ایسی

عداوت جس میں ذاتی کینہ کو ذل نہ ہو، مخالف اللہ کے واسطے

حق کی طرف داری میں ہو -

بَعْلٌ : (ع) ؛ (۱) موٹے کے نیچے کا حصہ (۲) جھانٹا ؛ بازو، پہلو،

(۳) سٹے کپڑے کا وہ حصہ جو پیش کے نیچے آتا ہے (۴) ایک طرف

کنارے، علاحدہ -

بَجَانًا : (ع) ؛ خوشی منانا (۳) مضحکہ اڑانا، تمسخر کرنا -

بِلَانِی : مَوْتٌ ؛ بغل کا پھوڑا -

بِلَانِی : بہت تکلیف پہنچانے والا، ہر وقت ستانے والا -

بِلَانِی : گرم کرنا ؛ پہلو میں لینا، ساتھ ہونا -

بِلَانِی : گہر ہونا ؛ ایک دوسرے کو محبت یا شوق سے لپٹا لینا -

معاف کرنا، بلانا

بِلَانِی : شہر میں ڈھنڈورا ؛ بشل، چیز تو پاس ہے اور ہر

جگہ تلاش کی جا رہی ہے -

بِلَانِی : دباننا / مارنا ؛ پہلو میں چھپانا، اٹھالے جانا، قبض کرنا -

بِعْلِی دُشْمِنِ : دغا باز دوست، وہ شخص جو پاس رہ کر دھوکا دے -

دینا ؛ دیوار توڑ کر گھر میں گھس جانا -

بِعْلِی : گور / قبر ؛ نمہ، ایک قسم کی قبر -

بِعْلِی : گھولنا ؛ آستین کا سانپ ؛ قریبی دشمن ؛

بِعْلِی جھانکنا ؛ جواب نہ بن پڑنا، مہینہ تکتے رہ جانا، محبوب ہو کر ادھر

ادھر دیکھتے رہ جانا، پناہ ڈھونڈنا، بھاگنے کا موقع ڈھونڈنا -

بِعْلِی : سادہ، احمق، پھمپھورا -

بِعْلِی : مَوْتٌ ؛ (باغ کی تغیر) ؛ بانگیچہ، چھوٹا باغ -

بِعْلِی : چھوٹا باغ، بانگیچہ -

ب - ف

بَعَا : (ع) ؛ مَوْتٌ ؛ بھوسی کا کسی انسان کے سر سے نکلنے والی خشکی -

ب - ق

بَقَا : (ع) ؛ مَوْتٌ ؛ ثبات، زندگی، وجود، پاسے داری -

بَقَالٌ : مذکر؛ بنیاد، غلہ فروش، اناج بیچنے والا -

بَقَا : (ع) ؛ مَوْتٌ ؛ (جمع بقیہ کی) ؛ (اردو میں واحد کی طرح مستعمل)

بچا کھیا، جو باقی رہ جائے -

بَقَا : باہم، مَوْتٌ ؛ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا -

بِقِی / بِقِی : (ع) ؛ مَوْتٌ ؛ (اردو، مَوْتٌ ؛ بک بک -

بِقِی : (ع) ؛ کپڑوں کی گھڑی -

— بند دستہ: مذکر؛ توپ بردار آہنی گاڑیوں پر مشتمل فوج کا ایک دستہ۔

— بند گاڑی، مونث؛ توپ بردار آہنی گاڑی، ٹینک۔
بکٹ: (س) صفت، (را) سخت، مشکل، کٹھن، میڑھا (۲) خونناک، خطرناک، بے ڈھب آدمی۔

بکٹ: (ہ) پنجہ پلورا چنگل،
بکٹا: (ہ) مذکر، اتنی مقدار جو پیچھے میں آئے، کوئی چیز کسی قدر تک کرنا کسی اور طرح موٹی پس چیز کی طسرح ہو جائے، موتا سفوف۔

— بھرنّا: (ہ) چکل مارنا، ٹوچنا، کوئی چیز بوجھ بھر کر چھٹ لینا۔

بکھٹا: کسپلا۔
بک جانا/بکنا: فروخت ہو جانا، مٹین ہو جانا، منون ہونا۔

بکڑ: (رع) مونث، کنوارا، کنواری، کنواری، کنواری۔
بکڑا: مذکر؛ بکری کا۔
بکڑم: BUCKRAM: (انگ) مذکر؛ ایک قسم کا سخت کپڑا جو کٹ میٹروانی وغیرہ میں کڑا پن رکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔

بکڑمی: مونث؛ بکرے کی مادہ
بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی: (دش)؛ برا کسی۔
کسی دن اپنی بُرائی کا مزہ چکھے گا، جو چیز ضائع ہونے والی ہے وہ کسی جتن سے نہیں بچ سکتی۔

بکڑمی: چیزوں کا بکنا: فروخت، مانگ، طلب۔
بکس: BOX: (انگ)؛ مذکر؛ صندوق، پٹارا، ڈبا۔
بکسٹا/بکسیلا: کسپلا۔

بکسٹا/بکسٹا: مونث؛ کسپلا پن۔
بکسٹا: (دا) کھل کھٹا (۲) مسکرا (۳) مرجھانا، خشک ہونا، پژمردہ ہونا۔
شکستہ خاطر ہونا۔

بک سِلر: BOOK-SELLER: (انگ) مذکر؛
کتاب فروش۔
بک کپنگ: BOOK-KEEPING: (انگ) مونث؛

بِقَر: (رع)؛ گامے۔
— عید/بِقَر/بِقَر/بِقَر/بِقَر: عید الاضحیٰ، عید قربان۔

بِقَر: (رع) (بازار)؛ جگہ، گھر۔
بِقَل/بِقَل: (رع) مونث؛ ترکاری، سبز ساگ۔
بِقَلتُ اَلْحَمَّأ: (بِقَلتُ حَمَّأ): (بِقَلتُ حَمَّأ)؛ بے وقوف ساگ، خرڈ۔
بِقَت: (رع) مذکر؛ بچا کچھا، بچا بچایا۔
بِقَتِةُ السَّيْف: (بقی تیس سَیْف)؛ مذکر، جو تلوار کی زد سے بچ رہے جنگ میں جو مرنے کتنے سے باقی رہ جائے۔

ب-ک

بک: بکواس، بک (بچانا، لینا، لگانا، رہنا، ہونا کے ساتھ)۔
— بک: زیادہ باتیں کرنا، بے کار باتیں کہے جانا۔
— بک، بک بک، بک بک: بکواس۔
— بک بک: بکواس؛

بکواس: مونث؛ فضول کون۔
بکچی: زیادہ باتیں کرنے والا، بکچی۔
بک: BOOK: (انگ)؛ (دا) کتاب (۲) اندراج کرنا۔

— بکچا: (رع) مونث؛ رونا، گریہ، ماتم۔
بکچا: مذکر؛ (دا) مٹھلی بھر کر (۲) مٹھلی خاک (۳) جھاپ یا دھواں بکھرتے تھکے، پٹت، لولا۔

بکچے اڑانا: بھار پھیلانا خوش لڑ پھیلانا۔
بککارت: (رع) مونث، کنواری، دو شیزگی۔
بککاؤ: بکری کی چیز، بچنے کی چیز، بکری کے لائن۔
بککاؤل: (رف) مذکر؛ بارچی ٹالنے کا داروغہ، خالسا ما، بارچی، کھانا کھلانے والا، بھرا۔

بککائین: ایک درخت اور اس کے کڑوے پھل کا نام۔
بک پوسٹ: BOOK POST: (دا) ڈاک کی ایک اصطلاح (۲) چھپی ہوئی کتاب، یا کاغذات، ڈاک کے ذریعے رعایتی شرح پر بھیجا۔

بککڑ: (رف) مذکر؛ ایک قسم کی زندہ۔
— بککڑ: (رف)؛ لوبا منڈھا ہوا، آہنی۔

آبرو میں فرق ڈالنا (۶) بد ہیئت کرنا، ننگا کرنا (۷) مٹانا (۸)
فتور پیدا کرنا، نخل ڈالنا۔

پگٹا: مذکر؛ (بے گارہ کا معنی)؛ اجنبی، غیر۔
پگٹ: سرپٹ، بے تماشاً، نہایت تیز۔
پگڑا: خراب۔

پگڑا / کھوٹا پسیا کبھی نہ کبھی کام آہی جاتا ہے: (دش) اپنی
چیز کسی ہی خراب ہو کام آہی جاتی ہے۔

شاعر مرثیہ گو، بگڑا گویا مرثیہ خواں: (مقولہ)؛ مرثیہ گو
ادنا درجے کا شاعر اور مرثیہ خواں ادنا درجے کا گویا ہوتا ہے۔

بگڑی بات بنانا: خراب معاملے کو سدھارنا۔

بگڑی بن جانا: خراب حالت کو درست ہو جانا۔

بگڑے دل: بے ذہب آدمی، غصے میں بھرا رہنے والا، بے باک
آزاد، بڈر۔

بگڑ: (انگ) مذکر؛ بھونپنا، قرنا، ٹرنی،
نوی باجا۔

بگڑا: مذکر؛ ایک لمبے پانچھا سفید آبی پرند، نہایت سفید، اُجلا۔

بگڑت: بہ ظاہر نیک و پاک باز لیکن نیت کا بڑا، مکار
چالاک۔

مار سے پیکھ ہاتھ: (دش)؛ بگڑے کا شکار کرنے سے گوشت
کچھ نہیں ملتا، بڑی پر ہاتھ آتے ہیں، بے سود کام۔

بگڑے کا پتھر: (جمازا)؛ سفید براق۔

بگڑا: چکر کھاتی ہوئی ہوا، جس کی پیٹ میں کاغذ کوڑا کرکٹ مٹی سب
آجلتے ہیں اور ایک چلتا ہوا بھوڑا مینار سا بن جاتا ہے،
و بونڈلا، گردباد۔

بگڑ ہنس: مذکر؛ ہنس، پڑیا کی ایک قسم۔

بگڑا: گھی تیل میں پیاز لہسن یا مسد! ڈال کر ڈال یا سالن کو
داغنا۔

ڈالنا: ریزہ ریزہ کر دینا، ڈبانا۔

بگڑا: (۱) داغ کرنا، (۲) لیاقت جانا، شیخی دکھانا، (۳) جاسن یا
پھلیندے کو پسا ہوا نمک ڈال کر کسی برتن میں اوپر سرپوش
رکھ کر اس قدر ہلانا کہ جاسن پھٹ جائے اور نمک اس میں

جمع خراب کا حساب (تہارتی) حساب۔

بگڑا / بگڑا: مذکر؛ چملا، پوست۔

بگڑا / اڑانا: (جمازا) کھال اڑانا، خوب مارنا پھینا۔

بگڑا: (۱) بجواس کرنا، بے ہودہ بولنا (۲) بڑا بھلا کہنا۔

بگڑا: (۱) فروخت ہونا (۲) غلامی میں آنا، مطیع ہونا۔

بگڑا: (انگ)؛ بگٹ یا کسی مقام کو تاعد
کے مطابق مخصوص کر لینا۔

بگڑا: OFFICE: (انگ) مذکر؛
بگٹ گھر۔

بگڑا: CLERK: (انگ)؛ بگٹ بابو۔

بگڑتی: موتخت؛ (۱) سونف، مہین لپی ہوئی چیز۔

بگڑا / بگڑا: موتخت؛ کھتی، اتاج کا گودام۔

بگڑا: (۳) مذکر؛ تشریح، نفیسا، نفیسا، تعریف۔

بگڑا / کرنا: بگڑا: تعریف کرنا، بڑا بھلا کہنا، برائیاں،
بیان کرنا، پوشیدہ حال اور چھپے ہوئے عیب بتانا۔

بگڑا: (۵) مذکر؛ پختی شکر کا میل (۲) گنے بھینس کے رہنے کا احاطہ جس
میں ایک چمڑا مکان (۳) ہو (۴) ایک قسم کا ہل۔

بگڑا جانا: (۱) گرا پڑنا، بیٹھے جانا (۲) خستگی سے ٹوٹا جانا (۳) قابو سے
باہر ہو جانا (۴) بد حال ہونا۔

بگڑا / بگڑا: غصہ ہونا، چملا، مذکر (۲) پھیلنا، منتشر ہونا۔

بگڑا ہونا (۳) پریشان ہونا، گھبرانا، بے ترتیب ہونا۔

بگڑا: (۵) موتخت؛ مکان، بھونپنا۔

بگڑا: (۵) مذکر؛ (۱) جگڑا، ڈنگا، لڑائی، شور و غل (۲) الجھاد،
جہال، دشواری، (۳) کام دھندا، کاروبار (۴) انگوٹھنگو،

مال اسباب (۵) طوالت، اختلاف۔

ب-گ، گھ

بگڑا: مذکر؛ (۱) خرابی، بربادی (۲) رنجش، لڑائی (۳) عیب،
نقص، بدانتظامی۔

بگڑا: (۱) خراب کرنا، برباد کرنا، کھنسا، ضائع کرنا (۲) بد مزہ کرنا،

(۳) بے جا صرف کرنا، اڑانا (۴) ناخوش کرنا (۵) بد چلن کرنا،

بیوسٹ ہو جائے۔

بگھی: چار پہیوں کی گھوڑا گاڑی۔

بگھیلا: مذکر؛ (۱) شیر کا بچہ (۲) راج پوتوں کی ایک قوم۔

ب۔ ل

بل: مذکر؛ (۱) میڑھاپن، خم، پیچ (۲) مرڈ، ایٹھن (۳) گھنڈ۔

بل: مذکر؛ (۱) کڑ (۲) قوت، سہارا، طاقت، بھروسہ، زور، مضبوطی۔

بل جانا: مدد سے قربان ہونا، تیار ہونا۔

بلوٹا: مذکر، سہلا، آسرا، طاقت، قوت۔

پر کو دنا: سہارے پر نازاں ہونا، بھروسے پر اترا نا۔

(کسی کے ساتھ)

پڑنا پڑ جانا: کئی آجانا، تسکن پڑنا، بل آنا۔

کھانا: (۱) پیچ، تاپ کھانا، بے مددغہ ہونا (۲) میڑھا ہونا،

ترچھا ہونا، زور دکھانا۔

کھلنا / نکلنا: پیچ نکلنا، خم نکلنا، سلغنا، رخس دفع ہو جانا،

گھنڈ دور ہو جانا، غصہ ختم ہونا۔

بل نکالنا / نیکال دینا: میڑھاپن دود کرنا، کئی دود کرنا، دست

کرنا۔ گھنڈ دود کرنا، ٹھیک کر دینا، سزا دینا، سیدھا بنانا،

شینی کر کر دی کر دینا۔

بل: (انگ، مونتھ)؛ (۱) واجب الادا

حساب کی پرچی (۲) ہندی (۳) قانون کا مسودہ۔

بل: مذکر؛ (۱) زمین کیڑے کھڑوں جو ہے، سانپ وغیرہ کے رہنے

کے گھرے سوراخ (۲) (۵) مذکر؛ سوراخ (۳) بی کے جھگانے

کے واسطے یہ آواز مہ سے نکلتے ہیں۔

بلا: (رع، مونتھ)؛ (۱) آفت، مصیبت، زحمت (۲) آسیب، سایہ

رجن، بھوت، چڑیل (۳) غصہ، قوت، چالاک، یا کسی اور صفت

میں حد سے بڑھا ہوا، غیر معمولی۔

بلا چٹ / نوش: اناپ شتاب کھا جانے والا، بہت کھانے

والا، اگوری۔

سے: کیا پروا ہے، جوتی سے۔

کا پتلا: نہایت پھرتیلا، بہت تیز، بڑا چالاک، آفت کا پرکار۔

کش: آفت، کھیلنے والا (۱) مصیبت برداشت کرنے والا۔

بلایا میں لینا، (دو) قربان ہونا، پیار کرنا، عملاً کسی کے سر پر ہاتھ پھیر

کر اپنی کپٹیوں پر دونوں ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر جھٹانا، کسی شخص

کی مصیبت اپنے ذمے آجانے کی دعائیں مانگنا۔

بلاتے آسمانی: ناگہانی آفت، خدا کا تہر، عذاب ناگہانی۔

بلے در مال: ایسی مصیبت جس کا کوئی علاج نہ ہو، آفت

جس کا کوئی ٹوٹ نہ ہو۔

جان: (۱) جی کا جمال، جان کی آفت (۲) (جھاڑ) معشوق۔

بلی / بلیا / بلیلا: رع؛ ہاں۔

کیلے: دف؛ ہاں۔

بلا: مذکر؛ (۱) ڈنڈا (۲) کرکٹ یا ٹینس کھیلنے کا بیٹ، لگی کھیلنے

کا ڈنڈا۔

بلا: مذکر؛ (۱) جی کا تہر (۲) علامتی نشان، تمنا، چیراس۔

بلا: مذکر؛ پانی کا بلا، حباب۔

بلا شکار: (۵) مذکر؛ (۱) زبردستی، ظلم، جبر، زیادتی، دست درازی

(۲) زنا یا الجبر۔

بلا شنگ پیپر: BLOTTING PAPER (انگ، مذکر؛

جاذب، سوختہ۔

بلاو: رع؛ (جمع بلدہ کی) ملک، شہر۔

بلاغ: رع، مذکر؛ پہنچانا۔

بلا غنت: رع، مونتھ؛ محققانے مال کے مطابق کلام کرنا۔

(اصطلاح) علم بیان وہ علم جس میں اعلا درجے کی خوش بیانی کے

قواعد بتائے گئے ہوں۔

بلاق: مذکر؛ عودتوں کے ناک میں پہننے کا زیور۔

بلاک: BLOCK (انگ، مذکر؛ (۱) عمارتوں کا سلسلہ

(۲) عکس کی مدد سے تیار کیا ہوا چھپائی کا ساچنچ۔

بلا نا: طلب کرنا، پکارنا، آواز دینا، اپنے قریب آنے کے لیے

کہنا۔

بلا نا چلانا: (چلانا: تالچ مہل)؛ طلب کرنا، اپنے پاس آنے کے

لیے کہنا۔

بلا نا: تڑپنا، زار و قطار روانہ۔

بلڈ بینک : BLOOD BANK (انگ)؛ ہسپتال کا وہ شعبہ جہاں خون کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔

بلڈ بینگ : BUILDING (انگ)؛ مونث، عمارت، مکان، تعمیر۔

بلغم باعور : (ع)؛ مذکر؛ بنی اسرائیل کے ایک مشہور عالم کا لقب۔
بلغنا : (ع)؛ دمج، بیخ کی، اہل بلاغت، علم بلاغت ہانے والے۔
بلغم : (ع)؛ مذکر؛ گھٹے یا سپینے کا کف، (اصطلاح طب میں) چار تیلوں میں سے ایک تیل۔

بلقیس : (ع)؛ مونث؛ شہر سبکی ملک حضرت سلیمان کی زوجہ۔
بلکنا : (ع)؛ مذکر؛ پختے کا تڑپ تڑپ کر رونا، پھوٹنا، بے چین ہونا۔
بللا : (ع)؛ مذکر؛ پتھر، بے سلیقہ، لغو، اجنبی، پھمورا۔
بلغم : (ع)؛ مذکر؛ برص، سہلا، نیزہ، عسا۔

بلند / بلند : (ع)؛ مذکر؛ اوچھا، لمبا، دراز، عالی، برتر،
— اختر / اقبال / نجف : خوش نصیب، بلند طالع، خوش قسمت۔

— پایہ : عالی مقام۔
— پرواز : (۱) اونچا اڑنے والا، (۲) اونچا، عالی خیال، عالی دماغ۔
— نظر : (۱) اونچی نظر والا، چھوٹی باتوں پر خیال نہ کرنے والا، عالی حوصلہ، عالی ہمت۔

بلو پرنٹ : BLUE PRINT (انگ)؛ (۱) مخصوص کیمیا کی طریقے سے تیار کیے جانے والے نقشے؛ جو مخصوص نیلے رنگ کے کاغذ پر بنائے جاتے ہیں (۲) بنیادی منصوبہ۔

بلوٹا : (ع)؛ مذکر؛ (۱) بلی کا بچہ۔
بلوڑ / بلوڑ / بلوڑ : (۱) کان سے صاف شفاف شیشے کی طرح نکلا ہوا ایک معدنی جوہر، (۲) صاف شفاف۔

— کے جھاڑ : پلور کے بنے ہوئے درخت ناما ٹائوس۔
بلوٹ : پہاڑوں پر پایا جانے والا ایک قسم کا سایہ دار درخت۔
بلوغ : (ع)؛ مذکر؛ پہنچنا، جوانی کی عمر کو پہنچنا، جوانی، شباب۔
بلوٹا : متھنا، متھانی سے دودھ دہی چلانا، گھگھولنا۔
بلوٹی : مونث؛ دودھ دہی متھنے کا برتن۔
بلوٹہ : (ع)؛ مذکر؛ (۱) بغاوت، غدر، سرکشی (۲) غل شور، فتنہ،

بلاؤ : مذکر، بلا، بلی کا زہر۔

بلاوا : مذکر؛ دعوت، نمونہ، طلب۔

بلاؤز : BLOUSE (انگ)؛ مذکر، عورتوں کی چولی۔

بلب : BULB (انگ)؛ مذکر؛ قنقا؛ بجلی کی روشنی کا قنقا، (۲) علم نباتات) پیاز وغیرہ کی انٹی۔

بلبل : (ع)؛ مذکر؛ مونث؛ (۱) ایک خوش آواز پرندہ (۲) پھول کا عاشق (۳) مجازاً، عاشق۔

— ہزار داستان : (مناجات کے ساتھ) خوش بیان، شیریں کلام۔

بلبلنا : مذکر؛ (۱) پانی کا بلا، جاب (۲) مجازاً، ناپائے دار چیز، درود، جلدنا ہو جانے والی چیز۔

بلبلنا / پھٹنا / پھٹنا : بے چین ہو جانا، چیخ مٹھنا، بے قرار ہو جانا۔
بلبلنا : بے تاب ہونا، تڑپنا، بے قراری سے رونا، چلنا، پریشان ہونا، بے گل ہونا، بے چین ہونا۔

بلبلنا : (۱) اونٹ کا سست ہو کر بولنا، چلنا (۲) انسان کا غصے میں لال پیلا ہونا، جھنجھلانا، خفا ہونا، ٹڑانا، جوش مارنا۔

بلبل جاننا : (ع)؛ بلائیں لینا، قربان ہونا، صدمے ہونا۔
بلبلے : کلمہ تحسین 'اھو، اہا، واہ، شاہانش، مرجا، اللہ رہے، (مترک)۔

بل توڑ / بال توڑ : بال کے ٹوٹنے سے نکلنے والی پھنسی۔

بلٹی : (انگ)؛ BILLET کا ہند؛ مونث؛ چھوٹا بیل، ریلوے یا جہاز سے سامان وصول کرنے کی رسید۔

بلچنگ : مونث؛ (۱) تلوار کے دستے کی چوٹ (۲) تلوار کی پیک اور لیک (مترک)۔

بلڈ : (ع)؛ مذکر؛ (۱) شہر (۲) واقف، ماہر۔
بلدان / بلیدان : (ع)؛ قربانی، نذر، بھینٹ، ایثار، دیوتاؤں کے لیے قربانی کرنا۔

بلدہ : (ع)؛ مذکر؛ شہر، قبر، بستی۔

بلڈاگ : BULLDOG (انگ)؛ مذکر؛ دلایتی نسل کا ایک کتا۔

بلیاں لینا: (دو) بلائیں لینا (۲) (مجازاً) دوسرے کی بلا اپنے

سر لینے کے لیے اس کے چاروں طرف پھرنا، چوگرد پھرنا۔

بلیڈ: BLADE (رائگ) مذکر؛ (۱) داڑھی بنانے کی

پتی (۲) تلوار، چاقو وغیرہ کا پھل۔

بلیڈر: BLADDER (رائگ) مذکر؛ (۱) پھلکا (۲)

فٹ بال کے اندر پتلے بڑا پھلکا (۳) مشانہ۔

بلیئرڈ: BILLIARD (رائگ) مذکر؛ ایک دلاستی کھیل جو

ایک مخصوص میز پر کھیلا جاتا ہے۔

بلیغ: (دع) خوش بیان، رسا، کامل، اعلیٰ درجے کا کلام۔

بلیک: BLACK (رائگ)؛ کالا، سیاہ۔

بلیک آؤٹ: OUT — (رائگ) مذکر؛ (۱)

مکمل تاریکی ہوئی محلوں سے محفوظ رہنے کے لیے شہروں کو رات

کے وقت تاریک رکھنا۔

بلیک لسٹ: LIST — (رائگ) مؤنث؛ ناقابل

اقتدار اشخاص کی فہرست۔

بلیک مارکیٹ: MARKET — (رائگ) مؤنث؛

لاابازار، چور بازار۔

بلیک میل: MAIL — (رائگ) مذکر؛ ناجائز

دباؤ سے مقصد حاصل کرنا۔

بلیک ہول: HOLE — (رائگ) مذکر؛

کال کوٹھری۔

بلینک ورس: BLANKVERSE (رائگ) مؤنث؛

شاعری کی ایک صنف؛ غیر مقف نظم، نظم معزا۔

بلیٹرو: (دع)؛ بلا، دکھ، آزمائش۔

ب-م

بم: BOMB (رائگ) مذکر؛ گولا جس میں دھماکے کے

ساتھ پھٹنے والا مادہ بھرا ہو۔

بم: مؤنث و مذکر؛ (۱) لمبی لکڑی جسے گاڑی کے آگے لگا کر گھوڑا جوتے

ہیں؛ بجٹی کا بانس (۲) چشمہ (۳) غل، شور (۴) شیوہ دینا کے

پکارنے کی آواز (۵) وہ سجاری آواز (دبم) جو شیوہ کو بوجا کے

فساد، جھوم، (۳) نطی، کھل جی۔

بلہاری: مدتے، تصدیق، ثناء ہونے والا۔

بلی: مؤنث؛ لمبا بانس یا لمبی لکڑی، تھوٹی، ناو پلانے کا لمبا بانس۔

بارنا: ناؤ کھینا، کشتی چلانا۔

بلی بٹھیلے کی مادہ، گرہ (۲) دونوں کواڑوں کو کھلے باند رکھنے کے لیے چوکت

میں لگی چھوٹی لکڑی، چٹنی۔

الائٹنا: (د) جس راستے سے بتی گئی، ہوا سے کواٹ کر آنا (۲) (مجازاً) کسی سے

لے ہی چھوٹے یا غصے کی تیز میز تھی، بایں زنا، لیاں ہی آنا، ضار ہونا۔

جب گرتی ہے تو بچوں کے بل: (دش) ہوشیار اپنے بچاؤ

اور حفاظت کا خیال رکھتا ہے۔

خدا واسطے چڑھا نہیں مارتی: (دش) ہر شخص جو کام کرتا ہے

اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔

سے چھپھڑوں کی رکھوالی: (دش) خیانت پریش سے

امانت داری سمجھ نہیں، بے ایمانوں کے سپرد ایمانداری کا

کام کرنا۔

کاراستہ کاٹ جانا: نحوست کی علامت پیش آنا۔

کی میاؤں سے ڈر لگتا ہے/ کی میاؤں کو کون پکڑے:

(دش) زبردست کی چھٹ کون سنبھالے گا، ظالم کا خوف ہی

کافی ہے، ظالم کا رعب بہت ہوتا ہے۔

کے بھاگوں چھپنا کا ٹوٹا: (دش) قسمت سے کھل جانا، بغیر

کوشش کے کچھ حاصل ہو جانا، غیب سے فائدہ پہنچ جانا۔

کے خواب میں چھپھڑے ہی چھپھڑے: (دش) جس مذاق

کا آدمی ہوتا ہے اس کے ویسے ہی خیالات ہوتے ہیں۔

کے گلے میں گھنٹی کون باندھے: (دش) ظالم سے بچانے کے

انتظام کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔

کھائے گی نہیں تو پھیلائے گی صرور: (دش)

بدذرات بے فائدہ بھی نقصان پہنچاتا ہے۔

لوٹن: ایک بوٹی، بال چمڑ جس کی خوش بو جلی تو بہت

پسند ہے۔

بلیاٹ: (دع) مؤنث؛ دمج لیکری؛ (د) دو میں واحد کی طرح متصل

الابلا، بھوت کا اثر۔

وقت گال پھلا کر نکالی جاتی ہے (۶) نقارہ، دھونسا (۷) آتشگیر مادے کا گولا جو پھٹ کر تباہی پھیلاتا ہے (۸) راگ یا باجے کی آواز، ادنیٰ سُر۔

— بولنا: بے پکارنا۔

— پولیس: مذکر؛ وہ پانے جو عام لوگوں کے لیے سستیوں میں جا بے جا بنائے جاتے ہیں، عام جاسے مزدورت۔

— فتح چھانا: شور مچ کرنا، اہل چل ڈالنا، فساد برپا کرنا، ہنگامہ کرنا۔

بھینٹا: پانی کاٹل، چشمہ، نالا۔

بھینٹسی: موتی؛ ہندوستان کا ایک مشہور شہر۔

ب۔ ن

بن: (۱) مذکر؛ جنگل، بیابان، صحرا۔

— باس/باسی: جنگل میں بسنے والا، جلا وطن، راجہ رام چندری کا لقب؛

— بلاو: جنگلی بلا۔

— بھانٹا: جنگلی بیگن۔

— مانس: گوریلا، انسان کا جنگلی جانور۔

بن: (۲) ابن، بیٹا۔

بن: سوا، بجز، بغیر۔

بن آئے مرنا: بے موت آئے مرنا، عمر طبعی ختم ہونے سے پہلے مرنا، بے گناہ مارا جانا، ناحق آفت میں آنا، بے سبب کسی مصیبت میں پھنس جانا۔

بن بیابا: مذکر؛ کنوارا۔

بن دامول کا غلام: وہ شخص جو بے معاوضہ خدمت کرے، بے حد مطیع، فرماں بردار۔

— روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی: بے طلب اور بے تقاضا کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔

— مانگے موتی ملیں، مانگے ملے نہ بھیک: (دش، سوال کرنے سے بے عزتی کے سوا کچھ نہیں ملتا، دکار کے ساتھ کسی سے طلب نہ کریں تو خود بہت کچھ مل جاتا ہے یعنی سوال کرنا مصیوب ہے۔

بن: (۳) ذکر؛ تھوہ۔

بن: (۴) دف، بجز، سیرا۔

— مؤ: (۵) اضافت کے ساتھ؛ بال کی جڑ۔

بننا: مذکر؛ نوشاہ، دولہا۔

بنی: موتی؛ دلہن۔

بن/بنا: (۶) بغیر، سوائے، بلا، الگ، جدا۔

بننا: (۷)؛ موتی؛ نیو، جڑ، بنیاد، اصل، ابتدا، وجہ، باعث، آغاز۔

بنائے دعوئی/دعویٰ: موتی؛ (۸) قانونی اصطلاح؛ بنائے خاصیت دعوے کی وجہ، دعوے کا سبب۔

— مفاہمت: جھگڑے کا باعث، لڑائی، لڑائی کی بنیاد۔

بنائے علیہ: (۹)؛ اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے، اسی باعث۔

بن آنا: (۱۰)؛ مطلب برآنا، مراد حاصل ہونا، کام درست ہونا، قسمت کھلنا (۱۱)؛ سود مند ہونا، کارگر ہونا، بس چلنا، مناسب ہونا۔

بن بیٹھنا: کوئی خاص وضع اختیار کر لینا، کوئی خاص انداز بنانا۔ بن پڑنا: موقع ہاتھ آنا، محلے کاروبار ہونا، مراد حاصل ہونا، کامیابی حاصل ہونا، مجبور ہونا، سوچنا، سمجھنا۔

بننا بنایا: تیار کیا ہوا، درست، یا ٹھیک۔

بننا ٹھننا: (۱۲)؛ چھیل چھیلنا، ہلکا (۱۳)؛ زیور اور لباس سے آراستہ بننا، رہنا: زندہ سلامت رہنا، موجود رہنا، قائم رہنا، خوش و خرم رہنا، اقبال دولت میں ترقی ہونا، سرسبز رہنا، جاری رہنا۔

بننا: (۱۴)؛ آراستہ کرنا، (۱۵)؛ خفیف کرنا، (۱۶)؛ جو بیچ کرنا، (۱۷)؛ حق بنانا (۱۸)؛ درست کرنا۔ ٹھیک کرنا (۱۹)؛ تعمیر کرنا، (۲۰)؛ صاف کرنا (۲۱)؛ ترمیم کرنا، (۲۲)؛ کٹ کر کے درست کرنا، (۲۳)؛ اصلاح دینا، (۲۴)؛ ادب سکھانا (۲۵)؛ ترتیب دینا (۲۶)؛ موزوں کرنا، تیار کرنا۔

بناو: مذکر؛ (۲۷)؛ زیبائش، آرائش (۲۸)؛ دوستی، میل جول (۲۹)؛ دعو، بناوٹ۔

— چناو/بنناو/سنگار: سنگار، آرائش، زیبائش۔

بنات: موتی؛ بات کا معنی، ایک خاص قسم کا کپڑا۔

بنات: (۳۰)؛ جمع بنت کی؛ بیٹیاں۔

بنات النعش: وہ سات ستارے جو ایک ساتھ آسمان پر شمال کی طرف نظر آتے ہیں۔

بنادور: (ف)؛ دمع بندری؛ بندرگاہیں۔

بناسپستی ربناس پستی؛ (ا) جنگل کی پتلیاں، گھاس، ساگ پات، (۲) ایک قسم کا ہیراجس میں زردی، سبزی مائل ہوتی ہے۔ (۳) وہ تیل یا گھی جو بیج یا نباتات سے تیار کیا جاتا ہے۔

بناکارن: (۵)؛ بے سبب، بلاوجہ۔

بناکوش: (ف)؛ مونث، کان کی کوئی کچیا۔

بنان: (ف)؛ مذکر؛ رجم بناذکی؛ انگیوں کے سرے۔

بنائوٹ: مونث؛ (۱) ساخت، وضع، ترکیب (۲) تفتیح، تکلف، ظاہر داری، ظاہری نمائش (۳) جھوٹ، جعل سازی، دروغ گوئی، بات بنانا (۴) دست کاری، کاریگری، صنعت۔

بنائوٹ: مونث؛ بننے کی وضع، بننے کا کام، بننا۔

بنشت: مونث؛ کپڑے کی لمبی پٹی پر نقرتی اور طللی تاروں کا کام۔ ایک طرح کی تونی جس میں ٹوکھو، سلا، ستارا لگا ہوتا ہے۔ کی چینی، بنشت میں ٹکے ہوئے شیشے کے زبرے۔

بنشت: (ع)؛ مونث؛ بیٹی، لڑکی۔

العبت: (ع)؛ (ربنٹ، عبث)؛ انجوری شراب، شراب۔

بنج: مذکر؛ تجارت، خرید و فروخت، سوداگری، الین دین، بیوپاری، بنجارا: مذکر؛ (۱) سوداگر، بیوپاری (۲) ایک قسم کے خانہ بدوش لوگ (۳) ایک پہاڑی قوم۔

بنجاری: مونث؛ (۱) بنارے کی عورت (۲) مجازاً (مضبوط، موٹا) بے دار (۳) ایک قسم کا چھوٹا نیمہ۔

بن جاننا: (ا) اثر ہونا، مجبوری ہونا (۲) بلا میں پھنس جانا (۳) خوش نما ہوجانا، بارونچ ہوجانا، بہتر ہوجانا، سنور جانا، (۴) نشان پڑھانا (۵) خاص وضع اختیار کر لینا۔

بنجر: مونث؛ وہ زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہو؛ شور زمین۔

بنج: BENCH: (انگ)؛ مونث؛ لکڑی کے لیے لے

نچے جس میں پائے لگے ہوں، (۲) جوں کی جماعت

بند: (۱) محض جوڑ (۲) پشتہ (۳) قید (۴) گشتی لاواؤں بیچ،

(۵) وہ چند اشعار جن کے بعد گرہ لگائی جاتی ہے۔

باندھنا: (۱) گرہ لگانا (۲) پشتہ باندھنا، مینڈھ بنانا (۳) انتظام

کرنا، تدبیر کرنا (۴) جا ڈگرنا، پیش بندی کرنا، روک تھام کرنا،

تہمت لگانا، منسوبہ بنانا۔

بند: مذکر؛ (۱) جوڑ جوڑ، ہرمنو، ہرگرہ (۲) افسردہ، چپ چپ، خاموش۔

بندجدا کرنا: ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پگڑے پگڑے کرنا،

پڑی پسلی توڑ دینا۔

بند جلنا/ جلکر جانا: جوڑ جوڑ کا اینٹھنا، ہر جوڑ میں درد ہونا۔

بند ڈھیلے کرنا: تھکا دینا، جوڑ جوڑ ہلا دینا، چولیس ہلا ڈالنا،

خوب پیشانا۔ گت بنانا۔

خانہ/ بندی خانہ: مذکر؛ قید خانہ، جیل خانہ۔

رہنا: (۱) قید رہنا (۲) رکارہنا (۳) چپ رہنا، افسردہ رہنا،

(۴) تعقل رہنا۔

گرتا/ گردینا: (۱) پاشنا، بھڑنا، مقفل کرنا، بھڑنا (۲) ہر دینا

چپ کر دینا، اجواب کر دینا، کسی امر کا نہ ہونے دینا، کوئی کام روک

دینا، ختم کر دینا (۳) جا دمنتر سے بے اثر کر دینا۔

وکشا: انتظام، حل و عقد۔

ہنیشہ: وہ میضہ جس میں تے دست جاری نہیں ہوتے۔

بند/ بندری: (۵)؛ مونث؛ (۱) نقطہ، صفر (۲) رنگین چھوٹی مٹی

لکھا جو عورتیں ماتھے پر لگاتی ہیں۔

بندا: مذکر، وہ گول نشان جو ہندو بولچاپاٹ کے وقت پیشانی

پر لگاتے ہیں۔

بندا: مذکر؛ عورتوں کے کان کا زیور، آویزہ۔

بندر/ باندر/ باندر: مذکر؛ مشہور جانور کا نام۔

بھنگلی: مونث؛ بندر کی طرح دکھاوے کی دمکلی، ڈرلنے کی

شکل بنانا۔

کاپھوڑا/ گھاؤ/ رنالیٹا: جس طرح بندر اپنے زخم کو چھڑ

چھڑ کر کھیا کھیا کر خشک نہیں ہونے دیتا، چھوڑے یا زخم کو چھڑ

چھڑ کر خشک نہ ہونے دینا، کام کو کبھی تمام نہ ہو، وہ مصیبت

جو ہمیشہ رہے۔

کولہ ہلدی کی کانٹھ، پسناری بن بیٹھا، دشمن، چھپورا

بندوچی : بندوق والا ، بندوق چلانے والا۔
بندہ : رن، مذکر؛ غلام، نوکر، مطیع، تابع، (حکیم کے واسطے) (۱۲) عالج
 نیازمند، خاکسار، خودی دکھانے کے انداز میں،
 — آزاد : (بندہ آزاد) مذہبی پابندیوں اور دنیاوی مزدوروں
 سے بے پروا شخص، مرد قلندر، بے نیاز۔
 — بشر ہونا : سہو و خطا سے مرکب ہونا، خامیاں سرشت میں ہونا
 — بنا لینا : مطیع کر لینا، گرویدہ کر لینا، غلام بنالینا، قابو میں کر لینا۔
 — بے دام / بے درم / بے زر : (اضافت کے ساتھ) بے حد
 فرماں بردار، بہت مطیع، مفت کا غلام۔
 — پیروؤ : (غلاموں کا پالنے والا)؛ حضور، حضرت، خداوند،
 ان داتا۔
 — درگاہ : (اضافت کے ساتھ) متکلم کے اظہار انحصار و عجز کا
 کلمہ، یعنی (آپ کا) نوکر، خادم، نیازمند۔
 — زر : (اضافت کے ساتھ) روپے کا غلام، لالچی، حریص۔
 — ناچیز / غمگین : (اضافت کے ساتھ) خاکسار، نیازمند، حقیر۔
 — نواز : بندہ پرورد، مالک، مختار، خادموں کی توقیر
 برٹھانے والے۔
بندمی : رن، مؤنث؛ (۱) بندہ کا مؤنث (۲) قید، حراست۔
 مانفت، روک ٹوک، (۵) مذکر؛ قیدی۔
 — خانہ : (۵) جیل خانہ، قید خانہ۔
بندمی / بندیا : (۵) مؤنث؛ (۱) لفظ، صفر (۲) ایک نشان جو
 ہندو مندوں وغیرہ سے پیشانی پر لگاتے ہیں (۳) شیشے یا پلاسٹک
 کا ایک چھوٹا سا گول ٹکڑا جسے ہندو عورتیں پیشانی پر
 لگاتی ہیں۔
بندیہ / بوندی : مؤنث؛ ایک مٹھائی گول گول پانی کے قطروں
 کے شکل کی، مہکتی
بندھ : (۵) مؤنث؛ بند، روک، پشتہ، حد، بانڈھنا۔
بندھا : جکڑا ہوا، کسا ہوا، معمولی، مقررہ، لگا ہوا۔
 — ٹکڑا : معین، مقررہ۔
بندھن : (۵) مذکر؛ (۱) بند، بندش، پٹی (۲) چھتر کی بندش،
 (۳) گانٹھ، قید، مجبوری۔

آدی ذرا سی چیز بہت اترتا ہے۔
 — کیا جانے ادرک کا سودا / بھجواؤ : (مثل)؛ معمولی آدی اعلا
 درجے کی چیز کا لطف کیا جانے، جس بات کا مذاق نہ ہو اس سے
 دلچسپی نہیں ہوتی۔
 — کے ہاتھ آئینہ / بندر کے ہاتھ کا تاریل : (مثل)؛
 اترنے والے کے ہاتھ کسی اچھی چیز کا آجانا، ایسی چیز کا ہاتھ آجانا
 جس کا صحیح استعمال معلوم نہ ہو۔
 — والا : بندر کا تماشہ دکھانے والا، داری۔
بندریا : (۱) بندر کی مادہ (۲) ایک قسم کی گھاس۔
بندرا / بندرگاہ : رن، مذکر؛ (۱) وہ شہر یا تجارت کی منڈی جو
 سمندر کے کنارے ہو (۲) جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ۔
بندیش : رن؛ مؤنث؛ (۱) اگرہ بندھن (۲) (اصطلاح شعر)
 شعر کے الفاظ کی ترکیب، عبارت کی ترکیب، لفظوں کا ربط،
 (۳) پیش بندی، تدبیر، سازش، روک ٹوک، حفظ، اتقہ، مناجی،
 الزام (۴) خیال، تمہید، بناوٹ، مگرنت، تکلف۔
بندکی : مؤنث؛ چھوٹے چھوٹے لفظ، جتنی۔
بندگان : رن؛ (دع بندہ کی)؛ بندے۔
 — عالی : (اضافت کے ساتھ) (لفظی معنی ملازمان، حضور) (تعلیلی)،
 حضور، خودی دولت۔
بندگی : (۱) سلام، تسلیم، آداب، (۲) رضعت، سلام (۳) احترام اور
 اجتناب (۴) غلامی (۵) عبادت۔
 — بیچارگی : تالچ داری میں کچھ اختیار نہیں رہتا بلے بسی۔
بندو : (۵) مذکر؛ بوند، لفظ۔
بندوبست : رن، مذکر؛ انتظام، اہتمام، زمین کی مالگداری کا
 انتظام۔
 — استمراری : زمین کا دائمی بندوبست جس میں کمی بیشی نہ ہو۔
 — سرسری : عارضی بندوبست۔
بندوق : رن، مؤنث؛ مشہور ہتھیار۔
 — بھرننا : بندوق چھوڑنے کے لیے تیار کرنا، پھرتے گولیاں
 بندوق کی نالی میں ڈالنا، بھرننا۔
 — سر ہونا : بندوق کا قیر ہونا۔

بنفشہ: (ف) مذکر؛ (ا) ایک مشہور بوٹی کا نام (۲) نافرمان۔
بنک: BANK: (انگ) مذکر؛ وہ ادارہ جو مالی لین دین کا کام کرتا ہے، مہترائی کی کوٹھی، اور جہاں امانتیں جمع کی جاتی ہیں۔
بنکارنا: (ا) شور و غل کرنا (۲) پوشیدہ بات کا اعلان کرنا (۳) دن کی لینا، شہنی بھارنا، ڈینگ مارنا۔
بنکڑی / بنکڑی: (ہ) ایک قسم کی بن دار چوڑی، پھوڑی۔
بنکیت: بانگ کے فن کا ماہر، مسلح، لڑائی پر تیار۔
بانکا: میٹر کا ترچھا۔
بنگ: (بنگ کا مفہوس)، موٹہ؛ بنگ ایک نشہ آور بوٹی۔
بنگال / بنگالہ: ہندوستان کی ایک ریاست۔
بنگالی جادو: پڑا اثر اور تیز جادو۔
بنگالے کی ٹینا: (ب) عمارت؛ وہ ننھا پتھر جو خوب باتیں کرتا ہے۔
بنگاہ: (ف) موٹہ؛ جگہ، مکان، اسباب رکھنے کی جگہ۔
بنگلا: (انگ) مذکر؛ (ا) علاحدہ بنا ہوا احاطے والا مکان (۲) ایک قسم کا پان (۳) بنگالی زبان۔
بنگلیا: چھپر کا چھوٹا مکان، چھوٹا بنگلا۔
بنٹا: (ا) سنورنا، آراستہ ہونا (۲) تحیف ہونا، چٹنا، اپنے آپ کو احمق ظاہر کرنا (۳) ایجاد ہونا، اختراع ہونا، نکلنا، درست ہونا۔ مکمل ہونا (۴) وجود میں آنا (۵) تیار ہونا، ہو جانا، ہو سکتا جیسے بدلنا، نیا ہونا، موافقت ہونا۔
بنٹنا: بناؤ کرنا، سنورنا۔
سنورنا: سنگار کرنا۔
بنٹا: (ا) دھاگوں کا ترتیب سے لگا کر پڑا تیار کرنا (۲) پلنگ چارپائی میں قاعدے سے بان لگانا (۳) کاڑھنا۔
بنٹو: موٹہ؛ بانو کا محفت (ا) خانم، بیگم (۲) بوا (۳) دلہن، پیار سے چھوٹی لڑکی کو۔
بنٹوٹ: موٹہ، بناوٹ۔
بنٹوٹ: موٹہ؛ سپرگری کے ایک فن کا نام۔
بنٹولا: مذکر؛ کپاس کا بیج۔
بنٹولی: چھوٹے اولے۔
بنولے کی لوٹ میں برچھی کا گھاؤ (ش) متورے نغ میں

بندھنا: (ہ) گرہ لگانا (۲) مضمون کا درست بیٹھنا، مقرر ہونا۔
(۳) وہ کپڑا جس میں کچھ باندھیں۔
بندھنا: (ا) چھدنا (۲) سوراخ ہونا، پرویا جانا (۳) جذب ہونا۔
بندھوست ہونا۔
بندھووار: (ہ) مذکر؛ خوشی کے موقعوں پر کسی ڈوری میں آم کے پتے یا جھنڈیاں باندھ کر سجاوٹ کرتے ہیں۔
بندھو: (س) مذکر؛ دوست، رشتہ دار، قریبی ساتھی۔
بندھوا: قیدی، اسیر، ملیں، پابند۔
بندھوانا: (ہ) گرفتار کرنا، قید کرنا، بکڑوانا، کسوانا (۲) چھوٹے سکے کو بڑے سکے میں بدلوانا۔
بندھی: معمول کے مطابق، مقدرہ۔
بندھی ٹکی بات: دستور، قاعدہ، مقررہ بات، عادت۔
بندھی: (ا) چھپی بات، راز، پوشیدہ، خفیہ (۲) بے خوف، بے کھٹے، چپ چاپ (۳) یک مُشت، اکٹھا۔
بندھی لاکھ برابر: (ش)؛ سجد چھپا رہنے سے اعتبار قائم رہتا ہے، اتفاق کی بڑی قوت ہے۔
بندھی ٹکے: (ہ) **بندھی** مقررہ، طے شدہ۔
بندھا: مذکر؛ (ا) ایک قسم کی تکراری (۲) دُم لٹا، بے دُم کا۔
بندھل: BUNDLE: (انگ) مذکر؛ پلوٹی، پلندا، گھڑی، بندھی ہوئی شے۔
بندھی: موٹہ؛ ایک قسم کی حدی۔
بندھا / بندھا: مذکر؛ دولہا، شادی کا گیت۔
بندھی / بندھی: موٹہ؛ دلہن۔
بندھ / بندھ: (ہ) مذکر؛ خاندان، اولاد۔
بندھ: مذکر؛ بانس کا محفت۔
لوچن: مذکر؛ وہ کھنڈ چیز جو بانس کی گرہ میں پیدا ہوتی ہے
تباخشیہ
بنسیری: (ہ) موٹہ؛ بانسری، نئے، مڑی۔
بنسی: (ہ) موٹہ؛ (ا) بانسری (۲) پھلی پکڑنے کا سنا (۳) ایک قسم کا گیہوں۔
بنس واڑی: موٹہ؛ وہ جگہ جہاں کثرت سے بانس ہوں۔

بہت تکلیف۔

بَنِي : مَوْتٌ ؛ (۱) دُحْنٌ (۲) موافقت، میل جول (۳) خوش حال، خوشی۔

_____ بات : مانی ہوئی بات، مسٹر بات۔

_____ بنگرادی : اچھی بڑی، نیک و بد۔

بِنِي : رِع، مَذَكْرٌ ؛ رَجْعِ ابْنِ كِي، بیٹے، بنی آدم، آدم کی اولاد، انسان۔

_____ اسر اہیل : (۱) اسر اہیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد (۲) یہودیوں کا لقب۔

_____ عُمٌ : بچھیرے جہانی۔

_____ نَوِيحِ الْاِنْسَانِ / نَبِيْرٌ : بنی آدم، انسانی برادری۔

بَنِيَاٌ : مَذَكْرٌ ؛ (۱) ہندوں کی ایک ذات، جنس بیچنے والا (۲) (جھاڑ) سیدھا۔ سادی وضع کا (۳) (کتابتاً) تجارتی ذہن کا (۴) کنوس، بیل، کفایت شمار (۵) بودا۔

_____ اِقْعَالٌ : جنس پرچون بیچنے والا۔

بِنِيُوں کی کسی چال / کاسا چلن : سادی وضع کفایت شعاری کی روش۔

بَنِيَادٌ : رِف، مَوْتٌ ؛ (۱) جِز، نِيُو، اصل، ابتدا، (۲) حقیقت مقدور، طاقت، حوصلہ، (۳) پونجی، سرمایہ۔

بَنِيَانٌ : مَوْتٌ ؛ کرتے کی طسرح آدمی آستین یا بنییر آستین کا لباس۔

بَنِيَانٌ : رِع، مَوْتٌ ؛ نِيُو، بنیاد، عمارت (۲) خلقت۔

بَنِيْرِيَتْ : بانا چلانے میں مشاق،

بَنِيْرِيَتْ : بانا چلانے کی مہارت۔

بَنِيْرِيَتْ : مَوْتٌ ؛ ایک قسم کی درزش، بانس کے دوڑوں سرور پر کپڑے کی گیندیں یا مشعل بامدھ کر اس تیزی سے پھرتے ہیں کہ چکر بندھ جاتا ہے۔

ب - و

بُوٌ : رِع، ؛ ابوکا مختلف، باپ۔

_____ تَرَابٌ : حضرت علی کی کنیت۔

_____ حَنِيْفٌ : امام اعظم حضرت نعمان کی کنیت۔

بُوَالْحَبِيْبِ : رُبْلٌ عَجَبٌ ؛ تعجب والا، انوکھا، عجیب۔

بُوَالْفَضُوْلِ : رُبْلٌ فَعُوْلٌ ؛ بہت بچنے والا، گہنی۔

بُوَالْهُوْسِ : رُبْلٌ هُوْسٌ ؛ نہایت آرزومند، بہت ہوس رکھنے والا۔ خواہش نفسانی کا پابند۔

بُوَالْهُوْسِي : رُبْلٌ هُوْسِي ؛ ہوکا، بہت آرزو لیے جا خواہشیں۔

بُوٌ : رِف، مَوْتٌ ؛ (۱) ہبک، خوش بو (۲) بدبو، سڑند (۳) خبز، بینک (۴) راز (۵) آن بالکشان (۶) علامت، نشانی (۷) طرز، ڈھنگ (۸) اثر۔

_____ بَانَسٌ : مَوْتٌ ؛ (۱) جسم یا پھول کی خوشبو، ہبک، خوش بو (۲) ڈھنگ، وضع، طرہی، روش (۳) مشابہت، طرز، انداز (۴) عادت، خصلت (۵) سُراخ۔

_____ پَانَا : سُنُّ گُن پَانَا، خبر پانا۔

_____ تَبِيْوُثَانٌ : (۱) بوٹھنا (۲) (جھاڑ) ؛ ایشا سے راز ہونا، مشہور ہونا۔

_____ جَانَا : بُو نکل جانا، بومٹ جانا، اثر زایل ہو جانا۔

_____ دَارٌ : (۱) بد بو دینے والا (۲) شکار کی بو بڑھانا ہونا (۳) یسین کا خوشبودار چڑھ۔

_____ سَمَانَا : کسی بات کا دل میں بیٹھ جانا۔

_____ تَبِيْوُثَانٌ : (۱) بوجھل جانا، بد بو دینا، بو زایل ہونا، بو ظاہر ہونا (۲) راز کھلانا، (۳) اثر ظاہر ہونا۔

_____ ہُوْنَا : تھوڑی سی کوئی خاصیت ہونا، کچھ اثر ہونا۔

_____ بُو كَسْ طَفِيْلِي : روکین کا اثر، روکین کی عادتیں، بچپن کا انداز۔

بُوَأٌ : مَوْتٌ ؛ بڑی بہن، پھوپھی، بزرگ عورت، دایہ، کھلائی، عزت والی عورتوں کو خطاب کرنے کا کلمہ۔

بُوَا سِپَرٌ : رِع، مَوْتٌ ؛ ایک مرفن جو پانخانے کی جگہ مستوں کی شکل میں ہوتا ہے، اگر مستوں سے خون آتا ہے تو خون و در نہادی بُوَا سِپَرِ کھلاتی ہے۔

بُوَا نِيٌ : مَوْتٌ ؛ ایڑی کے پیٹ جانے سے پڑنے والی درزیں۔

_____ تَبِيْوُثَانٌ : (۱) ایڑی میں زخم پڑھانا (۲) (جھاڑ) ؛ تکلیف ہونا مصیبت پڑنا۔

بُوَا بِيْكَ : مَذَكْرٌ ؛ بوڑھا لیے وقوف، نادان، مسز۔

— ساقد: چھوٹا، خوشنما قد، موزوں قد۔
 بونیٹ: موتنٹ؛ (۱) چھوٹا پھول، چھوٹا بوٹا، چھوٹا پودا (۲) وہ جڑی بونی جس کی تلاش کیسا گروں کو رہتی ہے (۳) بھنگ۔
 بونیٹ: موتنٹ؛ (۱) گوشت کا چھوٹا ٹکڑا (۲) پرند کا وہ بچہ جس کے پر نہ نکلے ہوں (۳) نہایت سُرخ۔
 — بونیٹ پھر کنا: (۱) بدن کے عضو عضو میں جنبش ہونا، بونیٹ بونی ٹھکنا، (۲) (جھاڑ) نہایت شوخ چل بلا ہونا۔
 — بونیٹ کا پینا: غصے یا خوف کی شدت سے جسم پر لرزنے کی کیفیت طاری ہونا۔
 — بھرتنا: دانوں سے بدن کا گوشت کاٹ لینا، بگنا بھرتنا۔
 بوٹیاں: جمع بونی کی۔
 — اڑانا: نیکوٹے ٹکڑے کرنا، خوب مارنا۔
 — کاٹنا/کاٹ کاٹ کھانا: نہایت غصہ ہونا، بہت جھلانا بوجھ: مذکر؛ (۱) بار، وزن (۲) (کنایتاً): ذمہ داری۔
 — اتارنا: (۱) بار بٹکا کرنا، ٹبک دوش کرنا، بری الذمہ کرنا۔ (۲) قرض (داکرنا) بے گار مانا، بے پروائی سے کام کرنا۔
 — مسر پر ہونا: (۱) فکر ہونا، فکریں بتلا رہنا (۲) قرض ڈنٹے ہونا (۳) کوئی ڈنٹے داری متعلق ہونا۔
 — سر سے اترنا: (۱) بوجھ ہٹا کرنا، کسی بار سے سبکدوش کرنا۔ فرض یا قرض ادا ہونا (۲) (کنایتاً): احسان سے سبکدوش ہونا۔
 — سنبھالنا: بار اٹھانا، کوئی ڈنٹے داری اپنے سر لینا۔
 بوجھ: موتنٹ؛ (۱) سمجھ، فہم، فراست (۲) پہلی کا حل۔
 — بھگلا: (۱) ہوشیار، چاندیدہ (۲) (طنزاً): نادان جو عقلمند بنے (۳) ایک فرضی آئینہ کا لقب جس سے بہت سی نادانی کی باتیں منسوب ہیں۔
 — بھگول: موتنٹ؛ یہیلیاں بوجھنے کا کھیل۔
 بوجھا بوجھی: موتنٹ؛ (۱) لڑکوں کا ایک کھیل؛ چور کی آنکھ بند کی جاتی ہے وہ چھوکر دوسروں کا نام اٹھلے سے بتاتا ہے۔
 بوجھل: (۱) وزن، سہاری، ثقیل (۲) لدا ہوا، بوجھ کے نیچے دبا ہوا۔
 بوجھنا: (۱) سمجھنا، پہچانا، دریافت کر لینا (۲) پہلی بتانا، چیتا حل کرنا

بوٹو: موتنٹ؛ بڑی بہن، گھر کی مالک، گھر کی وہ ملازم جس کی گھر میں عزت کی جاتی ہے۔
 بوٹا/بوٹو: BOILER: (۱) (ٹانگ)؛ مذکر؛ پانی کو گرم کرنے والی ٹنگی (۲) پانی کو بھاپ میں بدلنے والی ٹنگی (۳) گرم پانی کا ظرف جو جلے کے ساتھ لگا ہوتا ہے (۴) مشینوں کے لیے استعمال ہونے والا وہ حصہ جس میں پانی گرم کیا جائے۔
 بوٹا: مذکر؛ (۱) قوت، طاقت، زور، تابو، بس (۲) حمایت، سہارا۔
 بوٹا: مذکر؛ درخت کا تنہا (بوٹا)۔
 بوٹام: (فرنجی)؛ (۱) بٹن (۲) بوسے چاندی، سونے کی گھڑی (۳) سیلنگ۔
 بوٹل: موتنٹ؛ کاچ کا برتن، شیشہ۔
 — کائنشہ: (کنایتاً)؛ شراب کائنشہ۔
 بوٹہ: (رف) مذکر؛ (۱) سونا چاندی گلانے کی کھالی، اونٹ کا نر بچہ۔ (۲) وہ چھوٹا درخت جس کی شاخیں زمین تک ٹکتی ہوں، (۳) (جھاڑ)؛ موٹا، سہڈا۔
 — خاک: (اصناف کے ساتھ)؛ (رف) انسانی قالب، آڈی کا بدن۔
 — بوٹہما: (رف)؛ بگلا۔
 بوٹھ: BOOTH: (۱) (ٹانگ)؛ مذکر؛ کراچ وغیرہ کا عارضی سائبان۔
 بوٹ: BOOT: (۱) (ٹانگ) مذکر؛ جوتا، پاپوش۔
 بوٹ: BOAT: (۱) (ٹانگ) موتنٹ؛ ناؤ، کشتی، سفینہ۔
 — بوٹ: (۵) مذکر؛ ایک قسم کا بڑا ریکڑا، گھاس کا ٹڈا۔
 بوٹ/بوٹٹ: پکڑے، چمکوں سمیت بچنے ہوئے ہرے پچھے۔
 — پلاؤ: پکے چنوں کا پلاؤ۔
 بوٹ/بوٹا: (۱) گوشت کا بڑا ٹکڑا، بڑی بونی (۲) شہتیر کا ٹکڑا۔
 بوٹا: مذکر؛ (۱) پھولوں کا چھوٹا درخت، جھاڑی (۲) پھول پتی جو کاغذ، لکڑی، شال، کسی دھات پتھر پر بناتے ہیں۔

یوچا: مذکر؛ ایک قسم کی سواری جسے کہا جاتا تھا تھے۔ ہوادار۔
یوچیا: مذکر؛ (۱) بے قانون کا، چھوٹے چھوٹے قانون کار (۲) آگ (۳)
(ننگا کا تاج ہو کر) دیکھو، ننگا بڑھا۔

یوچرٹ: BUTCHER: (رنگ)؛ مذکر؛ قصائی (قصاب) قصائی
گوشت بیچنے والا۔

یوچھار/یوچھار: مؤنث؛ (۱) سینہ کی وہ ہونٹیں جو ہوا کے ساتھ
ترجمی کرتی ہیں۔ پانی کے چھینے جو ہوا سے کسی خاص رخ پر بڑیں۔
(۲) بھرا، کثرت گویوں کی/کھلیوں کی/باتوں کی دگلتا یا گرنے
کے ساتھ۔

یوچھار پڑنا؛ 'سینہ کی چھوٹی ہونٹوں کا کثرت سے گزنا، تیرا گویوں
یا کسی چیز کا کثرت سے گزنا (۲) ہر طرف سے لمن طمن ہونا، اعتراض
ہونا، لگا تار سوالات ہونا، کثرت سے گالیاں یا کوسنے
پڑنا۔

یوڈ: رن، مؤنث؛ دھوا، ہستی، ترجمہ۔

ویاش: مؤنث؛ رہنا، سہنا، سکونت، سکونت کی جگہ۔

یودا: مذکر؛ (۱) بزدل، کم زور، کم ہمت (۲) گلا ہوا، بوسیدہ۔

پین: کم ہمتی، کم زوری، بزدلی۔

یودھ: مذکر؛ ایک مذہب جس کے بانی گوتم بدھ تھے۔

(۵) مذکر؛ بدھ مذہب کا پیرو۔

مکت: گوتم بدھ کا مذہب۔

یوڈ/یوڈ: (۵) مذکر؛ آم کا پھول۔

یوڈ: (۵) مذکر؛ چوکر، بھوسی، برادہ، چورا۔

یوڈ: پرزے پرزے، ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے۔

پاشن پاشن۔

کالڈو: (۱) گھوں کی بھوسی کے لڈو (۲) لہاڑا (دھوکے کی ٹیچہ)

بے کار کام، ٹھہرا ہوا، اچھا اور باطن میں خراب۔

یوڈ کے لڈو کھائے تو پچھتاے، نہ کھائے تو پچھتاے؛

دش؛ جس کام کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔

یوڈ: مذکر؛ غوطہ، ڈبکی۔

یوڈ: BORE: (رنگ)؛ صفت؛ (۱) میزا کرنے والا، (۲) ہنڈی

کی تالی کا قطر۔

کرتا: آگتا دینا، بے زار کر دینا۔

ہونا: آگتا جانا، کھل جانا، ناقابل برداشت۔

یورا: مذکر؛ پاگل، سڑھی، بادلا۔

یوراننا: پاگل ہونا، بولانا۔

یورہا: صفت، پاگل۔

یورا: مذکر؛ ثبات یا موٹے پرٹے کا بڑا پتیلا۔

یوری: مؤنث؛

یورا: مذکر؛ (۱) باریک (سوف)، شکر، کھانڈ (۲) چورا، زیرہ،

برادہ۔

یورانی: مؤنث؛ راتنا، دہی بینگن کا آمیزہ۔

یورچی/باورچی: خانہ سال، کھانا پکانے والا۔

خانہ/باورچی خانہ: رسوئی، کھانا پکانے کی جگہ۔

یورڈ: BOARD: (رنگ)؛ مذکر؛ (۱) تختہ، اشتہار کا تختہ

(۲) مجلس۔

یورڈنگ ہاوس: BOARDING HOUSE: (رنگ)

مذکر؛ ہوٹل، دارالاقامہ۔

یورژوا: BOUR GEOSA: (فرانسیسی)، مذکر؛

یورژواشی: BOUR GEOSIE: (۱) متوسط طبقہ، شہری

متوسط طبقہ (۲) (اشتراکی ادب کی ایک اصطلاح)؛ صاحب

جاننا، تاجر، سرمایہ دار، سماجی قدر و منزلت رکھنے والے لوگ۔

یورنا: بھگونا، تر کرنا، ڈھونا۔

یوریا: رن، مذکر؛ چٹائی۔

یورینا: (مجازاً)؛ غریب کے گھر کا لک سا مان، غریب

کی آگتات۔

یوریت: (رنگ)؛ آگتہٹ، بیزار، بے مینی، بے کیفی۔

یورھا: مذکر؛ بڑی عمر کا، سن رسیدہ۔

بالا برابر، رمقور، بوڑھے اور بچے دونوں خبر گیری کے محتاج

ہیں۔ دونوں کی عقل یکساں ہوتی ہے۔

یورنگ: مذکر؛ بے وقوف، بوڑھا۔

یوریش: بہت بوڑھا، پیر فریق۔

یورچلا: مذکر؛ بوڑھے غنہ، بڑھاپے کا سزا۔

— نیکالنا: لاشیوں اور لاقوں سے مار کر مضمحل کر دینا، پلیتھن نکالنا رتے رتے بھر کس نکال دینا۔

بُوُوقِ: (ع) موٹت؛ قرنا، بنگل۔

بُوُوقَمُونُ: (ف)؛ رنگ رنگ، تعجب انگیز، مختلف رنگوں کا، طرح طرح کا۔

بُوُوقَمُونُ: بیزنگی، رنگ رنگی۔

بُوُوكَهْلُ: گھرا یا ہوا، وحشی، بدحواس۔

بُوُوكَهْلَا جَانَا: پریشان ہو جانا، دیوانہ ہو جانا۔

بُوُوكَهْلَانَا: گھبرانا، بولانا، بے تاب ہونا۔

بُوُوكَهْلَا جَهْطُ: گھبراہٹ، پریشانی، اضطراب۔

بُوُوكِي: BOGIE (انگ)، موٹت؛ ریل گاڑی کا ایک کٹل ڈیا۔

بُوُولُ: (ع) مذکر؛ پیشاب۔

— برار: (ف)؛ پیشاب پاخانہ۔

بُوُولُ: (ا) بات، کلمہ، حکم، طعنہ، طنز (۲) (اصطلاح موسیقی)۔ گیت کا ٹکڑا، گیت کا ٹکڑا۔

— اٹھنا: (ا) کہہ اٹھنا، کہنا، چلا پڑنا (۲) خوش نما ہو جانا (۳) خوش ذاتہ ہو جانا (۴) خوبیاں نمایاں ہو جانا، چمک اٹھنا۔

— بالال: بات ادبجی رہنا، عزت آبرو کی ترقی، کام یابی، شہرت۔

— چال: موٹت؛ (ا) بات چیت، روزمرہ؛ (۲) لب و لہجہ۔ (۳) میل جول، ربط و ربط (۴) رفتار گفتار، تکرار بحث۔

— جانا: (ا) مار جانا (۲) ختم ہو جانا (۳) لوہا مٹا (۴) عاجز ہو جانا (۵) پڑتا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا (۶) دیوالا نکل جانا (۷) بُرا

بھلا کہ جانا (۸) نقصان ہو جانا (۹) مر جانا۔

بُوُولَا جَالِي: موٹت؛ بات چیت، گفت گو، روزمرہ۔

بُوُولْنَا: کہنا، جواب دینا۔

بُوُولَا دِيْنَا: گھرا دینا، پریشان کر دینا، بدحواس کر دینا۔

بُوُولُٹُ: BOIL (انگ)؛ مذکر؛ بیچ، چھتھی۔

بُوُولْنَا جَانْنَا: بات چیت کرنا۔

بُوُولُتِي تَصْوِيرُ: ہو یا ہو اصل کے مطابق تصویر۔

بُوُولِي: (ا) زبان، گفت گو، بول چال (۲) جانوروں کی آواز (۳) نیلام

— چوڑا منڈوانا: بڑھاپے میں ذلیل کرنا۔

— خُزْرَانُٹُ: بڑا تجربہ کار بڑھا، بہت جہاندیدہ بڑھا۔

— کھٹاٹ / کھٹٹ: بڑھا بھولس، بہت بڑھا۔

— گھاگ: بہت ہوشیار بڑھا، جہاندیدہ۔

بُوُولُصِي: (بڑھا کا موٹت)؛ زیادہ عمر کی عورت۔

بُوُولُصِي دُحْدُو: بوڑھی بھولس۔

— گھوڑی لال لگام: (مشل) بڑھاپے میں جوانی کے سنگار۔

بُوُولُصِي: (جمع بڑھاکا)؛ باپ دانا، زیادہ عمر کے لوگ۔

— توتے پڑھانا: (رکنا یا تیا)؛ زیادہ عمر کے آدمی کو پڑھانا۔

— توتے نہیں پڑھتے: (مشل)؛ زیادہ عمر والوں کا پڑھنا دشوار ہے۔

— مُنْہ مہاسے، لوگ چلے تماشے: (مشل) بڑھاپے میں جوانی کی جیسی تزئین دکھا کر لوگوں کے لیے تماشہ بن جانا۔

بُوُولُھ سہاگنُ رہنا: (عوا) بڑھاپے تک سہاگ باقی رہنے کی دعا۔

بُوُولُھ / بُوُولُھ پینہ: (ف) مذکر؛ بندر۔

بُوُولُھ سْتَانُ: (ف)؛ مذکر؛ (۱) باغ (۲) شیخ سعدی کی مشہور اور مقبول کتاب کا نام۔

بُوُولُھ وکنا: (ف) مذکر؛ چومنا پشنا، بغل میں لینا، پیار کرنا، بوسہ بازی۔

بُوُولُھ سَہ: پیار، چومنا۔

— بازی: چومنا پشنا، ایک دوسرے کا بوسہ لینا۔

— پیر پیغام: (ف)؛ امر مال، جو کام خود کے بغیر نہ ہو سکے وہ کام دوسرے کے ذریعے لینے کا خیال، کام۔

— گاہ: وہ مقام جس کو چومیں۔

بُوُولُھ سیدہ: پشنا پڑنا، سزا، گناہ۔

بُوُولُھ سَدِگِي: (ف) موٹت؛ پرانا پن، سزا ہونا، کھٹی۔

بُوُولُھ پُتَا: (ع) موٹت؛ (۱) شہری تخلیقات کے تنقیدی جائزے پر ارسطو کی ایک کتاب (۲) اصول شاعری، فن شاعری، شہرت کا

بُوُولُھ عَزَا: دیکھو بُغْزَا۔

کی آواز۔

— بیڑھانا: نیلام میں بولی کے دام بڑھ کر لگانا۔

— سٹولی: موٹھ؛ (مٹولی تاج میں) زبان، بول چال۔

— سٹولی پھینکنا/کسنا/نارنا: آواز سے کسنا، طعنہ زنی کرنا، مذاق اڑانا۔

بولیاں: موٹھ؛ (جمع بولی کی)؛ زبانیں۔

بوم: (ف) مذکر؛ (د) او، (۲) جگہ، مقام، زمین۔

— خصلت: دیراندہ پسند، منوس۔

کوتما: (۵) مذکر؛ بھگنا، چھوٹے تدرکا۔

یونا: زمین میں بیج چھڑکنا، ہل چلا کر کھیت میں بیج ڈالنا، تخم ریزی کرنا۔

یونڈ: موٹھ؛ (د) قطرہ (۲) منی کا قطرہ۔

— چھڑانا: حاملہ ہونا۔

— کاجو کا گھڑے ڈھلکانے: (دش)؛ موقع ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

بوند بانڈی: موٹھ؛ سٹوڑھ توڑی ہلکے بارش، ترشح۔

بوندی: موٹھ، بھونڈی بوند، پانی کا قطرہ، مینہ کا قطرہ، (۲) کنار (۳) ایک قسم کی مٹھائی جو پانی کے قطرے کے مشابہ ہوتی ہے۔

بوندی: موٹھ؛ (د) کل جو کھلنے کے قریب ہو (۲) جوار کا بھٹنا۔

بونس: BONUS (انگ)؛ منافع کا ایک حصہ جو کمپنی کی طرف سے ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیا جاتا ہے۔

بوہرا: مسلمانوں کا ایک تاجریشہ طبقہ جو زیادہ تر تجارت اور کمپنی میں آباد ہیں۔

بوہری: (۵) دن کی پہلی بکری، وہ رقم جو صبح کو پہلے پہلے لے۔

بولی: موٹھ؛ (د)؛ ایک قسم کی گھاس (۲) وہ فرضی ہوتا جس سے بچوں کو ڈرتے ہیں۔

بویانہ جوتا، اللہ نے دیا پوتا: (دش)؛ بے عمت مشقت کوئی کام بن جانا، مفت میں کچھ حاصل ہو جانا۔

ب-۵

بیٹہ: (۵) مذکر؛ ناک کان کے وہ سوراخ جس میں عورتیں زیور پہنتی ہیں۔

بیٹہ: (ف)؛ صفت؛ بہتر، اچھا، عمدہ۔

بہا: (ف)؛ مذکر و موٹھ؛ قیمت۔

بہا بہا پھرنا: (د)؛ سیال چیز کا کثرت سے بہتے پھرنا، (۲) کسی چیز کی کثرت اور زیادتی ہونا، (۳) مارا مارا پھرنا، ڈانواں ڈول پھرنا، (۴) نشے میں منور ہونا۔

بہا ڈر: (ف)؛ دلیر، جواں مرد، جری، شجاع۔

بہار: (ف)؛ موٹھ؛ (د) پھولوں کے کھلنے کا زمانہ، درختوں کے سرسبز ہونے کا موسم (۲) شادابی، رونق، لطف، کیفیت (۳) تاشا تفریح (۴) ایک راگنی کا نام۔

— بیچنا: پھل دار درختوں میں پھل آنا شروع ہوتے ہی سودا کر لینا، فصل بیج ڈالنا۔

— دکھانا: سہاں دکھانا، کیفیت دکھانا۔

— لوشنا/بھارن لوشنا: خوب مزے اڑانا، خوب لطف حاصل کرنا، میٹھ کرنا۔

بہاراں: بہار۔

بھاری: بہار والی، بہاری۔

بھاران: مذکر؛ جھاڑنے کا کپڑا، جھاڑن

بھارنا: جھاڑنا، صاف کرنا، جھاڑ دینا۔

بہانا: (د)؛ لٹھانا، جاری کرنا، پانی کی رو میں ڈالنا (۲) خراب کرنا ضائع کرنا (۳) بہت سستا بیچنا، کم داموں میں لٹا دینا۔

بہانہ: (ف)؛ مذکر؛ (د)؛ ٹال مٹول، عذر، جیل، دھوکا، دم، فریب (۲) وسیلہ، سبب۔

— جھوٹا طلب: جیل ڈھونڈنے والا، جیل گر، دھوکے باز۔

— خور: مکار، چالاک۔

— ساز: جیل بنانے والا، عذر گھرنے والا۔

بہاؤ: پانی بہنا، پانی کا مسلسل چلتے رہنا، پانی کا جاری رہنا۔

بہانگم: (د)؛ مذکر؛ (جمع بہیمہ کی)؛ چوپائے۔ جانور۔

بہبود: (ف)؛ موٹھ؛ بھلائی، بہتری۔

بہت: زیادہ، کثرت سے، نہایت، کافی، بڑا، وسیع۔

— اچھا: (د)؛ کلمہ ایجاب، بہتر، مناسب (۲) نہایت عمدہ (۳) (مٹھے سے) دیکھا جانے والا، (۴) طرزاً؛ بہت خوب۔

- بڑی عمر ہونا: فانیانہ ذکر یا اس کے موقع پر دفعتاً پہننا۔
- بہتر/خوب: (ایجاب میں)؛ بہت اچھا، بہت مناسب۔
- چل نکلتا: ہوشیار ہوجانا، حد سے بڑھ جانا، اترانا، استغنا ہوجانا۔
- خاصے: (ظن)؛ بہت معقول، بہت خوب، واہ وا۔
- چمٹے میں کپڑے پڑتے ہیں: (مثل) زیادہ میل جول میں توجہ خراب نکلتا ہے۔
- نکلوں میں ایک ناگ والا نکو: (مثل) نکو؛ بدنام، احمق، بہت عیب داروں میں ایک بے عیب اہم بنتا ہے بدنام ہوتا۔
- ننھا کاتنا: بہت باریکی سے کام کرنا، بہت سوچ بچار سے کام کرنا۔
- ہی بہت ہونا: بالکل نہ ہونا۔
- بہتات: موٹ، کثرت، زیادتی، افراط۔
- بہتان: (ع)؛ مذکر؛ کسی کی طرف کوئی جھوٹ بات بنسوب کرنا، تہمت، افترا۔
- اٹھانا/باندھنا/جوڑنا/دھرنا/رکھنا/لگانا: تہمت لگانا، الزام لگانا، عیب لگانا۔
- بہتر: مذکر؛ (۱) ستراد دو، ۲، ۳) بہت کثرت سے، بڑی تعداد۔
- بہتر: (ف)؛ اعلیٰ درجے کا، عمدہ، افضل، بہت اچھا کسی بات کے جواب میں، بہت اچھا، بہت خوب۔
- بہتر: سب سے اچھا۔
- بہتری: موٹ؛ بھلائی۔
- بہتے دریا میں ہاتھ دھونا/بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا: کسی کی نیاسنی یا دریا دلی سے فائدہ اٹھانا۔
- بہتر: بہت زیادہ، بہت سارے شمار، کثرت سے، بہت۔
- بھجوت: (ع)؛ موٹ؛ سازگی، فرحت، خوشی، رونق۔
- پڑ دانہ/بہی دانہ: مذکر؛ بہی کا بیج۔
- بہرا: وہ شخص جس کے سننے کی قوت کم یا ختم ہوگئی ہو، گراں گوش بے خبر، بے پروا۔
- بادل/بھند: (مراٹھا)؛ اونچا سننے والا، کم سننے والا۔
- پتھر: پتھر؛ پتھر، اہل بہرا، جس کی قوت سامعہ بالکل زائل ہوگئی ہو۔
- سولہرا: (مقولہ)؛ بہرا بڑا چالاک ہوتا ہے۔
- بہرام گور: (ف)؛ مذکر؛ قدیم ایران کا بادشاہ، جسے دگر، جنگی گدے کے شکار کا شوق تھا۔
- بہرؤپ/بہرؤپ: قسم قسم کی وضع، جھیس، سانگ، دھوکا، نقالی۔
- بدلنا/بھرتا/لانا: جھیس بدلنا، سانگ بھرتا، نئی حالت میں نظر آنا، شہدہ بازی کرنا، دھوکا دینا۔
- بہرؤپیا: مذکر؛ رنگ برنگ جھیس بدلنے والا، دھوکے میں ڈالنے والا، مکار، فریبی۔
- بہرؤ: (ف)؛ مذکر؛ واقفیت، شعور، فائدہ، قسمت، نصیب، حوصلہ، جعت۔
- مند/وڑ/یاب: (ف)؛ کامیاب، خوش نصیب یا اقبال فائدہ اٹھانے والا۔
- بہری: موٹ؛ (۱) ایک شکاری پرندہ جو اکثر کبوتروں اور چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے (۲) نہ سننے والی عورت۔
- بہری: موٹ؛ برابر کا حصہ، جعت، چندہ۔
- بہرؤاد: (ف)؛ مذکر؛ ایک مشہور قدیم ایرانی نقاش (آرٹسٹ)۔
- بہشت: (ف)؛ مذکر؛ موٹ، جنت، فردوس، پرفضا مقام، عیش و آرام کی جگہ۔
- برہمن: سب سے اعلیٰ درجے کی بہشت۔
- شداد: (اضاف کے ساتھ)؛ وہ بہشت جو شداد بادشاہ نے دعوتے خدائی کر کے بنائی تھی۔
- بہشت/بہشتی: مذکر؛ شفاء، پانی بھرنے والا، پانی پلانے والا۔
- بہشتی: بنتی، فردوس مکاں۔
- اندھا دوزخی: (مقولہ)؛ بہرا برائی بھلائی نہ سننے کی وجہ سے نیک ہوتا ہے اور اندھے کی نیت بے خبری کی وجہ سے ڈانواں ڈول رہتی ہے۔
- بہنکا: بے عقل، بے وقوف۔
- بہنکا: درغلنا، دم دینا، سیدھے راستے سے ہٹانا، انخوا کرنا، بھگانا، سبزاغ دکھانا، فریب دینا، نشے میں بدمست کر دینا۔
- بہنکا: (۱) سیدھے راستے سے ہٹ جانا، راہ راست سے دُور ہونا۔

آنے والی لڑکی (۳) عزت والی عورت۔

— جی: عزت دار عورت۔

— پہوار: مذکر، لین دین، معاملت۔

— پہوڑا (دم، چالا۔ دلن کا جو تھی کے بعد دوبارہ شوہر کے گھر آنے کی رسم۔

— پہوڑے کا کھانا: وہ کھانا جو دلن کے ساتھ شوہر کے گھر خصوصی کے وقت جاتا ہے۔

— بگھی: حساب لکھنے کی کتاب، روزنامہ، کھانا۔

— کھاتا: لین دین کے حساب کی کتاب۔

— وہی: (ف) مذکر؛ ایک پہل کا نام جو امر دسے مشابہ ہوتا ہے۔

— بھیر: مونث (۱) وہ غیر فوجی لوگ جو لشکر کے ساتھ بھیر کی صورت میں ہوتے ہیں (۲) لشکر کے بازار والے (۳) آدمیوں کی قطار، بھیڑ، جمع

(۴) فوج کا اسباب۔

— بھیر بنگاہ/بھیر بھنگا: (۱) خیمہ، فوج کے ساتھ کے شاگرد پیشہ بقال و خیمہ (۲) برات کے ساتھ خدمت گزار (۳) لشکر کا ڈیرا

خیمہ وغیرہ۔

— بھیر: مونث؛ پہاڑی پرندوں کے غول رجنڈا کا پہاڑ سے آنا۔

— بھیرا: مذکر؛ بلبل (ایک قسم کی بڑی بھڑ)۔

— بھیریلیا: چیزیں، شکاریوں کی ایک خاص قسم۔

ب۔ می

— بی: (ف)؛ مونث؛ بی بی کا معنی؛ عورتوں کے واسطے تعظیم یا محبت کا کلمہ، خطاب۔

— بی: (ترکی)؛ مونث؛ (۱) بیگم، خاتون، خانم (۲) زود، گھروالی

(بیار سے) بیٹی، لڑکی، شریف زادی، عیضہ، بہن، ہمیشہ، دلہن۔

— بیو: مونث؛ عزت والی عورت۔

— بی خطا کر کے باندھی پکڑی جاے: (دش) بڑے کی خطا پر

— عزیز پکڑا جائے، غلطی کرے کوئی پکڑا جائے کوئی۔

— بی کی جھاڑ و پھیرے: (دو) (کوسا)؛ مرے، تباہ ہوو، بربادہ

— بی نہ پیر، پہلے فتن فقیر: (دش)؛ وہ شخص جو سب سے

پہلے اپنے حقے کی جلدی چمائے۔

— قدم بہکننا (۲) نشے میں کچھ کچھ کہنا، اول قول بکنا (۳) بھنا

— میں بکنا (۳) دھوکا کھانا (۵) نشاہ خطا کرنا (۶) پانوں لکھنا۔

— ڈنگ مگانا (۷) حد سے بڑھ کر چلنا۔

— بہنگی ہونی آواز: بے سُر آواز، قائم نہ رہنے والی آواز، وہ آواز جو بولنے والے کے قابو میں نہ ہو۔

— بہل/بہلی: مونث؛ سیلوں کی سواری گاڑی۔

— بہلانا: (۱) دل خوش کرنا، تفریح کرنا، سیر تاشے میں دل لگانا (۲)

دم دینا، جھوٹ موٹ سستی دینا، ٹالنا، فریب دینا۔

— بہلاؤ/بہلاؤا: مذکر؛ تفریح؛ جس چیز سے دل بہلے۔

— بہلنا: مذکر؛ (۱) چمڑے کا دستا، جسے شکاری پتے پر چڑھا کر پرند کو ہاتھ پر بٹھاتے ہیں (۲) ایک قسم کا بٹوا، جس میں روپیا پسیا یا ام

کاغذات رکھتے ہیں۔

— بہلی: مونث؛ بہل، ایک قسم کی بیل گاڑی۔

— بہلیا: مذکر؛ پرندوں کا شکاری، تیر و کمان سے مسلح رہنے والے۔

— بہم/بہم: (ف)؛ آپس میں۔ ساتھ۔

— بہیچنا: ملنا، مہیا ہونا، دست یاب ہونا، حاصل ہونا۔

— بہمن: (۱) ایران کا گیارہواں مہینہ (۲) ایک بوٹی۔

— بہن: مونث؛ ہم شیرہ، خواہر۔

— بہنٹا: (بیار سے)؛ بہن۔

— بہنٹا پا: مذکر؛ وہ رشتہ جو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو منہ بولی بہن بنانے میں جوڑتی ہیں۔

— بہنٹا: (۱) جاری ہونا، رواں ہونا (۲) پانی کی رد میں چلا جانا (۳) بتلا ہونا (۴) ضائع ہونا، بے حاصر ہونا (۵) پھیل جانا، بگڑے جٹ

جانا (۶) تتر بتر ہونا (۷) مستاک جانا (۸) غارت ہونا۔

— بہنٹا: رُصنیا، نڈاف

— بہنٹا/بے بہنٹا: بے ڈول، بے کینڈا، بد قطع۔

— بہنٹگی: کاغذ پر لکھ کر بوجھ اٹھانے والی ترازو جیسی ایک چیز۔

— بہنٹوئی: مذکر؛ بہن کا شوہر۔

— بہنٹی: دیکھو، بوہنی۔

— بہنٹیل: مونث؛ منہ بولی بہن۔

— بہنو: مونث؛ (۱) بیٹی کی بیوی (۲) گانٹویا کے میں باہر سے بیاہ کے

— اے : B.A. :- (انگ) پلور آف آرٹس کا منتف ؛
 گز بوٹس۔
 — بے : حروف تہجی کے دوسرے حرف 'ب' کا نام، جمل کے حساب سے اس کے دو عدد مقرر ہیں۔
 — بے : (رف) نفی کا حرف 'بجو' بدون 'پلا'۔
 — آنکلی : بے شعور، بے تیز، بے جوڑ۔
 — ایمان : بے دین، بدینیت، بددیانت، جھوٹا، دغا باز۔
 — بے وفا : تنگ حرام، انصاف نہ کرنے والا۔
 — آب : بے رونق۔
 — باق : حساب صاف، کوئی رقم ذتے باقی نہ رہے۔
 — باک : بڈر، بے خوف، شرمیر۔
 — بال و پر : بے سرو سامان، بے کس، عاجز۔
 — بدل : بے مثال، لاجواب۔
 — برگ و لوہا : (بھارت) ؛ بے کس بے ساز و سامان، محتاج۔
 — بس : بے اختیار، بے چارہ، کم زور، مجبور، بے یار و مددگار، بے کسی۔
 — بلائے خدا کے گھر بھی نہیں جاتے : (مقولہ) ؛ بے بلائے کسی کے ہاں نہیں جاتے، خصوصاً خورد واری کے اظہار کے موقع پر۔
 — بہنا : بیش قیمت۔
 — بہرہ : (رف) ؛ (۱) بے خبر، نادان، (۲) مفلس، بد نصیب۔
 — بھاکے پڑنا : خوب (جی طرح مار پڑنا۔
 — پیراڑنا : بے جا تعریف کرنا، جھوٹ موٹ کی تعریف کرنا۔
 — پیر کی اڑانا : جھوٹی بے اصل بات کہنا، گپ اڑانا۔
 — پیروا : بے فکر، بے خوف، غافل۔
 — پیپرا : وہ جس کا استہیاء پیر نہ ہو۔
 — پیپیری کا بدھنا : وہ بدھنا جس میں پیپیری نہ ہو، (بھارت) جس کے ارادے میں استعمال نہ ہو، دھل میں یقین، ناقابل اعتبار۔
 — تماشا : (۱) مضطربانہ (۲) بے دھڑک، بے تاش۔
 — ٹیکا : بے ذول، ناموزوں، بے جوڑ۔
 — مکان : بے تکلف، بے حد۔
 — ٹھوڑ ٹھکانے : آوارہ گرد، بے گھر، بے موقع، بے محل۔

— ثبات : ناپائے دار، غیر مستقل۔
 — جان : مردہ، پشمرہ، مرھایا ہوا، ضعیف، کمزور، نحیف۔
 — جرم : (رف) وہ جو اہر دھیرا، جس میں داغ و صبا نہ ہو۔
 — جھنٹ : بے سبب، بلا وجہ۔
 — چارہ : (رف) (۱) پھارا، بے بس، عاجز (۲) لاعلاج، مجبور، (۳) غریب، مفلس (۴) بد نصیب۔
 — چرائغ : (رف) (بھارت) اُھاڑ، ویران، خراب، برباد، تباہ۔
 — چگوں / بے چوٹ : (رف) بے مثل، لاجواب، وہ جس کی ذات تک عقل کی رسائی نہ ہو۔
 — چوٹ و چیرا : (رف) بے عذر، بے محنت، بے دلیل۔
 — چینی : موت : بے کلی۔
 — حال : خستہ خراب، تباہ، قسیف، بیمار، مرنے کے قریب۔
 — حجاب : بے لحاظ، بے شرم، بے تکلف، کلمے خزانے۔
 — حد : (رف) ان گنت، بے شمار، بہت زیادہ، بے انتہا۔
 — حرمت کرنا : ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، بُرا کام کرنا۔
 — حس : جو حرکت نہ کر سکے، سُن، بے خبر۔
 — حس و حرکت : سُن، بے جنبش، حیران، ششدر، دکھ دکھ۔
 — حقیقت : ناچیز، بے وقعت، بے اصل، ذلیل، ناقابل اِقتفا بے اثر۔
 — حکم پتا نہیں ہلتا : (مقولہ) خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔
 — حیا کی رڈ بلا : (مقولہ) بے حیا کو عزت کی کو کچھ پروا نہیں ہوتی ہر جگہ جس طرح ہو سکے کام نکال لیتا ہے۔
 — حیائی کا برقع مٹنے پر ڈالنا : بے حیائی کا جائزہ لینا لینا : (مخ) بے شرم ہو جانا، نہایت ڈھیلت اور بے حیا ہو جانا، بے غیرتی اختیار کر لینا۔
 — خار : (رف) (۱) بغیر کانٹوں کا، بے خوف و خطر (۲) وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی نہ نکلی ہو، نو عمر۔
 — خانال : (رف) بے گھر کا۔ بے وطن۔
 — خیر : (رف) غافل، بے ہوش، دفعہ، یکایک، ناقابل اِقتفا اندیش بے شعور۔

- **خطر:** بذر، بے خوف۔
 — **خوابی:** نیند نہ آنا، نیند اڑ جانا۔
 — **خود:** آپ سے باہر، مست، سرشار، متوالا، نمود، ہوش۔
 — **خودی:** بے ہوشی، بدحواسی، حالتِ وجد، بے خبری کا عالم۔
 — **خورد خواب / بے خواب و خور:** (ف) (۱) بغیر کھائے سوئے (۲) رجزا، بغیر آرام کے۔
 — **داغ:** بغیر دجے کا، پاک صاف، بے عیب، بے قصور، بے گناہ۔
 — **دال کا بولوم:** مذکر؛ بوم، اٹو، سیدھا سادا۔
 — **داموں کا غلام:** مذکر؛ مفت کا غلام، فرماں بردار۔
 — **دانہ:** مذکر؛ (۱) وہ پھل جس میں بیج نہ ہو (۲) ایک تم کا اتار۔
 — **دانے پانی:** بغیر غذا اور پانی کے، بغیر کھائے پیے۔
 — **دخل کرنا / ہونا:** محروم کرنا، قبضہ نہ ہونا۔
 — **دخلی:** مؤنث؛ قبضہ نہ رہنا، بے تعلق ہونا۔
 — **درد:** بے رحم، ظالم، سنگ دل۔
 — **درد قسانی (قصائی):** کیا جانے پیر پرانی؛ مثل، بہت دل کو دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔
 — **دیرینچ:** بغیر فسوس کے، بے سوچے سمجھے، بلا تامل، کثرت سے۔
 — **دست و پا:** (۱) بے ہاتھ پاؤں کا، (۲) عاجز، مجبور، بے اختیار۔
 — **دل:** بے جگر، بہادر، رنجیدہ، دل گہر، ناخوش، افسردہ۔
 — **دم:** بے جان، تھکا ہوا، خستہ۔
 — **دہن:** (۱) بے مٹنے کا، بے زبان، جو بات کرنے پر قادر نہ ہو، جو بات کم بولے (۲) رجزا، معشوق۔
 — **دید / دیدہ:** بے مروت، بے لحاظ، بے حیا، کشر، سنگ دل۔
 — **دیکھے بھالے:** بے سمجھے بوجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر آزمائش کیے۔
 — **دین:** بے مذہب، بے راہ، کافر۔
- **دھڑک:** بے خوف و خطر، بے تامل، بے تماشاء، بے سوچے سمجھے۔
 — **ڈھب:** بے طور، بری طرح، بے عمل، بہت ہوشیار، چالاک، شریر، سنگ دل، خطرناک۔
 — **ڈھنگا:** بے سہما، ناشائستہ، بے سلیقہ، ناموزوں۔
 — **راہ:** گم راہ، بڑھن، بد راہ، بد اطوار، بے قاعدہ۔
 — **راہ چلنا / بے راہ قدم اٹھ جانا:** قاعدے کے خلاف کام ہونا، دستور کے خلاف عمل۔
 — **روح ہونا / بے رخی کرنا:** بے مروت ہونا، روکھا بننا، ناراض ہونا۔
 — **رنگی:** (ف)؛ مؤنث؛ وہ چیز جس میں کوئی لطف نہ ہو۔
 — **روئے لڑکا / بچہ بھی دودھ نہ نہیں پاتا:** (مثل)؛ بغیر کوشش کچھ نہیں ملتا۔
 — **ریا:** وہ شخص جس میں دکھلاؤ نہ ہو، مخلص۔
 — **زبان:** (۱) خاموش، کم بولنے والا، کم سخن، غریب، مسکین (۲) کتائی، جانور۔
 — **زر:** مفلس، نکلاش، جس کے پاس دام نہ ہوں۔
 — **زوال:** (ف)؛ جو گھٹنے والا نہ ہو، قائم، مستقل۔
 — **ساترہ:** (ف)؛ بے دھڑک، فی البدیہہ، بے تکلف، برجستہ۔
 — **سدھ:** بے ہوش، بے خبر۔
 — **سرا:** بے سردار، آوارہ، بے مالک، خراب۔
 — **سرا:** جس کی آواز موسیقی کے قاعدوں کے مطابق نہ ہو۔
 — **سرا پاؤں کی بات:** مہل بات، لغو بات۔
 — **سرو پیا:** بے ٹھکانے، بے بنیاد۔
 — **سروسامان:** (ف)؛ محتاج، مفلس، غریب۔
 — **سود:** رایگاں، بے فائدہ، بے نتیجہ۔
 — **شمار:** بے گنتی، بہت، افراط سے۔
 — **شہزاد:** بہت زیادہ، بے احتیاطی سے۔
 — **طرح:** بے ڈھب، مغرب کا، بڑے طریقے سے، حد سے زیادہ۔

— گانہ وار/ بے گانہ گوش: بے گانہ خواہجی کی طرح۔
— گانی کشتی پر جھینگر نہاچے: (مثل)؛ جو شخص دوسرے
کی شخصیت اور حیثیت پر فرد کرے خود کچھ نہ ہو۔

— گاہ: بے وقت۔

— لاگ: کھرا، غیر جانب دار، صاف، بغیر کسی
طرف داری کے۔

— لاگ پلیٹ: صاف صاف، بغیر کسی جانب داری کے۔
— لحاظ: (ف) گستاخ، بے ادب، بے شرم، بے حیا۔

— لگام: مُنزدرد، منہ بھٹ، آزاد، بے روک۔

— لگاؤ: (ا) الگ، جدا، محفوظ (۲) بغیر طرف داری کے۔

— لوٹ: خالص، بے ملاوٹ، اٹھنا۔

— لیے دیئے: بغیر خرچ کیے، بغیر کچھ دیئے۔

— مارکی ٹوبہ: کسی کا بغیر مار پیٹ کے داویلا چمانا، بلاوجہ
رونا دھونا۔

— مایہ: مغفل، بے زر، بے حقیقت۔

— مٹایا: بے دھڑک، بے خوف، بے تکلف، بے حجاب۔

— محل: بے ڈھب، بے وقت، بے جا۔

— مُروّت: تو ناچشم، وہ شخص جس کو کسی کا پاس لحاظ نہ ہو۔

— مزہ: (ا) بے لطف، خراب، بدذائقہ (۲) ناساز، علیل (۳)

— رنجیدہ، ناخوش، کبیرہ خاطر۔

— مہقرّف: محقق، جو چیز کسی کام کی نہ ہو۔

— معنی/معنا: مہل، پلوچ، بے فائدہ، بے اصل۔

— معز: (ف) (ا) کھوکھلا، خالی (۲) پوچر۔

— نام: (ف) گم نام، بھول اسم۔

— نام و نشان: (ف) بے ٹھکانا، گم نام شخص جس کا کوئی پتا
نہ ہو۔

— مقدر: (ف)؛ بے وقعت، بے وقار، بے قدر۔

— موت مارنا: قبل از وقت مار ڈالنا، تباہ کرنا، صدمہ دینا۔

— موسم: بے رُت، بے وقت۔

— موقع: بے محل، نازیبا، بے وقت، نامناسب۔

— مُہار: آزاد، بے روک۔

— غرض: بے طبع، بے پروا، جس کی کوئی حاجت و اہمیت نہ ہو۔

— غل و غش/ بے غل و غش: بے تکلف، آناپ، شناپ،

اندھا دھند، بے پروائی سے۔

— غیرتی پر کمر باندھنا: بے شرم ہو جانا، بے حیائی پر آمادہ
ہو جانا۔

— غیرتی کا ٹھیکرا آنکھوں پر رکھنا/ بے غیرتی کا جام پہننا؛
بے عبرت بن جانا۔

— فصل: (ا) بے وقت، بے رُت، موسم کے خلاف (۲)

بغیر فصل کے، مسلسل۔

— فصل کی بہار: وہ بہار جو موسم کے خلاف بے وقت ہو۔

— فکرا: جسے کوئی نھونہ ہو، بے پروا۔

— کار: (ا) بے روزگار، بے مشغلہ (۲) بے قدر، ناچیز،

ناقص، بے نتیجہ۔

— کراں: بے حد، بے انتہا۔

— کس: (ا) تنہا، بے یار و مددگار (۲) محتاج، غریب، عاجز۔

— کل: بے چین، بے آرام، بے قرار۔

— کم و کاست: (ف) پورا، ٹھیک، کامل۔

— کیف و کم: ٹھیک، ٹھیک۔

— کینٹے: بد قطع، بھونڈا۔

— گانگی: بے تعلق، غیریت۔

— گانہ: (دیگانہ)؛ (ا) پرایا، غیر، دوسرے کا (۲) پردہ سی۔

(۳) سبزہ بیگانہ، سبزہ خود روکے لیے۔

— گانہ خوا: (ف)؛ غیر مانوس، جس کی سرشت میں میل ملاپ
کی عادت نہ ہو۔

— فیض: جس سے کوئی فیض نہ پہنچے، کنوس، بھینل۔

— قرار: بے گل، پریشان، بے چین، مضطرب۔

— قلعی: بد قلعی، برتن یا مکان جس پر قلعی نہ ہوئی ہو۔

— قیاس: (ف)؛ (ا) بے شمار، بے حساب، بے انتہا۔

(۲) خیال سے باہر۔

— بے گانگی: (ف) موٹھ؛ (ا) پرایا، بے غیریت (۲) اچھانا پنا

اجنبیت۔

— ہووڑہ پھرنا : آوارہ پھرنا، مارا مارا پھرنا۔
 — ہووڑہ گو : فضول کینے والا، ناشائستہ بات کرنے والا۔
 بسیا : مذکر؛ ایک چھوٹی سی چڑیا جو بہت ہوشیاری سے اپنا گونلا بناتی ہے۔

بیجا : (۱) مذکر؛ منج۔
 بیابان : (۲) مذکر؛ جگن، صحرا، دشت، ویرانہ، اوسرا، اُجاڑ۔
 — گرزڈ / نوزگُڈ : (۳) جگلوں میں پھرنے والا، جس کا کوئی شکار نہ ہو۔

بیاج : مذکر؛ سُود، مٹاخ۔
 — بٹا : نفع، نقصان۔
 — بھرنا : سُود ادا کرنا۔
 بیار : (۱) موت؛ ہوا۔

بیاض : (۲) موت؛ (۳) سفیدی (۴) وہ سادہ کتاب جس میں مختلف چیزیں، اشعار، نسخے، یادداشتیں لکھی جاتی ہیں۔
 نوٹ بک، (۵) رسل کی سولہ شکلوں میں سے ایک شکل۔

بیانک / ویاکٹا : (۱) بے چین، پریشان، گھبرا ہوا۔
 بیانکٹا / ویاکٹا : موت؛ پریشانی، بے قراری، گھبراہٹ۔
 بیان : (۲) مذکر؛ (۳) قول، مقولہ، تقریر، گفتگو (۴) اظہار، شہادت (۵) تفسیر (۶) تفصیل (۷) باب، معنیوں، فعل، مقدرہ (۸) معاملہ (۹) ذکر (۱۰) کیفیت، حالت، رپورٹ، خبر، اطلاع، (۱۱) وہ علم جس میں تشبیہ، مجاز، استعارے، کنایے وغیرہ سے معنی کوئی طریقے سے ادا کرتے ہیں (۱۲) ٹیک بات کا اظہار۔

— بدلنا : کہے ہوئے کے خلاف کہنا، اپنے پہلے بیان سے پھر جانا، اپنی بات پلٹ دینا۔

— دُخوآ : دعوے کا ثبوت، دعوے کی تفصیل۔
 — سے باہر : کیفیت کی تفصیل ظاہر کرنے کی قدرت نہ ہونا۔ حد اُتھارے بڑھی ہوئی، بھلی یا بری چیز جس کا اظہار کرنا دشوار ہو۔

— ضمنی : وہ بیان جو اصل مطلب کے ضمن میں کیا جائے۔
 — کرنا : (۱) ظاہر کرنا (۲) گفتگو کرنا، کہنا (۳) بڑا سمجھا کہنا (۴) سرگزشت دُہرانا (۵) (جو) بکین کرنا۔

بیانا : (۱) مونیٹیوں کا بچہ دینا۔

— نظیر : (۲) بے مثال، لامتناہی، بے بدل، لا جواب۔
 — نقطہ سنانا / بے نقطہ گالیاں دینا : گالیاں دینا۔
 بڑی گالیاں دینا۔

— تنگ : (۱) بے مزہ، پھیکا، بغیر شوخی کا (۲) بے رونق۔
 — تنگ و نامؤس / بے تنگ و نام : بے شرم، بے حیا، بدچلن، بدمنع، آزاد۔

— نوا : مذکر؛ (۱) جسے بے سامان (۲) مسلمانوں میں فقیروں کا ایک طبقہ جو مذہبی قیدوں سے آزاد رہتا ہے۔
 — نوانی کرنا : بے نوا فیر طے کا انداز اختیار کرنا۔

— نیاز : (۱) مستغنی، آزاد، بے پروا، جو کسی کا محتاج نہ ہو، خود سر۔

— نیل مرام : (۲) ناکام، نامراد۔
 — وارثی ناؤ ڈالو ڈالو : (۳) (۴) لاوارثی چیز کی فنکسی کو نہیں ہوتی، بغیر مالک کے سب کام خراب ہوتے ہیں۔

— واسطے : (۱) بے وسیلہ، بے ذریعہ، خواہ مخواہ، بے سبب، نامحتمل۔

— وقت کا آلاب / بے وقت کا راگ / بے وقت کی شہنائی : (۲) موسیقی میں ہر راگ کا جو ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس کے خلاف وقت کی راگنی (۳) (۴) بے موقع بات یا جھگڑا۔

— وقوف : نادان، احمق۔
 — وقوف بنانا : دھوکا دینا، کسی بات میں کم عقلی ثابت کرنا جھانسا دینا۔

— وقوف کے سوسہ کیا سینگ ہوتے ہیں : (۱) مقولہ؛ بے وقوف کی کوئی خاص شناخت نہیں ہے وہ اپنی احمقانہ حرکات سے پہچانا جاتا ہے۔

— ہنم ویا ہنم : (۲) وہ شخص جو دنیا کے جھگڑوں اور کدہ سے دُفدے اور مخلوق خدا سے میل جول بھی رکھے۔
 — ہنگام / بے ہنگم : بے ڈھل، بھونڈا، بے موقع۔

— ہووڑہ : (۱) (۲) نامحتمل، باطل (۳) لغو، خرافات، نکتا، ناشائستہ، خراب، غیر مہذب، نامعقول (۴) بے سود (۵) ناجائز (۶) بے نتیجہ (۷) آوارہ۔

- بیانیرہ، روادری غایت، تائثراتی انداز بیان۔
 سیاہ: (رہ) مذکر؛ شادی۔
- پیچھے بڈھا/برات: (مشل) موقع نکل جانے کے بعد کسی کام کی تدبیر سوچنا ہے وقت کام کرنا فنوں ہے، عید پیچھے پڑے۔
- پیچھے پتل بھاری: (مشل) بڑے خرچ کے بعد چھوٹا خرچ بھی ہماری معلوم ہوتا ہے، ناگوار گذرتا ہے۔
- رچنا: شادی کی دھوم دھام ہونا۔
- کاجوڑا: وہ کپڑے جو دولہا اور دلہن شادی کے موقع پر پہننے ہیں۔
- نہیں کیا بارائیں تو دیکھی ہیں: (مشل)؛ ایک کام خود نہیں کیا ہے تو دوسروں کو تو کہتے دیکھا ہے، کوئی کام خود نہیں کیا تو دیکھا ہوا تجربہ تو ہے۔
- بیابا: جس کا بیاہ ہو چکا ہو، شادی شدہ۔
- بیابتا: وہ عورت جو سماج کے دستور و رسوم کے مطابق بیاہ گئی ہو۔
- بیابنا/بیابہ کرنا: شادی کرنا۔
- بیابھی بیلی پڑوسن داخل: بیابھی بیلی پڑوسن پر کچھ اختیار نہیں رہتا۔ بس ایسا تعلق رہ جاتا ہے، جیسے پڑوسی سے۔
- بیابھی بیلی کارکھنا ہاتھی کا بانڈھنا ہے: (مقولہ)؛ لڑکی کا شادی کے بعد اپنے گھر رکھنا ایسا ہے جیسے ہاتھی پالنا۔
- پیوپار: مذکر؛ تھارت، سوداگری، لین دین۔
- پیوپاری: تاجر، سوداگر، جنس بیچنے والا۔
- بییت: (رہ) مذکر؛ گھر، مکان۔
- آقصی: (بییت اقصا)؛ (رہ) مذکر؛ بییت المقدس۔
- الحرام: (بییت الحرام) مذکر؛ بییت الحرام، تنظیم کا گھر اس میں لڑائی اور قتل حرام ہے، بییت اللہ خانہ کعبہ۔
- الحلا: (بییت خلا) مذکر؛ پاناخانہ، جائے مزدورت۔
- المشرف: (بییت شرف)؛ (رہ) مذکر؛ اصطلاح نجوم میں اس برج کا نام جس میں سات سیاروں میں سے کسی کا شرف ہو۔
- الحقیق: (بییت حقیق) مذکر؛ بییت عقیق، قدیم گھر۔
 مراد خانہ کعبہ۔
- اللہذ بییل لہ: (رہ) مذکر؛ خدا کا گھر، خانہ کعبہ۔
- المال: (بییل مال)؛ (رہ) مذکر؛ اسلامی خزانہ عام، شاہی خزانہ، بے دعو مال، لاوارث مال، خالصہ۔
- المقدس: (بییل مقدس) مذکر؛ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول۔
- بییت: مؤنث؛ اصطلاح شاعری میں دو طے ہونے مفرے جن کا وزن ایک اور مضمون مربوط ہو، شعر۔
- بازی/بییت کبھی: مؤنث، ایک کھیل جس میں ایک شعر کے جواب میں دوسرا شعر بعض قواعد کی پابندی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔
- بییتال/بییتال: مذکر؛ بیوت، پریت، دیو۔
- بیپتا: گذرنا، تام ہونا، ہوینا، تجربہ ہونا، کٹنا، ختم ہونا، مصیبت آنا، وارد ہونا، واقع ہونا۔
- بیپتی: مصیبت، آفت، اجزا، گزری ہوئی، سرگذشت۔
- بیٹ: BAT (انگ) مذکر؛ بلا، تھاپی۔
- بیٹ: مؤنث؛ پرندوں کا نسل، پرندوں کا گولہ۔
- بیٹا: (۱) حقیقی اولاد اچالاکار (۲) مجازاً؛ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکی دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے۔
- بنانا: گود لینا، سٹینا کرنا۔
- بن کے سب کھاتے ہیں (سب نے کھایا ہے)
- باپ بن کے نہیں کھاتے (کسی نے نہیں کھایا)؛
- دش؛ خوشامد سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے زبردستی نہیں ملتا چھوٹا بن کر مطلب مل سکتا ہے بڑا بن کر نہیں۔
- بیٹی: آل اولاد، بال بچے۔
- بیٹری: BATTERY (انگ) مؤنث، مہسوی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ برقی ذخیرہ (۳) توپ خانہ۔
- بیٹی: مؤنث؛ (۱) اپنی لڑکی، دختر (۲) مجازاً؛ پیار سے کسی لڑکی کو بھی کہتے ہیں۔
- اور لکڑی کی بیل برابر ہوتی ہے: (مقولہ)؛ دونوں

بیج: (۱) تخم (۲) اصل، بنیاد (۳) لفظ۔

— **بونا:** (۱) زمین میں کاشت کی غرض سے تخم ڈالنا، (۲) کسی بات کی بنیاد ڈالنا، موجود ہونا، باعث ہونا، سبب بننا۔

— **پڑنا:** (۱) تخم پاشی ہونا، بنیاد پڑنا (۲) اصل رہنا لفظ پڑنا

— **مارا جانا / بیج جانا:** (۱) ناپید ہونا، آگے کو کسی چیز کے پیدا ہونے کی امید نہ ہونا، (۲) نسل قطع ہوجانا۔

پچک: مؤنث؛ وہ مفصل یا دراشت جس میں مال کی قیمت تعداد شرح محصول اور دیگر اخراجات درج ہوتے ہیں، علامت پلوچی۔

بیٹھ جانا: (۱) بیٹھنا، جلوس کرنا (۲) گر جانا، منہدم ہوجانا (۳) دھس جانا (۴) چاولوں کا دانہ دانہ علاحدہ نہ رہنا، گلتی ہوجانا (۵)

کسی چیز کا کسی چیز میں ٹھیک سما جانا، درست ہونا، ٹھیک ہونا پیوست ہوجانا، دیوالا نکل جانا۔

بیٹھ رہنا: (۱) نوکری چھوڑ دینا، گھر بیٹھ رہنا، کوئی کام نہ کرنا، کام چھوڑ دینا، رنجیدہ ہو کر کام چھوڑ دینا (۲) چپ چاپ ہوجانا، ہمبر کر لینا، (۳) دیر لگانا، (۴) ہار جانا، تھک جانا۔

بیٹھک: — مؤنث؛ (۱) بیٹھنے کا انداز، نشست (۲) بیٹھنے کا کرا۔ نشست گاہ (۳) ایک قسم کی ورزش، اٹھک، بیٹھک۔

بیٹھکا: مذکر؛ کرا، نشست گاہ، ٹھہرنے کا مقام۔

بیٹھنا: (۱) نشست ہونا (۲) گرنا، منہدم ہونا (۳) پانی کا تہ میں ٹھہرنا (۴) لاگت آنا، خرچ پڑنا (۵) قائم مقام ہونا (۶) سوار ہونا، چڑھنا (۷) بے کار ہونا (۸) نشانے پر گولی یا تیسرا لگنا (۹)

پیوست ہونا، جم جانا۔

— **اٹھنا:** نشست و برخاست، بے قراری۔

بیچھڑ / بیچھڑا: مذکر؛ چھ اور جو سے ملا ہوا اناج۔

بیج: مذکر؛ درختوں کے درمیان کا فاصلہ، فرق، تفاوت، درمیان وسط، میاں، آپس میں، باہم۔

— **ادھڑ / ادھڑ میں چھوڑ دینا:** کام ناتمام چھوڑ دینا۔

— **بچا و کرنا:** رفق و رفیق کرنا، صلح کرنا، دو جھگڑنے والوں میں صلح صفائی کرنا، تصفیہ کرنا، جھگڑے کا فیصلہ کرنا۔

— **چورا ہے میں / پیر:** کھلے بازار میں، منظر عام پر۔

بہت تیزی سے بڑھتی ہیں۔

— **دینا:** بیٹی کی، کسی کے ساتھ شادی کرنا۔

— **ذات ہے:** (مقولہ)؛ عورت ہے باجیا ہے، شرم والی ہے مجبور اور نازک ہے۔

— **لینا:** کسی کی لڑکی سے شادی کرنا۔

— **والے:** بیٹی کے ماں باپ، عزیز، اقارب۔

— **بیٹے والے:** لڑکے کے ماں باپ، عزیز، اقارب۔

بیٹھا: بیٹھا ہوا۔

— **بنیا کیا کرے:** اس کو مٹی کے دھان اس کو مٹی میں دھرے؛ (دش)؛ بے کار آدمی فنون بے ضرورت۔

اور بے نتیجہ کام کرتے ہیں۔

— **رہنا:** آسے پر رہنا، صبر کرنا، ٹھہرنا۔

— **کا بیٹھا رہ جانا:** (۱) فوراً جانا، (۲) سکتے میں آ جانا۔

شائے میں آ جانا، حیران رہ جانا۔

بیٹھے اٹھتے: ہر وقت، ہر دم، ہر لفظ، ہر حال میں۔

بیٹھنے کا سہارا: امن کی جگہ۔

بیٹھن: مذکر؛ (۱) وہ کپڑا جس میں قیمتی کپڑے لپیٹ کر رکھتے ہیں (۲) وہ کپڑا جو دھوبی استری کرنے کے لیے میز پر بچاتے ہیں (۳) وہ موٹا کاغذ جو کاغذ کے ریم کے چاروں طرف لپیٹتے ہیں۔

(۴) حجاز؛ نمونہ، بانگی۔

بیٹھی ہوئی آواز: وہ آواز جو دشواری سے نکلے، دیمی آواز۔

گلا پڑ جانے سے جو ہلکی آواز نکلے۔

بیٹھے بٹھائے / بیٹھے بٹھلائے: خواہ مخواہ، یکایک، ناگہانی اجانک، ناحق، ناروا، بے وجہ، بے سبب۔

بیٹھے بیٹھے: اجانک، یکایک، ناگہان، خواہ مخواہ، دفعتاً، فوراً۔

— **سوںکھ جانا:** بے حد انتقاد کرنا، انتقاد کرتے کرتے تھک جانا۔

بیٹھے سے بیگاڑ بھلی: بے کار رہنے سے بے اجرت یا کم اجرت کام بہتر ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔

بیٹھے رہو: چُپ رہو، تمہارا اس سے تعلق نہیں۔

— کی بات : باہمی گفتگو، اپنے درمیان کا معاملہ۔

— کھیت : ڈنکے کی چوٹ، علی الاعلان۔

— میں آپڑنا : حکم ہونا، پہنچ جانا۔

— میں بول اٹھنا/بولنا : دخل دینا، دخل و معقولات کرنا۔

— میں پڑنا : ثالث ہونا، عناصر ہونا، وسیلہ بنا، صلح کرانا، دخل دینا۔

— میں ڈالنا : (۱) پہنچ جانا، حکم بنانا، ثالث کرنا، (۲) وسیلہ کرنا، ذریعہ بنانا۔

— میں سان لینا : بے وجہ کسی کو جھگڑے میں شریک بنالینا، ملوث کرنا۔

— میں قدم ہونا : واسطہ ہونا، حایل ہونا۔

— میں کو دیر پڑنا : پرانی بات میں تاحق دخل دینا، خواہ مخواہ کسی معاملے میں گھس پڑنا۔

— والا/والے : وہ درمیانی شخص یا لوگ جن کے ذریعے کوئی معاملہ ٹھہرے۔

— پیچوں پیچ : ٹھیک پیچ میں، بالکل وسط میں، نہ اُدھر نہ اُدھر۔

— پیچلر : RACTIFLOR (انگ) مذکر، کنوارا، غیر شادی شدہ، ناکتھا۔

— بیچنا : فروخت کرنا۔

— کھوجنا : (کھوجنا تاج جس) کاروبار کرنا، فروخت کرنا۔

— بیچ کھانا : منافع کر ڈالنا، خرچ کر ڈالنا۔

— بیچ : مؤنث، جڑ، اصل، نیو، بنیاد۔

— بنیاد/بیچ و بن : مؤنث، جڑ، اصل نسل، حسب نسب خاندان کا سلسلہ۔

— کٹی : جڑ سے اکھاڑ دینا، استعمال کرنا، تباہ برباد کر دینا، خاکہ کر دینا۔

— بید/وید : مذکر، طب، ویدک کا حکیم، طبیب۔

— کرے بیدائی، چنگا کرے خدائی : (مقولہ)؛ ہر کام کی تدبیر فروری ہے کامیابی خدا کے ہاتھ ہے۔

— بید/وید : ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب جس کے چار حصے ہیں پہلے دفتر کا نام وید، دوسرے کا سام وید، تیسرے کا

— بجر وید : چوتھے کا اٹھو وید ہے۔

— بید/بریت : مذکر، ایک درخت، حسن کی شاخیں لچک دار ہوتی ہیں۔

— کھانا : بیدک مار کھانا۔

— مجنوں : (ف) مذکر، ایک قسم کا درخت جس کی شاخیں نہایت جھکی ہوئی رہتی ہیں (مجنوں سے تشبیہ اس کی خمیدگی اور حالت انفرادی کے باعث دی گئی ہے)۔

— مُشک : (ف) مذکر، ایک قسم کا خوشبودار درخت جس کے پھولوں کا عرق کھینچا جاتا ہے۔

— بیدار : مؤنث، ظلم و ستم، جور و جفا، جبر۔

— گر : ظالم، جفا کرنے والا۔

— بیدار : (ف)؛ جاگنے والا، ہوشیار۔

— بخت : خوش نصیب، با اقبال۔

— دل : (کتابتاً)؛ عاقل، ہوشیار، زندہ دل، روشن ضمیر۔

— مغز : (ف)؛ عالی دماغ، ہوشیار۔

— بیداری : (ف)؛ مؤنث، ہوشیاری، جاگنے کی حالت، شعور، آگاہی

— بیدارنت/ویدانت : مذکر، ہندو مذہب کا علم، فلسفہ تصوف، ویدوں کا علم۔

— بیدارنتی : ویدانت جاننے والا۔

— بیدک/ویدک : مؤنث، علم طب، علاج معالجہ۔

— بیدھنا/بیدھنا/بیدھنا : (۱) قابو میں لانے کے لیے جادو کرنا (۲) موتی میں سوراخ کرنا۔

— بیدمنٹن : BADMINTON (انگ)؛ مذکر، ایک کھیل جو ٹینس کی طرح کھیلا جاتا ہے۔

— بیر : مذکر؛ (۱) دشمن، عداوت (۲) ضد، مخالفت۔

— بانڈھنا : عداوت پر تل جانا، مخالفت پر اڑنا، ضد بانڈھنا۔

— پڑنا : عداوت ہو جانا، دشمنی ہونا یا کرنا۔

— لینا/نکالنا : دشمن سے بدل لینا، انتقام لینا۔

— بیرن : مؤنث؛ دشمن عدوت، سوکن۔

— بیرنی : مذکر؛ دشمن، بدخواہ۔

— بیر : مذکر؛ ایک پھل کا نام۔

— بیر : (۵) مذکر؛ سورما، دلیر، بہادر، دہر۔

سپاہ وغیرہ۔
 — پیار لگانا / کرنا : کشتی کما رے لگانا، جہاز سلامتی سے پار اتارنا۔ مشکل آسان کرنا، مصیبت سے نجات دلانا، آڑ سے وقت کام آنا، مراد برلانا۔
 — ڈوبنا / غرق ہونا : کشتیاں ڈوبنا، کام بچنا، تباہ ہونا بیڑے کی خیر : بیڑے کی سلامتی کی دعا۔
 بھڑا : مذکر؛ (۱) بنانا یا پان، گھوری (۲) وہ قسم جو تلوار کے قبضے میں لگاتے ہیں تاکہ خلاف یا میان سے تلوار خود نہ نکل پڑے۔
 — اٹھانا : (۱) کسی شکل کام کے انجام دینے کا ذریعہ لینا (۲) حمت کرنا۔ تہیز کرنا۔
 — چجانا : (۱) پان چجانا (۲) نسبت یا متعلق کرنا، نسبت بچی کرنا۔
 — چھٹنا : شادی کی ایک رسم۔
 — گھلانا : پان گھلانا، متعلق کی ایک رسم۔
 بیڑی : مؤنث؛ ایک جنگلی درخت کے پتے میں تبا کو بھر کر سرگرت کی طرح بناتے ہیں اور اُسے بیٹے ہیں۔
 بیڑی : مؤنث؛ (۱) پان کی گھوری (۲) رپوں کی جھٹی۔
 بیڑی : مؤنث؛ (۱) وہ کڑی یا زنجیر جو مجرم یا ہاتھی کے پاؤں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ سجاگ نہ سکے، (۲) رجانا، نکاح اور شادی (۳) وہ فعل یا ٹوکری جس سے کھیتوں میں پانی پہنچاتے ہیں۔
 (۴) منت کا نیلا ڈورا یا چاندی سونے کا حلقہ، جو بچوں کے پاؤں میں ڈالا جاتا ہے (جھارٹا) : روک ٹوک۔
 — پڑنا : (۱) کڑ پڑنا، زنجیر پڑنا (۲) پابند ہونا، قید ہونا (۳) (کناٹیا)، نکاح شادی ہونا (۴) بال بچوں میں پھنسا۔
 — پھنٹنا : (۱) قید کرنا (۲) منت کے نیلے ڈورے یا چاندی کے کڑے بچوں کے پاؤں میں ڈالنا۔
 — ڈالنا : مجرم کے پاؤں میں کڑا ڈالنا۔
 — کاٹنا : کڑا کاٹ ڈالنا، آزاد کرنا، مصیبت سے نجات دلانا۔
 — لگانا : (۱) کھیتی میں پانی دینا، آب پاشی کرنا (۲) بیڑی پاؤں میں ڈالنا۔

BEER (ہلک)؛ مؤنث؛ جو کی شراب۔
 بیڑاگ : مذکر؛ دنیاوی لذتوں کا ترک، نفس کشی، غلوت نشینی۔ خواہش نفسانی کو مارنا، جوگ، (دغیرسی)۔
 بیڑاگن : مؤنث؛ وہ فقیر عورت جو تارک دنیا ہو۔
 بیڑاگی : مذکر؛ فقیر مرد جو تارک دنیا ہو، (۲) سادھوؤں کی وہ میٹھی پانکی لکڑی جس پر پیراگی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔
 پیر بہوئی / بہوٹی : (۱) ایک سرخ رنگ کا کڑ جو برسات میں پیدا ہوتا ہے، (۲) (تشبیہ کی غرض سے) نہایت سرخ۔
 بیڑر / بیڑا : BEARER (ہلک)؛ مذکر؛ (۱) گھریا ہونل کا ملازم، بیڑا (۲) خدمت گار (۳) لوکر۔
 بیڑر سٹوڈ : BARRISTER (ہلک)؛ مذکر؛ وہ وکیل جس نے وکالت کی ڈگری ولایت سے حاصل کی ہو۔
 بیڑر ق : (ر)؛ مؤنث؛ جھنڈا، علم، جھنڈیاں، نشانی۔
 بیڑر ن : مذکر؛ جہانی۔
 بیڑر ٹنگ : BEARING : بغیر ٹنگ کا خط جس کا اصول مکتوب الیہ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔
 — آنا : خالی آنا، بے نیل و مرام آنا، بغیر مقدمہ حاصل ہونے آنا۔
 بیڑر وزہ : (۱) ایک قسم کا مادہ جو چھڑکی لکڑی سے نکلتا ہے اس کو گندہ بیڑر وہ بھی کہتے ہیں (۲) صفت بغیر روزہ رکھے۔
 بیڑر و مپٹر : BAROMETER (ہلک)؛ مذکر؛ (۱) باد پیمانہ (۲) ہوا کا دباؤ ناپنے کا آلہ۔
 بیڑر و ن : (ف)؛ باہر، علاوہ۔
 — جات : شہر کے آس پاس کی بستیاں، دیہات، مغللات۔
 بیڑر ی : ایک کانٹوں والا درخت جس کا پھل پیر کہلاتا ہے۔
 بیڑر : مؤنث؛ (۱) مینڈ، احاطہ (۲) وہ درخت جن پر قلبیں لگاتے ہیں۔
 — بٹندی کرنا : کھیت کی مینڈ بنانا۔
 بیڑر : مذکر؛ ناؤ، کشتی، دنیا پار کرنے کے مختلف ذریعے، پانس کا ٹھانڈا۔ چڑے کی مشک وغیرہ (۲) احاطہ، امن، آسپن، (۳) قبیلہ (۴) جہاز، کشتیوں کا مجموعہ (۵) فوج، رسالہ،

بیتضہ: مذکر؛ اندازہ، فوط، خنصر۔

بیتظار: (رع)، مذکر؛ جانور کی کاڈاگرہ چارپائیوں کا علاج کرنے والا۔

بیتخ: (رع)، (۱) خریدنا (۲) بیچنا۔

تامر: مذکر؛ بیچنے کی دستاویز، تحریر۔

ومشرا: مؤنث؛ خرید و فروخت۔

بیمانہ/بیمانا: خرید و فروخت کی بات سنی کرنے کے لیے کچھ رقم پیش کر دینا، سانی۔

بیتخت: (رع، مؤنث؛ (۱) فرماں برداری کا عہد و پیمانہ (۲) مرید ہونا

بیرکا: بیڑھا، زخمی۔

بیک گراؤنڈ: BACK GROUND رائگ، مذکر؛

پس منظر۔

بیتلنتہ: مذکر؛ بہشت۔

باشی: جنت آشیان، جنت مکاں، آں جہانی۔

ببگ: (رائگ، مؤنث؛ (۱) تھیلا، کیسہ، بگس۔

ببگ: (ٹوکی)؛ امیر، سردار، مظلوم کا خطاب، مرزا۔

ببگار: مؤنث؛ بغیر اجرت کام لینا، کسی کام کے لیے زبردستی پکڑنا۔

وہ کام جو کسی سے بغیر زوری دیے لیا جائے۔

ٹالنا: بے توجہی سے کوئی کام کرنا، دفع الوقتی کرنا۔

ببگائی: مؤنث؛ غیریت، اپنا نہ سمجھنا۔

ببگانہ: (رف)؛ غیر، اجنبی، پرلایا۔

ببگم: (ٹکی)؛ مؤنث؛ ملکہ، خاتون، امیرزادی، امیر کی بیوی۔

ببگی: (۱) ایک قسم کے عمدہ چاول (۲) خاص قسم کا سفید عمدہ

چلن (۳) ایک قسم کا پتیر۔

ببگن/ببگن: ایک مشہور ترکاری، بادنجان، سبانا۔

ببگنا: زمین کا ایک ٹکڑا جو بیس بسوے کا ہوتا ہے، ایک سو

بیس مربع فٹ زمین۔

ببیل: مذکر؛ گائے کا نرہ (دھاڑا)؛ احمق، گنوار۔

نکوڈا کوڈی گولن، یہ تاشا دیکھے کون: (مثل)؛ جیسے

ہونا چاہیے، وہ نولے دوسرا دخل در معقولات کرے جیسے

شکایت ہو وہ تو نہ بولے جس سے شکایت ہو وہ اٹلے شکایت

کرے۔

ببیز آرد: (رف) ناراض، ناخوش، خفا، ملول، نفرت کرنے والا۔

ببیس: (۱) عدد ۲۰ (دس کا ڈگن)؛ (۲) بہتر، زیادہ۔

بسوسے؛ (۱) پورا (۲) غالباً، یقیناً (۳) تمام کا، تمام زمین

تمام فصل۔

ببند یوں کا مزہ چکھنا: (جھاڑا)؛ بہت جگہ نوکری کرنا۔

ببیسوں/ببیسوں: بہت سے بے شمار، اچھا، بہتر، زیادہ۔

ببیساکھ: مذکر؛ ہندی کا دوسرا ہینہ جو اپریل مئی کے مہینوں میں ہوتا

ہے۔

ببیساکھی: (۱) بیساکھ کے ہینے کی فصل (۲) ستونی، آڑ (۳) وہ لاطنی

جسے ٹکڑے لے لے بغل میں لگا کر چلنے میں سہارا لیتے ہیں (۴)؛

ہندوؤں اور سکھوں کا ایک تیوہار جو بیساکھ کی پہلی تاریخ کو منایا

جاتا ہے، (۵) (بقاوں کی اصطلاح)؛ بے وقوف،

احمق۔

ببیسٹوان: (رف)؛ مذکر؛ ایران کا وہ مشہور پہاڑ جہاں سے فریاد

شیریں کے محل تک نہر لانے میں لگاریا اور جان بھی دے دی۔

ببیسن: مذکر؛ چنے کا آما۔

ببیسنی روٹی؛ مؤنث؛ چنے کے آنے کی روٹی۔

ببیسوا: مؤنث؛ کسی، رنڈی، بدھن عورت، شرار عورت۔

ببیش: (رف)؛ زیادہ۔

ازبیش: (رف)؛ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ۔

باد: (رف)؛ زیادتی ہو، برکت ہو۔

ببہا/قبہت: (رف)؛ قیمتی، نفیس، بہت قیمت والا۔

تزد: (رف)؛ اکثر، بارہا۔

وگم: (رف)؛ تھوڑا بہت۔

ببیشی: (رف)؛ زیادتی، معمول سے زیادہ، نفع، بالائی سؤد۔

ببیشہ: (رف)؛ مذکر؛ جھل، میا بان۔

ببیشن: (رع)؛ دستخط، نشان، یا علامت، جو حکام فرماؤں پر

کر دیتے ہیں۔

ببیشنا: (رع)؛ روشن، سفید۔

ببیشنومی: (رع)؛ انڈے کی شکل کا، وہ دائرہ جو انڈے کی شکل

کا ہو۔

بیل: BELL (انگ) موٹھ، گھنٹی۔

بیل: موٹھ؛ (۱) وہ پودا جس کی شاخیں زمین پر درخت، دیوار یا کسی سہارے سے درتک پھیل جاتی ہیں (۲) وہ گل بونے، اور بیلیں جو کپڑوں پر کاڑھی جاتی ہیں، یا کاغذ پتھر پر بستائی جاتی ہیں (۳) ایک درخت کے پھل کا نام (۴) (جھاڑ)؛ نسل، آل عیال (۵) لوہے کا اوزار جس سے زمین کھودتے ہیں پھاوڑا کدال۔

— بڑھنا: (کناٹا)؛ بال بچے زیادہ ہونا، کنبہ بڑھنا، ترقی ہونا۔

— لوٹا: مذکر؛ نقش و نگار، پھولوں درختوں کی تصویریں۔

— پڑنا: (روح)؛ ارباب نشاط کو انعام ملنا، پھاوڑا کا روپیہ مہراسنوں یا ڈومنیوں کو دیا جانا۔

— چم: پھاوڑے کی قسم کا اوزار، چھوٹا پھاوڑا۔

— دار: (ف)؛ مذکر؛ (۱) پھاوڑا چلانے والا، جو زمین کھودنے کی مزدوری کرے، (۲) وہ شخص جس میں لیس لگی ہو۔

— منڈھے چڑھنا: شادی کا وقت آنا (۲) (کناٹا)؛ کسی کام کا وقت آنا۔

بیللا: مذکر؛ (۱) وہ جھگ جو دریا کے کنارے ہو (۲) ایک قسم کا خوشبودار پھول۔ اور اس کا درخت (۳) ایک قسم کا باجوسانگی سے مشابہ ہوتا ہے (۴) وہ نقدی جو خوشی کے موقع پر بڑھو تیرا تقسیم کی جاتے (۵) نازمورہ کار، خام کار، ڈھیلا مزدور (۶) (۵)؛ عرصہ، وقت، موسم۔

بیلٹ: BELT (انگ)؛ مذکر؛ کمر کا پٹا۔

بیلٹن: مذکر؛ (۱) کلڑی کی گول تلی ہوئی چیز جس سے روٹی پوری وغیرہ پھلتے ہیں (۲) لوہے یا پتھر کے بڑے بڑے رولر جو ٹرک پر پتھر روڑا دہانے، زمین ہموار کرنے کے کام میں لاتے ہیں۔

بیلٹنا: مذکر؛ (۱) بڑا میلن (۲) گتے سے رس نکالنے کا کوہو (۳) روٹی سے بنولے نکالنے کا آلہ (۴) روٹی یا پوری کو میلن سے بڑھانا۔

بیلنس: BALANCE (انگ)؛ (۱) موازنات، (۲) بچت، (۳) ترازو، کاٹنا، توازن۔

بیلون: BALOON (انگ)؛ مذکر؛ غبارہ۔

بیللی: ٹنگ بان، حافظہ۔

بیم: (ف)؛ مذکر؛ ڈر، خوف، اندیشہ۔

بیمار: (ف)؛ (۱) روگی، نستہ، علیل (۲) (کناٹا)؛ عاشق۔

— پرمسی: موٹھ؛ بیمار کا حال پوچھنا، عیادت۔

بیماری: موٹھ؛ (۱) دکھ، عارضہ، مرض (۲) عادت، لت۔

— سے اٹھنا: موٹھ؛ بیماری سے صحت پانا، اچھا ہونا۔

بیمہ: (ف)؛ ٹھیکا، ضمانت، جان یا مال کی حفاظت کی ضمانت۔

بیلن: مذکر؛ (۱) فوہ (۲) مردے کی خوبیاں بیان کر کے رفتار لانا۔

بیلن: (ع)؛ بیچ، درمیان، فاصلہ، فرق۔

— السطور: رئیس سطور، مذکر؛ (۱) وہ فاصلہ جو سطروں کے درمیان ہوتا ہے (۲) (کناٹا)؛ وہ بات جو بات چیت میں گل

کر نہ کہی جائے محض منہا مقصود ہو۔

— بیلن: بیچ کا، متوسط، درمیانی، ملا جلا۔

بیلن: (ع)؛ مذکر؛ کھلا ہوا، ظاہر، آشکارا۔

بیلن: ستار یا طنبورہ کی وضع کا ایک باج جس کے دونوں طرف تونے ہوتے ہیں۔

بیلنا: (۱) دیکھنے والا (۲) دانا، عقل مند، ہوشیار، صاحب بعیرت۔

بیلنائی: موٹھ؛ (۱) آنسو کی روشنی (۲) دانائی، عقلمندی۔

بیلنات: (ع)؛ جمع بیلنکی؛ (۱) روشن کرنے والی، پتے گواہ روشن

دلیلیں (۲) ایک قسم کا ابجد کا حساب۔

بیلن الفوائی: (ع)؛ صفت؛ (بے نی)؛ فوائی؛ عالی سطح کا۔

بیلن کے درمیان، (انگ)؛ انٹرویشن۔

بیلنجی / بیلنگنی: اڈا، سیاہ مایل، ہوسرئی۔

بیلنج / بیج: BENCH (انگ)؛ دیکھو بیج۔

بیلن الریاستی: (ع)؛ (بے تر ریاستی)، ریاستی سطح کا، ریاستوں کے درمیان۔

بیلدھنا: (۱) موتی میں سوراخ کرنا (۲) چھید کرنا، سوراخ کرنا (۳) (جھاڑ)؛ طعنے دینا۔

بیلدھی: (۵) موٹھ؛ ٹھکی۔ بندی۔

بیسر: BEER (انگ)؛ موٹھ؛ ایک قسم کی ہلکی جو سے

بنائی ہوئی شراب۔

معاملہ، واسطہ، تعلق (۳) قاعدہ، دستورہ طریقہ خط کتابت
(۴) پیغام، نسبت کا تعلق۔

بیوی: مؤنث؛ زوجہ، جود، گھروالی۔

— کا غلام: زن مرید، بیوی کا تالیج دار۔

پہنہ: کان یا ناک کا سوراخ۔

پہرہ، ڈکر: (۱) اونچی نیچی زمین (۲) جنگل، چراگاہ۔

بھ۔ ا

بھابی/بھابھی: مؤنث؛ بڑے بھائی کی بیوی، بھابھی۔

بھاپ: مؤنث؛ گرم بخیرے۔ جو کھولتے ہوئے پانی سے نکلیں

(۲) سردی کے موسم میں منہ سے جودھواں سا بخیر نکلتا ہے

اُسے بھی کہتے ہیں۔

بھانیا/بھانینا: (۱) تال لینا، دلی مطلب سمجھ لینا، سمجھنا کا اندازہ

لگانا، (۲) جان لینا، پہچان لینا۔

بھات/بھتو: ڈکر؛ خشکا، پچھے ہوئے چاول (۲) ایک رسم

جو شادیوں میں ادا ہوتی ہے۔

بھاٹ: (۱) ایک جماعت جس کے لوگ اکثر تقریبوں میں امیر

انرا کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور انعام حاصل کرتے ہیں (۲)

(جھاڑ) خوشامدی۔

(۳) ڈکر؛ ایک قوم کا نام جو اکثر نسب نامے یاد رکھتی ہے۔

بھانا: دم، بیگن۔

بھادوں: ڈکر؛ ہندی چٹھے مہینے کا نام۔

— کی بھرنج: بھادوں کے مہینے کی بارش، جس سے تالاب

کمیت بھر جاتے ہیں۔

— کے ڈونگرٹے: بھادوں کے مہینے کی تھوڑی تھوڑی

بارش جو برس برس کر نکل جاتی ہے۔

بھار: ڈکر؛ دم، بوجھ، بار۔

بھارت: ڈکر؛ ہندستان۔

بھاری: (۱) دہنی بوجھ (۲) قابل ترجیح (۳) ثقیل، دیرینہ، موٹا،

جسم، منیم، بہت، زیادہ، قیمتی۔

— آواز: موٹی آواز جو پیدائش بھدی ہو، بڑی ہوتی

بیوروکریسی: BUREAUCRACY (ڈانگ)؛ مؤنث؛

دفتر شاہی۔ مزورت سے زیادہ مناسبت کی پابندی۔

بند: BAND (ڈانگ)؛ ڈکر؛ انگریزی باجا۔

گردہ، جھتا۔

— ماسٹر: MASTER — باجا سکانے والا، بینڈ

باجے کا افسر۔

بندھا: ڈکر؛ (۱) ٹیڑھا، ترچھا، آڈا (۲) (جھاڑ)؛ سخت شکل،

بے ڈھب (۳) دروازے کے پیچھے کی ترچی لکڑی۔

بندھی چال: بندھی چال، بڑی وضع۔

بندیش: ڈف؛ مؤنث؛ دیکھنا، دیدہ، بینائی۔

بنک: BANK (ڈکر)؛ (۱) لین دین کا ادارہ

(۲) ساہوکار

بندھ: ڈف؛ دانش مند، بینا، صاحب وقت۔

بندھتا: صفت، ڈکر؛ وہ جو بائیں ہاتھ سے کام کرے۔

مؤنث کے لیے ہیں ہتھی۔

بہنی: مؤنث؛ (۱) ناک (۲) کتاب کی جلد کا وہ حصہ جو آگے بڑھا رہتا

ہے (۳) کواڑ کے ایک پٹ کی وہ بہنی لکڑی جو کواڑ بند کرنے پر

بھری نہ رہنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔

بیویار: ڈکر؛ تجارت، لین دین۔

بیویاری: تاہر۔

بیوت: (جمع بیوت کی)؛ گھر و مکان۔

بیوگ: (۵) ڈکر؛ جدائی و فراق۔

بیوگرافی: BIOGRAPHY (ڈانگ)؛ مؤنث؛ سوانح

عمری۔ سوانح حیات، مذکورہ سرگذشت۔

بیوگنی: (۵) مؤنث؛ محبوب یا شوہر سے جدا عورت۔

بیوگی: مؤنث؛ رائیڈ ہونا، بیوہ ہوجانا۔

بیوہ: رائیڈ، جس کا شوہر مر جائے۔

بیوگنٹ: مؤنث؛ (۱) کاٹ، تراش، قطع برید (۲) حساب تیسرا

(۳) موقع، ڈھب، کفایت شعاری کا قاعدہ۔

بیوگنٹا: کپڑے کی قطع برید کرنا، ناپ لے کر کپڑا لٹانا۔

بیوہار: ڈکر؛ بھارت، لین دین، بیوپار، کام کاج (۲) ہمیشہ،

آواز۔

بھڑک: موٹا سا زہ، مزہ، عزت مرتبہ والا، ہادقار، بھلا مانس۔

پستھر: وزنی چیز، قابو سے باہر کام، سخت رکاوٹ۔

پتھر جو کم کر چھوڑ دینا: کسی کام کو کٹھن پاکر چھوڑ دینا، دشمن کام میں بڑے تو چھوڑ دینا، جو کام اپنے بس کا نہ ہو اسے غور سے اسلوبی سے ترک کر دینا۔

رات: لمبی رات، پہاڑ سی رات، کٹھن رات، فرقت کی رات۔

لگنا: دو برہ ہونا، ناگوار معلوم ہونا، بار خاطر ہونا۔

منزل: دودھ داز سفر یا جگہ، مرحلہ۔

ہونا: (۱) وزنی ہونا، (۲) سخت شکل ہونا، (۳) ناگوار ہونا۔

(۴) غالب ہونا، (۵) نامہارک ہونا، جن آسیب بلا کا اثر ہونا، گزر ہونا۔

بھاڑ: ڈکڑ، بھڑ بھوننے کا پھوننے کا جھلکا، تنور، بیٹی۔

جھوٹکنا: (۱) گھاس پھوس کو ڈاکڑ ڈال کر بھاڑ کو گرم کرنا۔ (۲) بری طرح زندگی بسر کرنا، (۳) اوقات ضائع کرنا۔

ساجھٹنا: چٹ پٹ مارا جانا، کڑت سے قتل ہونا، موت کا بازار گرم ہونا۔

سے نکالا کھینچی میں جھوٹکا: (دش)، کم مصیبت سے نکال کر زیادہ مصیبت میں ڈال دینا۔

میں پڑے: رکوتا، غارت ہو چھلے میں چلے۔

میں جھوٹکنا / ڈالنا: آگ میں ڈالنا، ضائع کرنا، پھینکنا چلنے دینا، نام نہ لینا۔

بھاڑا: ڈکڑ، کرایہ، مزدوری۔

بھاڑے کا ٹٹو: (۱) کرایے کا ٹٹو، (۲) جو ہر شے کو کام کرتا پھرے بیڑے کے لیے کام نہ کرے، گشت لگاتا پھرے۔

بھاشا: موت، زبان، بولی، ہندستان کی برائی زبان۔

بھاشن: (۵) ڈکڑ، تقریر، کلام، گفتگو، قول، کہنا، بولنا۔

بھا کا: موت، (۱) بھاشا، (۲) بھج کی بولی۔

بھاگ: ڈکڑ، قسمت، نصیب، حد، ٹکڑا۔

آنا: نصیب جاگنا، قسمت کا یا ہدی کرنا۔

بھوٹنا: نصیباً پھوٹنا، بد قسمت ہونا۔

جاگنا / بھاگ کھلنا: قسمت کھلنا، نصیباً بے دار ہونا،

مراد ملنا، عزت پانا۔

لگانا: (۱) دہندی، (۲) تقسیم کرنا، (۳) کھانا، (۴) دن پھیرنا۔ ترقی پر پہنچانا۔

بھاگنا: (۱) دھڑنا، چل دینا، (۲) فرار ہونا، روپوش ہونا، (۳) شکست کھانا، (۴) لغت کرنا، وحشت کھانا، (۵) پرہیز کرنا، الگ رہنا، دلد رہنا۔

بھاگا بھاگ / بھاگ بھاگ: موت، بھگڑ، بھاگنے کی ہل چل، دھنڈے دھنڈے، جلدی سے، تیز تیز، جھپٹ کر۔

بھاگتے بھوٹ کی لنگوٹی ہی سہی / بھاگتے کی لنگوٹی ہی سہی: (دش)، ہاتھ سے جاتی ہوئی چیز یا ڈوبتی رقم کا کوئی جزویں جاتے تو وہی قیمت ہے۔

بھاگتے راستہ نہ ملنا: جواب میں نہ ملنا، گریز کرنے کا موقع نہ ملنا، بری طرح زبغ ہو جانا۔

بھاگتے کے آگے، مارتے کے پیچھے: پستھی، وہ بد شخص جو اپنے آپ کو بہا دھکا ہر کرے اور حقیقت میں بزدل ہو۔

بھاگ جانا: فرار ہو جانا، ہمت ہارنا، مقابلے میں نہ ٹھہرنا۔ شکست کھانا۔

بھاگ کھڑا ہونا: چل دینا، فرار ہو جانا۔

بھاگ کھلنا: بیچا چراتا، بچ کھلنا، رہائی کی کوشش کرنا۔

بھاگڑ، موت، گھبراہٹ، ہل چل، بھاگنے کا اضطراب، بظلمی۔ (بھنا، پڑنا کے ساتھ)

بھاگوان: خوش قسمت، نصیب والا، والی، اقبال مند، دھنڈے سنی، شریف، بھلا مانس۔

بھاگ: برہمی کا پھل، پیکان، تیرکی ٹک۔

بھاگلا: ڈکڑ، برہما، نیزہ۔

بھاگلو: ڈکڑ، بیچہ۔

بھاگنا: اچھا لگنا، دل کو بھلا معلوم ہونا، دل میں کھلنا۔

بھاگنا / بھاگناپ لینا: ساڑ لینا، سمجھ لینا، پہچان لینا، جان لینا۔

- بھاننت: طرح، طور، رنگ، قسم، طریقہ۔
 — در بھاننت کا: طرح طرح کا، مختلف قسم کا، گونا گوں۔
 بھارج: وہ چھوٹی سی رقم جو رہنیا یا نوٹ بھاننے میں دینا پڑے۔
 بھانجا: مذکر؛ بہن کا بیٹا۔
 بھانجنا: (۱) بھننا، بل دینا (۲) فرے (چھپے ہوئے کا مذکورہ قاعدے سے تہ کرنا۔
 بھانجوال رستی: بٹی ہوئی بل دار رستی۔
 بھانجی: مؤنث؛ (۱) چٹلی، روک، دراندازی، کسی کام میں اڑنگا لگانا، رخنہ ڈالنا، (۲) بہن کی بیٹی، بھانجی۔
 خور: بھانجی مارنے والا، کسی کی بھلائی میں روک لگانے والا، بد بین۔
 مارنا: چٹلی گاڑی میں روڑا لگانا، غل ڈالنا، رخنہ ڈالنا، بگاڑ پیدا کرنا، ٹھیل ہونا۔
 بھانڈ: مذکر؛ نقال، وہ ناچنے والے جو محضوں میں ناچتے گاتے اور مسخرے پن کی نقلیں کرتے ہیں (۲) ہلکے پیٹ کا جو کسی کی بات کو ہر جگہ کہتا پھرے۔
 بھانڈے: مذکر؛ نقالوں کا پیشہ کرنے والے۔
 بھانڈا: مذکر؛ (۱) منی کارتن، ہانڈی (۲) راز، بھید (۳) ملکیت، ساز و سامان۔
 پھوٹنا/ پھوٹ جانا: بھید کھل جانا، اٹانے لانا ہونا۔
 پھوڑ: بھید ظاہر کرنے والا، چٹل خور، پیٹ کا ہلکا۔
 بھانگ/ بھنگ: مؤنث؛ نشہ آور پتیاں۔
 بھان مستی: (۱) مداری، بازی گر، شہیدہ باز، ایک قسم کا محل سفلی، (۲) وہ معاملہ جو سبھ میں نہ آنے، حیرت انگیز معاملہ۔ (۳) (۴) مؤنث؛ شہیدہ باز عورت، بازی گرنی۔
 کاسو آنگ: وہ تاشا جو بھان متی دکھاتے ہیں۔
 — نے کنبہ جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا: (۱) ڈنل واپی تہابی لوگوں کا بیچ سے میل لوگوں کو اکٹھا کر لینا، مختلف مزاج و خیال آدمیوں کے بے میل لوگوں کو اکٹھا کر لینا۔
 بھانور/ بھانوری: مؤنث؛ گردش، چکر، ارد گرد پھرنے والی کی یا یہ کی رسم جس میں دو لہا دھن آگ کے چاروں طرف
- پھیرے لگاتے ہیں۔
 بھانویں: نزدیک، اتر، خیال، توجہ، تہر۔
 بھاو: مذکر؛ (۱) حالت، کیفیت، اصل حالت، روپ (۲) ناز، انداز، اشارے (۳) قیمت، مول، نرخ (۴) بھاو، عادت۔
 — اترنا: قیمت گھٹنا، نرخ اترنا ہونا، ہستا ہونا۔
 — بتانا: (۱) ناچنے گانے میں آنکھوں اور اعضاء کے اشارے سے گیت کے مضمون کا نقشہ دکھانا، راگ کے مضمون کی تھوڑی کھینچنا (۲) نرخ بتانا، قیمت بتانا۔
 — بھنا: سوداچک جانا، قیمت طے ہو جانا۔
 — پڑ جانا: کوئی نرخ مقرر ہو جانا، نرخ تسلیم کر لیا جانا، بھلا مان لیا جانا۔
 — تاو: مذکر؛ (۱) تادناغ (مہل، مول تول)۔
 — کاشا/ نکالنا: نرخ مقرر کرنا۔
 بھاوج: مؤنث؛ بھائی کی بیوی۔
 بھاؤنا: (۱) مذکر؛ اندیشہ، خیال، فکر۔
 بھائی: مذکر؛ ایک ماں یا باپ کے بیٹے، چچا ماموں کے بیٹے۔ (مجاڑا)؛ قوم، وطن برادری کے افراد۔
 — بھند: مذکر؛ ہم قوم، ہم مذہب، ساتھی، رشتہ دار، برادری کا فرد۔
 — چارا: بچی دوستی، اچھے تعلقات، باہم بھائیوں کا سا اچھا سلوک، باہم محبت اور اخلاص۔
 بھائیں بھائیں کرنا: کسی جگہ پر ویرانہ برستا، سنان معلوم ہونا، سنا سنا چھا جانا۔
- بھ - ب**
- بھبھرا: مذکر؛ بازار میں خریداری کے لیے آدمیوں کا جھوم، کثیر جمع، شور وغل۔
 بھبکت: مؤنث؛ (۱) بہت گرم بھاپ (۲) تیز بدبو، شعلے کی بھوک (۳) سڑنے کی بھوکا۔
 — اٹھنا: (۱) بھوکنا، نہایت گرم ہو جانا (۲) (مجازاً)؛ غصے میں آ جانا۔

— کھلانا : (دو) قسم دنیا ، کوسنا۔
 بھتیجا : مذکر ؛ بھائی کا لڑکا۔
 بھتیج بھتیجی : مؤنث ؛ بھتیجے کی بیوی۔
 — داماد : مذکر ؛ بھتیجی کا خاوند۔

بھ - ط

بھٹ : مذکر ؛ (۱) وہ فاراد گہرے گڑھے جن میں وحشی جانور رہتے ہیں ، کھوہ (۲) بھٹی ، چولہا ، بھار۔

— پڑے وہ سونا جس سے لٹے کان : (مثنیٰ) ؛ بھار میں جائے ایسی قیمتی چیز بھی جس سے اذیت اور تکلیف پہنچے وہ چیز خواہ کتنی ہی خوش نما اور قیمتی ہو جس سے آزار پہنچے اس کا دلد ہو جانا بہتر ہے۔

بھٹا : مذکر ؛ (۱) بھٹی جس میں ریشم یا جوتا پکاتے ہیں (۲) چولے کی جلی ہوئی مٹی۔

بھٹا : مذکر ؛ جوار کی ہالی ، کئی کی گڑھی ، کئی کی بال۔

— ساڑا دینا : ایک مار میں سراڑا دینا ، ایک ہاتھ میں سرتن سے جدا کر دینا ، صفائی کے ساتھ ایک وار میں کسی چیز کو کاٹ دینا۔

بھٹا چاڑیا : (۱) مذکر ؛ (۲) بہت بڑا عالم (۳) توڑیا ، برہمنوں کا لقب (۴) ہنگالی برہمنوں کی ایک شاخ۔

بھٹک : (۱) گراہی (۲) آوارگی (۳) راستے سے دُوری۔

بھٹکنا : (۱) گراہ ہو جانا ، ٹھیک راستے سے ہٹ جانا (۲) تلاش کرنا ، سرگشتہ رہنا ، ڈانواں ڈول رہنا۔

بھٹک لکٹیا / کٹائی : مؤنث ؛ کانٹوں والی ایک بوٹی۔
 بھٹنا گر : ہائستوں کا ایک فرقہ۔

بھٹنی : مؤنث ؛ سرپستان ، عورتوں کی چھاتی کی گندھی۔

بھٹنی : مؤنث ؛ بھانڈوں کی سی تعریف ، مدح سرائی ، خوشامد ، بھات کا پیشہ۔

— کرنا : خوشامد کرنا ، بھونٹی تعریف کرنا۔

بھٹی : مؤنث ؛ لوہاروں دھوبیوں وغیرہ کے چولہے ، آتش دان۔
 شراب خانہ : وہ جگہ جہاں شراب کیلینے ہیں ، پڑاؤ ، بڑا چولہا۔

بھٹکا / بھٹکا : مذکر ؛ (۱) عرق کھینچنے کا آلہ (۲) تیز بدبو کا جھونکا (۳) لٹو ، لپٹ۔

بھٹکنا / بھٹکنا / بھٹکنا : (۱) خوب کھونا ، بہت گرم ہو جانا۔ (۲) بھڑکنا ، شعلہ اٹھنا ، جھلسنا ، آگ لگنا ، خزا ، غصہ ہونا۔

بھٹکی / بھٹکی : مؤنث ؛ گڑھی ، دھلی ، غصے کی شکل بنا کر ڈرانا۔
 بھبھوت : مؤنث ؛ مذکر ؛ کنڈے کی راکھ جو جوگی سنیا سی اپنے بدن پر لٹے ہیں۔

— رمانا : جوگ لینا ، سنیاس لینا ، سادھو بننا۔

بھوکا : مذکر ؛ (۱) آگ کا شعلہ ، شرارہ (۲) بہت سرخ ، نہایت روشن ، چمکنے والا ، شوخ و طرار (۳) (کنایتاً) ؛ معشوق ، (۴) (بھارڈا) غضب ناک ہنشتگیں۔

— بٹنا : غصے میں لال پیلا ہونا ، آگ بگولا ہونا۔

بھبھو کے اٹھنا : نہایت تیزخار ہو جانا ، تن بدن میں آگ لگنا ، بہت غصہ ہونا۔

بھ - پ

بھپارا : مذکر ؛ جوش کی ہوئی دوا ، جس سے بھاپ نکل رہی ہو۔
 — دینا : کسی جوش کی ہوئی چیز سے سینکنا ، بھاپ دینا۔

بھپارے دینا : دلاسا دینا ، دم جھانسا دینا ، فریب دینا۔
 — میں آنا : فریب کھا جانا ، جمل میں آ جانا۔

بھ - ت

بھتا : مذکر ؛ (۱) خوراک ، سفر خرچ ، زادہ ، تنخواہ کے علاوہ کوئی الاؤنس (۲) ابلے ہوئے چاول بھٹکا۔

بھٹنا : مذکر ؛ بھوت کی تھپڑ ، پلہ روح ، بد صورت ، کالا بھنگ ، کچھڑی میں میں لٹرا ہوا آدمی۔

بھٹنی ہو کر چھٹنا / لپٹنا : سر ہو جانا ، پھیلاؤ چھوڑنا۔
 بھٹنے کی جڈھی : راکوں کا جڈھی کئے کا ایک کیل۔

بھٹی : مؤنث ؛ وہ کھانا ، جو کوس کے ہاں صحت ہو جائے تو تین دن یا تین وقت عزیز و اقارب ان کے ہاں بھیجتے ہیں۔

— کھانا : کسی کا ماتم کرنا ، کسی کی موت کا کھانا کھانا۔

دغڑہ کی بھری بوری کے گرنے کی آواز (۲) برکری، ذلت، بے وقعتی۔

بھڈا، بہت موٹا، بد شکل، مسست، کاہل، بد وضع چیز، ایسی چیز جس کی بناوٹ میں مفاتیح سٹھرائی نہ ہو۔

بھڈاک / بھڈاکا: بھڈے گرنے کی آواز، دھماکا۔
بھڈرا: (۱) منوس ساعت (۲) ابرو کا صفایا۔

کرنا: ہندوؤں کا کریا کریم کے واسطے یا یوں ہی کسی تیرتھ پر سر، بھوس، مؤنچہ، داڑھی کا منڈ دا دینا۔

ہوتا: (۱) چار ابرو کا صفایا (۲) بالکل لٹ جانا۔

بھڈرک: مؤنٹ: (۱) مزاج، خوبی، سلیقہ، شعور، استقلال، مینوٹی، پائے داری۔

بھڈسٹیل: دھفت، گنواو۔

بھڈسیلا / بھڈسیلی: دھفت، گنواو۔

بھڈ۔ ل۔ ل۔

بھڈ: پورا، برابر

پانا: (۱) کل رقم وصول ہونا، کوڑی کوڑی وصول ہونا، حاصل ہونا، پھل پانا، جیسا کرنا ویسا پانا، اپنے کیے کا مزا

چکنا۔ بھگت لینا (۲) (طرزاً) منگی کر کے برائی پانا، مایوس ہونا۔

پور: پورا تمام، کل طوری، اچھی طرح۔

پینٹ: اچھی طرح، جی بھر کے۔

جانا: (۱) سما جانا، پڑھنا، لبریز ہونا، (۲) کمی نہ رہنا (۳) سن جانا، لٹھ جانا (۴) سیر ہونا (۵) ختم ہونا۔

دینا: (۱) پڑھ کرنا (۲) مال مال کر دینا (۳) نقصان پورا کرنا۔

تلائی کرنا، بے باق کر دینا، رفو کرنا۔

لینا: پڑھ کر لینا، پورے پورے دام لینا، کل وصول کر لینا، آؤدہ کر لینا۔

بار: مؤنٹ: کثرت، افراط، بہتات، ریل پیل۔

مستقی: مستقی بھر کے، افراط سے، کثرت سے۔

مٹھ گالی دینا / مٹھ بھر کے گالی دینا: ماف ماف گالی دینا، تام لے کر گالی دینا۔

چڑھانا: دھوبی کا بیٹے کپڑوں کو پانی میں صابن یا ریسہ لگا کر جوش دینا۔

بھٹیارا: مذکر؛ پکانے کا پیشہ کرنے والا، نان بائی، وہ شخص جو سرایے میں مکان کرایے پر چلاتا اور مسافروں کی خدمت کرتا ہے۔

بھٹیارین: مذکر؛ کینن، باورچی گری۔

بھٹیاری خانہ: مذکر؛ (۱) سر، مسافروں کو ٹھہرانے کی جگہ (۲) جگہ (۳) جگہ جہاں شور و غل ہو، کینوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

بھٹیارین / بھٹیاری: مؤنٹ: بھٹیاریے کی جگہ۔

بھج۔ ج

بھجاوٹ: وہ موٹا تختہ جسے شہتروں پر ڈاٹ لگانے اور چھت پانے کے کام میں لاتے ہیں۔

بھجن: (۵) مذکر؛ وہ گیت جس میں خدا کی حمد ہو، وہ گیت جس میں ہندوؤں کے دیوتاؤں کی مدح ہو، جپ، عبادت۔

بھجنگ: (۱) نہایت کالا (۲) کالا سانپ۔

بھجنگا: مذکر؛ (۱) ایک چھوٹا سا لے رنگ کا پرندہ (۲) نہایت سیاہ۔

بھجنگے اڑنا: (۱) لڑنا، بہت معیبت ہونا، مقلس ہونا، جھوٹی خبریں اڑانا۔

بھجیٹا: مؤنٹ: (۱) پکا ہوا ساگ، مٹی یا شلم کے پچے ہوئے پتے (۲) چاول کی ایک قسم۔

بھج۔ ج

بھجا: تنگ، دبا ہوا پست، ایسی تنگ جگہ جس میں ہوا کم آتی ہو۔

بھجک رہ جانا / بھجکنا: ہٹکا بارہ جانا، حیران رہ جانا۔

بھجنا / بھج جانا: (۱) دبا، پکنا، سمٹنا (۲) مجبور ہونا (۳) شرمانا (۴) رگنا، گٹا ہوا ہونا، دل تنگ ہونا۔

بھڈ۔ د

بھڈ: (۱) کسی نرم چیز پر گرنے کی آواز یا کسی موٹے آدمی یا اناج

جاتی رہنا۔
 — کاچھتا / بھڑوں کا چھتا: (۱) بھڑوں کا گھر (۲) فساد۔

— کے چھتے کو چھیرنا: شرمی یا فساد کو چھیرنا اور غصہ دلانا۔

— کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا: بھادری کو چھیرنا، خطرناک لوگوں سے معاملہ کرنا، بد معاشوں سے پنپنے کی کوشش کرنا۔

بھڑاس: موت، دل کا بھار، دل کا غبار، دل کا کینہ، دلی عدوت
 غصہ جو دل میں بھرا ہوا ہو۔

— نکالنا: کچھ کہہ کر یا روک روک کے رنج اور طبیعت کے غصے کو
 دُور کرنا۔

بھڑانا: (۱) دو آدمیوں اور چھاتوں کو لڑا دینا (۲) عورت اور مرد

کو بڑے کام کے لیے تیار کرنے کا کام (۳) قریب لانا، ملانا (۴)

نکرانا (۵) مقابلہ کرنا (۶) لڑا دینا، لڑائی کرنا
 دینا۔

بھڑ بھڑایا: جو شخص ضبط نہ کر سکے، اپنی ہلکا، فنول باتیں کرنے
 والا، جو منہ میں آئے بگ جانے والا۔

بھڑ بھڑنجا: مذکر، (۱) بھاڑ جھونکنے والا، بھاڑ میں اناج بھوننے
 والا (۲) بد شکل، سیاہ فام، میلہ پھیلا۔

بھڑک: موت، (۱) ہلکا دمک (۲) شدید پیاس (۳) نمود، رونق،
 جلوس و لوازم ظاہری (۴) جھمک، وحشت۔

— اٹھنا: (۱) مشتعل ہونا (۲) آگ پکھڑنا، آگ کا تیز ہونا
 روشن ہونا۔

— جانا: رنجیدہ ہو جانا، بڑا مان جانا، اکھڑانا، کسی بات کو مان
 کر اس سے ہٹ جانا۔

— دار: بھڑکیلا، پھیلنا، زرق برق۔
 بھڑکانا: (۱) بھکانا، غصہ دلانا، برا فروختہ کرنا (۲) چونکانا۔
 وحشت دلانا، ڈرانا۔

بھڑکنا: (۱) وحشت کھانا، چونکا ہونا (۲) گرم ہونا، جلنا (۳) رونق
 بڑھ جانا۔ چمک آجانا (۴) آگ کا شعلہ تیز ہونا، گرمی کا بڑھنا
 حرارت کا بڑھنا۔

بھڑنا: (۱) قریب ہونا، گھٹنا، مقابل ہونا (۲) نکرنا، کھانا نکرنا، جاننا
 (۳) دو اوزار کے پٹوں کا بند ہونا (۴) مباحثہ کرنا، کٹ گھٹی
 کرنا۔

جاتی رہنا۔

بھرمانا: (۱) بھرم میں رکھنا، دھوکے میں رکھنا، جھوٹی امید دلانا۔

بھڑن: موت؛ وہ زور شور کی بارش جو دم بھریں جل تھل بھردے

بھڑنا: (۱) قرضہ چکانا، ادا کرنا، دینا، سلوک کرنا (۲) لگائی بھائی

کرنا۔ کسی کی طرف سے کسی کا دل بگاڑنا، بھکانا، خلاف کر دینا
 (۳) آلودہ ہونا (۴) سہانا (۵) خسارہ اٹھانا (۶) تاوان دینا۔

تلائی کرنا (۷) نباہ کرنا، بد مزاج کے ساتھ عمر بسر کرنا۔

— بھڑنا: کسی کا فرخ برداشت کرنا، کفالت کرنا، مصیبت جھیلنا۔

بھڑنی: موت؛ ہانا، بنکروں کا آلہ، نال۔

بھڑوسا: مذکر؛ آسرا، سہارا، آس، امید، اعتماد۔

بھڑی: موت؛ (۱) ایک وزن (۲) ایک قسم کی گھاس۔

— برسات: عین برسات کا موسم، بارش کی شدت کا زمانہ۔

— جوانی (کڑی / نمی جوانی) ما بھٹا ڈھیلا: (مثل)؛ نوجوانی

کی کم زوری، ڈھیلا ڈھال پلین، جوان آدمی میں پست ہمتی اور
 سستی ہونا۔

— ڈاڑھی: گھنی ڈاڑھی جس میں کثرت سے بال ہوں کہیں بگڑ
 خالی نہ ہو۔

— گودی خالی ہونا: (کنایتاً) اولاد کا مر جانا۔
 — محفل میں / بھری مجلس میں: بھرے مجمع میں، بھرے جلسے

میں۔ سب کے آگے، سب کے سامنے، سب کے رو برو۔
 بھرے بیٹھے ہونا: تھکن یا غصے کی حالت میں ہونا، غضب ناک
 رہنا۔ غم گین ہونا، روپڑے کے قریب ہونا۔

بھرے بھرے: تیار، موٹے موٹے، موٹے تازے۔
 بھرے رہنا: (۱) لبریز رہنا۔ جمع رہنا (۲) کبیدہ رہنا، ناخوش
 رہنا۔

بھرے کو بھڑنا: کھاتے پیتے کے ساتھ سلوک کرنا، جس شخص کو
 حاجت نہ ہو اسے اور دینا۔

بھڑ: (آواز)؛ موت؛ (۱) کسی چیز کے پھٹنے کی، توپ بندوق کی جلجتی
 ہوئی لکڑی کے چھٹنے کی کواڑ کے پٹ، ایک دم بند کرنے کی (۲) مسوا۔

بھڑ: موت؛ ایک پردار کیرا جس کے ڈبک مارنے سے جلن ہوتی
 ہے اور دم آجاتا ہے۔

بھڑوا: وہ دلال جو غیر مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو غیر مردوں سے ملائے (۲) وہ شخص جو خواہ مخواہ کو ناپنے کے لیے لائے (۳) بطور گالی کے مستعمل ہے۔

کھ-س-و

بھس: مذکر: اناج کا چھلکا، بھوسی۔

— اڑا دینا: بہت مارنا، تباہ کرنا۔

— بھرتنا / بھردینا: (۱) کسی کو کھلی چیز میں بھس بھر دینا۔

(۲) (مجازاً): خراب کر دینا، بگاڑ دینا۔

— کے مول ملیدہ: (مثل): قیمتی چیز کھڑکیوں کے مول بہت سستا۔

— کھا جانا: بے سمجھی کی باتیں کرنا، سبکی سبکی باتیں کرتا، بے سخی باتیں کرنا۔

— ملانا: (مجازاً): خراب کر دینا۔

— میں چنگاری (چنگلی) ڈال جاؤ دوڑ (الگ) کھڑی:

(مثل): لڑائی لگا کر محسوم بن کر تاشا دیجھا، کوئی شونہ چھوڑ کر لڑائی کر دینا، اور خود چپ چاپ الگ تھلگ رہنا گویا ان کو

کوئی واسطہ ہی نہیں۔

— میں چنگاری (چنگلی) ڈالنا: آگ لگانا، کوئی شونہ چھوڑ

کرنے اور لڑائی جھگڑا کر دینا۔

— ہونا: خستہ ہونا، کوٹا ہونا۔

بھسم: کوئی چیز جو کہ جل کر خاک ہو جائے، جل جلی ہوئی چیز کی راکھ۔

— بھوت، کشتہ۔

— کر دینا: (۱) جلا کر راکھ کر دینا (۲) بالکل ہضم کر دینا۔

— ہونا: (۱) جل کر راکھ ہو جانا، فنا ہو جانا (۲) ہضم ہو جانا۔

(۳) حسد سے بے حد جلنا، غصے میں کڑھنا۔

بھسنڈ: صفت، موٹا، بھدرا، بد صورت۔

بھگ: (۱) تمباکو کے پتوں کا باریک چوڑا (۲) اڑ جانے والا مادہ۔

بارود کے اڑنے کی کیفیت اور آواز۔

— سے اڑ جانا: بارود کی آگ پھٹنے والی چیز کا دفعتاً

اڑ جانا، صاف کٹ جانا۔

بھکاری: مذکر: بھیک مانگنے والا، فقیر، گدا۔

بھکت / بھکت: (۵) مذکر: زاہد، پارسا، پرہیزگار (۲) مخلص

عقیدت مند یا عاشق الہی۔

بھکتی: مؤنث: پرستش، پوجا، خلوص، ارادت (۲) عقیدہ۔

ایمان، زہد (۳) عشق حقیقی، خدا پرستی۔

بھکرانا: سڑی بد بول دینا۔

بھکرانڈ / بھکرانڈ: مؤنث: سڑے گئے اناج کی بد بول، ناگوار

بد بول۔

بھکرانڈا / بھکرانڈا: جس چیز سے بھکرانڈ آتی ہو۔

بھکشا: (۵) مؤنث: بھیک۔

بھکشا: (۵) مذکر: بھکاری، سنیاسی۔

بھکھا: مذکر: بھیک مانگنے والا، بھکاری، بھوکا، کنکال۔

مفلس، جو مانگنے میں جیانا کرے۔

بھک مو: بھوک کا لدا، بہت بھوکا، فاؤڈکٹش۔

بھک فری: قسط، ایسا قسط کہ لوگ بغیر خدما نہ لگیں۔

بھکنا / بھک جانا: گھس جانا، کسی نوک دار چیز کا کسی دوسری

چیز میں گھس جانا، چبھ جانا۔

بھکوستا: نکلتا، کھانا (تجیرے)۔

بھکیا: (۵) مؤنث: بد شکونی کی بات، منوس بات۔

بھکا: (۱) کم عقل، سیدھا، سادہ لوح (۲) چوڑا، برادہ۔

بھگانا: (۱) دوڑانا، سرپٹ لے جانا (۲) کسی عورت کو اغوا کرنا۔

کسی کو درغلا کر لے جانا (۳) پسپا کرنا، ہرانا، دانت کھٹے کرنا

مُہنہ پھیر دینا۔

بھگالے جانا: کسی کو دم دے کر لے جانا، فریب دے کر لے جانا۔

عورت یا نابالغ بچے کو اغوا کرنا، خفیہ طور پر اڑالے جانا۔

بھگت: مذکر: (۱) مقدس، پرہیزگار آدمی، گندے توہید کرنے والا

عالم (۲) (طرزاً): بے غیرتی، گت، وضع، قطع۔

بھگتاؤ: مذکر: (۱) سزا، خمیازہ (۲) قرعے کی بے باکی۔

بھگتاؤ: (۱) ختم کرنا، انجام کو پہنچانا، تعین کرنا (۲) بے باق کرنا۔

ادار کرنا، مار ڈالنا، تعین کرنا، تقسیم کرنا۔

بھگت جانا: (۱) نجات پانا، ختم ہو جانا (۲) (مجازاً): قتل کیلئے

معاملہ صاف ہونا، حساب صاف ہونا۔

بھگت لینا: (۱) برداشت کر لینا (۲) لڑنے مرنے کو آمادہ ہوجانا،

(۳) حساب سمجھ لینا (۴) سزا پھیل لینا (بلدینے کے لیے) (۵) دیکھ لینا۔

بھگتتا: پورا، انجام کو پہنچنا، ختم ہونا (۲) جھیلنا (۳) حساب بے بات ہونا، قرضہ ادا ہونا (۴) اتاوان دینا (۵) نباہ کرنا۔

بھگڈ / بھگڈر: بھاگنے کی بل چل۔

بھگڈر: مذکر؛ بوا سیر، پاجانے کے مقام کے پاس کا پھوڑا۔

بھگوان: (۵) مذکر؛ رُسب، خدا۔

بھگو بھگو کے لگانا / بھگو کے لگانا: (۱) بھیلے جوتوں سے

ماڑا (۲) (جھاڑا) نفوس کرنا، لعنت ملامت کرنا، سخت

سخت کہنا، ذلیل کرنا۔

بھگوت گیتا: (۵) مَوْت؛ ہندوؤں کی ایک مشہور مذہبی کتاب

کا نام۔

بھگوتی: مَوْت؛ (۱) درگا دیوی (۲) جھوٹی (۳) تلوار۔

بھگور: بھگو، بھگا ہوا۔

بھگونا: ترک کرنا۔

بھلا: (۱) اچھا، خوب (۲) خوش نما، دل چسپ (۳) آسدرست، چنگا۔

بھیک (۳): (بکھر، تینہیر) (۵) نیک، پاک، دامن، شریف۔

آدمی: مذکر؛ (۱) شریف آدمی، عزت والا آدمی، نیک آدمی،

(۲) (ظنڑا)؛ خراب، نالایق، چالاک، بے ڈھب۔

چنگا: اچھا بھلا آسدرست، موٹا تازہ، صحیح سالم، اچھا خاصا

بڑا کہنا / سُنانا؛ سخت سُست کہنا، بدزبانی کرنا۔

کرنا: (۱) فائدہ پہنچانا، اچھا سلوک کرنا، مہربانی کرنا (۲)

(ظنڑا) بددعا، بڑا کرنا، سزا دینا۔

مانس: (۱) شریف آدمی، معزز آدمی، عزت والا آدمی، سادہ،

نیک مزاج، اچھا انسان (۲) (ظنڑا)؛ شرم، بدعاش،

بے وقوف۔

نہ ہونا: پورا نہ پڑنا، کسر رہ جانا، سیری نہ ہونا۔

ہو: (۱) دعا، خدا کی دے، ترقی دولت و صحت ہو (۲)

(ظنڑا)؛ بُرا ہو، خدا سزا دے، بدلا دے۔

جھلا دینا: (۱) یاد نہ رکھنا، فراموش کر دینا (۲) خاک میں ملا دینا۔

غرور مٹا دینا۔

جھلانا: (۱) یاد نہ رکھنا، بھول جانا (۲) گم راہ کرنا، دھوکا دینا۔

جھلاوا: مذکر؛ دھوکا، فریب، دغا، مغالطہ۔

جھلاواں: مذکر؛ (۱) ایک پھل جو دو آؤں میں کام آتا ہے جس کا داغ نہیں چھوٹتا، (دھوبی اس سے کپڑوں پر نشان ڈالتے

ہیں)؛ (۲) (جھاڑا) کلنگ کا ٹیکا، وہ بدنامی جو ہمیشہ رہے۔

جھلائی: مَوْت؛ یعنی، اچھائی، خوبی، بہتری، اچھا بڑا، نیک نامی۔

جھلائی رہنا: نیکی کی یادگار باقی رہنا، اچھائی اُمر ہونا۔

_____ **لینا:** ثواب کمانا، اچھا نام پیدا کرنا، دعا لینا، تعریف کے

قابل کام کرنا۔

جھل جھل / جھو جھل: مَوْت؛ جو لمبے کی گرم راکھ جس میں کچھ

چنگاریاں بھی رہ جاتی ہیں۔

جھل جھلا جانا: گرم بالوں یا راکھ میں جھن جانا۔

جھل جھلانا: گرم، بالوں یا جھو جھل میں جھننا۔

جھلسنا / جھلسنا: جھلانا، کوفت پہنچانا۔

جھلستا: جھلستا، جھلستا، جھرتا ہوجانا۔

جھلکڑ: بہت بھول جانے والا۔

جھل منسا ہت / جھل منسا ہت: مَوْت؛ (۱) شریفانہ

بڑتاو، اچھے آدمیوں کے انداز و وضع، انسانیت، آدمیت

(۲) (ظنڑا)؛ شرارت۔

بھلی: اچھی، خوب۔

_____ **چلائی / کھی:** خوب کہا، بے فائدہ ہے، بے ضرورت ہے

بے وقعت۔

_____ **ہونا:** (۱) اچھی ہونا (۲) بے مزا ہونا۔

بھیلے: جمع بھلائی؛ نیک، اچھے، خوبصورت۔

_____ **آدمی کو ایک بات، بھیلے گھوڑے کو ایک چابک:**

(مثل)؛ سمجھ دار کو فہمائش کافی، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔

_____ **ون آنا:** اقبال کا زمانہ آنا، عروج کے اچھے دن آنا۔

_____ **مانس کی سبب طرح خرابی ہے:** (مقول)؛ شریف

آدمی کو ہر حالت میں دقیق پیش آتی ہیں، سیدھے اور نیک

آدمی کو سب بُرا بھلا کہہ لیتے ہیں۔

بھٹانا: (۱) نوٹ یا روپے کا ٹکڑا، ریزنہری لینا، سکے کا ٹکڑا کرنا۔
(۲) اناج بریاں کرنا۔

بھٹانا: (۱) پریشان ہونا (۲) طیش میں آنا، جھمکنا، (۳) دلخچڑ
میں آنا، سر میں درد ہونا (۴) تنگ آنا، گھبرانا (۵) پھروں
اور مکھیوں کی آواز۔

بھن بھن: (۱) مکھیوں کے اڑنے کی آواز (۲) (۵) قسم قسم۔

بھن بھنا: مذکر؛ تاک میں بولنے — والا، تاک سے آواز
نکلنے والا۔

بھٹ: مکھیوں کی آواز۔

بھٹیٹھوڑنا: دزدے کا کٹنا، چاروں طرف سے نوچ کھانا،
جھنجھوڑنا۔

بھٹیٹھیری: موت؛ (۱) ایک قسم کی ٹیڑی (۲) (عجازاً) تیز رفتاری
والا لڑاکا۔

بھنڈار: مذکر؛ گودام، اسٹورہ ذخیرہ، ڈپو۔

بھنڈارا: مذکر؛ (۱) فقروں کی دعوت، خیرات خانہ (۲) کھوپڑی۔

بھنڈاری: بھنڈار کا رکھوالا، خالساں، باورچی، رسوئیا۔

بھنڈسار/بھنڈسال: موت؛ غلے کا گودام، کھتی۔

بھنڈی: موت؛ ایک مشہور ترکاری۔

بھنک/بھنک: موت؛ (۱) دیمی آواز، ہلکی آواز (۲) اڑتی
ہوئی خبر (۳) مکھیوں کی آواز۔

بھنا: اڑتی ہوئی خبر ملنا، کسی بات کی ذرا سی سن گن مل جانا۔

بھنکار: موت؛ مکھیوں یا پھروں کا جھگٹا، مکھیوں، پھروں کی
آواز۔

بھنکنی صورت: گھناونی شکل، بد شکل، مکروہ صورت۔

بھنکنا: مکھیوں کا کسی چیز پر بیٹنا، اڑنا، جمع ہونا۔

بھنگ: موت؛ (۱) ایک لٹہ کرنے والی پتی (۲) بربادی، تباہی
— کر دینا، بگاڑنا، توڑنا، مہار کرنا، مزاکر کر دینا، خراب کرنا

برباد کر دینا۔

بھنا: نٹے میں ہونا، بدحواس ہونا۔

بھنگا/بھینگا: مذکر؛ جس شخص کی آنکھوں میں کمی ہو، جو دیکھتے
وقت پتلیاں کوئیے کی طرف ٹیڑھی کر لیتا ہو، جسے ایک کے دو

نظر آتے ہوں۔

بھنگا: ایک بہت چھوٹا پروار کھڑا۔

بھنگرا: ایک قسم کی بدبو دار بوٹی جو دو اڑوں میں استعمال ہوتی ہے
بھنگر: بہت بھنگ پینے والا، اڑل جلاؤں۔

خانہ: (۱) بھنگ پینے کی جگہ، عام بھنگ پینے والوں کے جمع

کی جگہ (۲) (عجازاً)، ایسی جگہ جہاں شور و غل، ہڈی اور ذائقہ ہوتی۔

بھنگرا اناج: ایک قسم کا عوامی تاج، پنجاب کا مخصوص تاج۔

بھنگن: موت؛ بھنگ کی بیوی، مہترانی۔

بھنگی: مہتر، حلال خور۔

بھننا: (۱) گوشت ترکاری یا بریاں ہونا، تھنا (۲) کینہ، بغض یا غم

سے جلنا (۳) تپنا، غصہ ہونا، بھنگنا (۴) روپے نوٹ کا ٹکڑہ

ہونا۔

بھنور: مذکر؛ زور سے بہتے پانی میں جو گہرے ہوتے ہوئے دائرے

یا چکر بنتے ہیں، گرداب۔

جال: مذکر؛ دنیا، دنیا کے جھگڑے، بھگڑے۔

بھوانی: موت؛ (۱) درگا، پارٹی، شوبھی کی (سری (۲) چیمکی۔

بھو بھل/بھول: موت؛ (۱) گرم داکہ (۲) بھوڑا، بالو، ریت۔

بھوت: مذکر؛ (۱) پلید روح، غیبت (۲) (عجازاً)؛ آپسے باہر

غصہ اور شیطاں، موزی، کالا، پٹھے والا، بد صورت، ڈراؤنا۔

اُتارنا: (۱) غیبت روح کو عمل سے دفع کرنا (۲) (کنایتاً)؛

غصہ ٹھنڈا کرنا، غصہ اُتارنا۔

بھوت آنا: غیبت روح کا مسلط ہونا۔

بھوت بن کر چمٹنا: بڑی طرح پیچھے پڑنا، کسی طرح پیچھاڑ چھوڑنا

سر ہو جانا۔

بھوت بننا: (۱) نٹے میں چور ہونا (۲) کسی بات کے پیچھے پڑنا، اڑ

جانا (۳) مٹی میں آلودہ ہونا (۴) ہمد تن معروف ہو جانا (۵)

غصے میں آپسے باہر ہو جانا۔

بھوت بھی مار سے بھاگتا ہے: (ش)؛ مار سے سب ڈرتے

ہیں۔

بھوت پر ریت: غیبت روح میں۔

بھوت چرٹھنا/سوار ہونا: (۱) دیوانہ ہونا (۲) (عجازاً)؛

بھوکا : جسے بھوک لگی ہو، بغیر کھایا ہوا، فاقہ کش، کنگال۔
آرزو مند

— بنگالی : مفلس، مفلوک الحال۔

— لٹویا : مفلس، محتاج، برسے حالوں۔

— مڑنا : فاقہ کشی کرنا، تھکی سے گزراوقات کرنا، مشکل سے گزر ہونا۔

— ننگا رکھنا : تکلیف میں رکھنا، کھانے پینے کو حسب ضرورت نہ دینا
بھوکوں مڑنا : نلتے پہ نلتے کرنا، فاقہ کشی کرنا، بھوک سے عاجز آنا۔

بھوکے شریف سے، پیسٹ بھرے رذیل سے ڈرتا
چاہیے : (مقولہ)؛ ایسی حالت میں دونوں حلا کر دیتے ہیں کچھ کرنے سے نہیں چرکتے۔

بھوکنا، گھسیڑنا۔ کوئی لوگ دارچیز کسی چیز میں گھسیڑنا، بھونکنا۔

بھوک : مذکر؛ (۱) کھانا (۲) گولی (۳) حلوے کی طرح کا کھانا جسے ہندو دیوتاؤں پر چڑھاتے ہیں (۴) ایک بجن (۵) ہم بستری (۶) خوشی، سکھ چین (۷) بھگتتا، سہنا۔

— بلاس/ولاس : عیش و عشرت، رنگ رلیاں۔

— پڑنا : لعن طعن ہونا، گالیاں پڑنا۔

— دینا/سنانا : گالیاں سنانا، بڑا بھلا کہنا، لعنت ملامت کرنا، الاہنا دینا، الاہنا دینا۔

— کرنا : صحبت کرنا، ہم بستری ہونا۔

— کھانا : برا بھلا سننا۔

— لگانا : کھانا، کھانے کے لیے لگانا، دیوتاؤں کے سامنے کھانا چننا۔

بھوگنا : (۱) بھگتتا، جھیلنا، سہنا، مصیبت اٹھانا، (۲) مڑا اٹھانا، حظ اٹھانا۔

بھوگی : مذکر؛ (۱) عاشق، آدم طلب (۲) زانی (۳) بھوجن والا۔

بھوگول : (۵) مذکر؛ کڑھ الارض، دنیا، جغرافیہ۔

بھول : مؤنث؛ چوک، فراموشی، غلطی، قصور، شبہ۔

— بھٹک : مؤنث؛ بھول چوک، گم راہی۔

سنت پیش اور غم آنا، کسی طرح نہ ماننا، جن پر صفا نہایت روح مسلط ہونا۔

بھوج : (۵) مذکر؛ (۱) کھانا، دعوت (۲) ایک راجا کا نام۔

— پتھر : مذکر؛ ایک درخت کی چھال جو پرانے زمانے میں کاغذ کی طرح استعمال ہوتی تھی، اب جنر منتر لکھنے کے کام میں لاتے ہیں۔

بھوحن : کھانا، غذا۔

بھوجانی/بھوجی : مؤنث؛ بھاجی، بھالوج۔

بھوچیکا : (۱) جبران (۲) خوف سے بدحواس ہونا۔

بھوودان : (۵) مذکر؛ زمین کی بخشش یا خیرات۔

بھور : مذکر، مؤنث؛ تڑکا، صبح، خاتمہ۔

— کر دینا : خوب تڑکوب کرنا؛ بے حساب پیننا۔

— ہونا/ہو جانا : (۱) صبح ہونا (۲) بالکل ختم ہو جانا، تمام ہو جانا آخر ہونا (۳) خوب پیننا۔

بھورا : مذکر؛ ہلکا سیاہ جس میں سرخی زردی مائل ہو۔

بھوری : ایک قسم کی روٹی جو کندوں کی گرم راکھ میں پکاتے ہیں۔

بھوڑ : مؤنث؛ ربیبی زمین۔

بھوسا : مذکر؛ بھیس۔

بھوسا : ادب کا چھلکا، خشکی۔

بھوسا بتانا : (۱) انکار کرنا (۲) ختم ہونے کا اعلان کرنا۔

بھوک : مؤنث؛ کھانے کی خواہش، اشتہا، چاہ، ضرورت۔ حاجت اڑنا؛ بھوک جاتی رہنا، اشتہا ختم ہو جانا۔

— بھاگنا/بھاگ جانا : کھانے کی پروا نہ رہنا۔

— پیاس : مفلسی، تھکی، فاقہ کشی۔

— پیاس اڑا دینا : کھانے پینے کی خواہش دود کر دینا۔

— کالوڑ : بھوک کی شدت۔

— کی جھانچھ/جھلاہٹ : وہ غم جو بھوک کی شدت کی دہرے آئے۔

— مڑ جانا : بھوک جاتی رہنا۔

— ہونا : (۱) کھانے کی خواہش ہونا (۲) کسی چیز کی خریداری یا حاصل کرنے کی خواہش ہونا۔

- **بھولیاں** : موتی؛ ایک خاص قسم کی عمارت جس میں پیچیدہ راہیں ہوتی ہیں۔
- **پڑنا** : سہو ہو جانا، غلطی ہونا، یاد سے اترنا۔
- **چوٹ** : موتی؛ غلطی، خطا، قصور، سہو۔
- **چوٹ** ، **لین دین** : حساب میں کوئی غلطی ہوگئی تو بعد میں لینا دینا ہو جائے گا۔
- **ڈالنا** : جان کر غلط کر دینا۔
- **کربات نہ کرنا** : کمال بے توجہی ظاہر کرنا، بالکل بات نہ کرنا، بالکل التفات نہ کرنا۔
- بھولنا** : خیال نہ ہونا، یاد نہ رہنا، غلطی کرنا، چوٹنا، بھٹکنا، راستہ گم کرنا، دھوکا کھانا، نازاں ہونا، غافل ہونا، بے خبر رہنا۔
- **چوٹنا** : سہو ہونا، فرگداشت ہونا۔
- بھولا** : جس کی یاد نہ رہے، فراموش، گم شدہ، کھویا ہوا۔
- **بسر/چوٹا** : راہ بھولا ہوا شخص، بھولی ہوئی چیز، ایسی چیز جس کی یاد نہ آتی ہو۔
- **بھٹکا** : راستہ بھولے ہوئے، ڈالنا، ڈول، راہ گم کیے ہوئے۔
- **ہونا** : اترنا، مغرور ہونا، نازاں ہونا۔
- بھولے بھٹکے** : کبھی کبھار، گاہے گاہے، راستہ بھول کر، اتفاقاً بھولے سے بھی نام نہ لینا؛ کبھی یاد نہ کرنا، بالکل فراموش کر دینا، نام کو بھی نہ جانا۔
- بھولا** : مذکر؛ سیدھا سادہ، کم عقل، نادان، نا تجربہ کار، ناواقف۔
- **بھالا** : سیدھا سادھا، نیک مزاج، بے کپٹ، معصوم۔
- **پنج** : مذکر؛ سادگی، سادہ لوحی، نادانی، نرمی و ملائمت۔
- بھولی باتیں** : پیاری پیاری باتیں، سادہ لوحی والی باتیں۔
- بھولی صورت** : معصوم چہرہ، بے ریا صورت، وہ شکل جس سے سادگی ظاہر ہو۔
- بھومکا** : (۵) موتی؛ تمہید، دیاچہ، مقدمہ کتاب۔
- بھومی** : موتی؛ زمین۔
- بھومیا** : مذکر؛ زمین، دار، پرانا یا شدہ (۲) پرانا سانپ جس کے سر پر بال نکل آتے ہیں۔
- بھون/بھون** : مذکر؛ گھر، مکان، منزل۔
- بھون** : موتی؛ آبرو۔
- **چڑھانا/بھون** میں **بل ڈالنا** : ناپسند کرنا، رد کر دینا، بیزاری ظاہر کرنا۔
- بھون تانا/بھون** : بھونیں پیڑھی کرتا؛ عقد دکھانا، قہر و جلال کا اظہار کرنا۔
- بھون بھون روتا** : ادنیٰ آواز سے رونا۔
- **کرنا** : (۱) بھوننا، کتنے کی طرح بولنا (۲) بے ہودہ کہنا۔
- بھونو** : مذکر؛ ایک قسم کا باجا، نرسنگھا، ساثرن۔
- بھونچال** : مذکر؛ زلزلہ۔
- بھونڈو** : اناڑی، نادان، بھولا، کم عقل، کندہ، ناتراش۔
- بھونڈا/بھونڈاپن/بھونڈاپنا** : بدسیت، بد قطع، بد شکل، خراب، ناقص، بد تہذیب۔
- بھونڈا خرا** : مذکر؛ چھوٹا خرا، شتر غمزہ۔
- بھونڈی بات** : بد تیزی کی بات، بھٹی بات، خراب بات۔
- بھونڈی صورت** : موتی؛ بد شکل، بُری صورت کا (۲) ناموزوں۔
- بھون ڈالنا** : گولیوں سے اڑا دینا، بندوق توپ سے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالنا۔
- بھون کھانا/بھون بھون کھانا** : (دعو) (۱) کسی چیز کو بھون کر کھا جانا (۲) مجازاً؛ دیکھنا، بھالنا، برتنا۔
- بھون بھلس لینا** : جیسا تیس پکا لینا، غریب کو پکالینا۔
- بھونرا** : مذکر؛ (۱) ایک سیاہ پردار کیرا (۲) نہایت کالی چیز (۳) خوش خبر۔
- **سی آواز** : باریک سُری خوب گونجنے والی آواز۔
- بھونڑے میں پلٹنا** : لاڈ پیار سے پلٹنا، ناز و نعم سے پلٹنا۔
- بھونڑی** : موتی؛ (۱) وہ بالوں کا پیکر جو آدمی، گھوڑے یا کسی جانور کے جسم خواہ سر پر ہوتا ہے (۲) وہ بھنور کی شکل کا پیکر جو بعض لوگوں کے گالوں پر ہنسنے میں پڑتا ہے یا ہمیشہ خفیف ساد ہوتا ہے۔
- ہنسنے میں نمایاں ہونا ہے، (۳) گھوڑے کا ایک قسم کا عیب (۴) وہ روٹی جو انگاروں پر پکائی جائے۔
- بھونکتا** : (۱) کتے کا بولنا، غل بجانا (۲) مجازاً؛ (تقیقے) آدمی کا

— لگانا / لینا : سراخ لگانا، راز کا پتا لگانا، چھپی ہوئی بات۔
معلوم کرنا، عنذیر لینا۔

بھید / بھیدیا : راز دار، ہم راز جسے بھید معلوم ہو۔

بھیر ڈول : مذکر؛ (۱) ایک راگ کا نام (۲) ہیب، خوف ناک۔

— ناچنا : (۱) رنگ صحبت بدل جانا، حالت پلٹنا (۲) ویراڑین برنا (۳)

لڑائی جھگڑا ہونا (۴) سکوت چھایانا، دہا سلق کام نہ رہنا۔

بھیر ویس : مؤنث؛ ایک راگی جو صبح گائی جاتی ہے۔

— اڑانا : (۱) بھیر ویس گانا (۲) (مجازاً)؛ خوشی منانا، خوشی

کے گیت گانا۔

بھیرٹ : مؤنث؛ (۱) جمع، جگھٹ، بہت سے لوگ (۲) آفت،

مصیبت۔

— بھاڑ : (مجازاً) باع ہمل، بڑا بھوم، ازدھام، دھوم دھام۔

— بھڑکا : مذکر؛ بھیرٹ بھاڑ، بے پناہ بھوم۔

— کرنا / لگانا : جمع کرنا، بہت سے لوگوں کا جمع ہو جانا۔

ٹھٹ لگانا۔

بھیرٹ : (۱) بھری کی طرح بالوں والا ایک جانور، مینا (۲) (مجازاً)

غریب، مسکین، مال دار۔

— چال / بھیرٹیا چال : مؤنث؛ دیکھا دیکھی، اندھا دھند،

بغیر سوچے سمجھے۔

بھیرٹیا دھسان : (دکناٹا)؛ لوگوں کا کثرت سے ایک طرف بغیر

سوچے سمجھے متوجہ ہو جانا، کورانہ تقلید، بے سمجھے بوجھے پردی

کرنا۔

بھیرٹنا : باہم ملانا، دروازے کے کواڑ بند کرنا۔

بھیرٹیا : مذکر؛ ایک درندہ، گڑگ۔

— کھائے تو، نہ کھائے تو، منہ لال : (مثل)؛ بدنام

عیب کرے یا نہ کرے الزام ہمیشہ اس کے سر آتا ہے۔

بھیس : مذکر؛ لباس، پوشاک، وضع قطع، سوانگ۔

— بدلنا : وضع بدلنا، پہلی حیثیت بدلنا۔

— بنانا : خاص وضع اختیار کرنا، کوئی روپ بھرنے۔

بھپک : مؤنث؛ خیرات، گداگری۔

— پیراوقات ہونا : گدائی پر گند ہونا، مانگے پر سبر ہونا۔

بولنا، چیخنا، چلانا۔

بھونٹنا : (۱) بریان کرنا، تلنا، سوکھا سوکھا تلنا، ترکاری گوشت

وغیرہ کو، بریان کرنا (۲) بددق سے شکار کرنا یا بہت سے

جانداروں کو مار ڈالنا (۳) (مجازاً)؛ دق کرنا، ستانا، جلانا۔

بھ - م - می

بھئی : بھائی کا مخفف؛ برابر والوں اور چھوٹوں سے خطاب کا کلمہ۔

بھی : (حرف ربط)؛ اور، اتنے پر، اب، نیز، مزید۔

بھئے : (۵) مذکر؛ ڈر، خوف۔

بھینا : مذکر؛ بھائی (چھوٹے کو پیار سے)؛ اپنائیت سے غیروں کو بھی

بھینا کہا جاتا ہے۔

بھینا ناک : ڈرانا، خوف ناک، ہول ناک، وحشت زدہ۔

گھرایا ہوا، پریشان، ویران، اداس۔

بھیرت : اندر، پوشیدہ، درمیان۔ میں۔

بھیرتی مار : اندرونی چوٹ، چھپی ہوئی چوٹ۔

بھیرٹیا : سر کے اندر کا گودا، مغز، دماغ۔

— پیکانا : (مجازاً)؛ بہت بگنا، بکتے کی تکلیف اٹھانا۔

— ٹپک جانا : بک بک سنتے سنتے دماغ پریشان ہونا، کسی کی

بک بک سے عاجز آجانا، کسی کی بک بک سے سر دکھنے لگانا۔

— کھانا / کھا جانا : کبواس سے دماغ کھا جانا، سم خراشی کرنا۔

— کھائیں، سر سہلا نہیں : (مثل)؛ نقصان پہنچائیں اور

ظاہری ہمدردی دکھائیں۔

بھیننا : روانہ کرنا۔

بھیننا / بھینینا : (۱) دباننا، سیکرنا، دلچننا، پلٹنا، مسلنا (۲)

دانٹول کا زور سے بند کر لینا (۳) کسی کو زور سے سینے سے چٹا لینا

(۴) جڑ روکنا۔

بھیمک : مذکر؛ (۱) چھپی بات، دل کی بات، راز (۲) سراخ، پتا (۳)

(۴) چھیدے ہوئے موتی یا کالوں کے سوراخ (۵) (۵)

چھوٹ۔ اختلاف۔

— پانا : پتا لگانا، سراخ ملنا، چھپی ہوئی بات معلوم ہونا۔

— دینا / کھولنا : دل کی بات بتانا، راز ظاہر کرنا۔

بھیشت: مونتھ؛ (۱) ملاقات، ملاپ، مٹ بھڑ، لڑنا بمقابلہ
 سانا، سبوتا، ٹھکانا، (۲) نذر، پیش کش، سوغات (۳) قربانی
 صدقہ، نذرانہ (۴) منہ بھرائی، رشوت۔
 — چڑھا نا/ دینا: قربانی کرنا، نذر دینا۔
 — لینا: نذر لینا، چڑھا دینا، مار ڈالنا، جان لینا۔
 بھینٹنا: دیکھو بھینا۔
 بھینس: گائے سے کچھ بڑا کالے رنگ کا دودھ دینے والا جانور۔
 مادہ کاومیش (۲) (تھیرے)؛ موٹی عورت۔
 — کے آگے پن بجائے، بھینس کھڑی پگڑائے، (مثل)؛
 تاجھ کے سامنے دانائی کی باتیں بے کار ہیں، بے وقوف کے
 سامنے ہنر دکھانا فضول ہے۔
 بھینسا: بھینس کا نر، (مجازاً) بہت موٹا، بھڑا۔
 بھینسیا دار: ایک قسم کا سمت دار جو نون کے فسار سے ہوتا ہے۔
 — لہسن: لہسن کی شکل کا ایک بڑا سرخ داغ جو اکثر گردن
 یا گال پر ہوتا ہے۔
 بھینسی: مونتھ؛ ہلکی، خوش گوار، تیز کا مقابل۔

— کا کھڑا: (۱) روٹی جو فیر کو مٹی ہے، خیرات کا کھڑا (۲) لکنا یا
 وہ شخص جس کے باپ کا پتانہ ہو، لطف بے تحیق۔
 — کاٹھیکرا/ کاسم: مذکر؛ بھیک مانگنے کا برتن، کاسٹ گڈائی
 کمانی کا ذریعہ۔
 — کے نوالوں کا مزہ پڑنا: (مثل)؛ مانگ مانگ کر گذر
 اوقات کرنے کی عادت پڑنا۔
 — جلی بتانا: ٹالنا، جلد کرنا، بہار کرنا، ہم چور ہونا۔
 — رات: مونتھ؛ آدھی رات، رات کا وہ حصہ جو بارہ بجے
 کے بعد ہوتا ہے۔ جس میں خکی شروع ہوجاتی ہے۔
 — مسین: وہ مونچھیں جو ابھی ابھی نکلنا شروع ہوئی ہوں۔
 سبزہ آغاز (پہلے پہل مونچھیں نکلتا)۔
 بھیکتے بھالکتے: بھیکتے ہوئے۔
 بھینگنا: تر ہونا، گیلا ہونا۔
 بھینگلی پٹی: مونتھ؛ عاجز، ذلیل، بے وقعت، گریسکین۔
 بھیل: مذکر؛ ہندستان کی ایک قدیم قوم۔
 بھیلی: مونتھ؛ گڑ کی چکٹی، پاری۔
 بھینا/ بہنا: (عو) بہن۔





— مال / پاپے مال : (ف) (۱) پاپو سے رونما ہوا، تباہ، برباد (۲) خراب، خوار، خوار۔

— مال زمین : فن شعر میں ان اشعار کو کہتے ہیں جن کی تدلیف اور تائیدوں میں کثرت سے اشعار کہے جا چکے ہوں کسی حدت کی گنہائش نہ ہو۔

— مزد : مستقل مزاج، ثابت قدم۔

— مزدی / پاپے مزدی : موتش؛ بہادی، مضبوطی، زبرد، طاقت، ہمت۔

— یاب : (ف)؛ (۱) دریا کی اٹھلی تھاہ جس میں آدمی پاپو سے چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچے (۲) کم گہرائی کا۔

— بند : (۱) کسی بات پر قائم رہنے والا (۲) ماتحت (۳) مطیع (۴) عادت رکھنے والا (۵) گرفتار (۶) گھوڑے کی بھاڑی باندھنے کی رسی۔

— بوس / پاپے بوس : (ف)؛ (۱) پاپو چومنے والا، قدم بوسی۔

— بوسی / پاپے بوسی : موتش؛ (۱) پاپو چومنا، تعظیم، تواضع (۲) (مہارڈ) بڑوں سے ملنا (۳) قدم بوسی۔

— پاپ : مذکر؛ گناہ، معصیت، آفت۔

— کاشنا : جھگڑا، پٹا، قرمز چکانا، نجات دینا۔

— کشنا : جھگڑا، دور ہونا، معصیت ملنا۔

— کی پوٹ : گناہ کی گھری۔

— کی تاؤ آج نہیں توکل اور کل نہیں تو پیرسوں ڈوبے

— اور ڈوبے : (رسل)؛ (۱) پاپ کا بدلہ ایک نہ ایک دن ضرور

ملتا ہے (۲) ظالم کو دیر سویر ضرور سزا ملتی ہے۔

— پاپی : گناہ گار، مجرم، ظالم، بے رحم (۲) (مہارڈ)۔

— پاپا : (ف) مذکر، عیسائیوں کا پیشوا۔

— پاپ : موتش؛ اردو کا تیسرا حرف، ہائے فارسی، بر حساب جمل (ابجد) دو عدد مانے گئے ہیں۔

پ۔ ا

— پا : (ف)؛ مذکر؛ پاپو، قدم۔

— انداز : (ف) مذکر؛ ریز، پٹائی، کپڑے، بوسے یا مویج کا ٹکڑا، جود دانہ پر پاپوئی گرو صاف کرنے کے لیے بجا دیتے ہیں۔

— بھوللا : (ف)؛ (۱) پاپوئیں زنجیر بڑی ہوئی (۲) بیڑیاں پہننے ہوئے (۳) مقید (مہارڈ) پابند۔

— بدست و گریے دست بدست و گریے : (ف)؛

پاپو ایک کے ہاتھ میں اور ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں (کشاں کشاں)۔

— برکاب : (ف)؛ جانے کے لیے تیار، چلنے پر آمادہ۔

— برہنہ : (ف)؛ ننگے پاپو۔

— برہن : (ف)؛ پاپو ڈول دل میں، قیدی، بے بس، پھنسا ہوا پابند۔

— زیب : (ف)؛ موتش؛ عورتوں کے پاپو کا ایک زیور، غلام

— سنگ / پاپے سنگ : مذکر؛ ترازو کے ایک پتے کو دوسرے پتے کے وزن کے برابر کرنے کے لیے ڈالا جانے والا وزن۔

— سنگ بھی نہ ہونا : بے حقیقت ہونا، مقابلے میں کچھ نسبت نہ رکھنا۔

— شکستہ : چلنے پھرنے سے سوز۔

— کوب / پاپے کوب : (۱) زمین پر پاپو دسے دسے مارنے

والا (۲) (مہارڈ) ناچنے والا۔

(۴) دھویوں کا کپڑے دھونے کا پتھر یا پٹریا پانا (۵) کولھو کا وہ حصہ جس پر بریل ہانکنے والا بیٹھتا ہے (۶) پڑا۔ چوکی، تختہ (۷) اونگھنا، آواز کی بندی۔

— دار آواز: بلند آواز، دُور تک جانے والی آواز۔

— دینا: ڈھیر کر دینا، افراط سے کوئی چیز ڈال دینا، پھت چھانا۔
پاٹنا: (۱) ڈھانکنا، چھانا (۲) ریل پیل کرنا، مالا مال کر دینا (۳) گڑھے کو بھرنے، برابر کرنا۔

پاٹھ: مذکر؛ سبق، وظیفہ۔

— مثالا: مذکر؛ —؛ مدرسہ، مکتب، اسکول۔

پاٹھا: مذکر؛ (۱) باقی کا ترجمہ (۲) (مجازاً)؛ فزیر، موٹا تازہ پہلوان
پاٹھک: مذکر؛ (۱) استاد، معلم (۲) برہمنوں کی ایک گوت۔

پانی والہ: مذکر؛ فوکری اٹھانے والا مزدور، جھلی والا، حال۔

پاجامہ/پائے جامہ: مذکر؛ راز۔

— سے باہر ہونا/ہوجانا: بے انتہا خفا ہونا۔

— میں ڈال کر پین لینا: (عوم)؛ بد لحاظ ہوجانا، ادب لحاظ نہ کرنا۔

پاجانا: (۱) سمجھ لینا، بات کی تہ کو پہنچ جانا (۲) حاصل ہوجانا، مل جانا۔

پاجی: لُٹا، کمینہ، متر۔

— پن/پن: مترارت، کمینگی۔ بد ذاتی۔

پاخانہ: مذکر؛ (۱) گوا، انسان کا فضلہ (۲) بیت الخلاء، جاے ضرورہ، ٹٹی۔

— پھرنا: گناہ، ضرورت سے فارغ ہونا۔

— خطا ہونا: (۱) گوا کا بے اختیار باہر نکل آنا، بے ارادہ فضلہ

نکل آنا (۲) (کنایتاً)؛ خوف، دہشت ہونا۔

— لگنا: پاخانے کی ضرورت محسوس ہونا۔

پاد: مذکر؛ ریا، گود۔

— نا: (۱) گوز مارنا (۲) (مجازاً)؛ جین بولنا، ہمت ہارنا۔

پاداش: (ف)؛ موت؛ بدلہ، معاوضہ، جزاء، سزا۔

پادری: عیسائی مذہب کا عالم اور پیشوا۔

پادشاہ/پادشہ/بادشاہ/بادشہ: مذکر؛ کسی ملک کا مالک

نہیں مملکت

پادشاہی: موت، راج، سلطنت۔

— PAPA (انگ)؛ ابا، باپ، والد۔

پاپاخ: (ترکی) موت؛ سیاہ دُنے کی کھال کی لمبی ٹوپی۔

پاپیڑ: مذکر؛ موٹنگ یا ماش کی دال کی یا چاول کے آٹے کا سالہا ملی ہوئی پتلی سمی چپاتی۔

— پینلنا: (۱) بیل سے بیل کر پاپیڑ پانا (۲) (کنایتاً)؛ تنگی سے اوقات بسر کرنا، مصیبت اٹھانا، (۳)

سخت کام کرنا، نہایت محنت اٹھانا۔

پاپوش: (ف) موت؛ جوتا، کفش، تحقیر کی چیز۔

— بھی نہ مارنا: جوتی بھی نہ مارنا، کچھ بھی لحاظ نہ کرنا، نہایت بے وقعت سمجھنا۔

— پیر مارنا/ — کی لوک پیر مارنا: جوتی پیر مارنا،

ٹھکرنا، پروا نہ کرنا، خاطر میں نہ لانا۔

— جانے: (تحقیر سے)؛ خبر نہیں۔

— سے/ — کی لوک سے: (۱) جوتی سے (۲) کچھ پروا نہیں (۳) بلا سے۔

— کے برابر سمجھنا: جوتے کے برابر سمجھنا، نہایت ذلیل جاننا، نہایت حقیر سمجھنا۔

— مارنا: جوتی مارنا، کمال بے توجہی برتنا، حقارت سے ٹھکرا دینا۔

پاپولر: POPULAR (انگ)؛ مقبول، ہر دل عزیز۔

پاپیادہ: پیدل، پانو پانو چلتے ہوئے۔

پاٹ: مذکر؛ (۱) پتا (۲) سان کا ایک زیور۔

پاٹا بہ/پاٹا بہ: مذکر؛ موزے کے اوپر پہننے کی چیز۔

پاٹال: مذکر۔ موت؛ زمین کا سب سے نیچے کا طبقہ۔

— کی خبر لانا، بات کی تہ کو پہنچنا، دُور کی خبر لانا۔

پاتی: موت؛ خط، چٹھی، پتا، پتی۔

پاتھنا: اُپے تھوپنا، سانچے میں اینٹیں ڈھالنا۔

پاٹ: POT (انگ)؛ مذکر؛ پاخانہ کرنے کا برتن (تشت)، (۲) برتن۔

پاٹ: مذکر؛ (۱) دریا کی جوڑائی (۲) کپڑے کا عرض (۳) جلی کا پتھر

مشہور ہے کہ اگر اس سے لوہا چھو جائے تو سونا بن جاتے ،
(۳) نہایت نفیس۔

پارسی: زردشت کا پیر و فرقہ آتش پرست (۲) فارسی زبان۔
پارسا: (ف) پرہیزگاری؛ خدا پرست۔ صلح، پاک دامن۔
پارسائی: پرہیزگاری۔

پارسل: (انگ)؛ ڈیمبر، پلندا، ڈاک یا
ریل کے ذریعے بھیجا جانے والا بندل۔
پارسل نامتھ: ہندوؤں کے ایک بت کا نام جس کی جوہری پڑجا کرتے
ہیں۔

پارک: (انگ)؛ مذکر؛ (۱) کھلا باغ، باغیچہ،
رستلر۔ سبزوارہ (۲) موٹر گاڑیوں کے کھڑا کرنے کا میدان۔

پارکھ/پارکھی: (۵) مذکر؛ پرکھنے والا، جانچنے والا۔
پارلیمانی: (مہند)؛ پارلیمنٹ سے تعلق، پارلیمنٹ کا۔

پارلیمنٹ: (انگ)؛ مجلسِ مقننہ (۵) سسٹم
لوک سبھا اور راجیہ سبھا)

پارلیمنٹری: (انگ)؛ پارلیمانی۔

پارنا: کاہن بنانے کے لیے چراغ پر کوئی برتن۔ کھڑکھوئیں کی کالک
جمع کرنا۔

پارہ: (ف) مذکر؛ ٹکڑا، ریزہ، جُزء، حصہ۔

پارہ جگر: (۱) جگر کا ٹکڑا (۲) (مجازاً)؛ بہت عزیز، کلچے کا ٹکڑا۔

پاری: گڑھا گول ٹکڑا، بھیل۔

پاریسٹر: (ف) پرانا، کہنہ، قدیم۔

پاڑا: مذکر؛ (۱) گائے بھینس کا بچہ (۲) گائے سے کچھ ناصلے پر بے
ہوئے جھونپڑے (۳) کیفیت کی حد۔

پاڑھ/پاڑ: مؤنث؛ مسماروں کے اونچی جگہ پر کام کرنے کے لیے
چان کی سی لکڑیوں کی بیٹھک۔

پاس: (۱) قریب، نزدیک (۲) فیض میں، تعریف میں، ثابو میں۔

پاہٹنا: (۱) قریب بیٹھنا، پہلو میں بیٹھنا (۲) استاد کے پاس
تعلیم پانا۔

پاہٹنے والا: مذکر؛ صاحبِ اساتھی، ہم نشین۔

پاس: برابر برابر، قریب قریب، تقریباً۔

پار: (۱) اُس طرف، دوسری طرف دریا کے کنارے (۲) حد (۳) دریا
کے دوسری طرف کی آبادی (۴) انتہائی گہرائی۔

آرانا: (۱) دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچانا، دریا عبور کرانا،
(۲) (مجازاً) انجام کو پہنچانا، کام بنادینا، فارغ کر دینا۔

سال: گزرنا ہوا برس، گذشتہ سال۔

کرتا: (۱) دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنا، عبور کرنا (۲) چھیننا
پھوڑنا (۳) پورا کرنا، انجام کو پہنچانا (۴) کسی چیز کا غائب کر دینا،
یعنی چرائینا۔

لگانا: پاراتا کرنا، انجام کو پہنچانا۔

لے جانا: سبقت لے جانا، بازی جیتنا۔

مکلنا/موجانا: ایک طرف سے دوسری طرف نکلنا۔

پارا: مذکر؛ (۱) ایک مشہور دھات، سیسہ (۲) (مجازاً)؛ بے قرار
بے چین، ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا، بھاری، ثقیل۔

بھرا ہونا: (کنایتاً)؛ بہت وزنی ہونا۔

پلانا: کسی چیز میں پارا سمودینا، پارا جذب کر دینا، وزنی
بنادینا، سخت پتھر کر دینا۔

پینا: (مجازاً)؛ بھاری ہونا، وزنی ہونا۔

مارنا: پارے کا کشتہ بنانا، سیسہ کشتہ کرنا، دواؤں سے
پارے کو خاک بنادینا۔

پارہتی/پاروتی: (۵) مؤنث؛ شہمی کی بیوی۔

پارٹ: (انگ)؛ مذکر؛ (۱) حصہ، جُزء (۲) ڈولے
میں کسی ایکڑ کا کام (۳) کسی تحریک، ادارے، جماعت میں کوئی
حصہ لینا یا شریک ہونا۔

پارٹی: (انگ)؛ مؤنث؛ (۱) جماعت، گروپ،
(۲) دعوت، جلسہ (۳) شادی، مقدمات، یا معاہدہ کا فریق۔

پارٹیشن: (انگ)؛ مذکر؛ (۱) بٹوارا، تقسیم،
درمیانی دیوار (۲) کسی کمرے کو درختوں میں تقسیم کرنے والی دیوار
یا پردہ۔

پاچھ: (ف) مذکر؛ کپڑا، پوشاک، دھبے، لتا، ریزہ، گوشت کا ٹکڑا۔

فروش: پکڑے پیچھے والا، برزاز۔

پارس: مذکر؛ (۱) ایران (۲) فارس (۳) ایک پتھر جس کے متعلق

اپنے ملک سے باہر جانے کا اجازت نامہ۔
پاستان : (ف)؛ پیرانا، تھیم، گزرا ہوا، پیشتر کا۔
پاسخ : (ف)؛ مذکر؛ جواب۔
پاشنگ : ترازو کے پلاؤں کا تول ٹھیک کرنے کے لیے جوٹا سا ڈنڈا
 — سبھی نہیں: (عامورہ)؛ بے حقیقت ہے، مغالہ میں کچھ نسبت
 سبھی نہیں رکھنا۔
پاسی : مذکر؛ (۱) چوکی دار، پہرہ دینے والا (۲) وہ رستی جس سے
 گھوڑے کے پانوں باندھتے ہیں (۳) (دہلی) بھیلیا، چڑی مار (۴)
 ایک قوم جو تازی بچے کا کام کرتی ہے۔
پاشا : (ترکی)؛ بڑا سردار، ترکی سردار کا لقب۔
پاشاں : (۱) دُود دُود (۲) وہ تحریر جس میں حرف اور درازے
 دور دور لکھے ہوں۔
پاشن پاش : ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے۔
پاشنہ : (ف)؛ مذکر؛ لڑی۔
پاک : (ف)؛ (۱) صاف، ظاہر، بے لوث، نیک، بے گناہ (۲) بے باک
 منقطع، محفوظ، بری، مباح، حلال (۳) نہایت آزاد، بے باک
 بے عیب۔
پاز : (ف)؛ (۱) بے گناہ، نیک، صاف دل، زاہد، ایماندار
 (۲) کلکتا (تینا) عاشق۔
پہن : اچھی نظر سے دیکھنے والا، پاک نظر سے دیکھنے والا۔
پٹوڑو گارو : خدا سے تعالا۔
دامال / دامن : پارسا، عفت والا، عصمت دار۔
راے / معز : صحیح عقل رکھنے والا، فہم رسا رکھنے والا، اچھی
 سوجھ بوجھ رکھنے والا۔
رہ بے باک رہ : (مقولہ)؛ راست باز ایمان دار کو کوئی
 کھٹکا نہیں، بے خطا بے خوف رہتا ہے۔
زاد / سر شست : نیک طبیعت، نیک، اصل، اچھی
 طبیعت والا۔
صاف : اچھوتا، نیک نیت، بہت صاف ستھرا، صاف۔
کرنا : مذہبی شراکت کے مطابق گنہگار، صاف کرنا،
 جہان پینگ کر غلہ صاف کرنا، میل دوڑ کرنا، چھینا، حساب ختم

پڑوس : مذکر؛ آس پاس، ہم سایہ، ارد گرد، قُرب و جوار۔
پسٹکانا : قریب جانا۔
جانا : (۱) قریب جانا (۲) (کلکتا)؛ ہم بستر ہونا۔
رکھنا : (۱) ساتھ رکھنا، تیار رکھنا (۲) مثل زدہ کے رکھنا، قریب
 رکھنا۔
نہ کھڑے ہونا : دُور رہنا، متنفر ہونا، ملنے سے پرہیز کرنا۔
پاس : (ف)؛ (۱) طرف داری، لحاظ، مروت، اور رعایت (۲) پہر
 (۳) حراست (۴) انتظار۔
یان : مذکر؛ چوکی دار، دربان، محافظ۔
خاطر : (اصناف کے ساتھ) سخت لحاظ، خاطر داشت، بیزاچہ داری
داری : (ف)؛ جانب داری، طرف داری، حمایت۔
شرع : (اصناف کے ساتھ)؛ شرع کا لحاظ، شرع کے حکم کی تعمیل۔
تنگ : (اصناف کے ساتھ)؛ جس کا تنگ کھایا ہے اس کا لالو
 و خیال رکھنا، وفا داری۔
کرنا : لحاظ کرنا، رعایت کرنا، طرف داری کرنا۔
پاس : PASS (انگ)؛ (۱) اجازت نامہ (۲) گھائی
 تنگ راستہ، درہ (۳) امتحان میں کامیابی۔
ہونا : امتحان میں کامیاب ہونا، ترقی پانا، منظور ہونا۔
کرنا : (۱) کسی چیز کو آگے بڑھانا (۲) راستے کرنا، راہ سے گزرنہ۔
پاس بک : PASS BOOK (انگ)؛ نوٹ؛ بینک کی
 کتاب۔
پاسا / پانسا : مذکر؛ چھ پہلوؤں کا ٹکڑا جس پر عدد کے بجائے نقطے بنے
 ہوتے ہیں، جسے ہر کھلاڑی اپنی اپنی باری پر پھینکتا ہے۔
الٹا پڑنا : (۱) پانسا کھلاڑی کی موافقت میں نہ پڑنا جس
 سے کھلاڑی کی ہار ہو جائے (۲) (مجازاً)؛ کسی امر میں تدبیر کے
 خلاف بات ہونا، تدبیر کا رُگرد ہونا۔
الٹنا : پاسا پانسا، پاسا پٹنا، پاسا پٹ جانا، انقلاب ہونا۔
پلٹنا : (۱) بازی ہارنا (۲) زمانہ بدل جانا، انقلاب ہونا،
 تدبیر کے خلاف واقع ہونا۔
پھینکنا : (۱) قرعہ ڈالنا (۲) قسمت آزمانا۔
پاس پورٹ : PASS PORT (انگ)؛ پرواز راہ داری

کرنا۔ آنسو پوچھنا، ذبیحہ کی کھال یا آلائش کھال دینا۔

— مجتہد: وہ دوست جو خواہش نفسانی سے خالی ہو۔

— نظر/نگاہ: نیک نیت، پاک ہیں۔

— ہونا: (۱) میل مٹی سے صاف ہونا (۲) حساب ختم ہونا (۳) تباہ

دور ہونا۔ حیض و نفاس سے فراغت (۴) (کنایتاً) بددستی میں فرد ہونا۔

پاکٹ: POCKET (ٹاگ)؛ جیب۔

— بُک: BOOK (ٹاگ)؛ جیبی سائز کی کتاب۔

— مار: (مُہنت) جیب کترا۔

— پاکٹی: (ف) مونت؛ طہارت۔

— پاکیزگی: (ف)؛ مونت؛ سترائی، صفائی، طہارت۔

— پاکیزہ: ستر، پاک، صاف، خوبصورت، خوش اسلوب۔

— بے جیب، بے جرم، بے داغ۔

— صورت: حسین، خوبصورت۔

— پاکھ: حصہ، پندرہ دن کی مدت، عینے کے دو حصے، اجالے اور

اندھیرے کے دن۔

— پاکھا/بچھا: مذکر، پہلو، بازو، جانب، طرف، چوپڑ جو دیوار پر

جھکا ہوتا ہے، ساسے بان۔

— پاکھر: مونت؛ (۱) ایک قسم کی لوسے کی پوشاک جو گھوڑے کو جنگ

کے موقع پر پہناتے تھے (۲) ایک درخت کا نام (۳) تریپال،

ٹاٹ کی پوشش۔

— پاکھند: مذکر؛ ڈھونگ، شرارت، جھگڑا، بھگڑا۔

— پاکھندی: ڈھونگی، جھگڑالو۔

— پاکگل: سڑی، دیوانہ، اہم، بے وقوف۔

— پٹن: دیوانگی، خطبہ، نادانی۔

— خانہ: مذکر؛ پاگلوں کو رکھنے کا سرکاری مکان جہاں ان کا

علاج اور نگرانی ہوتی ہے۔

— پاگلوں کے سرسپنگ نہیں ہوتے: (مثل)؛ پاگلوں کی

کوئی خاص ظاہری پہچان نہیں ہے، جو بے لگی حرکتیں کرے

وہی پاگل ہے۔

— پال: (۱) چھوٹا نیم یا سرکیوں وغیرہ کو نیچے کی طرح تان دیا جائے۔

(۲) وہ پردہ جس سے ہوا بھر کے کشتی چلاتے ہیں (۳) وہ گھاس

پھوس جس میں گدرلے پھل پکانے کے لیے دبائے جاتے ہیں۔

(۴) وہ پھل جو پینے کے لیے گھاس پھوس میں ڈالے جائیں۔

— ڈالنا/رکھنا/پڑنا: (۱) کچے پھلوں کو پینے کے لیے پال

میں رکھنا (۲) (کنایتاً) کسی چیز کو عرصے تک رکھ چھوڑنا۔

— پالا: (۱) وہ اوس جو جاڑوں میں کبھی کبھی بڑتی ہے، اور نباتات کو بریا

کردیتی ہے، کہہ (۲) بے حد سردی، سخت جاڑا (۳) اکھاڑا،

کشتی کی جگہ (۴) مٹی یا کسی چیز کا وہ نشان جو کھڈی اور دوسرے

کیہلوں میں حد فاصل کی طرح ڈال دیتے ہیں (۵) واسطہ،

سروکار، سابقہ، جیت و فتح۔

— پوسا: پرورش کیا ہوا۔

— جمننا: زمین پر کھرا کھم جانا

— جیتنا/مار لینا/ہاتھ رہنا: کھیل میں جیت ہو جانا۔

— چھوڑنے کے بھاگ جانا: مقابلے سے بھاگ جانا۔ مقابلے میں

نہ ٹھہرنا۔

— چھوٹنا: (۱) جیتنا (۲) (کنایتاً)؛ بہت کئی کام کر لینا۔

— ڈالنا: سابقہ ڈالنا، معاملہ پڑنا۔

— گزرم ہونا: چہل پہل ہونا، محض میں رونق ہونا۔

— گرنا: کہہ پڑنا، برف پڑنا۔

— مار جانا: گھر پالے، گرنے سے نباتات کا برباد ہو جانا۔

— پالے پڑنا: بس میں ہونا، اختیار میں ہونا، سر پڑنا، ذتے ہونا۔

— پلے بندھنا: بیاہ ہونا، شادی ہو جانا۔

— پالانگن/پالانگی: مونت، چرن چھوٹنا، قدم بوسی، سلام، آداب

تسلیم۔

— پالتی: مونت؛ چار زانو بیٹھے کا طریقہ۔

— مار کر بیٹھنا: چار زانو بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔

— پالیسی: POLICY (ٹاگ)، مونت؛ اہمکت عملی مصلحت

تدبیر (۲) انتظام کا طریقہ، دُور اندیشی (۳) چال، چالاک (۴)

بیمہ نامہ، ایسے کا کاغذ۔

— پالش: POLISH (ٹاگ) مونت، صفائی، چلا، صیقل کرنے

کاروغن، جوتوں پر چلا کرنے کا روغن۔

- پالک: مؤنث؛ ایک قسم کا ساگ، اور اس کے بیج (۲) پرکودہ پالا ہوا۔
- پالکی: (ف) مؤنث؛ ایک قسم کی سواری جسے کہا راٹھاتے ہیں۔
- پالشی: (۵) مذکر؛ پالنا، پرورش، تعیل۔
- پالشی: (۲) مذکر؛ (رکنا تیا)؛ بڑے رتے والا امیر۔
- پالشی: (۵) مذکر؛ پالنا، پرورش کرنے والا، پروردگار۔
- پالنا: (۱) پرورش کرنا، تربیت کرنا، خبر گیری کرنا (۲) ناز و نم سے رکھنا (۳) برداشت کرنا، ذمے داری لینا (۴) بچوں کا جھولا ہندوؤں۔
- پالوسٹا، (پوسٹا تاج میں)؛ پرورش کرنا اور تربیت دینا۔
- پالو/پالتو: پلا ہوا جانور۔
- پالودہ/فالودہ: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا مرکب جس کو تخم ریحان، شربت، برف، دودھ وغیرہ ڈال کر بناتے ہیں (۲) گولر کے لعاب کو جاکر بناتے ہیں، ایک خاص قسم کی گھاس ڈال کر بھی بناتے ہیں۔
- پالی: مؤنث؛ (۱) پالتو مرغوں، تیرنوں، میروں کی لڑائی جس کا لوگ تاشا دیکھتے ہیں (۲) باری (۳) گدھ کی قدیم زبان۔ گدھی۔
- پالیٹکس: POLITICS (انگ)؛ مؤنث؛ سیاست راج نیستی۔
- پاہر ہونا: جانور کا میدان سے بھاگ جانا، مقابلے سے ہٹ جانا، ہار جانا۔
- پالمسٹ: PALMIST (انگ)؛ مذکر؛ جیوتیش، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آئندہ کا حال بتانے والا۔
- پالمسٹری: PALMISTRY (انگ)؛ مؤنث؛ جیوتیش ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تقدیر بتانے کا علم۔
- پان: مذکر؛ (۱) برگ، تمبول (۲) تاش کا ایک پتا۔
- پانانا: پان کے پتے میں کتھا جو نا لگانا، مگھوری بنانا پیرا بنانا۔
- پتا: (۱) گھر کے روضہ کے خرچ کی چیزیں (۲) (رکنا تیا)؛ خبر گیری، مجلس شادی، بیوی کے پان دان کے خرچ کے نام سے کچھ ماہ وار دینا۔
- پھول/پھول پان: (۱) خاطر، مدارات (۲) نازک، نازک بدن۔ (۳) بڑائی بھلائی، سر انجام کار۔
- چانا: پان کھانا۔
- دان: مذکر؛ پٹاری جس میں پان اور اس کے لوازمات رکھے جاتے ہیں۔
- دینا: (۱) پان کھلانا، پان سے تو واضح کرنا (۲) (رکنا تیا)؛ رخصت کرنا (پان دے کر)۔
- کاپیڑا: پان کی گھوری۔
- کالا کھا جتنا/لاکھی جتنا: پان کھانے سے ہونٹوں پر تہ تہ سرخی جم جانا۔
- کی سپک: پان چبانے والوں کا پان کارس ملا ہوا سرخ ستھوک۔
- کی تخریمہ: پان کی ہلکی سی سرخی جو ہونٹوں پر نمودار ہو۔
- کی لالی: پان کی گہری سرخی جو پان کھانے سے وقتی طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔
- کھلانا: پان دینا، مگھنی کی رسم ادا کرنا۔
- لگانا: پان بنانا۔
- مہرجانا: پان مہرجانا، خشک ہو جانا۔
- پاتا: (۱) حاصل کرنا۔ وصول کرنا (۲) معلوم کرنا تاڑ جانا، پہچانا۔ (۳) کھولی ہوئی چیز کا ٹنا، پڑا پانا (۴) سہنا، بھگتنا (۵) سرخ لگانا، پیرا لینا، کسی صفت میں برابر ہونا۔
- پانچ: عدد ۵۔
- اندری: حواس خمسہ۔
- پنچ کچھ کاج، ہارے جھپتے نہ آوے لاج: (مقلہ) جو کام ملاح مشورے سے ہوتا ہے اس میں ناکامی سے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔
- ہاتھ کی زبان ہونا: زبان دلاز ہونا، گستاخانہ کلام کرنا۔
- پانچوآن کاظم: مذکر؛ (۱) کسی جماعت میں مخالف گروہ کی طرف سے جاسوسی کرنے والا (۲) قدار گروہ کا امیر۔
- سوار: (سوار)؛ دیکھا دیجی بڑا بیٹے کی کوشش کرنے والا۔
- بڑوں کی ہم سری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا۔

- آگے بڑھنا: تیز چلنا، حد سے تجاوز کرنا۔
 باہر نکلنا: (۱) بہت اترنا، بے حد غرور کرنا (۲) بساط کے باہر قدم رکھنا، حد سے بڑھنا (۳) پردے دار کا گھر سے باہر نکلنا باہر پھرنے کی عادت ہو جانا۔
 بڑھنا: قدم آگے رکھنا، جلد جلد چلنا، حد سے تجاوز کرنا۔
 دخل بڑھانا، قبضہ بڑھانا۔
 بہکنا: پاؤں ادھر ادھر پڑنا، لڑکھڑانا، لغزش ہونا۔
 بیچ میں ہونا: ذمہ ہونا، ساجھا ہونا، شرکت ہونا، مداخلت ہونا۔
 بھاری ہونا: (۱) حاملہ ہونا (۲) بہت پست ہونا، رک رک کر چلنا، قدم جلد اٹھانا پانا۔
 بھر جانا: پاؤں سوجانا، پاؤں سوجانا، تھک جانا، شل ہو جانا، پاؤں کسی چیز میں سن جانا۔
 بھرنا / چلنا / ڈولنا: نیچے کا پیروں سے چلنے لگنا، پیابیدہ چلنا۔
 پیر پاؤں رکھ کے بیٹھنا: (۱) چین آرام سے بیٹھنا، بے فکری سے رہنا (۲) (مجازاً)؛ بعض لوگوں کے نزدیک خواست کی علامت ہے، معطل اور بیکار رہنا۔
 پیر پاؤں رکھنا: نقش قدم پر چلنا، پیر دی کرنا۔
 پیر کرنا / لوٹنا: عاجزی کرنا، قدموں پر کرنا، تعظیم کرنا۔
 پیڑ کے / پیڑ پیڑ کے: بہت عاجزی سے، پاؤں پر گر کے، گڑگڑا کے، قدموں پر سر رکھ کے۔
 پسارنا: (۱) پاؤں پھیلانا (۲) ضد کرنا، چیلنا (۳) چین سے سونا۔
 پکڑنا / لینا: نہایت اٹھا کرنا، پاؤں چھوڑنا، عزت کرنا۔
 قدم چومنا، پناہ لینا، قدموں پر گرنا۔
 پیٹنا: پاؤں دے مارنا، تڑپنا، تکلیف اٹھانا، کوشش کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا۔
 پیچھے ہٹنا: ثابت قدم نہ رہنا، بھاگنے کے آثار ظاہر ہونا۔
 پھونک پھونک کے رکھنا: (۱) بہت احتیاط سے چلنا، بہت سنبھل کے چلنا (۲) (مجازاً)؛ بہت احتیاط سے کام کرنا

- پانچوں / پانچویں سواروں میں ہونا / نام لکھنا: خواہ مخواہ نام در لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا، لہو لگا کر شہیدیاں میں ملنا۔
 ہونا: بڑا ہوشیار ہونا، شہیر ہونا، تیز و شوخ ہونا۔
 پانچوں انگلیاں گھی میں / پانچوں انگلیاں گھی میں چھٹا سڑ کر مھائی میں: (مثل)؛ ہر طرح مزے ہی مزے ہیں۔
 بہت آرام میں ہیں، متارک ہیں۔
 انگلیاں برابر نہیں / یکساں نہیں: (مثل)؛ سب آدمی یکساں نہیں ہوتے، انسان مختلف طبیعت کے ہوتے ہیں۔
 پانڈو: راجا پانڈو کی اولاد، خصوصاً وہ پانچ بیٹے جنہوں نے ہاجرات کی رانی میں بڑا نام پیدا کیا۔
 پانڈو: موت؛ ریت اور چینی مٹی ملی ہوئی زمین، بارانی زمین۔
 پانڈے: مذکر؛ پنڈت کا منقہ؛ برہمنوں کی ایک ذات، عالم، فاضل، وِردان۔
 جی پھٹتے ہیں گے، وہی چنے کی کھائیں گے: (مثل)؛ ضدی کو اپنی ہمت سے باز آنا پڑے گا۔
 پائش: موت؛ کھاد، میلا جو خشک کر کے کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے۔
 پڑنا: کھیتوں میں کھاد ڈالنا۔
 ہو جانا: سڑ گل جانا، کھاد ہو جانا۔
 پالسیا: دیکھو پاسا۔
 پانصدی: (رف)؛ مغلیہ عہد کا ایک منصب۔
 پانوں / پاؤں: (۱) پیر، مانگ، قدم (۲) بڑ، بنیاد۔
 اٹھا اٹھا کر آنا / جانا / چلنا: تیز تیز جلد جلد چلنا / جانا۔
 اٹھانا: قدم بڑھانا، کسی سے علاحدہ ہو جانا، جھگڑے سے الگ ہونا۔
 اٹھ جانا: (رکنا، تھکا، بھاگ نکلنا، شکست پانا۔
 اٹھے جانا: بہت ٹوٹی جانا، استقلال جانا رہنا۔
 اڑانا: خواہ مخواہ کسی معاملے میں دخل دینا، کسی کام میں پڑنا بیچ میں ہونا۔
 اکھڑ جانا / اکھڑنا: پاؤں کا جوڑے ہٹ جانا، ہمت پست ہو جانا، دنگا جانا، شکست کھانا، ہار جانا۔

رکھنے کی جگہ / رکھنے کا ٹھکانا: ٹھہرنے کا ذرا سہارا، ٹھکانے کی جگہ، ٹھوڑ۔

زمین پر نہ ٹھہرنا / نہ رکھنا: (رکنا یا)؛ بہت مغرور ہونا۔ بہت اترنا، کسی بات پر ناز و فخر کرنا۔

زمین میں نہ لگنا: کہیں نہ لگنا، برابر چلتے رہنا۔
شکیر کرنا / سمیٹنا: (۱) پاؤں کھینچنا (۲) (رکنا یا)؛ دنیاوی تعلقات ترک کرنا، کنارہ کشی کرنا۔

سُنُ ہو جانا / سو جانا: ٹھوڑی دیر کے لیے پاؤں کا سُنُ ہو جانا، بے حس ہو جانا، (دقیق طور پر)؛

سے لگی سر میں بھیجی: (دعو) ایسی بات جس سے تن بدن میں آگ لگ جائے اور نہایت غصہ آجائے۔

کاتینا: پاؤں تھمرانا، ہمت پست ہو جانا۔

کی بیڑی: (۱) روک، قید، پابندی، ممانعت (۲) (مجازاً)؛ چوڑو، بال بچے۔ اہل دیوان خانہ داری (۳) (رکنا یا)؛ بن بیابی بیٹی۔

تسلُ ہو جانا: تنگ جانا۔

کادھوون: (۱) پاؤں کا دھویا ہوا پانی (۲) حقیر، ناچیز، ذلیل۔ کی جوئی: (۱) پالوش (۲) (مجازاً)؛ نہایت حقیر، ذلیل، بے وقعت۔

کی جوئی سر کو چڑھنا / لگنا: اڑنا کا اطلاق کی برابری کرنا۔

کی خاک ہونا: پاؤں کی سٹی کے برابر ہونا، بے وقعت ہونا۔

کی منہدی چھوٹ جانا / چھٹ جانا: ہرج ہونا، نقصان ہونا، کوئی خسرابی ہو جانا۔

کی منہدی نہ گھس جاتی: (مقولہ)؛ (طنزاً)؛ آنے سے یا کوئی کام کرنے سے نقصان نہ ہو جانا، بناؤ سنگار میں خرابی نہ آجاتی۔

کھل جانا: پاؤں میں چلنے پھرنے کی سکت آ جانا، پابندی نہ رہنا، آنے جانے میں جھجک نہ رہنا۔

کھینچ لینا: (۱) علاحدگی اختیار کرنا، ذلت داری سے الگ کر لینا (۲) کوچہ گردی ترک کرنا، عرض نہ رکھنا۔

گردش میں ہونا: پاؤں میں چکر ہونا، پاؤں میں سنبھرا ہونا، مارے مارے پھرنے سے پھرنا۔

(نوٹ:- اصل مادہ "چھونک" چھونک کے قدم رکھنا ہے)۔

پھیلا کے سونا: بے نخری سے سونا، چھینٹ ہو کر سونا، بے کھٹکے سونا۔

پھیلا نا: (۱) پاؤں بے کرنا (۲) ہٹ کرنا، فیمل کرنا، چیلنا (۳) رنگ لانا (۴) لالچ کرنا، زیادہ چاہنا۔

تَلے سے زمین یا مٹی تکلُ جانا / سرکُ جانا: (مجازاً)؛ بدعواس ہو جانا، سخت مصیبت میں پڑ جانا، ہوش اڑ جانا۔

تَلے کی چیٹوئی: نہایت عاجز اور بے بس۔

تَلے ملنا: بہت تنگ کرنا، بہت تکلیف دینا، پامال کرنا۔

توڑنا: (۱) بہت دوڑ دھوپ کرنا، چل پھر کر نہایت کوشش کرنا۔ (۲) تنگ کرنا، دوڑانا، وق کرنا، حیران کرنا، ستانا۔

تھمر تھمرانا: (۱) پاؤں کا پینا (۲) (مجازاً) کسی بات سے خائف ہونا۔

ٹھکانا: قیام کرنا، دم لینا، رکنا، ٹھہرنا۔

جمانا: کسی بات پر تمام ہو جانا، کسی جگہ استقلال سے ٹھہر جانا، لڑائی کے میدان میں ڈٹے رہنا۔

چوہمتا: (۱) پاؤں کو بوسہ دینا (۲) (مجازاً) بہت تعظیم کرنا۔ چھٹنا / چھوٹنا: (۱) کسی ذمے داری یا بھگڑے سے چھوٹنا۔

بری الذمہ ہونا (۲) حیفی کا کثرت سے جاری ہونا۔

چھلنی ہونا: (۱) کنکر پتھر یا کانٹوں سے پاؤں میں سوراخ پڑ جانا (۲) (مجازاً) حجاز جھنکار میں پھرنا، اور محرابیں خاک چھانا۔

درمیان ہونا: واسطہ ہونا، تعلق ہونا، ذمہ داری ہونا۔ دھرتا: (۱) قدم رکھنا، ہانا، چلنا (۲) کسی معاملے کے بیچ میں پڑنا

دخل دینا (۳) شروع کرنا، اختیار کرنا۔

دھلانا / دھونا: کوئی مہان یا بزرگ سفر سے آئے تو عزت اور توقیر سے اس کے پاؤں دھونا، عزت و توقیر کرنا۔

دھوکے پلٹا: انتہائی ہمت اور عزت کا اظہار کرنا، بے حد عقیدت و اطاعت ظاہر کرنا۔

ڈالنا: کوئی کام شروع کرنا، کسی کام میں دخل دینا۔

ڈنگانا / ڈنگنا: (۱) پاؤں کو لڑانا (۲) (مجازاً)؛ استقلال میں فرق آنا، ہمت میں لپٹی آنا، ٹھوڑا ہونا۔

- رگن گن کے رکھنا: شہر شہر کے چلنا۔
- گور میں لٹکانا / لٹکانے بیٹھنا: مرنے کے دن قریب ہونا۔
- چرخ سہمی ہونا۔
- کا گھسنا: (مفرا)؛ بہت آتے جاتے تھکنے کی تکلیف کا اظہار کرنا۔
- کر زنا / لڑکھڑانا: (۱) پاؤں ہینا، ڈنگا (۲) استعمال میں فرق آنا۔
- لگانا / مارنا: (دکھن)؛ پیرنے میں پاؤں مارنا (دہلی) لات مارنا (۲) شوکر لگانا، بے عزتی کرنا۔
- لگنا / لاگنا: (دھرم)؛ (۱) قدم لینا، پاؤں چھونا، تسلیم کرنا، (۲) پیروں بڑانا، یعنی کرنا، خوشامد کرنا۔
- منج بھر کا یا سوسو منج کا یا ہز اٹھن کا ہوجانا: (۱) پاؤں بھاری ہوجانا ایسا بھاری ہوجانا کہ لٹھنے چلنے میں دشواری ہو۔
- (۲) (مجازاً)؛ چل نہ پانا، ہلنا جھلنا دشوار ہوجانا، حرکت نہ کر پانا۔
- میدان سے نہ ہٹنا: جنگ میں ثابت قدم رہنا۔
- میں جوتی نہ سر پر ٹوپی: (مجازاً)؛ مفلس، بدحواس تلاش۔
- میں سینچر ہوتا / سینچر اتر آنا: پاؤں چکر ہونا، مارے مارے پیرنا، پاؤں گردش ہونا۔
- میں گھن چکر ہونا: مارے مارے پیرنے کی عادت بھنا، آوارہ پھرنا۔
- نکالنا: (۱) چالاک کرنا، چل نکالنا، سرکشی کرنا، خراب عادتوں کو ظاہر کرنا (۲) کسی معاملے سے تعلق اٹھالینا (۳) باہر جانا۔
- پانی: مذکر؛ (۱) آبِ اجل (۲) پسینہ، کسی چیز کا عرق (۳) طبع (۴) (مجازاً)؛ شراب (۵) لطف۔
- اتر آنا: (۱) نزلے سے آنکھوں میں پانی اترنا (۲) بادی سے نوطن میں پانی اترنا (۳) پانی اترنے کی بیماری۔
- اتر جانا: (۱) باڑھ (سیلاب) کا گھٹنا، ختم ہوجانا (۲) موتی کی آب جالی رہنا (۳) آئینے کا پارہ خراب ہوجانا (۴) بد لحاظ ہوجانا۔
- اٹھ لینا: (۱) کسی پانی والے برتن کو ٹیڑھا کر کے دوسرے برتن میں پانی لینا (۲) پانی سے پیٹ بھرنا۔
- آنا: (۱) میزہ آنا، پانی برسا (۲) رقم سے تپلی رطوبت نکالنا (۳) ناک یا آنکھ سے پانی نکالنا۔
- بھجانا: کسی دھات یا اینٹ کو خوب گرم کر کے پانی میں ڈالنا تاکہ پانی کی رطوبت جل جائے اور اس کی تاثیر مریض کے حق میں مفید رہے۔
- برستا: بارش ہونا۔
- بھٹنا: (۱) پانی جاری ہونا (۲) رکتا پانا؛ آنسو جاری ہونا۔
- رطوبت خارج ہونا۔
- بھرنا: (۱) کنویں سے پانی نکالنا، کسی چیز میں پانی لینا، پانی لانا (۲) پانی بھرنے کی خدمت کرنا، غلامی کرنا، عاجزی کرنا (۳) کسی مقالے میں ہنر یا کمال میں عاجز آجانا۔
- پانی کرنا: (۱) پچھلانا (۲) شرمندہ کرنا، معیزت دلانا (۳) پتلا کرنا (۴) پیسے پیسے کرنا، ٹھکا دینا (۵) بار بار پانی مانگنا۔
- پی پی کر دے دینا: بہت دعائیں دینا، خوشی کر دے دینا۔
- بار بار دعائیں دینا۔
- پی پی کر کوسنا: کوسنے کوستے حلق خشک ہوجائے تو تر کر کے کوسنا، ہمیشہ کوستے رہنا۔
- پی پی کے: بار بار، ہر گھڑی۔
- پی کر ذات پونھنا: (مجازاً)؛ بات ہوجانے کے بعد اس کی تحقیقات کرنا، کوئی کام کرنے کے بعد بے نامہ پھٹانا۔
- پینا: (۱) پانی جذب کرنا، پانی نوش کرنا (۲) (مجازاً)؛ بے جان چیزوں درخت، انجن وغیرہ کا پانی پینا، یعنی لینا۔
- پھر جانا: (۱) بے وقعت ہونا، توقع اور آرزو میں ناکامی ہونا بے رونق ہونا، نقصان ہونا (۲) تانبے پیتل پر سونے کا پانی پھیرنا، قلعی ہوجانا۔
- پانی ہونا: شرمندہ ہونا۔
- پر لکھا ہونا: نقش بر آب ہونا بے ثبات ہونا۔
- پڑنا: (۱) پانی برسا (۲) چیچک سے اچھے ہونے پر ہٹلانا (۳) خراب ہونا، برباد ہونا۔
- پھوٹنا: (۱) کسی رکاوٹ کو توڑ کر پانی لاکھن، زمین سے پھتر نکالنا۔
- پانی میں خوب اُبال آجانا، کھوٹنا، گھد بجا جانا۔

- کاسا شاشا: جلد مٹنے والی ناپائے دار چیز۔
 — کابلکڑ: (۱) حباب (۲) جھاڑا؛ انسان۔
 — کائٹنا: نہر سے پانی لینا (۲) پیرنے میں ہاتھوں سے کشتی چلانے میں ٹیوں سے پانی ہٹانا، ایک نالی میں سے دوسری نالی میں پانی لینا۔
 — کر دینا: ہوتا کر دینا، ملائم کر دینا (۲) آسان کر دینا، سہل کر دینا، غصہ دھیمہ کرنا۔
 — کی دھونکنی لگنا: پانی کی پھرک ہونا، سخت پیاس لگنا۔
 — کی لکچر: بوا، ناپائے دار، نقش برآب۔
 — کے ریلے میں بہانا: (۱) پانی کی زد میں بہانا (۲) جھاڑا) ضائع کرنا، برباد کرنا، مفت کھونا، سستا بیچ ڈالنا۔
 — کے مٹول: (جھاڑا)؛ بہت سستا۔
 — کھڑا ہونا: پانی کا رگنا۔
 — گھٹنا: مینہ کا ٹھننا، بارش کا رگنا۔
 — گلے تک آجانا: (جھاڑا)؛ تباہی کے قریب پہنچ جانا، انتہا ہو جانا۔
 — لگنا: (۱) پانی کا موافق آنا، صحت مند ہونا (۲) پانی ناموافق ہونا، مضر ہونا (۳) پانی سے دانتوں کو پینے یا کھلے کرنے میں تکلیف ہونا۔
 — لینا: (۱) پانی پینا، پانی حاصل کرنا (۲) آب دست لینا، طہارت کرنا، استنجا کرنا۔
 — مرنا: (۱) دکھنا، نقصان ہونا، عیب ہونا (۲) پانی مکان یا دیوار میں جذب ہونا (۳) الزام آنا۔
 — منہ میں بھر آنا/ بھر لانا: جی لگنا، کسی کھتی چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آجانا، کسی چیز کے کھانے کی خواہش پیدا ہونا۔
 — میں آگ لگانا: (۱) نامکھن بات کرنا (۲) جہاں امن ہو وہاں لڑائی اور فساد کر دینا۔
 — تہ بچنا: پیٹ کا ہلکا ہونا، راز کی بات ظاہر کر دینا۔
 — نہ مانگنا: چھٹ پٹ مرجانا، کھانے کا موقع بھی نہ ملے۔
 — فوراً مرجانا۔
 — وانی: (۱) درانی تالچ مہل، پانی وغیرہ۔

- سٹونکننا: (۱) کچھ پڑھ کر پانی پر دم کرنا (۲) محضے کا زیادہ پانی پھونک کر نکال دینا۔
 — پھیر دینا: سخت برباد کر دینا۔
 — پھیرنا: (۱) جلا کرنا، طبع کرنا، تلوار پر آب چڑھانا (۲) تباہ کرنا، مٹا دینا۔
 — ٹوڑنا: (۱) پانی گھٹانا (۲) پانی لے لینا، پانی کاٹنا، بندیا نہر سے پانی چھوڑنا، ملاح کا پانی چھوٹے گھسیٹنا۔
 — ٹپکانا: پانی چوانا، پانی بچوڑنا، نزع کے وقت حلق میں پانی چوانا، قطرہ قطرہ پانی گرانا۔
 — ٹپکنٹا: پانی کا قطرہ قطرہ کر کے گرنا، گھری چھت کی خرابی سے پانی گرنا یعنی چھت کا ٹپکنا۔
 — ٹوٹ جانا: پانی کم ہو جانا، پانی کے چشمے (بھرنے) سے سلسلہ ٹوٹ جانا۔
 — چڑھانا: (۱) بہت سا پانی پی جانا (۲) چولھے پر رکھنا (۳) صیق کرنا، جلا کرنا (۴) بلندی پر پانی لے جانا۔
 — چڑھنا: کنوئیں تالاب وغیرہ کا پانی اپنی حد سے اونچا ہو جانا، سینپنا۔
 — چوانا: پانی ٹپکانا، چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں سے حلق نر کرنا، حالت نزع میں تھوڑا تھوڑا سا پانی حلق میں پہنچانا۔
 — چھاخول یرستا: موسلا دھار مینہ برستا۔
 — چھڑکنا: پانی کے چھینٹے دینا، کسی چیز پر اس طرح پانی ڈالنا کہ چھوٹی چھوٹی ٹوندوں کی شکل میں گرے، پھر کا کرنا۔
 — چھوڑنا: (۱) پانی دینا، پانی جاری کرنا (۲) پانی پینا ترک کر دینا (۳) کچھ وقت گوشت یا ترکاری کا پانی نکل کر اکٹھا ہو جانا۔
 — دکھانا: جانوروں کو پانی پلانا۔
 — دم کرنا: کوئی دُعا پڑھ کر پانی پر پھونکنا۔
 — سر سے اونچا ہو جانا/ گزرتنا: معاملے میں طوالت ہو جانا کسی امر کا انتہا کو پہنچ جانا، بربادی کے قریب پہنچ جانا۔
 — سٹمونا: گرم پانی میں سرد پانی ملا کر مُعَدِل کرنا۔

پائینچے سے نکلی پڑتی ہے: (عوم) (مقولہ)؛ غصے کے مارے
آپے سے باہر ہوئی جاتی ہے۔

پاکے/یا: (ف) پاؤ۔

پائینچہ/پائینچہ: مقید، گرفتار۔

بند/پابند: مقید، مجبور، گرفتار۔

بوسی/پالوسی: قدم چومنا۔

تابہ: موزہ۔

تخت: (ف) مذکر؛ تخت گاہ، دارالسلطنت، راج دہانی

ثبات: ثابت قدمی، استقلال۔

خانہ: دیکھو پاخانہ۔

دار: مضبوط؛ دیرپا۔

دان: جوتے اتارنے کی جگہ، کھاڑی کی وہ جگہ جس پر پاؤ
پرکھ کر سوار ہوتے ہیں۔

رفتن نہ جائے ماندن: (مقولہ)؛ (ف)؛ نہ جانے کی

طاقت نہ ٹھہرنے کی جگہ، دونوں صورتوں میں دشواری، مجبوری

کی صورت، جب کچھ نہ بن پڑے۔

زیب: دیکھو یازیب۔

گاہ/پائے گہ: (ف) موت؛ (۱) قدر، مرتبہ، منزلت۔

(۲) منصب، اجلاس، بکھری (۳) طویلہ۔

پایاں: (ف) مذکر؛ انتہا، آخری حد۔

پائیل: موت؛ (۱) وہ پتہ جس کی پیدائش عام طریقے کے خلاف

ہو۔ یعنی سر کے بدلے پہلے پاؤ نکلیں (۲) پاؤ کا زیور (۳)

تیز چلنے والی اتھنی، ہاتھی کی ایک تیز چال۔

پائیندہ: (ف) صفت، ہمیشہ قائم، استوار۔

پایہ: (ف)؛ (۱) نیو، عمارت کی بنیاد (۲) قدر، منزلت، رتبہ، درجہ

(۳) پٹنگ، تخت، کرسی، میز وغیرہ کا وہ ڈنڈا جس پر وہ قائم ہے۔

(پایہ) شہوت کو پہنچنا: ثابت ہو جانا۔

شناس: مرتبہ شناس، قدر شناس، تہ دردان۔

(پایہ) عرش ہلانا: (کنایتاً)؛ عرش تک دعایا نسرنا

کا اثر پہنچنا۔

ہوا ہو جانا: پانی انجیر بن کر اڑ جانا، بارش کے آثار ظاہر
ہو کر ہوا سے مطلع صاف ہو جانا۔

ہو جانا: (۱) پتلا ہو جانا، پگھل جانا (۲) ملایم ہو جانا، نرم ہو جانا
(۳) دھار کا کند ہو جانا (۴) ٹھنڈا ہو جانا، سرد پڑ جانا (۵)

دشوار کام آسان ہو جانا، (۶) خراب ہو جانا۔

پاؤ: مذکر؛ چوتھائی، چوتھا حصہ۔

بکھر: ایک پاؤ کے برابر وزن۔

روٹی: ڈبل روٹی، نان پاؤ۔

پاؤڈر: POWDER (انگ)؛ مذکر؛ سفوف، غازہ۔

پاؤ: POWER (انگ)؛ مذکر؛ قوت، طاقت،
توانائی، اختیار، اقتدار۔

پاؤنڈ: POUND (انگ)؛ (۱) برطانوی سکہ (۲) انگریزی
وزن جو ۲۲۲۰ کلو کے برابر ہوتا ہے۔

پائپ: PIPE (انگ)؛ مؤنث؛ (۱) نل، (۲) نلکی، نالی
(۳) تمباکو پینے کی نلکی۔

پانی: مؤنث؛ ایک آنے کا بار ہوا حصہ (اب یہ سکہ نہیں چلتا ہے)

پائیریا: PYORRHOEA (انگ)؛ مذکر؛ ذانتوں کی ایک
بیماری جس میں مسوڑھوں میں پیپ پڑ جاتا ہے۔

پائلٹ: PILOT (انگ)؛ مذکر؛ ہوا باز، جہاز چلانے
والا۔

پائپس: (ف) مذکر؛ نیچے، پائینٹی۔

باغ: مذکر؛ وہ باغیچہ جو مکان کی سطح سے نشیب میں
ہو، خانہ باغ۔

پائینٹی: مؤنث؛ (۱) چارپائی کے اداہین کی طرف کا حصہ (۲)
پٹنگ کا وہ حصہ جس طرف پاؤ ہوتے ہیں۔

پائینچا: پاتے جانے کے ایک طرف کا حصہ جس میں ایک ٹانگ رہتی
ہے۔

سجاری کرنا: آنا جانا چھوڑ دینا، ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا۔
باہر بیٹھنا، کسی فعل کے ترک کرنے کا عہد کرنا۔

کھوسنا/گھرسنا: پائے جانے کے پائینچے کو نیچے میں
انگھانا تاکر اوجھا ہو جائے۔

پیرٹا یا کتھا: صفت، سفید ہلکا عمدہ کتھا۔
پتلا: جس کے منہ میں دانت نہ ہوں، (صحیح پوپلا ہے)۔
پپوٹا: مذکر؛ وہ کھال جو آنکھ پر بخلاف کی طرح ہوتی ہے جس کے سرے پر پلکیں ہوتی ہیں۔
بھاری ہونا: بیہوشے پرورم ہونا۔
پپتیا: سیدی بجائے کاکھلونا، سیدی۔
پپینا: زخم میں پیپ آنا۔
پپیتا: مذکر؛ ایک قسم کا بھل، ارند خر بوزہ۔
پپیب: مذکر؛ (۱) ایک خوش آواز پرندہ جو برسات کے زمانے میں خوب بولتا ہے اور پی کہاں کہاں معلوم ہوتا ہے (۲) ایک باجا جو لڑکے آم کی گھٹلی سے بنا لیتے ہیں۔

پ - ت

پت: (۱) موت: غزت، آبرو۔
پت: صغرا، زرد رنگ کا کڑوا پانی جو پتے کے اندر رہتا ہے۔
ڈالنا: زرد رنگ کی صفراوی تے کرنا۔
پتتا: مذکر؛ ٹھکانا، ٹھور، نشان، سراغ، علامت۔
چلنا: سراغ ملنا۔
دینا: ٹھکانا بتانا، سراغ بتانا، نشان بتانا۔
نہ ہونا: غائب ہو جانا، نشان نہ ملنا، سراغ نہ چلنا۔
پتے کی / پتے کی بات: (۱) صحیح حقیقی بات (۲) اصل جڑ کی بات (۳) جیسٹی ہوئی بات۔
پتے کی کہنا / سنانا: جیسٹی ہوئی بات کہنا، عیب کھولنا، راز فاش کرنا۔
پتا: (۱) پان، برگ، ورق (۲) تاش کا پتا (۳) کان کا ایک زیور (۴) (مجازاً) ہلکا، ٹسک، پتلا۔
بانڈھنا: زخم پر پتار کھنا۔
نہی بے حکم خدا نہیں ملتا: (مثل)؛ کوئی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔
کھڑکا، بندہ سڑکا / سسٹکا: (مثل)؛ ذرا سے خطرے پر بھی بچنے کی ترکیب کرنا، ذرا سے اشارے سے مطلب

پ - ب

پبلشر: PUBLISHER (رانگ)؛ مذکر؛ کتاب یا اخبار شائع کرنے والا، ناشر۔
پبلک: PUBLIC (رانگ)؛ مؤنث؛ عوام، جمہور جنتا۔
پراسیکیوٹر: PROSECUTOR (رانگ)؛ مذکر؛ سرکاری وکیل، گورنمنٹ کی طرف سے کسی مقدمے کی پیروی کرنے والا۔
پبلک سروس کمیشن: PUBLIC SERVICE COMMISSION؛ وہ بورڈ جو سرکاری ملازمت کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرتا ہے۔
پبلک ورکس: PUBLIC WORKS (مور علائقہ)۔
ڈیپارٹمنٹ: DEPARTMENT۔
تعمیرات کا حکم۔

پ - پ

پپرمنٹ: PEPPERMINT (رانگ)؛ (۱) پودینہ، پودینے کا سست (۲) مٹھائی کی چھوٹی چھوٹی ٹمکیاں جس میں پودینے کا ذائقہ ہوتا ہے۔
پپرٹ: مذکر؛ دیوار کی کہل کا وہ حصہ جو پھول کر ابھرائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے۔
پپرٹ: مذکر؛ اڈیر کا پتلا چھلکا، پپرٹی، پچال۔
پپرٹا / پپرٹا جانا: پپرٹی بندھنا، سوکھ جانا، خشک ہو جانا، ہونٹوں کا خشک ہونا۔
پپرٹی: مؤنث؛ (۱) خشک پوست، سوکھے پرت، اوپر کی خشک تہ (۲) گیلی زمین جو خشک ہو کر جگہ جگہ چٹ جاتی ہے (۳) کالی یا چکنی مٹی کی وہ پرت جو سوکھنے کے بعد اپنی سطح سے علاحدہ ہو جاتی ہے (۴) حلوہ سوہن کی ایک قسم۔
آنا / بندھنا: پپرٹا جانا، پرت بنانا، تہ جانا۔
پرٹنا / جتنا: ملانی آنا، پرت جتنا۔

- تازہ جانا۔ معمولی سے خوف و خطر کی جگہ سے بھاگ کھڑے ہونا۔
 انتہائی چالاک اور ہوشیاری دکھانا۔
- گھڑوگنا: (۱) دمی سی آواز ہونا، آہٹ ہونا، ہوا چلنے سے
 پتوں کا آواز دینا (۲) معمولی سا اندیشہ یا خطرہ ہونا۔
- گنا: پتہ نمودار ہونا، کوئلے پر پتے کا دارغ پڑ جانا۔
- رہلنا: (رکنایتا)، ہوا بند ہونا، جھس ہونا۔
- پتیا: (۵) مذکر؛ باپ۔ والد۔
- پتیا: مذکر؛ (۱) ایک چھوٹا سا جسم کا اندرونی عضو جس میں صفراوی
 مادہ ہوتا ہے (۲) محسوسات، حوصلہ، جگر، دل، ہمت
 (۳) غصہ، تیزی، جوش (۴) خواہش، نفسانی، غیرت، شرم۔
- پتیا پانی کرنا: غصہ فرو کرنا، انگ بدارینا۔
- پتیا لگانا: کسی کام میں جی لگانا۔
- مارنا: (۱) غصہ کا ضبط کرنا، تحمل کرنا، لغویات اور حرص ہوا
 سے اپنے آپ کو بچانا (۲) انگ کا بدارینا، تکلیف برداشت
 کرنا، صبر کرنا۔
- پتال: دیکھو پتال۔
- کی خبر لانا: دیکھو پتال کی خبر لانا۔
- پتاؤر: خاص کی قسم کی لمبی گھاس جس سے چھتر بنتے ہیں۔
- پتت جھڑ: مونث؛ پتے جھڑنا۔ پتے جھڑنے کا موسم، موسم
 خزاں۔
- پتتر: مذکر؛ سونے چاندی کے لیے پتلے چھڑے دار کھوے، لوہے کے
 لیے اور چوڑے کھوے۔
- پتتر: مذکر؛ خط، چٹھی۔
- پتتر: (س) مذکر؛ بیٹا۔
- پتترا: مذکر؛ (۱) جنتری، وہ کاغذ یا کتاب جس پر سال بھر نجوم کی رو
 سے جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ درج ہوتے ہیں (۲) دھات کا
 مستطیل ٹکڑا (۳) خول پڑھانے کا درق۔
- پتتری: مونث؛ جنم پتری، زاپہ، خط، چٹھی۔
- پتتری: (۵) مونث؛ بیٹی۔
- پتتل: مونث؛ ڈھاک کے پتوں کی بنی ہوئی کھانا پر دسنے
 کی تھالی۔
- پروٹسا: پتل میں کھانا پھنا، کھانا رکنا۔
- پتلا: باریک، مہین، دُبلّا، بھنے والی چیز۔
- حال: خراب حالت، غیر حال۔
- پتلا: مذکر؛ (۱) مورت، مجسمہ، بُت (۲) مجسم، سرتا سر (۳)
 خاک، ہیولا۔
- خاک کا: (رکنایتا)؛ انسان۔
- گاڑنا، تسغیر کے لیے ایک قسم کا لومکا۔
- پتلاؤن، مذکر، مونث؛ اگھیزی وضع کا پاجامہ، پینٹ
 پتلی: پتلا کی مونث؛ مہین، باریک۔
- وال کھانے والا: (رکنایتا)؛ کم زور، بولا، کم ہمت۔
- پتلی: مونث؛ (۱) گڑیا، مورت (۲) نازک عورت، حسین عورت
 خوب صورت عورت۔
- پتلی بن کے رہ جانا: ساکت رہ جانا، بے حس و حرکت ہو کے
 رہ جانا۔
- پھیر لینا: (رکنایتا)؛ بے وفائی کرنا، بے مروتی کرنا۔
- گھر، دل، مشینوں کا کارخانہ۔
- میں دم پڑ جانا: نزع کی حالت میں ہونا۔
- پتھر اگانا/پتھر انا: پتلیوں کا بے حس و حرکت ہونا۔
 نزع کا وقت قریب ہونا۔
- میں گھر کرنا: بہت پیلا ہونا، بہت عزیز ہو جانا۔
- پین: (۵) مذکر؛ گزنا، گراوٹ، زوال۔
- پتلا: (۱) پھارا پھرنا، پوتا جانا (۲) مذکر؛ وہ پھرا جس سے پھارا پھرتے
 ہیں۔
- پتنگ: مذکر؛ (۱) کنگو (۲) پتنگا، پروانہ (پرورد کیڑا)۔
- بازی: مونث؛ کنگو اڑانا، کنگوؤں کا کھیل۔
- بڑھانا: پتنگ کو فضا میں بلند کرنا۔
- ڈھا جانا: پتنگ کا بے قابو ہو کر گر جانا۔
- ڈھا دینا: بڑے ہوئے کنگو سے کوگرادینا۔
- ملا نا: لڑانے کے لیے ایک پتنگ کا دوسری پتنگ کی
 طرف جھکانا۔
- پتنگا: مذکر؛ (۱) ایک پرورد کیڑا، پروانہ (۲) وہ آگ کی چنگاری

کا جواب پتھر: (مثل) سخت بات کا جواب سخت ہوتا ہے۔

کا چھاپا: لیتوگراف کا وہ چھاپا جس میں کاپی پتھر پر جاکر چھائی جائے۔

یانی ہونا: سخت دل پھل جانا، سنگ دل کو رحم آجانا، نمبوس کا فیاض ہونا۔

میں جو تک نہیں لگتی: (مثل) جس پر کوئی نصیحت کا اثر نہیں ہوتی، کوئی بات اثر نہیں کرتی (۲) نمبوس کو رحم نہیں آتا، بھل پیسا خرچ نہیں کرتا۔

پرانا نا: کسی چیز کی دھار پتھر پر تیز کرنا۔

پڑنا: (۱) پتھر برسائے جانا، سنگ باری ہونا، اولے پڑنا (۲) (مجازاً) آفت پڑنا، مصیبت آنا۔

پہننا: (۱) پتھر میں نمی آنا (۲) (کنایتاً) سخت دل والے کا نرم پڑنا، بھل کا کچھ خرچ کرنے پر آمادہ ہونا۔

پھوڑا: مذکر: (۱) پتھر کاٹنے اور گھڑنے والا، سنگ تراش: (۲) ہڈی۔

تلے دامن دینا: مصیبت میں پہننا، تکلیف میں مبتلا ہونا، بے بس ہونا۔

تلے سے ہاتھ نکلنا: مصیبت سے نجات پانا، زبردست کے بچنے سے رہائی پانا۔

تلے ہاتھ ہونا / دینا: (۱) بھاری لوجھ کے بچنے ہاتھ کا دب جانا، (۲) (مجازاً) مجبور ہونا، بے بس ہونا، زبردست کے قابو میں آجانا۔

چاٹنا: کسی دھار والی چیز کا پتھر پر رگڑنے سے تیز ہونا۔

چٹنا: (۱) ایک قسم کی گھاس (۲) ایک قسم کا سانپ جو پتھر چاٹتا ہے۔

چٹانا: دھار دار چیز کا پتھر پر تیز کرنا، سان پر رکنا۔

چھاتی / کپٹے پر دھرنا / رکھنا: صبر کرنا، برداشت کرنا، مصیبت بھیلنا۔

ڈھونا: (کنایتاً) سخت محنت کرنا، بہت محنت کا کام کرنا۔

جو ہوا میں اڑتی ہے، چراغ کا پھول، چنگاری۔
تنگے لگانا: پھیرنا، شرارت کرنا، جلانا۔

تنگے لگنا: بہت ناگوار گزارنا، غصے سے بدن میں آگ لگانا۔
پتھتی: (۵) موت؛ بیابانی ہوئی عورت، بیوی۔

پتھوار: موت؛ وہ لکڑی جس سے کشتی کو موڑتے ہیں، کھم، اڑوا۔

پستی: موت؛ (۱) چھوٹا پتلا، کپول (۲) بھنگ (۳) شرت، مشترک چیز کا حصہ، تلم کی نب (۴) بونی (۵) دھات کا پتھر۔

دار: حصے دار، شریک۔

پستی: موت؛ ایک بیماری جو خون کے جوش سے پیدا ہوتی ہے۔

اچھلنا / نکلنا: بدن پر دوڑے پڑ کر غارش ہونے لگانا۔
رود و پستی کا پیدا ہونا۔

پتیا نا: کسی امر کا یاد کرنا، یقین کرنا، خاطر میں لانا، بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا، راضی ہونا۔

پتیل: (عوا) باریک، بھر بھرا مہین کپڑا، بہت باریک کپڑا۔
پتیل: مذکر؛ بڑے سنہ کا دیگ۔

پتیلی: موت؛ بڑے سنہ کی دیگی۔

پستی ورتنا: شوہر پرست بیوی، دفا شمار بیوی، شوہر کی وفادار بیوی۔

پتھر: مذکر؛ (۱) سنگ (۲) اولہ، زوال (۳) جواہر، میرا، لعل، زمرد یا قوت وغیرہ (۴) کڑے رحم، سخت دل (۵) (مجازاً)؛

سخت چیز، کڑی چیز (۶) بھاری، وزنی، ثقیل (۷) غبی، بے وقوف، کند ذہن (۸) دشوار کام (۹) ساکت، جامد، خاموش (۱۰) نمبوس، ٹمک۔

برٹنا: اولے پڑنا۔

بن جانا: سخت دل ہونا، بُت بن جانا، سنگ دل ہونا۔

کا پھلنا: سخت دل کا نرم پڑنا، نرم ہونا۔

کا جگر: (۱) نہایت سنگ دل (۲) جس میں برداشت کی بہت طاقت ہو۔

کا جگر پانی ہونا: سخت دل کو ترس آنا، سنگ دل کا سیننا۔

پھینتی: پیاز کی آندھی۔

پ۔ٹ

پٹ: مذکر؛ (۱) کواڑ، دروازے کی جوڑی کا ایک حصہ (۲) آڑ، گھونٹھٹ (۳) اوندھا، سرنگوں (۴) کسی چیز کے گرنے کی آواز (۵) فوراً، جلدی (۶) کپڑے کا عرصہ، پاٹ۔
— پھینٹنا: کواڑ بند کرنا۔

— پٹ بولنا: تراق پڑا تراق بولنا۔

— پیڑنا: (۱) خلاف ہونا، غیر موثر ہونا، تدبیر یا کسی حربے کا بے اثر ہونا، بے سود ہونا (۲) اوندھے منہ گرنا (۳) آتلوار کا پہلو کے بل گرنا۔

— سے بولنا: تراق سے کہہ دینا، بیچ میں بول اٹھنا۔

— کھولنا: دروازہ کھولنا، کواڑ کھولنا۔

پٹ: مؤنث؛ شامہ، بو، آمیزش، چاشنی، غیر۔

پٹا: فن سپرگری کا ایک شعبہ، پھری گدھے کا کھیل۔

پٹے باز: پٹا کھیلنے والا، لکڑی کھیلنے والا۔

— پٹے کے ہاتھ دکھانا/نکالنا: (۱) ہاتھوں کو پٹے بازوں کی طرح حرکت دینا، (۲) (جماڑا) جھوٹی دھکی دینا، نمائشی دھک بٹھانا۔

پٹا: مذکر؛ (۱) گوبند، طوق (۲) اجارہ نامہ، ٹھیک نامہ، مالک زمین

کی طرف سے زمین کو کام میں لانے کا اجازت نامہ (۳) پڑا، ٹھٹھ

(۴) سر کے لیے بال پٹے (۵) کرہیں باندھنے کا کپڑا، چپراس۔

پیٹی (۶) محل وغیرہ کی جوتی کے پتے جن پر کام بنا ہوا، (۷) دوپٹا

اڈھنا ایک عرصہ کا (۸) حق اللذمت، انعام، رواج، نیک۔

— آٹارنا: چپراس چھین لینا، چپراسی کو ملازمت سے برخواست

کر دینا۔

— تڑٹنا: آزادی چاہنا، سجانے کا ارادہ کرنا، رسی یا زنجیر

تڑٹنا، جانور کا پٹا توڑ کر نکل جانا۔

— لکھوا لینا: قول و قرار کر لینا، معاہدہ کر لینا۔

— پٹا پٹ گرنا/پڑنا: پھلوں یا کسی چیز کا ٹگنا تار گرنا۔

— پٹا پڑنا: کسی چیز کی بھر مار ہونا، کثرت سے ہونا

— زمین: مؤنث؛ زمین شعر کے ردیف تالیف میں ہونا۔

— سامارنا/سینک مارنا/پھینچ مارنا: کڑوی بات کہنا،

سختی سے جواب دینا، ناگوار انداز میں بات کرنا۔

— سے سر پھوڑنا/مارنا: ناسمجھ کو سمجھانے کی مشقت اٹھانا،

کم عقل کو تعلیم دینا۔

— سے نصیب پھوڑنا: سنگ دل سے معاملت ہونا، بد قسمتی

انتہا کو پہنچ جانا۔

— کا دل موم ہو جانا: سخت دل انسان کا نرم دل ہو جانا،

دل ملائم ہو جانا، ترس پیدا ہونا۔

— کو/پیرا تڑکیا ہو: (مشل)؛ کم عقل پر کسی تعلیم یافتہ شخص

کا اثر نہیں ہوتا۔

— کی تصویر بننا: خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا، نقش

بن جانا، حیرت ہونا۔

— کی کھاتی: بڑا حوصلہ، بڑا دل، بڑا بگر، سخت جان۔

— کی لچر/لچکھ: (جماڑا)؛ پختی بات، مضبوط، زمیٹنے

والی چیز۔

— مارنا: (۱) پتھر پھینک کر مارنا، دیوانے پن کی حرکتیں کرنا،

(۲) رکنا یا تباہ؛ روکے پن سے بولنا۔

— مارے موت نہیں: (۱) (مشل)؛ نہایت سخت جان،

رکنا یا تباہ؛ بے حیا، بے غیرت۔

— موم کرنا: سخت چیز کو نرم کرنا، سخت دل کو نرم کر دینا۔

— ہونا/ہو جانا: (۱) سخت ہو جانا، تم کر سخت ہو جانا (۲)

دشوار ہونا، مشکل ہو جانا، بُت بن جانا، بے حس ہو جانا، خاموش

ہو جانا (۳) اڈھا ہونا، بے کار، ٹکٹا ہونا۔

— پتھرانا/پتھرا دینا: (۱) آٹھ کو پتھر کی طرح بے حس کر دینا، آٹھ

کانڈھا کرنا، پتھر بن جانا، سخت ہو جانا۔

— پتھراو: پتھر پھینکنا، سنگ باری۔

— پتھری: مؤنث؛ (۱) ایک قسم کا سخت مادہ جو مٹانے یا گردے

وغیرہ میں مشل پتھر کے جم جاتا ہے (۲) پتھر کا چھوٹا ٹکڑا، سلی

(۳) سنگ چٹاق (۴) پرندوں کا سنگ دان (سنگ دان)۔

— پتھر پلا: پتھر کا، پتھر ملا ہوا۔

پیتو: مذکر، (۱) ایک قسم کا اونی کپڑا (۲) بارانی برساتی۔
پیتوا: مذکر؛ (۱) ریشم کا کام کرنے والا، زری باف (۲) وہ جو مالا یا زیور میں ڈورے ڈالتا ہے۔
پیتواری: مذکر؛ گاؤں کی زمینوں وغیرہ کا حساب رکھنے والا، لیکھ پال۔

پٹی: مونث؛ (۱) حصہ، ٹکڑا (۲) گاؤں کا چھوٹا حصہ (۳) کاغذ یا کپڑے کی چوڑی لمبی دھٹی (۴) ایک قسم کی شیشی کی قلمیں (۵) چارپائی یا پلنگ کا بازو (۶) ملتے پر کسی چکنائی سے جو بال جاتے ہیں (۷) تختی، لوح (۸) سبق، ترغیب، فریب (۹) وہ کم چوڑا ٹکڑا کپڑا جو زخموں پر باندھا جاتا ہے۔

— **پٹھانا:** ورنٹانا، بہکانا، پھسلانا، سمھانا، بھانا، تعلیم دینا۔
 — **تلمے کا:** (۱) کم رتبہ، حقیر، ذلیل، بے وقعت (۲) مقرب، سب سے زیادہ پیارا۔

— **دار:** گاؤں کا مشترک دار، گاؤں کی کچھ زمین کا مالک، جزوی زمین دار۔

— **مکانا:** عورتوں کا سر کے بالوں کی ایک خاص طرح سے آرائش کرنا۔

— **پٹے:** سر کے نم کھائے ہوئے بال جن کو بعض مرد سر کی طرف لائیں تک لٹکاتے ہیں، کاسل۔

— **چھوڑنا:** مردوں کا سر کے بالوں کو لائوں کے اوپر تک چھوڑنا۔
پٹیاں جمانا: سر کے دونوں طرف کے بالوں کو کسی لیس داہیر سے جانا۔

پٹیت: مذکر؛ پٹے باز پھری گد کے سے کھینچنے والا۔

پٹیتی: (۱) پٹے کے فن میں مہارت (۲) دشمنی، عداوت۔
پٹیل: مذکر؛ گاؤں کا سردار، مقدم، چودھری۔

پٹیللا: (۱) ایک قسم کی گھاس (۲) ایک قسم کی چوڑے پیندے کی کشتی جس پر تختے بچھا دیے جاتے ہیں (۳) زمین ہم وار کرنے کا تختہ، پٹرا (۴) سیل، چٹان۔

پٹیلنا: حاصل کرنا، کمانا، زبردستی لینا، زہر کرنا۔

پٹانا: مار کھلوانا، پٹوانا، ستانا، نقصان پہنچانا۔
پٹنارنا: پٹینا، کوڑے لگانا، دھکانا۔

پٹاخ سے لونا: تیزی سے بول اٹھنا، جو منہ میں آئے جلدی سے کہہ دینا، تڑاق پڑاق لونا۔
پٹاخا/پٹاکا: مذکر؛ ایک قسم کی آتش بازی جس میں سے آواز نکلتی ہے۔

پٹارا: مذکر؛ بانس یا سید کا ڈھکن والا گول ٹوکرا۔
پٹاری: مونث؛ چوٹی ٹوکری۔
 — **میں بند رکھنے کے لائق:** (۱) طرز و بوج کے انداز میں؛ عجیب و غریب نادر چیز۔

پٹاس: مذکر؛ ایک قسم کا کھار۔
پٹانا: (۱) معاملہ ٹھیک کرنا، سودا بنانا، جھگڑا فیصل کرنا کسی کو ہم وار کر لینا (۲) وصول کرنا، بھونانا (۳) بیگنا (۴) چھٹ ڈلوانا۔

پٹ پٹانا: کسی چیز کو بھل بھل گرم رکھنا، میں بھون لینا۔
پٹ پٹانا: (۱) حسرت کرنا، افسوس کرنا۔

پٹرول: PETROL (انگ)؛ مذکر؛ معدنی تیل جو موٹر کار یا ہوائی جہاز وغیرہ میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
پمپ: PUMP (انگ)؛ مذکر؛ وہ جگہ جہاں پٹرول فروخت ہوتا ہے اور پمپ کے ذریعے ٹینکوں میں بھرا جاتا ہے۔

پٹرولنگ: PATROLLING (انگ)؛ مونث؛ فوج یا پولیس کے سپاہیوں کی گشت۔ پہرہ۔

پٹرولیم: PETROLEUM (انگ)؛ مذکر؛ خام پٹرول جو مشینوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

پٹری بدلنا: (۱) راستا بدلنا (۲) گفتگو کا موضوع بدلنا (۳) وعدے سے پھر جانا (۴) (سیاست) کسی دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہوجانا۔

پٹنا/پٹ جانا: (۱) پوشش ہونا، چھایا جانا (۲) (۱) ہوجانا (۳) طے ہونا، قیمت چکنا (۴) بھڑنا، اٹنا (۵) آب پاشی ہونا، (۶) کسی چیز کا کثرت سے ہونا۔

پٹنا: (۱) مار کھانا، تنبیہ ہونا (۲) لوٹا جانا (۳) چوٹ کھانا (۴) جھگڑا۔

پٹھنا: پٹھنا، پٹھنا۔
پٹھنا/پٹھنی دینا: کسی کو زمین پر دے مارنا۔
پٹھنیا دینا: بار بار دے مارنا۔
کھانا: پچھاڑے کھانا، گرنا، گر گر کر سنبھلنا پھر
 گرنا۔

پٹرا: مذکر؛ (۱) لکڑی کا تختہ، چھوٹے چھوٹے پایوں کی چھوٹی چوکی
 (۲) دھویوں کا کپڑے دھونے کا تختہ، کھیت کی زمین ہم وار
 کرنے کا تختہ۔

پٹھیرنا: کھیت کے ڈھیلوں کو پڑا پھلا کر توڑنا اور اس کی
 زمین ہم وار کرنا۔

گردینا: ستیاناس کر دینا، برباد کر دینا، تباہ کر دینا۔

پٹیر پٹیر باتیں کرنا: بچوں کا صاف صاف باتیں کرنے لگنا۔

پٹرسی: موٹھ؛ (۱) تختی، چھوٹا سا تختہ (۲) پیدل چلنے کی چھوٹی

سی سڑک، فٹ پاتھ، روش، (۳) سلیٹ (۴) چاندی تانبے

کی تختی جس پر کوئی نقش یا تعویذ لکھ دیا کر گئے ہیں ڈالتے ہیں،

(۵) سونے چاندی، یا لاکھ کی چوڑی چوڑی۔

پٹس: موٹھ؛ (۱) ماتم، کہرام (۲) زد و کوب۔

پٹرنا/پٹینا: (۱) ماتم ہونا، کہرام ہونا (۲) مار پڑنا۔

پٹسن: مذکر؛ سن کا پودا جس سے سن نکالتے ہیں۔

پٹکا: مذکر؛ (۱) پتی، کر بند (۲) کر پیچ۔

پٹھنا: (۱) کر باندھنا (۲) لکھنا؛ کسی امر کا نتیجہ کرنا،

کسی امر پر مستعد ہونا۔

پٹھکن: موٹھ؛ (۱) بے چینی، بے کلی (۲) دھکا (۳) گرنا، سوجن

کا کم ہونا۔

پٹکننا: (۱) کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر دے مارنا (۲) درم کم ہونا۔

پٹکنی: موٹھ؛ گرنا۔

پٹکی: موٹھ؛ صدمہ، ضرب۔

پٹکی: موٹھ؛ (۱) آفت، مصیبت، خدا کا تہر، ناگہانی موت (۲)

گنتی (۳) دارغ دھبا (۴) وہ بیسن یا آتا جو شور باکاڑھا کرنے

کے لیے اکثر ساکن یا ساگ میں ڈال دیتے ہیں۔

پٹرنا: آفت آنا، غضب الہی نازل ہونا، صدمہ پہنچنا، موت

آنا، ناگہانی موت آنا، غارت ہونا۔

پٹلا: مذکر؛ پشتارہ جس میں چیزیں باندھے ہیں، پوٹلا۔

پٹلی: چھوٹا پٹلا، پوٹلی۔

پٹم: ہو جانا؛ بالکل اندھا ہو جانا، پوٹ ہو جانا، خراب ہو جانا۔

پٹن: (دہلی)؛ موٹھ؛ پٹس، ماتم، کہرام، رونا پٹینا۔

پ - ٹھ

پٹھ: مذکر؛ (۱) مرغ کا مادہ پچھا، بڑا ہوزہ (۲) بکری کا مادہ پچھا،

جوان بکری جو بیانی نہ ہو۔

پٹھ: گائے بکری وغیرہ کے سرین کا گوشت۔

پٹھا: مذکر؛ (۱) وہ گوشت کی باریک ڈور جس کے وسیلے سے بدن

کے اعضا سکتے پھیلنے اور کھینچتے ہیں (۲) زعفر، نوخیز، نوجوان

(۳) پہلوؤں کی اصطلاح میں شاگرد (۴) انسان یا حیوان کا

جوان بچہ۔

پٹھا: مذکر؛ (۱) چوپائے کے دُم کی جگہ، جانور کا سرین (۲)

گھوڑے کے سرین۔

پٹھے: پھر ہاتھ نہ رکھنے دینا؛ (۱) وہ تیز گھوڑا جو بدن چھونے

نہ دے، (۲) (لکھنا)؛ پاس نہ پھٹکنے دینا، قریب نہ آنے

دینا۔

پٹھان: مذکر؛ (۱) افغان، مسلمانوں کی چار ذاتوں میں سے ایک

ذات (۲) افغانستان کے باشندے۔

کاپوٹ گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت: (دش)؛

تینوں مزاجی، پٹھان کے مزاج اور موڈ کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی

بہت مہربان اور کبھی بہت سخت اور بد مزاج۔

پٹھو: مذکر؛ (۱) مددگار، معاون، ہر وقت ساتھ رہنے والا، پیچھے

پیچھے رہنے والا (۲) کسی کا خاص جانب دار آدمی، خوشامدی۔

پٹھور: مرغی کا جوان بچہ جس نے انڈا دینا شروع نہ کیا ہو، (۲) بکری

گائے۔ جینس کا نوجوان پٹھا جس نے بچہ نہ دیا ہو، (۳) (مزاخا)؛

دو شیرازہ جوان عورت۔

پٹھے: (جمع پٹھاکی)؛ (۱) اعصاب (۲) مردوں کے سر کے دونوں

طرف کے بال، اکال (۳) نوجوان (۴) انگلیا کی آستیتوں کی

پوڑی گوٹ۔

پٹھیا: موٹھ؛ (۱) بکری یا گائے کی بے بیابھی مادہ (۲) جوانان
بیابھی لڑکی۔

پ-ج

پجاری: مذکر؛ پلوجا کرنے والا، پلوجنے والا، بتوں پر چڑھانا
لینے والا۔

پجواوا: مذکر؛ اینٹیں پکانے کا بھٹا، بڑا وہ (بہڑا وہ)۔

پ-ج

پچ: مؤنث؛ (پانچ کا مخفف) ، ٹھسب، طرفدار، پاس، سخن
پیروی۔

پچ پر ہونا: طرف دار ہونا۔

درا: پانچ دروازوں کا مکان۔

کرنا / لینا: حمایت کرنا، جانب داری کرنا۔

لڑا / لڑی: عورتوں کا زیور، گلے کا ہار، جس کی پانچ
لڑیاں ہوتی ہیں۔

محلما: پانچ منزل کا مکان۔

میل: پانچ قسم کی کوئی چیز، پانچ قسم کی پانچ طرح کی ملی ہوئی
مرتب (میسے پنج میل مٹھانی یا دال وغیرہ)۔

پچا بندھنا: ہضم کر لینا، غصب کرنا۔

پچاننا: (۱) غذا ہضم کر لینا (۲) (کنایتاً)؛ کسی کمال مار لینا۔

پچارا: مذکر؛ دم، دھوا، فریب (۲) کوٹی، برش (۳) چونا یا کسی
اورنگ والی چیز کی پتلی تہ، ہلکی رنگت۔

دینا: (۱) خوشامد کرنا (۲) رنگ یا روض پھیرنا، چوتنا یا
رنگ کی پتلی تہ پھیرنا (۳) فریب لینا (۴) اکسانا، ترغیب دینا۔

کرنا / پھیرنا: (۱) کوپی پھیرنا، سفیدی کرنا، ہلکا رنگ
دینا۔ ہلکا ہار کرنا، پیرایائی میں جھگو کر پتے فرش پر صفائی

کی غرض سے پھیرنا (۲) ترغیب دینا، بہکانا، اکسانا، گولاسا
دینا۔

پچاس: مذکر؛ عدد ۵۰۔

پچاسول: کثرت سے، بہت سے۔

پچپچیا: رطوبت سے بھرا ہوا، تری سے آلودہ، آدھ کچا کھانا جس
کا پانی جذب نہ ہوا ہو۔

پچپچیا ہست: پچپچیانے کی کیفیت، رطوبت بھری ہوئی۔

پچپچرڈ: مؤنث؛ (۱) میخ، کھونٹی (۲) کلومی کا چھوٹا ٹکڑا جو کسی درز
کو بند کرنے کے لیے لگایا جائے (۳) روک، ٹوک، مزاحمت۔

اڑانا / لگانا: (۱) تختے کی درز میں لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا رکھنا۔
رخنڈ ڈالنا (۲) (کنایتاً)؛ مزاحمت کرنا، مانع ہونا، رکاوٹ ڈالنا۔

ٹھوٹکنا: تکلیف دینا، صدمہ پہنچانا، مزاحمت کرنا۔

مازنا: بھائی مارنا، رخنہ انداز ہونا، مزاحم ہونا، دشمنی
کرنا۔

پچکٹ: مؤنث؛ کسی برتن یا کسی چیز میں چوٹ سے جو کئی آجائے یا
غزٹھا پڑ جائے۔

جانا: (۱) کسی چیز میں کسی صدمے چوٹ وغیرہ سے گزٹھا پڑ جانا
کئی آجانا۔ دب جانا (۲) مغلوب ہوجانا، ڈر جانا۔

پچکارنا: تھکننا، چکارنا، پیار کرنا، نسلی دینا۔

پچکاری: مؤنث؛ وہ کھوکھلا آلہ جس میں سے ہوا کھینچ کر یا باہر
کر کے رقیق چیزیں بھرتے اور نکالتے ہیں۔

پچکانا: دباننا، ہضمینا، دھسنانا۔

پچکٹنا: دینا، دھسننا، اندر بیٹھ جانا، سگڑنا، چوٹ کھا کر برتن
کا دب جانا۔

پچ میل: (۵) مذکر؛ بلا ٹھلا، پانچ قسم کی ملی ملی چیزیں۔

پچننا: (۱) ہضم ہونا، نکلنا، تحلیل ہونا (۲) بہت کوشش کرنا، تکلیف
اٹھانا، محنت کرنا (۳) ہارنا، تھکننا (۴) سہارنا، کسی کا مال

واپس نہ کرنا، کسی کی چیز اپنے پاس رہنا۔

پچنا: دینا، کپل جانا۔

پچنی: (۱) چیکا ہوا، سیا ہوا، جڑا ہوا، کوئی چیز دوسری چیز میں
سما کر چسپاں ہو جائے (۲) مضبوط، پکا، پختہ (۳) جوڑ، پیوند

(۴) سڑ سے سڑ ملا ہوا، ہم آواز۔

کاری: مؤنث؛ مرقع سازی، جڑاوا کام، جواہر اور مختلف
پتھروں کو ملا کر نصب کرنا، پیوند کاری، چوڑ والا فرش،

پھیرنا: گرنا، چت ہونا، ہارنا کسی سے زیر ہونا، زمین سے ٹٹھک جانا، بیمار پڑنا۔
پھیرنا: پیچھے رہ جانا۔

پچھلا: (۱) پیچھے کا، آخر کا (۲) سحری، وہ کھانا جو رمضان میں اخیر
شب میں کھاتے ہیں (۳) پڑھا ہوا، آموختہ (۴) رات
کا اخیر حصہ۔

پچھڑ: رات کے چار پہر میں سے آخری پہر۔
کھانا: سحری۔ وہ کھانا جو رمضان میں آخری شب میں
کھایا جاتا ہے۔

پچھلی رات: آدمی رات کے بعد کا وقت، رات کا آخری حصہ۔
پچھلے پانچ پھرنا: (۱) اگلے پانچ پھرنا، فوراً واپس ہونا (۲) شکست
کھانا، ہار جانا۔

دن: گزرے ہوئے دن، گزرا ہوا زمانہ۔
پچھلا: مذکر: (۱) دم گزرا، دم چھلا (۲) وہ بچہ جو ہمیشہ ماں کے ساتھ
ساتھ لگا رہے (۳) وہ شخص جو کسی کا پیچھا نہ چھوڑے ساتھ
ہی ساتھ رہے۔

پچھل پیڑھی: (۵) موت: ڈائن، چڑیل، جادوگرنی، منوس
کچھ لکھا: ساتھ ساتھ پھرنے والا، طفیل۔

پچھیم: مذکر: مغرب، مغربی ملک۔
پچھنا: وہ اوزار جس سے بدن گود کر سینگ لگائی جاتی ہے۔

پچھنے دینا: (۱) پچھنے لگانا، گودنا (۲) طے دینا۔
لگانا: (۱) سینگ لگانا، کسی تیز اوزار سے جسم کو گود کر خون
نکلانا (۲) طے دینا۔

پچھنا: پونچھا جانا، صاف کیا جانا۔
پچھوا/پچھوانی/پچھیاؤ: موت: پچھیم کی ہوا۔

پچھواڑا: مذکر: مکان کے پیچھے کا حصہ۔
پچھوڑ/پچھوڑن: موت: وہ کوڑا کرکٹ جو غلے کی صفائی میں
نکلنا ہے۔

پچھوڑنا: فلہ سوپ سے صاف کرنا۔

پ-خ

تخ: موت: (۱) روک (۲) بک بک، شور بل (۳) جھگڑا، دقت،

اینٹ چونے کا مضبوط کام۔

کاری کرنا: اینٹ چونے کا مضبوط کام کرنا، نقاشی کا کام
کرنا، مرتع کام کرنا۔

کرنا: ٹھونگ کرلانا، پیوست کرنا، مستحکم کرنا۔

ہونا: ملنا، پیوست ہونا، جوڑ مل جانا۔

پچکی: کسی چیز کا جوٹ پا کر بوڑھی ہو جانا، کسی حد سے گوشت
کا ڈب جانا۔

پچکیت: (۱) دائیہ پچ کرنے والا، کشتی لڑنے والا (۲) (مجازاً)؛
چالاک۔ فریبی، ہوشیار۔

پچکیتی: موت: (۱) دائیہ پچ کاشن، فریب، مکاری، چالاکی،
(۲) دائیہ پچ کا جاننے والا۔

پچکس: عدد ۲۵۔

پچکسی: موت: جو سر کا ایک کھیل جس کی بساط کی چار پٹیاں ہیں
پچکسی خانوں کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جو کڑیوں سے کھیلا جاتا
ہے۔

پ-چھ

پچھاڑ: موت: پیٹھ کے بل گر جانا۔

دینا: (۱) گرا دینا چت کر دینا، ہرا دینا (۲) بیمار کر دینا، کم زور کر دینا
(۳) (مجازاً)؛ مار ڈالنا۔

کھانا/پچھاڑیں کھانا: پیٹھ کے بل گر کے لوٹنا، بے جینی سے
اٹھ جانا، پیٹھ کے بل گر کے لوٹنا۔

پچھاڑنا: (۱) گرا دینا، کشتی تینا چت کر دینا (۲) مایوس کر دینا، ہرا دینا۔

پچھاڑی: (۱) جو یوں کے پچھلے پانچ کا حصہ (۲) وہ رسی جو کسی
جانور خصوصاً گھوڑے کے پچھلے دونوں پاؤں میں باندھی جاتی

ہے۔

پچھاڑیں کھانا: لوٹنا، تڑپنا، گر گر پڑنا۔

پچھال: مذکر: پچھیم، مغرب۔

پچھانا: پشیمان ہونا، بعد کو افسوس ہونا۔

پچھتاوا: مذکر: حسرت، پشیمانی، افسوس۔

(۵) گھوڑے کے پاتوں پر کے سفید دھبے۔
 پدمتی: مؤنث؛ ہندستان کی ایک مشہور ماہی کا نام (۲) ہندستان
 کے قدیم دانشوروں نے عورتوں کی جو چار قسمیں کی ہیں ان
 میں سب سے پہلے درجے کی حسین عورت۔
 پدنا: لازم، ہارنا، رنگنا جانا۔
 پدوڑا: (۱) پادنے والا (۲) ڈرپوک، بزدل۔
 پدی: مؤنث؛ (۱) پدیا مادہ، چھوٹا پرند (۲) حیر اور ناچیسز
 انسان۔
 پدیا شرا: (۵) مذکر؛ (سیاسی اصطلاح) کسی خاص مقصد
 کے لیے پیدل سفر۔
 پدنگ: PUDING (انگ)، مؤنث؛ ایک قسم
 کا انگریزی میٹھا پکوان (۲) لکڑی کے چھیدوں کو بند کرنے
 کا مسالا۔

پ۔ ر

پیر: حرف ربط؛ اوپر سے، تک، لیکن۔
 پوتو: پوتے کا بیٹا۔
 دادا: دادا کا باپ۔
 نانا: نانا کا باپ۔
 نواسا: نواسے کا بیٹا۔
 پیر: (۲) مذکر؛ (۱) پنچھ (۲) پتا (۳) قوت (۴) پڑھار کے دونوں
 کاتھوں میں سے ایک (۵) تیر کے دونوں بازو۔
 آفتال: پر جھاڑتا ہوا، بے تاب، مضطرب، پریشان،
 پھوٹتا ہوا۔
 بال: ایک بیماری جس میں پلکوں کے اندر بال نکل آتے
 ہیں، پروال۔
 باندھنا: (۱) پرند کے شہ پر ڈور سے باندھنا تاکہ اڑنے
 نہ پائے۔ (۲) کینا تیا، بے بس کرنا، عاجز کرنا۔
 پرزوں سے ڈرست ہونا: ساز و سامان سے ٹھیک
 ہونا، اسباب ضروری موجود ہونا۔
 پرزے جھڑتا: ضعیف ہونا، سکت نہ رہنا، قوت زایل ہونا

پھیلا نا: (دہلی) فلو پھیلا نا جھگڑا کرنا، بکواس کرنا۔
 لگانا: (۱) کسی کام میں روک پیدا کرنا (۲) جھگڑا پیچھے لگانا،
 (۳) شرط لگانا، قید لگانا۔
 نکالنا: عیب نکالنا، نقص نکالنا، اعتراض کرنا۔
 پنجال/پنچھال: مؤنث؛ پانی بھرنے کی بڑی مشک جو بیل پر
 لادتی جاتی ہے۔
 پنخت: مؤنث؛ کھانے پینے کا کام، پکنا۔
 ویز: مؤنث؛ (۱) ٹھیک ٹھاک، درست، پختگی،
 (۲) پکانا، ریندھنا۔
 پنختگی: مؤنث؛ (۱) پکنا، کھانے کا پک جانا یا گل جانا، پھل
 پک جانا، (۲) بلوغ (۳) استحکام، معنیوٹھی، پختہ کاری۔
 پنختہ: (۱) پکا ہوا، پکھا ہوا (۲) پکتا، مستحکم، معنیوٹ (۳) چونے
 کی گچ کا اینٹوں کا پختا ہوا، پاسے دار (۴) کارل، پورا، پوری
 عمر کا، بوڑھا (۵) طے شدہ (۶) تجربہ کار۔
 بات: طے شدہ امر، ٹھیک بات، پکنا معا
 کار: کام میں مشاق، تجربہ کار۔
 مزاج: مستقل مزاج۔

پ۔ د، ڈ

پدرا: مذکر؛ (۱) ایک چھوٹی خوش آواز چڑیا (۲) غلیل کا پر سے
 یا نواز کا وہ حصہ جس میں غلہ رکھ کر پھینکتے ہیں (۳) اذنا، حیر،
 ناچیز آدمی۔
 پدانا: کیل میں ہرانا، خوب دوٹا، تھکانا، بھگانا، تنگ کرنا۔
 پدر: (۲) مذکر؛ باپ، والد۔
 پدرانہ: باپ، بیسی، باپ کی طرح (شفقت وغیرہ)؛
 پدرمی: (۱) باپ کی، باپ والی (۲) آبائی، موروثی۔
 پدری/پدیری: مؤنث؛ (۱) بھدک، ایک چھوٹی سی چڑیا کا نام
 (۲) جھارنا؛ بے حقیقت، ناچیز، کم زور۔
 پدم: مذکر؛ (۱) شمار میں سوپنل (۲) کنول، نیلوفر (۳) انسان
 کی انگلیوں کے جوڑوں یا پاتوں پر جو قدرتی گول پکڑا ہوتا ہے
 جسے اقبال کی نشانی سمجھا جاتا ہے (۴) ماتمی کی کھال کے دماغ

پہرے نکالنا: (دکانیّا): اپنی چھٹی ہونی چاہیوں دکھانا
 شروع کرنا: طبیعت کی تیزی دکھانا، شرارت پر آمادہ ہونا۔
 تولنا: اڑنے کے لیے آمادہ ہونا، جھگڑنے پر آمادہ ہونا۔
 جلنا: گزنا، ناممکن ہونا، نارسائی ہونا، مقام بلند تک
 پار یا بی حال ہونا۔
 جھاڑنا: پرانے پر گزانا، گھبر کرنا، پردوں کو پھڑپھڑانا۔
 کھینچ کرنا: (۱) پرکھنا، پرکھنا (۲) بے بس کرنا۔
 گاہ: (۱) اضافت کے ساتھ؛ مذکر؛ (۲) گھاس پھوس کا پتہ
 (۳) (جھاڑا)؛ بہت ہلکا، ناقابلِ توجہ۔
 کٹنا: جی پھوٹنا، عاجز ہونا، ہمت نہ ہارنا۔
 کٹی اڑانا: گپ اڑانا، جھوٹ بولنا، بے بنیاد بات کرنا۔
 لگانا: (۱) تیز رفتار کر دینا، ترقی دینا، رونق پڑھانا۔
 مارنا: (۱) اڑانا، پردوں سے مارنا (مضب لگانا)؛ (۲) (جھاڑا)
 کسی کام میں بہت کوشش کرنا، بے تابی ظاہر کرنا۔
 نکالنا: (۱) قابلیت پیدا کرنا، بساط سے بڑھ کر حوصلہ کرنا
 (۲) شرارت کرنا، فتنہ سامانی کرنا۔
 وبال: (۱) پرندے کے پر (۲) (جھاڑا)؛ قوت۔
 پُر: مذکر؛ چڑے کا بڑا ڈول جس سے کنویں میں سے پانی
 کھینچتے ہیں۔
 پُرانی: مؤنث؛ پُر کے ذریعے پانی نکالنا۔
 پُر: (ف) بھرا ہوا، بہت، کامل۔
 آب: (۱) پانی سے بھرا ہوا (۲) آنسوؤں سے بھرا ہوا۔
 آشوب: فساد اور جھگڑوں سے بھرا ہوا، فتنہ انگیز۔
 تکلف: بہت آرامت، سادگی سے ہٹا ہوا۔
 زور: قوت، والا، زوردار، زور والا، قوی۔
 سوز: درد بھری آواز، درد بھرا دل۔
 فضا: بارون، وسیع، کشادہ۔
 فنج: چالاک، ہوشیار۔
 مغز: عمدہ معنوں سے بھرا ہوا۔
 نم: تر، جس میں نمی ہو (پانی کی یا آنسوؤں کی)۔
 پُرا: مذکر؛ قطار، سلسلہ، لشکر کی صف، گردہ، غول۔

باندھنا/ جمانا: صفیں جا کر کھڑا ہونا، سلسلہ وار کھڑا
 ہونا، صف باندھنا۔
 پُرا: مذکر؛ قیچی کا ایک پلہ۔
 پُرا: عمدہ، ٹوٹا، بستی۔
 پُرا پُرا: PROPERTY؛ (انگ)؛ مؤنث؛
 مال-جا زیادہ جاگہر، مقبوضہ، ملکیت۔
 ڈیلر: DEALER؛ (انگ)؛ مذکر؛
 (۱) مکان کا دلال (۲) مکان کرایہ پر دلانے والا (۳) مکان
 خرید و فروخت کرانے والا۔
 پُرات: مؤنث؛ بڑی تھالی، بڑی پلیٹ، آکا گوندھنے کا
 مقال۔
 پُراٹھا: مذکر؛ ایک قسم کی روٹی جسے گھی یا چکنائی میں تل لیتے ہیں
 اور اس میں کمی نہیں ہوتی ہیں۔
 پُراحت: (ہ)؛ ہارا ہوا۔
 پُراج: (ہ)؛ مؤنث؛ ہار، شکست۔
 پُراچھین: (س) قدیم، پرانا۔
 پُراٹھنا: مؤنث؛ عین، اتھا، دعا، (عبادات)؛ مناجات۔
 پُراٹھت: (ہ)؛ مذکر؛ کفارہ۔
 پُراکرت: (ہ)؛ مؤنث؛ (۱) گھٹیا، (۲) نادار
 کی (۳) طبیعت تھرتی طور پر بنتی ہوئی (۴) عوام کی بولی
 جو سنسکرت سے بچو کر بنتی ہے۔
 پُراکرت بھاشا: (ہ)؛ مؤنث؛ وہ بول چال کی زبان جو
 سنسکرت زبان سے بچو کر بنتی تھی۔
 پُراگندگی: مؤنث؛ پریشانی، تردد، فکر۔
 پُراگندہ: منتشر، پریشان، متفرق۔
 دل: پریشان، پریشان حال۔
 روزی/ پُراگندہ حال: (مقول)؛ مفلس کی حالت قابل
 اطمینان نہیں مفلس پریشان حال رہتا ہے۔
 پُراپسری نوٹ: PROMISSORY NOTE؛ (انگ)؛
 مذکر؛ تمسک، وہ تحریر جو قرض ادا کرنے کے متعلق، رقم کے
 تعین اور اس کے ادا کرنے کی تاریخ کے بارے میں، وعدہ

کے طور پر قرض دار سے لکھائی جاتی ہے۔

پیران : مذکر؛ روح، سانس، جان، دم۔

پھٹانا : پھینکا پھراننا، جھگڑا ختم کرنا، جان پھراننا۔

پھوٹ جانا / نکل جانا : مرجانا، جان نکل جانا، گھبرا جانا۔

پھوڑ دینا : ہمت ہار جانا، مرجانا۔

کھانا / لینا : مغز چاٹنا : تنگ اور دق کرنا، تھکامارنا جان کھانا، جان لینا، مار ڈالنا۔

پیران : (ہ)؛ مذکر؛ (۱) پرانا، قدیم، سب سے پہلا (۲) ہندوں کی قدیم مذہبی اعشارہ (۱۸) کتابیں۔

پیرانا : (۱) قدیم، دیرینہ، پارینہ (۲) اگلی وضع کا (۳) مستعمل، بوسیدہ، بوڑھا پتھر، تجربے کا، ہوشیار۔

خرائش : بہت بوڑھا، تجربے کا، پرانا۔

دھراننا : (دھراننا تاج محل)؛ بے کار، نکتا، پشٹا پرانا خراب۔

فیشن : قدیم وضع، پرانا انداز۔

پرانے چاول : (لکناٹیا)؛ اچھے تجربے کا، سلیقے والے، جہاں دیدہ۔

چاولوں میں مرزہ ہوتا ہے : (مثل)؛ بوڑھے تجربے کا کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، پرانی چیز اچھی ہوتی ہے۔

لوگ : مذکر؛ (۱) بڑے بوڑھے، بڑی عمر کے آدمی تباہ و برباد تجربے کا (۲) پرانے ذکر، قدیم ملازم۔

مردے اکھاڑنا / اکھیڑنا : بھولی سری باتیں درمیان میں لانا، مدتوں کی شکایتوں کو زبان پر لانا، بھولی باتوں کا ذکر کر کے خواہ مخواہ جھگڑا کھڑا کرنا، گوشے مردے اکھاڑنا۔

پرانے لکیر کا فقیر : پرانی رسم کا متقلد، پرانی وضع کا پابند، پرانی چال سے نہ ہٹنے والا۔

لکیر پر چلنا : پرانی وضع کا پابند رہنا، پرانے ہی طریقے پر چلنا۔

وقتوں کے لوگ : قدیم زمانے کے لوگ، بہت بیتے ہوئے وقت کے اشخاص۔

پیرائنت : (ہ) موتی؛ صوبہ۔

PROVIDENT FUND

پیراویڈنٹ فنڈ :

رائنگ : مذکر؛ (۱) امدادی سرمایہ (۲) وہ رقم جو تنخواہ سے کٹ

کر اور استغاثہ سے ملی ہوئی رقم ملا کر ملازم کے حساب میں جمع کی جائے۔

پرائز : (رائنگ)؛ مذکر؛ انعام، بخشش۔

پرائس : (رائنگ)؛ مؤنث، قیمت، مول، بجاو۔ دام۔

پرائمری : (رائنگ)؛ مذکر؛ ابتدائی، تمثالی، اول، اصل، بنیادی۔

پرائم منسٹر : (رائنگ)؛ وزیر اعظم، (ہ) پردھان منسٹر۔

پرائیویٹ : (رائنگ)؛ خانگی، نجی، ذاتی، شخصی، مخفی۔

سکرٹری : (رائنگ)؛ وہ عہدے دار جو اپنے افسر کے ذاتی اور دفتری معاملات پر توجہ دیتا ہو۔

پرایا : مذکر؛ غیر، اجنبی، بیگانہ۔

پرائی آگ میں پڑنا / کوڑنا / گرنا : دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا۔

آنکھیں کام نہیں آتیں : (مثل)؛ دوسرے کے سہارے کام درست نہیں ہوتا، غیر شخص اپنے کام نہیں آتا۔

بات : دوسرے کا معاملہ، غیر کی بات۔

پرائے برتے پیر : دوسرے کے بھروسے پر۔

بس میں پڑنا / ہونا : دوسرے کے اختیار میں ہونا، بھجور ہونا، بے اختیار ہونا۔

شگون اپنی ناک کٹانا : دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا کام خراب کرنا، دوسرے کو رگ دینے کے لیے اپنے برتر بگانا۔

گھر کا ہونا : لڑکی کا بیاہ ہو جانا۔

مال پر دیدے لال : (مثل)؛ دوسرے کی چیز پر بے نقد غرور۔

— مال پر یا حسین: (مثل)؛ (۱) غیر کے مال کو اپنا تصور کر کے بزرگوں کی نیاز دلانا (۲) (عجازاً)؛ دوسروں کے مال پر شیخی مارنا، ناحق اتارنا۔
 پَرکُوبُ: (۵) مذکر؛ (۱) توبہ، تقریب (۲) باب، فصل، مقدمہ، (۳) ایک قسم کے میسے کا ٹکینہ۔

پر بہت: مذکر، پہاڑ۔
 پَرکُوبِنْدُھ: (۵) مذکر، بندوبست، انتظام۔
 پَرکُوبِن / پَرکُوبِن: اپنے فن کا مال، ماہر۔
 پَرکُوبَات: (۵) مؤنث، بفر، بھور، ترکا، صبح۔
 پَرکُوبُ: (۵) مذکر، بڑا، برتر، حاکم، خدا، مالک۔
 پَرکُوت: مذکر، چھلکا، پیڑی، تہ، ورق۔
 — دار، جس چیز پر تہ تہ ہو، کئی تہوں والا۔
 دَرکُوت: پرت پر پرت، تہ بہ تہ۔

پرتتا: مذکر، اوسط۔
 پرتتاپ: (۵)؛ مذکر؛ اقبال، شان، آن بان، جلال۔
 پرتتال: مؤنث؛ (۱) جانچ، پیمائش، جائزہ (۲) نظر ثانی (۳) متواتر صدمہ۔

پرتتالنا: جانچنا، پیمائش کرنا۔
 پَرکُوتِ مَلک: یورپ کے ایک ملک کا نام۔
 پَرکُوتِ بَگیا: (۵) مؤنث؛ اقرار، وعدہ، عہد۔
 پَرکُوتِ مَلک: مذکر؛ تلوار کی بیٹی یا چوڑا تسمیر جسے تلوار لٹکانے کے لیے کندھے پر ڈالتے ہیں۔

پَرکُوتو: (رف) مذکر؛ روشنی، عکس، شعاع، جھلک۔
 — اقلن / اقلن: شعاع ڈالنے والا۔
 پَرکُوتوا: (محو)؛ جھمک، عکس، صحبت کا اثر، فیض صحبت۔
 پَرکُوتِ بَکشا: (۵) مؤنث؛ انتظار۔
 پَرکُوتِ بَدھی: (۵) مذکر؛ غائبہ۔
 پَرکُوتِ بَکھم: (۵) مذکر؛ پہلا، پہلے، آگلا، اول۔
 پَرکُوتِ بَکھوی: (۵) مؤنث؛ زمین، دنیا۔
 پَرکُوتِ بَکھا: مؤنث؛ رحمت، رعایا، محکوم، جنتا، پبلک۔
 پَرکُوتِ بَکھو: (مقولہ)؛ رعایا نہیں تو راجا کہاں (حاکم)

بھی نہیں۔

پَرکُوتِ بَکھو: چھوٹی تشریح، چائے کے کپ کی تشریح۔
 پَرکُوتِ بَکھا: (۵) مذکر؛ شہرت، پھیلاؤ، پبلسٹی۔
 پَرکُوتِ بَکھو: مذکر؛ پرزے۔

— اُٹجانا: پرزے پرزے ہونا۔

پَرکُوتِ بَکھا: مؤنث؛ (۱) چکارا، بچے کو اُس کی خطا پر اُلٹا پیا کرنا حمایت، طرفداری، کمک، شہ (۲) اشارہ، اجازت، ایسا۔
 پَرکُوتِ بَکھو: (۱) پھریرا (۲) جھنڈا، علم، نشان۔
 — کُتائی: جھنڈے کا لہرانا۔

پَرکُوتِ بَکھا: مذکر؛ متفرق سودا، آٹا، دال، نمک، مرچ وغیرہ۔
 پَرکُوتِ بَکھو: مؤنث؛ متفرق چیزیں بیچنا۔
 پَرکُوتِ بَکھا: (۱) کاغذ کا ٹکڑا، پرزہ، چھیتھڑا، اخبار، رقم، خط۔
 عکوا، (۲) خبر، پیام (۳) شاہی زمانے میں ہر کارے کی لائی ہوئی خبروں کو جس کا عذر لکھ کر سرکار میں بھیجا جاتا تھا، اُسے بھی پَرکُوتِ بَکھا جاتا تھا۔

— گُورنا: خبری ہونا، حاکم کو کسی بات کی خبر پہنچانا، عرضی جملنا۔
 — نوہیں: مذکر؛ خبریں لکھنے والا، سرکار میں جاسوسی کرنے والا، مخبر، واقعہ نگار۔

پَرکُوتِ بَکھا: مذکر؛ (۱) جھگڑے، فساد کا فیصلہ ہو جانا (۲) بٹن کرول کی وہ تلی جس میں سوٹ بیٹھے ہیں، سوٹ کی پیر کی (۳) بیڑم ہو جانا، ہجوم کی کمی (۴) دیک، بڑا دیبچہ۔

— کرنا: (۱) معاملے کرنا، جھگڑا چکانا، فیصلہ کرنا (۲) ہجوم، بھڑ بھڑا کرنا، بھڑ بھڑا کرنا، بھڑ بھڑا کرنا، میدان صاف کرنا۔
 پَرکُوتِ بَکھا / پَرکُوتِ بَکھا: (محو)؛ (۱) پَرکُوتِ بَکھا، عکس، سایہ، (۲) (کھائیا)؛ خود، حُکمت (۳) آسیب کا اخل۔

— پَرکُوتِ بَکھا: (۱) سایہ پڑنا، کسی کی صحبت کا اثر پڑنا، دوسرے کی وضع پر چلنا، یا ستوری سی مشابہت ہونا (۲) بھوت پریت کا اثر ہونا، آسیب کا اخل ہونا۔

پَرکُوتِ بَکھا: کسی کی صحبت سے دور بھاگنا / چھٹنا؛ کسی کی صحبت سے نفرت کرنا، کسی سے ملنا ملانا گوارا نہ کرنا۔
 پَرکُوتِ بَکھا: مؤنث؛ پَرکُوتِ بَکھا، سایہ، عکس۔

- پڑنا: عکس پڑنا، سایہ پڑنا، صحبت کا اثر ہونا۔
 — ڈالتا: سایہ ڈالتا، اپنا ایسا کرنا۔
 — سے ڈرنا/بھاگنا: طے ملانے سے بہت بچنا، نفرت کرنا۔
 — نہ پانا: کھوج نہ پانا، پتہ نہ چلنا، نشان نہ پانا۔
 پڑھتی/پڑھی: وہ کپڑے یا گھاس پوس کی چوٹی سی پھت جو کچھ مکاؤں کی بالعموم باہر کی دیواروں پر حفاظت کے لیے ڈالتے ہیں۔
 پڑخاش: (ف)؛ مونث؛ کینہ، غبار، رنج، عداوت۔
 — جو: جھگڑاؤ۔
 پڑھیے: مذکر؛ پڑھے، منکرے۔
 — اڑانا: (ا) پڑھے پڑھے کرنا، (ب) خوب مارنا پیٹنا۔
 پرداخت: (ف) مونث؛ درستی، محافظت، خبرگیری، پرورش دست گیری۔
 پیرداختہ: سنوارا ہوا، آراستہ کیا ہوا۔
 پیردواز: (ف)؛ مذکر و مؤنث؛ (ا) باریک کام جو تصویروں اور نقوشوں سے گرد کیا جاتا ہے، (ب) ڈھنگ، خواہ خصلت، طور، (ب) آراستگی، جلا، تصویر کے خط و خال (ب) تمہید، شروع اٹھان۔
 پردہ: (ا) اوٹ، آڑ، چلن (ب) گونگھٹ، انقباب (ب) انگرکھ کا وہ گول حصہ جو سینہ پر رہتا ہے (ب) آہنگ، الاپ۔
 — اٹھانا/اٹھادینا: (ا) گونگھٹ اٹھادینا، چلن اٹھا دینا۔ حجاب دور کر دینا، بے تکلف ہو جانا (ب) راز کھول دینا، بھید کھولنا، اصلیت ظاہر کرنا۔
 — اٹھ دینا: حجاب دور کر دینا۔
 — پڑ جانا (عقل/سمجھ/آنکھ) پیر: عقل زایل ہو جانا۔ اندھا ہو جانا، بے وقوف ہو جانا۔
 — پوش: عیب چھپانے والا، بھید چھپانے والا، رازدار۔
 — چاک ہونا: پردہ پھٹ جانا، بے پردگی ہو جانا، پردہ نہ رہ جانا۔
 — چھوڑنا: (ا) کسی سے اوٹ کرنے کے لیے بندھے ہوئے
- پردے کو کھول دینا، منہ کے سامنے پردہ ڈال لینا (ب)
 پردہ ترک کر دینا، سلیم پردہ ہو جانا۔
 — دار: دربان، رازدار، پردہ کرنے والا، والی، پردہ نشین۔
 — داری: رازداری، عیب پوشی۔
 — دزمیاں ہونا: منہ میں پردہ پڑا ہونا، منہ میں حجاب ہونا۔
 — ذری کرنا: راز فاش کرنا، عیب ظاہر کرنا۔
 — ڈھکن/ڈھک جانا: (ا) عیب چھپنا، اختفائے راز ہونا (ب) رکنا (پٹنا)؛ موت آ جانا، دنیا سے اٹھ جانا۔
 — رکھنا: (ا) عیب چھپا رکھنا، اختفائے راز رکھنا (ب) سامنے نہ ہونا، چھپنا۔
 — رہ جانا: بات رہ جانا، شرم رہ جانا، بے عزتی نہ ہو پانا بھرم رہ جانا۔
 — غیب: (اضافہ کے ساتھ) ظاہر آثار سے ہٹ کر، کسی چھپی راہ سے۔
 — فاش کرنا: افشائے راز کرنا، عیب ظاہر کر دینا۔
 — کھلنا: بھید ظاہر ہونا، افشائے راز ہونا، حجاب دور ہونا۔
 — نامؤس: (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر؛ عصمت کا پردہ، عفت کا پردہ، عورت کا خیال۔
 — نشین: وہ عورت جو پردے میں بیٹھے، خلوت نشین۔
 پردے پر لے میں: اندر ہی اندر، خفیہ، چھپے چوری، آڑ میں اُٹ میں۔
 — کی بات: راز کی بات، خفیہ معاملہ۔
 — کی بولی: (ا) پردہ نشین (ب) طنز؛ خراب عورت۔
 بڑی پارسا بننے والی۔
 — کی دیوار: قدیم مکاؤں میں باہر کے دروازے کے سامنے ایک دیوار اٹھادی جاتی تھی، تاکہ اندر کے مکان کی اوٹ رہے۔
 — میں شکر کھیلنا: کسی پردے کا سہارا لے کر بڑے کام کرنا، در پردہ بڑے فطوں میں مبتلا رہنا۔
 پردیس/پردیش: (ب) مذکر؛ (ا) ملک

کایک حصہ، صوبہ، ریاست۔

(۲) بدیش، دوسرا ملک۔

پیردسی: مذکر؛ اجنبی، باہر کا، مسافر۔

پیردھان: (۵) مذکر؛ سردار، بڑا

پیرزورہ: (ف)؛ (۱) مگر کسی کل کا مگر (۲) رویاں جو ریشی

کپڑے اور پینے پر مستعمل ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے (۳)

کاغذ کا مگر، رتھ، چمٹی (۴) پرندوں کے روٹھے۔

پیرزے اڑانا: مکرے مکرے کرنا، پارہ پارہ کرنا، خوب مارنا،

پیننا۔

پیرس PURSE (انگ)؛ مونت؛ (۱) بیوا، تیلی۔

کیسے زر (۲) (ہارڈ)؛ رویا پسیا، سرمایہ، عورتوں کا بیگ۔

پیرس/پیرسہ: (ف) مذکر؛ تعویذ، ماتم پیرسی۔

دینا؛ ماتم پیرسی کرنا۔

پیرساد/پیرشاد: (۵) مذکر؛ دیوتا کا چرخاوا، نذر، تبرک۔

پیرسال: پارس سال، گذشتہ سال۔

پیرسساں: (ف)؛ پوجنے والا، خبرگیران، دریافت کرنے والا۔

پیرستار: پوجنے والا، غلام، ملازم، کینز، بے حد تعریف کرنے والا

مداح۔

پیرستان: مذکر؛ (۱) پیری، دیو کے رہنے کی جگہ، پیروں کا گھانا

(۲) (ہارڈ)؛ خوبصورت عورتوں کا مجمع یا ان کے رہنے کی جگہ۔

پیرستاو: (۵) مذکر؛ تجویز۔

پیرستش: (ف)؛ مونت؛ عبادت، پوجا، طاعت، توقیر

تعظیم۔

پیرسش: (ف)؛ دریافت حال، خبرگیری، پوچھ گچھ، باز پرس

مواخذہ، توجہ۔

پیرسکار SURSKAR (۵) مذکر؛ عزت، انعام، بدلہ۔

پیرستل: PERSONAL (انگ)؛ شخصی، ذاتی، نجی۔

لا: LAW — —؛ مابلی قانون۔

سیکیورٹی SECURITY (انگ)؛ مونت؛

ذاتی حفاظت۔

پیرسون: کس سے بعد کون خواہ آئندہ ہو یا گذرا ہو، آج

دے تیسرادن گذشتہ آئندہ۔

پیرش: (۵) مذکر؛ آدمی، مرد۔

پیرشرم: (۵)؛ مونت؛ محنت، کوشش۔

پیرشسکا: (۵)؛ مونت؛ تعریف۔

پیرکاز: (ف)؛ مونت؛ مذکر؛ لوسے پتیل کا دوشاخوں والا قلم

جس سے دائرہ کھینچا جاتا ہے، (انگ)؛ کمپاس۔

پیرکاش: (۵)؛ مونت؛ روشنی، چمک، اُجالا۔

پیرکالہ: مذکر؛ (۱) مگر (۲) حصہ (۳) چنگاری، شرارہ، شعلہ

(۴) شیشے کے ٹکڑے۔

پیرکھ: مونت؛ بڑے بھلے کی پہچان، تیز۔

پیرکھانی: سکہ سونا چاندی جو اہرات کی جانچ، جانچنے کی اُجرت

پیرکھتا: (۱) جانچ کرنا، شناخت کرنا، کھوٹا کھرا دیکھنا (۲) سونپنا

نقدی سنبھلوانا، سپرد کرنا، (۳) آزمانا، تجربہ کرنا، امتحان

کرنا، تمیز کرنا۔

پیرکھیا: پیرکھنے کا ماہر، صرف، کھولنے کھرے کی تمیز کرنے والا۔

پیرکھا: مذکر؛ بڑا، بوڑھا، باپ دادا، بزرگ، آبا و اجداد

پیرکھنہ: مذکر؛ تفصیل کا ایک حصہ۔

پیرلا: (دہلی)؛ دوسری طرف کا، اُس پار کی انتہائی حد کا۔

پیرلے درجے کا/پیرلے سیرے کا: انتہائی درجے کا،

بے حد، انتہا کا۔

پیرلوک: دوسری دنیا، آخرت۔

پیرلے: (۵) مذکر؛ قیامت، حشر۔

پیرماتھا: خدائے تعالیٰ۔

پیرمپسرا: (۵)؛ مونت؛ روایت، رسم و رواج۔

پیرمٹ: PERMIT (انگ)؛ مذکر؛ اجازت نامہ

پروانہ۔

پیرمیشرد/پیرمیشور: مذکر؛ خدائے تعالیٰ۔

پیرن: (ف)؛ مذکر؛ (۱) تریا، پردین، ابرج ٹور کے چند تار

جن کو جھکا کہتے ہیں (۲) جیلے کی گت۔

پیرنالا: مذکر؛ کولے یا بالاکھانے کی مودی۔

پیرنالے بہا دینا: (۱) (ہارڈ)؛ شدت سے رونا (۲) کسی چیز کی

تلاشی: مذکر؛ (اضافت کے ساتھ) خانہ تلاشی کا

وارنٹ۔

راہ داری: (اضافت کے ساتھ) مسافر کے لیے راستے

سے گزرنے کی سرکاری سند، پاس پورٹ۔

پہرؤانہ: وہ جانور جو شیر کے آگے آگے چلتا ہے۔

پہرؤانہ جات: مذکر؛ جمع پروانہ کی؛ تحریری احکامات۔

پہرؤانہ ہونا: (مجازاً)؛ عاشق ہونا، جان دینا، مرنا، فریفتہ ہونا۔

پہرؤائی: مؤنث؛ پڑوا ہوا، پورب کی طرف سے آنے والی ہوا

پہرؤو پیرا سٹر: PROPRIETOR (انگ)؛ مذکر؛ مالک

پہرؤو پیننگنڈا: PROPAGANDA (انگ)؛ مذکر،

جہجہا، نشر و اشاعت، تشہیر، تبلیغ۔

پہرؤوتا: مذکر؛ پوتے کا بیٹا۔

پہرؤولس ٹنٹ: PROTESTANT (انگ)؛ مذکر

عیسائیوں کا ایک فرقہ، مارٹن لوتھر جس کا بانی تھا۔

پہرؤو جکٹ: PROJECT (انگ)؛ مذکر؛ منصوبہ نگار

پہرؤو جیکٹر: PROJECTOR (انگ)؛ (۱) وہ

مشین جس سے عکس بڑا کر کے پردے پر ڈالا جاتا ہے

(۲) سینما کی مشین۔

پہرؤوڈ کٹش: PRODUCTION (انگ)؛ مذکر۔

پیداوار، تخلیق۔

پہرؤوڈیو سٹر: PRODUCER (انگ)؛ مذکر؛ (۱) کوئی

چیز بنانے والا، خالق، تخلیق کار (۲) (فلمی اصطلاح) فلم ساز

فلم پروڈیوسر۔

پہرؤوڈگاڑ: (ف)؛ مذکر؛ پالنے والا، رب، خدا تعالیٰ۔

پہرؤوڈوڈ: (۱) پلا ہوا، تربیت یافتہ (۲) بسایا ہوا، دبایا ہوا۔

پہرؤوریش: (۱) پالنا (۲) تربیت، تعلیم (۳) مہربانی، عنایت

پہرؤوسا: (۲۵)؛ کھانے کا حصہ، نمروہ۔

پہرؤوسنا: کھانا چننا، کھانا لگانا۔

پہرؤوف: PROOF (انگ)؛ مذکر؛ (۱) چھاپے کی کاپی

جو تصحیح کے لیے بھیجی جاتی ہے، (۲) ثبوت۔

کثرت کر دینا۔

پہرنام: مذکر؛ بندگی، سلام، آداب۔

پہرناٹا: مذکر؛ نانا کا باپ۔

پہرٹنگ: PRINTER (انگ)؛ چھاپنے والا، طابع

پہرٹنگ: PRINTING (انگ)؛ مؤنث، چھپائی۔

طباعت، چھاپا۔

پہریس: PRESS (انگ)؛ مذکر۔

چھاپہ خانہ، مطبع۔

پہرند / پھرند: (۱) اٹنے والا جانور، پرندہ، طائر۔

پہرندہ پیر نہیں مار سکتا؛ زبردست روک ٹوک، ایسی حفاظت

کہ کوئی جانے سکے، کسی کا گزرنہ ہو۔

پہرلس: PRINCE (انگ)؛ مذکر؛ شاہزادہ۔

پہرپنٹی: PRINCIPAL (انگ)؛ مذکر؛ (۱) کسی

تعلیمی ادارے کا سربراہ (۲) خاص صدر، سردار۔

پہرینیاں / پھرینیاں: مذکر؛ دبا، ایک قسم کا نہایت

نفیس ریشی۔

پہروا: (ف)؛ مؤنث؛ حاجت، خواہش، فکر، لہاظ۔

پہروا / پھریوا: مؤنث؛ چاند کے بڑے یا گھٹنے کا پہلا دن،

یعنی چاند کی پہلی اور چودھویں تاریخ۔

پہروا: مؤنث؛ (۱) پورب سے بچھم جو ہوا چلتی ہے (۲) چھوٹا

معدہ، پورا، (پورا کی تغیر)۔

پہروار / پھری وار: مذکر؛ خاندان، قبیلہ، گھرانہ۔

پہروار: (ف)؛ اڑان، چہنچ۔

پہروان: مذکر؛ بادبان کا ڈنڈا۔

پہرٹنا: پھلنا، پھولنا، عطرطبی کو پہنچنا، کمال کو پہنچنا

جو ان ہونا، بیاہ ہونا۔

پہرؤوانگی: (ف)؛ مؤنث؛ اجازت، حکم، فرمان۔

پہروانہ: (۱) فرمان، حکم نامہ (۲) وہ جہتی یا حکم جو مسافر کو راستے

سے گزرنے کی اجازت کے لیے ہو (۳) پٹیگا (۴) عاشق،

شیفتہ۔

کے پر بھی ہوتے ہیں، (۲) مذکر؛ محبوب، معشوق، حسین۔
 — بن جانا: بہت خوبصورت ہونا، حسین ہونا۔

— بند: (۱) ایک قسم کا زیور جس کو عورتیں کلائی میں پہنتی ہیں (۲) کشتی کے ایک بیج کا نام۔

— پیکر/چہرہ/رُو/طَلْعَت: نہایت خوبصورت پیری کی طرح حسین۔

— رُاد: پریوں کی جنس کا پری کا بیچہ، نہایت خوبصورت حسین، محبوب، معشوق۔

— وُش: پیری کی طرح بے انتہا خوبصورت۔

پِرے: اس پار، اس طرف، دُور، الگ، علاحدہ، ناصلے سے۔

— بٹھانا: الگ بٹھانا، دور رکھنا، پاس نہ آنے دینا۔

— پِرے: (اخبار نفرت کے لیے)؛ دُور دُور، الگ الگ۔
 — جُٹ: دُور ہو۔

پِریت: مذکر؛ بھوت، آسیب، ناپاک روح، جہیت۔

پِریت/پِیت: محبت، الفت۔

پِریم: (۵) پیارا، عاشق، محبوب۔

پِرچیت: (۵)؛ جانا ہوا، پہچانا ہوا، شناسا، متعارف۔

پِرید: FARAD (انگ)؛ مونت، قواعد (فوجی)؛

پِریس: PRESS (انگ) مذکر؛ (۱) چھاپے کی کُل، مطبع

(۲) صحافت، اخباری دنیا، اخباری حلقہ۔

پِرِس نوٹ: PRESS NOTE (انگ) مذکر؛

(۱) اخباری بیان (۲) اشاعت کے لیے اخبار کو بھیجی جانے

والی اطلاع۔

— کانفرنس: CONFERENCE (انگ)؛

اخباری نمائندوں کے ساتھ جلسہ۔

— ریلیز: RELEASE (انگ)؛ مونت؛

اخبار کے لیے جاری کی گئی خبر۔

پِرِس ڈِنٹ: PRESIDENT (انگ)؛ صدر

صدر نشین۔ سماجی۔

پِرکٹس: PRACTICE (انگ)؛ مشغلہ، مشق

— ریڈر: READER (انگ)؛ چھاپے کی
 کاپی کی تصحیح کرنے والا۔

پِروفیسر: PROFESSOR (انگ)؛ کالج یا
 یونیورسٹی کے سب سے بڑے مرتبے کا استاد، مدرس اعلا۔

پِرودگرام: PROGRAMME (انگ) مذکر؛ (۱)
 لائسنس، منسوب (۲) کارروائی کا خاکہ۔

پِرول: مذکر؛ ایک ترکاری۔

پِرولتاری: PROLETARIAN (انگ) مذکر؛
 مزدور طبقہ، عوامی، عام جنتا، محنت کش۔

پِرُونَا: سوراخ دار چیزیں دُور یا تار ڈالنا، سوئی میں

ٹاگا ڈالنا۔

پِرولٹ: PRONOTE (انگ)؛ روپیوں کے لین
 دین کا معترضہ قرض لینے کی دستاویز۔

پِرولہست: مذکر؛ خاندان کا پنڈت، مگر کا مقربہ پنڈت جو ہندو
 خاندان میں مذہبی رسمیں ادا کرتا ہے، برہمن۔

پِرولیز: (ف) مذکر؛ (۱) فاتح (۲) خوش نصیب (۳) مہذب
 (۴) نہایت اعلا (۵) سخاوت (۶) شان و شوکت (۷)

خسرو تانی شاہ ایران کا لقب۔

پِرولیش: (۵) اندر جانا، داخل ہونا، داخلہ۔

پِرولہسن: (ف) مذکر؛ چھ چھوٹے ستارے جو آپس میں جھکے
 کی طرح ملے ہوئے ہیں، عقد ثریا۔

پِرہ: (ف) مذکر؛ دامن، کنارہ، برگ کاہ، چمکی کا پاٹ، کنویں
 کی گزاری۔

پِرہیسٹر: (ف) مذکر؛ مفر چیزوں سے بچنا، بیمار کا طبیع
 کی منج کی ہوئی چیزوں سے بچنا، احتراز، تقویٰ (تقوا)؛ بچاؤ

حفاظت، احتساب۔

— ٹوٹنا: پِرہیز موقوف ہونا۔

— گار: صالح، متقی، بُری باتوں سے بچنے والا۔

پِرہیزی کھانا: بیمار کا کھانا۔

پِریری: مونت؛ (۱) عام خیال کے مطابق انسانوں سے علاحدہ

ایک نسوانی مخلوق جو بہت خوبصورت عورت ہوتی ہے جس

پڑا ہوا ہونا: خالی ہونا ایسے کار ہونا، غیر آباد ہونا۔
 پڑ جانا: (۱) لیٹ جانا (۲) بیمار ہو جانا۔
 پڑ رہنا: لیٹ رہنا، سو رہنا۔
 پڑ مرنا: مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑنا، اس طرح رہنا کہ مرکز نکلتا۔

پڑنا: بیمار ہو جانا، بستر سے لگ جانا، لٹنا، گرنا۔
 پڑ پڑانا / پڑ پڑانا: زبان میں مرعیں لگنا، زبان پر کسی چیز کی تیزی محسوس کرنا۔

پڑت: مؤنث؛ قیمت، بازاری نرخ، میزان۔
 پھیلانا: (دہلی)؛ لاگت کا اندازہ کرنا، حساب کا اندازہ کرنا، اندازہ ٹھہرانا۔

پڑنا: مذکر؛ (۱) حصہ زسدی (۲) مالگنداری کی شرح ۳) پڑت
 پڑنا / پڑنا سال: جانچ، پیمائش، جائزہ، دیکھو، پڑتال۔
 پڑنا: بھینس کا نر بچہ۔

پڑنا: بھینس یا گائے کا مادہ بچہ۔
 پڑنا: مؤنث؛ ستوڑی سی چیز جو چھوٹے سے کھدیں باندھی گئی ہو۔

پڑی بولی: (۱) مؤنث؛ دلی کے
 قُرب و جوار کی وہ بولی جو شور سینی اپ بھرتش سے ماخوذ تھی،
 بعد میں جب اس میں عربی و فارسی الفاظ شامل ہوئے تو وہ
 کھڑی بولی کے نام سے مشہور ہوئی۔

پڑی ہونا: (۱) نکر ہونا، دُمن ہونا، خواہش ہونا (۲) باقی ہونا۔

پڑی ہوئی آواز: جو آواز گے سے صاف نکلے، بیٹھی ہوئی آواز۔

پڑے پڑے: (۱) لیلے لیلے (۲) بے کاری میں۔
 پڑے جھک مارنے دینا: بچنے دینا۔

پڑے ہونا: بے قدری کی حالت میں موجود ہونا۔
 پڑھا چرن: مذکر؛ (۱) وہ پڑھا لکھا قابل جن جو سیانے کے تلو
 میں نہ آئے (۲) (مجازاً)؛ مشرہ، چالاک، ہوشیار (۳)

خبط، جُنون، سودا۔

معمول، پیشہ۔
 پریکٹیکل: PRACTICAL (انگ)؛ عملی، باعمل۔

پریکٹیشن: (۱) امتحان۔
 پریکٹیکل: مذکر؛ پیار، محبت۔

پریکٹیکل: (۱) مؤنث؛ ایک بیل کا نام، عشق بیچیاں۔
 پریکٹیکل: (۱) مذکر؛ پیار کرنے والا، عاشق۔

پریکٹیکل شو: PREMIER SHOW (انگ) مذکر؛ کسی
 فلم یا ڈرامے کی پہلی بار نمائش۔

پریلووار: (۱) مذکر؛ خاندان، کنبہ۔
 پریلووگ: (۱) مذکر؛ استعمال، استعمال کرنا، برتنا۔

پریونی وی کونسل: (انگ) مؤنث؛ انگلستان کی سب
 سے بڑی عدالت۔

پ-ٹ

پڑا / پڑا: مذکر؛ بھینس یا گائے کا نر بچہ، بچہ۔
 پڑا: مذکر؛ (۱) بڑی پڑیا (۲) ڈھول یا طبلے کا سوکھا چمڑا۔

پڑا پاتا: کسی کھوئی ہوئی گری بڑی چیز کھلنا، مغنت کا مال۔
 بے مغنت کسی چیز کا ہاتھ لگنا۔

پڑنا: بے حرکت رہنا، ایک حالت میں رہنا، لیٹے رہنا۔
 گرا / گرا پڑا: مذکر؛ پیار، مفضل، بے حقیقت، ناچیز۔

پڑنا: بغیر جستہ کوئی چیز حاصل ہو جانا۔
 پڑنا: (۱) کسی چیز کا بے احتیاطی سے رکھا ہونا (۲) آواز

پیشہ جانا۔

پڑا / پڑا / پڑا: (۱) ایک قسم کی آتش بازی جو چھوٹے
 وقت آواز کرتی ہے (۲) بندوق یا راکٹ کا گھوڑا۔

پڑا / پڑا کی گوٹ: طرح طرح کی گوٹ، مختلف
 رنگوں کی گوٹ۔

پڑا: مذکر؛ لشکر یا قافلوں کے اترنے کی جگہ، منزل۔
 ڈالنا: رہ پڑنا، قیام کرنا۔

پڑنا: (۱) چھا پانا، لشکر یا قافلے کو لوٹنا (۲) (کھانا)؛
 مغنت کا مال حاصل کرنا، بڑا کام کرنا۔

ہے۔ اچھوں کے جانور بھی تمیز دار اچھے ہوتے ہیں۔
پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل: (مثل)، کم علم شیخی باز۔
پڑھن: موت: ایک قسم کی پھل۔

پ-ز-ژ

پڑاؤہ/پڑاؤہ: (ف)، مذکر؛ اینٹوں کا بیٹھا، بھرتی،
آوا۔

پڑاؤئے کا پڑاؤہ کھنگڑ ہو جانا: پورا پڑاؤہ خراب ہونا
سب کاسب بڑھانا۔

پڑپہرا/پڑپہرا: (ف)؛ مقبول، منظور، قبول کرنے
والا۔

پڑپہرائی/پڑپہرائی: قبولیت، منظوری، مہمان کا
استقبال۔

پڑمردہ: مرہایا ہوا، افسردہ، رنجیدہ۔

خاطر: افسردہ دل، رنجیدہ۔

پڑمردگی: کلاہٹ، افسردگی۔

پ-س

پس: (ف)؛ پیچھے، بعد، پھر، علاوہ۔

ازان کہ من نہ نام پچہ کار خواہی آمد: (مقول)؛
جب ہم نہ رہے پھر تم آئے تو کیا فائدہ؟ (شدید انتظار
کی کیفیت)۔

اقلتہ: (ف)؛ (۱) جوڑ کر رکھا ہوا مال (۲) پرندوں
کی بیٹ۔ چوپایوں کا فضلہ، گوہر وغیرہ۔

انداز: (ف)؛ جمع کیا ہوا مال، بچا ہوا مال، اندوختہ۔

پشت ڈالنا: (کنایتاً)؛ (اضافت کے ساتھ) بے پردائی
کرنا۔

خوردہ: جھوٹا، آگے کا بچا ہوا، کھانے کے بعد جو بیج
رہے۔

غلیبت: عدم موجودگی میں، غیبت میں۔

نائدہ: پیچھے رہے ہوئے، وارث؛ پچھڑے ہوئے لوگ۔

پڑھے جن کو شیشے میں اگاتا: بڑے چالاک کو قابو میں لانا
پڑھا دینا: (۱) علم سکھا دینا (۲) کسی بات سے آگاہ کر دینا بہکا
دینا (۳) کسی کی طرف سے دل بگاڑ دینا، کچھ پڑھا دینا۔

پڑھا لکھا: لائق، ہوشیار، تعلیم یافتہ۔

پڑھانا: (۱) علم سکھانا۔ تعلیم دینا، سبق دینا، درس دینا (۲) کسی
پزندے کو چند کلمات بولنا سکھا دینا (۳) پڑھ کر سنانے کے
لیے اشارہ کرنا۔

پڑھائی: مؤنت؛ تعلیم، علم یا مدرسے کی فیس، تعلیم دینے کا تنگ
نصاب، تعلیم، تعلیم کی اجرت۔

پڑھ کر دم کرنا: کچھ بول منتر کے یا پاک کلام کے پڑھ کر کسی پر
بھونکنا یا پانی پر دم کر دینا۔

پڑھن: مؤنت؛ (عو)؛ پڑھنے کا انداز۔

پڑھنا: (۱) سیکھنا، تعلیم پانا، سبق لینا، ورد کرنا (۲) پزندے
کے چار بول سیکھ لینا۔

پڑھنت: مؤنت؛ جادو، منتر، انشوں۔

پڑھنے بھٹانا/بلیٹنا: بسم اللہ کی تقریب کرنا، پڑھنے کی
ابتدا کرنا، (نوٹ)؛ چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں
بسم اللہ کی رسم ہوتی ہے۔

پڑھوانی: پڑھائی کی اجرت۔

پڑھو تو پڑھو نہیں تو پھر اخالی کرو: (مقول)؛ توتے کے
پڑھنے سے تلح، ناکارہ اور مست ملازم کے لیے ہے جستی
سے کام کرو ورنہ لڑکری چھوڑ دو۔

پڑھی چھری: وہ چھری جو آن پڑھ دیہاتی جانور ذبح کرنے کے
بول مولوی سے اس پر پڑھو اگر رکھ لیتے ہیں اور اسی چھری سے
جانور وقت ضرورت ذبح کرتے ہیں، دم کی ہوئی چھری۔

پڑھی نہ قضا کی: جس نے کسی بھی نہ کی ہو اس سے نیکی چھوٹ
جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو بالکل بے عمل ہو اس
پر عمل چھوٹنے کا الزام نہیں آتا۔

پڑھیں فارسی بیچیں تیل، دیکھو قدرت کے یہ کھیل:

(مثل)؛ بد قسمت، ہنرمند، صاحب کمال ہو کر ادنا کام کرنا۔
پڑھے گھر کی بلٹی بھی پڑھی: (مثل)؛ اچھے گھر کی ہر چیز بھی ہوتی

ماندہ قوم : ہندستان کے وہ فرسے اور طبقہ جو معاشی ادوار سے بدتر اختیار سے اور قوموں سے پیچھے رہ گئے۔
ماندگان : (جمع پس ماندہ کی) ؛ (۱) پیچھے رہ جانے والے لوگ
مردے کے ورثا اور باقی رہ جانے والے عزیز، منگھے ہوئے۔
منظر : (بیک گراؤنڈ) ؛ پچھلے وجہ کا ظہور، پچھلا ماحول، پیچھے کا منظر۔
مزدوں / مزدگ : (اضافہ کے ساتھ) ؛ مرنے کے بعد۔
ویش : (ف) اسم مذکر؛ (۱) آگے بڑھنا، اوج بچھ، سوچ بچار۔ بڑائی بھلائی (۲) لیت وعل، حیلہ حوال (۳) دھڑکنا، دہچاہ، اندیشہ، تشویش، ششش و تیغ۔
پسارنا : پھیلانا، کھولنا۔
پسانا : کسی چیز کو پانی میں اُبال کر اس کا زائد پانی نکال دینا، چاول یا کسی چیز کو اُبال کر پانی نجاترنا۔
پساو : اُبل ہوئی چیز کا پچا ہوا پانی یا پسانے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے۔
پساوَن : وہ پانی جو پسانے سے نکلے۔
پسائی : موت؛ (۱) پسنے کی مزدوری (۲) پیسے جانے کا عمل۔
پسنا ہونا : پیچھے ہٹنا، شکست کھانا، ہار جانا۔
پست : نشیب، نیچا۔
خیال : چھوٹے خیال کا۔
فطرت : کم ہمت، احمق۔
کرنا : بنیاد کھانا۔ مغلوب کرنا، تھکا دینا، ہلکان کرنا، نیچا کرنا۔
و بلند دُمر : زمانے کا اوج بچھ، نشیب و فراز۔
ہمت : کم حوصلہ، بزدل، کم ہمت۔
پستی : پٹائی، نشیب، کمینہ بن۔
پستان : (ف) ؛ موت؛ چھاتی۔
پشک : (۵) ؛ موت؛ کتاب۔
پشکائے / پشکالیہ : (۵) لائبریری، کتب خانہ۔
پستول : PISTOL (انگ) مذکر، پیستول، ریولور سے بنا جاتا ایک اسلحہ۔

پستہ : مذکر ؛ ایک ہرے رنگ کے میوے کا نام۔
پستنی : (۱) پستے کے رنگ کا (۲) گہرے ہرے (سبز) رنگ کا۔
پستر : (ف) بیٹا، لڑکا۔
صلبی : (اضافہ کے ساتھ) ؛ سگ بیٹا۔
پسترننا : (۱) پھیلنا، دراز ہونا، لیٹنا، پڑنا (۲) بچوں کا پسند کرنا۔
پستلی : موت؛ طرف، پہلو، پہلو کی ہڈی۔
پھڑکنا / پھڑک اٹھنا : (کتابی) ؛ خود بخود خبر ہو جانا معلوم ہو جانا۔
چلنا : بچوں کے سینے کی بیماری۔
کا آزار : چھوٹے بچوں کی ایک بیماری۔
پسنلیاں نکل آنا : بہت ڈبلا ہو جانے سے پسلی کی ہڈیوں کا نظر آنا، بہت ڈبلا ہو جانا۔
پسن ماندہ : (ف) ؛ (۱) بچا ہوا، وارث (۲) پھڑکا ہوا، غیر ترقی یافتہ۔
پسننا / پس جانا : (۱) چکنا چور ہو جانا، آنا ہو جانا، کھلا جانا، مسلا جانا (۲) مصیبت میں آنا، برباد ہونا، مٹ جانا۔
پسنند : (ف) ؛ موت؛ چھیتا، مرغوب، مقبول، انتہا۔
پسنند پدہ : پسند کیا ہوا، مرغوب، مقبول۔
پسنندا : ایک کھانا جس میں گوشت کے کپلے ہوتے پتلے ٹکڑے پکائے جاتے ہیں۔
پسننگا / پسننگھا : مذکر، پسننگ۔
پسن پاری : موت؛ آٹا پیسنے والی۔
پسوانی : پیسنے کی اُجرت۔
پستو : ایک قسم کا مہین پر دار کیتڑا جو چمکی طرح کا ہوتا ہے۔
پستوج : موت؛ پہلی موٹی (کچی) سلائی جس کے بعد اصلی کچی سلائی ہوتی ہے۔
پستو جینا : کچی (موٹی) سلائی کرنا۔
پسپینا : (۱) پسینا آنا، رطوبت ظاہر ہونا (۲) (کتابی) ؛ ترس کھانا نرم پڑنا، رحم کھانا، مہربان ہونا۔
پسیننا : مذکر ؛ وہ رطوبت (تری) جو بدن کے مسامات سے نکلے۔

— آنا / نکلنا: (۱) جسم سے تری کا خارج ہونا، عرق آنا (۲) (مجازاً)؛ شرمندگی۔

— بہنا: بدن سے پسینا جاری ہونا۔

— ٹپکنا: پسینے کے قطرے ٹپکنا۔

— جھاڑنا: ماتھے کا پسینا انگلی سے پونچھ کر جھٹک دینا۔

— چھوٹنا: (۱) کثرت سے پسینا نکلنا (۲) شرمندگی سے عرق عرق ہونا۔

— ہرا ہونا: (دہلی) (پہلوؤں کا موارہ)؛ پسینا سونگنا

— پسینے پر پسینے آنا / پسینوں پر پسینے آنا: بہت پسینا نکلنا۔

— پر لہو گرانا: کسی کے ساتھ انتہائی محبت جتاننا، کسی پر جان نثاری کا اظہار۔

— پسینے کر ڈالنا: بے حد تھکا دینا۔

— پسینے ہو جانا: (۱) بہت پسینا آنا (۲) (رکناٹیا)؛ بہت شرمندہ ہونا۔

— کی جگہ خون بہانا: (رکناٹیا)؛ کسی کے لیے جان دینے میں بھی درمخ نہ کرنا، بے انتہا محبت دکھانا۔

— کے شرانے / سرائے: پسینے کی دھاریں، بہت زیادہ پسینا نکلنا۔

— پسینو: مذکر؛ چاولوں کی بیج۔

پ-ش

— پشاج: (۵) مذکر؛ (۱) غیر آریا قوم ہندوؤں کے اصل باشندے جنہیں آریا لوگ داس یا داسوہ یا پشاج کہتے تھے (۲) بھوت پریت، شیطان۔

— پشت: مؤنث؛ پیٹھ، پیچھا، پھلا حتمہ کسی چیز کا (۲) مدد، سہارا (۳) نسل۔

— پشتا پشت / پشت ہا پشت: کئی پشتوں سے، کئی نسل سے۔

— پشت بر پشت / پشت در پشت: باپ دادا سے نسل بعد نسل۔

— بد دیوار رہنا: حیران رہ جانا۔

— پیر ہونا: امداد پر ہونا۔

— سینا: حامی، مددگار، معاون۔

— تپکڑ: وہ نیکہ جو مسند کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھتے ہیں، کاؤ نیکہ۔

— خاز: (رف)؛ ایک چھوٹا سا بائو دانت یا لوہے کا بنا ہوا پنجر جو پیٹھ کھانے کے کام آتا ہے۔

— دست کاٹنا: غصے اور افسوس کی شدت کا اظہار۔

— پشتینی: وہ بات حجابِ دادا سے منسوب ہو، موردِ وثی، خاندانی قدیمی۔

— پشتارہ: (رف)؛ مذکر؛ اس قدر بوجھ جو پیٹھ پر اٹھایا جاسکے بوجھ، گھمڑی، گھٹا۔

— پشتک: (رف)؛ (۱) بچوں کا ایک کھیل (۲) گھوڑے کا دولتی پھینکنا۔

— پشتو: پشتانوں (افغانوں) کی زبان، پختون۔

— پشتہ: (۱) اعمش کا ڈھالو ڈھیر جو دیوار کی مضبوطی اور سہارے کے لیے اس کی جڑیں لگاتے ہیں (۲) وہ میٹھا دیوار جو پانی زد کے لیے نہر دریا وغیرہ کے کنارے پر بنا دیتے ہیں، بند (۳) کتاب کی جلد کا چھڑا یا پترا پتھے جوڑنے کے لیے۔

— بندی: بند باندھنے کا کام، دیوار کو پشتے سے مضبوط بنانے کا کام۔

— پشتی: مؤنث؛ حمایت، تائید، سہارا، مدد۔

— بان: (۱) حفاظت کرنے والا، مددگار، معاون (۲) وہ لکڑی جو کواڑوں اور تخت وغیرہ میں مضبوطی کے لیے لگا دیتے ہیں۔

— لینا / پشتی پر ہونا: سہارا دینا، حمایت کرنا۔ ساتھ دینا۔

— پشتم: (۱) اُون، بال، رُواں (۲) زیر ناف کے بال (۳) بیکار، بے حقیقت چیز، بے وقعت انسان۔

— اکھاڑنا: کسی قسم کا نقصان پہنچانا۔

— برابر جاننا: بہت حقیر ذلیل سمجھنا۔

پیشینہ: اونی کپڑا، ایک خاص قسم کا اونی کپڑا (مالیدہ)۔

پیشو: (۵) مذکر؛ مولیٰ، جانور۔
پیشواز: موتھ؛ لینگے کی طرح ایک گہرا درپوشاک جو عورتیں پہنتی تھیں خاص طور پر چنے والی عورتیں ناپچھے وقت استعمال کرتی تھیں۔
پیشہ / پیشہ: مذکر؛ (۱) پتھر (۲) تلوار کے قبضے کے پاس کی گھڑی (۳) حیرت جڑے بے حقیقت چیز۔

پیشیان: (ف)؛ پھٹانے والا، افسوس کرنے والا، شرمندہ۔
پیشیانی: (ف) موتھ؛ ندامت، پچھتاوا، شرمندگی۔

پ-ک

پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔

پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔

پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔

پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔

پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔

پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔
پکا: (۱) پکی ہوئی چیز (۲) مضبوط، پائے دار، مستحکم، مستقل (۳) پورا (۴) کامل، تجربہ کار، چالاک، ہوشیار، سچا (۵) مستند، بھروسے کے قابل۔

خوب یاد کر لینا (۳) چالاک کرنا، ہوشیار کرنا، مستحکم کرنا۔

گانا: وہ کلاسیکی گانا جو راگ راگینوں میں باضابطہ گایا جائے۔

پکی گونی: چوسریا پھینکی کی وہ گوٹ جو سب گھروں میں پھینکی ہو۔

پکا دینا: (۱) پکا کے تیار کرنا (۲) (مجازاً)؛ سنا، تکلیف دینا، کلیما پکا دینا۔

پیکار: (۱) آواز، ہانک (۲) فریاد، ڈہائی (۳) غل شور (۴) ہانک، جستجو، تلاش، اعلان، منادی (۵) فریقین متحدہ اور گواہوں کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے آواز دیا جانا۔

اُٹھنا: آواز بلند ہونا، آواز دینا۔
پہڑنا: شہرت ہونا، دھوم ہونا، تلاش ہونا، جستجو ہونا۔

دینا: آواز دینا، جتا دینا، آگاہ کر دینا، مشہور کر دینا۔
کرنا: غل کرنا، فریاد کرنا۔

کے: کھلم کھلا، علانیہ، ڈنکے کی چوٹ پر۔
لگانا: سودا بیچنے والے کا آواز دینا۔

پیکارنا: (۱) بلند آواز سے کہنا، چلا کر کہنا (۲) بلانا، ہانک لینا، (۳) چلانا، غل چلانا (۴) خبر کرنا، آواز دینا (۵) کہنا، یاد کرنا، بھوک کے لیے آواز لگانا، فریاد کرنا۔

پیکار کے کہنا: کھلم کھلا کہنا، علی الاعلان کہنا۔
پیکارنا: (۱) پہل کو پہنچ کر دینا، زخم میں مواد ڈال دینا، آگ میں پہنچ کرنا (۲) (کہنا)؛ عاجز کرنا، رنج پہنچانا۔

رہنہ دھنا: کھانا تیار کرنا، پکانا۔
پکا لپکا یا بال اعلیٰ تیار، بنانا یا، ٹھیک، بے مشقت۔

پکانی / پکوانی: پکانے کی اجرت۔
پیکچر: (اینگ)؛ موتھ؛ نظم، تصویر۔

پاؤس: (۱) (تاریک)؛ موتھ؛ (۲) (تاریک)؛ موتھ؛ (۳) (تاریک)؛ موتھ؛ (۴) (تاریک)؛ موتھ؛ (۵) (تاریک)؛ موتھ۔

پکڑ: موتھ؛ (۱) گرفت، بات کی گرفت (۲) وہ چیز جس سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں (۳) مواخذہ، باز پرس، اعتراض، تنقید

_____ تول: جس تول میں کمی بیشی نہ ہو۔
 _____ زبان / بولی: شہر والوں کی صاف شستہ بولی۔ شہر کی
 فصیح اور شاہیستہ زبان۔
 _____ سلائی: مصنوعاً سلائی (بکٹ سلائی کے خلاف) جو سلائی آسانی
 سے کھل نہ سکے۔
 _____ عمر: (دہلی) جوان عمر۔
 _____ گر لینا: کسی بات کا پختہ کر لینا، جاچ اطمینان کر لینا۔
 _____ کھینٹی: تیار فصل۔
 _____ ہو جانا: بات طے ہو جانا، معاملہ یقینی ہو جانا، کوئی شہرہ
 نہ رہ جانا۔
 _____ چتے آم کے ٹیکے کا ڈر: (رشل)؛ سن رسیدہ آدمی کے ہر وقت
 مرجانے کا خطرہ۔
 _____ پکیننگ: (پکے تنگ) PICKETING (رانگ)؛
 مونتھ: (۱) کسی تحریک کے تحت لوگوں کو اپنے فرض کی
 انجام دہی سے روکنا، (۲) (۵) دھرنہ۔
 _____ پکھا: بازو، پہلو، دیکھو، پا کھا۔
 _____ چکھال: مونتھ؛ بڑی منگ جسے بیل پر لاد کر پانی بھرتے ہیں۔
 _____ پیٹا / پیٹو: بڑے پیٹ والا، بہت کھلنے والا۔
 _____ پکھا ورج: مونتھ؛ ایک قسم کا ڈھولک۔
 _____ پکھا ورجی: مذکر؛ پکھا ورج بجانے والا۔
 _____ پکھ راج: مذکر؛ جواہرات کی قسم جو نرد یا سفید رنگ کا
 ہوتا ہے۔
 _____ پکھری: (۵) مونتھ؛ پھول کی پتی، پکھڑی۔
 _____ پکھووا: مذکر؛ پہلو گود، شانہ۔
 _____ پکھوڑا: مذکر؛ کاندھے کی ہڈی، کاندھا، شانہ۔
 _____ پکھیرو: مذکر؛ پرندہ۔

پ-گ

_____ پگ: (۵) مذکر؛ پیر، قدم، پاؤ۔
 _____ پگاہ: مونتھ؛ صبح، تڑکا، سحر۔
 _____ پگ ڈنڈی: مونتھ؛ پیدل چلنے کا راستہ، کھیتوں کے تنگ راستے۔

(۴) بحث، مباحثہ، مناظرہ، محبت، ہنگامہ (۵) گرفتاری۔
 حراست۔
 _____ پلانا: زبردستی بلانا، گرفتار کر کے منگانا۔
 _____ پکھڑنا: کسی بات پر اڑ جانا، بات کی گرفت کرنا۔
 _____ چانا: (۱) گرفتار کیا جانا، خاموش ہونا (۲) الزام آنا۔
 پوشیدہ بات کھل جانا۔
 _____ ڈھکڑ: دائرہ گیر، گرفتاریاں۔
 _____ رکھنا: روک رکھنا۔
 _____ کرنا / پکھڑنا: کشتی کرنا۔
 _____ پکھڑنا: (۱) ہاتھ سے تھامنا، منہ میں لینا (۲) گرفتار کرنا، قابو
 میں لانا، (۳) اعتراض کرنا، لوگنا، گرفت کرنا، روکنا۔
 ٹھہرانا، پالینا۔
 _____ پکنا: (۱) کھانے یا کسی اور چیز کا آگ پر پکنا، پختہ ہونا۔
 (۲) پھل کا پختہ ہو جانا (۳) بالوں کا سفید ہونا۔
 _____ پکیننگ: (رانگ)؛ مونتھ؛ گھر کے باہر کسی
 پر نفساً مقام پر تفریح کے لیے جانا جس میں کھانا پینا بھی شامل ہو۔
 _____ پکوان: مذکر؛ کھانے پینے کی تلی ہوئی چیزیں۔
 _____ پکوانی / پکائی: مونتھ؛ کھانا پکانے کی اجرت۔
 _____ پکھوڑا: مذکر؛ بڑی پٹلی۔
 _____ سسی ناک: پکھوڑے کی طرح پھولی ہوئی ربدنما، ناک۔
 _____ پکھوڑی: مونتھ؛ بیسن کی تلی ہوئی پٹلی۔
 _____ پکھی: مونتھ؛ (۱) آگ پر کی ہوئی چیز (۲) قدرتی طور پر کی ہوئی چیز پھل وغیرہ۔
 _____ اینٹ: پکھی ہوئی اینٹ، رگٹی اینٹ کے خلاف)۔
 _____ بات: طے شدہ معاملہ، تجربے کی بات، ہوشیاری کی
 بات۔
 _____ پیری کے بیر کھانے والے: (رشل)؛ ہٹ، کم محبت
 لوگ، بغیر محنت مشقت کے زندگی بسر کرنے والے، مفت
 کاکھانے والے۔
 _____ پکائی: پکی ہوئی، تیار۔
 _____ پکائی کھانا: بغیر محنت مشقت کے گراہقات کرنا،
 مفت کی کھانا۔

پگھلانا / پگھلانا: جگلی کرنا، کسی کا مال مفہم کر جانا۔

پگھلنا: مذکر؛ بہت بھاری پگھلی۔

پگھلی: مؤنث؛ سر سے باندھنے کا دوپٹہ، دستار، عامر (۲) نفر،

آدمی (۳) (مجازاً)، عورت، آبرو کی جگہ (۴) مکان یا دکان کو ایہ

پہر لیتے وقت وہ رقم جو کرایہ کے علاوہ لی جائے۔

اُتارنا: (۱) آبرو لینا، عزت بگاڑنا (۲) لوٹنا، ٹھگنا،

قیمت زیادہ لینا، دغا سے مال لینا۔

اُتر جانا: بے عزت ہو جانا، بے عصمت ہو جانا۔

اُٹکنا: کسی سے برابری کا دعویٰ کرنا، ہم سری کا

دعویٰ کرنا۔

اُٹکنا: مقابلہ ہونا، ہم سری ہونا۔

اُجھلانا: (رکھنا)؛ عزت بگاڑنا، ذلیل کرنا، بدنام کرنا۔

اُجھلنا: (رکھنا)؛ رسوائی ہونا، شہمی کرکری ہونا، ذلت ہونا۔

باندھنا: (۱) دستار باندھنا، دستار بندی کرنا (۲) تلمیم مقام ہونا،

خلیفہ بنا دینا، استاد بنا دینا، خلعت دینا، گدی پر بٹھانا، تخت نشین کرنا

بَد لکنا: بھائی چارہ کرنا، بھائی بنا نا، دوسری کرنا۔

بندھنا: سرداری یا دراشت کی پگھلی سر پر رکھی جانا، وارث

بنایا جانا، قائم مقام بنایا جانا، خلعت ملنا، عزت آبرو ملنا

استاد کی جگہ ملنا۔

پھیر کر رکھنا: (۱) بات پھر جانا، قول سے منحرف ہو جانا،

فساد کے انداز سے آمادہ ہو بیٹھنا (۲) پگھلی ترھی رکھنا۔

خرنویا بانگین رکھنا۔

رکھنا: پگھلی سر پر پہنانا، عزت آبرو بچانا، عزت

بنائے رکھنا۔

کی شرم رکھنا: آبرو رکھنا، پگھلی کا احترام باقی

رکھنا۔

پگھلا: مذکر؛ پاگل کی تصنیف، دیوانہ۔

پگھلانا / پگھلانا: (۱) گلانا، پتلا کرنا، ملایم کرنا، نرم کرنا،

(۲) رحم دلانا، راضی کرنا۔

پگھلنا / پگھلنا: (۱) پتلا ہو جانا، نرم ہو جانا، گل جانا (۲)

راضی ہونا۔

پگھلنا: قوام بنانا، قوام پلیننا کسی چیز پر۔

پ-ل

پل: مؤنث؛ پلک مارنے بھر کا وقفہ، لمحہ، دم بھر۔

منٹ کا ساٹھواں حصہ۔

گھٹنا: تھوڑا سا وقت بھی گھٹنا، لمحہ بھر گزرنے۔

مارنے میں / پل کے پل مارنے: لمحے بھر میں، دم

بھر میں۔

پل: (ف) مذکر؛ وہ تعمیر ہو دریا، یا نالے کے اوپر سے جانے

کے لیے بنائی جائے۔

باندھنا: (۱) نشیبی جگہ کو پاٹ کر اوپر سے گزرنے کا راستہ

بنانا (۲) چیزوں کا ڈھیر لگا دینا، کسی چیز کی کثرت کرنا۔

(۳) متواتر کوئی کام کرنا (۴) مہالہ کرنا۔

صرراط: مذکر؛ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ راستہ

جس پر سے قیامت کے دن اچھے بڑے سب گزریں گے۔

پگھلا: مذکر؛ (۱) فاصلہ، بُعد، مسافت (۲) چار دیوڑ شالے

کا آئینل یا دامن، کپڑے کا کنارہ، کھونٹ (۳) لڑپی کا ایک

بازو (۴) ترازو کا پلڑا (۵) دامن تیر (۶) مدد، حمایت۔

(۷) سر کا بوجھ (۸) جوڑی کا ایک کوارٹر، پٹ (۹) قینچی کا

ایک ٹکڑا۔

بھاری ہونا: وزن دار ہونا (۲) دولت مند ہونا (۳)

طاقت یا اثر میں زیادہ ہونا (۴) تعلقات دنیا میں بٹلا ہونا۔

(۵) عزت و توقیر ہونا (۶) بہت فاصلہ ہونا۔

پاک ہو جانا: فیصلہ ہو جانا، معاملے ہو جانا، قرض ادا

ہو جانا۔

پگھلنا / پگھلنا: دامن پگھلانا، آسرا لینا۔

گھٹنا: ذرتی ہونا، غلبہ ہونا۔

چھڑانا: (۱) پیچھا چھڑانا، رہائی حاصل کرنا (۲) (حو) حوٹوں

کو روکنے سے باز رکھنا۔

کرنا: (۱) پیچھا کرنا (۲) دغا دینا، دغا دیکھنا (۳) (مجازاً)

مذہب دغا دیکھ کر رونا، مصیبت پر رونا، ماتم کرنا۔

پلاٹا: مذکر؛ گتے کا پتہ (حقارت سے)؛ پتہ۔

پلاٹا آنا: گتے پڑنا، چڑھنا، آنا، قریب گتے چلے آنا۔

پلاٹ: PLOT (انگ) مذکر؛ (۱) قطعہ زمین (۲) ناول، افسانہ، ڈرامہ، نظم وغیرہ کا خاکہ (۳) سازش، سازباز۔

پلاٹینیم: PLATINUM (انگ)؛ ایک بہت قیمتی دھات۔

پلاس: مذکر؛ ایک اقدار کا نام، جس کو سٹار، لوہار، برہمنی، بجلی کا کام کرنے والے، کسی چیز کو پختہ کرنے یا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

پلاسٹر: PLASTER (انگ) مذکر؛ (پلاسٹر) (۱) استرکاری (۲) صاف، لیپ۔

اُڑا دینا: (مجازاً)؛ بہت مارنا، مارنے مارتے کھال اُڑا دینا۔

پلان: PLAN (انگ) مذکر؛ نقشہ، خاکہ، تجویز، منصوبہ، تدبیر، طریقہ کار۔

پلانا: (۱) کوئی پتلی چیز حلق سے نیچے اتارنا، (۲) پتلی چیز جسم کے اندر حلق کے ذریعے داخل کرنا۔

پلانٹیریئم: PLANETARIUM (انگ)؛ مذکر؛ ستارہ گھر، مصنوعی آسمان (جس کے ذریعے فلکیات کی تعلیم دی جاتی ہے)۔

پلاؤ: انسان کا بالا ہوا جانور، جنگلی سدا ہوا جانور۔

پلاؤ: (ف) مذکر؛ ایک قسم کا کھانا جو چاول میں گوشت ڈال کر پکاتے ہیں۔

کی رکابی کہیں نہیں گئی: عیش و فراغت میں کمی نہیں ہے۔

پلائی: (۱) دودھ پلانے والی، (۲) آنا (۲) وہ لڑکی جسے دودھ پلایا ہو، وہ لڑکی جس کی اتاگری کی ہو۔

پلائی ووڈ: PLYWOOD (انگ) مؤنث؛ پتلے تختوں کو چپکا کر بنائی ہوئی تہہ دار پرت دار لکڑی۔

پل پڑنا/جانا: گتے پڑنا، حملہ آور ہونا۔

پل لیس کر: پرورش پاکر۔

پلیلا: مذکر؛ ملائم، نرم، جس چیز میں سختی نہ ہو، وہ پھل خصوصاً آم۔ جو چوٹ کھانے، اور دب جانے سے سڑنے کے قریب ہو۔

پلیلا نا: دبا کر نرم کرنا، ملائم کرنا۔

پلیلا: مذکر؛ (۱) کھوکھلا، بولا (۲) دبا کر نرم کیا ہوا پھل (۳) نرم۔

پلیلا نا/پلیلا نا: (۱) منہ میں چوسنا، مسواحوں یا لگے دانتوں سے دبا کر نرم کرنا (۲) پھل دبا کر نرم کرنا۔

پلیتھی مارنا: مؤنث؛ چار زانو بیٹھنا، دونوں پاؤں سمیٹ کر کولہوں کے بل بیٹھنا۔

پلٹا: مذکر؛ (۱) انقلاب، پتھر، گردش (۲) بدلا، انتقام (۳) وہ چیز جس سے پوری، پگوری پکنے میں لگتے ہیں۔

کھانا/لینا: (۱) تبدیل ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت پلٹے کھانا/لینا { ہوجانا، الٹ پلٹ ہوجانا، بات کہہ کر اس سے پھر جانا (۲) ایک رخ سے دوسرے رخ ہوجانا، گھومنا، پگھلنا۔

پلٹ آنا: واپس آنا، لوٹ آنا۔

پڑنا: (۱) ایک طرف سے دوسری طرف متوجہ ہوجانا (۲) (رکنا یا)؛ دوسرے شخص پر صفحے کا اظہار کرنے لگنا، جالتے جاتے لوٹ پڑنا۔

جانا: (۱) برگشتہ ہوجانا، دگرگوں ہوجانا، راہ سے پھر جانا، (۲) انکار کرنا، مکر جانا۔

کے نہ دیکھنا: خبر نہ لینا، متوجہ نہ ہونا۔

پلٹا نا: پھرانا، ٹوٹنا، واپس کرنا، واپس لینا۔

پلٹس: POULTICE مؤنث؛ وہ لیپ کی جی جی پھونڈے کے مواد کو پکانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔

پلٹن: PLATOON (انگ) مؤنث؛ پیادہ فوج کا ہزار سپاہیوں کا ایک دستہ۔

لیس ہونا: فوج تیار ہونا۔

پلٹنا: (۱) اُلٹنا، رخ بدلنا، پچھے کا رخ اُدھر اور اُدھر کا رخ نیچے کر دینا، (۲) پھرنا، بدلنا، کچھ کچھ کر دینا (۳) حالت بدلنا۔ گردش کرنا، واپس ہونا، لوٹنا، مکرنا۔

- پلنگ: مذکر؛ دوپٹی ٹوپی کا ایک پلا۔
 پلنگ: مذکر؛ (۱) ترازو کا پلا (۲) دوپٹی ٹوپی کا ایک پلا۔
 پلنگ: مؤنث؛ آنکھ کے پونٹے کے بال (۳) دم، لہر۔
 پلنگ: تنظیم کرنا، توفیر کرنا۔
 پلنگ: پلنگ کا آنسوؤں سے تر ہونا۔
 پلنگ: (۱) پلنگ مارنا (۲) لکھنا؛ ڈرنا، تھوڑی دیر کے لیے سونا۔
 پلنگ: جھپکتے میں / جھپکانے میں: ذرا سی دیر میں، بہت جلد، فوراً۔
 پلنگ: شکاری پرندوں یا لڑنے والے مرغوں کی پلکیں سو دینا۔ دان جانوروں کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔
 پلنگ: بے انتہا غصے یا رنج کی وجہ سے آنسو نہ کھلنا۔
 پلنگ: بڑا دان، نہایت سخی۔
 پلنگ: تنظیم سے کوئی چیز اٹھانا۔
 پلنگ لگانا: سونے کے لیے آنکھ بند کرنا، آرام لینا۔
 پلنگ لگانا: نیند آنا۔
 پلنگ: (۱) بے حد اطاعت کرنا، انتہا درجہ کی خدمت گزاری کرنا۔
 پلنگ / اٹھانا: نمک اگر گر جائے تو توفیر و تنظیم کے ساتھ اُسے سمیٹنا (اہل ہنود نمک کو خدا کی بڑی نعمت سمجھ کر اس کی توفیر کرتے ہیں)۔
 پلنگ لگانا: تھوڑی دیر کو سوجانا، جھپکی لینا۔
 پلنگ / مارنے میں / مارنے میں: تھوڑی دیر میں، لحظہ بھر میں۔
 پلنگ: پلنگ کو حرکت دینا، آکھ سے اشارہ کرنا۔
 پلنگ: (عو)؛ دم بھر میں قصود معاف کرنے والا، (خدا کی صفت)۔
 پلنگ: پلنگ سے اشارہ ہونا۔
 پلنگ: خوبصورت بچوں کی پلکیں کترنا (نظر بے سے پچلنے کے لیے)۔
- پلنگ: (۱) پالنے کا مخفف، بچے کا جھولا، گھوارہ (۲) لازم پرورش پانا، (۳) گرمی پا کر نرم ہو جانا۔
 پلنگ: (۱) کھلانا، تیل نکھلنا، کولہوں میں لپٹا (۲) بہت محنت کرنا بہت کوشش کرنا (۳) لکھنا (۴) لڑنے پر آمادہ ہونا۔
 پلنگ: پل پڑنا، پل جانا۔
 پلنگ: مذکر؛ نمٹنا، گڈی، بندل۔
 پلنگ: بڑی چارپائی۔
 پلنگ: پر بیٹھا کر روٹی دینا؛ بغیر کوئی کام لیے، بغیر کسی معاوضے کے کھلانا پلانا، آرام سے رکھنا۔
 پلنگ: بہت آرام دینا، عزت کرنا، بڑا بنانے رکھنا خدمت نہ لینا۔
 پلنگ: وہ کپڑا جو بستر کو میلا ہونے سے بچانے کے لیے پلنگ پر ڈالتے ہیں۔
 پلنگ: سست کاہل آدمی، وہ آدمی جو کچھ کام نہ کرے پلنگ پر بیٹھا کھائے۔
 پلنگ: کولات مار کر کھڑا ہو جانا؛ (عو) عورت کا زنجی سے خیر و خوبی کے ساتھ فارغ ہو جانا اور چلنے پھرنے لگانا، بیماری سے شفا پانا۔
 پلنگ: بان توڑنا؛ بے کاری بیٹھے رہنا۔
 پلنگ: چھوٹا پلنگ۔
 پلنگ: (ف)، چیتا، شیر کی ایک قسم۔
 پلنگ: مذکر؛ (۱) آجیل، دامن، کنارہ (۲) چوڑی گوت، چوڑا ٹھپا۔
 پلنگ: وہ لباس جس کے کناروں پر سونے چاندی کی لیس لگی ہو۔
 پلنگ: پلنگ یا پلنگی؛ سب سے پہلا بچہ۔
 پلنگ: پلنگی کا لڑکا؛ جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا ہو۔
 پلنگ: (۵) مذکر؛ ایک قسم کی ترکاری، پتوں۔
 پلنگ: (ف) مذکر؛ (۱) درجہ مرتبہ (۲) ترازو کا پلا یا پلنگ۔
 پلنگ: مؤنث؛ ایک قسم کا چجر، گھی یا تیل نکالنے کا آلہ۔
 پلنگ: تھوڑا تھوڑا جمع کرنا، انتہائی سخت سے مال جمع کرنا۔

پلیٹن: مذکر؛ (۱) خشکی، وہ سُوکھا آتما جو پیڑوں میں لگا کر روٹی پکاتے ہیں، (۲) وہ چھوک جو دودھ نکالنے کے بعد رہ جائے۔

پیکانا: (متروک)؛ پتلا حال کرنا، گرد جھاڑنا، کسی غمخواری اور بھڑ میں لگے رہنا۔

پیکالنا: خوب مارنا پیٹنا، بھگس نکال دینا، مار مار کر ادھ موا کر دینا۔

پیکل جانا/پیکلنا: بڑا نقصان ہوجانا، تباہ حال ہوجانا۔

پلیٹ: PLATE (انگ) موتھ؛ (۱) رکابی، طباق، (۲) تختی (دھات یا لکڑی وغیرہ کی)۔

فارم: FORM (انگ) مذکر؛ (۱) ریوے اسٹیشن کا وہ حصہ جس سے لگ کر ریل گاڑی آکر ٹھہرتی ہے

(۲) وہ چوترا یا ادبنی جگہ جس پر سے مقرر لپکرتے ہیں (۳) جس پر ادا کار نامہ دکھاتے ہیں، منج۔

فارم ٹکٹ: TICKET (انگ) مذکر؛

وہ ٹکٹ جو ریوے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے قیما ملتا ہے

پکلید: (ف)؛ ناپاک، گندہ۔

پلیٹ: PLAGUE (انگ) مذکر؛ طاعون، ایک دہائی بیماری۔

پیلے گراؤنڈ: PLAY GROUND (انگ) مذکر؛

کھیل کود کا میدان۔

پلین: PLANE PLAN (انگ) مذکر؛ (۱) ہوائی جہاز

(۲) سطح، (۳) سادہ، ہموار۔

پلیئر: PLAYER (انگ)؛ کھلاڑی۔

پ۔ م

پمپ: PUMP (انگ) مذکر؛ پمپکاری۔

پمفلٹ: PAMPHLET (انگ) مذکر؛ کتابچہ، رسالہ۔

پ۔ ن

پن: پان، پانی ادر پانچ کا منف۔

پلی: موتھ؛ چوٹا ماٹو، جیسے ترچہ پٹی، لمبے پٹی۔

پلی/پلیا: موتھ؛ چوٹا پلی۔

پلے: (۱) پاس، گرہ میں (۲) دیکھو، پلا۔

باندھنا/سے باندھنا: (۱) آجھل میں باندھنا (۲) بات

خوب یاد رکھنا۔ سبق لینا، ذمے ڈالنا (۳) بیاہنا،

بیاہ دینا۔

بندھنا/سے بندھنا: لگے پڑنا، پیچھے پڑنا، منسوب

ہونا، بیاہ ہونا۔

پار ہونا: ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانا۔

پیر آنا: زبرد آنا۔

پیر ہونا: (۱) قاصلے پر ہونا (۲) حمایت پر ہونا، مددگار

ہونا۔

پڑنا: (۱) ہاتھ لگنا، حصے میں آنا، ملنا (۲) بس میں

آنا، پنچے میں پھنسنا۔

جھاڑ کر کھڑا ہوجانا: انگ ہوجانا، بیچھا چھوڑ کر بے تعلق

ہوجانا، سب بانٹ دینا، سب کچھ صرف کر دینا۔

دار: مذکر؛ جو مزدور غل یا بوجھ بوسے میں اٹھاتا ہے۔

بوجھ اٹھانے والا مزدور۔

دار آواز: دوندنگ جانے والی آواز، بلند آواز۔

سیرے کا: انتہائی درجے کا۔

ہونا: گرہ میں ہونا، پاس دام ہونا۔

پکلید/پکلید: (۱) ناپاک، گندہ (۲) جن، بھوت۔

پکلیتا/فلیتا: (اصل میں 'قتیلہ' ہے) (ع)؛ مذکر؛ (۱) بیج

ہوئی روٹی کی چراغ کی بیج (۲) بنا ہوا یا مردا ہوا کا غد

(۳) وہ مردا ہوا کا غد جس پر جتر منتر لکھے ہوتے ہیں جس

کو بھوت پریت کے بھگانے کے لیے جلاتے ہیں (۴) وہ

ڈوری جسے جلا کر ڈائٹامیٹ یا بارود اڑاتے ہیں۔

چاٹ جانا: (۱) بارود کا آگ نہ پکڑنا، بندوق اور توپ

کا نہ چلنا (۲) کڑھائی کے تیل کا بھڑک اٹھنا۔

دینا/لگانا: (۱) بتی سے آگ سلگانا (۲) توڑا لگانا،

بتی دکھانا، آگ لگانا (۳) طنز؛؛ جلاتا۔

— گاہ : مؤنث ؛ پناہ کی جگہ ، محفوظ رہنے کی جگہ۔
 — گیر
 — زبلی : (پن ، بیج ، لی ،) ، مؤنث ؛ پانی کے زود سے مشین
 چلا کر پیدا کی جانے والی بجلی ، (ہائی ڈروائیکٹری سٹی)
 — پنڈیہ : مذکر ، مؤنث ؛ روٹی ، کپاس۔
 — برگوش / ڈرگوش : غافل ایسے عمر ، بہرا۔
 — ڈہن / دہان : کم بولنے والا ، کم سخن۔
 — پینا : (ف) ، مذکر ؛ شراب کی بوتل کے منہ کے اوپر وہ
 روٹی جو لگ کے طور پر لگاتے ہیں۔
 — پینڈیا : حالت سنبھلنا ، بڑھنا ، سرسبز ہونا ، کم زوری دود ہونا۔
 ترقی کرنا۔
 — پیٹھ : مذکر ؛ فرق ، مذہب ، دین ، ملت ، گروہ ، طریق۔
 پیٹھ : (ف) ؛ پانچ (۵)۔
 — آرکان : (ف) ، مذکر ؛ پانچ ارکان (اسلام کے بنیادی
 اصول) ، (کلہ شہادت ، نماز ، روزہ ، زکات ، حج)۔
 — آیت : وہ کم سے کم سورتیں جو فاتحہ میں بڑھی جاتی ہیں۔
 (چار دل اور سورہ فاتحہ)۔
 — تن پاک : شیعوں کی اصطلاح میں پیغمبر خدا ، حضرت علیؑ
 حضرت فاطمہؑ ، حضرت حسنؑ ، حضرت حسینؑ۔
 — روزہ حیات : دنیا کی چند روزہ زندگی ، ناپاے دار
 زندگی۔
 — شہید : (ف) ، مذکر ؛ جماعت۔
 — عیب : (ف) ، مذکر ؛ گھوٹے کے پانچ عیب ؛ منزلہ
 شب کو برہنہ کہنے لنگ ، عسری ، کروی۔
 — عیب مشرعی : مذکر ؛ اصطلاحی معنی ؛ (۱) جوری (۲) زنا
 (۳) قار بائگہ (۴) شراب خوری (۵) دودع گوئی۔
 — گائے : پانچوں وقت کی نماز۔
 — گنج : (ف) ؛ مذکر ؛ (۱) (ہارڈ) ؛ حواس خمسہ (۲) پانچوں
 وقت کی نمازیں (۳) خسرو پر دیز کا خزانہ۔
 — لوہیت : (۱) پانچ وقت کی لوہیت جو بادشاہ اہراما کی
 ڈیوڑھیوں پر بھائی جاتی تھی (۲) پانچوں باجے جو شادی

— بھتا : پتلے کے ہوئے چاول ، اُبلے ہوئے چاول جس میں
 پانی رہ جاتا ہے۔
 — بھرا : پانی بھرنے والا مزدور۔
 — بھری / بھرن : پانی بھرنے والی عورت۔
 — چینی : مؤنث ؛ وہ چلی جو پانی کے زود سے چلتی ہے۔
 — ڈبا : پان رکھنے کا ڈبا۔
 — ڈبی : (۱) ایک قسم کی مرغابی (۲) آب دوزکشی۔
 — سوزہ : وہ کتاب جس میں قرآن کی پانچ سورتیں ہوتی
 ہیں ، بیخ سوزہ۔
 — سیرا / سیری : (۱) پانچ سیر کاٹ (۲) پانچ سیر کا
 دھچ۔
 — شاہ / بیخ شاہ : پانچ شانوں والا چراغ ، ایک
 قسم کی شعل۔
 — کٹی : ایک قسم کا چھوٹا ہاون زیادہ تر پتیل کا جس میں
 پان کھتے ہیں۔
 — گڈھی : مؤنث ؛ ایک قسم کا کٹوا۔
 — گھٹ : (ہانی) [کا] گھٹ کا مخفف ؛ مذکر ، پانی بھرنے
 کی جگہ جو گھٹا پر ہوتی ہے۔
 — وارسی : مذکر ؛ پان بیچنے والا (۲) مؤنث ؛ وہ جگہ جہاں
 پان پیدا ہوتے ہیں۔
 — پیارا / پیھارا : پانی بھرنے والا۔
 — پیر : (انگ) مؤنث ؛ آلپین ، بغیر سوراخ کی گھڈی
 دار سونے۔
 — پین : (س) ، مذکر ؛ خیرات ، ثواب کا کام ، نیک کام۔
 پینا : مذکر ؛ (۱) ہرے رنگ کا جو ہر کا نام (۲) اعلیٰ یا بھل ٹھلانے
 ہوئے آم کا شربت (۳) کتاب کا دقت (۴) کسی دعوت
 کا دقت (۵) جوتی کے اوپر کا پیرا۔
 — پینالٹی : (پلے نالٹی) ؛ PENALTY (انگ) ، مؤنث ؛
 سزا ، جرمانہ۔
 — پیناہ : مؤنث ؛ بچاؤ ، حمایت ، سہارا ، حفاظت۔
 — بہ خدا : خدا کی پناہ ، خدا بچائے۔

پنجوں پر چلنا / پیچوں کے بل پر چلنا: (کنایتاً)؛ اتر کر چلنا، عزو کرنا، زمین پر پاؤں نہ رکھنا۔
 پنجے جھاڑ کر پیچھے بیڑنا / لیٹنا / چمٹنا: (۱) کسی کام میں ہمدن مشغول ہونا، کوئی کام نہایت مستعدی سے انجام دینا کسی کے پیچھے بڑھانا، کسی کو ہمیشہ سخت وسعت کہتے رہنا۔
 پنجے سے چھوٹنا: آزاد ہونا، جنگل سے چھوٹنا۔
 پنجے گاڑنا / جمانا: کسی جگہ قبضہ کرنا، جم کر بیٹھ جانا، قابض ہوجانا۔
 پنجے میں لانا / لینا: بس میں لانا، قابو میں لانا، جاں میں پھنسانا۔
 پنجیری: موتی: ایک قسم کی مٹھائی جو گھر میں روا، شکر میوہ وغیرہ ملا کر گھی میں بھون کر بنائی جاتی ہے۔
 پنج: (۱) پنج کا مخفف (۲) ثالث، حکم، قوم کا سردار، مشیر (۳) عام لوگ (۴) ثانت۔
 پنجی کہیں تو بلی سہی: (مثل)؛ اکثریت جو کہے وہی بات ٹھیک ہے۔ خواہ بات دل کو لگے یا نہ لگے۔
 پنج: (سنسکرت)؛ مذکر؛ (۱) عقل کی باتیں، پنج مشور پنج نصاب (۲) ایک کتاب کا نام، ہتو پدیش۔
 پنیل: (۵)؛ پنج خوبیوں کا مجموعہ، ہندستان اور چین کے درمیان ہونے والا ایک سیاسی معاہدہ۔
 لڑی: موتی: گلے کا ہار (زیور) جس میں پانچ لڑیاں ہوتی ہیں۔
 بل خدا، خدا، مل پنج: (مثل)؛ اکثریت جس فیصلے پر اتفاق کرے اس میں خدا کی مرضی شامل سمجھو اس لیے پنج کا فیصلہ گویا خدا کا فیصلہ ہے۔
 مل کبھے کالج، ہارے چھتے نہ آوے لاج: (مثل)؛ چار آدمیوں کے صلاح و مشورے سے جو کام ہو اس کا نتیجہ خواہ کچھ نیک انسان رسوائی سے بچ جاتا ہے۔
 پنجوں کا کہنا سسر آنکھوں پر، مگر پڑنا آلا نہیں رہے گا: (مثل)؛ ایسے مستی کی بات جو اپنی ہمت پر اڑا رہے۔

میں بجائے جاتے ہیں (۳) (کنایتاً)؛ پانچوں وقت کی نماز۔
 ہزاری: مثل شاہی کا ایک منصب۔
 سوره: دیکھو پین سوره۔
 پنجاب: مذکر؛ ہندستان کی ایک ریاست۔
 پنجابی: (۱) پنجاب کا رہنے والا (۲) پنجابی زبان۔
 پنجر: مذکر؛ ڈھانچا، ڈھانچہ، پلسی۔
 پنجرہ: مذکر؛ (۱) تیلیوں یا سلاخوں سے بنا ہوا جانوروں کے رکھنے کے لیے ایسا گھر جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جا سکیں، قفس (۲) (مجازاً)؛ قالب انسانی۔
 پنجرے کی کھڑکی کھول دینا: (مجازاً)؛ آزاد کرنا، آزادی دینا۔
 پنجر: (ف) مذکر؛ (۱) پنج سے منسوب (۲) ہاتھ یا پاؤں کی پانچ انگلیاں متحدہ تھیل کے، مٹھی (۳) جوتے کا اگلا حصہ جس میں انگلیاں رہتی ہیں (۴) علم کا اوپر کا وہ حصہ جس میں پانچوں انگلیاں تھیل کے ساتھ بنی ہوتی ہیں (۵) پاخانہ صاف کرنے کی کوہے کی بنی ہوئی خاص وضع کی چیز جسے ہتہ استعمال کرتے ہیں۔
 آفتاب / خورشید: (اصناف کے ساتھ) سورج کی کرنیں۔
 پھیرنا: (۱) پنجر مرڈنا (۲) (کنایتاً)؛ ظہیر حاصل کرنا، دبا لینا۔
 شانہ: مذکر؛ کٹھنی کے دندانے۔
 کرنا / لڑانا: پنجرہ پنجرے سے ملا کر زور آزمائی کرنا، پنجرے سے مقابلہ کرنا۔
 کش: پنجر لڑانے والا۔
 لے جانا: غالب آجانا، حریف کا پنجرہ موز دینا۔
 مارنا: چنگھ مارنا، چھٹا مارنا، قابو میں کرنا۔
 مڑوڑنا: پنجرہ پھیرنا۔
 مڑیم: (ف) (اصناف کے ساتھ) مذکر؛ ایک قسم کی گھاس جسے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے موقع پر ہاتھ سے پھرا تھا۔
 موزنا: پنجرہ پھیرنا۔

پینڈارا، (۱) غارت گریٹرا (۲) پتالوں کی ایک قوم۔
پینڈاری: विन्धरी (۵) مذکر؛ لیسرا، راہ زن، اذیت
(۶) راہ زونوں کی ایک قوم جو کالی کی پوجا کرتی تھی۔

پینڈال: مذکر؛ شامیانہ، منڈپ۔
پینڈالو: مذکر؛ رتالو، بڑی آروی، بڑی گھونٹیاں۔
پینڈرٹ: مذکر؛ ہندوؤں کے علوم کے فاضل، برہمن، گرو۔
استاد، عالم، مذہبی قانون جاننے والا۔

پینڈلی: مؤنث؛ گھٹنے اور ٹخنوں کے بیچ کا حصہ۔
پینڈول / پینڈور: مؤنث؛ ایک قسم کی سفید مٹی جو پوتنے
کے کام آتی ہے۔

پینڈولم: FENDJLUM (انگ)؛ مذکر؛ دیوار کی
گھڑی کا ٹکٹن۔

پینڈی: مؤنث؛ (۱) پینڈی (۲) رستی کا گولا۔
پینڈو جتم: (۵) مذکر؛ مرنے کے بعد دوسرے جسم میں پیدا
ہونا۔

پینس / پینس: (انگ) مؤنث؛ پالکی، پینس۔
پینسال: مؤنث؛ پیانو، پانی پلانے کی جگہ، وہ گز یا پٹی جس
سے پانی کی گہرائی اور اتار پڑھاؤ معلوم ہوتا ہے۔

پینسل: PENCIL (انگ) مؤنث؛ سیسہ یا کسی رنگ
کا قلم جس میں روشنائی کی ضرورت نہیں ہوتی، سخت
مادہ ہوتا ہے، جو روشنائی کا کام دیتا ہے۔

پینشن: PENSION (انگ) مؤنث؛ (۱) ملازمت
سے سبکدوشی کے بعد ملازم کو ملنے والا وظیفہ (۲) وظیفہ
حسن خدمت۔

پینشنر: PENSIONER (انگ) مذکر؛ وظیفہ پانے
والا امرکھی نوکری کی میعاد ختم ہو جانے پر پینشن پانے والا۔
پینک: (۵) مؤنث؛ نشتے کی غنودگی۔

پینکھو: PUNCTURE (انگ) مذکر؛ چھید، سوراخ۔
پینکی: وہ شخص جو انیم کے نشتے میں ہو، انیم کی پینک میں
بتلا۔

پینکھ: مذکر؛ بازو، پر، بال۔

پینچائیت: مؤنث؛ (۱) گانو کے چنے ہوئے چند لوگوں کی مشاوری
کمیٹی، جو وہاں کے چھوٹے موٹے جھگڑے چکاڑتی ہے۔
ثالث، حکم (۲) بھیر لگانا۔

پینڈنا / پینڈنا: مصلح کے فیصلے کے لیے پینچائیت بلانا۔
نامرک: مذکر؛ بیج کا فیصلہ۔

پینچائیتی ساللا: ہر شخص کا ساللا (ایک قسم کا حوامی مزاجیہ کلمہ ہے)۔
پینچی: مؤنث؛ چاند کی پانچویں تاریخ۔

پینچالا / پینچالا: (۱) ہر وقت ساتھ رہنے والا، وہ بڑے جو ہر وقت
ہاں کے پیچھے رہے (۲) کنکوٹے کی دم (۳) نوکر، خدمت گار
مصاحب (۴) مزاجا؛ خوشامدی۔

پینچی: (۵) مذکر؛ پرندہ، پھیرو۔
پینڈ: (ف) مؤنث؛ نصیحت، نیک صلاح۔

پینڈار: (ف) مذکر؛ (۱) غزو، خود پسندی، غوت (۲) خیال،
تصور۔

پینڈ: مذکر؛ (۱) جسم، بدن (۲) آٹے یا چاول کا گولا (۳) بھٹا
تھوا۔

پینڈنا: (۱) پیچھے پڑنا (۲) حصے میں آنا، سپردگی میں
آنا۔

پینڈنا: پیچھا چھوٹنا، رہائی پانا۔

پینڈنا: پیچھا چھوڑنا، پیننا، پیننا۔

پینڈور: ترنگور، جو عام طور پر پینڈوں کی شکل میں آتی
ہے۔

پینڈا: مذکر؛ پرودت، برہمنوں کی ایک قوم، مندر کے
رسوم ادا کرنے والا۔

پینڈا: مذکر؛ (۱) جسم، بدن (۲) گولا، گولی چیز۔
پینڈنا ہونا: (عو)؛ باعصمت ہونا۔

پینڈنا ہونا: بدن گرم ہونا، خفیف حرارت ہونا۔

پینڈنا: زیادہ بخار ہونا۔

پینڈنا: نہانا، جسم دھونا۔

پینڈنا: (عو)؛ بدن دھو ڈالنا۔

پینڈنا ہونا: (عو)؛ باعصمت ہونا، بے بیاہی ہونا۔

پنہرنا: (۱) بازو پھیلاتا، اڑنے کا ارادہ کرنا، پرتو لانا۔
 (۲) (کنایتاً)؛ لالچ کرنا، حرص کرنا۔
 پنکھا: مذکر؛ وہ مشہور چیز جس کو حرکت دینے سے ہوا ملتی ہے
 (۲) بادکش۔
 پنکھے لگ جانا: (۱) پنکھوں کا ٹٹکا یا ہانا (۲) (حو) (کنایتاً)؛
 دل دھڑکانا۔
 پنکھڑی: پھول کی پتی، برگ گل۔
 پنکھڑی: (۱) ایک قسم کی چڑیا (۲) ایک قسم کا پنکھا۔
 پنکھیا: (۱) چھوٹا پنکھا، پروانہ (۲) موتی؛ چھوٹا پنکھا۔
 پنکھوڑا: مذکر؛ پھول کا جھولہ، ہنڈولا۔
 پنکھٹ: (۵) موتی؛ پانی بھرنے کی جگہ، گھاٹ۔
 پنہنا: (۱) روئی توہنا، موہنا (۲) (کنایتاً)؛ بکھانا، برا بھلا
 کہنا، کسی کے باپ دادا کا نام لے کر گالیاں دینا۔
 پنواڑا / پواڑا: مذکر؛ (حو)؛ لمبی جوڑی بات، طول طویل
 فقہ، داستان۔
 پنواڑی: پانی پیچنے والا۔
 پنہاری / پنہارن: (۵) موتی؛ پانی بھرنے والی۔
 پنہال: (ف) صفت، چھاپا ہوا، پوشیدہ، خفیہ۔
 پنہی: موتی؛ (۱) رنگ، چاندی یا پتیل کا ورق (۲) جو تیل کا وہ
 حصہ جس پر کلابتوں کا کام کیا ہوا ہو۔
 پنیا: (۱) پانی کا، پانی میں رہنے والا (۲) ہدمزہ، پھیکا
 سیٹا۔
 سانپ: وہ سانپ جو پانی میں رہتا ہے۔
 سوپ: وہ تالاب جس میں سوتیں ہوں۔
 کال: مذکر؛ جو قحط پانی کی زیادتی کی وجہ سے پڑے۔
 پنپر: (ف)؛ مذکر؛ دودھ سے خاص ترکیب کے ساتھ ایک
 تخمیں چیز بنائی جاتی ہے۔
 پنپری جانا: (۱) پنپری کی چکتیاں بنانا (۲) کسی بات کی
 بنیاد ڈالنا، کوئی ایسا کام شروع کرنا جس سے بہت سے
 کام نکلیں۔
 چشانا: (دہلی)؛ لالچ دینا، خوشامد کرنا، رشورن دینا۔

پ۔ و

پلو: (۱) ترہکا، صبح کا اجالا، (۲) چوسر کھیلنے کی ایک اصطلاح
 (۳) سبیل۔
 بارہ: مذکر؛ (۱) چوسر کے بارہ دانوں کی ایک پلو کا حامل
 (۲) (کنایتاً)؛ ہر طرح سے فائدہ، مزے۔
 بارہ ہونا / بارے ہونا: (۱) جیت ہونا، فائدہ ہونا
 مال ہاتھ لگنا (۲) بن آنا (۳) مزے ہونا۔
 پھٹنا / پھوٹنا: تڑکا ہونا، صبح ہونا۔
 پھکا: جوا۔
 چھٹے اڑنا: عیش میں بسر ہونا۔
 پھیرا: پاؤ سیر۔
 قدمی چال: وہ چال جس میں چھوٹے چھوٹے قدم ڈگ
 رکھے جائیں۔
 پوا: مذکر؛ (۱) پاؤ سیر، (۲) چوتھائی۔
 پواڑا: مذکر؛ لمبی جوڑی داستان، بہت طول طویل بات۔
 پوال / پیال: موتی؛ سوکھی گھاس، پھوس، وہ سوکھی گھاس
 جو بیل یا دوسرے جانور کھاتے۔
 پوائنٹ: POINT (انگ) مذکر؛ نکتہ، نقطہ،
 نوک، نشان، امر، بات، اشاریہ، دوڑ کا مقام، وہ نمبر

جو کھیل میں دیے جاتے ہیں۔

پوپ: POPE (انگ) مذکر؛ رومن کیتھولک سب سے بڑا پادری، پاپائے اعظم۔

پوپلا: مذکر؛ بے دانستہ۔

پوت / پوتھر: مونث؛ کا پخ کے سوراخ والے چھوٹے چھوٹے موٹی، شیشے کے دانے۔

پورا کرنا: کئی پورا کرنا۔

پورا نہ ہونا: زیور کے قسم کی کوئی ادناسی چیز بھی نہ ہونا۔

پوت: مذکر؛ بیٹا، فرزند۔

پہو / پیت بہو: پوتے کی جورو

پانٹیا لے ہی میں معلوم ہوتے ہیں: (مثل)؛ انسان کے اچھے برے ہونے کے آثار کا اندازہ بچپن ہی میں ہو جاتا ہے۔

پوتوں پھلے: دعا۔ کثرت سے اولاد ہو، نسل بڑھے۔

پوتنا: مذکر؛ (۱) بیٹے کا بیٹا، اولاد (۲) پچارے کا کپڑا، پچارا۔ پوتامنی (سفید مٹی)۔

پھیرنا: پچارا پھیرنا، پوتنا۔

پوتھر: (ہ) پاک، صاف۔

پوتڑا: مذکر؛ وہ کپڑا یا ربر جو چھوٹے پتوں کی کر کے بچھے بچھایا جاتا ہے تاکہ پشیا، پانانہ، اسی پر گرے۔

پوتڑوں کا امیر / رکنس: پیدائشی امیر، خاندانی رئیس۔

کاکلڈری: سدا کا کنگال، ہمیشہ سہزب و مفلس۔

پوتنا / پیتنا: (۱) کوچی، پوچا، وہ لٹا جس سے سفیدی پھرتے ہیں (۲) لینپنا، پوتنا پھیرنا، سفیدی کرنا۔

پھیرنا: سفیدی کرنا، سنی میں کپڑے کو لتیر کر دلوار یا فرش پر پھیرنا۔

پوتھا: مذکر؛ بڑے حجم کی تہی کتاب جس کے لیے ورق علاحدہ علاحدہ کھ کر نکل میں سی دیے گئے ہوں۔

پوتھی: مونث؛ (۱) ہندوؤں کی مذہبی کتاب (۲) علم نجوم کی کتاب (۳) علم موسیقی کی کتاب (۴) یہی کتاب (۵)

پسن کی گرہ، گمانٹھ۔

پوٹ: مونث؛ (۱) گٹھری، بندل، انبار (۲) اخبار یا کتاب کے دو چڑے ہوئے صفحوں کے بیچ کی بے لکھی خالی جگہ (۳) افراط، کثرت (۴) مردے کے گھن کے اوپر کی چادر کین

پوٹا: مذکر؛ (۱) جانوروں کا معدہ (۲) (دہلی) حقیقت کا قیاس، اساط، حوصلہ۔

پوتھونا: (۱) پیٹ بھر کھانا، شکم سیر ہونا (۲) (کنایتاً)؛ مال دار ہونا۔

پوٹاش: POTASH (انگ)؛ ایک کیمیائی مرکب۔

پوٹاشیم: POTASSIUM (انگ)؛ مذکر؛ ایک قسم کا نمک دار کیمیائی عنصر۔

پوٹلا: مذکر؛ بڑا بندل۔

پوٹلی: مونث؛ (۱) وہ کپڑے کی دھجی جس میں دوا باندھ کر بھگوتے یا لگاتے ہیں (۲) چھوٹی گٹھری۔

پوٹھا: مونث؛ مذکر، عبادت، پرستش۔

پاٹ: مونث؛ مذکر، عبادت، پرستش۔

پوٹھاری / پوٹھاری: پوٹھا کرنے یا کرانے والا، پنڈت۔

پوٹھنا: پرستش کرنا، نذر کرنا، چڑھا دیا چڑھانا۔

پوٹھ: مونث؛ خالی بے مغز، کھوکھلا، مہل بے معنی۔

پوٹھو: بے اصل، مہل بے معرف، مست، ضعیف۔

مغز: (کنایتاً)؛ احمق، فضول بکنے والا۔

پوٹھ یا چھو / پوٹھ یا چھو: مونث؛ تحقیقات، تفتیش، دریا پوٹھ یا چھو: مونث؛ دریا، تفتیش، تحقیقات۔

پوٹھ جانا: باز پرس ہونا، جواب طلب کرنا۔

پوٹھ پوٹھتے پوٹھتے خدا کا گھر مل جاتا ہے: (مثل)؛ محنت اور جستجو سے کام یاابی ہو رہی جاتی ہے۔

پوٹھ دینا: دعا سلام کرنا۔

پوٹھ چھو: مونث؛ پرستش، آوجھت، قدر و منزلت، تہنیتاً پوٹھنا: (۱) دریافت کرنا، معلوم کرنا، واقفیت حاصل کرنا، خبر و

حافیت دریافت کرنا (۲) دعا سلام کہنا، حال دریافت کرنا۔ (۳) اجازت حاصل کرنا، صلاح لینا، مشورہ کرنا (۴) آوجھت

— اُترنا: (۱) وزن میں ٹھیک ہونا (۲) چاچ اور آزمائش میں کال بھٹنا۔ کامیاب ہونا، فشار کے ملاق ہونا، کام کا خاطر خواہ انجام پانا۔
— پڑنا: (۱) کافی ہونا، کمی نہ پڑنا (۲) اچھی طرح گزر بسر ہونا فراغت سے گزرنے۔
— پورا: بالکل۔ ٹھیک، کامل۔
— ہاتھ پڑنا / مارنا: پورا دار کرنا، پورا حمل کرنا۔
— ہونا: امید برآنا، ارمان نکلنا، تلافی ہو جانا، تکمیل کو پہنچنا مقار۔ آزمائش، امتحان میں ٹھیک اُترنا۔

پُورَب: مذکر؛ مشرق۔

پُورَبی: مؤنث؛ (۱) پورب سے منسوب (۲) پورب کی زبان۔
پُورَبی زردا: ایک قسم کا بے پٹھے کا تباکو۔

پُورَبیا: مذکر؛ پورب کا باشندہ۔

پُورَبی: مؤنث؛ بھرا ہوا، تمام، پورا، آخر، ختم، انجام۔
پُورَبٹ: PORT (انگ) مذکر؛ بندرگاہ۔

پُورَبٹ: PORTER (انگ) مذکر؛ مزدور، قلی،

سامان اٹھانے والا۔

پُورَبٹرسٹ: PORTTRUST (انگ) مذکر؛ (۱)

بندرگاہ کی انتظامیہ (۲) بندرگاہوں کے انتظامی امور

کا ادارہ۔

پُورَبٹریٹ: PORTRAIT (انگ) مذکر؛ منسل تصویر

فونو، پینٹنگ، شبیہ۔

پُورَبنا: (۱) بُنا (۲) بھرنا (۳) روٹی میں چھنے یا ماش کی ڈال

ڈالنا۔

پُورَبنا / پُورَب ماشی: مؤنث؛ چاند کے اجالے پاکھ کی

پندرہویں تاریخ۔

پُوروا / پُوروا: (۱) پورب کا، مشرقی (۲) مشرق کی ہوا۔

(۳) چھوٹی بستی (۴) پوروی کی تصویر (مرکبات میں مستعمل ہے)۔

پُوری: مؤنث؛ چھوٹا پور (گتے کا)۔

پُوری: چھوٹی تلی ہوئی روٹی، (۳) پورا مکمل۔

— بات: پورا معنوں، پورا مدعا، مکمل بات۔

توقیر، قدر و منزلت (۵) بلانا، طلب کرنا (۶) مدد کرنا۔

پُوچھنا یا چھنا: دریافت کرنا۔

— چھنا: (گھنٹا تا بے مل، پر سال ہونا، پرسش ہونا۔

پُوچھو دن کی بتائے رات کی / پُوچھو زمین کی کہے آسمان

کی؛ (مثل)؛ سوال کچھ جواب کچھ، اول جلول پائیں کرنا۔

پُوچھن: پیر لو کو صاف کرنے کا پڑا، مانی، دیکھو؛ پونچھن۔

پُوڈ: مؤنث؛ ہر سے ہر سے وہ ننھے پورے خوندا بڑے ہو جانے

پر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں (۲) نسل، پیر طمی۔

— جھانا: (گھنٹا)؛ بنیاد قائم کرنا، مطلب براری کی

ترکیب۔

پُوڈ: (ف)؛ بانا، جس کو تاتے میں ڈال کر پھاڑتے ہیں (اردو

میں تنہا استعمال نہیں ہوتا، تار پور کہتے ہیں)۔

پودا؛ مذکر؛ بوٹا، چھوٹا درخت۔

پُوڈدار: مذکر؛ فوطے دار کا بگڑا ہوا لفظ ہے (۱) فوط، تھیل

(عربی میں) (۲) مصلوب لینے والا، عمدہ دار (۳) خرابی۔

پُوڈنا: مذکر؛ ایک چھوٹا پر عمدہ (۲) بوٹا (۳) نہایت پست قد

آدمی۔

پُوڈ پیتہ: (ف) مذکر؛ ایک مشہور خوش بودار پودا۔

پُوڈھا: مذکر؛ چھوٹا درخت، نیا درخت (دیکھو پودا)۔

پُوڈر: POWDER (انگ)؛ مذکر؛ (۱) سفوف

بُرادا (۲) ایک خوشبودار سفوف جو چہرے اور جسم پر لگاتے ہیں۔

پُوڈ / پُوڈا: عمدہ، گاؤ، قبیلہ، شہر، بالعموم کسی نسبت کے ساتھ)۔

پُوڈ / پُوڈا: مؤنث؛ مذکر؛ (۱) ہاتھ کی انگلی میں جو تین جوڑ ہوتے ہیں اُن

میں سے ایک جوڑ (۲) گتے یا اس میں ہرگز سے کے بعد جوڑہ ہوتی ہے۔

دہ کڑا۔

پُوڈ پُوڈ: (۱) بند بند، جوڑ جوڑ (۲) جسم کا چھوٹے سے چھوٹا

حصہ۔

پُوڈ: (ف) مذکر؛ بیٹا۔

پُوڈ: (۱) چھنے یا ماش کی دال جو پوری میں ڈالتے ہیں (۲)

سیلاب۔

پُوڈا: تمام، مکمل، سب، تجربہ کار، کارل، لبالب۔

پورے دن : فریجینے، نواں مہینا۔

لگتا : حل کاواں مہینا لگتا۔

دلوں ہونا / پورے دنوں سے ہونا : حل کاواں

مہینا ختم ہونا، وضع حل کے دن قریب ہونا۔

پوڑا : مذکر؛ گل گلا۔

پوزیشن : مؤنث؛ معذرت۔

پوزمی : (ف) مؤنث؛ وہ قسم جو گھوڑے کے دہانے کے گرد

رہتا ہے۔

پوزٹیو (پوزے ٹو)؛ (انگ)؛ POSITIVE

یقینی، حقیقی، نوٹو کا سیدھا رخ، مثبت۔

پوزیشن : (انگ)؛ مؤنث؛ مرتبہ،

حیثیت، انداز، حالت۔

پلاس : مذکر؛ فعلی سن کا جو تھا مہینا جس میں جاڑے کی شدت

ہوتی ہے۔

پوسٹ : (ف) مذکر؛ (۱) جلد، کمال، چڑی، بدن کا ظاہر

حصہ (۲) نشناش کی بوندی (۳) چمکا، بگن۔

استخوان باقی رہ جانا : (۱) ہڈی چڑا باقی رہ جانا،

(۲) بہت ڈبلا ہونا۔

گندہ : (ف)؛ کھلی بات، صاف صاف، علانیہ، بے لاج۔

کھینچنا : کمال کھینچنا پرانے زمانے میں کسی سخت جرم

پر کمال کھینچنے کی سزا دی جاتی تھی)۔

پوسٹی : وہ کاغذ کا کھلونا جس کا پینڈا سجاری ہوتا ہے، اُسے لٹاؤ

ٹیڑھا رکھ کر صحت میں پینڈے کے بل کھڑا ہوجاتا ہے۔

پوسٹین : (ف) مذکر، مؤنث؛ بال دار چڑے کا کوٹ، جانور

کے کمال کرنا، کمال کی پوشش۔

پوسٹ : (انگ)؛ ٹپا، عمدہ۔

آفس : (انگ) مذکر؛ ڈاک گھر،

ڈاک خانہ۔

کارڈ : (انگ) مذکر؛ (۱) وہ کارڈ

جو ڈاک سے بھیجا جاتا ہے (۲) خط۔

ماسٹر : (انگ)؛ مذکر، ڈاک خانہ

ماسٹر جنرل
MASTER GENERAL. (انگ)۔

مذکر؛ صوبے کے ڈاک خانوں کا ناظم اعلیٰ۔

مین : (انگ)؛ ڈاکیا، چٹھی رسال

خط ہانڈل والا۔

پوسٹر : (انگ) مذکر؛ وہ اشتہار جو ہر

راہ دیواروں پر چیکائے جا سکیں، دیواری اشتہار۔

پوسٹل : (انگ)؛ (۱) ڈاک خانے

سے متعلق (۲) ڈاک کا۔

آرڈر : (۱) نقد نامہ جو ڈاک

گھر سے اجراء ہوتا ہے، (۲) حکم ڈاک کا نقد نامہ۔

پوسٹل گائیڈ : (انگ)؛ ڈاک خانے سے متعلق معلومات

اور قواعد کی کتاب۔

پوسٹ مارک : (انگ) مذکر؛ موت کے بعد جسم کی طبعی

بارخ۔

پوسٹج : (انگ) مذکر؛ ڈاک خرچ

ڈاک وصول۔

پوشاک : مؤنث؛ پہننے کے کپڑے، لباس۔

پوشش : (ف)؛ (۱) لباس پہننے کے کپڑے (۲) اوپر

ڈالنے کا پیرا (عام طور پر اردو میں پوشاک صرف انسانوں کے

لیے اور پوشش باقی حیوانوں اور چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

پوشیدگی : (ف) مؤنث؛ ڈھکی چھپی بات یا چیز، پردہ، اخفا۔

پوشیدہ : (ف)؛ چھپا ہوا، خفیہ، ہیٹھیٹھیچھ، دہ پردہ، مخفی،

پنہاں۔

پوکنا : کسی چوپائے کا پٹلا فضلہ، پاخانہ۔

پوکھو : مذکر؛ (۱) تلاب۔ ساگر (۲) پٹے بازی کی ایک اصطلاح۔

پول : پول۔

پولا : مذکر؛ تھکن، نرم، اندر سے خالی۔

پولا : مذکر؛ (۱) گلاس کا بیڈل (۲) چپے کے پھوس کا گڈا۔

پولی : مؤنث؛ چھوٹا پولا، سکتی جوار، ہاجرے کی گڈیاں۔

پولا ڈر / پولا ڈر : مذکر؛ عمدہ نوبہ، مضبوط، سخت۔

پونڈ: POUND (انگ) مذکر؛ (۱) تقریباً ادھاکلو کے برابر وزن (۲) انگلستان کا سونے کا سکہ۔

پونڈا: مذکر؛ ایک خاص قسم کا موٹا گٹا۔
پون سلمائی: مؤنث؛ وہ پستلی لکڑی جس پر روئی کی پونیاں کاتے کے واسطے بناتے ہیں۔

پوننگا: مذکر؛ (۱) بانس، بانس کا پور (۲) علی، پاٹو کی تلی، موٹا بانس جو بیج میں سے خالی ہوتا ہے (۳) (مجازاً)؛ احمق۔ بے وقوف۔

پوننگی: مؤنث؛ باجا، ایک قسم کا سنیرول کا باجا۔
پونول: مؤنث؛ قری ہندی جینے کا آئردن۔
پونوی: مؤنث؛ توای ہوئی روئی کی چھوٹی ذرا سی موٹی سی بتی جسے چرخے میں لگا کر تازہ کاتتے ہیں۔

پوہنجا: مذکر؛ دیکھو، پہنچا، پہنچ۔
پونوی: مؤنث؛ گھوڑے کی میانہ چال، ڈلکی چال۔
پوسیا: ڈلکی چال۔
پوسپوں جانا: ڈلکی جانا، میانہ چال چلنا۔

پویلین: PAVILION (انگ) مذکر؛ تماشائیوں کی خاطر کھیل دیکھنے کے واسطے لگا ہوا، شامیانہ، یا بنا ہوا ٹنگ (۲) بڑا نیمہ (۳) باغ میں بنی ہوئی بارہ دری۔
پویک: (ف) مذکر؛ دوڑنا، گھوڑے کی ایک چال کا نام۔

پ - ۵

پتہ: پتہ کا منصف؛ لیکن، مگر۔
پہاڑ: مذکر؛ بکھوہ۔ جبل (۲) (کنایتاً)؛ طول طویل، دراز (۳) ناگوار، کمشن، اجرن، مشکل۔

پٹھانا: بڑا اہم کام کرنا۔
پٹالنا: (کنایتاً)؛ مصیبت دفع کرنا۔

پٹل جانا: (۱) (مجازاً)؛ پہاڑ ایسی مصیبت کا دفع ہونا۔ (۲) پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔

پٹٹنا / لوٹ پٹٹنا: (کنایتاً)؛ سخت مصیبت آجانا، ناگہانی آفت آنا۔

پولٹری: POULTRY (انگ)؛ پالتو پرندے جیسے مرغی، بلخ وغیرہ۔

فارم: FARM (انگ) مذکر؛ مرغی خانہ۔

پولٹس: POULTICE (انگ) مؤنث؛ سیپ، ضاد۔

پولس / پولیس: POLICE (انگ)؛ مؤنث؛ وہ سرکاری حکمہ جو شہری نظم و نسق اور علاتے میں امن و امان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔

پولیس اسٹیشن: STATION (انگ) — مذکر؛ تھانا، کوتوالی۔

پولنگ بوتھ: POLLING BOOTH (انگ)؛ ایکشن میں ووٹ دینے کی جگہ۔

پولو: (انگ) مذکر؛ چوگان کی قسم کا ایک انگریزی کھیل۔
پولیتیکل: POLITICAL (انگ)؛ سیاسی، راج نینک۔

پولن: تین چوتھائی حصہ، ایک میں چوتھائی کی کمی۔
پولون: مؤنث؛ ہوا، باد۔
پولونا: مذکر؛ (۱) تین چوتھائی (۲) ایک قسم کی کف گیر جس سے کسی ہوئی چیزیں نکالتے ہیں۔
پولونا / پولنے: (۱) ایک مشہور شہر (ممبئی کے قریب)؛ (۲) دھاگا پرونا۔

پولنجی: مؤنث؛ سرمایہ، جاے داد، بساط، حقیقت۔
پستی: سرمایہ دار، دولت مند۔

پوادی: سرمایہ داری۔
پونچھ / پونچھ: دُم۔

پونچھلا: مصاحب، ہر وقت ساتھ رہنے والا۔
پونچھن / پونچھن: (۱) وہ کپڑا جس سے کمانے کا برتن پونچھا جائے۔ (۲) پکا کھارتن کی تڑپیں لگا ہوا کھانا، سالن۔

پونچھنا: جھاڑنا، صاف کرنا، آلائش سے پاک کرنا۔
پونچھ پا کچھ: (پانچ پانچ میں)، جھاڑ جھڑ، صفائی، ستھرائی۔

— اٹھنا: پہرے چوکی کا موقوف ہونا۔
 — پٹھانا: حفاظت یا حراست کے واسطے پہرہ مقرر کرنا۔
 — چوکی دینا: حفاظت کرنا، پاسبانی کرنا۔
 — پہرے دار: مذکر؛ چوکی دار، محافظ، دربان۔
 — پہرے میں دینا / پہرے میں رکھنا: حراست میں دینا
 قید کر دینا، بند کر دینا۔
 — پٹھل: (۱) مذکر؛ وصلی ہوئی روئی کا جلیا ہوا ٹکڑا، وصلی ہوئی
 روئی کا ٹکڑا (۲) مؤنث؛ کسی کام کی ابتدا، پیش قدمی۔
 سبقت (۳) طرح، وضع۔
 — پٹھلا: مذکر؛ (۱) اگلا (۲) پڑانا (۳) ابتدائی (۴) اول نمبر
 کا، شروع کا۔
 — پٹھلو: (ف) مذکر؛ (۱) پسلی، کولا، بازو (۲) جانب، طرف
 رخ (۳) نگینہ، الماس، پھل (۴) طرز، طریقہ، انداز
 ڈھب، تدبیر (۵) بغل، آغوش، کنار (۶) رمز، کنایہ
 (۷) قرب، پاس، پڑوس (۸) برابر، سامنے (۹) ترکیب
 جملہ، بہانہ۔
 — آباد ہونا: پہلو گرم ہونا۔
 — پٹھانا: تدبیر کرنا۔
 — بچا جانا: کتر جانا، الگ ہو جانا، خوبی کے ساتھ
 ملاحضی اختیار کرنا۔
 — بدلتا: (۱) کموت بدلنا (۲) انداز بدلنا (۳) جیلہ کرنا۔
 دوسرا طرز اختیار کرنا۔
 — بسانا: (۱) پڑوس آباد کرنا (۲) بغل میں لیٹنا (۳) قبر کے
 پہلو میں دفن ہونا۔
 — پٹھل سے نہ لگتا: بے جینی اور بے قراری رہنا۔
 — بہ پٹھلو چلنا: ساتھ ساتھ چلنا، برابر رہنا، جیجے نہ
 رہ جانا۔
 — پر آنا: ڈھب پر آنا، انداز اختیار کرنا، کسی روش پر آنا۔
 — پھیرنا: روش پلٹنا، طریقہ بدلنا۔
 — تپنی کرنا: (معنی؛ پہلو خالی کرنا)؛ کسی کرنا، کوتاہی کرنا،
 چشم پوشی کرنا۔

— دن بڑا ہونا: دن کا بہت باقی رہنا۔
 — ڈھانا: بہت ظلم کرنا، بے حد ستم کرنا۔
 — زندگی: بڑی طول طویل ناگوار زندگی۔
 — سارن: بہت بڑا دن، ایسا دن جس کا کاٹنا دشوار ہو۔
 — سہی رات: بڑی مصیبت کی رات، بہت طول طویل رات۔
 — سے ٹکڑ لینا: زبردست سے مقابلہ کرنا۔
 — کاٹنا: دشوار کام کرنا۔ مشقت کا کام کرنا، سعی کے دن
 گزارنا۔
 — کی ڈرائنگ: پہاڑوں کی لمبی قطار کا سلسلہ، سلسلہ کوہ۔
 — کے پتھر ڈھونا: (کنایتاً)؛ سخت محنت مشقت کرنا جھاکشی کرنا۔
 — کے پیچھے ڈب جانا: مجبور ہونا، بے بس ہو جانا، مصیبت
 میں مبتلا ہو جانا۔
 — گرتا: اچانک مصیبت آ جانا۔
 — گونج اٹھنا: پہاڑ سے شروع کی آواز آنا۔
 — ہونا: دوسرے ہو جانا، گھٹن ہو جانا، دشوار ہو جانا۔
 — پہاڑی: مؤنث؛ (۱) چوٹیا پہاڑ (۲) پہاڑ کا رہنے والا (۳) پہاڑی زبان۔
 — بکرا: مذکر؛ ایک قسم کا بڑا بکرا جو پہاڑ پر ہوتا ہے۔
 — کوا: مذکر؛ بہت سیاہ، عام کواؤں سے کچھ نکلتا ہوا
 کوا۔
 — پہاڑیا: (عم) پہاڑ کا رہنے والا۔
 — پہاڑا: مذکر؛ وہ ضرب دیے ہوئے عدد جن کے یاد کر لینے سے
 حساب میں آسانی ہو جاتی ہے۔
 — پہنچان: مؤنث؛ نشانی، علامت، شناخت، واقع کاری۔
 — پہنچانا: سمجھنا، اچھی طرح جاننا، شناخت کرنا، تمیز کرنا،
 معلوم کرنا۔
 — پتھر: مذکر؛ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے آٹھواں
 حصہ۔
 — رات آنا / جانا: رات کا ایک پہرہ گزار جانا۔
 — کٹنا: پہرہ گزارنا، بسر ہونا۔
 — پہرہ: مذکر؛ (۱) حفاظت، چوکی (۲) سنتری، دربان۔
 (۳) حراست، قید۔

- چلنا: تدبیر کارگر ہونا۔
- دار: (۱) کئی پہلو، اور کئی معنی والا، رمز والا، کنایہ والا، مشتبہ، مبہم، وہ بات جس کے کئی گوشے ہوں (۲) سہاگ والی چیز۔
- دبا جانا: حال چھا جانا۔
- دباننا: (۱) بازو دباننا (۲) دشمن کی فوج کے کسی حصے پر حملہ کر دینا، (۳) غالب آجانا، زیر کر دینا (۴) کسی پہلو کی طرف زور دینا (۵) دکھائی، بہت قریب بیٹھنا۔
- دیننا: بات کم زور پڑنا، معاملہ کم زور ہونا۔
- گرم کرنا: (کنایتاً)؛ ہم کنار ہونا، ہم بغل ہونا، پہلو میں پہنچ جانا۔
- مارنا: برابری کرنا، ہم سری کرنا، انداز رکھنا۔
- ملنا: موقع ملنا، تدبیر ملنا آنا۔
- میں بٹھانا: پاس بٹھانا، اپنے قریب بٹھانا۔
- نکلنا: موقع نکلنا، بات پیدا کرنا، صورت نکالنا، ہم نکلنا۔
- نکل آنا: (۱) مطلب برابری کا دستگ نکل آنا، تدبیر ملنا آنا۔ جیل نکلنا، موقع نکلنا (۲) بات نکلنا، مشہد پیدا ہونا، رمز نکلنا۔
- پہلو ان: (رف) مذکر؛ (۱) توانا، دلاور، قوی جیشہ، (۲) کشش پڑنے والا۔
- پہلوٹا / پہلوٹا / پہلوٹا / پہلوٹا / پہلوٹا: پہلی اولاد۔
- پہلوئی: (رف) ایران کی پرانی زبان۔
- پہننا: پہننا کا مونتھ؛ ابتدائی، شروع کی۔
- بِسْمِ اللّٰهِ عَلَطُ: (رف)؛ ابتدائی سے کسی کام میں بگاڑ پیدا ہوجانا۔
- منزل: (کنایتاً)؛ قبر۔
- پہننے: آگے، اگلے زمانے میں، شروع میں، مقدم، اول۔
- پہنل: پہلی مرتبہ، اول اول، شروع شروع۔
- تم چھپے آؤ: (مقولہ)؛ سب سے پہلے تمہارا حق پھر دوسرے کا رحم کی جگہ مناسب موقع عمل پر آپ، وہ، یہ۔
- گھر کے تو پیچھے باہر کے: اپنوں سے بچے تو خیروں کو دیا جائے۔
- گھر میں چراغ تو پیچھے مسجد میں: (مثل)؛ پہلے گھر کی ضرورت پوری ہو تو پھر غیر، خیرات۔
- لکھ چھپے دے؛ بھول پڑے تو کاغذ سے لے: (مقولہ)؛ لین دین میں لکھ لینے سے بھول چوک نہیں ہوتی۔
- مارے سو میری: (مثل)؛ جس کا وار پہلے ہو جائے وہی جیت میں رہتا ہے، جو سب سے پہلے کام کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
- پہن: (رف)؛ چوڑا، فراخ، کشادہ۔
- پہننا: (رف)؛ چوڑا، فراخ۔
- پہننا: موتھ؛ چوڑائی، وسعت، فراخی۔
- پہننا: لباس یا جوڑے وغیرہ جسم پر پہننا۔
- پہننا: (۱) لہجہ، لہجہ کا دستگ، کسی خطے یا جماعت کا خاص لہجہ، (۲) عقل کی رسائی، فکر کی بلندی۔
- پہننا: مذکر؛ کلائی، دست بند۔
- پہننا: لے جانا، ساتھ لے کر جانا، رخصت کر لے جانا۔
- پہننا: خدا رسیدہ، دلوریش کال، برگزیدہ۔
- پہننا: ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا، وصول ہونا، حاصل ہونا (۲) ملنا، آجانا، وارد ہونا (۳) بات کی تہ سمجھنا۔
- ہم سری کرنا، برابری کرنا۔
- پہننا: موتھ؛ ایک زیور جو کلائی میں پہننا جاتا ہے۔
- پہننا: (۱) کپڑا زیب تن کرنا جیسے کرنا پہننا، ٹوپی پہننا؛ جسم کے کسی حصے پر کسی چیز کو استعمال کرنا جیسے انگوٹھی پہننا۔ جوتا پہننا، ہار پہننا۔
- پہننا / پہننا: (۱) گول حلقے جن پر کھڑیاں چلتی ہیں۔ (۲) چکر۔
- پھری ناک: بیٹھی ہوئی ناک۔
- پہیلی: موتھ؛ چیتان، گول مول بات۔

— بھجانا / بھجوانا، مونتھ؛ پھستان مل کرانا، صاف مٹا
بات نہ کرنا، دیر بچھرنے کہنا۔
— بوجھنا، پہلی کا مل بتانا۔

پ۔ می

پی : مذکر؛ شوہر، معشوق، محبوب۔
— پی : مونتھ؛ پیسے کی آواز۔
— تھرہاں : مونتھ؛ پیسے کی آواز سمجھی جاتی ہے۔
پکے : (۱) پیچھے (۲) پٹھا (۳) واسطے، صدمے میں بغیل میں (۴) سلامت منشا
— ڈر پکے / پیسے پکے : لگاتار، متواتر
پیسا : مذکر، دیکھو؛ پی۔
— جسے چاہے وہی سہاگن؛ (ریش)؛ عزت والا،
وقت والا، معتبر۔
پیادہ : (رف) مذکر؛ (۱) جو بیدل چلے (۲) شہرے کے ایک ہرے کا
نام (۳) شاہی ہرکارہ، پیراسی۔
پیادہ پا : پیدل۔
— روی : مونتھ؛ پیدل چلنا۔
پیار : مذکر؛ محبت، دوستی، بوسہ، لاڈ، عشق۔
— کا نام : وہ نام جو پیار سے رکھ لیتے ہیں، خاص مطلق تک محدود
رہتا ہے۔
— کرنا : (۱) جھکارنا (۲) چاہنا، محبت کرنا (۳) بوس لینا
— کی آنکھ / نظر : محبت بھری نظر، پیار کی چوٹن۔
— نکالنا : حسرت نکالنا، ارمان نکالنا۔
پیارا : دوست، محبوب، لاڈلا، عزیز، رنگ نہ توڑی رشتے والا۔
پیارے : (جمع پیارائی)؛
پیاز : (رف) مونتھ؛ ایک مشہور جڑ بوٹی بھی کھائی جاتی
ہے۔ اور مسالوں میں بھی پڑتی ہے، پیاز کی آمڑی
گھٹی۔
— کے سے پرت آتا رتا : (۱) بہت باریک کرتا (۲) (پلاڑا)
بڑا بھلا کرنا۔
— کے سے چھلکے اُدھیر کے رکھ دینا : بڑی گت بنانا،

بڑا بھلا کہنا۔

پیازی : (رف)؛ وہ چیز جس کو پیاز کا سارنگ ہو، ہلکا سرخ
گلابی۔

پیاس : مونتھ؛ (۱) پانی پینے کی خواہش (۲) (کھانیٹا)؛ تمنا،
آرزو۔

— بھجانا؛ تشنگی دور کرنا، آرزو پوری کرنا۔

— بھرت کرنا : پیاس کی شدت ہونا۔

— کا چٹکا : بار بار پیاس کی کیفیت۔

— مارنا : پیاس کو روکنا، تشنگی کو ضبط کرنا۔

— مڑ جانا : پانی کی خواہش ہاتی نہ رہنا، تشنگی خود رفع
ہو جانا۔

پیاسا : مذکر؛ (۱) جسے پیاس لگی ہو، جسے پانی پینے کی حاجت ہو
(۲) (مہازا) مشتاق، آرزومند۔

پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے
کے پاس نہیں آتا؛ (ریش)؛ طالب، مطلوب کے پاس
جاتا ہے۔ مطلوب، طالب کے پاس نہیں آتا۔

پیال / پوٹال : مذکر؛ دکان کا ٹکس۔

— کے پانو : ناپا سے دار، پیال پر پانو رکھیے تو دھنسن جاتا
ہے۔

— کے پانو کھڑے کرنا : اس کام پر آمادہ کرنا جس سے
کوئی شخص ہمت ہار گیا ہو۔

پیالہ : (رف) مذکر؛ کٹورا، ظرف، جام، پیسہ، بھیک کا
پھیکرا۔

— اٹھانا : فیری اختیار کرنا، گمراہی اختیار کر لینا۔

— بجانا : ردی، سقوں کا پانی پلانے کے لیے کٹورا بجانا۔

— بھرت جانا : (کھانیٹا)؛ دن پورے ہو جانا، عمر تمام ہو جانا۔

— چڑ جانا : خوب شراب پینا۔

— چھلک جانا : (کھانیٹا)؛ راز کھل جانا۔

— پیالی : چھوٹا پیالہ۔

پیام : (رف) مذکر؛ (۱) اپنی کوئی بات کسی تک پہنچانا خواہ
تحریر سے یا کسی شخص کے ذریعے (۲) نسبت، معنی کی

پہپت، موتھ، محبت، دوستی۔
 — کی رہت نیرالی؛ (مثل)؛ محبت کا انداز اٹکھا ہے۔
 — نہ جانے جات کجات؛ (مثل)؛ محبت حسب نسب
 نہیں جانتی، دل حس پر آجائے خواہ ذات کوئی ہو۔
 پیتیا با / پیتیا وا / پائے تاہرہ؛ مذکر؛ (۱) وہ پتلا چڑا جو جوتے
 میں رکھتے ہیں (۲) مونہ، پائتاہ۔
 پیتریا؛ مذکر؛ (۱) کشتی یا پٹے کے دائرے کے وقت کا انداز اور عطا
 (۲) تھم کے نشان۔
 — بدلنا؛ (۱) کشتی یا پٹے کے وقت قاعدے کے بموجب
 پاؤ کا آگے پیچھے رکھنا، عطا سے کھڑا ہونا (۲) فن سپہ
 گرمی دکھانا (۳) ناز و انداز سے چلنا (۴) کسی کی مخالفت
 میں تدبیریں بدلنا۔
 پیٹیل؛ ایک قسم کی مشہور پہلی دھات جو جست اور تانبے سے
 مل کر بنتی ہے۔
 پیٹیل؛ پتیل کا، پتیل کے رنگ کا۔
 پیٹیل؛ مذکر؛ (۱) شکم (۲) کونیاٹا؛ (۳) گنہائش، حوصلہ
 ظرف، بھیر۔
 — اچھڑنا؛ پیٹ کا پھولنا۔
 — بانڈھنا؛ (کونیاٹا)؛ خواہش سے کم کھانا، فاقہ کرنا۔
 — برڑی بلا ہے؛ (مقولہ)؛ پیٹ بڑی مصیبت ہے۔
 بھوک میں انسان سب کچھ کھڑا کرتا ہے۔
 — بڑھانا؛ دوسروں کے حصے پر دانت رکھنا، ہوس
 بڑھانا۔
 — بندھنا؛ دستوں کا بند ہو جانا۔
 — بھڑا؛ مذکر؛ (۱) شکم سیر (۲) کونیاٹا؛ بے عکرا۔
 (۳) مال دار، آزاد۔
 — بھڑجانا؛ (۱) جی بھرجانا (۲) اگتا جانا۔
 — بھڑکڑ؛ (۱) جی بھڑکڑ، خاطر خواہ (۲) بہت۔
 — بھرتا؛ (۱) روکھا سوکھا کھاکر گزر کرنا (۲) آسودہ ہونا،
 طبیعت بھرتا (۳) کونیاٹا؛ مال دار ہونا، دولت مند
 ہونا۔

بات چیت، خیر۔
 — آجل؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ موت، انتقال۔
 — بڑ؛ (ف)؛ مذکر؛ پیام لے جانے والا، اچھی سفیر، تاملہ
 — سلام؛ مذکر؛ زبانی بات چیت، ملنا جلتا، خط یا کسی
 شخص کے ذریعے سوال جواب۔
 پیامی؛ پیام لے جانے والا۔
 پیانیست؛ PIANIST (انگ)؛ مذکر؛ پیانو
 بجانے والا۔
 پیانو؛ PIANO (انگ)؛ مذکر؛ ایک قسم کا
 انگریزی باجا۔
 پیانو؛ مذکر؛ سہیل، وہ جگہ جہاں لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام
 ہو۔
 پیپ؛ موتھ؛ زخم کا پیلا مواد۔
 — پیڑنا؛ (۱) زخم کا پکتا (۲) راجازا؛ (۳) روحی ایذا ہونا۔
 — کھیمے میں ڈالنا؛ بہت رنج دینا۔
 پیپیا؛ مذکر؛ ڈھول کی طرح کا لکڑی یا تین کا برتن جو ایک طرف
 سے بند ہوتا ہے، جس میں عام طور پر شراب ہوتی ہے۔
 پیپے خالی کرنا؛ کثرت سے شراب پینا، پیپے میں جو چیز بھی ہو
 کثرت سے استعمال کر کے ختم کر دینا۔
 پیپر؛ PAPER (انگ)؛ مذکر؛ (۱) کاغذ، اخبار
 (۲) امتحان کا پرچہ (۳) ہنڈی۔
 — مل؛ MILL (انگ)؛ مذکر؛ کاغذ ساز
 کا کارخانہ۔
 پیپر ویٹ؛ PAPERWEIGHT (انگ)؛ (۱)
 کاغذ داب، (۲) کاغذات کو دبا کر رکھنے کے لیے کاچ یا
 لکڑی وغیرہ کا ٹکڑا۔
 پیپر منٹ؛ PEPPER-MINT (انگ)؛ مذکر؛
 ہودینے کا سنت۔
 پیپل؛ مذکر؛ (۱) ہندستان کا ایک خاص بڑا سیاہ دلدردخت
 (۲) ایک دوا کا نام۔
 پیپلی؛ موتھ؛ پیپل کا پھل۔

- بھرے رز پلے اور بھوکے بھلے مانس سے ڈریے :
(مقولہ)؛ ذیل آدمی دولت مندی کی صورت میں، شریف
منفسی میں خطرناک ہوتے ہیں۔
- کی باتیں / پیٹ بھرے کے گن : بے پروائی کی باتیں
شہنی یا تعلق کی باتیں، غرور کی باتیں۔
- پالنا : محنت مزدوری کر کے گزارا کرنا۔
- پائی ہونا : (۱) دست آنا (۲) بہت پریشان ہونا۔
- پکر پھڑ باندھنا : فلتے کی اذیت اٹھانا، بھوک دبانے
کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا۔
- پکڑنا : پریشان اور اضطراب کی حالت ہونا۔
- پورا کرنا : پیٹ پالنا۔
- پوچھن / کھوجن : (عو)؛ وہ بچہ جس کے پیچھے کوئی اور
بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔
- پیٹنا : (۱) پیٹ بجانا (۲) (کیناٹیا) بھوک سے میتاب
ہونا، بے مبری کرنا، ہوس کرنا (۳) پھڑ پھڑانا۔
- پیٹھ ایک ہو جانا : بھوک کی شدت سے پیٹ پیٹھ سے
لگ جانا، دونوں ایک نظر آنا۔
- پیھاڑنا : (۱) شکم چاک کرنا (۲) کسی کام میں جلدی کرنا۔
بے قراری دکھانا، (۳) ہوکا ہونا، بے مبری کرنا (۴) حسد کرنا
- نظر لگانا (۵) حقہ لینے میں جلدی کرنا (۶) دل کا بھید ظاہر کرنا۔
- پھلانا : (۱) پیٹ کو سانس سے پھلانا (۲) (عم)؛ حاملہ ہونا۔
(۳) (عو)؛ کھانے کے شوق میں تیار ہو کر بیٹھنا۔
- پھولنا : (۱) پیٹ اچھڑنا، نفع ہو جانا (۲) بے چین ہونا
(۳) محل سے ہونا۔
- ٹھنڈا رہنا : دعا، اولاد کا زندہ رہنا، صاحب اولاد رہنا
خوش رہنا۔
- جاری ہوتا : پتلے پتلے پانی سے دست آنا۔
- جلتا : بہت بھوک لگنا، بخار معلوم ہونا۔
- چپاتی ہونا : (۱) مارے بھوک کے پیٹ کا اندر دھنس
جانا (۲) پیٹ ملائم ہونا۔
- چلنا : زیادہ دست آنا۔
- چوٹی : (عو) مؤنث ؛ وہ عورت جس کا حمل پیٹ بڑا نہ ہو
کی وجہ سے جلد سے جلد پھیلا نہ جاسکے، جس کو حمل ہوا وہ پیٹ
زیادہ نہ بڑھے۔
- چھٹنا : پیٹ کی موٹائی کم ہونا، پیٹ جھٹک جانا، عام
موٹائی کم ہونا۔
- چھوٹنا / چھٹنا : دست جاری ہونا۔
- ڈالنا : حمل گرانا۔
- رکھانا : عورت کا مرد سے حاملہ ہونا یا مرد کا عورت کو حاملہ
کردینا۔
- رہ جانا : حمل قرار پانا، حاملہ ہو جانا۔
- سے پاؤ لیکنا / پیٹ سے باہر پاؤ لیکنا :
(۱) ناشائستہ فعل کرنا (۲) بدی پر آنا (۳) خفیہ عیب یا
ہنر ظاہر کرنا۔
- سے ہونا : حاملہ ہونا۔
- کا بچہ / لکڑکا : وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا پیٹ میں
ہے۔ سکا بچہ، حقیقی اولاد۔
- کا پانی نہ پھلنا : (سواری میں)؛ گھوڑے سوار کا بے مکان
بڑے آرام سے جانا، بالکل جنبش نہ ہونا۔
- کا پرڈہ : آنتوں کی جھلی، (وجھڑی۔
- کا پیٹھ سے لگ جانا : نہایت ڈبلا ہو جانا۔
- کاٹنا : کم کھا کر گزار کرنا، معمولی خوراک میں کمی کر دینا۔
- کا ٹوٹا ہونا : فاقوں کا مارا ہونا، روٹیوں کا محتاج ہونا۔
- کا ڈکھ دینا : بھوکا مارنا، کھانے کو نہ دینا۔
- کا ڈکھیا : (۱) جسے پیٹ کا کوئی نہ کوئی آزار ہو (۲) (طنزاً)؛
بسیار خود بلا نوش، نہایت مخلص، بھوکا۔
- کا دھندا : پیٹ پالنے کا کام، روزی روزگار کی تدبیر
محنت مزدوری۔
- کا کپٹی، منافق، کینہ پرور۔
- کا کھایا کوئی نہیں دیکھنا، تن کا پھٹنا سب دیکھنے
ہیں : (مقولہ)؛ کپڑوں پر سب کی نظر پڑتی ہے سلیقے کے
کپڑے پہننا چاہیے، کھانا چاہے جیسا بھی کھا لو کسی کی نظریں

— میں ٹکڑا ڈالتا، کھانے پینے کی کفالت کرتا، روٹی دینا۔

— میں جو ہے دوڑتا: (کھینچنا)؛ زیادہ بھوک لگتا۔

— میں چیونٹے کی گڑھ ہوتا: (عو) طنزاً؛ بہت کم خوراک

ہونا۔ بے کھانے جینا، نزاکت کی جہ سے کم خوراک ہونا۔

— میں دائھی ہونا: بچپن میں بوڑھوں کی سی باتیں کرنا۔

— میں ڈالتا: بے رغبتی سے کھانا۔

— میں سانس نہ سنانا: بے حد گھبراہٹ ظاہر کرنا۔

— میں کھلبلی پڑنا / مچینا: پریشانی ہونا، گھبراہٹ ہونا

اضطراب ہونا۔

— میں گھسٹنا: مطلب کے لیے دوستی پیدا کرنا۔

— میں گھوڑے دوڑنا: پیٹ میں گڑ بڑ ہونا،

قرار ہونا۔

— میں نہ سمانا / نہ مچینا: بھید نہ چھپا سکتا، راز نہ رکھ سکتا۔

— میں ہول سمانا / پیٹ میں ہول سی اٹھنا:

پریشان ہونا، بے حد گھبراننا۔

— والی: مونتھ؛ حاملہ۔

— پیٹیا: (۱) جھول (۲) جوف (۳) کسی چیز کا وسط (۴) قابو، بس،

حمایت (۵) تقریباً، دوران میں (۶) دریا کے بہنے کا راستہ

دریا کا پاٹ (۷) حساب کی تفصیل، جو ایک مد کے اندر

لکھی جائے (۸) ادھڑی (جواناں کی)؛ (۹) کتاب کا متن

صفحے کے بیچ کا حصہ (۱۰) دور، گھر۔

— چھوڑنا: ٹنکتے کے دور کا جھول دینا۔

— پٹیا: (عو) بے جا، نامناسب۔

— پانی: مذکر؛ زور شور کا پانی۔

— پیٹ پیٹ کر: (۱) بڑی مشکل سے، نہایت دقت سے

(۲) مار مار کر۔

— برسنا: بہت زیادہ بارش ہونا، بہت زور سے بارش

ہونا۔

— پیسٹرن (پے۔ ٹرن)؛ PATTERN (انگ)؛

مذکر؛ (۱) سر پرست، مرتی، حامی (۲) نمونہ، مثال،

طرز، انداز۔

— نہیں آتا۔

— کا گھرا: رازدار، جھپٹ کا ہلکا نہ ہو، جو بھید کو پیٹ میں

رکھے ظاہر نہ کرے۔

— کا ہلکا: جس کے پیٹ میں کوئی بات چم نہ سکے، جو راز چھا

نہ سکے، جو بھید کی بات ظاہر کر دے۔

— کولگتا: بھوک کا غلبہ ہونا، زور کی بھوک لگنا۔

— کی آگ / آج بڑا، مال کی امتا (۲) بھوک (۳) اولاد، بال بچے۔

— کی آگ بجھانا: بھوکے لگھلانا، عزیز کا پیٹ بھرنا، غیر

کور روٹی دینا۔

— کی بات: دل کا بھید، راز۔

— کے بال: وہ جنم بال جو بچے کے سر اور بدن پر مال کے پیٹ

ہی میں نکل آتے ہیں۔

— کے گن: اندرونی حال، چھپی ہوئی عادتیں۔

— کھل جانا: بھوک بڑھ جانا۔

— گدرانا: حمل کی علامت ظاہر ہونا۔

— گرانا: حمل گرانا۔

— مسوسنا: بھوکا رہنا۔

— میں انگارے بھرنا: حرام کا مال کھانا، یتیموں کا مال

کھانا۔

— میں آڑ ہونا: بچوں کو قبض کی وجہ سے پیٹ میں درد

ہونا۔

— میں آنت نہ منہ میں دانت: (مقول)؛ بوڑھا پھوس

بہت ہی بوڑھا نہایت ضعیف دانتوں۔

— میں کل پڑنا: ہنسی کی شدت سے پیٹ میں شکن پڑنا۔

— ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑنا۔

— میں پالتا: ٹکر کھانا، کوئی بات دل میں رکھنا۔

— میں پائو ہونا: خایت مکار ہونا، بظاہر نیک معلوم

ہو مگر اصل میں چھپا ہوا بد ہو۔

— میں پڑا چارا، تو گوڈے لگابے چارا: (مثل)؛ کھایا

تو طاقت آئی، مدد ملی تو شرارت کی۔

— میں پیٹنا / گھسٹنا: اپنے مطلب کے لیے کسی سے دوستی کرنا

- ٹھوکانا: (کنایتاً)؛ شاباشی دینا، حوصلہ بڑھانا، پیار کرنا۔
- چا پائی سے لگ جانا: بیمار ہوجانا، صاحب فرس ہوجانا۔
- دکھانا: (۱) لڑائی سے سہاگ جانا، شکست کھانا (۲) رواز ہونا، رخصت ہونا۔ سفر کو جانا۔
- زمین کو/سے لگنا: دیکھو زمین سے پیٹھ لگنا۔
- سدھی کرنا: (کنایتاً)؛ آرام لینا۔ دیر تک پیٹھ جھکائے رکھنے کے بعد آرام لینا۔
- کا: دیکھو، پیٹھ پر کا۔
- کا کچا: پیٹھ کا نازک جالند جس کی سواڑ لینے سے پیٹھ جلد زخمی ہوجائے۔
- لگ جانا/ لگنا: (۱) بیٹھ بیٹھ میں گرنا، پڑ جانا۔ زخم ہوجانا (۲) چت ہوجانا۔ کشتی میں مطلوب ہوجانا (۳) رگڑ سے جانور کی پیٹھ میں زخم پڑ جانا۔
- پیٹھا: مذکر، کدو کی ایک قسم جس کی مٹائی اور مرتا بناتے ہیں۔
- پیٹھنا: کسی چیز کا کسی چیز میں گھسنا، پیوست ہونا۔ جینا، گڑنا، داخل ہونا۔
- پیٹھنے والا: (۱) زبردستی گھسنے والا، مداخلت بے جا کرنے والا۔ (۲) خود غور، عواض (۳) کنواں صاف کرنے والا۔
- پیٹھی: موتھ؛ مونگ ماش وغیرہ کی پسی ہوئی دال کی گلدی۔
- پیچھا: مذکر؛ دیکھو۔ پا جامہ۔
- پی جانا: (۱) اتار جانا۔ نوش کر لینا (۲) (کنایتاً)؛ ٹال جانا۔ طرح دے جانا۔ خاموشی سے برداشت کر لینا۔
- پیچ: مذکر؛ (۱) بیل، لپیٹ (۲) دانو (۳) مروڑ۔ پیٹ کا درد۔ (۴) وہ چوڑیاں جو کسی گل وغیرہ میں کٹی ہوتی ہیں (۵) چوڑیاں کٹی ہوئی۔ کیل (۶) عقدہ، گھسی (۷) (کنایتاً)؛ دشواری، مشکل (۸) (کنایتاً)؛ چال۔ فریب۔ دھوکا (۹) سو توں کے لچے، ککتوے کے پیچ۔ نخل۔
- اٹھانا: (۱) رنج اور سختی اٹھانا (۲) ایک گلوتے کی ڈھونڈ کر گلوتے کی ڈھونڈ سے علاحدہ کر لینا۔
- پانچ/ پانچ: مذکر؛ چالاک، مکاری۔ فریب۔
- پر چڑھانا: مخالف کو کشتی کے دائیں میں لانا۔ دائیے سے حریف

- پیٹنگ پیٹیا/ پھیٹا: موتھ؛ (۱) کہرام، گریہ و زاری، نوحہ ماتم (۲) جھگڑا، فساد۔
- پیٹنا: (۱) مارنا، کوٹنا، چوٹ لگانا (۲) دکھڑا دنا (۳) کسی کامنا چاہنا۔ بڑا چاہنا (۴) حاصل کر لینا، کما لینا (۵) ماتم کرنا، کسی کے غم میں سینہ کوئی کرنا (۶) گوٹ مارنا، مہرہ مارنا (شطر چٹیا پیٹھی میں)۔
- پیٹنٹ: PATENT (انگ)؛ رجسٹری کرائی ہوئی ایجاد جس کو دوسرا نہ بنا سکے، مسلمہ، مخصوص۔
- پیٹو: بہت کھلنے والا۔
- پیٹی: موتھ؛ (۱) بیلٹ (۲) وہ کپڑا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد زچہ کی کرپور باندھا جاتا ہے (۳) ڈورا جو ایسے پالتو پرندوں کی کریں باندھتے ہیں جنہیں ہاتھ بڑھایا جاتا ہے (۴) پیکا، چرے کا چوڑا لٹیرہ (۵) بکس، مندوچہ۔
- اترنا: سپاہی کا مٹھل ہونا۔
- باندھنا: کرکنا، زچہ بچہ، پرندوں، کو پیٹی لگانا۔
- پیٹھ: موتھ؛ جسم کے پیچھے ساحرہ شانوں سے کرکنا۔
- پیر کا/ پیٹھ کا: بعد کا وہ بچہ جو کسی بچے کے بعد پیدا ہوا ہو۔
- پیر رکھنا: (کنایتاً)؛ جھگڑتے ہوئے کسی چیز سے پیٹنا، سامنے نہ ٹھہر سکتا۔
- پیر ہاتھ پھیرنا: (۱) شفقت کرنا، پیار کرنا، چمکارنا (۲) حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا۔
- پیر ہونا: (۱) حایت پر ہونا، مددگار ہونا (۲) ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونا۔
- پیچھے: حیرت آمیز میں، غیبت میں۔
- بادشاہ کو بھی بڑا کہتے ہیں، (نسل)؛ پیچھے بڑا کہنے کا بڑا نہیں ماننا چاہیے۔
- ڈال دینا: سہرہ دانی کرنا۔
- پھیرنا: (۱) مڑا کر پھینا (۲) بے زاری کی وجہ سے ایک طرف سے دوسری جانب منہ کر لینا (۳) رخصت ہونا، جانا (۴) لڑائی سے بھاگنا، ہزیمت دکھانا۔

- کوٹا یوں میں کر لینا۔
 — پڑنا: (۱) الجھ جانا۔ شکل میں پڑنا، وقت پیش آنا، ہرج ہونے
 — ہل پڑنا (۲) ہٹنگ باروں کی اصطلاح میں ہٹنگ لڑانا۔
 — تاب: دیبھو؛ بیچ و تاب کھانا۔
 — چلنا: (۱) کشتی کے دائو کا گر ہونا (۲) چال کا میاب ہونا
 — تدمبر کا گر ہونا، فریب چل جانا۔
 — ڈرتیج: بڑا کھن۔ نہایت مشکل، پیچیدہ، الجھا ہوا۔
 — دینا: (۱) مروڑنا، بک دینا، لپیٹنا (۲) فریب دینا۔
 — دھوکا دینا، بھل دینا۔
 — ڈالنا: (۱) فریب کا چال بچانا، پیچیدگی بڑھانا (۲) شکل
 میں ڈالنا، (۳) جھگڑا پیدا کر دینا، خلل ڈالنا (۴) تینگ کاٹنے
 کے لیے ایک کی ڈور دوسرے میں ڈالنا (۵) پہلوان کے دائو۔
 — کاٹنا: (۱) کنگو کاٹنا (۲) کشتی میں دائو کا توڑ کرنا۔
 — کھانا: (۱) غصے سے بے تاب ہونا، دل ہی دل میں غصہ
 ہونا۔ دل میں رنجیدہ ہونا (۲) بک کھانا، ایٹھنا۔
 — کھلنا: (۱) بک دودھ ہوجانا، لپیٹ چلی جانا (۲) پوشیدہ بات
 ظاہر ہوجانا۔
 — کھیلنا: دائو کرنا گھات کرنا، چال چلنا، دغا دینا۔
 — لینا: بیچ لڑانا۔
 — میں لانا: فریب دینا، دھوکا دینا۔
 — و تاب کھانا: (۱) لپیٹنا (۲) غضب ناک ہونا، بے قرار
 ہونا۔
 — و تخم: (ف) مذکر؛ کچی، بل، پھیر۔
 — بیچ / پیچھ: مونٹ؛ چاولوں کا پساو۔
 — پیچھاں: بل کھائے ہوئے۔
 — پیچھش: مونٹ؛ مروڑ، پیٹ میں درد ہو کر پاخانہ ہونے کی
 بیماری جس میں کبھی کبھی آنو اور خون بھی آتا ہے۔
 — پیچک: (۱) پہل، کپے سوت کی گڑھی (۲) چھوٹا تمباکھ جس میں
 بیچ دار نال ہوتی ہے۔
 — پیچ کش: (ف) وہ اوزار جس سے بیچ دار میں نین اکھاڑتے اور
 لگاتے ہیں، جس سے بیچ کھولتے ہیں۔
- (انگ)؛ اسکر وڈرا نیور
 — پیچو: مذکر؛ (۱) زرد آلو، ایک قسم کا آڑو (۲) کریل کا کپتا
 پہل۔
 — پیچوان: مذکر؛ محقق کی ایک قسم جس کی نے بہت لمبی ہوتی ہے
 جس کو بیچ در بیچ کر کے رکھتے ہیں۔
 — پیچپسگی: (ف) مونٹ؛ (۱) مروڑ، بک (۲) الجھا، وقت
 مشکل۔
 — پیچپسہ: (۱) لپٹا ہوا، الجھا ہوا (۲) مجازاً؛ وہ معاملہ
 جو غور و فکر سے معلوم ہو، بہت میٹر معاملہ یا راہ۔
 — پیچھا: مذکر؛ (۱) پچھلا حصہ، عقب (۲) غائبانہ، تعاقب،
 پیروی۔
 — بھاری ہونا: (۱) کسی کام کے آخر میں شکل پیش آنا (۲)
 (کھانا)؛ بہت سے طرفدار ہونا۔
 — پکڑنا: (۱) کسی کے ساتھ برابر لگا رہنا، لگا لپٹا رہنا (۲)
 سنانا کسی کام کے پیچھے پڑ جانا۔ سر ہونا۔
 — چھوڑنا: مخلصی دینا، باز آنا، معاف کرنا، ترک کرنا۔ تعاقب
 چھوڑ دینا۔
 — دبا کئے چلا جانا: تعاقب کرنا۔
 — دکھانا: بھاگنا، پیٹھ دکھانا۔
 — کرنا: (۱) تعاقب کرنا، رگیدے چلے جانا (۲) سر ہونا،
 دہرے ہونا (۳) سنانا، دق کرنا۔
 — لینا: پیچھے پڑ جانا، سر ہوجانا، دق کرنا، پریشان کرنا۔
 پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑنا، تعاقب کرنا۔ بار بار آنا۔
 — پیچھے: (۱) بعد میں، غیبت میں، عدم موجودگی میں (۲)
 پھر (۳) واسطے، برائے، باعث، سبب (۴) ہر ایک
 فی (۵) اخیر۔
 — پکڑا رہنا: (۱) پشت کی طرف رہنا (۲) پیچھے پڑنا (۳)
 پیچھے رہنا (۴) تفسیک اور رسوائی چاہنا (۵) سر ہونا۔
 آڑے ہاتھوں لینا (۶) سنانا، دشمنی کرنا۔ عداوت کرنا۔
 — چھوڑنا: (۱) مرنے کے بعد جاے دلایا وارث چھوڑنا (۲)
 ہر چشموں سے آگے نکل جانا۔

- لہنا : پیچھے پڑنا۔
 — لگا دینا : مخالفت پر آمادہ کر دینا۔
 — ہولینا : پیروی کرنا، تتبع کرنا۔
 — پیچھا کرنا : مذکر، گواہ آدمی کا فصل، بیت الخلا۔
 — خطاً ہونا : (۱) بے ارادہ پیمانہ نکل جانا (۲) (بھانڈا) ؛ بے حد زنا۔
 — پیدا : (ف) ؛ (۱) ظاہر، آشکارا (۲) دست یاب، میسر (۳) جنا ہوا (۴) کمائی، آمدنی، یافت، حاصل (۵) ایجاد، اختراع۔
 — کرنا : (۱) عالم وجود میں لانا، ظاہر کرنا، موجود کرنا (۲) جانا، تولد کرنا (۳) معاش حاصل کرنا، کمانا (۴) حاصل کرنا، بہم پہنچانا (۵) ایجاد کرنا۔
 — وار : مؤنث و مذکر ؛ (۱) زراعت کا حاصل، تجارت وغیرہ کی آمدنی (۲) فصل۔
 — واری : پیدا ہونا۔
 — پیدائش : مؤنث ؛ (۱) خلقت، آفرینش (۲) نفع، آمدنی۔
 — پیدائشی : خلقی، فطری، اصلی، جتنی۔
 — پیڑل : مذکر ؛ (۱) پیادہ چلنے والا آدمی، پیادہ، پیادوں کی سپاہ پیادوں کا لشکر (۲) شطرنج کا ایک مہرہ۔
 — پیڈ : PAID (انگ) ؛ (۱) ادا کیا ہوا (۲) جس کا حصول ادا کر دیا گیا ہو۔
 — پیڈل : PEDAL (انگ) ؛ مذکر، سائیکل کا پایدان جس پر پیرو رکھ کر سائیکل چلائی جاتی ہے۔
 — پیڑ : مذکر ؛ (۱) پائو (۲) سراخ، نقش پا (۳) اناج صاف کرنے کی جگہ (۴) کھلیان (۵) انبار۔ غلہ جو صاف نہ کیا گیا ہو (۶) وہ جگہ جہاں نیل پڑ کھینچنے وقت بلندی سے نشیب میں جاتے ہیں۔
 — پھیلا کر سوننا : بے فکری سے آرام کرنا۔
 — پیڑ : (ف) ؛ (۱) بوڑھا، سن (۲) ہادی، رہنا، مرشد (۳) (طنزاً) گرد گھنٹال، چالاک، مکار، استاد۔
 — پیڑان پیڑ : مذکر ؛ پیڑوں کے پیڑ، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑیں، سوار، اتوار کے بعد کادن۔
 — پیڑا : قدم کا شگون، آنے کا شگون۔
- عبدالقادر جیلانیؒ بڑے پیر۔
 پیران نمی پیرند مرد پیران می پیرا نند : (مثل) ؛ خوشامدی جھوٹی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔
 پیرانہ سال / سن / ستری : (ف) ؛ مؤنث ؛ بڑھاپے کا زمانہ، حالت پیری، ایام پیری۔
 پیر آپ ہی ڈر مانده، شفاعت کس کی کریں گے ؛ (مثل) ؛ جو خود محتاج ہو کسی ناچار کی کیا مدد کرے گا۔
 پیر خرابات : (اضافت کے ساتھ) ؛ مذکر ؛ (۱) صوفیوں کی اصطلاح ؛ مرشد کامل جو شرعی قیود سے آزاد اور فانی انسان ہو (۲) شراب خانے کا مالک۔
 — زَادَة : مذکر ؛ مرشد کا بیٹا۔
 — زال / زن : بوڑھی عورت۔
 — طریقت : (اضافت کے ساتھ) صوفیوں کا مرشد۔
 — قوت : (اضافت کے ساتھ) بہت بولھا، بوڑھا پھوس۔
 — فلک : مذکر ؛ (اضافت کے ساتھ) آسمان۔
 — کرنا : مرشد بنانا۔
 — کفعاں : مذکر ؛ (اضافت کے ساتھ) ؛ (کنایتاً) حضرت یوسفؑ کے والد حضرت یعقوبؑ۔
 — کی پیری سے کام : پیر کے فعلوں سے کیا کام ؛ (مقولہ) ؛ بزرگ کی بزرگی سے مطلب ہے اس کے افعال سے کوئی تعلق نہیں۔
 — مَرْد : بوڑھا آدمی۔
 — مَعَال : (ف) ؛ (اضافت کے ساتھ) ؛ (۱) آتش پرستوں کا پیرو (۲) شراب خانے کا مالک، ساقی (۳) (طنزاً) ؛ گرد گھنٹال (۴) (تصوف میں) مرشد کامل، بزرگ۔
 — نَابَالِغ : مذکر ؛ (اضافت کے ساتھ) ؛ وہ بوڑھا جو ناکھ پڑوں کی سہ باتیں اور حرکتیں کرے، بے وقوف بوڑھا۔
 — و مَرَشِد : مذکر ؛ (۱) بزرگ استاد (۲) چالاک میں سبقت لے جانے والا (۳) (طنزاً) ؛ بادشاہ اور رئیس۔
 — پیر : دو مشنہ، سوار، اتوار کے بعد کادن۔
 — پیڑا : قدم کا شگون، آنے کا شگون۔

ادبی تخلیق کی مضحکہ خیز نقل (۲) مضحکہ انگیز تعریف۔
پیڑول : PAROLE (انگ) مذکر؛ (۱) عارضی رہائی۔
 (۲) قیدیوں کو گھر جانے کی عارضی جھپی۔
پیڑول : پیدل، پانچ پاؤں۔
پیڑھی : مونتھ؛ (۱) اناج کا ڈھیر (۲) غلہ جو بعد صاف کرنے کے
 رہ جائے (۳) پازیب، خٹمال۔
پیہری : (ف) مونتھ؛ (۱) بڑھا پاپا، ضعیفی (۲) مرید بنانے کا
 کام، ہدایت کا کام (۳) استاد کی چالاکی، عیاری۔
پیہری و صد عیب : (مقولہ)؛ بڑھا پاپے میں سو روگ لگ
 جاتے ہیں۔
پیڑ : مذکر؛ درخت، پودا، بوٹا۔
پیڑا : (۱) گندے ہونے کے لوی (۲) ایک قسم کی مٹھائی۔
 — توڑنا : لوی بنانا۔
پیڑو : مذکر؛ ناف سے نیچے کا حصہ۔
پیڑھا : مذکر (دہلی)؛ کرسی، ٹاٹولا۔
پیڑھی : مونتھ؛ (۱) نسل، پشت (۲) چھوٹا کھٹولا۔
 — پینا : بزرگوں کو برا بھلا کہنا۔
در پیڑھی : پشت در پشت، نسلاً بعد نسلاً، قدامت
 سے، موروثی۔
پیڑھیوں سے : پشت، پشت سے، مدت سے۔
پیڑاڑ : (ف) مونتھ؛ جوتی، کفش، پاپوش (۳) کھانسی؛
 بے پروائی کا ظاہر کرنا۔
 — پر مارنا : پروا نہ کرنا، خاطر میں نہ لانا، حقیر جاننا۔
 — دکھانا : شوخی سے انکار کرنا، بے پروائی جتاننا۔
 — کی ٹوک پر سے : جوتی سے، پاپوش سے، بلا سے۔
پیسیا : مذکر؛ (۱) نئے سکے کے جاری ہونے سے پہلے تین پائی کا
 سکہ تھا اب یہ ہندستان کا سب سے چھوٹا سکہ ہے، (۲)
 دولت، مال دوز، روپیہ۔
 — اٹھانا : روپیہ خرچ کرنا۔
 — اڑانا : فضل خرچ کرنا، روپیہ برباد کرنا۔
 — پھونکنا : روپیہ ضائع کرنا، بہت نفول خرچ کرنا۔

پیڑا : PARA (انگ)؛ عبارت کا ایک ٹکڑا جس
 میں بات پوری ہو جائے۔
پیڑا ٹروپ / ٹروپس : PARATROOP/S
 (انگ)؛ مذکر؛ ہوائی جہاز کے وہ حصے جو پیراشوٹ کی
 مدد سے زمین پر اتارے جاتے ہیں، پھرتی بردار فوج۔
پیڑا ڈائز : PARADISE (انگ) مونتھ؛ بہشت
 جنت، فردوس، سوڑگ۔
پیڑا سٹہ : (ف)؛ کاٹ جھاٹ کر آراستہ کیا ہوا، سجایا ہوا،
 (آراستہ کے ساتھ مشتعل ہے)۔
پیڑا شوٹ : PARACHUTE (انگ)؛ مذکر؛
 محافظ ہوائی پھرتی، جس کے ذریعے ہوائی جہاز سے زمین
 پر محفوظ چھلانگ لگائی جاتی ہے۔
پیڑا گراف : PARAGRAPH (انگ)؛ مذکر،
 (۱) عبارت کا ایک مکمل ٹکڑا (۲) عبارت کا وہ ٹکڑا جس میں
 ایک ہی مضمون ہو (۳) پارہ۔
پیڑا ہن / پیڑہن : مذکر؛ کپڑے۔ لباس۔
 — کاغذی : (اضافہ کے ساتھ) ایران
 کے قدیم دستور کے مطابق مظلوم فریادِ ظلم کے لیے کاغذ کا
 لباس پہننا تھا۔
پیڑائی : مونتھ، لہا پیرنے کا ڈھنگ، شنواری کا طریقہ (۲)
 پیرنے کی جگہ جہاں پیرنا اچھی طرح آجائے (۳) پیرنا سکھانے
 کی اجرت۔
پیڑا پیر : (ف) مذکر؛ طرز، روش، ڈھنگ۔
پیڑا پھوٹا : مذکر؛ وہ نرکل کی چونچھی جسے پھیل کے شکاری چھڑکے
 سر سے ڈرا سا ہٹ کر باندھ دیتے ہیں اور وہ پانی پر
 تیرتی رہتی ہے۔
پیڑنا : (۱) تیزنا، بہنا، رواں ہونا (۲) شنواری کرنا (۳) کسی
 فن سے پوری طرح واقف ہونا (۴) نخر، چھری، تلوار وغیرہ
 کا جسم سے آر پار ہوجانا (جاندار کے لیے تیزنا، اور بے جان
 کے لیے تیزنا بولتے ہیں)۔
پیڑوئی : PARODY (انگ)؛ (مونتھ)؛ (۱) کسی

اگلی کپی۔
 — (سٹار) : نماز پڑھانے والا، پیش امام، جماعت سے نماز پڑھانے والا۔
 — ازمرگ واویلا : (ف)؛ (مثل)؛ کسی چیز کے پیش آنے سے پہلے فکر کرنا، کسی وہم میں گرفتار ہونا، رنج و غم منانا۔
 — امام : باجماعت نماز کی امامت کرنے والا، نماز پڑھانے والا۔
 — آنا : (۱) سلسلے آنا، ظہور میں آنا (۲) سلوک کرنا، برتاؤ کرنا۔
 — بَندِی : موت؛ دُرد اندیشی، وقت سے پہلے کسی بات کی تدبیر۔
 — بَین : (کنایتاً)؛ عاقبت اندیش، دُور اور آئندہ کی بات سوچنے والا، دانا، عقلمند۔
 — پَا اَقْتِ اَرَه : سامنے کی بات، بہت معمولی۔
 — پَانَا : بازی جیتنا، غالب آنا۔
 — پَیش : آگے آگے۔
 — تَرُو : آگے، پہلے، بہت پہلے۔
 — خَدْمَت : خدمت گار، گھریلو ملازم۔
 — خِجَم : (ف)؛ (مذکر)؛ (۱) وہ خیمہ جو امر کے خیموں سے پہلے لے جایا جاتا ہے اور نصب کیا جاتا ہے (۲) کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے کی بات یا واقعہ (۳) پیادہ ملازم (۴) ہرا دل۔
 — دَسْت : پہل کرنے والا، سبقت لے جانے والا۔
 — نَائِج :
 — دَسْتِ کرنا : پہل کرنا، سبقت کرنا۔
 — رَقْت : کسی امر کے آگے بڑھنے کا اندازہ، کسی کام کے آگے پہنچنے کا تخمینہ پائثر، کارگر، ترقی۔
 — رُو : (ف)؛ (۱) آگے چلنے والا، امام (۲) (عجائز)؛ خدمت گار۔
 — قَبْض : (ف)؛ موت؛ مذکر، گزار، اسلو کی ایک قسم۔
 — قَدَمی : (ف)؛ موت؛ سبقت، اگوائی۔
 — کار : (ف)؛ مذکر، مدو گار، پیشی کا کارکن، ہیڈ کرک، نائب، رسلِ خواں۔

— ٹھکری کر دینا : (حو)؛ بے دریغ خرچ کرنا، پیسے کو بے وقت سمجھ کر صرف کرنا۔
 — جُوڑنا : (حو)؛ روپیہ جمع کرنا، جرز سی کرنا، بخل کرنا۔
 — دُنیا سے اڑ جانا : دولت کا ناپید ہو جانا۔
 — دُوٹنا : روپیہ خراب کرنا، ضائع کرنا۔
 — دُوینا : (۱) دولت تلف ہونا، نقصان ہونا، گھٹا ہونا، (۲) قرض وصول نہ ہونا۔
 — کھانا : کسی کام کی تیاری میں روپیہ صرف ہو جانا، کسی کام میں اندازے سے بہت زیادہ دام کھپ جانا۔
 — گاسٹھ کا، بیٹا پیٹھ کا : (مقولہ)؛ دونوں کام آتے ہیں۔
 — ہاتھ کا میل ہے : (مثل)؛ پیسا بے وقعت چیز ہے۔
 — پیسے کا میت : دولت کا یار، روپے کا دوست، زر پرست۔
 — پس ڈالنا : (۱) ریزہ ریزہ کر ڈالنا (۲) (کنایتاً)؛ رنج اور تکلیف پہنچا کر تباہ کر دینا۔
 — پیٹنا : (۱) ریزہ ریزہ کرنا، سفوف کرنا، گرگٹا (۲) دکھ دینا۔
 — ستانا، برباد کرنا (۳) سخت محنت مصیبت اٹھانا، بی توڑ کر کام کرنا (۴) نفع کی مقدار جو ایک مرتبہ پیسے کے لیے دی جائے۔
 — پیسٹری : PASTRY (انگ)؛ موت؛ ایک انگریزی مٹھائی، ایک ٹھما مٹھائی۔
 — پیسنجر : PASSENGER (انگ)؛ مسافر؛ سفر کرنے والا۔
 — ٹرین : TRAIN (انگ)؛ موت؛ مسافر گاڑی۔
 — پیسی فک اوشن : PACIFIC OCEAN (انگ)؛ بحر الکاہل۔
 — پیش : (ف)؛ (۱) اعراب میں سے ایک حرکت (۲)؛ (۳) آگے سلسلے پہلے، قبل، آئندہ (۴) انگر کے وغیرہ کی

مورث اعلیٰ -
پیشوائی: موت؛ (۱) استقبال، کسی کو لینے جانا (۲) رہ نئی رہبری۔

پیشواز: (ف)؛ موت؛ دیکھو پیشواز۔
پیشتر: (ف) ذکر؛ دھندا، روزگار، کام، کتب، شغل۔
پیشور: صاحب ہنر، حال، اہل حرفہ، دکاندار، تاجر۔
پیشی: موت؛ (۱) حضوری، زیر نظر، زیر تجویز (۲) مقتدی کی ساعت کی تاریخ۔

کامر / منشی: پیش کار، مسل خوال، وہ سرکاری کارکن جو مقتدی کے کاغذات پیش کرے۔

پیشین: (ف) قدیم، پرانا، پرانے زمانے کا، اگلا۔
گوئی: آنے والے یا ہونے والے واقعے کی خبر دینا۔
پیغام: (۱) پیام، زبانی بات (۲) نسبت، منگنی کا سوال۔
بر: ذکر؛ پیغام پہنچانے والا۔

بھیجنا: (۱) خبر بھیجنا، دوسرے کے ذریعے کوئی بات کہلانا (۲) نسبت کا پیام دینا۔

پیغامی / پیامی: پیغام سلام پہنچانے والا۔
پیغمبر / پیغمبر: (ف) ذکر؛ (۱) خدا کا حکم لانے والا، مرسل نبی، (۲) قاصد، ایلچی، سفیر۔

پیغمبر محی: موت؛ رسالت، نبوت، خدا کا پیغام پہنچانے کی خدمت۔

وقت پڑنا: سخت معصیت پڑنا، فاتے کرنا، مفلس و بے یار و مددگار ہونا، آزمائشی وقت۔

پنیک: (ف) ذکر؛ (۱) قاصد، ہرکارہ (۲) جو پتہ منت امدار مانوں سے پیدا ہوئے مہرم میں بیک کا لباس پہناتے ہیں۔

پنیک: ПАК (انگ)؛ کسی چیز کو سلیقے سے لینا یا اذیت۔

پنیک: موت؛ (۱) جب لے ہوئے پان کارنگین تھوک (۲) بوتلوں میں تیل یا عرق ڈالنے کا آلہ (۳) کھیت کی تیار فصل۔

دال: اگل دان۔

پنیکار: (ف) موت؛ لڑائی، جنگ۔

کرنا: (۱) حاضر کرنا، موجود کرنا (۲) نذر کرنا، نذر دینا (۳) کوئی ہیز، سامنے لانا۔ دینا۔

کش: (ف) ذکر؛ وہ چیز جو بہ طور نذر نیاز دی جائے، ہیز، تحفہ، خراج، محصول۔

گاہ: (ف) موت؛ (۱) سامنے، ملاحظہ میں، روبرو، (۲) اجلاس، دیدار (۳) بادشاہ کی بارگاہ، برتری۔

لے جانا: سبقت لے جانا، برتری حاصل کرنا۔

نظر / نگاہ: (ف)؛ نگاہ کے سامنے روبرو بادشاہ سے ملنے والوں کے لیے نقیبوں کا اعلان "پیش نگاہ" یعنی نظر ادر ادرہ نہ کھوسانے رکھو۔

پیشاب: (ف) ذکر؛ (۱) موت، بول، قارورہ (۲) نطفہ۔

خطا ہونا: (۱) پیشاب نکل جانا (۲) (ہمازا) بہت ڈرنا۔

سے چراغ جلتا ہے: (شل)؛ دھاک بیٹھی ہوئی ہے، رعب جا ہوا ہے، سکہ بیٹھا ہوا ہے۔

کرنا: (۱) موتنا (۲) بے حقیقت سمجھنا۔
کی دھار پر کارنا: بہت ذلیل سمجھنے کی جگہ۔

پیشانی: موت؛ (۱) ماتھا (۲) عنوان (۳) اوپر کا حصہ (۴) تقدیر، قسمت، (۵) سرنامہ، القاب، سرنی۔

پر سکن پڑنا: ملال ہونا، چہرے سے آثارِ رنج و ملال ظاہر ہونا۔

پر لکھا ہونا: (۱) قسمت میں لکھا ہونا، نوشتہ تقدیر ہونا (۲) اوپر ظاہر نہ ہونا۔

رگڑنا: بہت خوشامد کرنا، کمال اطاعت کرنا، فریاں برداری کرنا۔

کاخط کی محتر پر: نفیب، قسمت کا لکھا، امرشدنی پیشگی: موت؛ (۱) کسی سلیقے میں کام ہونے یا چیز حاصل ہونے سے پہلے رقم دینا (۲) تنخواہ واجب ہونے سے پہلے

دینا، (۳) دام مال لینے سے پہلے اداکرنا۔

پیشوا: (ف) ذکر؛ (۱) سردار، مقتدا، امام (۲) مرہٹوں کا

پریکار : پھیری کر کے بیچنے والا ، ایجنٹ ، دلال ۔

پرنیکاں : (ف) مذکر ؛ تیرکی آئی ، برہمی یا نیزہ کی نوک ۔

پرنیکاٹی : مؤنث ؛ (۱) نعل ، الحاس ، یا قوت کی ایک قسم (۲) ایک قسم کا نوسادر ۔

پرنیکٹ : PACKET (انگ) مذکر ؛ چھوٹا پارسل ۔

چھوٹا بندل ۔ پلندا ۔ سلیقے سے لپٹا یا بندھا ہوا سامان ۔

پرنیکٹ : PACT (انگ) ؛ مذکر ؛ چھوٹا پارسل ، چھوٹا

بندل ، پلندا ، سلیقے سے لپٹا یا بندھا ہوا سامان ۔

پرنیکڈ : (ف) مذکر و مؤنث ؛ شکل صورت ، کالید ، جتہ ، چہرہ ۔

پرنیکرکتشی : (ف) مؤنث ؛ ادبی اصطلاح ، صورت گری ، کسی جذبے یا خیال کی تصویر لفظوں میں کھینچ دینا ، ایسوری ۔

پے کمیشن : PAY COMMISSION (انگ) مؤنث ؛

سرکاری ملازمین کی سزاؤں پر نظر ثانی کرنے والی کمیٹی ۔

پیکھنا : مذکر ؛ (۱) دیکھنا ، نظر کرنا (۲) ریس کرنا ، حوص کرنا (۳) سیروتماش ۔

پیگ : PEG (انگ) مذکر ؛ شراب کا جام (ایک مخصوص

مقدار کا) ؛

پیل / فیل : مذکر ؛ (۱) ہاتھی (۲) شطرنج کے ایک مہرے کا نام ۔

پان : مذکر ؛ مہارت ۔

پا : مذکر ؛ ایک بیماری جس میں پانوں پھول کر بہت موٹا ہو جاتا ہے ۔

پاپہ : بڑا ستون ، کم ۔

پن : بڑے جتنے کا ، زور آور ، قوی ہیکل ۔

پیلہ : زرد ، زعفرانی ۔

پینلس : PALACE (انگ) مذکر ؛ محل ، ایوان

قصر ۔

پینلنا : (۱) آگے جھجھٹانا ، ریلنا ، ڈھکیلنا (۲) تیل نکالنا (۳)

داخل کرنا ، کھینچنا ۔

پیلو : مذکر ؛ ایک درخت جس کی جڑوں اور شاخوں سے

سٹواک بناتے ہیں ۔

پیمان : مذکر ؛ عہد ، قول و قرار ، اقرار ۔

تورٹنا : عہد شکنی کرنا ، قول قرار قائم نہ رہنا ۔

شکن / کسل : مذکر ؛ عہد توڑنے والا ، عہد پر قائم نہ رہنے والا ۔

لینا : عہد لینا ۔

پیمانہ : (ف) مذکر ؛ (۱) گلاس ، جام شراب (۲) سیال چیز

تاپنے کا برتن ۔

بھرجانا / بھرج ہونا / لبریز ہونا : (۱) انتہا تک پہنچ

جانا (۲) (کھانا) ؛ عمر ختم ہوجانا ، مرجانا ۔

بھردینا : (کھانا) ؛ مار ڈالنا ۔

بھلکنا : (۱) پھلنے سے پانی یا کسی اور چیز کا لبریز ہو کر

گر بڑنا (۲) (کھانا) ؛ کم ظرفی کی جگہ (۳) (آنکھوں کے لیے)

آنسوؤں کا تار بندھنا ۔

گس / گسار : (کھانا) ؛ شراب خوار ۔

پیمایش : (ف) مؤنث ؛ ناپ ، اندازہ ، زمین کی ناپ ؛

پہایش کا علم ۔

پیغمبر / پیغمبر : مذکر ؛ دیکھو ، پیغمبر

پینک : مؤنث ؛ کلابوں کی بنی ہوئی پتلی لیس ، سونے یا ندی

ریشم کے بٹے ہونے تار ۔

پے منٹ : PAYMENT (انگ) مذکر ؛

ادا گیری ، ادائیگی ۔

پینا : (۱) کوئی پتلی چیز حلق سے نیچے آنا (۲) پانی وغیرہ پینا ، جذب

کرنا ۔ چوستا ، سوکھنا (۳) حقے کا دم لگانا ۔

پینتالیس : چالیس اور پانچ ، ۴۵ ۔

پینتیس : تیس اور پانچ ، ۳۵ ۔

پینٹ : PAINT (انگ) مذکر ؛ رنگ ، روغن ۔

پینٹ کرنا : رنگ دروغن کرنا ، نقش و نگار بنانا ۔

پینٹر : PAINTER (انگ) ؛ نقاش ، معبود ۔

رنگ ساز ۔

پینٹنگ : PAINTING (انگ) مؤنث ؛ (۱) معنوی ، نقاشی ، رنگ سازی (۲) ہاتھ کی بنائی ہوئی رنگین

— چڑھانا: پیننگ لینا۔

— دینا: جھوٹے کو جھونک دینا، جھوٹا جھلانا۔

— پینل: (انگ) مذکر؛ (۱) ان لوگوں کی

فہرست جو کس بات کی تفتیق کریں، (۲) ارکانِ جوری، اہل جوری۔

— پینس / پنس: (انگ)؛ دیکھو؛ پینس۔

— پیوڑی: مؤنث؛ زرد رنگ کی مٹی، پیلا رنگ۔

— پیوڑست: (ف)؛ جوڑ، ملاپ۔

— کرنا: (۱) ملانا، چپکا دینا، (۲) مضبوط کرنا، مستحکم کر دینا۔

(۳) پلا دینا، جذب کر دینا، کھپا دینا۔

— پیوڑست: (۱) لگاتار، متصل، مسلسل (۲) پیٹھا ہوا (۳) ہمیشہ

دام، ملا ہوا۔

— پیوڑسی: مؤنث؛ (۱) چوپائے کا وہ گڑھا دودھ جو بچہ پیدا

ہونے کے بعد تقریباً تین دن تک رہتا ہے، (۲) وہ جمی ہوئی مٹی چیز جو پیوڑسی کے دودھ سے بنائیتے ہیں۔

— پیوڑن: (انگ) مذکر؛ پیراسی، اردلی۔

— پنک: (انگ)؛ مؤنث؛ رسید

کی کتاب جس میں پیراسی خطوط یا کاغذات دینے کے بعد وصولی کے دستخط کرا لیتا ہے۔

— پیوڑند: مذکر؛ (۱) جوڑ (۲) الفاظ کی بندش (۳) میل، مناسبت

— زمین ہونا / کرنا؛ (۱) اخافت کے ساتھ زمین میں دفن ہونا۔

— لگانا: (۱) کسی ہم جنس درخت میں اس سے بہتر درخت

کی شاخ لگانا، قلم لگانا (۲) پھلے ہوئے کپڑے میں تھکلا لگانا۔

— میں پیوڑند مل جانا: رشتے میں برابر کا حسب نسب ہونا۔

— پیوڑندی: قلم لگا ہوا، پیوند لگایا ہوا، پیوند والے درخت کا پھل۔

— موچھیں: مضمومی موچھیں۔

— پیوڑم: (ف)؛ لگاتار، متواتر، پے در پے۔

— تصویر۔

— پینڈھ: مؤنث؛ اٹ، آٹھویں روز کا بازار۔

— ابھی لگی نہیں ہے، گٹھ کترے آمو جوڑ ہوئے:

(ش)؛ معاملہ ابھی طے نہیں ہوا خود فرض آگے، ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا، خود فرض اپنی فکر کرنے لگے۔

— پینجھنی: مؤنث؛ (۱) خول دار طبقہ پانچویں ڈالے کا (۲) بچا ہوا

کڑا جو کبوتروں کے پانچویں پہناتے ہیں (۳) گاڑی کی وہ لکڑی جو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ دھرا نکلنے نہ پائے۔

— پیندا: مذکر؛ برتن کے نیچے کا حصہ، تالا، تلی۔

— پینڈے کا ہلکا: (۱) پیندا ہلکا ہونا (۲) (مجازاً)؛ بات کا کچھا

اوجھا، غیر مستقل مزاج، پیٹ کا ہلکا۔

— کے پل بلیٹھنا: (۱) ڈوبنا، غرق ہونا (۲) چوترے کے

بل بیٹھنا۔ (۳) عاجز ہو جانا، ہار ماننا، شک جانا (۴)

دیوالا ٹھکنا (۵) سٹ پٹا جانا، گبر جانا، بدحواس ہو جانا۔

— پینڈ: مؤنث؛ درخت کی جڑ ان ریشوں کے ساتھ جو اس سے نکل

کر چاروں طرف بھیلے ہوتے ہیں۔

— پینڈ رنگ: (انگ)؛ التواہیں

زیر عور، زیر ساعت۔

— پینڈھی: مؤنث؛ ایک قسم کا لٹو۔

— پینس: (انگ)؛ انگلستان کا ایک چھوٹا

سکے۔

— پینس: مؤنث؛ (۱) پالکی (۲) ناک کی ایک بیماری کا نام۔

— پینسٹھ: ساتھ اور پانچ، ۶۵۔

— پیننگ: مؤنث؛ انیم کی اونگھ، وہ غنودگی جو انیم یا پوست

کے نشے سے ہوتی ہے۔

— میں ہونا: (مجازاً)؛ قافل ہونا، بے خبر ہونا۔

— پیننگ: مذکر؛ (۱) جھولے کا لمبا جھونک، گھوارے کا جواہیں

آنا جانا (۲) جھولے کی رستی۔

— بڑھانا: (۱) جھولے کے جھونکوں کو رفتہ رفتہ زیادہ لمبا

کرنا (۲) (کنایتاً)؛ زیادہ میل جول پیدا کرنا، بے تکلفی بڑھانا۔

پیرو: مذکر؛ پتو۔
 پیرو پیرو: مؤنث؛ پیپے کے بولنے کی آواز۔

PAYING GUEST

پے تنگ گیسٹ: وہ مہان جو کسی کے یہاں اپنے رہنے اور کھانے پینے کا خرچ دے کر رہتا ہے۔
 (رنگ)؛ وہ مہان جو کسی کے یہاں اپنے رہنے اور کھانے پینے کا خرچ دے کر رہتا ہے۔
 پیسے دودھ اور کھائے مال: (رشل)؛ (۱) کھانے والا، (عمدہ غذائیں) (۲) عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والا۔
 پیسے ہونا: شراب کے نشے میں ہونا۔

پچھا۔

پچھا پکٹنی / پچھا پکٹنی: مؤنث؛ چالاک کٹنی، مکار عورت، دلالہ۔

پچھا پک: مذکر؛ اعلیٰ یا اصل وغیرہ کا بڑا دروازہ۔
 پچھاڑ کھانا: (۱) دزدے کا کسی کو چیر کے کھا جانا (۲) (کھانا)؛ جملہ کے غصے سے بات چیت کرنا، بات چیت میں غضب ناک انداز اختیار کرنا۔

پچھاڑ کھانے کو دوڑنا: جسملانا، بد مزاجی سے پیش آنا۔
 پچھاڑنا: (۱) چیرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا (۲) کسی قیدم کا خاص ترکیب سے پانی جدا کرنا (۳) پھیلانا، جیسے منہ پھاڑنا۔

پچھاگ: مذکر؛ (۱) ہولی، ہولی کے کھیل تماشے (۲) عیش و عشرت۔

پچھیلنا: (۱) ہولی کھیلنا، رنگ کھیلنا، ایک دوسرے پر رنگ چھرکنا (۲) خوشیاں منانا۔

پچھاگن: (۱)؛ مذکر؛ فصلی سال کا چھٹا مہینا جو گرمی کی ابتدا کا زمانہ ہے۔

پچھال: مؤنث؛ (۱) وہ نوک جو تیر کے پیرکان میں ہوتی ہے۔ (۲) وہ نوک دار حصہ جو کب میں لگاتے ہیں (۳)

پچھالیا کا بڑا ٹکڑا۔

پچھالی: وہ نوک جو تیر کے پیرکان میں ہوتی ہے۔

پچھانا: مذکر؛ (۱) وہ لکڑی جسے جوتا بنانے والے جوتے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ کشادہ ہو جائے (۲) وہ لکڑی جسے لکڑی پیرنے

والے چیری جانے والی لکڑی کے شکاف میں رکھ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے چیری جاسکے۔

پچھاند: مذکر؛ (۱) چھلانگ (۲) پھندا جس سے ہاتھیوں اور دوسرے جانوروں کو پکڑتے ہیں۔

پچھانا / مارنا: (۱) پھندے سے پکڑنا، جال پچھانا، پھندا لگانا (۲) (کھانا)؛ دھوکا دینا، فریب دینا۔

پچھانڈنا: کودنا، جست لگانا، کسی چیز پر سے اُپک کر جانا۔
 پچھانڈی: مؤنث؛ گتوں کا گھٹنا۔

پچھانٹس: مؤنث؛ (۱) لکڑی وغیرہ کا باریک ریشہ جو گوشت میں دھنس جائے، (۲) (جھاڑ)؛ روحانی تکلیف، غمش، کھٹکا، فکر۔

پچھانٹس لانا: فریب دے کر لانا، دھوکا دے کر پکڑنا۔

پچھالینا: قابو میں کر لینا۔

پچھانٹسا: (۱) گرفتار کرنا، جال میں پکڑنا، گھیرا (۲) (کھانا)؛ فریب میں لانا، قابو میں لانا، الزام لگانا۔

پچھانٹسی: مؤنث؛ (۱) گلے کا پھندا، گلا گھونٹ کر مار ڈالنے کا پھندا (۲) موت کی سزا جو پھندے کے ذریعے دی جاتی ہے۔

پچھانٹک: مؤنث؛ تاش، پھل کا تراشا ہوا ٹکڑا (تاریکی سنترے وغیرہ میں جو قدرتی ٹکڑے جڑے ہوتے ہیں)۔

پچھانگنا: (۱) تھیل میں سفوف یا چھوٹے دانے رکھ کر اک باریگی منہ میں جھٹلے سے ڈالنا، جلد کھانا، بہت بہت سا کھانا۔

(۲) روپیا اٹھانا، دولت اڑانا۔

پچھاوڑا: مذکر؛ بیچہ، کسی۔

پچھانا: گھر کو ڈھانا، مکان کو پچھاوڑوں سے مسمار کر دینا۔

پچھاوڑی: مؤنث؛ (۱) چھوٹا پچھاوڑا (۲) جانوروں کی لید ہٹانے کا آلہ (۳) وہ لکڑی جس پر ڈنڑے پھلتے وقت ہاتھ رکھتے ہیں۔

پچھاہا: جس کپڑے پر دو الگا کر زخم پر چپکا ہیں۔

پچھنا: مرہم لگے ہوئے کپڑے کو زخم پر چپکانا۔

پھونڈی: موتھ؛ وہ سفید تہ جو رطوبت کی وجہ سے کسی چیز پر لگ جاتے۔

پھیسی/پھینسی/پھوپھی: موتھ؛ باپ کی بہن۔
پھینسیرا بھائی: مذکر؛ پھوپھی کا بیٹا۔

پھٹ

پھٹ: جلدی سے، فوراً، جھٹ۔

پڑنا: (۱) بڑھ جانا، (۲) زوروں پر ہونا، شدت ہونا، (۳) ترک جانا، ٹوٹ جانا۔

پھٹانا: پھول پڑانا، دوڑ دھوپ کرنا، بے چین ہونا۔

پھٹ: موتھ؛ پھٹکار، ٹف۔

پھٹ: ٹف، ٹف، (کھڑے نغز)۔

پھٹ کرنا: بڑا بھلا کہنا۔

پھٹ: تنہا، فرد۔

پھٹا: مذکر؛ پھٹا ہوا۔

پڑانا: گلا ہوا، خراب خستہ کپڑا۔

پڑنا: (۱) نکلنا پڑنا، (۲) درد سے سر یا آنکھوں کا برا حال ہونا، زور میں ہونا۔

پیمانہ: وہ پیمانہ جس میں پھٹکیاں ہوں۔

پھٹا: بائس کا طول میں پھاڑا ہوا ٹکڑا۔

پھٹکا: مذکر؛ (دہلی)؛ (۱) لمبے لفظ، (۲) ایک قسم کا پنجرہ۔

نہ کھاتا: دعو؛ فوراً مرجانا، دم بھر میں مرجانا۔

پھٹکار: موتھ؛ ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکی، سرزنش۔

پھٹکارنا: (۱) چاہک مارنا، (۲) ملامت کرنا، ڈانٹنا، (۳) کمانا روپیہا پیسا جیتنا۔

پھٹکار: موتھ؛ لعنت، بے رونقی، ذلت و خواری۔

بڑسٹا/پھٹکار مٹھہر برستا: لعنت برستا، اُداسی چھانا، بے رونقی ظاہر ہونا۔

پھٹکار: تنہا، اکیلا، طاق، شوک کے خلاف، متفرق۔

پھٹکاری: موتھ؛ مشہور دو کا نام۔

پھٹکل: (۱) تنہا، جدا، (۲) متفرق، (۳) ریز نگاری۔

پھب

پھب: موتھ؛ پھبن۔

پھبتی: کسی پر چپکتی ہوئی بات، چسپاں تشبیہ (اس میں استہزا کا پہلو ہے)۔

اڑانا/گٹنا: (۱) کسی شخص کو ایسی بات کہنا جو اس پر بالکل صادق آئے، (۲) غرافت سے تشبیہ دینا، مذاق اڑانا۔

سُوھنا: ٹھیک تشبیہ خیال میں آنا۔

پھبکنا/پھبکنا: (۱) اکھوے پھوننا، (۲) ہونا تازہ ہونا، (۳)

کسی چیز کا خوب بڑھنا، (۴) کثرت سے پھنسیاں نکل آنا۔

پھبن: موتھ؛ تناسب، آرائش، زیبائش۔

پھبتا: زیب دینا، موزوں ہونا، موافق ہونا، بھلا لگنا۔

پھپ

پھپا/پھوپا/پھپا: مذکر؛ باپ کی بہن کا شوہر۔

پھپٹ: مذکر؛ (۱) ہند، کد، (۲) مکر، دغا، (۳) نکتہ، فساد، ظل شور۔

باز: مکار، فسادی۔

ہانی: (عو) موتھ؛ جھڑا، عورت، فساد۔

پھپس: (۱) جھٹا، ہونا، کھوکھلا آدی، (۲) وہ پھل جو دیکھنے میں اچھا ہو مگر کھوکھلا اور پھلپلا ہو۔

پھپسا: مذکر؛ (۱) پھولا ہوا، پولا، (۲) پھیکا، سپٹا۔

پھپک: درختوں کا جوش کے ساتھ بڑھنا، عام بالیدگی۔

پھپکنا، (۱) درخت کا بڑھنا، کثرت سے پھنسیاں نکل آنا۔

پھپولا/پھپھولا: مذکر؛ چھالا، آبلہ۔

پھپولوں سے پھل جانا: کثرت سے آبلے پڑ جانا۔

پھپولے پڑنا: دان پڑنا، صدمہ ہونا۔

پھوٹنا: (۱) چھالوں سے پانی نکل جانا، (۲) (طنز)؛ دل آرزو پوری ہونا، دشمنی ٹھکانا۔

پھوٹنا: دل کا اخبار نکالنا، دل کی حسرت نکالنا، عقد نکالنا۔

پھوٹنا: پھونڈی لگنا۔

کثرت سے بال یار نہیں نکل آتا۔
چھدکنا؛ موتھ؛ (۱) اچھلنا، خوشی سے کودنا (۲) (جھاڑا)؛
 بچہ یا پستہ قد آدمی (۳) نبض کا اچھلنا۔
چھدکی؛ موتھ؛ ایک چھوٹی پھڑیا کا نام۔
چھدکی مارنا؛ موتھ؛ جست بھرنا، چھلانگ مارنا۔

پکھ - ۱

پکھڑ؛ دوبارہ، اس کے بعد، تب تو، ضرور۔
 — **آنا**؛ واپس آنا، گشت لگانا۔
 — **بیٹھنا / جانا**؛ مخالف ہوجانا۔
 — **پڑنا**؛ غصے میں کسی طرف لوٹ پڑنا، متوجہ ہوجانا۔
 — **کون مرے کون بیٹھے**؛ (مثل)؛ آئندہ نہ جانے
 کی ہو۔
 — **کے نہ دیکھنا**؛ (۱) بے زاری دکھانا (۲) پھر نہ آنا، واپس
 نہ آنا۔

— **نہ کہنا**؛ الزام نہ دینا، شکوہ نہ کرنا۔
پکھڑ / پکھڑ پکھڑ؛ موتھ؛ اڑنے کی آواز۔
 — **سے اڑ جانا**؛ جلدی اڑ جانا، فوراً اڑ جانا۔
پکھڑا؛ مذکر؛ موٹی لکڑی کو چیرنے سے دونوں طرف کے نکلنے
 والے ناقص تختے۔

پکھڑا / فریٹا؛ پزندے کے اڑنے کی آواز، دیکھو فریٹا۔
پکھڑا؛ گھانا، گشت کرنا، ادھر ادھر لے جانا۔
پکھڑاؤ؛ جاگڑ، وہ چیز جس کے واپس کرنے کا اقرار ہو۔
پکھڑائی؛ موتھ؛ (۱) واپس کرنے کا تاوان (۲) ٹھہلائی بھلائی
 پھرت۔

پکھڑنا؛ (۱) ایک طرف سے دوسری جانب یا بل کرنا (۲) لوٹنا،
 واپس کرنا۔

پکھڑانا؛ (۱) کود جانا، پھاند جانا (۲) جھنڈے کا پھیرا اڑنا،
 (۳) پردوں کو پھٹ پھٹانا۔

پکھڑت؛ موتھ؛ (۱) گھوڑے کی گردش (۲) ناچنے میں پھرتی
 سے پھر جانا، (۳) چلکت پھرت۔

پکھنک؛ موتھ؛ پھورن، جو غلہ پھنکنے سے نکلے، بھوسا۔
پکھنکا؛ مذکر؛ غلیل کا قیدیہ جس میں غلہ رکھ کر چھوڑتے ہیں۔
پکھنکا؛ (۱) سوپ سے غلہ صاف کرنا، جھاڑنا (۲) سرسری طور پر آنا،
 بھولے سے چل آنا۔

پکھنکنے نہ پانا / پکھنکنے نہ دینا؛ آنے نہ پانا، گھسنے نہ دینا۔
پکھنکی؛ موتھ؛ جھاگڑکی لکڑی دھکن کے ساتھ جس میں چڑیا مار
 چڑیاں پکھرتے ہیں، ایک قسم کا بھرا (۲) وہ کھٹکا جو پھیل دیا
 درختوں کی حفاظت کے لیے باندھ دیتے ہیں جس کی آواز سے
 پرندے اڑ جاتے ہیں۔

پکھنکی؛ موتھ؛ (۱) وہ گانٹھیں جو سفوف گولنے میں پڑ جاتی
 ہیں (۲) وہ گانٹھیں جو پیلے پاخالے میں پڑ جاتی ہیں۔
پکھنکا؛ (۱) جاگ ہونا، ٹکڑے ہونا، علاحدہ ہونا، تڑپنا، شگاف
 پڑنا۔ شق ہونا، ہٹنا، نفرت ہونا (۲) گھوڑے کا باگ
 کے اشارے کے خلاف جانا۔

پکھٹی پکھٹی باتیں؛ موتھ؛ وہ باتیں جن سے ملال ظاہر ہو۔
پکھٹی ہوئی آواز؛ جبر بھری تابو سے باہر کی آواز۔
پکھٹے پکھٹے دیدے؛ بڑے بڑے دیدے جو بڑے
 معلوم ہوں۔

پکھٹے حال / پکھٹے حالوں؛ مفلسی کی حالت میں خسہ
 حالی۔
پکھٹے پکھٹے منٹھ سے؛ کمرہ تحقیق، تفسیر،
 لغت ہو۔

پکھٹپکھٹ؛ معمولی ادا، حقیر۔
پکھٹیل؛ جالوزوں کے جوڑے میں سے جو ایک رہ جاتے۔

پکھ - ۲

پکھیا پکھچ؛ موتھ؛ دل دل یا کچھ میں چلنے کی آواز۔

پکھ - ۳

پکھد پکھد آنا؛ (۱) دانوں پھنسیوں کا بہت زیادہ نکل آنا۔
 (۲) درخت میں کثرت سے شاخیں پھوٹنا (۳) بدن میں

پھرتی: مؤنث؛ جلدی، چستی، تیزی۔

کھیل جانا: جلدی کر جانا، چستی کرنا۔

پھرتہلا: مذکر؛ جلدی سے کام کرنے والا، تیز چست، چالاک۔

پھر جانا: لوٹ جانا، واپس ہو جانا، اکتا جانا، بے زار ہو جانا۔

پھر سنا: (۵) مذکر؛ کدال، گھڑائی، تیشہ۔

پھرنی: (۱) جھوٹا سا پھرنے والا لٹو (۲) جڑے کا ٹکڑا جس پر تھلا پھرتا ہے (۳) گول لکڑی جسے تارکش استعمال کرتے ہیں۔

پھرنا: (۱) پکڑ کھانا، گھومتا، گردش میں آنا (۲) بدل جانا (۳) متوجہ ہونا (۴) گشت کرنا (۵) تیرھا ہونا، لوٹنا۔

پھر ہرا / پھرارا / پھریرا: مذکر؛ (۱) تری یا طوط پھینچنے کے بعد خشک ہو جانے والا (۲) چھٹکا ہوا (۳) جھڈے کا اوپر کا کپڑا۔

پھر مری: مؤنث؛ (۱) ایسی کیفیت کہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جھڑھری (۲) تنکے پر روئی لپٹا ہوا عطر کا پھویا، (۳) (کھنٹا)؛ امنگ، جوش۔

آنا / چھوٹنا: بدن کے رونگٹے کھڑے ہونا، نفرت یا بے زاری کی وجہ سے جھڑھری آنا۔

لینا: (۱) کانپنا (۲) پرندے کا پر جھاڑنا (۳) کتے کا کان پھٹ پھٹانا (۴) (کھنٹا)؛ چوکتا ہونا، تازہ دم ہونا۔

پھڑ

پھڑا: مؤنث؛ جو اکیلے کی جگہ (۲) توپ رکھنے کی جگہ، توپ کی گاڑی (۳) گاڑی کے ہم۔

پر رکھنا / لگانا: (۱) بازی لگانا، دائوں لگانا (۲) دکان کے چوتھے پر لگانے کی ڈھیری لگانا۔

پھڑ پھڑانا: (۱) پھوٹنا، پروں کو پھٹ پھٹانا (۲) بے قرار ہونا، تڑپنا، بے چین ہونا۔

پھڑک: مؤنث؛ (۱) بے قراری، بے چینی (۲) نھنوں

کی حرکت۔

اٹھنا: خوشی سے بے تاب ہو جانا۔

پھڑکانا: زیب بدن کرنا (۲) ترسانا (۳) کبوتر کو دوسرے گھر جانے کی سزا دینا۔

پھڑکتا ہوا: پھلکا، شوخ، برجستہ۔

پھڑکنا: (۱) تڑپنا، لوٹنا، تھلانا (۲) کسی عضو کا حرکت کرنا (۳) خوشی سے بے تاب ہونا (۴) پرندے کا بے تاب ہو کر پھیرانا (۵) بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔

پھڑکیا: مذکر؛ (۱) وہ شخص جس کے مکان میں جوا ہوتا ہو (۲) جل دینے والا (۳) متفرق اشیاء بیچنے والا (۴) وہ بلی لکڑی جو جی ہوئی روئی کے دونوں طرف رکھے ہیں۔

پھڑکیا: مؤنث؛ چھوٹا پھوڑا، پھنسی۔

پھس

پھس پھسا: مذکر؛ (۱) ڈھیلا، نرم، ملائم (۲) بودا، کم ندر۔

پھسڈی: پیچھے رہ جانے والا، ہارا ہوا، ناقص، ڈھیلا۔

پھسکڑ / پھسکڑا: خوب پھیل کر چار زانو بیٹھک۔

پھسلانا: (۱) دھوکا دے کر خوش کرنا (۲) بچے کی ناز برداری کرنا۔

پھسلانا: ریشنا، کھانا۔

پھسلنا: مذکر؛ جھانسا، فریب۔

پھسل پڑنا: (۱) پانورپٹ کر گر پڑنا (۲) (رجازا)؛ کسی چیز پر مایل ہو جانا، ارادہ بدل دینا۔

پھسل جانا: (۱) رپٹنا (۲) وعدے سے پھر جانا (۳) فریفتہ ہو جانا۔

پھسلن: مؤنث؛ لغزش، پالو پھسلنے کی جگہ، لپٹنے کی جگہ۔

پھسلنا: (۱) رپٹنا، گھٹکنا (۲) چوکتا، بھٹکنا، گمراہ ہونا، (۳) (کھنٹا)؛ مایل ہونا (۴) وہ چیز جس پر سے پھسل

— پھلاری : مؤنث ؛ مختلف میوے ، طرح طرح کی ترکاریاں۔

— جانا : (۱) کثرت سے آبلے نکل آنا (۲) بار آور ہونا۔

— چلنا : پھولوں کا بازار میں آنا شروع ہونا۔

— کاتیا کرنا : فصل کے نئے پھل کا نیا زیا یا بغیر نیا ز پہلے پہل استعمال کرنا۔

— لانا : نتیجہ ظاہر ہونا۔

— پھلا پھولا : مذکر ؛ (۱) آل اولاد روپے پیسے سے بھرا ہوا (۲) بارون۔

— پھلنا / پھل جانا : (۱) درخت کا بار آور ہونا ، میوہ لگنا (۲) مبارک ہونا (۳) چوک یا چھنیوں یا دانوں کا یہ کثرت بدن پر نکل آنا (۴) خاندان بڑھنا ، کثرت سے اولاد ہونا (۵) خوش نصیب ہونا ، کامیاب ہونا۔

— پھولنا / پھلنا / پھلنا پھولنا : (۱) صاحب اولاد ہونا ، سرسبز ہونا (۲) خوش و خرم ہونا۔

— پھلا : مذکر ؛ (۱) آنکھ کا ٹینٹ ، کھیل (۲) وہ چیز جو پھول کی طرح پھول جائے۔

— پھلنا : پھل پڑ جانا ، آنکھ میں ٹینٹ پڑ جانا۔

— پھلی : مؤنث ؛ آنکھ کا ٹینٹ۔

— پھلانا : (۱) پھونک بھرنا ، پھونک بھر کر کسی چیز کو تانتا (۲) موٹا کرنا (۳) خوشامد سے مغرور کرنا۔

— پھلانگ : مؤنث ؛ کھانچ ، جست۔

— پھلانگنا : کسی چیز کو اچک جانا ، پھانڈ جانا۔

— پھل پھلا : ہلا ، کم ظرف ، پھولا ہوا ، پھس پھسا ، ادھما۔

— پھل پھلی : مؤنث ؛ پھولوں کے بکنے کی جگہ ، پھولوں کا بازار۔

— پھل پھلنا : مؤنث ؛ (۱) ایک قسم کی آتش بازی (۲) (کنایتاً) فساد کی بات (۳) بڑائی جھگڑا کرانے والی عورت۔

— پھوڑنا : (کنایتاً) ؛ فساد کی بات کہنا۔

— پھلکا : مذکر ؛ (۱) چھالا ، پھچھولا (۲) دنکل ، اکھاڑا (۳) ہولی زمین ، نرم زمین۔

— پھلکا : مذکر ؛ ایک قسم کی تڑپتی ہوئی چھوٹی پتی روٹی۔

جائیں۔

— پھلنا پھلنا : بڑا اور لمبا چکنا پختہ جس پر بیٹھ کر کھلتے ہیں۔

— پھلنا : مذکر ؛ (۱) گندہ ، بساندا (۲) نامقول۔

کچھ۔ ک

— کچھ کا جانا : آگ ، بخار یا گرمی سے جلا جانا۔

— کچھلنا : مؤنث و مذکر ؛ گالی گلوچ ، فحش ، ناشائستہ گفتگو۔
— باز : فحش بکنے والا۔

— لڑنا : گالی گلوچ کرنا ، باہم ہزلیات میں گفتگو کرنا۔

— ہونا : بے ہودہ ہنسی مذاق ہونا ، نہایت بے تکلفی ہونا۔

— کچھلنا / کچھلنا : (۱) جلنا ، آگ لگنا ، جلن ہونا (۲) (کنایتاً) ؛ ناحق خرچ ہونا (۳) کشتہ ہونا (۴) حیوان کا شتہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے۔

— کچھلنی / کچھلنی : مؤنث ؛ چھانکنے کی دوا۔

— کچھلنی : مؤنث ؛ باتس یا لوسے کی نکی۔

— کچھلتی : مذکر ؛ کٹڑی پھینکنے کے فن کا مشاق ، پٹے باز۔

— کچھلنی : مؤنث ؛ پٹے بازی ، پٹے کافن۔

— کچھلنا : مذکر ؛ ہولی کا انعام ، ہولی ، بھاگ۔

کچھ۔ ل

— کچھل : مذکر ؛ (۱) میوہ ، ثمر (۲) نتیجہ (۳) کسی دھار والی چیز کا کٹنے کا حصہ (۴) فانیو ، نفع (۵) آل اولاد۔

(۶) عرصہ ، انعام ، اجر۔

— کچھلنا : پھل تیار ہونا۔

— کچھلنا : پھل پیدا ہونا۔

— کچھلنا : لڑکوں کا ایک کھیل۔

— کچھلنا : مذکر ؛ میوہ ، ترکاری۔

— کچھلنا : (۱) نتیجہ حاصل کرنا ، صلہ پانا (۲) کیے کی سزا پانا

(۳) بھلائی پانا (۴) اولاد ہونا۔

پھل لانا؛ فریب میں پھانسا، دم دینا۔
پھندنا؛ مذکر؛ دھلگے، رشیم یا کلابتوں کا کھنچا یا بھول جو کوٹے
 کے سرے پر یا جھار اور تسبیح وغیرہ کے سرے پر یا لڑپنی کے
 اوپر لگاتے ہیں۔
 — سا؛ تنھاسا، چھوٹے قد کا۔

پھند نیت؛ مذکر؛ (۱) وہ سیدھا بھرا پرند یا چوپا پر جو اشارے
 پر بولتا ہے۔ اُس کے ہم جنس، آواز سے دھوکا کھا کر آتے
 اور جال میں پھنس جاتے ہیں (۲) ہاتھیوں کا شکار کرنے والا
 ہاتھی (۳) (جھاڑا)؛ وہ آدمی جو دوسروں کو اپنا ساتھی بنا۔
پھنساو؛ مذکر؛ گرفتاری، روک۔

پھنساوا؛ مذکر؛ قید، وقت، الجھاؤ، ایسا مقام جہاں سے
 نکلنا مشکل ہو۔

پھنسنّا؛ (۱) اگنا، الجھنا (۲) گرفتار ہونا (۳) (کنایتاً)؛ آشنا
 ہونا (۴) مقید ہونا، دوسرے کے قابو میں ہونا، بھینچنا،
 دینا۔

پھنکّا؛ مذکر؛ سفوف یا کوئی چیز، ہتھیلی میں لے کر دفناتے ہیں
 ڈال لینا۔

پھنکار؛ مؤنث؛ سانپ کی آواز۔
پھنکنا / **پھنکنا**؛ گرنا، ضائع ہونا۔

پھنکی؛ مؤنث؛ سفوف، یا کوئی خشک چیز، ایک دفعہ بھانگنے
 کی مقدار۔

پھنکی؛ مؤنث؛ (۱) ناک کی لوک (۲) شاخ، درخت کا آئوڑ
 سیرا، چوٹی۔

پھننگ؛ مؤنث؛ (۱) درخت کی چوٹی، شاخ کی آبی (۲)
 کوڑے کا سیرا۔

پھنٹی؛ مؤنث؛ (۱) پکڑ، گونا بھنے کا آلا (۲) مذکر؛ ایک قسم
 کا سانپ۔

پھ- 9

پھوار / **پھوہار**؛ مؤنث؛ بارش کی پہن پہن ہوندریں۔
پھوارا؛ مذکر؛ فوارہ۔

پھل کاری؛ مؤنث؛ (۱) گل بوٹے کا کام (۲) ایک قسم کا
 بھول دار کپڑا۔

پھلنگ / **پھننگ** / **پھنکی**؛ (۱) درخت کی چوٹی (۲) شاخ
 کی آبی (۳) کوڑے کا پھندنا۔

پھلوری؛ مؤنث؛ (۱) چھوٹا باغ جس میں بھول کے پودے
 لگے ہوں، (۲) (کنایتاً)؛ گل اولاد، بال بچے۔

پھلوری؛ مؤنث؛ مبین کی چوٹی پھلکی۔
پھلی؛ مؤنث؛ لمبا سا پھل جس کے دو غلافی چھلکوں کے بیچ
 میں قطار سے کئی دانے ہوتے ہیں۔

پھلی؛ مؤنث؛ (۱) آٹھ کا ٹینٹ (۲) ناک کا ایک زیور (۳)
 چاندی سونے کا بھول جو زیور میں لگایا جاتا ہے۔

پھلیس؛ خوش بودارتیل۔

پھلیندا؛ مذکر؛ بڑی جامن۔

پھ- ن

پھن؛ مذکر؛ (۱) ناک کا سر (۲) ناک جب اپنا سر پھیلانے۔
پھننا؛ (۱) غصے سے سانپ کا پھنکارنا (۲) (جھاڑا)؛

غصہ کرنا، نہایت غضب ناک ہونا۔
پھندّا؛ مذکر؛ (۱) حلقہ، جال (۲) (کنایتاً)؛ مصیبت، قید
 (۳) گھٹی (۴) (کنایتاً)؛ فریب، بس، سماہو۔

پڑنا / لگنا، الجھنا، گرہ بڑ جانا، کھاتے وقت کسی چیز
 کا گلے میں اٹک جانا۔

پھڑانا؛ قید سے رہ کرنا، روک دھر کرنا۔

دینا؛ پھندا لگانا، گرہ دینا۔
ڈالنا؛ الجھا دینا، بھینچنا ڈالنا۔

مارنا؛ جال میں پھانسا۔
پھندے سے **پھننا**؛ پھندے سے نکلنا، جال سے چھوٹنا۔

جھگڑے سے نہات پانا۔
پھڑنا / **پھننا**؛ (۱) دام میں گرفتار ہونا مصیبت
 میں گرفتار ہونا (۲) فریب آجانا (۳) بس میں ہونا قابو
 میں ہونا۔

— کھڑی: چھوٹی سے چھوٹی رقم، کچھ بھی دام نہ ہونا۔
 پھوٹے مٹھے سے: (تحقیر سے)؛ خراب مٹھے سے، بُرے مٹھے سے۔
 پھوڑا: ایک قسم کا ذہل، بڑی پھینسی۔
 پھنسا: پھوڑے سے مواد جاری ہونا۔
 پھینٹ جانا: پھوڑا اچھا ہو جانا۔
 پھینکا: پھوڑے کا مواد زرد ہو جانا۔
 پھوٹنا: پھوڑے سے آلائش نکلنا۔
 پھینکنا: پھوڑے میں ٹپس ہونا۔
 پھوڑے کا مٹھ: پھوڑے کی وہ جگہ جہاں سے وہ پھوٹتا ہے۔

پھوڑنا: (۱) توڑنا، ٹکڑے کرنا (۲) سرزخمی ہونا (۳) آنکھ اندھی کرنا (۴) راز عام کر دینا۔
 پھوس: مذکر؛ (۱) چھیرے بنانے کی گھاس (۲) نہایت بوڑھا ضعیف (۳) ہلکا تباہ کو جلد جانے والا۔
 کاتا پینا: (۱) (کھانا)؛ کھوڑی دیر آرام کرنا (۲) بے بنیاد کام کرنا (۳) کھینے سے فائدے کی امید رکھنا۔
 میں چینگاری ڈالنا: (جھاننا)؛ فساد بھڑکانا۔
 اشتعال دلانا۔

پھوسٹرا: مذکر؛ (۱) ریشے، لکڑی کا وغیرہ کے ریشے پکڑے کے وہ ریشے جو دھاگے کی بٹ کھل جانے سے سرے پر نیکل آتے ہیں (۲) (تحقیر سے)؛ پتہ، ادلاو۔
 پھوک: مذکر؛ (۱) کسی ترکاری پھل وغیرہ کا اصل جو ہر نکلا ہوا بے کار فضلہ (مثلاً)؛ گندھیری لار سن نکل جانے کے بعد پھوک رہ جاتا ہے، (۲) بدذائقہ۔

پھوکٹ: مؤنث؛ مفت، بغیر خرچ کیے۔
 پھوکل / پھوکل: (۱) منسل، ٹھنک (۲) اندر سے خالی۔
 پھول: مذکر؛ (۱) گل (۲) پکڑے پر جو پھول بوٹے کے نقش بنائے جاتے ہیں (۳) تہجا؛ مرنے کے تیسرے دن کا فاتحہ (۴) شراب دو آتش (۵) شر، پتنگا (۶) ایک سفید دھواں کا نام (۷) (کھانا)؛ ہلکا، سبک (۸) ہندوؤں کے مڑوں کی ٹہیاں جل جانے کے بعد جن کر گنگا میں بہانے کے واسطے

پھوٹا / پھٹا: مذکر؛ پھوپھی کا شوہر۔
 پھوٹ: مؤنث؛ نفاق، اتناقی (۲) کینہ (۳) تفرقہ (۴) ٹوٹ پھوٹ (۵) مذکر؛ ایک پھل۔
 آتا: باہر نکل آنا، نمودار ہونا۔

پھنسا: (۱) پانی کا روک توڑ کر بہنا (۲) پھوڑا پھوٹ کر مواد بہنا (۳) (کھانا)؛ بھید کھل جانا، کینہ ظاہر ہو جانا۔
 پھٹنا: نفاق ہونا۔ (آن بچ ہونا، دشمنی ہونا۔
 پھینک: مؤنث؛ جدائی، طلاق۔
 پھوٹ رونا / پھوٹ پھوٹ کے رونا / پھوٹ کے رونا: خوب رونا، بہت رونا۔
 پھوٹ کے نکلنے: بددعا، کوڑھ کا مرض ہو۔

کرنیکلنا: درخت کی شاخ نیکلنا، زمین سے کوئی چیز ابھر کر نکلنا۔
 نیکلنا: جسم پر پھینسیاں ہو جانا، مواد کا جسم پر ظاہر ہونا۔
 کسی تیلی چیز کا زور سے نیکلنا (مجازاً)؛ بھید کھل جانا۔
 پھوٹا پھٹنا: خود بخود ظاہر ہو جانا۔
 مقدر: بگڑا نصیب، بد قسمتی۔

پھوٹنا / پھوٹ جانا: (۱) ٹوٹ جانا (۲) نکلنا، شگفتہ ہونا۔
 (۳) راز مشہور ہونا (۴) رنگ نمایاں ہونا، جھلکنا، سریا بازو کا زخمی ہونا، آبلے یا پھوڑے میں سوراخ ہو جانا (۵) جذام ہو جانا (۶) سیاہی کا کاغذ کی تہ توڑ کر نیکل آنا (۷) شاخ، پتے، کوئیل برآمد ہونا / نیکلنا (۸) دوست سے جدا ہو کر مخالف سے مل جانا (۹) ابھرنا، نکلنا (۱۰) خوشبو پھیلنا۔

پھوٹی آنکھ: (تحقیر سے)؛ آنکھ۔
 آنکھ کا تارا / دیدہ: نہایت عزیز مینا جو کئی مینوں میں سے زندہ بچا ہو۔

آنکھ نہ بھانا: ذرا بھی بھلا نہ معلوم ہونا۔
 آنکھوں سے نہ سو جھننا: (طنزاً)؛ کچھ معلوم نہ ہونا کچھ دکھائی نہ دینا۔
 تقدیر / قسمت: بد نصیبی، تقدیر کی خرابی۔

بیجے ہیں (۹) برص کے سفید داغ (۱۰) وہ پان جو پھول
 کی شکل میں کترے جاتے ہیں۔
 — اترنا: شاخوں سے پھول کا ٹوٹنا، جدا ہونا، درخت
 سے پھولوں کا پھٹنا جانا۔
 — اٹھنا: سوم کا فاتح ہونا۔
 — آنا: (۱) درختوں میں پھول لگنا (۲) حیض آنا، عورت کا
 بالغ ہونا۔
 — آئے ہیں تو پھل بھی آئے گا: (مثل)؛ بے اولاد
 کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔
 — بٹھنا: شرارہ بٹھنا۔
 — بیٹھنا: اینٹ جانا، ناراض ہونا، روٹھ جانا۔
 — پان / پان پھول: خاطر تواضع۔
 — پتی: موت؛ نقش و نگار، میل ہونا، عمل ہونا۔
 — پڑنا: آگ پتکا پڑنا، شرارہ پڑنا، آگ لگنا۔
 سفید سفید دھبے پڑنا۔
 — پھولنا: کلی کا کھلنا۔
 — جانا: (۱) اتر جانا (۲) درخت میں پھول آ جانا (۳)
 (کیناٹیا)؛ نھا ہونا۔
 — چھڑنا: (۱) پھول کا شاخ سے جدا ہو کر گرنا (۲) شریں
 کلائی کرنا (۳) چراغ یا آتش بازی کے شرارے نکلنا (۴)
 لوسے یا پتھر کی رگڑ سے چنگاریاں نکلنا۔
 — چڑھنا: بزرگوں کی قبروں یا بتوں پر پھول رکھنا۔
 — چھٹنا: (۱) گل چینی کرنا (۲) اہل ہنود کا جلائے ہوئے
 مردے کی ہڈیاں اکٹھا کرنا۔
 — ڈالنا: (۱) آگ کی جنگاری ڈالنا (۲) کپڑے پر پھول پتی
 بنانا۔
 — سونگھ کے رہنا: (طنزاً)؛ بہت کم کھانا، برلئے نام
 کھانا۔
 — کان میں رکھنا: پرانی وضع کی زیوریش کرنا۔
 — کاہننا: پھولوں کا کھلنا۔
 — کترنا / گل کترنا: (۱) چراغ کا گل کترنا (۲) (کھٹنا)

(۳) کھاکام کرنا (۴) کاغذ اور کپڑے کا پھول کترنا۔
 — کڑھنا: کپڑے میں پھول بونے کڑھنا۔
 — کی جگہ جنگھڑی: (مثل)؛ زیادہ کرنے کی جگہ کی کرنا۔
 — کی چھڑی بھی نہ لگانا / چھوٹا نا: کبھی نہیں مارنا،
 ہاتھ نہیں لگانا، لاڈ پیار سے رکھنا۔
 — کے کیا ہو جانا / ٹٹھکا ہو جانا: بہت پھول جانا،
 بہت موٹا ہو جانا۔
 — گو بھی: پھول والی گو بھی۔
 — لانا / لدنا، درخت کا پھولوں سے لدنا، پھول لگنا۔
 — مڑنا / مڑھنا / کھٹلانا: پھول مڑھنا، پھولوں کی مڑتی
 رخم ہو جانا، پڑمرد ہو جانا۔
 — منھ سے جھڑنا / منھ سے پھول جھڑنا: شگفتہ
 میٹھی باتیں۔
 — والوں کی سیر: دلی کا ایک مشہور میلہ جو ہر برس
 سادوں کے بیٹے میں خواجہ قطب الدین بھتیار کا کی کے مزار
 پر ہوتا ہے۔
 — وہی جو ہمیش / مہیسر چڑھے: (مثل)؛ (مہیش /
 مہیسر؛ مہادیو) چیز وہی اچھی ہے اچھے لوگ پسند کریں۔
 — پھولوں کی تیج: پھولوں کا نرم و خوشبودار بھونا، راحت
 و آرام کا بستر۔
 — میں ٹٹھنا: (۱) (کیناٹیا)؛ نہایت نازک بدن ہونا،
 نہایت سبک ہونا (۲) عزت و قدر ہونا۔
 — پھولوں: جمع پھول کی۔
 — کا دن: تیج کا دن۔
 — گھٹنا: پھولوں کا بننا ہوا زیور۔
 — کی چادر: پھولوں کی وہ چادر جو بزرگوں کے مزاروں پر
 چڑھاتے ہیں۔
 — کی چھڑی: (۱) وہ چھڑی جس میں پھول لگا دیے جاتے ہیں
 (کیناٹیا)؛ بہت اچھی چھڑی (۲) وہ چھڑی جو چوتھی کھلنے کے
 دن استعمال کی جاتی ہے۔
 — پھولا / ٹھلا: تذکرہ؛ (۱) پھولا۔ آبلہ (۲) روٹی کا گالا (۳) اجل

کو آگ لگ دینا (۳) کشتہ کرنا (۴) بھڑکانا (۵) شہرت دینا،
(۶) دل جلانا (۷) برباد کرنا، اڑانا، دولت چھوٹنا، پسیا
چھوٹنا (۸) لگان بجھائی کرنا۔

پھونکی / پھینکی چھری : بڑھی ہوئی چھری۔
پھوٹا : (۱) روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کو عطر میں تر کرتے ہیں
(۲) روٹی کی وہ تہی جسے دُودھ میں تر کر کے پھر خوار پتوں
کو دُودھ چُساتے ہیں۔

پھوہار / پھوہار : بارش کی نئی نئی بوئیں۔
پھوہڑ : بے سلیقہ، بے تیز۔

پھوٹیاں / پھینٹیاں : موتھ؛ نئی نئی بوئیں۔
— کا مال ہنس ہنس کھائے : (رض) بے وقوف کا
مال خوشامدی خوب کھاتے ہیں۔

پھوٹیاں تالاب بھر جاتا ہے : (رض) ستور اُتور
کر کے بہت ہو جاتا ہے۔
پھوٹوں پھینٹوں بکُرسنا : مینہ کی ہلکی پھوار پڑنا۔

پھو - می

پھینٹھڑا : مذکر؛ وہ جنس سے سانس لیتے ہیں۔
پھینٹھڑی / پھینٹھڑی : موتھ؛ ہونٹوں کی شکل، وہ شگ
تہ جو ہونٹوں پر گرمی کی وجہ سے بن جاتی ہے۔

پھینٹا / پھینٹنا : مذکر؛ پگڑی، دستار، عامہ۔
پھینٹنا / پھینٹنا : کسی چیز میں پانی یا کوئی پتلی چیز ڈال کر
لگانا، بلانا، گھینپنا۔

پھینٹنا : (۵) مذکر؛ دھونا، صاف کرنا، کپڑے وغیرہ۔
پھینٹ : مذکر؛ (۱) گھاؤ، چکر، راستے کی کچی (۲) فرق، دوری،
انقلاب (۳) پیچ، جال (۴) بجھڑا، مشکل، تشویش (۵)
دائرہ احاطہ (۶) اندازہ، تخمینہ۔

— پانڈھنا : عمدہ کر دینا، سلسلہ ڈال دینا۔

— بدال : موتھ، مذکر؛ (۱) چیز بدل لینا، ایک چیز کے
عوض دوسری چیز لینا (۲) انقلاب، تبدیلی۔

— بندھنا : دُور بندھنا۔

— پھلنا پھلنا / پھولتا پھولتا : خوش پھلنا، بے فکری سے
انگٹے ہونے پھلنا۔

— پھلارہنا : سرسبز و شاداب رہنا، خوش و خرم رہنا۔

— لگنا : غصے یا رنج کی وجہ سے چپ ہو جانا، غصے میں
غاموش بیٹھے رہنا۔

— نہ سمانا / پھولے نہ سمانا : مارے خوشی کے آپے میں
نہ رہنا، بہت خوش ہو جانا۔

پھولے پھلے / پھلے پھولے : دُعا، سرسبز ہو، با اقبال
ہو، صاحبِ اولاد ہو۔

پھولام : مذکر؛ ایک قسم کا پھول دار کبوتر۔

پھولنا : (۱) پھول کا کھلنا (۲) ہوا بھرنے سے کسی جوف دار
چیز کا پھول جانا (۳) نازاں ہونا، خوش ہونا، تن جانا (۴)
(کھینٹنا)؛ خفا ہونا، موٹا ہونا۔

— پھلنا : (۱) بار آور ہونا، درختوں کا سرسبز ہونا (۲)
(کھینٹنا)؛ خوش حال ہونا (۳) کامیاب ہونا، نفع ہونا،
برکت ہونا۔

پھولس : پھوس۔

پھولنٹرا : دیکھو؛ پھوسٹرا۔

پھونک : (۱) موتھ؛ دم، دھا، منتر (۲) مذکر؛ جُتے کے
کس (۳) ہلکا، دوق سا ہلکا۔

— پھونک کے قدم / پاؤں کھنا / دھرنا : (مجازاً)؛
کمالِ احتیاط سے چلنا، ترسناں رہنا، بہت احتیاط سے
کوئی کام کرنا۔

— دینا : (۱) دم کر دینا (۲) پھونک مار دینا، جلا دینا، ناک
سیاہ کر دینا، برباد کر دینا، مشہور کر دینا، پھیلا دینا (۳)
بھردینا۔

— تھرکتنا : ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔

— مارنا : زور کے ساتھ منہ سے ہوا چھوڑنا، دھا دم کرنے
چراغ بجھانے یا آگ سلگانے کے لیے پھونکنا۔

— نکل جانا : دم نکل جانا، سانس نکل جانا۔

— پھونکنا : (۱) پھونک مارنا، جلانا، آگ لگانا (۲) مُردہ

— پڑ جانا : (۱) رنگ مدہم ہو جانا، شوخی جاتی رہنا، (۲) شرمندہ ہو جانا۔

— پڑنا : مذکر، جسم پر حجب خفیف بننا محسوس ہو، جسم میں شلغم ہلکی حرارت۔

— شلغم : (ہارڈا)؛ بدرنگ، جس شلغم میں سرخی بہت کم ہو۔

— پھیک کی گرمیوں کے چونچلے : بڑھاپے کے غزے۔

— ہنسی : وہ ہنسی جو بناوٹ سے ہو دل سے نہ ہو۔

— ہونا : کسی چیز سے بیزار ہو جانا، جی اُچٹ جانا۔

— پھیل جانا : جسامت میں بڑھ جانا، پتوڑا ہو جانا، مشہور ہو جانا، راج ہو جانا۔

— کر بیٹھنا : فراغت سے بیٹھنا، کھل کر بیٹھنا۔

— پھیلنا پڑنا : بچھامانا، گرا پڑنا، بے حد خواہش مند ہونا۔

— پھیلنا : (۱) کھولنا، بڑھانا (۲) بچھانا، خوش کرنا (۳) دلا کرنا لبا کرنا (۴) رسدی بانٹنا، تمیز کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔

(۵) شایع کرنا، رواج دینا (۶) بکیرنا (۷) نکالنا۔

— پھیلنا : (۱) مذکر، درازی، طوالت۔

— پھین / پھیننا : مذکر، کف، جھاگ، وہ رطوبت جو منہ سے کف کی شکل میں نکلے۔

— پھینکنا : (۱) ڈالنا، گرانہ (۲) دے مارنا، پٹکنا (۳) اچھالنا۔ (۴) بکیرنا، برباد کرنا۔

— پھینک پھانک دینا : ادھر ادھر ڈال دینا، ڈھنگ سے کوئی چیز نہ رکھنا۔

— دینا : (۱) بکیر دینا (۲) اچھال دینا، گرا دینا، ڈال دینا (۳) ضائع کر دینا، تلف کر دینا۔

— پھینسی : میدے کے تھکے کی نکلیاں جو دودھ میں بھگو کر شکر ڈال کر کھاتے ہیں۔

— پڑنا : (۱) چکر پڑنا، تسلسل پڑنا، (۲) فرق ہونا، تفاوت ہونا۔

— پھار : موٹ، آٹ پلٹ (۲) بیچ، فریب، چکر پھیرا پھیری۔

— دینا : (۱) واپس کر دینا، لوٹا دینا (۲) سمت بدلنا، رخ بدلنا (۳) کسی نئی چیز کا پچھا کر دینا۔

— کھانا : دُک کی راہ سے جانا، چسکر کی راہ سے جانا۔

— لینا : واپس لے لینا، لوٹا لینا، بچے کی پیدائش کے آثار ظاہر ہو کر اور چند روز تک بچہ پیدا نہ ہونا۔

— میں آنا : (۱) پکر میں آنا، گردش میں آنا، نقصان ہو جانا۔ (۲) ناگہانی مصیبت میں پھنسا۔

— میں ڈالنا : چکر میں ڈالنا، گم راہ کرنا، مصیبت میں ڈالنا، بھٹکانا۔

— پھیرنا : مذکر، (۱) حلقہ، دائرہ (۲) گشت، دورہ (۳) طواف گھاؤ، موٹ، بھکاریوں اور فقیروں کا حسب معمول گشت (۴) آسیب کا نخل۔

— پھیری / پھیرا پھاری : موٹ، ہیرا پھیری۔

— لگانا : (۱) چکر لگانا، گشت کرنا، چوکی دار کا گھر گھر پھرنے۔

— پھیرنا : (۱) موڑنا، گھمانا، (۲) چکر دینا، پھراتا، گشت کرانا، (۳) لوٹانا، واپس کرنا، رخ بدلنا (۴) زبان بدلنا (۵) ناراض کرنا، بے زار کرنا (۶) جینا (۷) پوتنا، تعلق کرنا۔

— پھیری : گلا گروں، فقیروں کا معمول کے مطابق گشت، خوردہ فردشوں کا گشت لگانا۔

— والا : خواجے والا، بساطی۔

— پھیرے : مذکر، (دفع پھیرا کی)؛ اہل ہنود کی شادی کی ایک اہم رسم، دو لہا دلہن کو جہون کے گرد پھراتے ہیں۔

— پھینکا : مذکر، (۱) بے تک، نہ بیٹھنا، کھاری (۲) سیٹھا (۳) ہکا (۴) بے رونق ہونگ، اداس، ماند (۵) روکھا،

کے خلق (۶) رنگت میں مدہم، کم شوخ۔



ت

ت : موت؛ اُردو حروفِ تہجی کا چوتھا حرف ، بہ حسابِ مبل (ابجد) چار سو عدد۔

ت

تا : نظرِ بدل ؛ تک ، انتہا ، تیج ۔

_____ امکان (ت) ؛ مقدور ۔

_____ پر حیات / بہ زینت (ت) ؛ جم جم ، عمر ۔

_____ بہ کجا / تا کجا / تا پے کے / تا کے (ت) ؛ کہاں تک ، کب تک ۔

_____ تریاقِ اُز عراق آورده شود مارگزیدہ مُردہ شود : (مقولہ) ؛

جب تک حوائج سے تریاق آئے سانپ کا مار مٹائے گا ،

_____ بہت انتظار ، بہت دیر ہونا ۔

_____ تو بہ من فی رسی ، من بہ غمدا می رسم ؛ (ت) ؛ دل ، دُجب ۔

_____ تک تم مجھ تک پہنچ گے میں خدا کے پاس پہنچ جاؤں گا ، بہت

_____ زیادہ انتظار کی صورت ، بہت دیر ہونا ۔

_____ چنڈ : (ت) ؛ کب تک ۔

_____ حال ، اب تک ، اس وقت ۔

_____ ک : اس لیے ، اس واسطے ، کیوں کہ ۔

_____ مُردن نہ گفتہ باشد ، حیب و ہنرش نہفتہ باشد : (مقولہ) ،

جب تک انسان بات نہیں کرتا اس کی عمری اور حیب ٹٹکے جتے

_____ ہیں ، خاموش رہنے اور نہ بولنے والے انسان کی صلاحیت کا اندازہ

_____ نہیں لگایا جاسکتا ۔

_____ نہ باشد چیز کے مُردم نہ گویند چیز ما ، (مقولہ) ؛ جب تک کسی

_____ چھوٹی چیز کا وجود نہ ہو لوگ اُسے بڑی چیز نہیں بناتے ،

_____ جب تک کوئی نہ کوئی بنیاد نہ ہو لوگ خواہ خواہ بڑھلا پڑھا کر

_____ نہیں ہوتے ۔

_____ وقتِ کہ : اس وقت تک ، جب تک ۔

_____ ہم ، قومی ، پھر بھی ، اس کے باوجود ۔

_____ تاب : (ت) ؛ موت ؛ (ا) ، طاقت ، قدرت ، مجال ، (پ) ، رونق ،

_____ چمک ، روشنی ، نور ، (۳) ، حرمت (۴) ، صبر ، تحمل ، برداشت

_____ تاباں : (ت) ؛ روشن ، چمک دار ، نورانی ۔

_____ تاب دار : (ت) ، تاباں ، روشن ، درخشاں ، (۲) ، خمیدہ ، پیچیدہ ۔

_____ دان : روشن دان ، روزن دیوار ۔

_____ تابستان : گرمی کا موسم ، گرمی ۔

_____ تابش : (ا) ، گرمی ، حرمت ، (۳) ، چمک ، روشنی ، نور ۔

_____ تاب ناک ، روشن ، چمک دار ، پیچیدہ ، خم دار ۔

_____ تاب نڈہ : مذکر ، چمک دار ، روشن ، نورانی ۔

_____ تاب نہ آنا ، برداشت نہ ہونا ، تحمل نہ ہونا ، گھبرا جانا ۔

_____ دواں / تاب و طاقت : مذکر و موت ؛ (ا) ، مجال ، قدرت ،

_____ ظف ، احوال ، (۲) ، صبر ، قزل ، برداشت ۔

_____ تابڑ توڑ : لگاتار ، متواتر ، پیہم ، اوپر تلے ۔

_____ تاریخ : (ج) ؛ فرماں بردار ، صلح ، سخت ، پابند ، نوکر ۔

_____ دار : صلح ، فرماں بردار ۔

_____ جھیل : (ت) ، مذکر ، اُردو میں اصلی لفظ کے ساتھ کا زاہد

_____ بے سنی لفظ ۔ جیسے پانی دانی ، روٹی دوتی ۔

_____ تابعی : (ج) ، وہ شخص جس نے اصحابِ رسول اللہ کو دیکھا ہو ۔

_____ تابعین : (ج) ؛ جمع تابعی کی ، مسلمانوں کا وہ گروہ جس نے ایک یا

_____ ایک سے زیادہ اصحابِ رسول اللہ کو دیکھا ہو ۔

_____ تابوت : (ج) ؛ مذکر ، مَرَد سے کا صندوق ، جتان ، (۲) ، ایک قسم

- کاتریہ۔
 — اٹھنا/بھلنا: (۱) جوازہ اٹھنا، تعزیر اٹھنا۔
 تابیدہ: بل کھایا ہوا، بٹا ہوا۔
 تاپ: موٹ؛ حرارت، بخار، گرمی۔
 تلی: موٹ؛ درم، طحال۔
 تاپنا: آگ سے سیکنا (ہاتھ پازو)۔
 تاتنا/تختی: موٹ؛ رقاص کے تال پر آنے کے واسطے زبان اور سخی سے ادا کیا جانے والا کلمہ۔
 تاشیر: (ع) مذکر، (د) اثر، (۲) نقش، (۳) نتیجہ۔
 پذیر: (ع) موٹ؛ اثر قبول کرنے کا عمل، قبولیت اثر۔
 تاشیر (ع) موٹ؛ (د) اثر دینا، اثر قبول کرنا، نشان، (۲) نتیجہ، پھل، ثمرہ، اثر، خاصیت۔
 کرنا: اثر کرنا، عمل کرنا، سرایت کرنا۔
 تاج: (ع) مذکر؛ شاہی ٹوپی، (د) کلنی، پرند کی چوٹی، (۳) نقیڑ کی خاص قسم کی ٹوپی، (۴) مکان کا چھجا، دیوار کی کلنی، کسی دیوار یا مکان کے اوپر بنی ہوئی گئی دار برجی۔
 باختر: وہ بادشاہ جس کا تاج چمن گیا ہو، تخت و تاج سے محروم کیا گیا بادشاہ۔
 بخش: شہنشاہ، بڑا بادشاہ جو امداد کو بادشاہ بنا سکے۔
 فرسوس: (اضافت کے ساتھ)؛ (د) مذکر، (۵) مرغ کا کیس، کلنی، (۲) ایک قسم کا پھول۔
 دار/ور: مذکر۔ صاحب تاج، بادشاہ، والی ملک۔
 رکھنا/پہننا: بادشاہ بننا۔
 شمع: (اضافت کے ساتھ)؛ شمع کا شعلہ۔
 تاجیر: (ع)؛ مذکر، سوداگر، سوداگری، تجارت کرنے والا۔
 تاجت و تاراج کرنا: برباد کرنا، ستیاناس کرنا، تہس نہس کرنا۔
 تاجیر: (ع) موٹ، دیر، وقف، ذمیل۔
 تاجیب: (ع) موٹ؛ (د) ادب سکھانا، ادب دینا، علم زبان سکھانا، (۲) تنبیہ، چشم نمانی۔
 تار: مذکر، (د) لوسہ، چیل، تانبے، سونے چاندی کا لہا پتلا جکڑا، (۲) دھانچا؛ دھاگا، بال، (۳) اندھیرا، تاریک،
- (۴) سلسلہ، قطار، (۵) تانا بانا، (۶) ٹیلی گرام، (۷) چھلا، ٹوکھا۔
 باران/بارش: (اضافت کے ساتھ)؛ مذکر، مینہ کے پانی کا سلسلہ۔
 باندھنا، سلسلہ باندھنا، لگاتار کام کیے جانا۔
 برقی: بجلی کا تار، ٹیلی گرام۔
 بندھنا: کسی کام کا پے دہنے ہونا، (۲) کام لگاتار ہونا، (۳) قلم کا چپ دہر ہونا۔
 تار: ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے (۳) بوسیدہ، بہت زیادہ پھا ہوا کپڑا۔
 توڑ: کپڑے پر بنا ہوا سونے کا کام، کار چوٹی کام۔
 ٹوٹنا: سلسلہ ٹوٹنا، سانس بند ہو جانا، زخم پڑنا، پٹے کام میں حرج واقع ہونا۔
 چڑھانا: ستاری کے تار لگانا، تار کھینچنا۔
 ڈنگنا: شہرے دو پہلے تاروں کو کوٹ کر گوٹے کے لیے چھڑکنا۔
 خشکبوت: (اضافت کے ساتھ)؛ (د) مذکر، کڑی کا جلا۔
 کش: (د) مذکر، سونے چاندی کے تار نسلے والا۔
 کشی: سونے چاندی کے تار کھینچنے کا کام اور پیشہ۔
 گھر: ٹیلی گرام آفس، تار دینے کا دفتر۔
 لگانا: رکھنا، تسمہ لگانا، چھوڑنا، کسر باقی نہ رکھنا۔
 مشط: مشط میں لگایا ہوا دھاگا۔
 نفس: (اضافت کے ساتھ)؛ (استعارہ)؛ سانس کے آنے جانے سے مراد۔
 بکالنا: (د) بنے کپڑے میں سے کشیدہ کاری یا کسی اور کام کے لیے تار بکالنا، (۲) سوتیاں بٹنے میں باریک اور لمبی سوتیاں بنانا۔
 رچھ: (د) مذکر، (استعارہ)؛ لگانا دیکھتے رہنا۔
 پود: (د) مذکر، تانا بانا۔
 تارا: (د)؛ (د) ستارہ، (۲) آٹھ کی پتی، برزرا۔
 ٹوٹنا: رات کو کسی تارے سے روشنی ٹوٹ کر گرنا۔
 چمکننا: ترقی ہونا، عروج ہونا۔
 ڈوٹنا: ستارہ غروب ہونا۔
 سی آسکھیں ہو جانا، آنکھوں کی بیماری جاتی رہنا، آنکھوں کا میل

- کھیل بالکل صاف ہو جاتا۔
تارا منڈول: مذکر، ستاروں کا حلقہ، ایک قسم کی آتش بازی۔
ہو جانا: کسی چیز کا اس قدر بلند ہو جانا، اس قدر نیچے نہ میں
چلا جانا یا اس قدر دُور ہو جانا کہ چھوٹی نظر آئے۔
تاروں بھری رات: موتھ؛ ایسی رات جس میں آسمان صاف
اور تارے چمکے ہوئے ہوں۔
کی چھاؤ: (۱) تاروں کی روشنی؛ (۲) نور کے ٹوکے، بہت
سویرے، مجبورم۔
کی گزہ، (جزیبوں کی اصطلاح)؛ چند ستاروں کے ایک جگہ
جمع ہو جانے کا اثر۔
تارے اُتارنا: (۱) تارے توڑنا (۲) روشن کرنا، متقد کرنا۔
پھلکننا: (۱) ستاروں کا کھیل آنا، (۲) دکھانا، رات شروع ہونا۔
دکھانا: (۱) زچہ کی ایک رسم (۲) بدحواس کر دینا (۳) کبوتر
اڑانے کی ایک خاص ترکیب۔
دکھائی دینا: (۱) مصیبت پڑنا، پچھے چھوٹ جانا (۲) صدمہ
دماغی یا ناتوانی کے باعث آنکھوں کے سامنے زبرے دکھائی دینا۔
کھلنا: تارے کھلنا، ستاروں کا طوع ہونا۔
گنشا: (۱) دکھانا؛ نہایت پریشانی میں رات کا ٹنا (۲) رات
بھر جاگتے رہنا۔
نظر آنا: (۱) دکھانا؛ حیرت زدہ ہونا، خوف زدہ ہو جانا۔
تاراج: (۱) مذکر، ٹوٹ، بربادی، غارت گری۔
گرتا، غارت گری۔
تارپیڈو TORPEDO؛ (انگ)؛ مذکر، (۱) جہاز شکن
آب دوز کشی، (۲) ایک قسم کی شرنگ، (۳) دکھانا، کسی کام
کی تخریب۔
تارپین: مذکر، گندے پروزے کا تیل۔
تارک: (۱) راج؛ چھوڑنے والا، ترک کرنے والا۔
تارک الدنیا: دنیاوی تعلقات ترک کرنے والا، پرہیزگار، مشق۔
تارکول COALTAR؛ (انگ)؛ مذکر، کولڈ، خامر۔
تاریخ: (۱) موتھ؛ (۲) طوسی یا قری جینے کا دن (۳) گزے ہوئے
واقعات سے بحث کرنے کا فن، (۴) کسی واقعے کا ایسے لفظ یا
- مبارت میں ظاہر کرنا جس کے اعداد و ابعاد سے اُس کی تاریخ کھلے،
(۱) گزے واقعات کا تذکرہ۔
تاریخ طہرنا: کسی کام کے لیے دن مقرر کرنا، شادی بیاہ کا دن طہرنا
دار: (۱) مسلسل تاریخوں کے ساتھ (۲) تاریخوں کے حوالے سے۔
تاریخی: تاریخ کی طرف منسوب، تاریخ کا جز۔
تاریک: کالا، سیاہ، اندھیرا۔
دل: (۱) دل؛ سیاہ دل، گناہ گار۔
تاریکی: (۱) موتھ؛ اندھیرا، سیاہی، ظلمت۔
تاز: ایک لمبا درخت جس سے تازی نکلتے ہیں۔
تازنا: بھانپنا، جان لینا، بھولنا۔
تازی: (۱) تاز کا نشہ آور رس، (۲) گدار کا قبضہ، موٹھ۔
تازگی: موتھ؛ (۱) نیاپن، (۲) سرسبز، (۳) رونق۔
تازہ: نیا نیا۔ سرسبز، بارونق، جو باسی نہ ہو، (دینا)۔
دُضو: دُضو ہوتے ہوئے بھی دُضو کرنا۔
بات: موتھ؛ نئی بات، انوکھی بات۔
بَدَن: تیار، پُست، تندرست۔
بہ تازہ: نیا نیا، فوہ نو۔
خیال: نئی بات، نیا خیال، نئی سوچی ہوئی بات۔
دَم: پُست، مستعد، جسے مکان نہ ہو، بھلا پنکا، توانا۔
دُکھو: مذکر، نئی کھلی، (۱) نئی بات، انوکھی بات۔
دُکھو: کھلنا، پھولنا، چھوڑنا؛ انوکھی بات ہونا، انوکھی بات کہنا۔
دُقرہ: نئی چال، فریب، دھوکا۔
کار: (۱) نیا کام کرنے والا، عجیب۔
کاری: (۱) موتھ؛ نیا بنانے کا کام، نیا بن بننے
کا عمل۔
کرنا: تازگی بخشنا، پڑمردگی دور کرنا، یاد دلانا۔
کھانا: آج ہی کا پکا ہوا کھانا، نیا پکا ہوا کھانا، جو باسی
نہ ہو، ہو۔
گل پھولنا/محل کھلنا: انوکھی بات ہونا، نیا معاملہ پیش آنا،
نیا مادہ واقع ہونا۔
مُشَق: نوشق۔

تازہ وارد : حال کا آیا ہوا۔

— ولایت : (۱) اور وارد حال کا آیا ہوا ، (۲) وہ شخص جو کسی دوسرے کی زبان نہ سمجھے ، (۳) دشمنی ، توگرفتار۔
تازی : (۱) مذکر ، (۲) شکاری کتا ، (۳) حرب کا گھوڑا۔

— بات : نئی بات ، نیا معاملہ۔

— پرنس نہ چلا ، شکر کی کے کان آئینٹھے : (۱) شل ؛ زبردست کتابو نہ پا کر کروہ کوستانا۔

تازیانہ : (۱) مذکر ؛ کوڑا ، چابک ، تہمی۔

— ہونا : تنبیہ ہونا ، تنبیہ کا سبب ہونا۔

تاس : (۱) مذکر ، تسلا ، بڑا تشت۔

تاسعف جمع ، مذکر ، پھیٹاوا ، افسوس ، رنج ، طال ، حسرت۔

تاسیس (۱) ؛ موت ؛ (۲) بنیاد رکھنا ، نیورکھنا ، (۳) علم قافیہ کی ایک اصطلاح۔

تاش : (۱) گنجد ، پتوں کا کھیل ، (۲) ایک قسم کا ریسی زری کا کپڑا ، زینت ، بادلا۔

تاشا / تاشہ : مذکر۔ ایک بلبے کا نام جو گھمے میں ڈال کر بجایا جاتا ہے۔
تافتان : ایک قسم کی موٹے کناروں کی علامت خیری ہوئی۔

تافیتہ : (۱) ؛ (۲) ایک قسم کا ریسی کپڑا ، (۳) روشن ، منقہ (۴) گرم۔
تافی ، موت ؛ (۱) ایک قسم کی فوٹی ، (۲) مختلف رنگ کی آنکھوں والا گھوڑا۔

تاک : مذکر / موت ؛ (۱) اچھڑ کی بیل ، (۲) بھنگلی ، گھات ، شست ، نشانہ ، انتظار ، اوقات کا لحاظ۔

— جھانک : موت ؛ گھوڑا گھاری ، نظر بازی ، چھپ چھا کر دیکھنا۔

— رکھنا : (۱) گھات میں گئے رہنا ، قابو ڈھونڈنا ، (۲) پہلے سے پہچان رکھنا ، پہلے سے دیکھ رکھنا ، (۳) جانچ رکھنا ، (۴) موقع تلاش کر رکھنا۔

— کر : سیدھ باندھ کر ، موقع ڈھونڈ کر۔

— لگانا : گھات لگانا ، گھوڑا ، انتظار کرنا ، تلاش میں رہنا ، موقع نہ لگانا۔

— لگنا : بھنگلی باندھنا ، نشانہ باندھنا۔

— لینا : خریدنا ، وقت پر پہنچانا ، وقت پر ہینا کرنا ، گھرائی کرنا۔

— تاک میں رہنا : کسی کو نظر میں رکھنا ، موقع نہ لگانا ، گھات میں رہنا۔

تاکنا : (۱) گھوڑا ، بھنگلی باندھ کر دیکھنا ، (۲) خیال کرنا ، پہلے سے جان رکھنا ، (۳) چھپ کر دیکھنا ، جھانکنا ، (۴) تلاش کرنا ، پہچاننا ، (۵) نشانہ باندھنا ، (۶) پسند کرنا ، (۷) کسی چیز کی خواہش کرنا ، تلاش کرنا۔

تاکپید : (۱) ، موت ؛ (۲) اصرار ، ہٹ ، (۳) تقاضا ، کوشش ، بار بار کہنا ، زور دینا۔

— کرنا : زور ڈالنا ، تقاضا کرنا ، سخت حکم دینا ، اصرار سے کہنا۔
تاکپیدا : (۱) ؛ نہایت اصرار سے ، زور ڈال کر۔

تاککا : مذکر ، دھاگا ، ڈورا ، سوت ، تار۔

— ڈالنا : سوتی میں تاک کا پرونا ، تاکے ڈالنا ، روٹی دار یا ڈر ہرے کپڑے میں دھاگا ڈالنا۔

تاکگنا : دھاگا ڈالنا ، تاکے ڈالنا ، گوتھا ، سینا پرونا ، کچھ سلائی کرنا۔
تال : مذکر ، (۱) تالاب ، (۲) سینک کا ایک شیش ، (۳) موت / مذکر ، گانے بجانے کا وزن ، (۴) تالی ، (۵) موت ؛ پہلوؤں کا نم شوکنا۔

— بے تال ہونا : گانے میں سر سے بے سر ہونا ، کوئی کام بے موقع بے عمل ہونا۔

— پڑنا / دینا : گانے میں وزن اور سرقا تم رکھنے کے واسطے قاعدے سے تالی بجانا ، سہارا دینا۔

— ٹھونکنا : غم شوکنا۔

— سے بے تال ہونا : اصول نمہ کے مقام سے اٹھ جانا ، بے موقع تال لینا ، سر سے بے سر ہو جانا۔

— ٹھکانا : ایک قسم کا رنج جو پانی کے کنارے آگت ہے اور دوا میں استعمال کیا جاتا ہے۔

— میل : مذکر۔ (۱) راہ و رسم ، میل جول (۲) مناسبت ، ربط۔

— میل کھانا : (۱) (دوستی) تال کے شرکے ساتھ مل جانا ، (۲)

میل جول ہونا ، یا ہم اتفاق ہونا ، منزل ہونا ، مباحثت ہونا۔
تالا : مذکر ، قفل۔

— توڑنا : قفل توڑنے کا جرم کرنا۔

— چڑھوانا : قفل لگوانا۔

تالاب : مذکر ، تلاء ، پوکر ، وہ جگہ جہاں پانی بہت زیادہ جمع ہوگا۔
تالو : مذکر ، (۱) مڑ کے اندر کا اوپری حصہ (۲) دماغ کے اوپر کی سطح ،
پندریا۔

_____ اٹھانا : تالو کو دبا کر درست اور با موقع کرنا۔

_____ سے زبان لگانا : چپ ہو رہنا۔

_____ سے زبان نہ لگانا ، برابر باتیں کیے جانا ، بچے جانا۔

_____ لگانا : مڑ کی بیماری کے باعث تالو کا اپنے مقام سے کچھ نکل آنا۔

تالی : مونث ؛ (۱) کچی ، چابی ، (۲) مونث ، کھٹ ، پھیلی ، پھیل پھینے
کی آواز ، دونوں ہاتھوں کے بجانے کی آواز۔

_____ ایک ہاتھ سے نہیں بکتی / تالی دونوں ہاتھوں سے بکتی ہے ؛
(مثل) ؛ محبت یا لڑائی ایک طرف سے نہیں ہوتی ۔

_____ بجانا : ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر آواز نکالنا ، دستک دینا۔

_____ بچ جانا : (۱) رسوائی ہونا ، بدنامی ہونا (۲) دکھنا ؛ (۳) بد والا
بھل جانا۔

_____ پھٹنا : رسوائی ہونا ، بدنامی ہونا۔

_____ پھیننا : (عجاز) ؛ ہنسی اڑانا (۲) تھمک کرنا ، (۳) شاباشی
دینا۔ تمہیں کرنا ، داودینا۔

_____ دینا / تالیاں دینا : (عجاز) ؛ ذلیل کرنا ، مسخرہ اڑانا۔

تالیاں بجانا : (۱) غوطی مٹانا (۲) ذلیل کرنا (۳) مسوا کرنا ، ہنسی
اڑانا ، مسخرہ بنانا۔

تالیفت : (رج) مونث (۱) مختلف کتابوں کے مضامین نئے پیرائے سے
ترتیب دینا ، (۲) باہم الفت ڈالنا ، دوستی پیدا کرنا ، دو
دلوں کو ملانا۔

_____ قلوب : (اضاف کے ساتھ) ؛ مونث ؛ دلوں کو ہاتھ میں
لینا ، دلجوئی کرنا۔

تمام : (رج) پورا ، تمام ، نکل ، کاہل۔

تمام جان / تمام دان / تان جان : مذکر ، ہوادار ، ایک قسم کی پانکی۔

تمام جھام : مذکر ، جھلار۔

تمام چینی ، مذکر - چینی چڑھا ہوا تانبا یا لومہ۔

تتا مڑ پتیر : (۱) مذکر ، تانبے کا ورق۔

تامرٹا : مذکر ، (۱) کوپڑی ، گنے کی کوپڑی (۲) تانبے کے رنگ کا

(۳) ایک قسم کا جواہر ، یا قوت کی ادنا قسم۔

تامرٹا بھل آنا : تانبے کے رنگ کا ہوجانا ، بدرنگ ہوجانا ، بال
اکھڑ کر کھوپڑی صاف ہوجانا ، گھنجا ہوجانا۔

تامل : مونث ؛ تامل ناڈو علاقے کی زبان کا نام۔

تامل : (رج) مذکر ، (۱) سوچ ، فکر ، اندیشہ ، (۲) ڈھیل ، دیر ، وقت۔
(۳) شہر ، ملک ، تہذیب۔

تام لوٹ / تام لیٹ : مذکر ، ٹین کالوا ، جس میں ٹوٹی نہیں ہوتی۔
ٹین کا ڈھنگا۔

تان : مونث ؛ (۱) گھانے میں بلند آواز ، (۲) لوسے کی سلاخ جو پلنگ
پانکی ، ہوادار ، ہودے وغیرہ کی مضبوطی کی غرض سے لگاتے ہیں۔

_____ اڑالینا : کسی کے گانے کا ڈھنگ اختیار کر لینا۔

_____ اڑانا : گانا ، آلاپنا۔

_____ بھرتا : گانے میں خوبصورت اور دلکش انداز سے بعض سُرور کو
کمز اور سہ کرتے زبان سے نکالنا۔

_____ پلٹا : مذکر ؛ (علم موسیقی کی اصطلاح) ؛ مختلف انداز سے
تان لینا۔

_____ توڑنا : (اصطلاح موسیقی) ؛ (۱) گیت کو ستم پر ختم کرنا (۲) طے
دینا۔ طے کرنا ، (۳) ختم کرنا ، تان دینا ، ٹکادینا ، (۴) اشتعال
پیدا کرنا۔

_____ ٹوٹنا : لازم ، دیکھو تان توڑنا نمبر (۱) ، (۲) و (۳)۔

_____ کی جان : (۱) سُریلی ، رسیلی (۲) غلام مقصد ، حاصل ، مدعا۔
منزہ سخن۔

_____ کی لینا : گانا ، آلاپنا۔

_____ میں تنگیں اڑانا : بہت اُونچی تان لینا۔

_____ تانوں کے پچھے : مسلسل گانا۔

_____ تان رس خان : مذکر ، دادوغہ ارباب نشاط۔

_____ تان سین : مذکر ، موسیقی کے ایک مشہور استاد کا نام۔

_____ تان کے : خوب ندر سے کھنکے۔

_____ لینا : (۱) اڑھ لینا ، (۲) کھنک لینا ، سیدھا کر لینا ، حسد دینا۔

_____ تاننا : مذکر ، (۱) سوت کے تانگے جو کڑا بننے میں لمبائی کی طرف ہوں ، (۲)
چاندی سونے کو آگ میں رکھ کر اس کے خاص یا غیر خاص حصے

کی جاگ کرنا، تاودینا، تہانا، (۳) جانچنا، آزمائنا، گرم کرنا، پھلانا۔
 تانا بانا: مذکر، (۱) وہ دھانگے جو کپڑا بننے میں عرض و طول میں دیتے ہیں۔
 کرتے پھرنا: (کنایتاً)؛ بار بار آنا جانا، آورہ پھرنا، خواہ مخواہ پکڑ لگانا۔
 شاہ: دکن کے ایک نازک مزاج بادشاہ کانام، لطافت پرندہ شخص۔
 شاہی، آبریت، مطلق العنانیت۔
 تانبا: مذکر، ایک دھات کانام، (۲) گوشت کا ٹکڑا جو باز شاہین وغیرہ شکاری پرندوں کو کھلاتے ہیں، (۳) بھیر جڑی کا گوشت۔
 سا: گلابی کھنڈ۔
 سا آسمان ہو جانا: قتل کے آثار معلوم دینا۔
 تانے کا تار/ پھلا نہیں: (موجہ) نہایت درجہ منطس، وہ صورت جس کے پاس زبرد بالکل نہ ہو۔
 تان پورا/ تان پڑا: مذکر، ایک قسم کا ہندستانی باجا۔
 تانت: موٹ: بیڑ بکری کی وہ نس جو بٹ کر سستی بنائی جاتی ہے۔
 (۱) سارھی کا تار، (۲) آڑ پارچہ بات۔
 باجی راک بوجھا (پایا): (دش)، قرینے سے مطلب پہچان لینا، امداد سخن سے مطلب پر آگہی ہو جانا، باتوں سے دل کا حال معلوم ہو جانا۔
 سا: نہایت ڈبلا، منحنی۔
 تانتیا: ڈبلا، پتلا، وہ جو لمبا اور ڈبلا ہو۔
 تانتیا: مذکر، (۱) قطار، سلسلہ، (۲) مجمع، گروہ، سواریاں۔
 پتھوڑا: مذکر، طول طویل داستان، شیطان کی آنت۔
 تانتیک: (۱) مذکر، متفرق شاستر کا جاننے والا، سحر کرنے والا، جادوگر۔
 تانتی: موٹ: تانت کی تصغیر، (۲) کنایتاً، نہایت ڈبلا، منحنی۔
 تانتوا: مذکر، آنت اترنے کی بیماری، قنق۔
 تانترو: (۱) مذکر، (۲) راج شیوجی کا جلالی رقص، (۳) ایک ہندستانی رقص جس میں رقاصہ مردوں کے بھساؤ بتاتی ہے۔
 تانتنا: (۱) چشم نہانی کرنا، دھکانا، ڈانٹنا، ٹھکرنا، (۲) ٹھوکا مارنا،

خوراک سے کم کھانے کو دینا، (۳) برا کھنا، طعنے دینا۔
 تانگنا: مذکر۔ دو پیٹے کی چھوٹی سواری گاڑی جس میں گھوڑا بٹا ہوتا ہے۔
 تانتنا: (۱) پیلانا، بڑھانا، لے یا چڑھے کپڑے کو سر پر بطور تانت کھینچنا (یہی چادر تانتا)، (۲) لٹکانا (۳) تار لگانا (۴) گستا، بکڑنا، بھول (۵) مذکرنا، (۶) مقدمہ دائر کرنا، (۷) (م) قید کرنا، (۸) بھیجتا، (۹) روانہ کرنا، (۱۰) حویلی کے واسطے اٹھانا، (۱۱) برہمی تانتا، (۱۲) زور سے کھینچنا، (۱۳) جالانا تانتا دکڑی کا، (۱۴) آگسنا۔
 تانتے، تشنے، مذکر، طعن و تشنیع، ٹھہرنے۔
 تانتیشا: (م)؛ موٹ؛ موٹ کی علامت لگانا۔
 معنوی: (۱) اضافت کے ساتھ (م)؛ موٹ؛ (۲) اصطلاح؛ وہ اسم جس میں کوئی علامت تانتیش نہ ہو مگر موٹ استعمال ہوتا ہے۔
 تاؤ: مذکر، (۱) حرارت (۲) تیز آج (۳) چرخ دینا (۴) فتنہ، غضب۔
 (۵) بیچ و تاب (۶) بل مڑوڑ، غم۔
 آجانا: (۱) لہے، تانے وغیرہ کا آگ میں شروع ہو جانا، چرخ کھانا، (۲) جوش کھانا، (۳) فتنہ آجانا، (۴) چاشنی کا پکے پرا جانا۔
 بگڑنا: (۱) پکے میں کسی چیز کا جوش خراب ہو جانا، (۲) (مجازاً)؛ موقع نکل جانا۔
 بٹند: وہ دوا جس کے اثر سے چاندی سونے کا نقص تاؤ دینے پر بھی ظاہر نہ ہو۔
 پڑ ہونا: جوش میں ہونا۔
 پرتاؤ آنا: مذکر، بہت فتنہ آنا۔
 پیچ: مذکر، بیچ و تاب، غم و فتنہ۔
 دینا، گرم کرنا، آگ میں لال کرنا، پھلانا۔
 کھانا: (۱) شروع ہو جانا، پھل جانا، چرخ کھانا، جوش کھانا، (۲) قوام یا چاشنی کا جل جانا، زیادہ پک جانا، (۳) اذیتنا، چمید ہونا، (۴) کتنے کا زیادہ آج کھانا، (۵) فتنہ کھانا، فتنہ کرنا، فتنے کے مارے پیچ و تاب کھانا۔
 لگنا: (۱) آج گنا، خوب گرم ہونا، (۲) زیادہ جل جانا۔
 میں آنا: جوش میں آنا۔
 تاؤ: غمخیز کا غذا کا؛ ورق۔
 تاؤ: (۱)؛ مذکر، باپ کا بڑا بھائی، تایا۔

ت پ

تبدیل ہنیت : بیس بدلنا ، صورت بدلنا۔
تبدیلی : موٹ ؛ بدلا جانا ، بدلی ، لازم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلا جانا۔

تپ : موٹ ؛ گرمی ، حرارت ، بخار۔
آنا : (۱) بخار آنا (۲) دکھانا ؛ حالت ہونا ، ترسا ہونا ، ڈرنا۔

لوٹنا : بخار کا زور گھٹنا۔
چلھ آنا / چلھنا : بخار چلھنا ، بخار سے بدن کا جلنے لگنا ، (۲) دکھانا ؛ ترسا ہونا ، لرزنا ہونا۔

تپخال : (۱) دکھنا ، دیکھنا۔
تپ دق : موٹ ؛ تپ کبھ ، پھانا بخار۔
تپ لرزہ : موٹ ؛ وہ تپ جس کے ساتھ لرزہ بھی آتا ہے۔

تپ جرقہ : موٹ ؛ تپ دق۔
تپ توت : موٹ ؛ باری کا بخار۔
تپاس : موٹ ؛ بوگ۔

تپاک : دکھنا ، آوجھت ، خاطر مدارات ، اشعات ، (۲) مشق ، اخلاص ، محنت ، (۳) دھڑا ؛ بے پروائی ، ظاہر داری۔

تپا کرنا : دکھانا ؛ غم جھیلنا۔
تپال : (۱) تڑپنے والا۔
تپانا : (۱) گرم کرنا (۲) تادو دینا ، سونے پاندی وغیرہ کو آگ پر رکھ کر کھرا کھٹا دیکھنا ، (۳) دکھانا ؛ دکھ دینا۔

تپانچ / تماچا / طپانچ : (۱) دکھنا ، تھوڑا لڑی پھٹنے والوں کی اصطلاح ، تپانی : موٹ ؛ تین پاؤں کی چوکی ، چھوٹی چوکی۔ (ایک ڈالوں) تپتیا : (۱) ؛ موٹ ، ریاضت ، عبادت۔

تپش : (۱) موٹ ؛ (۲) اضطراب ، بے قراری ، (۳) شدت کی گرمی ، آفتاب کی تھارت ، (۴) سوزش ، جلن۔
تپک : موٹ ؛ جلن ، رہ رہ کر اٹھنے والا چھوڑے کا درد ، ٹیس ، لپک۔

تپکنا : زخم میں ٹیس ہونا ، لپک ہونا۔
تپنچ / تپنچا / تپنچہ : دکھنا ، بندوبست کی قسم کا بہت چھوٹا ہتھیار ، پستول ، ریولور۔

تپرد : (۱) دکھنا ، (۲) ایک قسم کی کھلاڑی (۳) لپک ہتھیار۔
تپرا : (۱) ؛ دکھنا ؛ بے ناری ، نفرت ، متغیر ، وہ ناظیم الفاظ جو کسی حالت کی نسبت بہ طور لعنت زبان پر لاتے ہیں ، ہی طس۔
تپینا / کرنا : بڑا جھلکانا ، لعنت طاعت کرنا۔

تپرائی : دکھنا ، تپرا کرنے والا ، وہ گروہ جو تپرا کرنا داخل مذہب خیال کرتا ہے۔

تپرتک : (۱) ؛ دکھنا ؛ (۲) وہ چیز جس میں برکت ہونے کا اعتقاد ہو ، (۳) تھوڑی بڑی سے لے کر کسی بڑی کا آتش یا کسی پیشوائے دین کے فاتح کی چیز۔

تپرتکا : (۱) ؛ دکھنا ؛ برکت لینے کے خیال سے ؛ (۲) دکھانا ؛ تپتیا : (۱) ؛ برکت کے لحاظ سے مبارک اہم تبرک جان کر۔

تپرمکات : دکھنا ؛ (۱) ؛ (۲) وہ چیزیں جو بزرگان دین کی نشانیاں بھی جاتیں ، (۳) برکت حاصل کرنے کی چیزیں ، بزرگوں کے آثار۔

تپر پد : (۱) ؛ دکھنا ؛ (۲) وہ شربت یا دوا جو تپ کے پیلے تین دن اہم سہل کے بعد اس کی حرارت کے دور کرنے اہم دل کو قوت دینے کے لیے دی جاتی ہے ، (۳) ؛ دکھنا ۔

تپس : (۱) ؛ دکھنا ، مسکراہٹ ، ایسی ہیسی میں ہونٹ دکھلیں۔
تپھرہ : دکھنا ؛ (۱) ؛ تفریح ، تھیل ، توجہ ، (۲) ؛ کسی چیز یا تھسری پر اظہار رتے۔

تپش : (۱) ؛ دکھنا ، پروی کرنے والا ، پروی کرنے والے۔
تپالصن : (۱) ؛ دکھنا ؛ وہ مسلمان جنہوں نے تپس کو دیکھا۔
تپلیج : (۱) ؛ موٹ ؛ پہچانا ، کسی کے پاس کھ روانہ کرنا ، خدا کا حکم پہچانا ، احکام شریعت پہچانا۔

تپنیت : (۱) ؛ (۲) ؛ موٹ ؛ بیٹا بنانا ، بیٹے (شبت) بنانا ، بے پاک بنانا۔

تپہ : (۱) ؛ (۲) ؛ تپا کا مشت ؛ خراب ، اجاڑ ، تپاہ۔
تپہ کار : (۱) ؛ برباد ، بدکار۔

ت ت ت

تَبَخُّرٌ : (۱) ؛ مذکر ، ساحل ، سمندر یا دریا کا کنارہ۔
تَشْطِيبٌ : (۲) ؛ مؤنث ؛ (۱) ؛ تین حصوں میں تقسیم کرنا ، (۲) ؛ میٹھی مذک کے مطابق عدائے واحد کی وحدانیت کی تین شاخیں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس ، (۳) ؛ بخومیوں کی اصطلاح ؛ آسمان کا تیسرا حصہ۔
تَشْفِیہ : (۱) ؛ مذکر ، (۲) ؛ دگنا ، (۳) ؛ وہ میٹھ جس میں دو بچے جائیں۔

ت۔ج، بھ

تَبَخُّرٌ : مؤنث ؛ دارچینی ، ایک درخت کی چھال جو خوشبودار ہوتی ہے۔
تَبَخُّرٌ : (۱) ؛ چھوڑ دینا ، ترک کرنا ، دست بردار ہونا۔
تَجَارِبٌ : (۱) ؛ مذکر ، جمع تجربہ کی۔
تَجَارِيفٌ : مؤنث ؛ سوداگری ، خرید و فروخت ، بیوپار۔
تَجَارِيفٌ : مذکر ، سوداگری کا اسباب۔
تَجَاوُزٌ : (۱) ؛ مذکر ، گزرتا ، حد سے گزرتا ، انحراف ، (۲) ؛ فرق ، تفاوت۔
تَجَاهُلٌ : (۱) ؛ مذکر ، (۲) ؛ جان بوجھ کر نادان بنا ، اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرنا ، (۳) ؛ نادان ، اغماض کرنا ، چشم پوشی کرنا۔
تَجَارِفَانٌ ؛ اضافت کے ساتھ ؛ (۱) ؛ مذکر ، جان بوجھ کر آنجان بنا ، (۲) ؛ علم بدلنے کی ایک اصطلاح۔
تَجْدِیدٌ : (۱) ؛ مذکر ، نیا ہونا۔
أَشْثَالٌ : (۱) ؛ مذکر ، (۲) ؛ تصوف کی اصطلاح ؛ اللہ تعالیٰ کے صفات کی وہ سطح جس سے زندگی اور موت کا سلسلہ قائم ہے۔
تَجْدِیدِیہ : (۱) ؛ مؤنث ؛ نئے سرے سے کوئی کام کرنا ، نیا کرنا ، تازگی ، ایجاد ، انحراف۔
تَجْدِیدِیَّتٌ : (۱) ؛ مؤنث ؛ نئے سرے سے شروع کرنا ، ایجاد۔

تَبَخُّرٌ ؛ باندھنا ؛ تپنا کر میں لگانا۔
تَبَخُّرٌ ؛ تپنے میں گولی بارود بھرنا۔

تَبَخُّرٌ ؛ تپنا سر کرنا ، بھڑنا۔
تَبَخُّرٌ ؛ خالی کرنا/ سر کرنا ؛ تپنا بھڑنا۔
تَبَخُّرٌ ؛ تپنا چلانا۔

تَبَخُّرٌ : (۱) ؛ نہایت گرم ، جلتا ہوا ، (۲) ؛ تند ، تیز مزاج ، غضب ناک ، (۳) ؛ جری ، بہادر ، شہا۔
تَبَخُّرٌ ؛ پانی ؛ تازہ ، نیک مزاجی ، گرم مزاجی۔
تَبَخُّرٌ ؛ تازہ ؛ جلد ، فرا۔
تَبَخُّرٌ ؛ تازہ ؛ جلد باز ، تیز مزاج۔
تَبَخُّرٌ ؛ تازہ ؛ گرم تازہ ، (۲) ؛ دکھائتا ، وہ شخص جو بات بات پر لڑے۔

رداکا ، جگڑا۔

تَبَخُّرٌ ؛ ہونا ؛ گرم ہونا ، غضبناک ہونا ، لال پیلا ہونا۔

تَبَخُّرٌ : (۱) ؛ مذکر ، تقلید ، پیروی ، نقل ، کاپی۔

تَبَخُّرٌ ؛ پریشان ، لگ لگ بے ترتیب۔

تَبَخُّرٌ ؛ مذکر ، جس کی زبان بولنے میں صاف نہ پلے۔

تَبَخُّرٌ ؛ صاف نہ بولنا ، بات کرنے میں حروف کا اُن کے عموماً کے موافق ادا نہ ہونا اور کچھ سے کچھ مٹلانا۔

تَبَخُّرٌ ؛ مؤنث ؛ (۱) ؛ ایک کپڑے کا نام جس کے پر نہایت خوبصورت ہوتے ہیں ، (۲) ؛ ایک قسم کی گھاس۔

تَبَخُّرٌ : (۱) ؛ مذکر ، (۲) ؛ چھا ہوا ، باقی ، اخیر ہر شے کا ، (۳) ؛ کتاب یا عبارت کا وہ حصہ جو اخیر میں اسی کتاب یا عبارت کی تکمیل کے لیے لگا دیتے ہیں ، ضمیر ، خاتمہ ، (۴) ؛ خط کا ضمیر۔

تَبَخُّرٌ ؛ مؤنث ؛ روک تھام ، دم دلاسا ، نیک چاؤ۔

تَبَخُّرٌ ؛ مذکر ، پانی گرم کرنے کا لوبے کا گھر۔

تَبَخُّرٌ ؛ مؤنث ؛ (۱) ؛ لال رنگ کی چوڑ ، (۲) ؛ سبز رنگ کی مرجع جو چھوٹی بڑے کے برابر اور نہایت تیز ہوتی ہے ، (۳) ؛ تیز دھلاک ، ذہین ، ذکی۔

تَبَخُّرٌ ؛ مؤنث ؛ ایک قسم کی چھوٹی مرجع جو رنگ میں تند اور نہایت تیز ہوتی ہے ، (۲) ؛ دکھائتا ؛ ذہین ، تیز ، چلاک۔

تجربہ (د)؛ مذکر، آزمایش، جاچ، امتحان۔
 — کلر (د)؛ واقعہ کار، ہوشیار، ماہر، جہاں دیدہ۔
 — گاہ؛ سانس کے تجربہ کرنے کا گروہ، ٹیمٹ۔
 تجربی (تجربہ، د)؛ (د)؛ جاچا ہوا، پرکھا ہوا، تجربہ کیا ہوا۔
 (۳) آزمائش۔
 تجربیت؛ موت؛ تجربے کی خاصیت۔
 تجربتہ (د)؛ مذکر، خلوت، حریت، مجرد رہنا، دجازا، ترک دنیا۔
 قلع طلاق، بن بیا رہنا۔
 تجربہ (د)؛ موت؛ (د)؛ تہائی (۲)؛ ملاہگی (۳)؛ علم بیان کی ایک صفت۔

ت ح

تجزی (د)؛ موت؛ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 تجزیاتی (د)؛ تجزیہ کیا ہوا، جائزہ لیا ہوا۔
 تجزیہ (د)؛ مذکر، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو تقسیم کرنا۔
 تجزیہ نفس (د)؛ مذکر، (نفسیاتی اصطلاح) انسانی ذہن کا مطالعہ، دیکھو تحلیل نفسی۔
 تجسس (د)؛ مذکر، تلاش، جستجو، تحقیقات۔
 تجسیم (د)؛ موت؛ جسم ہونا، جسم بننے کا عمل۔
 تجلّا / تجلّی (د)؛ اول مذکر، دوسرا موت؛ (د)؛ پردہ ہٹا، آشکار ہونا۔
 (۲) روشنی، چمک، نورانی (۳)؛ بلور، جھلک۔
 تجمل (د)؛ مذکر، جمال کی آرائش، زیب و زینت، حسن (۲)؛ شان و شوکت، شامٹ۔
 تجنّ / تجنّ دینا؛ (د)؛ کسی کام کو ترک کر دینا، (د)؛ دفتہ کسی چیز کو ہاتھ سے گنوا دینا۔
 تجنّیس (د)؛ موت؛ (د)؛ ایک جنس ہونا، ہم جنس ہونا، (۲)؛ صنایع نقلی کی ایک اصطلاح۔
 — اجناس (د)؛ موت؛ چیزوں کا ہم جنس ہونا۔
 تجوری (د)؛ موت؛ لہجے کی خاص قسم کی اللہجہ جس میں زبانات اور قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔
 تجویہ (د)؛ موت؛ (د)؛ حرمت کو ان کے خارج سے ادا کر کے پڑھنا، (۲)؛ علم قرأت۔
 تجویز (د)؛ موت؛ دلتے، تدبیر (۲)؛ قانون، فیصلہ، تصفیہ، (۳)؛

تجارت (د)؛ موت؛ (د)؛ نکھنا، دستاویز، جنگ، فزیتہ، وثیقہ۔
 (۲)؛ عبادت، مضمون، لکھنے کا ڈھنگ، مضمون نگاری کا انداز، (۳)؛ خط، رقم، خط و کتابت، (۲)؛ جگہ لیکر، ہلکا نقش، (د)؛ ہلکا

تجلیف (د)؛ موت؛ (د)؛ مذکر، جمع تجلی، سو فانیں۔
 تحت (د)؛ مذکر، (د)؛ نیچے کا حصہ، قبضہ، اختیار، تعزیر، ظاہر، نیچے، زیر۔
 — البیان؛ بات کہوں کر نہ بیان کرنا، مبہم بات۔
 — القرا / القری؛ (د)؛ موت، مذکر، زمین کے سب سے نیچے کا طبقہ، زیر زمین۔
 — اللفظ؛ (د)؛ بیزارگ یا خوش گوئی کے شعر پڑھنا، (۲)؛ جریہ، تہسا۔
 — لہجہ (د)؛ مذکر، (د)؛ دھیمی آواز، (۲)؛ ہلکانگ۔
 تحت و تصرف میں لانا، قبضے میں لانا، قبضہ کرنا، مرمت میں لانا، کام میں لانا۔
 تحتانی؛ (د)؛ مرمت جس کے نیچے نقطہ ہو، (۲)؛ ابتدائی طارسی، پرائمری اسکول۔
 — تحریک (ت حرک)؛ (د)؛ مذکر، ہلنا، حرکت، اشتغال۔
 — تحری (د)؛ موت؛ (اصطلاح فقہ)؛ قبیلے کا شاخ نہ مسلم ہونے پر خوب فزور دھکر کے بعد اپنے عقائد سے کسی سمت کو قبلہ جان کر ادھر سفر منہ کرنا۔
 — تحریک (د)؛ موت؛ (د)؛ نکھنا، دستاویز، جنگ، فزیتہ، وثیقہ۔
 (۲)؛ عبادت، مضمون، لکھنے کا ڈھنگ، مضمون نگاری کا انداز، (۳)؛ خط، رقم، خط و کتابت، (۲)؛ جگہ لیکر، ہلکا نقش، (د)؛ ہلکا

تختہ : (د) مذکر، (۱) ہدیہ، سوغات، (۲) نذر، پیشکش، انعام، مجب و مزیب، اچھا، نفیس۔

تختہ پختہ : (د) موت؛ ذلیل کرنا، حقیر جانتا ہے قدری، بے عزتی۔
تختہ پختہ : (د) موت؛ حقیقت صاف کرنا، ہڈی بکھڑا کرنا، جانچ، تصدیق پانہ ثبوت کو پہنچانا، ریسرچ۔

تختہ پختہ : (د) جمع تحقیق کی، موت؛ جانچ پڑھنا۔
تختہ پختہ : (د) ضمنی، تحقیق شدہ۔

تختہ پختہ : (د) مذکر، زبردستی کی حکومت، دغا، غلبہ، زبردستی، زہادہی۔
تختہ پختہ : (د) موت؛ پہنچ جانا، حاکم بنانا۔

تختہ پختہ : (د) موت؛ (۱) اجزا کا جُدا ہونا، ٹھل جانا، لافسہ ہوجانا، (۲) علم سما کی ایک اصطلاح، (۳) مرجانا، تمام ہوجانا، ذمہ لگ جانا۔
تختہ پختہ : (د) مذکر، برداشت، سہار، بردباری، علم۔

تختہ پختہ : (د) موت؛ تعریف، تحم۔
تختہ پختہ : (د) موت؛ (۱) سپردگی، روانگی، (۲) امانت، (۳) سرمایہ، خزانہ، جمع، پانچنی، ایک نام کی رقم کو دوسرے نام کی رقم میں لے جانا۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ مذکر، (۱) خزانچی، روکڑیا، خازن۔
تختہ پختہ / **تختہ پختہ** : (د) موت؛ سلام کرنا، سلام۔

تختہ پختہ : (د) اچھا، حیرت، تعجب۔

ت

تختہ پختہ : (د)؛ مذکر، مخالفت؛ باہم مخالفت ہونا۔

تختہ پختہ : (د)؛ چوکی، بادشاہ کے بیٹے کی کرسی، (۲) دارالسلطنت، دارالخلافہ، (۳) کلاں تر، اعلا، (۴) بادشاہی، سلطنت۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ راج، شہاگ، پیش و آدام۔

— **تختہ پختہ** : بادشاہ بنانا، خان حکومت سپرد کرنا۔

— **تختہ پختہ** : (۱) دشمن، پلنگ پر جانا، چارپائی پر چرنا، سونا، آدام گھڑنا، (۲) شادی ہونا، پلنگ پر عروس کا بیٹھنا۔

— **تختہ پختہ** : بادشاہی سے کنہہ کش ہونا، سلطنت چھوڑنا۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ افسانے کے ساتھ، مذکر، ہلالہ، وہ تخت جس پر بادشاہ سٹھ ہو کر بٹھتا ہے، (۲) وہ تخت جس پر شاہیوں میں لوگ بٹھتے ہیں۔

خط برز قلم سے نقوش اور تصاویر وغیرہ پر کھینچ دینے میں مطلق نیکر، مطلق خط، (۲) گونے اطلس وغیرہ کی منفری جو کپڑوں میں سخات کے نیچے لگاتے ہیں، (۳) اقلیدس، علم اشکال، (۴) نکتے کی اُجرت، لکھائی، (۵) لکھا ہوا زشتہ، (۶) راک کی آواز کا سلسلہ، گانے کی آواز، (۷) لکھری، (۸) سرے کی لکھری۔

تختہ پختہ : (د)؛ عرض دلانا، لاپ، ترغیب، (۲) ورغلانا۔

تختہ پختہ : (د)؛ موت؛ بدل کر کچھ کا کچھ کر دینا۔

تختہ پختہ : (د)؛ موت؛ (اصطلاح)؛ (۱) ساکن کو متحرک کرنا، (۲) رغبت دلانا، اشتعال، (۳) سلسلہ جنہائی، کسی بات کی چھڑ، شروع، (۴) نزلے کی شکایت، (۵) ہوا کا چلنا، (۶) کسی گروہ کا کسی چیز کے بدلے ختم کرنے یا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، مظاہرہ کرنا، (۷) کسی مقصد کو لے کر لوگوں کو ہم نیاں بنانے کی ہم۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ سیاست، کسی ادارے میں زیر بحث مسئلے کو طوری کرنے کی تجویز۔

تختہ پختہ : (د)؛ موت؛ حرام کرنا، نماز کی نیت باندھنے وقت پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، بیکجیر تحریر۔

تختہ پختہ : (د)؛ موت؛ تعریف، آفریں، واہ وا، مرجا۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ اضافت کے ساتھ، ناواقفگی واہ واہ یاد دہ۔
تختہ پختہ : (د)؛ مذکر، ماشیہ لکھا، حاشیہ چڑھانا۔

تختہ پختہ : (د)؛ موت؛ (۱) حاصل کرنا، وصول کرنا، (۲) جمع کرنا، اکٹھا کرنا، (۳) علم سیکھنا، اکٹھا، (۴) خراج، حصول، نسخ، قاعدہ (۵) تحصیل دانگجیری۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ اضافت کے ساتھ، (۱) موجود چیز کی تلاش، (۲) بے سود بات، بے قاعدہ۔

— **تختہ پختہ** : (د)؛ مذکر، وہ سرکاری جہد دار جو زمین کی مال گذاری اہد حاصل وصول کرتا ہے، عدالت مال کا ایک جہدے دار۔

— **تختہ پختہ** : حاصل کرنا، وصول کرنا، (۲) جمع کرنا، اکٹھا کرنا، لکھنا۔

تختہ پختہ : (د)؛ مذکر، بجاؤ، مخالفت، اقیاط۔

تختہ پختہ : (د)؛ موت؛ حمدگی، خوبی، بہتری، بھلائی، فرقت۔

تختِ سلیمان / تختِ سلیمانی ، من مذکر ، صفات کے ساتھ اور تختِ جبریل حضرت سلیمانؑ پر اُٹا کرتے تھے۔

— بھولنا : کیاری میں بھولوں کا بھرت آتا۔

— تاؤت : (۵) مذکر ، وہ صندوق یا تختہ جس پر مرسے کو بٹلتے ہیں۔

— تاراج ہونا : کسی مقام کا تباہ ہونا ، ویران ہونا۔

— سیاہ : بچوں کو سکھانے کا بورڈ ، بلیک بورڈ۔

— مشق : (۶) مذکر ؛ درکوں کے مشق کرنے کی صفت ، (۲) درجاء ،

وہ ہر چیز بہت استعمال میں آئے۔

تختہ ہوجانا ، بدن کا اگڑا جانا ، جکڑ جانا ، سخت ہوجانا۔

تختے کے تختے سیاہ کرنا ، درقوں پر بہت کلمہ لکھنا۔

تختی ، موت ؛ (۱) چھوٹا تختہ ، (۲) لوح ، جس پر لڑکے لکھنے کی مشق کرتے

ہیں ، (۳) وہ لوح جس پر دعائیں اور نعرے کندہ کر کے گلے میں

پہنتے ہیں ، (۴) سینہ ، کمر اور بازو ، (۵) چھب ، جسم کا انداز ،

جسم کی وضع ، (۶) حرقوں اور لفظوں کی مشق۔

تخریب : (۱) مذکر ، (تائید گوئیوں کی اصلاح) ، مادہ خارج کی زیادتی کسی

حرف ، لفظ یا فقرے کے اعداد گھٹا کر ٹیک کرنا۔

تخریب : (۱) موت ؛ خرابی ، ویرانی ، تباہی ، بربادی۔

تخریب : (۱) موت ؛ نکالنا ، خارج کرنا۔

تخصیص : (۱) موت ؛ خصوصیت۔

تخفیف : (۱) موت ؛ (۲) کمی ، (۳) اعتدال (۴) افادہ ، آرام۔

تصدیق : (۱) صحیح خراشی معات (۲) ملاقات کے بعد نصرت

ہونے کی اجازت کا کلمہ۔

— کا قلم جاری کرنا : تخفیف کا عام حکم جاری کرنا۔

— کرنا : کمی کرنا ، گھٹانا ، خرابی کم کرنا۔

— میں آنا : (ملازم کا) ؛ برخواست ہونا۔

تخلص : (۱) مذکر ، ایک مختصر نام جس کو شاعر نظم میں اصلی نام کی

جگہ استعمال کرتے ہیں۔

تخلّف : (۱) مذکر ، ودمہ خانی کرنا۔

تخلیق کار : (مذکر) ؛ وہ پیدا کرنے والا ، (۲) خالق ، (۳) خدا (۴) صنعت ،

فن کار ، (شاعر) ، (مختر) ، (مصور) وغیرہ۔

تخلیقِ آدب : (۱) مذکر ، وہ آدب جو لکھنے والے کی ذہنی

اُفک کا نتیجہ ہو۔

— طاؤس / طاوسی : (۱) مذکر ، صفات کے ساتھ اس تخت کا نام جسے

شاہ جہاں بادشاہ نے بنوایا تھا ، اس پر ایک مربع مور ہنک

پھیلائے کھڑا تھا۔

— کا تختہ ہوجانا : تخت شاہی کا ٹٹ کر تختہ ہوجانا ، بادشاہی

جاتی رہنا ، سلطنت تباہ ہوجانا۔

— کی رات : موت ؛ بیاہ کی رات ، شبِ زفاف۔

— گاہ : (۱) موت ؛ دارالافتاء ، حکومت کا صدر مقام۔

— نشپیں : (۱) تخت سلطنت پر بیٹھے والا ، بادشاہ۔

— نشپنی : (۱) موت ؛ تخت سلطنت پر بیٹھے کی رسم۔

— و تاج : (۱) ملک و سلطنت۔

— یا تختہ : (۱) شل و کھسیابی یا موت۔

تختہ : (۱) مذکر ، (۲) شہزادہ ، گدڑی کا چوڑا ، چرا ہوا کھوا (۳) لوح ، تختی ،

(۴) کاغذ کا ٹٹ ، (۵) جہاز کی گدڑی کا ہر ایک کھوا ، (۶) چوکی ،

لمبی تپائی ، (۷) ہموار چوڑا ، (۸) قطعہ زمین ، زمین کا کوئی حصہ ،

(۹) وہ گدڑی کی تپائی جس پر مرسے کو بٹلاتے ہیں ، (۱۰) بورڈ

اشتبہار لکھنے یا طلباء کو سکھانے کا سطح گدڑی کا کھوا ، تختہ سیاہ ،

(۱۱) چمن ، کیاری ، کیمت ، باغ کا چھوٹا سا کھوا ، (۱۲) تاؤت۔

(۱۳) وہ کاغذ یا گدڑی کا مربع کھوا جس پر شرط لکھتے ہیں۔

— اللّٰہا ، آباد جگہ کا تہ وبالا ہوجانا ، شہر کا آباد جانا ، (۱۴) آباد جگہ کو

ویران کر دینا ، تختہ لٹ دینا ، (حکومت کا) حکومت بدل دینا ،

حکومت تباہ کر دینا۔

— اَوَّل : (۱) (۲) دکھائی ، لوح محفوظ ، (۳) گدڑی کی تختی جس پر اہل

بے نکتے کی مشق کرتے کراتے ہیں۔

— پُتد : (۱) عیش ، قید (۲) جوس ، قیدی (۳) وہ گدڑی کے

پٹھے اور کپڑے کی پٹی جو ٹٹے ہونے سے بچانے پر لگاتے ہیں۔

— بندی کرنا : (۱) گدڑی کے تختوں کا فرش یا تختوں کی دیوار بنانا ،

(۲) کیاریوں کا ہلتریزہ اور خوش اسلوب کرنا۔

— پُک : مذکر ، کواڑی وضع کا گدڑی کے تختوں کا پک ، جو قلعے کی مدد

پر آنے جانے کے لیے بنا دیتے تھے ، اسے جب چاہتے تھے کھینچ

دوران ، (۳) خیال ، منصوبہ ، فکر ، اندیشہ ، غور ، تامل ، (۴) کوشش (۵) تجویز۔
 تدبیر پیش جانا : تدبیر کارگر ہونا ، با اثر ہونا۔
 — چلنا : تدبیر کارگر ہونا۔
 — کھنڈ بٹنڈہ ، تقدیر کھنڈ خنڈہ : (شل) ؛ انسان تدبیر کرتا ہے۔
 قیمت ہستی ہے۔

— لڑانا : ترکیب نکالنا ، منکوم لگانا۔

تدریج : (د) موث ؛ درجہ بدرجہ ، تھوڑا تھوڑا ، آہستہ آہستہ۔

تدریجیت : (د) موث ؛ درجہ بدرجہ ہونے کی خاصیت۔

تدریس : (د) ؛ موث ؛ قدس دینا ، تعلیم ، پڑھائی۔

تدریس : (د) ؛ موث ؛ دفن کرنا۔

تدریق : (د) ؛ موث ؛ غور ، فکر ، باریک بات پیدا کرنا۔

تدریق : (د) ؛ موث ؛ جمع کرنا ، مرقب کرنا۔

تدرین : (د) ؛ مذکر ، دین داری ، دیانت داری۔

تذ

تذکرہ : (د) ؛ مذکر ، شک و شبہ ، تردّد ہونا۔

تذکار : (د) ؛ مذکر ، بیان۔

تذکرہ : (د) ؛ مذکر ، مذکور ، یادداشت ، بیان ، یادگار (۲) چرچا ،

الفاظ ، (۳) واقعات کی تاریخ ، سرگذشت ، سوانح عمری۔

(۴) وہ کتاب جس میں شعراء کا حال لکھا جائے۔

تذکرہ چلنا ، ذکر ہونا۔

— چھڑنا : ذکر شروع کرنا۔

تذکرہ : (د) ؛ مذکر ، موث ؛ مذکر ہونا ، مرد ہونا۔

تذلیل : (د) ؛ موث ؛ کسی کو ذلیل کرنا ، رسوا کرنا ، غوار کرنا۔

تذ

تذ

(۱) نم ، گیلا ، بھیگا ہوا ، (۲) تازہ ، نیا ، سبز ، آب دار ،

(۳) ہرا ، رسیلا ، (۴) نرم ، ملائم (۵) ڈھیلا ، کشادہ ، فراخ ،

تخلیق عمل : (د) ؛ مذکر ، (۱) پیدائشی مرحلہ ، (۲) خیال یا جذبے کا وہ عمل جو کسی فن پارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

تخلیہ : (د) ؛ مذکر ، (۱) فلوت ، تنہائی ، (۲) غالی کر دینا۔

تخم : (د) ؛ مذکر ، (۱) بیج ، (۲) بیضہ ، انڈا (۳) گھٹل (۴) اولاد ، نسل ، نطفہ۔

— بید : (د) ؛ برامل ، بد ذات ، حرامی۔

— باشی : (د) ؛ موث ؛ بیج چرکنا۔

— تاپہر صحبت اثر : (مقول) ؛ نطفے اور پاس بیٹھے اٹھنے کا اثر

فرد ہوتا ہے

تذکرہ : (د) ؛ مذکر ، بدبھی یا ایک قسم کی نئے جو بدبھی کے باعث ہو۔

تذخمی : بیج سے پیدا ہونے والا ذرت یا پھل جو تھمی نہ ہو (آم کے لیے استعمال ہے)۔

تذخیمنا : (د) ؛ اعلیٰ ، اہل سے ، قرب قرب ، تقریباً ، کم دیش۔

تذخیمہ : (د) ؛ اعلیٰ ، قیاس ، اندازہ ، سرسری حساب۔

تذخولف : (د) ؛ موث ؛ خوف دلانا ، ڈر ، دھکی۔

تذخیل : (د) ؛ موث ؛ نیال۔

تذخیلیت : (د) ؛ موث ؛ وہ طریق فکر جس میں تخیل سے زیادہ

کام لیا گیا ہو ، یا جس کی بنیاد تخیل پر ہو ، تصویریت۔

تذخیل : (د) ؛ نیال کرنا۔

تذ

تذکرہ : (د) ؛ موث ؛ دکھنہ ؛ مذکر ، جمع تدبیر کی۔

تذخل : (د) ؛ (۱) ایک دوسرے میں داخل ہونا ، (۲) مذکر ، (۳) اسٹاپ

ملب ، وہ بدبھی جو مختلف چیزوں کے تلے اوپر کھاتے سے ہوتی ہے۔

تذخل موصوم : ایک موتم تقریباً نعم ہو دوسرا شروع۔

تذکرہ : (د) ؛ مذکر ؛ مدک حمام ، انتظام ، علاج ، برائتظامی وہ

کرنا ، سریش۔

تذکرہ : (د) ؛ مذکر ، عاقبت اندیشی ، آل کار پر غور کرنا ، تدبیر

کرنا۔

تذکرہ : (د) ؛ کسی کام کی ابتدا اور انتہا سوچنا (۲) علاج ، چارہ ،

کائے کا ڈھنگ، تراشنے کا انداز، (۳) انجرا، ایجاباد ،
(۴) قطع وضع، آرایش، آراستگی، بناؤ سنگار۔
تراش خراش : (د) ؛ موتھ ، قطع برید ، قطع طریق، طرز انداز،
زرب وزرنت ۔
خراش بکالنا : (د) نیا انداز نکالنا ، نئی وضع نکالنا ، زرب وزرنت
کا نیا طریق نکالنا ۔

تراشنا : (د) کاٹنا، کترنا، چھانٹنا، چیلنا ، (۲) قطع کرنا، قلم کرنا، کاٹ
کر صورت گھڑنا ، (۳) قاش اٹکانا ، (۴) مؤنڈنا ، چھامت بنانا ۔
تراشہ : (د) مذکر ، (د) چھیلن ، کزن ، کسی چیز کے تراشنے سے جو
چھوٹا یا چھلکا کھلے ، (۲) ایک فولادی اونار جس سے سنگ تراش
پتھر تراشتے ہیں ، (۳) کسی اخبار سے کوئی خاص مضمون یا چیز کا
کاٹا ہوا ٹکڑا ۔

تراضی : (د) ؛ موتھ ؛ باہم راضی ہونا ، خوش ہونا ۔
تراضی طرفین : دونوں فریقوں کا راضی ہونا
ترکیب : (د) ؛ موتھ ؛ مذکر ، جمع ترکیب کی ۔
ترانا : پیرانا ، اُجمانا ، ڈوبتے کو نکالنا ، گناہوں سے بچانا ۔
ترانوسے : ترے اور تین ، ۹۳ ۔

ترانہ : (د) ؛ مذکر ، (د) ، نمر ، راگ ، (۲) ایک خاص قسم کا گیت ،
ایک خاص نئے یا سُر ۔
ترانہ پر دواز / ترانہ سر / ترانہ زن / ترانہ سنج / ترانہ ریز / ترانہ ساز :
(د) ، ترانہ گانے والا ، راگ گانے والا ۔

تراوت / تراوت : (د) ؛ موتھ ؛ ؛ تازگی ، ٹھنڈک ۔
تراوش : (د) ؛ موتھ ؛ ؛ (۱) ہٹاؤ (۲) اشارے کنسلیے یا انداز سے
ظاہر ہونا ۔

پانا : ظاہر ہونا ، چھلکانا ۔
گرننا ، اشارے کنسلیے یا انداز سے پایا جانا ۔
ہونا : (د) ؛ چھلکانا ، ظاہر ہونا ، (۲) انداز سے پایا جانا ۔
تراویح : (د) ؛ جمع تردیح کی ؛ موتھ ؛ ؛ اصطلاح فقہ نماز نفل کی
وہ آٹھ یا بیس رکعتیں جو رمضان میں عشا کی نماز کے بعد اور
دوسرے پہلے پڑھی جاتی ہیں ۔

تراجا : مذکر ؛ وہ مقام جہاں عین راستے ملیں ۔

کھلا ہوا ، (۶) زیادہ ، افزود ، بڑھا ہوا ، (۷) چھلکا ، گھی
چھلکا ہوا ، (۸) دو تھند ، مالدار ، خوش حال ، (۹) آلودہ ، بھرا
ہوا ، (۱۰) خوش ، عمدہ ، (۱۱) پُر لعلت ۔
تربتر : (د) ؛ (۱) شراہور (۲) گھی چھلکا ہوا ، پسینا چھلکا ہوا ، پانی
چھلکا ہوا ۔

دامن : دکھائیٹا ؛ بند ، مجرم ، بدکار ، گنہگار ۔
دامنی : (د) ؛ موتھ ؛ گناہ گاری ، بندی ۔
دماغ ہودہ : عقل مند ، صاحب شعور ، مسرور ، مست ۔
زبان : (د) ؛ (د) ؛ وضع ، خوش بیان ، ترجمان ۔
نغمہ / نغمہ نوالے / ترمال : مذکر ، (د) عمدہ غذائیں ، لپتھے کھانے ،
(۲) دکھائیٹا ، بلاغت حاصل کی ہوئی اچھی روزی ۔

وتازہ : (د) ؛ ڈال کا ٹوٹا وہ پہل جو ابھی اُترا ہو ، (۲) با
دوق ، آب دار ، سرخ سفید ، (۳) سرسبز ، شاداب ، ہر ابھرا ۔
وخشک زمانہ : مذکر ، دنیا کا نشیب و فراز ۔

ہونا : ہبگ جانا ۔
توری : (د) ؛ موتھ ؛ (۱) رطوبت ، سپل ، (۲) سمندر ۔
تر : مذکر ، (د) وہ کلاڑی جس پر جلسے پر لڑائیں کر لیتے ہیں ، (۲) وہ
بیلن جس پر گونا گونا ری پینا جاتا ہے ۔

تراب : (د) ؛ موتھ ؛ بیتی ، زمین ، خاک ۔
تراجم : (د) ؛ مذکر ، جمع ترجمہ کی ۔
ترازا : مذکر ، (د) گھوڑے کی بست ، کھانچ ، چھلانگ ، (۲) تیسری ،
چستی بھرتی ، ڈینگ ، شیشی ، گپ ، (۳) نشہ ، سُرد ، ترنگ ۔
(۵) یزر قاری ۔

ترازا / ترازا سے بھرتا : (د) ؛ رخنہ مارنا ، تیز دوڑنا ، چھلانگیں مارنا ،
(۲) کھڑے ہونا ، نہایت مشاق ہونا ، جلدی کوئی کام کرنا ۔
مارنا : ڈینگ ملنا ، گپ ہانکنا ، شیشی کرنا ، بڑائی کی لینا ۔
ترازو : (د) ؛ موتھ ؛ (د) وزن کو نئے کا آکر ، (۲) جمع میزان ۔
ترازوئے عدل : (د) ؛ موتھ ؛ (د) وہ ترازو جس کے دونوں پتے
برابر ہوں کوئی آؤ بچانا جو ، (۲) پھلا پڑا اخصاص ۔

تراسی : اسی اہدین ، ۸۲ ۔
تراش : (د) ؛ موتھ ؛ ؛ کٹاؤ ، کاٹ چھانٹ ، کترنیت ، (۳)

تُرْتِب : شتاب ، جلد ، فوراً ، ابھی ، بحث پٹ ۔
تُرْتِرَا : مُذَكَّرٌ تِيزٌ ، چالاک ، بہت باتیں بنانے والا ، چرب زبان ۔

تُرْتِرَاتَا : مُذَكَّرٌ ، مگھی میں ڈڈبا ہوا ، چُزْب ، وہ کھانا جس سے مگھی پکاتا ہو۔
تُرْتِرَاتِيَا : (۱) تُرْتِرِيَا ، لمبا بھل (۲) طَرَار ، تِيز ، چالاک ، (۳) چُزْبِ زَبَان ، جلد باتیں کرنے والا ، فَرَفَر بولنے والا ، باتوئی ۔

تُرْتِيب : (ر) مَوْتٌ ؛ کسی معترضہ سلسلے سے رکھنا ، ٹھکانے سے رکھنا ، درجہ بدرجہ شیک رکھنا ، آراستگی ، درستی ، انتظام ، سلسلہ ۔
 — سے / تَرْتِيبِ وَار : تَرْتِيبِ سے ، ڈھنگ سے ، درجہ بدرجہ ، سلسلے وار ۔

تُرْتِيبِل : (ر) مَوْتٌ ؛ قرآنِ شریف کے حروف کو حارج سے ادا کرنا ، صاف صاف ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ۔

تُرْتِيبَانَا : (۱) پانی کے اُور پر آنا ، (۲) نام آور ہونا ، کسی فعل کی وجہ سے نیک نام ہونا ، نواب کا کام کر کے نجات حاصل کرنا ، (۳) ملا مال ہو جانا ، (۴) تَرْتِيبِ مالي پانا ۔

تُرْتِيبَان : (۱) فصیح ، تیز زبان ، خوش تقریر ، وہ شخص جو ایک زبان کا مطلب دوسری زبان میں بتائے ، (۲) مُذَكَّرٌ ، مترجم ، شارح ، مُفْتِيز ۔
تُرْتِيبَانِي : (د) مَوْتٌ ؛ کسی کے خیالات کا اپنے لفظوں میں اظہار کرنا ۔

تُرْتِيبِجِه : (ر) مُذَكَّرٌ ، ایک زبان سے دوسری زبان میں بیان کیا جھوٹا ۔
تُرْتِيبِجِج : (ر) مَوْتٌ ؛ فُوقِيَّت ، فضیلت ۔
 — بِلَا مُرْتِيبِجِج : فضیلت دینا بغیر کسی سبب کے ۔

تُرْتِيبِجِج : (ر) مَوْتٌ ؛ مُعِيْبِيَّت میں اِنَا لِللّٰهِ دُوَانَا اِلَيْهِ رَا بَعُوْنَ ، کہنا ، پھرنا ، بازگشت ، رجوع کرنا ، کسی کی طرف متوجہ ہونا ۔

— **بِجِهْد** : (د) مُذَكَّرٌ ؛ (اصطلاح شعرا) جب شاعر چند ایسے بند کہے جو بحر میں موافق اور قافیہ میں مختلف ہوں ، اور ہر بند کے بعد ایک ایسی وزن اور مختلف قافیہ کی معین بیت اسی طرح بلد بار لائے کہ یہ بیت ہر بند کی بہت آفر کے مضمون سے مربوط ہو۔

تُرْتِيبِجِيَا : مُذَكَّرٌ ، (۱) بِيْضَا ، آرا ، بِيْضَا ، کج (۲) کُنَا يَتَا ، ناغوش ، خفتے سے بھرا جھڑا ، (۳) خَالِج ، مُتَوَرَّت ۔

— **بِيْضَا** : مُذَكَّرٌ ، ترچھا ہونا ، ہانپین ۔
تُرْتِيبِيَا : مَوْتٌ ، کسی چیز کی کمی ۔

تُرْتِيبِجِيَا : مُذَكَّرٌ ، پکارنا / ترہا ترہا ہونا ؛ پانی اہ ہر چیز کے قتل کی فریاد اور داد پلٹنا ۔

تُرْتِيبِيَا : مَوْتٌ ؛ نم ناک زمین ، وہ زمین جو ہدیا یا ندی کے قریب ہو ، غریب زمین ، چرنے کی جگہ ۔

تُرْتِيبِيَا : مَوْتٌ ؛ مَوْتٌ ؛ مزار ، قبر ۔
تُرْتِيبِيَا : (د) ؛ مَوْتٌ ؛ ایک دست اور دو ۔

تُرْتِيبِيَا : (د) ، مُذَكَّرٌ ، ایک مشہور پہل جس کے اندر سے سینھا اور شرع گودا نکلتا ہے ۔

تُرْتِيبِيَا : (ر) مَوْتٌ ؛ (۱) پَرُوْش ، پروافت ، (۲) تَعْلِيْم ، تادیب ۔
 تَعْلِيْمِ اِنْفَاقِ وَ تَهْنِيبِ ۔
 — **پَنْدِر** : (د) تَرْتِيبِتِ كِے لَاقِ ۔

— **کَرْنَا** ؛ پانا ، پَرُوْشِ كَرْنَا ، (۲) تَعْلِيْمِ كَرْنَا ، سکھانا ۔
تُرْتِيبِيَا : مَوْتٌ ؛ (۱) وہ جگہ جہاں مین دریا ملیں (۲) الا آباد کا وہ حصہ جہاں گنگا ، جمن ، سرسوتی ملتی ہیں ۔

تُرْتِيبِيَا : تَرْتِيبِجِج ، جھکا ہوا ۔
تُرْتِيبِيَا : (د) ؛ (۱) تَرْتِيبِجِج ؛ مُذَكَّرٌ ، اسی سواروں کی جماعت ، رسلہ کا آٹھوں حصہ ۔

تُرْتِيبِيَا : تاش کا خاص اہمیت کا پتا ۔
 — **کَا پَنَچَا** ؛ (جھاڑ) ؛ کوئی فیصلہ کن بات جو راز میں رکھی گئی ہو اور میں وقت پر رکھی جائے ۔

تُرْتِيبِيَا ، مُذَكَّرٌ ، رال چڑھایا ہوا ٹاٹ ۔
تُرْتِيبِيَا ؛ تَرْتِيبِيَا کا مستعدی ۔

تُرْتِيبِيَا ؛ تَرْتِيبِيَا ؛ چھپی یا سنجھ کے اُور کی سپہوں ۔
تُرْتِيبِيَا ؛ مَوْتٌ ؛ ایک قسم کی رسانی جو اکثر گناہ پر کوہنوں دہانے کے لیے ہی جاتی ہے ۔

تُرْتِيبِيَا ؛ تَرْتِيبِيَا ؛ دبا کر سینا ، سپہوں پر ایک اور رسانی کرنا ؛ کپڑے کے ہرے کو موڑ کر سینا ۔

تُرْتِيبِيَا ؛ مُذَكَّرٌ ، سدا ، مین بڑے دد جو بانار کے شروع میں بنائے جاتے ہیں ۔
تُرْتِيبِيَا ؛ مُذَكَّرٌ ، بِيْضَا ، آرا ، (۲) مُذَكَّرٌ ؛ تَرْتِيبِيَا کا چارہ ۔

ترجمی آنکھ / ترجمی نظر / ترجمی نگاہ : (۱) نظرِ قہر ، نگاہِ غضب ، (۲) نگاہِ تازہ
مشرقاً نہ اطلال سے دیکھنا ، (۳) کُن آنکھوں سے دیکھنا۔

ترجم : (ع) مذکر ، رم ، مہربانی ، ترس۔

ترجمنا : فضاٹ ہو جانا ، پھٹ جانا۔

ترجمی : (ع) موٹ ، رخصت ، اجازت۔

ترجمد : (ع) ؛ مذکر ، اُدھڑن ، سوچ ، فکر ، تپش ، اندیشہ ، پس و پیش۔

ترجمدات : جمع ترجمد کی ؛ مذکر ، بکریں۔

ترجمد : (ع) موٹ ؛ کسی بات کا زد کرنا ، کسی بات کا جواب دینا ،
پھر دینا ، جواب۔

ترس : (ع) مذکر ، موت۔

ترسا : (ع) ، صفت ، ڈرنے والا ، موت کھانے والا ، (۲) ،

نمرانی ، آتش پرست۔

ترسال : (ع) خوفزدہ ، ڈرتا ہوا۔

_____ آنا / ترس کھانا : رم آنا ، رم کھانا۔

ترسا ترسا کے دینا : لچکا لچکا کر دینا ، خواہش سے کم دینا ، تھوڑا
تھوڑا دینا۔

_____ کے مارنا : پھڑکا پھڑکا کے مارنا ، بڑی حکیمت سے مارنا۔

ترستا / ترس جانا : خواہش مند ہونا ، کسی چیز کا بھوکا ہونا ، دیدہ
ہونا۔ ایسی چیز کی امید باندھنا جو ہاتھ نہ آسکے ، بہت مشتاق

رہنا ، پھڑکنا ، سبے چین ہونا۔

ترسا مارنا ، تڑپانا ، بے چین کرنا۔

ترسانا : (ع) ؛ لٹھانا ، خواہش دلانا (۲) امید دار رکھ کے نہ دینا ،
خواہش سے کم دینا ، ضرورت کے موافق نہ دینا۔

ترستھ : ساٹھ اور تین ، ۶۳ ، ترستھ۔

ترسول / ترسول : مذکر ، (۱) ہندستان کا ایک قدیم ہتھیار ، اُس
میں تین شاخیں ہوتی ہیں ، (۲) ، لوہے کا تین شاخا نشان ہے

بعض سادھو ہاتھ میں رکھتے ہیں۔

_____ کیچنچنا : ترسول کا نشان پیشانی پر مٹانا۔

ترسپل : (ع) ؛ موٹ ؛ (۱) روانہ کرنا ، بھیجنا ، ارسال کرنا ، (۲)
(ادبی اصطلاح) ، تخلیق کا وہ عمل جس سے اس کے مفہوم تک

رسائی ہو سکے۔

ترش : (ع) ؛ کٹھا ، (۲) ناخوش ، ناراض ، بے دماغ۔

_____ ابرو / ترش رو : (ع) ، بد مزاج ، بد خوا ، چوڑھا۔

_____ ہونا : (۱) کٹھا ہونا ، (۲) رنجیدہ ہو جانا ، برم ہونا۔

ترشی : (ع) ، موٹ ؛ (۱) کٹھا ، کٹھا ، (۲) ناخوش ، بد مزگی۔

ترشا جانا : (ع) ؛ کٹھا ہو جانا ، کٹھا آ جانا۔

ترشیانی : (ع) ؛ موٹ ؛ (ع) ؛ ترشی ، کٹھا ۔

ترشح : (ع) ؛ مذکر ، موٹ ؛ (۱) نغمی نغمی پھوار ، تھوڑی بارش ، (۲) ،

ٹپکنا ، جھلکنا ، ظاہر ، حیاں۔

ترشح ہونا : (۱) نغمی نغمی پھوار پڑنا ، (۲) ظاہر ہونا ، پایا جانا۔

ترشن : مذکر ، ترشا ، چیلن ، لکڑی کے پھیلنے سے جو کچھ نکلے۔

ترشٹنا : چاقو یا پھری سے کٹنا ، قلم ہونا۔

ترشوانا : کٹوانا ، قلم کرانا۔

ترشیج : (ع) ؛ موٹ ؛ دیکھو۔ ترشیج۔

ترشیج : (ع) ؛ موٹ ؛ (۱) نظم و نثر کی ایک صنعت ، (۲) دو فقروں

کے سب کلمات کا ایک دوسرے کے مقابل بالترتیب متحد

الوزن و متحد القوافی ہونا۔

_____ کار : (ع) ؛ ؛ بچھنے بڑھنے والا ، جوہری ، فنکار۔

ترغیب : (ع) ؛ موٹ ؛ رغبت دلانا ، لالچ دلانا ، شوق ، فریبی ،
کسی کام کرنے پر اکادہ کرنا۔

ترغیج : (ع) ؛ مذکر ، (ع) ؛ غور ، بھجڑ۔

ترغیج : (ع) ؛ مذکر ؛ دولت مندی ، آسودگی۔

ترغیجنا : شوق کرنا۔

ترغیجنا : پھٹنا ، شوق ہونا۔

ترغیجی : موٹ ؛ بلندی ، تری ، افزائش ، زیادتی ، اضافہ۔

_____ پانا : ہمد بردھنا ، درجہ بردھنا۔

_____ پذیر : بڑھنے والا۔

_____ پکڑنا : زیادہ ہو جانا۔

_____ خواہ : دعا گو ، بھلائی چاہنے والا۔

_____ درشا : تنخواہ بردھانا ، درجہ بردھانا ، مرتبہ بردھانا۔

ترقیم : (ع) ؛ موٹ ؛ کٹھا ، تحریر کرنا۔

ترکی بہ ترکی جواب دینا : میساکونی کہے ویسا ہی جواب دینا۔
کڑا جواب دینا۔

تمام ہوتا : گھنڈ جاتا رہنا ، فرور ڈھنا ، گھنڈ بھلنا ، خاتمہ ہونا۔
کچھ باقی نہ رہنا ، ساری بہادی اور سپاہ گری بھل جانا۔

ترک کپب : (۱) کئی چیزوں کو ملا کر مرکب کرنا ، بناوٹ ، ساخت ؛
(۲) ڈھب ، طور ، ڈھنگ ، انداز پر (۳) کسی چیز کے بنانے

یا تیار کرنے کا کوئی خاص طریقہ ، (۴) دھلم ٹھوکی ٹیکہ اصلاح)۔
پیشہ : مذکر ، ظلم کی ایک صفت جس میں ہر بند کا آخیزی
شہر جدا گانہ ہوتا ہے۔

دینا ، بلانا ، بنانا ، مختلف دوا میں ملا کر خاص مزاج
پیدا کرنا۔

سے چلنا : کفایت شکاری سے گذر کرنا ، ڈھنگ سے چلنا ،
ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا۔

کرنا : (۱) مرکب کرنا ، بلانا ، (۲) تدبیر کرنا ، صحت نکالنا ،
جوہر کرنا ، (۳) ایک نحوی اصطلاح ، (۴) بندوبست کرنا ،
انتظام کرنا۔

بھلنا : ڈھنگ بھلنا ، وضع بھلنا۔

ترک لوگ : مذکر ، وہ آسمان ، زمین ، زمین کے نیچے کا طبقہ (۲) نکل عالم۔
ترک م : مذکر ، تڑی ، منہ سے بجانے کا آلہ جس سے فوج میں قواعد
کا حکم سنایا جاتا ہے۔

کی سلامی : سلامی جو بھل بجا کر دی جاتی ہے۔

ترک خاں : مذکر ، دکھائی ، شیشی باز ، ڈھنگ مارنے والا۔

ترک مرے : مذکر ، وہ چکائی جو پانی کے اوپر متفرق ہونے کی ترقی
ہے ، (۲) تشبیہ ؛ وہ ذرے جو دائمی مدد سے آنکھوں
کے آگے نظر آتے ہیں۔

ترک مہم : (۱) موت ؛ دستی ، حرکت ، اصلاح ، (۲) (قانون)
تبدیلی ، تقرر ، نظر ثانی۔

ترک مہم : (۱) موت ؛ کاٹ چھانٹ ، رد و بدل۔

ترکونا : (۱) پانی کے اوپر آنا ، (۲) کسی چیز کا خیرنا۔

ترک نیت : (۱) ؛ فدا ، بخل۔

ترک نیت : (۱) ؛ مذکر ، (۲) ایک قسم کا بڑا نیبڑ (۲) بڑا ہونا جو درشلے

ترکیمہ (ترقی ما) : (۱) مذکر ، کتاب کے خاتمے کے بعد کئی مثنی عبارت
جس میں کاتب اور مصنف کا نام اور سن کتابت وغیرہ لکھا ہو۔

ترک : (۱) ؛ مذکر۔ بھول چوک ، سہو ، فرود گذشت ، دست بردار
(۲) موت ؛ (جہاز) ؛ وہ لفظ یا عبارت ، جو لکھنے سے رہ جائے۔

اور چھاپنے پر لکھ دی جائے ، وہ کلمہ جو صفت اول کے آخر میں
اور پھر صفت دوم کی پہلی سطر کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے۔

ادب : مذکر ، مستافی ، بد تہذیبی۔

اؤٹے : اس فعل کا ترک جس کا کرنا افضل ہے۔

حیوانات : گوشت ، پھلی ، وغیرہ جان دار چیزیں کھانا چھوڑ
دینا ، سبزی خورد ہونا۔

کرنا : چھوڑ دینا۔

موالات : (۱) مذکر ، (۲) عدم تعاون ، (۳) احتجاج کے
طور پر ، بدیسی مال کے بانی کاٹ کی تحریک ، (۴) (انگ) ؛

بانی کاٹ۔

ترک : (۱) ؛ ترکستان کے باشندے (۲) وہ قوم جو خاص
تاتار میں آباد ہے ، (۳) (جہاز) مشوق ، (۴) سپاہی۔

ترک تازی : (۱) موت ؛ حملہ ، تاخت ، تاریخ ، لوٹ مار۔
ترکستان : (۱) ؛ مذکر ، ترکوں کا ملک۔

ترکمان : (۱) ؛ مذکر ، ترکوں کا ایک فرقہ۔

ترکاری : موت ؛ ساگ پات ، سبزی۔

ترکاری بنانا ، ترکاری کو پھیل کاٹ کر پھلنے کے لائق کرنا۔

ترکش : (۱) ؛ مذکر ، تپروں کے کھنے کا قول ، تپروان۔

ترکم ترکوگا : (۱) ؛ موت ؛ ؛ آج بچ ؛ جھدائی ، ملنا جھلنا موقوف
کردینا۔

ترک : (۱) ؛ مذکر ، مردے کی ہایدو مال ، متروک ، ورثہ۔

بھٹنا : موتی کی چیز نشت ، جاننا ، مال واسباب وغیرہ
کا حق داروں کو تقسیم ہونا۔

ترک پدیری : باپ کا چھوڑا ہوا مال۔

ترکی : (۱) ؛ موت ؛ (۲) ترکستان کی زبان ، ترکوں کی بولی ،
(۳) مذکر ، ترکستان کے کھیت سا گھڑا ، ایک قسم کا گھوڑا ، (۴)

مراغی ، (۵) دکھائی ، مغز ، غصت ، (۶) ترکستان کا باشندہ۔

ت

چاند یا قبا پر شیم یا کلاہوں سے کلاہا جاتے۔
 تڑبجین: موٹ (۱) ایک قسم کی شکر جو آسان میں اکثر اڈٹ کلسے
 کے کاٹوں پر شیم کی طرح بزرگیم جاتی ہے۔

تڑنگ: (د) موٹ؛ ساز کے بچے کی آواز۔
 تڑنگ: (د) موٹ؛ (د) لہریج، انگ، بوش طبع، نٹے کی
 حرکت، دھیان، (د) تھلی، لات، وگنات۔

تڑنا: بوش پیدا ہونا، حوصلہ ہونا۔

تڑنم: (د) مذکر، گانا، موسیقیت، آواز کا خوش گوار اُتار پر لھاؤ۔

تڑوچ: (د) موٹ، دواج، شہرت۔

تڑپانا: دواج پانا، شہرت پانا۔

تڑویدی: مذکر، وہ برہمی جس نے تین وید پرشے ہوں، برہمنوں
 کی ایک گوت۔

تڑو تڑو کرنا: فریاد کرنا۔

تڑوڑی / تڑوڑی: موٹ؛ ایک قسم کا بھل۔

تڑوڑی: تڑوڑی، بھانے والا۔

تڑوڑی: موٹ؛ (د) ایک ترکاری کا نام، (د) بھل۔

تڑوڑی آواز: تڑوڑی اور مدینے: (دعا) تیری آواز مبارک اور معمول
 ہو، تیری شہرت دُور دُور ہو۔

تڑوڑیا: موٹ؛ حدت۔

تڑوڑیا / تڑوڑیا: مذکر، حمد توں کی چال / حمد توں کے مکرو فریب،
 حمد توں کی چال بازی۔

تڑوڑیا: مذکر، حمد توں کی حکومت، حمد توں کا زور۔

تڑوڑیا: حمد توں کی آڈ، حمد توں کی فہم۔

تڑوڑیا / تڑوڑیا: مذکر، (د) زہر جروہ، زہر کا ٹوڑ، (د)
 دکھائی، اغم۔

تڑوڑی بری: پریشان، منتشر، جُدا جُدا۔

تڑوڑیا: مذکر، ہانی کا دھارا باندھ کر ڈالنا، دواؤں میں بوش کیا ہے
 پانی کسی صنوبر دھار باندھ کر ڈالنا، (د) کسی صنوبر خواست آلود
 یا جس کپڑے پر بعد از انہ خواست زور سے پانی ڈالنا۔

تڑوڑیا: دھار باندھ کر پانی ڈالنا۔

تڑوڑی: مذکر، تھپڑ کی آواز، چٹاخ، صدر یا ضرب کی آواز۔

تڑوڑی: کٹنا سے، بے باکی سے، فدا۔

تڑوڑی: موٹ؛ (د) جلدی، گھبراہٹ، بے کلی (د) موت کی
 گرم بازار جی، پہے دڑپے کرنا۔

تڑوڑی / تڑوڑی: جلد جلد، فدا۔

تڑوڑی: (د) موٹ؛ متواتر آواز، (د) تار مارنے کی آواز، لکڑی
 سے مارنے کی آواز، بڑی بڑی بوندوں کی آواز جو مستقل
 برسنے سے پیدا ہوتی ہے، جوتوں کی مار کی آواز، زور کا
 کڑا کا، پٹا کا۔

تڑوڑی: جواب دینا، جلد جلد جواب دینا۔

تڑوڑی: موٹ؛ کسی سخت چیز کے ٹٹنے کی آواز، چٹاخ، جھٹے
 یا تھپڑ مارنے کی آواز۔

تڑوڑی: (د) جلد، فوراً، جلد جلد، پہے در پہے، متواتر، برابر
 (د) ٹپٹلا، شوخ مزاج، طرار (د) ٹٹنے کی آواز، چٹاخ، چٹاخ،
 بے باکار لنگو، سخت کلامی، تھرتی سے کوئی کام کرنا۔

تڑوڑی: دیکھو، تڑوڑی تڑوڑی۔

تڑوڑی: جواب دینا، بے سوچے کچھ جواب دینا، جو منہ میں
 آئے کہہ دینا، بے تامل جواب دینا۔

تڑوڑی: مذکر، کسی سخت چیز کے ٹٹنے کی آواز، سنگینوں کی آواز،
 (د) لہریج، (د) چٹاخ، (د) تھپڑ کے دم لگنے کی آواز، کڑا کا۔

(د) چٹاخ، (د) لہریج کی آواز، (د) کسی چیز کا تھپڑ، شدت
 کی گرمی، دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت۔

تڑوڑی: کھا جانا، کسی چیز کا بیک بیک جمع جانا، پھٹ جانا، آدمی کا
 اچانک بے ہوش ہو جانا۔

تڑوڑی: بھرنا، زور سے اڑنا، زور و شور سے پرند کا اڑ جانا۔
 تڑوڑی: بہت تیز دھوپ۔

تڑوڑی: (د) مزہار، لذیذ، لذت کا، خوش ذائقہ، چھٹا۔

تڑوڑی: (د) دم کے باعث جہم کا پٹا پٹنا، زخم کا چرانا۔

تڑپنا / تڑپنا / تڑپنا / تڑپنا : (۱) پھٹنا، شق ہونا، کسی خشک چیز کا پھٹنا، دراز پھٹنا، بال آنا، (۲) زخم وغیرہ کا پھٹنا، (۳) رنجیدہ ہو کر سخت کہنا، نصحی سے جواب دینا

تڑپ کر جواب دینا : نصحی سے جواب دینا، جھٹلا کر بولنا۔
تڑپ کا : مذکر بہت سویرا، صبح کا وقت، علی الصباح۔

ہونا : (۱) صبح ہونا، سویرا ہونا، (۲) صدمے سے آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنا، (۳) خوب پینا، (۴) صفایا ہوجانا دیوالا ٹھکانا، کچھ نہ رہنا۔

تڑپنا : تڑپنا، پھٹنا، شق ہوجانا۔

تڑپی : (دہلی، موتھ)؛ (۱) مار، ضرب، (۲) فریب، دھونس، (۳) دھوکا، (۴) نقصان، خسارہ۔

تڑپی دینا : دھونس دینا، دم دینا، بے وقوف بنانا، ہار کی تالی، بجانا، احمق ٹھہرانا۔

تڑپی میں آنا : دھوکا کھانا۔

تڑپی بڑی : پریشان، منتشر، جھڑپا۔

تڑپی پار : (۵) شہر بدر۔

تڑپیڑا، مذکر، تڑپیڑا۔

ت

تڑگ / تڑگ : (تڑگی) مذکر، (۱) قاعدہ، قانون، (۲) ترتیب،

(۳) انتظام، ضابطہ، لشکر، ضابطہ مجلس، (۴) وہ واقعہ

جس کو بادشاہ نے خود لکھا ہو، (۵) شان و شوکت، جلوس۔

تڑگیہ : (۱) مذکر، پاک کرنا، صاف کرنا، یاکی، صفائی۔

تڑگیہ نفس : (۱) اضافت کے ساتھ، روح کو پاک کرنا، روح کی صفائی

تڑگیل : (۱) مذکر، پہل، کھل، بل، زلزلہ، جیش، جھٹک، جھڑپ۔

تڑگیج : (۱) موتھ، بھگ، بھگ، بھگ کرنا، زوجیت میں دینا۔

تڑگیو، (۱) موتھ، نکو، فریب، جیل۔

تڑگیو، (۱) موتھ، آراستی، آرایش، عزیت۔

تڑپنا : (۱) پھٹنا، علاحدہ کرنا، جدا کرنا، توڑ ڈالنا، توڑ لینا، (۲) روپیہ بھٹانا، ریزگاری لینا، (۳) قیمت میں کمی کرنا۔

تڑپانی : موتھ؛ پہل وغیرہ توڑوانے کی اجرت، روپیہ خرده کرانے کا پٹا۔

تڑپ : موتھ؛ (۱) بے قراری، مہے پینی، اضطراب، (۲) جھگڑک،

(۳) وہ جھگڑا، جو لپ یا دیوار گیری میں اس شخص سے

سے لگا دیتے ہیں کہ روشنی کا عکس تیز ہوجائے (۴) جست،

کود پھاند، (۵) گرمی، گرما گرمی، شوخی، مضمون کی تڑپ،

جہلی کا کوندنا، جلد جلد پھٹنا، تھلا ہٹ۔

تڑپا : بے چین ہوجانا۔

تڑپا : بے قرار ہو کر، جلدی سے، پھرتی سے، کود کر،

پھاند کر، تھلا کر، کسسا کر۔

تڑپا دینا : بے قرار کر دینا، ہنسا دینا، لٹا دینا۔

تڑپانا : (۱) پھڑکانا، اضطراب میں ڈالنا، ترسانا، بے قرار کرنا،

بے چین کرنا۔

تڑپتا ہونا : مذکر، عیسا شعر یا فقرہ، جو سننے والے کو بے قرار کر دے۔

تڑپتہ : (۱) کسی کے جواب میں بغیر توقف کیے کچھ کہنا، (۲)

جلد جلد، فوراً۔

تڑپڑا ہٹ : موتھ، (۱) مرچ یا گسی پیز کی تیزی کا اثر جو

زبان پر معلوم ہوتا ہے، (۲) بے قراری، بے چینی۔

تڑپڑی : موتھ؛ بے چینی، اضطراب۔

تڑپڑن : موتھ؛ تڑپ، مہے پینی۔

تڑپڑنا : (۱) ٹوٹنا، تھلانا، مہے تاب ہونا، بے قرار ہونا، بے چین

ہونا، (۲) اس پرند کا بند توڑ کے اڑ جانا جس کے بال و

پر بندھے ہوں، (۳) فوراً گود کر چلانا جانا، جست کرنا،

جست جھڑنا، (۴) دل دھڑکنا، (۵) ہاتھ پانوں سے مارنا،

(۶) بے حد مشتاق ہونا، آرزو مند ہونا، (۷) اچھلنا۔

تڑپڑا ہٹ : موتھ؛ (۱) پٹانوں کی آواز، (۲) متواتر گویاں

چلنے کی آواز۔

تڑپڑن، تڑپڑن، تڑپڑن : (۱) بد صورت، بد قطع ہونا۔

تڑپڑن کر بولنا، نصحی سے کسی بات کا جواب دینا، جھٹلا کر جواب دینا۔

ت س

تَسْلُطُ : (ع) مذکر ؛ غلبہ ، حکومت ، قبضہ ، دحل ۔

تَسْلِي : (ع) مؤنث ؛ دلاسا ۔

تَسْلِيم : (ع) مؤنث ؛ (۱) سلام کرنا ، بندگی ، آداب ، (۲) قبول ، (۳) منظور ، (۴) سپرد کرنا ، سونپنا ۔

بجالاتا : (۱) سلام کرنا ، (۲) کسی کا دعویٰ باطل ہونا ، خود ٹوٹنے پر طنز کہتے ہیں تسلیم بجالاتا ہوں ۔

عرض ہے : سلام کرتا ہوں ۔

کرنا : (۱) ماننا ، قبول کرنا ، منظور کرنا ، (۲) آداب بجالاتا ، بندگی کرنا ، بڑے کو سلام کرنا ۔

تَسْلِيْمَات : مؤنث ؛ (جمع تسلیم کی) ؛ آداب ، بندگی ۔

تَسْمِيَّةٌ : (ف) مذکر ، چڑے کا کم چوڑا لمبا ٹھکڑا ، فیتہ ، پٹنا ۔

جمانا ، تسمے سے مارنا ۔

کھینچنا : ایک خاص طریقے سے گلا گھونٹ کر مارنا ، چھانی دینا ۔

لگا رہنا : کسرا باقی رہنا ۔

لگانا رکھنا : دو ٹوک کرنا ، صاف دو ٹوک کر دینا ، ذرا کسر نہ رکھنا ۔

تَسْمِيَّةٌ : (ع) مذکر ، (۱) نام رکھنا ، (۲) (اصطلاح فقہ) بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ۔

خوانی : مؤنث ؛ بسم اللہ کی تقریب ، بچے کی چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں پڑھانی کرنے کا جلسہ ۔

تَسْتَنُّ : (ع) مذکر ؛ (ایک راہ پر ہو جانا ، تکی حقیرے کا ہو جانا ۔

تَسْنِيمٌ : (ع) مؤنث ؛ بہشت کی ایک نہر کا نام ۔

تَسْوِيْدٌ : (ع) مؤنث ؛ لکھنا ، سیاہ کرنا ، تحریر جو پہلے صاف نہ لکھی گئی ہو ۔

تَسْوِيَةٌ : (ع) مذکر ، برابر کرنا ۔ ٹھیک کرنا ، سیدھا کرنا ۔

تَسْوِيْلٌ : (ع) مؤنث ؛ آسان کرنا ، سہل کرنا ۔

ت ش

تَشَابُهٌ : مذکر ، مشابہت ۔

لگنا ؛ کسی شے یا کسی عبادت کا جلتا جلتا ہونے کی وجہ سے

تَس : (۱) مؤنث (۲) پیاس ، تشنگی (۳) سخت محرابش ، (۴) (دُود)

اہم اشارہ ، یہ ، اس ۔

تَس : (۱) مذکر ، ریشہ ، جو اناج وغیرہ کے اوپر سے اترے اناج کا چلکا ۔

تَسَالَا : (ع) ؛ تین برس کا ۔

تَسَامُحٌ : (ع) مذکر ، (۱) سہو ، ایسا بیان کرنا جس سے کہنے والے کا مطلب صاف ظاہر نہ ہو ۔

تَسَابُلٌ : (ع) مذکر ، غفلت کرنا ، آسان سمجھنا ، سستی ، غفلت ۔

تَسْبِيحٌ : (ع) ؛ خدا کو پاکی سے یاد کرنا ، مؤنث ؛ (۱) (اصطلاح) ؛ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ، (۲) وہ مالا جس میں مقررہ دانے ہوتے ہیں اور جس سے وظیفہ پڑنے کی تعداد شمار کرتے ہیں (۳) (عجاز) ورد ، ذلیفہ ۔

پڑھی جاتا ، بار بار نام لیا جاتا ۔

پھیرنا : تسبیح پڑھنا ۔

خوال : (۱) تسبیح پھیرنے والا ، (۲) وہ شخص جو اجرت پر کسی کے لیے تسبیح پڑھے ۔

تَسِيْمَانِي : (ف) ؛ ایک قسم کی سیاہ رنگ کے پتھر کی تسبیح ۔

فاطمہ : وہ تسبیح جو فاطمہ زہرا نماز فرض کے بعد پڑھا کرتی

تھیں ، جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے ۔

تَسْ پر / **تَس** پہ : باوجود اس کے ، پھر بھی ، (اب متروک ہے) ،

تَسْ : (ع) مؤنث ؛ تاج کرنا ، فرمان بردار بنانا ، محامہ کرنا ، چھین کرنا ، قابو میں لانا ۔

تَسْكِيْنٌ : (ع) مؤنث ؛ (۱) دلاسا ، ڈھارس ، اطمینان ، (۲) افاقہ ، آرام ۔

تَسْلَا ، مذکر ، تاجے یا پتیل وغیرہ کا تشت ، پرات ، (۲) (اصطلاح) ؛

کی اصطلاح) ؛ لوبے کا وہ برتن جس میں تھی ڈھوتے ہیں یا گارا سالاد دیتے ہیں ۔

تَسْلُسُلٌ : (ع) ؛ (۱) پوسٹہ ہونا ، رواں ہونا ، (منطق کی ایک

اصطلاح) مذکر ، (۲) سلسلہ بندی ، کسی کام کا برابر ہوتے رہنا ۔

تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ طعم ، ملاط ، بڑا جھلا کرنا۔
تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ پریشانی ، گھبراہٹ ، سوچ ، ٹرزد ، فکر۔
تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ رفت ، شوق ، آگاسانا ، اُجھارنا۔
تَضَرُّعٌ : (ع) مذکر ، کلمہ شہادت۔
تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ مشہور کرنا ، دھندلوا پرینا ، منادی کرنا۔
تَضَرُّعٌ : شیعہ ہونا۔

تغیر ، اپنی طرف سے کچھ بنانا ، کچھ کا کچھ کر دینا۔
تَضَرُّعَاتٌ : (ع) مذکر ، جمع تَضَرُّعٌ کی۔
تَضَرُّعٌ بے جا : مذکر ، فہن ، کسی ناجائز طریقے سے تَضَرُّعٌ میں
 لانا ، خورد برد کرنا۔
 — کرنا ، دھ خراب کرنا ، فہن کرنا (۲) تبدیل کرنا۔
تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ واضح طو پر بیان کرنا ، صراحت سے
 بیان کرنا۔

تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ دھ مصدروں کی گردان ، گردانا ، (۲)
 ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا۔

تَضَرُّعٌ : (ع) تخفیف ، تقلیل ، چھوٹا کرنا ، (۲) قواعد نحو کی ایک
 اصطلاح۔

تَضَرُّعٌ : (ع) مذکر ، صفائی ، فیصلہ ، رفع جھکار ، صلح ، چکوتنا۔
تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ مضبوطی (ارادے کی)۔

تَضَرُّعٌ : (ع) مذکر ، بناوٹ ، مٹھلت ، محض نمود ، دکھاوا ، فکر ،
 دھوکا ، تلبیس۔

تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ، کوئی کتاب لکھنا ، طبیعت سے کوئی
 مضمون لکھنا ، (۲) لکھی ہوئی ، (۳) ایجاد ، بنایا ہوا ۔
 تیار کیا ہوا۔

تَضَرُّعَاتٌ : جمع تَضَرُّعٌ کی ۔ مذکر ، موٹ۔
تَضَرُّعٌ رَامُضَرُّعٌ نیکو کندہ میاں : (ت) مقولہ ، ترجمہ :-
 (مستند ہی اپنی تَضَرُّعٌ کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہے) انسان

اپنی بات آپ خود اچھی طرح بتا سکتا ہے۔
تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ بناوٹ ، مکاری گری ، متاعی ، آرٹ۔
تَضَرُّعٌ : (ع) دھیان ، فکر ، خیال ، منصوبہ ، سؤجھ (منطق کی
 ایک اصطلاح) کسی چیز کا بغیر حکم کے خیال کرنا۔

— پرستی : (ت) موٹ ؛ خیالی باتوں کو اہمیت دینے کا
تَضَرُّعٌ حُجَّانٌ و حقیقت سے روگردانی۔

تَضَرُّعٌ : (ع) موٹ ؛ عینیت ، مثالیت۔
تَضَرُّعٌ : (ع) مذکر ، دھونیوں کی اصطلاح) دل سے نفسانی
 آلائشوں جسامتی خواہشوں کو دور کر کے اشیائے عالم کو خدا
 کا منظر سمجھنا۔

ت ص

تَصَادُومٌ : (ع) مذکر ، باہم جھکنا ، مدد دینا ، دھکا دینا۔
تَصَانِيفٌ : (ع) ؛ جمع تَصْنِيفٌ کی ، مذکر ، موٹ ؛ تَصْنِيفٌ کی
 ہونی کتابیں۔

تَصَاوِيرٌ : (ع) مذکر ، موٹ ؛ جمع تصویر کی۔
تَضَمُّعٌ : (ع) موٹ ؛ دستہ ، صبح کرنا ، ظلی لڈ کرنا۔

تَضَمُّعٌ : (ع) مذکر ، وہ ہجوم گھوڑوں کا جن میں سب گھوڑوں پر
 شاہی زمانے میں نشان دیے جاتے تھے ، (۲) رجسٹر جس
 میں دفتر کے ملازموں کی فہرست اور علیہ لکھا ہوتا ہے۔

تَضْجِيفٌ : (ع) موٹ ؛ دھ ، لکھنے میں غلطی کرنا ، (۲) کتابت
 کی غلطی۔

تَضَدُّقٌ : (ع) مذکر ، صدقہ دینا ، جانور ، زبردت یا فکد کسی پر
 سے صدقہ اُتارنا ، دارنا ، نثار کرنا ، قربانی ، (۲) صدقہ ،
 نثار ، (۳) صدقہ ، خیرات ، (۴) فضیل ، بہ دولت۔

— جانا ، نثار ہونا۔
 — کے ماش ؛ وہ کالے ماش جو صدقے کے لیے چوراہے پر
 رکھوادیے جلتے ہیں۔

تَضَدُّعٌ / **تَضَدُّعٌ** : (ع) موٹ ؛ دوسرے مٹھلت ، دکھ۔
تَضَدُّعٌ : (ع) موٹ ؛ دھ ، صداقت ، صحیح ہونے کی تائید ، (۲) علم منطق
 کی ایک اصطلاح۔

تَضَرُّعٌ : (ع) مذکر ، کسی غیر زبان کے لفظ میں کچھ کی بیشی
 کر کے اپنی زبان میں استعمال کرنا ، (۲) دست اندازی ،
 (۳) بقتہ ، اختیار ، استعمال ، (۴) صرت ، خرچ ہد ، تَبَدُّل ؛

تَطْبِيقُ : (ر) موثف ؛ موافقت ، مطابقت ، برابر ہونا۔
تَطْوِيلُ : (ر) موثف ؛ دراز کرنا ، لمبائی ، طول دینا ، لمبا کرنا۔
تَطْهِيرُ : (ر) موثف ؛ پاک کرنا ، طہارت کرنا۔
تَظْلَمُ : (ر) مذکر ، ظلم سے فریاد کرنا ، فریاد۔

ت — ع

تَعَارُضُ : (ر) مذکر ، کسی کے سامنے آنا ، باہم جھڑا کرنا ، ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔

تَعَارُفُ : (ر) مذکر ، جان پہچان ، واقفیت۔
 — کرنا ؛ کسی سے ملاقات کرنا۔

تَعَاقُبُ : (ر) مذکر ، پیچھے جانا ، پیچھا کرنا ، پیچھے دوڑنا۔

تَعَالَى / **تَعَالَا** : (ر) بلند ، برتر ، عالی مرتبہ ، بزرگ۔
تَعَالَى اللَّهُ : (ر) کلمہ تعجب و تحسین (ترجمہ : خدا بزرگ ہے) ، سبحان اللہ ، واہ واہ۔

تَعَاوَنُ : (ر) مذکر ، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

تَعَبٌ : (ر) مذکر ، محنت ، سختی ، محنت ، مشقت۔

تَعَبُدٌ : (ر) مذکر ، بندگی کرنا ، عبادت کرنا۔

تَعْبِيرُ : (ر) موثف ؛ بیان کرنا ، عبارت میں لانا ، (۲) خواب کا تفسیر۔

— دینا ؛ خواب کا مطلب بیان کرنا۔

— کرنا ؛ مراد دینا ، مراد رکھنا۔

تَعَجُّبٌ : (ر) مذکر ، انوکھا پن ، اچنبھا ، حیرت۔

تَعْجِيلُ : (ر) موثف ؛ جلدی ، جھلٹ۔

تَعْدَادٌ : (ر) موثف ؛ گنتی ، شمار ، اندازہ ، تخمینہ۔

تَعْدِيٌّ : (ر) موثف ؛ ظلم و ستم ، زیادتی۔

تَعْدِيلُ : (ر) موثف ؛ کسی چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنا ، راست اہد درست کرنا۔

— **أَرْكَانٌ** : (ن) موثف ؛ (اصطلاح فقہ) ؛ ارکان نماز کا آہستہ

آہستہ ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔

تَعْرِضُ : (ر) مذکر ، روکنا ، مزاحمت ، روک ٹوک۔

تَصْوِيرٌ : (ر) موثف ؛ (۱) (دقوی معنی) صورت بنانا ، صورت گیری ، (۲) موثف ، شبیہ ، روپ ، نقش ، نقشا ، بُت (۳) نہایت خوب صورت ، نہایت عمدہ ، قابل تصویر۔

— **أَعْهَوْنَ** کے تلے پھرنا / تصویر آنکھوں میں پھرنا ، ہر دقت کسی بات کا خیال رہنا ، صورت آنکھوں کے سامنے آجانا۔
 — **أَتَارْنَا** ؛ تصویر کھینچنا ، نقشہ بنانا۔

— **أَتَرْنَا** ؛ تصویر کھینچ جانا۔

— بنا دینا ؛ حیرت میں ڈال دینا ، چُپ کر دینا ، (حیرت سے)

— **بِنَ جَانَا** / تصویر ہو کر رہ جانا ؛ (۱) معجز ہو جانا ، (۲) بُت بن جانا ، خاموش ہو جانا۔

— **قَالِي** / تصویرِ قائلین ؛ (۱) جو تصویرِ قائلین پر بنائی جاتی ہے ، (۲) دکھائی ؛ خاموش۔

— **كَيْفِيْن دِيْنَا** ؛ پورا نقشہ سامنے کر دینا ، پوری اصلیت ظاہر کر دینا۔
 — **كَيْفِيْنِيْنَا** ؛ شبیہ آتارنا ، نقشہ بنانا۔

ت — ض

تَضَاوُ : (ر) مذکر ، باہم ضد ہونا ، آپس میں مخالفت ہونا ، ایک دوسرے کا اُتھ ہونا ، (۲) (ایک صنعتِ سخن کا نام)۔

تَضَارُبٌ : (ر) ؛ تصادم ، ٹھکراؤ۔

تَضْحِكٌ : (ر) موثف ؛ ہنسی اُٹانا ، ذکت ، رسوائی۔

تَضْرِيْعٌ : (ر) موثف ؛ گریہ و ناری ، دقت ، سماجت ، گڑبگڑانا۔

تَضْمِيْنٌ : (ر) ؛ موثف ؛ (۱) دلانا ، شارٹل کرنا ، (۲) (اصطلاح شاعری) کسی مشہور مضمون یا شعر کو اپنی نظم میں داخل کرنا۔

— پسپا کرنا ، شعر پر مصرع لگانا ، بند لگانا۔

تَضْيِجٌ : (ر) موثف ؛ ضائع کرنا۔

— **أَوْقَاتٌ** ؛ موثف ، دقت گنونا ، دقت خراب کرنا۔

ت — ط

تَطَابِقٌ : (ر) مذکر ، مطابقت ، باہم مطابقت ہونا ، مشابہت تشبیہ۔
تَطَاوُلٌ : (ر) مذکر ، دست درازی ، ظلم۔

دینا؛ کسی کی آمد پر کھڑا ہو جانا، کھڑے ہو کر عزت کرنا، استقبال کر کے صدر میں بٹھانا۔

کرنا: عزت کرنا، آداب بجالانا۔

تعلقن: (ع) مذکر، سڑاند، بدبو، حضرت۔

زار: (ع) ن؛ گندی جگہ، بدبودار مقام۔

تقصید: (ع) موتھ؛ (د) گرہ دینا، (۳) نشست الفاظ کا گنجلک یا بے ترتیب ہونا، (اصطلاح علم معانی)۔

تقصیدِ لفظی: قاعدے کے غلات لفظوں کا آگے پیچھے کر دینا جس سے معنی سمجھنے میں کسی قدر دقت ہو۔

مغزوی: کسی خاص لفظ سے شاعر کی مراد کچھ ہو اور عمل استعمال میں وہ لفظ کچھ اور معنی دے، ابھرا ہوا کام۔

تعلق: (ع) مذکر، (د) علاقہ، لگاؤ، مناسبت، (۳) ملازمت، خدمت، آشنائی۔

تعلقات: جمع تعلق کی۔

تعلقِ دنیاوی / دنیوی: دنیا کی نگریں، گھر بار کی فکر۔

فاطر: (د) فکر، دل کی طرف لگاؤ ہونا، میلان طبع۔

تعلقدار: مذکر، تعلق کا مالک۔

تعلقم: مذکر، علاقہ، ملکیت، جاگیر۔

تعلیم: (ع) مذکر، علم پڑھنا، سیکھنا۔

تعلی: (ع) موتھ؛ شینی، ڈینگ، خودستائی۔

پرانا / تعلی کی لینا: شینی جھارنا، ڈینگ مارنا۔

تعلیق: (ع) موتھ؛ (د) کسی چیز کو دوسری چیز سے متعلق کرنا، (۳) قف نوٹ۔

تعلیل: (ع) موتھ، (د) وجہ بیان کرنا، سبب نکالنا، علت بتانا، (۳) دہلم صرف کی ایک اصطلاح۔

تعلیم: موتھ؛ (د) سکھانا، تلقین، سیکھنا، ہدایت کی وہ باتیں جو پیر اپنے مرید کو بتاتا ہے، (۲) ناپچھے گانے کی مشق، (۳) گھوڑا سدھانا۔

تعمق: (ع) مذکر، غور کرنا، کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، گہرائی میں جانا۔

تعمیر: (ع) موتھ؛ (د) مرمت کرنا، نئے برے سے مکان

تعریب: (ع) موتھ؛ کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی بنا لینا، تعریب کرنا۔

تعریض: (ع) موتھ؛ اجراض۔

تعریظ: (ع) موتھ؛ واقفیت، شناسائی، پہچان، بیان، (۲) شمار، مدح، توصیف، (۳) کسی کو کسی سے شناسا کرنا۔

تعریظ الجہول بالجمہول: کسی نامعلوم بات کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا جو خود نامعلوم ہو۔

تعریظ کرتے منہ سوکھنا: جیسی چاہیے ویسی تعریف نہ ہو سکتا، بہت زیادہ تعریف کرنا۔

تعریظیت: (ع) موتھ؛ ماتم پرسی۔

نامہ: (د)؛ ماتم پرسی کا خط۔

تعریر: (ع)؛ سزا۔

تعریرات: (جمع تعریب کی)؛ موتھ؛ سیاست، سزا، گوشالی۔ ہند: موتھ؛ وہ سزائیں جو ہندوستان میں مقروضین۔

تعریر: (ع) مذکر، امام حسن اور امام حسین کی تربتوں کی نقل جو کافد اور بانس کے تپے کی شکل میں محرم میں بنائی جاتی ہے۔

اٹھانا، تعزیے کو امام یا بے یا تعزیہ خانہ سے گشت پھرنے یا ذفن کیلے جانا۔

ٹھنڈا کرنا: تعزیہ ذفن کرنا۔

داری کرنا: تعزیہ رکھنا، تعزیہ بنانے اور شربت اور فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرنا۔

برانا: تعزیے کو دریا میں ڈال دینا۔

تشنق: (ع) مذکر، عاشقی، چاہ، پیار، شوق، اشتیاق، آرزو، تمنا۔

تصعب: (ع) مذکر، (د) حمایت، ہمتی، طرفداری، (۲) مذہبی رعایت (۳) بے جا حمایت، (۳) غلط طرفداری۔

تعطل: (ع) مذکر، بے کار ہونا، بے کاری، کام بند رہنا، بے حرکت۔

تعطیل: (ع) موتھ؛ بے کاری کا دن، چٹی۔

تعظیم: (ع) موتھ؛ بزرگی، عظمت، عزت، حرمت، توقیر، قدردانیت، وقعت۔

ت ق

تفتیش : (ج) موٹ ؛ چان بین ، کوشش ، پولیس کی سرسری تفتیشات ۔

تفصّل : (ج) مذکر ، (جہانا) ، تلاش و جستجو ۔

تفرّق / تفرّق : (ج) مذکر ، (ج) فرق ، (ج) فاصلہ ، جدائی ، نا اہسانی ، نفاق ، پھوٹ ۔

_____ **انگاز / تفرّق پرواز** ، پھوٹ ڈلنے والا ۔

تفریح : (ج) موٹ ؛ (ج) خوش طبعی ، چہل ، (ج) ہوا خوری ، سیر ، دل بہلانا ، (ج) تازگی ، طبیعت کی فرحت ۔

_____ **طبع** : موٹ ، دل لگی ، ہنسی ، چہل ، کھلی بازی ، تفریح ۔ ہنسی سے ، دل لگی سے ، بطور خوش طبعی ۔

تفریط : (ج) موٹ ؛ کسی کام میں کمی کرنا ، کوتاہی ۔

تفریق : (ج) موٹ ؛ (ج) جدائی ، علاحدگی ، فرق ، (ج) کسی بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو گھٹانا ، منہائی ۔

تفسیر : (ج) موٹ ؛ (ج) مغز سنی کو ظاہر کرنا ، (ج) تشریح ، (ج) قرآن شریف کی شرح ، آسانی کتاب کی شرح ۔

_____ **کرنا** ، کھول کر بیان کرنا ، مراحت سے بیان کرنا ۔

تفصیل : (ج) موٹ ؛ تشریح ، تصریح ، فرست ، فرد ، کیفیت ۔ **وار** : (ج) مفصل طریقے سے ۔

تفصیح : (ج) موٹ ؛ نصیحت ، رسوائی ۔

تفصیل : (ج) موٹ ؛ فضیلت دینا ، تزیح ، فوقیت ۔ **تفکر** : (ج) مذکر ، سوچ ، فکر ، اندیشہ ۔

تفکرات : (ج) جمع فکر کی ؛ مذکر ، فکریں ۔

تفکیر : (ج) موٹ ؛ سوچنا ، فکر کرنا ۔

تفنگ : (ج) ؛ موٹ ، بندوق ۔

تفنیق : (ج) ؛ مذکر ، چہل ، دل لگی ، شغل ، مشغلہ ۔

_____ **طبع** : (ج) موٹ ؛ (ج) موٹ ، دل لگی ، ہنسی ، خوش طبعی ۔ **بہ طور شغل** ، مشغلہ کے طور پر ۔

تفوق : (ج) ؛ مذکر ، برتری ، تزیح ، فوقیت ۔

تفویض : (ج) ؛ موٹ ؛ سپردگی ، تمویل ، حوالگی ۔

تفہیم : (ج) مذکر ، سمجھنا ، سمجھانا ۔

تقابل : (ج) مذکر ، مقابلہ ۔

تقابلی بسائیات : (ج) موٹ ؛ مختلف زبانوں کے باہمی تعلقات کا مطالعہ ۔

_____ **مطالعہ** : (ج) موٹ ؛ ایک ہی موضوع پر مختلف زبانوں یا ایک ہی زبان کی کتابوں کا جائزہ ۔

تقارب : (ج) ؛ مذکر ، (ج) پاس پاس ہونا ، (ج) علم حوض کی ایک بحر کا نام ۔

تقارب : (ج) موٹ ؛ جمع تقریب کی ۔

تقارب : (ج) ؛ جمع تقریر کی ۔

تقاضا : (ج) مذکر ، خواہش ، طلب ، بار بار مطالبہ ، تاکید ، تشدد ۔ **آزنا** : تقاضا پورا ہو جانا یا پورا کر دیا جانا ۔

_____ **آشنا** : تقاضے کی برداشت کرنا ۔

تقاضائے سن / تقاضائے عمر تقاضائے وقت ؛ عمر کے مطالبے کے موافق سن کی طبعی حالت کے مطابق ، وقت کی ضرورت کے مطابق ۔

تقاطر : (ج) مذکر ، بے دہے قطرے ٹپکانا ، بڑتا باندی ۔

تقاوی : (ج) موٹ ؛ کم حیثیت کا شنکاروں یا زین داروں کو کھیتی باڑی کے کام کے لیے حکومت کی طرف سے قرض کے طور پر دیا جانے والا روپیہ ۔

تقصیل : (ج) موٹ ؛ چوڑنا ۔

تقدیس : (ج) مذکر ، پاکیزگی ۔

تقدیم : (ج) مذکر ، آگے بڑھنا ، تزیح ۔

تقدیر : (ج) موٹ ؛ قسمت ، نصیب ، مقصوم ، بخت ۔

_____ **آزمائنا** ، قسمت کے سہرو سے پرکھ کرنا ، بخت آزمائی کرنا ۔

_____ **الٹنا** ، نصیب برگشتہ ہونا ۔

_____ **برجوتنا** ، مقدمہ کا ناموافق ہونا ، ادبار ہونا ، بداقبال ہونا ۔

_____ **پرچھوڑنا** ، کسی معاملے میں تدبیر نہ کرنا ۔

_____ **پلٹنا** ، تقدیر پر پھر جانا ، بخت برگشتہ ہونا ، بداقبال ہونا ۔

تَقَرَّرَ : (ر) مَذْكُرًا ، (د) تَعَيَّنَ ، (ز) مَلَازِمٌ هُوْنَا ، مَلَازِمَتٌ ، نَوَكْرِي ، مَقْرَرٌ هُوْنَا ۔

تَقْرِبُ : (ر) مَوْتًا ؛ (د) ذَرِيْعَةً ، بَاعِثٌ ، سَبَبٌ (ز) شَادِي ، بِيَاهٌ ، سَالِكَةٌ ، عِيْدٌ ، دِيْوَالِي ، وَغَيْرُهُ فِي عَزِيْزُوں دُوَسْتُوں كَعِ مَجِ هُوْنَةُ كَا بَاعِثٌ ، (ز) مَوْقِعٌ مَعْلٌ ، (ز) سَفَارَشٌ ، ذِكْرٌ ، (د) مَعْلِي ، اِدْبِي ، ثِقَاتِي وَحِطَّاعٌ ۔

تَقْرِيْبًا : (ر) تَحِيْنًا ، قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ ۔
تَقْرِيْبِيَّاتٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ (د) مَذْكُرَةٌ ، مَجِ تَقْرِيْبِ كِي ۔
تَقْرِيْبِي : (ر) مَوْتٌ ؛ (د) بِيَانٌ ، ذِكْرٌ ، مَغْفَلُوٌ ، بَاتِ حِيْتٌ ، بَحْثٌ ، مَعْلِي يَاقِطَلِي مَحْكُرًا ، مَبَاحِثَةٌ ، حِجَّتٌ ۔

_____ كَرْنَا : (د) بِيَانِ كَرْنَا ، (ز) حِجَّتِ كَرْنَا ۔
_____ كَا لُجْهًا بِنْدَه جَانَا : مَسْلَسِ هُوْنَةُ كِي دَرَجَ سَ بِيَانِ كِي تَصْوِيْرُ كُنْجِي جَانَا ۔

_____ كَا شَهِيْدٌ وَشُكْرٌ هُوْنَا : بِيَانِ كَا شِيْرِيں هُوْنَا ۔
تَقْرِيْرِي : (د) زَبَانِي ۔

تَقْرِيْبًا : (ر) ؛ مَوْتٌ ؛ كَسِي تَالِيْعٌ يَاقْتَصِيْعٌ كِي نَسْبَتِ رَاْتِي دِيْنَا ، تَنْقِيْدِ كَرْنَا ۔

تَقْسِيْمٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ (د) بَاثٌ ، ثَوْرًا ، قَسْمَتٌ ، (ز) حَسَابِ كَا هِ قَاعِدَه جِسْ فِيں اِيَكِ عِدَدِ كُو دُوَسْرَ سَ عِدَدِ پَرِ بَانْتِي هِيں ۔

تَقْصِيْرٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ كَوْتَا هِي ، كَمِي ، سَهْوٌ ، حُكٌ ، خَطَا ، قَصُوْر ۔
_____ مَعَاْفٌ : اِنْبِي بَاتِ كَعِ نَاكُوْرِ هُوْنَةُ كِي سَهْلِي هِي مَعْذِرَتٌ كَرِيْنَا ۔

_____ وَاْرٌ : (د) تَلْزِمٌ ، گَنَاهُ گَار ۔
تَقْطِيْرٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ قَطْرَه قَطْرَه فِطْكِنَا ، قَطْرَه قَطْرَه ذَالِنَا ، قَطْرَه قَطْرَه نَكَالِنَا ۔

تَقْطِيْعٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ (د) مَكْرُوْرٌ مَكْلُوْرٌ كَرْنَا ، (ز) اِنْتٌ ، بِيءٌ ، تَعِي كَعِ وَهْ حَتْمِي جِنِ فِيں حَرْفُوں كُو اِيَكِ دُوَسْرَ سَ مَلَانَا سَكْلِيَا جَاتَا هِي ، (ز) اِيَكِ اَصْطِلَاحِ عِلْمِ عَرُوْضِ ، شُرْكَاءُ وَدَلَنُ كَرْنَا ۔

تَقْلِيْدٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ (د) جَاوَزٌ ، اَنْقَلٌ ، پِيْرُوِي ، كَسِي كَعِ قَدَمِ بَرِ قَدَمِ پَلْنَا ۔

تَقْلِيْلٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ كَرْنَا ، تَهْوَا كَرْنَا ۔

اِرْبَارِ هُوْنَا ، (ز) دِنِ پَرِنَا ، مَجْلَه دِنِ اَنَا ۔

_____ پُھُوْٹِ جَانَا : (د) تَقْدِيْرٌ كَا بَجُوَا نَا ، (ز) دِكْنَا يَتَا ، مَقْدَرِي يَاقِ مَسَا لُ كَا بَرِ عِلَافِ هُوْنَا ، (ز) دِكْنَا يَتَا ، بُرِي بَجْدِ شَادِي هُوْنَا ۔

_____ جَاگَنَا / تَقْدِيْرٌ پُھِكِنَا : مَجْلَه دِنِ اَنَا ، بَحْثِ كَا يَادِرِ هُوْنَا ۔

_____ جَوَاں هُوْنَا : دَقْتِ كَا مَوَاقِفِ هُوْنَا ۔

_____ سُو جَانَا : بَحْثِ كَا نَا مَوَاقِفِ هُوْنَا ۔

_____ سَ : اِنْقَا فَيْرِ ، نُوْشِ قَسْمَتِي سَ ۔

_____ سَ زُوْرِ نُوْپِں چِلْنَا : قَسْمَتِ كَا كُحَا هُو كَرِ سَهِي گَا ۔

_____ سِيْدِي هُوْنَا : بَحْثِ يَادِرِ هُوْنَا ، زِمَانِ مَوَاقِفِ هُوْنَا ۔

_____ كَا بِنْدَا : مَقْدَرِ فِيں ، نُوْشَتِ اَزَلِي ، شُدْنِي اَمْرِ ۔

_____ كَا بَلَنُ : قَسْمَتِ كَا پُھِرِ ، مَقْدَمِ كَا بَجَاوَزِ ، مَقْدَمِ كِي بُرَايِ ۔

_____ كَا دَا مِں پُھُوْنَا : اِنْبَا كَامِ تَقْدِيْرِ كَعِ حَوَالِي كَرْنَا ۔

_____ كَا رِيكْتُوْرُ : اِنْبِي نَسِيْبِ كَا ، بَهْتِ نُوْشِ اِقْبَالِ ۔

_____ كَا كِهِيْلُ : قَسْمَتِ كَعِ كُشْمِي ، قَسْمَتِ كِي بَاتِيں ۔

_____ كَا كُھُوْنَا : بَرِ نَسِيْبِ ، كَمِ بَحْثِ ۔

_____ كَا لُكُحَا ، تَقْدِيْرٌ كَا بِنْدَا ، تَقْدِيْرٌ كَا نُوْشِ ، هُوْنَةُ وَالِي بَاتِ ۔

_____ كَا مَنِي پُھِرِ لِيْنَا : بَرِ بَحْثِي اَجَانَا ۔

_____ كَا هِيْنَا : مَذْكُرَةٌ ، بَرِ نَسِيْبِ ۔

_____ كُوْرُوْنَا : كَمِ نَسِيْبِي كَا شُكُوْهَ كَرْنَا ۔

_____ كُو سُوْنِيْسَتَا : مَكْلِ كَامِ تَقْدِيْرِ پَرِ چُوْرُو دِيْنَا ، تَقْدِيْرِ پَرِ شَاكِرِ جُو جَانَا ۔

_____ كُھَلِ جَانَا : تَقْدِيْرِ پُھِكِنَا ۔
_____ لُطْنَا : تَقْدِيْرِ كَا مَوَاقِفِ اَجَانَا ، قَسْمَتِ كُھَلِ جَانَا ، تَقْدِيْرِ كَا يِكْسَاں هُوْنَا ۔

_____ وَالَا ، نُوْشِ نَسِيْبِ ۔
تَقْدِيْرِي اَمْرٌ : مَذْكُرٌ ؛ هُوْنَةُ وَالِي بَاتِ ، وَهْ بَاتِ جِسْ فِيں تَدْبِيْرِ كُو دَا مِلِ دُ بُوْهْ شُدْنِي اَمْرِ ۔

تَقْدِيْسٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ پَاكِيْزِي ۔

تَقْدِيْمٌ : (ر) مَوْتٌ ، پِيْشِ قَدَمِي ، پِيْشِ ، بَرْتَرِي ، تَرْجِيْحٌ ، قُوْمِيْتِ ، پِيْشِ كَرْنَا ۔

تَقْرُبٌ : (ر) مَذْكُرَةٌ ، نَزْدِيْكِي ، قُرْبِيْتِ ۔

- لقوّا / لقوئی:** (ع) مذکر، پرمیزگاری، خدا کا خوف کرنا۔
- لقویّت:** (ع) موت؛ (ا) طاقت، زور، پشتی، (۲) مدد، تسکین، تسلی۔
- لقویم:** (ع) موت؛ غمزی، پتڑا، وہ کتاب جس میں سال بھر کی تاریخیں رستاروں کے مقامات اور گزرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔
- _____ پار / لقویم پارینہ: (ف) موت، (۱) پرانی ہنسی (۲) جانا، بے کار چیز، وہ چیز جو کارآمد نہ ہو۔ (۳) دکھائی، بڑھی ہوئی۔
- لقی:** (ع) مذکر، (۱) خدا سے ڈسنے والا، پرمیزگار، (۲) شیعوں کے بارہ اماموں میں سے نویں امام کا نام۔
- لقید:** (ع) موت؛ (۱) تاکید، تنبیہ، روک ٹوک، قید۔
- لقیۃ:** (ع) مذکر، وہ ناز بول میں رکھا جائے اور کسی کے خوف سے ظاہر نہ کیا جائے، وہ کام جس کے کہنے کو دل نہ چاہتا ہو مگر کسی کے خوف سے کیا جائے، دل میں عداوت ہو لیکن بہ ظاہر دوستی ظاہر کی جائے۔
- ## ت ک
- تک:** (۱) حرف انتہاء، حد انحصار، (۲) بھی (۳) پاس، نزدیک۔
- تک:** موت؛ بڑی ترازو جس کو زمین پر نصب کرتے ہیں۔
- تک:** مذکر۔ موت؛ (۱) قافیہ، صبح (۲) وہ بات جو اپنی طرف سے بنائی جائے، رزق۔
- _____ بندی: موت؛ (۱) تنگ سے جھگڑانا، زٹل قافیے ہانکنا، بھاس، (۲) دکھائی، بے سنی اشعار۔
- تک:** مذکر۔ (۱) گوشت کا ٹکڑا، پارچہ، گوشت کی لمبی بوٹی، چٹی بوٹی۔ (۲) لوتھڑا۔ (۳) وڈ شدہ۔
- _____ اتارنا: نظر گزار کے لیے پھول کے اوپر سے گوشت کو صدقہ کر کے پیلوں کو کھلانا۔
- _____ بونی کرنا: (۱) چھوٹے چھوٹے کرنا، (۲) جمع، (۳) دکھائی؛ بانٹ لینا، تقسیم کر لینا۔
- تک:** لگانا: (۱) کباب لگانا، (۲) دکھائی؛ چیرنا، مچھل لگانا۔
- تک:** مذکر، بان، تپڑ، ایک خاص قسم کا گھنٹی دار تیرا سیدھا۔
- _____ چلانا: اصل پتھر چلانا۔
- _____ سا: مذکر، تپڑ سا سیدھا۔
- _____ سی دارھی: وہ لمبی دارھی جو گھنٹی پر ہو۔
- _____ کرنا: (۱) دکھا کرنا (۲) موقع ڈھونڈ کرنا۔
- تکلیف:** (ع)؛ جمع تکلیف کی، مذکر، موت، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
- تکلان:** (ع) موت؛ (۱) تھکاوٹ، سستی، کاپی، کسل مندی، اعضا جھکنی، ہچکوں کا صدمہ، (۲) برہمی یا نینسے کو جھکا دینا۔
- _____ اتارنا: سستی دھڑ کرنا، تازہ دم ہونا۔
- _____ پہننا: صدمہ پہننا۔
- _____ چلنا: سستی آنا، تھکانا۔
- تک:** (ع) مذکر، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، خود، گھنٹہ، شینی۔
- تک:** (ع) موت؛ اللہ اکبر کہنا، خدا کی بڑائی کرنا۔
- تک:** (ع) موت؛ نماز کی پہلی بکیر، بکیر تحریر۔
- تک:** (ع)؛ موت، وہ آواز جو بیل کے ہانکنے کے وقت آگے چلانے کو نکالتے ہیں۔
- تک:** (ع) موت؛ زیادتی کرنا، افرونی۔
- تک:** (ع) مذکر، دل پر میل آنا، تیرہ ہونا، کدورت ہونا۔
- تک:** (ع) موت، جھٹلانا۔
- تکرار:** (ع) موت، (۱) دہرانا، بار بار کہنا، (۲) بخت، بھٹ، جھگڑا، لڑائی، نظلی نزاع۔
- _____ یکالنا: جھگڑا پیدا کرنا۔
- تکراری:** جھگڑا، جھگڑا، جھگڑا، جھگڑا، جھگڑا۔
- تکریم:** (ع) موت؛ عزت، بزرگی، تعظیم، ادب، آؤ بھگت، خاطر مدارات۔
- تک:** مذکر، مضبوط، موٹا تازہ۔
- تک:** مذکر، وہ شعر جس پر ایک مصرع لگا کر تعظیم کرتے ہیں، شلت۔
- تک:** (ع) موت؛ عین گھوڑے جو ایک ساتھ گاڑی میں جوتے جاتے ہیں۔
- تک:** (ع) موت؛ کافر کہنا، کفر کا فتور دینا، کافر سہرانا۔

کھینچنا : (د) موتھ ؛ کھن دینا ، کھن پھانا ، کھن میں پھینا۔
کھنکھن : موتھ ، مذکر ، دو کانہوں والا پتنگ ۔

اُڑانا : کھنکھن بڑھانا ۔

کھنکا : مذکر ، چومنے کی وہ آہنی سلاخی جس پر کاتے وقت گڑھی ،
بنتی جاتی ہے ، (۲) وہ آہنی سلاخی جس سے پکوان نکالتے ہیں ۔

کھنکے کا گھاؤ : چھوٹا سا زخم جو کھنکے کی ٹوک سے ہو جاتا ہے ۔

کے سے بل نکال دینا : کبھی نکالنا ، خوب سیدھا بنانا ، ساری
نثرات ڈھکر دینا ، مارہٹ کر کے شیک کرنا ۔

کھنکا : مذکر ، پتنگ بازوں کی اصطلاح ؛ وہ ڈور جو ہاتھ کے انگوٹھے
اور ٹھٹھلیا پر لپیٹ کر اکٹھا کرتے ہیں ۔

کھنکھٹ : (د) مذکر ؛ اپنے اوپر کھنکھٹ گوارا کرنا ، کھنکھٹ اٹھا کر
کوئی کام کرنا ، (۲) کھنکا ، چھپکا پھٹ ، تامل ، (۳) نمائش ،
ظاہر داری ، بناوٹ ، (۴) وہ کھنکھٹ جو جاب ، پاس ، لحاظ
کے وجہ سے ہوتی ہے ۔

کھنکا : آرایش کا ایسا ساز و سامان جس میں ساوگی نہ ہو اور
جس کا اہتمام کھنکھٹ سے خالی نہ ہو ، (۲) خیرت برتنا ، شرم
کرنا ، جاب کرنا ۔

کھنکھٹات : مذکر ، جمع کھنکھٹ کی ۔

کھنکھٹا : فعلی ؛ کار کھنکھٹ ۔

کھنکھٹ برتنا : ظاہر داری برتنا ، خیر کا سا برتنا د کرنا ۔

کھنکھٹ برطرت : بے کھنکھٹ ، صاف صاف ، بلا تھنخ ۔

کھنکھٹا : مذکر ، قیمتی اور لذیذ کھانا ، امیرانہ کھانا ۔

کھنکھٹا : سما ہوا مکان ۔

کھنکھٹا : لازم ، ٹیپ ٹاپ کرنا ، آرام سے دکھانا ، آراستہ
کرنا ، (۲) بناوٹ ، شرم کرنا ، جاب کرنا ۔

کھنکھٹ : (د) مذکر ، بولنا ، بات کرنا ۔

کھنکھٹا : (د) موتھ ؛ (۲) سوت کاتنے کی پھرکی ، (۳)
چومنے کی وہ آہنی سلاخی جس پر کاتے وقت گڑھی بنتی جاتی
ہے ۔

کھنکھٹ : (د) موتھ ؛ ڈکھ ، رنج ، مصیبت ، مفلسی ، دشواری ،
ذمت ۔

کھنکھٹ اُٹھانا : مصیبت برداشت کرنا ۔

کھنکھٹا : کھنکھٹ اُٹھانا ۔

کھنکھٹا : (د) ڈکھ دینا ، ایذا دینا ، کسی کام کو کھنکا ، کسی کام کی
درخواست کرنا ، (۲) جس کے کہنے کو دل نہ چاہے ، کسی کام کی
خاص تحریک کرنا ۔

کھنکھٹا : فرمانا ؛ موجود ہونا ، آنے کی زحمت برداشت کرنا ۔

کھنکھٹا : قدم رنجہ فرمانا ، تشریف لانا ، آنے یا جانے کی زحمت
برداشت کرنا ۔

کھنکھٹا : (د) مذکر ، جس سے فحش کی کھنکھٹیں ہو جاتے ، نصیب ، ہتھم ۔

کھنکھٹا : (د) مذکر ، وہ مہلقہ جس میں ، ٹین یا گھنڈی اٹھی رہتی ہے ۔
کاج ۔

کھنکھٹا : (د) اصطلاح طب ، موتھ ؛ گرم پوٹلی سے بدن سیکھنا ۔

کھنکھٹا : (د) دیکھنا ، کھنکھٹا باندھنا ، بنور دیکھنا ، (۲) آسرا رکھنا ، امید
رکھنا ، انتظار کرنا ، راہ دیکھنا ، (۳) گھوڑا گھاری کرنا ، نیت
بد سے دیکھنا ، نظر بازی کرنا ، (۴) لینے کا ارادہ رکھنا ،

اُڑانے یا چرانے کا موقع دیکھنا ۔

کھنکھٹا : چکھونا / چکھونیا ؛ تین کونے والا ، سہ گوشہ ، مثلث ۔

کھنکھٹا : ٹیکنولوجی ؛ (انگ) ؛ موتھ ؛ صنعت و حرفت
کا علم ۔

کھنکھٹا : ٹیکنیک ؛ (انگ) ؛ موتھ ؛ فن ، اصول فن ،

طرز ادا ، طریق کار ، کاریگری ۔

کھنکھٹا : مذکر ، کھنکا ۔

کھنکھٹا : ایک پکوان ، جس کو آو ، قیمہ وغیرہ بھر کرتے ہیں ۔

کھنکھٹا : (د) موتھ ؛ عالم وجود میں لانا ، پیدا کرنا ۔

کھنکھٹا : گھوننا ، دیر تک دیکھتے رہنا ، خود سے کسی کی طرح دیکھنا ۔

کھنکھٹا : (د) آرام کی جگہ ، (۲) سر ہانے رکھنے کی چیز ، (۳) جھوسا ،
اتھاوٹگی ، (۴) فقیر کے رہنے کی جگہ ، فقیر کا گھر ، (۵) گوردستان ،

قبرستان ۔

کھنکھٹا : بھرنے میں روٹی یا پھرنا ۔

کھنکھٹا : دار ؛ مذکر ، وہ فقیر جو گوردستان میں رہے ، قبرستان
کا رکھوالہ ۔

تیل : مذکر، (۱) ایک قسم کا بیج جس سے تیل نکلتا ہے، (۲) وہ نقطہ سیاہ جو جسم کے کسی مقام پر ہوتا ہے، (۳) وہ نقطہ سیاہ جو دیدرے کے امد ہوتا ہے۔

_____ اوٹ پہاڑ اوٹ : (شکل)؛ ذرا سے پرے میں کسی بڑی ہماری بات کا پوشیدہ ہونا، ظاہر میں مشکل، مگر آسان۔

_____ برابر : ذرا سا، رانی برابر، فتنہ۔

_____ بنانا تیل لگانا : کاجل کی بندی لگانا۔

_____ بھر : ذرا سا، خفیت۔

_____ بھر لہو، پہاڑ برابر محبت : اپنا دُور کارنٹے دار بھی دوست سے زیادہ کام آتا ہے۔

_____ تیل کا حساب : رتی رتی کا حساب۔

_____ پیلنا : تیلوں کو کھو میں ڈال کر تیل نکالنا۔

_____ چاشنا : مسلمانوں میں دولہا کے وداع کے وقت کی ایک رسم۔

_____ چاولی : مونث؛ چاول کے ساتھ تیل ملے ہوئے۔

_____ چاؤلے بال : مذکر، سیاہ وسفید بال۔

_____ چاولی داڑھی : وہ داڑھی جس میں بال آدھے کالے آدھے سفید ہوں۔

_____ چٹنا : مذکر، ایک قسم کا جینگر جو گھسروں کے کونوں میں اور

موریوں میں رہتا ہے۔

_____ چور بچر چور : (شکل)؛ جو تھوڑی چوری کرے گا وہ بہت بھی کرے گا۔

_____ دھرنے کی (رکھنے کی) جگہ نہیں رہنا : بالکل جگہ نہ ہونا،

کوئی جگہ عالی نہ رہنا۔

_____ تیلشکری : مونث؛ (۱) ایک قسم کی شیرینی کا نام جو تیل اور شکر سے

بنائی جاتی ہے، (۲) گڑک، (۳) شادی کی ایک رسم : برات کے

روز دھن کی پھیلی پر تیل اور شکر رکھ کر سات مرتبہ دولہا زبان

سے چاٹتا ہے۔

_____ تیل کٹ / تیل چھٹکا : کٹے ہوئے تیل میں شکر کڑک کر ملائی ہوئی۔

_____ کی اوجھل (اوٹ) پہاڑ : (شکل)؛ دیکھو تیل اوٹ پہاڑ اوٹ

تیلوں میں تیل نہ کرنا : دعویٰ سوریج پر خاک ڈالنا۔

_____ میں سے تیل نکالنا : (۱) کفایت شکاری دکھانا، (۲) دکن پٹا،

دستوری کے سبب زیادہ قیمت لگانا۔

_____ تلا : مذکر، بڑی کے نیچے کا حصہ، پیندا۔

_____ میکیے کاٹنا : وہ فٹس جو دوسروں کے کھوکھوں پر پڑا ہے۔

_____ تنگیہ کرنا : (۱) بہرہ دہا کرنا، اعتماد کرنا، (۲) تنگی لگانا، بیٹھ رہنا۔

_____ تنگیہ کلام : مذکر؛ جس بات کی گفتگو کے بیچ بار بار کہنے کی عادت ہو،

بات چیت میں کسی خاص نقطے پر موقیعے موقیعے سہارا لینے

کی عادت۔

_____ تنگیہ لگانا : کسی چیز کے سہارے سے بیٹھنا۔

_____ تنگیہ ٹھوڑی / تنگیہ : مونث؛ چھوٹی ترازو، ترازو کے پتلے۔

_____ تنگیہ ٹھوڑی / تنگیہ ٹھوڑی : دیکھو ٹھوڑی۔

ت گ

_____ تنگ پانو : مونث؛ دوڑ دھوپ، جلدی سے آمدورفت کرنا، سسی، کوشش، جستجو، بے فائدہ تروڑ۔

_____ تنگ اور : (ن) مذکر، تیز رو گھوڑا۔

_____ تنگ و تاز : (ن) مونث؛ دوڑ دھوپ، دوڑنا، جھگانا۔

_____ تنگ و دو : (ن) مونث؛ تلاش، جستجو، جھگ دوڑ۔

_____ تنگ و دم : مذکر۔ تین آدمیوں کا میل، تین چروں کا بل جانا۔

_____ تنگ و گ : (ن) مذکر، اول، پانی کے وہ نمونہ جسے بڑے

قلبے جو آسمان سے پتر کی سی سخت گولوں یا گولیوں کی طرح

بریں۔

_____ تنگنا : مذکر، بسہ پند، تین گنا۔

_____ تنگی کا نایچ چوانا : پریشان کرنا۔

_____ تنگی : مونث، (۱) نمیدہ ہو کر کسی کے اوپر چڑھنا، پدمی رقم عمر بچے

ہولتے ہیں، (۲) آدمی کی سواری، (متروک)، (۳) تاش یا گنجے کا وہ

پتہ جس پر عین نشان ہوں۔

ت ل

_____ تیل : مذکر؛ (۱) تیل۔ نیچے کا حصہ۔ نشیب، (۲) ٹیلا، ریگ کا ٹیلا۔

_____ دھار اوپر دھار : شدت کی بارش۔

_____ دھار (موسل) دھار / برستا : زور و شور سے برستا، بارش ہونا۔

تلا دینا: ہانڈی یا پتیلی کے نیچے گیلی مٹی پڑھانا۔
تلاگانا: جوتے کے نیچے کے حصے میں چھڑا لگانا۔

تلا / طلا: (د) سونا۔

تلا: مذکر، (۱) تارترین، گونا، کناری دیفرہ (۲)، پچھدی کے دونوں
بلٹائی برسے۔

تلا: (۱) ترازو، ٹمکت (۲) ساتوں راس، بروج میزان۔

تلا دان: مذکر، ایک قسم کی خیرات جس میں سونا، چاندی چاول یا
بیش قیمت چیزیں اپنے برابر تول کر خیرات کرتے ہیں۔

تلا بیٹھا: آمادہ ہونا بالکل تیار بیٹھا۔

تلا بیسی: موتی؛ بے قراری، اضطراب۔

تلا دانی: تلے دانی، بزدان کی دیش کی، دھاگا، سوئی، تھینی رکھنے
کی خاص تھیلی۔

تلازم: (د) باہم لازم ہونا۔

تلازمہ: مذکر، کسی خاص مضمون کی رعایت سے اغماظ لانا۔

تلاش: موتی؛ کوچ، کوشش، جستجو، تحقیقات۔

تلا کرنا: ڈھونڈنا، کوچ کرنا، مٹراغ لگانا۔

تلاش: (اضاف کے ساتھ) رذی کی فکر، روزگار کی کوشش۔

تلاشی: (د) موتی؛ (۱) ڈھونڈنے والا، (۲) تلاشی، (۳) جھاڑا،
گمشدہ چیز کے لیے گھبراہٹ کی دیکھ بھال۔

تلاطم: (د) مذکر، لہر، موج، پانی کی تھپڑیں، جوش، دلولہ۔

تلاقی: (د) موتی؛ جو چیز ضائع ہوگئی ہو اس کا بدل، پاداش،
بکافات۔

تلاقات: موتی (اضاف کے ساتھ)؛ جو چیز یا بات جاتی
رہی ہو اس کی کمی کو لورا کرنا، معاوضہ اس امر کا جو فوت
ہو گیا ہو۔

تلا بذرہ / تلا میند: (د) مذکر، جمع تلمیند کی، مٹا گرد۔

تلا مٹی: موتی؛ اضطراب، بے چینی، بے کلی، بے قراری،
گھبراہٹ، جلدی۔

تلا و: (د) مذکر، تال، تالاب۔

تلا وا: مذکر؛ گاڑی کی وہ نکوہی جو ڈھرے کے اوپر لگائی
جاتی ہے۔

تلاوت: (د) موتی؛ قرآن پڑھنا۔

تلا ہونا: (د) جوش اور رغبت کے ساتھ آمادہ ہونا، (د) کوئی کام کرنے
کے لیے بالکل تیار ہونا۔

تلبیس: (د) موتی؛ دھوکا، ٹکر، فریب، دغا۔

تلبیہ: (د)؛ مذکر، حج میں اللہ تعالیٰ سے بار بار کہنا۔

تلبیٹ: (د) تباہ، خواب، گم، آنکھوں سے غائب، (د) غائب ہونا،
گم ناہید، (د) فراموشی، (د) کسی چیز کی گمشدگی۔

تلا کرنا: (د) غائب کر دینا، چھپا دینا، پھرانے، (د) مستی ناس

کر دینا، تباہ کرنا، آجاڑنا، (د) تلے ڈھونڈنا، پامال کرنا۔

تلا ہونا: (د) آٹ پٹ ہونا، پامال ہونا، (د) ضائع ہونا۔

تلاستی: موتی، دھار، پانی یا کسی اور تھیلی چیز کی جو تھوڑی بلندی
سے گرے، تر پڑا۔

تلا پخت: موتی، مذکر، نہ نشین گاد، وہ چیز جو پانی و فرہ کے برتن
میں نیچے بیٹھ جاتی ہے۔

تلاخ: (د) کڑوا، بد مزہ، بد ذائقہ، ناگوار، ناپسند، تند تیز۔
تلاخ: (د) بد مزہ۔

تلا بات: (د) کڑوی بات، (د) ناگوار بات۔

تلا زبان: (د)؛ وہ شخص جس کی باتیں کڑوی لگیں، بد زبان آہی۔

تلا لائی: (د)؛ موتی؛ بد زبان، تیزی سے گھٹو کرنا۔

تلا کرنا: کڑوا کرنا، بد مزہ کرنا، ناگوار کرنا۔

تلا گوئی: (د) موتی؛ سخت زبانی

تلا ویش: (د)؛ رکتا پٹا؛ دنیا کی عنایت و شفقت۔

تلا جی: (د) موتی؛ کڑواہٹ، (د) شدت، سختی، نکلوت۔

تلا چھس: (د) موتی؛ (د) خلاصہ کرنا، خلاصہ، (د) پاک صاف کرنا۔

تلا کڈ: (د) مذکر لذت؛ مزہ حاصل کرنا، لطف۔

تلا سی: ایک پودے کا نام۔

تلا طفت: (د) مذکر، جہریانی، عنایت، کرم۔

تلا فراغ: (د) (د) غزان؛ (د) موتی؛ مذکر، دیکھ، ٹیلی گرام۔

تلا ف: (د) مذکر، (د) برباد، خواب، راجھاں، ہلاک، فنا،
(د) گم، ضائع۔

تلا قظ: (د)؛ مذکر، (د) لفظ کا مہرے سے ادا کرنا، (د) بچو۔

تلقین: (ع) موت؛ نصیحت۔

تلیک: تیک۔

تلیک: مذکر، (۱) ٹیکا، تشقہ، (۲) ایک زبور کا نام، (۳) شادی کے موقع پر ہونے والے داماد کو سلامی کے طور پر دی جانے والی رقم۔

دھارنا/تلیک: دھارن کرنا؛ ٹپکانا، تشقہ کہینا۔

دھاری: مذکر، وہ شخص جو روز تلیک لگائے۔

کرنا: گندی نشین کرنا، تخت پر بٹھانا، شادی کرنا، بیاہ کرنا، نصت کرنا، وداغ کرنا۔

تل کے ترازو: ترازو جس کے ایک پتے میں آدمی بٹھاتے ہیں اور دوسرے میں اُس کے ہم وزن غلہ اور کوئی چیز خیرات کے لیے رکھتے ہیں۔

بیٹھنا: ہم وزن ہو کر بیٹھنا، ایسا سیدھا ہو کر بیٹھنا کہ کسی طرف بھکانا ہو۔

پڑنا: کسی کام پر متوجہ ہو جانا، کسی کام پر شدت کے ساتھ محک پڑنا۔

تلیکی بندھنا: دھار بندھنا۔

تلیکند: (ع) مذکر، شاگرد ہونا، شاگردی۔

تلیکلا/تلیکلاٹا: توپنا، مضطرب ہونا، کم روشن ہونا۔

تلیکلا پٹ: موت، بے چینی، تروپ۔

تلیکج: (ع) موت؛ (علم بیان کی اصطلاح)؛ شعر میں کسی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔

تلیکند: (ع) مذکر، شاگرد، طالب علم۔

تلیکنا: برتن میں گھی یا تیل گرم کر کے کچھ پکانا۔

تلیکنا: (۱) وزن کیا جانا، (۲) کسی کام پر آمادہ ہونا، (۳) انداز ہونا۔ اچھل ہونا، جانچ ہونا، (۴) چکی کے دندلوں کو گھورا کرنا۔

تلیکنا: مذکر، تلیکنا کے باشندہ، ابتدائی عہد انگریزی کا سپاہی۔

تلیکجی: موت؛ تلیکنا کی زبان، تلیگو۔

تلیو: مذکر، ایڑی اور پٹے کے بیچ کا حصہ، پانوں کے نیچے کا حصہ۔

کت یا۔

تلیو اکھانا/تلیو کھانا: سفر پر پیش آنے کا ٹھکانا سمجھا۔

تلیو/تلیو لگنا: (ع) ایک جگہ پر جم کر نہ بیٹھنا، ایک جگہ نہ ٹھہرنا۔

تلیو: مذکر۔ تیل کے لٹو۔

تلیوار: موت؛ تیغ، شمشیر، سیف۔

آرمانا: تلیوار کی مار کا امتحان کرنا۔

آبی ہونا: تلیوار کھینچی ہونا۔

آٹھنا: تلیوار علم ہونا۔

آگلی پڑنا: تلیوار نیکی پڑنا، قتل پر آمادگی ہونا۔

باندھنا: تلیوار کر میں لگانا۔

پٹ پڑنا: تلیوار کا اوندھا پڑنا، تلیوار کا وار خالی جانا۔

پر ہاتھ رکھنا/تلیوار پر ہاتھ دھرنا: (۱) تلیوار مارنے کے ارادے سے قبضے پر ہاتھ ڈالنا، (۲) تلیوار کی قسم کھانا۔

پکڑنا: جنگ پر آمادہ ہونا، کشت و خون کا سامان کرنا۔

تولنا: (۱) تلیوار کو ہاتھ میں جانچنا تاکہ پورا وار پڑے (۲) تلیوار سنبھالنا، شمشیر زنی کا ارادہ کرنا۔

تیر جانا: تلیوار کا کسی چیز کو کاٹ کر پار ہو جانا۔

چمکانا: ننگی تلیوار علم کرنا۔

خماں رکھنا: تلیوار گردن میں لٹکی ہوئی رکھنا۔

سوتنا: تلیوار کھینچنا، میان سے تلیوار نکالنا، قتل کا ارادہ کرنا، وار کرنے میں تلیوار کو اوپر سے نیچے تک کھینچ لانا۔

سے پانی جدا نہیں ہوتا: (ش)؛ ایک خاندان کا خون باوجود

نفاق اور علیحدگی کے جدا نہیں ہو سکتا۔

کا بال: تلیوار کی باریک دھار، دم شمشیر۔

کا پانی: (دکانیا)؛ تلیوار کی آب داری، تلیوار کی تیزی۔

کا پٹھا: تلیوار کی چوڑی دھار۔

کا پھل: قبضے کے علاوہ تلیوار کا حصہ۔

کا ڈنڈا: دھار گرجانے سے جو دانت بڑھائیں۔

کا دھنی: بڑا بہادر، سودا۔

کا دونوں باگوں سے کٹنا: تلیوار کو ڈہرا کر کے دونوں سروں کو ملانا۔

کاری پڑنا: پورا کاٹ کرنا، پوری طرح کارگر ہونا۔

کا چوٹنا: تلیوار چلانے والے کا سپینے قبضہ چوم کر تلیوار چلانا۔

کا کاٹ: تلیوار کی تیزی، کاٹ ڈالنے کی قوت۔

— مزاج: (د) وہ شخص جس کا مزاج یک سو نہ ہو، غیر مستقل مزاج۔

تلووں تلے لکنا / تلووں تلے پامال کرنا: روندنا۔

— سے آگ لگنا: جل جانا، بھڑکنا، خستہ ہونا۔

— سے آنکھیں لکنا: (۱) خوشامد یا پیار کرنا، (۲) ناز مشوقانہ سے پامال کرنا۔

— سے لگنا: (۱) بے قرار ہونا، (۲) فکر مند ہونا، (۳) مضطرب ہونا، (۴) دُمن ہونا۔

— سے لگنا سسر میں / نجنا / تلووں سے لگنا سسر میں جاکے نجنا،

سرسے پانوں تک خستے میں جتنا، سرتا پاجنا، نہایت بلا فروغ ہونا۔

— سے لگنا: پیروں تلے ملنا، پامال کرنا، خاک میں ملانا، پینا۔ پس ڈالنا۔

تلوے چاٹنا: نہایت خوشامد کرنا، لٹو پٹو کرنا۔

— چھلنی ہونا: پھرتے پھرتے پانوں کے چپے کے خستے کا زخمی ہو جانا، بہت دھڑ دھوپ کرنا۔

— دھو دھوکے پینا، آنکھوں پر رکھنا، بے حد دردانی کرنا۔

بہت اطاعت کرنا۔

— تلے آنکھیں لکنا: (ع) بے انتہا مدد و یا خستہ کی حالت میں آنکھیں کھلوا کر تلووں تلے لکنا، (ایک قسم کی قدیم سزا کا دستور)۔

— سہلانا: رکنا، چالوسی کرنا، خوشامد کرنا۔

تلی: پیندا، پیندی۔

رتلی: موٹ؛ (۱) ایک اندرونی عضو کا نام، طحال، (۲) ایک قسم کا بیج جس کا تیل نکالتے ہیں۔

تلے: نیچے، پائیں، زیر۔

— اُوپر: نگاتار، پے در پے، ستائر، ایک چیز کے اُوپر دوسری چیز۔

— اُوپر کے: وہ بچے جو ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوں۔

— اُوپر ہونا: درہم برہم ہونا، تہ و بالا ہونا۔

— پڑنا: نیچے بیٹنا، آگے پڑنا، زمین پر سونا۔

— تلے دیکھنا، نیچے نظروں سے دیکھنا، چپ کر دیکھنا۔

تلوار کا کھیت: میدان جنگ، لڑائی کا میدان۔

— کا گھاٹ: جہاں سے تلوار میں غم شروع ہوتا ہے۔

— کی دھار: تلوار کی تیزی۔

— کا گھاٹ سے پڑنا: تلوار کا اُس مقام سے پڑنا جہاں سے غم شروع ہوتا ہے۔

— کا گھاؤ بھر جاتا ہے زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا: (ش)؛ تلوار بات کا اثر پیشہ قائم رہتا ہے۔

— کا میٹر بڑھتا: کثرت سے تلوار چلانا۔

— کرنا: تلوار سے کسی کے ساتھ لڑنا، تلوار مارنا، شجاعت دکھانا۔

— کھانا: تلوار کا وار سہنا۔

— کی آج: گرمی، چمک۔

— کے گھاٹ آجاتا: تلوار سے مار ڈالنا۔

— کی موت: تلوار سے کھل ہونا۔

— کے ہاتھ: تلوار چلانے کے طریقے۔

— لیے پھرنا: (۱) غون کرنے پر آمادہ ہونا، (۲) مارنے مرنے کی مدد تک خستہ تک ہو جانا۔

— مارنا: تلوار کا وار کرنا، فٹھیر لگانا۔

— مارے ایک بار، احسان مارے بار بار، (ش)؛ احسان کی شہدگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

— میان سے لینا: تلوار سوتا، تلوار کھینا، تلوار مارنے پر آمادہ ہونا۔

— میان سے نکل پڑنا: تھک کرنے پر بیتاب ہونا، نہایت غمخوار ہو جانا۔

— میان کرنا / تلوار میان میں کرنا: تلوار کو غلات میں رکھنا، تھک کے بار بار سے باز آنا۔

— میں بال آجانا، شکستگی کے آثار ظاہر ہونا، تلوار میں نقص آجانا۔

— تلواروں پر رکھ لینا: تلواروں سے حملہ کرنا۔

— کی چھاتوں میں / تلواروں کے سائے میں: تلواروں کی حراست میں، سوت حفاظت میں۔

تلوان: قیمتی، وزنی۔

تلون: (د) ڈکڑ، رنگ بدلتا، رنگ کی تبدیلی، ایک حالت پر

زردنہا، چھوہا پین۔

تیلے کی سانس تلے اوپر کی اوپر: انتہائی جرت، سکنے کی سی کیفیت۔

_____ کی دنیا/ زمین اوپر ہونا: دکھانا؛ اظہارِ عظیم ہونا۔

_____ کی زمین اوپر کرنا: دکھانا؛ گہرا دینا، پریشان کر دینا۔

تَلَّیْتُ: موتی؛ (۴) چوٹا تالاب، چھوٹا تالو۔

تَلَّیْتُ: موتی؛ تالو، پینڈا، تہ، نیچے کی زمین (۲) دامن کوہ،

پتھر، پتھر، تہ زمین، (۳) اطراف، نواہی، سواد۔

تَبَلَّے دانی: مذکر، قبیح، سوتلی، پتھک وغیرہ رکھنے کی چھوٹے جُز

دان کی طرح کی چھوٹی تھیلی۔

ت م

تَمَّ (ضمیر غائب)؛ جمع ٹوکے۔

_____ جانو: (۱) نہیں واقف ہو، تمہیں ذمہ دار ہو، (۲) گویا۔

_____ ڈال ڈال تو میں پات پات: (دش)؛ تمہاری چالیں خوب

بھتا ہوں، میں تم سے زیادہ چالاک ہوں۔

_____ ہم کو بٹلاؤ گے تو کیا کھلاؤ گے، ہمارے یہاں آؤ گے تو

کیا لائو گے: (دش)؛ ہر طرح اپنا مطلب نکلنے کی بات کرنا۔

_____ تمہارا: تم سے خصوصی نسبت رکھنے والا، آپ کا۔

_____ سسر/ تمہارا کلیہا: (۱) طے یا نافرست کے اظہار کا کلمہ، (۲) برابر

والا یا چھوٹا کسی سے مزاج کے خلاف کوئی بات پوچھے یا کہے

تو یہ کلمہ زبان پر لاتے ہیں۔

_____ تمہاری یہ راہ ہماری وہ راہ: کچھ پروا نہیں، اپنی اپنی راہ پر چلے۔

_____ تم سے پھرے تو خدا سے پھرے: (مقولہ)؛ ایک طرح کی سخت

قسم، دائمی عہد، تم سے برگشتہ ہونا خدا سے خلاف ہو جانے

کے برابر ہے۔

_____ کہیں میں کہیں: جگہ جگہ، ایک دوسرے سے دوری۔

_____ نے اڑائیں، میں نے بھون بھون کھائیں: (دش) ہم تمہارے

بھی اُستاد ہیں، تمہاری چالاکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔

_____ نے کہا اور میں نے مان لیا: تمہاری بات کا جھوکو

اھیاد نہیں۔

_____ تمہارے سر کی قسم: بات کا یقین دلانا۔

_____ مُنَّہ میں خاک: کسی کے حق میں بُرا چاہنے یا برا اہمیت نہ کرنے

پر نفرت کا اظہار۔

_____ مُنَّہ میں گھی کھکر: خدا تمہارا کہنا راست لائے، تمہاری بات

پُردی ہو۔

_____ شَمَّ رہی تم ہو: ہر جگہ تمہارا ہی دُور دُور ہے۔

_____ تَمَّاش: (دع) مذکر؛ شاہد ہونا، رشتا بھلتا۔

_____ تَمَّا چا/ تَمَّا چہ/ تَمَّا سچا: مذکر؛ (۱) تپڑ، (۲) ہاتھ پھیلا کر مارنا، (۳)

(پٹے بازوں کی ایک اصطلاح)۔

_____ اُتَمَّانا: مارنے کا ارادہ کرنا۔

_____ تَمَّادی: موتی؛ (۱) وہ میعاد جس کے گزر جانے سے نادمش کا

اختیار نہ رہے، (۲) ساقبتِ دعوے کی میعادِ معینہ کا

نکل جانا، (۳) زمانہ گزر جانا۔

_____ تَمَّازت: موتی؛ گرمی، شدت کی گرمی۔

_____ تَمَّاشا: مذکر۔ (۱) دید، نظارہ، (۲) کھیل، بازیچہ، (۳) ہنگامہ،

جمع، ہجوم، بیڑ (۴) نمائش، نمود، (۵) عجیب و غریب

بات، (۶) سوانگ، کرتب، (۷) ہنسی، دل لگی،

ششپوں، مذاق، (۸) کیفیت، (۹) ہنگامہ۔

_____ بَن جانا: ایسی حالت ہو جانا کہ لوگ دیکھنے لگیں، محو ہو جانا۔

_____ خانم: موتی؛ سفری عورت، بلی عورت، انوکھی عورت۔

_____ خانہ/ تَمَّاشا کدہ/ تَمَّاشا گاہ: (دع) مذکر، تملنے کی جگہ۔

_____ بنانا: نقل کرنا، ہنسی اڑانا۔

_____ دکھانا: (۱) سیر دکھانا، لطف دکھانا، (۲) سزا دینا، مزہ چکھانا۔

_____ کرنا: (۱) سوانگ کرنا، نالک کرنا، کرتب دکھانا، (۲) کسی کا

شُشکا کرنا، احمق بنانا۔

_____ گر: تماشا کرنے والا۔

_____ ہونا: انوکھی بات ہونا، مزہ ہونا، لطف ہونا، سوزہ ہونا۔

_____ تَمَّاشائی: مذکر، تماشے کا دیکھنے والا، تماش بین۔

_____ تَمَّاش بین: عیاش، اوباش، بدکار، تماشائی۔

_____ تَمَّاش پینی: موتی؛ رنڈی بازی، بدکاری، آوارگی،

تماشا دیکھنا۔

تجھڑ: (ع) موٹھ؛ (د) بزرگ کرنا، (۲) (ادبی اصطلاح) تہذیب، پاکیزگی، لطافت، زندگی کے تجربے اور مشاہدے کو تہذیب و لطافت کے ساتھ پیش کرنا۔

تتمدن: (ع) مذکر، طرز معاشرت، رہنے سہنے کا ڈھنگ۔
تتمر: (ع) موٹھ؛ کبوتر۔

تتمر ہندی: موٹھ؛ اعلیٰ، اعلیٰ کا درخت، اور اس کا پھل۔
تتمرو: (ع) مذکر، (۱) سرکشی، بغاوت، نافرمانی، گستاخی، (۲) ضد، ڈھٹائی خود سری۔

تتمرواں: (ع) موٹھ؛ (۱) عادت، ڈانٹ، خوگر ہونا، (۲) منقہ۔

تتمسود: (ع) مذکر، مسزاج، ششوں، ششے بازی، مذاق اڑانا۔

تتمسک: (ع) مذکر، (۱) بچو، گرفت، منبھولی سے بچونا، (۲) اقرار نامہ۔ وہ نرسٹہ جو قرض کی سند میں قرض لینے والا، قرض دینے والے کو لکھ دیتا ہے۔

تتمغا: (ترکی)؛ مذکر، (۱) مصول، بچھی، سوداگری کے مال پر سزاوار کی طرف سے لگائی جانے والی جہر، (۲) فرمان شاهی (۳) سند، جاگیر کی سند، معافی یا انعامی زمین، (۴) دارغ، چرکا، نشان، (۵) ملامت، (۶) بکتہ، ٹھپا، (۷) ڈپلوما، کارگزاری یا انعام وغیرہ کا نشان جو زیب تن کرنے کو دیا جاتا ہے۔

تتمھانا: بکتہ بھانا، رعب بھانا۔

تتمگنت: (ع) موٹھ؛ (۱) غرور، گھمنڈ، عجب، نخوت، نمود، تعلق۔ ٹیپ ٹاپ، شان و شوکت، دیدہ، (۲) عزت، عزت بھانا، مرتبہ ظاہر کرنا، (۳) قدرت، اختیار، زور حکومت۔

تتمس کرنا: اترانا، نخوت کرنا، تعلق کرنا، دؤن کی لینا۔

تتمکین: (ع) موٹھ؛ (۱) شان و شوکت، دیدہ، (۲) مرتبہ، وقار، (۳) طاقت، بلی، برواقت کی قوت۔

تتملق: (ع) مذکر، خوشامد، چالوسی۔

تتملیک: (ع)؛ موٹھ؛ کسی شے کا مالک کر دینا۔

تتم نامہ: مذکر، مالک بنانے کی تحریر۔

تتمن / تو مان: (ترکی)؛ مذکر، (۱) ایک بھلائی سکے (۲) رسالہ، پلیٹ، توساروں کا بھتا۔

تتمدھنا: فوج جمع کرنا۔

تتماشے:؛ کیمیں تماشے، (۲) حیرت کے قابل معاملات۔
کا / تماشے کی: عجیب طرح کا، انوکھی۔

تتمی بات: ایسی بات جس سے جی خوش ہو، منہ کی بات۔
تتماکو / تمباکو / تمباکو: (۱) ایک قسم کا پودا جس کی کاشت کی جاتی ہے۔ (۲) تمباکو کے تنگ پٹے، (۳) مختلف سالے ڈال کر پان میں کھائی جانے والی اور حقے میں پی جانے والی چیز۔

تتمبولو: مذکر، (۱) دم، خیمہ (۲) دکن، موٹھ؛ ایک قسم کی شین۔

تتمبولن: (۱) موٹھ؛ پانی پیچنے والی صورت۔

تتمبولی: (۱) مذکر، پان پیچنے والا مرد۔

تتمام: (۱) پورا، کابل، (۲) کل، سب (۳) اخیر، آخر، ختم، تیار، مطلق، محض، بالکل۔

تتم کرنا: (۱) ختم کرنا، (۲) پورا کرنا، باقی نہ رکھنا، کچھ نہ چھوڑنا۔

تتم کمال: (۱) سب کا سب، کل، بالکل، یک لخت۔

(۲) کامل طور سے، پوری طرح سے۔

تتم ہونا: (۱) پورا ہونا، انجام کو پہنچنا، آخر ہونا، ختم ہونا۔

(۲) مرجانا، (۳) بند ہو جانا، ہو چکنا، خراب ہو جانا۔

صرف ہو جانا۔

تتمامی: (۱) موٹھ؛ (۱) آخر، انجام (۲) ایک قسم کا ریشی کپڑا۔

تتمبول: دیکھو تنبول۔

تتمت: (ع) تمام ہوا۔

تتم بال لیز: نیک انجام، اچھا خاتمہ۔

تتمتغ: (ع) مذکر، پھل پانا، فائدہ حاصل کرنا، فائدہ۔

تتمتھانا: (۱) دھوپ کی گرمی یا بخار کے باعث چہرے کا سرخ ہو جانا۔ (۲) (کلیتا)؛ غصے میں چہرہ سرخ ہو جانا۔

تتمتھ ہٹ: موٹھ؛ (۱) چہرے کی سُرمی جو پ یا دھوپ کی شدت سے ہو، (۲) وہ چمک ہو سُرمی جو فصد یا دم کی

وجہ سے پیدا ہو۔

تتمثال: (۱) موٹھ (۱) پیکر، صورت، (۲) (مجازاً)، فرمان شاهی۔

تتمشیل: موٹھ؛ مثال، تشبیہ، نظیر، مشابہت۔

تمنچا / تمنچا / تمنچہ : مذکر، (۱) پستول (۲) دسکری، بچکانا، چوٹا سا، (۳) (مجانا)؛ لیزو طرار مشوق۔

_____ داغنا، پستول چلانا، پستول مارنا۔

تمنتا (دع)؛ خواہش، آرزو، شوق۔

تمنتا میت : موت؛ خواہش، آرزو مندی کی حالت۔

تمنوج (دع)؛ مذکر، موسمیں مارنا، لہرن اٹھانا، تلاطم۔

تمنوز : مذکر، موسم گرما، گرمی کی شدت۔

تمنول (دع)؛ مذکر، دولت مندی، مال داری۔

تمنہسپد (دع)؛ موت؛ کسی مضمون کی اٹھان، کسی بات کی تقریب، دیباچہ، آغاز، مقدمہ۔

_____ اٹھانا؛ کسی مضمون یا کسی بات کا عنوان شروع کرنا۔

_____ کرنا؛ کسی بات کا پیش کرنا، تقریب کرنا۔

تمپز (دع)؛ موت؛ (۱) ایک اصطلاح (۲) شناخت، پہچان

جانچ، (۳) فرق، امتیاز، تفاوت، (۴) عقل، دانش،

عقل سلیم، (۵) ادب، قاعدہ، اہلیت۔

_____ دار : ہوشیار، ذی شعور۔

ت

تن : مذکر، جسم، بدن۔

_____ آسان (دع)؛ تن پرور، آرام طلب آدمی۔

_____ بدن : مذکر، تمام بدن۔

_____ بدن پھونک دینا؛ سارے بدن میں جھن پیدا کر دینا۔

_____ بدن ڈھانک لینا؛ ستر پوشی کرنا۔

_____ بدن کا ہوش نہ ہونا؛ فردی چیزوں کی بگی خبر نہ ہونا۔

_____ بدن کی خبر نہ رہنا؛ بے خبر ہو جانا، محو ہو جانا۔

_____ بدن میں آگ لگنا (مچھلنا)؛ بے مددغہ آنا۔

_____ بر تقدیر؛ تدبیر پر ترک کر کے معاملہ تقدیر پر چھوڑ دینا۔

_____ پزشت (دع)؛ بدن کا پانے والا، وہ شخص جو ہمیشہ کھانے

پینے اور بدن پلٹنے میں مصروف رہے، خود غرض۔

_____ پزورہ (دع)؛ خود غرض، آرام طلب۔

تن تازہ، قلندر راجا؛ تن پرور مہے نکلا۔

_____ تنہا؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ اکیلا آدمی، اپنے دم سے۔

_____ درست : بھلا چکا، صحت مند، صحیح سالم۔

_____ درست ہزار نعمت ہے؛ (مقولہ)؛ تندرستی سب نعمتوں پر

غالب ہے، تندرستی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

_____ دربی (دع)؛ موت؛ (۱) سعی، کوشش (۲) محنت، جانفشانی۔

_____ ڈھانکنا؛ ستر پوشی کرنا۔

_____ مسکھی تو من مسکھی؛ (دش)؛ پیٹ بھرنے سے دل ٹھکانے رہتا ہے۔

_____ سے لگنا تن کو لگنا؛ (۱) دل پر اثر کرنا، (۲) جی سے لگنا، گھر ہونا۔

_____ بڑو بدن ہونا، ہضم صحیح ہونا۔

_____ اٹھنا؛ (۱) افرج ہونا، (۲) ڈبلا ہونا۔

_____ من : مذکر، روح، قالب، جسم، جان۔

_____ من ایک ہونا؛ دو قالب ایک جان ہونا، گہرا دوست ہونا۔

_____ من بھر جانا؛ سیری ہو جانا، بہت خوشی ہونا۔

_____ من سے؛ دل و جان سے۔

_____ من کی سُدھ بڈھ نہ رہنا؛ بالکل بدحواس ہو جانا۔

_____ من مارنا؛ (۱) جسمانی اور نفسانی خواہش کو مارنا، (۲) نہایت

کوشش کرنا (۳) خاموش ہونا، ضبط کرنا، چُپ رہنا۔

_____ من وارنا؛ جان فدا کرنا۔

_____ میں جان آنا؛ توانائی آنا، تازگی آنا، فرحت آنا، حواس

_____ درست ہونا۔

_____ وتوش (دع)؛ مذکر، بدن، توانائی، قوت، بھاری چیز۔

_____ تن : موت؛ گھاس جس سے پتھر بنتے ہیں۔

_____ تنہا؛ مذکر، درخت کا جڑ سے شاخوں تک کا حصہ۔

_____ تنہا تنی؛ موت؛ (۱) آن بن، لڑائی پر آمادہ ہونا، کشیدگی۔

_____ تنہا تنہا تنہا زعمہ (دع)؛ مذکر، (۱) باہم جھگڑا کرنا، جھگڑا، (۲) رنجش، بغض، عداوت، نفاق۔

_____ تنہا تنہا (دع)؛ مذکر، (۱) باہم نسبت رکھنا، مناسبت، باہمی تعلق،

_____ باہمی مطابقت، موافقت، (۲) علم حساب کی ایک اصطلاح۔

_____ اعضا؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ مذکر، تمام اعضا کا اپنے اپنے انداز

اور مواقع سے ایک دوسرے کے مناسب ہونا، موزوں اعضا۔

تَشَابُهِي الْكُرَيْتِ : (ع) موٹ ، نسبتی اکریٹ ، کثرت آنا۔
تَشَابُحٌ : (ع) مذکر ، آواگون ، روح کا ایک قالب سے صل کر دوسرے
قالب میں آنا۔

تَشَابُلٌ : (ع) مذکر ، نسل بڑھانا ، اولاد پیدا کرنا۔

تَشَاظُرٌ : (ع) مذکر ، (ا) ایک دوسرے کو دیکھنا ، (ب) نظر میں آنے
والے مناظر ، حد نظر۔

تَشَاوَرٌ : (ع) ؛ مذکر ، (ا) نفرت کرنا ، جاگانا ، (ب) علم معانی کی
ایک اصطلاح۔

تَشَاوُضٌ : (ع) ؛ ایک دوسرے کی ضد ہونا۔

تَشَاوُرٌ : (ع) ؛ قوی جڑ ، قوی ، مضبوط ، (ب) بڑے تنے
والا درخت۔

تَشَاوُلٌ فرمانا / کرنا : (ع) ؛ مذکر ، کھانا کھانا۔

تَشَاوُنٌ ہونا : کچھا ہونا ، اکڑا ہونا ، ضد پر ہونا۔

تَشَاوٌ : مذکر ، کھانا۔

تَشَاوَانٌ : جسم کا چٹ پڑنا (ورم کی وجہ سے)۔

تَشَاوُكُوٌ : دیکھنا ، تمباکو۔

تَشَاوُيُوٌ : مذکر ، دیکھنا۔

تَشَاوُورٌ / تَشَاوُورٌ / تَشَاوُورٌ : (ع) ؛ مذکر ، ایک قسم کا ساز جو ستار
جیسا ہوتا ہے ، (تجدد ، آرد)۔

تَشَاوُولٌ : (ع) ؛ مذکر (ا) پان ، (ب) نیوتا ، وہ باجی لین دین جو شادی
کے موقع پر کرتے ہیں ، (متروک)۔

تَشَاوُوبٌ : (ع) ؛ مذکر ، دھکی ، تیشہ ، آگاہی ، خبرداری۔

تَشَاوُوبَانٌ / تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ رسالت کی ہواسے گونا گونا گوی کارنگ تانبے
کے مانند ہونا ، (ب) تانبے کے رنگ کا ہونا ، (متروک)۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ چہرے کا رنگ جو گرمی سے سرخی مانگ ہو جائے ، (ب) تانبے
کا رنگ کا ، (ب) گند گوں۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ، آگاہی ، واقفیت ، خبرداری ، (ب) پند ،
نصیحت ، جرت ، (ب) تاکید ، حکما ، پیغام دینا ، (ب) جھڑکی ،

طاقت ، تہدید ، سزا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ / تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ، (ب) غصہ اور غرور کا انداز ، جلی جلی باتیں ،
فصیحے میں بھری باتیں۔

تَشَاوُوبِيَانٌ / تَشَاوُوبِيَانٌ : مذکر ، جھڑکا ، فساد۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : مذکر ، (ا) ایک شاستر کا نام ، (ب) منتر ، ٹونا ، ٹونکا ، جادو۔

تَشَاوُوبِيَانٌ / تَشَاوُوبِيَانٌ : مذکر ، (ا) گزوفر ، ڈیرہ ، (ب) حکومت ، محکمہ ، (ب)
فصہ (ب) غرور۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ اترانا ، ناک بھوں چڑھانا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ ہونے میں ہونا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ (ب) سون ، (ب) حکیمت جو دم کی وجہ سے ہو۔
تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ چوٹا ستار ، سارنجی ، دو تارا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ خفا ہو جانا ، اکڑ جانا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ مشاہرہ ، روپیا جو نوکری کا معاوضہ ہو۔
تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ تھوڑا پانے والا ، نوکر۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ تیز ، (ب) جھلا ، غضب ناک ، (ب) سخت (ب) تلخ ،
کڑوا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ / تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ جو معمولی باتوں میں ناخوش اور
بددماغ ہو ، تیز مزاج۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ تیز چلنے والا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ تیز فہم ، ذہین۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ (ب) تیزی ، چرپرہٹ ، (ب) سختی ،
خشونت ، (ب) غصہ ، بد مزاجی۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ مذکر ، تنور ، بھاڑ ، روٹی پکھانے کا ایک بلاظرف
جو زمین میں گاڑا جاتا ہے۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : بڑے پیٹ والا ، فرہ ، توہمند۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ مذکر ، اترنا ، درجہ کا کم ہونا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ مذکر ، (ب) حسب سے خند ہونا ، (ب) دھماکا ، خوشی ،
بے خمی۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ ایک قسم کے بارپک کپڑے کا نام۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ (ب) نازل کرنا ، نیچے اترنا ، (ب) قرآن مجید۔
تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ صاف کرنا ، عیب سے پاک کرنا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ (ب) اہتمام ، فسوخ کرنا ، باطل کرنا۔

تَشَاوُوبِيَانٌ : (ع) ؛ موٹ ؛ (ب) تاملے میں موتی پڑونا ، انتظام کرنا ،
درست کرنا ، انتظام۔

دانتوں میں لینا/تڑکا دانتوں میں پکوانا/تڑکا تڑمہ میں لینا؛
دکائیٹا؛ ماہوی کرنا، بگڑ گوانا، جان بخشی چاہنا، امان مانگنا۔
پتاہ مانگنا۔

ساؤڑنا؛ منحہ روٹوک جواب دینا۔

نڈرٹنا؛ ہانکل صفائی ہو جانا، ایسا لٹاکر کچھ نہ رہے،
بھاڑو پھر جانا۔

ہوجانا؛ (مجازاً)؛ نہایت ڈبلا ہو جانا۔

چٹنا؛ بدحواس ہو جانا، دیوانہ ہو جانا۔

کاحسان ماننا؛ ذرا سے احسان کا بھی شکر گزار ہونا۔

کاسہارا؛ مذکر، ذرا سی مدد، تھوڑی سی ڈھارس۔

کوپہار کر دکھانا؛ (۱) جیوتھی سی بات کو بڑی کر دکھانا، مبالغہ
کرنا، (۲) اونٹنی کو اٹھا کر تہے پر پہنچا دینا۔

کی آوٹ (اوچھل) پہنار؛ (شہن)؛ ذرا سی بات میں کسی بڑی

بات کا چھپا ہونا، مشکل امر کا ذرا سی تدبیر سے درست ہو جانا۔

تنگلنا؛ (۱) ناراض ہونا، بگڑنا، جھلانا، (۲) بے چین ہونا۔ بے
قرار ہونا۔

تنگیر؛ (۱) موٹ؛ (۲) اسم بکرہ بنانا، (۳) بڑی حالت کرنا۔

تنگ؛ (۱) (۱) منکوا ہوا، بچھا ہوا، (۲) فریب، مفلس،

مجاج، مصیبت زدہ (۳) عاجز، (۴) طول، (۵) مشکل،

دشوار، (۶) مذکر، زہن کئے کا تسمہ۔

آنا؛ عاجز آنا، مجبور ہونا، بے زار ہونا، تھک جانا۔

پٹم؛ (۱) کم ظرف، پست ہمت، کینہ، بخیل،

حال ہونا، مصیبت میں ہونا، اُفلاس میں مبتلا ہونا۔

خوصلہ؛ (۱) کم ظرف، کینہ، اُدھا۔

دست؛ (۱) منطس، نادار۔

دل؛ (۱) بخیل، اُدھا، کم ظرف۔

دہن؛ (۱) منطس، دہن، چوسے ڈٹہنے کا (مشق)۔

رہنا؛ پریشان رہنا، ہی دست رہنا۔

ظرف؛ (۱) اُدھا، کم حوصلہ، پست ہمت۔

کرنا؛ سستانا، دق کرنا، عاجز کرنا، حیران کرنا،

مکلیت دینا۔

تعمم؛ (۱) مذکر، ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا، امن چین سے
زندگی بسر کرنا، ناز و نعمت۔

تخصص؛ (۱) مذکر، طبیعت کا مکدر ہونا، غصے سے بھرا ہونا۔

تغیر؛ (۱) مذکر، نفرت، بے زاری۔

تنفیس؛ (۱) مذکر، (۲) سانس لینا، دم لینا، (۳) مانپنا، (۴) سانس
کی بیماری، دُمر۔

تشیخ؛ (۱) موٹ؛ (۲) کسی چیز کو زوائد اور محبوب سے پاک کرنا،
خالص کرنا، (۳) تفتیق، تفتیش، کوچ، نقص، (۴) دقانون،

وہ سوال جو امر و نزعی طے کرنے کی فرض سے بنا تے ہیں، (۵) جمع
تشیجات)۔

أُمُور تصفیہ طلب؛ نزعی امور کو واضح کرنا۔

تتقید؛ (۱) موٹ؛ (۲) پرکھ، جانچ، ایسی جانچ جس سے اچھے بڑے
کی تیز ہو جائے، (۳) نکتہ چینی۔

تتقیص؛ (۱) موٹ؛ (۲) کم کرنا، نقصان، کمی، اعتراض۔
نقص نکالنا۔

تتقیص؛ (۱) مذکر، آنہوں کو صاف کرنا، صاف کرنا، جلاب لینا۔
تنگ؛ (۱) دم؛ ذرا سا۔

تتنگ؛ (۱) غنیمت، کمزور، کم، تنگ، بے حقیقت۔

جانا؛ بھوک جانا، پر پڑھنا، دکھانا۔

ظرف؛ (۱) اُدھا، کم حوصلہ، پیٹ کا ہلکا، جس کے
پیٹ میں بات نہ چپے۔

مزاج؛ (۱) نازک مزاج، پڑچڑا۔

تڑکا؛ (۱) سوکھی گھاس کا چھوٹا ٹکڑا، (۲) کوڑا کرکٹ، (۳)
دھانڈا کوئی ذرا سی چیز، بہت ہلکا۔

آٹارنا/تڑکا سر سے آٹارنا؛ دکائیٹا؛ کسی پر خیف احسان کرنا،
تھوڑا سا احسان کرنا۔

ادھر ادھر نہ ہونا؛ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بے ترتیبی نہ ہونا۔
خالص نہ ہونا۔

آٹارنے کا احسان ماننا؛ ذرا سے احسان کو بھی ماننا، معمولی
مدد کے لیے بھی شکر گزار ہونا۔

تڑکا؛ ہر ایک تڑکا، ذرا ذرا۔

تو بات ہے : تو لطف ہے ؛ خاص بات ہے ؛ تعریف کے لائق ہے۔
 — بھی : باوجودیکہ ، پھر بھی ، تاہم۔
 — پھر : جڑا کے جملے پر آتا ہے۔
 — سہی : بالضرور ، یقینی ، شرعی ، دھمکی دینے کا کلمہ ہے۔
 — کیا : اس کلمے کے بعد نقصان ہوا ، حرج ہوا ، مضائقہ ہوا۔
 — کیا ہوا : کچھ نہیں ہوا ، بے سود ہوا۔
 — تو : (ضمیر واحد غائب) ؛ حرفِ خطاب جو ادنا یا کم درجے والے کی نسبت بولا جاتا ہے۔
 — تڑپا کرنا : بدزبانی کرنا ، زبان درازی کرنا۔
 — بھکار : موت ؛ گالی گلوچ ، بدزبانی ، زبان درازی۔
 — تو میں میں : موت ؛ گالی گلوچ ، زبان درازی ، بھگڑا ، ٹنٹا۔
 — چل میں چل : بھل چلنا ، کھلبلی پیدا ہونا۔
 — ڈال ڈال میں پات پات : دیکھو دم ڈال ڈال تو میں پات پات۔
 — کیا ہے : تیری ہستی کیا ہے۔
 — مجھ کو میں مجھ کو : (دش) ، تو میرا ساتھ دے گا میں تیرا ساتھ دوں گا۔
 — نے کہی میں نے مانی : میں کسی طرح تمہارا کہنا باور نہ کروں گا۔
 — ہو اور دنیا ہو : تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے ، دنیا کا لطف تیرے ساتھ رہے۔
 — ہی تو ہے : جو کچھ ہے تو ہی ہے ، خدا تعالیٰ۔
 — تو : (۱) روٹی پکانے کا لوہے کا گول برتن ، (۲) حمام یا مقابلے میں لگایا ہوا تانبے یا لوہے کا گول پتر۔
 — سر سے باندھنا : اپنے آپ کو مستحکم کرنا ، مضبوط بنانا ، سر کی حفاظت کر کے لڑنے کو مستعد ہونا۔
 — ہنسنا : چلے ہوئے تو سے کے نیچے بہت سا کا جل جمع ہو کر پھول جھڑنا۔

تنگ ناسے : (د) ؛ موت ؛ (۱) تنگ کوچہ ، تنگ جگہ ، (۲) دھماکا ، تیر ، دنیا یا آدمی کا بدن۔
 — ہاتھ ہونا : منفس ہونا ، پیسا پاس نہ ہونا۔
 — تنگی : (د) ؛ موت ؛ (۱) کمی (۲) منفسی ، محتاجی ، غریبی ، (۳) سختی ، (۴) مشکل ، دقت ، دشواری ، (۵) کم ظرفی۔
 — تڑپا : کفایت شعاری ، سبکدستی کے ساتھ۔
 — کرنا : (۱) کوتاہی کرنا ، (۲) کمی کرنا ، کٹھنی کرنا ، جرسی کرنا ، (۳) سختی کرنا ، بر کرنا (۴) کم ظرفی کرنا۔
 — تنگ : (د) ؛ مذکر ، ایک پڑائے زمانے کا سکہ۔
 — ٹنٹا : (۱) کھینچنا ، کشیدہ ہونا ، (۲) سیدھا ہو کر بیٹھنا ، (۳) پھیلنا ، (۴) ہلا ہونا۔ (۴) پھولنا ، بھر کر موٹا ہونا ، (۵) ایشٹنا ، اکڑنا۔
 — سینہ اٹھارنا ، دکھانا ، (۶) کھڑا ہونا ، گڑنا ، (۷) طول پھولنا ، (۸) گھنڈ کرنا ، (۹) دکھانا ، (۱۰) شکم سیر ہونا۔
 — تنور : (د) ؛ روٹی پکانے کا چٹلھا ، حدود ، ہماڑ۔
 — جھونکنا : تنور گرم کرنا۔
 — سے بچنے کے لیے بھاڑ میں گرے : (دش) ؛ تھوڑی سی لمبیت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت میں مبتلا ہونا
 — تنور : (د) ؛ مذکر ، قسم قسم کا ہونا ، گونا گوں
 — تنور مند : (د) ؛ قوی بزم ، چٹا کتا۔
 — تنور پر : (د) ؛ موت ؛ روشنی ، چمک۔
 — تنورین : (د) ؛ موت ؛ کسی حرف پر دو زبر (ے) یا دو زیر (ہ) یا دو پیش (ت) لگانے سے نون کی آواز نکالنا۔
 — تہہ : (د) ؛ اکیلا ، فرد ، جڑا ، جریدہ ، جزو ، (۲) صرف ، فقط ، اپنے دم سے (۳) یکتا ، لاثانی ، بے نظیر ، طاق۔
 — تھوری : (د) ؛ موت ؛ اکیلا کھانا ، اکیلا اکیلے کھانے کی عادت۔
 — تہہ ناتی : (د) ؛ موت ؛ علامہ کی ، مفارقت ، اکیلا رہنا۔
 — تہی رہنا : جھگڑا رہنا ، ناخوشی رہنا۔

ت

تو : (۱) تب ، بس ، الحاصل ، حاصل کلام ، (۲) اُس وقت ، پھر ،

— **توبہ کرنا:** (۱) زبان سے توبہ کا اظہار کرنا، (۲) نفرت و عناد کا اظہار کرنا، فردر یا کسی کی شان و تعظیم کے خلاف بات کہنے سے پہلے معذرت کرنا۔

— **توڑنا:** قول سے پھرنا، جیسے پھرنا۔

— **توڑنا:** (۱) توبہ توڑنے والا، (۲) (مجازاً) مشوق، بند۔

— **کا در بند ہونا:** توبہ قبول ہونے کا وقت گزر جانا۔

— **کر کے کہنا:** (۱) خالص ڈر کے کہنا، خاک پاٹ کے کہنا۔

— **شیخی سے باز آکر کہنا:** (۲) دعوے سے کہنا۔

— **کرنا:** گناہ کرنے سے باز آنا بے ہودہ باتوں سے اجتناب۔

— **توبہ نصوحا:** یہی توبہ۔

— **توبہ نوازنا:** توبہ قبول کرنا۔

— **تو بیچ:** (۱) موت، (۲) سلامت، بھڑکی، طنز، سرزنش۔

— **توپ:** (۱) ترک، (۲) گولہ چلانے کا آلہ، (۳) (مجازاً)، بہت موٹا آدمی۔

— **پڑ رکھنا:** اڑا دینا۔

— **پچی:** (۱) توبہ، (۲) توبہ چھوڑنے والا، گوندنا، غلامی۔

— **خانہ:** (۱) توبہ، (۲) توبہ قبول کرنے کا مقام، میگزین۔

— **دہم کرنا:** کسی کو توبہ سے اڑا دینا، غارت کرنا، تباہ کرنا۔

— **توپنا:** (۱) بند کرنا، (۲) زمین میں گاڑنا، زمین میں دفن کرنا، دباننا، (۳) پھپھانا۔

— **توت / شہتوت:** (۱) توبہ، (۲) ایک قسم کا پھل۔

— **توتا / طوطا:** توبہ، مشہور پرند، (۲) فضل خوش گفتار، پیار کا کلمہ۔

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **پالنا:** کسی پھوڑے پھنسی کا علاج نہ کر کے بیماری کو طول دینا، (۲) سوزاک یا آتشک کی بیماری لگانا، (۳) کوئی ایسا کام

— **توبہ کی بوند:** ناپائیدار چیز، جلد فنا ہونے والی۔

— **توابع:** (۱) جمع تابع کی، مذکر، پیچھے آنے والی چیزیں، پیرو۔

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

— **تو اثر:** (۱) مذکر، (۲) لگا تار، یکے بعد دیگرے، (۳) (مجازاً) کسی بات

حسن و جمال وغیرہ میں دھاک ہونا، دُور دُور ہونا، (۲) اقبال یاد ہونا، کسی امیر کے دربار یا سرکار میں با وقعت ہونا، با اثر ہونا۔

تُوٹی کا پڑھنا: توتی کا پھیلنا۔ توتی کا سنن سرائی کرنا۔
 کی آواز نثار خانے میں کون سنتا ہے؛ (دش)؛ بڑے کارخانوں میں چوٹوں کی کون سنتا ہے، بڑے آدمیوں کی راسے کے سامنے ادنا آدمی کی راسے کوئی نہیں پوچھتا۔
 توتے پڑھانا: توتے کو بولنا سکھانا، ایسے شخص کو پڑھانا جو معنی سمجھنے پر قادر نہ ہو۔

کی طرح آنکھ بَدل جانا: توتے کی سی آنکھیں پھیرنا، بک بخت بے مروت ہونا، دفعتاً بے مروت ہو جانا۔
 کی طرح پڑھنا/ یاد کرنا: بے سمجھے پڑھنا، بے سمجھے یاد کرنا۔
 توتیا: (د)؛ مذکر، (۱) نیلا سوتھا، (۲) شرمے کا پتھر جس کو باریک پیس کر آنکھوں میں لگاتے ہیں، شرمہ۔
 توتیا: مذکر، الزام۔

باندھنا: الزام لگانا۔
 طوفان جوڑنا: توتیے جوڑنا، بہتان لگانا۔
 توتہ: (د)؛ مؤنث، (۱) رجوع، میل، رجعت، (۲) خیال، لحاظ، ہر بانی، حنایت، شُفقت۔
 نامہ: مذکر، کسی خاص مسئلے پر دھیان دلانے والی درخواست۔
 توجیہ: (د)؛ مؤنث، (۱) وجہ بیان کرنا، دلیل لانا، (۲) علم عروض کی ایک اصطلاح۔

توتش: (د)؛ مذکر، وحشت، نفرت۔
 توحید: (د)؛ مؤنث، ایک ماننا، ایک جاننا، وحدانیت، یکسانی، خدا کے ایک ہونے پر یقین لانا۔
 تودہ: (د)؛ مذکر، (۱) انبار، ڈھیر، (۲) وہ بٹی کا ٹیلا یا کچی دیوار جس پر تیر انداز تیر مارنے کی مشق کرتے ہیں، (۳) برکزت۔
 (۴) وہ بٹی کا ڈھیر جو حدودِ اراضی پر حدنما ہر کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں۔

بندی: مؤنث؛ حد بندہندی۔
 طوفان: (د)؛ اضافت کے ساتھ؛ مذکر، (۱) فساد، فتنہ،

(۲) بہت الزام۔

تور: (ترکی)؛ مذکر۔ پوشش جو میلے یا پالکی پر ڈلتے ہیں، جھارہ ابر بہار ہر کی والی۔

تورہ: مذکر، (د)؛ (۱) شرع، سنت، طریق، حکم شاہی، (۲) مختلف اقسام کے لذیذ کھانے جو غوانوں میں لگا کر بڑے مٹھکے کے ساتھ تقریبات میں تقسیم ہوتے ہیں، (۳) تور، ناز، گھنڈ، نمود (۴) عزت، رتبہ۔

بندی: مؤنث؛ شادی سے پیشتر گھر گھر تورہ تقسیم کرنے کی تقریب۔

پوشش: مذکر، (۱) حوان پوش، (۲) وہ سر پوش جو توروں کے حوانوں پر بانس کا بنا ہوا ڈھانکا جاتا ہے۔

تورنا: زور کم کرنا، غور دیشانا۔

جتانا: (د)؛ مؤنث؛ غمخ کرنا، غور کرنا، شہنی کرنا، تعلق کرنا۔ دکھا دے کی پرہیزگاری جتانا، اپنی بزرگی دکھانا۔

تورے دار: معزز لوگ جن کو منجاب بادشاہ تقریب کا کھانا بھیجا جاتا ہے۔

توریش: مؤنث؛ وہ آسانی کتاب جو حضرت موسیٰ پر اتاری تھی۔
 تور: مذکر، (۱) شکستی، ٹوٹ پھوٹ، (۲) دریا کی روانی کا زور، بہاؤ کا زور، (۳) دہی کا پانی، دہی کا توڑ، (۴) جواب، زد، (۵) تپا، انتہا۔ گولی یا گولے کے مقدار مسافت، (۶) دائرہ کا دھیرے، (۷) بیزکی قیمت کا فیصلہ، چنگوتا، (۸) تپریا بندوں کی گولی کا نشانہ کے پار ہو جانا، تورنے کی وقت، زور، طاقت، (۹) علاج، چارہ، دھیرے۔

پر ہونا: (۱) تم پر ہونا، (۲) زور پر ہونا۔

پھوڑ/ توتھاڑ: مؤنث؛ (۱) شکستی، ٹوٹ پھوٹ، (۲) نیست و نابود کرنا، پایمانی، خرابی، ویرانی، (۳) سازش، اغوا۔

جوڑ: مذکر؛ (۱) تراش ٹوڑا، (۲) تدبیر، سازش، فطرت، (۳) مکاری، (۴) دو آدمیوں میں پھوٹ ڈلوانے یا جھگڑا کر دینے کے ڈھنگ، (۵) کاٹ چھانٹ، (۶) اتفاق کی ترکیب کا ڈھنگ، (۷) چال۔

توشدان؛ مذکر، وہ برتن جس میں سفر کے لیے کھانا رکھیں۔
توشک؛ (ترکی)؛ موتھ؛ رونی داربستر، گنا۔

_____ خانہ؛ (د)؛ وہ کرا جس میں امیروں کی پوشاک اور لباس رہتا ہے، پارچہ خانہ۔

توشہ؛ (ت) مذکر، (د) زادراہ، وہ کھانا جو مسافر اپنے ساتھ لے جاتے، (۲) وہ کھانا جو مردے کے ساتھ لے جاتے اور قبرستان میں گورن کو دیتے ہیں، (۳) کسی ولی یا بزرگ کے نام کا کھانا، (۴) راستے کا خرچ، سفر خرچ۔

_____ عاقبت؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ (د)؛ اعمال نیک، اچھے کام۔ وہ کام جو مرنے کے بعد کام آئیں، (۲) (د) مجازاً؛ مضموم بچے جو ماں باپ کے سامنے مر جائیں۔

توشے کی رونی؛ موتھ؛ نان و ملوا جو میت کے ساتھ قبرستان لے جاتے ہیں اور خیرات کہتے ہیں۔

توشیح؛ موتھ؛ علم بیان کی ایک صنعت کا نام، جس میں اشار اس ترتیب سے کیے جاتے ہیں، جن کے ہر مصرع کے پہلے حرف ترتیب سے لکھے جانے پر کسی کا نام یا کوئی عبارت پیدا ہو۔

توصیف؛ (د) موتھ، تعریف، خوبی، وصف۔

توضیح؛ (د) موتھ؛ شرح، تشریح، وضاحت، کھول کے بیان کرنا۔
توطن؛ (د)؛ وطن اختیار کرنا، غیر ملک کو وطن بنالینا۔

توطیہ؛ (د)؛ مذکر (د) دعا کی جہید (۲) شعر میں قافیے کی حکمران، (۳) الزام لگانا، تہمت ہاندھنا۔

توغل؛ (د) مذکر، کسی کام میں بہت لگا رہنا، دھمن۔

توقان؛ مذکر، (د) طوفان، شور و غوغا، دریا کی شورش، (د) بہتان، الزام۔

توفیر؛ موتھ؛ زیادتی، ہمت۔

توظیق؛ (د) موتھ؛ (د) خدا تعالیٰ کا بندے کی خواہش کے موافق نیک سبب بہم پہنچانا، ہدایت، رہنمائی، خدا کا فضل، خدا کی ہر بانی، (۲) طاقت، حوصلہ۔

_____ **تغیر**؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ نیک کام کی ہمت۔

_____ **تہمت**؛ ہمت ہونا، ہدایت ہونا۔

توق؛ (د) موتھ؛ امید، بھروسا، آسرا۔

تور کرنا؛ (د) قیمت کا فیصلہ کرنا، (۲) حساب صاف کر لینا، (۳) کشش یا نیزے باز کے دائروں کا زور کرنا۔

_____ **کی صراعی**؛ وہ صراعی جس کے سنے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
لینا، الگ کر لینا، اپنی طرف کر لینا، پھوڑنا توڑنا۔

توڑا؛ مذکر۔ (د) کمی، قطع، قلت، (۲) رسی کا ٹکڑا، (۳) بھل کی لمبی لکڑی جس میں جو لگا دیا جاتا ہے، (۴) تھیلی، آشرنی یا رپہوں کی تھیلی، (د) ایک قسم کی زنجیر طلا یا نقرہ کی، جس کو گھگے یا ماتھیا پانوں میں پہنتے ہیں، (۹) نقصان، خسارہ، ٹوٹا۔

_____ **مڑوڑی**؛ موتھ؛ توڑنا، مڑوڑا، جینا جھپٹی، ہاتھ پائی، گنا، ڈلنا۔

تورے دار بندوق؛ موتھ، وہ بندوق جو پلٹنے کے ذریعے سے پھوڑی جاتے۔

توڑانا؛ دیکھو توڑانا۔

تورے کے بھل جانا؛ کسی ایسی چیز کا اس پار سے اس پار ہو جانا جو رتیق نہ ہو۔

توڑنا؛ شکستہ کرنا، ٹکڑے کرنا، چکنا چوڑ کرنا، پاش پاش کرنا۔
مڑوڑنا؛ گنا ڈلنا، کسی شے کو بھل اور غم دینا، لوہے کے تار کو بھل دار کرنا۔

توس؛ (د) انگ، ٹوسٹ، مذکر، ٹوسٹ؛ نان پاؤ کا ٹکڑا۔

_____ **دان**؛ (د) کار توں رکنے کا بکس جو سپاہیوں کی کمرے بندھا رہتا ہے، (۲) توں رکنے کا برتن۔

توسٹ؛ (د) مذکر، (د) میانہ روی، اعتدال، درمیان، (۲) ذریعہ، وسیلہ۔

توشل؛ (د) مذکر، وسیلہ ڈھونڈنا، کسی کو بیچ میں ڈالنا، ذریعہ، سفارش، شفاعت۔

توسن؛ (د) شوخ اور سرکش گھوڑا۔

_____ **اٹنا**؛ گھوڑے کا ترارے بھرنا۔

_____ **پھوڑنا**؛ گھوڑا بھوڑنا۔

_____ **چمکنا / توسن پھوڑنا**؛ گھوڑے کو تیز کرنا۔

توسیح؛ (د) موتھ؛ وسعت، کشادگی، وسیع کرنا۔

تو اُمنّا: (۱) روئی کے محکومے محکومے کرنا، روئی صاف کرنا، (۲) گروے مروے اکیڑنا، جب کھولنا۔

تو نبا / تو نبڑا: مذکر، ایک قسم کا تلخ کدو جس کو اندر سے خالی کیے فیر کھول پھاگل وغیرہ بناتے یا ستاریں لگاتے ہیں۔

تو ندر: مؤنث؛ بڑا پیٹ۔

تو ندریل / تو ندریل: مذکر، تو ندر والا آدمی۔

تو ندری: مؤنث؛ نات۔

تو نس: مؤنث؛ شدت کی پیاس۔

تو نستا: آفتاب کی گرمی سے مضمحل ہو جانا، بے تاب ہو جانا، پیاس کا بڑھ جانا۔

تو ندر: (۱) قدرت والا، دولت مند، مال دار۔

تو ہم: (۱) مذکر، دوسا، وہم، وہم میں پڑنا، لگان ہٹک، (۲) جمع: توہات۔

تو ہین: (۱) مؤنث؛ اہانت، ذلت، حارث۔

عدالت: (۱) اضافے کے ساتھ؛ مؤنث؛ عدالت کی حجر، عدالت کی سیکی۔

توئی: مؤنث؛ ایک قسم کی کپڑے پر بنی ہوئی جلی جو عوریں اکثر دوپٹوں اور ریشموں وغیرہ پر لگاتی ہیں۔

ت

تہ: (۱) مؤنث؛ نیچے، (۲) پینڈی، (۳) تھاہ، انتہا،

(۴) پرت، (۵) نکتہ، باریکی، زمر، (۶) تھپتھ، دُند، گاد،

(۷) فرش، سلح، زمین، (۸) جھلک، تحریر، باریک اور پتلا

دَرَق، (۹) قمر دریا، قمر چاہ، کسی گہری جگہ یا گہری چوڑی کا

وہ مقام جہاں پاؤں یا ہاتھ قائم ہوں۔

بازار: مؤنث؛ بازار کی زمین۔

بازاری: مؤنث؛ وہ محسول جو بازار میں دکان لگانے

دلوں سے لیا جاتا ہے۔

پر تہ: (۱) ہر ایک تہ میں، ہر ایک پرت میں، ایک کے

نیچے ایک، طبق در طبق۔

تو قف: (۱) مذکر، دیر، وقف، ڈھیل۔

تو قیز: (۱) مؤنث؛ تعظیم و تحکیم، وقعت، عظمت۔

تو قلیج: (۱) مذکر، فرمان شاہی، شاہی دستخط، جمع: توقیعات۔

تو کل: (۱) مذکر، صرف خدا پر بھروسہ کرنا، خدا کی طرف توجہ کرنا۔

پر بیٹھنا: (۱) خدا پر بھروسہ کرنا، اپنے سارے کام خدا پر چھوڑ دینا، (۲) بے کار بیٹھنا، خالی رہنا۔

تو کلت علی اللہ: (۱) میں خدا کی مرضی پر راضی ہوں؛ مذکر؛ مصلحت کو خدا پر چھوڑ کر مبرا کرنا۔

تول / تول: مؤنث؛ (۱) وزن، معرکہ وزن، جانچ، اندازہ۔ لینا: آزمائینا، آزمائش کر لینا۔

تولنا: وزن کرنا، اندازہ کرنا، جانچنا، لیاقت اور قابلیت کا امتحان لینا۔

تولا: مذکر، بارہ ماشے کا وزن۔

ماشہ: (۱) وہ مریض یا نازک مزاج آدمی جو دم بھر میں کچھ اور دم بھر میں کچھ ہو جائے، (۲) بے ثبات، غیر مستقل مزاج۔

بھری آرسی نانی بولی فارسی: (۱) دشمن؛ تھوڑا سا سلوک کر کے بہت سا احسان جتاننا۔

تولا: (۱) مذکر، محبت رکھنا۔

تولائی: مذکر، محبت رکھنے والا، اہل تشیع کا وہ فرقہ جو تبرا نہ کرے۔

تولید: (۱) مذکر، پیدائش، پیدا ہونا۔

تولیا: مذکر و مؤنث؛ ایک بڑا سا دھول دار دھول (دھول)۔

تولیت: (۱) مؤنث؛ کسی کو حاکم کرنا، سربراہی، (۲) انتظام، بھروانی۔

تولید: (۱) مؤنث؛ (۲) جتاننا، پیدا کرنا، (۳) پیداوار۔

تومڑی / تو مڑی: مؤنث؛ (۱) چھوٹا تو نبا، سوکھے ہوئے توبے کی چھاگل، کھجور، (۲) مٹی کی چھوٹی سی لالٹین جس پر جھستی

موند کر چراغ جلاتے ہیں، (۳) منگو کی تھوٹھی، (۴) رسولی،

توڑی، (۵) وہ باجا جو سپہرے سانپ نچلاتے وقت جھلتے

ہیں، سپہروں کی بین۔

تہہ: (د)؛ مذکر، نکی، تہہ۔

پانا: اصل حقیقت دریافت کر لینا۔

پوشی: (د)؛ موتھ؛ زنانہ پاجامہ، وہ لہنگا جو عورتیں

ساری کے نیچے ستر پوشی کے واسطے پہنتی ہیں، پٹی کوٹ۔

پنج: (د)؛ مذکر، پجڑی کے نیچے کا کپڑا۔

توڑنا: (د)؛ کچھ باقی نہ رکھنا، خوب کھانا، (۲)؛ کنویں کا پانی

نکال ڈالنا۔

تخیج کرنا: (اضافہ کے ساتھ)؛ تلوار سے کٹ کرنا۔

ٹوٹنا: (دکھانا)؛ دو الٹکھانا۔

جھانا: (د)؛ اُوپر سے رکھنا، (۲)؛ کھانے پر کھانا۔

خانہ: مذکر، مکان کا وہ حصہ جو زمین کے نیچے بنایا جائے۔

دار: (د)؛ دقیق، مشکل، پیچدار، پہلو دار، ظاہر میں

کچھ باطن میں کچھ۔

ڈرڑ: نیا کپڑا، وہ کپڑا جس کی تہ نہ ٹوٹی ہو۔

دل سے: (اضافہ کے ساتھ)؛ غصے کے ساتھ، چتے دل سے۔

دلی: موتھ؛ اطمینان۔

دیگ/دیگی: موتھ؛ نیچے کا وہ کھانا جس میں روغن

زیادہ ہوتا ہے، اکثر پلاؤ، زردہ وغیرہ چاولوں کے

کھانے، کھنچ۔

دینا: (د)؛ ہلکا رنگ دینا، (۲)؛ کسی پیر کھانے اور رکھنا

(۳)؛ استر لگانا۔

کرنا: (د)؛ قاعدے سے پیشا دکرے کا؛ (۲)؛ ترک کرنا،

چھوڑنا۔

کو پہنچنا: حقیقت کو پہنچنا، کسی بات کے مفرد کو پہنچنا، اصل

مطلب دریافت کر لینا، منشا کو پہنچنا۔

کی بات: موتھ؛ گھر کی بات، اصل بات۔

نشین: (د)؛ تہ پر بیٹھنے والا، (۲)؛ موتھ؛ ڈرڑ،

تہمت، (۳)؛ دل میں جم جانے والا خیال، ذہن میں آجانے

والی بات۔

نکالنا: باریکی نکالنا، اصل بات کو پاجانا۔

وبالا: (د)؛ زیر وزیر، آٹ پلٹ۔

تہانا: تکرنا۔

تہائی: موتھ؛ تیسرا حصہ، ٹکٹ۔

تہتر: ستر اور تین (۴۳)۔

تہنگ: (د)؛ مذکر، بے آہوئی، جھڑا، نثار۔

تہجد: (د)؛ موتھ؛ (د)؛ رات کو جاگنا، (۲)؛ اصطلاح؛ نماز نفل

جو آدمی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

تہجی: (د)؛ موتھ؛ پہلے کرنا، مفرد معروف کا اعراب سے جو مذکر

تعلقہ نکالنا۔

تہہارا: (د)؛ مذکر، پانی کی سطح کے نیچے چلنے والی لہر، موج

تہ نشین۔

تہہ پید: (د)؛ موتھ، (د)؛ دھکی، گھڑکی، سُرزنش، جھینپ،

(۲)؛ ڈرانا، دھکانا۔

تہہ زپ: (د)؛ موتھ لچھا، استھی، پاکیزگی، اصلاح، (۲)؛

شایستگی، خوش اخلاقی۔

اخلاق: (اضافہ کے ساتھ)؛ موتھ؛ دستی اخلاق، انسانیت،

خوش اخلاقی۔

یافتہ: تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، شایستہ، تہذب۔

تہرا: مذکر، (د)؛ جھٹنا، سرچند، تین تہ کا، تین طرح کا۔

تہرانا: تیسری دفعہ کوئی فعل کرنا، تیسری دفعہ کرنا۔

تہری: موتھ؛ ایک قسم کا کھانا، چاول، آکو، یا بڑی کے ساتھ

پیکلتے ہیں، اور ہلدی کا رنگ دیتے ہیں۔

تہس تہس: تہ وبالا، تہا ویرباد، تاس، غارت۔

تہلک: مذکر؛ (د)؛ شور و غوغا، کھل جلی، (۲)؛ درشت، خوف،

(۳)؛ غارت ہونا، تباہی۔

تہلیل: (د)؛ موتھ؛ لا الہ الا اللہ، کہنا۔

تہمت: (د)؛ موتھ؛ گمان بد، بہتان، جھوٹا عیب، افتراء،

طوفان۔

تراشنا/جوڑنا/دھرنا/دینا/رکھنا/لگانا: عیب لگانا،

الزام دینا، بڑائی تھوپنا۔

تہلکنا: الزام دینے آنا۔

کا گھر تہمت کی گئی: (د)؛ عیب کی جگہ، بدنامی کا گھر، (۲)؛

تیاگنا: چھوڑنا، ترک کرنا۔
 تیاگی: (۱) چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، (۲) سادھو، جوگی۔
 تپتھی: موتھ؛ ایک قسم کی کچی سلائی، جلاٹ بنیہ۔
 تپھنا: کچی سلائی سینا۔
 تپھنا لیس / تپھنا لیس: چالیس اور تین، (۴۳)۔
 تپھتر: مذکر، ایک مشہور پرند۔
 تپھتری: موتھ؛ تپھتر کی مادہ، (۲) ایک قسم کی بھینری، بھلی۔
 تپھری: (۱) موتھ؛ آواز جو مریضوں کے بلانے کے لیے قہوں پہ
 تپھریس / تپھریس: تیس اور تین (۳۳)۔
 تپھریج: مذکر، (۱) بوش، رعب داب، غصہ غضب، (۲) سورج کی کرن
 تپھریج: موتھ؛ (۱) تیسری تاریخ، (۲) ہندوؤں کا ایک جوار۔
 تپھریج: (۱) ہر ایک تھوار۔
 تپھریج: مذکر، (۱) تیسرا، سوم، (۲) فاتحہ سوم، مسلمانوں میں کسی کے
 مرنے کے تیسرے دن فاتحہ خوانی کی رسم۔
 تپھریجات: مذکر، تیز بات، ایک خوشبودار پتلا۔
 تپھری: (۱) مذکر، (۱) ایک قسم کے آنے کا نام جو کمان میں رکھ کر چھوڑا
 جاتا ہے، (۲) فسی ہوتا ہینا، ساون، شمس جیسے کا تیر حوال
 دن، (۳) سیدھی کڑی، (۴) عطارد، (۵) دکھائی، طعنت۔
 تپھریگن: (۱) تپھریگننے والا۔
 تپھریگن: (۱) تپھریگننے والا، ناک گن۔
 تپھریار: (۱) اضافت کے ساتھ؛ کثرت سے تیروں کا چلنا
 تپھری کر کیلیجے میں آرتنا: بھلیک وہ ہونا، مگر غراش ہونا۔
 تپھری بلا: (۱) اضافت کے ساتھ؛ بلا کا حملہ۔
 تپھری ہڈوت ہونا: (۱) تیر کا نشانے پر گنا، (۲) مطلب خاطر خواہ
 بڑھا ہونا، تپھری کا پوری طرح با اثر ہونا۔
 تپھری ہنگ: تپھری جاننا؛ تپھری کا نشانے سے الگ جانا۔
 تپھری بیٹھ جانا: تپھری بیٹھنا، تپھری کا نشانے پر بیٹھنا۔
 تپھری پار ہونا: تپھری کا نشانے کو توڑ جانا۔
 تپھری پھینکنا: تپھری چلانا۔
 تپھری تراڑ ہونا: تپھری کا آدھا باہر آدھا بیستر ہونا۔
 تپھری نظلم: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) مذکر، دکھ، مظلوم کی آہ۔

د چیز جس میں بدنای کا اندیشہ ہو، (۲) وہ شخص جو ہر ایک پر
 الزام دھرے۔
 تپھمن: (۱) صفت؛ (۲) بڑے بڑے یا بدن کا آدمی، (۳) شجاع،
 دلیر، (۴) مذکر؛ رسم کا لقب۔
 تپھمنڈ: مذکر، دیکھو تپھمنڈ۔
 تپھمنیت: (۱) موتھ؛ مبارک باد دینا، مبارک باد لینا،
 مبارک باد۔
 تپھمنید: (۱) موتھ؛ کسی غیر زبان کے لفظ کو ہندوستانی بنالینا۔
 تپھمنیور: (۱) مذکر، بے اتہا بھاری، شجاعت۔
 تپھمنی: (۱) خالی۔
 تپھمنی: دکھائی؛ مفلس، نادار، خالی ہاتھ۔
 تپھمنی: (۱) موتھ؛ مفلسی۔
 تپھمنی: (۱) دکھائی؛ احمق، بے خبر، سادہ۔
 تپھمنی: (۱) مذکر، آمادگی، تیاری، مستعدی، پکا ارادہ۔

ت — ی

تپھن: (۱) اپنے آپ کو، اپنے کو، خود کو، (۲) کو، لیے، واسطے۔
 تپھنیا: مذکر، (۱) تاش کا تین نشان والا پتا، جیجی (۲) تین کی
 ضرب۔
 تپھنیا کرنا: (۱) کسی چیز کے بٹھنے کرنا، تقسیم کرنا، بانٹنا،
 بیچ ڈالنا۔
 تپھنیار: (۱) کام میں آنے کے قابل، (۲) مستعد، موجود،
 آمادہ، (۳) موٹا تازہ، فریب۔
 تپھنیار کرنا: (۱) لیس کرنا، چٹا کرنا، درست کرنا، (۲) ہم پہنچانا،
 موجود کرنا، (۳) چلانا، سدھانا، (۴) موٹا تازہ کرنا،
 کستا، پھار ہار لگانا، جو تپھنیار کو چلانے کے قابل بنانا۔
 تپھنیاری: موتھ؛ (۱) آمادگی، درستی، (۲) موجودگی، (۳) آمادگی،
 آرائش سامان، (۴) دھوم دھام، (۵) فریب، موٹائی۔
 تپھنیار: (۱) مذکر، ہڈائی، قطع تعلق، کنارہ کشی۔
 تپھنیار: (۱) مذکر؛ استغنا۔

تیر محکوں پر گزارا ہونا / گزران ہونا: بے اطمینانی سے بسر ہونا ،
 در بدر چکر گزرد ہونا، شکل سے گزر ہونا۔
 — جوڑنا: چلانے کے لیے تیر کو کمان سے لگانا، نشانہ تکاننا۔
 — چھوڑنا: کمان سے تیر کا جدا ہونا۔
 — چلانا: (۱) تیر چھوڑنا، تیر چھینکنا، نشانہ مارنا، (۲) کوئی بڑ
 کام کرنا۔
 — خدنگ: (اضافت کے ساتھ) (۱) کلڑی کا بنایا ہوا تیر۔
 — دان: (۱) (۲) ڈکڑ، تیر کش۔
 — ڈوب کے رہ جانا: تیر کا نشانے میں گھس کر رہ جانا۔
 — سسر کرنا: تیر چلانا۔
 — قضا: (اضافت کے ساتھ) (۱) قضا کا عمل، اجل، موت۔
 — کاغٹا کرنا: تیر کا نشانہ چکنا، تیر کا نشانے پر نہ لگنا۔
 — کش: ڈکڑ، تیر دان۔
 — کلیجے کے پار ہونا: (عجاز)، بہت صدمہ پہنچنا، بہت ایذا
 ہونا، کسی بات کا بہت ناگوار ہونا۔
 — کھانا: تیر کا زخم کھانا۔
 — لگنا: (۱) تیر کا نشانے یا کسی چیز پر پہنچنا، نشانہ لگنا، (۲) بات
 ناگوار معلوم ہونا۔
 — نتھنوں میں دینا: (دکھائی)، نہایت روق کرنا، جان فتن میں
 کرنا، ناک چنے چوانا۔
 — سے چھٹنا: تیروں سے سخت زخمی ہونا، چھلنی کی طرح تیروں
 کے بہت سے سوراخ پڑ جانا۔
 — تیروں کا میزہ بڑھانا: کثرت سے تیر چلانا۔
 — تیر ہوانی: (اضافت کے ساتھ) (۱) (۲) وہ تیر جو ہوا کے
 رخ چھوڑیں اور اس کا کوئی نشانہ میٹھ نہ ہو، (۳) فضول،
 بے کار، بے مصرت۔
 — تیر: گزارا کرنا۔
 — کرنا: سسر کرنا، گزارا کرنا۔
 — تیرا: نصیر خطاب، واحد کلمہ خطاب۔
 — میرا کرنا: کسی چیز کی بابت جھگڑنا، غیرت کی باتیں کرنا۔
 — میرا مینہ دیکھنا: دوسروں کا آسرا ڈھونڈنا۔

تیری میری: اپنے بیگانے کی۔
 تیرا دینا: پانی کے اوپر بہا دینا۔
 — تیرا کر / تیراگ: ڈکڑ، نشانہ، تیرنا جاننے والا۔
 — تیرا فی پانی: تیرنے کے لائق پانی، گہرا پانی۔
 — تیرانی: موٹھ، شتا، دسی۔
 — تیر تھ: (۱) ڈکڑ، (۲) درشن، زیارت، (۳) گھاٹ، کنارہ، (۴) پاک
 جگہ، (۵) ہندوؤں کے وہ مقدس مقامات جو دریا کے کنارے
 واقع ہوں۔
 — جاترا / یاترا: موٹھ؛ ہندوؤں کا اپنی کسی زیارت گاہ
 کو جانا۔
 — تیر جانا: (۱) تیرنا، (۲) کسی دھار دار آلے کا جسم کے پار ہو جانا، (۳)
 اندر گھس جانا، بیٹھ جانا، (۴) نگاہ کا ایک سرے سے دوسرے
 سرے تک پہنچنا، اس پار سے اس پار ہو جانا، (۵) گولی کا جسم
 کے پار ہو جانا، گھس جانا۔
 — تیر مچھی: (اضافت کے ساتھ) ڈکڑ، وہ تیر جس کا نشانہ خطا نہ جائے۔
 — (۲) (عجاز)، وہ بات جس کا ٹورا ہونا یقینی ہو۔
 — تیر مٹس: تیسرا برس، گزشتہ خواہ آئندہ۔
 — تیر مچی: (۱) موٹھ؛ (۲) سیاہی، (۳) اندھیرا، دھندلا پن، (۴)
 کدورت، دل کی کدورت۔
 — بخت: (اضافت کے ساتھ) (۱) موٹھ؛ (۲) قیمت کی خرابی،
 بد قسمتی۔
 — تیرنا: (۱) شتا، دسی کرنا، تیرنا، (۲) پانی کی سطح کے اوپر آ جانا،
 (۳) کسی کام میں بخوبی مہارت رکھنا۔
 — تیرہ: (۱) اندھیرا، کالا، سیاہ۔
 — بخت / روز / روزگار: (۱) بد نصیب، بد بخت، بد قسمت۔
 — خاک وال: (۱) ڈکڑ، دنیائے فانی۔
 — دل: سیاہ دل، کڑ، فشی انقلاب۔
 — وتار / تیرہ وتاریک: بہت اندھیرا، گھپ اندھیرا۔
 — تیرہ: دس اور تین، (۳)۔
 — تیزی: ڈکڑ، ورتوں کے شمار کے مینوں میں سے یہ صفر کے
 مینے کا نام ہے؛ صفر کا مینا۔

تیز : (۱) ؛ دھار دار ، نوک دار ، (۲) تلخ ، چڑچڑا ، (۳) جلد شباب ، (۴) زہین ، ہوشیار ، چالاک ، (۵) خسیلا ، غضب ناک ، بد مزاج ، (۶) شوخ ، شریر ، (۷) مضبوط ، قوی ، تیز رفتار ، (۸) شدید ، سخت ، (۹) غالب ، فوقیت رکھنے والا ، (۱۰) گراں ، ہنگامہ ، (۱۱) سرگرم ، مستعد ، (۱۲) گرم ، تپتا ، (۱۳) مقدار سے زیادہ ، (۱۴) گذر بین ، باریک بین ، (۱۵) غائر ، غور کرنے والا ، اندر بیٹھے والی (نظر کی صفت) ؛ (۱۶) زخم میں کاٹ کرنے والا ، (۱۷) بڑھا چڑھا ۔

پرواز : تیزی سے اُڑنے والا ، جس کی اُڑان میں تیزی ہو ۔

دُشت : (۱) جلد جلد کام کرنے والا ۔

دُستی : (۱) موتھ ؛ جلدی جلدی ہاتھ لگانا ، چالاک ۔

زنتار : (۱) بہت جلد چلنے والا ، چالاک ۔

زبان : (۱) تیز بھٹ ۔

طبع / تیز فہم : (۱) ذکی ، وہ شخص جو جلد سمجھے ۔

قلم : (۱) جلد لکھنے والا ، زندق نویس ۔

کرنا : (۱) باڑھ رکھنا ، (۲) تند کرنا ، طاقت یا قوت بڑھانا ، (۳) خفا کرنا ، غصہ دلانا ۔

گام / تیز گشت : تیز چلنے والا ، تیز رفتار ۔

مزاج : تند مزاج ، زود رنج ۔

ہونا : (۱) غصے ہونا ، (۲) دھار دار ہونا ، بُرا ہونا ، (۳) خفا ہونا ، بھڑونا ۔

تیزاب : (۱) مذکر ، ایک قسم کا کیمیاوی مستیال مرکب جو نہایت ترش ہوتا ہے اور بدن کو جلا دیتا ہے ۔

تیزی : موتھ ؛ (۱) دھار دار ہونا ، (۲) تندی ، تپتی ، کڑواہٹ ،

چڑچڑاہٹ ، (۳) گرم مزاجی ، بد مزاجی ، (۴) پھرتی ، جلدی ،

(۵) گرمی ، حدت ، تمازت ، (۶) گرانی ، ہنگامہ ، (۷) لگنے

والی دُدا کا اثر ۔

تیزی کا چاند : (۱) صفر کے چھینے کا چاند ۔

کرنا : جلدی کرنا ، چالاک کرنا ۔

تیس : ۳۰ ۔

دن : رکنایتا ؛ ہمیشہ ، ہر روز ۔

تیس مار خال : مذکر ، دلفنزا ؛ بہادر آدمی ۔

تیسوں دن : مذکر ، آئے دن ، چھینے بھرے ہر روز ۔

کلام : (۱) مذکر ، قرآن شریف ۔

کلام اٹھانا : (۱) قرآن اٹھا کر قسم کھانا ۔

تیسسا : ویسا ، اسی طرح کا ۔

تیسرا : ثالث ، تین سے نسبت رکھنے والا ۔

آنکھوں میں ٹھیکرا : (۱) دُش ؛ مشورہ کرنے والوں کو اجنبی کا

آنا ناگوار ہوتا ہے ۔

پہر : دن کے دوپہر کے بعد والا پہر ۔

تیسری : موتھ ؛ (۱) تیسرے درجے کی ، (۲) چھینے کی تیسری تاریخ ،

تیسری کا چاند ۔

تیسرے فلقے (تیسرے دن) مُردار بھی حلال : (۱) دُش ؛ جمہوری

کی حالت میں حلال حرام نہیں دیکھا جاتا ۔

تیشہ : (۱) مذکر ، چھاؤڑا ، کدال ۔

زن : (۱) کدال چلانے والا ۔

تیج : (۱) موتھ ؛ تلوار ، شمشیر ۔

بازی : (۱) تلوار سے بازی کرنا ، تلوار چلانا ، (۲) بانگ پٹا ،

تلوار پھیرنا ۔

بردار : وہ جو ننگی تلوار لیے ہوئے سواری کے ساتھ چلے ۔

پرکفت : (۱) تلوار چلانے پر آمادہ ۔

بے پناہ : وہ تلوار جس سے کوئی نہ بچ سکے ۔

دو دستی / تیج دورویے / تیج دو دم / تیج دو دمہ : دونوں

طرف دھار والی ۔

زنی : (۱) موتھ ؛ تلوار چلانا ۔

ساز / تیج گر : تلوار بنانے والا ۔

رستم : (۱) اضافت کے ساتھ ؛ (۲) جانا ؛ نظم و ستم ۔

مُحرف : (۱) موتھ ؛ (۲) نم دار تلوار جس کا زخم گہرا ہوتا ہے ،

(۳) تلوار جس کے لگتے وقت ہاتھ کو ایک جانب ہم کر لیتے ہیں

تاکہ زخم گہرا ہو ۔

چُند / تیج ہندی : (۱) اضافت کے ساتھ ؛ (۲) موتھ ؛ ہندستان

کی بنی ہوئی تلوار ۔

- وکفن باندھ کے جانا؛ قتل ہونے کے لیے تیار ہو کر جانا۔
 موت کا سامان ساتھ لیے جانا۔
- ہلالی: راضافت کے ساتھ، وہ تلوار جو شل ہلال ہو۔
- تینغا: (ن)؛ مذکر، تلوار۔
- کرنا: (ا) حجاب یا دروازے کو اینٹ پتھر سے پُرن کر بند کر دینا، (ب) کشتی کا ایک داؤں۔
- تینقن: (ج) مذکر، سبھروسا، یقین، اعتبار۔
- تیکھا: مذکر، (ا) تیز مزاج، غصہ ور، (ب) گلے میں زخم آواز۔
- (۳) شوخ، شریر، چالاک، بانکا، مشوق، (۴) کڑوا۔
- پن: مذکر، شوخی، شرارت، کج ادائیگی، روکھاپن۔
- تیکھی: موتھ؛ ترجمی، ٹیڑھی، بانجی، (۲) البیلی، رعنا، (۳) شوخ، شریر۔
- چتون: (ا) مشوق کی ٹیڑھی نگاہ، (۲) ترجمی نظر۔
- نظر: تیکھی نگاہ، تیکھی چتون۔
- تیل: مذکر، ہر چیز کا روغن، چکنائی۔
- پیلنا: کولہ سے تیل نکالنا۔
- بلوں ہی سے نکلتا ہے: (دش) ہر چیز کا خرچ اس کی آمدنی سے نکالا جاتا ہے۔
- جل چکا: (جھانڈ)؛ عمر ختم ہونے کو آئی، ضعیفی آگئی۔
- چڑھانا: ہندوؤں کی شادی کی ایک رسم؛ ماٹوں بٹھانا۔
- دیکھو تیل کی دھار دیکھو: دش؛ زمانے کی حالت دیکھو، دنیا کا رنگ دیکھو، ہر کام کو خوب دیکھو بھال کے کرنا چاہیے۔
- ماش: دکھائیا؛ صدقہ، تصدق۔
- ماش آٹارنا: دکھانا؛ صدقہ آٹارنا۔
- نکالنا: (ا) روغن نکالنا، تیل پیلنا، (ب) سخت محنت لینا، جان نکال لینا، پسینے پسینے کر دینا، (۳) سخت نکال لینا، طاقت کھینچ لینا، کھود کر دینا۔
- تیلکن: تیلی کی بیوی، تیلی ذات کی عورت۔
- تیلی: مذکر، (ا) تیل نکالنے والا اور بیچنے والا، (۲) (جھانڈ)؛ نہایت میلا آدمی، میلا چپکٹ آدمی۔
- تیلوئی: مذکر، (ا) تیل اور پان بیچنے والی ذات کے لوگ، (۲)

آبرے فریے، مومولی لوگ۔

تیلی کا تیل: مذکر، (ا) کولہ کا تیل، (۲) (جھانڈ)؛ مات دن محنت کرنے والا آدمی۔

تیلیا: تیل کے رنگ کا، چکنائی لیے ہوئے، چکنا۔

— مڑنگ: مذکر، سیاہی مائل سُرخ رنگ گھوڑا۔

— سہاگ: ایک قسم کا سہاگ۔

— گتھا: مذکر، ایک قسم کا گتھا۔

— کینت: مذکر، دیکھو تیلیا مڑنگ۔

— مسان: مذکر، (۱) خبیث، خبیث روح، (۲) بہت کالا آدمی۔

— پتھار دار: (ن) مذکر، مریض کی خبر گیری کرنے والا، غم خواری کرنے والا۔

— داری: (ن) موتھ؛ غم خواری، ہمدردی، بیمار کی خدمت، علاج معالجہ۔

— مہتمم: (ج)؛ (منذوبی اصطلاح) وضو یا طہارت کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے پانی کے بجائے مقررہ طریقہ پر مٹی سے کام لینا۔

— مینمن: (ج) مذکر، بابرکت ہونا، برکت لینا، برکت ہونا۔

— مینمور: (ن)؛ مذکر، منحل خاندان کے ایک مشہور بادشاہ کا نام۔

— مین: (۲)۔

— چار: مصدودے ہند، تھوڑے، کچھ (لوگ)۔

— پانچ کرنا: تین پانچ لانا؛ جھگڑا کرنا، سکار کرنا، (۲) نکاری کرنا، دغا بازی کرنا، فریب دینا، دھوکا دینا۔

— تفرقہ: پریشان، تفریق۔

— تلوک نظر آنا: بے حد پریشان ہونا۔

— تیزہ: متفرق، پریشان، تفریق۔

— حرف بھیجنا: لعنت بھیجنا، چھوڑنا، ترک کرنا۔

— دن: چند روز، مدت ناپایدار۔

— دن کی بادشاہی: (جھانڈ)؛ کشمندی سے چوتھی تک کا زمانہ جس میں دولہا کو نوشاہ کہتے ہیں۔

— دن گور میں بھی بھاری ہیں: مرکز بھی تین روز تک قر کے

صاحب کتاب میں جان بے کل رہتی ہے۔

— کانے: مذکر، (اصطلاح)؛ ناکامی، نامرادی۔

— گناہ خدا بھی بخشتا ہے: (مقولہ)؛ کسی کا خطا سے معافی

تیوری پڑلنا: نگاہ کا انداز بدلنا۔

چھٹی: (موت) موت؛ مفرد صورت۔

پڑھانا: پیشانی پر بل ڈالنا، میں برجیں ہونا۔

میں بل پڑنا: بھوں پڑھنا، آزدگی اور ننگی کی علامت ظاہر ہونا۔

تیومار: مذکر، جشن، خوشی کا دن، بیسے میر، ہولی دیوالی وغیرہ۔

تیبہا: دم، مذکر، تیزی، حرارت، جوش، (۲) غصہ، غضب۔

تپہو: (دنت) مذکر، ایک قسم کا پرندہ، لوا۔

تینیس: (بیس اور تین، ۲۳)۔

تھ — ا — سی

تھاپ: موت؛ (۱) تھپڑ، تھاپا، چھپی، (۲) طے کی آواز جو

دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیوں کی ضرب سے نکلتی ہے،

ڈھولک کی آواز۔

پڑنا / لگنا: طبلہ بجانے والے کا ہاتھ طبلے پر تھاپ سے پڑنا۔

مارنا: (۱) شیر کا تھپڑ مارنا، (۲) پہلوانوں کا ملے پر چھکی دینا۔

تھاپا: مذکر، (۱) چوہا کے پانوں کا نشان، (۲) ہاتھ کا وہ پورا نشان

جو ہندی مل کر دیواروں پر اوداع کے وقت ہندوؤں میں

سمدی کی کر پر لگاتے ہیں۔

تھاپنا: (۱) گوبر پاتھنا، لپے بنانا، (۲) موٹی کی پڑجا کرنا۔

تھاپنی: موت؛ چھپی، تھاپنے کی آواز، (۲) کھار کا اوزار جس سے

برتن گھومتا ہے، (۳) گیند کیلئے کا ہلکا۔

تھال: مذکر۔ پتیس یا کانے وغیرہ کا خوان، شیرتی کا خوان، بڑی

تھالی، بعض تقریبوں کا خاص قسم کا کھانا۔

تھالا: درخت کے گرد کام گہرا گڑھا جو پانی دینے کے واسطے

بناتے ہیں۔

تھالی: موت؛ چھونا تھال۔

بھانا: (۱) سانپ کے کاٹے ہونے کے آگے تھالی بجا کر منتر

پڑھنا (۲) بچہ پیدا ہونے پر تھالی یا تو بھانا

جوڑ: مذکر، پیالہ اور سرخوش موافق پیالے کے اور نیچے کی

چاہنے کا عابرانہ انداز۔

میں نہ تیرہ میں: (رشل)؛ جس شخص کی کہیں پونچھ گھر، عزت

نہ ہو۔

تیندرو: مذکر، ایک قسم کا درخت جس کے پتے سے بڑی بنتی ہے۔

تیندرو: مذکر، ایک درندے کا نام، پلنگ، شیر کی ایک قسم۔

تینور: مذکر، (۱) بینائی، روشنی چشم، بصارت، نور نظر، (۲) نظر،

چتون صورت اور نگاہ کا انداز، (۳) آنکھوں میں اندیرا چھا جانا۔

آنا: (نکھن)؛ آنکھوں کے آگے اندیرا آنا، تیرگی چھانا۔

بجھا دینا: (۱) غصہ فرو کر دینا، (۲) دعوا شادینا، غسرور

رشا دینا۔

بڈل جانا: (۱) انداز نگاہ بدل جانا، بے عزت ہو جانا، (۲)

آنکھوں کی پتلیاں پھر جانا، علامت مرگ ہونا۔

بڈلنا: قر کی نگاہ سے دیکھنا۔

بڑے نظر آنا: نگاہ بڑ معلوم ہونا۔

بجگا جانا: (۱) آنکھوں کی پتلیوں کا پھر جانا، علامت مرگ

ظاہر ہونا، (۲) نظریں پھر جانا، پہلی سی نظر نہ رہنا، نگاہوں

سے نکلنے اور دشمنی ٹپکنا۔

پربل آنا: غصے کے آثار ظاہر ہونا۔

پرئیل آنا: ناخوشی کی علامت ظاہر ہونا۔

پہچاننا: نظر پہچاننا، تباہی سے مزاج اور حالت کی

شناخت کرنا۔

تاڑ جانا: نگاہ سے نیکی یا بری کے ارادے کو پہچان جانا۔

جھٹنا: (۱) نظر کی تیزی میں فرق آ جانا، آنکھ کی روشنی میں

کمی آ جانا، (۲) کسی پیمتی ہوئی چیز کی تاب نہ لانا، پھکا پونگنا۔

دیکھنا: سہت یا نگاہ سے مزاج کی حالت کا اندازہ لگانا،

حیثیت کا رنگ دیکھنا۔

ٹیلے ہونا: نگاہ سے ناگواری کا اثر ظاہر ہونا۔

تیورانا: آنکھوں کے آگے اندیرا آ جانا۔

تیرورس / تیرورس سال: مذکر، گنڈا ہوا تیسرا برس، پچھلے برس

سے پہلا برس۔

تیوزی: (۱) ملنے کی بیلوں یا بیل، (۲) انداز نگاہ۔

تشری جس میں پیالہ رکھا ہو اس مجموعے کو تھالی بولتے ہیں۔
تھالی کا بیگن: (منش)؛ فی مستقل مزاج، وہ شخص جو کبھی ایک
طوت کبھی دوسری طرف۔

تھامنا: (۱) روکنا، (۲) ہاتھ سے پھیلانا، (۳) ٹھہرانا، کھڑا کرنا، (۴)
سنسانا، آسرا دینا، مدد کرنا۔

تھان: مذکر، گھوڑا، ماتھی یا چوپایوں کے باندھنے کی جگہ، (۲)
کپڑے کی مقررہ لمبائی کا ٹکڑا، (۳) کپڑے گوٹے، چوڑے کی
میزینہ مقدار، اڈا، (۴) عدد، بکتے کا عدد، (۵) نسل، کیفیت۔
_____ کا ٹرا؛ وہ گھوڑا جو تھان پر شرات کرے، (۲) (مجانا،
اپنے گھر پر دلیر ہونے والا آدمی، جلی کا گتتا۔

_____ کا سچا: گھوڑا جو ہر ایک سے جگہ سے چوٹ کر اپنے تھان
پر آٹھڑے۔

_____ میں آنا: گھوڑے کا خاک میں لوٹنا۔

تھانا: مذکر، (۱) پوس کی چوکی، کو توالی، (۲) بانسوں کا ڈھیر۔

_____ بٹھانا: پہرا بٹھانا، چوکی بٹھانا۔

_____ تھانے دار: مذکر، پوس کا انپکڑ۔

تھانگ: موٹ، (۱) چروں کا گھر، (۲) پتا، کھوج، سراخ،
(۳) ساوش، بھید، (۴) چروں کی کہن گاہ۔

_____ لگانا: (۱) چوری کا پتا لگانا، (۲) چروں کو پناہ دینا اور
اُس کے صلے میں چوری کا مال لینا۔

_____ تھانگی: وہ شخص جو چروں کا شریک ہو کر اُن کی مدد کرے۔

تھاہ: موٹ، (۱) دریا، سمندر یا کنویں یا تالاب کی تہ کی زمین،
گہرائی، تلاء، تہ، (۲) پتا، ٹھکانا، (۳) انتہا، انجام،
(۴) منشا، عندیہ۔

_____ تھپڑ: مذکر، (۱) تھانچا، (۲) تیز ہوا کا جھونکا، (۳) پنہ بھنگل۔
_____ تھپڑی: موٹ؛ تالی۔

_____ بھانا/پھینا: دکھائیا؛ بے قوت کرنا۔

_____ بھننا: بے قوتی ہونا، بدنامی ہونا۔

_____ تھپک: تھپکی دینا۔

_____ تھپک کے رکھنا: تمام تمام کے رکھنا، روک تمام کرنا، دم
دلا سادے کر روکنا، باز رکھنا۔

_____ تھپک کے سلانا: تھپکی دے کے سلانا۔

_____ تھپکننا: بچے کی پیٹ پر آہستہ آہستہ تھپکی لگانا، (۲) آہستہ آہستہ چوٹ
لگانا، (۳) غصہ دیکھا کرنا، کسی بات کی روک تمام کرنا۔

_____ تھپکی: (۱) تھپ تھپانا، (۲) کشتی اور بانگ کا دانو۔

_____ تھپننا: (۱) مٹی کا لیس ہونا، (۲) کسی گاڑھی چیز کا تھوپا جانا، (۳)
الزام لگنا، ذمے لگ جانا، ثابت ہونا۔

_____ تھپڑا: مذکر، (۱) تھانچا، (۲) تیز ہوا کا جھونکا، (۳) وہ برتن جس پر
آٹے کی لونی بڑھاتی ہیں۔

_____ تھنکار: موٹ؛ تھو تھو، نفرت، لعنت، تھوکنے کی آواز۔

_____ تھنکارا: مذکر، (۱) تھو تھو کرنے کے قابل، نام نہ لینے کے قابل،
(۲) «ناتقی، مردود۔

_____ تھنکار دینا: دھکار دینا، حقارت سے نکال دینا۔

_____ تھنکارنا: (۱) تھو تھو کرنا، نفرت کرنا، لعنت بھیجنا، کسی بڑی چیز
یا بات کے اثر سے بچنے کے لیے تھوکنے کی آواز نکالنا، جھوٹی

قسم یا ہوس کے بعد تھو تھو کرنا، نفرت ظاہر کرنا۔

_____ تھنکاری: موٹ؛ (۱) زنجیر، بڑی، (۲) چڑیل، ڈان، (۳) پھپکی۔

_____ تھنھانا: منہ بنانا، ضعیف یا ناخوشی یا غصہ ظاہر کرنے کے لیے۔

_____ تھرانا: کانپنا، ڈرنا، لرزنا۔

_____ تھراہٹ: موٹ؛ کھپکھپ، کھپکی۔

_____ تھرتھرانا: کانپنا، لرزنا۔

_____ تھرتھراہٹ: موٹ؛ لرزہ، کھپکی، جھنجھٹ۔

_____ تھرتھرکانپنا: جسم کا بہت کھپکانا، سردی یا خون یا بخار سے ہلکانا۔

_____ تھرتھری: موٹ؛ (۱) کھپکی، لرزہ، تھرتھراہٹ، (۲) جاڑے کا
بخار، جوڑی لرزہ۔

_____ چھوٹنا: (۱) کھپکانا، کانپنا، (۲) تھرتھرانا۔

_____ تھرتھرڈ کلاس: THIRD-CLASS؛ (انگ)؛ مذکر، تیسرا درجہ،
گھٹیا، ادنا قسم کا۔

_____ گریڈ: GRADE؛ (انگ) تیسرے درجے کا،
پھلا، بے وقت۔

_____ تھرتھرننا: ٹنگنا، ناچستا، جسم کے حصوں کا متحرک ہونا،
چڑکتا۔

تھکوانا: (دکنیٹا)؛ ذلیل کرنا، بے عزت کرنا۔
تھکین: موٹ؛ وہ عزت جو قابلِ نفرت ہو۔
تھنگلی: موٹ؛ (۱) پیوند، جوڑ، مہلی، کپڑے کا ٹکڑا، (۲) ذرا سی جگہ یا مکان، جھونپڑا۔
لگانا: کپڑے میں پیوند لگانا، جوڑ لگانا، دکنیٹا؛ کہیں رسائی کرنا، کسی مقام کی خبر لانا۔
تھقل: مذکر، (۱) جگہ، مقام، مضبوط زمین، نشک زمین، (۲) ریگستان، بالوکی زمین، (۳) خیر کے رہنے کا مقام، (۴) ایک کامل درگول چلتی جس کو پوشاک میں جہاں چاہیں ٹانگ لیں، تمغیش کے گول پھول۔
بیڑا: مذکر (۱) ٹھہرانے کی جگہ، (۲) کسی چیز کا سراغ، کسی شخص کا سکن اور ذریعہ روزگار۔
بیڑے سے زکھ دینا: مناسب موقع سے رکھ دینا۔
بیڑا نہ لگنا: ٹھکانا نہ لگنا، سہارا نہ ملنا، چٹان نہ ملنا، سڑاغ نہ ملنا۔
سے بیٹھنا: آرام سے بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھنا، ٹھوٹھکانے سے بیٹھنا۔
تھقل: ڈھیلا، نرم، پیچھا، موٹا، پھینس۔
تھلا: مذکر، نرم گوشت، ہلٹا ہوا گوشت، پھپھی چیز۔
تھلانا: شاہے کے مارے جسم کا ہلنا، مٹی ریک یا کسی دوسری چیز کا پانی کی رطوبت کی وجہ سے ہلنا۔
تھلوا: (۱) مذکر، کھڑ، مٹی کا پیالا۔
تھلیا: (۱) موٹ؛ تعالیٰ، رکابی۔
تھلیاں دھرنا/تھلیاں رکھنا: دانت نکلنے سے پہلے بچے کے مسڑوں کا پھلنا یا اکھڑنا۔
تھم: مذکر، (۱) ستون، کھمبا، (۲) درخت کا تنہا۔
ہوجانا: پانہ بہت پھول جانا۔
تھما دینا: حوالے کر دینا۔
رہنا: رکاوٹ، قائم رہنا۔
تھمنا: (۱) روکتا، باز رکھنا، ٹھہرانا، اٹھکانا، (۲) دعو؛ دینا، پکڑنا۔

تھرماس: THERMOS؛ (انگ)؛ مذکر، کسی چیز کو ایک ہی درجہ حرارت پر قائم رکھنے والی بوتل۔
تھرمامیٹر: THERMO METER؛ (انگ)؛ مذکر، حرارت معلوم کرنے کا آلہ، آله مقیاس الحرارة۔
تھرنا: پانی کی تہ میں گرد و غبار بیٹھ جانا، میل پکیں سے پانی کا سات ہونا۔
تھڑجیا: (۱) صفت، کم حوصلہ، بہت ہمت۔
تھڑدلا: صفت؛ تنگ دل، کم نفرت، کم حوصلہ، بزدل، ڈرپوک۔
تھڑی: موٹ؛ (۱) کھڑے نفوس؛ نعت، زوت، نعت، (۲) بے عزتی، بدنامی، (۳) کمی، قلت، توڑا۔
تھڑی: بدنامی، رسوائی، نفیست۔
تھڑی کرنا: نعت، ملامت کرنا، نفوس کرنا، برا کہنا۔
تھکا: مذکر، ماندہ، عاجز، شست۔
اؤنٹ سرائے کو دیکھتا ہے/تھکتا ہے: (مثلاً) ناچار آدمی سہارا لگتا ہے، مصیبت میں مبتلا گھوغلامی چاہتا ہے۔
بیل: (جھانا)؛ سست آدمی، کام چور، جھول آدمی، جلد جو۔
ماندرہ: تھکا تھکایا، تھکا ہارا۔
تھکانا: (۱) ہرادنا، (۲) (دق کرنا، حیران کرنا۔
تھکاوا: مذکر، تھکن۔
تھکاوٹ: موٹ؛ تھکن۔
تھکا: مذکر، (۱) کوئی جمی ہوئی چیز، (۲) ٹوندا، چاندی سونا جو پگھل کر جمہ ہو گیا ہو، (۳) جما ہوا دہی، (۴) آٹم، ڈھیر، اٹالا۔
تھکا فضیحتی/تھکا فضیحتی: موٹ؛ لعن طعن، رسوائی۔
تھک تھکانا: نظر بد سے بچنے کو یا کسی بڑی بیماری کے نام لینے پر ڈونگے کے طور پر تھو تھو کرنا۔
تھک کر چور ہو جانا: نہایت شل ہو جانا، بہت تھک جانا۔
تھک کر بیٹھ رہنا: عاجز ہو کر بیٹھ رہنا۔
تھک تھکا: موٹ؛ باہم تھکار، لڑائی پھرائی
تھکن: ماندگی، تھکان۔

تھمنا: (۱) رگنا، بند ہونا، (۲) ٹھہرنا، وقف کرنا، (۳) خاموش رہنا، چپ ہو جانا۔

تھن: مذکر، گائے بکری بھینس کی پستان۔

ٹوٹا / تھن ٹٹا: وہ بچہ جس نے پوری میعاد تک ماں کا دودھ نہ پیا ہو۔

ٹٹے کا دودھ: خاص تازہ دودھ ہوا دودھ۔

تھو: موت؛ (۱) تھوکنے کی آواز، وقت، شوک، (۲) برا، کھڑنفر، قابل نفرت۔

تھو: (۱) بار بار تھوکنے کی آواز، (۲) کھڑنفر، نہایت نفرت ظاہر کرنا، خدا نہ کرے، خدا بچاے۔

تھو کرنا: نفرت کرنا، نفیر کرنا، تھوکانا۔

تھوا: مذکر، (۱) مٹی کا بنایا ہوا تودہ، (۲) تھیر، نکلا آدمی۔

تھو بڑا: (تھیر)، مٹہ، تھوٹھی۔

سٹھانا: مٹہ پھلانا، روتھنا، خفا ہونا، مٹہ بنانا۔

تھوپ تھاپ کر دینا: رفع دفع کر دینا، مٹا دینا، دبا دینا۔

تھوپ دینا: الزام لگا دینا، کسی چیز پر کوئی دوسری چیز لگا دینا۔

تھوپنا: (۱) ڈھیر لگانا، اکٹھا کرنا، (۲) گنواروں کی طرح توڑے

پر ڈال کر روٹی پکانا، (۳) لینا، لینا، (۴) کسی گاڑھی چیز

کی موٹی موٹی تہ لگانا، کسی کے ذمے ڈالنا۔

تھوٹنا، مذکر، مٹہ، حیوان کا مٹہ، حقارت سے، آدمی کا مٹہ۔

تھوٹنی / تھوٹھنی: موت؛ (۱) گھوٹے یا اونٹ کا مٹہ، (۲) پھچھ پاسور

کا مٹہ، (۳) تھیرے، آدمی کا مٹہ، (۴) چرپا یہ جانوروں کا چہرہ۔

ٹھلانا: تیموری چوہا، مٹہ بنا ہوا، خفا ہونا۔

تھوٹھا: مذکر، (۱) اندر سے خالی، بے مغز، (۲) کند، بے نوک کا،

(۳) دم کٹا سانپ، (۴) جہل، بے کار، لغو۔

چٹنا بابے گھنا: (نشل)؛ کم فروغ اور نالائق شہنی مارتے ہیں۔

تھوٹھی بات، موت؛ (۱) جہل بات، بے سنی بات، لغو، بیہوش بات۔

تھوٹھے تپروں سے اڑانا: کند تپروں سے اڑانا، سخت سزا دینا،

کند پھری سے حلال کرنا۔

تھوڑنا: (تھیرے) کھانا، بھلانا۔

تھوڑا: مذکر، کم، کچھ، خفیہ، ادنا، نداسا۔

تھوڑا بہت: کسی قدر۔

تھوڑا ہونا: خفیہ ہونا، شرمندہ ہونا۔

جاننا / تھوڑا سمجھنا: کم سمجھنا، بے وقت سمجھنا۔

نہ سمجھنا / تھوڑا نہ جاننا: چالاک سمجھنا۔

کریں غازی میاں بہت کریں دفالی: (نشل) ترشامدی

جموٹی تعریفیں کیا کرتے ہیں۔

تھوڑے پانی کا بلا: (مجازاً)؛ کم نطرت، ادچا۔

تھوک: مذکر، (۱) ڈھیر، انبار، (۲) اکٹھا، یکجہت، (۳) روکڑا،

نقدی جمع، (۴) حسد، پٹی، (۵) جماعت، گروہ، جتھا،

(۶) وہ مقام جہاں کئی سرحدیں ملیں، (۷) مقدار، تعداد،

اندازہ، (۸) پٹا، سند، (۹) آبادی کا بڑا حصہ جس میں کئی

پٹیاں ہوتی ہیں۔

بشت: موت؛ پیمائش کے مداباندھنا، حد بندی۔

دار: کسی گروہ کا سردار، سرگروہ، (۲) پٹے دار، (۳) اکٹھا

بیچنے والا۔

فروش: اکٹھا بیچنے والا، یکجہت مال فروخت کرنے والا۔

(انگ) ہول سیلر۔

تھوک: مذکر، (۱) مٹہ کا لعاب، (۲) وقت۔

اُجالنا / تھوک بلونا: بے ہوش بننا، ناسمجھت کرنا۔

کے چاٹنا: حقارت سے کسی بات یا چیز کا انکار کرنا اور پھر

اُسے تسلیم کرنا۔

لگانا: ذلیل کرنا، ہرا دینا۔

لگا کر رکھنا: سینٹ کر رکھنا، بڑی حفاظت سے رکھنا، جوڑ

جوڑ کر رکھنا، کبوسے سے جمع کرنا۔

کر چھوڑنا: ذلیل کر کے چھوڑنا، مسوا کر کے چھوڑنا۔

میں شتو نہیں سنتے: (نشل)؛ جہاں زیادہ خرچ کی ضرورت

ہے تھوڑے سے کام نہیں چلتا۔

تھوکننا: (۱) تعاب دہن کھانا، تھوک پھینکنا، (۲) دکھانا،؛ قائل

کرنا، بُرا بھلا کہنا، لعنت ملامت کرنا۔

تھوٹی: موت؛ (۱) ستم، کم، وہ کھڑی جو چھپتے کے نیچے بر طور

ستون لگا دیتے ہیں۔

تھیٹر سٹریٹجی کمپنی؛ THEATRICAL COMPANY؛ (انگ)؛ مونٹ؛ ہانگ کینی۔
تھیٹرا؛ مذکر۔ بڑی تھیٹری۔

تھیٹری؛ مونٹ؛ (ا) چھوٹا تھیٹرا، (۲) توڑا۔

تھیٹر؛ بردار؛ بوسپوں کی تھیٹری اٹھانے والا۔

تھیٹریکس؛ THANKS؛ (انگ)؛ مذکر؛ شکریہ، بہت سے شکریے۔

تھیٹریک یو؛ THANK YOU؛ (انگ)؛ مذکر؛ آپ کا شکریہ۔

تھیٹریوا؛ مذکر؛ انگوٹھی کا نگینہ۔

تھیٹریوا؛ نگینے پر کچھ کندہ کرنا۔


تھیٹری؛ THEORY؛ (انگ)؛ مونٹ؛ نظریہ، اصولی مسئلہ، قیاس بنیاً

تھیٹریٹ؛ مذکر، ایک قسم کا کانٹے والا زہریلا درخت (جس میں سے
دودھ نکلتا ہے)۔

تھیٹری؛ مونٹ؛ (ا) تلے اوپر رکھی ہوئی روٹیاں یا پان، (۲) تہہ تہہ
رکھے ہوئے کپڑے لادھی۔

تھیٹریسوفی؛ THEOSOPHY؛ (انگ)؛ مونٹ؛ یہ عقیدہ کہ
ہر شخص بلا واسطہ خدا کی معرفت روحانی وجدان سے حاصل
کر سکتا ہے۔

تھیٹریالوجی؛ THEOLOGY؛ (انگ)؛ مونٹ؛ علم دین، دینیات، مذہباً
تھیٹری؛ THEATRE؛ (انگ)؛ مذکر، تماشگاہ، ناچ گھر، ناٹک۔



ط

ٹاٹ: مونتھ؛ حروف تہجی کا ایک حرف، تاسے ہندی، حساب جمل (ابجد) میں چار سو عدد۔

ٹ۔ ا

ٹاپ: مونتھ؛ (۱) گھوڑے کی سُم کا حلقہ، گھوڑے کے پانوں کی ضرب، وہ آواز جو گھوڑے کے چلتے یا دوڑتے وقت زمین پر سُم پڑنے سے نکلتی ہے (۲) پھلیاں پکڑنے کا جال (۳) پلنگ کے پائے کی چول (۴) فرشی حقے کا آخری چوڑا حصہ (۵) گدگد کا آخری موٹا حصہ (۶) چوب جس سے بڑا ڈھول بجاتے ہیں۔

دار: آگے سے چوڑا پیچھے سے پتلا، موٹے سرے کا۔

ٹاپا: مذکر؛ (۱) مرغ اور مرغیوں کے بند کرنے کا ہانس یا لکڑی کا دربا (۲) لکڑیوں کو باندھ کر بنائی ہوئی کشتی۔

توڑ نکل جانا: (کنایتاً)؛ صاف نکل جانا۔

ٹاپا ٹوٹی کرنا: (۱) ڈھونڈنا، چھان مارنا (۲) ٹپکتے مکان کی مرمت کرنا۔

ٹاپا پھرننا: بھٹکتا پھرننا، مارا مارا پھرننا، حیران پھرننا۔

رہ جانا: (۱) کسی چیز کی آرزو یا انتظار میں رہ جانا، کسی چیز پر قابو نہ چلنے کے باعث دل مار کر رہ جانا (۲) فسوس کرنا۔

ٹاپنا: (۱) دلنے کا وقت ہونے پر گھوڑے کا پانوں زمین پر مارنا، دانہ گھاس طلب کرنا (۲) حیران و پریشان ہونا (کسی چیز کی تلاش میں)

ٹاپس: (ٹپک)؛ مذکر؛ (۱) زیور جو عورتیں

کان میں پہنتی ہیں (۲) بندے

ٹاپو: مذکر؛ جنمہ، وہ خشک زمین جو چاروں طرف پانی سے گھری ہو۔

ٹاٹ: نر مذکر؛ سُن کا بنا ہوا کپڑا۔

الٹنا: (۱) دیوالیا ہونے کی علامت ظاہر ہونا (۲) دیوالا نکلنا یا دیوالیا ہونا۔

باف: زردوز، کپڑے پر سونے چاندی کے تار ٹانگنے والے۔

بانی جوٹنا: مذکر؛ کا مدار جوٹنا، وہ جوٹا جس پر کلا بتو کا کام ہوتا ہو۔

میں موٹج کا بخیر: (مثل) جیسی چیز ویسا ہی اس کا دیگر سامان، پیوند میں پیوند کی جگہ۔

ٹارٹج: TORCH (انگ) مونتھ؛ مشعل، مشعل جس میں پیشی یا سیل (CELL) استعمال ہوتے ہیں۔

ٹارگیٹ: TARGET (انگ)؛ مذکر؛ نشانہ ہدف

ٹاپی: TOPPLE (انگ) مونتھ؛ ایک قسم کی سٹھالی

ٹاپکیز: TALKIES (انگ) مونتھ؛ سینما گھر۔

بولتی فلم۔

ٹال: مونتھ؛ (۱) لکڑی بانس یا گھاس وغیرہ کا ڈھیر، انبار، تودہ

(۲) لکڑیوں کی دکان، بھس کی دکان (۳) ایک قسم کا گھنٹا

جو گھاسے ہاتس وغیرہ کے گلے میں باندھتے ہیں، تالی (۴)

لیت دھل، ٹالم ٹول، بہانہ۔

ٹول / ٹال / ٹول: مونتھ؛ بہانہ، جیلد حوالہ۔

جانا: درگزر کرنا، طرح دینا، ٹالنا۔

ٹالا بالا : مذکر؛ جلد حوالہ بہانہ۔

ٹالے بالے) بتانا / ٹالا بالا (ٹالے بالے) دینا:

ٹانا

ٹالا دینا، جھانسا دینا۔

ٹالم ٹول کرنا: (۱) جلد حوالہ کرنا (۲) دیر لگانا۔

ٹالنا: دفع کرنا، بنانا، سرکانا، ملتوی کرنا، جیلہ حوالہ کرنا۔

ٹالے سے نہ ٹلنا: کسی طرح سے نہ اٹھنا، جگہ سے جنبش نہ

کرنا۔

ٹامک ٹویلے مارنا: اصل پر چلنا، اندازے پر چلنا۔

ٹانٹ: موتی؛ آدمی کی کھوپڑی، چندیا۔

ٹپر اک بال نہ رہنا: (رکنا یا) مخلص ہو جانا۔

ٹگجی کر دینا: جوتے مار مار کر کھوپڑی کے بال اڑا

دینا۔

ٹانٹھا: مذکر؛ توانا، موٹا، مستہرا، دنگ۔

ٹانچنا: (۱) پھانسا، جل میں لینا (۲) وصول کرنا۔

ٹانڈھ: موتی؛ چان۔

ٹانسیل: TONSIL (انگ) مذکر؛ گلے کے اندر کے

غدد۔

ٹانیک: TONIC (انگ) موتی؛ (۱) طاقت بڑھانے

والی دوا (۲) مقوی۔

ٹانیک: مذکر؛ جوہرات تولنے کا ایک وزن۔

ٹانکنا / ٹانک لینا: یادداشت کے لیے لکھ لینا۔

ٹانکا: (۱) سیون، سلائی، سوئی تاگے کا ایک دفعہ کپڑے

سے نکلنا۔ زخم کا بخیر کرنا (۲) دعات جوڑنے کا مسالا (۳)

جوڑا دے بیوند زبور اور برتن کا (۴) کپڑے کا پیوند یا جوڑ۔

بھرتا: (۱) سینا، زخم سینا، پھا پھرا نا کپڑا سینا (۲)

(رکنا یا)؛ حیب پوشی کرنا، مصیبت میں تسلی دینا۔

ٹوٹنا: سیون ادھر جانا، زخم کی سیون ٹوٹ جانا۔

جھالنا: کسی برتن یا زبور کو ٹانکے سے جوڑنا۔

دینا: (۱) سینا (۲) دعات کو مسالے سے جوڑنا۔

کاٹ لینا: ٹانکے کی قیمت کاٹ کر زبور کے دام دینا۔

کھانا: مانا لگانا۔

لگانا: (۱) زخم یا کپڑے کا سینا (۲) ٹوٹے ہوئے برتنوں یا

زیوروں میں جوڑ لگانا (۳) ہر مذکی آنکھیں سی دینا۔

مارنا / ٹانکے مارنا: موٹی سلائی کر دینا، سینا۔

ٹانکنا: (۱) سینا، ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے لگا کر ٹانکا بھرتا

کپڑے میں موتی یا بشت یا پانچکا سوئی تاگے سے لگانا، (۲)

جوڑنا، چھپا کرنا، جھالنا (۳) نشتی کرنا، شامل کرنا (۴)

یادداشت لکھنا، درج کرنا، لکھنا۔

ٹانکے ادھر جانا: (۱) بخیر ادھر جانا، سلائی ٹوٹ جانا (۲) (رکنا یا)

حقیقت لکھنا، قد رعایت معلوم ہونا (۳) غریب ہو جانا۔

ٹانکا (ادھر ٹانکا): (۱) سیون کھولنا (۲) (رکنا یا)؛ حقیقت

کھولنا، قلعی کھولنا، عاجز کرنا، ہرانا۔

ٹوٹنا: کپڑے یا زخم کی سلائی کا ٹوٹ جانا۔

دھیلے ہو جانا: (رکنا یا)؛ بدحواس ہونا، ارادے میں

سستی ہونا، ضعف آنا۔

کاکچا: (۱) وہ سینے والا جس کے ہاتھ کی سیون جلد ادھر

جاتے (۲) وہ زبور جس میں کردہ ٹانکا لگا ہو۔

کھلنا: (۱) سیون ادھر جانا (۲) راز فاش ہونا۔

مارنا: موٹی سیون سینا، اوپری سلائی کرنا، جلدی جلدی

سینا۔

ٹانکی: موتی؛ (۱) سنگ تراشوں کے ایک اہزار کا نام، رُخانی

چھینی (۲) تروڑ یا خروڑے کی تراش جس سے پختگی کی کیفیت

معلوم ہو (۳) سوراخ، چھید، (۴) ایک قسم کا پھوڑا، آتشک

یا سوزاک کا زخم (۵) دندانہ، دانٹا (۶) لکڑی یا لوہے کا

پر تن، ٹنکی۔

بجنا: (رکنا یا)؛ سنگ تراشی کا کام ہونا، عمارت کا چنا جانا،

مکان کا ڈھایا جانا۔

لگانا: خروڑے یا تروڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر اس

کی پختگی کو دیکھنا، سوراخ کرنا۔

ٹانگ: موتی؛ دان کی جڑ سے پانچ کے نیچے تک کا حصہ۔

اڑانا: (۱) پانچ پھنسانا (۲) مزاحم ہونا، پانچ میں دخل دینا،

بیچ میں یونہی (۲) حریف کو ٹانگ کے ذریعے دے مارنا ٹانگ
 پکڑ کے چت کر دینا۔
 برابر : چھوٹا سا۔
 پھنسا : (۱) کسی کام میں تعلق ہونا ، جھٹ ہونا ، شرکت
 ہونا (۲) پابند ہونا ، مجبور ہونا۔
 تلے سے نکالنا / ٹانگ کے نیچے سے نکالنا : کسی
 کو مغلوب کرنا۔ عاجز کرنا ، نیچا دکھانا ، مطیع کرنا ، ہرانا۔
 تلے سے نکل جانا : ہار ماننا۔
 توڑ کے بیٹھنا : جم کے بیٹھنا ، (دھڑا دھڑا جانا بند کر دینا۔
 توڑنا : (کھائیا) (۱) بے کار کرنا ، معطل کر دینا (۲) خراب
 کرنا ، بگاڑنا۔
 دینا : (لٹکا دینا (۲) پھانسی دینا ، سولی دینا۔
 سے ٹانگ باندھ کر بیٹھانا : اپنے پاس سے سرکنے
 نہ دینا ، بھٹا رکھنا۔
 لگانا : ٹانگ کا بیچ کرنا۔
 لینا : (۱) ٹانگ پھونکا (۲) کاٹنا ، کھٹنے کو دوڑنا رکٹے
 کی طرح کاٹنا (۳) سر ہونا ، پیچھے پڑنا۔
 مارنا : ٹانگ کا بیچ کرنا ، اڑنگا لگانا۔
 ٹانگیں پسار کے سونا : بے فکر ہو کے سونا۔
 توڑنا : خوب دوڑانا ، حیران کرنا ، پریشان کرنا۔
 ٹوٹنا : تھک جانا ، تھک کر چور ہو جانا۔
 رہ جانا : (۱) تھک جانا ، ماند ہو جانا (۲) بیماری سے
 ٹانگیں بیکار ہو جانا ، ٹانگوں کا سوکھ جانا۔
 ٹانگنا : (۱) ٹکانا ، آویزاں کرنا (۲) (کھائیا) پھانسی دینا۔
 ٹاور : (انگ) مذکر ؛ مینار ، برج ،
 لاٹ۔
 ٹاؤل : TOWEL تولیا۔
 ٹاؤن : TOWN (انگ) مذکر ؛ چھوٹا شہر۔
 ہال : HALL (انگ) مذکر ؛ شہر کی عام مجلس
 گاہ ، شہر کا سرکاری ہال۔
 ٹائپ : TYPE (انگ) مذکر ؛ (۱) پیسے کے

ڈھلے ہوئے حروف (۲) قسم ، وضع۔
 بکس : BOX (انگ) مذکر ؛ وہ صندوق جس میں
 حروف کے حروف وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔
 رائٹر : TYPE WRITER (انگ) مذکر ؛
 وہ مشین جس پر ٹائپ کرتے ہیں۔
 ٹائپسٹ : TYPISٹ ٹائپ کرنے والا۔
 ٹائٹل : TITLE (انگ) مذکر ؛ (۱) خطاب یا لقب
 (۲) سرورق (۳) عنوان ، سرخی (۴) فلم کا نام۔
 پیج : PAGE (انگ) مذکر ؛ کتاب کا سرورق
 لوح کا صفحہ۔
 ٹائر : TYRE (انگ) پہیوں پر چڑھانے کا سخت
 ربر کا ٹول۔
 ٹائل : TILE (انگ) مذکر ؛ فرش میں لگانے کا خوش نما
 پتھر ، یا چینی کا ٹکڑا۔
 ٹائم : TIME (انگ) مذکر ؛ وقت ، ساعت ،
 زمانہ ، مدت۔
 پیس : PIECE (انگ) مؤنث ؛ گھڑی جو
 میز پر رکھی جاتی ہے۔
 ٹیبل : TABLE (انگ) مذکر ؛ نقشہ
 اوقات ، نظام الاوقات۔
 ٹائی : TIE (انگ) مؤنث ؛ (۱) باندھنا (۲) وہ فیتہ
 جو فیشن کے طور پر گلے میں باندھا جاتا ہے (۳) بستہ
 ٹکائی (۴) رشتہ ، رابطہ۔
 ٹائیفائیڈ : TYPHOID (انگ) مذکر ؛ میعاد
 بخار۔
 ٹائیس ٹائیس فیش : (مثل) زبانی جمع خرچ ، بہت کچھ
 اور نتیجہ کچھ نہیں۔

ٹ-ب

ٹب : TUB (انگ) مذکر ؛ (۱) گہرا بڑا برتن (۲) ناند
 (۳) وہ برتن جس میں بیٹھ کر نہاتے ہیں۔

ط - پ

ٹپ: مذکر؛ (۱) ہوادار بجھی وغیرہ کا سائباں (جودھوپ یا مینہ کے وقت کھولتے ہیں) (۲) مونٹ؛ ٹپنے کی آواز بوند کرنے کی آواز۔

— **ٹپ آنسو گرنا**: آنسوؤں کی قطار بندھنا۔

— **سے بول اٹھنا**: بے ہوشی جھٹ بولی اٹھنا۔

ٹپ: TTP (رائگ) مونٹ؛ (۱) سرا، ٹوک (۲) بخش

ٹپا: مذکر؛ (۱) بندوق کی گولی جانے کی حد (۲) گانے کی ایک

قسم (۳) دودھ کا شیر، موٹی سیون (۴) ایک قسم کا

ٹک ساٹا (۵) چھانڈ (۶) پرگنے کا ایک حصہ (۷) (دکن)

ڈاک خانہ۔

— **بھرتا / ٹپا ڈالنا**: موٹی سلائی کرنا، دودھ وغیرہ کرنا،

کچھ سلائی کرنا۔

— **مارنا**: (۱) چٹا ڈالنا (۲) (کھانا)؛ بے ڈھنگے پن سے

پڑھنا۔

— **کھانا**: (۱) گولی یا گیند وغیرہ کا ٹکرانا (۲) اچھلنا،

اٹکنا رکنا۔

ٹپے گانا: (کھانا)؛ بیکار بیٹھا رہنا، کھ نہ کہنا۔

— **ٹویے مارنا**: ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اندھوں کی طرح

کسی چیز کو ٹھولتے پھرنا۔

ٹپس: مونٹ؛ ذرا سا تعلق، کسی قدر وسیلہ، علاقہ۔

— **جانا / ٹپس لگانا / ٹپس لڑانا**: بنیاد ڈالنا، تعلق

پیدا کرنا، مطلب بھالنے کا ڈھنگ ڈالنا۔

ٹپنگ: مونٹ؛ پانی کے قطرے گرنے کی آواز۔

— **پڑنا**: (۱) (کھانا)؛ مائل ہو جانا، گردیدہ ہو جانا،

فریفتہ ہو جانا (۲) جین آجانا (۳) چھوڑے پھنسی کا پھوٹ

جانا (۴) بوند گہر پڑنا (۵) کود پڑنا (۶) ضبط نہ ہو سکتا

(۷) پھسل پڑنا (۸) دفعتاً آجانا۔

ٹپکنا: مذکر؛ (۱) پانی کے قطرے کا بہیم ٹپکنا، آنسوؤں کا بہیم

ٹپکنا (۲) آم جو پختہ ہو کر ان خود شام سے گر پڑے (۳)

چھت سے پانی کا ٹپکنا۔

— **ٹپکی لگ جانا / ٹپکا ٹپکی شروع ہونا**: (۱) بونڈا

باندی ہونے لگنا (۲) پھلوں کا پک کر گرنے لگنا (۳) اکاڑ کا

کاپک کا دکھانار کے یہاں آنا (۴) ایک آدھ آدمی کا روز

مرنے لگنا۔

— **پڑنا**: کسی چیز کا کثرت یا زیادتی کے باعث ضبط نہ ہو سکتا،

ظاہر ہوئے جانا، نکلا پڑنا (۲) گر پڑنا، مائل ہونے لگنا (۳)

خواہش نفسانی کے زور سے بیقرار ہونا، بے چین ہونا۔

— **ٹپکنا / ٹپکا لگنا**: (۱) رستا، پیاپکے چھت سے پانی کی بوند

گرنے۔ ٹپکنا (۲) آموں کا موتر درختوں سے گرنے، پک پک گرنے

(۳) جھڑی لگنا (۴) آنسوؤں کا بہیم گرنے۔

ٹپکنا: (۱) تھوڑا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا، بوند بوند گرنے (۲)

عرق نکالنا، پھونڈنا (۳) گرا دینا۔

ٹپکنا: (۱) قطرہ قطرہ گرنے، رستا، چونا، چٹنا، عرق نکلنا، پھونڈنا

(۲) پتے پھل کا گرنے، پھل کا پک کر زمین پر گرنے (۳) کسی امر

کے آثار کا ظاہر ہونا (۴) کسی طرف مائل ہونا، رجوع ہونا،

پھسلنا (۵) جنگ میں زخمی ہو کر زمین پر گرنے (۶) پھوڑے

کا پک کر بہنا پھونڈنا۔

ٹپکے کا در: (کھانا)؛ آفت آنے کا خوف۔

ط - ٹ

ٹپو، ٹپیا: (۱) تھوڑی پونجی والا (۲) کم باہر، چھوٹا سوداگر۔

ٹپھارنا: وہ آواز نکالنا جو کوڑے یا گدھے کے چلانے کے لیے

منہ سے نکالتے ہیں۔

ٹپھاری: مونٹ؛ ٹھارے کی آواز۔

ٹپھڑ: مذکر؛ بانس کی بڑی ٹپھی۔

ٹپھڑ لوٹاں: (مہانا)؛ تنہا، اکیلا، تنہا۔

ٹپھکارنا: ٹھکانا، ایڑ لگانا۔

ٹپھکاری: مونٹ؛ (۱) ٹھکانا (۲) زبانی جمع خرچ، جھوٹ

موٹ کی کارگراری (۳) اشاہ، سیٹی، آواز۔

— **پیر لگنا**: اشارے پر لگنا، سیٹی یا آواز پر چلا آنا (۲) لفظ

پر ہلنا، ہل جانا، مانوس ہو جانا، مطیع ہو جانا۔
ٹٹو: مذکر؛ (۱) چھوٹے قد کا گھوڑا (۲) قابو، بس، زور، طاقت۔

ٹٹو: مذکر؛ ٹٹو کی تغیر، منیع، حقیق، ڈبلا ٹٹو۔
ٹٹوانی: مؤنث؛ ٹٹو کی مادہ، چھوٹے قد کی گھوڑی۔

ٹٹول: مؤنث؛ (۱) ہاتھ سے چوکے سموس کرنا (۲) جس تلاش
— دیکھنا؛ (۱) ڈھونڈ لینا تلاش کر لینا (۲) آزمائنا، امتحان
کر لینا۔

ٹٹولنا: (۱) کسی چیز کا بے دیکھے ہوئے ڈھونڈنا، ہاتھ سے چوکے
معلوم کرنا یا ہاتھ پیرنا، چھونا (۲) عند لینا، خفیہ طور پر
دریافت کرنا (۳) آزما، امتحان کرنا، پرکھنا۔

ٹٹنی: مؤنث؛ (۱) بانس یا سرکنڈوں وغیرہ کا بندھا ہوا چھونا
سانٹا (۲) آڑ، اوٹ، پردہ، حجاب (۳) پاخانہ، جاے
مزدور (۴) آرائش، جو بیہ شادیوں میں تخت رواں پر
لے جاتے ہیں (۵) وہ چھدر چھڑ جس پر انگور کے پیل پڑھاتے
ہیں (۶) شکار کیلئے کی آڑ جو شکاری لوگ اپنے سامنے رکھتے
ہیں (۷) بانس کی شاخ جس پر چراغ رکھ کر روشن کرتے
ہیں (۸) خش کی ٹٹی (۹) آتش بازی کی دیوار جو بانس کی
کچھپیوں سے بنتے ہیں (۱۰) باغ کے کنارے یا چمن کے
کنارے ہندی وغیرہ کے درخت جو پردے کے لیے لگا دیتے
ہیں، داڑھی۔

— گھرتا: ہندی کی ٹٹی کتر کے برابر کرنا۔

— کی آڑ / اوٹ / اوچل / اوچل شکار کھیلنا / کرنا: د پردہ
عیب کرنا۔ چھپ کر وہ کام کرنا جس کے علانیہ کرنے میں روک
کا اندیشہ ہو۔ کسی چمن چیز کو بہانہ یا آڑ بنا کر عیب کرنا۔

— لگانا / بندھنا: (۱) بھیر کرنا، جوم کرنا (۲) آڑ کرنا
اوٹ کرنا (۳) ٹٹی کھڑی کرنا۔

ٹٹیری: مؤنث؛ (۱) ایک پرند کا نام (۲) (گنایا)؛ بہت لاف
آدی۔

— سے آسان نہیں تھمتا: (مثل)؛ اپنے حوصلہ و قوت
سے زیادہ کسی کام کرنے پر آمادہ ہونا۔

ٹ - ج

ٹچ: TOUCH (انگ)؛ (۱) چھونا مس، مس کرنا،

(۲) انداز، رنگ (۳) نوک پلک درست کرنا۔
ٹچا: مذکر؛ (۱) ادھما، چھوڑا، کم حوصلہ (۲) لچا، کینز،
بلے ہودہ۔

ٹ - خ

ٹخ: بڑھیوں کی سی چال، آہستگی کی چال۔
ٹخنا: مذکر؛ گنا، ایڑی سے اوپر، انہی ہونی چڑی۔

ٹ - ڈ

ٹڈا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا پردار کیرا، بوٹ (۲) (گنایا)؛
دبلا تپلا آدمی۔

ٹڈی: مؤنث؛ ٹیری، ایک قسم کا پردار کیرا جو کھیتی کو نقصان
پہنچاتا ہے۔

— دل: مذکر؛ (۱) ٹڈیوں کا بڑا گروہ جو اکثر کھیت کے کھیت صاف
کر دیتا ہے (۲) (گنایا)؛ نہایت بھڑبھار، خلقت کا جوم، بیشتر تعداد۔

ٹ - ر

ٹر: مؤنث؛ (۱) بینڈک کی آواز (۲) پوچ بات، بلے ہودہ بات
(۳) ہٹ، ضد، شینی، بڑائی (۴) عمد کے دوسرے دن
کامیل (۵) مذکر، ٹیری قسم کا بھلا۔

— ٹر: مؤنث؛ (۱) بگ بگ، جھک جھک، کائیں کائیں
گستاخی (۲) بینڈک کی آواز۔

ٹرا: مذکر؛ (۱) دم مزاج، شریر، سرکش، سخت کلام (۲)
سرکش گھوڑا۔

— پین: مذکر؛ اکثر پین، بد مزاجی۔

ٹراٹرا: سخت کلامی کرنا، بڑبڑانا، گستاخی کرنا

ٹرا: مذکر؛ دان، بارود کا دان، چھوٹا سنگ ریڑھ، چھوٹا ککر
سپاری کا چھوٹا گھوڑا۔

تجربہ، عدالتی تحقیقات۔
ٹریبونل: تریبونکا، تریبٹھا، بانکا، تریچا۔
ٹریپ: TRIP (انگ)؛ مختصر تقریبی سفر، سیر، چکر پھیرا۔
ٹریخانا: (1) ٹریکانا (2) بے دلی سے کوئی کام کرنا (3) بہانہ کرنا، کسی کو مائل کر بیگا دینا۔
ٹرسٹ: TRUST (انگ) مذکر؛ (1) عبور، اعتماد (2) کسی کی نگرانی میں دی ہوئی جائداد، تولیت (3) وقف۔
ٹرسٹی: TRUSTEE (انگ) مذکر؛ جس کے سپرد کسی ادارے کا انتظام ہو، مٹوتی۔
ٹرک: TRUCK (انگ) مذکر؛ مال بردار، موٹر گاڑی۔
ٹرک: TRICK (انگ) مونث؛ ہاتھ کی صفائی دھوکا، چال، فریب۔
ٹرنپ: TRUMP (انگ) مذکر؛ ٹرپ، ترپ، تپا، تاش کے کیل ہیں۔
ٹرمنس: TERMINUS (انگ) مذکر؛ خاتمہ، اخیر، سرا، منزل مقصود، تنہا، کسی ریلوے لائن کا آخری اسٹیشن۔
ٹرنگ: TRUNK (انگ) مذکر؛ لہجے کا بکس۔
کال: CALL (انگ) مذکر؛ کسی دوسرے شہر یا مقام کے آدمی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرنا۔
ٹروپ: TROOP (انگ) مذکر؛ جماعت، رسالہ، فوج (جمع میں)۔
ٹری: TRAY (انگ)؛ چھوٹی سیسنی، کشتی۔
ٹریبونل: TRIBUNAL (انگ) مذکر؛ (1) عدالتی عدالت جو کوئی جرم پر مشتمل ہوتا ہے، (2) عدالت کی جگہ۔
ٹریٹی: TREATY (انگ) مذکر؛ قول و قرار، عہدہ۔
ٹریجڈی: TRAGEDY (انگ) مونث؛ المیہ، حزن، وہ ناول، ڈراما، افسانہ، یا کہانی جس کا خاتمہ رنج و

— **اناج**: باجرا، موٹا، جوار وغیرہ۔
ٹرافی: TROPHY (انگ) مونث؛ (1) کسی مقابلے میں جیتنے کی نشانی (2) کپ یا شیلڈ جو کسی کیل میں جیتنے والے کھلاڑی یا ٹیم کو ملے، (3) فتح کی یادگار۔
ٹرالی: TROLLEY (انگ) مونث؛ (1) ٹھیلا، ٹھیلا گاڑی، پہیوں دار چھوٹی گاڑی (2) کسی سہارے سے کھینچی جانے والی گاڑی۔
ٹرام: TRAM (انگ) مونث؛ بھلی کی مدد سے پٹریوں پر چلنے والی ایک قسم کی گاڑی۔
وے: WAY (انگ) مونث؛ لہجے کی پٹری جس پر ٹرام چلتی ہے۔
ٹرانسپورٹ: TRANSPORT (انگ) مذکر؛ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، نقل و حرکت۔
ٹرانزسٹور: TRANSISTOR (انگ) مذکر؛ چھوٹا سفری ریڈیو۔
ٹرانس فارمر: TRANSFORMER (انگ) مذکر؛ ٹرانسفر: TRANSFER (انگ)؛ تبدیلی، تبادلہ، منتقل ہونا، بدلنا۔
سرسٹیفکیٹ: CERTIFICATE (انگ)؛ تبادلے کی سند جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے دی جاتی ہے۔
ٹرانسلیٹر: TRANSLATOR (انگ)؛ مترجم، ترجمہ کرنے والا۔
ٹرانسلیشن: TRANSLATION (انگ)؛ ترجمہ۔
ٹرانسمیٹر: TRANSMITTER (انگ)؛ پیغام نشر کرنے والا آلہ۔
ٹرائیکل: TRI-CYCLE (انگ) مونث؛ پتوں کی تین پہیوں کی چھوٹی سائیکل۔
ٹرائل: TRIAL (انگ) مذکر؛ آزمائش، ہتھیار

غیر پر ہو۔
 بیان، صلح نامہ، قرارداد، معاہدہ۔
 TRADE MARK: (انگ)؛ کاروبار، تجارت۔
 مارک: MARK: (انگ)؛ مذکر؛ تجارتی نشان
 مارک، سوداگری کا خاص مقصدہ نشان، تاجروں کی

TESTIMONIAL

شہسی مونیٹل:

سرٹیفکیٹ، سند، صداقت نامہ۔
 شہس: مونیٹل؛ کپالیشیم، ایک قسم کا اذنا درجے کا ریشم۔
 شہس مسر: مونیٹل، پھر پھر، ڈھیل، وقف، توقف۔
 شہس کسٹر رونا: لگا کار رونا، ٹھکننا۔
 شس سے مس نہ ہونا: (۱) درانہ پینہا، جنبش نہ کھانا، ذرا
 نہ سرکنا۔ بالکل متحرک نہ ہونا، متاثر نہ ہونا (۲) کسی چیز کا اثر نہ
 پہنچنے کے باوجود نہ گنا، گداز نہ ہونا۔

ٹسک: مونیٹل؛ کسک، ٹیس، درد، ٹسکانا، سرکانا، ہلانا۔
 ٹسکانا: (رم) (۱) ہلنا، سرکنا، جنبش کرنا (۲) درد معلوم ہونا، ہولیں
 اٹھنا (۳) کسی چیز کے اثر سے متاثر ہونا (۴) گنا، گداز ہونا۔
 ٹسکانا: رونا، ٹسکانا، شسوے بہانا۔
 شسوے بہانا: جھوٹ موٹ رونا، دکھاوے کا رونا رونا۔

یونین: UNION: (انگ)؛ مونیٹل؛
 مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی ایجن، ایجن اتحاد
 مزدوران۔

ٹریزوری: TREASURY: (انگ)؛ مونیٹل؛ خزانہ
 فکر خزانہ۔

بنچ: BENCH: اسبل؛ پاریمان میں
 حکمران حلقہ۔

ٹریفک: TRAFFIC: (انگ)؛ مونیٹل؛ آمد رفت
 (مسافروں، راہ گیروں اور گاڑیوں کی)

ٹریکٹر: TRACTOR: (انگ)؛ مذکر؛ (۱) مشینی ہل
 (۲) سامان ڈھولنے والی گاڑی۔

ٹریلر: TRAILER: (انگ)؛ مذکر؛ (لفظی اصطلاح)
 تہیدی فلم، فلم کا نمونہ۔

ٹرین: TRAIN: (انگ)؛ مذکر؛ (۱) ریل گاڑی، ریل
 گاڑی کے ڈبوں کی قطار (۲) سلسلہ۔

ٹریننگ: TRAINING: (انگ)؛ مونیٹل؛ تربیت
 مشق، ریاضت۔

کالج: COLLEGE: (انگ)؛ مذکر؛ وہ
 ادارہ جہاں اساتذہ کو طریقہ تعلیم کی تربیت دی جاتی ہے
 تربیت۔

ٹریڈ مونیٹل / ٹریڈ مینہا: مذکر؛ ٹریڈ سے منہا۔

ٹس: TEST: (انگ)؛ امتحان، جانچ، تجربہ
 آزمائش۔

ٹسٹ: TEST: (انگ)؛ امتحان، جانچ، تجربہ
 آزمائش۔

ٹ-ف-ک

ٹیفن: TIFFIN: (انگ)؛ مذکر؛ دوپہر کا کھانا۔
 ٹیکس: BOX: (انگ)؛ مذکر؛ توشران
 کھانے جانے کا ڈبا۔

ٹیک: (۱) ذرا کچھ (۲) ذرا سی دیر۔
 ٹیکا: مذکر؛ دوپہے (۲) دوپہے والا سک (۳) روپیہ، نقدی
 ٹکے۔

بھڑ: (۱) دو تولے، دوپہے بھر (۲) ذرا سا، کسی قدر۔
 پاس نہیں: کوڑی پاس نہیں، مفلس، غریب۔
 ساجواب دینا: صاف جواب دینا، مطلق انکار
 کر دینا۔

سادم / ٹکاسی جان: تین تنہا۔
 گانٹھ میں ہوتا: (رم) (کنایتاً)؛ پیسہ ہونا، دولت مند ہونا
 لگانا: (۱) سہارا لینا، بوجھ اتارنا، روکنا، ٹھہرانا، کسی چیز کو
 کسی چیز کے سہارے رکھنا (۲) مکان یا سرزمین جگہ دینا،
 ٹھہرانا، مارنا، لگانا۔

ٹکاؤ: مذکر؛ دیر پا، پایدار، مضبوط۔

ٹکٹو: ٹکڑا، شہر اور قیام، قرار، ٹکٹا، استعقال۔
ٹکائی: ٹکٹا، ٹکٹے کی اہمیت، ٹکٹا۔

ٹکٹہ: (ٹکٹہ) ٹکڑا، ٹکڑا یا ٹکڑا کا
مستطیل ٹکڑا جو کسی چیز کے دام یا کرایے کے بطور رسیدیا
جائے اور لیٹنیا ریل گاڑی وغیرہ میں سوار ہوا جائے ،
(۲) ڈاک کا اسٹامپ (۳) اجازت نامہ (۴) پاس پاسپورٹ
لیبل سٹیج (۵) ٹاگوں کا پتہ، (۶) انگلین میں کھڑے ہونے کا
اجازت نامہ۔

ٹکڑی: ٹوٹ؛ (۱) ٹک، آنکھیں انٹھار میں کھل رکھنا، کسی
ایک طرف ہجرت سے دیکھتے رہنا، گھومنا، نظر، نظارہ۔
یا نڈھنا: برابر دیکھے جانا، ہلک نہ چھپانا، گھومنا غور سے
دیکھنا، آنکھیں لڑانا۔

ٹکٹی: ٹوٹ؛ وہ تین لکڑیاں جس میں مجرم کو باند کر بیدار تے
ہیں (۲) لکڑی یا لوہے کا ڈھانچہ جس میں مجرم کو باندھ کر
بید لگتے جاتے ہیں۔

ٹکڑ: ٹوٹ؛ (۱) دھکا، صدمہ، ٹکڑ، چیزوں کا لڑبانا، ٹھیس
(۲) پیشانی پر پیشانی ماننا (۳) دکھنا؛ مقابلہ، برابر ہمسر
(۴) نقصان، ضرر، ٹوٹا۔

ٹکڑا/ٹکڑ جھیلنا: (۱) نقصان یا مصیبت جھیلنا،
برداشت کرنا (۲) اپنے سے بڑے کا سامنا کرنا۔
کھانا نا، لڑبانا، مٹ بھڑ ہونا۔

ٹکڑانا: (۱) باہم دھکا کھانا، ٹھیس لگنا (۲) صدمہ اٹھانا، نقصان
اٹھانا (۳) چوٹ لگنا (۴) پھڑنا، لڑنا (۵) ہمسر ہونا،
مقابلہ ہونا، ہم پلہ ہونا۔

ٹکڑ لڑنا: اپنی پیشانی کو دوسرے کی پیشانی پر مارنا۔
ٹکڑ لگانا: (۱) کسی سخت چیز پر پیشانی مارنا (۲) پیشانی پر
پیشانی مارنا۔

ٹینا: (۱) مقابلہ کرنا، ہم سری کرنا (۲) لڑائی کے نتیجے
سے باہم ٹکڑ مارنا۔

ٹارنا: (۱) ٹکڑ لگانا (۲) کوشش کرنا، سعی کرنا، تندی
کرنا (۳) سر سے لڑنا، منگ بازی کرنا (۴) مقابلہ کرنا۔

ٹکڑ میں مارنا: جلدی جلدی اور بے توجہی سے سجدے
کرنا، دکھاوے کی نازیبا پر مضا۔

ٹکڑا پھرننا: تلاش کرتے پھرننا، ڈھونڈتے پھرننا، ڈانڈا ڈول
پھرننا۔

ٹکڑانا: (۱) ٹکڑ لگنا، لڑبانا، بھڑجانا (۲) کسی چیز سے سر مارنا،
ٹکڑ لگانا (۳) ڈھونڈنا، تلاش کرنا (۴) پیکار مارے مارے
پھرننا (۵) زاندھریے میں یا اندھیری جگہ میں ڈھونڈنا
ٹھونڈنا (۶) پیشانی کا پیشانی پر مارنا، پیشانی کا لکڑی پتھر
یا کسی سخت چیز پر مارنا۔

ٹکڑا: ٹکڑ؛ (۱) موٹی روٹی (۲) ہاتھیوں کے کھانے کی روٹی۔
ٹکڑا: ٹکڑ؛ (۱) حصہ، جو، پرزہ، پھانگ، پرچہ، رینہ، (۲)
روٹی کا والا، لقمہ (۳) روٹی، رزق، روزی۔

ٹوڑ جواب دینا/ٹکڑا سا جواب دینا: صاف جواب
دینا، دو ٹوک جواب دینا، ایسے عروت ہو کر جواب دینا۔
دینا: (۱) روٹی کا ٹکڑا دینا (۲) رزق دینا، روٹی دینا
وٹیلہ دینا۔

ٹوڑ کے ہاتھ میں دے دینا/ٹکڑا توڑ کے ہاتھ
پر رکھ دینا: صاف جواب دینا، دو ٹوک جواب دینا۔
ٹانگنا، بیٹیک مانگنا، گدائی کرنا۔

ٹیسر نہ آنا: روزی نہ ملنا۔
ٹوڑنا، (۱) لقمہ نہ توڑنا، بالکل نہ توڑنا (۲) کسی چیز کی
شرکت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔

ٹکڑوں پر پھڑنا: ہڈائی یعنی پر پھڑنا، دوسرے کے ہمارے جہانفت کی
روٹیاں کھانا۔

ٹکڑے: سوکھی روٹی یا نان پاؤ یا شیرمال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
دودھ اور گھی میں ٹکڑے کے ساتھ پکانی ہوئی میٹھی غذا۔

ٹڑنا: لٹھیا ہارہ ہارہ کرنا، کھانا ہارہ ہارہ کرنا، ٹکڑا لڑنا
ٹوڑنا، (دکھنا؛) کسی کے دستروان پر ہمیشہ کھانا۔
ٹکڑے کرنا: پرزے پرزے کرنا، پاش پاش کرنا۔

ٹانگ کر پیٹ پالنا: بیٹیک مانگ کر بسر اوقات
کرنا۔

(۳) رکنا، مبر کرنا، تھن کرنا۔

ٹیکنالوجی : TECHNOLOGY: (انگ) مونت؛

(۱) صنعتی فنون سے متعلق علم (۲) فنی مہارت، پیشہ دراز

مہارت۔

ٹیکنیکل : TECHNICAL (انگ)؛ صنعت و حرفت

کے متعلق فنی و صنعتی۔

ٹیکنس کالر : TECHNICOLOUR (انگ)؛ رنگ برنگی۔

ٹیکور : مونت؛ (۱) مزب، چوٹ، ہلکا دھکا، ٹھیس (۲) پوٹی

میں جوئس یا ریت گرم کر کے سینکنا، تکبید (۳) نوبت کی آواز

نقارے کی آواز۔

ٹیکورنا : سینکنا، پوٹی سے سینکنا۔

ٹیکورا : ڈکڑ؛ ڈکنا، نوبت کی آواز، ڈھول کی آواز۔

ٹیکری : مونت؛ ٹیکیا، چھوٹی روٹی۔

ٹیکے : جمع ٹیکا کی۔

ٹیکے بکنا : دوپے میں بکنا، بہت کم قیمت ہونا۔

ٹیکے گیننا / ٹیکے گیننے لگنا : (۱) مٹھے کا خوف کڑا کے یا

آواز کے ساتھ بولنے لگنا (۲) سردی کے مارے دانت سے

دانت بچنے لگنا، خوب جاڑا معلوم ہونا (۳) فرز پر بڑھے لگنا

فرزائے بھرا۔

ٹیکے کے آدمی : کم حیثیت آدمی۔

ٹیکے کرنا : کچھ وصول کرنا، رہنما کرنا۔

ٹیکے مارے مارے پھرنا : بے وقعت ہونا۔

ٹیکے کی اوقات : کم حیثیت، ادنا درجے کا۔

ٹیکے کی ٹیلل نوٹے ہشکائی : (مثل) تھوڑے فائدے

کے لیے بہت خرچ میں پڑ جانا۔

ٹیکیا : مونت؛ (۱) چھوٹی روٹی (۲) چکتی، قوس (۳) تمباکو کی

گولی جو چلم میں بھر کر پیتے ہیں (۴) پٹری، گڈی (۵) (حو)

چندیا، ماتھا، پیشانی کے اوپر کا حصہ۔

ٹیکوٹی : مونت؛ (حو)؛ رذیل، بددیانت عورت۔

ٹیکور : چھوٹی موٹی چیزیں چرانے والا، لٹیا چور۔

ٹیکر ٹیکر دیدم، دم نہ کشیدم : (مقول)؛ حیرت و استعجاب سے کسی امر کو دیکھ کر دم نہ مارنا، خاموش رہ جانا۔

ٹیکھنا : شوق کی نگاہ سے دیکھنا، حسرت سے دیکھنا۔

ٹیکر گدا : دروازے دروازے بھیک مانگنے والا، فقیر۔

ٹیکڑی، مونت؛ (۱) شیشے یا پتے لاکڑا، کبوتروں کا پرا۔

پرنسٹ کا فول (۲) گھٹا، زمرہ (۳) کپڑے کا تھان۔

ٹیکر : ڈکڑ، ٹیکڑی کا افسر۔

ٹیکس : (انگ) ڈکڑ؛ وصول، چنگی۔

ٹیکسال : مونت؛ سٹے بنانے کا کارخانہ۔

ٹیکس : (۱) وہ روپیہ یا پسیا جو ٹیکسال میں نہ بنا ہو، یا جو ٹیکسال

کے سٹے سے خارج ہو، غیر معتبر، غیر مروج، غیر مستند

متروک (۲) وہ شخص جو کسی فن یا ہنر میں کسی معتبر استاد

کا شاگرد یا پیرو نہ ہو (۳) وہ عاوردہ جو اہل زبان بولتے

ہوں (۴) بد اصل، بد نژاد۔

ٹیکر ٹھنا : (۱) کھرا کھوٹا، پرکھا جانا، ٹیکسال میں پرکھنے پر

راج ہونا (۲) رسولی میں کوئی کسرت باقی نہ رہنا، بدنام ہونا

(۳) کسی فن یا ہنر میں کامل پایا جانا، سندی ہونا۔

ٹیکسالی : ڈکڑ؛ (۱) کھرا، اصل، درست، آزمودہ، جانچا ہوا

(۲) راج، مانا ہوا، مستند۔

ٹیکس بات : مونت؛ بچی بات، اچھی ہوئی بات، کھری بات۔

ٹیکسالی زبان : مونت؛ زبان فصیح، مستند زبان

ٹیکسالی : بچی نامی دکان۔

ٹیکسٹ : (انگ) ڈکڑ؛ متن، مصنف کے

اصل الفاظ، کتاب کی اصل عبارت۔

ٹیکسٹ : (انگ) مونت؛ نصابی

کتاب، درسی کتاب۔

ٹیکسلی : مونت؛ (۱) ۵۵ تھے کا زور، ستارہ (۲) (کھڈٹا)؛ چھوٹی

سی روٹی۔

ٹیکنا : (۱) سیا جانا، نالکا جانا، پرویا جانا (۲) گند ریتی (سوسن)

کا تیز ہونا (سٹاروں کی اصطلاح)۔

ٹیکنا : (۱) ٹھہرنا، مرننا (۲) اتر نامہ فروکش ہونا، قیام کرنا،

ٹنٹا، ڈکڑ؛ وہ لکڑی جو پھل کی پندی میں ہوتی ہے۔
 ٹنٹا، ڈکڑ؛ جھگڑا، جھگڑا، رڈوڈ۔
 ٹنٹے باز؛ جھگڑا، فساد۔
 ٹنٹا؛ (دہلی) ڈکڑ؛ ٹنٹا ہے ہاتھ کا آدی، ہاتھ کا آدی ایک
 ذریعہ ہاتھ کا آدی۔
 ٹنٹ؛ (۱) مستعد، تیار، آمادہ، ایس (۲) پھل، سنگ دل۔
 ٹنٹ؛ ڈکڑ؛ (۱) کٹا ہوا ہاتھ (۲) موٹی لکڑی جس میں
 شاخیں نہ ہوں۔

ٹنٹا؛ (۱) ایک قسم کی ترکاری (۲) صفت (طنزاً) موٹا
 ٹنٹا آدی۔

ٹنڈر: TENDER (انگ) ڈکڑ؛ ٹیکہ کی
 درخواست، نرخ کی تفصیل۔

ٹنڈی؛ مؤنث؛ (۱) ناف، بازو، ڈنڈر (۲) وہ عورت
 جس کا ایک ہاتھ ہو۔

ٹنڈیاں؛ مؤنث؛ آدی کے دونوں بازو۔

ٹنڈنا/ٹنڈیاں کٹنا؛ ٹیکہ بنانا، ہاتھ
 یا بازو جھکنا۔

ٹنڈینا؛ ٹیکہ بنانا، پکڑا جانا، گرفتار ہونا، بندھا
 ٹنڈنا، مؤنث؛ جھکار، تانت کی آواز، قیل کی آواز۔
 ٹنڈکارنا؛ (۱) بھانا، آواز نکالنا، جھکارنا (۲) کمان کی تانت
 کھینچ کر آواز نکالنا (۳) چینی یا مٹی کے ظرف کو بجا کر ٹنڈنا
 اور ثابت رکھنا۔

ٹنڈکھ؛
 دوا، دوا کا معلول۔

ٹنڈکار؛ مؤنث؛ تھوڑا تھوڑا کھانا۔

ٹنڈکارنا؛ ٹوک یا چوہے مارنا، تھوڑا تھوڑا کھانا۔

ٹنڈکڑی؛ ٹانگ کی تعریف۔

ٹنڈاٹا؛ ٹانگ کے داؤں سے گرانا، ٹانگ مار
 کرانا۔

ٹنڈنا؛ ٹنٹا، آدی ایا ہونا۔

ٹ-ل

ٹیلٹانا؛ (۱) دستوں کے باعث آواز نکالنا، آواز سے دست
 بند کرنا (۲) بک بک کرنا۔

ٹلٹنا؛ (۱) جگ سے ہٹنا، بے جگ ہونا (۲) دور چھوٹنا (۳) اچھے پہلنے
 سے ادھر ادھر ہونا (۴) گزرنا (وقت) ہٹنا۔

ٹیلے نویسی؛ مؤنث؛ بے کار پھرنا بے سود کام کرنا۔

ٹ-م

ٹما؛ ٹنٹا آدی، کم بڈ آدی، ڈبلا پتلا آدی۔

ٹماٹو؛ TOMATO (انگ) ڈکڑ؛ ایک گول سرخ
 رنگ کی ترکاری، ولایتی میٹگن۔

ٹماک سرٹماخ؛ (م)؛ عورتوں کی نمود، مزو، کزوف، نخت
 بناؤ سنگار، ٹنٹا۔

ٹمبر مرچنٹ؛
 (انگ) ڈکڑ؛ عارضی لکڑی کا سوداگر۔

ٹمپرچر؛ TEMPERATURE (انگ) ڈکڑ؛
 ہمار، حرارت، درجہ حرارت، تپش۔

ٹم ٹم؛ TUN TUN (انگ) مؤنث؛ دو پیسے کی
 سواری گاڑی جس میں گھوڑا جتا ہوتا ہے اور سانسب
 نہیں ہوتا ہے۔

ٹمٹمانا؛ (۱) کم کم روشنی دینا، جھلانا، ستاروں کی سی روشنی
 دینا، چراغ کا بجھنے کے قریب ہونا (۲) چھانٹنا؛ کوئی دم
 کی زندگی ہونا، مرنے کے قریب ہونا۔

ٹ-ن

ٹن؛ مؤنث؛ (۱) گھنٹے یا کسی دھات کے بننے برتن کی آواز
 جھکار (۲) خود پسندی، ہمزای، شہنی۔

ٹن؛ (انگ) ڈکڑ؛ (۱) ۲۸ من کا وزن ۲۳۳
 پونڈ کا وزن، دس کو سٹفل یا ایک ہزار کو گرام۔

ٹن؛ (انگ)؛ ٹین سفید رنگ کی ایک ٹائم دھات کا نام

ط - و

(۲) کسی ایک طرف سے قطع تعلق کر کے۔
 — کر گرنا: ہجوم کر کے حمل کرنا، چاروں طرف سے گزنا، ہمت
 متوجہ ہو کر کسی کام کے سر ہونا۔

ٹوٹا: ڈکڑ؛ (۱) نقصان، خسارہ، تجارت کا نقصان، آمدنی کی
 کمی (۲) توڑا (۳) معاوضہ۔

ٹوٹا: ڈکڑ؛ (۱) شیکستہ، پھوٹا ہوا، مرمت طلب (۲) مفصل
 خستہ، تھکا ماندہ۔

— پھوٹا: ڈکڑ؛ ناقص، معمولی، شیکستہ۔

ٹوٹکا: ڈکڑ؛ جادو، ٹونا، لٹکا، جنتر منتر۔

— کرنے آنا: (رکنا یا تیا)؛ جلدی آکر چلا جانا، کھڑے کھڑے
 آنا۔

— ہوتا: (۱) جادو ہونا، ٹونا ہونا (۲) کسی بات کا جلدی
 سے ہو جانا۔

ٹوٹل: (انگ) ڈکڑ؛ میزان۔

ٹوٹا: (۱) ٹکڑے ہونا، شیکستہ ہونا (۲) کسی پر ہجوم کرنا، مل کر

حمل کرنا (۳) گرنا، ٹھکنا، زور شور سے میل ہونا (۴) علاحدہ

ہونا، جدا ہونا، اُگھڑنا (۵) گواہ کا فریق مخالف سے مل جانا

گواہ کا جرح میں بگڑ جانا (۶) کم ہونا، تہ نکل آنا (۷) پھوٹنا،

نہرتالی کے اندر سے باہر نکل آنا (۸) توڑا ہونا، کمی ہونا (۹)

کمزور ہونا، ناتواں ہونا، مفصل ہونا، طاقت نہ رہنا (۱۰)

مفلس ہونا، تنگ دست ہونا (۱۱) اعصاب شکنی ہونا، جوڑوں

میں درد ہونا (۱۲) پھل اُترنا (۱۳) بقایا میں پڑنا (۱۴) واقع

ہونا، وارد ہونا (۱۵) تباہ ہونا، برباد ہونا (۱۶) پھٹنا،

(۱۷) زیر بار ہونا (۱۸) کم قیمت ہونا جس کا (۱۹) ہجوم ہونا

(۲۰) کسی کی رفاقت سے علاحدگی اختیار کرنا (۲۱) روزہ یا دوسرا

کا فاسد ہونا۔

— پھوٹنا: شیکستہ ہونا، سالم نہ رہنا۔

ٹوٹے پڑنا: (۱) ایک پر ایک کا گرنا (۲) بوجھ کے مارے ٹھک

جانا۔

ٹوڈی: (انگ) خوشامدی۔

— بچو: (۱) خوشامدی، کاسہ لیس، دلیل۔

ٹوایٹ: TOILET (انگ)؛ (۱) سنگار کرنا۔

سنگار میز (۲) سج دج (۳) بال بنانا (۴) جانے ضرورت

بیت الخلا۔

ٹوپ: ڈکڑ؛ (۱) بڑی ٹوپی جس سے کان ڈھک جاتے ہیں۔

(۲) روئی دار ٹوپی جو اکثر جاڑوں میں پہنتے ہیں (۳) غلاف

پوشش (۴) انجھٹانہ۔

ٹوپی: موٹ؛ (۱) گلاہ (۲) بندوق پہنانا (۳) وہ تھیلی جو شکاری

جانور کے منہ پر چڑھائیے ہیں (۴) خستہ (۵) پھل کے اوپر

کاخول۔

— آمارنا / ٹوپی پر ہاتھ ڈالنا: بے عزتی کرنا۔

— اچھالنا: (۱) دُجھ کرنا، خوشی کرنا، اظہار مسرت کرنا (۲)

پھڑسی اچھالنا، بے عزتی کرنا۔

— اوڑھنا / ٹوپی دینا: ٹوپی سر پر رکھنا۔

— بدلنا: کسی کو بھائی بنانا، بھائی چارہ کرنا۔

— بدل بھائی: ڈکڑ؛ وہ دوست جسے ٹوپی بدل کر بھائی

بنایا ہو۔

— دار بندوق: موٹ؛ وہ بندوق جو پٹانے کے وسیلے

سے چلے، توڑے دار کے خلاف۔

— والا: ڈکڑ؛ (۱) رکنا یا تیا؛ معشوق (۲) فرنگی، انگریز

(مستروک)۔

ٹوٹ: شیکستہ۔

— پڑنا: (۱) حمل کرنا، دھاوا کرنا (۲) پل پڑنا نہایت

خواہش ظاہر کرنا۔ کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے پر ہجوم کرنا

بہت سے آدمیوں کا دفعتاً آ جانا (۳) کام میں ہمتی معروف

ہو جانا (۴) آفت، مصیبت، قیامت، مصیبت نازل ہونا

اک بارگی آ جانا (۵) گر پڑنا۔

— پھوٹا ہوشکشی چوڑا (۲) چھانٹ، ریزہ، ریزگی۔

— ٹوٹ کے برسنا: شدت سے مینہ برسنا۔

— کر: (۱) نہایت شدت سے کھرت سے، بڑی کوشش سے

ٹول : ٹوٹش ؛ ایک قسم کا سرخ کپڑا ، شال باف ۔
ٹولی : ٹوٹش ؛ (۱) چند آدمیوں کا گروہ (۲) پتھری بس ، بجاری پتھر ۔

ٹوہم : ٹوٹش ؛ (حو) ؛ (۱) گھنا پاتا ، زیور ، سنگار (۲) خوبصورت عورت (۳) سونے کی چڑیا ، مال دار عورت ، چالاک ادا ہوشیار آدمی ، چلتا پرتا (۴) کبوتروں کی چھتری ۔

ٹوام : (حو) ٹوٹش ؛ گھنا پاتا ، آکا ڈکا ، کوئی کوئی ، چند ۔
ٹوٹھلا : (حو) ڈکر ؛ چھوٹا موٹا گھنا ، ادنا قسم کا زیور ۔

ٹوم لینا : (ہ) ؛ چھپا لینا ، لباس میں چھپا لینا ۔

ٹونا : ڈکر ؛ جادو منتر ۔

ٹوٹے ٹوٹکے : گنڈے توہید ، جھاڑ پھونک ۔

ٹوٹش : (ہ) ٹوٹش ؛ پھوچ ۔

ٹوٹیا : ڈکر ؛ ہانس کا ٹکڑا (۲) ایک قسم کی آتش بازی ۔

ٹوٹشی : ٹوٹش ؛ ٹوٹے یا بدھنے دیرہ کی ٹی ۔

ٹوٹل گانا بھگی : ٹوٹش ؛ ٹوٹلنا ۔

ٹوٹلگنا : تھوڑا تھوڑا کھانا ، ایک ایک دانہ اٹھا اٹھا کر کھانا ۔

ٹوٹھ : ٹوٹش ؛ کھوج ، جستجو ۔

ٹوٹھ رکھنا : (حو) ؛ خبر رکھنا ، حفاظت رکھنا ۔

ٹوٹھ لگانا : کھوج لگانا ، خبر لگانا ، پتہ لگانا ، سراخ لگانا ۔

ٹوٹھ لینا : پتہ لگانا ، حذیہ دریافت کرنا ۔

ٹوٹھ میں رہنا : تلاش میں رہنا ، عیب جوئی کے دہسے رہنا ۔

ٹوٹھ لونی : ٹوٹش ؛ چان بین ، دیکھ بھال ، تلاش ، ٹٹول ۔

ٹوٹھیا : ڈکر ؛ تلاش کرنے والا ، جاسوس ، وہ شخص جو کسی امر کا تلاش میں رہے ۔

ٹوٹھیاں : (۱) ایک قسم کا چھوٹا توٹا (۲) نقاسا ، پست قد ہونا ۔

ٹ - ۵

ٹہیل : ٹوٹش ؛ گشت ، چہل قدمی ۔

ٹہیل دینا : (۱) غائب کر دینا (۲) ٹالنا ہٹانا ، دفع کرنا (۳) موقوف کرنا ، خارج کرنا ۔

ٹہیل جانا : (۱) کہیں سے چلا جانا (۲) مرنانا ۔

ٹور : TOUR (انگ) ڈکر ؛ دودھ ، سفر ، سیاحت
ٹوری سفر ، گشت ۔

ٹورا : ڈکر ؛ (۱) بد وضع ، ٹھنڈا ، یونا (۲) پرند کا کزداد
ٹوراجیہ (۳) ایک بڑے جیسے چھوٹے پرند کا نام ۔

ٹورسٹ : TOURIST (انگ) ڈکر ؛ سیاح ،
سیر و سفر کرنے والا ۔

ٹورنامنٹ : TOURNAMENT (انگ)
ڈکر ؛ کھیلوں کا عام مقابلہ ۔

ٹوڑا : ڈکر ؛ کڑی کا ٹکڑا جو پتے میں لگایا جاتا ہے ۔

ٹوک : ٹوٹش ؛ (۱) نظر گزر (۲) مزاحمت ، ممانعت ۔

ٹوگنا : نظر ہوجانا ۔

ٹوگنا میں آنا : نظر لگانا ۔

ٹوکرا : ڈکر ؛ (۱) جابا ، ہانس یا جھاو وغیرہ کا بنایا ہوا طرف
(۲) بوجھ (۳) چھوٹی سی ایک قسم کی کشتی ، ڈونگا ۔

ٹوکروں اترنا : بہت پہلوں کا درخت سے گرنا ، درخت
سے بجزت پہلوں کا ٹوٹنا ۔

ٹوکری ڈھونا : تلی کا کام کرنا ، مزدوری کرنا ۔

ٹوکھ ٹا کا : ڈکر ؛ لڑائی جھگڑے کی بات چیت ، روک ٹوک ۔

ٹوکھن : TOKEN (انگ) ڈکر ؛ نشانی ، علامت ،
بادگار ، تحفہ ۔

ٹوکھنا : ڈکر ؛ (۱) روکنا ، تعرض کرنا ، مزاحمت کرنا (۲) پوچھنا

دریافت کرنا (۳) ایک پہلوان کا دوسرے پہلوان کو لٹونے

کے لیے پیغام دینا (۴) نظر لگانا ، حسد کرنا (۵) مقروض سے

قرض کا تقاضا کرنا (۶) غلطی بتانا ۔

ٹوکھی : (حو) ؛ انگلی کی کٹوروں کا اوپر کا حصہ ۔

ٹول : TOLL (انگ) ڈکر ؛ چلنی ، معمولی روک
دیکھو ۔

ٹولکٹر : COLLECTOR (انگ) ڈکر ؛
مصول وصول کرنے والا ۔

ٹولا : (ہ) ڈکر ؛ (۱) چھوٹا عدا (۲) سنگ ریزہ ، رنڈا (۳)
بڑی کوڑھی ۔

برابر کر دینا۔

ٹیب : TAPE (انگ) مذکر؛ (۱) فیتا، ڈوری
(۲) پیمائش یا ناپ کا فیتا (۳) وہ فیتا جس پر آواز ریکارڈ
کی جاتی ہے۔

ٹیب ٹاپ : مونث؛ آرائش، زیب و زینت۔

TAPER RECORDER

ٹیب ریکارڈر :

(انگ) مذکر؛ فیکچر پر آواز ریکارڈ کرنے والی مشین۔

ٹپینا : (۱) دانا، بیہینا (۲) لکھ لینا، ٹانگ لینا، یادداشت
میں درج کر لینا (۳) آلاپنا (۵) روپیا وصول کرنا، روپیا
جیب میں رکھنا۔

ٹچر : TEACHER (انگ) مذکر؛ سکھانے یا پڑھانے
والا استاد، معلم۔

ٹیرف : TARIFF (انگ) مذکر؛ (۱) مال کے

موصول کی فہرست، چنگی کی فہرست (۲) موصول نامہ (۳)
چنگی اور موصول کا قانون۔

ٹیسٹری : مونث؛ بیوی

دل، بیوی دل۔

ٹیسٹھ : کچی، تم، اینٹھ، شرارت، سرکشی، جہالت۔

— کی لینا؛ شرارت کرنا، سرکشی کرنا، اینٹھنا،
فیل لانا۔

— **تکال دینا** : (۱) کئی دور کرنا، اتنا مارنا پینٹنا کہ شرارت
بھول جائے۔

ٹیسٹھا : مذکر؛ (۱) نم دار، جھکا ہوا (۲) پھرا ہوا، برتلاف
مٹا لے (۳) اُچھا، اودھی سجھکا (۴) خفا، ناراض (۵)
شرید۔

— **بانکا** : جھیل، طرح دار، وضع دار، سپاہی وضع، اکڑو
پن؛ مذکر؛ کچی، شرارت، مخالفت۔

— **تھمتا** : اتنا سمجھنا، کسی بات کے اٹھے معنی لگ لینا۔

— **سوال** : پیچیدہ مسئلہ، مشکل مسئلہ۔

— **نظر آنا** : ناراض معلوم ہونا، بڑا ہوا دکائی دینا۔

— **وقت** : برا وقت، معیبت کا وقت۔

ٹھلنا : (۱) آہستہ آہستہ پھرتا، گشت لگانا (۲) ملاحظہ ہونا۔
جدا ہونا، چلا جانا (۳) مرنا (۴) سیر کرنا، ہوا کھانا۔
تفریح کے واسطے پھرتا۔

ٹھلوا : مذکر؛ خادم، خدمت گار۔

ٹھننا : مذکر؛ درخت کی موٹی اور بڑی شاخ۔

ٹھنی : مونث؛ (۱) چھوٹی شاخ، ڈالی (۲) کنول یا گلاس
لگانے کی آہنی شاخ۔

ٹھوکا : مذکر؛ اشارہ انگلی یا بازو کا خفیف اشارہ۔

— **دینا** : ہاتھ یا پاؤں سے دھکا دینا، ٹھیلنا (۲) آگاہ کرنا
ہوشیار کرنا، جگانا، بیدار کرنا۔

ٹ۔ سی

ٹی : TEA (انگ)؛ چائے۔

— **پارٹی** : PARTY (انگ) مذکر؛
دعوت، عہد نامہ، چائے نوشی۔

ٹیبیل : TABLE (انگ) مذکر؛ (۱) میز، مستطی چوک
یا تختہ۔ فہرست، جدول (۲) دسترخوان۔

— **گلا تھ** : CLOTH (انگ) مذکر؛ میز
کا کپڑا، میز پوش۔

— **کود** : COVER (انگ) مذکر؛ میز پوش۔

— **لیمپ** : LAMP (انگ) مذکر؛ میز پر رکھا
ہوا لیمپ۔

ٹیبلیٹ : TABLET (انگ) مونث؛ وہ آئی گلی
نکلیا، قرص۔

ٹیال : مونث؛ ایک قسم کی چھوٹی کوڑی۔

— **سی جان** : (جو) اکیلا دم۔

ٹیمپ : مونث؛ (۱) چھت، موصول (۲) تھنگ (۳) اونچا
سر، الاپ (۴) ٹھنڈے کی تیسری بیت، ٹھنڈے ٹھنڈے

دغیرہ کی انگریزیت، بند، گرہ (۵) فوج کا دستہ (۶) ایک
زبرد کام جسے محرمین اکتھ پر پہنچتی ہیں (۷) چھوٹی کاجھہ

نقشب، پیچہ، اعلیٰ (۸) کئی عمارت کی جڑائی کی درزیں

(۲) جرمزہ و تادان۔
ٹیکسٹائل : TEXTILE (رنگ) مذکر؛ بنا ہوا
 کپڑا، پارچہ۔
 — آرٹ : فن پارچہ بانی۔
 — میل : MILL (رنگ) مذکر؛ کپڑا بننے کا
 کارخانہ۔
ٹیکسی : TAXI (رنگ) مؤنث؛ کرایے پر پلنے
 والی موٹر۔
ٹیکن : مؤنث؛ آڈوار۔
ٹیکنیا : (۱) رکنا، سہارا دینا (۲) (تقارباز) داؤں پر لگانا۔
ٹیکنی شین : TECHNICIAN (رنگ)
 مذکر؛ کسی فن کا ماہر۔
 — کل : ٹیکنی کل (رنگ)؛ (صفت) فنی، کسی
 خاص فن یا علم کے متعلق، صفت و حرفت کا۔
 — کلر : COLOUR (رنگ) مذکر؛ زمین ظم جس
 میں مختلف رنگ الگ الگ بیک وقت نظر آئیں۔
ٹیلر : مذکر؛ ادبچا مقام، اونچی زمین، زمین کا بلند پُشتہ۔
ٹیلر : TAILOR (رنگ) مذکر؛ ددزی، خیاط
 TAILORING SHOP
ٹیلرنگ شاپ
 (رنگ) مؤنث؛ ددزی کی دکان۔
ٹیلسکوپ : TELESCOPE (رنگ) مذکر
 دُور بین۔
ٹیلی پرنٹر : TELE PRINTER (رنگ)
 مذکر؛ تاریجیجہ کی مشین جس کے ذریعہ ایک مقام سے
 بیجا ہوا پیغام دوسرے مقام کی مشین پر خود بخود ٹائپ
 ہو جاتا ہے، لاسکلی ٹائپ رائٹر۔
ٹیلی پٹی : TELE PATH (رنگ) مؤنث؛ ایشراق
 کسی مادی واسطے کے بغیر ایک دل کا اثر دوسرے دل پر
 ڈالنا۔
ٹیلی فون : TELEPHONE (رنگ) مذکر وہ برقی آلہ
 جس کے ذریعہ دور دراز مقام پر ایک دوسرے سے بات کرنا

ہوتا : (۱) کچھ ہونا (۲) (نہایت)؛ نھا ہونا، بگڑنا، اینٹھنا
 اکرنا۔
ٹیرمی آنکھ سے دیکھنا / ٹیرمی آنکھیں کرنا : ترمیمی
 نظر سے دیکھنا۔ غصے سے دیکھنا، مخالفہ نظر ڈالنا، ناراض
 ہونا ایسے مروتی کرنا، بری نظر سے دیکھنا۔
 — ترمیمی سنانا : بُرا بھلا کہنا۔
 — سیدھی : مؤنث؛ کڑی اور نرم باتیں۔
 کھیر، (ش)؛ مشکل کام، دشوار کام۔
 — نگاہ / ٹیرمی نظر : ترمیمی نگاہ، تہرکی نگاہ۔
ٹیرم : آزدہ، برہم۔
 — تار کا جوتا : چاندی سونے کے خمیدہ تاروں کا جوتا۔
ٹیس : مؤنث؛ (۱) رہہ کر ددا اٹھنا (۲) جز و بندی، کتاب
 کی سلائی۔
ٹیسٹ : TASTE (رنگ) مذکر؛ (۱) مزہ، ذائقہ
 نمونہ، پسندیدگی (۲) شوق، مذاق، ذوق۔
ٹیسٹا : دد کرنا، میٹھا میٹھا دد ہونا۔
ٹیسو : مذکر؛ (۱) ڈھاک کا پھول، ڈھاک کا درخت (۲)
 وہ مٹی کا پتلا جس کو لڑکے دسہرے کے زمانے میں گھر گھر
 شب کے وقت لیے پھرتے ہیں (۳) ٹیسو کے گیت۔
ٹیک : مخونی، کھبا (۲) پیشی سہارا (۳) کسی چیز کو کسی پر سیدھا
 کد کرنا۔
ٹیککا : مذکر؛ (۱) قشقہ، ستلک، مندل یا سیندور وغیرہ کا (۲)
 پتوں کو بد نظر سے بچانے کے لیے پیشانی پر نیل یا سرمر کا
 نشان (۳) ولی عہد، گدزی کا وارث (۴) ایک زیور کا نام (۵)
 چمک کا احتیاطی ٹیکہ (۶) خصوصیت کا نشان (۷) گدھی پر
 بھانے کی رسم (۸) وہ نشان جو ہندوؤں میں سفر یا تیرا
 میں جاتے وقت لگاتے ہیں (۹) زیور جو گھوڑے کے ماتھے
 پر پہناتے ہیں۔
 — کرنا : (ہندو) سگنی کرنا، منگنی کرنا۔
ٹیکرا : مذکر؛ ٹیلا۔
ٹیکس : TAX (رنگ) مذکر؛ (۱) محصول، لگا

لینا : گلابانا۔
ٹینڈر : TENDER (انگ) ڈکڑہ؛ ٹیکے کا تھینڈ
 ایک خریدی درخواست جس میں کسی خاص کام کو پورا کرنے
 کی ذمہ داری لی جائے۔
ٹینس : TENNIS (انگ) ڈکڑہ؛ گیسٹے
 کا ایک مشہور کھیل۔
ٹینک : TANK (انگ) ڈکڑہ؛ (۱) ٹنکی ہومن
 (۲) توب بردار جلی گاڑی۔
 یلنی : رسی مریوں کی نسل، دوغلی مرغیاں یا مرغ۔
ٹیوب : TUBE (انگ) ڈکڑہ؛ (۱) ٹنکی، (۲)
 وہ سیلینڈر جو اندر سے کوکھلا ہو، (۳) موٹر یا سائیکل کا
 ٹیوب۔
ویل : WELL (انگ) ڈکڑہ؛ ایسا
 کنواں جس میں سے پائپ کے ذریعہ پانی نکالا جاتا ہو۔
 ٹیوٹر : TUOR (انگ) ڈکڑہ؛ (۱) آتلیق، استاد
 معلم (۲) پھل کو گھورے پر تعلیم دینے والا معلم۔
ٹیوشن : TUITION (انگ) معلی، آتلیقی۔

ٹھا۔ ۱۔
ٹھا : ٹوٹ؛ (۱) جگہ، مکان، مقام (۲) مذہم آواز، متوسل
 آواز۔
ٹھاٹ / ٹھاٹھ : ڈکڑہ؛ (۱) ہانس کا پوکھا، ڈھانچہ (۲) فیشن
 ڈھنگ، طریقہ، ناز و ناز (۳) آرائش و تعین، زیب و زینت
 (۴) گڑی پھینکنے والوں کا گڑی پھینکنے وقت خاص طریقے سے
 کڑا ہوجانا۔ پینترا (۵) جلوس، سامان، ساری دھوم دھماکا
 (۶) ستار کی کوئی لا درست کرتا (۷) مرغیوں سے لڑنے کو
 بڑھے وقت کا انداز (۸) ساز و سامان، تکلف۔
ٹھاٹھ سے رہنا : شان و شوکت سے رہنا، آن بان سے رہنا
ٹھاٹھ : (۱) ٹھاٹھ بانڈھا، ٹھی بانڈھا (۲) پتے بازوں کا
 چوب بازی کے قاعدہ سے کڑا ہونا، شان و شوکت دکھانا۔

ٹیلیگراف : TELEGRAPH (انگ) ڈکڑہ؛ (۱)
 ایک جگہ سے دوسری جگہ برقی لہروں کے ذریعہ پیام، خبریں
 یا اشارات بھیجنا۔
ٹیلیگرام : TELEGRAM (انگ) ڈکڑہ؛ (۱) ہجرت
 سہر برقی پیام یا خبر جو بذریعہ تاریخی بھیجا جائے۔
ٹیلی ویژن : TELEVISION (انگ)؛
 ڈکڑہ؛ ریڈیو کی ایک تعلیم یافتہ شکل جس میں آواز کے ساتھ شکل
 بھی دکھائی دیتی ہے (۲) لاسکی کے ذریعہ دو درواز کی چیزوں
 کا تبادلہ۔
ٹیم : TEAM (انگ) ٹونٹ؛ مل کر کام کرنے والوں کی
 یا کھیلنے والوں کی جماعت، گروپ، جٹھا، ٹولی۔
اسپرٹ : SPIRIT (انگ) ٹونٹ؛
 ریل بل کر کام کرنے والوں کا جذبہ، یک جہتی۔
ٹیم : چرائ کی جی کا وہ حصہ جو بل کر سیاہ ہوجائے، چرائ
 کی جی کا شطہ۔
ٹیم : ٹیم، ٹیم : نمائش، آرائش، زینت۔
ٹیمپل : TEMPLE (انگ) ڈکڑہ؛ منید۔
ٹین : دیکھو ٹن۔
ٹینس : ٹونٹ؛ توٹے کی آواز۔
ٹینس : ٹونٹ؛ (۱) توٹے کی متواتر آواز (۲) مہل بات
 پہلورہ بات، بے ہودہ کھنے والے کی صدا۔
ٹینس کرنا : (تھیرے) توٹے کی طرح بولنا، بڑبڑانا، بکنا۔
ٹینس ہوجانا : (تھیرے) توٹے کی طرح مرجانا، مر کر رہ جانا۔
ٹینٹ : ڈکڑہ؛ (۱) گریلی کا پھل (۲) آنکھ کا ابھرا ہوا دان
 (۳) روٹی کا پھل۔
ٹینٹ : TENT (انگ) ڈکڑہ؛ خیمہ، شامیانہ
 چھلداری۔
ٹینٹھا : ڈکڑہ؛ گلاب، طح، حلقوم۔
ڈھانا : گلاب گھونٹنا، ماہر کرنا، گردن دہانا، سخت تھمنا
 کرنا۔

پٹڑا رہ جانا: سب سامان دنیا میں رہ جانا۔

پھیلانا: کسی امر کی درستی کا سامان صحیح کرنا۔

کرنا: (۱) مستی میں کبوتروں کا پر مارنا (۲) تیاری کرنا۔

آراش کرنا، آراش کرنا (۳) عیش و آرام سے رہنا۔

مار کے اٹھنا: مرغ کا پر جھاڑ کے اڑنے کے واسطے اٹھنا۔

مارنا: پزند خصوصاً کبوتر کا پر دواز کے وقت بال دہر مارنا۔

ٹھانڑ: مذکر؛ (۱) ڈھانچ، ٹٹی (۲) کبوتروں اور لڑائی کے مرغوں کے

رہنے کا چال، کبوتر خانہ، پڑیا خانہ (۳) خوشی کے موقع پر

روشنی کرنے کی ٹٹی۔

بندی: موتی؛ بدخوشی کی ٹیوں کا بانڈنا۔

ٹھاگر: (۱) مذکر؛ (۲) دیوتا، ایشور (۳) دیوتا کی مورت (۴)

مالک، سردار، زمیندار (۵) راجپوت، پھرتی (۵) ایک

عزت کا لفظ (۶) دولت مند، مالدار۔

باری / دوارا: مذکر؛ مند، وہ مکان جس میں راجپوت

یا کرشن جی کی مورت ہو۔

سیوا: موتی؛ (۱) دیوتا کی پرستش، دیوتا کی خدمت

(۲) وہ جاگ جو مندر کے واسطے وقف ہو۔

ٹھانٹنا: (۱) ٹھونسن، کھا کچ بھونا، خوب بھونا، ٹھانٹس بھنا

(۲) داخل کرنا، گھسیڑنا۔

ٹھانٹا: (۱) پکا ارادہ کرنا، منصوبہ باندھنا (۲) قرار دینا،

نیت کر لینا۔

ٹھانٹو، (۵) موتی؛ جگہ۔

ٹھ-پ

ٹھپا: مذکر؛ (۱) نقش، سلا، ابھرا ہوا نقش، ٹھہر (۲) نقش

کرنے کا آلہ، ساچر (۳) ایک قسم کا چوڑا منقش بادے کا بنا

ہوا گوتا، لیس۔

لگانا: سلا لگانا، نقش کرنا۔

ٹھپ کر دینا / ہو جانا: رک جانا، بند ہو جانا، جو دیا تسلسل

کا شکار ہو جانا۔

ٹھ-ٹ

ٹھٹ / ٹھٹھ: مذکر؛ ہجوم، بھیڑ۔

کے ٹھٹھ لگانا: بہت زیادہ بھیڑ لگانا۔

ٹھٹھا / ٹھٹھا: مذکر؛ (۱) قبقرہ، وہ ہنسی جو بلند آواز سے ہو

(۲) نہایت سہل۔

اڑانا: ہنسی اڑانا۔

کرنا: ہنسنا، چہل کرنا، تمسخر کرنا۔

لگانا / مارنا: (۱) قبقرہ مارنا (۲) (کھانٹنا)؛ تمسخر کرنا

ٹھٹھے باز: ٹھٹھوں کرنے والا سوزا۔

بازی: موتی؛ (۱) مزاح (۲) (کھانٹنا)؛ معمولی بات۔

میں اڑانا: تمسخر کرنا، تعنیک کرنا، ہنسی میں اڑانا۔

ٹھٹھو / ٹھٹھو: موتی؛ ٹھٹھ، کپکپی۔

ٹھٹھو / ٹھٹھو: (۱) سردی سے اینٹھنا، لڑنا، سردی کی شدت

سے بے انتہا کاپینا (۲) درخت پودے یا انسان وغیرہ کا پڑھنے

سے رہ جانا، قوت نامیہ کا زایل ہو جانا۔

ٹھٹھری: موتی؛ بانس کا فریم، بانس کا ڈھانچا۔

ٹھٹھک: موتی؛ ٹھٹھکانا۔

ٹھٹھگانا: (۱) چلتے چلتے رک جانا، حیرت یا خوف سے (۲) رکنا

ٹھٹھنا (۳) الگ ہو کر رہ جانا۔

ٹھٹھول: موتی؛ ہنسی، ظرافت، مذاق۔

ٹھٹھولی: موتی؛ ظرافت، خوش طبعی، چیر، چیر خانہ۔

ٹھٹھولیاں کرنا: تمسخر کرنا۔

ٹھٹھیرا: مذکر؛ (۱) پیتل آنے سے تانبے کے برتن بنانے اور بیچنے

والا، کسیر (۲) جوار باجرے کی کڑی۔

ٹھٹھیرے مارنا: (جو) جاہل عورتوں کا خیال ہے کہ مشکل کے

دن ٹھٹھیرے کی مار سے آدمی ڈبلا ہو جاتا ہے۔

ٹھٹھیرے بھلائی: (رشل)؛ ددم، پیشیا، ددم فن کا

آپس میں کھاحٹہ جنگ کرنا۔

ٹھسک : مؤنث ؛ (۱) بھڑک ، شان و شوکت ، دھوم دھام
(۲) ناز و انداز ، خوام مشورہ خوش خرامی (۳) کمانی کی آواز

(۴) ضرب -

ٹھسکا : مذکر ؛ کمانی کی آواز ، تھوڑی تھوڑی کمانی -

ٹھسکتا : (۱) مٹی کے برتن میں ٹھیس لگنے سے دراز پڑ جانا (۲)

گرا دینا ، دسے مارنا -

ٹھسکتا : بچوں کا بے آواز رونا -

ٹھسنا : بچتے پانی کا کسی جگہ جمع ہونا ، خوب ٹھوس ٹھوس کر بھرنے -

ٹھسنا : ایک چیز کا دوسری چیز میں بہ مشکل سما -

ٹھسوانا : بھروانا -

ٹھک - ک

ٹھکانا : مذکر ؛ (۱) گھر ، منزل ، مقام (۲) پتا ، نشان ، سراغ
(۳) اعتبار ، بھروسہ (۴) جانے قرار ، مرکز (۵) موقع ،

(۶) حد ، انتہا -

— **ٹھونڈنا** : (۱) جدتلاش کرنا ، گھر ڈھونڈنا ، رہنے مکان

جوڑ کرنا ، (۲) نوکری تلاش کرنا -

— **کرنا** : (۱) جد کرنا ، ٹھہرنا ، رہنا (۲) گھر سانا ، بیاہنا ،

انتظام کرنا ، بندوبست کرنا -

— **لگانا** : پتہ لگانا ، سراغ لگانا -

ٹھکانے سے لگانا : مناسب موقع پر پہنچانا ، سب ٹھیک

ٹھاک کر دینا -

ٹھکانے کا آدمی : بھلا مانس ، اچھے طور طریق کا آدمی -

— **کی آواز** : ٹھیک ٹھیک سرطاب پر پہنچنے کی آواز جو ادھر

اُدھر نہ پہنچے -

— **کی بات** ، معقول بات ، ٹھیک بات -

— **لگانا** : (۱) منزل مقصود تک پہنچانا ، کامیاب کرنا (۲)

فارڈان (۳) اڑا دینا ، خرچ کر دینا ، اٹھا ڈالنا ، صرف کر دینا

(۴) کسی کام کو پورا کر دینا ، انجام پر پہنچانا ، رایتیگان نہ کرنا

(۵) گھر سادینا ، بیاہ کر دینا (۶) موقع پر خرچ کرنا (۷) نوکری

لگا دینا ، کام سے لگا دینا -

ٹھ - ڈ

ٹھڈا : مذکر ؛ (۱) کھٹوے کی بیج کی موٹی تیلی (۲) ریڑھ کی ہڈی -

— **ٹوٹی** : مؤنث ؛ کھڑائی ، کھڑائی ، وہ حالت جس کی کھڑک

گئی ہو -

ٹھڈی : مؤنث ؛ (۱) ٹھوڑی (۲) ٹھنڈے ہوئے اناج کا وہ دانہ جو

کھلا یا خستہ نہ ہوا ہو -

— **پکڑنا** / **میں ہاتھ دینا** ، خوشامد کرنا ، منت سماجت

کرنا -

— **کاگرٹھا** : چاہ ڈٹن -

— **کے نیچے ہاتھ رکھنا** ، حیرت اور استعجاب ظاہر کرنا -

— **پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا** : (کھانا) ؛ ٹھکر مند ہونا ، ٹھمکین ہونا -

ٹھ - ل

ٹھڑ : مؤنث ؛ ٹھنڈ ، پالا ، نہایت سردی ، نخل جس سے ہاتھ

پاؤں بے قابو ہو جائیں -

ٹھڑنا : سردی کی تکلیف برداشت کرنا ، سردی کا اثر ہونا -

ٹھڑا : مذکر ؛ (۱) گھوٹی بنائی ہوئی شراب شراب (۲) انگلیا کے

بند ، انگلیا کی تسی (۳) وہ اینٹ جو اچی طرح چکی نہ ہو (۴)

لک قسم کا گنوار دھونا -

ٹھ - س

ٹھس : (۱) ٹھوس ، پرمغز (۲) نکمٹا اور سست آدمی (۳) گودن ،

گند ذہن (۴) روپیا جس میں جھلکار نہ ہو (۵) پتنگ کے

اوپر چپے کے کتے جب برابر نہ ہوں -

— **چکن** : مذکر ؛ جھڈا ہن -

ٹھسا : مذکر ؛ (۱) فرد ، دامغ ، گھنڈ (۲) طماٹھ ، زریب وزینت

در خاص انداز (۳) نقش ، شہیا ، چاچا ، ساچا -

ٹھساٹھس : صفت ، کہا کچ ، خوب بھرا ہوا ، ٹھوس ٹھوس

کر بھرا ہوا -

ٹھسا دینا : زیادہ کھلا دینا -

ٹھیلیا : موتھ ؛ مٹی کا چھوٹا گڑھا۔
ٹھ - م

ٹھری : موتھ ؛ ایک قسم کا گیت یا راگ۔
ٹھانا : ٹھری گانا۔

ٹھک : موتھ ؛ ناچنے کی چال ، ناز و انداز کی رفتار۔

ٹھک : ٹھک ٹھک کر ، خرام ناز سے آہستہ آہستہ چال سے
چال : ڈکڑ ؛ رفتار معشوقانہ ، خرام ناز۔

ٹھکا : ڈکڑ ؛ چھوٹا پستہ تر ، ٹھکنا۔

ٹھکنا : ناز و انداز سے چلنا ، ٹھک ٹھک کر چلنا۔

ٹھکی : موتھ ؛ (۱) جھٹکا ، ہلکا سا جھٹکا ، کھٹوے کی ڈھک جھٹکا
دینا ، (۲) پستہ تھکنا ؛ اٹے تھکنا۔

ٹھ - ن

ٹھنڈھ : ڈکڑ ؛ (۱) سوکھا ہوا درخت یا گڈا جس کے پتے اور
ڈالیاں گر گئی ہوں (۲) ہاتھ کٹا ہوا ، پہنچا یا کلائی۔

ٹھنڈھانا : (۱) گھسی جانا ، ٹھن ٹھن کرنا (۲) ڈھنڈھانا ، کسی جگہ
موجود ہو کر گزرنے لگانا (۳) گھنکھنا ، بھنا۔

ٹھنڈھ : (۵) موتھ ؛ سردی ، خشکی۔

ٹھنڈھنا : خشکی ہو جانا۔

ٹھنڈھا : ڈکڑ ؛ (۱) سرد ، خشک (۲) جھشوش بیچ اور چالاک نہ
ہو (۳) کم شہوت (۴) سست ، کاہل (۵) مستقل ، برباد
(۶) بے نفس ، رحم دل۔

ٹھنڈھ : بہت سرد۔

ٹھنڈھنا / پھنڈھنا : (۱) سرد ہو جانا (۲) مر جانا (۳) مست
اور بے رونق ہونا (۴) خستہ دھیا ہونا۔

ٹھنڈھنا : خوش رکھنا ، آرام سے رکھنا۔

ٹھنڈھنا : خوش رہنا ، آسودہ رہنا ، آرام سے رہنا ؛ بے رونق
رہنا۔

ٹھنڈھنا : (۱) سرد کرنا ، خشک کرنا (۲) بھلنا (۳) خستہ دھیا
کرنا (۴) (۵) گڈھنا (۶) بھڑانا وغیرہ (۵) دفن کرنا ، جلنا

ٹھکرا : ڈکڑ ؛ ٹھیکرا۔

ٹھکرانا : (۱) ٹھوکر دینا ، روندنا ، ذلیل اور خواہجہان کرات
مانا (۲) رکھنا ؛ ترک کرنا۔

ٹھکرایا جانا : ٹھوکر سے مارا جانا ، تعزیر اور ذلت سے نکالا جانا
ٹھکرانی : موتھ ؛ (۱) ٹھکرانے ٹھاکر کی بیوی (۲) رادھکایا
سیتامی وغیرہ کی صورت۔

ٹھکرانی : موتھ ؛ (۱) سرداری ، حکومت ، راج (۲) امیری ،
دولت مندی (۳) خدائی۔

ٹھکری : موتھ ؛ چھوٹا ٹھیکرا۔

ٹھکننا : (۱) گڑھا ، اندگستا (۲) پینا ، سزا پانا (۳) پھینکنا
کشتی کھانا (۴) مغلوب ہونا ، شکست کھانا (۵) نقصان
اٹھانا (۶) قید خانہ میں جانا ، بیڑیاں پڑنا ، کاشٹ میں دلیبا
(۷) (۸) داخل ہونا ، پڑنا ، دائر ہونا۔

ٹھ - گ

ٹھگ : ڈکڑ ؛ (۱) ٹھگنے والا ، دغا باز ، وہ شخص جو فریب دے کر
کسی سے کچھ لے لے (۲) مسافروں کو لوٹنے والا۔

ٹھگانی : موتھ ؛ رہزنی ، فریب ، دھوکا۔

ٹھگ پدیا : موتھ ؛ علم قزاقی ، مکاری ، دغا بازی ، چال ،
فریب کی باتیں۔

ٹھگ جانا : دھوکا کھانا ، بھل کھانا۔

ٹھگ لانا : دھوکا دینا ، دھوکا دے کر لے آنا ، چرانا ، راہ دکھ
لانا۔

ٹھگ لینا : دھوکا دے دینا ، فریب یا بھولے آدمی کو دم دے
کر کچھ لے لینا ، بھل لینا ، بھل دے کر لے لینا۔

ٹھکننا : (۱) لوٹنا (۲) فریب دینا ، دغا دینا ، فریب دے کر
کچھ لے لینا۔

ٹھکی : موتھ ؛ (۱) قزاقی (۲) ٹھگ کا پیشہ۔

ٹھ - ل

ٹھلوا : ڈکڑ ؛ بے سہ ، بے شخص۔

تعمیر کے لیے، (۶) مار ڈالنا۔

گرم نہ دیکھنا: (مھاڑا) نا تجربہ کار ہونا۔

لوہا گرم لوہے کو کاشتا ہے: (کھل)؛ دیسے مزاج کا

مرد آدمی تیز مزاج پر غالب آجاتا ہے۔

ملیح: مذکر؛ وہ ملیح جو تیزاب کی لاگ یا برقی قوت سے

پڑھایا جائے۔

ہونا: (۱) سرد ہونا (۲) کسی چیز کی گرمی نکل جانا (۳) دل

مرنا، ڈوب جانا، غرق ہونا (۴) خوش ہونا، آرام پانا،

سکھ پانا (۵) گرم مقام سے نکل کر سرد مقام میں دم لینا۔

تھک جانے کے بعد ستانا، تازہ دم ہونا۔

ٹھنڈائی: مؤنث؛ (۱) تبرید، وہ دوا جو گرمی دفع کرے۔

(۲) سہنگ،

ٹھنڈک: مؤنث؛ (۱) سردی، خشکی، (۲) خوشی، راحت، آرام

چین، تسلی۔

پڑنا: (۱) جہنم درد ہونا، چہین آنا (۲) (ظن) مقصد

حاصل ہونا، مراد برآنا (۳) کسی نفاذ یافتہ وغیرہ کا کم ہونا

(۴) غفرت رنج ہونا، دشمنی جاتی رہنا (۵) تسلی ہونا، صبر ہونا۔

الینان ہونا۔

ٹھنڈی: مؤنث؛ (۱) سرد، خشک (۲) خوش و خرم، مراد

(۳) بے روفی۔

سائنس: مؤنث؛ آہ سرد۔

گرمیاں: مؤنث؛ ادہری ہمت، ظاہری اختلاط

بے مزہ شوخیاں۔

مار: اندرونی سزا۔

مٹی: مؤنث؛ کم بڑھنے والا نہ پھینکنے والا جسم، درمیں

جوان ہونے والا جوان۔

ٹھنڈیاں: مؤنث؛ چھپک کے دانے۔

کی باگ مڑنا: چھپک کے دانوں کا مڑ جانا۔

ٹھنڈے پیٹوں: (عو) خوشی، خوشی سے، آرام سے بے لڑنے

جھگڑے سیدھے سیدھے۔

ٹھنڈے: (۱) علی القباہ، سویرے (۲) (ظن) آنا

سے، خوشی خوشی، خیریت سے

ٹھنڈے جانا / ٹھنڈے چلنا: (۱) سویرے اور ٹھنڈے

کے وقت جانا (۲) آرام سے جانا (۳) (ظن) خوشی خوشی جانا

جان سلامت لے کر جانا، رخصت ہونا، دفع ہونا۔

لوہے بھی کہیں پٹینے سے ڈھیلے پڑے ہیں:

(مثل) زیادہ عمر ہو جانے کے بعد بچوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔

ٹھنڈنا / ٹھنڈنا: (۱) ناز سے روننا، بچوں کی طرح پلکنا، ریں ریں

کرنا (۲) ضد کرنا، بچے کا لاڈ سے روننا، بچوں کا بغیر گریہ

آواز نکالنا۔

ٹھنڈنا: مذکر؛ پستہ قد، یونا۔

ٹھنڈگیر: مؤنث؛ (۱) گڑبگڑ، بطور شغل کسی خشک چیز کا

ایک ایک کر کے کھانا (۲) ریوڑیوں کی ٹھنڈیر۔

ٹھنڈا: (۱) دل میں پکا ارادہ ہونا (۲) ان بن ہونا (۳) قرار

پانا۔

ٹھ - و

ٹھو: (م) صفت، حد (جیسے ایک ٹھو، دو ٹھو)۔

ٹھوٹ: (۱) بے مزہ، بے وقوف (۲) جاہل، ان پڑھ۔

ٹھور: مؤنث؛ (۱) جگڑ، ٹھکانا (۲) سراخ، کونج۔

بے ٹھور: موقع بے موقع، جا بے جا، نازک جگہ۔

ٹھکانا: مذکر؛ جائے قرار، مسکن، رہنے کی جگہ۔

ٹھوڑی: مؤنث؛ ٹھوڑی، زخمیاں۔

تارا: مذکر؛ وہ تیل جو کسی حسین کی ٹھوڑی میں تھرتی یا

مضوی ہو۔

ٹھوس: پر مزہ، بیماری، بوجھل، سنت۔

ٹھوک بجا کے: (۱) اچھی طرح دیکھ بھال کے کھرا کھوٹا، ٹوٹا

پھوٹا دیکھ کے، جا بچ کے، اطمینان کر کے، سوچ سمجھ کے

(۲) طمانینہ، کھلے خزانے۔

ٹھوکر: مؤنث؛ (۱) جو جوت پنہ میں کسی سمت چیز سے لگے

یا قصداً پشت پانا نوک پاسے کسی چیز کو ماریں (۲) ٹھوٹے

کی ٹھوکر۔

— اٹھانا: صدر اٹھانا، نقصان اٹھانا۔

— پر ٹھوکر اٹھانا: متواتر صدر سے اٹھانا، نقصان پر نقصان اٹھانا۔

— پر ٹھوکر لگنا: نقصان پر نقصان ہونا، تکلیف پر تکلیف پہنچنا۔

— پر مارنا: (دیکھنا)؛ حیرت سمیٹنا، ذلیل سمیٹنا۔

— ٹھوکر کھانا: کسی چیز کی ٹکر پانوں میں لگنا، پانوں میں کسی سنت چیز کی جوت لگنا۔ اچھنا، اچھ کے گربڑنا، صدر اٹھانا، نقصان اٹھانا، بھولنا، بھونکا، دھوکا کھانا۔

— لگانا: (۱) لات مارنا، ٹھکراتا (۲) ایڑ مارنا (۳) کچھ نہ سمجھنا بہت حیرت سمیٹنا۔

— لینا: (۱) اچھ کے گرتا (۲) لغزش کھانا۔

— مارنا: (۱) لات مارنا، ٹھیس لگانا، ٹھوکا دینا (۲) کسی چیز کو ترک کرنا، قبول نہ کرنا۔

— ٹھوکر میں چلنا: پانوں کی ضرب میں لگنا۔

— کھانا: (۱) لائیں کھانا (۲) پامال ہونا (۳) مارا مارا پھرنا۔ (۴) ستمیاں سمیٹنا (۵) ٹھنسنہنا (۶) خلیاں کرنا۔

— کھلانا / ٹھوکر میں کھلوانا: (دیکھنا)؛ ذلیل کرنا، دبدب پھرنا۔

— ٹھوکر کھانا / ٹھوکر لگنا: (۱) مارنا (۲) کوٹنا (۳) زد و کوب کرنا (۴) لات کھنے سے مارنا (۵) پانوں میں بیڑیاں ڈالنا (۶) دھونک دینا، تالیش کرنا (۷) جڑنا، لگانا۔

— ٹھوکر نہٹھ: ڈنڈا، درخت کا تنا جس میں شاخیں ادا پتے نہ ہوں۔ خشک درخت جس میں پتے نہ ہوں۔

— ٹھوکر نہٹھا: بڈر؛ (۱) لانی خشک لکڑی (۲) حقہ کی سیدی نے۔ ٹھونس ٹھانس: ٹھونس؛ موٹھ؛ کسی چیز کا کسی چیز میں دبا کر ٹھونس دینا۔

— ٹھونسننا: (۱) دبا کر بھرننا، خوب زور دے کے ساتھ بھرننا (۲)

گھیرنا (۳) (تھیسے) کھانا کھانا (۴) زبردستی کھلانا۔

— ٹھونگ / ٹھونگا: موٹھ؛ (۱) چوپچ، گتے کی چوپچ (۲) بچ کی اٹھی کو دہرا کرنا۔

— ٹھ-ڈ

— ٹھہرانا: (لکھنؤ) دیکھو ٹھیرانا۔

— ٹھہراؤ: (لکھنؤ) دیکھو ٹھیراؤ۔

— ٹھہرا ہونا: (لکھنؤ) قرار پانا۔

— ٹھہرنا: (لکھنؤ) دیکھو ٹھیرنا۔

— ٹھ-ی

— ٹھیٹھا: بڈر؛ (۱) حد، تودہ (۲) جگہ، گدی، دوکان دار کے بیٹھنے کی جگہ۔

— ٹھیٹھ / ٹھیٹھ: (۱) خالص، اصلی (۲) وہ زبان جس میں کسی اور زبان کی آمیزش نہ ہو۔

— ٹھیڑانا: (۱) روکنا، تھامنا (۲) ٹھاننا، منصوبہ باندھنا (۳) بند کرنا، قائم کرنا (۴) مکان میں آنا (۵) تجویز کرنا (۶) قیمت چکانا، سجاوٹا ڈکڑنا، نرخ مقرر کرنا (۷) قرار داکرنا۔

— ٹھیڑاؤ: بڈر؛ (۱) قیام، ٹھہرنا (۲) وقفہ (۳) قرارداد۔

— ٹھیڑنا: (۱) رکنا، قیام کرنا، کھڑا رہنا (۲) ثابت قدم رہنا (۳) سٹھ ہونا، قرار پانا (۴) جٹنا، بیٹھ جانا (۵) فروکش ہونا۔ (۶) تازہ کرنا (۷) تاریخ مقرر ہونا (۸) قرار پانا (۹) طبیعت کا بحال ہونا (۱۰) گواہ کا اپنے اخبار میں قائم رہنا (۱۱) نوبت آنا (۱۲) غم کھانا، صبر کرنا (۱۳) تہ نشیں ہونا، چنچے بیٹھنا، تپ سے پہنچنا۔

— ٹھیس: موٹھ؛ خیف صدر، جوشیہ نہ یا ڈکھے ہونے، حشو کو کسی سنت چیز کی ٹکر سے پہنچنا۔

— ٹھیٹھیک: موٹھ؛ (۱) اڈواڑ، ٹھیک، ڈاٹ (۲) تلا، تلی، پیندی۔ جوتے کی ایڑی (۳) تھوار کی تہ، نال (۴) لکڑی اور غلے کا انبار (۵) وہ چیز جس سے لکڑی یا آتش بازی کے انار یا پھولوں کے گلے کے سوراخ بند کرتے ہیں۔

— ٹھکل جانا: (۱) پیندی ٹوٹ جانا (۲) (مجاڑا)؛ گھبرانا

سٹھ پٹا جانا۔

— ٹھیک: (۱) درست، صحیح، بجا، موزوں (۲) ہو بہو،

طرف جس میں آگ رکھتے ہیں۔
 — کرنا : (حو)؛ رہیسا، پیسے بے قدری سے صرف کرنا، اکثریت سے اٹھانا، بے دریغ صرف کرنا۔
 — کی مانگ : پیدائشی رشتہ، بچہ پیدا ہونے پر رشتے کی مانگ ہو جانا۔

ٹھیکسی : موتھ ؛ (۱) وہ چیز جس کے سہارے بوجھ اٹھانے والے بوجھ رکھ کر دم لیتے ہیں (۲) غلہ رکھنے کی جگہ نظر کا انبا (۳) وہ جگہ جہاں لکڑی بیچنے والے لکڑی بیچ کرتے ہیں، لکڑی کا انبار، پتاد کا انبار (۴) اڑواڑ۔

— لگانا : (۱) بوجھ سر سے اتار کر دم لینا، چلتے چلتے تھک کر دم لینا (۲) انبار لگانا۔

ٹھیکیاں لینا : دم لینا، تھوڑا پل کے ٹھہر جانا۔
 ٹھیکین : موتھ ؛ وہ بال جو مرد اپنے رخساروں پر رکھتے اور مونچوں سے ملائے ہیں۔

ٹھیلنا : مذکر ؛ (۱) دھکا (۲) ریل (۳) ایک قسم کی ہاتھ سے دھکیل کر مال و اسباب ڈھونڈنے والی گاڑی۔

ٹھیلنا : کہنی اڑنا، ٹھوکا دینا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دینا، پیچھے ڈھیلنا، ریلنا۔

ٹھیلنا : مذکر ؛ طعن و تظنیع۔
 ٹھیلنٹ / ٹھیلنی / ٹھیلنٹی : کان کا بیج ہوا میل۔

ٹھیلنگا : مذکر (۱) آگوشا (۲) لاشی، سونٹا۔
 — دکھانا : (۱) ہاتھ کا آگوشا ڈھیلنا، ہاتھ کے دکھانا (۲) (بجائیتا)

صاف نکال کر کرنا، چڑانا، چھڑانا۔
 ٹھیلنے سے : بلائے، کچھ پروا نہیں۔

جوں کا توں (۳) پورا پورا (۴) جیسا چاہیے (۵) مناسب۔
 — آنا : (۱) موزوں ہونا، کپڑے یا جوتے وغیرہ کا جسم کے مطابق ہونا (۲) ہمیں وقت ادھین موقع پر آنا۔

— بنانا : سزا دینا، تنبیہ کرنا، درست کرنا، کسی کام کے لائق کرنا، ذلیل و خوار کرنا۔

— شاک : (۱) ہر طرح سے درست لیس، تیار، چست، موزوں (۲) مذکر ؛ مشور ٹھکانا (۳) سہارا، ٹوکی، دنگر (۴) طے شدہ۔

— شاک کرنا : (۱) درست کرنا (۲) ٹھہرانا، پختہ کرنا (۳) انتظام کرنا۔

— شعور : مناسب جگہ۔

— ٹھیک : (صفت) سچ سچ بلکہ دوکاست، بعینہ، ہوبہو۔
 ٹھیککا : مذکر ؛ (۱) اجارہ (دینا لینا کے ساتھ) (۲) لشت گاہ ٹھہرنے کی جگہ۔

— بجانا : جلد یا ڈھولک اس طرح بجانا کہ گانے دلنے کی آواز کو سہارا لے۔

— بھرنا : گھوڑے کا اچھلنا کودنا۔

— لینا : (بجائیتا) ؛ ذمہ لینا۔

— دار : مذکر ؛ اجارہ دار، وہ شخص جس نے ٹھیک لیا ہو۔
 ٹھیکرا : مذکر ؛ (۱) گلی طرف کا ٹھیکرا (۲) ناریل کی سمت پوست (۳) (تھیرا) طرف، مس و طرف کہنے وغیرہ (۴) لاشسار یا تھیرے، مکان جائداد۔

— پھوڑنا : تہمت لگانا، الزام دینا۔

— ٹھیکری : موتھ ؛ (۱) ٹھیکرا کی تعمیر (۲) مٹی کا تورا، مٹی کا گاہ



ش

ش - ر

شَرَوْتُ : (ر) مَوْتٌ ؛ (ا) مال کی کثرت ، دولت ، تو نگری
(۲) حسرت ، اختیار ، حکومت ۔

شَرِيًّا : (ر) مذکر ؛ پر دین ، وہ چھ بہت چھوٹے ستارے جو ایک
دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

ش - ق

شِقَات : (ر) مذکر ؛ جمع ثقہ کی ، پرہیزگار لوگ۔

شِقَاتٌ : (ر) مَوْتٌ ؛ گرانی ، بوجھ ، وزن ، بیماری پن۔
شِقَاہِت : مَوْتٌ ؛ ثقہ ہونا۔

شِقْلٌ : (ر) مذکر ؛ گرانی۔

شِمَاعَةٌ : (اضافت کے ساتھ) مذکر ؛ کم سننا ، اونچا سننا
گران گوشتی۔

شَقْلِيْنٌ : (ر) مذکر ؛ (ا) دونوں جہاں (۲) انسان اور جن۔
(۳) حضرت محمد ادرآپ کے اہل بیت۔

شَقَّةٌ : (ر) مذکر ؛ معبر آدمی ، معتمد آدمی جس کے قول و فعل
پر اعتماد ہو۔

شَقْمَاشٌ : مذکر ؛ پرہیزگاروں کی سی شکل بنانے
والا بد معاش۔

شَقْلِيْلٌ : (ر) ؛ (ا) بیماری ، وزنی ، گران ، بوجھل (۲) دیر معین

مَوْتٌ ؛ اردو کے حروف تہجی کا ایک حرف۔ حساب
جمل (ابجد) میں اس کے عدد پانچ سو ہیں۔

ش - ا

شَابِتٌ : (ر) قائم ، مستقل ، برقرار ، مضبوط ، پایدار ، مستحکم
(۲) صداقت کو پہنچا ہوا ، تصدیق شدہ ، مستند (۱۳) وہ تالا
جو گردش نہ کرے۔

شَابِقٌ : (ر) روشن ، چمکتا ہوا۔

شَابِلٌ : (ر) مذکر ؛ (ا) تیسرا (۲) پنج۔

شَابِلٌ نَامٌ : مذکر ؛ (قانون) پنج کا فیصلہ۔

شَابِلِيٌّ : مَوْتٌ ؛ پنچایت۔

شَابِيٌّ : (ر) ؛ (ا) دوسرا (۲) مذکر ؛ نظیر ، مانند ، مقابل۔

شَابِيًّا : (ر) دوبارہ ، مکرر۔

شَابِيْہٌ : (ر) مذکر ؛ پیل ، منصف۔

ش - ب

شَبَاتٌ : (ر) مذکر ، قرار ، قیام ، یامداری ، استقلال ،
مضبوطی۔

رَاثَةٌ : (اضافت کے ساتھ) راتے کی مضبوطی۔

شَبِيْتُ : (ر) ؛ (ا) لکھنا ، تحریر کرنا (۲) نقش کرنا (۳) لکھا
ہوا ہونا۔

شَبُوْتُ : (ر) مذکر ؛ دلیل ، صداقت ، تحقیق (۲) گواہی سے
کسی بات کی تصدیق۔

— نخواستار / ثنا گزشتار / ثنا گو : رفا ؛ تعریف
کرنے والا ، قانع ۔

ثَنُویت : رثن ، ربي ، بیت (ع) موثق ؛ دو ہونا ، دولی ،
کسی مدد ذات یا شے کا ملنا ۔

ث - و

ثواب : (ع) مذکر ؛ بدلہ ، اجرت ، نیک عوص ، نیک کام
کی جزا ۔

— بخشنا : (۱) کار خیر کا صلہ مرے ہوئے کو دینا (۲) فلتے
درد کا ثواب مرے ہوئے کو پہنچانا ۔

— کمانا : نیکی حاصل کرنا ، بھلائی حاصل کرنا ، نیک کام
کرنا ۔

— لوطنا : ثواب کمانا ۔

پروا بہت : (ع) مذکر ؛ وہ ستارے جو گردش نہیں کرتے ۔

لور : (ع) مذکر ؛ (۱) بیل (۲) دوسرا برج آسمان کا جو گائے
بیل کی شکل کا ہے ۔

تاملی ہضم ۔

ث - ل

ثلاثی : (ع) مذکر ؛ تیسرا حصہ ، ایک تہائی ؛

ث - م

ثم بالعد : (ع) تاکہ قسم کی ۔

ثمر : (ع) مذکر ؛ (۱) پھل ، میوہ (۲) نیک نتیجہ ۔

ثمرہ : (ع) مذکر ؛ (۱) نتیجہ ، حاصل ، انجام (۲) بدلہ ،

عوض ۔

ثمن : (ع) مذکر ؛ قیمت ، مول ۔

ثمین : (ع) (۱) قیمتی (۲) آکھواں حصہ ۔

ث - ن

ثنا : (ع) مؤنث ؛ مدح ، تعریف ، ستائش ، حمد و نعت ۔



ج

جاپ : (۵) مؤنث ؛ کسی منتر یا دوتاؤں کے نام کو دل ہی دل میں بار بار دہرانا ، وظیفہ۔

جاتا رہتا : (۱) غائب ہو جانا ، بالکل دھو جانا ، باقی نہ رہنا ، گم ہو جانا (۲) مرجانا۔

جاترا : مؤنث ؛ (۱) تیرتھ کو جانا (۲) سفر ، کوچ ، روانگی۔

جاتری : تیرتھ کو جانے والا۔

جاتی : (۵) مؤنث ؛ ذات ، قوم ، مذہب ، فرقہ۔

جاتے جاتے : (۱) رفتہ رفتہ (۲) جاتے ہوئے ، رخصت ہوتے ہوئے۔

جاٹ ؛ ہندؤں میں ایک ذات کا نام۔

جراتب جانیے جب تیرھویں ہو جائے : (مثل) سخت فوادی گو معدوم ہو جائے پھر بھی اس کی شرارت کا اندیشہ رہتا ہے۔

جاسٹھ ؛ ذکر ؛ کولھو کا دھرا جس میں گنا وغیرہ پلٹتے ہیں۔

جاجم / جازمہ تکی مونک ؛ چھپا ہوا فرش ، ایک قسم کا پٹا جس پر بیل بونے وغیرہ چھاپ کر فرش بناتے ہیں۔

جادو ؛ (رف) ذکر ؛ سحر ، منتر ، انشوں۔

آمارنا ؛ جادو کا اثر دور کرنا۔

بیان ؛ (رف) وہ شخص جس کا کلام دل پر اثر کرے۔

جگگنا ؛ جادو کو ستارہ کرنا ، سحر کو عمل میں لانا۔

چلانا ؛ سحر کرنا ، موٹھ چلانا۔

چلنا ؛ (۱) سحر کا کارگر چلنا (۲) چلانا ، بات کا اثر کرنا۔

کاپٹلا ؛ (۱) جس پر جادو چلانا ہو اس کی صدمت کا آنے کا پتلا بنانا

اداسا پر منتر پڑھنا (۲) نکھیاٹ ؛ مشرق۔

ج ؛ ذکر ، مؤنث ؛ حروف تہجی کا ایک حرف ، حساب جمل ناہیں میں اس کے تین عدد ہیں۔

ج-۱

جا ؛ (رف) مؤنث ؛ (۱) جگہ ، مقام (۲) موقع۔

بہ جا ؛ (رف) ؛ ہر جگہ ، جگہ جگہ۔

بے جا ؛ (رف) ؛ موقع بے موقع ، بڑا بھلا۔

بے جا کہنا ؛ بڑا بھلا کہنا۔

سے ؛ موقع کی بات ؛ سچ ، مناسب۔

ضرور ؛ ذکر ؛ (۱) بیت اللہ (۲) بیتخانہ۔

ضرور میں پانی نہ رکھو اول ؛ (حقارت سے) ؛ پیمانے میں پانی رکھنے کی خدمت کے بھی لائق نہ سمجھنا ، سخت ناپسند ہونا۔

نشپن ؛ (رف) ذکر ؛ قائم مقام ، نائب۔

نماز ؛ (رف) مؤنث ؛ نماز پڑھنے کا فرش ، مصلیٰ۔

جا ؛ جانا سے امر صیغہ۔

بھڑٹا ؛ سامنا کرنا ، مقابلہ کرنا۔

پڑٹا ؛ ایک بارگی کہیں پہنچ جانا ، ناگہاں کہیں جانے کا اتفاق ہونا۔

دھکنکا ؛ پہنچ جانا ، جا پہنچنا۔

لینا ؛ گرفتار کرنا ، پیچھے سے بڑھ کر کسی کو جا پکڑنا۔

طٹا ؛ جا کر مل جانا ، سلاش کر لینا۔

نکلنا ؛ اتفاقاً کہیں جا پہنچنا ، بے ارادہ کہیں پہنچ جانا۔

جا پکڑ ؛ (ع) ؛ بجز کرنے والا ، ظالم۔

- کی موٹھ : جادو کا منتر۔
- گز : (ف) مذکر؛ ساحر، ٹوٹا کرنے والا۔
- گزگج : (ف) موٹھ؛ ساحری، سوسازی۔
- نظر / نفس / نگاہ : (ف) (کنایتاً)؛ معشوق۔
- وہ جو سر پہ چڑھ کر بولے : (مثل)؛ تدبیر دہی جو کارگر ہو اور جس کا اقرار سامنے والے کو منہ سے کرنا پڑے۔
- جادو : (ع) مذکر؛ پگ ڈنڈی، وہ سیدھی راہ جو جھگ میں لوگوں کی آمد و رفت سے بن جاتی ہے۔ راستہ۔
- مستقیم : (اصناف کے ساتھ) (ف) مذکر؛ سیدھی راہ، راہِ چاقا
- جاؤب : (ع) جذب کرنے والا، کھینچنے والا، خشک کرنے والا۔ (انک بلائنگ پیپر)
- جبار : (ع) مذکر؛ (۱) پڑوسی، ہم سایہ (۲) زیر یا کسرہ دینے والا۔
- جار : JAR (انگ)؛ مذکر؛ مرتبان۔
- جازوب : (ف) موٹھ؛ جھاڑو۔
- ککش : (ف) مذکر؛ جھاڑو دینے والا، خاک روپ۔
- جاری : (ع)؛ رواں، بہتا ہوا، نافذ۔
- ہونا : (۱) رواں ہونا، بہنا (۲) مسلسل عمل (۳) نافذ ہونا (۴) ڈگری پر عمل درآمد کی کاروائی ہونا۔
- جاریہ : (ع) موٹھ؛ لوندی، باندی۔
- جاڑا : مذکر؛ سردی، سردی کا موسم۔
- چڑھنا : (۱) سردی لگنا، تپ و لرزہ کا اثر ہونا (۲) کا پنا ڈنا۔
- کھانا : سردی کھانا، سردی کی تکلیف برداشت کرنا۔
- جاڑے : مذکر؛ جاڑوں کی فصل۔
- کی تپ چڑھنا : (۱) تپ و لرزہ آنا (۲) (کنایتاً)؛ ڈسے کا پنا۔
- کی چاندنی : بے لطف چاندنی۔
- جاسوس : (ع) مذکر؛ جُبر، سیدی، خفیہ۔
- جاسوسی : موٹھ؛ جبری، خفیہ گری۔
- لہنا : سٹھ گہ لہنا۔
- جافری / جعفری : ٹھانڈی، ٹھنڈی، لوسے یا لکڑی کی جالی۔
- جاگڑ : مذکر؛ ناپسند ہونے کی صحت میں واپسی کی شرط پر کسی چیز کی خریداری۔
- بہی : موٹھ؛ جاگڑ (شرطی بکری) لکھنے کا کھاتہ۔
- جاگن : موٹھ؛ لکڑی جس پر گنوں میں اینٹوں کی بنیاد ہو۔
- جاگ : موٹھ؛ شب بیداری۔
- اٹھنا / اٹھنا / اٹھنا / اٹھنا : سوتے سے اٹھ بیٹھنا، بیدار ہو جانا، چونک پڑنا۔
- جاگتی جوت : موٹھ؛ زندہ کرامات، سمجھنا، توت۔
- جاگنا : (۱) نیند سے اٹھنا، نیند اٹھنا، (۲) (کنایتاً) ہوشیار ہونا۔
- منقبہ ہونا۔
- جاگرن : (ع) موٹھ؛ رات کو جاگ کر عبادت کرنا، رت جگا۔
- جاگے گا سو پائے گا، سوئے گا سو کھوئے گا : (مثل)؛ ہوشیاری سے کامیابی، عفت اور کاپلی میں ناکامی ہے۔
- جاگہر : (ف) موٹھ؛ (۱) بادشاہوں یا نوابوں کی طرف سے معافی کی زمین (۲) معافی۔
- جال : (ف) مذکر؛ (۱) سیلو کا درخت (۲) دام، پھندا (۳) مکر فریب، شہدہ (۴) حلقہ دار، سوراخ دار چیز۔
- بچھانا / پھیلاتا : (۱) دام پھیلاتا (۲) مکر و فریب کا ڈھنگ ڈالنا؛
- پھینکتا : (۱) دریا میں جال پھینکتا (۲) فریب کی چال چلنا، دھوکا دینے کے واسطے کاروائی کرنا۔
- تانٹا : (کنایتاً)؛ مکر و فریب کا ڈھنگ ڈالنا۔
- دار : پھندے دار، حلقہ دار، جال کا۔
- ڈالنا : (۱) جال بچھانا (۲) فریبی کاروائی کرنا (۳) جال دریا میں ڈالنا۔
- مارنا : (۱) جال کے ذریعے سے جاندار کو پھنکنا (۲) فریب دینا، جال کرنا، کسی کو فریب میں لانا۔
- میں آنا : (۱) کسی جالدار جال میں گرفتار ہو جانا (۲) دھوکے میں آ جانا۔
- میں پھنستا : (۱) فریب میں لانا، پٹی پڑھانا (۲) جال میں

شکار پکڑنا (۳) وقت میں ڈانا، مہیبت میں ڈانا۔

جالا : مذکر؛ (۱) کڑی کا اپنے لعاب سے تانے بانے سے بنایا ہوا شکار کا جال (۲) وہ سفید پردہ یا جھلی جو آنکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی ایک بیماری۔

جاللی : مؤنث؛ (۱) سوراخوں والا کپڑا (۲) کشیدہ، خانے دار کڑھا ہوا کپڑا (۳) رسی کا بنا ہوا جالی دار تھیلا یا تھیلی (۴) حیوانات کے اوجھ پر کی چرپی دار جھلی (۵) وہ جھلی جس میں بچہ پلٹا ہوا پیدا ہوتا ہے (۶) مولیسیوں کے منہ پر باندھنے کا چھیدکا (۷) جھلی، فریبی۔ دغا باز، بنایا ہوا، اصل کے خلاف، معنوی (۸) پتھر یا کڑی کا آبر پارخانے دار لٹروں اور عارتوں میں لگانے کا ٹکڑا (۹) پتھر یا لوسے کا سوراخ دار ٹکڑا جسے کھڑکی یا موری میں لگایا جاتا ہے (۱۰) حلقہ (۱۱) لٹو پھرانے کا ڈورا (۱۲) جھمیری۔

کازرنا / نکالنا : جالی کا کام کرنا، کپڑے پر کچھ کام بنانا، کشیدہ کاڑنا۔

لوٹہ مذکر، ایک قسم کا ہارک خانے دار انگریزی کپڑا۔

جالیا : فربہ، چال باز۔

جالپنوس : مذکر، یونان کا ایک مشہور علم۔

جام : جام - (انگ) مذکر؛ شکر میں پکائی ہوئی پھلوں کی پیس۔

جام : (ف) مذکر؛ ساغر، شراب پینے کا پیالہ۔

پنیا : (ف)؛ شراب نکلنے۔

ججم / ججمشید / جہاں نما : (انگ) کے ساتھ، مذکر؛ جمشید بادشاہ کا دراجی پیالہ جس سے دنیا کا حال معلوم ہوجاتا تھا۔

چرطمانا : شراب کا پیالہ پینا۔

چلنا : شراب کا نکلنا۔

ترب ریز ہونا : قریب مرگ ہونا۔

چاڈر : (ع)؛ (۱) جاہرا، پتھر (۲) ایک خوبی اصطلاح۔

جامدانی : ایک قسم کا کڑھا ہوا پھل دار کپڑا۔

جامع : (ع)؛ جمع کرنے والا، شامل، حاوی، کل، محم۔

مسجد : مؤنث؛ وہ بڑی مسجد میں جو کسی نماز ہوتی ہے۔

جامعیئت : (ع) مؤنث؛ جامع ہونا، سب طرح کی خوبیاں۔

جامن / جامن : مؤنث؛ (۱) ایک اور سے رنگ کا پھل اور اس کے درخت کا نام (۲) وہ دہی یا چھانچہ جس کے ویسے سے اور دہی جاتے ہیں۔

جامدہ : (ف) مذکر؛ (۱) کپڑا (۲) لباس، قبا، پیراہن (۳) وہ حاکم قسم کا لباس جو نونشاہ کو پہناتے ہیں۔

جامدہ احرام : (ف) مذکر؛ وہ لباس یا کپڑا جس کو گھسنے والا مقررہ مقامات سے پہن لیتا ہے۔

جامدہ بہن لینا : (کنایتاً) بہن کسی کا مداح ہونا کسی کا طرف دار ہونا۔

زیب : وہ شخص جس پر ہر قسم کا لباس اچھا معلوم ہو۔

جلے سے باہر ہوجانا : (۱) کنایتاً؛ اپنے سے باہر ہوجانا۔

(خوشی یا غصے سے) (۲) کنایتاً؛ بہت اترانا۔

سے نکلا پڑنا : نہایت اترانا۔

سے نکل جانا : اپنے جلے سے باہر ہوجانا۔

میں پھولنا نہ سمانا : (۱) نہایت خوش ہونا، فروغوشی سے

آپے میں نہ رہنا (۲) نہایت اترانا۔

میں ہونا : اپنے غم میں رہنا۔

وار : مؤنث؛ ایک قسم کی پھول دار چینٹ یا اولی پھول دار چادر۔

جان : مؤنث؛ پہچان، واقفیت، آگاہی۔

بوجھ کر : سوچ بچھ کر، عمداً، وہ بوجھ دانستہ۔

پہچان : (۱) مؤنث؛ واقفیت، صاحب سلامت شناسائی (۲) مذکر؛ واقف کار، ملاقاتی۔

کر اُن جان بننا : کسی چیز سے واقف ہو کر نا واقف بننا۔

لینا، پہچان لینا، معلوم کر لینا۔

نہ پہچان بڑی خالہ سلام : (دش)،؛ بغیر تعلقات

کے گرم جوش ظاہر کرنے والا، کسی سے بے خاص خصوصیت ظاہر

کرتا جس میں اپنے بھائی مقصود ہو۔

جان : (ف) مؤنث؛ (۱) روح، زندگی (۲) بلی، نقد، ہمت۔

کتاب : (ف) کتاب؛ (اصل) (۲) تعلیم اور مبادی کا کلمہ (۵) طاقت،

— حال (۱۶) نگرہ (کنایتاً) معشوق۔
 — جانناں / جانانہ : (ف)؛ محبوب، پیارا۔
 — جان آنا / جان آجانا : طاقت آجانا، پہنچ جانا، تازگی حاصل ہونا، تسلی ہونا۔
 — جان اٹکنا : دم نکلنے نکلنے کہیں رک جانا۔
 — اُکھنا : جان کا مصیبت میں پڑنا۔
 — باز : (ف)؛ دلیر، بڑا محنتی۔
 — بچانا : (۱) کسی کو مرنے سے بچانا، مصیبت سے بچانا (۲)۔
 — (اپنی کے ساتھ) سہاگ جانا، پیچھا چھڑانا۔
 — پھینا : جان سلامت رہنا۔
 — پچی اور لاکھوں پائے : (مثل)؛ جیتا رہنا ہی غنیمت اور بڑی دولت ہے۔
 — بخش : (ف)؛ تازگی بخشنے والا۔
 — بخششی : (ف) موت؛ معافی، درگزر۔
 — بحق ہونا : مر جانا۔
 — بر : (ف)؛ (کنایتاً)؛ صحیح سلامت، محفوظ۔
 — بر ہونا : سلامت پنا۔
 — بر لب ہونا : مرنے کے قریب ہونا۔
 — جان بوجھ کے ؛ قہراً، دیدہ و دانستہ۔
 — بچینا : (کنایتاً)؛ کسی لالچ میں وہ کام کرنا جس سے جان کا ڈر ہو۔
 — بے گل ہونا : دل بے عین ہونا، بے قراری ہونا۔
 — پانا : (۱) ترد تازہ ہونا، پہنچ جانا (۲)؛ (کنایتاً)؛ قوت پانا، جوصل پانا۔
 — پر آفتنا : جان پر آفت ہونا، ایسی تکلیف ہونا جس سے جان کو صدمہ ہو۔
 — پر بھلی پڑے / گرے : (بددعا)؛ مصیبت آنے، ناگہانی آفت پڑے۔
 — پر ہینا / برین جانا : جان خطرے میں پڑنا، مصیبت واقع ہونا۔
 — جو کم آنا : جان پر مصیبت آنا۔

— پرنلک ٹوٹنا : بڑی مصیبت آجانا۔
 — پرنکھینا / کھیل جانا : ایسے کام کی جرأت کرنا جس میں ہلاکت کا خوف ہو۔
 — پرنوبت آنا : جان پر ہینا۔
 — پڑنا : (۱) اٹھ سے یا پتے میں جان پڑنا (۲) تازگی حاصل ہونا (۳) جی کو فرحت ہونا، کھلیبا ٹھنڈا ہونا (۴) بیماری سے پھینا، کمزوری دود ہونا (۵) رونق آجانا۔
 — پڑی ہونا : کسی بات کی فکر ہونا، کسی طرف خیال لگا ہونا۔
 — پھوٹنا : سیدنا ملی ہونا۔
 — پھینا : جان مذاب میں ڈالنا۔
 — توڑنا : بہت کوشش کرنا۔
 — جاں : (اضافے کے ساتھ)؛ (ف)؛ (۱) روح اعظم (۲) (کنایتاً)؛ بہت پیارا، معشوق۔
 — چھپانا : جیلڈ ہونڈنا، بہانہ کرنا۔
 — چھڑانا : پیچھا چھڑانا۔
 — چھڑکنا : مزنا، فریفتہ ہونا۔
 — چھوڑنا : (۱) پیچھا چھوڑنا (۲) ہمت ہارنا۔
 — چھوڑنا، جھگڑے سے چھوڑنا۔
 — دار : ذی روح، زداد اور، مضبوط، تیز، امیر، دولت مند۔
 — جانا : (۱) مرنا (۲) واقف ہو جانا (۳) گھبرا جانا۔
 — جائے کہ رہے : کچھ ہی مصیبت کیوں نہ آئے، کیسا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔
 — جلاتا : جی جلاتا، رنج دینا، بے حد غصہ دلانا۔
 — جلنا : دکھ ہونا، ایذا ہونا، رنج ہونا۔
 — جو کھول / جو کھم : موت؛ اندیشہ، خوف، ڈر، مصیبت۔
 — جو کھم میں ڈالنا : جان خطرے میں ڈالنا۔
 — جہاں : (اضافے کے ساتھ)؛ (کنایتاً)؛ معشوق۔
 — چرانا : کام سے جھانکا، کام سے پہلو تھی کرنا۔
 — چلی جانا : بہت بے چین ہونا۔
 — ستال : (ف)؛ جان لینے والا۔
 — سوز : (ف)؛ جان جلانے والا، تکلیف دینے والا۔

— سن سے ہو جانا : سہم جانا ، ڈر جانا ۔
 — سوکھنا : (۱) دل کھٹنا ، بڑا معلوم ہونا (۲) بہت خوف معلوم ہونا ۔
 — سوئی پر ہونا : جان خطرے میں ہونا ، کسی بات کا دھوکا ہونا ۔
 — دو بھر ہونا : زندگی سے بیزار ہونا ، زندگی اجیرن ہونا ۔
 — دُحک دُحکی میں آکھنا : جان دھوکن میں ہونا ۔
 — دینا : (۱) مرجانا (۲) نہایت بخل کرنا (۳) خودکشی کرنا ۔
 — سے بیزار ہونا / جان سے تنگ ہونا : موت کا خواہاں ہونا ، زندگی سے سیر ہونا ۔
 — سے جانا : مرجانا ۔
 — سے دُور : جو بڑی بات کہی یا سانی جا رہی ہے اس کا روئے سخن جس کی طرف ہے خدا اس کو محفوظ رکھے ۔
 — سے زیادہ : بہت عزیز ، بہت پیارا ۔
 — سے گزرنے : جان سے جانا ۔
 — سے ہاتھ اٹھانا / جان سے ہاتھ دھونا : زندگی سے مایوس ہونا ، مرنے پر آمادہ ہو جانا ۔
 — فشانی : (ف) موت ؛ بڑی منت ۔
 — کا کھڑا : بڑا ، آرام دل ، مشرقی ، بگڑا پارہ ۔
 — کا جنجال : نہایت ناگوار ، دوسرے ۔
 — کا روگ : وہ بیماری جس سے ہلاکت کا خطرہ ہو ، زندگی کو بے لطف کر دینے والا ۔
 — کا خواہاں ہونا : جان لینے کی نگر میں ہونا ۔
 — کا ڈر ہونا / کھشکا ہونا : ہلاکت کا اندیشہ ہونا ۔
 — کا صدقہ مال : جہاں روپیا خرچ کر کے جان خطرے سے بچ سکے روپیا خرچ کرنا چاہیے ، جان بچانے کے لیے مال قربان کر لینا چاہیے ۔
 — کا عذاب : وہ جس سے جان پر مصیبت ہو ، جان کا جنجال ۔
 — کاہ : (ف) ؛ جان گھلانے والا ، محنت مشقت کا کام ۔
 — کا لاگو ہونا : (۱) قتل کرنے کے درپہ ہونا (۲) کسی کے پیچھے پڑ جانا ۔

— کا لیوا : جان کا دشمن ۔
 — کام آنا : کسی خدمت میں جان جانا ۔
 — کٹنی : موت ؛ نزع ، موت کے وقت سانس کھڑنا ، غذا بے کو آ جانا ؛ بے انتہا غم ہونا ۔
 — کو جان نہ سمجھنا : نہایت محنت اور مشقت کرنا ، جان کو عزیز نہ رکھنا ۔
 — کورونا / جان کو گلینا : بددعا دینا ، کسی بدخواہ یا دشمن سے تحریف اٹھا کر اسے کوسنا ، مہر کر بیٹھنا ۔
 — کھپانا : بگڑ کرنا ، بہت مشقت اٹھانا ۔
 — کھینٹنا : جان بھلی جانا ۔
 — کھوٹا : جان دینا ، رنج و غم کرنا ۔
 — کی امان : موت ؛ معافی ، رہائی ، عفو ۔
 — کے برابر رکھنا : نہایت عزیز رکھنا ۔
 — کی جان گھنی ، ایمان کا ایمان گیا : (مقولہ) ؛ ہر طریقے سے نقصان ہی نقصان ہوا ، دین کے رہے دنیا کے ۔
 — کی خیر : جان کی سلامتی ۔
 — کی خیرات مال : دیکھو ، جان کا صدقہ مال ۔
 — کی طرح رکھنا : جان کے برابر عزیز رکھنا ۔
 — کے لالے پڑنا : بھینے کی امید نہ رکھنا ۔
 — گداز : (ف) ؛ جان گھلانے والا ، جان لیوا ۔
 — گداز آواز : وہ آواز جس میں درد بھرا ہو کر سننے والوں کا اس سے دل ڈکے ۔
 — گزرا : (ف) ؛ جان گھلانے والا ۔
 — گھٹل : (ف) ؛ جان گھلانا ، بگڑنا ، تردد کرنا ۔
 — گھٹل جانا : بگڑنا ، تردد سے جان کا ٹھنسیل ہونا ، جان کوفت میں ہونا ۔
 — گنونا : جان کھونا ۔
 — لیوں پر آنا : قریب مرگ ہونا ، عالم نزع میں ہونا ۔
 — لوادینا : (بکارتا) ؛ دل دجان سے کوشش کرنا ، جان لینے پر مستعد ہونا ۔
 — لہرانا : طبیعت کا نال ہونا ۔

حباتا: (۱) سعادت، رحمت ہونا، چلنا (۲) گزرتا، ٹلنا، ہوتا۔
 (۳) چوٹنا، جدا ہونا، علاحدہ ہونا (۴) داخل ہونا پہنچنا، گھستا
 (۵) دُکھ ہونا، دُخ ہونا (۶) صنایع ہونا، کھویا جانا، چوری جانا
 (۷) گرنا، اُترنا (۸) مرنا (۹) خیال کرنا، پیداکرنا، تپاس کرنا
 (۱۰) سڑکنا (۱۱) ٹوٹ جانا۔

— بوجھا: مذکر؛ جس سے ابھی طرح واقفیت ہو۔

جانے دینا: (۱) جانے کی اہازت دینا (۲) پروانہ کرنا (۳)
 معاف کرنا (۴) بات کو قبول جانا۔

جانب: (ع) طرف، سمت، پہلو، رخ۔

— دار: طرف دار، حلقی۔

جانبین: مذکر؛ دونوں طرف، فریقین، طرفین۔

جارج: موت، آزمائش، امتحان، آٹک۔

جانچنا: پرکھنا، آٹکنا، تخمینہ کرنا، حساب کی مڑتال کرنا، پہچاننا
 تشخیص کرنا، سناٹا۔

جانگ / جانگھ: موت؛ ران

جانگیا / جانگھیا: موت؛ — نیکر، چھری جوداؤں
 تک ہو۔

جانگلو: گنوار، جھگی، اُبلنے والے دُوق۔

جاننا: (۱) آگاہ ہونا، آشنا ہونا، پہچاننا، تیر کرنا معلوم کرنا (۲)
 قائل ہونا (۳) ذمہ دار ہونا (۴) ماننا (۵) سمجھنا۔

— بوجھنا: واقف ہونا۔

جانور: (ف) مذکر؛ (۱) حیوان، ذی روح، کیرا گھوڑا (۲) چوپایہ
 چرند، درندہ (۳) پوندہ (۴) گھوڑا (۵) وحشی، غیر انوکھ
 (۶) احمق، بے وقوف۔

جانے: غیر نہیں، کیا معلوم۔

جاوڑی / جوڑی: موت؛ جانبل کا پھول۔

جاودال / جاوید: (ف) ہمیشہ، سدا۔

جاودانی: (ف) موت؛ ہمیشگی، ہمیشہ۔

جاہ: (ف) مذکر موت؛ (۱) رتبہ، مرتبہ (۲) شرف، قدر،
 بزرگی، شان۔

— وجمال: (ف) مذکر؛ شان و شوکت۔

— لینا: (۱) ہلاک کرنا (۲) (کھانیٹا)؛ تنگ کرنا، عاجز کرنا، دق
 کرنا (۳) سنا لینا، پہچان لینا۔

— لیوا: جان لینے والا، دشمن جان تکلیف دہ۔

— مار کر کام کرنا: دل توڑ کر کام کرنا۔

— مارنا: (۱) نہایت کوشش کرنا (۲) دق کرنا، اذیت
 پہنچانا۔

— من: (ف)؛ (۱) منافقت کے ساتھ، میری جان عزیز، اپنی
 جان کی طرح پیارا۔

— میں جان آنا / میں جان پڑنا: اطمینان ہونا طبیعت
 میں تازگی آنا۔

— نبار: جان نہ کرنے والا، جاں باز۔

— نزاری: موت؛ جاں بازی، جان قربان کرنا، جفاکشی۔

— نکلنا: (۱) جسم سے رصع کا جدا ہونا (۲) (کھانیٹا)؛ فریضہ ہونا
 (۳) ہمت ہارنا، ناگوار ہونا (۴) گھیرا جانا، مضطرب ہو جانا۔

— نواز: (۱) مہربان (۲) معشوق۔

— نہ بچنا: (۱) موت آ جانا، مرن جانا (۲) چھٹکارا نہ ہونا، مفر
 نہ ہونا۔

— نہ ہونا: سکت نہ ہونا، قوت نہ ہونا۔

— وارنا: جان قربان کرنا۔

— ہار: جان دینے والا، جان پر کھینچنے والا، ماشق۔

— ہلاک کرنا: کسی معاملے میں بہت فکر کرنا، تردد کرنا۔

— ہلکان کرنا: تمکا ہانا، بہت کام لینا، مصیبت جھیلنا،
 تکلیف دینا، دق کرنا۔

— ہوا ہونا: جان نکل جانا۔

— جان ہونٹوں پر آنا / ہونا: جان بول پر ہونا۔

— ہے تو جہان ہے / جان ہے تو سب کچھ: (ش)
 جیتے جی کا سب لطف ہے، اپنے دم تک دنیا کا لطف

— ہے۔

— حبابی: (۱) پیارا (۲) معشوق۔

— دشمن: جان کا دشمن، سخت دشمن، کٹر دشمن۔

— دوست: دلی دوست۔

— غیر منقولہ : (اضافت کے ساتھ) موتث ؛ وہ جایدا جس کی نقل و حرکت نہ ہو سکے ، زمین کا ٹوٹا مکان وغیرہ

ج-ب

جہل : جس وقت ، جوں جوں۔
 — اور ڈھ لی لونی ، تو کیا کرے گا کوئی : (مثل) اے بیہیا کو کسی کا خیال نہیں ہوتا۔
 — تنگ / تنگ : جس وقت تک
 — تنگ بچہ روتا نہیں ، ماں دودھ نہیں دیتی : (مثل) بے طلب کو کچھ نہیں ملتا۔
 — تنگ چلنا تب تک پہننا : (مثل) عمر بھر مزدوری کرنا اور کھانا۔
 — تنگ سانس تب تک آس : (مثل) ؛ زندگی کے ساتھ امید قائم ہے۔
 — تنگ دم ہے ، تب تک غم ہے : (مقولہ) ؛ غم اور نظر جان کے ساتھ ہیں۔
 — تنگ جان میں جان ہے : جب تک زندگی ہے۔
 — کہیں جا کے : بڑی وقت سے۔
 — نہ تب ؛ وقت بے وقت ، دن آفتاب (۲) غیر محدود زمانہ (۳) ، اکثر ، ہمیشہ۔
 — جیبی : جب ہی کا ٹھنٹ۔
 — تو : اسی لیے۔
 — جبار : (ع) ؛ (۱) جبر کرنے والا (۲) زبردست ، بزرگ۔ (۳) خدائے تعالیٰ کا نام۔
 — جبر : (ع) ؛ ذکر ؛ (۱) دباؤ ، جبر و جفا (۲) علم حساب کی ایک قسم۔
 — جبراً : (ع) ؛ زبردستی ، مجبور کر کے۔
 — قہراً : چاروناچار ، مجبوری سے۔
 — جبراً اٹھانا : سخت جھیلنا ، دکھ سہنا۔
 — جبر و تعذری : موتث ؛ ظلم و ستم ، زبردستی۔
 — جبر و مقابلہ : (ع) ؛ ذکر ؛ حساب کے ایک علم کا نام ، الجبرا۔
 — جبروت : (ع) ؛ (۱) عظمت ، کبریا ، (۲) (اصطلاح صوفیہ) ؛

— وحشم : (ف) ؛ ذکر ؛ شان و شوکت ، مٹاٹ۔

— و منصب / جاہ و منزلت : (ف) ؛ قدر و منزلت ، رتبہ بزرگی ، شان۔

جاہل : (ع) ؛ ذکر ؛ (۱) ناخواندہ ، بے علم (۲) وحشی۔

جاہلیت : (ع) ؛ موتث ؛ (۱) جاہل ہونا (۲) وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے تھا ، آیام جاہلیت۔

جاہلی / جوہی : موتث ؛ ایک قسم کا سفید خوشبودار پھول۔
 جائز : (ع) ؛ (۱) بجا ، درست ، مناسب ، روا (۲) مباح ، مطابقت

شرع ، قانون کے موافق۔

— رکھنا ؛ اتنا ، تسلیم کرنا ، منظور کرنا ، روا رکھنا۔

جائزہ : (ع) ؛ ذکر ؛ جایز ، مقابلہ ، ماضی ، شمار ، سرسری ، اہمیت ، جایز کی علامت۔

— دینا : حساب کتاب دینا ، جایز کرانا۔

— دیکھ لینا : جایز لینا ، آزمائش کر لینا۔

— لینا : چڑھانا ، جاننا ، حاضری لینا۔

— جاہے : (ف) ؛ موتث ؛ جگہ ، گنجائش۔

— تنگ ست مزماں بسیار : (ف) ؛ (مثل) ؛ چیز تھوڑی اور چاہنے والے بہت۔

— دم زدن : موتث ؛ دم مارنے کا موقع ، گلاشکوہ کی جگہ۔

— ضرور ؛ ذکر ؛ پیمانہ۔

جائی : (ع) ؛ موتث ؛ لڑکی ، بیٹی۔

جائے بچل / جالیقل : ذکر ؛ جواز۔

جایدا : موتث ؛ (۱) ملکیت ، مال اسباب ، جائیداد ، پونجی ، اثاثہ ، چیز بہت (۲) پیداوار ، کھڑی ہوئی فصل۔

— آبائی : باپ دادا کی جائیداد ، جبری وراثت۔

— منقولہ : (اضافت کے ساتھ) موتث ؛ وہ جایدا جو ضمانت میں رہن کر دی جاتے۔

— منقولہ : (اضافت کے ساتھ) موتث ؛ وہ جایدا جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں ، مال و اسباب زاید وغیرہ۔

ج-ت

جھٹانا: (۱) خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، بتانا (۲) فہمائش کرنا۔
 (۳) یاد دلانا (۴) اشارہ کرنا۔
 جھٹائی: مؤنث؛ کھیت کا جھٹنا۔
 جھٹاؤ: جوتنے کے قابل زمین۔
 جھٹن: مذکر؛ ڈھنگ، کوشش، تدبیر۔
 جھٹنا: جتن، جتنے، اسلئے مومئوں ہیں ان میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔
 جھانوا، اتنا ہی کر کرنا: (مثل)؛ زیادہ دہم سے زیادہ
 نقش نکلتے ہیں۔ زیادہ تحقیقات سے زیادہ عیب کھلتے ہیں۔
 جھوٹا اتنا ہی کھوٹا: بہت کھوٹا۔
 زمین کے اوپر، اتنا زمین کے نیچے: (مثل)؛ مفید
 نفع ناکیز، جتنا نظر آ رہا ہے اس سے دیکھا جا لگ ہے۔
 گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا: (مثل)؛ جتنا روپیہ خرچ کرو گے
 اسی قدر چیز عمدہ ہوگی، جیسا خرچ کرو ویسا ہی کام درست
 ہوگا۔

جھٹی چادر دیکھیے، اتنے ہی پانچ پھیلائیے: (مثل)؛
 حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔
 جھٹنے منہ اتنی باتیں: (مثل)؛ کسی سے کسی کا اتفاق نہ ہونا،
 کئی لوگوں کا الگ الگ رائے دینا۔
 جھٹنا: (۱) گھوڑے یا بیل کا ہل یا گاڑی میں لگنا (۲) کسی کام میں
 بہت مشغول ہونا (۳) کھیت کا جوتا جانا۔

جھٹانا: جوتیاں مارنا۔
 جھٹنا: مذکر؛ گروہ، جماعت۔
 باندھنا: جماعت بنانا، مشفق ہونا، ایک کرنا۔

ج-ٹ

جٹ: مذکر؛ (۱) جنت، جگہ، لاٹ (۲) دو متحدہ مشفق آدمی یا
 کوئی چیز (۳) ہم سر، شانی (۴) اتفاق۔
 جٹا: مؤنث؛ را، آپس میں اُلجھے ہوئے سر کے بال، جوڑا (۲) رستا،

مالم غلمت و جلال، اسلئے صفات الہی و مرتبہ وحدت۔
 جبروتی: مؤنث؛ بزرگی کی شان، کبریا۔
 جبر و لزوم: (ع) مذکر؛ (۱) جبریت، عقیدہ جبر (۲) یہ عقیدہ کہ
 انسان کا ارادہ خارجی قوتوں کا پابند ہے۔
 جبرئیل / جبرئیل: مذکر؛ ایک فرشتے کا نام جو خدا کے تعالیٰ کی
 طرف سے رسولوں کو وحی و احکام پہنچایا کرتے تھے۔
 جبریت: مذکر؛ ایک اسلامی فرقہ جس کا عقاد ہے کہ بندے کو اعمال
 و افعال میں کچھ اختیار نہیں وہ بالکل مجبور ہے۔
 جبراً: مذکر؛ کلاً، منہ کے اوپر اور نیچے کا حصہ۔
 جبرل: (ع) مذکر؛ پہاڑ۔

جپکت: (ع) مؤنث؛ خلقت، اصل طبیعت، نفسیات کی
 اصطلاح، پیدائش قدرت۔
 جبلی: خلق، پیدائش، مدنی، اصلی۔
 جبین: (ع) مذکر؛ (۱) نامردی، بزدلی، کم ہمتی (۲) دودھ پھاڑ
 کر کھلا ہوا سفید مادہ۔
 جببہ: (ع) مذکر؛ پیرا ہن، کرتے کی صورت کا ایک خاص قسم
 کا لباس۔

جببہ: (ع) مذکر؛ ماتھا، پیشانی۔
 سائی: (ف) مؤنث؛ ماتھا، گردنا، منت سماجت کرنا۔
 جببیں: (ع) مؤنث؛ ماتھا، پیشانی۔
 سا / فرمسا: (ف)؛ ماتھا، گولنے والا، منت سماجت
 کرنے والا۔

ج-پ

جپ: مؤنث؛ پلو جاپٹ کرنا، منتر کسی کا نام بار بار لینا کسی
 کا ذکر بار بار کرنا، رشتا۔
 کرانا: کسی مطلب یا مراد یا بیماری کی تندرستی کے واسطے
 منتر پڑھوانا، پلو جاپٹ کرنا۔

جیا کرنا: (د) بار بار پڑھنا (۲) مالا پھرنا۔
 چپٹا: مالا پھرنا، خدا کا نام لینا، رشتا، بار بار کرنا۔

ذکر؛ عرب میں بجز تکریم کے کنارے ایک مشہور شہر کا نام۔
جَدی: (۱) ایک دادا کی اطلاق (۲) آبائی، موروثی، باپ دادا کی۔

جَد: (ع) مَوْت؛ کوشش، دُور و مَحُوب۔

جَد و جَدید: مَوْت؛ کوشش، محنت، مشقت۔

جَدَا: (ف) ذکر؛ الگ، علاحدہ۔

جَدَا: الگ الگ، فرداً فرداً۔

جَدَا: (۱) الگ کرنا، علاحدہ کرنا (۲) کاٹنا (۳) توڑنا (۴)

نفاق ڈالنا (۵) بیخ ڈالنا (۶) پھڑکانا۔

جَدَا: (ف) الگ الگ، مُتَفَرِّداً

جَدَا: (۱) الگ ہونا، علاحدہ ہونا (۲) ٹوٹنا (۳) کٹنا۔

جَدَا: (ف) مَوْت؛ علاحدگی، تفرقہ۔

جَدی: مَوْت؛ علاحدہ۔

جَدَال: (ع) مَوْت؛ لڑائی، جگ۔

جَدَل: (ع) مَوْت؛ دشمنی، لڑائی۔

جَدَّتْ: مَوْت؛ سازگی، سازہ پن۔ نیاپن۔

جَدْرِيَا تِي مَادِيْتِ: (ف) مَوْت؛ (۱) ایشیائی اصطلاح (زندہ

رہنے کے لیے جد و جدہ کا رجحان (۲) اقتصادی جد و جدہ (۳)

منطقی مادہ پرستی۔

جَدْرِيْتِ: (ف) مَوْت؛ مقابلہ، کشمکش، جد و جدہ۔

جَدْوَال: مَوْت؛ نرسی، ایک زہر دہ کرنے والی بڑ۔

جَدْوَل: (ع) مَوْت؛ (۱) صفحے پر سرخ یا سیاہ کچے ہوتے خط (۲)

صفحے کے چاروں طرف کے خطوط (۳) حاشیہ کے خطوط۔

جَدْرِي: (ع) ذکر؛ آسان کا ایک بُرج۔

جَدْرِيْد: (ع) (۱) یا آتماہ، اصل کا (۲) نئے تقاضوں کے مطابق حالات

کو پیش کرنے والا (جیسے جدید شاعر، جدید ادیب، جدید

آرٹسٹ وغیرہ)۔

جَدْرِيْتِ: (ع) مَوْت؛ نئے تقاضوں کے مطابق حالات

کو ادب میں پیش کرنا۔ ادب میں نئے طریقے سے سوچنے اور

لکھنے کا انداز، نیاپن، سازہ پن۔

جَدْر: جہاں، جس جگہ۔

بڑی رستی (۳) برگد کی دارمسی۔

دھاری: (۱) لمبے لمبے بال والا سا دھو (۲) ذکر؛ سانپ

جس کے سر پر بال ہوتے ہیں (۳) ذکر؛ زعفران۔

جَبَايُو: (۵) ذکر؛ ایک پرندے کا نام جس کا حال رانائن میں درج

جَبْنَا / جَبْتُ جَانَا: (۱) سوزنا، گھٹنا، ملنا، پیوند ہونا (۲) سازش

کرنا (۳) چمٹنا، لپٹنا (۴) سر ہونا (۵) کسی کام میں مستعدی

سے لگ جانا۔

جَبْطَانِي: مَوْت؛ جھپٹ کی بیوی۔

جَبْطَانِيَا: جھوٹی باتیں کرنا۔

ج-ث

جَبْتَه: (ع) ذکر؛ بدن اجسم۔

ج-ج

جَج: JUDGE (انگ) ذکر؛ فیصلہ کرنے والا مُنْصِف

جَجْمَتْ: JUDGEMENT (انگ) فیصلہ، اندازہ

ج-بج

جَبَايَا: ذکر؛ ٹھیک، درست، نپاٹا

جَبْجَبْنَا: (۱) آزما یا جانا، امتحان ہونا (۲) قیمت کا اندازہ ہونا (۳)

دقت ہونا (۴) ثابت ہونا، یقین کو پہنچنا۔

ج-ح

جَحْم: (ع) ذکر؛ دوزخ۔

ج-د

جَد: (ع)؛ باپ دادا۔

جَدْر: (اعانت کے ساتھ) (ع)؛ (۱) بزرگ، دادا،

(۲) (کھانا) حضرت آدم۔

جَدْرَه: (ع) مَوْت؛ باپ کی ماں، دادی، نانی (۲) (ع)

جَزَار : (ع)؛ (۱) بڑا بھاری لشکر (۲) رادو، بہادر، سودا۔
جَزَائِم : (ع)؛ ذکر : بہت سے گناہ، خطائیں۔

جَزَائِمِ پِیشِہ : غیر قانونی کام کرنے والا۔ عادی مجرم۔
جَزْرَح : (ع)؛ (۱) ذکر و مؤثقت؛ (۲) رَدِّ دَعْوٰہ کی صداقت جانچنے کے لیے کیے جانے والے سوالات۔

جَزَس : ذکر؛ (۱) گھنٹا جو تانے والے کو ہج کے وقت بجاتے ہیں (۲) گھنٹا۔

جَزْرَع : ذکر؛ گھونٹ، ایک گھونٹ بھر پینا۔

جَزْرَک : (ترکی)؛ ذکر؛ گردہ، فرقہ، قبیلہ۔

جَزْرَم : (ع)؛ ذکر؛ گناہ، قصور، خطا۔

جَزْمَانہ : (ف)؛ ذکر؛ جرم کی پاداش میں جو روپیہ وغیرہ لیا جانے والی سزا۔

جَزْم : (ع)؛ ذکر؛ (جمع اجرام) (۱) جسم، دھڑ، بدن (۲) فلکیات، معدنیات اور جمادات کی اصطلاح (جمعہ: جرم کوہ، جرم قر، جرم خمس، جرم خاک) (۳) لگنے کا جسم؛ عیب۔

جَزْمَن سِلْوَر : GERMAN SILVER (انگ)؛ ذکر؛ ایک سفید اور چمکیلے دھات۔

جَزْمَل : JOURNAL (انگ)؛ ذکر؛ رسالہ، خبریہ

جَزْمَلِزْم : JOURNALISM (انگ)؛ مؤثقت؛ مصافت

اخبار نویسی

جَزْمَلِسٹ : JOURNALIST (انگ)؛ ذکر؛ صحافی

اخبار نویس۔

جَزْوَا : (ع)؛ مؤثقت؛ جوڑ کی تعریف، بیوی، عورت۔

جَزْرَم : (ع)؛ دیر، ملاہ، بہادر۔

جَزْرَمَان / جَزْرَمَان : (ع)؛ ذکر؛ (۱) پانی کارواں ہونا، بہاؤ، روانی (۲) ایک مرض کا نام۔

جَزْرَمِب : مؤثقت؛ (۱) زمین ناچنے کا ایک خاص پیمانہ جو کچھ گز

کا ہوتا ہے (۲) حصا، چوب دستی، لالچ (۳) بادشاہوں کے

چوب داروں کے پاس پھانسی کا ٹولہ بھی ہوتی تھی۔

ژالنا : جریب کے وسیلے سے زمین کی پیمائش کرنا۔

جَزْر : جہاں تہاں، یہاں وہاں۔

جَزْر دیکھیں اُدھر تا پیں : (ع)؛ (۱) جہاں قائمے کی

اُمید ہو وہاں دھڑیں، چالاک۔

رَبُّ اُدھر سَب : (ع)؛ (۱) جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اس کے طرف دار سب لوگ ہوتے ہیں۔

سینک سما یا : جس طرف جانے کا موقع ملتا۔

ج۔ ذ

جَزَام : (ع)؛ ذکر؛ کوڑھ۔

جَزَامِی : کوڑھی۔

جَزْب : (ع)؛ ذکر؛ (۱) کھینچاؤ، کشش، چوستا (۲) مجذوب،

غیروں کی مخصوص حالت۔

کَرْنَا : (۱) چوستا، کھینچنا (۲) مائل کرنا، اپنی طرف

کھینچنا۔

مَقْنَا طِیْسِی : ذکر؛ مقناطیس کشش۔

ہَوْنَا : سوکنا، پیوست ہونا، کھینچنا، کشش ہونا۔

جَزْبہ : (ع)؛ ذکر؛ (۱) دل کا جوش (۲) کشش، دلولہ۔

(۳) حفتہ۔

جَزْبَات اَنْگِیز : (ع)؛ صفت، جذبات کو بھڑکانے والا۔

جَزْبُز : (ع)؛ ذکر؛ علم حساب کی ایک اصطلاح۔

ج۔ ہ

جَزْر : (ع)؛ ذکر؛ (۱) کشش، کھینچاؤ (۲) زیر۔

جَزْر : (اضاف کے ساتھ)؛ (ع)؛ ذکر؛ (۱) علم جس کے

ذہنیے سے بھاری بوجھ آسانی آتا ہے (۲) بہت کھن کام۔

جَزْرَاب : مؤثقت؛ موزہ۔

جَزْرَات : مؤثقت؛ ربری، چستی۔

جَزْرَاح : (ع)؛ ذکر؛ زخم چیر پھاڑنے والا۔

جَزْرَاحَات : مؤثقت؛ زخم، گھاؤ۔

جَزْرَاحِی : مؤثقت، زخم کا علاج کرنے کا پیشہ، ڈاکٹری، چیر پھاڑ

آپریشن۔

جریدہ : (۱) گورنمنٹ کا اخبار، گزٹ (۲) تنہا۔

ج۔ ٹ

جڑنا : موتی ؛ (۱) درخت کا زمین کا اندر والا حصہ، بیج (۲) بنیاد۔
— اکھیرنا : مٹنا، نیست نابود کرنا۔

— بنیاد سے : جنسے، بالکل۔

— پکڑنا : جمن، مضبوط ہونا۔

— پیڑ / جڑ موکل : مذکر؛ اوپر سے نیچے تک پورا، بیج و بنیاد۔

— پیڑ سے اکھاڑنا / جڑ پیڑ سے کھود کر پھینکنا : بیج و بنیاد سے اکھاڑنا، نیست نابود کرنا، اجلا دینا۔

— جمانا : بنیاد ڈالنا، پھیر کھنا، مٹھرانا، قائم کرنا۔

— سے بے پڑھتوں سے یاری : (مشل)؛ بزرگوں سے دشمنی اور ان کی اولاد سے دوستی۔

— سے اکھاڑنا / اکھیرنا : (۱) درخت کو جڑ سمیت زمین سے الگ کرنا۔ (۲) جاننا، ناپید کرنا۔

— کاٹنا : رکھنا؛ بنیاد کو ختم کرنا، نیست نابود کرنا۔

— جڑاؤ، مرتب : جواہرات سے جڑا ہوا۔

— جڑاؤ / جڑاؤنی : موتی ؛ جاڑے کے پڑے، گرم پڑے جڑا پانی، موتی ؛ (۱) حوا سے کی مزدوری (جواہرات وغیرہ)۔

(۲) جواہرات کا جڑاوانا۔

— جڑائی : کسی چیز کے جوڑنے کی مزدوری۔ جوڑنا۔

— جڑنا : (۱) کسی چیز کا کسی چیز میں بٹھانا، پچی کرنا (۲) وصل کرنا۔ جوڑنا (۳) لکڑی یا ہاتھ سے مارنا (۴) چٹل کھانا، کان

بھرتا، شکایت کرنا (۵) تامل کرنا، عرض دینا، دعو کرنا۔

— جڑنا : (۱) پیوند ہونا، ملنا (۲) بہت ہونا، چپکنا (۳) شامل ہونا

(۴) جُفت ہونا (۵) بیچ ہونا، اکٹھا ہونا (۶) میسر ہونا،

حاصل ہونا، ہاتھ لگنا (۷) جتنا، گاڑی وغیرہ میں پیلوں لگنا

— جڑواں : (۱) ایک ماں سے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے دو بچے

(۲) آپس میں ملی ہوئی دو چیزیں، توأم۔

— جڑھی : موتی ؛ روکھی ؛ کسی درخت کی جڑ والی دوا سا پتہ

— کے کاٹنے پر زہر مہرہ کا کام دینے والی ایک قسم کی جڑ۔
— جڑھی بوٹی : موتی ؛ دوا دارو، دوا کے کام آنے والے جڑ

پتنے وغیرہ۔

— جڑیٹا : مذکر؛ زرد میں جواہرات جڑنے والا۔

— جڑ پھلا / جڑ پٹھا : مذکر؛ وہ مولی یا شلغم جس میں جڑیں نکل کر تھی آگئی ہو۔

ج۔ ز

— جڑو : (ف)؛ (۱) غیر سوائے، بجز (۲) سولہ صفوں کا مجموعہ، (۳) پارہ، ٹکڑا۔

— جڑا : (ع) موتی ؛ بدل، صل، نیل کا عوض۔

— جڑاک اللہ : (ع)؛ (۱) خدا تجھ (نیک) صلہ سے (۲) شاباش فرجا، صدمت۔

— جڑا کر : (ع) مذکر؛ جمع جزیرہ کی۔

— جڑ بڑ ہونا : کبیدہ خاطر ہونا، آزدہ ہونا، ناک سہوں جڑھانا، ترش رو ہونا، غمگن کرنا۔

— جڑور : (ع) مذکر؛ سمندر کے پانی کا آثار۔

— وڈ : (ع) مذکر؛ جوار سجانا، سمندر کے پانی کا گھاؤ بڑھانا۔

— جڑوع قزح : (ع) موتی ؛ گرم و زاری، رونا پینا۔

— جڑوم : (ع)؛ (۱) مضبوط، پختہ، مستحکم (۲) حرف کا ساکن کرنا نیز وہ علامت جو حرف ساکن پر اس شکل (د) کی لکھی جاتی ہے۔

— جڑو : (ف) مذکر؛ (۱) ریزہ، پارہ (۲) ۱۴ صفوں کا مجموعہ۔

— جڑو بڈن ہونا : اضافت کے ساتھ؛ کسی چیز کا بہ خوبی ہضم ہو کر خون میں شامل ہو جانا۔

— بندی / جڑ بندی : موتی ؛ کتاب کے آجڑا کو ڈھسے

سینا، جڑ جڑ کر کے سینا، تہ بندی، کتاب کی باہمی بسلانی۔

— دان / جڑ دان : مذکر؛ بستہ، تھیل، جس میں کتاب

رکھی جاتی

— زس / جڑ زس : گنایت شمار، گنوس۔

— رسی / جڑ رسی : موتی ؛ گنجل، گنوسی۔

— کُلُّ : (۱) بالکل، سراسر، تمام (۲) تمھوڑا بہت۔
— لایینفک : (لائین، ننگ، کبھی جہانہ ہونے والا حصہ۔
— جَزْوِي : خال خال، ہزار میں ایک، تمھوڑا۔

— جَزْوِيَات : مذکر؛ فروعات، افراد، حصے، چھوٹے چھوٹے املا۔
— جَزْمَر : (ع) ریح (جزائر) مذکر؛ ٹکڑا، کتب کے آٹھ ورق۔
— جَزْوِي : مَوْتٌ؛ منقطع کی (مصطلاح۔

— جَزْمَرَةٌ : (ع) مذکر؛ وہ قطعہ خشکی جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہو۔ ٹاپڑ۔
— جَزْمَرَةٌ ثَمًا : (ف) مذکر؛ وہ خشکی کا قطعہ جو تین طرف پانی سے گھرا ہو۔

— جَزْوِيَةٌ / جَزْوِيَّةٌ : (ع) مذکر؛ حراج، محصول، اسلامی سلطنت کا وہ ٹیکس جو غیر مذہب والوں کی حفاظت کے لیے لگایا جائے۔
— جَسَارَتٌ : (ع) مَوْتٌ؛ دلیری، مردانگی، گستاخاںچیرات، بے باکی۔
— جَسَامَتٌ : (ع) مَوْتٌ؛ مٹائی، کسی چیز کا جہم۔
— جَسْتٌ : مذکر؛ (۱) ایک دعوات کا نام (۲) کود پھانڈ، زقند۔
— جَسْتَرٌ : (ف) مَوْتٌ؛ اچھل کود، پال کی شونہی۔
— جَسْتَرٌ : (ف) مَوْتٌ؛ سلاش، ڈھونڈنا۔
— جَسْتَرٌ جَسْتَرٌ : (ف) ہم کم، کہیں کہیں سے۔
— جَسْتَرٌ : JUSTICE (انگ) مذکر؛ (۱) بیع و منصف (۲) عدالت عالیہ کے بیج کا رتبہ (۳) انصاف، عدل۔
— جَسَدٌ : (ع)؛ مذکر؛ تن، بدن۔
— جَسْمٌ جَسْمٌ : (جمع اجسام) مذکر؛ بدن، تن، جو شے طول عرض اور گہرائی رکھتی ہے۔
— جَسَانِي : (ع)؛ (۱) بدنی، جسم سے متعلق (۲) مادی۔
— جَسْمِيَّاتٌ (جس، می، میات)؛ (ع) مذکر؛ غذا سے جسم بنانے والا جز۔
— جَسْوَانِي : مَوْتٌ؛ یسوتی، یساوول کی تانیث، چوب دارنی، وہ عورتیں جو شاہی محل میں غیر پہنچائی تھیں۔
— جَسِيمٌ : (ع)؛ مونا، برٹے جسم کا۔

ج-س

— جَسَنٌ : مذکر؛ (۱) گن، ذاتی جوہر (۲) اثر، تاثیر (۳) برکت۔
— جَسَنٌ : وہ، جو، اُس۔

— جَزْوِيٌّ / جَزْوِيَّةٌ : (ع) مذکر؛ اسی میں چھید کرے؛ (ش)؛ جس سے فائدہ اٹھائیں اسی کو نقصان پہنچائیں۔
— ننگ حرام۔
— پیر؛ توجہی، بعد ازاں۔

— جَسَنٌ : ہر ایک، ایگانہ بے گانہ، بُرا بھلا، ہر قسم کا۔
— زکا بی میں کھا، اسی میں چھید کر؛ (ش) جس سے فائدہ اٹھائیں اسی کو نقصان پہنچائیں۔

— طَرَحٌ ہوسکے، ہر طرح، ہر طریق سے۔
— کا کھانا، اُسی پر غرانا؛ (ش) جس سے فائدہ اسی سے جھڑا۔

— کا کھائیے، اُسی کا کھائیے؛ (ش) جس سے فائدہ ہو اُس کی تعریف و خوشامد کی جاتی ہے۔

— کی نہ پھی یوانی، وہ کیا جانے پیر پرانی؛ (ش)؛ جس کو بذات خود تکلیف نہیں ہوئی وہ دوسرے کی تکلیف کو کیا کھے۔

— کش: یعنی، نظم سہنے والا، مشقّت اٹھانے والا۔

— کفا: مؤنث، جو روظم، سختی و صعوبت۔

جھنٹ: (ف) مذکر، (ج) مؤنث، وہ مدد جو دوپہر پورا پورا تقسیم ہو جائے
(۲) ہم سزا ہم پایہ، شافی، مقابل، (۳) جولی کا جوڑا۔

— سازی: (ف)، مؤنث؛ (۱) مجرا، جاتا (۲) جوتا بنانے کا پیشہ۔

جھنڈ: (ف) مذکر؛ (۱) شکن، سیلوٹ (۲) بال جو اکثر جواہرات میں ہوتا ہے (۳) داغ، دھبہ۔

جھنڈے پڑنا: (۱) کپڑے کے ٹانگے جا بھاسے سمٹ کر ایک میں مل جانا۔ (۲) (دلی)؛ عزت میں فرق آنا، سبکی ہونا، حقیر ہونا۔

جھنڈی: (ف)؛ نرودادہ کا باہم ملنا۔

— کھانا/ کرنا: مانوسل کے نرودادہ کا باہم ملنا۔

جھنڈو: (ف)؛ مذکر؛ ایک علم کا نام جس کے ذریعے سے فریب کے احوال دریافت کرتے ہیں۔

ج-ک

جگڑ بند: (۱) کسا ہوا، تپا ہوا، مضبوط اور تنگ بندھا ہوا (۲) مذکر؛ گھسیا، وجہ مقاصل (۳) روک۔

جگڑ جانا: اینٹھنا، اکڑنا۔

جگڑنا: (۱) کھینچ کر باندھنا، کسنا (۲) ٹھکیں باندھنا۔

ج-گ

جگ: مذکر؛ (۱) دنیا (۲) مخلوق، خلقت، لوگ

— بستی: دنیا جہان کی سرگزشت۔

— جی سماں، جہاں کی خالا: (مشل)؛ گھر گھر پھرنے والی صورت۔

— ہنسائی: مؤنث؛ رسوائی، بدنامی۔

جگت: ۵۵۵ راتگ، مذکر؛ پانی رکھنے کا ایک برتن۔

جگت: مذکر؛ (۱) اہلی ہند کے پانچہ چار زمانوں میں سے ہر ایک

زمانہ (۲) مدت، عمر، عرصہ، قرن (۳) ہیر، پست (۴) ہمیشہ سدا (۵) ڈھابو گونا بننے والا یا جلا ہاتھوں کے چار رکھنے

ج-ش

جشن: (ف)؛ مذکر؛ خوشی کی منسل، خوشی، عیش، خوشی کا ملکہ۔

— منانا، خوشی منانا۔

ج-ع

جھنڈ: (ف)؛ مؤنث؛ چوٹی، گونگر والے بال، چونڈا۔

جھنڈی/ جھنڈی: مؤنث؛ (۱) ایک قسم کا نرودادہ کے کاپول (جھاڑا)؛ مطلق زرد (۲) مظاہر، ٹی، گلہری یا لوسے کی جالی (۳) گھرا سوتا (۴) حضرت جعفر سے منسوب۔

جھنڈ: (ف)؛ مذکر؛ (۱) بدلتا، بنانا، تبدیل (۲) نقلی چیز بد اصل چیز کا دھوا کرنا (۳) کر، فریب، دھوکا۔

— بنانا/ کرنا، جھنڈا کا بنانا، جھولے دستخط یا ٹہرنا۔

— ساز: مذکر؛ دھوکے باز۔

— سازی: مؤنث؛ کر، فریب، جعلی کا بنانا۔

جھنڈی: (ف)؛ مؤنث؛ وہ نقلی چیز جسے اصل کے مطابق بنایا ہو۔

جھنڈی: دھوکے باز، فریبی، مکار، دغا باز۔

ج-غ

جغرافیہ: (۱) پڑھا خوانٹ، جہاں دیدہ (۲) مکار۔

جغرافیہ/ جغرافیہ: مذکر؛ وہ علم جس میں زمین کی خشکی اور تری کی طبی تقسیم کا بیان کیا جائے۔

جغرافیائی سیاست: مؤنث؛ (سیاسی اصطلاح)؛ کسی دوسرے ملک کے سیاسی نظام پر اثر انداز ہونا۔

ج-ف

جفا: (ف)؛ مؤنث؛ ستم، ظلم، زیادتی۔

— پیشہ/ ج/ کار/ گستر: (ف)؛ (۱) ظالم، ستم گار (۲) دکھائی، مشتوق۔

— کنگنا : قوز جوڑ بھانا ، تدبیر پرانا ، موقع ٹھکانا۔
 — لانا : مطلب کا نٹنا۔
 — جگت جگنا : جگت ، جگت ۔
 — جگتا ہٹ : موتی ؛ جگت دیک ، جگت ۔
 — جگڑ : رن ، مذکر ؛ (۱) کلیہا ، کلیہی (۲) راجاؤ ؛ حوصلہ ، رن ،
 خستہ ، تاب و طاقت (۳) دل ، جان (۴) جوہر ، لب لباب
 (۵) بیٹا ، پیارا ، دلارا۔
 — آب ہونا : (کنایتاً) ؛ سخت اذیت ہونا۔
 — اچھلنا : (کنایتاً) ؛ جگر پر مسدود ہونا ، خوف طاری
 ہونا۔
 — انگار / رنگار : (ف) ؛ مسکتے دل۔
 — بند : (ف) ؛ (۱) مجموعہ ، جگر پھیرنے والے دل کا (۲) مذکر
 (مازاً) ؛ فزیر ، بہت پیارا۔
 — پانا : حوصلہ ہونا۔
 — پانی ٹھونا : (۱) ہمت ٹوٹ جانا (۲) بہت صدمہ ہونا۔
 — پاش پاش ہونا : رن و دم سے کچھ کے ٹکڑے
 ہونا۔
 — پر پتھر رکھ لینا : دل کڑا کر لینا ، ضبط کر لینا ، صبر
 کر لینا۔
 — پر پتھر پڑاں چلنا : نہایت بے چین ہونا ، بہت
 پریشان ہونا۔
 — پر موگری پڑنا : بہت زیادہ صدمہ ہونا۔
 — پر ہاتھ رکھنا : بے قراری کی حالت میں کچھ تمام لینا۔
 — نکت جانا ، بہت اذیت پہنچنا۔
 — چھٹکنا / چلنا : بہت رن ہونا۔
 — آٹھ : (ف) ؛ جگر ٹھنسا ہوا ، تم گیس ، رنجیدہ۔
 — تمام کے ٹیٹھ جانا : نہایت بے تاب ہونا۔
 — ٹھوٹے ہونا : کچھ پاش پاش ہونا ، رن یا صدمے یا
 کسی چیز کی تیزی سے ۔
 — چلنا : خستہ آنا ، افسوس ہونا۔
 — چگڑو گڑو گڑو ، اچھا ، اچھا ہی ہے ، خیر ، خیر ہی ہے۔

کی فرض سے تانے میں ڈال دیتا ہے۔
 — پھوڑنا / توڑنا
 — ٹٹھا اور نرمی گئی : (مشل) ؛ پوسر کے تھامے کے
 مطابق جب تک دو گویں ایک ٹٹھنے میں رہتی ہیں ان کو
 مد نہیں سکتے۔ نفاق کی ذمت ، اتفاق نہ ہونے سے شہزادہ
 ابرو ہوجاتا ہے۔
 — جگت ، ہمیشہ ، سدا ، مدام۔
 — جگت چوڑو : (دعا) ؛ بڑی عمر ہو۔
 — جگت جیا کر ، دودھ بتا شہر پیا کر : (دعا) ؛ دنیا میں
 ہمیشہ خوش رہو۔
 — جگاوری : (۱) پرانا گنگ (۲) بہت پرانا اداقت آور
 (خصوصاً) ٹنڈر۔
 — جگالی : موتی ؛ پازو ، حیوانات کا اپنے چارے کو معدے
 سے نکال کر منہ میں چھانا۔
 — جگالنا : جگالی کرنا۔
 — جگنا : (۱) اٹھانا ، نیند سے اٹھانا ، بیدار کرنا (۲) خبردار کرنا
 ہوشیار کرنا (۳) پچھلے حرف یا ہلی گھر کو روشن کرنا (۴) بیدار
 رکھنا ، سونے نہ دینا ، خواب سے باز رکھنا۔
 — جگت : (۱) موتی ؛ دنیا ، عالم (۲) موتی ؛ کنویں کی مینڈ۔
 — آشنا : لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنے والا۔
 — استاد : اپنے فن میں طاق ، استاذانہ۔
 — گرو : (۱) غلہ ، ہندو جگت کا گرو (۲) برہما اور شیوہی کا
 نام۔
 — جگت : موتی ؛ (۱) چڑائی ، کاریگری (۲) جولا قوز ، تدبیر
 سادش (۳) لطیفہ ، ذومعنی بات ، تلازمہ ، چالاک ،
 تیزی۔
 — باز : لطیفہ گو ، بذلہ سخا۔
 — بازی : لطیفہ گوئی۔
 — رنگ / باز : لطیفہ گو ، بذلہ سخا۔
 — لونا : ایسے چلے ہونا جس میں کسی طرح کی رعایت نہ
 ہونے۔

— جاگ ہونا : بہت زیادہ صدمہ ہونا۔
 — خراش : رَف ؛ تکلیف دینے والا ، بہت اذیت پہنچانے والا۔ جگر پر اثر کرنے والا۔
 — جوان کر دینا : بہت صدمہ پہنچا دینا۔
 — دو ٹوکے ہونا : بہت زیادہ صدمہ ہونا۔
 — دُور : رَف ؛ دل میں اثر کرنے والا ، دل توڑ دینے والا۔
 — دہلنا : کانپنا ، خوف کرنا۔
 — دیکھنا : حوصلہ دینا۔
 — رکھنا : حوصلہ رکھنا۔
 — سراہنا : تاب و تمق کی تعریف کرنا۔
 — سوز : رَف ؛ جگر جلانے والا ، ہم درد سے دھواں اٹھنا : سخت صدمہ ہونا۔
 — شقی ہونا : جگر کا پھٹ جانا ، بے حد صدمہ پہنچنا۔
 — کانپ جانا : خوف طاری ہونا۔
 — کاوی : رَف ؛ موتی ؛ محنت ، جاں فشانی۔
 — کباب ہونا : غم و غصہ کھانا۔
 — کرنل : حوصلہ کرنا۔
 — کے ٹکڑے ہونا : جگر پاش پاش ہونا ، بہت مدہ پہنچنا۔
 — کی چوٹ : (۱) مدہ جانکاہ (۲) (مہاز) ؛ اولاد کا غم۔
 — گوشہ : رَف ؛ عزیز اولاد۔
 — لہو کرنا : بہت توڑ دینا ، صدمہ پہنچانا۔
 — لہو ہونا : بہت ٹوٹ جانا ، صدمہ ہونا۔
 — مسوس لینا : صدمے کی شدت میں جگر تمام لینا۔
 — مشہ کو آنا : بے حد صدمہ ہونا ، صدمہ ہونا۔
 — میں چنگیاں لینا : ایذا دینا ، تکلیف پہنچانا۔
 — ناسور ہونا : جگر پر ایسا صدمہ ہونا جو کسی کم نہ ہو۔
 — ہل جانا : صدمہ ہونا ، ڈر جانا۔

— ہونا : حوصلہ ہونا۔
 — جگری : (۱) اندرونی (۲) دل ، دل و جگر سے نسبت رکھنے والا ، صادق ، سچا ، گہرا۔
 — داغ : مذکر ؛ داغ دل ، لاعلاج صدمہ یا رنج ، لاعلاج معیبت (۲) جرم جو کسی جواہر میں ہو۔
 — چکرا : مذکر ؛ ہمت ، حوصلہ۔
 — دوست : مذکر ؛ گہرا دوست۔
 — جگ جگ ٹگ ٹگ کرنا : بہت چمکنا۔
 — مگانا : چمکنا۔
 — مگا ہٹ : موتی ؛ چمک ، دکھ ، چمک۔
 — جگن : (۱) مذکر ؛ بے داری۔
 — جگنا : (عم) ؛ جاگنا۔
 — جگنو : مذکر ؛ (۱) ایک مشہور کیرا جورات میں چمکتا ہے (۲) گلے کے ایک زیور کا نام۔
 — جگنو : موتی ؛ (۱) مقام ، موقع (۲) گنہائش (۳) خدمت نوکری۔
 — جگنو : ہر ایک جگنو ، ہر جگنو۔
 — خالی کرنا : بیٹھے کو جگنو دینا ، اپنی جگ سے ہٹ جانا۔
 — دینا : نظرانا ، بٹھانا ، نوکری دینا ، زمین دینا۔
 — رہنا : گنہائش رہنا۔
 — سے : درست ، ٹھیک ، بد جا ، قابل تسلیم ، موقع سے حسب موقع ، برص۔
 — سے رہنا : اپنے مقام سے دوسرے مقام پر جانا۔
 — رٹنا : بیٹھے کا موقع ہونا ، نوکری لینا۔
 — جگنو : موتی ، جاگ۔

ج۔ ل

جگنو : مذکر ؛ پانی۔

جلّاپا : مذکر؛ (۱) رخ، بجن، لال (۲) رشک، حسد، سوکن کی بجن، بغض، عداوت۔

جلّاجلّ : (ع) مذکر؛ جھانڈہ یا تال جو دونوں ہاتھوں میں ایک ایک لے کر بجاتے ہیں۔ دائرہ۔

جلّاد : (ع) مذکر؛ (۱) ڈرہ مارنے والا، تلوار مارنے والا، بادشاہ کے حکم سے قتل کرنے والا (۲) ظالم، بے رحم، ٹھڈ مزاج (۳) رکھنیا، معشوق۔

جلّال : (ع) مذکر؛ (۱) بزرگی (۲) شان، شوکت (۳) رعب، داب (۴) غفہ، تیزمی، سختی۔

جلّالت : (ع) مؤنث؛ بزرگی، عظمت۔

جلّالی : (ع)؛ (۱) جلال سے نسبت رکھنے والا (۲) وہ دعایا عمل یا نقش جس میں خدا کی شان، تہاری ظاہر ہونے کی خواہش ہو (۳) خوف ناک، غضب ناک۔

جلّالیہ : مذکر؛ سید جلال الدین ہماری کامانے والا فقیر۔

جلّانا : (۱) آگ لگانا، آگ سلگانا (۲) رکھنیا، بھڑکانا، غفہ دلانا، چھیڑنا، دق کرنا، ستانا، آزدہ کرنا۔

جلّانٹھنا : یکایک چنے لگنا، دفعتاً چلنے لگنا۔

جلّانٹھنا : (۱) جل کر خاک ہو جانا، جل کر تمام ہونا (۲) نہایت رنجیدہ ہونا۔

جلّانا : غفہ کرنا۔

جلّانا : دیکھو جلنا۔

جلّانا / جلّ کر کوٹلا ہو جانا : (کھانیا)؛ بے حد غفہ ہونا۔

جلّ کر کباب ہو جانا : نہایت ناخوش ہونا۔

جلّ مڑنا : رشک و حسد میں جل کر کباب ہونا، کسی کی بھلائی نہ دیکھ سکتا۔

جلّکن : مؤنث؛ (۱) سوزش، تپش، تپک (۲) رکھنیا، حسد، رشک، کینہ، دشمنی، غفہ۔

جلّنا : (۱) آگ لگنا، سلگانا، روشن ہونا، مشتعل ہونا، جھلنا، جھنڈنا وغ لگنا (۲) خاکستر ہو جانا، راکھ ہو جانا، سوختہ ہو جانا (۳) حسد کرنا، رشک کرنا (۴) سوزش ہونا، بجن ہونا

تپکنا (۵) مریج یا کسی تیز چیز سے زبان کا جھل جھلانا (۶)

کائن : مذکر؛ ناشتہ، تھوڑا سا کھانا پینا۔

کترنگت : مؤنث؛ ایک بابے کا نام جو چھوٹے بڑے پیالوں میں پانی بھر کر تیلیوں سے بھایا جاتا ہے۔

کھل : بارش کی کثرت سے زمین کا پانی سے ٹھک جانا۔

جوگنی : مؤنث؛ (دہلی، مو)؛ (۱) بونک (۲) چہل (۳) بڑیل (۴) بدمزاج۔

کاگ : مذکر؛ آبی کوڑا۔

کائنس : مذکر؛ آبی آدمی، ایک قسم کا چوٹا جانور۔

جلّ : (ع) بزرگ ہوا۔

تو، جلّال تو، عزیز و کمال تو، آئی بلا کوٹال تو؛ (ع)؛ کسی آفت مصیبت کو دفع کرنے کی خدا سے دعا۔

جلّالہ : (ع)؛ بڑی بے عظمت اور بزرگی اس (خدا) کی۔

جلّ : مذکر؛ فریب، دھوکا، جھانسا۔

باز : فریب۔

میں آنا : دھوکا میں آنا۔

جلّ : (ع)؛ دوس سے باہر نکال دینا۔

وطن / چلا وطن شہر بد کرنا، دشمن جو دوس سے نکالا گیا ہو۔

جلّ : (ع) مؤنث؛ چمک، روشنی، صیقل۔

دینا / کرنا : چمکانا، اجانا، آب دینا، صیقل کرنا، آئینے کی چمک کو ترکیب سے ترقی دینا۔

کار / ساز : (ف)؛ مذکر؛ صیقل گر، اجالنے والا۔

جلّاب : مذکر؛ دست آورد، سہل، دلین، دینا کے ساتھ۔

لگت جاتا : خوف سے، دست آنے لگتا۔

جلّانٹھنا : غفہ میں بھرا ہونا۔ رنجیدہ۔

تن / چلے تن : (۱) بدمزاج، جھلا، وہ شخص جو کسی کی بات کا متعلق نہ ہو سکے (۲) حامد، رشک کرنے والا۔

جلّا جلّا کر مارنا / جلّا جلّا کر خاک کرنا : غم میں گھلانا، رشک دلا کر مارنا، بہت ستانا۔

جلد: موت؛ (۱) کمال، چڑھا، پوست (۲) کتاب کا پتھا،
(۳) کتاب، کتاب کا حصہ،

ساز / جلد گز: رف؛ ذکر؛ کتاب کی جلد بنانے والا۔
پانڈھتا: کتاب کی جڑ بندی اور سلائی کرنا۔

جلسہ: رخ، ڈگر؛ (۱) نشست (۲) ملاقات (۳) محفل، مجلس،
اجنہ (۴) مجمع جم گنادرہ (مصلیٰ رخص و سرود، نالج رنگ۔

جلت: ذکر موت؛ مشت زنی کر کے مزی کرانا۔

جلو: (ترکی) موت؛ (۱) باگ، لگام (۲) وہ کوئی گھوڑا جو سہاگ
سواری کے ساتھ صرف زینت کے لیے خالی لے جاتے ہیں۔

(۳) سواری کے ساتھ کا شاٹھ جیسے جاگا جا، بیڑ بجا راہانی
موالی وغیرہ (۴) ہم راہی۔

دار: رف؛ گھوڑے کی باگ پکڑنے کے ہم راہ چلنے والا شخص
خانہ: رف، ذکر؛ صحن جو سلاطین و امرا کے در دولت

کے سامنے ہوتا ہے۔

ریز: رف؛ ہلکی باگ سے گھوڑا دوڑائے ہوئے۔

جلوت: (ع) موت؛ بیچ، لوگوں کا جمع رہنا، ظاہر ہونا۔
باہر، سب کے سامنے۔

جلوس: (ع)؛ (۱) بیٹھا (۲) رہا؛ تحت نشینی (۳) شاہانہ
حشم، امیروں اور بادشاہوں کی سواری (۴) ساز و سامان

کروڑ۔

جلوہ: (ع) ذکر؛ (۱) کسی خاص فن سے اپنے تئیں ظاہر کرنا،
اپنے تئیں لوگوں کو دکھانے کا ہونا، نظارہ، دیدار،

سامنے آنا (۲) رف؛ (۱) جلی، (۲) نود (۳) رف؛ خوام معشوق
(۴) دوان کے روز دو لگا دہن کو آٹنے سامنے بٹا کر آرسی

مصنف دکھانا، آرسی مصنف۔

دکھانا: (۱) کھانے دکھانا، دیدار دکھانا، (۲) نظر آنا،
دیکھا جانا، ظاہر ہونا۔

گز ہونا: ظاہر ہونا، نمودار ہونا، رونق پکھل ہونا۔

جل: (ع)؛ (۱) روشن، آفتاب، ظاہر (۲) ظہار، مولا لکھا
جھا، سونے یا بڑے حرف۔

چلینا: ذکر؛ (۱) شہوت، لذت (۲) بلائیں۔

دل آزدہ ہونا، رخ اٹھانا، غم کھانا، شکستہ دل ہونا
رخ و غم میں گھٹنا (۲) (کھینٹا)؛ نہایت ناراض ہونا (۳)

پالے یا جاڑے سے درخت کا مرجھا جانا یا خشک ہونا۔

بختنا: جانا، آزدہ ہونا۔

کلتا: چلنا۔

جلے پانوں کی پٹی: (کنیتا)؛ جگہ جگہ پھرنے والی عورت، گھر گھر
دالی عورت۔

پر لوں / تنگ چھڑا کرنا: ستائے کو ستانا، رخ پر رخ
دینا۔

چھٹھو لے پھوڑنا: شکایت آمیز باتوں سے دل کا خراب
نکالنا۔ عداوت نکالنا۔

جلی کرنا: موت؛ رشک و حسد کی نظر، طعن و طنز کی بات
چیت۔

رکھنا: آندھی رکھنا، دشمنی رکھنا۔

کرنا / پر آنا: طعن و طنز کی بات چیت کرنا۔

جلے کو چلانا: رہنیدہ کو اور رخ دینا، مصیبت زدہ پر اور
مصیبت ڈالنا۔

چلانا: (۱) زدہ کرنا، تازگی بخشنا (۲) دعات کو کھنڈ کرنے
کے بعد اصل حالت پر لے آنا۔

چلا با: ذکر؛ (۱) پکڑنے والا، بگر (۲) پانی کے ایک کیرٹھ
کانا کرنا۔

چلب منقعت: رف، ذکر؛ نفع حاصل کرنا، ناکدہ اٹھانا۔
جلد: فرزا، با توقف۔

پاز: رف؛ جلدی کرنے والا، بے موقع ہمت کرنے
والا۔

جلدی: رف (۱) جزی، (۲) تری (۳) موت، غلٹا پھرنے،
گھراہٹ (۴) فنا۔

کامانا: جلدی۔

کام شیکھان کا: (ع)؛ (۱) انسان کو کام سولت
کے ساتھ جلدی سے کام لگانا۔

چانا: جلدی کرنا۔

جلیبی : مونت؛ ایک قسم کی مٹھائی۔

جلیسری : مونت؛ لوہاروں کی ناند جس میں لوہے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔

جلیس : (رع) مذکر؛ ہم نشین، مصاحب، ساتھی۔

جلال : (رع)؛ بزرگ، بڑا۔

جلیلم (الہ مدد) : (رع) بڑے مرتبے والا، معزز، والا قدر۔

ج-م

جَم : (ف) مذکر؛ (۱) بڑا بادشاہ، جمشید بادشاہ ایران (۲) موت کا فرشتہ۔

جَمِیٹنا : (م) جم جانا، پیوست ہو جانا (۲) چپک جانا (۳) سخت ہو جانا (۴) رنگت قائم ہو جانا۔

جَم : (ف)؛ جمشید بادشاہ کے رتھے والا، بڑا سخی۔

جَم ہو جانا : (۵)؛ پیچھا نہ چھوڑنا، سموت کی طرح پلٹنا۔

جَمِجَمّا : مونت؛ پونجی، سرایہ، جمع۔

جَمادات : (رع) مذکر؛ حیوانات، نباتات کے علاوہ اور بے جان قدرتی اشیاء، جمع جماد کی۔

جَمادی الاولیٰ / جَمادی الاولیٰ : (رع) مذکر؛ ہجری سال کا پہلا مہینا۔

جَمادی الآخریٰ / جَمادی الآخریٰ : (رع) مذکر؛ ہجری سال کا چھٹا مہینا۔

جَمار : (رع) مذکر؛ سنگ ریزے۔

جَماع : (رع) مذکر؛ ہم بستری۔

جَماعت : (رع) مونت؛ (۱) گروہ، آدمیوں کا جَمّا (۲) ہجوم (۳) فوج، فرقہ (۴) ٹولی (۵) سلسلہ (۶) درجہ (اسکول

کا) (۷) نمازیوں کی قطار میں نماز جماعت۔

جَماعات سے کرامات ہے : (مثل)؛ اتفاق کہ دولت سب شخصیں مل ہو جاتی ہیں۔

جَماعتی انتشار : مذکر؛ سماجی افزائشی، طبقاتی بے چین۔

جَمال : (رع) مذکر؛ حسن و خوبی، خوب صورتی، دیدار۔

جَمالی : (رع)؛ (۱) شان و عظمت کی تہی، منسوب بہ جمال الہی (۲)

وہ اسم جو جلال نہ ہو۔

جَمال گوٹا : مذکر؛ ایک دست لانے والے میل کا نام۔

جَمالیات : (رع) مذکر؛ حسن شناسی، فنون لطیفہ کا علم۔

جَمالیت : (رع) مونت؛ خوبصورتی، حسن۔

جَمانا : (۱) مجھ کرنا، ہستہ کرنا (۲) قائم کرنا، ٹھہرانا (۳) تربیت

سے لگانا، ڈھنگ سے رکھنا، چھپا کرنا، چھوڑنا، پیوست کرنا (۴)

آبادہ کرنا (۶) رکنا، دھرنا (۷) اکٹھا کرنا، جوڑنا، بستہ کرنا،

(۸) لگانا شروع کرنا (۹) ٹھاننا (۱۰) مضبوط کرنا (۱۱) چھپانے

کرنا (۱۲) چھانی پر نئی چھانی کرنا (۱۳) ڈھیر لگانا (۱۴) رستی

لگانا (۱۵) مارنا (جیسے پتھر جمانا)۔

جَماو : مذکر؛ (۱) جمنے کی صلاحیت، بستگی، انجام (۲) بھیڑ

(۳) قیام، ٹھہراؤ۔

جَمّا ہوا : کھڑا ہوا، غیر متحرک۔

جَمّاہی / جَمّاہی : مونت؛ کاہلی کثرت بیداری یا سستی سے سخت

کھول کر سانس لینے کا انداز۔

جَمّ جَمّ : (۱) سدا، ہمیشہ (۲) خدا مبارک کرے، خدا کرے

مزدور۔

جَمّ سے : (۱) جَمّ جَمّ (۲) طنز (۳) اشارہ۔

جَمّو : (دعا) سدا جو۔

جَمّات رَہیں : دعا؛ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔

جَمّشید : ایک مشہور بادشاہ کا نام۔

جَمّ ڈھر : مذکر؛ (۱) ایک قسم کا خمر، چھری (۲) ایک طرح کا بادلی

کاغذ (۳) ایک قسم کا رنگین کنگڑا۔

جَمّج : (رع) مونت؛ (۱) ٹھلی، تمام، مجموع (۲) گروہ، جماعت

جمع (۳) میزان، جوڑ (۴) اصل، سرایہ، دولت، مال،

زیر نقد (۵) لاگت (۶) حاصل پیداوار (۷) بھی کے صفے کا

وہ حصہ جس میں آمدنی کی رقم لکھی جاتی ہے۔

جَمّ الجَمّج : (رع) مونت؛ جمع کی جمع۔

جَمّج خاطر : (دعا) اطمینان، تسلی، تسکین۔

جَمّجی : مونت؛ فرد لگان کی نکاسی، تقسیم جمع۔

جَمّج دار : (ف) مذکر؛ جماعت کا افسر، سپاہیوں کا سردار جس کے

جِمْنَا زِمِيمٌ : GYMNASIUM (رنگ) مذکر؛

ورزش گاہ، اکھاڑا۔

جِمْنَا شِطِكٌ : GYMNASTIC (رنگ) مؤنث؛

خاص قسم کی کسرت

جُمُودٌ : رعا، مذکر؛ بھولا، بے دماغ، بے حسی، غمناک، ہوا، بچ جانے

والی کیفیت۔ ٹھہراؤ، بے حرکت۔

جُمُودُکَا : مذکر، مرگ، بچوں کی ایک بیماری کا نام۔

جُمُودُورٌ : تمام سب۔

جُمُودُورِیَّتٌ : رعا، مؤنث؛ وہ نظام حکومت جو عوام کے مفاد سے چلتے ہیں۔

جُمُودُورِی : وہ سلطنت جس میں عام لوگوں کے چنے ہوئے آدمی شریک حکومت ہوں۔

جُمُوعٌ : رعا؛ کل، سب، تمام۔

جُمُیلٌ : رعا، مذکر؛ خوب صورت، حسین۔

جُمُیلٌہ : رعا، مؤنث؛ حسینہ، شکیلا، خوبصورت عورت۔

ج ن

جَنٌّ : مذکر؛ شخص، آدمی۔

جِنَانٌ : (عو) مذکر؛ (۱) آدمی، شخص، متنفس، مرد (۲) جانا ہوا۔

جِنِّی : (عم) مؤنث؛ عورت، چھوڑی، باندی، لڑکی۔

جِنٌّ : (ع)؛ (۱) ایک مخلوق جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ آنگ

سے پیدا کی گئی ہے (۲) (کنایتاً)؛ غفہ، غضب (۳) مغبوط،

مستقل مزاج، ثابت قدم (۴) ضدی (۵) غیر معمولی کام انجام

دینے والا۔

جِنَاتٌ : مذکر؛ جمع جن کی۔

جِنُّ اُتَارَانَا : (۱) جن دفع کرنا (۲) (کنایتاً)؛ غفہ دفع کرنا۔

جِنُّ اُتَارَانَا : آسیب دفع کرنے کا مترادف۔

جِنُّ اُتَارَانَا : (۱) آسیب کا نخل ہونا (۲) (کنایتاً)؛ شدت سے

غفہ آنا، جھلانا (۳) (کنایتاً)؛ خط ہونا، سودا ہونا۔

سَوَارٌ رُحْمَانَا : خط رہنا، دھن رہنا۔

شِیْشِیٌّ مِیْنِ اُتَارَانَا : (۱) جن کو قابو میں کرنا (۲) (مجازاً)؛

شرمنا ضدی کو قابو میں کرنا۔

کَاسِیَہُ : جن کا اثر۔

اتحت چند سپاہی ہوں (۲) سقہ، بھشتی (۳) صفائی کرنے والا

داری؛ مؤنث؛ عہدہ جمع دار کا۔

کَرْنَا : (۱) اکٹھا کرنا، بٹورنا، ایک جگہ کرنا، ذخیرہ کرنا۔

(۲) میزبان دینا (۳) وصول کرنا (۴) حوالے کرنا (۵) فرد

حساب میں وصول لکھنا۔

جُمُوعَاتٌ : مؤنث؛ بیچ مشینہ۔

جُمُوعٌ : رعا؛ ایک دن کا نام، نماز جمعہ۔

جُمُوعٌ اُطْلُوْدُنٌ : (رعا)؛ چند روز۔

کَاسِیَاحٌ یُفِیْعُ کِی طَلَّاقٌ : (رعا)؛ نکاح کے بعد بہت جاہدلاق

ہو جانا، میل ہونے کے بعد بہت جلد بھوٹ پڑ جانا۔

جُمُوعِیَّتٌ : رعا، مؤنث؛ (۱) آدمیوں کا گروہ، اکٹھا ہونا، گروہ (۲) مجمع، فوج

خاطر؛ (اضاف کے ساتھ)؛ رفا، مؤنث؛ تسلی، تسفی

دل جمعی۔

جُمُوعِیْفِیْرٌ : مذکر؛ ابوہ کثیر، بڑا مجمع۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ : مذکر؛ (۱) بیڑ، ابوہ (۲) بڑی دیوالی کی آخری

رات۔

کَادِنٌ : دیوالی کی صبح۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ : مذکر؛ مجمع۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ : (ع)؛ مذکر؛ حرف ابجد کے اعداد کا حساب جس سے

ماذہ تاریخ نکالتے ہیں (۲) اونٹ، شتر، ناقہ۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ : (ع)؛ اونٹ، شتر، ناقہ (اردو میں تنہا مستقل نہیں)

جُمُوعِیْکُھُتٌ : (رعا)؛ تمام سب، کل، میزبان۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ : (ع)؛ (۱) تمام سب (۲) کھوں کا مجموعہ، فقرہ، کلام۔

مُعَوَّرَہُ : (اضاف کے ساتھ) دو جملوں کے بیچ میں ایک

غیر ضروری فقرہ بولنا، درمیانی بات۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ / جُمُوعِیْکُھُتٌ : مؤنث؛ جمنادیا کا نام۔

جُمُوعِیْکُھُتٌ : (۱) منجمد ہونا (۲) سچ کا آگنا (۳) جڑ پکڑنا، مضبوط ہونا (۴)

کسی جگہ بہت دیر تک بیٹھنا (۵) مستقل ہونا، قائم ہونا،

ٹھہرنا (۶) پیدا ہونا (۷) ٹھیک آنا، چسپاں ہونا (۸) تہیں

بیٹھنا (۹) گنا، پڑنا (۱۰) اطمینان ہونا، یقین ہونا (۱۱)

رک جانا، ٹھہرا ہونا (۱۲) دل پر اثر ہونا، موثر ہونا۔

جنگل: رت، ڈکڑ، (۱) جھڑی، بچ، نخلستان (۲) سرو، بیابان، میدان (۳) بجر، اقدارہ زمین، ویران جگہ (۴) چراگاہ، چرایوں کے چرنے کی جگہ (۵) شکارگاہ (۶) خورد درختوں کے کثرت سے ہونے کی جگہ۔

میں جنگل ہونا: ویرانے میں رونق ہونا، ویرانے میں عیش و عشرت کا سامان مہیا ہونا۔

میں سورنا چاکس نے دیکھا: (مثل)؛ پردیس میں کسی بٹسے کام کرنے کا لطف جسے گمراہے نہیں دیکھ سکتے، اپنی دولت غیر جگہ پردیس میں صرف کرنا۔

ہو جانا: (۱) بستی کا ویران ہو جانا (۲) کثرت سے خورد و درختوں کا بیکل آنا۔

جنگلی: (۱) وحشی (۲) خورد، تھرتی اگا ہوا (۳) گنوار، ٹھنڈا ناشائستہ، جاہلی، بے تمیز۔

جنگلا: ڈکڑ، (۱) جنگل (۲) ویرانہ، غیر آباد جگہ (۳) لکڑی کی کھیتوں یا لوسے کی سلاخوں کا وہ فریم جو دروازے یا کھنرے کے ٹھنڈ پر لٹایا جاتا ہے (۴) مختلف رنگوں کے پیل ٹوٹے (۵) ایک قسم کا پھولدار پھرا (۶) گھاس اگا ہوا غیر آباد مکان۔

جنگلی جہاز: ڈکڑ، لڑائی کا جہاز، بہت بڑا جہاز
جنگم: ڈکڑ، (۱) پیدائش (۲) زندگی، حیات (۳) عادت، نعت۔

آشمنی: منقش؛ کرشن جی کا جنم دن۔

اندھا: ڈکڑ؛ پیدائشی اندھا۔

باولا: ڈکڑ؛ خلقی دیوانہ، جنم کا پھلا۔

بھوم / جنم: استھان؛ ڈکڑ؛ پیدائش کی جگہ، وطن۔

پتیرا: ڈکڑ؛ جنم پتیرا، زاپچہ۔

پتیری: منقش؛ زاپچہ، تعظیم، گھن، پھل کی پیدائش کے وقت ستاروں کے حساب کے ہر موجب تمام ہر کے حوادث و احوال کے ساتھ لکھا جاتے والا کاغذ۔

چھا: ڈکڑ؛ عمر کا اقرار نامہ۔

چھلا / جنم چھلی: (۱) پیدائشی پندھب، منوس (۲) مصیبت زدہ۔

جنس: ڈکڑ، منقش؛ (۱) چیز، اسباب، سودا، مال، سوداگری (۲) نوع، صنف، قسم، جماعت (۳) تاج، پیدادار، (۴) زیور۔

خانہ: ڈکڑ؛ گودام۔

وار: (۱) قسم وار، تفصیل وار (۲) کاشت کی ہوئی جنسوں کے متعلق تحصیل میں داخل کیا ہوا پتواری کا نقشہ۔

زودی: شہوت پرستی۔

زودہ: شہوت پرست، جنسی مرضیں۔

جنسیات: عورت مرد کے جسمانی تعلقات کا علم۔

جنسیت: (ع) منقش؛ (۱) ہم جنس ہونا، ایک میل ہونا، ایک سا ہونا (۲) جنسی تعلقات۔

جنگش: JUNCTION (رہگ) ڈکڑ؛ وہ مقام جہاں کئی راستے یا ریلوے لائن آکر ملتی ہوں۔

جنگ: (ف) منقش؛ (۱) لڑائی، معرکہ (۲) عداوت، کینہ، تیر۔

آزمودہ: (ف)؛ لڑائی میں آزمایا ہوا۔

جو: (ف)؛ لڑاکا، لڑنے والا۔

زرگرسی: (ف) منقش؛ سازشی لڑائی، مصنوعی لڑائی، دوسرے کو دھوکا دینے کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔

سز کرنا: لڑائی فتح کرنا

کرنا: لڑنا، جھگڑنا

وحدل: منقش؛ لڑائی، دنگ، نثار۔

جنگی: ڈکڑ؛ (۱) فوج (۲) شجاع، بہادر۔

بڑا: ڈکڑ؛ ساہی جنگ اور بحری فوج سے لے کر ہونے جہاز بحری فوج۔

پرتنالہ: ڈکڑ؛ دھار پور گرنے والا تار۔

جنگ: ڈکڑ؛ (۱) مشا، پشتارہ، بڑی بیاض (۲) ایک جلد جس میں کئی کتابیں ہوں (۳) منقش؛ جوڑ، دھن، موتی

جن گان / جن گننا: (۵) ڈکڑ؛ مردم شماری

جنگ بندی: منقش؛ (۱) جلدی جنگ کو دیکھنا، دو طرفوں کو حالت جنگ سے نکالنا۔

- جَنَم: ہمیشہ، سدا۔
 دکن: مذکر؛ پیدائش کا روز، سال گرہ کا دن۔
 ڈکھنا: (کنایتاً)؛ گناہ کرنا، غیر مذہب اختیار کر لینا۔
 رُوگی: ہمیشہ بیمار رہنے والا۔
 کٹھالی: موت؛ چھوٹی جہیز پتری، چھوٹا زلیجہ۔
 لینا: ہندوؤں کے عقائد کے مطابق دوا، کسی اور قالب میں پیدا ہونا۔
 میں تنھو کتا: ذات کی بنیاد پر لعنت ملامت کرنا، نام دھرنا عیب لگانا۔
 جمنی: پیدائشی، ذاتی۔
 جتنا: پتہ دینا۔
 جنوا سا: مذکر؛ دہن کے گھر میں دو لھا ادبارات کے ٹھہرنے کی جگہ۔
 جنوب / جنوب: (ع، مذکر؛ شمال کا تقض، دکن۔
 جنوری: JANUARY مذکر؛ انگریزی سال کا پہلا مہینا
 جنون: (ف، مذکر؛ ۱) دیوانگی، خبط، کمالِ رغبت کے ساتھ کسی چیز کی دمن (۲) (کنایتاً)؛ غفۃ (۳) (اصطلاح شہسوار)؛ عشق۔
 اچھلتا: جنون کے مرض کا ہونا، خبط ہونا، کسی چیز کی کمال دمن ہونا۔
 پڑھنا: پاگل ہونا، دیوانہ ہونا، غفۃ آنا۔
 جنونی: (ا) پاگل (۲) غفۃ دار، سنگی۔
 جنیا / جنیاں: دمن، جان کی تغیر، معشوقہ، بہت پیاری۔
 جنین: (ع، مذکر؛ پیٹ کا پتہ، وہ پتہ جو دم ماد میں ہو۔
 جنینو: مذکر؛ زہار، برمنوں کا گھنے میں بھی کی طرح ڈالا ہوا سماں۔
 کا پاتھ: پتے بانڈوں اور تلوار چلانے والوں کی اصطلاح میں حریف پر پتے تلوار کا آڑا ہاتھ مارنا۔
- ج: و
 جو: (ف، مذکر؛ ۱) ایک قسم کا قطر (۲) مقدار قلیل، ذرا۔
 جو: خدا ذرا، رتی رتی۔
 جوارا: جو ملا ہوا تاج، بھڑا۔
 جوس: (ف، جو سے بنائی ہوئی۔
 جو: حرفِ ملہ؛ (۱) جو شخص، جو چیز (۲) حرفِ شرط؛ اگر، بشرط کہ (۳) جس وقت (۴) جوں کہ (۵) جس سبب سے (۶) جو کوئی (۷) تاکہ (۸) جس قدر۔
 آگ کھانے کا، آنکارے بگے گا: (مثل)؛ جو بڑا کام کرے گا اس کو بڑا ثبیر بھگتنا پڑے گا۔
 بندھ گیا سوموٹی: (مثل)؛ جو بین گیا وہی اچھا۔
 بوڈوگے وہی کالوگے: (مثل)؛ جو کرے گی اسی کا پھل پائے گی۔
 جاگے سو پائے: (مثل)؛ ہوشیار رہنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔
 جو: ہر کوئی، ہر شخص۔
 جو کچھ: جتنی قسم کے۔
 دل میں ہے وہی زبان پر / جو دل میں ہے وہی منہ پر
 ظاہر و باطن یک ساں ہے۔
 سٹراٹھا کر چلے گا ٹھوکر کھائے گا: (مثل)؛ جو عنبرور کرے گا ذلیل ہوگا۔
 گرختے ہیں برستے نہیں: (مثل)؛ جو بہت باتیں بنائے اور کام نہ کرے، جو بے حد غصہ کرے لیکن عملاً کچھ نہ کرے۔
 ہانڈی میں ہوگا وہی ڈوئی میں نکلے گا: (مثل)؛ جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔
 ہو: جو کچھ ہو۔ کچھ ہی ہو، جس قدر ہو، جتنا ہو۔
 ہو ہو ہو: جو کچھ ہوگا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔
 جوا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کی پتی جو کشیدہ یا کاروبوب وغیرہ پر کاڑھتے ہیں (۲) لہسن کی پتی کا ہر ایک حصہ۔
 کھار: مذکر؛ ایک دوا کے کام کا ٹک۔
 مرج: موت؛ چھوٹی مرج جو سے ملتی جلتی۔
 ہڑ: موت؛ چھوٹی ہڑ، سیاہ ہڑ (جو نہایت چھوٹی ہوتی ہے)۔

کام سے انکار کرنا کہ ہم سے نہ ہو سکے گا (۷) دوسرے کی بات سن کر آپ بھی کچھ کہنا (۸) مقابلے میں کچھ کہنا (۹) بے کار ہو جانا۔

سوال: مذکر؛ بحث، حجت، دلیل۔

سوال کرتا: ہمتا، جھگڑنا۔

طلب: قابل، باز پرس، قابل دریافت۔

طلب کرتا: باز پرس کرنا، مؤلفہ کرنا، وجہ دریافت کرنا۔

مٹنا: (۱) انکار ہونا، موقوف ہونا، برطرف ہونا (۲) بدل مٹنا۔

مذکر: جواب دیتے نہ بن پڑنا۔

نامہ: مذکر؛ وہ کپڑا جس پر مسلمان کھڑکھ کر مردے کے گھن میں دفن کے وقت رکھ دیتے ہیں۔

مذکر: جواب نہ ملنا۔

مذکر: نہ رکھنا نہ ہونا؛ بے شہ ہونا۔

ہونا: (۱) جوڑ ہونا، ہم سر ہونا، مقابل ہونا (۲) انکار ہونا (۳) تردید (۴) ترک تعلق ہونا (۵) برطرف ہونا، علاحدہ ہونا، لاکری چھوٹنا (۶) بدل ہونا، معاوضہ ہونا۔

جوانی: مذکر؛ (۱) سوزخواؤں میں مرثیے کا پہلا مصرع ہر بند کے ختم ہونے پر پڑھنے والا شخص (۲) مقابل، نظیر (۳) طرف ثانی طرف ثانی (۴) جھگڑنے والا، جواب سوال کرنے والا (۵) جواب طلب جیسے؛ جوانی کا رد، جوابی تار۔

جواد: (ع)؛ (۱) بہت بخشش کرنے والا، خداے تعالیٰ (۲) سخی۔

جوار: (ع)؛ (۱) بہت بخشش کرنے والا، خداے تعالیٰ (۲) سخی۔

جوار: (ع)؛ (۱) ہم ساہی، پڑوس۔

جوار: مؤنث؛ ایک قسم کا نخل۔

جوار: سندھ کا آثار۔

بھانا: مذکر؛ سندھ کے پانی کا آثار پڑھاؤ، جرود۔

جوارح: (ع)؛ مذکر؛ آدمی کے ہاتھ پاؤں زبان اور دیگر اعضا۔

جوارش: مؤنث؛ ایک مرکب خوش ذائقہ دوا کا نام۔

جوارسی: مؤنث؛ آواز گھٹانے بڑھانے کے لیے ستار یا ٹیبلو کے اوپر بندھا ہوا ڈورا۔

جوارسی: مذکر؛ جو اکیلے والا۔

جوا: مذکر؛ گاڑی یا ریل چلانے والے بیلوں کے کندھے پر رکھی جانے والی لکڑی۔

ڈال دینا: (کمیائت)؛ تھک جانا، ہمت ہار جانا۔

جوا: تار، شرط بازی، ہارجیت کا کھیل۔

کھیلنا: تار بازی کرنا، ڈالنا۔

جواب: مذکر؛ (۱) خط کا جواب، پیغام کا جواب (۲) مقابل جوڑ (۳) تردید، رد کلام (۴) بدل (۵) موتی (۶) جوڑا (۷) نامنظوری، کسی بات کا جواب (۸) سلام کا جواب۔

جواب الجواب: (ع)؛ مذکر؛ جواب کا جواب۔

یا صواب: مذکر؛ مناسب اور عمدہ جواب، ٹھیک جواب۔

پانا: (۱) لاکری سے موقوف ہونا (۲) سزا پانا (۳) سوال کا جواب ملنا، خط کا جواب پانا (۴) انکار ہونا۔

پیرٹھنا: سوزخواؤں کی اصطلاح میں مرثیے کے اول مصرع کو دہرانا۔

تڑکی بہ تڑکی: (ف)؛ کڑوا جواب، جیسا کوئی کہے ویسا ہی جواب۔

تیک نہ دینا: بات نہ کرنا، ناراض ہونا۔

تلخ: (اضافت کے ساتھ) (ف)؛ کڑوا جواب، سخت جواب۔

جاہلاں یا شدہ خموشی: (اضافت کے ساتھ) (ف)؛ (مقولہ) جو عقل مند ہوتے ہیں وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے بلکہ خاموش رہتے ہیں۔

دعوا: دعویٰ کا قانونی جواب۔

دہ/دہی: (ف)؛ ذمہ دار، جس سے جواب طلب کیا جائے۔

دے جانا: ماہر ہو جانا، بے کار ہو جانا۔

دے دینا: بالکل انکار کر دینا، موقوف کر دینا۔

دینا: (۱) خط کا جواب دینا (۲) تردید کرنا، بات رد کرنا (۳) لاکری سے موقوف کرنا، برطرف کرنا (۴) چھوڑنا، ترک کرنا (۵) گستاخی یا بے ادبی سے بات کرنا (۶) کسی

— ڈھنڈاری: بچا، شہدا، بدعاش۔

جواز: (رع) مذکر؛ رُدا، جائز ہونا، درست ہونا۔

جواسا/جوانسا: مذکر؛ ایک خاردار پودا (گرمیوں میں ٹھنڈک کے لیے جس کی ٹنچ لگاتے ہیں اور اس پر پانی چھڑکتے ہیں)۔

جوالا: (ره) مونث؛ شعلہ، لپٹ، آغ، چمک۔

— مکھی: (ره) مونث؛ آتش نشانی ہار۔

جوامغ: (رع) مذکر؛ جمع جامعہ۔

جوامغ الکلم: (رع)؛ لفظ فقوڑے اور مطلب بہت نکلنے والا کلام۔

جوان: (رف)؛ (۱) نومبر (۱۲) مضبوط، قوی (۳) نیا (۴) بہادر (۵) سانا (۶) سپاہی (۷) لڑاکا۔

— تخت: (رف)؛ اقبال مند، خوش نصیب۔

— جہان: خوب جوان، پوری جوانی پر۔

— صالح: (امانات کے ساتھ) مذکر؛ جوانی کی عمر میں گناہ سے بچنے والا۔ نیک چلن، پرہیزگار۔

— مزد: (رف)؛ (۱) دیر (۲) عالی ہمت۔

— مزدگ/جوانا مزدگ: (رف)؛ جوان مرنے والا، عالم

شباب میں مرجانے والا۔

— جوانی: (رف) مونث؛ شباب۔

— اترجانا: جوانی ڈھلنا۔

— چڑھنا: شباب کا زوروں پر ہونا، مستی میں آنا۔

— خاک کرنا: جوانی شادینا۔

— دیوانی/جوانی دیوانی: مقولہ؛ جوانی کا عالم دیوانگی

سے کم نہیں، جوانی میں کچھ ادب بھی نہیں سوجھتا۔

— ڈھلنا: شباب اترنا، جوانی کا زوال پذیر ہونا، عمر سے

اترنا۔

— سے پھل پائے: (رع)؛ جوانی کا چین پاتے۔

— کاسکھ دیکھے: دعا؛ جوانی کا سکھ نصیب ہو۔

— کے دن: جوانی کا زمانہ۔

— کی تینند: مونث؛ زیادہ اور بے خبری کے ساتھ سونا،

زیادہ اور گہری نیند۔

— جوانب: (رع) مذکر؛ جمع جانب کی؛ اطراف۔

— جواہر: (رع) مذکر؛ جمع جوہر کی، قیمتی پتھر۔

— جواہرات: مذکر؛ جوہر کی جمع الجمع۔

— جواہر جوتنا: (۱) جواہر کا موقعے موقعے سے کسی چیز میں نصب کرنا (۲) دکھانا؛ حسروں کا بہت خوب صورت لکھا

ہونا۔

— میں تولنا: (دکھانا)؛ بہت قدر و قیمت کرنا۔

— جگوار: (رف)؛ (۱) مرض، جڑواؤ (۲) خوش خط۔

— جوائنٹ: JOINT (رہگ) مذکر؛ (۱) جوڑ (۲) معاون

(۳) ایک دوسرے سے ملا ہوا۔

— سیکرٹیری: SECRETARY (رہگ) مددگار

مستند۔

— جوبلی: JUBILEE (رہگ) مونث؛ جشنِ مُسرت، سالگرہ پر منائی جانے والی خوشی کی تقریب۔

— جوبن: مذکر؛ (۱) عورت کی چھاتی، اٹھتی جوانی، چڑھتی جوانی (۲) خوبصورتی، حسن و جمال (۳) عالم، حالت، کیفیت (۴) بہار

ردوق (۵) شادابی، طراوت، تازگی۔

— اُبھرتا: جوانی پر آنا۔

— اُٹھنا/اُٹھلنا: بہار آنا، ردوق آنا۔

— بَرَسنا: ردوق چھا جانا۔

— پَر آنا: (۱) جوانی پر آنا، بہار پر آنا (۲) گلنا، زیبا ہونا

(۳) کمال حسن پر ہونا۔

— ٹپکنا: جوانی کا ظاہر ہونا، حسن کا نمایاں ہونا۔

— جھپکنا: جوہن دکھانا، جوہن کا اُبھار دکھانا۔

— ڈھلنا/جوبن سے ڈھلنا: حسن کا زوال ہونا، جوانی

ڈھلنا۔

— کا: مذکر؛ بہار کا، لطف کا، لذیذ، خوب صورت، پیارا،

رسیلا۔

— کاماتا: جوانی میں مست۔

— کی ماتی: بدست، مستی میں بھری ہوئی۔

— پر رکھ کر روٹی دینا، حقارت سے روٹی دینا، حقارت سے نان و نفقہ دینا۔

— پیر مارنا / جوئی کی ٹوک پرنارنا: تاجیز سمنا، ذلیل حقیر سمنا۔

— پھینا: جوئی خرید کر دینا، دوسرے شخص کے پانوں میں جوئی ڈالنا۔

— پیزار: موتھ، مارپیٹ، لڑائی، دنگا، جھگڑا۔

— پیزار ہونا / جو تم پیزار ہونا: (۱) مارپیٹ ہونا (۲) بحث مباحثہ ہونا۔ تمکا طبیعتی ہونا

— چھپائی: موتھ؛ چوتھی کے موقع پر دولہا کا جوتا چھپا کر پائیوں کا تیک لینا۔

— حور: چٹنے کی عادت والا شخص، بے غیرت۔

— کو کیا عرض: (روح) حقارت سے، بے زاری کا اظہار۔

— کی آنی: جوئی کی ٹوک۔

— کے پرا بکرنہ سمھنا: بہت حقیر سمھنا، ذرا خاطر میں نہ لانا۔ کے تلے سے ناک کاٹ لینا: خوب ذلیل کرنا۔

— جوتیاں اٹھانا: کسی کامل یا بڑے آدمی کی خدمت کرنا، ذلیل خدمت کرنا۔

— بغل میں دہانا / مارنا: جوتیوں کو بغل میں چھپانا، جوتیوں کو آہٹ نہ ہونے کی غرض سے اتار کر ہٹا جانا، شٹک جانا، دیک کر نکل جانا۔

— گورٹا: خضوں کو شش کرنا، بے نائدہ دھڑنا۔

— چھٹاتے پھرنا، ناک چھانٹتے پھرنا، مارے مارے پھرنا۔ سر پھڑکھٹا: (۱) خوشامد کرنا (۲) ٹھیل جانا۔

— سیدھی کرنا: (۱) کمال حقیقت سے جوتیوں کو سیدھا کرنا، حیرت کرنا (۲) ذلیل خدمت اختیار کرنا۔

— کھانا: (۱) جوتیوں سے پھٹا، طے بہنا، بڑا بھلا سنا، (۲) دکھنا؛ نہایت ذلیل و خوار ہونا۔

— گانٹھنا: جوتیوں کی مرمت کرنا، حقیر پیشہ کرنا، ذلیل کام کرنا۔ مارنا: جوتیوں سے مارنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، برا بھلا کہنا

— جوتیوں سمیت آنکھوں میں بیٹھنا: بڑی گستاخی اور دھڑائی

— کے دن: ذکر؛ رونق کا زمانہ، شباب کا زمانہ۔

— جوت: موتھ؛ (۱) آنکھ کی روشنی (۲) رونق (۳) روشنی چمک۔

— جگانا: چراغ روشن کرنا۔

— جوت: (۱) تردد، کاشت، کمیٹ ہاری (۲) جوئی ہوئی زمین (۳) ذکر؛ بیوں کے گلے کتے جس سے جوا اٹھا رہا ہے (۴) ذکر؛ گھوڑا گلازی کے سلا کتے (۵) موتھ؛ ترازو میں پتے باندھنے کی ڈڈی۔

— دینا: (۱) گھوڑے یا بیل کا گاڑی میں لگا دینا (۲) (جھاڑا) کسی کام میں لگا دینا۔

— جوتا: ذکر؛ (۱) کاشت کار، کسان (۲) دیوار کی حد حاصل، دیوار کی کوئی جانب۔

— جوتا: ذکر؛ پاپوش۔

— اچھلنا / چلنا: بدتر سذیبی کی لڑائی ہونا، جوئی پیزار ہونا۔

— بڑستا: خوب جوتیاں پڑنا، جوتے گنا۔

— چھپانا: شادی کی ایک رسم دلہن کی رخصتی یا چوتھی کے موقع پر سایوں کا نوشہ کے جوتے کو چھپانے کی ایک رسم جو بیز رنگ لیے دیا نہیں جاتا۔

— دینا: (۱) پھننے کے لیے جوئی کا جوڑا دینا (۲) جوتا مارنا، بے مروتی کرنا۔

— سر پھڑکھٹا: شدت سے پھٹنا۔

— گنا: دکھنا؛ (کھٹنا)؛ خسلہ ہونا، نقصان ہونا۔

— کارنا: مارنا، کھٹنا؛ ملامت کرنا، بڑا بھلا کرنا (۲) احسان کے شرمندہ کرنا۔

— جوتے سے آنا / جوتے سے خبر لینا: جوتا لٹا، جوتا مارنا۔

— کاپار: ذکر؛ زبردست کا دست۔

— کاری: موتھ؛ مارپیٹ، جوتیوں سے خبر لینا۔

— جوتی: موتھ؛ پیزار، پاپوش۔

— اچھلنا: جوئی چلنا، رسوا ہونا۔

— پیر جوتی پیرھنا: جوئی پر جوتی آجانا، سفر کا شگون۔

جس کا کوئی نہ ہو۔
جوڑ : مذکر مؤنث ؛ (۱) گانٹھ ، گرہ (۲) ٹانگا (۳) ستاروں کا میل
 تعمیر برکی بات (۴) میزان ، کل تعداد (۵) واؤ بیچ (۶) تہمت
 (۷) مثبت (۸) وہ طرف جو ہم رنگ ادھم سلسلہ ہوں (۹)
 ایک قسم کی جملی (۱۰) افزا (۱۱) سال میں (۱۲) سیوں (۱۳) ایک
 قسم کے چھلے (۱۴) پہلوان کا مقابل (۱۵) ہم سرا برابر کا (۱۶) ہفت
 ۷ جوڑ (رہنا) (۱۷) پیوند (۱۸) مرثیہ خواہوں کی جماعت۔
 —————
باز : مفعول ، چالاک۔
 —————
باندھنا : (۱) کشتی کے واسطے برابر کے پہلوانوں کو مقعر
 کرنا (۲) جوڑ لگانا ، کسی کام پر دو آدمیوں کو مقعر
 کرنا۔
 —————
بٹھانا : (۱) چول بٹھانا ، جوڑ ملانا (۲) وصل کرنا (۳)
 حساب کی میزان ٹھیک کرنا۔
 —————
بڈنا : دو پہلوانوں کا کشتی کے واسطے انتخاب کرنا۔
 —————
بند : مذکر ؛ بندش ، جوڑ ، عضو۔
 —————
توڑ : مذکر ؛ دیکھو ؛ توڑ جوڑ ، کاٹ ، حکوم۔
 —————
جوڑ : ہر ایک عضو۔
 —————
جوڑ مشرارت : بھری ہونا ؛ بڑا شریر ہونا۔
 —————
چلنا : چال چلنا ، تدبیر کارگر ہونا۔
 —————
دار : جوڑا ہوا ، پیوند لگا ہوا۔
 —————
کا : برابر کا ، مقابل۔
 —————
کاٹور : مذکر ؛ جیسی جو چیز ہو اس کے مناسب دوسری
 اسی قسم کی چیز۔
 —————
کرنا : فریب دینا ، چالاک کرنا ، حرفت کرنا۔
 —————
کو جوڑ ملنا : جیسے کو بیسا ملنا۔
 —————
گانشنا : چالاک سے کوئی کاروائی کرنا ، پیوند لگانا۔
 —————
جوڑ کے دھرنا : کنوسی سے روپیا جمع کرنا ، روپیا جمع کر کے
 ایک جگہ رکھنا۔
 —————
جوڑ کے مرجانا / **جوڑ جوڑ مرجانا** : بڑی کنوسی سے روپیا
 جمع کرنا اور اس کا مزہ اٹھانے بغیر مرجانا۔
 —————
جوڑا : مذکر ؛ (۱) ہر چیز کا جفت (۲) نظیر ، برابر کا (۳) ہم خوبی ،

سے کسی سچی بات سے انکار کرنا ، زبردستی جھٹلانا ، آنکھوں میں
 خاک ڈالنا۔

— **کاھنڈو** : جوٹیوں کے ٹھیل سے ، آپ کی بدولت ، راکسار
 کا کرہ اسان ماننے کے انہار میں۔

— **میں ڈال بٹنا** : آپس میں پھوٹ پڑنا ، لڑائی جھگڑا
 ہونا۔

جو تری : مؤنث ؛ جاہل کا ہیں۔

جو لٹس : مؤنث ؛ علم نجوم ، گرہ اور پتھر جاننے کا شاستر۔

جو لٹشی : نجومی ، ہیئت وال ، نجوم۔

جو تنا : (۱) بیلوں کو گاڑی میں لگانا ، بجلی میں گھوڑے کا جو تنا ، جو
 رکنا ، ساز ڈالنا (۲) ساتھ لگانا ، معروف کرنا (۳) بل چلانا

(۴) ترڈر کرنا (۵) کاشت کرنا۔

— **یوٹا** : زمین میں بل چلانا اور بیچ ہونا۔

جوئی : جوے کی روک کے واسطے پیل کی گردن میں باندھنے
 والی رتی۔

جو جو : مذکر ؛ (۱) ایک فرنی نام جس سے پتوں کو ڈرایا جاتا ہے
 (۲) کھایا ؛ ہیئت ناک شکل اور ہیبت شے۔

جو جھٹنا : (۱) لڑنا ، کارزار میں معروف ہونا (۲) لڑائی میں
 لانا جانا۔

جوڈ : (ع) مذکر ؛ بخشش ، سخاوت۔

جوڈت : (ع) مؤنث ؛ تیز فہمی ، ذہنی تیزی۔

جوڈھا : (ع) مذکر ؛ بہادر ، شجاع۔

جوڈ پٹیل : (ع) (جگ) ؛ عدالتی۔

— **کشنر** : JUDICIAL COMMISSIONER (جگ) ؛

— **مذکر** ؛ عدالتی کشنر (ایک عہدہ)

جوڑ : (ع) مذکر ؛ علم ، ستم۔

— **اُستاد** ؛ زہر پڑ ؛ (ف) (مقولہ) ؛ استاد کی تنبیہ

باپ کی محبت سے بہتر ہے۔

جوڑو : مؤنث ؛ زہر ، بیوی۔

— **کا مرید / مردور** ؛ مذکر ؛ زن مرید۔

— **نجاتا اللہ میاں سے ناتا** ؛ (دش) ؛ بغیر شادی شدہ شخص

جوس: JUICE : رائگ، مذکر؛ عرق، رس۔
جوش: (ف) مذکر؛ (ا) اُبال (۲) ہیجان (۳) دلولہ، شورش،
 دھن (۴) جرات، تیزی (۵) زیادتی، زود (۶) شہوت
 (۷) غضب (۸) تعصب مذہبی، دینی جوش (۹) دیوانگی
 (۱۰) سرگرمی، گرم جوشی (۱۱) شوق، جلال، بہت زیادہ
 محبت الہی۔

_____ آنا: (۱) اُبال آجانا (۲) غصہ آجانا (۳) کسی امر کا شوق ہونا
 دلولہ ہونا (۴) طغیانی آنا۔

_____ پیر آنا: اُمنڈنا۔

_____ پیر ہونا: زوروں پر ہونا۔

_____ وخورش: (ف) مذکر؛ غل غبارا، غل شور، گوج، گرج
 غصہ۔

_____ خون: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ پدری و مادری محبت
 برادرانہ جوش، خون میں حرارت کی زیادتی۔

_____ دہن: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ مُنہ آنا، منہ میر
 پھالے پڑنا۔

_____ دینا: اُبالنا۔

_____ کھانا / مارنا: اُبلنا، کھولنا، زیادتی ہونا۔

_____ میں آنا: (ا) اُبلنا، کھدہرانا، بیلے اٹھنا (۲) طغیانی پر آنا،
 (۳) جوش آنا (۴) دلولہ اٹھنا (۵) غصے میں بھرنا۔

_____ میں لانا: غصہ دلانا، بھڑکانا، اکسانا۔

جوشاندہ: (ف) مذکر؛ پانی یا عسرتی میں جوش دی ہوتی
 دوا۔

جوشش: (ف) مذکر؛ ابال، ہیجان، شورش۔

جوشش: (ف) مذکر؛ (ا) ایک قسم کا جگی لباس (۲) ایک قسم
 کا بازو کا زیور۔

جوشی: برہمنوں کا ایک طبقہ۔

جوس: (ع) مؤنث؛ بھوک۔

جوس البقر: (ع) مؤنث؛ ایک قسم کی بیماری جس میں زیادہ
 کھانے کے باوجود بھوک معلوم ہوتی رہتی ہے، کھانے کا
 ہنوک۔

سامتی (۴) پوری پوشاک (۵) (کنایتاً)؛ جوتے (۶) خلعت
 (۷) وہ جوڑا جو دھن کے واسطے بھجا جاتا ہے (۸) دوسرا آسانی
 (۹) نر مادہ پزندوں کا (۱۰) موزے کا جوڑا (۱۱) چوڑیوں کا جوڑ
 اٹھانا؛ جوتا اٹھانا۔

_____ بڑھانا: پوشاک اتارنا، کپڑے اتار کر رکھنا۔

_____ بنانا: (۱) کھوٹی چپاندی یا کھوٹا سونا بنانا (۲) پوری
 پوشاک تیار کرنا (۳) جوتا بنانا (۴) چوڑیاں
 بنانا۔

_____ پہننا: (۱) پوری پوشاک پہننا (۲) جوتی پہننا۔

_____ کھانا: نر مادہ کا ملنا، جفتی کھانا۔

_____ لگانا: نر مادہ کو ملانا۔

جوڑا: مذکر؛ (۱) سر کے بال جن کو عورتیں یک جا کر کے سر کے
 پیچھے گرہ دے لیتی ہیں (۲) مٹنج کی بیٹی ہوئی رستی، پانی کے
 گھرنے کے نیچے رکھنے کی اینٹروی (۳) بیل کی چوٹی (۴)
 پگڑھی کا پچھلا حصہ۔

جوڑنا: (ا) ملانا، پیوند لگانا (۲) اکٹھا کرنا، جمع کرنا (۳) میزان
 دینا (۴) حساب لگانا (۵) رومیا بھا کر رکھنا (۶) گروہ بنانا۔
 (۷) شامل کرنا، منتھی کرنا (۸) دھرنا، لگانا (۹) ٹوٹی ہوئی
 چیز کو ملانا۔

جوڑی: (۱) میز، تال، وہ میرے جوہیلے کے ساتھ بجائے جاتے
 ہیں (۲) ہبلوں کی جوڑی (۳) برابر کے دو شخص یا دو چیزیں
 (۴) دو گھوڑوں کی گاڑی۔

_____ دار: مذکر؛ سامتی، پہرے چوکی کے دو متقرہ شخص۔

_____ ہانگنا: (۱) دو گھوڑوں کی گاڑی چلانا (۲) دیویوں رکھنا
 (ظرافت سے)۔

_____ ہلانا: گھدہرانا۔

جوڑی: مؤنث؛ تپ، لرزہ۔

_____ چڑھنا: (کنایتاً)؛ خوف معلوم ہونا۔

جوڑ: (ع) مذکر؛ جائیل

جوڑا: (ع) مذکر؛ دو جوڑواں لڑکوں کی شکل کی ایک آسانی
 بڑج کا نام۔

جستی، پھرتی (۳) انگ، دلولہ، جوش، جوانی، تیزی
 طبع، طبیعت کی روانی، تیز فہمی۔
 جولاہیوں پر آنا/ ہونا: زوروں پر آنا، جوش میں آنا،
 دولے میں بہنا، تیزی میں آنا۔

پُر زہنا: زوروں پر رہنا، جوش میں رہنا، غل شور
 میں مصروف رہنا۔

جولال: (ف)، مونت؛ بیڑی، مجسم کے پانوں میں ڈالنے
 کی زنجیر۔

جولائی: JULY دانگ اندر؛ عیسوی سال کا ساتواں

مہینہ
 جول: مونت؛ (م)، (ا) جنم، پیدائش (۲) زمانہ، عرصہ
 (۳) وضع، صورت، عیس۔

پُرنلنا/ پلینا: ایک قالب سے دوسرے قالب میں جانا
 قالب بدلنا، صورت بدلنا۔

جولن: JUNE (انگ) مذکر؛ عیسوی سال کا چٹا مہینہ
 جول: حرف تشبیہ، مانند، مثل۔

تول/ جول تول کر کے: کسی نہ کسی طرح، جس طرح
 ہو سکے، بڑی مشکل سے۔

جول: جس قدر، جہاں تک، جب تک، جیسے جیسے۔
 کاتول: ہو بہ ہو، سارا، پورا، بجنسہ۔

جول: جس وقت، فوراً، جیسے ہی۔

جول: مونت؛ وہ کپڑے جو بالوں میں میل کے سبب
 سے پڑ جاتے ہیں۔

پڑنا: جول کا پیدا ہونا۔
 کی چال: نہایت سست چال، بہت آہستہ رفتار۔

جول کے مارے گدڑی نہیں چھوڑی جاتی: (مثل)؛
 ادنا تکلیف کی وجہ سے بڑا مطلب کھودیتے۔

جول دکھانا: کسی سے سرکے جوں نکھواتا۔
 مارنا: (کھانا)، سست ہو کر بیٹھ رہنا۔

جوتا: مذکر؛ (ا) پان یا گاس کا مٹھا جس سے برتن مانجئے ہیں۔
 (۲) لکڑیوں یا گاس کا مٹھا باندھنے والی گاس کی رسی۔

جوف: (ع) مذکر؛ شکم، پیٹ، کھوکھلا پن، کسی چیز کے اندر کی
 طرف جو تالی ہو، گڑھا، شگاف۔

جوق: (ترکی) مذکر مونت، گروہ۔
 ذوق: گروہ، گروہ بہت سے۔

جوکم: مونت؛ (ا) خطرہ، اندیشہ، (۲) قیمتی اشیاء مثلاً
 زرد جواہر، روپیا پیا، گہنا پاتا (۳) بیر (۴) نقصان، خسارہ

(۵) بلا، مصیبت، شامت۔
 جوکھنا: تولنا، جانچنا، امتحان کرنا، کنا۔

جوکھوں اٹھانا: جوکم اٹھانا، نقصان برداشت کرنا، خسارہ،
 اٹھانا۔

کاکام: (دہلی) مذکر؛ خوف و اندیشہ کا کام، نقصان و ضرر
 کاکام۔

میں پڑنا: (دہلی)؛ خطرے میں پڑنا، اندیشے میں پڑنا،
 آفت میں پڑنا۔

جوگ: مذکر؛ (ا) ستاروں کا ملاپ، (۲) نیک ساعت
 (۳) ریاضت، درویشی (۴) کفارہ (۵) موقع،

ساعت۔
 سادھنا لینا: جوگی بننا، دنیا کو چھوڑنا، جنسی دم

کرنا۔
 جوگن: مونت؛ جوگی کی تائینٹ۔

جوگی: مذکر؛ (ا) ہندو فقیر (۲) جادوگر۔
 کس کے مہت؛ (مثل)؛ فقیر کسی کے دوست نہیں

ہوتے۔
 جوگی لٹیں کھڑوں کا نقصان: (مثل)؛ بڑوں کی تکرار

میں چھوٹوں کا نقصان ہوتا ہے۔
 ہو جانا: فقیر ہونا۔

جوگیا: (ا) سرخی مائل رنگ، گیر وارنگ (۲) ایک قسم کی قری
 جولان: مذکر؛ (ا) کھانا، دوڑانا، گھوڑا دوڑانا (۲) کاوا

رینا۔
 گاہ: مونت؛ گھوڑے کی جگہ، میدان۔

جولائی: (ف) مونت؛ (ا) گھوڑے کی دوڑ (۲) تیزی، تیز رفتاری

جو ٹمک : موٹھ ؛ پانی کا ایک کیزا جو ناسدخون چوس کر نکالنے کے واسطے جسم پر لگا دیتے ہیں۔

جو کر لپٹنا : اس طسرح لپٹنا کہ چھوٹنا مشکل ہو، کسی کام کے سر ہو جانا۔

جو پتھر میں لگتا : بے مروت کنبوس یا اور ایسے ہی اوصاف کے گزے آدمی سے کسی کام کا نکلنا۔

جوئی : موٹھ ؛ ترازو کی لکڑی اور لٹیوں میں باندھنے والی رستی۔

جوئیر : JUNIOR ، رائگ ، چھوٹا ، کم رتبہ کا ، ادنیٰ ، ناپا لیز جوئیر : مذکر ؛ (۱) قیمتی پتھر جیسے ؛ لال زمررد ہیرا وغیرہ (۲)

اصل شے ، خلاصہ ، کتب کتاب (۳) منطق کی ایک اصطلاح (۴) تلوار کی آب و تاب (۵) خاصیت ۔ عمدگی ، خوبی ، (۶) ہنر ، لیاقت ، استعداد (۷) حقیقت (۸) چالاکی ،

کارستانی (۹) آئینہ کی آب و تاب (۱۰) کسی چیز کا پختہ (۱۱) وہ لکیریں جو اچھی لکڑی میں نمایاں ہوتی ہیں۔

اڑانا / جوہر : کا اڑانا ؛ خاص ترکیب سے کسی چیز کے اجزائے لطیف کو علاحدہ کرنا۔

وار : (ف) ؛ (۱) صاحب جوہر (۲) عمدہ جوہر رکھنے والی لکڑی تلوار وغیرہ۔

دکھانا ؛ (۱) اپنا کمال دکھانا ، ہنر دکھانا (۲) (طنزاً) ؛ کسی کم ظرف کا اپنی اعانت اور بد ذاتی پر اتر آنا۔

فرد ؛ (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر ؛ (۱) جوہر یکتا ، یکتاے زمانہ (۲) بے مثل۔

کرنا ؛ (۵) ؛ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنا (مترادف) ۔

کھلنا ؛ (۱) اصلیت معلوم ہونا ، برائی بھلائی معلوم ہونا ہنر ظاہر ہونا (۲) (طنزاً) ؛ عیب ظاہر ہونا (۳) لیاقت اور استعداد کا حال دریافت ہو جانا

کھولنا ؛ ہنر ظاہر کرنا ، خوبی ظاہر کرنا ، حقیقت ظاہر کرنا عیب ظاہر کرنا۔

لطف ؛ (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر ؛ پاکیزہ جوہر نکالنا ؛ (۱) ست نکالنا (۲) عیب ہنر ظاہر کرنا۔

جوہری : مذکر ؛ (۱) جوہرات کا سوداگر ، جوہر فروش (۲) (جہازاً)

پرکھنے والا ، ہنر شناس۔

توانائی ؛ آئینی طاقت۔

جوہر ؛ مذکر ؛ جمیل ، برساتی تالاب۔

جوہی ؛ موٹھ ؛ (۱) ایک قسم کی چھلی (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔

جوئے ؛ (ف) موٹھ ؛ نہر ، ندی۔

بار ؛ (ف) ؛ وہ مقام جہاں نہریں بہت ہوں ، وہ بڑی نہر جو کئی نہروں سے بنی ہو۔

شیر ؛ (ف) مذکر ؛ (اضافہ کے ساتھ) وہ دودھ کی نہر جو شیر ہار نے شیریں کے حکم سے پہاڑ سے شہر تک نکالی تھی۔

شیر لانا ؛ بہت دشوار کام کرنا۔

جو یا / جوئیاں ؛ (ف) مذکر ؛ تلاش کرنے والا ، ڈھونڈنے والا جستجو کرنے والا۔

جوئندہ ؛ (ف) ؛ ڈھونڈنے والا۔

پابندہ ؛ (ف) (مقولہ) ؛ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔

ج - ۵

جہات ؛ (رع) مذکر موٹھ ؛ جمع جہت کی سمت ، طرف۔

جہاد ؛ (رع) مذکر ؛ (۱) کسی سچائی کی خاطر لڑنا ، اس سے لڑنا جو فرائض مذہبی میں مزاجم ہو (۲) کسی اچھے کام کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کرنا۔

اکبر ؛ (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر ؛ (کنایتاً) نفس کشی ، کڑی ریاضت ، زُج۔

جہاز ؛ مذکر ؛ (۱) اسباب تجارت لادنے اور دھری سفر کرنے کی بہت بڑی دھانی کشتی (۲) بہت بڑا ، نہایت فراخ۔

کا جہاز ؛ بہت لمبایا ہوا ، نہایت وسیع۔

کالنگر کرنا ؛ جہاز کا ٹھہرانا۔

جہازی ؛ مذکر ؛ جہاز سے کسی قسم کی نسبت رکھنے والا ، خلاصی ، ملازم سا فرغ وغیرہ۔

جہالت / جہالت ؛ (رع) موٹھ ؛ نادانیت ، بے علمی ، بے وقوفی ، اُچھلچل جہاں ؛ (ف) مذکر ؛ دنیا ، دنیا کے لوگ ، عالم۔

- آفرین: رفا، جہاں کا پیدا کرنے والا خدا۔
 — آنکھوں میں آنڈھیر ہوتا: کچھ سمجھائی نہ دینا، مصیبت میں مبتلا ہونا۔
 — پاک کرنا: دنیا سے کسی ناگوار شے یا موذی کو ختم کرنا۔
 — پناہ: رفا، مذکر؛ (مجازاً)؛ بادشاہ، سلطان، وہ حاکم جس کی پناہ میں دنیا ہو۔
 — تنگ ہونا: دنیا میں رہنا ناگوار ہونا۔
 — دار: رفا؛ بادشاہ۔
 — دیدہ: رفا؛ تجربہ کار، آزمودہ کار۔
 — سے اٹھنا / جہاں سے جانا / جہاں سے گزرتا: مریزا۔
 — سے ہاتھ اٹھانا: دنیا کو ترک کرنا۔
 — گزر: مذکر؛ سیاحت، سفر کرنے والا۔
 — گیری: مؤنث؛ (۱) ہاتھ کے ایک جڑاؤ زبور کا نام، کار میں ڈالنے کا چھوٹا حلقہ (۲) لاکھ یا کراچ کی چوڑی (۳) سکرانی جہاں گیر بادشاہ سے منسوب۔
 — جہانیاں: رفا، مذکر؛ دنیا کے لوگ، خلق اللہ۔
 — جہاں گشت: ساری دنیا میں گشت لگانے والا، ایک بزرگ کا لقب۔
 — جہاں: حرف شرط، یہ اسم موصول بھی ہے (۱) جس جگہ، جس مقام پر (۲) جس وقت، جس گھڑی۔
 — تنگ: جب تنگ، حجتی آلا مکان۔
 — تہاں: ہر جگہ، ہر کہیں، جگہ جگہ۔
 — جائے بھوکا وہاں پڑے سوکھا: رشا؛ بد نصیب کی قسمت ہر جگہ ساتھ رہتی ہے۔
 — جہاں: جگہ جگہ، جاہل، جس جس جگہ۔
 — جاہل برتن ہوتے ہیں کھٹکے بھی ہیں: رشا؛ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کھلا بھی ہوتی ہے۔
 — دیکھے تو اپر ات، وہاں گاؤںے ساری رات: رشا؛ فرض مند اپنے فائدے کو دیکھتا ہے۔
 — روکھ نہیں وہاں ارند ہی روکھ: رشا؛ جہاں عہد چیز نہیں وہاں معمولی چیز اپنی گنی جاتی ہے۔
- شیاناس وہاں ساڑھے شیاناس: رشا؛ جب بربادی ہوئی کم و بیش کی کیا پروا۔
 — کانسوا وہاں بجلی: رشا؛ جہاں مال ہوتا ہے وہاں بچھڑاتے ہیں۔
 — کہیں: جس جگہ، جس مقام پر۔
 — کی تہاں: (۱) کہیں کی کہیں، بے جگہ، بے موقع (۲) اسی جگہ، اسی مقام پر، وہیں کی وہیں۔
 — گڑ ہوگا وہاں مکھٹی بھی ضرور ہے: رشا؛ جہاں ٹانہ ہوتا ہے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔
 — گڑھا ہوتا ہے وہیں پانی مڑتا ہے: رشا؛ جہاں نقص ہوتا ہے لوگوں کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔
 — گل ہوگا وہاں خار بھی ہے: رشا؛ راحت کے ساتھ حکمت اور خوشی کے ساتھ رنج ہے۔
 — مرغانہ ہوگا اذان نہ ہوگی / جہاں مرغ نہیں لوٹتا صبح نہیں ہوتی / جہاں ملا نہ ہوگا وہاں سویرا نہ ہوگا؟ رشا؛ کوئی کام کسی پر موقوف نہیں رہتا ہو ہی جاتا ہے۔
 — نشیب ہوگا وہاں پانی پانی مڑے گا: رشا؛ کچھ بڑا گڑھا ہوتا ہے۔
 — چہرست: (ع)؛ (جمع چہرست کی) مؤنث؛ (۱) طرف، سمت (۲) وجہ۔
 — چہرست: (ع)؛ مؤنث؛ کوشش، مشقت، دھڑ دھوپ۔
 — چہرست / چہرست: مذکر؛ نادانی، ناواقفیت، جہالت۔
 — چہرست: (ع)؛ جمع جاہل کی، جاہل لوگ، نادان۔
 — جہل مرکب: مذکر؛ ایک مرنے لسنائی جس میں انسان باوجود عدم علم اپنے آپ کو واقف عالم سمجھتا ہے اور اپنے متعلق عالم ہونے کا یقین رکھتا ہے، گویا دو جہلوں ر عدم علم اور ناواقفیت سے عدم علم، میں مبتلا ہونا جہل مرکب ہے۔
 — جہلی: آجہد، سفید، کینڈ۔
 — جہنم / جہنم: (ع)؛ مذکر؛ دوزخ۔
 — میں پڑے / جہنم میں جائے: (بد دعا)؛ نہایت نفرت اور ہزاری کا اظہار۔
 — جہمی: دوزخی، دوزخ کے کام کرنے والا۔
 — جہول: (ع)؛ بڑا نادان۔

— بچھانا : افسردہ کردینا، ہمت توڑ دینا۔
 — بچھنا : جان سلامت رہنا۔
 — بہ حال ہونا : طبیعت درست ہونا۔
 — بگڑا کرنا : (۱) ناخوش کرنا، رنجیدہ کرنا (۲) دم اٹے کرنا (۳) بڑا ماننا۔

— بڑھانا : حوصلہ بڑھانا۔
 — بکھڑنا : (۱) (دم) متلی ہونا (۲) دل کا پریشان ہونا۔
 — بند ہونا : دل رکنا، کبیدہ ہونا۔

— بھاری کرنا : (عوا) غم لین ہونا، رنجیدہ ہونا، رونا دھونا
 — بھٹکنا : دل کا کسی چیز کو ڈھونڈنا، مشتاق ہونا،
 آرزو مند ہونا، طبیعت کو ایک سوئی نہ ہونا، طبیعت کا بہکنا۔

— بھڑانا : رونا، دل اُٹھانا، آنسو بھرا آنا، مصیبت
 دیکھ کر یا کسی یاد آکر دل کا درد مند ہونا۔

— بھڑکنا : رغبت ہونا، مائل ہونا، جی چاہنا، دل میں
 اُٹنگ آنا۔

— بھڑکنا : بار بار رونا ہونا، دل میں نہایت درد پیدا
 ہونا، رقت آنا، آنسو بھرا آنا۔

— بھڑکنا : سیر ہو کر، حسبِ خواہش، بہ خوبی۔

— بھلانا : دل خوش کرنا۔

— بھٹھا جانا : دل گرا جانا، دل کا نہ حال ہونا۔

— پانی کرنا : (۱) کمال زحمت اٹھانا (۲) دل ملامت کرنا۔
 دل موم کرنا۔

— پکرنا : مدد ہونا۔

— پکرنا : جان خطرے میں ڈالنا، جان پر کھیلنا، خود کشی
 کرنا۔

— پڑا ہونا : کسی بات کی دل کو فکر ہونا، کسی کا دھیان
 ہونا۔

— پڑنا : جان پڑنا، روح پڑنا، بچے میں روح آنا۔

— پکا دینا : (عوا) بہت ایذا دینا، دق کرنا، رنج دینا۔

— پکڑا جانا : دل میں شہہ پڑنا، ماتھا ٹھکنا۔

— جھیزنا : مذکر؛ لڑکیوں کو شادی میں مایکے والوں کا دیا ہوا سبب
 وغیرہ۔

— میں آنا : ماں باپ کے گھر سے آنا، وہ چیز جس پر اپنا
 دعو ہو۔

— جھیزنا : جھیزیں دینے کے لائق، جھیزیں دیا ہوا۔

ج - م

— جی : مؤنث؛ ایک قسم کا چھوٹا جو۔

ج - می

— جی : (۱) حرب ایجاب، ہاں (۲) جناب (۳) درست ہے، بجا ہے
 (۴) طنز؛ ضرور بے شک (۵) اسم کے آخر میں لگانے
 اور برابر والوں سے بھی کہنے کا تعظیمی کلمہ۔

— ہاں : رجو اباً طنز کرنا، ہاں، بے شک۔

— جی : (۱) مذکر؛ جان، روح (۲) زیت، زندگی (۳) دل طبیعت
 خواہش (۴) ذات، خود، آپ نفس، شخصیت (۵) جرات
 دلیری، مردانگی۔

— آنا : دل آنا، محبت ہونا۔

— اُٹھنا : بے زار ہو جانا، دل اُٹھانا۔

— اُٹھنا : جان پڑنا، زندہ ہو جانا، سیر و تلکے یا کسی کام
 کے واسطے دل چلنا۔

— اُچھاٹ ہو جانا : جی نہ لگنا، طبیعت ہٹ جانا۔

— اُڑا جانا : دل کا درہم برہم ہو جانا، دل کا گھبرانا۔

— اُکتا جانا : دل کا بے زار ہو جانا، کسی کام پر طبیعت
 نہ لگنا۔

— اُلٹ جانا : پاگی ہو جانا۔

— اُلٹنا : اُلٹنا : دل گھبرانا۔

— اندر سے بیٹھا جانا : طبیعت کا گرا جانا۔

— اوپر تلے ہونا : گھبرانا، متلی ہونا۔

— باغ باغ ہونا : جی خوش ہو جانا۔

— بٹنا : دل بہلنا، دھیان ہٹنا، خیال ہٹنا۔

- پھلنا / پھلنا: میلان خاطر ہونا، دل آنا۔
- پھٹ جانا: دل بے زار ہونا، دل میں فرق آجانا، محبت نہ رہنا، ناراض ہوجانا۔
- پھر جانا: دل بے زار ہوجانا، آگت جانا، نفرت ہوجانا۔
- پھسنا: دل آنا، عشق ہونا، دل مائل ہونا۔
- پھیکا ہونا: دل کا کسی چیز سے ہٹ جانا، متنفر ہوجانا۔
- ترشنا: دل کا مشتاق ہونا، آرزو مند ہونا۔
- تلے اوپر ہونا: جی گھرانا، تھے ہونا۔
- ٹوٹ جانا: شکست خاطر ہونا، بے دل ہونا۔
- ٹھنڈا ہونا: (۱) اطمینان ہونا، خاطر جمع ہونا (۲) دل کی ہوس بھٹنا۔
- جان سے فدا ہونا / قربان ہونا / نثار ہونا: دل سے والا دشتیدا ہونا، دل جان سے تقدق ہونا۔
- جلانا: (۱) ناگوار حرکت یا بے جا بات سے کسی کو بد مزہ کرنا (۲) دل میں آگ لگانا، غصہ دلانا۔ (۳) حسد دلانا (۴) چھڑنا۔
- نکال لینا: اچھا اچھا چھانٹ لینا۔
- چرانا: چشم پوشی کرنا، کسی کام سے بچتے پھرنا، حیل ڈھونڈنا، بہانہ کرنا۔
- چلا: (۱) دلیر، من چلا (۲) سنی، بلند حوصلہ (۳) دیوانہ، میوں چلا جانا: دل کا بیٹھا جانا، طبیعت بد حال ہونی جانا۔
- چلاتا: رغبت کرنا، خواہش کرنا، جرات کرنا، جنت کرنا۔
- چل جانا: دیوانہ ہوجانا۔
- چلنا: خواہش ہونا، رغبت ہونا، دل میں آنا، ارادہ ہونا۔
- چھڑانا: کسی کی ہمت توڑ دینا۔
- چھوٹنا: (۱) بد دل ہونا، نا امید ہونا، ہمت ٹوٹنا، (۲) ہار جانا، تھکتا۔
- دار: من چلا، بہادر، سخت مضبوط۔
- دکھانا: رنج و آزار پہنچانا، ستانا، صدمہ پہنچانا۔
- دوڑنا: ارادہ ہونا، میلان طبع ہونا۔
- دھڑکننا: (۱) دل کا پھٹنا، اختلاج قلب ہونا، خوف ہونا اندیشہ ہونا (۲) دل کر دھنا۔
- دھڑکنے لگنا: اندیشہ لگا ہونا، تردد ہونا، ہچکچانا۔
- دھک دھک کرنا / ہونا: خوف طاری ہونا، جی دھلنا، جی ڈرنا، دل دھڑکننا۔
- دینا: پیار کرنا، محبت کرنا، جان دینا۔
- ڈالنا: روح پھونکنا، زندگی بخشنا۔
- ڈوبنا: غشی طاری ہونا، دل بے قابو ہونا، ناتوانی ہونا۔
- ڈھیلا جانا: دل کا سست اور مضمحل ہونا، غمشل چلا آنا، دل قابو میں نہ رہنا۔
- ڈھونڈنا: دل کا کسی کی تلاش میں ہونا، دل کا مشتاق ہونا کرنا: دم گھبراتا، دل نہ ملتا، آئندہ ہوجانا۔
- رکھنا / رکھ لینا: دل داری کرنا، پاس خاطر کرنا، خوش کرنا۔ آرزو پوری کرنا، تسلی دینا، دلاسا دینا، دل بہلانا۔
- سائیں سائیں کرنا: غشی کے آثار ظاہر ہونا، جی سن سنانا۔
- سن سنانا جانا: (۱) ضعف و نا طاقتی کے باعث طبیعت بد حال ہونا، رعب یا خوف سے دل بیٹھنا (۲) ہمت ٹوٹ جانا۔
- سے اتر جانا: بے قدر ہوجانا، قابل نفرت ہوجانا، نظروں سے گرجانا۔
- سے بے زار ہونا: زندگی سے تنگ ہونا۔
- سے جانا: جان سے گزر جانا، مر جانا۔
- سے جی بٹنا: دو آدمیوں میں دوستی اور اتفاق ہوجانا۔
- سے گزر جانا: جان سے جانا۔
- سے گزرتا: اپنی طرف سے بات بنانا۔
- غش ہونا: کسی پر فریفتہ ہونا۔
- کا بھڑاس نکالنا: رونے یا غصہ ہونے سے دل کا اندرونی رنج دفع کرنا، غصہ نکالنا۔
- کا جھجکنا: جی کا روگ۔

- کادشمن : جان کا دشمن۔
 — کازیاں : ہلاکت کا اندیشہ۔
 — کاخار : مذکر؛ دل کا ظلم و کمورت، خاطر، جی کا کہنا، دل میں خود بہ خود کوئی بات آنا۔
 — کرنا : (۱) جرات کرنا، دلیری کرنا، ہمت کرنا (۲) کسی چیز کو بھولنا، کسی چیز کو دل چلانا۔
 — کڑا کرنا : ہمت کرنا، دل مضبوط کرنا
 — کڑھانا : (۱) دل رنجیدہ کرنا، دل میلا کرنا، رنج دینا، (۲) رنجیدہ ہونا، غم کرنا، افسوس کرنا۔
 — کڑھنا : متاسف ہونا، دل میں درد ہونا، ہم دردی کے باعث رنج ہونا۔
 — کورگ لگانا : جی کو خواہ مخواہ فکر و تردد میں ڈالنا، دل کو کسی علت میں مبتلا کرنا۔
 — کولگنا : بات کا دل پر اثر کرنا۔
 — کھپانا : دل توڑ کر کام کرنا، جاں فشانی کرنا۔
 — کھٹا ہونا : بے زار ہونا، متنفر ہونا۔
 — کھرا کھوٹا ہونا : نیت میں فرق، آنا۔
 — کھٹنا : مشرم و حجاب دور ہونا، بے دھرمک ہونا، بے پاک ہونا۔
 — کھوٹا : جان دینا۔
 — کھول کر : (۱) بے دریغ، قیامت سے، سیر چشمی سے، افراط سے (۲) خاطر خواہ، بخوبی۔
 — کی امان پانا / مانگنا : شاہی آداب کے مطابق کوئی کئی بات کہنے سے پہلے جان کی امان چاہنا۔
 — کی جی میں رہنا : دل کی خواہش دل ہی میں رہنا، دل کی آرزو نہ نکلتا۔
 — کی لگی : دُصن، حکم، عشق کی آگ۔
 — گرا جانا : دل کا بیٹھا جانا، طبیعت میں سستی ہونا۔
 — گنونا : (۱) عاشق ہونا، محبت کرنا (۲) مر جانا۔
 — گھبرانا : پریشان ہونا، دل کا بیٹھا جانا۔
 — گھسانا : دل بیٹھانا، اپنی طرف مائل کر لینا۔
- لکڑا دینا / لکڑانا : جان و دل سے دریغ نہ رکھنا، ساری توجہ مصروف کر دینا، جان کھپا دینا
 — لکڑنا : دل کا پتہ، دل پر خوف چھا جانا، رعب غالب ہوجانا۔
 — لگانا : (۱) دل کا متوجہ کرنا، توجہ سے کام کرنا (۲) عاشق ہونا، کسی کی طرف دل مائل کرنا (۳) عشق کرنا (۴) جی بھلانا۔
 — لگنا ہونا : کسی بات کی فکر ہونا۔
 — لگنا : (۱) جی بھلنا (۲) کسی کام کی طرف طبیعت کا مشغول ہونا، دل چسپی ہونا (۳) عاشق ہوجانا۔
 — لہرانا : جی لہانا۔
 — لے کر بھاگنا : جان بچا کر بھاگنا۔
 — جی مارنا : خواہش ضبط کرنا۔
 — مثلانا : (۱) قے آتی معلوم ہونا (۲) رکنا (تھا)؛ دل بے زار ہونا۔
 — مٹی ہوجانا : اُننگ نہ رہنا، حوصلہ نہ رہنا، طبیعت کا پست ہوجانا۔
 — مڑ جانا : دل کا افسردہ ہوجانا، دل کا مڑوہ ہوجانا۔
 — میں آنا : (۱) کسی بات کا خیال دل میں آنا (۲) جی چاہنا، دل چاہنا۔
 — میں بات پھرنا : بار بار کسی امر کا خیال آنا۔
 — میں بس زہننا : ہر وقت کوئی خیال جی میں رہنا۔
 — میں پھینا : دل میں اثر کرنا، دل پر نقش ہوجانا۔
 — میں پھرنا : بار بار دھیان آنا۔
 — میں پھینا : دل میں گھستا، دل میں گھبنا، دل میں اثر کرنا، دل میں چھنا۔
 — میں شاننا : دل میں پکا ارادہ کرنا کسی امر کا۔
 — میں جما ہونا : جوش جگمگ ہونا۔
 — میں جی آنا : تسلی ہونا، تسکین خاطر ہونا، تسلی ہونا۔
 — میں جی ڈالنا : کسی کے دل کو اپنا سا بنانا، یقین دلانا۔
 — میں ڈالنا : دل میں اتارنا، دل میں خیال پیدا کرنا۔

- _____ میں رکھنا: (۱) کسی بات کا خیر رکھنا (۲) بغض رکھنا، عداوت رکھنا (۳) ارادہ رکھنا، یاد رکھنا۔
- _____ میں کھپ جانا: نہایت پسند آنا، دل پر پورا اثر ہونا۔
- _____ میں گتتا: دل میں منصوبہ کرنا۔
- _____ میں گھر کرنا: دیکھو! جی میں بیٹھنا۔
- _____ میں لگتا: دل پر اثر کرنا۔
- _____ میں مزے لینا: خیال میں لطف اٹھا کر
- _____ نکلنا: (۱) نکلنا، مڑنا (۲) عاشق ہونا (۳) نہایت خوف ہونا بہت ڈر لگنا، جی ہارنا، کسی کام سے ہمت اڑنا۔
- _____ میں ہاتھ رکھنا: خوش رکھنا، دل میلانہ ہونے دینا، دل قابو میں رکھنا۔
- _____ میں ہاتھ لینا: رکھنا، تسلی دینا، خوش رکھنا، دل میلانہ ہونے دینا۔
- _____ پلٹنا: دل کا خوف یا ترس یا اثر ختم سے کا پلٹنا۔
- _____ ہوا ہونا: دم نکلنا، جان نکلنا۔
- _____ ہونٹوں پر آنا: مزاج کی حالت ہونا۔
- _____ ہی جی میں باتیں کرنا: دل ہی دل میں خیال پکاتا، آپ ہی آپ باتیں کرنا۔
- _____ جے: موٹھ؛ (۵)؛ (۱) فتح، نفرت، جیت (۲) خوشی، سلامتی (۳) ترقی (۴) شاباش (۵) زندہ باد۔
- _____ جے: صفت؛ جس قدر، جتنے۔
- _____ چیا: مذکر؛ (۵)؛ (۱) جی کی تصغیر (۲) موٹھ، دایہ، کھلائی، دودھ پلائی (۳) بڑی بہن۔
- _____ جیب: (۱) مذکر؛ (۱) گریبان (۲) موٹھ؛ کیسپاکیٹ
- _____ خاص: (۱) اضافے کے ساتھ، مذکر؛ خزانہ، صرف ذاتی خرچہ کا خزانہ۔
- _____ خرچ: مذکر؛ بلائی خرچ، وہ رقم جو روزمرہ کے خرچ کے لیے رکھی جائے۔
- _____ گترا: مذکر؛ پاکٹ، جیب کتر کر مال نکال لینے والا، ہر معاش۔
- _____ گھڑی: موٹھ؛ چوٹی گھڑی جو جیب میں رکھی جائے۔
- _____ چپسپیج: موٹھ؛ زبان۔
- _____ چلٹا: زبان چلنا، منہ چلنا، کھایا جانا۔
- _____ چپسپیج: موٹھ؛ زبان صاف کرنے کا آلہ، لگام کا ایک حصہ۔
- _____ چیت: موٹھ؛ (۱) نچ، کامیابی (۲) نفع، فائدہ، بیشی (۳) نظر فزیت، برتری۔
- _____ چیتنا: نچ کرنا، غالب آنا۔
- _____ چیتا: مذکر؛ (۱) زندہ (۲) جان دار (۳) زیادہ، بیش۔
- _____ جاگتا: مذکر؛ زندہ، سلامت، صبح، تندرست۔
- _____ جھوٹ: کھلا جھوٹ، سرتا پا جھوٹ۔
- _____ چمڑا: جیتا گوشت، جان دار گوشت۔
- _____ چوڑا: پڑانے زمانے کی سمت سزا، زندہ آدمی کو دیوار میں چڑا دینا۔
- _____ رہنا: زندہ رہنا، سلامت رہنا۔
- _____ لہو: جسم سے نکلا ہوا تازہ خون، تازہ خون۔
- _____ ناخن: رے کاٹنے کے قابل ناخن، کچا ناخن۔
- _____ چلے جی: زندگی بھر، عمر بھر
- _____ جی مرجانا: رکنا، تباہ ہونا، برباد ہو جانا، حالت زندگی میں موت کا مزہ چکھنا۔
- _____ جی کے سب ہیں: (مقولہ)؛ سب زندگی بھر ہی ساتھ دیتے ہیں۔
- _____ جیتی مکھی نہیں رنگی جاتی: (مثل)؛ دیدہ و دانستے بے ایمانی گوارا نہیں کی جاتی۔
- _____ چیلٹ: مذکر؛ (۱) حسد و نڈکا بڑا بھائی (۲) ایک ہندی پھینے کا نام (۳) روٹیوں کی تھپی (۴) اوپر تلے رکھے ہوئے برتن۔
- _____ چیلٹا: (۵) موٹھ؛ شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی۔
- _____ چچا: مذکر؛ (۵) بہن کا خاندن۔
- _____ جی جی: موٹھ؛ (۵)؛ (۱) بہن، ہمشیرہ، خواہر (۲) پستان۔
- _____ چیتہ/چیتہ: (اردو)؛ (۸)؛ (۸)؛ خوب، گھرا، نیک، عمدہ، طاقت ور، زبردست، بھاری۔
- _____ چینسا: اہم موصول، جس قسم کا۔

جیل / جیل خانہ: JAIL (انگ) مذکر؛ قیدخانہ۔

چیلر: JAILOR (انگ) مذکر؛ بجلی کا دارو۔

جیل: JELLY (انگ) مؤنث؛ رُب، پھلوں کے رُس کا ایک قسم کا مرکب۔

جین: مذکر؛ سراؤگیوں کے مذہب کا نام جو ہسار کے بیروہیں اور ویدوں کو نہیں لنتے، جین مت کا لنتے والا۔ جین: مذکر؛ سراؤگی۔

جے مالا: जे माला (ہ)؛ مذکر؛ (۱) وہ ہار جو فاتح کو پہنایا جاتا ہے (۲) وہ ہار جو سونے کے وقت لڑکی اپنے پسندیدہ شخص کے گلے میں ڈالتی ہے۔

جیومیٹری: GEOMETRY (انگ) مؤنث؛ علم ہندسہ جینا: زندہ رہنا، زندگی بسر کرنا۔

چینے سے تنگ آنا / ہونا: زندگی سے بے زار ہونا۔

کے لالے پڑنا: بیچنے کی آس نہ رہنا۔

جینتی: (ہ) مؤنث؛ کسی بزرگ کے یوم پیدائش پر منائی جانے والی خوشی، سال گرہ۔

جینس: (رجی ٹی آس) GENIUS (انگ)؛ (۱) غیر معمولی ذہن (۲) عبقری۔

چو: مذکر؛ (۱) زمین (۲) روح (۳) معشوق۔

آتما: مؤنث؛ جان، روح (ہندوں میں الیٹور کے سوا کل جان دار)۔

جیوٹیش: (ہ) مذکر؛ وہ علم جس سے سیاروں کا حال جاننا ہے۔ علم نجوم، علم ہیئت۔

جیوٹی: (ہ) مؤنث؛ اُجالا، روشنی۔

جیولشی: (ہ) مذکر؛ علم نجوم کا ماہر، نجومی، منجم، ہیئت دان۔

جیوٹی: (۱) کڑوا، سخت جان، بہادر، دلیر (۲) مؤنث؛ بہادری، شہامت۔

کرتا: ہمت کرنا۔

جیوری: JURY (انگ) مؤنث؛ وہ منج جو کسی نج کو فیصلے میں راتے دیں۔

جیورزا: مذکر؛ جی کی تصغیر (۱) جی، دل (۲) معشوق، دل بر۔

تینا: جس طرح کا جس قسم کا۔

چاہیے: (۱) جیسا چاہو (۲) قابلِ تفریف، بر خوبی، قرار واقعی۔

دیس ویسا بھیس: (مثل)؛ جہاں رہیں وہیں کی وضع اختیار کرنا چاہیے۔

راجا کوئی پڑجا: (مثل)؛ جیسا حکم دیا جوتا ہے ویسی ہی رعایا ہوتی ہے۔

سوتا ویسا دھارا: (مثل)؛ جیسی اصل ویسی فرع۔

کیا ویسا یا: افعال کا نتیجہ نکلتا۔

کرنا ویسا کرنا / جینیا کرنا ویسا پانا: کبے کا پھل پانا۔

منہ ویسا تھیرا: (مثل)؛ جو شخص جس لائق ہو اس سے دیا ہی سلوک بھی جوتا ہے، جیسا سوال ویسا جواب۔

جیسے تھے: جس طرح ممکن ہو، جس طرح ہو سکے۔

کاتینا: بعینہ، جوں کاتوں، ہؤ بہ ہؤ۔

کنٹھا گھر کھے ویسے رہے پدیس: (مثل)؛ نکلا آدمی جس کا گھر میں اور باہر رہنا برابر ہو۔

کو تینا: جو جتنا بڑا ہوتا ہے بڑا اٹھل جاتا ہے۔

جیسی روح ویسے فرشتے: (مثل)؛ ناقص کو ناقص ہی چیز ملتی ہے، اچھے کو اچھی۔

ذات ویسی بات: (مثل)؛ جس حیثیت کا آدمی ہوگا ویسی ہی روش رکھے گا۔

کئی ویسی سنی: حسبِ بات کا جواب حسبِ جواب ہی ہوگا۔

کی تینسی: بعینہ، جوں کی توں۔

جیش: مذکر؛ جمع جوش، لشکر۔

جینھ: (ترکی) مذکر؛ پگھلی پر باندھا جانے والا ایک مرتع زیور، کتنی۔

حے کار: فتح کی آواز، نعرہ۔

جیکٹ: JACKET (انگ) مؤنث؛ صدی، کتاب کی جلد پر چڑھا ہوا کاغذ، کتاب کی جلدی۔

جیوگرافی: GEOGRAPHY (انگ) مؤنث؛ جغرافیہ

— جانا، مرانا۔
 — دہل جانا، ڈر جانا۔
 جیول: JEWEL (انگ) مذکر؛ جواہرات، قیمتی پتھر، ہیرا۔
 — باکس: BOX (انگ) مذکر؛ زیورات اور جواہرات رکھنے کا کبس۔
 جیولر: JEWELLER (انگ) مذکر؛ جوہری۔
 جیولری: JEWELLERY (انگ) مذکر؛ جواہرات، زیورات۔
 جیولوجی: GEOLOGY (انگ) مؤنث؛ علم طبقات الارض۔
 جیولوجیکل: GEOLOGICAL (انگ)؛ علم طبقات الارض سے متعلق۔
 جیون: مذکر؛ زندگی، وجود۔
 جیوں: مانند۔
 جیون گان: जीवन् गान (ہ) مذکر؛ زندگی کا گیت نغمہ۔

— بسانا: جھکا، سول لینا۔
 — بوٹے: میل بوٹے۔
 — پونچھ: مؤنث؛ صفائی۔
 — پونچھ برابر کرنا: خرچ کر ڈالنا، کھاپی ڈالنا۔
 — پھونک: مؤنث؛ منتر، جاؤ دور کرنے کی دعا۔
 — جھنکار: مذکر؛ نہایت گھنٹے دار مار پوسے اور جھاڑیاں، ٹوڑا کرکٹ دینا: (۱) صاف کرنا (۲) ایک ہاتھ، مار دینا (۳) ڈانٹ دینا۔
 جھاڑے چھوٹا، پہاڑ میں اٹکا: (مشل)؛ ایک مشکل سے نکل کر اس سے زیادہ مشکل میں پھنس جانا۔
 — کا ازار بند: مذکر؛ بڑے بڑے پھندے والا ازار بند۔
 — کا کاٹنا: رکھنا؛ پھینا نہ چھڑنے والا شخص۔
 — کے پر نکالنا: کثرت سے پر نکالنا۔
 — لینا: (۱) صاف کر لینا (۲) برتن سے کسی نفلک چیز کا بغیر کچھ باقی رکھ لے لینا (۳) آسانی سے وصول کرنا۔
 — ہو کر پلٹنا: اس طرح پلٹنا کہ پھانچا پھانچا مشکل ہو۔
 جھاڑا: مذکر؛ (۱) تلاش (۲) کوڑا کرکٹ، پانخانہ۔
 — پھونکی: مؤنث؛ جھاڑ پھونک۔
 جھاڑن: مذکر؛ (۱) جھاڑنے کا پتلا (۲) جھاڑنے سے نکلی ہوئی چیز (۳) مؤنث؛ پھینتی۔
 — پونچھیں: مذکر؛ (۱) جھاڑنے پونچھنے سے نکلی ہوئی چیز (۲) آخری پتہ۔
 جھاڑنا: (۱) صاف کرنا، گردوغبار صاف کرنا، جھاڑو دینا (۲) درخت سے پتے پھول یا پھل گرانے (۳) پھٹنا (۴) مارنا (۵) تلوار کا ہاتھ، (۵) کٹھنسی کرنا (۶) پھونکتا، آسیب بیماری یا سبب بچھو کا زہر اترنے کے لیے دیا جاتا ہے (۷) آگ نکالنا، (۸) پر گرانے (۹) سرزنش کرنا، ملامت کرنا۔
 — جھٹکنا: (۱) جھاڑو پھارو دینا، گردوغبار صاف کرنا (۲) جو کچھ کسی کے پاس ہے اس سے لے لینا۔
 جھاڑو: مؤنث؛ جاروب، جھاڑے بہارنے کی چیز۔
 — پھرجانا: صفایا ہو جانا، کچھ باقی نہ رہنا، بربادی ہونا۔

جھ۔ ا، ب، پ

جھا با: مذکر؛ جھاڑ یا جھاڑا (درہر کی شکل لکڑی) سے بنی ہوئی تنگ منہ کی ٹوکری جس میں آم وغیرہ اور دیگر سامان رکھے ہیں۔ (۱۲) دیکھو جھوا۔
 جھا بَر: مؤنث؛ کدو، وہ زمین جہاں کدو ہو، نشیبی زمین جہاں پانی جمع ہو جائے۔
 جھا پٹ: (۵) مذکر؛ پتھر۔ ٹھانہ۔
 جھاڑ: مذکر؛ (۱) درخت، کانٹوں کے درخت (۲) جھری کا سوکا ہوا درخت (۳) بلور یا آگینے یا لوسے پیتل کا درخت کی شکل کا ناتوس (۴) ایک قسم کی آتش بازی (۵) بیج سٹنہ (۶) چھیکیں لانے والی تیزو (۷) مصنوعی بیل بولے جھاڑی کی شکل کے (۸) جھاڑنا درد سے یا تھی وغیرہ کا۔
 — باقی: مؤنث؛ بالکل بے باقی، بچا کچھا۔

لکڑی کا چوڑا اور باریک تختہ (۳) پر درہ، حجاب (۵) بھتی کا ٹھپ۔
جھانڈینا: ڈھانکتا، غلاف پر لٹانا، چھانانا۔
جھانجھین: مونٹ؛ پائل، ایک قسم کا پائوڈ کا زیور۔
جھانجھین: مونٹ؛ ایک قسم کا پائوڈ کا زیور۔
جھانجھ: مونٹ؛ (۱) غصہ (۲) تیزی، تندہی (۳) کسی چیز کی بے حد خواہش جیسے تمباکو کی جھانجھ (۴) بھوک سے جھنجھلانا۔
جھانٹنا: سٹکار کرنا، جھگڑنا، لڑنا۔
جھانجھ: مذکر؛ ایک قسم کا بڑا بھیرا۔
جھانٹا: مذکر؛ دھوکا، حیلہ، مینا، جُل۔
جھانٹنا/دینا: جُل دینا، بتانا دینا، دھوکا دینا۔
جھانٹیا: مذکر؛ دم باز، فہمی۔
جھانٹے میں آنا: دھوکے میں آنا، دم میں آنا۔
جھانک تاک/تاک جھانک: مونٹ، (۱) چوری چھپے بچنے (۲) خیال، غور، تدبیر۔
جھانکتنا: (۱) چھپ کر دیکھنا، کھڑکی یا دروازے سے منہ نکال کر دیکھنا
جھانکی: مونٹ، (۱) دید، نظارہ، نمائش، سوانگ، تماشا (۲) سوراخ، رخز۔
جھانکڑ: مذکر؛ (۱) خاردار دخت، جھڑی، دخت کا کئی شانوں والا خشک ٹکڑا (۲) کھنڈیا؛ ڈبلا، کمزور، لاغر۔
جھانواں: مذکر؛ پانوں یا بدن کا میل اتارنے کی کھردھی اینٹ یا پتھر کی بنی ہوئی چیز۔
جھانولی: مونٹ؛ (۱) آٹھ کا اشارہ (۲) چمکا۔
جھان: مذکر؛ نخرے باز۔
جھان: دینا؛ اٹھکی جھکی دینا، آٹھ سے اشارہ کرنا۔
جھانیں جھانیں: مونٹ؛ بھکار، جھنت۔
جھانیں مانیں: مونٹ؛ بڑوں کا ایک کھیل۔
جھانیں: مونٹ؛ (۱) مٹس، سلید، وہ مٹس جو شیشے یا کسی اور چمک والے چیز کے سورج کے مقابل کرنے سے پڑے (۲) پھرے کے سیاہ دھبے (۳) وہ نشان جو آئینے کی قلعی اتر جانے سے نمایاں ہوتے ہیں (۴) ہانڈے کے دھبے (۵) سیاہی کے دھبے۔
جھانیاں پڑھانا: دھبے پڑھانا۔

— پھینڈ دینا: (۱) صفایا کرنا، باقی نہ رکھنا (۲) اُجاڑنا، تباہ کرنا، برباد کرنا۔
تارا: مذکر؛ دُم دار ستارہ۔
وَبَا: آمدھی روکنے کا ٹوکا۔
دینا: (۱) جھاڑ سے جھاڑنا، صفائی کرنا (۲) بڑا چھلکے کسی کامال واسباب لے کر گھر صاف کر دینا (۳) سب چٹ کر جانا رکابی یا محال عالی کر دینا (۴) ٹخست سے کسی کو تباہ و برباد کر دینا۔
کی تیلی: مونٹ؛ جھاڑ کی سینک۔
ہو کر پھینٹا: پیچھے پڑ جانا، سر ہوجانا۔
جھاڑی: مونٹ؛ (۱) چوٹے درخت (۲) جھڑی کے درخت (۳) بن، جنگل، خاردار درختوں کی جگہ۔
جھاگ: مذکر؛ کف، پھین۔
لانا: کف لانا، غصے کے مارے منہ سے تنوک اڑانا۔
جھال: مونٹ؛ (۱) تیزی، جلن جیسے مرج کی جھال (۲) ٹانگا، دھات کا جوڑ (۳) بڑی ادا چوڑی لڑکری (۴) سوج، ترنگ، (۵) آگ۔
جھل: حسد، غصہ۔
جھالا: مذکر؛ (۱) برس کر جلد ختم ہوجانے والی بہت زود شور کی بارش (۲) عورتوں کے کالوں کا ایک زیور۔
جھالڑ: مونٹ؛ ماشیہ، کنارہ، پتلا (۲) چنے ہوئے پیرے کے ٹرور۔
لگانی ہونی چیز:
دار: جھال لگی ہوئی چیز۔
جھالڑا: مذکر؛ بڑی باولی۔
جھانٹنا: (۱) ٹانگا لگانا، برتن جوڑنا، زبرد کو مسالے سے جوڑ لگانا (۲) پانی یا شراب دھیسرہ کو شور سے یا برف سے شہد کرنا۔
جھام: مذکر؛ ایک قسم کا بڑا پھاوڑا۔
جھامڑ: مذکر؛ سونیاں اور کھوکے تیز کرنے کی سلی۔
جھانپ: مونٹ؛ (۱) ہانپنا بڑا خوان پوش، ہانپ کا ٹوکرا (۲) چوکھٹ کے آگے کا جوڑا سامنے ہان (۳) مونٹ، چھت پانٹے

جھانسیں جھپٹا : مذکر؛ جلدی سے جھلک دکھا کر چھپ جانا، دھوکا، دم-فرب۔

جھاؤ : مذکر؛ ایک قسم کا درخت۔

جھبٹا : مذکر؛ گچھا سیاہ ابریشم کا پھندا۔

جھبڑا / جھبرا : مذکر؛ (۱) بڑے بالوں کا کٹا (۲) بڑے بالوں والا۔

جھبٹ : جلد، فوراً۔

جھپا جھپ : جلدی جلدی۔

جھپ جھلیا : (۱) مذاق میں فربہ (۲) دغا باز۔

جھپا / جھپٹ کھانا : کنگوے کا اٹ کر گر پڑنا۔

جھپاک : جلد۔

جھپان / جھپان : مذکر؛ (۱) ایک قسم کی پالکی (۲) سستی (۳) مریض کا آنکھیں بند کیے پڑے رہنے کی کیفیت۔

جھپانا : پتنگ کا اٹ جانا، جھپ کھانا۔

جھپانا : شرمندہ کرنا۔

جھپٹ : مؤنث؛ جلدی کا حملہ، کچھ لینے کی غرض سے جلدی دوڑنا۔

جھپٹا : بہت جلد جانا، دوڑ کر جانا، تیز جانا۔

جھپٹا : لینا؛ دوڑ کر پکڑ لینا، ہاتھ سے چھین لینا، اُچک لینا۔

جھپٹا : میں آجانا؛ جھاگتے ہوئے آدمی یا جانور سے ٹکرا کر گر پڑنا۔

جھپٹا : مذکر؛ چیل یا شیر وغیرہ کا جلدی سے حملہ کر کے کسی چیز کو بچوں میں لے جانا، چھین لینا، اُچک لینا۔

جھپٹانا : جلدی سے دوڑنا، جلدی سے روانہ کرنا، آدمی کو کسی کام کے واسطے تیز چلانا۔

جھپٹنا : (۱) حملہ کرنا، کسی پر دوڑنا (۲) دوڑنا جلد جانا، لپکنا، (۳) چھیننا، زبردستی یا جلدی سے اک بار لے لینا، اُچک لینا

درمیان سے لے لینا۔

جھپٹ : مؤنث؛ (۱) شرم، حجاب (۲) آنکھ مارنا (۳) چمک (۴) پلک کا ہلنا (۵) چستی۔

آنا / جھپکی آنا : نیند کے قہے سے آنکھ بند ہونا۔

جانا : آنکھ بند ہونا (نیند سے)۔

دکھانا : ذرا دیر کے لیے صحت دکھانا۔

جھپٹکا : مذکر؛ جلدی، جھلکت۔

جھپٹکانا : (۱) کسی کو شرمندہ کرنا، عجوب کرنا (۲) آنکھ بند کرنا۔

جھپٹینا : (۱) آنکھ بند ہونا (۲) شرمندہ ہونا، چھیننا، خوف کھانا، ڈرنا۔

جھپکی : (۱) نیند، غنودگی (۲) ذرا کی ذرا صورت دکھانا، ذرا سی دیر کو آنا۔

لینا : تھوڑا سوراہنا۔

جھپٹ : مؤنث؛ (۱) دوڑنا، تاخت (۲) دھکا، صدمہ، (۳) سایہ جن و پری کا۔

کھانا : ہلکی چوٹ کھانا، دھکا لگنا۔

میں آنا : دوڑتے ہوئے ٹھوکر کھانا، دھکا لگنا، صدمہ پہنچانا

دھکے سے کرنا۔

جھپٹیا : مذکر؛ (۱) سایہ آسب، جن پری کا اثر، جادو کا اثر، (۲) جھپٹ۔

جھپٹے میں آنا : (۱) بھوت پریت کا سایہ ہو جانا (۲) کسی چیز کی ضرب لگ جانا، صدمہ پہنچ جانا۔

میں لانا : قابو میں لانا۔

جھٹ، ج، ج

جھٹ : فوراً، دفعتاً۔

پھٹ : بہت جلد۔

جھٹال دینا : تھوڑا سا کھا لینا۔

لینا : (مٹھ کے ساتھ)؛ چکھ لینا۔

جھٹالنا : جھوٹا بنانا، چکھنا، کچھ کھاکے چھوڑ دینا۔

جھٹ پٹا : مذکر؛ سرشام یا صبح ترے کے کی تاریکی۔

جھٹک : مؤنث؛ جھلکنا۔

جھٹکا : مذکر؛ (۱) دھکا، ٹکڑ (۲) معیبت، آفت، حادثہ (۳) حیوانات کو ذبح کرنا (سکھوں کے طریقے سے)۔

اُٹھانا : صدمہ اُٹھانا، خسارہ اُٹھانا۔

جھٹکا پڑنا : کسی چیز کے تکان کا کسی کو صدمہ پہنچنا۔

دینا : (۱) جھلکنا، کسی چیز کو پکڑ کر زور سے ہلاتا (۲) صدمہ

جھڑ جھڑی: مونتھ؛ بخار کے ساتھ یک بارگی پکپسی سی آ۔

لڑہ پکپسی۔
جھڑمٹ / جھڑمٹٹ: مذکر؛ (۱) بیڑا، حلقہ (۲) گروہ عورتوں کا حلقہ۔

جھڑنا: مذکر؛ (۱) آبشار، اوپر سے گرنے والی پانی کی چادر (۲) ایک قسم کی بڑی چھتی (۳) حلوئیوں کی سوراخ دار کف گیر، پانی صاف کرنے کی چھتی۔
جھڑنا: پکنا، چوننا، جاری ہونا۔

جھڑو کا: مذکر؛ کھڑکی، درجیہ، روشن دان۔
جھڑی: مونتھ؛ (۱) دوز، شگاف (۲) ادھر ادھر سے رس کر پانی جمع ہوجانے والا گڑھا۔
جھڑی: مونتھ؛ ٹسکن، بڑھاپے سے چہرے اور بدن پر پڑ جانے والی سلوٹ۔

جھڑیاں پڑنا: ٹسکن پڑنا، سلوٹ پڑنا۔

جھڑ

جھڑٹ: مونتھ؛ (۱) متواتر بارش (۲) قفل کا کھٹکا (۳) آنسوؤں کی جھڑی (۴) مسلسل باتیں، نکالیوں کا سلسلہ۔

پکنا: (۱) پک کر جھڑانا (۲) رکنیٹا، بوڑھا ہو کر نارہ ہوجانا۔

جھڑا: بالکل، تمام۔

جھڑ: مسلسل، لگاتار، بہ کثرت، کوئی کام جلدی کرنا۔

جھڑ تلوار مارنا: لگاتار تلوار مارنا۔

جھڑا روپیا بکنا: کثرت سے آمدنی ہونا، اسباب کا خوب بچنا۔

جھڑا اک / جھڑا کا: مذکر؛ کسی کام کا جلدی کرنا، جلد، فوراً۔

جھڑپ: مونتھ؛ (۱) ممنوی لڑائی، جھگڑا (۲) ایک چیز کو دوسری چیز کا مدد پہنچانا (۳) تندہی، جوش

پہنچانا (۳) حیوان کا سکون کے طریقے سے ذبح کرنا۔
کھانا: مدد، اٹھانا، مصیبت اٹھانا۔

جھٹک جانا: ڈبلا ہوجانا۔

لینا: چھین لینا۔

جھٹکنا: (۱) جھاڑنا، پکڑے وغیرہ کو زور سے جنبش دینا (۲) دھکا دینا (۳) چھیننا، ہاتھ مارنا (۴) اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے جھٹکا دے کر جدا کرنا (۵) ڈبلا ہونا۔

جھٹلانا: جھوٹا ثابت کرنا۔

جھڑو: مذکر؛ مراجمی سے ملتا جلتا مٹی کا ایک برتن۔

جھڑوی: مونتھ؛ چھوٹا جھڑو۔

جھڑک: مونتھ؛ (۱) بھڑک، خوف، شرم (۲) کسی چمک و چیز کی چمک سے آنکھوں کا بند ہوجانا۔

جھڑکنا: خوف دلانا

جھڑکنا: خوف کرنا، ڈرنا، جھڑکنا، شرم کرنا، حیران کرنا۔

جھڑکی: مونتھ؛ ڈر، خوف۔

جھڑکارنا: آکھ دکھانا، گھڑکنا۔

جھڑک: مونتھ؛ (۱) بھڑک، چمک، وحشت (۲) خوف و خطر، اندیشہ، ڈر۔

جھڑکنا: خوف کا دُور ہونا، مانوس ہونا، اُنس پکھلنا۔

جھڑکنا: (۱) چونکنا، وحشت کرنا، بھڑکنا (۲) ڈرنا، خوف کھانا۔

جھڑ

جھڑ: مونتھ؛ پکڑے یا کاغذ کے دفعتاً پھٹنے کی آواز۔

جھڑاٹا: مذکر؛ ساغدا پکڑا پھاڑنے کی آواز۔

جھڑ بیری / جھڑ بیری: مونتھ؛ جھگی بیری کا درخت۔

جھڑ بیری کا کانا: رکنیٹا، الجھنے والا آدمی، جھاڑ ہو کر پٹنے والا آدمی۔

کے کانٹے کی طرح پٹنا: پیچھے پڑ جانا۔

جھڑ جھرا: ناصطے سے تار والا بہت باریک پکڑا۔

جھڑ جھری آواز: ناماف آواز، جو برابر نہ نکلے۔

خفتہ (۴) شعلہ۔

— ہونا: (۱) باہم تکرار ہوجانا (۲) مڑھوں کا آپس میں لڑنا۔

جھڑ پانا: (۱) پرندوں کا لڑنا (۲) دو آدمیوں کا باہم لڑنا دینا۔

جھڑ پینا: (۱) پرندوں کا آپس میں لڑنا (۲) لڑنا، جھگڑنا۔
جھڑ جھڑانا: جھنجھوڑنا، ملانا، پھٹ پھٹانا (۲) دھمکانا لڑنا۔

جھڑ جھڑا ہٹ: مونت: پھٹ پھٹانا۔

جھڑک: مونت: جھڑکنا۔

جھڑکا جھڑکی: مونت: باہم ایک دوسرے کو جھڑکنا۔

جھڑکنا: گھڑکنا، ڈانٹنا۔

جھڑکی: مونت: گھڑکی، دھمکی۔

— دینا: سرزنش کرنا، گھڑکی دینا۔

جھڑکیاں پلٹنا: دھمکانا پلٹنا، لٹا ہونا۔

جھڑکنا: (۱) کسی چیز کا کسی چیز سے گزنا، چکنا (۲) کوڑا کرکٹ صاف ہونا، جھاڑو دیا جانا۔

جھڑوتا: مذکر: آخر فصل میں شاخ میں لگا ہوا پھل۔

جھڑوتے کی بٹیا: آخر فصل تک شاخ میں رہنے والا خربوزے کا پھل۔

جھڑی: مونت: (۱) بجلی اور کرکٹ کے بغیر آہستہ آہستہ متواتر مرنے والا مینہ (۲) آنسوؤں کی قطار۔

جھک

جھک: (۱) صاف، اُجلا (۲) جھک دار (۳) مونت:

بک بک، جوش، دیوانگی، جنون۔

— مارنا: بے ہودہ بننا، بے ہودگی کرنا، جھوٹ بولنا۔
باتیں مانتا۔

جھکار: بڑا جھگڑنے والا۔

جھکتی: بہت کھنے والا، ضدی، جنون۔

جھکا جھکت: چکیلا، خوب سفید۔

جھکانا: پھرانا، دکھانا۔

جھکانی: مونت: مغالطہ۔

جھکانا: حیران کرنا، ستانا، ہیرا پھیری کرنا، لڑانا۔

جھکانا: بیڑھا کرنا، سرنگوں کرنا۔

جھکاؤ: مذکر: (۱) خمیدگی، خم (۲) مڑھانا۔

جھکاوٹ: مونت: خمیدگی۔

جھکا پڑنا: کسی سمت مائل ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا۔

— کس سلام کرنا: (۱) نہایت ادب سے سلام کرنا (۲)

طنزاً؛ سحرارت میں استاد ماننا، طنز و طعنے سے سلام کرنا۔

سلام کرنا۔

جھک کر پلٹنا: عجز و انکسار سے ملنا۔

جھکت جھکت: مونت: جھگڑا، تکرار، بک بک۔

جھکڑو: مذکر: (۱) تند ہوا (۲) جھک (۳) آندھی۔

جھکننا: (۱) خمیدہ ہونا، نیچا ہونا (۲) عاجزی سے ملنا (۳)

آنکھیں بند ہوجانا (۴) مصروف ہونا، مشغول ہونا۔

(۵) مائل ہونا، کسی کام کی طرف متوجہ ہونا (۶) آگ

میں گر پڑنا (۷) وزن میں مقدار سے زائد ہونا، تول میں

پلا جھکننا۔

جھکور: مذکر: (۱) نقصان، ضرر (۲) شامت، آفت، بلا۔

(۳) ہوا کا تیز جھونکا۔

جھکوڑا: مذکر: (۱) تیز ہوا کا جھونکا (۲) کنارے کی چیزوں

کو حرکت دینے والی پانی کی لہر۔

جھکولا: مذکر: (۱) لہر، تڑنگ، موج، پانی کا زور سے آنا (۲)

غوط، ڈبکی لگانا (۳) صدمہ۔

جھکولنا: پانی کا بلانا جھلانا، غوط لگانا، ڈبکی مارنا، دھونا،

پانی ڈالنا، صاف کرنا۔

جھکولے دینا: (۱) ادھر ادھر پھرانا (۲) غوطے دینا۔

جھکولے کھانا: (۱) غوطے کھانا، پانی میں کبھی ڈوبت کبھی

اُبھرنا، ڈوبنا، اُچھلتا (۲) زمانے کا گرم دوسرا

آزمانا۔

جھکولے لینا: غوطے کھانا، ڈبکی لگانا۔

جھگ

جھلانا: (۱) جھولے میں بٹھا کر حرکت دینا، ہلاتا (۲) ٹال ٹول کرنا، کسی کام میں ڈھیل ڈالنا، کام اٹکاتے رکھنا۔
 جھل جھل: پتنگ کی دم۔
 جھل جھلا ہٹ: موتھ؛ (۱) چمک، ٹم ٹمانا (۲) نمک مرچ یا کسی چیز سے زبان میں محسوس ہونے والی سوزش۔
 جھل جھلانا: (۱) پڑھنا، سوزش کرنا، جلنا (۲) دیر تک صدمہ رہنا، (۳) چمکنا، دکھنا۔
 جھل دینا: ہوا دینا، رومال جھلانا۔
 جھلسا: مذکر؛ (۱) لٹکا، شعلہ (۲) جلا ہوا، لٹکا لگا ہوا (۳) نیگورا (۴) کسی قدر جل جانا، آگ سے جلنا جھلسا دینا۔
 لگانا: لٹکانا، جلانا، آگ دینا۔
 جھلسنا: (۱) جلنا، چمکنا، آگ لگنا (۲) جلانا، آگ لگانا، پھونکنا (کنایتاً) (۳) کھدوے کر راضی کرنا، رشوت دینا، ناراضی سے دینا، چٹانا (۴) کنایتاً بہ حالت ناراضی رخصت کرنا، بیاہنا، گھر سے نکالنا (۵) خفہ ہونا۔
 جھلک: موتھ؛ (۱) روشنی، چمک، چمک دکھ (۲) پرتو، عکس (کنایتاً) صورت (۳) پانی کا دورے سے نظر آنا (۴) اثر (۵) تھوڑی مشابہت۔
 دکھانا: لمحہ بہر کے لیے صورت دکھانا۔
 جھلکنا: (۱) پھر کچھ چمکنا، کسی چیز کے اندر سے چمک ظاہر ہونا، عکس ظاہر ہونا (۲) پانی کی چمک دور سے نظر آنا (۳) نمایاں ظاہر ہونا۔
 جھلکی: موتھ؛ جھلک۔
 دکھانا: جلوہ دکھانا، عکس دکھانا، چمک دکھانا۔
 جھلم: موتھ؛ جنگ میں منہ پڑاں لینے کی ایک زدہ کی طرح کی نقاب۔
 جھلم مل: موتھ؛ جگ مگا ہٹ، پانی پڑاں کے ٹکس پڑنے کی کیفیت، ستاروں کی کم کم چمک۔
 جھلانا: چراغ یا ستارے کا کم کم چمکنا۔

جھگڑا: مذکر؛ ڈنگا، فساد، بحث۔
 اٹھانا: جھگڑے کی ابتدا کرنا۔
 پاک ہونا / جھگڑا چکنا: (۱) جھگڑا دور ہونا (۲) (بجائز) مرانا، تعلقات دینوی سے چھوٹ جانا، کسی امر کا بیخبر و خوبی تمام ہونا۔
 پڑنا: فساد ہونا۔
 کرنا: (۱) فساد کھڑا کرنا، لڑنا (۲) مزاحمت کرنا، دعوے دار بننا، مقدمہ لڑانا۔
 کھڑا کرنا: فساد کھڑا کرنا۔
 مٹ جانا: رفع فساد ہونا، معاملے ہونا۔
 موکل لینا: جھگڑے میں پڑنا۔
 نکالنا: بنا دیکر بات پیدا کرنا، جھیلنا کرنا۔
 جھگڑے کی باتیں میں، زن، زر، زمین: (مقولہ) زن، زر، زمین کی ابتدا میں 'ز' سے یہ تینوں 'ز' فساد کی جڑ ہیں۔
 جھگڑانا: فساد کرنا، تکرار کرنا، مذکرنا، زیادہ مانگنا۔
 جھگڑے بھرا: بڑے جھگڑے کا، وہ چیز جس میں طوالت ہو۔
 جھگڑا لیا: جھگڑے والا، جیتی، فساد، شریر۔
 جھگڑا لیا: جھگڑا لیا عورت۔

جھل، م، ن

جھل: موتھ؛ (۱) خفہ، خشکی (۲) رشک، حسد، بدخواہی۔
 جھلا: مذکر؛ چہرہ چہرہ، جھٹ خفا ہو جانے والا (۲) بڑا ٹوکرا۔
 جھلے باز: چالاک، فریبی۔
 جھلا جھل: چاندی سونے کی چمک دکھ۔
 جھلانا: خفہ ہونا، جلنا، جلین ہونا، کسی بات کا دیر تک

جھٹنا : دُور دُور بُنا ہوا پکڑا۔
جھٹانا : (۱) کسی عضو کے بے حس و بے حرکت ہونے کی کیفیت پیدا ہونا (۲) رکنا (تھا) غصہ ہونا ، ناخوش ہونا۔
جھٹلانا / جھٹلانا : غصہ کرنا ، خفا ہونا ، چپڑ چپڑانا ، پیچ و تاب کھانا۔

جھٹلا ہٹ : موت ؛ غصہ۔
جھنجھوڑنا / جھنجھوڑنا : (۱) پیدا کرنا ، ہوشیار کرنا ، کسی کو جگانے کے لیے ہاتھ پاؤں پکڑنے کے خوب ہلانا (۲) نوجنا کھسونا (۳) رکنا (تھا) لعنت طامت کرنا۔

جھنجھٹ : مذکر ؛ جھگڑا ، فساد ، بھیرا۔
لانا : جھگڑا کرنا ، فساد کرنا ، تھوڑا کرنا۔
جھنجھٹیا : (۱) جھگڑا ، فساد۔

جھنجھری : موت ؛ (۱) سورخ دار تو یا آہنی جالی جو چولے میں رکھ چن چن کر گرنے کے لیے لگائے ہیں۔ (۲) جالی (۳) مسابد اور قیسروں پر اٹھائی جانے والی سورخ دار دیوار۔

وار : سورخ والا۔
جھن جھننا : مذکر ؛ بچوں کا ایک کھلونا۔
جھن جھننا : سن سنانا۔

جھن جھننا ہٹ / **جھن جھنی** : موت ؛ سن سناہٹ۔
جھنجھی : موت ؛ (۱) ٹوٹی کوڑی ، آریہ سورخ والی کوڑی (۲) جھنجھیا (۳) اوپر کا حصہ کسی ہوتی قاریازوں کی کوڑی۔

جھنجھی کوڑی : پھوٹی کوڑی۔
کوڑی نہیں ہونا : بالکل مفلس ہونا۔

جھنڈ : مذکر ؛ (۱) جانوروں یا پرندوں کا خول (۲) ایک جگہ پر قریب قریب اُگے ہوئے بہت سے درخت (۳) گھاس کا پلوسا ، پنڈل (۴) کھڑے ہوئے ٹرے سے ہلے ہال ، انسان کے سر کے اچھے ہوئے بھڑت ہال۔

جھنڈا : مذکر ؛ خول کے خول ، پتے کے پتے۔
جھنڈا : مذکر ؛ نشان ، کلمہ۔

جھل جھلی : موت ؛ (۱) چلن ، چک (۲) بیج گاڑی یا کوٹیوں کے دروازوں میں لگانے والا جھری دار کوڑیا کھڑکی (۳) کان کے ایک زیور کا نام (۴) دھمی دھمی روشنی۔

جھلنا : (۱) پنکھا ہلانا ، پنکھا کرنا (۲) ٹانگا لگانا جیسے برتن کا جھلنا زیور کا جھلنا وغیرہ (۳) برف یا شورے میں ہلایا جانا ، برف میں ٹھنڈا کرنا ، شورے میں لگانا۔

جھلنگا : مذکر ؛ (۱) ٹوٹی پھوٹی چار پائی ، ایسی جھولا چار پائی جس کے بان ٹوٹ ٹوٹ کر ٹک گئے ہوں (۲) لاغر ، دلا۔

جھل : موت ؛ (۱) پیٹ کے اندر کا باریک جڑا (۲) آنکھ کا جالا (۳) انسان اور حیوان کا باریک پوست (۴) باریک ، تپلا۔

جھلی : چھوٹی ٹوکری۔
جھلا جھم : موت ؛ (۱) زور سے مینہ برسنے کی آواز (۲) گولہ اندازی کی چمک دمک (۳) چمکنے والا لباس۔

جھلاکا : مذکر ؛ (۱) ڈھرا کا ، دھماکا (۲) مینہ کا بھاری چھینٹا ، (۳) چمک۔

جھم جھم : مذکر ؛ (۱) مینہ کے برسنے کی آواز (۲) چمکیلا۔

ہونا : بگ بگ بگ بگ ہونا ، چمکنا۔
جھمک : موت ؛ جھلک ، چمک ، رونق۔

جھمکا : معشوق کا دیدار ، آب و تاب۔
جھمکانا : چمکانا ، شان و شوکت دکھانا۔
جھمکا : مذکر ؛ (۱) چمکانا ، آسمان پر ایک ساتھ نکلنے آنے والے سات ستارے (۲) کانوں کے ایک زیور کا نام۔

جھمکڑا : مذکر ؛ (۱) کڑوا ، تھل (۲) خوب صورتی ، جلوہ۔
جھمکنا : چمکنا ، جھلکانا۔

جھمیل : موت ؛ دیر ، اچھا ، بھیرا۔
جھمیلنا : مذکر ؛ جھگڑا ، بھیرا۔

جھنق : موت ؛ تعالیٰ وغیرہ کے بچنے کی آواز ، جھنکار ، تلوار کے گرنے کی آواز۔

— **اڑانا** : جھنڈا بند کرنا۔
گازنا : کسی مقام پر اپنا عمل دخل ہونا، سفر کرنا۔

— **جھنڈے پر چڑھنا** : بدنام کرنا، شہرت دینا۔
چڑھنا : رُسوا ہونا، کسی امر کا مشہر ہونا۔
ٹٹنے کی دوستی : چند روزہ دوستی، اتفاقی دوستی، راستے کی جان پہچان۔

— **جھنڈی** : موٹھ؛ جھنڈا کی ثابت، بہت چھوٹا جھنڈا۔
جھنڈو والا : سر پر پیٹ کے بالوں والا نوزائیدہ بچہ۔
جھنڈو لیا : علاقے ہوئے بال، گونگروالے بال۔
جھنڈو لے ہال : سر کے طاقے ہوئے بکرت ہال۔

— **جھنڈی** : موٹھ؛ (۱) وہ کوئی جو پوروں کے کاٹ لینے کے بعد کھڑی رہ جاتی ہے (۲) گنے کی جڑ، مکی یا جوار وغیرہ کے درخت کی جڑ (۳) کندھے میں پڑا ہوا قلاب، چلمن اور پردہ باندھنے کا قلاب۔

— **جھنگ** : موٹھ؛ (۱) گنگر وغیرہ کی آواز، جھنگار (۲) گھوڑے کے پاؤں کا ایک مرن۔
جھنگار : موٹھ؛ نفوف چینی و شیشہ وغیرہ کے ٹٹنے کی آواز، کالنے کے برتن کی آواز، تلوار، پازیب یا چھاگل کی آواز، زنجیر وغیرہ کی آواز۔

— **جھنگار** : موٹھ؛ بچے پھینک دینے کا درخت۔
جھنگار : موٹھ؛ بچے اور کی آواز، نوبت کی آواز۔
جھنگارنا : موریا جھینگر کا بولنا۔

— **جھوٹا** : مذکر؛ بڑا ٹوکرا (جو جھاؤ کی شاخوں سے بنتے ہیں)۔
جھوٹا : مذکر؛ دیکھو جھوٹا۔
جھوٹ : مذکر؛ دلہنے کے خلاف، ددوغ، دھوکا، بہانہ، مکر فریب، کھوٹ۔

— **اڑانا** : جھوٹی بات مشہور کرنا۔
بنانا : تہمت رکھنا، تہمت لینا، خلاف بات گھڑنا۔
جھوٹ سبچ : مذکر؛ کسی قدر غلط اور کسی قدر صحیح طبعی بیان۔

— **جھوٹا** : مذکر؛ کھوٹے مسالے سے بنایا ہوا زردوزی وغیرہ کا کام۔
لیانی : (رم) مذکر؛ گیتی، لیاؤ۔
جھوٹا : مذکر؛ بچا ہوا کھانا۔

— **جھوٹوں** : بناوٹ اور سخن سازی، ظاہر داری۔
جھوٹوں بات نہ پوچھنا : دنیا سازی بھی نہ کرنا، ظاہری مدارت بھی نہ کرنا، اندری دل سے بھی متوجہ نہ ہونا۔
منہ نہ چھوٹا : نام کو نہ پوچھنا، ذرا پرسان حال نہ ہونا۔

— **جھوٹوں** : بناوٹ اور سخن سازی، ظاہر داری۔
جھوٹوں بات نہ پوچھنا : دنیا سازی بھی نہ کرنا، ظاہری مدارت بھی نہ کرنا، اندری دل سے بھی متوجہ نہ ہونا۔
منہ نہ چھوٹا : نام کو نہ پوچھنا، ذرا پرسان حال نہ ہونا۔

— **جھوٹوں** : بناوٹ اور سخن سازی، ظاہر داری۔
جھوٹوں بات نہ پوچھنا : دنیا سازی بھی نہ کرنا، ظاہری مدارت بھی نہ کرنا، اندری دل سے بھی متوجہ نہ ہونا۔
منہ نہ چھوٹا : نام کو نہ پوچھنا، ذرا پرسان حال نہ ہونا۔

— **جھوٹوں** : بناوٹ اور سخن سازی، ظاہر داری۔
جھوٹوں بات نہ پوچھنا : دنیا سازی بھی نہ کرنا، ظاہری مدارت بھی نہ کرنا، اندری دل سے بھی متوجہ نہ ہونا۔
منہ نہ چھوٹا : نام کو نہ پوچھنا، ذرا پرسان حال نہ ہونا۔

- بھی نہ پوچھنا : ظاہری مدارات بھی نہ کرنا۔
جھوٹی زبان دینا : جھوٹا وعدہ کرنا۔
- سچی اڑانا / ہانکنا : جھوٹی خیر مشہور کرنا، جھوٹی ہمتیں لگانا۔
- جھوٹے حد تک پہنچا دینا / جھوٹے کو گھر پہنچا دینا** : جھوٹے کو تامل کرنا، اس سے اس کا جھوٹ مٹالینا۔
- کے منہ میں گوی : مقولہ : سلسلہ کلام میں اپنی مسماں کے واسطے یہ بول کہتا۔
- جھوٹ کے آگے سچا رومرے** : (مقولہ) ؛ جھوٹے کے مقابلے میں سچے کی بات نہیں چلی، جھوٹا تامل نہیں ہوتا۔
- منہ : ظاہر داری سے، دکھاوے کے لیے۔
- جھوٹی منہدی** : موت؛ اتری ہوئی منہدی، استعمال کی ہوئی منہدی۔
- جھوٹے ہاتھ سے کتا نہیں مارتا** : نہایت بنیسیں اور کبوس۔
- جھوٹا** : مذکر؛ حصہ۔
- جھوٹے لنگے** : سلائی میں زیادہ جھول پڑنا۔
- جھوٹ** : موت؛ لڑائی، جھگڑا، تکرار، غصے کی باتیں۔
- جھوک** : موت؛ (۱) خمیدگی، دھکا، جھکول، ریل، لیک (۲) پینک، خلقت (۳) ہروڈی چیز کا بوجھ (۴) ترازو کے ایک پلے کا جھکا (۵) قول۔
- دینا : خرچ کر ڈالنا، لگا دینا، جھولے کا پینک دینا۔
- سنبھالنا : جھکولے کو سہارنا، کسی لمبی چڑی یا بانس کی لپک کو روکنا، نقصان برداشت کرنا۔
- مارتا، کم تولنے کے واسطے ترازو کی ڈنڈی کو انگلیوں سے جھکا دینا، ڈنڈی مارتا، کم تولنا۔
- جھوکا** : مذکر؛ (۱) ہوا کا ریل، جھوک (۲) نیند کا شدید جھونکا، نیند کے باعث سر کا جھک جھکا جانا (۳) تیز ہوا (۴) کسی شے کی جنبش (۵) جھولے کا پینک۔
- جھوکنا** : (۱) ڈالنا، پھینکنا، کوڑا کرکٹ یا بھس وغیرہ بھاڑ میں یا تنور میں ڈالنا، تنور گرم کرنا، بھاڑ گرم کرنا (۲) برباد کرنا
- اڑانا، صرف کرنا (۳) بے پروائی سے پلے باندھنا، بُری بگڑادی کر دینا (۴) طاقت میں ڈالنا، خطرے میں ڈالنا۔
- جھول** : مذکر؛ (۱) ڈھیلا پن، اتان یا حیوان کے پوست کی شکن، کپڑے کی شکن (۲) جھٹکا ہاتھ کی رفتار کا (۳) مائع، گھٹ (۴) جانوروں کا ایک دفعہ کئی نچے یا ایک بچہ جنمنا (۵) پتنگ کی ڈور کا پورا تانا ہونا نہ ہونا، کسی چیز کا پورا تانا ہوا ہوا (۶) بے ہوشی کپڑے کی شکن جو جسم پر مطابق نہ ہونے کے باعث پڑ جاتی ہے۔
- **جھال** : مذکر؛ جھگڑا، ڈھیل ڈھال، دیر وقفہ۔
- **دار باتیں** : چالاک، فریبی، گول باتیں۔
- **ڈالنا** : (۱) شکن ڈالنا (۲) بچہ جنمنا۔
- جھول** : موت؛ (۱) ہاتھ کے اوپر ڈالنے کا کپڑا (۲) بیلوں یا کتوں کے اوپر ڈالنے کا کپڑا (۳) بدنما ڈھیلا ڈھالی پوشاک۔
- جھولا** : مذکر؛ (۱) ایک قسم کا ڈھیلا تھیلا (۲) رعشہ، فالج (۳) ہاتھ کا اشارہ (۴) گہوں کو نقصان پہنچانے والی سرد ہوا (۵) کسی چیز کی ناہمواری (۶) بہت ڈھیلا۔
- **مارا جانا** : (۱) فالج ہو جانا، جسم کا ڈھیلا پڑ جانا (۲) سُست ہو جانا، بے کار ہو جانا۔
- جھولا** : مذکر؛ درخت وغیرہ میں رستی باندھ کر جھولنے کے قابل پانا۔
- **جھولنا** : جھولے پر بیٹھ کر جنبش کرنا۔
- **ڈالنا** : جھولنے کے واسطے درخت وغیرہ میں رستی باندھنا۔
- جھولنا** : مذکر؛ (۱) فقیروں کی مانگی ہوئی روٹی اور آٹا کھنے کی تھیلی (۲) کوکھ کا گوشت۔
- جھولنا** : (۱) جھولے پر بیٹھ کر پینک لینا (۲) لٹکانا، آور رہنا ہونا (۳) کسی جھولے وعدوں پر مدت تک کسی چیز کا امیدوار رہنا (۴) ایک ہی کام میں اٹکار جانا۔
- جھولی** : موت؛ (۱) چاروں کونے باندھ کر گدا گروں کا گلے میں لٹکانے کا کپڑا (۲) خوردگی، چھوٹی تھیلی (۳) کسی چیز کے

بار بار ڈالنا (۱۲) دکھائیا، روہیا اڑانا، بہت مسترح
 کرنا۔
 جھونکے آنا: (۱) غلبہ نیند کے باعث سر کا بار بار جھکانا
 (۲) ہوا کے تھپڑے لگنا۔
 جھونکے چلنا: تیز ہوا کا چلنا۔
 — کھانا: لڑکش کرنا۔
 — لینا: جھونک لینا۔
 جھونکنگنا: (۱) بیل کا سینگ مارنا (۲) رکھنا، دھکی دینا
 جھونکنگنا: دیکھو جھونکا۔

جھمی

جھیب / جھینپ: (۵) موٹف، خفت، شرمندگی
 خیالت۔

— مٹانا: خفت مٹانا، شرمندگی دور کرنا

جھینپنا: شرمنا، آنکھیں چراتا، جل ہونا۔

جھینپو: شرمانے والا، کم زور ارادے والا۔

جھیل: موٹف، پانی کا وہ قطعہ جو چاروں طرف خشکی سے
 محیط ہو۔

جھیلنا: برداشت کرنا، سہنا، سنبھالنا۔

جھیلنی: موٹف، ایک قسم کا لڑی دار زلیو، کالوں یا ناک
 کے زلیو کے بوجھ کو سہارا دینے والا۔

— دینا: بچہ پیدا ہونے وقت ایک خاص ترکیب سے
 جیش دینا۔

جھینکنگنا: (۱) روتا، گریہ دزاری کرنا (۲) دکھایا کرنا، مصیبت
 ڈھرائنا، شاک ہونا (۳) السوس کرنا، پھٹنا، اہم کرنا، رکھ کرنا (۴)

اہم کرنا، پیٹنا (۵) ڈکڑ، گھر، شکوہ، گریہ۔

جھیننگا: موٹف، ایک قسم کی چھوٹی پھلی۔

جھینگر: ڈکڑ، ایک قسم کا بڑی بڑی موٹھوں والا کیرا جو دیواروں
 پر رہتا ہے اور کڑے کو چاٹ جاتا ہے۔

— کھاٹ جانا: جھینگر کا کوئی چیز کھاٹنا۔

— لگنا: جھینگر کا کیر یا کتا بوں کو چاٹ جانا۔

لینے کے لیے پھیلائی ہوئی دامن کی گودی (۳) عزم میں
 پھوس کے گلے میں ڈالنے کی سبز رنگ کی تھیلی۔
 جھوم جھوم کر: لہرا لہرا کر، ہل ہل کر، بچکولے لے کر، خوب
 زور سے، گھر گھر کر۔

جھومر: ڈکڑ، (۱) ماتھے کے ایک زلیو کا نام (۲) عورتوں کا ایک
 قسم کا ناچ جس میں عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا کر
 اور حلقہ بنا کر ناچتی ہیں (۳) ایک قسم کا گیت (۴) چند
 آدمیوں یا چند چیزوں کا مجمع۔

— کاجاند: جھومر (زلیو) میں لگا ہوا چاند۔

جھومڑا: (۱) ہٹنا (۲) پیچھے اوپر سر ملانا، سر ادا تمام بدن کو جنبش دینا۔
 (۳) لٹکانا، آدیراں ہونا (۴) اڈھکننا (۵) رکھنا، اڑنا (۶) جمع ہونا

بادلوں کا (۷) لڑکھانا، ڈکھانا (۸) ہاتھی کی حیاں
 چلنا۔ مستانہ چال چلنا۔

جھومڑا: ڈکڑ، چھپر کا گھر، بھوس کا گھر۔

— ڈالنا: چھپر کا مکان بنانا، چھپر ڈال کر رہنا۔

جھومڑی: موٹف، جھومڑا جھومڑا۔

جھومڑی پیٹی: (۵) موٹف، جھومڑیوں پر ششل بستی۔

جھومڑے: ڈکڑ، ریشے، پھوسٹے۔

جھومڑا / جھومڑا: ڈکڑ، (۱) پینگ، جھولنے کی جنبش
 (۲) عورت کے سر کے بال۔

جھومڑا جھانٹا: لڑائی میں ایک کا دوسرے کے سر کے بال
 پکڑ کر کھینچنا اور مارنا۔

جھونٹے: ڈکڑ، عورتوں کے سر کے بال۔

جھونٹے پکڑنا: حقارت سے سر کے بال پکڑنا، بال
 لڑنا۔

— کھسوٹنا: سر کے بال لڑنا۔

جھونج: ڈکڑ، پیرندہ کا گھونٹلا (۲) بے کا گھونٹلا

جھوننگ: دیکھو جھوک

جھوننگا: ڈکڑ، جھوکا۔

جھونم / جھوننگ: (۱) کسی چیز کا کسی چیز میں کثرت سے

ج

ج-۱

ج : اردو حروف تہجی کا ایک حرف، حساب جمل (ابجد) میں اس کے عدد بھی جیم کی طرح تین ہیں۔

چاب : موٹھ؛ کسی عزیز کی سفر سے واپسی پر تیز، چاول، شکر کا تحفہ بھیجنے کی رسم۔

چابنا : چبانا۔

چاگ : دھڑکھڑا، تازیانہ، درد، حسرت، چالاک، تیز، پھرتیلا۔
دست : دھڑکھڑا، ہاتھ کے کام میں تیز اور چالاک شخص، مشتاق۔

دستی : چالاک، ہوشیاری۔

سوار : (د) مذکر، (۱) گھوڑا پھرنے والا، گھوڑے کی تربیت کرنے والا، (۲) گھوڑے کا اچھا سوار۔

سواری : دھڑکھڑا، موٹھ؛ گھوڑے پھرنے کا ہنر یا پیشہ۔

چاگی : دھڑکھڑا، جلدی، چالاک۔

چابی : موٹھ؛ کجی۔

چاپ : موٹھ؛ اپنا نوکی آہٹ، (۲) کمان۔

چاپلوس : بخوشامدی۔

چاپلوسی : دھڑکھڑا، خوشامد، بے جا تعریف۔

چاٹ : موٹھ؛ (۱) کسی چٹھی اور مزیدار چیز کے چٹنے کا مزہ، ذائقہ، کوئی مزے کی چیز اور کسی چیز کا مزہ، (۲) مادہ، لپکا۔

چاٹگانا : کسی کو کسی نرمی لت پر لگانا۔

چانا : زبان سے سب چاٹ چاٹ کے کہا جانا، صاف کر دینا۔

دینا : لالچ دینا۔

لگنا : مزہ پڑنا، چسکا پڑنا۔

چاشا : زبان سے پوچھنا۔

چاچا : (۱) مذکر، چچا، باپ کا بھائی۔

چاہد : دھڑکھڑا، بڑا اور چڑھا کپڑا، (۲) پتھروں کی چادر، (۳) پانی کی پھڑکی دھابہ، (۴) کسی دھات کے چڑے چڑے پتھر سے پتھر (۵) شالی چادر۔

آچارنا : عورت کو بے پردہ کرنا، عورت آتارنا۔

تہان کر سونا : دکنایتا، بے کھٹکے رہنا، اطمینان سے زندگی بسر کرنا۔

تھوڑی پانچو پھیلائے بہت : دھڑکھڑا، آمدنی کم خرچ زیادہ۔

چادر

چڑھانا : کپڑے یا پتھروں کی چادر کسی بزرگ کے مزار پر ڈالنا۔

دیکھ کر پانچو پھیلانا : بساط کے موافق گزار اوقات کرنا۔

ڈالنا / چادر آڑھانا : (۱) کنایتا، بیوہ کے ساتھ شادی کرنا۔ (۲) بستکوں میں ایک قسم کا بیاہ۔

سے باہر پانچو پھیلانا : اپنی حد یا بساط سے باہر قدم رکھنا۔

ہلانا : (۱) لڑائی کی حالت میں مغلوب سپاہ کے پناہ چاہنے کی علامت، لوگوں کو کسی مطلب کے لیے جمع کرنے کا طریقہ۔

چادر، مذکر۔ بڑا اور چڑھا دوپٹا کا کپڑا، بڑی چادر۔

چار : (د)؛ عدد ۴، کنایتا، چند۔

آدھی : مذکر۔ دو چار بچے مانس۔

آئینہ : دھڑکھڑا، مذکر، سینے اور پشت کے گرد لگانے والی ایک قسم کی زبرد۔

آبرو کا صفایا : بخوس، موٹھیں، سر اور دماغی کے بال منڈوانا۔

آٹھل کا پرچہ / چار آٹھل کا پتھرہ : چھوٹا سا پرچہ، رتھ، خط۔

آنکلیاں اٹھانا : سلام کا اشارہ کرنا۔

آنکلیاں ستر پر نہ رکھنا : سلام تک نہ کرنا، سلام کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھانا۔

بارخ : مذکر، چاروں گوشوں پر گل بوٹے بنے ہوئے شالی رو بال۔

باش / چار باشت : (د) مذکر، (۱) ہنر مند، بادشاہت کا تخت، (۲) (عجازاً) عناصر رابعہ اور دنیا۔

برساتیں زیادہ دیکھی ہیں : زیادہ تجربہ کار ہونا۔

بند : مذکر، (۱) پشت کی چاروں طرفیں یعنی اوپر نیچے،

دائیں بائیں، (۲) ہر ایک ٹھوڑا، ہر ایک عضو۔

بسی : اسی۔

پانچ لانا / چار پانچ کرنا : جیل، محنت کرنا، قیل لانا۔ بدذاتی کرنا، شرارت کرنا۔

پایہ : دھڑکھڑا، چو پایہ۔

پانی : موٹھ؛ (۱) چھوٹا پلنگ، (۲) پلنگڑی۔

پانی پر پڑنا : بیمار ہونا، صاحب فراس ہونا۔

پانی سے پیٹھ لگ جانا : بیمار ہو کر اٹھنے کے قابل نہ رہنا۔

چار

- زانو بیٹھنا: آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔
- پانی والا: مذکر؛ رکنا یا کھٹل۔
- سنبھلنا: فریبی، دھوکا دینے والا، نمبری بد معاش۔
- پیسے پاس ہونا: صاحبِ دولت ہونا، آسودہ مال ہونا۔
- شنبہ: (دفع) مذکر؛ بدھ۔
- پیسے کے لیے: تھوڑی مقدار کے واسطے۔
- طرف: ہر جانب، چاروں طرف۔
- تار: مذکر؛ چار جڑے، چار کپڑے، چار گہنے، چار زریور۔
- غصہ: (دفع) مذکر؛ (قدیم نظریے کے مطابق) وہ چاروں اصلی جڑ جن سے موجودات کی ظاہری صورت نیاں ہوتی۔ یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا۔
- تال: مذکر؛ چوٹال، طبلہ جگانے میں ایک تال کا نام۔
- ہونی: (دفع) مذکر؛ تخمِ ریمان، اسبغول، بالنگو اور خرفند سے مراد۔
- قدم: بہت نزدیک، تھوڑے فاصلے پر۔
- ٹنگ: (دفع) چار قدم۔
- قدم آگے چلنا: پیچھے نہ رہنا، غالب رہنا۔
- ٹوک: مذکر؛ چار کپڑے والا، چار پھانک۔
- قل: قرآن شریف کے اخیر سہارے کی چار سورتیں۔
- جانے آنا / چار کانے پڑنا: (اصطلاح چوسر، ڈولوں کا حسبِ مردانہ پڑنا۔
- کھوٹ میں: چار طرف تمام دنیا میں۔
- باندھے ہوئے ہوا درکل بدن برہنہ ہو۔
- کے کامدھے: بد مزگ جنازے میں جانے کا کنا یا مذاق چاند لگانا؛ مرتبہ اور عزت، بڑھانا، آنکھوں پر پٹھانا، کسی چیز میں بہت خوبی پیدا کر دینا۔
- کانے آواز پڑنا: کسی کی بات کی خبر لوگوں کو ہونا۔
- چٹم، (دفع) منتظر، بے مروت، بے وفا۔
- مغز: (دفع) مذکر؛ آخروٹ، (رأطبا کی اصطلاح)؛ مغز خربزہ، مغز تر بوڑ، مغز نیارین، مغز کدو۔
- چوٹ کی مار: (۱) ہاتھ پانچو، لکڑی اور کوڑے کی مار (کنا یا تال)؛ ضربِ شدید، خوب مارنا۔
- حروفِ بیچنا: لعنت کرنا۔
- کے کان آواز پڑنا: کسی کی بات کی خبر لوگوں کو ہونا۔
- مغز: (دفع) مذکر؛ آخروٹ، (رأطبا کی اصطلاح)؛ مغز خربزہ، مغز تر بوڑ، مغز نیارین، مغز کدو۔
- میں ہانڈی پک جانا: بات کا مشہور ہو جانا، راز کا افشا ہو جانا۔
- ہاتھ: (دفع) مذکر؛ (۱) اونچا ہونا، بلند مرتبہ ہونا، مرتبے میں زیادہ بڑھا ہوا ہونا۔
- حروفِ بیچنا: لعنت کرنا۔
- ہاتھ چار چار ہاتھ اچھلنا: نہایت مضطرب ہونا، بہت دھڑکن ہونا۔
- ہاتھ پانچو ہونا: تند دست و توانا ہونا۔
- ہاتھ کی زبان ہونا: بہت زبان دراز ہونا۔
- دانت: مذکر؛ جوان گھوڑے، کبڑے وغیرہ چوپائے۔
- دانگ: مذکر؛ شکل، تمام۔
- دن: چند روز، تھوڑے دن۔
- دن چاندنی، چار دن اندھیاری: پیش، عروج و زوال، سعادت و نحوست ساتھ ساتھ ہیں۔
- دن کی چاندنی: عیش چند روزہ، چند دن کی دوستی، ثروت و حسنِ ناپائے دار، چند دن کی سرفانی چیز۔
- دن کی چاندنی پھر اندھیرا پاکھ بدیش: تھوڑے دن قدر رہتی ہے چند روز عیش ہے پھر وہی تکلیف۔
- دیواری: موت؛ فیصل، احاطہ، مکان کے چاروں طرف کھینچی ہوئی دیوار۔
- دیوار چول برابر ہے: (۱) بالکل مربع ہے چوکور ہے، ہر طرف

تازہ ہے۔

چاروں چٹوں سے ٹھیک کر لینا، معائنہ کو پوری طرح درست کر لینا۔
چاروں خانے/شالے چیت؛ اچھی طرح پچھڑ جانا، کشتی میں
حریت کا پشت کے بل گزنا۔

چاروں منت؛ علم موسیقی کے چار بڑے ارکان۔

چاراب؛ مذکورہ بالا کی فدا، گھاس، جبری وغیرہ، (۲) مچھلی کپڑے کے
لیے کانٹے میں لگانے والی چیز۔

چاروناچار؛ (د) مجبوری سے۔

چارہ؛ (د) مذکر؛ (۱) علاج، تدبیر، (۲) مدد، دستی، سرانجام۔

— جوئی؛ (د) موتھ؛ فریاد، ناش، استغاثہ۔

— ساز؛ (د) کام بنانے والا، کام درست کرنے والا، خدا
تعالیٰ، معالج۔

— سازی/چارہ گری؛ (د) موتھ؛ علاج معالجہ، یاری،
مدد، معاونت۔

— گر؛ (د) مذکر، طبیب، معالج، اصحاب تدبیر۔

چارٹ؛ CHART؛ (انگ)؛ مذکر، نقشہ، جدول۔

چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ؛ CHARTERED ACCOUNTANT؛
(انگ)؛ سند یافتہ، محاسب۔

چارچ؛ CHARGE؛ (انگ)؛ مذکر، تحویل، حوالگی،
زخمہ داری، الزام، قیمت، لاگت، تفویض۔

— شیٹ؛ SHEET؛ (انگ)؛ موتھ؛ الزامات کی
فہرست، فرد جرم۔

چارچ کرنا؛ (۱) بیٹری کو دوبارہ قابل استعمال بنانا، (۲)
جرمانہ لگانا، قیمت لگانا۔

چارکول؛ CHAR COAL؛ (انگ)؛ مذکر، لکڑی کا ٹلا۔
چاشت؛ (د) مذکر، موتھ؛ (۱) بہرین چڑھے، چوتھائی دن
گزرنے کا وقت، سوچ، نکلنے اور دوپہر کے درمیان کا وقت (۲) صبح کا کھانا۔

چاشنی؛ (د) چکنے کے لائق کوئی چیز، مزہ، کسی قدر شیریں و ترش،
موتھ، نمونہ۔ (۲) مزہ، نفاقتہ۔ (۳) شیرہ، توام۔ (۴) سموزی سی

آمیزش، (۵) چکنے کے قابل چیز، بہ قدر ذائقہ کوئی چیز، (۶) سونے
یا چاندی کا کس، کسوٹی پر سونے کی اصلیت کا امتحان،

زہ، فزاسکی شیرینی، قدر سے خللاوت۔

چاشنی چکینا؛ مزا چکینا، لذت دیکینا۔

— وار؛ کھٹ، مٹھا۔

— گیر؛ (د) مذکر، بجاول، باورچی۔

چاق؛ (د) ترو تازہ، صبح و سندرست، چالاک۔

— وچو بند؛ (۱) توانا، زور آور، موٹا تازہ، (۲) سندرست

بھلا چنگا، (۳) چست، پھرتیلا۔

چاقو/چاکو؛ (د) ترو؛ پھری، قلم تراش۔

چاک؛ (۱) پشٹا ہوا، چہرا ہوا، (۲) مذکر؛ آستین یا دان

وغیرہ کا گھلا ہوا حصہ، آستین کی دزر کلائی کی طرف۔

چاک کا ہنسا؛ شگاف کا گھلنا۔

چاک؛ (د)؛ مذکر؛ (۱) کھار کا پھٹا (۲) کنویں کی چربی (۳) پھٹا

چاک کی طرح پھرنا؛ چرخ کی طرح گردش کرنا، گھومنا، چکر کھانا۔

چاک؛ CHALK؛ (انگ)؛ موتھ؛ کھریا۔

چاکر؛ (د)؛ مذکر؛ (د) ملازم، خادم، خدمت گار۔

چاکری؛ (د) موتھ؛ ملازمت، نوکری، خدمت گاری۔

— میں آکری رستی؛ کیا، (مقولہ)؛ نوکری میں سستی نہیں چاہیے

چاکسوز؛ (د)؛ مذکر، ایک قسم کے کالے بیج جن سے آشوبہ شیم کا علاج کیا جاتا،

چاکلیٹ؛ CHOCOLATE؛ (انگ)؛ مذکر، ایک قسم کی مٹھائی۔

چاکی؛ موتھ؛ لکڑی پھینکنے والوں کی اصطلاح، چکی۔

چال؛ (د)؛ چھوٹے چھوٹے رہائشی گروں کا سلسلہ جن میں

مختلف کرایہ دار مشترک مل اور پافانہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔

چال؛ موتھ؛ (۱) رقتار، حرکت، طرز، (۲) روش، طور، طریق،

(۳) عادت، (۴) تمہروں کے چلنے کا منصوبہ، (۵) دم

فریب، (۶) گھات، (۷) ایک قسم کی پھلی، (۸) گھڑی کی رقتار۔

— اڑانا؛ انداز کی نقل کرنا، تقلید کرنا۔

— باز؛ چالیا، چالاک، فریبی۔

— چلن؛ مذکر، طور طریقہ، رنگ و صنگ، طریق معاشرت۔

— چلنا؛ (۱) دم دینا، (۲) پورسرا بشرط میں تمہروں اور نروں

کا گھریا، آستانہ، چالاک کرنا۔

— چوکننا؛ تدبیر غلط ہو جانا، تدبیر میں سہو کرنا۔

چال دکھانا: گھوڑے کا قدم دکھانا، رفتار دکھانا۔

— ڈھال: موتھ؛ طرز، روش، انداز۔

— سوجھنا: تدبیر خیال میں آنا۔

— سیکھنا: کسی کی وضع اختیار کرنا، چال کرنا، فریب کرنا،

شرارت کرنا، چالاکی کرنا، داؤں کرنا۔

— سے نہ چوگانا: دھوکا دینے سے باز نہ آنا۔

— میں آنا: دھوکے میں آنا۔

چالیں چلنا: بھل دینا، فریب دینا۔

چالیا: (۱) چال باز، فریبی، (۲) شرارت کرنے والا بچہ۔

چالا: مذکر، (۱) روانگی، خستی، کوچ، (۲) نئی ڈہن کا سسرال

سے شادی کے بعد اول چار مرتبہ میکے مانا، شادی کے بعد چار چالے

ہوتے ہیں، (۳) روانگی کی صورت، سفر کرنے کی اچھی ساعت۔

چالاک: (رف) (۱) کام کرنے میں چست، تیز، (۲) تیز رفتار

زور دہ، (۳) مکار۔

چالان: مذکر، (۱) بھگ، بھیجی ہوئی چیزوں کی فہرست، (۲) رسید

(۳) ملزم کو سرکاری ملازموں کے ساتھ مجسٹریٹ کے وہاں بیٹھ

(۴) راہ داری کا پروانہ، (۵) ایک محکمہ سے دوسرے محکمے کو روانگی

چالی موتھ، (۱) باس کی تیلیوں کا ٹھاٹھ، (۲) زین، (۳) شریہ

چالیا، (۴) (دیکھو چال)

چالیں: عدد ۳۰۔

— سیر: مذکر، (قدیم وزن) ایک من

— سیراؤت: صفت؛ پورا اتق، نہایت بے وقوف۔

چالیا: مذکر، (۱) چالیں برس کی عمر کا آدمی، (۲) وہ پہلوان جس

نے چالیں آدمیوں کو پچھاڑا ہو، چالیں آدمیوں سے مقابلہ کرنے

یا چالیں آدمیوں کو مار ڈالنے والا آدمی، (۳) مشاعرہ کا

مشہور نقطہ، (۴) چلم کا فاقہ۔

چالیسواں: مذکر، دیکھو چلم۔

چام: مذکر، چڑا، کھال۔

— پیارا نہیں کام پیارا ہے: (رشل)؛ صورت عزیز نہیں

ہوتی، خدمت سے وقعت اور محبت ہوتی ہے۔

— کے دام چلانا: نہایت رعب رعب داب اور حکومت سے کام لینا

جوتے کے زور سے کام لینا، جبراً کام لینا۔

چانپ: موتھ؛ (۱) بندوق کے گندے کونال سے جڑا رکھنے والا

پرزہ، (۲) مصنوعی دانوں کی کمانی۔

چانٹا: شخبیل، دھول۔

— رسید کرنا: شخبیل مارنا۔

چاند: مذکر؛ (۱) ماہتاب، (۲) ڈھال کا آہنی یا برنجی پھول،

ڈھال کی پھلی، (۳) جانوروں کی پیشانی کا سفید ٹیکہ، (۴) ایک

بلال نما زبور کا نام، (۵) چاند ماری کے واسطے لگایا جانے والا

گول نشان، (۶) چاند، (۷) شالی رومال پر بنی ہوئی چاند

کی شکل، (۸) موتھ؛، کھوپڑی، چندیا۔

— بھر: پورا مہینہ

— بھر جانا: مہینہ ختم ہو جانا۔

— پر خاک نہیں پڑتی: (رشل) کسی بے عیب کو عیب لگانے

سے عیب نہیں لگتا، جھلے برے نہیں ہو سکتے، اچھوں کو

عیب نہیں لگ سکتا۔

— پر خاک ڈالو تو اپنے منہ پر پڑے: (رشل)؛ آسمان

پر تھوکا پٹنے ہی منہ پر آتا ہے، کسی بلند مرتبہ کی توہین سے

اپنی ہی عزت جاتی ہے۔

— ٹیکا: مذکر، پیشانی کا ایک زریور۔

— چڑھنا: (۱) چاند کا اونچا ہونا، (۲) مہینہ پورا ہونا،

(۳) اول روز کا چاند دکھائی دینا، (۴) مہینے کی تنخواہ

چڑھنا۔ مہینہ چڑھنا، (۵) آیام حیض کا ٹل جانا یا عمل ٹھہرنے

کی علامت ظاہر ہونا۔

— چڑھے گل عالم دیکھے: (رشل) ظاہرات کسی سے مخفی

نہیں رہتی۔

— ڈوبنا: چاند کا غروب ہونا۔

— رات: موتھ؛ جس رات کو ہلا خودار ہو۔

— سامکھرا/چاند سی صورت/چاند سمنہ: نہایت خوبصورت

— سورج: (۱) عورتوں کی چوٹیوں کا ایک زریور، (۲) ٹوپی

میں لگنے والے کے چاند سورج۔

— کاٹھرا: (مجازاً)، (۱) ماں کا چھوٹا بچہ، (۲) کنایتاً،

- خوبصورت اور حسین آدمی۔
- چاند کا کنڈل بیٹھنا: ماہ کا ہارنشین ہونا، چاند کا اپنے گرد ہار بنانا۔
- چاند ۵: مذکر، زاویے، ناپنے والا پیمانہ۔
- چاند کا کھیت کرنا: چاند کا افق سے نکلنا۔
- چاندی: موتھ؛ (۱) مشہور و سفید دھات، (۲) (کنڈا،) مال و دولت۔ (۳) (کنڈا،) کامیابی، ناکامی کا درست ہونا۔
- چاندی کو گہن لگنا/چاند گہن میں آنا: (کنڈا،) (۱) حسن کو عیب لگنا، (۲) خوبصورتی کا بدصورتی سے پلا پڑنا (۳) بہت سی خوبیوں کے ہوتے ایک آدمی کو عیب بھی ہونا۔
- چاندی کا پیر: مبارک قدم، جس کا آنا مبارک ہو۔
- چاندی کا تار: مذکر، دستخیز (سے) چاندی کا زیور۔
- چاندی کا پورق: چاندی کا بہت باریک پتھر۔
- چاندی کی جوتی: (کنڈا،) رشوت۔
- چاندی ہونا: (۱) میل کر رکھنا، (۲) کامیابی ہونا، (۳) ناکامی ہونا۔
- چاندی کا پھرو: مذکر، چھندو۔
- چاندی چانس: CHANCE؛ (انگ) مذکر، موقع، اتفاق، قسمت، بدقت۔
- چاندی کا پانس: یونیورسٹی کا افسر، اعلا، امیر، جامعہ (۵) کل بیتی۔
- چاندی کا ٹک: مذکر، (۱) وہ کٹھن کی تھاپی جس پر حروف کھدے ہوتے ہیں اور اسی سے کلیان پر ٹھکانا لگاتے ہیں، (۲) ٹھکانا، مہر۔
- چاندی کا جاو: مذکر، ارمان، شوق، آرزو، ناز، نخر، لاڈ۔
- چاندی کا چوچلا: مذکر، ناز، نخر، لاڈ پیار۔
- چاندی کا نکالنا: ارمان، نکالنا، منگ پوری کرنا۔
- چاندی میں آنا: مزے میں آنا، بہت خوش ہونا۔
- چاندی کا چاول: مذکر، (۱) ایک قسم کا غلہ، (۲) وہ دانے یا گری جو کسی نباتات یا غلے سے نکالاجائے، (۳) ہرتی کا آٹھواں حصہ۔
- چاندی کا چھوٹا: جس شخص پر چوری کا شبہ ہو، کتے چاولوں پر کچھ ٹپھ کر چھوٹا۔ یہ مشہور ہے کہ ایسے چاول جیلنے سے چورخون تھوکتا ہے۔
- چاندی کا چاہ: (ف) مذکر، کنواں۔
- چاندی کا بال: (اصناف کے ساتھ) (ف) مذکر، وہ کنواں جس میں ہاڑت و اُروت (فرشتے) بند ہیں۔
- چاندی کا ذوق: (اصناف کے ساتھ) (ف) مذکر،
- خوبصورت اور حسین آدمی۔
- چاند کا کنڈل بیٹھنا: ماہ کا ہارنشین ہونا، چاند کا اپنے گرد ہار بنانا۔
- چاندی: موتھ؛ (۱) مشہور و سفید دھات، (۲) (کنڈا،) مال و دولت۔ (۳) (کنڈا،) کامیابی، ناکامی کا درست ہونا۔
- چاندی کو گہن لگنا/چاند گہن میں آنا: (کنڈا،) (۱) حسن کو عیب لگنا، (۲) خوبصورتی کا بدصورتی سے پلا پڑنا (۳) بہت سی خوبیوں کے ہوتے ایک آدمی کو عیب بھی ہونا۔
- چاندی کا پیر: مبارک قدم، جس کا آنا مبارک ہو۔
- چاندی کا تار: مذکر، دستخیز (سے) چاندی کا زیور۔
- چاندی کا پورق: چاندی کا بہت باریک پتھر۔
- چاندی کی جوتی: (کنڈا،) رشوت۔
- چاندی ہونا: (۱) میل کر رکھنا، (۲) کامیابی ہونا، (۳) ناکامی ہونا۔
- چاندی کا پھرو: مذکر، چھندو۔
- چاندی چانس: CHANCE؛ (انگ) مذکر، موقع، اتفاق، قسمت، بدقت۔
- چاندی کا پانس: یونیورسٹی کا افسر، اعلا، امیر، جامعہ (۵) کل بیتی۔
- چاندی کا ٹک: مذکر، (۱) وہ کٹھن کی تھاپی جس پر حروف کھدے ہوتے ہیں اور اسی سے کلیان پر ٹھکانا لگاتے ہیں، (۲) ٹھکانا، مہر۔
- چاندی کا جاو: مذکر، ارمان، شوق، آرزو، ناز، نخر، لاڈ۔
- چاندی کا چوچلا: مذکر، ناز، نخر، لاڈ پیار۔
- چاندی کا نکالنا: ارمان، نکالنا، منگ پوری کرنا۔
- چاندی میں آنا: مزے میں آنا، بہت خوش ہونا۔
- چاندی کا چاول: مذکر، (۱) ایک قسم کا غلہ، (۲) وہ دانے یا گری جو کسی نباتات یا غلے سے نکالاجائے، (۳) ہرتی کا آٹھواں حصہ۔
- چاندی کا چھوٹا: جس شخص پر چوری کا شبہ ہو، کتے چاولوں پر کچھ ٹپھ کر چھوٹا۔ یہ مشہور ہے کہ ایسے چاول جیلنے سے چورخون تھوکتا ہے۔
- چاندی کا چاہ: (ف) مذکر، کنواں۔
- چاندی کا بال: (اصناف کے ساتھ) (ف) مذکر، وہ کنواں جس میں ہاڑت و اُروت (فرشتے) بند ہیں۔
- چاندی کا ذوق: (اصناف کے ساتھ) (ف) مذکر،

ٹھوڑی لاگڑھا۔

چاہ زریر کاہ : (۱) صاف کے ساتھ (د) (کینا یا) کروفرب۔

کن : (د) ظالم، مکار۔

کن را چاہ در پیش : (د) (دش)؛ جو دوسروں کے واسطے

خرابی کی تدبیر کرتا ہے خود اسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

مُتَمَنِّع / چاہ مُتَمَنِّب / چہ مُتَمَنِّب : مذکر؛ حکیم ابن متیغ کا وہ

گناہ جس سے منہوی چاند نکالا کرتا تھا۔

چاہی : بارانی کے خلاف، وہ زمین جس کو کنویں سے سینچا جائے۔

چاہ : (۱) خواہش (۲) اشتیاق (۳) آرزو (۴) دوستی، محبت، عشق۔

چاہت : موت؛ محبت، پیار، الفت۔

چاہنا : (۱) خواہش کرنا، طلب کرنا، (۲) پیار کرنا، محبت کرنا

(۳) قصد کرنا، ارادہ کرنا۔

چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے؛ کیسا ہی انقلابِ عظیم ہو۔

چاہینا / چہینا : مذکر؛ لادلا، محبوب و خاص جو بہت پیارا ہو بہت محبوب۔

چاوش : (د) مذکر؛ تقیب، چوہدار۔

چاؤں چاؤں : موت؛ شور و غل۔

کر کے پیچھے پڑنا : غل شور چاکے درپے ہو جانا۔

چائیں چائیں : موت؛ بے ہودہ شور و غل۔

چائیں مائیں : لڑکوں کا ایک کھیل۔

چائے : (د) موت؛ ایک قسم کی پتی جسے جوش دے کر پیتے ہیں۔

پانی : مذکر؛ ہلکی ضیافت۔

دان : (د) مذکر؛ وہ طرف جس میں چائے بچا کر رکھتے ہیں۔

ب، پ، ت

چبا چبا کر باتیں کرنا : (۱) صاف صاف بات نہ کرنا، (د) گفتگو

میں غرور کا انداز بنایا جانا۔

چبا جانا : کھا جانا، سنت قد اور دانتوں سے کھل ڈالنا۔

چبا ڈالنا : کاٹ کھانا۔

چبانا : دانتوں سے پینا، دانتوں سے کھلنا۔

چہر چہر : (د) موت؛ بگ بگ۔

بائیں کرنا : بے سوچے سمجھے گفتگو کرنا۔

چہلا : مذکر؛ (د)؛ جمہور، بے تمیز، طفلانہ شرارتیں کرنے والا۔

پن : جمہور، پن، طفل مزاحی۔

چہوتر : مذکر؛ (۱) چوٹرا، مریخ یا ستیل اوشی بیٹھے اٹھنے

کی جگہ (۲) کوتوال، بڑا ستانہ۔

چہوترے چڑھانا : کوتوال (چہوترے) پر لے جانا، کوتوالی تک

معالے کو پہنچانا۔

چہینا : (د) مذکر؛ بھٹنا ہوا اناج۔

چہیننی : موت؛ (۱) چہینا، (۲) ہندوؤں کی باراٹ کی

مٹھائی، (۳) بھٹنا ہوا غلہ۔

چھوٹا : کسی نوک دار چیز کا بھوکنا، پیوست کرنا۔

چھمتی بات : پتے یا بھید کی بات۔

کھنا / چھیتی ہوئی کھنا : ایسی بات کہنا جو دوسروں کو ناگوار ہو۔

چھمن : کھنک، درد۔

چھنا / چھ جانا : (۱) پیوست ہو جانا، نوکدار شے کا بھک جانا، بھکنا،

(۲) مجازاً، ناگوار ہونا، دل پر اثر کرنا، کھپ جانا۔

چپ : (۱) بائیں طرف، آٹے ہاتھ کی طرف، (۲) بائیں اُٹنا۔

(۳) دورنگا، دورنگ کا، (۴) مذکر، بائیں ہاتھ، (۵)

موت؛ پافو کی آواز، چاپ۔

چپ و راست : (د) مذکر؛ دائیں بائیں، ادھر ادھر۔

چپ : موت؛ خاموشی، سکوت، خاموشی، وہ شخص جو ہنڈ سے نہ بولے۔

چاپ : (۱) خاموشی اور ساکت (۲) خاموشی۔

چپ : (۱) خاموشی، کم گو، (۲) چپ کرنے کی تاکید۔

چپاتے : خاموشی سے، خفیہ طور پر۔

ساوہنا : خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا۔

سُن ہونا : بالکل خاموش ہونا، سناتے میں آجانا۔

چپکا : (۱) چپ، خاموشی، بھولا، (۲) تیار، فریبی۔

کرنا : (۱) خاموش کرنا، بولنے سے روکنا، (۲) چپ ہونا، خاموش ہونا،

کی داد خدا دیتا ہے؛ (دھنک)، صبر کا پھل خدا سے ملتا ہے۔

چپکے سے کہنا : بہت آہستہ سے کہنا۔

چپ گپ : خاموشی، کم گو۔

چپ گپ کے لڈو کھائے ہیں؛ کسی شخص کا بالکل خاموش رہنا

- اور بات کا جواب نہ دینا۔
چُپ لگانا: سکوت اختیار کرنا۔
لگ جانا: سکوت ہو جانا۔
باندھنا: (۱) خاموشی اختیار کرنا، ساکت ہونا، دم بند ہونا،
 (۲) جواب نہ دینا، پڑنا نہ بول سکتا۔
ہو جانا: خاموش ہو جانا، جواب نہ دینا سکتا۔
چُپتی: موٹف، خاموشی، چُپ۔
چُپتا: مذکر، چار انگل جگہ، چار باشت چوڑی جگہ، ذرا سی جگہ۔
بھر: ذرا سی جگہ۔
چُپتا: ذرا ذرا، کواکب کو چہرہ کو چہرہ۔
چُپتا: مذکر، کاغذ کا جھوٹا سا ٹکڑا۔
چُپتائی: پتلی روٹی۔
بڑھانا: آنے کی ٹوٹی کو مٹھی سے حوث دے کر بڑھانا۔
سارپیٹ: بھوک کے باعث پیٹھے سے لگا ہوا بہت نرم اور ملائم پیٹ۔
چُپانا: (۱) شرمندہ کرنا، شرمانا، شرم دلانا۔
چُپ جانا: شرمندہ ہو جانا۔
چُپت: تھیلی پھیلا کر کسی کے سر پر مارنا، دھول۔
رسید کرنا: تھپڑ مارنا۔
گاہ: موٹف، گڈی، پانے کی جگہ۔
لگانا/چپت مانا: تھپڑ مارنا، چاشٹا بڑھانا۔
چُپٹا/چُپٹا ٹوکنا: چوڑا چکلا (۲) دہا ہوا میٹھی ہوئی ٹاک والا شخص۔
چُپٹی چُپٹی: موٹف؛ (۱) چوڑی، چکلی، دہی ہوئی، پکی ہوئی،
 (۲) طبق زنی۔
لڑنا/چُپٹی کھیلنا: طبق زنی کرنا، عورتوں کا ہم جنسی فعل۔
چُپٹانا: (۱) پشایینا، (۲) چکا دینا۔
چُپٹا: لیس دار۔
چُپٹانا: چکنا، لسن دار ہونا۔
چُپٹا ہٹ: موٹف، چپ، لسن۔
چُپٹا/چُپٹا: (۱) ایک قسم کی اباہیل، (۲) جھانڈا، دُبلّا، لاغر۔
سائبر نکل آنا: منہ کا سستا جانا، بہت دُبلّا ہو جانا۔
چُپڑاس: (۱) موٹف، (۲) سپاہی ہونے کا بلا، (۳) کرتے کے موٹف کی
- چوڑی (مچی، ۳) چوڑی گوٹ، (۴) کشتی کا ایک دائرہ۔
 چیراسی: مذکر، سپاہی، پیادہ، چیراس ڈالا ہوا ملازم۔
 چُپڑا: موٹف؛ (۱) صاف کی ہوئی لاکھ، عمدہ لاکھ، (۲) صاف میلان۔
کر دینا: بالکل تباہ کر دینا۔
چُپڑا: مذکر، ہمیشہ کچھ بھری آنکھوں والا شخص۔
چُپڑا چُپڑا: موٹف، بازاری عورت، ہرزہ گرد۔
چُپڑا غلو: (۱) گرتار، اسیر، (۲) غٹ پٹ، گتھم گتھا، فرنیٹہ۔
چُپڑا فنانا/چُپڑا فنانا: خوشامدی، کمینہ۔
چُپڑا: (۱) چکنا، روٹی پر گھی لگانا، تھوڑا روغن ملنا۔
بدن پر یا کسی اور چیز پر۔
چُپڑی اور دوو: اچھی بھی اور بہت سی کامیابی اور عمدگی کے ساتھ، اچھی اور زیادہ ملنا مشکل۔
چُپنی: چال بوسی اور خوشامد۔
روٹی: ٹھی یا تیل چُپنی ہوئی روٹی۔
چُپس: CHIPS؛ (انگ) مذکر، تلی ہوئی شائیں یا چکتیاں۔
چُپٹلش: (حک)؛ انجوبہ، نجوم، (۲) تلوار کی لڑائی، موٹف؛ (۳) لڑائی، جھگڑا، ٹکرار، (۴) جگہ کی تکی، انجوبہ، بھیر، (۵) کھمش۔
چُپٹ: موٹف، لسن۔
ہونا: میٹھا میٹھا درد ہونا۔
چُپکانا: (۱) کسی لسن دار چیز سے جوڑنا، چسپان کرنا، نوکری سے لگانا، کسی کام میں لگانا، تعلق پیدا کر دینا۔
چُپکا جانا: (۱) پٹ جانا، (۲) کتنا تیا، آشنائی ہو جانا۔
چُپکنا: (۱) جوڑنا، چسپاں ہونا، (۲) الجھنا، پھنسا، آشنائی ہو جانا، (۳) روزگار لگانا، نوکری ہونا۔
چُپکن: (۱) موٹف، پُرانے وضع کی ایک قسم کی تبا۔
چُپوانا: چُپکن کی آستینوں پر چوڑیاں ڈلوانا۔
چُپکی: موٹف، خاموشی، سکوت۔
چُپل: موٹف، ایک قسم کی سلپہر۔
چُپن: مذکر، سرپوش، ہانڈی کا ڈھکن۔
چُپنی: موٹف، (۱) ہانڈی کا مٹی کا سرپوش، (۲) گلنے کی ہڈی۔
بھریانی میں ڈوب مرنا: غیرت اور شرم والی بات۔

چٹنی چاٹ گزران کرنا؛ نہایت قناعت اور صبر سے گزارا کرنا۔
جوہل جائے اُس میں کام نہ کھانا۔

چینا : (دھ) شرمندہ ہونا، چھینچنا۔
چنوں : مذکر، ناؤ چلانے کا ڈنڈا، پٹوار۔
چنونا : مذکر، ڈھپ، چانٹا۔

چچی جھی : موٹھ؛ آہستہ آہستہ ہاتھ پانوں دانا، اعضا کی مالت۔
کرنا : دباناء، مالت کرنا۔

چچی : (دھ) موٹھ؛ چھوٹا چننا، کاقد کا چھوٹا ٹکڑا۔
چچی : (دھ) موٹھ؛ خاموشی۔

چھیٹ : موٹھ؛ (د) خفیعت جوٹ، جھیٹ، زد۔ (۲) دھکا، ہصد۔
چھڑپ : (۳) بلانے ناگہانی، آذت ناگہانی، (۴) ٹوٹا، نقصان۔
چشت : پشت کے بل، سینہ کے رخ۔

چٹ : موٹھ؛ ایک قسم کی شرط، ایک قسم کی قرعہ اندازی۔
چٹنا : پیٹھ کے بل لیٹنا۔

کرنا : (کنکشی کی اصطلاح)؛ پچھاڑنا، پیٹھ کے بل گرانا۔
جیننا : بازی لینا، ہرانا۔

ہونا : (د) پچھڑنا، پشت کے بل لیٹ جانا، (۲) مرجانا۔
جان سے جانا، ہرنا، (۳) نشے میں بہوش ہو جانا۔

چتا : موٹھ؛ مُردے کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ڈھیر۔
چیننا : مُردہ جلانے کے واسطے لکڑیوں کا ڈھیر لگانا۔

چس بیٹھنا : سستی ہونے کے واسطے مُردے کی چتا کے
ڈھیر میں جلنے کو بیٹھنا۔

چتانا : (د) خبردار کرنا، اطلاع دینا، (۲) نصیحت کرنا، خوف دلانا۔
چت چور : مذکر؛ دل چرانے والا، دلربا، محبوب۔

چتر : (د) مذکر (د) سر کے چھوٹے چھوٹے بال، (۲) بادشاہی
کے سروں پر لگانے کی ایک خاص قسم کی چتری۔

چتر : (دھ)؛ چالاک، ہوشیار، تیز۔
چترائی : موٹھ؛ تیزی، ہوشیاری، دانائی۔

چتر : (د) موٹھ؛ تصویر، نقش و نگار۔
شالا : (د) مذکر؛ تصویر خانہ، اسٹوڈیو۔

کار : (د) مذکر؛ مُصَوِّر، نقاش۔

چتر کاری : (د) موٹھ؛ نقاشی، مصوری۔

کلا : (د) موٹھ؛ فنِ مصوری۔

چتر رنگ : (دھ) مذکر؛ (د) چار رنگ کی فوج، ہاتھی، گھوڑے
رستہ اور سوار پیادوں کی فوج، (۲) شطرنج کا قدیمی
نام، (۳) ایک قسم کا گیت۔

چتر ویدی : چاروں دید پڑھا ہوا برہمن۔

چنت کبڑا : (دھ) مذکر؛ سفید اور کالے رنگ کا داغ دارہ ابلق۔

چنٹلا : داغ دارہ دھبے والا، کالے اور سفید رنگ کے دھبوں والا۔
چنٹوں : (دھ) موٹھ؛ نظر، نگاہ، نگاہ کا انداز۔

بنانا : تیوری چڑھانا، پشم تہرا اود سے دیکھنا، غصے کی نظر ڈالنا۔

پر میل آنا : (دیکھنا، ناگہاناً) ناگہان ہونا۔

پچھرنا : نگاہ کا تہرا اود ہونا۔

چیتی : (د) چھوٹا دھبا، داغ، پندری، (۲) ایک قسم کا سانپ
اور ایک قسم کی کوٹھی جس پر چتیاں پڑی ہوں۔

چڑنا : (د) روٹی سینکنا، روٹی پر پک جانے کی علامت
ظاہر ہونا، (۲) لال لال بند کیان پڑ جانا۔

دارہ : داغ دارہ، بند کیوں والا۔

چٹھا : مذکر؛ دوسروں کا تختہ مشق، بار بار شکست خوردہ۔

بنانا، کسی کی بُرائی کر کے ذلیل کرنا، فضیحت کرنا۔

چتھاڑ : موٹھ؛ ذلت، خواری۔

چتھاڑنا : (د) ذلیل کرنا، مُرسا کرنا، فضیحت کرنا، بُرائی
بیان کر کے فضیحت کرنا، (۲) پھاڑنا، دمچی دمجی کرنا۔

چتھڑا / چتھڑا : مذکر؛ ہرانے کپڑے کا ٹکڑا، گودڑ، دمچی۔

چتھڑے / چٹنا / چتھڑے کرنا : پُزے پُزے کرنا۔

چتھڑے لگانا : پیوند پر پیوند لگانا، پھٹے کپڑے پہنے پھرتا،
گودڑ یا قیصر بنا پھرتا۔

چتھڑے لگانا : خربسی کے مارے ثابت کپڑے پہن سکانا۔

چتھڑا پھیرا : (د) پھٹے پُزے ڈالی ہوئی سٹان
والا درخت، (۲) پھٹے پُزے پہنے

ہوا شخص، بہت مفلس۔

بج - ٹ - ح

چٹ پٹ : دم، ہونٹ، متفرق خرچ، چھٹی چھوٹی چیزوں کا خرچ۔
متفرقات مدعی (۲) تجربہ کار عورتوں کی بچوں کے لیے کم قیمت ڈوائیں۔
— ہو جانا : دھم متفرق کاموں میں خرچ ہو جانا صرف ہو جانا۔

چٹ پٹا / چٹ پٹا : مذکر، خوب نلک، مرقع اور کٹائی
پڑا ہوا، مزیدار۔

چٹھارا : مذکر، خوش ذائقہ چیز کے زونے سے زبان اور تالو سے نکلنے والا
چٹھاری بھرنا / چٹھارے بھرنا : کسی خوش ذائقہ چیز کا مزہ
لینا، زبان چاٹنا، ہونٹ چاٹنا۔

چٹھانا : زبان اور تالو سے آواز نکالنا۔
چٹھانا / چٹھکانا : (۱) انگلیوں یا کسی چیز کی چٹا چٹ آواز
نکالنا، (۲) تڑکانا، توڑنا۔

چٹخ جانا : (۱) فوراً جدا ہو جانا، چلا جانا، (۲) بگڑ جانا، اُن بن
ہو جانا، دوست نہ رہنا، (۳) درڑ پڑنا۔

چٹھنا : (۱) آزرہ ہونا، آپس میں ملال ہونا، (۲) جھلکے کھلے بات
کنا، (۳) شق ہو جانا۔

چٹھنا : (۱) چٹنا، چھتڑ، دھول رنگانا کے ساتھ
چٹھنی / چٹھنی : موت، (۲) دروازے کے روکنے کی چھوٹی سی اٹلنے
والی چیز، (۳) وہ کل جو تجربے میں پرنڈ پڑنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔

چٹھیر / چٹھیر : متفرق، تھوڑا سا۔
چٹھک : ہونٹ، (۱) ٹوٹنے کی آواز، چٹھ (۲) چھوٹی بھلی تیزی
(۳) چٹک، دک بھٹک، (۴) رنگ کی تیزی، (۵) دھوپ کی تیزی۔

— جانا : مخلوق جانہ بال پڑ جانا۔
— ٹٹک : موت، غرور، نخوت، ناز، نخر، اکڑوہر۔

چٹکا : مذکر، (۱) چٹا مزہ چٹھارا، زبان کا چٹکا، (۲) پیاس کی شدت۔
چٹکلا : مذکر، (۱) لطیفہ، دلچسپ فقرہ، (۲) چھوٹی ٹھیک پڑا تیر
دوا، (۳) نادر، عجیب چیز۔

— چھوڑنا : کوئی عجیب بات جو لوہ کر بیان کرنا، گپ اُڑانا،
بھنی کرنا، شگوفہ چھوڑنا۔

چٹھنا : (۱) تڑکتا، چٹھنا، (۲) رنگ اُڑانا، (۳) رکتا، ناراض
ہو کر بات کرنا، چٹھنا، (۴) کل کا کھلنا، (۵) سخت
چیز، رنگ کے اچھل کر دوڑ جانا، (۶) ٹھوٹ جانا۔

چٹھنا : (۱) فوراً اسی وقت، (۲) جسم پر آنکھ کے ماتے
کے نشان، (۳) سخت چیز کے دفعہ ٹوٹنے کی آواز۔

— پٹ : صفت، بہت جلد، ایک بیک۔
— ہو جانا : ناگہانی موت ہو جانا، فوراً مر جانا۔

— چٹ : (۱) انگلیوں کے چٹنے یا کالے دانے کے چلنے کی
آواز، (۲) چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز۔
— چٹ بلائیں / لینا / چٹ چٹ بلائیں / دونوں ہاتھوں
سے انگلیوں کو متواتر چٹنا کر بلائیں لینا۔
— کر جانا : (۱) سب کاسب کھانچا پانی جانا، (۲) پیٹم کر جانا، مار لینا۔
— ٹگنی پٹ بیاہ : (دشکل)، کسی فوری تجویز کا نتیجہ بہت
جلد ظاہر ہونا، کسی کام کا جلدی سے ہو جانا۔

چٹ : موت، (۱) کپڑے یا کاغذ کی لمبی کم چوڑی دھجی،
(۲) کاغذ کا بچا، کتابوں یا نفاذ کی شیشیوں پر لگی ہوئی چٹھی
(۳) ورزش کرنے والوں کی ٹگوت کی بیٹی۔

چٹا : مذکر، (۱) اینٹوں کا ڈھیر، (۲) چلا، شاعر، پٹ شالا کا مالک، علم
(۳) کم مشقی سے غلیل یا کمان کے قبضہ پر پڑنے والا قلعہ، (۴) الزام۔
چٹا : مذکر، اُجلا، گولا، سفید، (۲) روپا، چاندی کا سکہ۔
چٹا بیٹی : موت، (۱) مارا مار دھڑا دھڑی (۲) موت پر موت۔
— پڑنا : کثرت سے موتیں ہونا۔
— ٹی گوٹ : مختلف رنگ کی گوٹ، مختلف رنگ کا ماشیہ۔
چٹاخ / چٹاک : موت، کپڑے کے ٹوٹنے یا اٹھنے کے چٹھے کی آواز۔
چٹاخ پٹاخ : تڑاق تڑاق، تڑا تڑ۔
چٹاخا / چٹاکا : مذکر، کپڑے کے ٹوٹنے یا بلائیں لینے کی آواز،
(۲) لذت، کثرت، (۳) فاش، بے کار عورت، (۴) دھب، چھپڑ۔
چٹان / چٹان : موت، (۱) چھری بڑی بل، بہت بڑا اور چوڑا
پتھر، (۲) پتھر لی زمین۔
چٹانا : (۱) بچے یا بیمار کو کوئی گاڑھی چیز فدا کر کے کھلانا، (۲) کھانا
شوت دینا، (۳) کسی دھاردار چیز کے لیے پتھر پر لگے دھار تیر کرنا۔
چٹائی : موت، بویا، گھاس، یا کھجور کے تھوں کا فرش۔

چُنکنا : (۱) سائپ کا کاٹنا، ڈسٹا (۲) اوپر اوپر سے توڑنا ساگ یا پھول توڑنا۔

چُنکی : موشت، (۱) ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے پاس کی انگلی سے گوشت کا مسلنا، (۲) مٹی بھرا، مٹی بھر جیز، (۳) گولے اور پکے کو موڑ کر نکلنے اور تانا۔ گوگھر و چینی سے بڑی ہوئی دھنک (۴) کٹار دار گلبدن خجری دار شرف، (۵) انگوٹھے کو بیج کی انگلی سے زور سے ملا کر جدا کرنے کی آواز۔ (۶) کپڑا اچھالنے کا طریقہ۔ (۷) پانو کا ایک زیور جو انگوٹھوں میں پہنا جاتا ہے، چوڑے پھلے، (۸) سفوف جو انگوٹھے اور اس کے پاس والی انگلی سے اٹھائیں، (۹) دو کا سفوف جو رن (۱۰) پوشاک و لیس کی مرثوہ، (۱۱) گرفت۔

سجانا : انگوٹھے کو بیج کی انگلی سے ملا کر آواز نکالنا۔

سجاتے میں : فوراً آن کی آن میں۔

بھڑ : تنھوڑا سا۔

بھرمیں : ذرا دیر میں، لحظہ بھر میں۔

بھرنا : (۱) انگوٹھے اور انگلی سے گوشت مسلنا، (۲) چھینتی ہوئی بات کہنا، طعنہ دینا۔

پر اُڑا دینا : جل دینا۔

چِچِکی : تنھوڑا تنھوڑا۔

کاٹنا : چسکی لینا۔

لگانا : (بزار)، کپڑوں کو انگلیوں سے پھاڑنا نسیا کپڑا تھکان سے کاٹنا۔

لینا : (۱) طعنہ دینا، چھیننا، چھینتی ہوئی بات کہنا، (۲) کسی فعل سے روکنے کے لیے چسکی لے کر اشارہ کرنا۔

چنگیلوں میں کام کرنا : بہت جلد کوئی کام کرنا۔

چسکی میں ہونا : قبضے میں ہونا۔

چنگیلیا : (۱) چمک دار، بھڑکیلا، شوخ رنگ (۲) خوش ذائقہ چٹ پٹا خوب ننگ مرچ پڑا ہوا۔

چنگیلی دھوپ : موشت، گرم اور تیز دھوپ۔

چٹنی : موشت، ذائقے کے لیے کھینے یا زار دار چاٹنے کی چیز۔

کر ڈالنا : (۱) پس ڈالنا، (۲) دکانیٹا، تباہ کر دینا۔

چٹوا : مذکر، بچوں کا ایک کھلونا۔

چٹورا : مذکر، لذیذ کھانوں کا دلدادہ، کھاؤ، کھاپی کر ڈال دینا۔

چٹی : موشت، (۱) جرمانہ، تاوان (۲) ٹوٹا، خسارہ (متروک) (۳) لکڑی کی پٹی دار کھڑاوں۔

بھڑنا : (مو) تاوان دینا، نقصان اٹھانا۔

دھڑنا : (مو) ڈنڈ ڈالنا، تاوان بھڑنا، (۲) چٹی سے مارنا۔

چھینے : الزام۔

بٹے : مذکر، (۱) جھوٹے بچوں کے کھلونے، (۲) مداری کے

تاشے میں ہاتھ کی صفائی دکھانے کی جھوٹی چھوٹی گویاں گولے۔

لڑانا : لگانا، ٹھکانا کرنا۔

چٹیا : موشت، (۱) چوٹی کی تصویر (تھمیرے)، (۲) چوڑا، جوڑا، (۳)

وہ سسر کے چند بال جو سند و مذہبی علامت کے طور پر رکھتے ہیں۔

چٹیا مارنا : زخم دینا، چوٹ کھا جانا، زخمی کرنا، گھائل کرنا، پچلانا۔

چٹیل / چٹیل میڈان : بغیر درخت اور جھاڑی والا میدان صاف میدان

چٹیل / چٹیل : (۱) چوٹ کھایا ہوا، زخم کھایا ہوا، صدمہ پہنچا ہوا،

(۲) چوٹ کھایا ہوا پھل۔

چٹھا : مذکر، بدن کی جلد کا داغ۔

چٹھے مٹھے : مذکر، عمدہ لذیذ کھانے، مٹھائیاں۔

چٹھے مٹھے / مٹھوں کا مزہ اڑنا : لذیذ کھانوں کی چاٹ بڑانا۔

چٹھا : (دھ) مذکر، (۱) چند سے باروز ناچنے کی کتاب (۲) فہرست، تنخواہ،

(۳) مذمورہ یا ماہ بہ ماہ کسی کام کی اجرت، تنخواہ، (۴) بچا حساب۔

چٹھا بانٹنا : تنخواہ یا مزدوری تقسیم کرنا۔

باندھنا : جمع خرچ کی فہرست تیار کرنا، لین دین اور موجودہ

اسباب کی فہرست بنانا، اندازہ کرنا، تخمینہ کرنا۔

چٹھی : موشت، (۱) خط، (۲) سندھو، چہرہ، رقعہ، (۳) چٹ، کاغذ کا

چھوٹا ٹکڑا، (۴) مہنڈی، چمک۔

پڑنا : کسی چیز پر قیمت لگا کر قرضہ پڑنا۔

ڈالنا : لاٹری ڈالنا، لاٹری یا قرضہ بازی میں شریک ہونا۔

رَساں : مذکر، ڈالیا۔

کرنا : کسی کے نام مہنڈی کرنا، مہنڈی لکھنا۔

چٹی : موشت، چھوٹے بچوں کی زبان میں مٹھائی، شہرینی۔

- چچا : مذکر؛ باپ کا بھائی۔
 بنا کے / چھوڑنا : معقول سزا دے کے چھوڑنا، خوب بدلے کے اور شہک بنا کے دم لینا۔
 نر او بھائی : مذکر؛ چچا کا بیٹا۔
 چچڑی : کہنی، ایک قسم کے کیڑے کا نام جو اکثر گتے، بھینس وغیرہ کے جسم پر چسپا رہتا ہے۔
 موکر چھٹنا / لپٹنا : بیچاڑ چھوڑنا، ہمدن مصروف ہونا۔
 مچھکارنا : پیار کرنا، بچھکارنا۔
 چھپکاری : موتف؛ پیار کی آواز۔
 چھوڑنا : (ص) چھوڑنا، بچے کا چھاتوں کو چھوڑنا، (۲) ہڈی کو چھوڑنا۔
 چھٹی : موتف؛ چچا کی بیوی۔
 چھٹرا : مذکر؛ چچا کے رشتے کا۔
 چھٹڑا : مذکر؛ نکوادی کی شکل کی ایک لمبی ترکاری کا نام۔
 چھٹ : موتف؛ جھگڑا، تکرار، قضیہ، فساد۔
 چھ : موتف؛ (۱) لغتی تکرار، جھک جھک، (۲) لڑائی کے بشیروں کے بولنے کی آواز۔
 چھٹے : (ص) (کلمہ لغت)؛ چل دھڑ ہونے پر سے ہٹ، باتیں نہ بنا، تنہا مستعمل نہیں، چل کے ساتھ بولا جاتا تھا۔
 چھڑ : موتف؛ چادر کا مخفف۔
 چھڑیا : موتف؛ چادر کی تصغیر۔
 چھڑا / چھڑا : مذکر؛ ران کے اوپر کا جوڑہ، بن ران۔
 چھڑا / چھڑا : چھڑا کا نر، گوریا کا نر۔
 چھڑا : مذکر؛ دیکھو چھڑا۔
 چھڑھی : موتف؛ پیٹھ کی سواری۔
 چھڑھانا : کسی کو پیٹھ پر سوار کرنا۔
 دینا : پیٹھ کی سواری دینا۔
 لینا : پیٹھ کی سواری لینا۔
- چھڑ : (ص) موتف؛ (۱) کپڑا چھٹنے کی آواز، (۲) دیا میں ریت جمی ہوئی جگہ۔
- چھڑ : موتف؛ نئے جوتے کی آواز جو چلنے میں ہوتی ہے۔
 چھڑ : سوکھی ہوئی چیز کا ٹوٹ کر جوڑا چھڑا ہونا۔
 چھڑا : مذکر؛ کاغذ یا کپڑے کے چھٹنے کی آواز۔
 چراغ / چراغ : (ص)؛ (۱) وہ گہنی جس میں تیل اور تہتی ڈال کر روشن کریں، (۲) لپ، شمع، تہتی، (۳) بجائز، بیٹا، (۴) کینایتا، بروق، روشنی،
 اگسانا : چراغ کی تہتی اوجھی کرنا۔
 بچھانا / بڑھانا / خاموش کرنا : چراغ نکل کرنا، چراغ سٹنڈا کرنا۔
 رٹھانا : چراغ کا ذرا ذرا روشنی دینا۔
 سٹنڈا کرنا : چراغ بچھانا، چراغ نکل کرنا۔
 جھلانا : چراغ روشن کرنا۔
 جھلنا : (۱) چراغ روشن ہونا، (۲) کینایتا، فروغ پانا، فروغ ہونا۔
 جھلے : سرشام، جھٹ پڑنے کے وقت۔
 دان : (ص) مذکر؛ چراغ رکھنے کی ایک چیز، ڈیوٹ۔
 دکھانا : روشنی دکھانا، راستے میں روشنی کرنا۔
 رخصت ہونا : چراغ بچھانا، چراغ خاموش ہونا۔
 روشن کرنا : چراغ جھلانا۔
 روشن مڑا حاصل : دُما سے باہر لوہا، عائد آباد۔
 سحر : (ص) اضافت کے ساتھ؛ (۱) چراغ صبح، (۲) بجائز، ناپائیدار، تقریب الزوال۔
 سحری : (ص) اضافت کے ساتھ؛ (۱) چراغ صبح، (۲) کینایتا، قریب مرگ، تھوڑے دن کا دنیا میں بہان۔
 سے پھول چھڑنا : چراغ کا شرراشتاں ہونا، چراغ سے جھلنا، تیل ٹپکنا۔
 سے چراغ جھلنا : (ص)؛ ایک دم سے فائدہ پہنچنا ہے۔
 کا ہنسا : (ص)؛ (۱) چراغ سے پھول چھڑنا، چراغ سے جھلنا، (۲) خوشی کا شگون۔
 گل چھڑی غائب : (ص)؛ (۱) گل بھی اور مال دوڑوں کا۔ ذرا سی غفلت، پاکر مال اڑا لینا۔

چرانا: خشک زخم کا درد کرنا، دوا خشک ہو جانے سے زخم کا درد کرنا۔
چرانا: (۱) چوری کرنا، (۲) چھپانا، سچانا، اغماض کرنا۔

چراند/چراہند: موت؛ چرے، بال، روض وغیرہ کے جلنے کی بدبو۔
چرائینا: (دھ) مذکر، ایک کڑوی بوٹی کا نام۔

چرب: (۱) فریب، موٹا، عظیم، (۲) چکناء، (۳) غالب،
تیز، زیادہ۔

_____ دست: (د) چالاک، دست کار۔

_____ زبان: (د) (۱) چکنی، چپڑی باتیں کرنے والا خوشامی،
(۲) شہیریں کلام۔

_____ قدا: لذیذ غذا، زیادہ چکنائی والی غذا۔

_____ کر لینا: تھوڑی سی چکنائی میں سمون لینا۔

_____ ہو جانا: (۱) ہوشیار ہو جانا، (۲) سمجھ جانا، تیز ہو جانا۔

چرب: (د) مذکر، (۱) روغنی کاغذ، موم جامہ، (۲) خاک، کاغذ،
یا پوست آہو کو چرب کر کے کسی نقش یا تصویر پر رکھ کر ہونو کی نقل لینا۔

_____ آتارنا: (د) ہونو نقل آتارنا، خاک آتارنا، کسی نقش یا تصویر
پر باریک کاغذ رکھ کر اس کی ہونو نقل کرنا، (۲) دکنائیا؛
انداز آتارنا، کسی کا ڈھنگ سیکھنا۔

چرب: (د) (۱) جسم کی چکنائی، (۲) روض، چکنائی۔

_____ چربانا: موٹا ہونا، فریب ہونا۔

_____ چربنا: مذکر، تیز، تند، چٹ، گرم۔

_____ چربانا: تیزی کرنا، مرچیں لگانا۔

_____ چرباٹ: موت؛ تیزی، جلن، سُوزش۔

_____ چربٹ: (دنگ)؛ مذکر، سگار۔

_____ چربٹ/چلبٹ: مذکر؛ جھل بٹے، لباسی، عورتوں کا لکڑی فریب۔

_____ چرب: CHURCH: (دنگ)؛ مذکر، گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔

_____ چربا: مذکر؛ ذکر، تذکرہ، مصلح، گفتگو، شہرت، تعریف۔

_____ پھیلنا: کسی بات کا شایع ہونا۔

_____ کرنا: ذکر کرنا، مذکر کرنا۔

_____ ہونا: افواہ ہونا، شہرہ ہونا، بات پھیلنا، بُرائی کے ساتھ

_____ ذکر ہونا۔

_____ چربچینا: مذکر، ہونو ہواغذ۔

چراغ چراغ گل ہونا: (۱) چراغ بجھنا، (۲) دکنائیا؛ کسی کے
مقابلے میں بے رونق ہو جانا، (۳) خاندان کا نیست دنا بود
ہو جانا، سلیبا میٹ ہو جانا۔

_____ لے کر ڈھونڈنا: بہت محنت اور محنت سے تلاش کرنا، کسی
کی نہایت جستجو کرنا۔

_____ میں بتی پڑنا: شام کا وقت ہونا، چراغ جلنا، چراغ روشن ہونا۔

_____ میں بتی پڑی لاڈو میری سچ چڑھی: (دش) ہر شام ہونے
کی تیاری کرنا، بہت سونے والا۔

_____ ہو جانا: روشن ہو جانا۔

چراغ: (د) مذکر، روشنی، بہت سے چراغوں کا جلنا، جشن۔

_____ چراغی: موت؛ نذرانہ، بھینٹ، حیرت، مجادوں کا حق خدمت۔

_____ چڑھانا: (۱) بھینٹ چڑھانا، (۲) فاتحہ دلاتے وقت کچھ
نیتدی، چراغ کے نیچے رکھ دینا۔

_____ چراغ بتی کرنا: روشنی کا سامان کرنا، روشنی کرنا۔

_____ کا وقت: مذکر، شام کا وقت۔

_____ بجھانا/چراغ بڑھانا: چراغ ٹھنڈا کرنا۔

_____ پا ہونا: (۱) گھوڑے کا کھیلے پانوں پر کھڑا ہو جانا، (۲) کھڑنا۔

_____ نہ جینا۔ کھڑا نہ رہنا، (۳) خفا ہونا۔

_____ تیسے اندھیرا: (دش)؛ منصف حاکم کے قرب میں ظلم ہونا،

روشن دلوں سے بے خبری واقع ہونا، (۲) دکنائیا، اوروں کو

فائدہ پہنچے اور اپنے محروم رہیں

_____ تہ دامن: (دضافت کے ساتھ)؛ (۱) ہوا سے بچانے

کے لیے دامن کی آڑ میں لیا ہوا چراغ، (۲) استعارہ، نقاب

پڑا ہوا حسین چہرہ۔

_____ چرکار سے کٹھ عاقل کہ باز آید پشیمانی: (د) منقول؛ عقلمند

کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا نتیجہ ندامت ہو۔

_____ چراگاہ/چراگہ: (دش)؛ جانوروں کے چرنے کی جگہ، سبزہ زار۔

_____ چرانا: (۱) جانوروں کو جنگل میں لے جا کر سبزہ کھلانا، (۲) فریب دینا،

دھوکا دینا، حق بنانا، آلو بنانا۔

_____ چرائی: (د) مویشیوں کو گھاس کھلانے کے واسطے جنگل سمیٹنا،

(۲) چرانے کی اجرت و بچہ والی۔

- چڑھنا : مذکر، ایک خاردار پودا۔
 چڑھانا : (۱) درد کرنا، جلن پڑنا، (۲) چٹکنا۔
 چڑھنا ہٹ : موتی، چڑھانے کا عمل، تنگ مزاجی۔
 چڑخ : (ف) مذکورہ آسمان (۲) پھرنے والا ہینا، (۳) کنویں کے اوپر کی چڑھی، (۴) ایک قسم کا باز، (۵) گردش، پتھر، (۶) تانبے کے برتن کو صاف کرنے کا آلہ۔
 آہوس : (اضافہ کے ساتھ) : (ف) پہلا آسمان۔
 انداز : (ف) کمان دار تہہ انداز۔
 برس : (اضافہ کے ساتھ) نواں آسمان۔
 چڑھانا : (۱) ظرفیت مٹی وغیرہ کو تراہ پر چڑھانا، (۲) سان چڑھانا، سان پر رکھنا۔
 چرخ چٹوں : موتی، (۱) بیل گاڑی یا کنویں کی رتھ وغیرہ کے چلنے کی آواز، (۲) دھماکا، (۳) آواز، آہستہ چال۔
 زریں : (اضافہ کے ساتھ) : (ف) چوتھا آسمان جس پر آفتاب ہے۔
 سے مہتاب توڑ لانا : دیکھنا، کمال چالائی کرنا۔
 کھانا / چرخ مارنا : گردش کرنا، گھومنا، (۲) تاؤ کھانا، دھات کا پگھل کر پانی ہو جانا۔
 میں آنا : چکر کھانا، پھرنا، گردش کرنا۔
 چرخاب (چرخ غاب) : (ف) مذکر، پانی کے زور سے چلنے والی چرخھی۔
 چرخہ : (ف) مذکورہ، سوت کاتنے کی دستی مشین، (۲) ایک قسم کا نایاب (۳) دیکھنا، بہت بڑھا مریعورت، پیر فرقت، ڈھانچ، (۴) دیکھنا، چرائی، کزور گاڑی۔
 پونی کرنا : چرخہ کاتنا، چرخہ کات کر گزارنا۔
 کاتنا : سوت کاتنا، چرخے کے ذریعے سے ناگنا بنانا، چرخے کا کام کرنا۔
 ہو جانا : صیغہ ہو جانا، بھر پور ڈھیلے ہو جانا۔
 چرخے کی مال : (۱) چرخے کا ڈھرا، (۲) دیکھنا، ڈبلا کرور (۳) درجہ پھرتے والا۔
 چرخھی : (ف) گردش کرنے والی چیز، موتی، ہمدلی کو
- بنوں سے صاف کرنے کا آلہ (۲) ایک قسم کی گھونٹنی
 والی آتش بازی، (۳) پانی کھینچنے کا پتیرہ (۴) پھرک
 (۵) ڈور (۶) بادل لپٹنے کا آلہ۔
 چرخ : مذکر، چڑھنے کا بیڑا ڈول (۲) ایک قسم کی نشہ آمد چھی۔
 چرسی / چرسیا : چرخ پینے والا۔
 چرسا : (بھٹی پوست) مذکر، بھینس گائے یا بیل کا مکھیا ہوا چڑھا۔
 بھر زمین : موتی، (۱) بھینس یا گائے کے بیٹھنے کے قابل زمین، (۲) تھوڑی سی زمین۔
 چرخس : موتی، شکن، سلوٹ، بٹ، چھری۔
 چرخ : (ف) مذکر، (۱) تیندوا، (۲) ایک شکاری پرند۔
 چرخ عزم : چرخ عزم کرنا، (۲) جمع کرنا، ایک تک کرنا، کھسکھس کرنا۔
 چرخینا : مذکر، کینہ آدی، سفلہ آدی۔
 چرخک : (ف) مذکر، پیپ، نیل، غلاظت، رنگ۔
 چرخکا : مذکر، (۱) تلوار وغیرہ کا بلکا نغم، (۲) کسی آہنی چیز کو گرم کر کے اس سے جلانا، (۳) نقصان، ٹوٹا۔
 دینا / چرخکا لگانا : (۱) زخم دینا، (۲) داغ دینا، (۳) نقصان پہنچانا، ایذا دینا۔
 کھانا : (۱) خفیت زخم لگانا، (۲) نقصان برداشت کرنا، (۳) دھوکا کھانا۔
 چرخکشا : مذکر، (۱) چارہ کاٹنے والا، (۲) ہاتھی کا چارہ لانے والا، (۳) بانوں کا پیش خدمت (۴) کینہ۔
 چرخکٹ : (۵) مذکر، ڈبلا پتلا، سوکھا، سہما آدی۔
 چرخکنا : ذرا سا پاخانہ نکلنا، ذرا سا لگانا۔
 چرخکنا : (تحقیر سے) (۱) بولنا، چھو پھاننا، (۲) گپ شپ ہانکنا۔
 چرخکین : (ف) صفت، مثلاً، فلینا، (۲) آرزو زبان کے ایک شاعر کا تخلص۔
 چرخم : (ف) مذکر، چڑھا، کھال، پوست۔
 چرخمی : چڑھے کا بنا ہوا۔
 چرخن : مذکر، (۱) قدم، پانو، (۲) پاؤش، (۳) رکن، بستون۔
 لینا / چرخن چھوٹنا : قدم لینا، پیروں پڑنا، قدم کو ہٹا لگانا۔

چرنا: (۱) گھاس کھانا، چکن، پرورش پانا، کھانا (۲) مذکر، گھٹنا،
سیرکی طرح چھوٹا اور اونچا پاجامہ۔

چرنا: پھٹنا، لکڑی کا دو ٹکڑے ہو جانا۔

چراؤ: مذکر، درز، شکاف، لکڑی چرنے سے پڑا ہوا نشان۔

چرائی: موتھ؛ چیرنے کی اجرت۔

چرند: مذکر؛ چرندہ، گھاس چرنے والا جانور۔

چرندہ/چرندہ: گھاس چرنے والا حیوان، چوبیا۔

چرندم/چرندم: مذکر، کھانے، پینے کا مشغلہ۔

چرنی: موتھ؛ جانوروں کو دانہ کھلانے کا ٹوکرا۔

چرنے: مذکر، چن چنے، کرم، بچوں کے پیٹ میں پیدا ہوجانے
والے کیڑے۔

گھٹنا: رکنا، بہت ناگوار گذرنا۔

چروایا: مذکر؛ گذریا، چرانے والا۔

چروچی: موتھ؛ ایک مشہور میوہ جو بیج کی صورت میں ہوتا ہے۔

چروسی: موتھ؛ چارپوں کو پانی پلانے کا عوض۔

چروسی: موتھ؛ (۱) کربی، کربی، جو ارہ باجرے وغیرہ کے

ہرے درخت (۲) چرنا، جانوروں کا گھاس چرنا، (۳)

دکنائیا؛ علاوہ مقررہ گھانے کے بعد کچھ اور کھانا انسان کے لیے)

ح - ط - ق

چڑ: موتھ؛ چھنے کی آواز، لکڑی وغیرہ کے پھٹنے کی آواز، چٹ

چڑ/چڑھ: موتھ؛ بُری لگنے والی بات۔

مکانا: چھٹ مکانا، غصہ دلانا، کوئی ناگوار لگنے والی

بات یا فقرہ بار بار کہنا۔

چڑانا/چڑھانا: نفرت دلانا، دق کرنا، بنانا، مذاق اڑانا

چڑا: مذکر؛ (۱) نرگوریا، (۲) ایک قسم کا ککڑا۔

چڑبڑ/چڑبڑ کرنا: بک بک کرنا، بڑبڑانا، بجوس لگانا۔

چڑچڑا: بدمزاج، بگڑے مزاج والا۔

چڑچڑانا: (۱) بدمزاجی کرنا، (۲) جلتے ہوئے دھن پر پانی پڑنے

سے آواز نکلنا۔

چڑچڑاہٹ: بدخوئی، چڑچڑاپن۔

چڑوسے: مذکر؛ کٹے اور بھنے ہوئے چاول۔

چڑی مار: مذکر؛ تیز پڑنے والا، صیاد۔

ٹولا: مذکر؛ طرح طرح کے جانور کیے کا بازار، چڑیا گاہ

کے رہنے کا ٹھکانا۔

چڑیا: مونث، (۱) چڑا کا مونث، (۲) پرند (۳) (عو) چو بنلا، (۴) اگلیا

کے دونوں کٹھوروں کے بیچ کی سلائی، (۵) نیم فیزاں ازربند ڈالنے کی جگہ۔

خانہ: مذکر؛ چڑیا گھر، (انگ) (نرو) (zoo)۔

کا/والا: مذکر؛ دکالی، (۱) حق۔

کا وودھ: عقدا، چیز، ناممکن بات۔

توچن: مذکر؛ پتکا بوٹی، عذاب، تکلیف، الجھن۔

چڑیل: موتھ؛ (۱) ڈالین، بھٹی، پلید عورت، غبیت عورت،

(۲) سیل کی عورت، (۳) بہت بد صورت۔

چڑھ آنا: حملہ کرنا۔

جانا: چڑھانا، کرنا۔

چڑھا پڑی: موتھ؛ لاگ ڈانٹ۔

جانا: پورا پی جانا۔

دینا: (۱) مغرور دینا، عزت دینا، مرتبہ بلند کر دینا۔

(۲) لگا دینا، (۳) گراں کرنا، (۴) سوار کر دینا۔

چڑھانا: (۱) نیچے سے اوپر لے جانا، (۲) لا دینا، سوار کرانا، (۳)

پینا، نوش کرنا، آتارنا، شراب یا پانی کو بالکل پی جانا،

(۴) بلند کرنا، اونچا کرنا، (۵) اُکسانا۔

چڑھاؤ: مذکر؛ (۱) طینائی، جوش، (۲) بلندی، راستے کی اونچائی

چڑھائی، (۳) ترقی، عروج، زیادتی، (۴) دریا سے پانی آنے کا رخ۔

چڑھاوا: (۱) نڈو نیار، بھینٹ، (۲) سنگتی یا برات کے موقع پڑھیں

کو دھوا والوں کا دیا ہوا زیور، (۳) بڑھاوا، دم۔

چڑھاوا آتار: پانی کی طینائی اور کسی کسی کیفیت میں کمی یا زیادتی۔

چڑھاوے بڑھاوے دینا: تعریف کر کے آسمان پر چڑھانا۔

چڑھائی: موتھ؛ (۱) بلندی، اونچائی، زمین کی بلند جانب، (۲) حملہ

دھاوا، پوش، (۳) شکر کشی۔

چڑھ بتنا: بن آنا، حسب قمراد ہونا۔

چڑھتا: بڑھتا، ترقی کرتا، عروج کرتا، سوا، نڈو، پراٹھا۔

چس جانا؛ (۱) پھٹ جانا (انگلیا کا) سک جانا، (۲) ٹیڑھا جانا، بہت
 لاغر ہو جانا۔
 چسک : موت؛ (۱) بیٹھا بیٹھا درد، خفیت درد، (۲) گوڑے کوئی
 کی باریک تحریر۔
 چسکا : مذکر؛ (۱) جاٹ، چوہین، (۲) عادت، لت (۳) ذوق۔
 چسکی : موت؛ (۱) گھونٹ، کش؛ (۲) گھلی ہوئی آبیون کا گھونٹ۔
 چسنا : مذکر؛ (۱) جوڑنے کا کھلونا، (۲) طاقت کا زائل ہو جانا۔
 چسنی / چوسنی : موٹف؛ بچوں کے جوڑنے کا کھلونا، (۲) دوہ
 پلانے کی شیشی۔
 چشتی : (ف) صفت؛ (۱) چشت کا باشندہ (بج ش) (۲) صوفیا
 کا ایک مشہور سلسلہ جو خواجہ معین الدین چشتی سے چلتا ہے۔
 چشنگ : (ف) موت؛ زیادتی، افزونی، خاصے سے بچا ہوا زائد کھانا۔
 چشم : (ف) موت؛ (۱) آنکھ، دیدہ۔
 — بد دور : (اضافت کے ساتھ)؛ نظر بد دور، نظر بد نہ لگے۔
 — براہ : (ف) منتظر۔
 — ملبس : مذکر؛ ایک قسم کا کپڑا۔
 — بیمار : (اضافت کے ساتھ)؛ (ف) موت؛ بشمیلی آنکھ۔
 — پیر آب : (اضافت کے ساتھ)؛ آنسو سے بھری ہوئی آنکھ۔
 — پوشی : (ف) موت؛ دیکھ کر ڈال جانا، درگزر کرنا۔
 — واشت : (ف) موت؛ توقع، امید۔
 — زخم : (اضافت کے ساتھ)؛ (ف) مذکر؛ نظر بد کے اثر
 سے پہنچنے والا نقصان، نظر بد کا آزار۔
 — زون : پلک مارنا، ٹوہ بھر۔
 — خون آلود : قہر و غضب کی سرخ آنکھ۔
 — نم : (اضافت کے ساتھ)؛ (ف) موت؛ آنسوؤں
 سے بھیجی ہوئی آنکھ۔
 — نمائی : (ف) موت؛ تہنید، بھڑکی۔
 — نیم باز / چشم نیم خواب : (ف) موت؛ ادھ لگی آنکھ۔
 — نہمی اور جھکی ہوئی آنکھ۔
 — و چراغ : دکھنا، نور چشم، بیبا، حمایت عزیز، بہت پیارا۔
 — مار و سن دل باشاو : (اضافت کے ساتھ)؛ (ف)؛ (مقولہ)؛

موتھ پر آتا ہوا۔
 چڑھتے اترتے؛ کسی قدر کم و بیش۔
 چڑھتی جوانی : آغاز شباب۔
 چڑھتے چاند : مہینے کا ابتدائی حصہ۔
 چڑھنا : (۱) پستی سے بلندی پر جانا، میچے سے اوپر جانا، (۲) چوٹی
 پر جانا۔ اٹھنا، ابھرنے (۳) بڑھنا، ترقی کرنا، (۴) اڑنا،
 (۵) دریا کے پانی کا زیادہ ہو جانا، (۶) حملہ کرنا، (۷) مہنگا کرنا،
 (۸) آواز کا بلند ہونا، (۹) کسا جانا، تننا، (۱۰) آستین
 چڑھانا، (۱۱) پھانسی پر چڑھنا، (۱۲) گھوڑے پہ
 سوار ہونا، (۱۳) ذمہ ہو جانا، (۱۴) دن چڑھنا،
 (۱۵) درج ہونا، چہرا ہونا، لکھا جانا، (۱۶) نشہ کا سر
 یا دماغ پر اثر کرنا، (۱۷) چڑھے پر کینے کو رکھا جانا، (۱۸)
 عدالت کچھری چڑھنا، (۱۹) نرکا مادہ پر چڑھنا۔
 چڑھ مار گولہ لپکے : (دش)؛ پورا یا تو حاصل ہے مطلب حاصل ہے۔
 چڑھی بارگاہ : موت؛ عروج کا، بہت بلند مرتبہ۔
 چڑھی گنگا اترنا : رکنا، تننا؛ بڑا کام کرنا۔
 چڑھے چاک چاہے سو اٹار لو : (دش)؛ کام جاری ہے اس وقت
 جو کام چاہو کرو حکومت کے وقت سب کچھ ہو سکتا ہے۔
 چڑھی ہونا : (۱) غرور کا نشہ ہونا، (۲) کسی بات کا دل میں جم جانا۔
 چڑھیت : مذکر؛ سوار، سواری لینے والا، چڑھنے والا، دوسرے
 کا نوکر، بارگیر۔
 چسنا : چوڑوانا، چسوا چسوا کر پلانا۔
 چسپال : (ف)؛ (۱) چپکا ہوا، (۲) موزوں، ٹھیک، زریا۔
 کرنا، چپکانا، لگانا۔
 چسپیدگی : (ف) چپک، چپکنا۔
 چست : (ف)؛ (۱) چالاک، پھرتیلہ، (۲) تنگ، کھپا ہوا۔
 (۳) ٹھیک، موزوں، (۴) مضبوط۔
 چستی : (ف) موت؛ (۱) چالاک، پھرتی، تیزی، (۲) تنگی
 (۳) مضبوطی، (۴) دلیری۔
 چستہ : (ف) مذکر؛ بجری کے تھکے کا مادہ جس میں پیارہا اور تیل ہے۔
 چشتر : (انگ)؛ مذکر؛ ڈاکٹر، برسر میں عمل کرنے والا۔

چک آجانا / آنا: پتھوں کے ادھر ادھر ہو جانے سے دروگر ہونا۔
چکنا: مذکر؛ گول چیز، مرغ، اینٹ یا پتھر کا کچا چوترا۔
— ڈہی؛ مذکر؛ جما ہوا دہی۔

— باندھنا؛ اینٹوں یا پتھروں کا مستطیل ڈھیر لگانا۔
چکنا چوندھ: مونث؛ (۱) تیز روشنی کی وجہ سے آنکھ کا جھپکنا۔
(۲) تعجب، حیرت۔

— آنا / لگنا: آنکھوں کے آگے روشنی کے باعث اندھرا
آنا، تاب نفاہ نہ لانا۔

چکارا: (۱) مذکر؛ (۲) ایک قسم کا چوٹا، نہایت چالاک اور
تیز ہرن (۳) چھوٹی سارنگی ایک قسم کا دوتا۔
چکاری؛ مذکر؛ (۱) شکاری چاقو (۲) پتھر کی طرح ایک کپڑا۔
چکانا؛ (۱) قیمت ٹھہرانا، مول کرنا، نرخ قرار دینا، بھاؤ کرنا، (۲)
فیصلہ کرنا، (۳) جھگڑانا۔ بیباق کرنا، ختم کرنا، پورا کرنا۔

چکانی؛ مونث؛ چکانے کا کام، طے کرنا، فیصلہ کرنا۔
چکاکوک؛ (۱) مذکر؛ چنڈول، ایک خوش آواز پرندہ۔
چکچھیری؛ مونث؛ چکر باندھ کر پھرنے والا دائرہ میں گردش کرنا،
بچوں کا ایک کھیل

چکلتا؛ مذکر؛ (۱) گول نشان، گول دھبہ، (۲) کالے نشان، دانتوں
کا نشان، (۳) لال خواہ نیلے داغ کا دھبہ، (۴) گوشت کا ٹکڑا۔
چکلتا کرنا؛ (۱) قرض ادا کرنا، حساب بیباق کرنا۔

چکلت مارنا؛ منہ سے بوٹی بھر لینا، دانتوں سے کاٹ کھانا، منہ
مارنا، دانت مارنا۔

چکیتی؛ مونث؛ (۱) ٹکیا، گردہ، گول چیز، (۲) دُنبہ کی چوڑی دم (۳)
صابن کا چوڑا ٹکڑا، (۴) چڑھے کا گول ٹکڑا، (۵) کاسہ، سر۔

چکٹ: نہایت نیلا، نیلا، میلا کھپلا۔
چکٹنا؛ (۱) چکنا ہو کر چھپانے لگانا، (۲) میلا ہونا، کثیف ہونا۔
چکٹا؛ مذکر؛ (۱) منٹھا، منٹھی۔
چکٹی؛ مونث؛ (۱) منٹھا، منٹھی۔
چککا؛ روشن، چمک دار۔

چکچکی؛ مونث؛ (۱) جوگیوں کے بجانے کی دو چپٹی لٹریوں کی
جوڑی، (۲) ایک قسم کا خنجر۔

ہیں بہت خوشی سے منظور ہے۔

چشمک؛ مونث؛ (۱) اشارہ چشم، (۲) شکر، سخی، ریش، رکاوٹ۔
چشمک زن؛ آنکھ سے اشارہ کرنے والا، طعن کرنے والا۔
چشمہ؛ (۱) مذکر؛ (۲) پانی کا سوتا، (۳) سونی کا کاغذ، (۴) منیک۔
— حیواں / چشمہ / حوض: (۱) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ آب
حیات، (۲) تشبیہ (مشوق کا منہ)۔
— زار / چشمہ ساز؛ بہت سے چشموں والی جگہ۔

— ساسبیل؛ (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) مذکر؛ بہت کی ایک
چٹا / چوغہ؛ (ترکی)؛ مذکر؛ عبا، جینے۔

چغتالی / چغتالی؛ چغتائی چنگیز خاں کی نسل سے منگولوں کا ایک خاندان۔
چغند / چغندر؛ (۱) مذکر؛ (۲) اٹوکی ایک قسم (۳) دکھانا، ہوتوف، حق
چغزل؛ (۱) مذکر؛ گلی، چلم میں رکھنے کا کنکر، وہ کنکر جس کو رکھ کر
تباکو رکھا جائے۔

— خور؛ مذکر؛ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، نماز، نماز، تمام۔

— خوری؛ مونث؛ غمازی، نمازین۔

چغلی؛ مونث؛ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، ادھر کی ادھر لگانا۔
کھانا؛ برائی کرنا، نسبت کرنا، غمازی کرنا۔

چچ / چک؛ (ترکی)؛ مونث؛ چلن۔
چچتر؛ (ترکی)؛ مذکر؛ چشم پانی بہا ہوا گڑھا۔

چحماق / چحماق؛ (ترکی) وہ پتھر جس کے گڑھنے سے آگ نکلتی ہے۔
— جھاڑنا؛ چحماق سے آگ لگانا۔

چقندر؛ (۱) مذکر؛ ایک قسم کی شجر کی طرح سرخ ترکاری۔

— سا؛ بہت سرخ، لال رنگا، موٹا تازہ۔

چک، کھ، گ

چک؛ مذکر؛ تقسیم کیا ہوا قطعہ زمین۔

— بندی؛ مونث؛ زمین کی حد بندی۔

— پھیریاں دینا؛ گھمانا، چکر دینا۔

— تراشی؛ زمین کے الگ الگ قطعات کرنا۔

چک؛ (۱) ہونٹ، (۲) عصا کے پھانسی سے لکڑی کا ٹکڑا، (۳) دنگ، کسی
بیک سے قدر مال کرنے کی تحریر، (۴) ہڈی، (۵) تھلے کا پرچہ،

ٹیک درھیا: ٹھڈی کے نیچے چھدری داڑھی والا آدی۔

چیکر: مذکر (۱) حلقہ، دائرہ (۲) پتیا، احاطہ (۳) سمونڈ (۴)

گول سٹک، (۵) سرکا گھومنا، گردش، (۶) مگر پرو حارو الا

ایک گول ہتھیار (۷) حیرت (۸) انگلیا کا بنگلہ۔

آنا: سر پھرناء، عش آنا۔

باندھنا: (۱) جلد جلد گردش کر کے دائرہ کی شکل پیدا کر دینا

(۲) حلقہ در حلقہ ہونا، پرج در پرج ہونا۔

دینا: قدر کے راستے جانا، (۲) پھیر دینا، (۳) پریشان

کرنا، (۴) گھوڑے کو پھیرنا۔

کاٹنا: چیکر مارنا۔

کرنا: پھیرے کرنا، پھیرنا۔

کھانا: (۱) گردش کرنا، پھرناء، گھومنا، (۲) آوارہ پھرناء،

مارے مارے پھرناء، (۳) یوانا، سر پھرناء۔

لگانا: گرد پھرناء، گشت کرنا، گھومنا، پھرناء۔

مارنا: بار بار آنا جانا، گردش کرنا، پھیر کھانا۔

میں ڈالنا: (۱) معصیت اور سختی میں مبتلا کرنا، (۲) جوک

باختہ کرنا، (۳) راستہ بھٹانا۔

چکر ا دینا: پریشان کرنا۔

چکر آنا: (۱) چکر کھانا، (۲) گھبرانا، (۳) غش کھانا۔

چکر گھٹی: موت، (۱) گردش، بے فائدہ اور بے جا گردش، (۲)

تجڑ کا ایک کھلونا۔

چکر مکر: مذکر، دفا، فریب، بہانہ، دم، جھانسا، کسی کھم میں ملنا

لگانا: (۱) حیلہ حوالہ کرنا، (۲) پلنا، جنجیش کرنا۔

چکس: مذکر، پرزدوں کے بٹانے کی لکڑی، بیل کا اڈا۔

چکلا: مذکر، (۱) چوڑا، (۲) ہلکی جٹی، (۳) جٹی کا پاٹ،

روٹیاں میلنے کا گول چکنا پتھر، (۴) نکوڑی سا گول تختہ،

(۵) جاگیر، علاقہ، صوبہ، ملک کا حصہ، (۶) رنڈیوں کا محلہ۔

بندی: موت، حد بندی۔

چکلائی: مذکر، چوڑائی۔

چکے دار: مذکر، (۱) صوبیدار، جاگیر دار، پرگنے یا علاقے کا محلہ

(۲) بھڑوا، کسبیوں کے محلے کا داروغہ۔

چکلس: موت، ہنسی، دل لگی، لہسی، مذاق، تفریح۔

چکنا: مذکر، (۱) فریب، (۲) ضرر، نقصان، (۳) ایک قسم کا کھیل۔

چلنا: چل جانا، (۱) داؤں چلنا، فریب کی چال چلنا۔

دینا: (۱) دھوکا دینا، فریب دینا، نقصان پہنچانا، (۲)

حریت کو مخالط دینا۔

کھانا: حریت سے دھوکا کھانا، فریب میں آجانا۔

چکماک / چکماک: (تڑکی)، موت، دیکھو چمقا۔

چکن: موت، ایک قسم کا کشیدہ، سوزن کاری، سونی کا

کام، بیل بوٹے کا کپڑا۔

دوز: (ت) مذکر، کپڑے پر چکن بنانے والا۔

چکنا: مذکر، (۱) چرب، تیلیا، (۲) روغن، (۳) چربی دار موٹا،

(۴) پھلنے والا، (۵) صاف ستھرا، (۶) بے حیا، بے غیرت۔

چچرا: خوش پوش، خوش لباس۔

دیکھ پھیل پڑے: (مثل) دولت دیکھ کے رکھ گئے۔

خوبصورت دیکھ کے لوٹ ہو گئے۔

چکن: CHICKEN (انگ)، مذکر، مرغ، چوزہ۔

بریانی: BIRYANI (ہند) موت، مرغ کی بریانی۔

سوپ: SOUP (انگ)، مذکر، چوزے یا مرغ کی سوئی۔

چکنا گھڑا: مذکر، (۱) دھازا، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، کسی بات کا اثر

بوند پڑی ڈھل گیا، (مثل) بے غیرت پر لعنت مت

کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

چکنا منہ پیٹ خالی: (مثل) منہ پر رونق اور پیٹ خالی ظاہری ہونا۔

منہ سب چاٹتے (چومتے) ہیں: (مثل) خوش حال

کی سب بچھ خاطر ہوتی ہے۔

چکنے گھڑے پر بوند نہیں ٹھہرتی: (مثل) بے غیرت شرمندہ نہیں ہوتا۔

چکنا، کسی چیز پر رونق لگا کر چکنا کرنا۔

چکناوٹ / چکناہٹ: موت، چکنا، معنائی، چکنا خوبصورتی۔

چکنائی: موت، چرنی تیل، مٹی، روغن۔

چکنی: (۱) روٹی، (۲) پھسلنی، لیس دار، (۳) ایک قسم کی چھایا، (۴) ڈلی

باتیں / چکنی چوڑی باتیں: موت، خوشامدی باتیں،

دل فریب باتیں، خوش آئند گفتگو۔

چکنی ڈلی: موت؛ ایک قسم کی چھالیا۔
 موتی: پینے کے کام آنے والی مٹی۔
 چکنیا: بانجھ پھیل چھبلا۔
 چکنیا چور ہونا: ریزہ ریزہ ہو جانا۔
 چکرو: مذکر؛ (۱) چاقو کا مخمف جھوٹا چاقو۔
 چکوا: مذکر؛ کھنگ، بکری کا گوشت جینے والا، بکر قصاب۔
 چکوا/چکوی: شراب کا جوڑا۔
 چکوتا: ایک جلدی مرض، آکوتا۔
 چکوتا: مذکر؛ فیصلہ، نرخ کا تصفیہ، بے باقی۔
 چکوترا: بڑی نارنجی کی طرح کا ایک پھل۔
 چکور: تھیر کی قسم کا ایک خوشنما پرند، چاند کا عاشق پرندہ۔
 چکنی: موت؛ (۱) ڈور ڈال کر پھرنے والا لکڑی کا گول کھلونا، (۲) گول، دُور۔

چ - ل

چل: ہٹ دُور ہو۔
 بہ چل ہونا/چل بہ چل پڑنا: (۱) بے جگہ بے موثر ہونا،
 (۲) غلطی ہونا۔ چوک ہونا۔ (۳) علاحدگی ہونا۔ حرکت
 ہونا، (۴) پھل ہونا، ہدایت نامی ہونا۔
 بَسْنَا: مَر جانا۔
 پڑنا: (۱) روانہ ہونا، (۲) شروع ہونا، کہنے لگنا،
 (۳) چلنے لگنا، رواں ہونا۔
 پھیر: (۱) چالاکی، (۲) گردش، (۳) تلوار کی گردش۔
 جانا: (۱) بھٹ جانا، (۲) بسر ہونا، گذر جانا، (۳)
 لڑائی ہو جانا، (۴) کارگر ہونا، (۵) کام دینا۔
 چلاؤ: مذکر؛ روانوی، کوچ، سفر۔
 وینا: رفت چکر ہو جانا۔
 نکلتا: (۱) جاری ہو جانا، (۲) روانہ ہو جانا، (۳) پھینچنے
 لکھنے کے قابل ہو جانا، کسی کام کا بوجھ برداشت کرنے
 کے قابل ہو جانا، (۴) اپنی حیثیت سے بڑھ جانا، اتر جانا،
 تیز ہو جانا، چالاک ہو جانا، (۵) بے تکلف ہو جانا، گستاخ ہو جانا،
 (۶) سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، (۷) ترقی کر جانا۔
 نہ سکوں مرا کدن نام: (عربی)؛ (دش) دگدن، کو دُننے
 والا، طاقت سے زیادہ دعو کرنے والا۔
 ہوا بن چل ہوا ہو: رخصت ہو ہوا کا، چلتا پھرتا نظر آ۔
 چل: موت؛ (۱) خارش، کھلی، (۲) شہوت، (۳) انسان کے
 ہاتھ پاؤں کا قدر نہ پہننا اور حرکت کرتے رہنا، بے مہینگی۔
 اٹھنا: (۱) کھلی ہونا، (۲) شہوت کا غلبہ ہونا، (۳) چھپر
 پھاڑنے کی خواہش ہونا۔
 مٹانا: غائب دُور کرنا، خواہش مٹانا۔
 چلا: مذکر، (۱) کمان کی تانت کے ایک سرے کا پھلہ، (۲) ہینہ
 چکنی ڈلی: موت؛ ایک قسم کی چھالیا۔
 موتی: پینے کے کام آنے والی مٹی۔
 چکنیا: بانجھ پھیل چھبلا۔
 چکنیا چور ہونا: ریزہ ریزہ ہو جانا۔
 چکرو: مذکر؛ (۱) چاقو کا مخمف جھوٹا چاقو۔
 چکوا: مذکر؛ کھنگ، بکری کا گوشت جینے والا، بکر قصاب۔
 چکوا/چکوی: شراب کا جوڑا۔
 چکوتا: ایک جلدی مرض، آکوتا۔
 چکوتا: مذکر؛ فیصلہ، نرخ کا تصفیہ، بے باقی۔
 چکوترا: بڑی نارنجی کی طرح کا ایک پھل۔
 چکور: تھیر کی قسم کا ایک خوشنما پرند، چاند کا عاشق پرندہ۔
 چکنی: موت؛ (۱) ڈور ڈال کر پھرنے والا لکڑی کا گول کھلونا، (۲) گول، دُور۔
 آڑو: مذکر؛ ایک پھل کا نام، گول آڑو۔
 چکنی: موت؛ (۱) آنا پیسنے یا دانہ دُلنے کا آلہ، (۲) گھٹنے
 کی ہڈی، چینی۔
 پیسننا: (۱) چکنی چلانا، آنا پیسننا، (۲) کسی کام کو عرصے تک کیے جانا۔
 چلنا: فہم پیسننا، چکنی کا گردش کرنا۔
 دُلانا: چکنی کو گودنا، چکنی کو گھردرا کرنا۔
 کاپاٹ: مذکر؛ چکنی کے دو حصوں میں سے ایک حصہ۔
 کاکھونٹا: چکنی چلانے کا ڈنڈا۔
 کی مانی/چکنی کی کپیل: موت؛ چکنی پھرنے کی کپیل۔
 چکیدہ: (دش) ٹپکا ہوا۔
 چکھا دینا: (۱) کھلا دینا، (۲) سزا دینا۔
 چکھا چکھی کرنا: تھوڑا سا چکھ لینا، ذرا سا کھا لینا۔
 چکھ جانا: (۱) نوش کر جانا، (۲) کھانا، مال خورد دُور کر جانا۔
 چکھ ڈالنا: کھا ڈالنا، بالکل کھا جانا، روپیا اُڑا دینا۔
 چکھنا: (۱) مزہ لینا، چاشنی دیکھنا، ذرا سا کھانا، (۲) لطف
 اٹھانا، ذائقہ دیکھنا۔
 چکھتیاں: موت؛ لذت کھانے، چھورا پن۔
 چکنا: پرندہ کا دانہ چن چن کر کھانا۔

جلتی گاڑی میں رُوٹرا مکانا؛ کسی جاری اور رواں کا میں ک پید کرنا۔
جلتی ہوئی بات : سرسری بات۔

جلت پھرت : موت؛ پھرتی، چپستی، چالاک۔
چلتیر : مکرو فریب۔

چلچلاتی دھوپ : موت؛ جلتی ہوئی دھوپ، بہت تیز دھوپ۔
چلچلانا، (۱) چل بولنا، (۲) دکھانا بے فائدہ، وغوغا کرنا۔
چلچلانا : کھیلانا۔

چلٹر : مذکر؛ جو زیادہ گندے کپڑوں میں پڑنے والی جون۔
چلغوزہ : (ف) مذکر؛ ایک قسم کا میوہ۔

چلگ : موت؛ چک دمک، روشنی۔
چلکا : چاندی کا رسک، روپیا۔

چلگنا : چمکنا، ریت کا چمکنا، روشن ہونا۔

چلگم : موت؛ مٹنے پر آگ اور تباہی کو رکھ کر پینے کا برتن۔

چلوار : (مذکر) حقہ پلانے والا ملازم، بھندے بردار۔
تسباکو : مذکر؛ تھوڑا سا تسباکو۔

چٹ : چلم تک پ جانے کا ارادہ رکھنے والا مٹنے کا لٹیا۔
چلموں پر آگ رکھنا : (۱) چلمیں بھرا، حقہ پلانے کی خدمت،

(۲) دیکھنا، غلامی کرنا۔

چلچلی (ترکی) موت؛ شست، سلفی، سیلابی، ہاتھ نہ دھونے کا برتن۔
چلچلی چھوڑنا : موت؛ چلم کا پردہ ڈالنا۔

چلچلن : موت؛ چک، پتلیوں کا بنا ہوا پردہ۔

چلچلن : مذکر؛ (۱) چال، رفتار، وضع، روش، (۲) دستور رسم و
رواج، (۳) رسک، سیم و زر کا رواج۔

چلچلنا : سلامت روی میں فرق آنا۔

چلچلنا : کنایت شعاری سے گزر کر نا، وضع داری کے تھا بس کرنا۔
چلچلنا : سکے کا رواج ہونا کسی چیز کا رواج پاجانا۔

چلچلنا : (۱) کسی چیز کا حرکت کرنا، (۲) روانہ ہونا، (۳) سکے کا رواج پانا،
(۴) سفر کرنا، (۵) جاری ہونا، بہنا، (۶) ترقی ہونا، رونق ہونا، (۷) دنیا
سے جانا، (۸) بندوبست یا توپ چھوڑنا، (۹) تیر و تیغ و خیمہ وغیرہ کا

رواں ہونا، (۱۰) پائلہ ہونا، (۱۱) رسائی ہونا، بس ہونا۔
چلچلنا : شہنا، پھرنا۔

میں شکر ملا کر خمیر کر کے گھی میں تلی ہوئی روٹی، (۳) مریخ
مسالے کے ساتھ روٹی کی وضع کا ٹلا ہوا ٹلا۔

چلا جلی : موت؛ (۱) رواداری، سفر کرنا، تہیت اور شور، (۲) بوت کی گرم بازی،
چلانا : (۱) اٹلنا، روانہ کرنا، (۲) جاری کرنا، بہانا، (۳) کاروبار

جاری کرنا، کسی کام کو رونق دینا، (۴) بندوبست کرنا، انتظام کر کے
کسی کام کو جاری رکھنا، کام نکالنا، (۵) گھسیٹنا، (۶) حرکت دینا، (۷)

مسکانا، پھاڑنا، کپڑے کے ناروں کو جھلکا کر دینا، (۸) پھیلانا، یادگار رکھنا۔
(۹) سو دینا، (۱۰) کھوٹا رسک چلانا، (۱۱) نکالنا۔

چلانا : (۱) چیننا، (۲) رونا، فریاد کرنا، (۳) غصہ کرنا، غضب میں ہونا۔
چلا ہٹ : موت؛ شور و غل، چیخ۔

چلاو : مذکر؛ بے گوشت کا پلاؤ، گھی ڈالا چاول۔

چل بلا : (ف) چلبلہ، پھلانہ بیٹھے والا شوخ چالاک۔

چل بلا / چل بلا ہٹ : مذکر، موت؛ بے قراری، شوخی،
چنچل پن، زندہ دل۔

چل پاسہ : (ف) موت؛ چسکی۔

چلنا : (۱) بہتا ہوا، جاری، (۲) مروج، (۳) ہوشیار
(۴) بھاگتا ہوا، (۵) پرتا۔

چلنا / چلنا ہونا : بھاگ جانا۔

چلیرہ : مذکر؛ بڑا چالاک، منفی آدمی۔

کرنا : (۱) روانہ کرنا، (۲) ہلاک کرنا، (۳) کارروائی کے
قابل کرنا، (۴) کسی کام کا نکال دینا، (۵) تیز کرنا، دھار رکھنا۔

ہوا، (۶) کارگر پرتا، کامیاب، (۷) چالاک، ہوشیار۔
چلتے پھرتے نظر آنا : مطلب حاصل کر کے سٹک جانا، بھاگ کھٹے ہونا۔

چلتے ہاتھ : کام کرنے کی طاقت ہونا۔

چلتے ہوا سے لڑنا : نہایت بد مزاج ہونا، بات بات پر لڑنا خواہ
خواہ لڑائی کرنا۔

چلتی پھرتی چھاؤں دھوپ : چند روزہ عروج، دنیا کی
دولت نا پائدار ہے۔

چلتی دکان : خوب بکری والی دکان۔

چلتی کا نام گاڑی بیٹھے کا نام اوکھلی : (مشل)؛ جب تک کام
چلتا رہے اس وقت تک اطمینان ہے۔

چلیپا: (ف) (۱) جیسا یوں لی صلیب، (۲) علامت مثبت۔

بیج - م

چماچم کرنا: خوب چمکانا۔

چم حم: مذکر؛ چمک دمک، بیج دخم۔

چمار: مذکر؛ موچی۔ چمرا بیجے یا جوئیاں سینے اور گانٹھنے والا۔

چمڑوس: (۱) مٹوٹ (۲) چمڑوں کی عید۔

چماری: (۱) مٹوٹ۔ چماری جوڑ کنول گٹے کا وہ پھول جس کے اندر

کارنہ اپنی اصل رنگت سے گرا ہوا ہر رنگ ہو جاتا ہے۔

چمبک / چمک: مذکر؛ مٹنا جس؛

چمنبن: (کا) مذکر؛ بوسہ چرنا۔

چمپا: (ف) (چمپا) پھول؛ موت؛ ایک سنت و شہود اربعوں کا درخت۔

کلی: موت؛ گلے کا ایک زیور۔

چمپسی: سونے یا چمپا کی سی رنگت کا؛

چمپست: (کا)؛ چمپا ہوا غائب۔

چموجانا: بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔

چمپو: موت؛ بڑی کشتی۔

چمپین: CHAMFION؛ (لگ) مذکر؛ میر میدان، رستم،

بہادر، کسی کھیل میں سب سے سبقت لے جانے والا۔

چمٹکار: (۵) مذکر؛ تماشا، تعجب، سیرت، کرامت۔

چمٹا: مذکر؛ دست بٹنا، آگ لپٹنے کا آلہ۔

چمٹھی: موت؛ چھوٹا چمٹا۔

چمٹا لینا: گلے سے لپٹا لینا۔

چمٹانا: (۱) چمٹا کرنا چمٹانا، (۲) چمٹے لگانا، (۳) لپٹانا۔

چمٹنا: (۱) چمٹنا چمٹنا ہونا، (۲) ہر جہاں چمٹنا، (۳) گھٹنا، لپٹنا۔

چمٹو: مشکل سے جدا ہونے والا شخص، پچھانہ چھوڑنے والا۔

چمٹانا: چمٹانا۔

چمٹا ہٹ: موت؛ چمک؛

چمٹا چمٹا: (ترک) مذکر؛ سان یا ترقی چیز بکالے کا آلہ، ڈوٹی۔

چمٹا چمٹا: موت؛ چمٹا چمٹا ہونا، لگانے کا ایک چمٹا چمٹا۔

چمٹا: مذکر؛ چمٹا چمٹا۔

چمٹنا: (۱) جانے کا قصد کرنا، (۲) روزگار میں ترقی ہونا، کام چمٹنا،

(۳) تلوار لاشی سے مار بیٹ شروع ہونا۔

چمٹو: مذکر؛ چمٹیل اور انگلیوں کو ملا کر کٹوری کی طرح کی شکل بنانا۔

چمٹو: چمٹو کی مقدار، تھوڑا سا۔

چمٹو میں خوب مزہ: (دش) غیرت والے آدمی کے

مرنے کے لیے چمٹو بھریاں کافی ہے۔

چمٹو میں آٹو ہونا: (۱) اسی شدت سے آدر چہر میں مدہوش ہونا۔

چمٹوں لہو پڑھنا: حیات خوشی حاصل ہونا۔

چمٹو دیکھنا: (۱) خوب سنا، خوب پٹنا کی جلد۔

چمٹو ہونا: (۱) دیکھنا، بڑا صدمہ ہونا۔

چمٹو دیکھنا: (۱) بھلا صدمہ ہونا، زار و قطار رونا۔

چمٹو میں سمندر میں سما: (دش) چمٹے ظرف والے سے

بڑا کام نہیں ہو سکتا۔

چمٹو / چمٹو: موت؛ (۱) ایک قسم کی چمٹو پھل، (۲) ایک قسم

کی سیلے کپڑوں میں پیدا ہونے والی جڑ۔

چمٹو: موت؛ (۱) چمٹا ہٹ، (۲) بچے کی مرض ام

الغیبیان میں چمٹا ہٹ

چمٹو: مذکر؛ (۱) چالیس دن کا زمانہ (۲) چالیس دن کی گوشہ

نشینی اور وظیفہ خوانی، چالیس روز کا عمل (۳) وہ جگہ

جہاں کسی بزرگ نے چمٹو کٹی کی ہو، (۴) وہ کلاوہ یا ڈور

یا بن جو حصول مدعا کے لیے کسی ولی یا شہید کے مزار پر

منقدس درخت یا علم یا تعزیہ پر عوام باندھا کرتے ہیں (۵)

زچہ کا چالیسویں دن کا نہان۔ (۶) چالیس دن کا جاڑا۔

چمٹو: کمان کی تانت کے آخری سرے کا حلقہ یا پھلا

چمٹا ہونا: چمٹا ہونا۔

کھولنا: منت کا ڈور کھولنا۔

کھینچنا: (۱) چالیس روز تک گوشہ میں بیٹھ کر کوئی عمل یا

وظیفہ پڑھنا، گوشہ نشین ہونا، (۲) کمان سے چمٹا اتارنا۔

چمٹے کی سردی / چمٹے کے جاڑے: پوس ماگھ کی سردی، سخت

سردی۔

چمٹو / چمٹو / چمٹو: موت؛ سیلے کپڑوں کی جڑ۔

چمنی : CHINNEY. (انگ) نائرس، دودان، سہٹی یا نمن
سے دھواں یا بھاپ نکلنے کا راستا مولے یا شیشے کی بنی
ہوئی نالی۔

چھوٹا : مذکر : (۱) استرو صاف کھٹے کا چمڑا (۲) بے وقوف -
چھوٹی : مؤنث : تید یوں کے پاؤ کو زنجیر کی رگڑ سے بچانے والا چمڑا -
چھوڑانی : مؤنث : ایک قسم کا کھیل -
چھیگیوئیاں / (چھمی گویاں) : مؤنث : بگ شپ، شوخیاں -

چ - ن

چنا : مذکر : مشہور راج، منحود -
چنے سے بھن رہنا : آدمیوں کا چٹ پٹ کرنا -
چنے چبا لو یا شہنائی : بجا لو : (دش) دو کام ساتھ نہیں ہو سکتے -
چنا اور چنل منھ لگا ہوا : (مقولہ) چنے کی ٹھینگر اور چنل خور
کی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے -

چنے کا مارا ہوا : (دہلی) فراسی چوٹ سے مرنا -
چنار (د) : مذکر : پھوٹے پتوں والا ایک مشہور درخت (۲) (کنایتاً)
معتوق کی تفصیلی، (۳) مہندی لگانے کا ایک طریقہ جس میں
عورتیں ہاتھوں اور پاؤں پر نقش دیکھا کرتی ہیں -

چناتا : صفت، مذکر، بہت چھوٹا -
چنات چنیں : (د) مؤنث : (۱) ایسا ویسا، اس طرح اس طرح
(۲) میں میکھ، عیب، (۳) بشتا، سختی، تکرار -
— کرنا : باریکیاں چھاننا، بحث تکرار کرنا، نقص نکالنا -

چنات چہ : جیسا کہ، اس طرح -
چناتو : مذکر، (۱) ترتیب، (۲) دیوار کی اینٹوں کا برابر رکھنا،
لکڑیوں کا برابر رکھنا، (۳) انتخاب -

چناتوٹ : مؤنث : کپڑے کا چننا، اینٹ کا چننا، لکڑی کا چننا -
چنات ہوا : مذکر، منتعب، چنیدہ، چیدہ -

چناتی : مؤنث : تعمیر، عمارت، عمارت کی بناوٹ اور ساخت چنے کی ضرورت -
چناتو نشان : مذکر، الیکشن لڑنے والوں کا انتخابی نشان -

چنپٹر : (د) : (۱) سرپوش، گروہ، گھیر (۲) آسمان کا دور، (۳) پلم
پہر ڈھانکنے کا سوراخ دار سرپوش، (۴) گردن کی ہنسی -

چمر برہی : مؤنث : چاڑوں میں بارش کے دن -

— جلی : مؤنث : ایک قسم کا چھوٹا جگلا -

چمرخ : مؤنث : سگلا پھرنے کی پتلی سی چیز، لافز، مکرور -

چمرس : مذکر : جوتے کے چمڑے سے پڑنے والا زخم -

چمر گدھ : ایک قسم کا بڑا گدھ جو مردار کھاتا ہے -

چمڑا : مذکر : (۱) کھال پوست، جلد (۲) سخت نہ لگنے کے قابل -

چمڑے کی زبان : سمول چوک کرنے والی زبان -

چمڑے کے ہاتھ : (تعبیر اور مزاح) انسان کے ہاتھ -

چمڑی : مؤنث : بڑا کھال پوست -

چمڑی جائے دمڑی نہ جائے : (دش) : وہ سخیل جو پیسے دینے
کے سببے جہانی تکلیف سگھنے کو ترجیح دے -

چمک : (د) مؤنث : (۱) روشنی جھلک، سبھک (۲) دل کی سکک -

— اٹھنا : غصہ ہو جانا، بھڑک اٹھنا -

— چاندنی : مؤنث : (کنایتاً) آواز اور توں کی طرح بنی ٹہنی رہنے والی عورت -

— دار : چمکیلا، درخشاں -

— دمک : مؤنث : جھلک، آرائش، سجاوٹ -

چمکا کرنا : پیار کرنا، دلاسا دینا -

چمکاری دینا : دوسرے کسی کو پیار کرنا -

چمکانا : (۱) چمک دار سنانا، (۲) بھڑکانا، برفروختہ کرنا، (۳) گھوڑا
دوڑانا، گھوڑے کی رفتار کو تیز کرنا، (۴) علاحدوں سے تسخیر کرنا، (۵)
زور و تیز کرنا، (۶) تیز کر دینا -

چمکنا : (۱) روشنی دینا، کو منانا، (۲) (کنایتاً) نام پانا، صاحب شان و
شوکت ہونا، (۳) جھلکنا، جھلکانا، (۴) بھڑکنا، (۵) عروج
پکڑنا، طلوع ہونا -

چمکی : مؤنث : وہ ستارے جو سلسلہ اور رخ میں پرو کر ٹانگتے ہیں -

چمگلاوڑ : مؤنث : رات کو اڑنے والا ایک پرندہ -

چمیل / چمیلی : اول مذکر، دوم مؤنث : فقرا اور غریب لوگوں کے
کھانا پانی رکھنے کا چھوٹا برتن -

چمن : (د) : مذکر : (۱) باغ و گلزار، باغ کے ٹکڑے، (۲) (جھانڈا)
نہایت آباد شہر -

— آرا / چمن پیرا / چمن طراز : (د) باغبان -

چنبل: (۱) کاسہ گدائی، مہیک کا پیالہ، (۲) چلم کا سرپوش، (۳) ایک مشہور ندی۔
 چنبلی: موتھ؛ ایک قسم کا چوڑا پیالا۔
 چنبیلی: (موتھ) ایک مشہور خوشبودار پھول۔
 چنبت / چنٹ: موتھ، سلوٹ، بگڑی کی شکن۔
 چنٹا: (۴) موتھ، ڈرغوف، فکر قطرہ، اندیشہ، سوچ، پریشانی۔
 چنٹ: (۵) (۱) چالاک، (۲) نجیل۔
 چنچل: شوخ، شوخ مزاج، سخیلا، بیٹھنے والا، چلبلا، شہریر۔
 چنچنا: مذکر، بد مزاج، چوڑا، باریک آواز والا مرد۔
 چنچنانا: شہکنایہ، چیں چیں کرنا، رونا، بد مزاجی کرنا، بگڑنا۔
 چنچنی آواز نکالنا۔
 چنچنے: مذکر، بچوں کے پیٹ کے کرم۔
 چنچنا: ناگوار گزرا، مر چیں لگنا۔
 چنڈ: (۱) کس قدر کتنے (۲) کچھ (۳) چاند کا مخمف۔
 چنڈاں: (۱) اس قدر اتنی دیر، کچھ۔
 چنڈ روزہ: عارضی، فانی، ناپائیدار بے ثبات۔
 چنڈے آفتاب چنڈے ماہتاب: چمک دک میں چاند اور سورج کی طرح۔
 چنڈا مائوں: مذکر، چاند (بیچے کہتے ہیں)۔
 چنڈر: مذکر، (۱) چاند، (۲) مور کی دم کے چاند۔
 چنسی: مذکر، ایک مشہور خاندان جو خود کو چاند لوتال اولاد کہتا ہے اور جس میں کوروا پانڈو ہوتے ہیں۔
 چنسن: مذکر، چاند گزرنے۔
 چنک: (۱) مذکر، (۲) چنڈ و عقینہ، عالم مقبی جس میں جنت لوح ہے۔
 چنک: (۳) مذکر، چاند۔
 چنکی: (۴) موتھ؛ چاند جیسی شکل والی صفت، ماہ روز۔
 چنکر: (۵) مذکر، ایک قسم کی ماللا۔
 چنڈرا: مذکر، بھیر بالوں کی کھوپڑی والا شخص۔
 چنڈرانا: (۱) چنڈانا، (۲) جان بوجھ کر کوئی بات پوچھنا، جواب مارنا، دلا۔
 چنڈن: مذکر، مندل، مندل کی لکڑی۔
 چنڈ: مذکر، چاند بنا جو اگلے کارورہ شامیانا۔
 چنڈوا: مذکر، (۱) ٹوٹی کے اوپر کا حصہ (۲) گرو (۳) چنڈیانا۔

چنڈہ: (۱) ذرت، کسی کام کے لیے لوگوں سے لیکر جمع کیا ہوا روپیہ۔
 چنڈی / چنڈی: موتھ؛ ذرا ذرا معنی در معنی سمجھانا۔
 چنڈیا: موتھ؛ (چاند بمعنی کھوپڑی کی تصویر) (۱) سڑکھوپڑی، (۲) چھوٹی سی روٹی۔
 چنڈی: (۱) دیکھنا، (۲) لٹ لٹ کے کھا جانا، مفلس کر دینا، (۳) بے انتہا مارنا۔
 چنڈنا: (۱) سر موٹنا، (۲) لٹ لٹ کر کھانا، (۳) عورت کو سر موٹنے کی سزا دینا۔
 چن دینا: (۱) ترتیب دینا، (۲) آفتاب کر دینا۔
 چن ڈالنا: نکال ڈالنا۔
 چنڈھا: مذکر، چھوٹی آنکھوں والا، کم نظر۔
 چنڈھی آنکھیں / چنڈھے دیدے: پورے طور پر نہ کھل سکنے والی حلقی طور پر چھوٹی آنکھیں۔
 چنڈال: (۱) کمینہ (۲) بد نصیب، منحوس (۳) منحوس۔
 چنڈال: مذکر، (۱) ماتھے کا منحوس ایک بڑا بال، (۲) موٹے زباں۔
 چنڈاڑھی: موتھ، مفصلوں کا گروہ۔
 چنڈاول: مذکر، (۱) لشکر کی آخری فوج، (۲) سنتری، پہرے والا، پاسبان۔
 چنڈو: مذکر، چاندو، ایک قسم کا نشہ۔
 چنڈو باز: مذکر، (۱) چنڈو کا نشہ کرنے والا، (۲) چنڈو پینے والا، (۳) دکھنا، زرد رنگ کا آدمی، بے سوچ کی باتیں کرنے والا۔
 چنڈوول: (۱) ایک خوش آواز چڑیا، (۲) پھوڑا آدمی، (۳) مٹی کا ایک کھلونا، (۴) ایک قسم کی زنانہ پانکی۔
 چنڈری: موتھ؛ رنگ برنگ دھبہ۔
 چنک / چنگ / چننگ: موتھ، (۱) ایک قسم کی بیسر، (۲) کر کی چمک، (۳) چنڈا، (۴) پشاپ اور زخم کی سوزش۔
 چنگ: مذکر، موتھ؛ (۱) روشنی رکھا ہوا خباہت کا کھنڈا، (۲) ستار کی قسم کا ایک باجا۔
 چنگ: (۱) موتھ، (۲) چنگ بجانے والا۔
 چنگا: اچھا، تندرست۔

چنونی: موتھ؛ پان، بھانے والوں کی چونے کی ڈبیا۔
 چنور: مذکر؛ کھیاں اڑانے والوں کا پتھا۔
 چینی: سرخ چوڑا سا رنگ، ریزہ یا موت۔
 چھینا بٹ: ایک قسم کی چھوٹی بٹ۔
 چھینا گوند: مذکر؛ ڈھاک کا گوند۔
 چھینین: (ر) ایسا، ایسی بات۔

تج-و

چو: مذکر؛ چار (مرکبات میں مستعمل ہے)۔
 چارا: مذکر؛ (۱) کوٹھا، مکان کے اوپر کا چار دروازوں والا کھرا
 یا چار کھڑکیوں والا کمرہ، (۲) صحن۔
 چائی: موتھ؛ چاروں طرف چلنے والی ہوا۔
 چٹا: مذکر؛ دکھیا چہتیجہ۔
 بٹسلا: مذکر؛ چٹہ، اکڑھ، اچکن وغیرہ کے بٹل کے نیچے کا حصہ۔
 بندی: موتھ؛ (۱) غلبندی، (۲) خراج۔
 بندی جگرٹنا/چو بندی کشتا: (کشتا)؛ مجرم کے ہاتھ
 پاؤ باندھنا۔
 بولا: مذکر؛ چار مصرعوں کا گیت۔
 بیس: بیس اور چار، ۲۴۔
 بیسا: مذکر؛ (۱) چوبیس گانوں کا پرگنہ، (۲) ایک قسم کا نقش۔
 پال: موتھ؛ بیشک، نشست گاہ، گاؤ کا پچھائی مکان۔
 پائی/چو پئی: موتھ؛ ربا، چار مصرعوں کی نظم۔
 پایہ: مذکر؛ چار پایوں والا جانور، حیوان مطلق۔
 پیٹ: (۱) چاروں دروازے کھلے ہوئے، کھلا ہوا، فراخ،
 کشادہ، (۲) کورا، جاہل مطلق، (۳) ویران، برباد، تباہ، خرابہ
 (۴) پیٹ کے بل گزرا، چاروں خانے چھٹا گزرا۔
 پٹ کرنا: خراب کرنا، برباد کرنا۔
 پڑ: موتھ؛ (۱) چوسر (۲) چوسر کھینے کا کپڑا۔
 پڑ کا بازار: چار راہوں والا بازار۔
 پڑا: مذکر؛ گوندوں کے دو چار زرنوں کے بعد بنا ہوا بیج زرنہ۔
 پہل: (۱) چار پہلو، مربع، چار پہلو، (۲) موتھ؛ چوڑائی۔

چنگا بٹانا: (طنزاً)؛ حیران کرنا، عاجز کرنا، سزا دینا۔
 ہونا: تندرست ہونا۔
 چنگاری: موتھ؛ آگ کا پھول، شرارہ، (۲) (کشتا) یا
 رنجش والی بات۔
 جھڑنا: آگ کے پھول جھڑنا۔
 چھوڑنا: فتنہ انگیزی کرنا، آگ لگانا، لڑائی کرنا۔
 ڈالنا: آگ لگانا، فساد کرنا، جھگڑا اٹھانا۔
 چنگاریاں چھوڑنا: (۱) آگ کے شرارے بھٹکانا، آگ کی پٹیلی اٹھانا،
 (۲) بہت جلال ظاہر ہونا۔
 چنگال: مذکر؛ درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں کا پیچہ۔
 چنگل/چنگل: (ر) مذکر؛ (۱) آدمی یا جانور کا پیچہ، (۲) منحنی،
 (۳) نیچے کی گرفت (۴) انگلیوں کا خمیدہ ہو کر کسی شے کا پکڑنا۔
 میں آجانا، تالو میں آجانا۔
 چٹنا: مذکر؛ (۱) خانگی مرغ کا چھوٹا پتہ (۲) ناراض ہونا، خفا ہونا۔
 چٹنگی: موتھ؛ (۱) چٹھی بھر چنگل بھر (۲) باہر سے آنے والے مال
 پر شہری محصول، ٹیکس۔
 چٹگی: موتھ؛ تھوڑی آگ، آگ کا شرارہ، چنگاری۔
 چٹگییر: موتھ؛ (۱) پھول رکھنے کا برتن، پھولوں کی ٹوکری،
 (۲) خوان کا سرلوپش۔
 چٹگییری: موتھ؛ (۱) روٹیوں کی ٹوکری (۲) ایک قسم کی پھیلی
 ہوئی بیٹھک دار ٹوکری۔
 چٹگھاڑ: موتھ؛ اناںہ و فریاد کی بلند آواز، (۲) ہاتھی کی آواز۔
 مارنا، مہیب آواز بھگانا، ہاتھی یا دیو کا چھینا۔
 چٹگھاڑنا: (۱) ہاتھی کا بیج مارنا، (۲) غور کا ہونا۔
 چٹگھوٹیاں: موتھ؛ بیڑھے حروف بھگانا، پتوں یا ٹوکسیا کا۔
 چٹنا: (۱) استجاب کرنا، چھٹنا، پسند کرنا، اذکرنا، (۲) دیوار
 بنانا۔ (۳) رتھ بھگانا، (۴) ترتیب دینا، (۵) کپڑے میں چٹنا ڈالنا۔
 چٹندہ/چٹندہ: عمدہ چوٹی کا، اچھے سے اچھا، منتخب۔
 چٹنگ: موتھ؛ دکھو چنگ۔
 چٹنوانا: بنوانا، اکٹھا کرنا، ٹھٹھانا۔
 چٹنوتی: (۱) موتھ؛ لٹکار، چٹنج۔

- چو پہلا: مذکر؛ ایک قسم کا ڈولا، محاذ۔
 چھلا: مذکر؛ چار پھل کا پتھر۔
 چھتا: (۱) چار پھلوں کی گاڑی؛ (۲) ایک قسم کی گاڑی۔
 تارا: مذکر؛ (۱) چار تار کا بنا ہوا کپڑا؛ (۲) ایک قسم کے باجے کا نام۔
 تالا: مذکر؛ طبلہ بجانے کا ایک طریقہ۔
 ترا: چبوترہ۔
 تھ: موٹ؛ (۱) جو تھاحصہ؛ (۲) ہندی مہینے کی چوتھی تاریخ؛ (۳) ایک قسم کا خراج جو مرٹھے لیتے تھے۔
 تھما: مذکر؛ چہارم۔
 تھی: موٹ؛ سیاہ کی ایک رسم جو شادی کے بعد لاکی جاتی ہے۔
 تھی کا جوڑا: مذکر؛ وہ بھاری جوڑا جو دلہن چوتھی کے دن پہنتی ہے۔
 تھی کھیلنا: داماد کا چوتھی کے روز دلہن کے گھر سالیوں وغیرہ کو بھولوں کی چھڑیوں، بیسوں وغیرہ سے بطور کھیل مانا، ہنسی خوشی منانا۔
 تھے یا پانچویں: سبھی کبھی۔
 حدی: موٹ؛ چاروں حدیں، گھیر۔
 دہ: دس اور چار ۱۴۔
 دہ طبق: سات طبقے زمین اور سات طبقے آسمان کے۔
 دہ طبق روشن ہونا: عقل اور فراست بڑھ جانا۔
 دھوس کا چاند: مذکر؛ (۱) ماہ کامل، بدھ (۲) (کنایتاً)؛ نہایت خوبصورت۔
 راسنی: (۱) آستی اور چار ۸۴۔ (۲) گھنگھروہ سیلوں کی گردن کا گھنگھروں کا باہ (۳) ایک قسم کا زیور، جھانجن۔
 رانوسے: قوتے اور چار ۹۴۔
 راہا: مذکر؛ چار طرف کے راستے طے کرنے کی جگہ۔
 راہے پر: (کنایتاً)؛ سبکے سامنے، کھلم کھلا، سر بازار۔
 راس: ہموارہ، مربع، چوکور۔
 رانگ کا ثنا: تلوار کے ایک ہاتھ سے چار ٹکڑے کرنا۔
 تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
- چوسٹھ/چونسٹھ: ساٹھ اور چار ۶۴۔
 کڑی: موٹ؛ (۱) ہرن کی قلاخ، (۲) ایک قسم کی چائیزو کا مجموعہ، (۳) رسی کے چار تاروں سے پلنگ بنا، (۴) بچھیں جتے چار گھوڑے، (۵) ایک قسم کا زیور۔
 کڑی بھرنا: ہرن یا گھوڑے کا اچھلنا کڑ دنا، قلاخیں مارنا۔
 کڑی بھولنا: (۱) ہرن کا جست لگانا بھول جانا، (۲) (کنایتاً) گھبرا جانا تیزی جاتی رہنا۔
 کس: (۱) خیردار، چوکتا، اپنے کام میں ہوشیار، (۲) تول میں پورا، ٹھیک۔
 کسنی: موٹ؛ ہوشیاری، نگہبانی۔
 کتا: مذکر؛ موٹ، بارہ خیردار، باخبر۔
 کور: مربع، چوگوشہ، چورس۔
 کھشا: مذکر (۱) آئینہ کا گھر، فریم، (۲) کنویں کی ریبنڈ پر ڈالی جانے والی لکڑی۔
 کھوشٹ: مذکر؛ (۱) چاروں طرف، (۲) دنیا، ہر طرف۔
 کھوشٹا: مذکر؛ چار گوشہ۔
 گلا: مذکر؛ چار پکھڑی والا پھول۔
 گنا: چار چند، چار چند۔
 گوشیا: موٹ؛ چار گوشے کی ٹوپی، مذکر، ترکی گھوڑا۔
 ماس/چوماسا: مذکر؛ برسات کے چار مہینے۔
 مک/چومک: موٹ؛ (آٹے یا دھات کا) چار بجی کا چراغ۔
 مکھ جانا: منت، صدقہ یا نیا زکا چراغ جلانا۔
 مکھا: مذکر؛ (۱) چار منہ کا، (۲) چار بجی کا چراغ۔
 مٹے کا ایک ہاتھ۔
 مکھا لڑنا: (۱) حربیت سے چاروں طرف لڑنا، (۲) کنایتاً کسی آدمیوں کی بات کا جواب دینا۔
 مکھی: موٹ؛ (۱) ہندوں کی ایک دیوی کا نام، (۲) ایک درخت کے بیج کا نام۔
 میٹا کرنا: مجرم کو لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چار میٹوں میں باندھ کر سزا دینا۔
 ہتر: ستتر اور چار ۷۴۔

چوہ ہٹا، مذکر، چوک، چاروں طرف راستوں والا بازار چار کافلے والی جگہ۔
چوہا، ہوتے مشرط۔

کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانان؛ (فت) شل؛ انصاف اور ایمان کی جگہ سے نا انصافی ہوتو یا بانداری کہاں رہ جاتی ہے۔
چوہا، مذکر؛ (۱) ترشیشوں سے بنی ہوئی ایک چیز؛ (۲) ارگیا، خوشبودار کی چیز؛ (۳) پانی کی سوت (۴) بھیگی دال کا چھلکا۔
چوہا الیس؛ چالیس اور چار ۴۴۔

چوہا، شکانا۔
چوہاؤ؛ (۱) رساؤ، پیکاؤ؛ (۲) نکتہ چینی، بات کی کپڑ۔
چوب؛ مونث؛ (۱) لکڑی (۲) کسی صدمے سے آنکھ میں آئی ہوئی سڑھی، (۳) شامیاسنہ ڈیرے کی لکڑی، (۴) باجا بجانے کی لکڑی۔
چینی؛ (فت)؛ مونث؛ ایک مشہور صر دووا۔

وار؛ (فت)؛ مذکر؛ ریسوں کے محل کار بیان۔
دستی؛ (فت)؛ ہاتھ کی لکڑی، عصا، لاکھی۔
چوہا بولانی، تھوئی؛ (۲) ایک قسم کے میٹھے میوے دار چاول، (۳) شکرانہ۔
چکھنا؛ (۱) تورہ، چکھنا، (۲) سات سہانگوں کے ساتھ زچہ کا چکھنا۔

چوہہ؛ (۱) لاکھی، (۲) بیج، کھوٹا، لوہے کی کپل۔
چوہے؛ (۱) چارو بیوں کا عالم برہمن، (۲) مہرا کے برہمنوں کی ایک قسم۔
گئے تھے چھبے ہونے دو بے ہوئے؛ (مثل)؛ ترقی کے بجائے تخریب ہونا۔
چوٹڑ؛ مذکر؛ کولا، پتھرا، سڑھن۔

سجانا؛ (کنایتاً)؛ خوش ہونا، بنلیں سجانا۔
پیشنا / چوٹڑ پٹ لینا؛ (۱) (کنایتاً)؛ انیس کرنا، (۲) نہایت خوش ہونا۔
دکھانا؛ پیٹھ دکھانا، بے شرمی سے سجانا۔
چوٹڑوں پر پیاز کترنا؛ (کنایتاً)؛ سامنے دھوکا دینا، تو یہ فرو فریب دینا۔

چوٹ؛ مونث؛ (۱) ماڑ، ضرب، (۲) صدمہ، ٹکڑ، تکلیف، (۳) وار جگہ (۴) (کنایتاً)؛ طعن، طعنہ (۵) صدمہ، عشق و محبت کا، (۶) خواہش، آرزو، (۷) چوڑ متقابل، (۸) داؤں، گھات چال بیچ، (۹) نقصان، ضرر۔

چوٹ آما؛ ضرب آنا، صدمہ پہنچنا۔

آب بھرنا؛ لگی ہوئی ضرب کا ظاہر ہونا، از سر نو پیدا ہونا۔
در دکا دو بار دھا ہر ہونا۔

بچانا؛ ضرب خالی دینا، حریت کی ضرب کو اپنے اوپر نہ آنے دینا۔
پڑنا؛ (۱) ضرب پہنچنا، صدمہ پہنچنا، (۲) عکس پڑنا۔

پھیٹ / چوٹ چھیٹ؛ مونث؛ ضرب اور صدمہ۔
چلنا؛ (۱) وار کرنا، حملہ کرنا، (۲) دو شخصوں کا باہم ایک دوسرے پر طنز طعن کرنا، (۳) دو حرفیوں کا باہم جنگ کرنا۔

کرنا؛ (۱) تہہ مارنا، کاٹنا، ڈسنا، ضرب پہنچانا، (۲) وار کرنا۔
حملہ کرنا۔ (۳) داؤں کرنا، دھوکا دینا، (۴) طعنت دینا، طنز کرنا۔
کھانا؛ زخمی ہونا، صدمہ آٹھانا۔

لگنا؛ (۱) ضرب لگنا، ضرب کا اثر ہونا، (۲) رکنا، (مثل)؛ عشق ہونا، (۳) پھانسی لگنا، کھٹکا لگنا۔

چوٹشا؛ مذکر؛ چوڑ، آٹھانی گیرا۔
چوٹھی کتیا جلیبیوں کی رکھوالی؛ (مثل)؛ خانن کے سپرد امانت اور دیانت کا کام ہونا۔

چوٹی؛ (۱) عام بالوں سے آ بھرے ہوئے کچھ سر کے بال (۲) عورتوں کے گنڈھے ہوئے سر کے بال، (۳) یہ طرز نذر بچوں کے سر پر چند چوٹے ہوئے بال، (۴) پہاڑ کی سب سے اونچی جگہ، پہاڑ کی بلندی (۵) پرندوں کے سر پر آ بھرے چند پر، کھنی۔

دبنا؛ (کنایتاً)؛ مغلوب ہونا، مجبوری ہونا۔
رکھنا؛ (۱) منتع کے بال سر پر چوٹڑنا، (۲) ہندوؤں کا مذہبی خیال سے چند بال سر پر رکھنا۔

کا؛ عمدہ، اول درجے کا، چیدہ، چٹا ہوا۔
کترنا؛ (کنایتاً)؛ زیر کرنا، عاجز کرنا۔
کرنا؛ بال گوندھنا، بال سنوارنا۔

گوندھنا؛ چوٹی کرنا۔
والا؛ مذکر؛ (کنایتاً)؛ بھگتا، بھوت، سایہ، بلا۔
ہاتھ میں ہونا؛ (کنایتاً)؛ قابو اور اختیار میں ہونا۔

چوٹی کا نفرنس؛ مونث؛ (سیاسی اصطلاح)؛ مختلف ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس۔

چوچلا/چونچلا: مذکر؛ (۱) نازخوہ (۲) نازکی باتیں (بچوں کی)
 بگھارنا/چوچلا کرنا: (۱) ناز کرنا، خوخو کرنا، (۲) محبت جتانا۔

چوچی: موٹ؛ پستان۔

چودہ: دس اور چار ۱۴۔

چودھر: موٹ؛ بادشاہی زمانے کا ایک عہدہ،

چودھرات: موٹ؛ چودھری کا عہدہ، سرداری،

چودھری: مذکر؛ (۱) سرزنہ، نمبردار، مقدم، گانو کا سردار۔

چوڑ: (۱) چوٹا، ڈزد (۲) ناسور، زخم کے اندر کا اچھا ہونے

سے باقی رہ جانے والا حصہ، (۳) خفیہ، پوشیدہ، سوراخ،

(۴) ڈزد جینا، مہندی نہ لگنے سے رہ جانے والی سفیدی، (۵)

شیخ کا ایک طرف سے گھل جانا، (۶) بدگمانی، بدظنی، بُرائی،

(۷) اندیشہ، خوف، خطر، (۸) پوشیدہ، خفیہ (درپردہ)، (۹)

زبان پر نہ آنے والی اور دل میں چھپی ہوئی بات۔

چور بازار: مذکر؛ چوری کے مال کینے کا بازار۔

بدن: مذکر؛ مٹائی، ٹھپالینے والا جسم۔

بن کر آنا: ٹھپ کر آنا۔

پر مور پڑنا: مٹھلوں کو مٹھلنا، بد معاش سے بد معاشی کرنا،

چور کے گھر میں چوری کرنا۔

پڑنا: (۱) چوروں کا کسی کے گھر میں آ کرنا، (۲) ناسور پڑنا،

(۳) مہندی لگانے سے کچھ جگہ چھوٹ جانا۔

پہرا: مذکر؛ خفیہ پہرا، پوشیدہ پاسبانی۔

پیٹ (م) عمل نہ ظاہر ہونے والا پیٹ۔

پچکار: مذکر؛ چور، چکا، چور۔

چوری سے گیا تو کیا، میرا پھیری سے گیا: مثل؛ عیب

چھوٹنے پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، میری عادت نہیں جاتی۔

خانہ: مذکر؛ (۱) صندوق، پوشیدہ خانہ، (۲) چھبے کے

اندز کا خانہ، (۳) خلوت خانہ، خلوت گاہ۔

دروازہ: مذکر؛ گھر کا چھپا راستہ۔

زمین: موٹ؛ دلدل۔

سے کچھ چوری کر شاہ سے کہے تیرا گھر لٹا: مثل؛ وہ

سے کہیں مونس شاہ سے کہیں جاگ شخص جو

خود ہی نقصان کرے اور خود ہی ہمدرد رہے۔

چور کا بھائی گرہ کٹ: (مثل) عیب دار کی طرف داری کرنے والا۔

کاشا بد چراغ: (مثل) عیب کھول دینے والا۔

کچھری: موٹ؛ پوشیدہ طور سے بد معاشوں اور چوروں کی سراغ

رسانی کرنے کا حکم، خفیہ پولیس، (حکمہ ٹھگی)۔

کھڑکی: موٹ؛ پوشیدہ در کچھ۔

کلی: پا جامہ کی میانی۔

کی داڑھی میں تنکا: (مثل) عام طعنے اور کینا پیے کو

اپنی طرف گمان کرنا۔

محل: مذکر؛ بیاتھالی بی کے سوال ایک اور ہیوی۔

کے گھر مور/چور کے گھر گرہ کٹ: (مثل) چالاک کو دغا

دینے والا۔ چور کے گھر چوری ہونا۔

کے پیر (یا فاقی) کہاں: (مثل) مجرم کو استقلال نہیں ہوتا۔

چور ذرا سا ٹھکا پا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

چوری: موٹ؛ (۱) سرقہ، ڈزدی، (۲) پردہ۔

اور سینہ زوری/چوری منہ زوری/چوری سر زوری: مثل

اپنے قصور پر نادم نہ ہو کر اٹنے دھکا نا، عیب کر کے آنکھیں کھانا۔

چوری: چھپے چھپے، درپردہ۔

چھپے: درپردہ، خفیہ۔

کا گڑ میٹھا: (مثل) مفت کا مال پیارا ہوتا ہے۔

چورا: مذکر؛ چورا، ریزہ، ریزہ، سرشار۔

ہو جانا/چور چور ہو جانا: کسی شے کا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ

ہو جانا۔

چورا: مذکر؛ بُرادا، ریزہ۔

کرنا: ہلکے ہلکے کرنا، پستانا، کوٹنا، ریزہ ریزہ کرنا۔

چورن: مذکر؛ (۱) بد معنی کے علاج کا ایک قسم کا سفوت، (۲)

چھٹی، چھٹی، (۳) چورا، سفوت۔

چوڑا: مذکر؛ چکا، فراخ، کشادہ۔

چوڑان: مذکر؛ چوڑائی، عرض۔

چوڑانا: پھیلانا، فراخ کرنا، کشادہ کرنا۔

چوڑاؤ: مذکر؛ پات، وسعت۔

- چوڑائی، موٹف، چوڑان۔
 چوڑا ہوجانا، دہلی (مو)، کنایا، براد ہوجانا، تباہ ہوجانا۔
 چوڑا، مذکر، (۱) لاکھ کی بڑی چوڑی، (۲) چوڑی۔
 چوڑی، موٹف، بڑا لاکھ، کالج، یاسونا چاندی کے عورتوں کے ہاتھ
 میں پہننے کے حلقے، (۲) کسی پڑے کے تیج۔
 دار، چوڑیوں دار، سٹخوں پر سلوٹیں پڑا ہوا تنگ ٹہری
 کا پاجامہ۔
 چوڑیاں بڑھانا، چوڑیاں آمارنا، چوڑیاں اتار کر رکھنا۔
 پہنانا، (۱) کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالنا، (۲) کنایا،
 بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنا۔
 پہننا، (۱) ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالنا، (۲) کنایا، بڑی
 اختیار کرنا، (۳) عورت کا دوسری شادی کرنا۔
 ٹھنڈی کرنا، چوڑیاں توڑنا، بیوہ ہونے پر سہاگ کی
 علامت چوڑیاں توڑ دینا۔
 ٹھنڈی ہونا، چوڑیاں ٹوٹنا، کسی صدمہ یا ضرب سے
 چوڑیوں کا ٹوٹ جانا۔
 چوڑھا، مذکر، کمینہ رزیل۔
 چوڑہ، (ف)، مذکر، (۱) مرئی کا بچہ، پٹھا، پٹھہ، (۲) کنایا،
 نو عمر خور و سال آدمی، جوان لڑکی۔
 چوسا، مذکر، سوہن، وہ آدھیں سے براہ کرتے ہیں۔
 چوسر، موٹف، (۱) ایک قسم کی پھپھی کا کیسل، (۲) گوٹس رکھنے
 کی بساط۔
 چوسنا، (۱) چھوڑنا، جذب کرنا، سونکھنا، بچے کا دودھ پینا،
 (۲) چھوڑنا، عرق نکال لینا، (۳) ہونٹوں سے فیروانیت
 لگے دبا کر کسی شے کا مزہ لینا۔
 چوشنی، موٹف، پشنی۔
 چوک، مذکر، (۱) مرتب، مرتب میلن، (۲) وسیع صحن، آئین
 انگٹائی، (۳) وہ بڑا بازار جس کے چار راستے ہوں۔
 چوک، (۱) ایک قسم کا کھٹا ساگ، (۲) عرق لیوں سے بنی ہوئی
 ایک کھٹی چیز، (۳) ترش، نہایت کھٹا۔
 چوک، موٹف، سبوں، خطا، سہو، تصور۔
- چو، کتا، (۱) جھوٹا، غلطی کرنا، (۲) باز آنا۔
 چوکا، مذکر، اگلے چار دانتوں کی لڑی، (۲) سنگ مرمر کی مرتب میل مرتب
 پتھر، (۳) چندوں کے گھروں میں کھانے کا تمام، (۴) باہم سوستہ اور
 برابر کی چار کسلیاں چیزیں، (۵) ایک قسم کا برتن، (۶) ایک جگہ برابر
 بھانے ہوئے چار مرتب تخت، (۷) چار بے جئے رولان، (۸) موٹف، بڑی مرتب
 چوکا برتن کرنا، چولے اور آس کے گرد کی مرتب زمین کو صاف
 کسے کے لینا اور برتن مانگنا۔
 چوکا/چوک، ایک قسم کے کھٹے ساگ کا نام۔
 چوکس، (۸) ہوشیار، چوکنا۔
 چوکرا/چوکھرا، مذکر، گیہوں کی جھوسی۔
 چوکی، موٹف، (۱) چھوٹا تخت، گھری، (۲) پہرا، پاسبانی، حراست۔
 (۳) اسٹیشن، پڑا اور (۴) گلے کا ایک زیور، (۵) خدمت
 نوکری، (۶) قوالوں کا گروہ، ٹولی، (۷) باورچیوں اور کباب
 داروں کا گروہ، (۸) نوبت بجانے والوں کے نوبت بجانے کا وقت۔
 چھانا، پہرا، ٹھانا، نگہبانی کرنا۔
 بھرتا، (۱) باری باری سے پہرا دینا، (۲) دلیری دینا کے
 استحان پر حاکم سینٹ چھانا، (۳) اولیا، اللہ شہیدوں کے حزار
 پر نو چندی جموات کو جا کر عقدہ کشائی چھانا، نیاز دلوانا۔
 پیر جانا، بیخا نہ جانا۔
 دینا، (۱) پہرا دینا، نگہبانی کرنا، (۲) کسی دینا، گھری پر ٹھانا۔
 دار، مذکر، پاسبان، نگہبان۔
 دارا، مذکر، حق پاسبان، چوکیداروں کا ٹیکس۔
 داری، موٹف، (۱) پاسبان، نگہبانی، محافظت، (۲) حق
 پاسبانی، (۳) محافظت کا کام، چوکیداری کا کام۔
 چوکیا سہاگا، مذکر، ایک قسم کا عمدہ سہاگا۔
 چوکھا، مذکر، خالص، کھلے بے میل، (۲) اچھا، پسندیدہ۔
 چوکھٹ، موٹف، آستانہ۔
 بازو، دروازے کی چاروں سمت کی لکڑیاں۔
 نہ جھانلنا، کبھی دروازے پر نہ آنا۔
 چوگا، مذکر، پندوں کی فضاء دانہ۔
 بدلنا، دانہ بدلی کرنا، خوراک بدلنا۔

چوڑا: (۱) بوسہ لینا، پیار کرنا، (۲) کسی بزرگ کے مزار کو ادب سے منہ لگانا، (۳) ادب سے تعظیم دینا۔
 چوڑا: (۱) چوڑا چانی ٹکڑیاں، پیار کرنا، (۲) خوشامد در آمد کرنا، لٹو پٹو کرنا، (۳) تعظیم کرنا۔
 چوڑا مکھ: (۱) چاروں طرف سے، ہر ایک سمت سے۔
 چوڑا: موتھ؛ آنا۔
 چوڑا: (۱) کناٹا، گل جانا، آنا ہو جانا۔
 چوڑا کا: مذکر؛ آٹے کا بنا ہوا، کڑور۔
 کڑوڑا: (۱) پیس ڈالنا، آنا کر دینا۔
 حاکم بھی برا ہوتا ہے: (مقولہ) اذنا قسم کا حاکم بھی خطرناک ہوتا ہے۔
 کی سوت بُری: (مثل) گھٹیا سوت بُری ہوتی ہے۔
 چوڑا: (۱) دانت، اگر، (۲) نیکواری، ضد۔
 کہ: (۱) حرف شرط؛ کیونکہ، اس لیے۔
 نہ کرنا: انکار کرنا، ضد نہ کرنا۔
 و چرا: (۱) کیوں، کس واسطے، (۲) تکرار، مجتہد۔
 چوڑا: (۱) چڑیوں کے بولنے کی آواز، (۲) بیل گاڑی چلنے کی آواز، (۳) مذکر؛ ایک کھلونے کا نام۔
 چوڑا: پچاس اور چار ۵۴۔
 چوڑا: (۱) پانی رُسنا، رُسنا، پکنا، گرتا، (۲) مذکر؛ کنگڑا، بڑی، پتھر سیپ، کوڑی وغیرہ کے جلانے سے حاصل ہونے والا سفید مادہ، (۳) کھٹاس، تیز تند۔
 چوڑا ہونا: کپڑے یا لکڑی کا پڑانا ہو کر پارہ پارہ ہو جانا۔
 پھرنا: چڑنے کی قلمی ہونا۔
 لگانا: (۱) پان میں چوڑا لگانا، (۲) دکانیٹا، رنگ دینا، غلابا کرنا۔ ذلیل و خفیف کرنا، مچکر دینا۔
 چوڑپا: موتھ؛ شوق، دل کی رغبت، خواہش، (۲) بڑھا واہ (۳) دانتوں میں لگی ہوئی سونے کی پیل، (۴) ضد، ہٹ، مداوت۔
 دینا: بڑھا واہ دینا، کسی کام پر آمادہ کرنا۔
 چوڑپا: تیس اور چار ۳۴۔
 چوڑپا: موتھ؛ چوڑپا۔

چوڑگان: مذکر، گھینڈا کا بلا، (۲) اگلی کا ڈنڈا، وہ ڈنڈا جو سر کی طرف سے کج ہوتا ہے، (۳) چوب نقارہ، (۴) ایک قسم کا گینڈا کا کھیل۔
 چوڑا: موتھ، (۱) ایک لکڑی میں داخل کیا جانے والا دوسری لکڑی کا سراہ، (۲) لکڑی کا سوراخ، جس میں دوسری لکڑی داخل کی جائے (۳) دروازے کے پٹ کے اوپر نیچے کے گول چھید۔
 بیٹھ جانا: منتفق ہو جانا۔
 چولیں ڈھیل کرنا: (۱) کناٹا، (۲) مارتے مارتے مضمحل کر دینا۔
 ڈھیلی ہو جانا: (۱) کناٹا، (۲) زیادہ کام کرنے یا زیادہ دوڑنے سے مضمحل ہو جانا، (۳) ہست ہو جانا، (۴) تھک جانا، (۵) آخر سب ڈھیل ہو جانا۔
 چوڑا: (۱) مذکر؛ (۲) جسم، قاب، (۳) دھن کو ہرات کے روز پہنانے کی پوشاک، (۴) جہلی، (۵) انگرکھے کا بالائی حصہ۔
 بد لٹا: قاب بد لٹا، ایک قاب دوسرے قاب میں جانا۔
 چوڑا: قاب چھوڑنا، قاب چھوڑنا، مر جانا۔
 چوڑا: موتھ؛ ایک قسم کا ساگ۔
 چوڑا: مذکر؛ دیگ دان رکھنا، پکانے کے لیے آگ جلانے کی شہور چیز۔
 چوڑا: (۱) حقاقت یا عقد سے اپنے ہاتھ سے روٹی پکانا، آگ جلانا۔
 چوڑا: آگ نہ گھڑے پانی: (مثل) مفلس، قلاش۔
 چوڑا کی تیری توڑے کی میری: (مثل) اچھا اپنے لیے اور بُرا دوسرے کے لیے۔
 میں پڑے / چوڑا میں جائے: (مثل) خاک میں ملے اُجڑ جائے۔
 چوڑا: موتھ؛ (۱) انگرکھے کے دامن کا اوپری حصہ، اوپر کے دھڑ کا کپڑا، (۲) انگلیا۔
 زکل جانا، چوڑا کا منگ جانا۔
 دامن کا ساتھ: (مثل) لازم و ملزوم، وفا ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں۔
 منگنا: چوڑا کا زور پڑنے سے چاک ہو جانا۔
 چوڑا چانی: موتھ؛ بوس و کنار۔
 چوڑا چاٹے کے چھوڑنا: (۱) اپنے قاب سے باہر چیز کو بوسہ دے کر اس کے خیال سے باز آنا، سلام کرنا، ہاتھ اٹھانا، (۲) کام نکال کر چھوڑنا۔
 چوڑا ہی گال کاٹا: (مثل) ابتدا کرتے ہی نقصان پہنچایا۔

چو پرخ، مونت؛ (۱) پرندے کا منہ (۲) نوک، سیرا، چرب، باتوں کی طرز اسی۔

— ہند کرنا / چو پرخ سنبھالنا، زبان روکنا، ہند زبانی نہ کہنا
— ماننا؛ (۱) بھونگ مارنا، (۲) بے ہودہ کہنا۔

چو پنجال؛ ہوشیار، مستعد، چست۔

چو ندھ؛ مونت؛ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونا، ناہنجیری۔

چو ندھیا نا؛ (۱) آنکھوں کا چمک دار چیز دیکھ کر خیر ہو جانا، (۲) حیرت زدہ ہونا، (۳) گھبرا جانا۔

چو نڈا؛ (مو) مذکر؛ (۱) سر، (۲) عورتوں کا سر کے بال کچھا کر کے سر پر باندھ لینا۔

چو نر؛ مونت؛ رنگ، رنگ کارنگا ہوا اور پٹہ پٹری۔

چو نری / چو ندری؛ مونت؛ (۱) مورچیل، (۲) دیکھو چو نر۔

چو نٹھ؛ ساٹھ اور چار ۶۴۔

چو ننگ؛ مونت؛ وحشت، بھڑک، جھمک۔

چو ننگا نا؛ ہوشیار کرنا، جگانا۔

چو ننگ اٹھنا؛ (۱) دفعتاً گھبرا کر جاگ اٹھنا، سوتے سوتے اچھل پڑنا، (۲) چوکتا ہو جانا، (۳) متعجب ہو جانا۔

چو ننگ پڑنا؛ یکایک نیند سے بیدار ہونا، غفلت سے ہوشیار ہونا۔
چو ننگنا؛ (۱) سوتے سوتے جاگ پڑنا، (۲) بھڑکنا، (۳) غفلت سے ہوشیار ہونا، جاگنا، بیدار ہونا، چوکتا ہونا، (۴) گھبرانا، حیرت ہونا۔

چو ننگا / چو ننگلا؛ مذکر؛ (۱) باش کا وہ کھوکھلا ٹکڑا جس میں کاغذات رکھتے ہیں، (۲) پلاسٹک اور مین کا بھی جو نگلاتے ہیں۔
چو ننگلی؛ کاقدیا پان کا خول جس میں پان کی گھوری لپیٹ کر رکھتے ہیں۔

چو ننی؛ مونت؛ دال کا ڈالا ہوا موٹا موٹا آٹا۔
— بھلوسی کھا کر گذر کرنا، تنگی سے اوقات بسر کرنا۔

— بھی کچے بھجے گھی سے کھاؤ؛ (دش)؛ (دنی) آدمی بھی بڑوں کی برابری کرنے لگے، لیاقت سے بڑھ کر عدا کرنا۔
چو ننی؛ مونت؛ روپے کا چھوٹا حصہ، چار آنے، (دشوک)

چو نا؛ مذکر؛ (۱) مشہور جالوڑ موش، (۲) ناگ کا سونکا کھا میل۔
چو ہے دان؛ مذکر؛ چو ہے پیلنے کا پنجر۔

چو ہے دتی / چو ہے دتی / دتیاں؛ مونت؛ عورتوں کے

ہاتھ کا ایک زیور۔

چو ہے کابل ڈھونڈنے پھرنا؛ اسن کی ب ش؛
کاراستہ نہ ملنا۔

چو ہے کا پتھ بھی نہ ہونا؛ بالکل بے اولاد ہونا۔

چو ہے مار؛ مذکر؛ چو ہے مارنے والا ایک پرند۔

چو ہیتا؛ مونت؛ چو ہے کی مادہ۔

چو ہان؛ مذکر؛ راجپوتوں کی ایک ذات۔

چو ہڑا / چو ہڑا؛ مذکر؛ (۱) وہ بستی جو مردہ جانور اٹھاتے ہیں۔ (۲) چمار۔

چو ہیا؛ مذکر؛ (۱) دریا کے پاس پانی جھرجھر کر ٹھہرانے والا گڑھا، (۲) بھیجی دال کا چھلکا۔

پنج - ۵

چہ؛ (د) مذکر؛ چاہ کا منقہ، (۱) کٹواں، گڑھا، (۲) بل کے دوڑوں سرے۔

— پچہ؛ (د) مذکر؛ مال و دولت کھنے کا چھوٹا گڑھا، (۲) چھوٹا موش۔
چہ؛ (د) حرف استفہام، کیا بہت، کیونکہ۔

— خوش؛ دکھ طفر، کیا خوب، واہ واہ کیا کہنا۔

— ڈانڈ بوزنہ لذات اور دک؛ (دش) ناقدر شاس
اجھی چیز کی قدر نہیں جانتا۔

— معنی؛ (کلمہ استفہام) کیا باعث، کیوں، کیا وجہ، کیا سبب کیسے۔
— معنی دارو؛ (د) کیا سبب ہے؟ کیا وجہ؟ کیا

باعث ہے۔

چھا؛ مذکر؛ ایک قسم کا چھوٹا پرند۔

چھا؛ (د) چار۔

— چند؛ (د) چو گنگا۔

— سو؛ چار سو، چاروں طرف۔

— مشبتہ؛ (د) مذکر، چار شبتہ، بدھ۔

چھا رم؛ (د) چوتھا چوتھائی۔

چھاڑ / چھاڑ؛ مذکر؛ (۱) دریا کا کنارہ، (۲) پتھر یا ڈھیلے کا بڑا ٹکڑا۔

- چھپنا؛ مذکر، خوش آوازی خوش الحانی پرندوں کا شوق میں آکر بولنا۔
 چھپوں میں گذرنا؛ پیش و پشت میں بسر ہونا۔
 چھپانا؛ پرندوں کا گانا خوش آوازی سے باتیں کرنا۔
 چھپا ہٹ؛ موٹف؛ نغہ سرائی نواسچی۔
 چھپنا؛ نہایت شوخ اور سرخ رنگ۔
 چھپنا تارنگ؛ سرخ شوخ رنگ۔
 چہرہ؛ (ت) مذکر؛ (د) صورت، منہ (۲) سامنے کا رخ (۳) م
 علیہ ملازموں کے خط و حال جو دفتر میں لکھے جائیں،
 (۴) چہرہ کا مصنوعی نقشہ۔
 اُتر جانا؛ افسردہ ہونا، چہرہ بے رونق ہو جانا۔
 بحال ہونا؛ بیمار کے چہرے پر صحت کے آثار نمایاں ہونا۔
 بگاڑنا؛ برصورت بنا دینا، صورت مسخ کر دینا، بہت
 مازا کر شکل سپہانی نہ جائے۔
 بنانا؛ مٹہ بنانا، مٹہ چڑھانا۔
 بھبھو کا ہونا؛ مٹہ سرخ ہونا۔
 پرتلو اور کھانا؛ بہادری دکھانا، تلوار سے مٹہ نہ پھینا۔
 پرداز/چہرہ کشا؛ (ت) حضور، صورت دکھانے والا۔
 پر مہتاب چھٹنا/چہرے پر ہوا ایساں اُڑنا؛ بہت بکا
 ہو جانا۔
 پھیکا ہونا؛ چہرہ بے رونق ہونا۔
 تھمتانا؛ چہرہ کا گرمی یا خفقہ سے سرخ ہو جانا۔
 چمکنا؛ چہرے پر رونق اور جلال معلوم ہونا۔
 دار/چہرہ شاہی؛ سرکاری سیکہ جس پر بادشاہ
 وقت کا چہرہ بنا ہوا ہو۔
 زرد ہونا؛ چہرے کا رنگ پیلا ہو جانا (۲) رنگ، صیبت
 تکلیف یا خوف ہونہ (۳) غیرت یا نفاہت ہونا۔
 سفید ہونا؛ ضعف سے چہرہ کا رنگ سفیدی مائل ہو جانا۔
 سے نقاب اٹھانا؛ مٹہ کھولنا، راز خاش کرنا۔
 مہرہ؛ مذکر، صورت، شکل، خط و حال۔
 چہرے پر تلوار کھانا؛ بہادری دکھانا۔
 کارنگ بدلنا؛ چہرے کے رنگ کا خوف یا خفقہ دینا
- سے متغیر ہونا۔
 چھپکا، (درہلی) مذکر، (۱) چھتوں یا صحن خانہ کا اینٹوں اور پتھروں
 وغیرہ کا فرش، (۲) داغ و پیر کاہ لاکا، جھلسنا۔
 دینا/خسکا لگانا؛ آگ سے جلا دینا، لاکا لگا دینا۔
 لگنا؛ آگ سے بدن کا جل جانا۔
 چھکار؛ (د) موٹف؛ چڑلوں کا راگ، پرندوں کا نغہ۔
 چھکارنا/چھکنا؛ چھپانا، چھپانا، چھپا کرنا۔
 چھکنٹا؛ چھپانا، نواسچی کرنا، خوش الحانی کرنا۔
 چہل چالیس ۴۰۔
 ابدال؛ (ت) (۱) مسلمانوں کے عقیدے میں دنیا کو سنبھالے
 رکھنے والے چالیس ولیوں کا گروہ، (۲) دیکھے ہوئے انگاروں
 پر ہونٹے ٹوٹے آگ بجھا دینے والے درویشوں کا ایک گروہ۔
 قدمی؛ موٹف؛ (۱) شہنشاہ (۲) ہوا کھانا، تفریح طبع
 کے واسطے شہنشاہ۔
 کاف؛ موٹف؛ چالیس کاف والی دعا۔
 حدیث؛ چالیس منتخب حدیثیں۔
 چہل؛ موٹف؛ ہنسی، خوش مزاجی۔
 باز؛ ظریف، خوش مزاج۔
 چھلا؛ مذکر؛ (۱) کیمچو کی زمین، وہ زمین جو پانی اور دلدل
 سے بڑ ہو، (۲) دکنیائی گیلا۔
 خیلے کی بھینس؛ (دکنیائی)؛ موٹا بھدا آدمی، مچول آدمی۔
 چہل کھیل؛ موٹف؛ (۱) رونق، آبادی، (۲) خوشی، خرمی،
 زندہ دلی، مزاج خوش طبعی، ہنسی۔
 چہلم؛ (۱) چالیسواں، چالیس سے نسبت رکھنے والا۔
 (۲) مردے کے چالیسویں دن کی رسم۔
 چھپتا؛ مذکر؛ پیارا، محبوب، عزیز۔
- بیج۔ می
 چیاں؛ مذکر، اعلیٰ کا بیج۔
 سا؛ بہت چھوٹا سا۔
 چنپ؛ موٹف؛ (۱) دانہ، پتھر یا کٹری سے ٹوٹا ہوا ٹکڑا۔

(۲) مذکر؛ لاسا، چکنے والی چیز، پکتے ہوئے آمون فیرو سے چکنے والی نس دار رطوبت۔
 چیب دار، بس دار، چیکتا ہوا۔
 چیب : CHEAP (انگ) ارزاں ستا، گھٹیا، معمولی۔
 چپڑ : مذکر؛ آنکھ کی کچھڑ۔
 چہنا : آنکھوں سے سیل کا چکنا۔
 چینی : مونث؛ (۱) افذکی چکانی ہونی، دمبھی، (۲) پتنگ، کتابت کی کاپی میں لگا ہوا کاغذ کا پیوند۔
 چیت : مذکر؛ فصلی رسالہ کا پہلا مہینہ۔
 چیتی : (۱) چیت کے مہینے کی بہار (۲) چیت کے مہینے میں لگائے جانے والے گیت۔
 چیتا : (۱) مذکر؛ ذہن، حافظہ، بڑھ رہتا ہو شادی کے دن دوپہا کو نکاح کے بعد ذہن کے گھر دیا جاتا ہے جس میں ناریل، بادام، کشمش وغیرہ بڑھتے ہیں۔
 چیتا، مذکر؛ شہر کی قسم کا جسم پر پتیوں والا خول خوار دندہ۔
 چیتے کی کمر : (کنایتاً) مشوق کی باریک کمر۔
 چیتل : مذکر؛ (۱) ایک قسم کا چتیل والا لہرن، (۲) ایک قسم کا سانپ۔
 چیتنا : (۱) ہوشیار ہونا، متنبہ ہونا، ہوش میں آنا، (۲) یاد کرنا، خیال کرنا، (۳) چونکنا، (۴) تیز ہونا، چارخ کا۔
 چیتنا : خواہش کرنا، چاہنا۔
 چیلہ : مذکر؛ کپڑے کا ٹکڑا، لٹا۔
 چیلک : مونث؛ شوق، دھن۔
 چیلٹی : مونث؛ چیونٹی۔
 چیلٹی، کلنی : وہ کپڑے جو بکری، گائے، اور کتے کے بدن میں پڑ جاتے ہیں۔
 چیلک : مونث؛ (۱) میلا، (۲) ایک مرض جو جسم پر داغ پھوڑتا ہے۔
 چیل : چہرے پر چیلک کے نشان والا آدمی۔
 چیل : مونث؛ (۱) ندر کی آواز، غل، پلا ہٹ، صدی آواز، پکارنے کی آواز۔
 چیلنا : چلانا،

چیل مارنا : زور سے آواز بھگانا۔
 چیلنا : چلانا، غل، چلانا، شور کرنا، پکارنا، فریاد کرنا۔
 چیل : (۱) منتخب، چٹا ہوا، چمٹا ہوا، لہرہ۔
 چیل : (۱) چٹے، عمدہ، منتخب۔
 چیلر : CHAIR (انگ)؛ مونث؛ (۱) گرسی، (۲) لیوورسٹی میں ایک خاص تعلیمی عہدہ۔
 چیلر : مونث؛ (۱) شکاف، زخم، درز، (۲) دمبھی، کسٹرن، کپڑے کی پتی۔
 چیلنا : شکاف ہو جانا۔
 چیلنا : زخم آ جانا، شق ہو جانا۔
 چیلر : مونث؛ (۱) کٹ چھانٹ، جزا، عمل۔
 چیلر : مذکر؛ (۱) پھوڑے کا شکاف، (۲) (کنایتاً) عورتوں کی بھینگی (۳) ایک قسم کی منقش بگڑی۔
 چیلر / توڑنا : (۱) ازالہ بکارت کرنا، (۲) بے عزت کرنا۔
 چیلر / لگانا : شکاف دینا، زخم لگانا، نشتر مارنا۔
 چیلر : دو شیزہ ابراہیم اور عورت۔
 چیلر : والا، (۱) بگڑی باندھنے والا، (۲) حکیم، طبیب، مصلح۔
 چیلر : ایبل : CHARITABLE (انگ)؛ خیراتی، امدادی۔
 چیلر : CHAIRMAN (انگ)؛ مذکر؛ کسی کمیٹی یا جلسے کا منتخب صدر، میر مجلس۔
 چیلر : (۱) پھاڑنا، کپڑے کرنا، شکاف دینا، شق کرنا، (۲) برٹشہ کاٹنا، (جیسے تختے پھرنے)۔
 چیلر : چار بھارو پانچ : (مثل) (تحقیر سے) موٹا تازہ۔
 چیلر : (۱) غالب ہونا، غلبہ پانا، (۲) دو شیرنگی۔
 چیلر : رگین اور منقش بگڑی باندھنے والا۔
 چیلر : دست : (۱) زور آور، زبردست۔
 چیلر : دستی : مونث؛ زبردستی، قوت، طاقت۔
 چیلر : CHERRY (انگ)؛ مذکر؛ ایک قسم کا میوہ، ایک اگھڑی پھل، شاہ دانہ۔
 چیلر : CHARITY SHOW (انگ)؛ مذکر؛ کسی امدادی فنڈ کے لیے دکھائے جانے والے پروگرام۔

- چھٹ: مذکر؛ ایک دخت؛ دیودار۔
- چیز: (ف) موٹف؛ (ا) شے، اسباب، جنس؛ (۲) زیور، جواہر
- گونا پاتا، (۳) گیت، راگ، ٹھمری، غزل وغیرہ (۴) حقیقت
- مال؛ (۵) بچوں کو دی جانے والی مٹھائی۔
- اڑ جانا؛ غائب ہو جانا، کھوجانا۔
- بست: موٹف؛ اسباب، اثاثہ، اثاثہ۔
- چیزی/پچتی؛ موٹف؛ (بچوں کے لیے) مٹھائی، شہرتی۔
- چیتتاں: (ف) موٹف؛ پھیل۔
- چیتشا: (۵) موٹف؛ کوشش و جدوجہد۔
- چیف: CHIEF؛ (انگ)؛ صدر، سرور، افسر، بڑا، خاص، اصل۔
- جسٹس: JUSTICE؛ (انگ)؛ مذکر؛ اپنی گورٹ کا
- سب سے بڑا نچ و قاضی القضاة؛
- انجینیر: (انگ)؛ مذکر؛ انجینیروں کا
- افسر، اعلیٰ و صدر انجینیر۔
- کورٹ: COURT؛ (انگ)؛ مذکر؛ عدالت، عالیہ بڑی عدالت۔
- چیک: CHEQUE؛ (انگ)؛ مذکر؛ بٹھی؛ بینک سے رقم نکالنے کا حکم
- چیکٹ: مذکر؛ (۱) چیراغ کی گاد تیل کی گاد تیل کے باعث سیاہ
- اور مٹی ہو جانے والی مٹی؛ (۲) چکنا سیاہ۔
- چیک کرنا: CHECK جانچ پڑتال کرنا، تیغ کرنا، تعرض
- کرنا، روکنا۔
- چیکنگ: CHECKING؛ (انگ)؛ موٹف؛ جانچ پڑتال ہو کر، تیغ۔
- چیل: موٹف؛ ایک پرنڈ کا نام۔
- انڈیا چھوڑتی ہے: (دخ)؛ بے انتہا گرمی ہونا۔
- چھپٹا؛ چھینا چھپٹی۔
- کرنا؛ چھینا چھپٹی کرنا، دفعتاً کسی چیز پر چلوں
- کی طرح بگڑنا۔
- چیل چھصور: سچوں کے ایک کھیل کا نام۔
- کا پٹھا؛ مذکر؛ (۱) چیل کا پتھر؛ (۲) حق، بے وقوف۔
- کے گھوٹے میں ماس کہاں: (دخ)؛ فضول خرچ
- ہمیشہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔
- چھیلا؛ مذکر؛ جلانے کی ککڑی کا کھلا، لکڑی کا گندا۔
- چھیلا؛ مذکر؛ (۱) بندہ، غلام؛ (۲) شاگرد؛ (۳) مرید، پیرو
- (۴) خدمتی، خدمتگار، درویشوں کی خدمت کرنے والا،
- (۵) بندہ خاص، (۶) شاہی غلام، راجا کے خدمتی۔
- ہونا؛ مرید ہونا، پیرو ہونا، سادھو کا شاگرد ہونا۔
- چھاپڑ؛ شاگرد، مرید، مستعد۔
- چیلج: CHALLENGE؛ (انگ)؛ مذکر؛ دعوا، للکار
- دعوت، جنگ، اعتراض۔
- کرنا؛ مقابلے کے لیے للکارنا، غدر کرنا، دعوا کرنا۔
- چیلھڑ؛ مذکر؛ چلو، چلہڑ، کپڑوں میں پڑ جانے والی تڑوں۔
- چیمبر: CHAMBER؛ (انگ)؛ کمرہ، کونٹری، ہال، مکرو۔
- آف کامرس: OF COMMERCE؛ (انگ)
- مذکر؛ ایوان تجارت، مجلس تجارت۔
- چیمپین: CHAMPION؛ (انگ)؛ کھیل میں سب سے پہلے جانیلائی
- چین: مذکر؛ راحت، آرام، اطمینان، قرار۔
- اڑنا؛ چین کرنا۔
- آنا؛ قرار آنا۔
- پانا؛ آرام پانا۔
- پڑنا؛ کل پڑنا، اطمینان ہونا، ٹھنڈک پڑنا۔
- سے؛ آرام سے، بے فکری سے، بے غل و غش۔
- کرنا؛ مزے اڑنا، عیش کرنا، گلہ پھرتے اڑنا۔
- لینا؛ دم لینا، سستا۔
- چہس: (ف)؛ موٹف؛ شکن، بیل، سلوٹ، ٹھری۔
- بہ چہس ہونا؛ چہس بہ چہس ہونا؛ چہس بہا بہا ہونا،
- تیوری پر بول ڈانا، تڑش تڑو ہونا۔
- چہس؛ موٹف؛ چڑیا کی آواز۔
- بلا دینا؛ ہزار دینہ عاجز کر دینا۔
- بولنا؛ چہس بول جانا، ہار ماننا، کھانا، عاجز آنا۔
- ماننا؛ چہس بول جانا، ہار مان لینا۔
- پچھڑ کرنا؛ جھگڑ کرنا، تکرار کرنا۔
- چہس؛ موٹف؛ (۱) چڑ چڑ، غل شور؛ (۲) لغتی تکرار
- لفظی بحث؛ (۳) چڑیا کے پنچے کی آواز۔

چپس چپس ہیں کرنا؛ نعل چمانا، رونانا، تکرار کرنا۔

چپین CHAIN (رنگ) موتھ؛ زنجیر، لڑی، سلسلہ، نکلے

کا ایک زریورہ پاؤ کا ایک زریورہ۔

چپینا؛ موتھ؛ ایک قسم کے چھوٹے نعلے کا نام۔

چپینٹا؛ بڑی جیونٹی، جیونٹا۔

چپینٹی؛ موتھ؛ جیونٹی۔

چینج CHANGE (رنگ)؛ مذکر؛ (۱) ریزگار، خورد۔

(۲) تبدیلی، انقلاب۔

چینج؛ مذکر؛ کبوتروں کو کھلانے کا چھوٹا دانا۔

چپس چپ کرنا؛ مذکر؛ تکرار کرنا، محبت کرنا۔

چپینلا؛ مذکر؛ (۱) پرندہ نکلا ہوا پرندہ کا بچہ، (۲) ابھارنا،

دوڑنی، لکڑی

چیندری؛ کھاڑی کے ڈھرے پر چڑھانے والے چڑے کے گول ٹکڑے۔

چینگی بوٹے؛ مذکر؛ (۱) چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے۔

(۲) دکھنا، بال بچے۔

چینیل؛ CHANDEL (رنگ)؛ موتھ؛ کھاڑی، خلیج،

رو دبارہ بہتے پانی کا قدرتی یا مصنوعی نالا۔

چینہ وال؛ (ف)؛ مذکر؛ مرغ کا پوتا۔

چینی؛ موتھ؛ (۱) سفید دانے دار شکر، (۲) مذکر، چین

کا رہنے والا، چین سے منسوب (۳) ملک چین کی زبان

(۴) چین کے ملک کی ایک قسم کی روشن دار مٹی۔

چپوٹنا؛ مذکر؛ چپٹا۔

چپوٹی؛ موتھ؛ چپٹی۔

_____ کی آواز عرش تک؛ (رخل، غریب کی آواز، موبی ہے۔

_____ کو پیر لگے / چپوٹی کے پر نکلے؛ (رخل، شامت کے

دن یا موت کا وقت قریب آنا۔

چپوٹیاں لگنا؛ گرمی کی شدت، بدن میں ایک قسم کی سوزش ہونا۔

چپوٹیوں بھرا کباب؛ مذکر؛ (۱) جھکڑے کی چپڑے (۲)

مصیبت کا گھر۔

چپوٹنگ؛ CHIPPING GUN (رنگ)؛ مذکر؛ ایک ناکھل

میشا گو، نذ جو دیر تک مٹھ میں چایا جاتا ہے۔

چھ

چھ

چھاپ؛ موتھ؛ مہر، ٹھپا، نشان، ملامت۔

_____ لگانا؛ مہر لگانا، ٹھپا لگانا۔

چھاپا؛ مذکر؛ (۱) مہر، ٹھپا، (۲) چھاپنے کی مشین، (۳) چھاپا ہوا،

(۴) تجارتی نشان، (۵) نذر کے کھانے کے بلاق پر یا گھر

کی دیوار پر صحنک کے وقت مندل سے دینے کا نشان، (۶)

نقش، صورت، تصویر، (۷) ساچھا ڈھلنے کا ظرف

(۸) کلیان پر ٹھپے لگانے کا آلہ، (۹) دکھنا، (۱۰) دو شخصوں

یا دو چیزوں کا صورت اور انداز وغیر میں مشابہت رکھنا۔

_____ مار؛ مذکر؛ (فوجی اصطلاح) فوج کا وہ دستہ جو کسی جگہ

روایتوں کے بغیر لڑتا ہے۔

_____ مارنا؛ (۱) شب، نوں، رات کو دشمن کی فوج پر چڑھ کر قتل

عام کرنا، (۲) پولیس کا اچانک سرخ کر گزرتا کرنا، یا تلاش لینا۔

چھاپے خانہ؛ مذکر؛ پریس، مطبع۔

چھاپنا؛ (۱) مہر لگانا، نقش کرنا، ٹھپا، اٹھانا، (۲) طبع کرنا،

نشان کرنا، (۳) مشائخ کرنا، پھیلانا، مشہور کرنا،

ڈھنڈورا پیٹنا۔

چھاپے لگانا؛ سیاہی کی رسم میں مکان کی دیواروں کو مندل

کے نشان سے آراستہ کرنا۔

چھپر؛ مذکر؛ (۱) سپوں کا سا سائبان، کھیرل یا سپوں کی چھت

(۲) بوجھ، بھار، بار، (۳) دکھنا، بڑی دائرہ (۴)

اڑنے والے کبوتروں کا سو دو سو کا نول۔

چھاتا؛ مذکر؛ (۱) بڑی چھتری، (۲) پورٹا سینہ۔

چھاتم چھاتی؛ مذکر؛ (۱) سینے کو سینے سے لگانا، (۲) ایک

پتنگ کا دوسرے پتنگ سے بھڑا میں ملنا۔

چھاتی؛ موتھ؛ (۱) سینہ، صمد، پستان، (۲) بھارت،

حوصلہ، استقلال، مضبوطی۔

_____ اُبھار کر چلنا؛ دکھنا، اترنے کے پلنا۔

_____ اُمد آنا؛ دل بھرا، غم کے باعث رُل لائی آنا۔

- چھاتی بڑھ جانا، دکناٹیا خوشی سے حوصلہ بڑھ جانا۔
 — بھر آنا؛ (۱) دکناٹیا، غمگین ہونا، (خوش متبع) سے (۲)
 چھاتی کا پر گوشت ہو جانا، چھاتی آ بھر آنا، (۳) گرم آنا، دل کڑھنا
 (۴) چھاتیوں میں دودھ بھر آنا، ادنیٰ محبت کے باعث دودھ آنا۔
 — پیٹھ جانا، کھاشی یا زکام سے آواز کا جاری پڑ جانا۔
 — پتھر میں جانا / کر لینا / ہونا / ہو جانا؛ دل
 سخت ہو جانا، رحم نہ رہنا۔
 — پر بال ہو جانا؛ مال حوصلہ ہونا۔
 — پر پتھر، گھ کر لینا / دھر لینا، دل سخت کر لینا، صبر کر لینا،
 ضبط کرنا، پتھر ہونا، تکلیف سہنا۔
 — پر پھرنا؛ ہر وقت سینہ پر پھرنا، ہر وقت یاد آنا۔
 — پر چڑھ کر ڈھانی / فو چلو لہو پینا؛ سخت سزا
 دینا، جان سے ڈالنا۔
 — پر چڑھنا؛ (۱) پیچھا ڈکر سینے پر سوار ہونا، (۲) ہر وقت
 سامنے نمودار ہونا۔
 — پر ڈھر کر لے جانا؛ مال و دولت اپنے ساتھ قبر میں لے جانا۔
 — پر سانپ پھر جانا / ٹوٹنا؛ (۱) رشک آنا، (۲)
 حسرت ہو جانا، ملامت ہونا، صدمہ پہنچنا۔
 — پر پیل دھرنا؛ بوجھ رکھنا، دل پر بڑا صدمہ گزرنے۔
 — پر کالا سپاٹھ ہونا؛ دکناٹیا، بہت ناگوار ہونا۔
 — پر مونگ ڈالنا / کو دلی ڈالنا کسی کے سامنے ایسا
 کوئی بڑا فعل کرنا جو اس کو بہت ناگوار ہو۔
 — پر لٹھ دھر دیکھو؛ انصاف کرنا، اپنا سامان دوسرے
 کا بھی جانا۔
 — پر لٹھ رکھنا؛ دل جوئی کرنا۔
 — ٹپک جانا؛ (دکناٹیا، تکلیف سہنے سہنے عاجز آنا، ناگ
 میں دم آ جانا۔
 — کپڑے کر رہ جانا؛ دل سوس کر رہ جانا، دل ہی دل میں سوس
 کر کے شبیر رہنا، کسی رنج پر آن دکرنا۔
 — چھٹنا؛ (۱) سینہ کا چھٹ جانا، (۲) دکناٹیا، دل پر بہت بڑا صدمہ
 گزرتا، دل بے تاب ہونا، (۳) رشک ہونا، خشد کرنا۔
- چھاتی پھٹی جانا، بے حوصلہ ہونا، رنج ہونا۔
 — پیٹھنا؛ (۱) سینہ کو بی کرنا، سینہ زنی کرنا، (۲) ماتم کرنا، رونا، پیٹھنا
 (۳) عقہہ ظاہر کرنا، عقہہ میں سینہ پیٹھنا، (۴) رشک، صدمہ ظاہر کرنا۔
 — پیٹھے رکھنا؛ حفاظت سے رکھنا۔
 — ٹھنڈی کرنا؛ (۱) دل خوش کرنا، تسک دینا، تسلی دینا، (۲)
 اپنی دشمنی نکال کر خوش ہونا، ارمان نکالنا۔
 — ٹھونکنا؛ (عوم) دکناٹیا، اطمینان کرنا، دل مضبوط کرنا۔
 — جلا نا؛ (۱) دق کرنا، ہستنا، (۲) رشک دلانا۔
 — چھٹنا / چھمن جانا / چھتی ہونا؛ صدیوں کی جو
 سے سینہ کا داغ داغ ہونا، سینہ کا پاش پاش ہو جانا۔
 — ڈبانا؛ دکناٹیا، بچے کا دودھ پینا۔
 — دھڑکنا؛ (۱) دل کا پیٹنا، (۲) خوف چھانا، (۳) دل پر
 صدمہ گزرنے۔
 — دینا؛ بچے کو دودھ پلانا۔
 — سراہنا؛ کسی کے صبر، تحمل، بہت، جرات وغیرہ کی تعریف
 کرنا۔
 — سے پتھر ملنا؛ (دکناٹیا) (۱) دل کا بوجھ دور ہونا، (۲)
 بیٹی کا بیاہ جانا۔
 — سے لگا کر رکھنا؛ بہت پیار سے پاس رکھنا، حفاظت
 سے رکھنا۔
 — کا پھوٹا؛ مذکر، وبال جان، اپنی طبیعت کے مخالف آدمی۔
 — کا جم؛ مذکر، (۱) موت کا فرشتہ، (۲) ناگوار خاطر، بار خاطر،
 (۳) وہ ناگوار طبع آدمی جو پاس سے نہٹے، ہر وقت چھاتی پر
 موجود رہنے والا ڈھبٹ۔
 — کرنا؛ قیامی دکھانا۔
 — سے لگانا؛ (۱) بہت محبت سے کسی کو گلے لگانا،
 (۲) تسلی دینا، چمکانا۔
 — کا پتھر / کا سپاٹھ؛ (۱) ناگوار خاطر، (۲) جوان بن ہی
 یار اٹھ بیٹی، (۳) آدمی پر غم، قرض اور تہرم کا بار جو ٹالے نہٹے
 یا جس کا ٹٹنا شکل ہو۔
 — گوٹا؛ (۱) ماتم کرنا، (۲) کسی کی دولت پر جلتا۔

چھاتی کی سہل، چھاتی کا پتھر۔

_____ کے کوڑاڑ، مذکر؛ سید کے دائیں بائیں طرف کے پہلو۔

_____ کے کوڑاڑ ٹھلنا؛ (۱) سینہ پھٹ جانا، (۲) ایک دفعہ ہی چیخ نکلتا ہر زور کی آواز نکلتا، چیخ پڑنا۔

_____ گز بھر کی ہو جانا؛ خوش ہو جانا، اولاد کی اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہونا۔

_____ سُسو سنا؛ (۱) افسوس کرنا، دل کپڑ کر رہ جانا، صدمہ اٹھانا (۲) صدمہ دینا، دل دکھانا، رنج دینا۔

_____ نکال کر چلنا؛ اڑ کر چلنا۔

چھاتیاں چڑھنا؛ (۱) دودھ کی افراط سے چھاتیوں کا پھول جانا۔

_____ ٹھکنا؛ عورت کے سینے کا ظاہر ہونا۔

چھاخ؛ مذکر، سُوپ، غلہ پھٹنے کی ایک چیز

_____ میں ڈال کر چھلنی میں اُڑانا؛ (۱) اُٹھام کرنا، کسی کو رسوا کرنا، (۲) بات کا جستجو بنانا۔

چھا جمل برسنا؛ کثرت سے بارش ہونا۔

_____ پانی پڑ گیا؛ (۱) بہت سا رینہ برس گیا، (۲) نہایت شرمندگی اٹھانا پڑی۔

چھا چھو؛ موٹھ؛ (۱) مٹھاہ (۲) وہ ترش سفید دودھ جو گھی گرم کرنے کے بعد نیچے بیٹھ جاتا ہے۔

چھا گل؛ موٹھ؛ (۱) چھوٹی سی شگ، (۲) پانوں کا زور۔

چھا ل؛ موٹھ؛ بجل، درخت کے اوپر کا چھلکا۔

چھا لا؛ مذکر؛ (۱) آبلہ، پھپھولا، (۲) تلوار کے لوہے یا شیشے پر کا داغ۔

_____ پڑنا/چھالا ہونا؛ آبلہ کا نمودار ہونا، پھپھولا پڑنا۔

چھالیا؛ موٹھ؛ سہا پری، ڈلی۔

چھان؛ موٹھ؛ کسی چیز کی حقیقتات۔

_____ مہن/چھان پھلن/چھان پھلک؛ موٹھ؛ تحقیقچی طرح کی دیکھ بھال۔

_____ ڈالنا؛/چھان مارنا؛ (۱) ڈھونڈنا، بہت تلاش اور جستجو کرنا، (۲) چھلنی کر دینا۔

_____ چھانا؛ (۱) سایہ کرنا، چھت بنانا، (۲) پھیلنا، بادلوں کا جھوم

(۳) دکھانا، غم چھانا۔

چھاں؛ موٹھ؛ (۱) سایہ، پرچھائیں، (۲) دکھانا، خفیت اثر۔

چھانٹ؛ موٹھ؛ (۱) پھچھڑے، (۲) کترن، (۳) انتخاب (۴) کتر بیونت۔

چھانٹن؛ موٹھ؛ وہ چیز جو چھانٹنے کے بعد بچ رہے، کترن۔

چھانٹنا؛ موٹھ؛ (۱) چھننا، انتخاب کرنا، چند چیزوں میں

سے الگ کرنا، (۲) پسند کرنا، (۳) شاخ کا کاٹنا

(۴) سر کے بال کترنا، (۵) کپڑوں کی قطع و برید کرنا،

(۶) صاف کرنا، (۷) مختصر کرنا، (۸) گوشت کے ٹکڑے

کرنا، (۹) چرب زبانی کرنا، (۱۰) کم کر دینا، (۱۱) میلے کپڑے

پتھر پر ٹپک پٹک کر دھونا۔

چھانٹا؛ (۱) چھلنی سے اُٹھاننا، (۲) صاف کرنا، (۳) چھانٹنا، پرکھنا، (۴) دیکھ بھال ڈالنا۔

چھاٹو؛ موٹھ؛ (۱) سایہ، چھان، (۲) دو چیزوں یا دو حصوں میں

مشابہت (۳) بہنو، پرچھاواں، کرک۔

چھاونی؛ موٹھ؛ (۱) چھاؤں کرنے کی چیز، بخش پوش، کھریل، یکانا

(۲) کیپ، سپاہیوں کی بازگلیں۔

_____ چھانا/چھاونی ڈالنا؛ (۱) بخش پوش کرنا، مکانوں کا،

(۲) دکھانا، ڈیرے ڈالنا، کسی جگہ رہ جانا۔

چھایا؛ (۱) موٹھ؛ چھاٹو، سایہ، عکس۔

چھب

چھب؛ موٹھ؛ (۱) آرائش، زریب وزرینت، (۲) ناز و

انداز، (۳) خوب صورتی، مناسب اعضاء، اعضا کی

بجاوٹ، انداز جسم۔

_____ قحقی؛ موٹھ؛ سینے اور جسم کی خوب صورتی، مگات

اور جسمت کی خوش وحشی۔

_____ گھڑی میں اور صورت طباق میں، (خلی عزت عود

پوشاک سے اور رنگ روپ عمدہ خدا سے ہوتا ہے۔

چھبڑا؛ مذکر؛ ٹوکرا، چھبیا۔

چھبندرا؛ ایک زہریلا پتھر جس کا کاٹا جلد مر جاتا ہے۔

چھپلا، مذکر، خوش وضع، رنگیلا، جامہ زیب۔

- (۲) آٹھ بچانا، ڈبکتا، (۳) ڈوبنا، غائب ہونا۔
 (۴) دیوار وغیرہ پر مٹی چڑھنا، لپٹا جانا، شہینا،
 (۵) ہر دو کرنا، آؤٹ کرنا۔

چھ / چھے : ۶ کا عدد۔

— ماہی: موت؛ مرنے کے بعد چھ مہینے کا تھ اور کھانا۔

— پانچ کرنا: (۱) شش درخ میں ہونا، (۲) شرارت کرنا، باتیں بنانا۔

چھتیس: بیس اور چھ (۲۶)

چھین: سپاس اور چھ (۵۶)

چھتیس: بیس اور چھ (۳۶)

چھسٹھ / چھیا سٹھ: ساٹھ اور چھ (۶۶)

چھتر: ستر اور چھ (۷۶)

چھیا سی: اسی اور چھ (۸۶)

چھیا لیس: چالیس اور چھ (۴۶)

چھیا نوے: نوے اور چھ (۹۶)

چھ۔ت

چھت: موت؛ (۱) پٹاؤ، سائبان، (۲) کوشا، (۳)

(بھارت) چمت گیری۔

چھتیں اڑنا: دکھنا، تحمین و آفرین کا گرم جوشی سے شور مچلنا۔

چھت پٹنا: چمت پڑنا۔

چھت پیکنا / چھت چونا: چمت سے پانی پیکنا۔

— گیری: موت؛ چمت کے نیچے لگایا ہوا کپڑا۔

چھتا: مذکر، (۱) کچھ دوسرے کپڑا ہوا ستر، (۲) محال (بھال) شہد

کی کھینوں اور بڑوں کے بچنے کا گھر۔ (۳) گھاس کا پھیلاؤ۔

چھتارا: کثرت سے شاخوں اور پتوں والا درخت۔

چھتر: مذکر، (۱) بٹا چھاتا، چتر، بادشاہ کے سر کی چھتری، (۲) تھلیانہ

نمبر، (۳) کرنا تیا، پناہ گاہ، مانن۔

— پتی: دکھنا تیا، راجا، بادشاہ۔

چھترانا، بھینرنا۔

چھتری: موت؛ (۱) چھوٹا چھاتا، (۲) کبوتروں کے بیٹھے کا

چھ۔پ

چھپا / چھیا: مذکر، پوشیدہ، مخفی۔

— رستم: مذکر، (۱) لوگوں میں ظاہر نہ ہونے والا

اپنے ہمراہوں کی کامل شخص، پوشیدہ، کامل فن، (۲)

چھپ بدعاش، چھپا بد ذات، ظاہر میں غریب اور درپردہ

نہایت شریف شخص، بڑا بھاری شریف۔

— رکھنا: پنہاں رکھنا۔

چھپانا، (۱) پوشیدہ کرنا چھپ کرنا، ڈھانکنا، (۲) پردہ کرنا۔

چھپا کا: مذکر، (۱) پانی کی مٹی پڑانے کی آواز، (۲) چھیننا۔

چھپائی: موت؛ (۱) چھاپنے کا کام، (۲) چھپنے کی اجرت۔

چھپسی: موت؛ (۱) کٹڑی کی چھیلن، (۲) دکھنا تیا، ڈبلاہ

یوغ، پتلا۔

چھتر پھلو چھوس کبی نہیں: بڑا کنگال ہونا۔

چھتر پھلو رکھنا / چھتر پھلو ہننے دینا: الگ کرنا، خاطر میں نہ لانا۔

— چھال کر مونا: بے وسیلے زندگی پہنچانا، اس جگہ سے دلانا

جہاں سے آئید ہو۔

— ٹوٹ پڑنا: بیکار، مصیبت آجانا۔

— رکھنا: دکھنا تیا، باہر احسان رکھنا، بڑا بھاری احسان

کرنا، (۲) بھروسہ رکھنا، الزام رکھنا۔

چھپر کھٹ: مذکر، وہ پلنگ جس کے اوپر چھتری اور پوشش

ہو، چھتری دار پلنگ۔

چھپکا: مذکر، (۱) پانی کا بڑا چھینٹا، چھینٹا، تیرہا، (۲) بھروسہ

کی طرح بالوں میں باہر کھرتے پر رکھا جانے والا زیرو

(۳) پھلانی ہوئی رنگ کا چھڑا، (۴) کٹڑی میں

لگا ہوا بے کپڑے۔

چھپکلی: موت؛ (۱) چھپا، ایک رنگینے والا جانور، جو اکثر دیواروں

پر چھتا ہے، (۲) دکھنا تیا، ڈبلا پتلی عورت۔

چھینا: مین ہونا، بھر لگنا، بخش دیکھنا، عکس آکرنا۔

چھینا / چھینا: (۱) پوشیدہ ہونا، پنہاں ہونا، مخفی ہونا،

— کا دودھ یا دانا؛ مصیبت میں آرام اور عیش گزشتہ
 کا یاد آنا، نہایت مصیبت میں گھر جانا۔
 — کا دودھ نکلنا/چھٹی کا کھانا یا پینا نکلنا؛ گزشتہ آرام
 و راحت کی کسر نکلنا۔
 — کا کھانا؛ چھٹے روز زچہ کا مدہ کھانا
 — کے پوتڑے اب تک نہیں سوکھے؛ (دشمل) ہنوز تازہ
 کار ہے، بچہ ہے۔

— نہانا؛ بچہ ہونے کے چھ روز بعد کا غسل کرنا۔
 چھٹی؛ موت؛ (۱) تعطیل، اجازت، (۲) موقوفی، برطرفی، (۳)
 نقالوں کے چھوٹے چھوٹے لطیفے، (۴) چھٹکارا۔
 — دینا؛ (۱) رخصت دینا، اجازت دینا، (۲) برطرف کرنا،
 (۳) طالب علم کو مکتب سے چھوڑنا، یا تعطیل دینا۔
 — ملنا؛ (۱) فراغت پانا، رخصت ملنا، (۲) موقوف ہونا،
 برخاست ہونا، تعطیل ملنا۔
 چھٹے چھما ہے؛ کبھی کبھی، شاذ و نادر۔

چھ - ج - چھ - ج - چھ - ج

چھما؛ مذکر؛ آگے بڑھا ہوا چمت کا حصہ، برآمدہ۔
 چھٹا؛ مذکر؛ گوشت کا تپلا اور بے کار حصہ۔
 چھٹکارنا؛ کتا چھپے دوڑانا، سیٹی بجانا۔
 چھٹھلا؛ مذکر؛ (۱) آٹھلا، (۲) کم گہرا۔
 چھٹھلی؛ موت؛ کم گہری طشتری۔
 چھٹھلنا؛ کسی چیز کا کسی چیز پر سے چھوٹے ہوئے جلد گذر
 جانا۔
 چھٹھلتی ہونی؛ موت؛ (۱) وہ چیز جو کسی چیز پر سے اُوپر ہی اوپر
 گذر جائے، (۲) وہ جو سرسری طور پر کبھی جائے۔
 چھٹھورا؛ مذکر؛ پیٹ کا ہلکا، کم ظرف غیر شائستہ۔
 — پن/چھٹھورین؛ مذکر؛ بلاسن، سفلین، مکینہ پن۔
 چھٹھوڈر؛ موت؛ (۱) جو بے کے برابر ایک قسم کا بدبودار
 جانور، (۲) ایک قسم کی آتش بازی، (۳) گناہنا، ادھر ادھر
 پھرنے اور لڑنے والی عورت۔

ایک شتر، (۳) ایک قسم کا گنبد دار محل، (۴) ڈولی کے اوپر کا
 شتر، مدہ، کسر کے بڑے بڑے اور گھنے بال۔
 چھٹری؛ ہندوں کی ایک قوم کا نام۔
 چھٹھرا؛ مذکر؛ ناپاک۔
 چھٹھانا؛ بددوق کی شہمت، باندھنا۔
 چھٹھیا؛ چھٹھیا؛ مذکر؛ مکار، حیار۔
 چھٹھیا پن؛ مذکر؛ حیار، مکاری، چالاک۔

چھٹ - ط

چھٹ؛ بجز، سوا، حرف استنہار۔
 — جھٹے؛ آدنا درجے کے لوگ، بیخ۔
 چھٹا/چھٹا ہوا/چھٹیل؛ بڑا بدعاش۔
 چھٹانک؛ موقوف، وزن، سیر کا سولھواں حصہ، (۲) پانچ تولہ۔
 چھٹ بن/چھٹ پینا؛ مذکر؛ بچپن، لڑکپن۔
 چھٹکا؛ مذکر؛ چھوٹا۔
 چھٹکا؛ مذکر؛ فینس کارنگین اور منتقل بردا۔
 چھٹکارا؛ مذکر؛ رہائی، فرصت، مہلت۔
 چھٹکانا؛ پرانگندہ کرنا، پھیلانا۔
 چھٹکننا؛ (۱) بکھرنا، پرانگندہ ہونا، پھیلنا، منتشر ہونا، (۲)
 تار سے چھٹکانا، روشن ہونا، چھٹکانا، (۳) فوط یا سفید کا جھٹکا
 کھانکر بڑھانا، (۴) نہر کا اثر پھیلنا، (۵) اعضاء کا
 شہمت اور مضمحل ہونا۔
 چھٹنا؛ (۱) صاف ہونا، مواد نکالنا، (۲) ڈبلا ہونا، گھٹنا، (۳)
 چھنا جانا، (۴) قلم ہونا، ترشنا، (۵) بدلا ہونا۔
 چھٹنا؛ (۱) بدلا ہونا، (۲) برطرف ہونا، موقوف ہونا، (۳)
 باقی رہنا، (۴) ڈھیلا پڑنا، شہمت ہونا، (۵) نکلنا،
 جاری ہونا، چھٹنا، (۶) دفنا، سر ہونا، (۷) طلحہ ہونا
 جدا ہونا، (۸) چپکی ہوئی چیز کا ٹھکانا، (۹) نجات یا آمد ہونا۔
 (۱۰) شے مر ہونے کا زمین سے چھوٹنا۔
 چھٹواتا؛ راکھانا، جاری کرنا، جدا کرنا۔
 چھٹی؛ بچہ پیدا ہونے کے چھ روز کے بعد کی رسم۔

چھری کٹاری ہونا؛ موٹف؛ (۱) لڑائی جھگڑا ہونا؛ (۲) بحث و محرار ہونا۔

مارنا؛ (۱) چھری بھونکنا، گھائل کرنا؛ (۲) دکھانا، بُری بات کہنا، ناگوار بات کہنا۔

چھریاں بھونکنا؛ دکھانا، نہایت تکلیف پہنچانا۔

چھیرا؛ مذکر؛ ڈبلا، پتلا، ہلکا پھلکا، ڈبلا، لاٹبا۔

چھ۔ ر

چھڑ؛ موٹف؛ (۱) پتلا اور لمبا باش، نیزہ، (۲) علم کی چوبی نیزے کی چوبی، (۳) کبوتروں کو پکڑنے یا پھل کا شکار کرنے کا پسند لگا ہوا پتلا لانا باش (۳) بنی۔

چھڑا؛ (۱) تنہا، اکیلا؛ (۲) مذکر؛ پانوں کا زیور۔

چھڑانا؛ (۱) رہا کرنا؛ (۲) ایک کو دوسرے سے الگ کرنا؛ (۳) نوکری سے علاحدہ کرنا؛ (۴) بھات دینا؛ (۵) بخشنا؛

معاف کرنا؛ (۶) ہندوق جلانا، آتش بازی کا چھوٹا، توپ ستر کرنا؛ (۷) پھانا محفوظ رکھنا؛ (۸) واگزارشت کرنا۔

چھڑائی؛ موٹف؛ (۱) جرمانہ، چھڑائی کی اجرت؛ (۲) کھڑا بیٹھا کے لیے دوسرے کے ہاتھ سے چھڑوانا۔

چھڑکاؤ؛ مذکر، پانی وغیرہ کا زمین پر چھڑکنا، آب پاشی۔

چھڑکنا؛ (۱) پانی کی چھینٹیں پھینکنا؛ (۲) تصدق کرنا؛ (۳) تھوڑا تھوڑا ڈالنا، جیسے رنگ چھڑکنا، سفوف چھڑکنا۔

چھڑنا؛ فلہ اس طرح کوٹنا کہ اس کا پوست اتر جائے اور فلہ سالم رہے۔

چھڑنا؛ (۱) شروع ہونا؛ (۲) بہنا۔

چھڑوانا؛ چھڑوانا کرنا۔

چھڑھی؛ موٹف؛ (۱) تلی لکڑی، سید، (۲) چھٹی کھینے کی پٹیلوں کی جمی، (۳) گوگرد اور سنی وغیرہ کو پھلکانا؛ (۴) کسی

بزرگ کے نام کی بنائی ہوئی چھڑھی؛ (۵) گل فروشوں کی پھول اور پتے پیش ہوتی سپدھی، شاع؛ (۶) چھہ

اکیل۔

چھوٹدر کے سر میں چنبیلی کا تیل؛ دیشل، اچھی چیز بڑے کو زیب نہیں دیتی۔

چھ۔ و

چھدا؛ مذکر؛ (۱) الزام، تہمت؛ (۲) گلہ، شکوہ۔

آٹارنا؛ (۱) گلہ شانا، شکوہ شانا؛ (۲) الزام ڈر کرنا؛ (۳) اور پری دل سے کوئی کام کرنا، بوجھ آٹارنا۔

دھڑنا؛ چھدا رکھنا؛ الزام دینا، بہتان دینا۔

چھدام؛ موٹف؛ (۱) چھری، (۲) ایک پرانا سکہ جو اب متروک ہے) چھڈرا؛ مذکر؛ چھیرا، چھید دار؛ (۲) دفتر دفتر سے۔

کھچلنا؛ ٹانگیں کھول کر چلنا۔

چھڈنا؛ سوراخ دار ہونا؛ (۲) ٹھینا؛ (۳) مجروح ہونا۔

چھ۔ ر

چھرا؛ مذکر؛ (۱) بندوق کی چوٹی چوٹی گولیاں، سنگ ریزہ؛ (۲) گنگر وغیرہ میں ڈالے ہوئے سنگ ریزے؛ (۳) دکھانا،

طن دھنتر کی بوجھار۔

چلنا؛ (۱) دکھانا، سنگ ریزوں کی بوجھار ہونا؛ (۲) گالیوں کا سترا بڑھانا؛ (۳) تبرا کرنا۔

چھرا؛ مذکر؛ بڑا چاقو۔

چھری؛ موٹف؛ بند ہونے والا لبا چاقو، چھوٹا چھرا۔

پھیرنا؛ (۱) فرج کرنا؛ (۲) دکھانا، تکلیف دینا، آزار پہنچانا؛ رنج دینا، ظلم کرنا۔

تلیے دم لینا؛ نہایت تکلیف میں مبر کرنا، شہزادہ تامل کرنا۔

تیز رہنا؛ ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار رہنا، مارنے کو مستعد رہنا۔

تیز ہونا؛ (۱) چھری پر یا شہر کی ہانا، (۲) ظلم و ستم پر آمادگی ہونا۔

چلنا؛ چھریوں سے مار گئی ہونا، لڑائی ہونا، اونٹنی ہونا، رنج پہنچا۔

دکھانا؛ قتل کرنے کی دھمکی دینا۔

چھڑیوں کا میلہ، مذکر، کسی بزرگ کی چھڑیوں کے نام سے
گنے والا میلہ۔
چھڑے، مذکر، پانچ کار یور۔
چھٹانک، بالکل اکیلے سبک اور تنہا، تن تنہا۔
چھڑیلا، مذکر، ایک خوشبودار بوٹی۔

چھ - ک

چھٹا، مذکر، (۱) چھ سے نسبت رکھنے والا، (۲) گنجھ یا تاش کا چھ
علامتوں یا نقطوں والا پتہ۔

چھک جانا، (۱) سیر ہونا، آسودہ ہو جانا۔
چھکا چھک، مونٹ، (۱) سیر، آسودہ، (۲) نشے میں پڑا۔
چھکانا، پیٹ بھرا، سیر کرنا، شراب پلانے کا آسودہ کرنا۔
چھکڑا، (۱) اسباب لادنے کی بڑی گاڑی، (۲) انجیر پھیلے
ہو جانے والی چیز، ازکا درفتہ چیز۔

چھو جانا، کسی سواری کا تیز نہ چل سکرنا، بیکٹا ہو جانا،
بے کار ہو جانا۔
چھکے چھوٹنا، (۱) گھبرا جانا، (۲) دکنا تیا، حواس باختہ ہونا۔
چھکے پنچے بھول جانا، کوئی تدبیر نہ بن پڑنا، ہوش و حواس ہاتے پڑنا۔

چھ - ل

چھل، مونٹ، (۱) دیوار کا گرا ہوا ٹکڑا، دیوار کی گری ہوئی چند
اینٹیں، (۲) مذکر، ٹکڑا، فریب۔
بشار چھل بنے، مذکر، فریب، مکر، دم۔
بیل کرنا، (۱) فریب جیل کرنا، (۲) شوخی، چالاکی دکھانا۔
کمرنا، دھوکا دینا، جیل کرنا۔

چھلا، مذکر، (۱) حلقہ، قلاب، کڑا، (۲) ہاتھ پائی انگلیوں
میں پہنانے والا دھات کا حلقہ، (۳) کلابتوں یا
ریشم کے غول گول ڈالے ہوئے نشان، (۴) ایک طرف پختہ
اور دوسری طرف کچی گھری دیوار۔

چھڑنا، پانی کا آچھو ہو جانا۔
دھوکرا آٹھانا، منت کا چھلا پاک کر کے رکھنا۔

چھ - ن

چھلا، جنموٹ، (۱) دار، (۲) دائرہ، جاکر بیروں کے گیت گانے والے ایک
قسم کے ڈوم، (۳) آگ پر لوٹنے والا سید احمد کبیر کے مریدوں
کا گروہ۔
چھل پلانا، (دہلی) بازار میں کھڑے ہو کر پیاسوں کو کھوسے بجابجا لپٹی پلانا۔
چھلا چھلانا، (۱) پانی چھوڑنا، (۲) پیشاب کرنے کی آواز، (۳) اترانا۔
چھلک، مونٹ، پانی کا بالاب ہو کر گرنا۔
چھلکانا، لہریز چیز کو بالاب بھر کر گرنا دینا۔
چھلکننا، (۱) رتیق چیز کا بالاب ہو کر بہنا، (۲) دکنا تیا تھوڑی سی جاہ و
حشمت پر غرور کرنا، نخوت و غرور کی باتیں زبان پر لانا۔

چھلنا، (۱) فریب دینا، بھل دینا، (۲) مذکر، بڑی چھلنی۔
چھلنا، کسی چیز کا بوست اترنا، پھڑا پھڑا کھڑا مانا، کھال اُدھڑانا۔
چھلنی، مذکر، چھاننے کا آلہ، کسی چیز کے چھاننے کا سوراخ، دار برتن۔
میں ڈال چھان میں آڑا، (۱) اڑنا، (۲) سو اکرنا، بات کا بنگلہ بنانا
ذرا سی بڑائی کو بڑھا کر بیان کرنا۔
کیا بولے جس میں بہتر (سو) چھید، (مثل) جس میں
خود عیب ہوں وہ دوسروں کی تکتہ چینی کیا کرے۔
ہو جانا، (۱) دکنا تیا، (۲) سوراخ سوراخ ہو جانا، (۳) چھت یا کسی
چیز کا چھلنی کی طرح سوراخ دار ہو جانا۔
چھلی چھلیا، مونٹ، لوگوں کا ایک کھیل۔
چھلیا، (۱) مذکر، فریبی، مکار۔

چھ - ر

چھا، (۱) مونٹ، معانی، رم۔
چھنا، مذکر، بڑی چھنی۔

چھن : (۱) مذکر، لمحہ، لحظہ، پل۔

چھننا : (۱) کسی چیز کا چھلنی سے ٹکنا، چھانا جانا، (۲) تیروں یا گولیوں سے بدن کا چھد جانا، (۳) سوراخ سوراخ ہونا، چھید ہونا، (۴) لڑائی ہونا، بگاڑ ہونا، (۵) صاف ہونا تحقیقات یا بحث مباحثہ ہو کر کسی امر کا لے ہونا، (۶) شمع یا آفتاب وغیرہ کی روشنی باہر نکلنا۔

چھننا : موٹھ، بدکار عورت، فاحشہ، بد ذات عورت، (۲) شوخ، بیباک، بے جا۔

چھننا و : مذکر، چھٹن، چھانٹ، تراش۔

چھننا / چھٹنا : (۱) صاف ہونا، (۲) کم ہونا، (۳) چٹنا جانا۔

چھنٹیل : اچھا حصہ نکالنے کے بعد باقی بچی ہوئی خراب چیز۔

چھند : مذکر، (۱) سکر، فریب، میل، (۲) موٹھ، بنظم، (۳) (۴) ہلم عروض، بیت، گانے کی نال۔

چھند : مذکر، فریب، چالاک، عیاری۔

چھنکارنا : دھاگوں آگ پر نیم گرم کرنا، شہر گرم ہونا۔

چھنکنا : ناک صاف کرنا۔

چھنکا : مذکر، چھ آٹھ کیوں والا آدمی۔

چھنکل / چھنکلیا : موٹھ، ہاتھ یا پاؤں کی سب چھوٹی انگلی۔

چھننا : زبردستی لے لیا جانا۔

چھننی : موٹھ، صافی، چھاننے کا مہینہ کپڑا یا کوئی سوراخ دار برتن۔

چھو

چھو : موٹھ، کچھ بڑھ کر چھوکنے کی آواز، جادو، افسوں، منتر، دم۔

چھا : موٹھ، (۱) چھو، (۲) مذکر، خالی نچڑا ہوا، (۳) کھینچ۔

چھنا : دم کرنا، دھا پڑھ کر چھوٹنا۔

چھنتر : مذکر، جادو یا افسوں پڑھ کر چھوٹنا۔

چھنتر ہو جانا : غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، دفع ہو جانا۔

چھوڑا / چھوڑا : مذکر، ٹھوڑا، سوکھی ٹھوڑ۔

بیر : مذکر، سترخ اور شہرین لبا بیر۔

چھوٹا : چھت پر کھپڑ لگوانا، چھتر ڈھلوانا۔

چھوٹا : لگانا، مس کرنا۔

چھوپ چھاپ : موٹھ، دیوار کی مرمت کرنا۔

چھوپا : مذکر، ترمی سے دیوار کا سوراخ بند کرنا۔

چھوپنا : لینا، ترمی سے سوراخ بند کرنا۔

چھوٹ : موٹھ، ناپاک آدمی کا سایہ (۲) ناپاکی، نجاست، (۳) نجس۔

چھاڑنا : نجس آدمی کا سایہ رفع کرنا۔

چھوٹ : مذکر، گوبر، گندگی۔

چھوٹ : (۱) رہائی، آزادی، (۲) فرصت، چھکارا، (۳) تخفیف، قیمت میں کمی۔ (۴) رویت، چھکیت یا کیت کی اصطلاح، مقابلے میں حریف

کو اجازت ہو کر جہاں موقع پائے بے قاعدہ وار کرے، (۵) بے تکلفانہ مزاج، مذاق گالی گلوچ، بھکڑا، (۶) طلاق، (۷) پڑھو، عکس، چمک۔

چھوٹا : کسی چیز کا کسی چیز پر عکس پڑنا۔

چھوٹا : (۱) ٹکڑی کا فن جس میں ایک شخص متعدد ٹکڑی چھیننے والوں سے مقابلہ کرتا ہے، (۲) باہم کھلی کھلی گایاں دینا۔

چھوٹا : مذکر، (۱) اوجھا، تنگ، (۲) قد میں کم، عمر میں کم، (۳) کھینچ، (۴) کم، (۵) اڈنا۔

چھوٹا : مذکر، بڑھ کر چھوٹا جانے والا دروازہ اور مہینے کا نل۔

چھوٹا : مذکر، اڈنا، (۲) قد میں کم، عمر میں کم، (۳) کھینچ، (۴) کم، (۵) اڈنا۔

چھوٹا : مذکر، بڑھ کر چھوٹا جانے والا دروازہ اور مہینے کا نل۔

چھوٹا : مذکر، اڈنا، (۲) قد میں کم، عمر میں کم، (۳) کھینچ، (۴) کم، (۵) اڈنا۔

چھوٹا : مذکر، بڑھ کر چھوٹا جانے والا دروازہ اور مہینے کا نل۔

چھوٹا : مذکر، بڑھ کر چھوٹا جانے والا دروازہ اور مہینے کا نل۔

چھوٹا : مذکر، بڑھ کر چھوٹا جانے والا دروازہ اور مہینے کا نل۔

چھوٹے ہی : فوراً، بلا تاویل، جھٹ سے۔

چھوٹیا : کھنٹا، رتی تڑا ہوا، بھنا۔

چھوٹے گانے سے ناتہ کیا : رشل، جس سے کچھ تعلق نہ رہا ہو اس سے کوئی ملا تہ نہیں۔

چھوٹی : چھوٹا کا موٹھ۔

آمت : موٹھ، بیچ قوم، فرد یا یہ ذلیل آدمی۔

بات : موٹھ، خفیعت، معاملہ۔

چھوٹے بڑے : امیر فریب، اہلا، ادا، اپنے اور بڑھے۔

چھوٹے دل کا : پست ہمت، کم حوصلہ۔

چھوٹی کھونٹی کا (گھوڑے اور آدمی) پست قدم کم درجہ، کم حیثیت۔
چھوڑ چک / چھوڑ چھک: موت؛ نہ زینہ خانہ کی رسم پھٹی کے دن
نانی بچے کے لیے کپڑے، کھلونے، جھوللا اور دوسرا سامان لٹائی
ہے اسے چھوڑ چھک کہتے ہیں۔

چھوڑ چھو: (۱) دایہ، کھلائی، لڑکیوں کی خدمت کے واسطے ملازم،
امیروں کے بچوں کی پرورش کرنے والی عورت، (۲) ساتھ
ساتھ کھیل کر پڑی ہونے والی ہم عمر لڑکی۔

چھوڑ: (۱) مذکر، کنارا۔

چھوڑا: مذکر، چھوڑا، لڑکا۔

چھوڑانا: چھوڑنا کا متعدی۔

چھوڑنا: (۱) نجات دینا، (۲) بخشنا، معاف کرنا، (۳) بذوق
چلانا، (۴) بچانا محفوظ رکھنا، (۵) واگذاشت کرنا،

(۶) استعفا دینا، نوکری سے علاحدگی اختیار کرنا، (۷)

طلاق دینا، (۸) ہجرت کرنا، (۹) جھٹلنا، (۱۰) علاحدہ

کرنا، (۱۱) مکان خالی کرنا، (۱۲) ٹرٹھکانا، (۱۳) جاری

کرنا، پانی بہانا، (۱۴) رہا کر دینا، آزاد کر دینا، (۱۵) کہنہ

باقی رکھنا، (۱۶) ہاتھ سے ڈال دینا کسی شے پر، رہا ترک

کرنا، (۱۷) درگزر کرنا، تنبیہ و سزا سے (۱۸) کسی چیز کے لینے یا کوئی بات

کہنے سے باز آنا، (۱۹) شکاری جانور کو دوسرے جانور پر چھینا۔

چھوڑا: مذکر، (۱) لڑکا، (۲) غلام، چیلہ، (۳) نادان، نا تجربہ کار۔

چھوڑ داری: موت، چھوڑا خیمہ، رسیا ہیوں یا ملازموں کے

رہنے کا مکان، ٹینٹ۔

چھوڑنا: سس کرنا، ہاتھ لگانا۔

چھوڑنا جانا: بالکل نہ ہونا، کورا ہونا۔

چھوڑ سچھا: مذکر، (۱) سرخالی چیز، (۲) غفلت، تہی دست۔

چھوڑ چھی: موت، نرسکل کی تلی۔

چھوڑ چھک: مذکر، بھارا، داغ۔

چھوڑ کھنا: بھگانا۔ گھی داغ کرنا۔

چھوٹی موٹی: موت، (۱) لاجبختی، ایک قسم کی بوٹی کے پتے جو

ہاتھ لگانے یا سایہ پڑنے سے مرعجا جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر

میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، (۲) کھانا یا نہایت نازک مزاج۔

چھہ - می

چھیب: (۱) جمائیں، دھبا، داغ، برس، (۲) چھیلیاں کھڑنے
کی چھڑی (۳) زین کا تسمہ۔

چھیبی: (۱) کپڑا بچا پنے والا، (۲) کپڑا بندھی ہوئی چھڑی۔

چھبج: موت، کھی، نقصان، کسی چیز کے بار بار بولنے، اٹھانے
رکھنے، سوکھنے، سکھانے سے ہونے والی۔

چھبجنا: (۱) کم ہونا، گھٹنا، زوال ہونا، (۲) مرنا، جان سے جانا۔

چھبجھا لیدر: پریشانی، مصیبت۔

چھبچھہ لہر چھبچھہ: گوشت کا ناکارہ اور رڈی جفتہ۔

چھبید: مذکر، (۱) سوراخ، (۲) گڑھا، بل۔

ڈالنا: (۱) کسی چیز میں سوراخ کرنا، (۲) (کھانا پینا)

طعن طنز کی باتیں کرنا۔

کرنا / چھبیدنا: سوراخ کرنا۔

چھبیر: موت، چھبیر خانی، دل بگی، (۲) آزار دہی، (۳) اشتعال
دلانا، (۴) ابتدائے فساد۔

چھبڑ: موت، رہنمائی، مذاق، نوک جھونک۔ (۲) تحریک

ابتداء فساد کی۔

خانی: موت، دل بگی، بٹھسا، کاوش، اشتعال طبع۔

چھبنا: چھبنا، لٹھنا، لٹھنا کرنا۔

چھبڑنا: (۱) چھبنا، ہاتھ لگانا، سس کرنا، (۲) گدگدانا، گدگدی

کرنا، (۳) ستانا، کسی بات کی ابتداء کر کے کسی کو آزر دہ کرنا، بھڑکانا،

رہنمائی کرنا، اشتعال دلانا، (۴) لٹھ دینا، گھوڑا تیز کرنے کے لیے

گھوڑا دوڑانا، (۵) مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، (۶) تذکرہ کرنا، ابتداء کرنا۔

(۷) چھبنا، آگاہ کرنا، (۸) پھوڑے پر نشتر لگانا، (۹) ساز بھلنے

کی ابتداء کرنا، (۱۰) کوئی راگ شروع کرنا۔

چھبیل: مذکر، بانگ پن، اہیلپن، رنگیلپن۔

چھبیللا: مذکر، کپڑے رنگنے کی خوببودار گھاس۔

چھبکھنا: (۱) مذکر، بانگ، ترچھا، رنگیللا۔

چھبیللا: مذکر، موت، اچھا لباس پہن کر بنا ٹھنارہنے والا۔

چھبیلن: موت، تراشا، جو کچھ چھیلنے سے نکلے۔

چھینکا : مذکر (۱) کھانا وغیرہ رکھنے کے واسطے چمٹ میں لٹکانے والی
 ٹشون (۲) چوپایوں کے منہ پر لگانے والی جالی۔
 چھیننا : چھین لینا، کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز زبردستی لے لینا۔
 چھینسی : موٹ، ٹٹائی، لولہ یا پتھر کاٹنے کا اوزار۔

ح

ح : اُردو حروف تہجی کا ایک حرف، ح حلی، ح مہملہ، ح حائے غیر
 منقوط، حسابِ جبل (ابجد) میں اس کے آٹھ عدد ہیں۔

ح - ۱

حاقم : (ع) مذکر، عرب کے قبیلہ طے کے ایک نہایت سخی سردار کا نام، حاقم
 طائی، (۲) دکنایتا، بڑا سخی، قیاض۔

_____ کی گورپرلات مارنا : دکنایتا، حاقم سے بڑھ کر سخاوت
 کرنا، بخیل سے اتنا قیاض سخاوت ہو جانے پر طنزاً کہنا۔

حاجب : (ع) مذکر؛ (۱) دربان، چوب دار، (۲) پردہ۔
 حاجت : (ع) موٹ؛ (۱) خواہش، ضرورت، (۲) آرزو
 آئندہ مُراد۔

_____ برآنا : مُراد پوری ہونا۔

_____ خواہ : (ف)؛ سائل، محتاج، مانگنے والا۔

_____ رُفَع کرنا : (۱) کسی کا کوئی کام نکالنا، (۲) پاخانے جانا۔

_____ رُوا : (ف) حاجت پوری کرنے والا۔

حاجتی : موٹ؛ (۱) بیادوں کا چار پانی پر پڑے پڑے پیناب
 کرنے کا ظرف، (۲) ضرورت مند، مراد خواہ۔

حاجی : مذکر؛ حج کرنے والا، حج کر کے آیا ہوا شخص۔

حاجی الحرمین : مذکر؛ حج کر کے اور مسجد نبوی کی زیارت کر کے
 آنے والا شخص۔

حادث : (ع)؛ بنا، نزول قبول کرنے والا، فنا ہونے والا،
 (۲) ایک اصطلاحِ فلسفہ۔

حادثہ : مذکر؛ واقعہ، مصیبت، زمانے کی گردش۔

حافظ : (ع)؛ ماہر، کامل، استاد، (عظیم کی صفت)۔

چھیننا : (۱) پوست آٹارنا، کھرچنا، (۲) خراش کرنا،
 (۳) کھلی کرنا۔

چھینا چھپٹی / چھین چھپٹ / چھینا چھانی : موٹ؛ ہلدی
 اور چالاکی سے کوئی چیز کسی سے لے لینا، کسی کے ہاتھ سے
 کچھ لے کر بھاگنا۔

چھین چھان لینا : چھین لینا۔

چھینٹ : موٹ؛ (۱) بڑند، کسی رقیب چیز کا قطرہ، (۲)
 رنگین چھاپا ہو کر پڑا، (۳) دارغ، دھبہ، (۴) دکنایتا،
 مشابہت، شبابہت۔

چھینٹا : مذکر؛ (۱) پانی یا عرق کا ہاتھ سے اُچھال کر کسی پر
 مارنا، (۲) ہلکی بارش، (۳) فریب، دھوکا، (۴) مُذک،
 پھانڈو کا ایک دم، (۵) طعنہ۔

_____ پڑنا : ہلکی سی بارش ہونا۔

_____ دینا : (۱) پانی کے چھینٹے دینا، (۲) چھوک مُرجانے کے
 بعد غسلِ صحت دینا، (۳) فریب دینا، ذم دینا، (۴)
 لالچ دینا، طع دینا۔

_____ مارنا : (۱) پانی یا رنگ وغیرہ کا چھینٹا دینا، (۲) مجازاً،
 سر دیکھنا، تسکین دینا۔

چھینٹوں میں آنا : ذم میں آنا، فقروں میں آنا، دھوکا کھانا۔

چھینٹے چلنا : (۱) درختوں کا باہم منہ پر پانی اُچھالنا، (۲)
 دکنایتا، طعنے دینے جانا۔

چھینٹے دینا : (۱) فریب دینا، باتیں بنانا، (۲) آمادہ کرنا، استعمال
 دینا، اُکسانا۔

_____ کُٹنا : طنز کرنا، طنزیہ فقرے کہنا۔

_____ لڑنا : (۱) دھاک دینوں کا پانی کے چھینٹے ایک دوسرے پر ڈالنا،
 (۲) دکنایتا، فدیہ و سوال و جواب کرنا، باہم مقابلہ کرنا۔

چھینک : موٹ؛ ناک سے سردی یا کھلی کی وجہ سے نکلنے والی آواز۔
 _____ مارنا : چھینک دینا۔

_____ ہونا : ننگوں پر ہونا۔

چھینکتے ہی ناک گٹی : سر مُنڈاتے ہی اولے پڑے، ابتداء
 ہی بگڑی۔

حال کُٹا ہونا؛ (عمو) حالت خراب ہونا۔

حالا؛ (ع)؛ ابھی، اسی وقت۔

حالاً نکمہ؛ (ت)؛ باجوہ دیکھ۔

حالات؛ (ع)؛ مذکر؛ جمع حالت کی۔

حالت؛ (ع)؛ مونث؛ (۱) کیفیت (۲) گت، درجہ (۳) دم،

جان، طاقت (۴) وجد۔

_____ غیر ہونا؛ حالت تباہ ہونا۔

_____ نزرع؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ جان کنی کا عالم، توڑنے کی کیفیت۔

حالی؛ (۱) موجودہ، وقتی؛ (۲) مذکر؛ سکتہ، راجح الوقت۔

حالیہ؛ (ع)؛ (۱) ابھی، اسی وقت فوراً؛ (۲) اب کا، حال کا، موجودہ۔

حالی موالی؛ مذکر؛ ہم نشین، ساتھی۔

حامد؛ (ع)؛ تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا۔

_____ حَامِضٌ؛ (ع)؛ تڑپ، کھٹا۔

_____ حائل؛ (ع)؛ بوجھ اٹھانے والا، کسی چیز کا لے جانے والا۔

_____ حَمْتَنٌ؛ (اضافہ کے ساتھ) اصل مع شرح۔

_____ حُجّی؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ مذکر؛ (۱) وحی پہنچانے

والا؛ (۲) رکنائیا، حضرت جبرئیلؑ۔

_____ حاملہ؛ مونث؛ پیٹ میں بچہ والی عورت۔

_____ حامی؛ (ع)؛ مذکر؛ حمایتی، مددگار۔

_____ کار؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ گرم خوشی سے حمایت کرنے والا۔

_____ حادوی؛ (ع)؛ (۱) گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا؛ (۲) غالب،

قابو پانے والا۔

_____ حائل؛ (ع)؛ بچ میں آنے والا، مانع، آڑ، روک۔

ح - ب

_____ حَبّ؛ مونث؛ گولی، دانہ، بیج۔

_____ حَبْتٌ؛ مونث؛ (۱) آفت، آتش، محبت؛ (۲) دوستی،

شوق، آرزو۔

_____ الحوٰطن؛ (ع)؛ مونث؛ وطن کی محبت۔

_____ کا عمل؛ وہ دیا عمل جو باہم محبت پیدا کرے۔

_____ حَبَابٌ/مَحَبَابٌ؛ (ع)؛ مذکر؛ پانی کا بلبُلہ

زبانی یاد کرنے والا شخص۔

_____ حافظ حقیقی؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ (ت)؛ مذکر؛ اصلی نگہ بان،

خدا کے تعالٰی۔

_____ حافظہ؛ مذکر؛ یاد رکھنے کی قوت۔

_____ حاکم؛ (ع)؛ (۱) حکم کرنے والا، ملک کا والی، سردار؛ (۲)

فرمان رُوّا۔

_____ بالاء/اعلا؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ مذکر؛ (۱) خدا،

خداوند تعالیٰ؛ (۲) افسر اعلا۔

_____ چوآن کا بھی بُرا؛ (مشل)؛ ادنا ماکہ سے بھی ڈرنا چاہیے۔

_____ کے تین اور شخصہ کے نو؛ (مشل)؛ حاکم کے اہل کار اس سے

زیادہ رعیت کو لوتتے ہیں۔

_____ حال؛ (جمع)؛ (حوال)؛ مذکر؛ (۱) زمانہ موجودہ (۲) حالت کیفیت

(۳) حیثیت، طور طریق، اسلوب (۴) مشائخ کا وجد راگ

سننے کے وقت، صوفیانہ کلام سن کر اہل دل پر طاری

ہونے والی بے خودی؛ (۵) ابھی، فی الحال۔

_____ نہ ہونا؛ سکت نہ ہونا، طاقت نہ ہونا۔

_____ آنا؛ راگ سن کر وجد کی کیفیت طاری ہونا۔

_____ آئینہ ہونا؛ حال ظاہر ہونا۔

_____ بے حال ہونا؛ حالت غیر ہونا، خراب خستہ ہونا۔

_____ پتلا ہونا؛ بُرا حال ہونا، حالت خراب ہونا۔

_____ پیر رونا آنا؛ کسی کی خراب حالت دل گڑھنا، گرم آنا، تڑس آنا۔

_____ سے بے حال ہو جانا؛ اچھی حالت سے بُری حالت

ہو جانا، حیثیت بگڑ جانا۔

_____ غیر ہونا؛ حالت خراب ہونا۔

_____ قال؛ مذکر؛ (۱) حالت اور بیان؛ (۲) بے خودی۔

_____ کا نہ قال کا، رُوئی چچا وال کا (مشل)؛ نکمّا آدمی

بے کار بے صرف آدمی۔

_____ کرنا؛ کسی حالت کو پہنچانا۔

_____ کھل جانا؛ (۱) آگاہی ہونا، سمجھنا ظاہر ہو جانا؛ (۲)

گت بن جانا، ستر اکو پہنچانا۔

_____ کھیلنا/لانا؛ وجد لانا، راگ سن کر خوشی کرنا، لوٹا لوٹا پھرنا۔

غیبِ خدا؛ خدا کا پورا راز، سرا، رسولِ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ح. ت. ح. ج

حَتَّی / حَتَّانَا (ح)؛ یہاں تک، اس قدر، جب تک، جہاں تک
تک، جس قدر۔
الامکان / حَتَّی الْمَقْدُور / حَتَّی الْوَسْع : جہاں تک
ہو سکے، جس قدر ممکن ہو۔

حَتَّی : پتہ، مستقل، مضبوط۔

حَتَّی : اپیل، موٹ، آخری درخواست۔

حَجَّ (ح)؛ مذکر؛ وقت مقررہ پر بیت اللہ کی زیارت کرنا اور
خاص ارکان بجالانا۔

حَکَم : (اضافت کے ساتھ)؛ بہت بڑا حج، بڑے ثواب
کا حج۔

حجاب (ح)؛ مذکر؛ (۱) پردہ، اوٹ، (۲) حیا، ترم، لحاظ۔

حُشِنَا : (ح)؛ پردہ اٹھنا، روک نہ رہنا، (۲) بے شرم
ہونا۔

حُشِنَا : (ح)؛ لحاظ آنا، شرم آنا۔

حُشِنَا : شرم و شرم ہونا۔

حُجَّاج (ح)؛ مذکر؛ جمع حاج (ح) کرنے والا، کی، حاجی لوگ۔

حُجَّام (ح)؛ مذکر؛ پچھنے لگانے والا شخص، نالی، (۲) انگ، باربر

حُجَّامَت (ح)؛ مؤنث؛ (۱) سر موڑنا، (۲) صفائی، درستی

حُجَّانَا : (۱) سر موڑنا، (۲) دکانا، لٹٹا، ٹھکنا۔

حُجَّاب (ح)؛ مذکر؛ ورثے سے محروم کرنا۔

حُجَّت (ح)؛ مؤنث؛ (۱) دلیل، (۲) تکرار، جھگڑا۔

حُطَّ : (اضافت کے ساتھ) (ف)؛ مؤنث؛ دوسروں کی

دلیل کو کاٹ کرنے والی دلیل، کافی دلیل، مضبوط حجت۔

حُویَا : (اضافت کے ساتھ) (ف)؛ مؤنث؛ دلیل، ناطق،

قوی سند۔

حُوجَّہ : (اضافت کے ساتھ) (ف)؛ مؤنث؛ کافی دلیل، حکم سند۔

حُجَّتِی : تکرار کرنے والا، جھگڑا۔

حُجَّز : (ح)؛ جمع حجار، مذکر؛ پتھر۔

حباب آسا؛ جلیبے کی طرح، ناپائیدار، فانی۔

حبابہ (ح)؛ باریک، (۲) نڈاسا۔

حبابہ (ح)؛ مذکر؛ پھندا، جالی، رستی۔

حبابہ عقدہ؛ نکاح کا پھندا، شادی، میاہ۔

حَبَّأ : (ح)؛ موٹ، کلر، حسین و آفرین۔

حَبَّس : مذکر؛ (۱) بند، قید، (۲) قید خانہ، (۳) گھٹن
انقباض۔

حَبَّس : (ح)؛ جاننا، جانز؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ زبردستی کسی
شخص کو غیر قانونی طور سے مکان وغیرہ میں بند کر دینا۔

حَبَّس : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) دم، (۲) دم رکننا۔
بند و فقروں کا سانس روکنے کا عمل۔

حَبَّس : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ ساری عمر کی قید۔

حَبَّس : دوام بے غور و دریاے شور؛ سزاغا ہمیشہ کے لیے کالے
پانی بھیج کر دینا۔

حَبَّس : ہونا؛ ہونا کا بند ہونا۔

حَبَّسَات : (ح)؛ مؤنث؛ قید سے نسبت رکھنے والی چیز۔

حَبَّش / حَبَّشَة : (ح)؛ مذکر؛ حبشوں کا ملک، زنجبار، سوڈان
افریقہ وغیرہ۔

حَبَّش : (ح)؛ حبش کی رہنے والی عورت، (۲) کالی کلونی عورت۔

حَبَّشِی : (ح)؛ مذکر؛ باشندہ حبش، سیاہ، کالا، کلوٹا۔

حَبَّو : مذکر؛ ایک قسم کا سیاہ حلوا۔

حَبَّس : (ح)؛ مؤنث؛ رستی، رگ۔

حَبَّسِ الْمَتَّین : (ح)؛ مؤنث؛ مضبوط رستی، حکم وسیلہ۔

حَبَّو : (ح)؛ مؤنث؛ شہ رگ، بے انتہا قرب سے
مراد ہے۔

حَبَّو : مذکر؛ جمع حَبَّ کی گویاں۔

حَبَّہ : (ح)؛ مذکر؛ (۱) دانہ، فلتے کا دانہ، (۲) رتی، ذرا ذرا۔

حَبَّز : رتی بھر، ذرا سا۔

حَبَّہ و مَنُول پانا؛ کوڑی کوڑی رسول پالینا، کچھ باقی

نہ رہنا۔

حَبَّس : (ح)؛ مذکر؛ دوست، یار، معشوق۔

حَدَّثَ : (ع) مَوْتًا ؛ (ا) تَمِيْرًا ، (ب) كَرِيْمًا -
 حَدَّثَ : (ع) مَذْكُورًا ؛ وَضُوْطًا جَانِبًا ، وَدَعْمَ فَمِّ كِي (اصطلاح)
 حَدَّثَ : (ع) مَذْكُورًا ؛ كَاسِرًا چَشمًا -
 حَدَّثَ : (ع) مَذْكُورًا ؛ قَدِيْمًا كِي خَبْرًا ، وَجَوْدًا فِي آثَانَا -
 حَدَّثَ : (ع) جَمْعَ حَدِيْكَ ؛ مَذْكُورًا ؛ مَوْتًا ؛
 — اَزْبَعًا ؛ (اضافت کے ساتھ) ؛ چاروں سمتیں ، مشرق ،
 مغرب ، شمال ، جنوب -
 — شَرَعِيًّا ؛ (اضافت کے ساتھ) شَرَعِيًّا سَمَرًا تَمِيْرًا -
 حَدِيْثٌ : (ع) (ا) لَفْظِيًّا ؛ چَيزًا ، بَاتٌ ، نَيْيٌ چَيزًا ، (ب) اَصْلِيًّا
 اِسْلَامِيًّا ؛ جَوْ كَيْفِ جَنَابِ رَسُوْلِ خَدَا نِيْ اِسْمِيًّا زَبَانِ مَبَارَكِيْ
 اِرْشَادِ فَرِيَا يَابَا يَا خُوْد كِيَا ، يَا جَوْ فَعْلِ اِسْمِيًّا كِي سَانَسَنِيْ هُوَا جَوَا
 اِسْمِيًّا نِيْ اِسْمِيًّا مَخْرُجِيْ نَبِيْ كِيَا ، رَسُوْلِيْ مَقْبُوْلِيْ كِي تَوَلِيْ اِدْرَانِ كِي
 فَعْلِيًّا كِي خَبْرًا ، (ب) بَيَانًا ، ذِكْرًا ، حِكَايَتًا -
 — سَمَحًا ، بِالْاِسْمِ سَمَحًا ، كِسِي كِي بَاتِ كُو دَلِيْلِيْنَ بَاوَر كَرْنَا -
 — صَمِيْحًا ؛ مَسْتَبْرَحَدِيْثٌ ؛ وَهٗ حَدِيْثٌ ، حِيْسِ كِي رَاوِيْ بِيْ اِسْتِهْمَا
 دِيْنِ دَارِ اِدْرِ مَسْتَبْرَحَدِيْثِيْنَ -
 حَدِيْثٌ : (ع) مَذْكُورًا ؛ لَوْبًا -
 حَدِيْثِيَّتٌ : (ع) مَوْتٌ ؛ سَمِيْحِيٌّ ، لَوْبِي كِي اِسْمِيًّا سَمِيْحِيٌّ -
 حَدِيْقِيَّةٌ ؛ (ع) مَذْكُورًا ؛ چَارِ دِيْوَارِي كَا بَاغٌ -
 ح - ذ - ح - ر
 حِدَاقَتٌ / حِدَاقَتٌ : (ع) مَوْتٌ ؛ زِيْرِي كِي ، دَاتَانِي زِيْرِي
 حِكْمَتٌ -
 حَذَرٌ ؛ (ع) مَذْكُورًا ؛ پَرِ هِيْزِي ، بِيَاؤُ -
 حَذَفَ : (ع) مَذْكُورًا ؛ دُوْر كَرْنَا ، كَرْنَا ، كَلَا نَا ، لَقَطًا سِي كِسِي
 حَرْفِيًّا يَا عِبَارَتِ سِي كِسِي لَقَطًا كَا كَرْنَا -
 حَضَرَ : (ع) مَذْكُورًا ؛ اَزَارُ ، كِسِي كَا غَلَامُ نَهٗ هُوْنَا -
 حِرَا ؛ كِسِي كَا غَا رِحْرَا ، حِيْسِيْ حَضْرَتِ مُحَمَّدِ پَرِ سَهِيْلِيْ وَحِي نَاوَلِي
 هُوِيٌّ -
 حِرَازَتٌ ؛ (ع) مَوْتٌ ؛ دَا ، مَكْرِي ، حَدِيْتٌ ، (ب) دِكْرَانِيَّتًا
 خَفِيَّةٌ ، (ب) تَجْمِيْرًا خَفِيْفَتِ تَبِ -

حَجْرٌ اَسْوَدٌ ؛ (اضافت کے ساتھ) (ع) مَذْكُورًا ؛ كِسِي كِي دِيْوَارِ پَرِ اِكِي
 كُوْشِيْ مِيْنِ لِكَا هُوَا سَبْكُ سِيَاہ -
 — اِلْيَبُوْدٌ ؛ (حَجْرٌ اَسْوَدٌ) (ع) مَذْكُورًا ؛ دَوَا كِي كَامِ اَنِيْ وَالا اِكِي
 قِسْمِ كَا پَتْمَر -
 حَجْرَةٌ ؛ (ع) مَذْكُورًا ؛ كُوْشَرِي ، مَسْجِدِي كُوْشَرِي ، عِبَادَتِ كَرْنِيْ كَا
 خَلُوْتِ خَانَه -
 حَجْرِيٌّ عَمِدٌ ؛ مَذْكُورًا ؛ پَتْمَرِ كَا زَمَانَه ، اِنْسَانِي تَهْدِيْبِ كَا قَدِيْمِ تَرِيْنِ زَمَانَه ،
 (ب) اِنْسَانِي تَهْدِيْبِ كَا وَهٗ دُوْرِ جَبَلِ نَسَانِ پَهَارُوْنِ كِي غَارُوْنِ مِيْنِ
 رَهَا كَرْنَا تَحَا اِدْرِ پَتْمَرِ كِي اَزَارِ اِسْتِمَالِ كَرْنَا تَحَا اِدْرِ وَحَاكِي وَاقِفِيَّتِيْ هِيْ كِي
 حَجْلَه ؛ (ع) مَذْكُورًا ؛ دَلِيْنِ كَا چِيْھَرِ كَهْطُ ، پَرِ وَهٗ عَوْس -
 حَجْمٌ ؛ (ع) مَذْكُورًا ؛ جَسَامَتِ حَجْمِيٍّ هُوْمَانِيٍّ -

ح - د

حَدْرٌ / حَدْرٌ ؛ مَوْتٌ ؛ (ا) كِنَا رَهٗ ، اِنْفِ (ب) اِسْتِهْمَا (ب) اَقْلِيْدِسِ كِي مَقْرَهٗ
 اِسْوَل - (ب) شَرِيْعَتِ اِسْلَامِي كِي مَوَافِقِ سَمَرًا ، (ب) مَقْرَهٗ مَقَامِ ،
 رَوَانَهٗ هُوْنِي كِي جِگَرَهٗ ، (ب) اِحَاطَهٗ ، بَاڑَا -
 — بَا نَدُهْنَا ؛ سَرِ حَدْرِي كَرْنَا -
 — بِنْدُهْنَا ؛ مَدِنَدِي هُوْنَا -
 — بِلُوْرُغِ ؛ (اضافت کے ساتھ) مَوْتٌ ؛ بَالِغِ هُوْنِي كَا زَمَانَه -
 — بِلُوْرُغِ كُو پَنچِنَا ؛ (اضافت کے ساتھ) جَوَانِ هُوْنَا ، بَالِغِ هُوْنَا -
 — سِي بَا هِرِ هُوْنَا ، هَبِيْتِ زِيَاَدَهٗ هُوْنَا ، بِيْ كَثْرَتِ هُوْنَا -
 — سِي بَرِ هِرِ چَلْنَا ؛ تَجَاوَز كَرْنَا -
 — سِي بَرِ هِرِ كَرْنَا / سِي زِيَاَدَهٗ / سِي سَوَا ؛ بِيْ اِسْتِهْمَا ، هَبِيْتِ
 زِيَاَدَهٗ ، نِهَايَتِ -
 — فَاصِلٌ ؛ (اضافت کے ساتھ) دُو چِيْرُوْنِ كِي بِيْچِ مِيْنِ آ كَر
 اِكِي دُوسَرِي سِي هِدَا كَر دِيْنِيْ وَالِي چِيْر -
 — كَرْنَا ؛ اِسْمِي بَاتِ كَرْنَا اِسْمِ كِي اَكْسِي نَا مَكْنِ هُوَا -
 — نِهَايَتِ ؛ (اضافت کے ساتھ) دَعْوَهٗ كَمَالِ نِهَايَتِ اِسْتِهْمَا -
 حَدَاثَتٌ ؛ (ع) مَوْتٌ ؛ بِنَايِي ، نُوْجُوَانِي ، ہر چِيْرِ كَا شَرُوْع -
 حَدَاوَدٌ ؛ (ع) مَذْكُورًا ؛ (ا) نِهَارَهٗ ، (ب) جَبَلِ كَا دَاوَعَهٗ -
 حَدَبِنْدِي ؛ مَوْتٌ ؛ حَدِ مَقْرَر كَرْنَا ، مَعْدُوْد كَرْنَا -

حرارت آنا؛ (۱) دکنا، غصہ آنا، طیش آنا، (۲) گرمی پیدا ہونا۔
 (۳) خفیت بخار آنا۔
 — دین؛ (۱) منافق کے ساتھ، مونث؛ مذہبی جوش۔
 — غریزی؛ (۱) (مونث) اصلی حرارت، (۲) حرارت جس پر
 آدمی کی زینت کا مدار ہے۔
 حرارۃ؛ (۱) مذکر؛ جوش، گرمی، غصہ کا غلبہ، تیزی۔
 حرماست؛ (۱) مونث؛ (۲) نگہبانی، سپردگی (۲) حالات
 نظر بندی۔
 حرّاف/حرّافہ؛ (۱) تنوخ دیدہ، بیاز، عورت۔ (۲) معشوق
 سے مراد، (۳) تیرچالاک۔
 حرام؛ (۱) حرمت والا، عظمت والا، بزرگ، (۲) ناروا۔
 ناشایستہ (۳) ناجائز خلاف شرع (۴) ناپاک، نجس،
 پلید، (۵) مذکر؛ افعال بد، زنا، بدکاری۔
 — چالیس گھر لے کر ڈوبتا ہے؛ (۱) بدکاری کا اثر ڈور ڈور
 پہنچتا ہے۔
 — خور؛ مذکر؛ (۱) مرد اور خور، رشوت خور، (۲) مفت خور،
 ننگ حرام، بے حرمت، بے وفا۔
 — زادہ؛ (۱) مذکر؛ (۲) ولد الزنا، (۳) شریعہ بدذات۔
 — زادے کی رستی دراز ہے؛ (۱) مثل) بد معاش بہت
 زندہ رہتا ہے۔
 — کار؛ مذکر؛ زانی، بدکار۔
 — کامال؛ ناجائز دولت، رشوت یا حرام کی کمائی،
 مالِ مفت۔
 — کر دینا؛ ترک کر دینا، تلخ کر دینا، بد مزہ کر دینا، ناگوار
 کر دینا۔
 — مغز؛ (۱) مذکر؛ بریلھ کی ہڈی، یا پشت کے مہروں
 کا گودا۔
 — موت مرنا؛ خود کشی کرنا، زہر یا کسی اور مہلک چیز سے
 اپنی جان دینا۔
 — ہونا؛ (۱) ناجائز ہونا، منع ہونا (۲) دشوار ہونا، (۳)
 نفرت اور پرہیز کے قابل ہونا۔

حَرْب؛ (۱) جمع حُرْب، (مونث)؛ کارزار، لڑائی۔
 حَرِب؛ مذکر؛ (۱) لڑائی کا ہتھیار (۲) حملہ، لڑائی، وادہ
 حَرَبِي؛ (۱) دار الحَرْب کا رہنے والا۔
 (۲) جَسْت، جھپٹا۔
 — کرنا؛ حملہ کرنا، چوٹ کرنا۔
 حَرِبے صُرِبے؛ (۱) ہر گھڑی، گھڑی گھڑی، بار بار۔
 حَرْج؛ مذکر؛ (۱) تنگی، سختی، (۲) نقصان، ضرر، تضيغ
 اوقات، دیر، کمی، وقفہ۔
 — حَرْج؛ غلط مَلَط، بگاڑ، فساد، اضطراب۔
 حَرَز؛ (۱) مذکر، (۲) پناہ گاہ (۳) تعویذ، جنت۔
 حَرَص؛ (۱) مونث؛ (۲) طمع، لالچ، (۳) خواہش، ہوس، رغبت۔
 — کرنا؛ دیکھا دیکھی لالچ کرنا، طمع کرنا۔
 حَرَصا حَرَصِي؛ دیکھا دیکھی، اوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام
 کرنے لگنا۔
 حَرْف؛ (۱) مذکر؛ (۲) حروف تہجی، (۳) بات، سخن، کلمہ، لفظ۔
 (۴) نقص، عیب، طنز، (۵) علم صرف کی ایک اصطلاح۔
 — آشنا، (۱) جو حرف پڑھ سکے، نو آموز، مبتدی۔
 — آنا؛ (۱) کچھ کہنا پڑھنا آنا، حرف شناسی ہونا (۲) الزام
 آنا، عیب لگنا۔
 — حَرْفِ حَرْفِ حَرْفًا؛ لفظ بہ لفظ، ایک ایک حرف۔
 — کپڑنا؛ (۱) غلطی پکڑنا، ٹوکنا، نکتہ چینی کرنا۔
 — فِئِناس؛ ابھرنواں۔
 — عِلّت؛ تین مَقْووتے، حرف، الف، واؤ، یے۔
 — گِیر؛ (۱) نکتہ چینی، عیب بیان کرنے والا۔
 — لانا؛ الزام لگانا۔
 — مطلب؛ (۱) منافق کے ساتھ) مطلب کی بات۔
 — وحرکایت؛ مونث؛ بات چیت، سگد شکوہ۔
 حروف کا بنا ہوا؛ چالاک، شاطر۔
 حُرْفَت/حُرْفَة؛ مونث؛ (۱) کسب، پیشہ، (۲) ہنر، علم
 (۳) چالاک، عیاری، مکاری۔
 — باز؛ چالاک، عیاری، مکار۔

حرکات، مذکر، مؤنث، جمع حرکت کی۔

تلاش (اضافات کے ساتھ) (ف) تین حرکتیں، زیر زیر۔
پیش۔ (سے سے) (سے سے)

وسکنت؛ (ا) آشنا بیٹھنا، چلنا پھرنا؛ (ب) عادات
واطوار۔

حرکت؛ مؤنث؛ (ا) جنس، گردش، (ب) تڑپ، اضطراب،
(۳) اعراب کی علامتیں، زیر زیر۔ پیش، (۴) کام نفل،
کردار، عمل، (۵) ناپسندیدہ، (۶) قصور، مجرم، (۷)
گناہ، کھوٹ، (۸) نقصان، ضرر، (۹) سفر، آمدورفت۔
کرنا؛ (ا) بلنا، جنبش کرنا، چلنا، (ب) کوئی برآ کام کرنا،
(۳) حرج کرنا، نقصان کرنا، وقفہ کرنا، (۴) اپنی شان کے
خلاف کوئی کام کرنا۔

مذہبوحی؛ (اضافات کے ساتھ) (ف) لغتی ترجمہ: ذبح
کیے جانور کی حرکت، ہوش، بہت غور سے اور بے سؤد حرکت۔
میں برکت؛ (مثل) کام کرنے سے برکت اور
فائدہ ہوتا ہے۔

ہونا؛ (ا) بلنا، جنبش ہونا، (ب) قصور ہونا، خطا
ہونا۔ (۳) دیر ہونا، عرصہ گناہ، (۴) حرج ہونا۔
حرکی؛ (ع) متحرک، حرکت کرتا ہوا۔

حزم؛ (ع) (ا) احاطہ، غائب، کعبہ اور اس کے چاروں طرف کا
طلاقیہ، (ب) زنان خانہ، امر کے گھر کی بیگمات، (۳) مؤنث،
منکوحہ، (۴) گھر میں ڈالی ہوئی خادمہ۔
زورگی؛ مؤنث، شرارت، فتنہ انگیزی۔

سرا؛ (ف) مذکر، زنان خانہ، زنانہ مکان۔

حرمین شریفین؛ (ا) کعبہ (جو مکہ معظمہ میں ہے) اور مسجد نبوی
(جو مدینہ منورہ میں ہے) (ب) جانا، کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔
حرمین؛ (ع) مذکر، محرم رہنا، مایوسی، ناامیدی۔
حرمت؛ (ع) مؤنث، (ا) عزت، عظمت، بڑائی، آبرو، (ب)
مذہب کی سوسے حرام ہونا۔

آنازنا؛ آبرو لینا۔

لینا؛ آبرو لینا۔

حروف؛ (ع) مذکر، جمع حرکت کی۔

تہجی / تہجا؛ (اضافات کے ساتھ) (ف) الے وغیرہ۔

نصیحہ؛ نقطے والے حرف۔

مہملہ؛ بے نقطہ حروف۔

حرہ؛ (ع) مؤنث؛ آزاد عورت۔

حریت؛ (ع) مؤنث؛ آزادی، کسی کا غلام نہ ہونا۔

حریر؛ (ع) مذکر؛ ریشم، ریشمی کپڑا۔

حریری؛ (ا) ریشمی، ریشم کا، (ب) باریک، پتلا، مہین، (۳)
دبلا پتلا آدمی، نچیف آدمی۔

حریرہ؛ (ع) مذکر؛ ایک قوت دینے والی بیٹی پینے کی چیز،
جو گاڑھی ہوتی ہے۔

حریریت؛ (ع) مؤنث؛ نرمی، ملائمت، ریشم کی طرح نرمی۔

حرلیص؛ (ا) لاپٹی، (ب) حاسد، حسد کرنے والا، (۳) پٹو،

(۴) دیکھا دیکھی کوئی کام کرنے والا، یعنی بے خبری میں پہنچنا

حرلیف؛ مذکر؛ (ا) ہمیشہ، (ب) دشمن، بدخواہ، (۳) چالاک،

ہوشیار، (۴) مد مقابل، ہم نبرد، ہم سر۔

حرلیق؛ (ع) صفت؛ (ا) جلی ہوئی چیز، سوختہ، (ب) آبخ، شعلہ۔

حریم؛ (ع) مذکر؛ (ا) گھر کے چاروں طرف کی دیوار، (ب)
خانہ کعبہ کی بیرونی دیوار، (۳) مطلق گھر، مکان۔

ح - ز

حزب؛ (ع) مذکر؛ (ا) ورد کا حصہ، (ب) گروہ، حصہ،
جماعت۔

اختلاف / مخالف؛ مذکر؛ برسر اقتدار پارٹی کی مخالف

پارٹی، اختلاف رکھنے والی جماعت، اپوزیشن۔

حزم؛ (ع) مذکر؛ احتیاط، ہوشیاری۔

حزن؛ (ع) مذکر؛ غم و اندوہ، رنج و ملال۔

حزنیہ؛ (ع) (ا) المیہ، ٹہرہ بڈھی، (ب) ڈھاسے کی

ایک صنف۔

حزین؛ (ع) غم گین۔

آواز؛ مؤنث؛ دردناک آواز، غمگین آواز۔

ح - س

جس : (ع) موٹف ؛ پانچ حواس میں سے کسی حس کے ذمے جانتا۔
 جس مشترک ؛ (ع) موٹف ؛ عام عقل۔
 حساب ؛ (ع) مذکر ؛ (۱) گنتی ، شمار ، میزان ، جوڑے (۲) علم ریاضی ، (۳) نرخ ، بھاؤ (۴) قاعدہ ، ڈھنگ ، طور و طرح ، معاملہ (۵) لین دین (۶) رائے ، سمجھ ۔
 بے باق کرنا / پاک کرنا ؛ حساب چکانا ، لین دین کا پھیل کرنا ، قرضہ ادا کرنا۔
 پوچھنا ؛ حساب لینا۔
 جو جو ؛ بخشش ، سوسو ؛ (مثل) ؛ معاملے میں کوڑی کوڑی کا حساب ہونا چاہیے ، حساب میں ذرا سا بھی فرق تڑبونا چاہیے۔
 جوڑنا ؛ میزان دینا۔
 دوستانہ ڈرول ؛ (مقولہ) ؛ آپس کا حساب فقط دل ہی دل میں سمجھ لیا جاتا ہے ، دوستوں کے سلوک کا رسمی حساب نہیں ہوتا۔
 دینا ؛ حساب سمجھانا ، حساب سپرد کرنا۔
 رکھنا ؛ (۱) لین دین رکھنا (۲) درج فہرست کرنا ، دفتر میں درج کرنا (۳) آشنائی رکھنا ، ربط رکھنا۔
 سے ؛ حسابوں ، نزدیک ۔
 سے باہر ؛ بے شمار ، بے انتہا۔
 کتاب ؛ مذکر ؛ (۱) لین دین ، (۲) ربط ضبط ، میل ملاپ ۔
 لگانا ؛ (۱) حساب پھیلانا ، شمار کرنا ، پڑت سمیٹانا ، (۲) دم ، آشنائی کرنا ، ربط پیدا کرنا ۔
 لینا ؛ جمع خرچ سمجھنا ، جائزہ لینا۔
 ہو جانا ؛ دکھانا ، برخواست ہو جانا۔
 حسابی ؛ (۱) حساب داں ، ماہر (۲) حساب کی بات ، قاعدے کی بات ۔
 حساد ؛ (ع) مذکر ؛ جمع ماسدگی ، حسد کرنے والے ۔

حساس ؛ زیادہ محسوس کرنے والا۔
 حسام ؛ (ع) موٹف ؛ تیز تلوار۔
 حسان ؛ (ع) مذکر ؛ (۱) بہت اچھا (۲) بڑا عقلمند (۳) مذاہب رسول ابن ثابت انصاری کا نام۔
 حسب ؛ (ع) بہ موجب ، موافق ، مطابق ۔
 الحکم ؛ حکم کے مطابق ۔
 توفیق ؛ (اضافت کے ساتھ) حیثیت کے مطابق ۔
 حال ؛ حال کے مطابق ، موقع کے مناسب ۔
 دل خواہ ؛ دلی خواہش کے مطابق ۔
 ذیل ؛ نیچے دیے ہوئے کے بموجب ۔
 ضابطہ ؛ قانون قاعدے کے موافق ۔
 معمول ؛ دستور کے بموجب ۔
 مقدور ؛ حیثیت کے موافق ۔
 منشاء ؛ ارادے اور خواہش کے مطابق ۔
 حسب ؛ (ع) مذکر ؛ نسل ، سلسلہ خاندان ، ماں کی طرف کا سلسلہ ۔
 حسب ؛ مذکر ؛ ماں باپ کا خاندانی سلسلہ ۔
 حسد ؛ (ع) مذکر ؛ کینہ ، جلن ، بدخواہی ، کسی کا زوال چاہنا ۔
 حسرت ؛ موٹف ؛ (۱) افسوس ، تاسف ، کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس ، پشیمانی (۲) آرزو ، شوق ، ہوس ۔
 ٹپکنا / بڑبڑانا ؛ حسرت ظاہر ہونا ۔
 حسرت ؛ (ع) (۱) نیک ، خوب صورت ، اچھا ، خوب (۲) حضرت علیؑ کے بڑے صاحب زادے کا نام ۔
 حسنت ؛ (ع) مذکر ؛ جمع حسد کی نیکیاں ۔
 حسد ؛ (ع) بھلائی ۔
 حسینی ؛ (ع) منسوب حضرت امام حسنؑ سے ، سیدوں کا گروہ ، حضرت امام حسنؑ کی اولاد ۔
 حُسن ؛ (ع) مذکر ؛ جمع محاسن ؛ (۱) خوبی ، بہتری ، بھلائی ۔ (۲) خوش سنائی ، خوب صورتی ، تناسب اعضاء (۳) بہار ، خوبن ۔

حسّی تبادلات؛ (رع) ایک ہی قسم کی چیزیں جو احساسات سے تعلق رکھتی ہوں۔

حسّیاتی؛ (رع) جس رکھنے والی محسوس کی جانے والی۔

حسّیاتی شعور؛ (رع) مذکر؛ محسوس کرنے کی صلاحیت۔

حسّیت؛ (رع) موت؛ (ا) حسّ، احساس، آگاہی اور آگاہی؛ (۲) کسی شے کو محسوس کرنے کی قوت۔

حسّیہ؛ (حسّی یا) (رع) موت؛ احساس سے تعلق رکھنے والی۔

حسّین؛ حضرت امام حسینؑ کا نام۔

بند؛ مذکر؛ چاندی کی زنجیر لگی ہوئی نقرئی چمچے جن کے درمیان ایک چاندی کی زنجیر ہوتی ہے، عشرہ محترم میں

بچوں کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں، (اہل تشیع کی رسم) حسین بن علیؑ کی خاص قسم۔

حسین؛ (رع) حسّ والا، خوب صورت، اچھا۔

ح۔ ش

حشمر؛ (رع) ، مذکر؛ (ا) قیامت، روزِ حساب، (۲) شور و غل، غوغا، فتنہ، آفت۔

برپا کرنا؛ اودھم مچانا، کھرام مچانا، آفت ڈھانا۔

توڑنا؛ آفت ڈھانا، نہایت خفا ہونا، اودھم مچانا۔

کے وعدے پر دینا؛ ایسا قرض دینا جس کے وصول ہونے کی بھی اُمید نہ ہو۔

میں اٹھنا؛ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے روز مُردوں کا زندہ ہو کر اٹھنا۔

ہونا؛ (ا) قیامت ہونا، آفت ٹوٹنا، کھرام مچنا، غل

شور ہونا؛ (۲) قیامت ہونا، (۳) کسی کے ساتھ قیامت میں اُس کے مثل برتاؤ ہونا۔

حشرات؛ (رع) مذکر؛ جمع؛ حشرہ؛ (ا) چھوٹے چھوٹے کیڑے، (۲) موت، غل، شور، غوغا، ہنگامہ

مصیبت، عوف۔

الأرض؛ (رع) ، مذکر؛ کیڑے مکوڑے، برساتی کیڑے، زمین کے مومی کیڑے۔

حسّی اتفاق؛ مذکر؛ اچھا، بہتر موقع۔

تدبیر؛ دلت؛ خوش تدبیری۔

تعلیل / التعلیل؛ (ف) ، مذکر؛ ایک صنعت کا نام

شاعر کا کسی چیز کی ایسی علت (وجہ) پیش کرنا جو اصل میں اس کی علت نہ ہو۔

خدا داد؛ (اضافت کے ساتھ) ف؛ مذکر؛ قدرتی خوبصورتی، اچھا حسن و دلنما؛ خوبصورتی میں زوال آنا۔

ساختہ؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) ، مذکر؛ بناؤی خوبصورتی، آرائشی حسن۔

طلب؛ مذکر؛ (اضافت کے ساتھ) کسی شے کو اٹھانے اور کٹانے سے مانگنا۔

طنن؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ اچھا گمان، نیک گمان۔

کاری؛ (ف) ، موت؛ حسین بنانا۔ حسن پیدا کرنا۔

گلو سوز حسن صبیح؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) ، (د) گلو سوز کتاب یا اُس چیز سے ہے جو بہت شیریں ہو، مذکر؛ نہایت چسپ

حسن۔ گندم گون؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) ، گندمی رنگ کا

حسن، یعنی گہیوں کی سی رنگت۔

مخفل؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ حقہ، جج وان۔

مطلع؛ (اضافت کے ساتھ) ، مذکر؛ (عروض غزل یا قصیدے کے مطلع کے بعد شاعر، دوسرا شعر یا دوسری

بیت۔ طبع / تکمیل؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ وہ حسن

جس میں ملاحظت صلاحیت ہو۔

یوسف؛ (اضافت کے ساتھ) بے مد خوبصورت حضرت یوسفؑ کا حسن۔

حسود؛ (رع) ، مذکر؛ جمع حاسد؛ بدخواہ، بڑا حسد کرنے والا۔

حسّی؛ (رع) حواس اور احساسات سے متعلق۔

پیکر؛ (رع) (ف) ، مذکر؛ (لفظیاتی اصطلاح تصویرت) و محسوسات کی شکل۔ لاشعور کی زبان۔

حُشْمُ: (ع) مذکر؛ سرِ زکریٰ حضورِ تناسل کی سُپاری۔
حُشْمُ: (ع) مذکر؛ نوکر چاکر، نوکروں کی بھیڑ، سپاہی وغیرہ۔

حَصْرُ: (ع) مذکر؛ نوکر چاکر۔
حُشْمُ: (ع) مؤنث؛ (۱) نوکر چاکر، خدمت گاروں اور غلاموں کا انبوهہ (۲) بزرگی، مرتبہ، عظمت، (۳) وہبہ شانی و شوکت، (۴) سامانی لشکر، اسباب، فوج، سواری، جلوس، ساز و سامان وغیرہ۔
حُشْوُ: (ع)، مذکر؛ بے ہودہ سخن، زائد کلام، بے ضرورت، زیادتی۔

ح - ض

حَضْرُ: (ع) مذکر؛ سفر کے خلاف ایک جگہ کا قیام، ایک جگہ مقیم رہنا۔

حَضْرَات: (ع) مذکر؛ جمع حضرت کی۔

حَضْرَت: (ع) مذکر؛ (۱) نزدیکی، درگاہ، روبرو، قرب، (۲) جناب، حضور، قبلہ، بزرگوں وغیرہ کی نسبت بولا جانے والا تعظیم اور عزت کا لقب، (۳) رسول مقبول محمد سے مراد، (۴) شریعہ بذات، چالاک، چلتے ہوئے، ذات شریف، بے ڈھب۔
سلامت؛ مذکر؛ جناب عالی، قبلہ، میاں، یار، دوست۔

حَضْوَر: (ع) مذکر؛ (۱) حاضری، موجودگی، حاضر باشی، (۲) جناب حضرت، جناب عالی، خداوند، قبلہ، (۳) دربار، مجلس، اجلاس۔ (۴) روبرو، سامنے، (۵) عزت کا لقب۔

اَقْدَس: (اضافہ کے ساتھ) (۱) روبرو، خدمت میں، (۲) جناب حضور میں، (۳) حاکم یا کسی بزرگ کے سامنے رو بہ رو، برابر، اجلاس، (۴) خدمت میں، درگاہ میں۔

والا: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ جناب عالی، حضور اقدس۔

حَضْوَرِی: (ع) مؤنث؛ (۱) حاضری، قربت، نزدیکی، (۲) بادشاہی دربار یا اجلاس۔

ح - ط

حَطِیْم: (ع) مذکر؛ قاذرہ کہیں پتھروں سے گھرا ہوا حصّہ جو محمد نبوی میں تمیز ہونے سے رو گیا۔

حَطْط: (ع) مذکر؛ عیش، خوشی، انبساط، لطف، مزہ لانا کے ساتھ۔

ح - ص

حِصَار: (ع)، مذکر؛ (۱) احاطہ، گھیرا، چار دیواری، شہر پناہ، (۲) قلعہ۔

بَانِدْحِنَا: (۱) حلقہ باندھنا، حلقہ آدمیوں کی جماعت کا ہو یا دیوار کا یا از رو سے قاعدہ عملیات صرف خط وغیرہ کا ہر (۲) چاروں طرف سے گھیرا ڈالنا، چار دیواری کھڑی کرنا۔

حِصَارِی: (ف) قلعہ بند۔

حِصْر: (ع) مذکر؛ گھیرنا، کسی چیز کا احاطہ کرنا، محاصرہ کرنا۔

حِصْنُ: (ع) مذکر؛ جمع حصّہ کی۔

حِصْنُ: (ع) مذکر؛ قلعہ، جائے پناہ۔

حِصْنِی: مؤنث؛ (۱) ایک مشہور کتاب کا نام، (۲) مضبوط قلعہ، مستحکم پناہ گاہ۔

حُصُول: (ع) مذکر؛ حاصل، فائدہ، حاصل ہونا۔

بِصْتَه: (ع) مذکر؛ (۱) بانٹ، تقسیم، (۲) بجز (۳) درجہ کرنا، (۴) جزء، (۵) علاقہ، صیغہ، سررشتہ (۶) مخصوص شے۔

بِخْرَه: مذکر؛ (۱) کھانے پینے کی چیز کا حصّہ، (۲)

میل ملاپ، آپس کے کھانے پینے کا لینا دینا۔

دَار: (۱) کسی جائیداد میں کسی چیز کا شریک، (۲) شریک ساتھی۔

حفظِ نفسانی : حیوانی خواہش۔

حَقُّ الشَّعْرِ / حَقُّ المِحْنَةِ : محنت کی اہمیت، کوشش کی فہم۔
 اللہ پاک ذات اللہ : خدا برحق ہے اور اس کی ذات پاک ہے۔

ح-ف

حفاظہ : (ع) مذکر، جمع محافظ کی۔

حِفْظٌ : (ع) مؤنث، (ا) نگرانی، (بانی، (د) بچاؤ و سلامتی
 خود اختیاری، (اضافت کے ساتھ)؛ مؤنث؛ دوسروں
 کے ضرر سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت۔

حِفْظٌ : (ع) مذکر؛ (ا) اثر، (ب) زبانی، (د) ہر زمانہ، (د) حفظ
 محافظت، (د) پاس، لحاظ، ادب۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔
 حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔
 حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔
 حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔
 حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔
 حَمْنٌ : (ع) مذکر؛ اسن قائم رکھنا۔

ح-ق

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

(د) دھوا، (د) استحقاق، (د) صلہ، بلا، معاوضہ، (د) حقت،
 (د) مزدوری، (د) انعام، نیک۔

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حَقٌّ : (ع) مذکر؛ (ا) سچ، (ب) سچائی، (د) خدائے تعالیٰ، (د) بلائق
 واجب، سزاوار، درست، سچا، ٹھیک، (د) شان، نسبت،
 بابت، لیے، واسطہ، (د) فرض، ذمے داری،

حق میں کانٹے پوننا؛ کسی کے واسطے برائی کرنا۔

— ناحق؛ ناحق، بے سبب، خواہ مخواہ، بول ہی۔

— ناشناس؛ ناشکر گزار۔

— ننگ ادا کرنا؛ (اضافت کے ساتھ) ننگ خواری اور لادھ کا فرض ادا کرنا۔

— حقوق؛ (رع) مذکر؛ جمع حق کی، فرائض۔

— حقا؛ (ف) حق ہے، درست ہے، قسم خدا کی۔

— حقانی؛ (ف) حق کی طرف منسوب۔

— حقانیت؛ موث؛ خدا کی طرف منسوب ہونا، سچائی، راستی، صداقت۔

— حقارت/حقارت؛ (رع) موث؛ خفت، سبکی، ابانت، ذلت۔

— حقارت کی نظر سے دیکھنا/حقارت سے دیکھنا؛ خاطر میں نہ لانا، ذلیل سمجھنا۔

— حقایق؛ (رع) مذکر؛ جمع حقیقت کی۔

— سفلیہ؛ (رع) مذکر؛ (تعرف کی اصطلاح) انسان کی ایک کیفیت خصوصیت۔

— شناس؛ (ف) اشیا کی تحقیق میں پہچاننے والا۔

— علویہ؛ (رع) مذکر؛ (تعرف کی اصطلاح) انسان کامل کی ایک لطیف خصوصیت، آلوی صفت۔

— حق خود ارادیت؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) اپنی پسند کی حکومت قائم کرنے کا عوامی حق، (۲) منتخب کرنے کا حق، ووٹ دینے کا حق۔

— محققہ؛ (رع) مذکر؛ پچکاری، کسی دوا کی تہی یا پچکاری جو چچانہ آنے کے واسطے پافانے کی جگہ پر دی جائے۔

— محقہ؛ (رع) مذکر؛ (۱) تبا کو پینے کا ایک طریقہ، (۲) ڈبا، جواہر لٹ رکھنے کی ڈبیا۔

— باز؛ (ف) مذکر؛ (۱) بھان سٹی، بازی گر، مداری، (۲) بہت حقہ پینے والا۔

— بجانا؛ حقہ پینا، کثرت سے حقہ پینا، حقہ بلانا۔

— بردار؛ حقہ اٹھانے والا، حقہ ساتھ لے کر چلنے والا، حقہ

بھرنے والا۔

— حقہ بلانا؛ پیتے وقت حقہ کی آواز دینا۔

— بھرنا؛ چلم پر آگ رکھ کر حقہ تیار کرنا، حقہ پر آگ رکھنا۔

— پانی بند کرنا؛ (کنایتاً) ذات سے خارج کرنا، برداری سے محال دینا۔

— پانی پلانا؛ (کنایتاً) آواز بگت کرنا، خاطر مدارات کرنا۔

— پینا؛ حقہ سے کش لگانا۔

— تازہ کرنا؛ حقہ کا پانی بدلنا اور نیچے وغیرہ کو تر کرنا۔

— حقیقت؛ (رع) موث؛ (۱) حق، داری، ملکیت، (۲) جائیداد، حقیر؛ (رع) (۱) چھوٹا، ادنا۔ (۲) ڈبلا، لاغر، (۳) ذلیل، خوار، خفیف، سبک، ادوجھا۔

— جاننا؛ ذلیل سمجھنا، کمینہ جاننا، بے قدر سمجھنا۔

— حقیقت؛ (رع)؛ (۱) اصل، ماہیت، کسی شے کی ذات، مجاز کے خلاف، کسی لفظ کا اصل و حقیقی معنی میں استعمال کرنا، (۲) اصل، جڑ، (۳) کیفیت، حالت، ماجرا، صداقت، (۴) بساط، حیثیت۔

— کھل جانا؛ (۱) اصل حال کھل جانا، پوشیدہ امر کا ظاہر ہو جانا، (۲) (کنایتاً) طنز سے مزہ آجانا، کیفیت معلوم ہو جانا۔

— معلوم ہونا؛ (۱) اصل حال یا راز معلوم ہونا، (۲) (کنایتاً) برے اعمال کی سزا ملنا۔

— میں؛ واقع میں، دراصل، اصل۔

— نہ ہونا؛ بے حقیقت ہونا، اصلیت نہ ہونا۔

— حقیقتاً؛ واقعی، حقیقت میں۔

— حقیقی؛ (رع)؛ (۱) اصل، جو بناوٹی نہ ہو، (۲) سگایا۔

— حقیقت پرست؛ واقعیت پسند۔

— خائیمہ (حقیقی)؛ رقت، خاکی، یا بدع، (ف) (۱) (اضافت کے ساتھ) موث؛ (تعرف کی اصطلاح) انسان۔

— ناریہ (حقیقی)؛ نسبت۔ ناریہ۔ ناریہ۔ یا بدع (۱) (اضافت کے ساتھ) موث؛ (تعرف کی اصطلاح) شیطان۔

— مطلق؛ (۱) (اضافت کے ساتھ) مطلق حقیقت، مکمل حقیقت، خدا۔

ح-ک

حک : (ر) مذکر؛ (ا) چیلنا، فور کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز سے کھرچنا، (۲) ہانڈا؛ اصلاح دینا۔
 حکاک : (ر) مذکر؛ حرفت کو دینے والا، مہرکن، نگینہ ساز۔
 حکام : (ر)؛ مذکر؛ حاکم کی جمع۔
 حکایت : (ر) مونت؛ جمع حکایات؛ کہانی، قصہ، داستان، بات۔
 حکایتی : محنتی، بات بات پر بحث کرنے والا۔
 حکایتیں کرنا، مفت کی جمعیں کرنا، دلیلیں چھانٹنا۔
 حکایتیا : (ر) برسبیل تذکرہ، یہ طور مذکر۔
 حکم : (ر) مخصوص کے جملے میں انصاف و فیصلے کا حکم دینے والا، ثالث۔
 حکم : (ر) جمع حکمت کی۔
 حکم : (ر) مذکر؛ (ا) فرمان، ارشاد، (۲) فتوا، شرعی فیصلہ، (۳) منطق کی ایک اصطلاح، (۴) حکومت، سرداری۔
 (۵) اجازت، پرواگی، (۶) فیصلہ، جملے کا فیصلہ
 (۷) جبر، سختی، سیاست، (۸) تاش کا وہ پتا جس پر کالے رنگ کا پان بنا ہوتا ہے۔
 — آخر : (ر) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ آخری فیصلہ۔
 قطعی حکم۔
 — امتناعی : (ر) اضافت کے ساتھ؛ ممانعت کا حکم، کسی فعل سے باز رکھنے کا حکم، راہگ، کرفیو آرڈر
 — انداز : (ر) مذکر؛ کہہ کر نشانہ لگانے والا، نشانہ خطانہ کرنے والا، کامل حیرانہ۔
 — بھالانا، قبیل ارشاد کرنا، کہا ماننا۔
 — بردار، فرمان بردار، حکم ماننے والا، نیک حلال۔
 — برداری، مونت، فرمان برداری، اطاعت، تابعداری۔
 — پیشینا، حکومت ہونا۔
 — حاکم / مرگب، منافجات؛ (اضافہ کے ساتھ) (ر)؛ متقولہ جس طرح مرگب منافجات سے چارہ نہیں اسی طرح حاکم کا حکم چارہ ماننا پڑتا ہے

حکم چلانا، حکم دینا، حکومت کرنا، سختی کرنا، جبر کرنا۔
 — چلنا، حکم جاری ہونا۔
 — دینا؛ (ا) ارشاد فرمانا؛ (۲) فتوا دینا؛ (۳) فیصلہ کرنا؛ (۴) اشتہار دینا؛ (۵) اجازت دینا۔
 — ران، (ر)؛ حاکم، بادشاہ، فرمان روا۔
 — رزوا، (ر)؛ حکم ران۔
 — قطعی : (ر) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ آخری حکم۔
 — کرنا؛ (ا) حکم دینا، فرمانا، ارشاد کرنا؛ (۲) اجازت دینا
 (۳) سختی کرنا، جبر کرنا۔
 — گشتی : (ر) اضافت کے ساتھ؛ مذکر؛ سب جگہ پھرایا جانے والا حکم، اکثر جگہ سمیٹا جانے والا حکم۔
 — لگانا / لگا دینا؛ سختی لگانے کا لفظ کرنا، فیصلہ کرنا۔
 — مطلق : (ر) اضافت کے ساتھ؛ مذکر؛ (ا) قطعی، (۲) حکم ناطق؛ (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ قطعی حکم۔
 — نامہ، (ر)؛ مذکر؛ پروانہ، فرمان، بیج کا لکھا ہوا حکم۔
 — حکمی : (ا) بے چوک، بے خطا، سیک، نشانے پر؛ (۲) مدام، ہمیشہ؛ (۳) شرعی، ضروری، فرضی؛ (۴) فرمان بردار، محکوم۔
 — بندہ؛ مذکر؛ فرمان بردار بندہ۔
 — ڈوا؛ مونت؛ فوراً اثر کرنے والی، مجرب دوا۔
 — حکمنا : (ر)؛ مذکر؛ جمع حکیم کی۔
 — حکمت : (ر)؛ (ا) عقل، دانش، دانائی، درست، گفتاری، درست کرداری، (۲) طبابت۔
 — طینا؛ (ر)؛ (ا) چالاک کا کارگر ہونا؛ (۲) گون، ڈھنگ، مطلب؛ (۳) عقل، دانائی؛ (۴) علاج، معالجہ، طبابت۔
 — سے : (ا) احتیاط سے، مانتا، ہمیشہ سے، دانائی سے، ہوشیاری سے، ترکیب سے، تدبیر سے۔
 — عملی : (ر)؛ اضافت کے ساتھ؛ (ر)؛ مونت؛ تدبیر، چالاک، ہوشیاری، مصلحت، دماغی، توڑ جوڑ۔
 — کرنا؛ (ا) طبابت کرنا، علاج معالجہ کرنا؛ (۲) دانائی کرنا، تدبیر کرنا۔
 — مدنی، (ر)؛ مونت شہری انتظام کے قوانین۔

حکمتی : (۱) فلسفی، فیلسوف، (۲) چالاک، ہوشیار۔
 حکومت : (۱) مونت، (۲) فرمان روائی، حکم رانی، سلطنت،
 (۳) ہستی، جبر و بروستی، (۴) اختیار، بس۔
 چٹانا، تیزی اور تندی دکھانا، زبرد کھانا، جبر کرنا،
 سختی کرنا۔
 جمہوری : (۱) اضافت کے ساتھ، مونت، وہ حکومت جس
 کے باشندوں کو وہاں نے منتخب کیا ہو۔
 شخصی : (۱) اضافت کے ساتھ، وہ اعلیٰ حکومت جو ایک
 شخص کے ہاتھ میں ہو۔
 کرنا، (۱) سراج کرنا، فرمان روائی کرنا، (۲) دہانا، زور
 دکھانا، سختی کرنا۔
 حکم : (۱) مذکر، (۲) دانا، عقل مند، ہوشیار، (۳) علم
 حکمت جاننے والا، (۴) طبیب۔

ح۔ ل

حل : (۱) مذکر، (۲) کھولنا، مشکل چیز کو آسان کر دینا
 اترنا، حلال ہونا، جائز ہونا، سلجھاؤ، مشکل کام
 آسان کرنا، (۳) گلنا، ملنا، پسنا، گھٹائی، پسائی، (۴)
 عمل سوال۔
 کاری : مونت، ہسونے چامدی کو محلول کر کے پھول
 پتی یا دیگر نقوش بنانا۔
 حل کرنا : (۱) سلجھانا، آسان کرنا، (۲) اجزاء علاحدہ کرنا،
 (۳) پینا، ملانا، (۴) حساب کا سوال نکالنا، معاً یا
 پہیلی بوجھنا۔
 حل و عقد : (۱) مذکر، کھولنا، باندھنا، اودھیرنا۔
 حلاج : (۱) مذکر، دھنیا۔
 حلال : (۱) مذکر، (۲) جائز، روا، درست، (۳) ذبح۔
 حور : مذکر، (۱) جاکو، (۲) ہاتھ، (۳) ہاتھ، (۴) ذبح۔
 کرنا، (۱) جائز ذبح کرنا، شرعی طریقے سے ذبح کرنا، (۲)
 کاٹنا، (۳) ماننا، کوٹنا، پینا، بہت تکلیف دینا، قتل کرنا
 (۴) کسی امر کے ارتکاب یا کسی چیز کے کھانے پینے کو جائز کر دینا۔

حلال کر کے کھانا، محنت کر کے کھانا۔
 — میں خرگت، حرام میں خرگت، رشل، بالٹی
 بات، زمانے کی نیرنجی۔
 خلافت : (۱) مونت، (۲) مٹاس، شیرینی، پتے پھل کی
 مٹاس۔ (۳) لذت، مزہ، ذائقہ، (۴) راحت، آرام، سگھنا
 — پانا، مزہ پانا۔
 حلت : (۱) مونت، (۲) حلال ہونا، (۳) روا ہونا۔
 حلت : (۱) مذکر، قسم، عہد و پیمانہ۔
 — مٹھانا، قسم کھانا۔
 دروغی : مونت، جھوٹی قسم کھانا۔
 نامہ : مذکر، لکھا ہوا اعلیٰ بیان۔
 حلقا : از روئے قسم، قسمیہ۔
 حلق : (۱) مذکر، (۲) گلا، (۳) منہ، زبان۔
 — بند کرنا، کسی کو خاموش کرنا، بولنے نہ دینا۔
 — بندھ جانا : آواز کا بھاری ہو جانا۔
 — پرچھری پھیرنا : دکھنا، تباہ کرنا، ستم کرنا۔
 — تک بھرننا : بھوک سے زیادہ کھانا پینا۔
 — خشک ہو جانا، گلا سٹو کھنا۔
 — ڈبانا : گلا دہانا، بولنے سے زبردستی روکنا۔
 — سے اترنا : (۱) گلے سے اترنا، (۲) دکھنا، گوارا ہونا۔
 — سے نکلی حلق میں پڑی : (۱) رشل، بات منہ سے نکلتے
 ہی مشہور ہو جاتی ہے۔
 — کا ڈربان : مذکر، (۱) دکھنا، وہ شخص جو کھانے پینے کا
 مانع ہو، (۲) بولنے سے روکنے والا، ہر بات پر لگنے والا۔
 — میں پانی چرانا : نزع کے وقت حلق میں پانی پٹکانا۔
 — میں زوالہ پھنسننا / اٹکنا : (۱) گلے سے زوالے یا پانی کا نہ
 اترنا، (۲) دکھنا، کھاتے وقت کسی کی یاد آنا۔
 حلقوم : (۱) مذکر، حلق گلو پینے اور گلے سے بیج کا گڑھا۔
 حلقہ : (۱) مذکر، (۲) ہر چیز مدور بہ شکل دائرہ (۳) پہیاد (۴)
 (جماڑا)، مجمع، مجلس، مجلس کا دورہ، (۵) حلقہ، دورہ
 (۶) کڑا، لوہے یا کڑی وغیرہ کا گول کٹھا، (۷) گھنڈی کا گھرو

حکمتی : (۱) فلسفی، فیلسوف، (۲) چالاک، ہوشیار۔
 حکومت : (۱) مونت، (۲) فرمان روائی، حکم رانی، سلطنت،
 (۳) ہستی، جبر و بروستی، (۴) اختیار، بس۔
 چٹانا، تیزی اور تندی دکھانا، زبرد کھانا، جبر کرنا،
 سختی کرنا۔
 جمہوری : (۱) اضافت کے ساتھ، مونت، وہ حکومت جس
 کے باشندوں کو وہاں نے منتخب کیا ہو۔
 شخصی : (۱) اضافت کے ساتھ، وہ اعلیٰ حکومت جو ایک
 شخص کے ہاتھ میں ہو۔
 کرنا، (۱) سراج کرنا، فرمان روائی کرنا، (۲) دہانا، زور
 دکھانا، سختی کرنا۔
 حکم : (۱) مذکر، (۲) دانا، عقل مند، ہوشیار، (۳) علم
 حکمت جاننے والا، (۴) طبیب۔

ح۔ ل

حل : (۱) مذکر، (۲) کھولنا، مشکل چیز کو آسان کر دینا
 اترنا، حلال ہونا، جائز ہونا، سلجھاؤ، مشکل کام
 آسان کرنا، (۳) گلنا، ملنا، پسنا، گھٹائی، پسائی، (۴)
 عمل سوال۔
 کاری : مونت، ہسونے چامدی کو محلول کر کے پھول
 پتی یا دیگر نقوش بنانا۔
 حل کرنا : (۱) سلجھانا، آسان کرنا، (۲) اجزاء علاحدہ کرنا،
 (۳) پینا، ملانا، (۴) حساب کا سوال نکالنا، معاً یا
 پہیلی بوجھنا۔
 حل و عقد : (۱) مذکر، کھولنا، باندھنا، اودھیرنا۔
 حلاج : (۱) مذکر، دھنیا۔
 حلال : (۱) مذکر، (۲) جائز، روا، درست، (۳) ذبح۔
 حور : مذکر، (۱) جاکو، (۲) ہاتھ، (۳) ہاتھ، (۴) ذبح۔
 کرنا، (۱) جائز ذبح کرنا، شرعی طریقے سے ذبح کرنا، (۲)
 کاٹنا، (۳) ماننا، کوٹنا، پینا، بہت تکلیف دینا، قتل کرنا
 (۴) کسی امر کے ارتکاب یا کسی چیز کے کھانے پینے کو جائز کر دینا۔

حلیف : (ع) مذکر؛ جمع حلفاء؛ باہم معاہدہ کرنے والوں کے ہر دو فریق کو حلیف کہتے ہیں۔
 حلیم : (ع)؛ (ا) بردبار، تحمل مزاج؛ (ب) مذکر؛ ایک قسم کا کھانا، کچھوہا۔
 حلیہ : (ع) مذکر؛ (ا) صورت، سراپا، آرایش، (ب) زیور گہنا، (ب) خلعت، عنایتی پوشاک۔
 بگاڑ دینا : بری حالت کر دینا۔ اتنا بگاڑ کر صورت بگڑ جائے۔
 ہونا : چہرہ لکھا جانا، نام لکھا جانا۔

ح - م

حمار : (ع) مذکر؛ گدھا۔
 حماقت : (ع) موثف؛ نادانی، بے وقوفی۔
 حمال : (ع) مذکر؛ بوجھ اٹھانے والا، مزدور۔
 حمام : (ع) مذکر؛ نہانے کی جگہ، غسل خانہ۔
 کمرنا : نہانا، غسل کرنا۔
 کی لنگی : (کنایتاً) ہر شخص کے استعمال کی چیز۔
 میں سب ننگے : (مثل) ایسا فعل جس میں اکثر آدمی مبتلا ہوں۔
 حمال : (ع) موثف؛ (ا) گلے میں ترچھا پرتلا ڈالنا، پرتلا، گلے میں ڈالنے کی چیز (ب) جمہوری تقیعی کا قرآن شریف جسے گلے میں لٹکایا کرتا؛ گلے میں لٹکانا۔
 حمایت : (ع) موثف؛ (ا) طرف داری، مدد؛ (ب) نگہ بانی۔
 کمرنا، مدد کرنا، طرف داری کرنا، حمایتی، طرفدار، معاون، مددگار۔
 حمایتی کی گھوڑی عراقی کے لات مارتی ہے، (مثل) حمایت سے حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔
 حمد : (ع) موثف؛ خدا کی تعریف، خدا کی بزرگی اور عظمت بیان کرنا۔
 حمت : مذکر؛ نادانی، بے وقوفی۔
 حنظل / حنظل : (ع) مذکر؛ (ا) بچھو، بارہ (ب) عورت کے پیٹ میں جو پتہ ہو۔

(ع) علاؤ، ضلع، احاطہ، حکومت، (ب) گھیراؤ، ہونٹوں کا حلقہ۔
 حلقہ باندھنا؛ چاروں طرف سے گھیر لینا، گھیرا ڈالنا، دائرہ بنانا، حصار باندھنا۔
 برگوش : (ع) مذکر؛ غلام، مطیع، فرماں بردار۔
 ڈالنا / کرنا : گھیرا ڈالنا، حصار باندھنا، گھیرا کرنا، گھیرنا۔
 حلیم : (ع) مذکر؛ (ا) بردباری، (ب) برداشت، تحمل۔
 حلوا : (ع) مذکر؛ (ا) گھی، شکر، روا اور مین وغیرہ سے بنی ہوئی میٹھی خد، (ب) کنایتاً، ترچیز، ملائم چیز۔
 خوردن رارو سے باید : (مثل)؛ عزت حاصل کرنے کے واسطے یاقوت چاہیے۔
 سمجھنا : نا چیز سمجھنا، کمزور سمجھنا، کسی کام کو آسان سمجھنا۔
 سوسہن : مذکر؛ ایک قسم کی مشہور مٹھائی، (علو)۔
 نکل جانا : پلستھن نکل جانا، شقت اور محنت سے پتلا حال ہو جانا۔
 حلوائے بیدود / حلوائے بے دود : (ع)؛ (ا) شیریں میوے، (ب) کنایتاً، ملائم اور لذت بخش چیز۔
 حلوائی : (ع) مذکر؛ مٹھائی بیچنے اور بنانے والا۔
 حلوائی کی دکان، دادا جی کا فاسخہ : (مثل) پرانے مال کو اپنا سمجھ کر صرف میں لانا یا غیر کا مال بے دریغ صرف کرنا، گرہ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔
 حلوائے ماتدے سے کام : (مثل)؛ اپنا بھلا چاہنا، کوئی مرے یا جیے۔
 حلوائے مقرر اضی : (ع)؛ مذکر؛ ایک قسم کا علو، جس میں بہت باریک میوہ کتر کے ڈالتے ہیں۔
 حلوان : مذکر؛ (ا) بیٹری یا بکری کا بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو۔ (ب) ملائم گوشت، نرم گوشت جو جلد گل جائے۔
 حلؤل : (ع) مذکر؛ ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح سما جانا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے۔
 حله : (ع)؛ مذکر؛ (ا) جامہ، جبتہ، مین کی پوشاک چادر، (ب) ہشتی لباس۔

حمل رہنا، عورت کے پیٹ میں بچہ رہ جانا۔
 — اسقاط ہونا / حمل گزنا / گرنا / گرانا : حمل ضائع کرنا۔
 حمل ضائع ہونا۔
 حملہ : (ع) مذکر؛ (ا) چڑھائی، دھاوا، (۲) چوٹ۔
 (گزنا ہونا کے ساتھ)۔
 — آور : چڑھ کر آنے والا، حملہ کرنے والا۔
 حقیقت : (ع) موت؛ بغیر، شرم، تنگ۔
 حمید : (ع) مذکر؛ خوب، تعریف کی ہوئی شے۔
 حیمیم : (ع) مذکر؛ (ا) گرم، (۲) دوست، رشتہ دار۔

ح. ن

جننا : موت؛ مہندی۔
 — بند : (ع) مذکر؛ وہ کاغذ جس میں مہندی لائی پڑی
 ہاندھتے ہیں۔
 — بندی : (ع) موت؛ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگانے
 کی ایک رسم جو ساجی سے ایک روز پہلے عمل میں آتی ہے۔
 — کاچور : مہندی لگنے سے بچ رہنے والی جگہ۔
 — جنائی : (ع) موت؛ زردی لیے ہوئے سُرخ رنگ، مہندی
 کے رنگ کا، مہندی لگا ہوا۔
 — خُجرہ : (ع) مذکر؛ زرخیز، حلق، گلا۔
 — حنظل : (ع) مذکر؛ اندر لہان کا پھل۔
 — حُنفی : (ع) صفت؛ (ا) صادق، سچا، (۲) امام ابوحنیفہ کے پیرو۔
 — حُطوط : (ع) مذکر؛ چند خوشبودار چیزوں کا مرکب جو غسل دینے
 کے بعد مرد کے ہاتھ میں۔
 — حنیف : (ع) صفت؛ (ا) حضرت ابراہیم کے دین کا ماننے والا،
 (۲) سچا مسلمان، (۳) دین میں سچا۔

ح. و

حُوا : (ع) موت؛ باوا آدم کی ہوی، سب آدمیوں کی ماں۔
 حُواث : (ع) مذکر؛ جمع مادہ کی مصیبتیں، تکلیفیں۔
 حُواری : (ع) (ا) حضرت علیؑ کے اصحاب، (۲) دھانا، معاون،
 مدد دینے والا، ولی، دوست۔
 حُواس : (ع) مذکر؛ جمع ماشہ کی، (ا) حس کی قوت، (۲)
 ہوش، اوسان، عقل، سمجھ، فہم۔
 — باخستہ : ہٹکا جکا، گھبرا یا ہوا، خطبہ الحواس بے اوسان۔
 — کُحسہ : (اصناف کے ساتھ) مذکر؛ بانجوں حواس ظاہری۔
 — میں آکر بات کرنا؛ کوئی بے موقع بے سخی بات نہ کرنا۔
 حُوالات : موت؛ (ا) حرمان، نظر بندی، قید، نگرانی (۲)
 وہ مکان جس میں مجرم تحقیقات قدمہ نظر بند رکھے جائیں۔
 حُوالمہ : مذکر؛ (ا) سپردگی، تحویل (۲) پتا، نشان، مثال۔
 حوالے کرنا؛ سپرد کرنا، دینا۔
 حوالی : مذکر؛ نوح، گردہ، آس پاس۔
 — شہر : (اصناف کے ساتھ) (ع) مذکر، شہر کا فواج،
 شہر کے گرد گرد کی زمین۔
 — موالی : مذکر؛ ساتھی، دوست، ہم راہی۔
 حُواجج : (ع) مذکر؛ جمع حاجت کی۔
 — ضروری : ضروری حاجتیں زیادہ تر مہیشاب پانچ۔
 حُوَت : (ع) موت؛ (ا) بڑی مچھلی، (۲) مذکر؛ آسمان کا
 بار حواں بزم۔
 حُوَر : (ع) موت؛ (ا) بہشتی عورت، (۲) نہایت خوبصورت،
 شکیلہ، جمیلہ، پری، مثال، (۳) کنایتاً معشوق۔
 — عین : (اصناف کے ساتھ) (ع) موت؛ سفید رنگ
 سیاہ بال اور بڑی آنکھوں والی عورت۔
 حُوصلہ : (ع) مذکر؛ متعدد درجات، دلیری، ہمت۔
 — تنگ ہونا؛ ہمت پست ہونا۔
 — نکالنا، ارمان پورا کرنا۔
 حُوَض : (ع) مذکر؛ (ا) پانی جمع کرنے کی جگہ جو زمین میں بنائی
 جائے، (۲) متن، حاشیے کے اندر کا میدان، (۳) شالی، چادر،
 قالین وغیرہ۔
 — ذہ درود : وہ حوض مربع جو ہر ایک طرف سے دس دس
 گز ہو (شرفاً اس کا پانی پاک ہے)
 — بھرے تواری چھوٹے؛ (مثل) آمدنی ہو تو خرچ بھی ہو۔

خوضہ: (د) مذکر، ہودج، ہاتھی کی عماری۔
خول دار: مذکر؛ وہ افسر سپاہی جس کی ہاتھی میں کچھ سپاہی ہوں۔

خونق: دیکھو، ہبتیق / ہونق۔

خویلی: مویش؛ چار دیواری کا مکان، محل سما، بڑا اور پختہ مکان، مالیشان مکان۔

ح - ی

حی: (ع)؛ زندہ۔

حیا: (ع) مویش، شرم، حجاب، غیرت۔

حیاء: (ع) غیرت مند، لحاظ والا۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔
حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔
حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔
حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔
حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔
حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔
حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیات: (ع) مویش؛ زندگی، جان۔

حیرت افزا: (د) حیرت بڑھانے والا۔

حیرت: (د) بھونچکا۔

حیرتی: (د) بھونچکا۔

حیرت محمود: (ع) مویش؛ (تصوف کی اصطلاح) تصوف

کا ایک مقام جہاں کچھ خاص واردات و کیفیات کے سرسار کھلتے ہیں، حیرت مذہب کے دور ہو جانے پر سرشاری کا احساس۔

مذموم: (ع) مویش؛ (تصوف کی اصطلاح) تصوف کا

ایک مقام جہاں کچھ واردات و کیفیات سمجھ میں نہ آنے پر حیرت

اور بے معنی کا احساس ہوتا ہے۔

حیض بیض: (ع) مویش؛ بھونچکا، بھونچکا، بھونچکا۔

حیض: (ع) مذکر؛ عورتوں کو ہر مہینے آنے والا خون سا ہواری۔

کالتا: مذکر؛ (د) وہ کپڑا جس سے حیض والی عورتیں خون حیض پاک

کر کے پھینک دیتی ہیں، (د) کنایتاً وہ شخص جو نہایت ذلیل اور حقیر

ہو اور کوئی اس کو اپنی صحبت میں بلگہ نہ دے۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

حیض: (ع) مذکر؛ (د) چار دیواری۔

جیوانی: درج ۱، حیوان سے منسوب، انسانی کا ضد۔ درج ۲، نفسانی، شہوانی۔
 حیوانیات: درج ۱، مویشی، جانوروں کی تاریخ، جسم کی ساخت اور
 عادات و اطوار کا علم، (انگ: زولوجی) ZOOLOGY
 حیوانیت: درج ۱، مویشی، درج ۲، وحشی، درج ۳، بے نشی
 بے حیالی، درج ۳، نادانی، بے وقوفی۔

خ

خ؛ حروف تہجی کا ایک حرف، خانے سمجھ، خانے منقوہ، حساب میں (ابجد) میں اس کے چھ تہ عدد ہیں۔

خ۔ ا

خاتم (ع)؛ مؤنث؛ (۱) انگوٹھی، (۲) مہر۔

خاتم (ع)؛ مذکر؛ ختم کرنے والا، انجام کو پہنچانے والا۔

خاتم الانبیا (ذات، بل، ام، نبی) (ع)؛ مذکر؛ سلسلہ نبوت کا آخری نبی۔ اخیر وغیرہ (آں حضرت محمد سے مراد ہے)۔

خاتم سلیمان (ع)؛ حضرت سلیمان کی انگوٹھی جس کے اثر سے تمام مخلوق ان کے تابع تھی۔

خاتمہ (ع)؛ مذکر؛ (۱) انجام، عاقبت، اخیر نتیجہ، (۲) جہاز

انتقال موت (ع)؛ کتاب کے خاتمے پر لکھی ہوئی عبارت، کتاب کا آخری حصہ، کسی چیز کا آخری حصہ۔

بالخیر (ع)؛ انجام خیر، امیر وقت، ایمان کی سلامتی اور دین داری کے ساتھ گزرنے کی دعا، (۲) مر جانا۔

بند خیر ہونا؛ انجام خیر ہونا۔

خالق؛ مؤنث؛ شریف عورتوں کا لقب۔ بیگم۔

جنت؛ (ع)؛ مؤنث؛ (۱) امانت کے ساتھ، جنت کی پہلوی پیغمبر اسلام کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کا لقب۔

خادم؛ (ع)؛ مذکر؛ (۱) خدمت کرنے والا، نوکر، درگاہ، (۲) جہاد درگاہ؛ (ع)؛ مذکر؛ (۱) امانت کے ساتھ، جہاد۔

درگاہ و عبادت گاہ کا خدمت گزار۔

خار؛ مذکر؛ (۱) کاٹنا، چھانسنے، (۲) خرغ کے ٹخنے کے اوپر کا کاٹنا، (۳) خدو، بلیں، کنگ، رنگ، (۴) دارمی کے بل، دارمی، (۵) ناگوار، دوپٹہ۔

خار بست / بند؛ (ع)؛ مذکر؛ کانٹوں کی باڑھ۔

خیش؛ (ع)؛ مذکر؛ (۱) ایک قسم کا کٹے دار جانور جو اکثر

جھگڑوں میں رہتا ہے، سیاہی، (۲) بیٹھ کھانے کا آہنی بچہ۔

دار؛ (صفت)؛ کانٹے دار۔

خارستان؛ (ع)؛ مذکر؛ کثرت سے کانٹوں والی جگہ۔

خار کھانا؛ حسد کرنا، رشک کرنا۔

گزرنا / لگنا / معلوم ہونا / ہونا؛ ناگوار گزرنا، برا لگنا۔

مقیلاں؛ (صفت کے ساتھ) (ع)؛ مذکر؛ بٹول کا کاٹنا۔

نیکالنا؛ عداوت پوری کرنا۔

نفس / خاشاک؛ (ع)؛ مذکر؛ کوڑا کرکٹ۔

خارا؛ (ع)؛ مذکر؛ سخت پتھر، نیلا پتھر۔

شکن؛ پتھر توڑ دینے والا۔

شگاف؛ (ع)؛ پتھر میں شگاف ڈالنے والا۔

خارج؛ (ع)؛ باہر، الگ، مٹھلا ہوا، چھوڑا ہوا، علاحدہ، خارج، خارجی طریقے سے، بالابالا۔

از آہنگ؛ (ع)؛ بے سزا۔

از سبب؛ (ع)؛ فعل بات، بحث سے الگ۔

از عقل؛ (ع)؛ احمق، گادری۔

قسمت؛ (ع)؛ حساب میں تقسیم کا ماسل۔

کرنا؛ (ع)؛ نکالنا، باہر کرنا، کھینچ کرنا، علاحدہ کرنا، (۲) مقدر نام منظور کرنا، درخواست نام منظور کرنا۔

خارجی؛ (ع)؛ مذکر؛ (۱) باہر کا، خارجی، (۲) اسکول سے خارج ہونے والا۔

خارجی؛ (ع)؛ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو اہل بیت کا مخالف ہے، (۲) (ع)؛ صفت؛ بیرونی، باہری، ظاہری۔

خارجیت؛ (ع)؛ مؤنث؛ (ادبی اصطلاح) ظاہری کیفیت، غیر ذاتی مشاہدوں کا اظہار۔

خارش / خارشیت؛ (ع)؛ مؤنث؛ (۱) کھل، (۲) کھلی کی بیماری، ایک سو داوی مرض۔

خارشیتی؛ (ع)؛ کھلنے والا۔

کتینا عمل کی جھول؛ (ع)؛ کوئی بد شکل آدمی عمدہ

ناس پنہ جو اس پر زیب نہ دے۔

خاضع: (ر) عاجزی کرنے والا۔
 خاطر: (ر) (۱) جو کچھ دل میں گزرسے، دل، (۲) بگڑ، کیجا، بھڑک
 (۳) دھیان، خیال، (۴) مرضی، خوشی، موت، لحاظ، (۵) ملنا
 تواضع، آؤ بھگت، (۶) طبیعت، مزاج، (۷) لیے، واسطے،
 غرض سے، (۸) طرف، داری، پاس، داری۔
 — تلے آنا: خاطر میں آنا، باؤ وقعت ہونا۔
 — توڑنا: دل شکنی کرنا۔
 — جمع: موتش؛ دل کی تسکین، اطمینان۔
 — خواہ: (د) مرغوب، دل پسند، طبیعت کے موافق،
 خواہش کے مطابق۔
 — داری: موتش؛ آؤ بھگت، تواضع، مدارات۔
 — رکھنا، رکھنا رکھنا، پاس کرنا۔
 — خاطر: (ا) امانت کے ساتھ، (د) پاکیزہ طبیعت۔
 — کرنا: (۱) آؤ بھگت کرنا، مدارات کرنا، (۲) خوشی کرنا،
 مرضی کے موافق کرنا، کہا ماننا، دل جولی کرنا۔
 — نشین: (د) دل میں بیٹھی ہوئی بات۔
 — میں نہ آنا: (۱) خیال میں نہ آنا، نظریں نہ چرٹھنا، (۲) بے
 وقعت ہونا، (۳) دل بٹو کرنا، (۴) ارادہ نہ ہونا، قصد نہ ہونا۔
 — میں نہ لانا: خیال نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، پروا نہ کرنا۔
 — نشان ہونا: (۱) خاطر نشین ہونا، بات کا دل میں بیٹھ جانا،
 (۲) اطمینان ہونا، تسلی قلب ہونا۔
 — خاطر: (ر) جان بوجھ کر غلطی کرنے والا۔
 — خاقان: (د) مکر؛ سلطان، بڑا بادشاہ، پہلے چین اور
 ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا۔
 — خاک: (د) موتش؛ (۱) مٹی، گرد، (۲) راکھ، بھینٹ،
 خاکستر، (۳) زمین، (۴) بیچ بے وقت، (۵) کچھ نہیں، بالکل نہیں، (۶) بے
 — آلودہ: (د) خاک سے چھپا ہوا، خاک بھرا ہوا۔
 — اڑتے پھرتا: نباہ دہر، باد، غراب، خستہ پھرتا، مارا مارا پھرتا۔
 — اڑانا: (۱) دھول اڑانا، گرد اڑانا، (۲) میت کے سوگ میں
 گرد اڑانا، (۳) جتوہ میں تباہ ہونا، آوارہ ہونا، تلاش و جستجو میں
 مشقت کرنا، (۴) کسی کو تباہ کرنا، برباد کرنا، رسوا کرنا۔

خارق عادات: (د) (۱) عادت اور سحر کو توڑنے والا، (۲)
 دکنایتا، انبیاء کے معجزے، اولیاء کے کرامات۔
 — خازن: (ر) مذکر؛ (۱) خزانچی، (۲) جمع کرنے والا، (۳) نگہ بان۔
 — خاشاک: (د) مذکر؛ کوڑا کرکٹ۔
 — خاشع: (ر) عاجزی کرنے والا۔
 — خاص: (ر) (۱) مخصوص، بیخ ساء، ذاتی، اپنا، (۲) صرف،
 فقط، (۳) عمدہ، منتخب، چیدہ، (۴) ٹھیک ٹھیک،
 (۵) منظور نظر، مرغوب، مقبول، پیارا۔
 — بازار: مذکر؛ امر اور بادشاہوں کے محل کے سامنے کا بازار۔
 — بزدار: مذکر؛ (۱) بادشاہ یا امیروں کی سواری کے آگے آگے
 کا دھوپ پر بند دھوپ رکھ کر چلنے والے سپاہی، (۲) بندوچی، سپاہی۔
 — تراس: (د) مذکر؛ بادشاہ اور امیروں کا تاج۔
 — لوگ: مذکر؛ ذی عزت اور رئیس آدمی، چیدہ چیدہ انخاص۔
 — دان: مذکر؛ پان کی گلوہریوں کے رکھنے کا ظرف۔
 — گی/خاصگی: (د) مذکر؛ (۱) کسی امیر یا بادشاہ کا مصاحب،
 خزاچی، (۲) نوٹڈی، کسی رئیس کی مذکورہ کینز، (۳) نفیس چیز۔
 — محل: مذکر؛ بادشاہ کی پہلی بیگم، بڑا محل۔
 — نویس: مذکر؛ پرائیویٹ سکرپٹری، ذاتی مٹی، بیج کا مٹی۔
 — وعام: چھوٹے بڑے، امیر و غریب، تمام، سب۔
 — خاصان: (د) جمع خاص کی، مذکر؛ خاص لوگ۔
 — خاص: (۱) اچھی، عمدہ، بھلی، (۲) بیچ کی راس، بڑی نہ
 بھلی، متوسط درجے کی۔
 — خاصیت: موتش؛ (۱) طبیعت، اثر، فصلت، عادت، (۲) وصفت۔
 — خاصا: مذکر؛ (۱) امر اور سلاطین کا کھانا، (۲) امر اور سلاطین کی سواری
 کا گھوڑا، (۳) ایک قسم کا کپڑا، (۴) موزوں، مناسب، سڈول، خوب۔
 — چھینا: دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے کے ترتیب سے رکھنا۔
 — خاصے رہنا: خوب اچھے رہنا۔
 — خاصہ: (ر) مذکر؛ (۱) کسی شے کے لیے مخصوص بات، وہ خوبی
 جو ایک ہی شے میں پائی جائے، (۲) خاصیت۔
 — خاصہ: مذکر؛ (۱) امر اور سلاطین کا کھانا، بادشاہ اور
 امر کی سواری کا گھوڑا۔

خاک اُڑنا: (۱) دھول اُڑنا، گرد اُڑنا، (۲) اُڑسوا ہونا، بدنامی ہونا (۳) تباہ ہونا، برباد ہونا، کچھ نہ رہنا۔
 انداز: (د) مذکر، چولھے کی خاک نکالنے کا برتن۔
 بَرَسْتنا: بے رونقی ہونا۔
 بَسْر: (رکنائیت) محتاج، آوارہ، آفت زدہ پریشان حال، تباہ و برباد۔
 پا: (د) (اضافت کے ساتھ) (۱) پانوں کے نیچے کی مٹی (۲) (مجازاً) عاجز، مسکین۔
 پانوں سے نہ لگتے دینا: بہت نیر جاننا، زمین پر پانوں نہ رکھنا، ناز کرنا۔
 پتھر: کچھ بھی نہیں، بیخ۔
 پڑنا: (۱) خاک اُڑ کر کسی شے پر آنا، (۲) رکنائیت، کسی معاملے کا دب جانا۔
 پڑے: (ب) (دعا) مرٹ جائے۔
 پٹھا ٹکنا: (۱) آوارہ پھرنے، سرگرداں رہنا، (۲) رکنائیت، جھوٹ بولنا، بہتان لینا۔
 تُوڈہ: (د) مذکر، تیر اندازی کی مشق کے لیے بنایا ہوا خاک کا تودہ، لڑکوں کا کھیل۔
 تُوڈہ بنا دینا: الزام یا ملامت کا نشانہ بنانا۔
 جھڑ جانا: (۱) خاک دور ہو جانا، (۲) رکنائیت، زرد کو ب کا اثر نہ ہونا، بے جیا ہو جانا۔
 چاٹ کر بات کہنا: عاجزی اور انکساری سے کچھ کہنا دعوے کی بات عاجزی کے ساتھ ظاہر کرنا۔
 چاٹنا: (۱) رکنائیت، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، (۲) خاک کو ب اور زبان سے مٹھ میں لینا، گلے گلے جانے والے لوگوں کا استہدک نام ادب سے لینے میں خاک چاٹ کر اپنا کان بکھریا۔
 چھانٹنا: (۱) رکنائیت، خوب ڈھونڈنا، بہت تلاش کرنا، (۲) آوارہ پھرنا، سرگرداں پھرنا۔
 دان: (د) موت، (۱) مٹی اور کوڑا پھینکنے کی ہلکہ (۲) (مجازاً) دُنیا۔
 ڈالنا: رکنائیت، عیب پوشی کرنا، (۲) رفع دفع کرنا، لغت

بھینا، چھوڑنا، ترک کرنا۔
 رُوب: (د) مذکر، اجمار دینے والا، (۲) بھینگی۔
 زاد: (د) (مجازاً) انسان۔
 سار/خاکسار: (د) مذکر، غریب، حقیر، عُشور زہر کھنے والا۔
 ساری: انکسار، عجز، عاجزی۔
 سَر پُڑنا/ڈالنا: ماتم کرنا، رونا پیننا۔
 سے پاک کرنا: ادنا مرتبے سے اعلا مرتبے پر پہنچانا۔
 سیاہ کرنا: (۱) جلا کر خاک کرنا، (۲) رکنائیت، برباد کرنا۔
 شفا: (اضافت کے ساتھ) (د) موت، (۱) شفا بخشنے اور تندرست کر دینے والی خاک، (۲) رکنائیت، کربلا کے مدفن کی خاک، مدینہ منورہ کی خاک۔
 کا پتلا: مذکر، آدمی، انسان۔
 کا پیوند ہونا: زمین میں دفن ہونا، خاک میں لٹا ہونا۔
 کے برابر کر دینا: تباہ کرنا، برباد کرنا۔
 چاٹ کے کان پکڑنا: غرور کی بات کہہ کے عاجزی کرنا۔
 کر دینا: جلا کر رکھ کرنا، آہاڑنا، تباہ کرنا۔
 لے ڈالنا: اپنے مطلب کے واسطے بار بار کسی کے دروازے پر جانا۔
 ملا: مذکر، خانہ خراب، خاکسار، تباہ حال۔
 میں خاک ملانا: نام و نشان مٹانا، مار ڈالنا۔
 میں سلانا: قتل کر کے زمین میں دفن کرنا۔
 میں ملانا: رکنائیت، تباہ کرنا، برباد کرنا، ناپسید کرنا، رانگھان کرنا۔
 کرنا۔
 نائے: (د) موت، (۱) دوڑے حصوں کو ملانے والا ٹنگ قطعہ۔
 نشین: (د) (مجازاً) منکر، خلیق، خاکسار۔
 نہیں: کچھ نہیں، قدامتیں، بالکل نہیں، خراب ہے۔
 ڈھول میں ملنا: برباد ہو جانا، مٹ جانا، فنا ہو جانا۔
 ہاتھ نہ آنا: کچھ نہ ملنا۔
 ہونا: (۱) عمل کر رہی ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، مہسٹ کا بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جانا، (۲) عمل کر رکھ کر ہونا، سوخت

ہو جانا، رشک و حسد سے بل جانا۔

— ہونا: کچھ نہیں ہونا بالکل نہیں ہونا۔

خاکا / خاکہ: (د) مذکر؛ (ا) ڈھانچا، (۲) تصویر وغیرہ بنانے کا کچھ نقشہ۔

— اتارنا: کچھ نقشہ بنانا، مسودہ کرنا، حدود وغیرہ کے خطوط کا نشان ڈالنا۔

— اُڑانا: (ا) کسی کی روش و انداز اپنے میں پیدا کرنا، (۲) رُسوا کرنا، بدنام کرنا، نام نکالنا۔

— اُڑنا: رُسوائی ہونا، مٹھکے ہونا۔

— بنانا / کرنا: کچھ نقشہ تیار کرنا، پنسل سے تصویر کا

نقشہ بنانا۔

— خاکستّر: (د) مونث، چلی ہوئی چیز کی راکھ۔

— خاکسی: (د) مونث؛ خوب کلاں، ایک باریک تخم جو بخار کی

دوا ہے۔

— خاکی: (ا) خاک کی پیدائش (۲) خاک کے رنگ کا مثیلا، (۳) مذکر؛

ایک قسم کا چھوٹے پیکال کا تیر۔

— انڈا: (ا) وہ انڈا جو مرغی جفتی کے بغیر خاک میں لوٹ

کڑوے، (۲) حرامی، حرام کا۔

— رہنا / (د) بڑا عقیق، نرم دل، اور متواضع شخص۔

— خاکینہ: (د) مذکر؛ انڈے کو پانز اور مسالوں کے ساتھ

ٹکڑے ٹکڑے کر کے پکانا۔

— خال: (د) مذکر؛ (ا) جسم کا قدرتی سیاہ تل، (۲) کابل کا وہ

نشان جو خراب نظر سے سینے کی غرض سے کم سن بچے کے چہرے پر لگائے

— خال: (ا) آکاؤ کا، بعض بعض، بہت کم۔

— خالا: مونث؛ ماں کی بہن۔

— جی کا گھر نہیں: (دیکھنا، آسان کام نہیں، معمولی

بات نہیں۔

— زرا و سبائی: مذکر؛ خالا کا بیٹا۔

— خالو: مذکر؛ خال کا خاوند۔

— خالص: (د) سادہ، اصلی، بے میل، کھڑا۔

— خالصہ: مونث؛ (ا) سرکاری زمین جس میں کسی اور کا حق نہ ہو۔

(۲) سکھ، عزت دار سردار۔

— خالصے لگنا: ضبط ہونا، ضائع ہونا، برباد ہونا۔

— خالق: (د) مذکر؛ سدا کرنے والا، خدا کا نام۔

— خالی: (د) بے سہرا، تھوکھلا، تہی، (۲) صرف، محض (۳)

— اکیلا، تنہا (۴) بیکار، نکمہ (۵) بیروزگار، معطل (۶) سونا، (۷)

— مذکر؛ (د) ذمی قعدہ، چاند کا گیارہواں مہینا، (۸)

— غیر معمولی غیر آباد (۹) فارغ، بے مشغلہ۔

— پھرنا: محروم واپس ہونا، کچھ نہ پانا، واپس ہونا۔

— پیٹ کٹاری ماڑنا: بیوقوف کی حالت میں لڑنا۔

— جانا: (ا) نشانے پر نہ بیٹھنا، حربے کا بیکار جانا، بندوق کا خطا

— کرنا، گولی نہ لگنا، (۲) بے تجربہ ہونا (۳) نام نہ ہونا۔

— خوئی: خالی۔

— دینا: حریت کی ضرب یا وار بچانا۔

— سے بے کار کھلی: بے کار بیٹھنے سے کسی کام کا مفت

— کرنا اچھا ہوتا ہے۔

— کا چاند / مہینہ: (د) ذمی قعدہ جسے عورتیں منحوس مہینا

— سمجھتی ہیں، عربی سال کا گیارہواں مہینہ۔

— کرنا: (ا) آندھلنا، نکالنا، تہی کرنا، (۲) بندوق چھوڑنا

— (۳) مکان سے قبضہ یا اسباب اٹھالینا۔

— ہاتھ: (ا) مفلس، نادار، تہی دست، بغیر تحفے لیے، (۲)

— محروم، (۳) بے ہتھیار۔

— خام: (د)؛ (ا) کچا، کچا چھڑا (۲) خالص، کھڑا (۳) بودا، کمزور

— (۴) ناتجربہ کار، (۵) بند، سربستہ (۶) باطل۔

— بارہ: مونث؛ مکار عورت، (دکالی)

— خیال / قطع: (د) بے ہودہ اور فاسد خیالات کا

— آدمی۔

— خیالی / طبعی: (د) مونث؛ گمان غلط، غلط خیال،

— جھوٹا خیال، وہم۔

— رائے / کار: (د) کم عقل نادان، ناآزمودہ کار۔

— خامی: (د) مونث؛ نقص، کمی، ناتجربہ کاری۔

— کرنا: کوتاہی کرنا۔

خام مواد؛ (د) مذکر؛ (ا) کچا سامان؛ (ب) (ادب میں) کسی فن پارہ کی تخلیق میں کام آنے والے مواد جیسے: واقعہ، تجربہ، مشاہدہ وغیرہ۔

خاموش / خامش؛ (د) چپ، ساکت۔

کرننا؛ (ا) ساکت کرنا؛ (ب) خاموش کرنا، (چراغ) گل کرنا۔

خاموشی / خامشی؛ موت، سکوت۔

خامہ؛ (د) مذکر؛ قلم۔

فرسائی؛ (د) موت؛ لکھنا۔

موت؛ (د) مذکر؛ مؤقلم۔

خان؛ مذکر؛ ہر ایک سردار رئیس اور امیر کا لقب، پٹھانوں کا لقب۔

بہادر / رخاں صاحب؛ انگریزی گورنمنٹ کی طرف سے دیا جانے والا اعزاز کا خطاب۔

خاناں؛ مذکر؛ سردار، عہد منگلیہ میں سپہ سالار کا لقب،

(اب یرم خاں اور اس کے بیٹے جلندر صمیم خاں مراد ہیں)

خانمان؛ (د) مذکر؛ (ا) گھرانہ، (ب) نسل، قبیلہ۔

خاندانی؛ (د) نسبی، عمدہ نسل کا، قدیم رئیس۔

خانساں؛ (د) مذکر؛ (ا) گھر کا سامان کرنے والا، دروغہ،

(ب) کھانا پکانے اور کھلانے والا، حدنگار، میز لگانے والا۔

خانقاہ / خانقہ؛ موت، درویشوں اور مشائخ کے رہنے کی جگہ۔

خانگی؛ (د) دل متعلق بہ خانہ، گھریلو، گھر کا (ب) بیچ کا، ذاتی خاص

پناہ (ب) موت؛ آموشہ پڑھنے کے ساتھ (ب) موت، وہ ذاتی

عورت جو پیچھے دھکے کسب کرے طلائفہ بازار میں نہ بیٹھے۔

جھگڑا؛ مذکر؛ خاندانی جھگڑا، آپس کا جھگڑا، آپس کی تکرار۔

خاتم؛ (د) موت؛ (ا) اعلا خاندانی عورتوں کا لقب، امیرزادی،

بیگم، بیوی (ب) خان کی عورت۔

خانماں؛ (د) مذکر؛ گھر کا اسباب، اثاثہ البیت، اثالا۔

خراب؛ (د) تباہ، برباد، سرگشتہ۔

خانوادہ؛ (د) مذکر؛ خاندان، مشائخ یا درویشوں کا وہ خاندان

جس سے ان کو توپل ہو، فقر کا سلسلہ۔

خانہ؛ (د) مذکر؛ (ا) مکان، حویلی (ب) مرغیوں یا کبوتروں کے رہنے

کا ڈبا، کابگ، آشیانہ، گھونٹلا (ب) صندوقچے کے اندر کا گھر،

(ب) شطرنج یا چوہنر وغیرہ کا وہ مربع نشان جس میں مہرہ ٹھکانے

ہیں، مہرے کا گھر (ب) کسی چیز کے رکھنے کا ڈبا، آئیٹے کا خانہ

وغیرہ (ب) حال دار چیزیں خالی چھوڑی ہوئی جگہ، (ب) انگوشی

میں نکلنے رکھنے کی جگہ، (ب) نقش کا خانہ۔

آباد دولت زیادہ؛ دعا، دولت افزوں، گھر معمور، تم

اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش۔

باغ؛ مذکر؛ مکان کی چار دیواری کے اندر کا باغ۔

بہ دوش / بردوش؛ (د)؛ آوارہ، پریشان، گھر کو

ساتھ لیے پھرنے والا، وہ جس کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ ہو۔

برانداز؛ (د)؛ گھر بار اجاڑ دینے والا (ب) دکنایتا، مشوق۔

بربادی؛ موت؛ گھر کی تباہی۔

پیری؛ موت؛ نقشا بھنا، سرکاری مقررہ نقشوں کو پڑ کرنا

برائے نام کام کرنا یا شریک ہونا۔

تلاشی؛ موت؛ گھر کی تلاشی۔

جنگی؛ (د) موت؛ گھر لہو جھگڑے آپس کا فساد۔

خدا؛ (د)؛ اضافت کے ساتھ) مذکر؛ عبادت گاہ، مسجد۔

خراب؛ (د)؛ آوارہ گرد، بے جانی بد وضع برباد تباہ۔

خانہ ویرانی، بربادی۔

داری؛ موت؛ گھر بار کا کام کاج۔

داماد؛ (د)؛ مذکر؛ داماد جو شہسہ کے گھر مقیم ہو جائے۔

زار؛ (د)؛ مذکر؛ نوکروں اور غلاموں کو نڈیوں کی

اولاد (ب) دکنایتا، جو کسی کے گھر پیدا ہوا ہو، (ب)

دکنایتا، قدیمی ملازم۔

ساز؛ گھر کا بنا ہوا، چوری سے گھر میں بنی ہوئی شراب۔

نشین؛ (د)؛ گھر بیٹھے والا، گوشہ نشین (ب) بیکار، محل

خانے خانے؛ در بے در بے، مرغیوں یا کبوتروں کو بند کر کے لیے پازانہ

خاور؛ (د)؛ مذکر؛ (ا) مشرق، پورب، (ب) آفتاب۔

خاوند؛ مذکر؛ آقا، مالک، شوہر۔

خاوندی؛ موت؛ بندہ نوازی، بندہ پروری، مہربانی، رعایت،

مالک ہونا؛ (د)؛ بکرواؤ مستعمل ہے)

خائف؛ (د)؛ مذکر؛ ترسنا، ڈرنے والا۔

حائث : (ع) مذکر؛ بدویات، خیانت کرنے والا۔
 حایہ : (د) مذکر؛ (ا) مرغ کا انڈا (۲) خصیہ، فوطہ۔
 بردار : (ف) مذکر؛ خوشامدی، چاچا پوس۔

خ-ت

خ-ب

خٹک / خٹکا : مذکر؛ انگوٹھا، ٹھینکا۔
 ختم : (ع) مذکر؛ (ا) اخیر انجام، انتہا، تمام، مکمل (۲) قرآن شریف کے تمام ہونے کی رسم (۳) فاتحی، نقل، تند، نیاز، (۴) خاتم۔
 خواجگان : مذکر؛ ایک قسم کا خاص طریقے کا عمل جس کا ثواب خواجگانِ حشت کو سجتے ہیں۔
 ہونا : (ا) کسی ہنر یا عیب میں بے مثل ہونا، (۲) ہو چکنا تمام ہونا، انجام کو پہنچنا، (۳) فاسخ ہونا، نیاز ہونا (۴) قرآن شریف ختم ہونا۔
 ختنہ : مذکر؛ مسلمانوں کی ایک سنت جس میں بچے کے عضو تناسل کا زائچہ کاٹا جاتا ہے۔

خیانت، موت؛ (ا) ناپاکی، گندگی، گندپن (۲) بدباطنی، شرارت۔
 خیانت، (ع) گند گیاں۔
 خبیث : (ع) مذکر؛ پلیدی، گندگی، بدباطنی، شرارت۔
 خبیث : (ع) (ا) گندہ، ناپاک، شریر، بدباطن (۲) بھوت۔
 خبیث الحدید (خبثِ نیل)۔ حدید : (ع) لوہے کا میل۔
 خیر : (ع) موت؛ (ا) آگاہی، واقفیت، اطلاع (۲) پیغام، (۳) افواہ، سنہرت (۴) حدیثِ نبوی (۵) پنا، نشان، سُرُخ (۶) ہوش اوسان، سمجھ، عقل، سدھ بده، (۷) حال (۸) کسی امر یا معاملے کی واقفیت، (۹) حال کی اطلاع۔
 پرخیر دینا : متواتر اطلاع دینا۔

خ-ج

خجالت : شرمندگی، حیا، نہایت۔
 خجرت : (ا) ہمارک، مسعود، میون۔
 خجل : موت؛ شرمندہ۔
 خجلت زوہ : (د) شرمندہ۔
 خچر : مذکر؛ وہ جانور جو گدھے اور گھوڑے کے میل سے پیدا ہو۔

پوچھنا : حال دریافت کرنا۔
 پھیلاتا : خبر کی اشاعت کرنا۔
 دار : (د) واقع، جاننے والا (۲) تنبیہ، کسی کو کسی امر سے روکنا (۳) واقع کار آگاہ (۴) ہوشیار، چوکنا۔
 رساں : مذکر؛ پیغام برد، نام برد۔
 گرم ہونا : کسی بات کا بہت مشہور ہونا۔
 گزرنا : اطلاع ہونا۔
 گیر : (د) مذکر؛ (ا) سپاہی، جاسوس (۲) نگہبان، محافظ نگرانی کرنے والا (۳) دست گیر، معاون۔

خ-د

خُد : (ع) مذکر؛ چہرہ، رخسار، گال۔
 خُدا : (د) مذکر؛ اللہ، خداوند مالک صاحب اُٹھالے : اللہ موت دے۔
 پرتکیہ ہونا : خدا کا سہارا ہونا۔
 پرچھوڑ دینا : دنیاوی تدبیریں ترک کر کے خدا کی مرضی پر چھوڑ دینا، خدا پر توکل رکھنا۔

رلینا : (ا) دست گیری کرنا، مدد کرنا (۲) پوچھنا، حال دریافت کرنا، (۳) نظر رکھنا، نگرانی کرنا، (۴) کسی سے انتقام لینا، آزار دینا، آڑ سے ہاتھوں لینا، لعنت ملامت کرنا، قائل معقول کرنا (۵) حالت پر غور کرنا، (۶) وار کرنا، (۷) اثر ڈالنا۔
 نہ ہونا : (ا) اطلاع نہ ہونا، واقع نہ ہونا (۲) خاموش رہنا (۳) پیرا نہ کرنا، خیال نہ کرنا، توجہ نہ کرنا (۴) ہوش نہ آنا۔
 خبط : (ع) مذکر؛ جنون، دیوانگی، سودا۔

- خدا پر نظر کرنا؛ خدا پر بھروسہ کرنا۔
 — پرست : (د) زراہد عابد، خدا کو پوجنے والا، حق پرست۔
 — پینا وہ میں رکھے : خدا بچائے۔
 — قزس : (د) خدا سے ڈرنے والا۔
 — بخواب دے : خدا سزا دے۔
 — چاہے : انشاء اللہ تعالیٰ، خدا کی مرضی ہو۔
 — حافظ : (د) دعا کا کلمہ، مذکر، غلکی حفاظت میں،
 فی امان اللہ، اللہ نگہ بان۔
 — خدا کر کے : بہ مشکل، بہ وقت۔
 — خدا کرنا؛ توبہ کرنا، خدا سے ڈرنا، باز آنا، ترک کرنا،
 جہاد کرنا۔
 — داد : (د) وہ چیز جو خدا نے بخشی ہو اور اُس میں
 دوسرے کا دخل نہ ہو، اللہ کی طرف سے۔
 — درمیان میں ہونا؛ تائید نہیں ہونا کسی مشکل کام
 کے انجام میں۔
 — دیتا ہے تو چھتر بھاڑ کے دیتا ہے، (دشل)؛ خدا کی
 مہربانی کسی سامان پر موقوف نہیں۔
 — دیتا ہے تو نہیں پوچھتا، تو کون ہے؛ (دشل) خدا
 کے یہاں دینے وقت بڑے چھوٹے کی تحقیقات نہیں ہوتی۔
 — را : (د) برائے خدا، خدا کے واسطے۔
 — رکھنا؛ اپنا بھی خدا ہونا، سچ کہنا، حق شناسی اور
 خوفِ خدا رکھنا۔
 — ساز : (د) خدا کا بتایا ہوا، اتفاق۔
 — سمجھے : (د) خدا اس کی سزا دے، خدا کے غضب میں
 گرفتار ہو، خدا بدلا لے۔
 — سے پھرنا؛ رکنا یا کافر ہونا۔
 — سے لڑنا؛ مرضی الہی سے مقابلہ کرنا۔
 — سے لڑیگی ہونا؛ (د) خدا کا آسرا ہونا، (د) رکنا یا،
 قریب مرگ ہونا۔
 — سے بدلا نا؛ خوار، سیدہ بنانا، خدا سے شرم و کراہنا۔
 — شاہد ہے؛ اللہ گواہ ہے۔ (د) رقم۔
- خدا شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے؛ (دشل) خدا ہر شخص کو
 اُس کے حوصلے کے موافق دیتا ہے۔
 — شناس : (د) پارسا۔
 — کا دیا سر پر / سر آنکھوں پر؛ (دشل) شیت الہی میں
 مجبوری کا اظہار، توکل، صبر۔
 — کا سخی؛ خدا کی راہ میں جان و مال صرف کرنے والا۔
 — کا غضب ہونا / کافر ہونا؛ تہرا الہی ہونا، آفاتِ مافی
 و مساوی کا نازل ہونا۔
 — کا قائل ہونا؛ خدا کے قائل مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا۔
 — کا گھر؛ (د) کعبۃ اللہ، مسجد، (د) مجازاً، دل۔
 — کا کارخانہ؛ انتظام عالم۔
 — کا نام لے کر؛ بسم اللہ کہہ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے۔
 — کا نور؛ (د) خدا کی تعالیٰ، (د) رکنا یا، (د) دارمی، (د)
 نہایت حسین انسان۔
 — کو ایک دن منہ دکھانا ہے؛ ایک دن مرنا ہے
 اور خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔
 — کو دیکھا نہیں تو عقل سے پہنچانا، (دشل) صرف دیکھنے
 ہی سے نہیں بلکہ عقل سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آجاتا ہے۔
 — کو سونپنا؛ (د) خدا حافظ، خدا نگہ بان کہنا۔
 — کو یاد کرنا؛ مصیبت میں خدا کو بچانا۔
 — کی باتیں ہیں؛ عملِ تقویٰ ہے، اللہ کی شان ہے۔
 — کی باتیں خدا ہی جانے؛ خدا کے عین کسی انسان کو معلوم کیا
 کے پاس جانا؛ (د) رکنا یا، مر جانا۔
 — کی پینا؛ اللہ بچائے۔
 — کی چوری نہیں تو ہندے کی کیا چوری؛ (دشل) طمانینہ
 ڈھٹائی، کسی برے فعل کے کرنے پر ڈھٹائی سے کہنا۔
 — کی دینن؛ موت؛ خدا کا عطیہ، اللہ کی بخشش۔
 — کی قات کا نگہ؛ خدا کا بھروسہ۔
 — کی راہ کا سورا؛ خدا واسطے کو کام کر دینا، ثواب کا کام۔
 — کی سنوار؛ (د) شاکستہ بددعا، خدا پر بددعا کر دے۔
 — کی شان / قدرت؛ کسی کا اپنی حیثیت کے خلاف

خدائی : (د) موت؛ (ا) صاحبی، خداوندی، خدا کی شان،

(۲) دنیا، جہان، (۳) خلق اللہ۔

خراب : (ا) آوارہ، آوارہ گرد، خانہ خراب (۲) خراب

خستہ، ذلیل و رسوا۔

خوار : دنیا میں بھر میں ذلیل۔

خوار گدھے سوار : پریشان، آوارہ پھرنے والا۔

رات : وقت؛ رات جگا، وقت کی رات جس میں عورتیں

گنگے پکار سہد کا طاق بھرتی ہیں۔

کا دعوا کرنا؛ بڑا غرور کرنا۔

کا جھوٹا؛ زمانے بھر کا جھوٹا، فریبی، دغا باز۔

کاروگ؛ بڑا روگ، دنیا بھر کا روگ۔

کا مارا؛ مذکر؛ تباہ و برباد، دنیا بھر کا بدنام۔

کرنا؛ دکانیا، بیگز کسی روگ ٹوک کے حکومت کرنا۔

خدا یگیاں : (د) مذکر؛ بڑا بادشاہ، خداوند۔

خدا شہ : مذکر؛ فکر، اندیشہ، ڈر۔

خدا س : (د) مذکر؛ فریب دینا، دغا دینا۔

خدا م : (د) مذکر؛ جمع خادم کی، نوکر چاکر۔

خدا مات : (د) مذکر و مؤنث؛ جمع خدمت کی، کار گزاریاں۔

خدا مت : (د) مؤنث؛ (ا) نوکری چاکری، (۲) کار متعلقہ کام

کاج۔ (۳) سامنے، رو برو، پاس۔

سے عظمت : (مقولہ) خدمت سے بڑائی ملتی ہے محنت

و مشقت سے کامیابی ہوا کرتی ہے۔

کرنا؛ سیوا کرنا، نوکری بجالانا۔

گار : (د) مذکر؛ خادم، خدمتی، نوکر چاکر۔

گزار : (د) مذکر؛ خدمت کرنے والا، کار گزار، ملازم۔

لینا؛ کسی سے کام لینا۔

خدمتی : (د) (ا) تحفہ، پیش کش، نذرانہ (۲) نوکر چاکر۔

خدا نیک : (د) مذکر؛ ایک قسم کا چھوٹا تیر مطلق تیر۔

خدا بیج : مؤنث؛ حضرت محمد رسول اللہ صلعم کی پہلی بیوی کا نام۔

خدا یو : (د) مذکر؛ (ا) خداوند، مصر کے بادشاہ کا لقب،

(۲) دجھانل، مطلق بادشاہ۔

بات کرنے پر تحقیر و بد تعب کا اظہار۔

خدا کے کام : خدا کی قدرت

کے گھر جانا؛ مرجانا۔

کے گھر سے پھرننا؛ خدا کے یہاں سے پھرننا، مرتے مرتے

پینا، جینے سے مایوسی۔

کی لاشی میں آواز نہیں؛ (دش) خدا ظلم کی سزا اس

طرح دیتا ہے جس کا وہ بھی نہ ہو۔

کی مار؛ خدا کا غضب (بد دعا)

گنج پہنچ جانا؛ (مزاجا) مرجانا۔

گنگے کو ناخن نہ دے؛ (دش) خدا ظلم و ستم اور کینے کا اختیار نہ

گواہ / گواہ ہے؛ خدا کی قسم۔

گلتی؛ سچی بات، انصاف کی بات دیکھنا کے ساتھ

گلتی کوئی نہیں کہتا، سمجھ دیکھی سب کہتے ہیں؛

حق بات کوئی نہیں کہتا، خوشامدی سب کہتے ہیں۔

لگی / گلتی کہنا؛ انصاف کی بات کہنا۔

مار سے یا چھوڑے؛ ہر چہ بادا باد، کچھ ہی ہو۔

معلوم؛ خدا جانے۔ (لا علمی کا اظہار)

منفرت کرے؛ خدا بخشے۔

مہربان تو جنگ مہربان / خدا مہربان تو گل مہربان؛

دش خدا کی عنایت ہوتو سب پی خواہ بن جاتے ہیں بد مہربان و مہرب۔

ناترس؛ (د) خدا سے نہ ڈرنے والا۔

نکرہ / خدا خواستہ / خدا نہ کرے؛ نوج، مبادا، ایسا نہ ہو۔

واسطے؛ بے سبب، ناحق۔

واسطے کا بغیر؛ مؤنث؛ ناحق کی دشمنی، بے جا عدالت۔

ہی ہے / خدا ہے؛ مشکل ہے، امید نہیں، شاید ہی۔

یاد آنا؛ (ا) بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو کر خدا کی یاد آنا۔

(۲) دکانیا، خدا کی خدمت نظر کا ادبیرت سے)۔

خدا م : (د) مذکر، ملائمتی، خدمت گار۔

خداوند / خداوند گار : (د) مذکر، صاحب، آقا مالک۔

خدائی خدمت گار : (د) ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے زمانے میں

تھاکر جیواں قبائلی چٹانوں کی ایک سیاسی تنظیم جو ہنس پرتیوں کرتی تھی۔

مذمما صفا و ذمعا ماکدر (دع) مقولہ؛ جو بات اچھی ہو اسے اختیار کر دو جو خراب ہو اسے چھوڑ دو۔

خ۔ ر

خُرُ: مذکر؛ گدھا۔

— بے دم؛ (اضافہ کے ساتھ) بے وقوف۔

— دُجَال: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ دجال کی سواری کا گدھا۔

— دماغ؛ مغز، منکبڑ۔

— گوش: (د) مذکر؛ بلی کے برابر ایک تیز رفتار جانور۔

— مُست / مستا: (۱) حقیق، نادان، (۲) منوالا، جوانی کے نفع میں بدست۔

خراب: (۱) ویران، تباہ، برابر (۲) ضائع، اکارت (۳) برا۔

ناقابل استعمال، نکما، (۴) سُوسا، ذلیل (۵) آوارہ پریشان۔

— کرنا: (۱) بگاڑنا، برباد کرنا، (۲) پریشان کرنا (۳) زنا کرنا۔

— ہونا: برباد ہونا، اجڑنا، بگڑنا، پریشان ہونا، آوارہ ہونا۔

— حال: پریشان احوال، شستہ حالت۔

— نِسْتہ: (۱) آوارہ، پریشان آدمی، (۲) چیسز جو بگڑ گئی ہو۔

خرابی کا دہاڑا: خرابی کا سامان، خرابی کے پتھن۔

خرابات: (د) موت، بے غذا، شراب خانہ، قمار خانہ۔

خراباتی: (د) مذکر؛ شراب خوار، جواری۔

خرابہ: (د) مذکر؛ ویران مکان، ویرانہ، کھنڈر۔

خراتا: مذکر؛ وہ آواز جو اکثر سوتے وقت نر خرے سے نکلتی ہے، خرخر۔

خرٹے بھرنے / لینا: بے خبر ہو کر سونا، سوتے میں خرخر کرنا۔

خراج / خراج: (د) مذکر؛ زمین کا محصول، باج۔

— گزار: مذکر؛ (۱) خراج دینے والا، (۲) ماتحت بادشاہ یا رئیس۔

— خرد / خرد: مذکر؛ وہ آدمی سے لکڑی کو پھیل کر صاف

کرتے اور گول یا پکنا بناتے ہیں، (۲) تیز شوخ۔

خراد پر چڑھنا: (۱) لکڑی کے پایوں وغیرہ کا خرد پر چڑھ کر

ہم دار اور درست ہونا، (۲) دیکھنا (تسا) انسان کا تعلیم و

تربیت پا کر شایستہ ہونا، منجھ جانا۔

— پر چڑھنا / اترنا: درست ہونا، سنونا، ہمسالی ہونا، تجربہ کار

ہونا، زمانے کا گرم دوسر دیکھنا، نشیب و فراز آ زمانا۔

خرادنا: خرد پر چڑھ کر لکڑی کو درست کرنا۔

خرآدی: مذکر؛ خردنے والا، کاریگر جو لکڑی کو بہوار کرتا ہے۔

خرآش: (د) مذکر؛ موت، رگڑ، چیلن، کھلی۔

خراط: دیکھو خرد۔

— اتارنا: درست کرنا، بنانا، آراستہ کرنا۔

خراطین: مذکر؛ کچوا۔

خرافات: (د) بے ہودہ کلام، بیہودہ باتیں، یادہ گوئی۔

خرام: (د)؛ ناز و نماز کی چال، رفتار ناز۔

خراماں: (د)؛ تنگ کر چلنے والا، ٹھلنے والا، ناز کی چال چلتا ہوا۔

— خراماں: آہستہ آہستہ پلٹے ہوئے۔

خرانٹ: بہت تجربہ کار، بہت بوڑھا آدمی۔

خر بوزہ / خر بوزہ: مذکر؛ ایک بڑے خوشبودار شہری پھل کا نام۔

— پچھری پر گڑے تو خر بوزے کا مضر اور (دش) کم نرسک ہر طرح

کے خر بوزے پر گڑے تو خر بوزہ کا مضر یا شامت ہے۔

خر بوزے کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے؛ (دش) آدمی کو

دیکھ کر آدمی ڈھنگ اختیار کرتا ہے، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔

خرجی: موت، جمول، جمولا، بیگ، زنبیل، وہ تھیلا جو ٹوکی

پینڈ پر ضروری اسباب کے واسطے باندھ دیتے ہیں۔

خرج: مذکر؛ روپا، زر، صرف کرنے کی چیز، صرف۔

— اٹھانا، صرف برداشت کرنا۔

— بالائی: دیکھو؛ بالائی خرج۔

— بردار: مذکر؛ وہ لکڑی کا تمام خرج اٹھانے، داروفا،

دفتر کا سودا خریدنے والا۔

— چلنا؛ مصارف برداشت ہونا، گزر بسر ہونا۔

— خانہ داری؛ موت، گھر کا خرج۔

خرنچ دینا؛ (۱) صرف کے واسطے پیشگی دینا، (۲) روزیہ تقسیم کرنا، مزدوری دینا۔

_____ سے سمندر خالی ہو جاتا ہے، (رطل) خرچ کرنے سے دولت کتنی ہی زیادہ ہوصرف ہوتی ہے۔

_____ میں ڈالنا؛ کسی رقم کو مصارف میں درج کرنا۔
خرچنا؛ صرف کرنا، خرچ کرنا۔

خرچہ؛ مذکر؛ (۱) مقدمہ کا خرچ، (۲) لاگت، صرف۔
خرخر؛ مؤنث؛ خرتالے کی آواز۔

خرخرانا؛ زور سے خرتالے لینا۔
خرخر؛ مؤنث؛ بلی کی آواز جو اکثر از خود بھکتی ہے۔

خرخشہ؛ (ف) مذکر؛ غلبان، خاطر، پریشانی، جھگڑا، بھینٹا۔
خرزد؛ (ف) مؤنث؛ عقل، دانائی۔

_____ مند؛ (ف) دانش مند، دانا۔
_____ مندی؛ (ف) مؤنث؛ دانائی، دانش مندی۔

خرود؛ (ف)؛ چھوٹا، کم عمر، کم قدر، کم جتنہ،
_____ بین؛ مؤنث؛ دیکھنے کا وہ آلہ جو چھوٹی چھوٹی اور باریک

چیز کو بڑا دکھاتا ہے۔
_____ سال؛ (ف)؛ کم عمر، کم سن۔

خرودی؛ (ف) مؤنث؛ چھوٹا پالا، چھوٹا ہونا۔
خرودہ فروش؛ (۱) صراف، (۲) پیشکش کرنے والا۔

خروداد؛ (ف) مذکر؛ ایران کے شہری مسلمانوں میں سے تیسرے میںے کانام دیکھو اور۔
خرزول؛ (ف) مؤنث؛ رانی۔

خرزودہ؛ (ف) مذکر؛ (۱) ٹکڑا، پارچہ، ہزرد، چٹن، جھڑن (۳) ریزگی روپے کے چھوٹے حصے (۴) بیع، فروخت۔

_____ بین؛ (ف) مذکر؛ عیب جو، نکتہ عین، باریک بین۔
_____ میننی؛ (ف) عیب جونی، نکتہ میننی۔

_____ فروش؛ (ف) مذکر؛ بساطی، پھیری، گھوم پھرنے والے،
پہننے کے چیزیں بیچنے والا۔

_____ فروشی؛ مؤنث؛ پیشکش کرنا۔
_____ کرنا؛ (۱) رویا سمجھانا، رویا یا پیسٹروانا، (۲) بیچنا

فروخت کرنا، بیع کرنا۔

خرود گیر؛ (ف) مذکر؛ عیب جو، نکتہ عین۔
_____ گیری؛ (ف) مؤنث؛ عیب جونی، نکتہ میننی۔

خرز؛ (ف) مذکر؛ رکھ۔
خرسند؛ (ف)؛ خوشش، اسامان۔

خرسندی؛ (ف) خوشی، شادمانی، رضامندی۔
خرشید؛ ثور شید / ثور شید؛ (ف) مذکر؛ روشن آفتاب۔

_____ پیکر؛ سیاہ / طلعت / غدار / تھا؛ معشوق۔
_____ لب بام؛ (ف) دکھانا، آخر عمر، آفتاب لب بام۔

خرطوم؛ (ف) مؤنث؛ ہاتھی کی سونڈ۔
خررفہ؛ (ف) مذکر؛ ایک مشہور ساگ۔

خررق؛ (ف) مذکر۔ سچاڑنا۔
_____ عادت؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ کھانا، کرات اولیاء۔

خررقہ؛ (ف) مذکر؛ پُرانا جامہ، پونہ لگا ہوا کپڑا، گڈڑی، درویشی کا لباس، بزرگوں کا لباس۔

_____ پہننا؛ سجادہ نشین ہونا، کسی بزرگ کا خلیفہ بننا۔
_____ پوش؛ (ف) مذکر؛ درویش، صوفی۔

خرزگاہ؛ (ف) مؤنث؛ بڑا نیمہ، سلاطین اور امرا کا نیمہ۔
خرزم؛ (ف) شادمانی، خوشی، شادمانی، سرسبز، تروتازہ۔

خرم؛ (ف) مذکر؛ (۱) چھوٹا گھوڑا، (۲) ایک قسم کی مٹھالی۔
خرمن؛ (ف) مذکر؛ کلیان، انا، وہ خطہ کا جس سے بھوسا الگ نہ کیا گیا ہو۔

_____ ہستی؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ زندگی کا کلیان، حیات، زب۔

خرمہرہ؛ (ف) مذکر؛ کوڑھی۔
خروار؛ (ف) مذکر؛ بار خرم، ایک گدھے کا بوجھ، ایک وزن،

نوسن سے زیادہ بڑا ڈھیر۔
خرروج؛ (ف) ہر آمد باہر نکلنا (۲) حملہ شورش، قند (۳) باغی ہونا۔

_____ کرنا؛ بغاوت کرنا، نکلنا، فوج کشی کرنا۔
خرزوس؛ (ف) مذکر؛ گھر کا پلا ہوا مرغ۔

خرروش؛ (ف) مذکر؛ شور، فعل، طوفان، رونے کی آواز، فریاد۔
خریہ؛ (ف) مؤنث؛ (۱) خریداری، خریدی ہوئی، (۲) خریدی ہوئی۔

_____ وفروخت؛ (ف) مؤنث؛ لین دین، لینا بیچنا، خریدنا۔

خریدار؛ (د) مذکر؛ (ا) گاہک، مول لینے والا، (۲) خواہاں، طلبگار۔
 — کی نگاہ: قیمت کی بابت خریدار کا اندازہ۔

خریدنا؛ مول لینا۔

خریطہ؛ (د) مذکر؛ (ا) جمیلی، کیسہ، (۲) وہ لفظ جس میں سوسوں یا
 امیروں کے نام شقہ جاتے۔ (۳) سرکاری حکم جو روسا کے نام جاتے۔

خریفین؛ (د) موتی؛ وہ فصل جس میں جوار، مکئی وغیرہ پیدا
 ہوتی ہے، اس طرح سے کھانگ تک کا زمانہ۔

خ - ز

خزائن / خزائیں؛ (د) موتی؛ (ا) بیت جہد، فصل خریفین
 وہ موسم جس میں درخت کے پتے جھڑ کر گرتے ہیں۔ (۲)
 بے رونقی، زوال۔

— آنا؛ (ا) خزان کا موسم آنا، (۲) بے رونقی کا ظہور ہونا
 زوال آنا، (۳) محسن نہ رہنا۔

— دیدہ / رسیدہ؛ (د) بے رونق۔

خزائیں؛ (د) مذکر؛ تحویل دار، خزانہ رکھنے والا۔

خزانہ؛ (د) مذکر؛ (ا) وہ جگہ جہاں روپیہ جمع رہے (۲) ذخیرہ،
 گودام، کھانا، (۳) (د) پانی کا ذخیرہ رکھنے کی جگہ، (۴)

(جہاز)، روپیہ، مال، دولت، نقدی، (۵) (د) بندوبست
 اور تنگ کی وہ جگہ جہاں بارود رہتی ہے، کوٹھی۔

خزانہ عامرہ؛ (د) مذکر؛ بھرا ہوا خزانہ۔

خزائن؛ (د) مذکر؛ جمع خزانہ کی۔

خزوف؛ (د) موتی؛ ٹھیکری، ٹھیکرا۔

خزومینہ؛ (د) مذکر؛ خزانہ، مخزن۔

خ - س

خس؛ (د) مذکر؛ موتی؛ (ا) سوکھی گھاس، کوڑا کرکٹ، پھوس
 خاشاک، (۲) ایک قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ۔

— پولوش؛ (د) وہ چیز جس کو سوکھی گھاس سے چھپا دیا ہو۔

— خانہ؛ (د) مذکر؛ وہ مکان جو خس کی ٹٹیوں سے

گرمی کے موسم میں امیر لوگ بنایا کرتے ہیں۔

خس و خاشاک؛ مذکر؛ کوڑا کرکٹ۔

— کم جہاں پاک؛ (د) (دش) کسی نالائق یا بے کار
 شخص کا نہ رہنا یا امر جانا ہی بہتر ہے۔

خسارہ؛ مذکر؛ ٹوٹنا، نقصان، زیاں۔

خسامت / خسامت؛ (د) موتی؛ بخل، کجوسی، کینگی۔

خستت؛ (د) موتی؛ بخل، کینہ پن۔

خساندہ؛ (د) مذکر؛ پانی میں بھگو کر بغیر پکائے شکار کرنے کی ڈوا۔
 خستگی؛ (د) موتی؛ (ا) شکستگی، شکستہ حال، (۲) پھر پھر اہٹ،

(۳) مفلسی، افلاس، ناداری، تنگ دستی، (۴) تھکاوٹ، تھکن۔

خستہ؛ (د) (ا) زخمی، بیمار، نحاس، (۲) مٹھلی خرمے اور آلوچے
 وغیرہ کی (۳) شکستہ (۴) زخمیہ تھکا ہوا (۵) پھر پھر کوڑا کرکٹ (۶) خراب

بھال، پریشان، ذلیل، (۷) نادار، تنگت (۸) مذکر، خوبانی اور دادا کی لڑکی۔

— جگر / حال / خاطر / دل / زوال؛ (د) شکستہ دل،
 آزرہ دل، پریشان، ناخوش۔

خسر؛ (د) مذکر؛ سسر، شوہر یا بیوی کا باپ۔

خسران؛ (د) مذکر؛ نقصان، زیاں۔

خسرو؛ (د) (ا) ایران کے کیانی خاندان کا بہت بڑا بادشاہ
 کسرا۔ (جہاز)، بادشاہ، صاحب شوکت۔

— پرویز؛ نوشیروان کا پوتو یا جو شیریں کا عاشق تھا۔

خسروانہ / خسروانی؛ (د) شاہانہ۔

خسروکی؛ (د) (ا) بلا شہی، خسرو سے منسوب، (۲) ایک قسم کی شراب۔

خسره؛ مذکر؛ گائٹوں کے کھیتوں کی تہرت۔

— آبادی؛ مذکر؛ قابضوں کے نام کے ساتھ مکانات کی تہرت۔

— کھسرا؛ ایک قسم کی چھوٹی پیچیک۔

خسک؛ (د) مذکر؛ گوگرد، ایک دوا کا نام۔

خسوف؛ (د) مذکر؛ (ا) چاند بگھن، (۲) زمین میں دھنسا۔

خسپس؛ (د) (ا) کینہ، فرومایا (۲) بخیل۔

خ - ش

خشتت؛ (د) موتی؛ اینٹ۔

— باری؛ اینٹ برساتا، کنگر پتھر چھینک کر مانا۔

خشک / خشک

خشک (د)؛ موٹھ؛ پوست کے دانے، پوست کا درخت۔

کے دانے برابر بہت چھوٹا، کچھ بھی نہیں۔

خشک؛ (ت) (۱) سوکھا (۲) روکھا، کج خلق، وہ آدمی جو دل کی مذاق سے متفر ہو (۳) وہ جس سے فائدہ نہ اٹھاسکیں (۴) بے لطف

بے مزہ (۵) بے غوا، ناجھ، خشک، دماغ۔

— تنخواہ؛ بغیر روٹی کے صرف نقد تنخواہ۔

— روٹی؛ سائیں بغیر روٹی، روٹی کی روٹی۔

— دماغی / مغربی؛ (د) موٹھ، دیوانگی، جنون گاودی پن۔

— سالی؛ (د) موٹھ، (ا) کمال، قوط (۲) وہ موسم جس میں

حسب معمول بارش نہ ہو۔

— وتر؛ (د)؛ بڑا بھلا، محبوب و زشت۔

— ہونا؛ (ا) سوکھنا (۲) مرجھانا، جھڑنا۔

خشکدہ؛ خشک، سوکھا۔

خشکی؛ (د) (۱) سوکھاپن (۲) زمین، (۳) روکھاپن،

(۴) کال، قوط (۵) پلٹسین (۶) وہ ٹیل جو سر میں پیدا

ہو جاتا ہے۔

خشکدہ؛ (د) مذکر، ابا لے ہوتے چاول، بھات۔

— اور بروردہ اگر چہ گندہ لیکن ایسا کد بندہ؛ (مثلاً)

ہٹ دھری کرنا، اپنی بات کی پیچ رکھنے کے لیے بے نیکی

بات پر اڑا رہنا۔

— کھاؤ؛ بے جان خواہش نہ کرو، جاؤ زحمت ہو۔

— کھاؤ پیسے کے ساتھ؛ اپنا راستہ، زحمت ہو، چپت ہو۔

خشکم؛ (د) مذکر، غصہ، خفگی۔

خشکلیں؛ (د) غصہ، درغضب، ناک۔

خشکناک؛ (د) غصے سے بھرا ہوا۔

خششور؛ (د) مذکر؛ عاجزی، فروتنی، موٹھ کرنا۔

خششوع؛ (د) مذکر؛ دلنواز گفتگو۔

خصلت؛ (د) مذکر؛ جمع؛ خصائل، خور، عادت۔

خصم؛ مذکر؛ دشمن، بدخواہ، حریف، مخالفت، مقابل۔

خصم؛ شوہر۔

خصوص؛ (د) مذکر؛ خاص ہونا، خصوصیت، خاص، خاص کر۔

خصوصاً؛ خاص کر۔

خصوصیات؛ (د) مذکر؛ جمع خصوصیت کی۔

خصوصیت؛ (د) موٹھ؛ (ا) خاص (۲) خاص بات (۳)

ذاتی تعلق، میل ملاپ، ربط منبط، دوستی، اخلاص۔

خصوصیات؛ (د) مذکر؛ جمع خصوصیت کی۔

خصوصیت؛ (د) موٹھ؛ (ا) دشمنی (۲) جھگڑا، فساد، عناد۔

خصی؛ (د) مذکر؛ (ا) خسیے بھالا ہوا جانور، آختہ،

(۲) نامرد، زنانہ۔

— پر نالہ؛ مذکر؛ وہ پر نالہ جس کا پانی دیوار سے لگتا ہوا

باہر گرے۔

خصیہ؛ (د) مذکر؛ قوط، خایہ۔

خصیے سہلانا؛ (مجازاً) خوشامد کرنا۔

خ - ض

خضاب؛ (د) مذکر؛ (۱) عموماً ہر ایک، رنگ، خصوصاً

وسمہ مندی اور تیل کارنگ (۲) سفوف یا عرق جس

کے استعمال سے بال سیاہ ہو جائیں۔

— کرنا / لگانا؛ وسمہ لگانا، بال سیاہ کرنا۔

خضر / خضر؛ (د) مذکر؛ (۱) ایک مشہور پتھیر کا نام جن کی

نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے آپ حیات پیا ہے اور وہ

ہمیشہ زندہ رہیں گے (۲) دکھائیا، رہتا، رہبر۔

— راہ؛ (د) (اصناف کے ساتھ) رہنا، رہبر۔

خضوع؛ (د) مذکر؛ عاجزی کرنا، گرد گزانا۔

خ - ط

خط؛ مذکر؛ (ا) لکیر، نشان (۲) فت، چٹھی، نامہ، کھوپ (۳)

(د)؛ بنا سبز جو انسان کے چہرے میں لبوں سے شروع کر خضابوں

خ - ص

خصائص؛ (د) مذکر؛ خاصیتیں، عادتیں۔

اپنے یا کسی اور کے گرد دھبوت پریت کے آسیب سے بچنے کے واسطے کہتے ہیں۔

— دار: دھاری دار۔

— رکھوانا: خط بڑھنے دینا۔

— رواں: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ وہ خط جو بے تکلف پڑھا جائے۔

— ریحاں / گل زار: (اضافہ کے ساتھ) دف، مؤنث؛ ابن مقفل نے جو پھ خط ایجاد کیے تھے ان میں سے ایک خط کا نام جس میں حروف سے پھول بڑھائے جاتے ہیں۔

— سبز: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ خط سیاہ، چہرے پر تازہ اور نکلا ہوا خط، سبز آغاز۔

— سرمہ: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ وہ خط جو سرمے سے آنکھ میں بن جاتا ہے۔

— شعاع: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ آفتاب کی کرنیں۔

— شکستہ: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ نستعلیق کے خلاف گھسیٹ کر لکھا گیا خط۔

— عمودی: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ سیدھا خط۔

— غبار: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ نستعلیق تحریر کا ایک انداز جس میں جلی حروف کے درمیان باریک باریک نقطے لگائے جاتے ہیں۔

— غلامی لکھ دینا: غلامی کا اقرار نامہ لکھ دینا۔

— کتابت: مؤنث؛ مراسلت۔

— کش: (۱) وہ سودا جو بچنے والے کو پھر واپس نہ ہو سکے، جا کر کسی ضد (۲) دف، مؤنث؛ وہ آتش سے بڑھی لکڑی کاشے کے لیے نشان بناتے ہیں۔

— کھینچنا: (۱) محو کرنا، مٹا دینا، (۲) لیکر کھینچنا، قلم زد کرنا۔

— (۳) نشان کرنا۔

— کی پیشانی: وہ جگہ جو خط کے اوپر سادہ چھوڑ دی جاتی ہے۔

— متوازی: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ ایک دوسرے کے مقابل وہ دو لکیریں جو آپس میں نہ مل سکیں۔

— مخور: (اضافہ کے ساتھ) دف، زمین کا وہ فرضی خط جس کے گرد زمین روزانہ گردش کرتی ہے جو جوہیں ٹھنڈے میں پوری ہوتی ہے۔

کے گرد ظاہر ہوتا ہے، دم، لکیر جس میں صرف لمبائی ہو چوڑائی نہ ہو، ہاتھ کا لکھا ہوا، سوادِ خط اندازِ تحریر۔

— خط آزادی: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ رہائی کی سند۔

— آنا: سبزہ آفا ز ہونا، رخسار پر داڑھی کا نمودار ہونا۔

— اڑانا: دیکھو اڑانا۔

— استوا: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ وہ فرضی دائرہ جو زمین کے بیچوں بیچ قطبین سے برابر فاصلے پر مشرق سے مغرب کی جانب کھینچا ہوا مانا گیا ہے۔

— افق: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ دائرہ افق۔

— بنانا: حجامت بنانا۔

— بن جانا: (۱) حجامت بن جانا، (۲) نشان بن جانا۔

— بندگی: (دف، مذکر) (اضافہ کے ساتھ) خطِ غلامی۔

— بنوانا: اصلاح بنوانا، حجامت کروانا۔

— بھر آنا: سبزہ آغاز ہونا، داڑھی نکلنا شروع ہونا۔

— پرکار: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ وہ خط جو پرکار سے کھینچا جائے، دائرہ۔

— پیشانی / جیبیں / سر نوشت: (اضافہ کے ساتھ) (دف، مذکر) نوشتہ تقدیر۔

— تراش: مذکر، حجام، تائی۔

— ترشنا: خط بنانا۔

— تقدیر: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ تقدیر کا نوشتہ قسمت کا لکھا۔

— تو امال / تو اوم: (دف، مذکر) خط کی ایک قسم جس میں ایک خاص ترکیب سے موٹے موٹے سفید حروف نمایاں ہوتے ہیں۔

— حامل: (دف، مذکر) (ریاضی کی اصطلاح) فرضی خط جس کا طول اور سمت میں ہر مقام معین نہ ہو۔

— تیغ: (اضافہ کے ساتھ) دف، مذکر؛ تلوار کا زخم۔

— جدمی: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ ایک اصطلاحِ فلکیات۔

— چلیسا: (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ صلیب نما خط۔

— حصار: (دف، مذکر) (اضافہ کے ساتھ) وہ دائرہ جو حامل

خطے میں نہ لانا، خاطر میں نہ لانا، خفیہ سمجھنا، کہا نہ ماننا، کچھ نہ سمجھنا، وقعت نہ جاننا۔

خطی: (ر) موٹ: نخل خیر۔

خطہ: (ر) (۱) زمین کا ٹکڑا، حصہ، زمین کا ٹکڑا ہوا حصہ (۲) مذکر، ملک کا قطعہ، بڑا شہر، ملک، سرزمین، قطعہ۔

خطیب: (ر) مذکر: جمع خطبہ: (۱) خطبہ پڑھنے والا، (۲) پکڑ دینے والا۔

خطیر: (ر) بڑا، کثیر، بہت۔

خ ف

خفا: (د) غضب ناک، ناخوش، برجم، ناراض، آزرده۔

— ہونا: ناراض ہونا، غصہ ہونا۔

خفا: (ر) موٹ: (۱) پوشیدگی، (۲) پوشیدہ ہونا۔

خفاش: (ر) مذکر: چمگاڈر۔

خفت: (ر) موٹ: (۱) سبکی، ہلکان، اوجھان (۲) ذلت، شرم، خجالت۔

خفقان: (ر) مذکر: (۱) دل کا دھڑکنا، ایک بیماری کا نام

جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، (۲) گھبراہٹ، مایوسی، باطل خیالات، توہمات، وحشت ہونا۔

خفقانی: گھبرایا ہوا، خفقان میں مبتلا۔

خفگی: (د) موٹ: آزرگی، ناراضی، ناخوشی، غصہ۔

خفی: (ر) (۱) باریک خط، مہین خط، (۲) پوشیدہ، مخفی۔

خفیف: (۱) ہلکا، سبک، (۲) ذلیل، رُسوا، حقیر، (۳) بے قدر، بے حقیقت، (۴) کم، حقوڑا، (۵) نادام، شرمندہ (۶) موٹ: عروض کی ایک بحر کا نام۔

خفیفہ عدالت: موٹ: وہ عدالت جس میں زر نقد کے چھوٹے چھوٹے مقدمات کا فیصلہ ہو۔

خفیفہ: پوشیدہ، دد پردہ۔

— پولیس: مذکر: وہ پولیس کا محکمہ جس کا کام دد پردہ بر لگانے کا ہے۔

— پولیس: مذکر: جاسوس، مخبر، خبر نویس۔

خط مستقیم: (اضافہ کے ساتھ) مذکر: سیدھا خط۔

— مُشکلیں: (اضافہ کے ساتھ) (د) مذکر: خط سبز۔

— منحنی: (اضافہ کے ساتھ) مذکر: پیڑھی سی لکیر۔

— نستعلیق: (اضافہ کے ساتھ) (د) مذکر: وہ ایرانی خط جو خط نسخ اور نستعلیق سے ملا کر نکالا گیا ہے۔

— نسخ: (اضافہ کے ساتھ) (د) مذکر: (۱) مجھے خطوں میں سے ایک خوش تماعربی خط جس کی خوبی کے آگے اس سے پیشتر کے خطوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔

— نسخ پیمیزنا: قلم زد کر دینا۔

— نکلتا: سبزہ نمودار ہونا (دو جوانوں کے چہرے پر) خطوط و حدائی بر لہلہلی: مذکر: بریکٹ (د)۔

خطی: (ر) (۱) خط کی طرف منسوب (۲) لکیر کی طرح سیدھا، (۳) ایک قسم کا نیزہ، (۴) علمی یا ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب۔

خطا: (۱) سہول، چوک، گناہ، قصور، غلطی، سہو (۲) مذکر: بزرگستا اور چھین کے مابین ایک ملک کا نام۔

— کار / گمر: (د) گنہ گار۔

— وار: (د) قصور وار، گنہ گار، مجرم۔

— ہونا: سہول ہونا، غلطی ہونا، سہو ہونا، قصور سونا، جرم ہونا، (۲) بے ارادہ بول بھرا نکل جانا۔

خطائے بزرگ کال گرفتن خطاست: (د) (مقولہ) بزرگوں پر اعتراض کرنا بڑی بے ادبی ہے۔

خطاب: (ر) مذکر: (۱) کسی کے روبرو ہو کر کلام کرنا کلام، گفتگو (۲) تعریفی لقب، عزت کا توصیفی نام (۳) (طنزاً) بُرا نام رکھنا۔

خطبہ: وہ تعریف یا حمد و نعت خواہ وعظ و نصیحت جو لوگوں کو مخاطب کر کے سنانی جائے، عید کا خطبہ، جبکہ کا خطبہ۔

خطر: (ر) مذکر: ہلاکت کے قریب ہونا، خوف، اندیشہ، آفت، ضرر، شوری۔

— ناک: (د) خوفناک۔

خطرہ: (ر) مذکر: دل کا اندیشہ، کھٹکا، خوف، ڈر۔

خطرے میں ڈالنا: جو کھوں میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، آفت میں پھنسانا۔

خلاقانہ : (رع) پیدا کرنے کی صفت، تخلیقی طور پر۔

— اَدَب : (رع) مذکر، تخلیقی ادب۔

خلال : (رع) مذکر، موٹا، دانٹ گریڈ نے کاتیکا، دانٹ صاف کرنے تکا۔

— وینا : گنجد کی بازی میں حریت کو ہرا دینا۔

— کرنا : (رع) گریڈ، تھکے سے دانٹوں کی رخیں صاف کرنا۔

خلاق : (رع) موٹا، جمع خلق کی، خلقت، مخلوقات۔

خلقت : (رع) موٹا، دوستی، محبت۔

خُلقان : (رع) مذکر، تہرہ، غلش، فکر، اندیشہ۔

خُلخال : (رع) موٹا، پازیب، پیروں میں پہننے کا ایک زیور۔

خُلخل / خُلخللا : (رع) ڈھیلہ، ڈھالا۔

خُلد : (رع) مذکر، بہشت۔

— بریں : (اضافت کے ساتھ) فردوں اعلیٰ۔

— آشیال : (اضافت کے ساتھ) (۱) بہشت میں سکونت رکھنے والا، (۲) قنطنیا، بڑے لوگ یا بزرگ جو مرجا ہیں، مرحوم۔

خُلش : (رع) موٹا، کھٹک، رخش، غضب۔

خُلط : (رع) مذکر، (طب) چار خلطوں میں سے ایک (صفرا، سودا، خول، بلغم)۔

— مَبْحُث : (اضافت کے ساتھ) مذکر، بے فائدہ۔

— الجھاؤ، ایک بحث میں دوسری بحث۔

خُلط مُلَط : گڈ مڈ، درہم برہم۔

خُلَع : (رع) مذکر، مسلمان عورت کا مہر معاف کر کے یا اس کے سے کر طلاق لینا۔

خُلَعَت : (رع) مذکر، (۱) باس، جوڑا، کپڑا جو انعام میں بادشاہوں یا حکومتوں کی طرف سے دیا جائے، (۲) وہ نشان جو خوش نویس استاد شاگرد کے عمدہ اور باقاعدہ ہون پر بنا دیتے ہیں۔

خُلَف : (رع) مذکر، فرزند، سید، جانشین۔

خُلَفُ الرَّشِيدِ / خُلَفُ الْعَبْدِ : مذکر، درجا بیٹا،

مطلع فرماں بردار بیٹا۔

خُلَفَا : (رع) مذکر، جمع خلیفہ کی۔

خُلَفَايَ الرَّشِيدِينَ : (رہایت والے خلیفہ) رسول اللہ کے

خ-ل

خَلَا : (رع) مذکر، (۱) خالی ہونا، خلوا، خالی جگہ، (۲) زمین کے اوپر کا وہ حصہ جہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے۔

— باز : مذکر، خالی جہاز چلانے والا۔

— ملا : مذکر، میل جول، خلط ملط، ربط ضبط۔

— خلاص : (رع) مذکر، آزاد، چھوٹا ہوا۔

— ہونا : (۱) کرنا، (۲) بچہ جنمنا، (۳) انزال ہونا، (۴) ملازمت کا چھوٹ جانا۔

— خلاصہ : (رع) مذکر، چُنا ہوا، چھٹا ہوا، مختصر، منتخب، (۲) حاصل کلام، الحاصل، لبّ باب۔

— خلاصی : (رع) موٹا، نجات، چھٹکارا، رہائی۔

— خلاصی : (۱) خیر گھڑا کرنے والے (۲) توپ خانے، ریل یا جہاز پر کام کرنے والے مزدور۔

خِلَافِ بَدْع : (۱) الٹا، ناسازگار، ناموافق، برعکس، برخلاف،

فقہین (۲) مذکر، چھوٹ (۳) احتمال (۴) مخالفت۔

— بیانی : موٹا، جھوٹ بیان کرنا، دروغ گوئی۔

— دستور : (اضافت کے ساتھ) رواج کے خلاف، اصول کے خلاف۔

— طبع : (اضافت کے ساتھ) طبیعت کے برعکس، مزاج کے خلاف۔

— عقل : (اضافت کے ساتھ) مذکر، سمجھ کے خلاف، دانش مندی کے برعکس۔

— قیاس : (اضافت کے ساتھ) مذکر، نامکن۔

— کہنا : جھوٹ بولنا، طبیعت کے ناموافق بات کہنا۔

— ورزی : موٹا، خلاف کرنا، قانون یا قاعدہ توڑنا۔

— وضع : (اضافت کے ساتھ) مذکر، طریقے اور عادت کے برعکس۔

— وضع فطری : (مذکر، لواطت۔

— ہونا : مخالفت ہونا، برعکس ہونا کسی کی لئے سے متفق نہ ہونا۔

— خلافت : (رع) موٹا، نیابت، خلیفہ کا عہدہ، جانشینی، مشائخ بادشاہ یا نبی کی جانشینی۔

— خَلَق : (رع) بہت پیدا کرنے والا، خلدئے تعالٰیٰ۔

چاروں خلفاء مدین۔

خَلْفٌ وَعَدَةٌ : مذکر؛ خلف و وعدہ، وعدے کے خلاف کرنا۔
خَلْقٌ : (رع) موت؛ دنیا کے لوگ، پیدا کیا ہوا، مخلوق۔

سے اُٹھ جانا، مَرَجَانَا۔

خَلْقٌ : (رع) عادت، خصلت، مروت، خوش مزاجی، ملنساری۔
محمدی (د) اضافت کے ساتھ (ضرب المثل) پیغمبر اسلام
کا اخلاق، بے مثل اخلاق۔

خَلْقَتٌ : (رع) موت؛ (د) آفرینش، پیدائش، فطرت، برکت۔
(۲) مخلوق، لوگ۔

خَلْقِي : پیدائشی۔

خَلْلٌ : (رع) مذکر؛ (د) فتور، بگاڑ، (۲) بد معنی، پیٹ کا بگاڑ
(۳) جن پرکی یا آسیب کا اثر، (۴) بیماری، دکھ، روگ۔

أَنْذَارٌ : (رف) خلل ڈالنے والا، فتور ڈالنے والا۔

وَمِائِغٌ : (د) اضافت کے ساتھ (مذکر) مایغویا، سودا،
دیوانگی۔

خَلْوٌ : (رع) مذکر؛ خالی ہونا۔

خَلْوَةٌ / خَلْوَةٌ : موت؛ (د) تنہائی، علاحدگی، (۲) مکان
کا غیر سے خالی ہونا، (۳) خالی جگہ، تنہائی کی جگہ، (۴)

خواب گاہ، سونے کا کمرہ، (۵) پوشیدگی۔

خانہ / سہرا / گاہ : پہلا، مذکر؛ دوسرا، تیسرا، موت،
تنہائی میں بیٹھے کا مقام۔

صَحِيحٌ / صَحِيحٌ : (د) اضافت کے ساتھ (موت)؛ (د) تنہا ہونا
(۲) (د) اصطلاح فقہ) خاوند جو روہ کا ہم بستری کے لیے ایسی

جگہ اکٹھا ہونا جہاں کوئی ادرتہ ہو۔

کرننا : (د) مکان کو غیر سے خالی کرنا، تنہا ہونا، (۲) عورت
کے صحبت کرنا۔

کَزِينٌ / نَشِيْنٌ : (د) تنہائی میں بیٹھنے والا۔

خَلْوٌ : (رع) مذکر؛ ہمیشگی۔

خَلْوٌ : (رع) مذکر؛ سچی دوستی، وفاداری، سچائی، صفائی۔

نَيْبٌ : (د) اضافت کے ساتھ (موت)؛ پاک نیتی، خاص
نیت، سچائی کے ساتھ۔

خَلِيَا سَاسٌ : موت؛ ساس کی بہن۔

مُشْسِرٌ : مذکر؛ خلیا ساس کا شوہر۔

خَلِيْتَا : مذکر؛ تحصیل، لمبا کرتا۔

خَلِيَجٌ : (رع) موت؛ پانی کا وہ حصہ جو تین طرف خشکی سے محیط
ایک طرف سمندر سے ملا ہوا ہو، کھاڑی۔

خَلِيْرٌ مَجْبَانِيٌّ : (عم) مذکر؛ خالا کا بیٹا، خالا کی اولاد۔

خَلِيْفَةٌ : مذکر؛ (د) نایب، کسی کی جگہ اس کی وفات کے بعد مقرر
ہونے والا، قائم مقام، پیغمبر کا نائب (۲) استاد کا نائب،

سب لڑکوں سے زیادہ پڑھا ہوا لڑکا، استاد کا بیٹا،
استاد کی بیٹی (عم) نائی، درزی وغیرہ۔

خَلِيْقٌ : (رع) اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، صاحب خلق، خوش خلق۔
خَلِيْلٌ : (رع) سچا، دوست۔

خَلِيْلُ اللّٰهِ : (رع) مذکر؛ خدا کا دوست، حضرت ابراہیم کا لقب۔
خَلِيْلٌ خَالٌ : (رع) فاختہ ماری؛ (مثل) ادنا کام پر بہت
اترانے والا۔

خَالٌ فَاخْتَةٌ اُرْاَ كَيْ / چلکے : بہت اترانے والے، اب
اترانے کے لیے کچھ برابر ہی نہیں۔

خَلِيْمَةٌ : (رع) مذکر؛ خانہ، (انگ) ریل (CELL)

خ م

خَمٌّ : (د) مذکر؛ (د) ترچھان، گچی، بیچ، قباب، (۲) بازو۔

مُطْوَكُنَا : (د) کشتی کے وقت بازو پر اس طرح ہاتھوں
کو مارنا کہ آواز نکلے، (۲) (کنایتاً) کسی کام میں کسی سے مقابلہ کرنا۔

وَارٌ : (د) ٹیڑھا، ترچھا، گج، بیچ دار۔

وَجِيْمٌ : (د) چم بینی، حم، مذکر؛ ناز، خرام ناز، خرام مشتوق، اترانا۔
جَمِيْدٌ : (د) ٹیڑھا، جھکا ہوا۔

حَمٌّ : (د) مذکر؛ شراب کا مشکا، بڑی ہانڈی۔

خَانَةٌ / كَدَةٌ : (د) مذکر؛ شرب خانہ۔

گَرْدُوْلٌ : مذکر؛ (د) اضافت کے ساتھ (آسمان)۔

خَمَّارٌ : (رع) مذکر؛ نشہ اتارنے کی کیفیت، ہاتھ پاؤں ٹٹے لگانا (۲)
نیند نہ آنے کا اثر جو آنکھوں پر کم سونے یا نہ سونے سے ہوتا ہے۔

خمار آلودہ (د) متوالا، نشتے میں چڑ، مخمور۔
 توڑنا: نشتے کے آثار کی تکلیف رفع کرنا۔

جھامسی: (د) موٹ، پنج حرفی لفظ۔
 زخمیر: (د) موٹ، شراب۔

خمس: (د) (۱) پانچ (۲) پانچواں حصہ (۳) مذکر، (نقص مال)
 غنیمت کا پانچواں حصہ جو غریب اور لاوارثوں کے لیے مقرر کیا جاتے
 خمسہ: (د) (۱) پانچ سے نسبت رکھنے والا، (۲) مذکر، وہ نغمہ جس
 میں پانچ پانچ مصرعوں کا ایک بند ہو، (۳) پانچ منگولم
 رسالوں کا مجموعہ۔

خمول: (د) مذکر، گنام ہونا، گنما۔

خیمارہ: (د) مذکر، (۱) انگڑائی، غلبہ خواب میں ہاتھوں
 کو اوپر اٹھا کر کے بدن تاننا، (۲) مکافات، بدلا، (۳) تکلیف
 پیشانی، افسوس۔

اٹھانا / بھرنانا / مہنگتانا: (د) نقصان اٹھانا، منراٹھانا
 (۲) پاداش جھیلنا، تصور کی سزا بگھلنا، (۳) تکلیف اٹھانا،
 (۴) سحر مندہ ہونا، ذلیل ہونا۔

کھینینا: (د) رخ اٹھانا، پیشمان ہونا۔
 خمیر: مذکر، (د) گندے ہوئے آٹے کو ترش کر کے پھلانا۔
 (۲) سرشت، (۳) مٹی، جسم کی مٹی۔

اٹھنا: خمیر تیار ہونا، جوش میں آنا، خمیری آٹے کا روٹی
 پکانے کے قابل تیار ہونا۔

بگھڑنا: سرشت میں فرق آنا، ترکیب میں تفاوت ہو جانا۔
 کھٹنا ہونا: خمیر بگھڑنا، خمیر کا زیادہ ترشی پر آ جانا۔

خمیرہ: مذکر، خمیر اٹھا کر تیار کیا ہوا، شکر یا مصری میں پکانی ہوئی
 دوا (۲)، ایک قسم کا خوشبودار پینے یا کھانے کا جبا کو۔
 خمیری: موٹ، خمیر والی روٹی۔

خ۔ ن

خنازیر: (د) مذکر، حج خنزیر کی، گلے میں گلیاں اُبھرنے کی
 بیماری، کھنڈہ مالا، (بیماری)

خناس: (د) مذکر، (د) سرکش دیوانہ، شیطان، جیم، مہی، روح،

(۲) وسوسہ ڈالنے والا، بھانکے والا، شرم و سہمی۔
 خناق: (د) مذکر، گلے کی ایک خطرناک بیماری، جس میں حلق کے
 اندر درد بڑھ جاتے ہیں۔

خُنْضُ / خُنْضَا: (د) مذکر، وہ آدمی جو مردانہ اور زنانہ دونوں
 مخصوص طاقتوں کا حامل یا ناقص رکھتا ہو، جھڑا۔

خُخْمِر: (د) مذکر، ایک مشہور ہتھیار، ایک قسم کا گھرا، کٹار۔
 اٹھانا، غمراہت میں لینا، غمراہ کرنا۔

پھیرنا: خُخْمِر چلانا (ذوق کرنے کو)۔
 تیز کرنا: آمادہ قتل ہونا۔

چلنا: گلے پر خُخْمِر کا رواں ہونا (ذوق کرنے کو)۔

کھینینا: میان سے خُخْمِر ہر کرنا (درا کر کے لیے)

خُخْمِر / خُخْمِرِی: موٹ، (د) چھوٹی ڈون، ڈھلی، (۲) گھبلا
 اور مشرورع کی آرائشی بیکری۔

خندراں: (د) ہنستا ہوا، خوش۔

خندرق: (د) جمع خناروق، موٹ، کہانی، گڑھا، کھوہ۔
 خندہ: (د) مذکر، ہنسی۔

خندہ برق: (د) رکتا پتلا، بجلی کا کوہا۔

پیشانی / رو: (د) غیر اصناف، (د) ہنس ٹکھ۔

زیر لبی: (د) اصناف کے ساتھ تبسم، مسکرائنا۔

صبح: (د) اصناف کے ساتھ جمانا، طلوع صبح۔

غنیہ: (د) اصناف کے ساتھ مذکر، کلی کا کھلنا۔

خندی: موٹ، (د) بے حیا، بے غیرت (۲) قبح، فاحشہ۔

خنتر بید: (د) مذکر، جنگلی سورا، سورا۔

خنصر: (د) موٹ، خنصلیہ۔

خنک: (د) سرد، ٹھنڈا۔

خنکی: موٹ، سردی، ٹھنڈ، برودت۔

خنگا: مذکر، موٹا تازہ، ہٹا کتا، قوی، بیکل، ذلیل الاستعمال،

خُنْیَا: (د) مذکر، (د) ساگ، نغمہ سرد (۲) موٹ، بڈونی، میراث۔

گر: گوتیا، مطرب۔

خ۔ و

خو: (د) موٹ، عادت، خصلت، سرشت۔

خواب: موت: حادث، خصلت، رنگ، ڈھنگ۔

— گھر: (دفع) عادی۔

— ڈالنا: بڑی عادت پڑنا۔

خواب: (دفع) (۱) وہ ماجرا یا منظر جو انسان نیند میں دیکھے، رؤیا
سپنار (۲) نیند، سونا (۳) خیال، تصور، وہم، گمان۔

— آلودہ: (دفع) نیند میں بھرا ہوا۔

— پریشانی: (اضافہ کے ساتھ) (دفع) نذر، وحشت ناک
خواب، بے آرامی کی نیند۔

— خرگوش: (اضافہ کے ساتھ) (دفع) نذر، خواب غفلت
تینافل، بے خبری، سستی۔

— شیریں: (اضافہ کے ساتھ) (دفع) راحت کی نیند۔

— خیالی ہونا: وہم ہونا، بے اصل ہونا، مہل منصوبہ ہونا۔

— کی باتیں: (دکھانا) بے اصل باتیں، خیالی باتیں۔

— گاہ: (دفع) موت، سونے کا کرا، خلوت گاہ۔

— میں نہ دیکھتا: کبھی میسر نہ ہونا۔

— وخور تلخ ہونا: تکلیف یا فکر سے کھانا پینا ناگوار ہونا،
نیند نہ آنا۔

— وخیال: نذر، (۱) بے اصل باتیں جو خیال میں گزریں یا

خواب میں نظر آئیں، (۲) دکھانا، امر حال۔

— ہو جانا: محض وہی ہو جانا، خیال سے جا رہنا۔

— خوابین: موت، جمع خاتون کی، شریف عورتیں۔

— خواب گال: (دفع) نذر، جمع خواب گاہ کی۔

خواجه: (دفع) نذر، (۱) سردار آقا، مالک، (۲) توران میں سادات کا
لقب، ہندستان میں وہ شخص جس کی ماں سیلان اور باپ شیخ ہو۔

— تماش: (دفع) نذر، ایک آقا کے نوکر اور غلام، ایک دوسرے
کے خواہ تماش ہوں گے۔

— سرا: (دفع) نذر، (۱) وہ غلام جو نام دہو اور زنانے میں کام
کرتا ہو، بھڑا، نامزد، (۲) محنت۔

— معین الدین کا چاند مہینا: نذر، دعویٰ چھٹا قری مہینا
جمادی الاولیٰ اور دوسری جمادی کا چاند یا مہینا بولتی ہیں،

خوار: (دفع) (۱) آوار، سرگرداں پریشان، (۲) ذلیل، رسوا، بے اعتبار۔

خواری: ذلت، رسوائی، پریشانی، باہمی۔

خوارج: (دفع) نذر، جمع خارجہ اور خارجی کی، مسلمانوں کا

فرقہ جو حضرت علیؑ کا مخالفت ہے۔

خوارق: (دفع) نذر، جمع خارق کی، معجزے، کراماتیں، یون
قدرت کے خلاف کسی امر کا واقع ہونا۔

— خواست گار: (دفع) نذر، امیدوار، طلب گار۔

— خواست گاری: (دفع) موت، (۱) درخواست، خواہش،
تمنا (۲) نسبت کی درخواست، پیغام شادی۔

— خواص: (۱) نذر، عوام کا مقابل، خاص لوگ (۲) خاصیتیں
(۳) موت، ایسوں کی نوڈیاں اور خدمتگار سہلی، کینز، خولہ

دبہ طور مغز (۴) ہم صحبت، جلس، مصاحب۔

— (۵) نذر، اثر، تاثیر، کیفیت۔

— خواصیں: موت، وہ ملازم یا مصاحب عورتیں جو میرزا دیوں
کے ساتھ رہتی ہیں، سہیلیاں، ہم جو یاں۔

— خواصی: موت، (۱) خدمتگاری، ملازمت، (۲) مصاحبت،
ہم نشینی (۳) عمار کی کچھلی بیٹھا۔

— میں بیٹھنا: کسی بادشاہ یا امیر کے پیچھے سواری میں بیٹھنا۔
— خوان: (دفع) نذر، (۱) سینی، کشتی، چنگیز، طباق، تھال، تھت (دھڑکنے والا)

— پوش: (دفع) نذر، خوان ڈھکنے کا کپڑا۔

— چہر: (دفع) نذر، (۱) چھوٹا خوان، تھال، سینی، لکڑی کی کشتی

جس پر نقاشی کی ہو، (۲) مٹی کی کبابی جس میں فرنی جانی جاتی ہے

(۳) خصلت پس ہوئی چیزیں رکھ کر بیچنے کا برتن۔

— چہ اسٹھانا: خواجہ لگانا، تھال میں لگا کر بیچنے پھرنے۔

— گرم / پھنا: (اضافہ کے ساتھ) نذر، عام سنگر۔

— لگا لینا: خوان میں کھانے یا مٹھائی کے حصے رکھ لینا۔

— نعمت: (اضافہ کے ساتھ) نذر، قسم کے کھانوں کا خوان۔

— خواندگی: (دفع) موت، پڑھنا، پڑھائی۔

— خواندہ: (دفع) (۱) پڑھا ہوا، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ (۲)

بلایا ہوا، طلبیدہ۔

— خوانین: نذر، جمع خاتون کی۔

— خواہ: (دفع) یا۔

- خواہ خواہ / خواہ خواہ / ہمیری سے جا پار بیکار، طوما و کرنا۔
خواہی خواہی : خواہ خواہ۔
خواہاں : (د) مذکر؛ چاہنے والا، طالب، خواہش مند۔
خواہر : (د) موث؛ بہن۔
خواہش : (د) مذکر؛ (۱) آرزو، تمنا، ارمان، چاہ (۲) ہرئی
(۳) مطلب، مقصد، مدعا، مراد۔
خواہ : (د) (۱) اچھا عمدہ (۲) خوب صورت (۳) نفیس
(۴) نسیب، پسندیدہ (۵) ہر دل عزیز۔
آؤ بھگت کرنا : (۱) تعلیم تو اضع کرنا، (۲) دکنایتا
بے حد ذلیل کرنا۔
پا پڑ سلنا، بڑی منت کرنا، رنج آٹھانا، بیماری اٹھانا۔
ٹھونگ نہ بچانا، اطمینان کرنا، دیکھ بھال لینا۔
رکھو : (د) (۱) خوب صورت (۲) شکیل (۳) مشوق۔
رکھو موٹنا : دکنایتا، خوب لوٹنا۔
گہری چھٹنا : بے انتہا ربط مضبوط ہونا، گارھی دکھتی ہونا۔
بھٹنا : (د) لفظ کچھ نہ بھٹنا۔
سو بھٹنا : اچھی تدبیر کرنا، اچھی تدبیر سمجھ میں آنا۔
نام پیدا کرنا : (۱) نیک شہرت حاصل کرنا، (۲)
(د) لفظ، خوب بدنام ہونا۔
صورت : (د) حسین۔
صورتی : موث، حسن، جمال۔
کرنا : (۲) اچھی بات کرنا، اچھا کرنا، (د) لفظ، برا کرنا۔
گرد بھاری : دکنایتا، خوب مارا۔
خوبی : (د) موث، بھلائی، لطف، بڑائی، جو بہر۔
خوبانی : (د) موث، زرد آلو، ایک پھل۔
خوبجا : (۱) گجرات کی ایک تاجر قوم، آغا خان کے پیرو، (۲)
مذکر، بھڑا، زنا نہ، زشتا۔
خو خیا نا : (۱) بھینگی دینا، چھینا، (۲) جمانا، خفا ہونا۔
خود : (د) مذکر، لوسے کی ٹوپی۔
خود : (۱) آپ، بہ ذات خود۔
آرائی : (د) موث، اپنے تئیں بنانا، سنوارنا۔
- خود آگہی : (د) موث؛ اپنی پہچان، اپنے آپ کو جاننا خوشنای۔
اعتمادی : موث؛ اپنے آپ پر بھروسہ، اپنی ذات پر اعتماد۔
بہ خود : (د) از خود، آپ ہی آپ۔
بہ دولت : حضور، عالی جناب، آپ، بہ ذات خاص۔
بین : (د) مغرور، خود پسند۔
بینی : (د) موث؛ غرور، تکبر۔
پرست : (د) مغرور، متکبر۔
پسند : (د) اپنی بات کو فوقیت دینے والا، کوش خود بے
تمقیدی : (مذکر-تن-تی-دی) موث؛ اپنے کام کی جانچ
اپنی نایوں اور کردیوں سے آگاہی، خود احتسابی۔
جا ذبیت : (مغرس) موث؛ (۱) اپنی ذات میں کشش
محسوس کرنا، (۲) خود میں کشش محسوس کرنا، (۳) زنجبیت۔
داری : (د) موث، مضبوط، اپنے تئیں حرکات لغوی سے محفوظ
رکھنا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا۔
رائے : (د) اپنی رائے پر چلنے والا، کسی کی نہ ماننے والا،
خود مختار۔
رفتہ / از خود رفتہ : آپ سے باہر بے خود بے خبر۔
رفتگی : موث؛ بے خودی، مدہوشی بے خبری۔
رو : (د) (۱) دخت جو لغیر بونے گل آئے، (۲) بے قاعدہ۔
ستائی : موث، آپ اپنی تعریف اپنے منہ میں چھو بننا۔
سر : (د) مکرش، خود رائے۔
سے : از خود بے بلائے۔
غرض : (د) مطلبی، اپنے مطلب کا آشنا۔
رافضیت دیکر اس رانصیحت : (مقولہ) آپ تو
برا کام کرے اور دوسروں کو منع کرے۔
کاشت : موث؛ وہ زمین جسے مالک خود بونے جوتے۔
کام : (د) خود غرض۔
کردہ را علاجے نیست : (د) (مقولہ) اپنے کیے کا علاج
نہیں، اپنی غلطی کی تلافی مشکل ہے۔
رکشالی : (د) موث؛ خود کو ظاہر کرنا، اپنا تعارف۔
رکشی : (د) موث، اپنے تئیں آپ مار ڈالنا۔

- انجان : (د) اچھی آواز والا، خوش گلو۔
 — آئند آواز : موتھ؛ کانوں کو کھلی معلوم ہونے والی آواز۔
 — انتظامی : موتھ؛ عمدہ بندوبست، خوش آئینی۔
 — اوقات : عزت والا، جس کا وقت اچھا کٹ رہا ہو۔
 — باش : (د) آزاد، بے فکر (۲) وہ شخص جو دوسری جگہ اقامت اختیار کرے۔
 — بؤ : (د) موتھ؛ (۱) اچھی بؤرنے والا، (۲) اچھی بؤ، (۳) خوشبودار شے، عطریات۔
 — بؤنی : (د) موتھ؛ خوشبودار ہونا، (۲) عطریات۔
 — بیان : (د) اچھی بات کرنے والا، شیریں گفتار۔
 — پوشاک / پوش / لباس : عمدہ پوشاک پہننے والا، سفید پوش۔
 — تقریر : (د) شیریں زبان، شیریں کلام۔
 — چشم : کنایتاً، محبوب۔
 — حال : (د) اچھے حال والا، شاداں، مال دار۔
 — خبری : موتھ؛ مزہ، نوید، خبر خوش۔
 — خرام / رفتار : (د) (۱) کنایتاً، محبوب، معشوق، (۲) آہستہ آہستہ چلنے والا، بانگی چال والا۔
 — خرامی : موتھ؛ دل پسند رفتار۔
 — حخط : (د) (۱) جوان، نوخط (۲) عمدہ لکھا ہوا (۳) خوش نویس، عمدہ لکھنے والا۔
 — خلق : صاحب اخلاق، باعزت۔
 — خوراک : (۱) عمدہ اور لطیف کھانا کھانے والا، لذیذ کھانا کھانے والا، (۲) بہت کھانے والا۔
 — خیال : (د) اچھے خیالات کا آدمی، عالی خیال۔
 — دامن : موتھ؛ بیوی کی ماں، ساس۔
 — رفتار : (د) خوش خرام، سبک رفتار، نازک خرام۔
 — رنگ : (د) اچھا اور چمکیلا رنگ، شوخ رنگ۔
 — طالع : (د) نیک بخت۔
 — طبع : اچھے مزاج کا، ظریف، طمٹے باز۔
 — عنال : (د) خوش رفتار گھوڑا، مطیع اور فرماں بردار گھوڑا۔

- خود کوزہ ہو خود کوزہ گر خود گل کوزہ : سب کچھ خود کرتا اور سب کچھ خود ہی خود مختار (۱) آزاد خود رائے خود سر (۲) با اختیار آدمی اختیار۔
 — عجا : (د) مغرور، متکبر، نمائی : بناؤ، سنگار۔
 — خودی : (د) موتھ؛ (۱) خود مختاری، انانیت، خود سری، خود رائی، (۲) خود غرضی (۳) غرور، نخوت، تکبر؛
 — میں نہ رہنا : آپے میں نہ رہنا۔
 — خور : (د) مذکر؛ (۱) آفتاب (۲) ٹھوڑا سا کھانا، قوت لایوت۔
 — وپوش : مذکر؛ کھانا، پہننا، گزرا وقت کا سامان۔
 — آڈ : (د) ایران میں ایک شمس مہینے کا نام جو اسٹھ سے ملتا ہوا ہے، دیکھو، آڈر۔
 — خورد و نوش : (د) مذکر؛ کھانا پینا، دانہ پانی۔
 — خوراک : (د) موتھ؛ (۱) کھانا، غذا، (۲) روزیہ (۳) چارا، جانوروں کی خاص غذا، (۴) جتنا، سفر خرچ، رسد۔
 — خوراک کی : موتھ؛ (د) (۱) روزیہ و طیف (۲) کھانے پینے کی چیز (۳) بہت زیادہ کھانے والا، پیٹو۔
 — خورو : (د) مذکر؛ (۱) طعام (۲) صفت، چھوٹا۔
 — بُرد : موتھ؛ بے جا تصرف۔
 — بُرد کرنا : غبن کرنا، کھا جانا۔
 — خوردنی : (د) موتھ؛ کھانے کی چیز، خوش، کھانا۔
 — خوردہ : (د) مذکر؛ ٹھیکڑا، ریزہ۔
 — کاری : (د) موتھ؛ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، روپیہ بھنانا، فروخت کرنا (۲) اصطلاحاً، چھوٹے چھوٹے کام کرنا۔
 — خورش : (د) موتھ؛ کھانا، طعام، خوراک۔
 — خورشید : (د) مذکر؛ محمد شہید، سورج۔
 — خوش : (د)؛ شاد، خورسند، خترم (۲) چنگا، تندرت، راضی، (۳) تروتازہ، شاداب، سرسبز (۴) مقدور، با مراد (۵) عمدہ، اچھا۔
 — خوشا : بہت خوش۔
 — خوش اسلوب : خوش وضع، خوش طرز، خوش قطع۔
 — اقبال : اقبال مند، خوش نصیب۔

- خوشامد سے آمد ہے، (رشل) چا پلوسی سے نفع ہوتا ہے۔
خوشامدی، تلوتیو کرنے والا، خوشامد کرنے والا۔
خوشہ: (د) مذکر؛ گچھا، اندج کی بالی۔
چھیں: (د) (د)، وہ شخص جو حکمت کٹنے کے بعد گڑے ہوئے
خوشے جن لیتا ہے، (۲) فیض حاصل کرنے والا۔
خوض: (د) مذکر؛ فکر، سوچ۔
خوف: (د) مذکر؛ ڈر، اندیشہ، ہول۔
کھانا: ڈرنا۔
ناک: (د) بیباک، ڈراؤنا۔
خوک: (د) مذکر؛ سُور۔
خوگیر: (د) مذکر؛ زین کے نیچے کا کپڑا، گدیا، گدیا، گدیا۔
کی بھرتی: (۱) خراب چیزیں (۲) بے کار، نیکے آدمی۔
خول: مذکر؛ (۱) چھلکا (۲) اوپر کا غلاف، (۳) میان (۴) کیپ سول۔
دار: وہ چیز جس میں بیج کا حصہ خالی ہو۔
خولجان: (د) موت، ہان کی چڑ، (ایک دوا کا نام)
خول/خول: (د) مذکر؛ (۱) لہو (۲) قتل، خون ریزی،
گشت و خون۔
آلودہ: (د) خون میں بھرا ہوا، لہو لہا۔
آنکھوں میں اترنا: نہایت غضب ناک ہونا، بے مہذبہ آنا۔
اچھلنا: تھل کی شہرت ہونے کا بے تروک ہے)
بار: (د) غنہ، (د) خون برسانے والا۔
بگڑنا: (۱) خون خراب ہونا (۲) کوڑھ یا جذام ہونا۔
بہا: (د) غنہ، (د) خون کا بدلا، خون کی قیمت
(۲) مذکر؛ دیت، فقہ۔ وہ نقدی جو مقتول کے وارث
پر عوض خون لیں۔
بہانا: قتل کرنا، خون ریا کرنا، خون گرانا، خون مکانا۔
پانی ایک کرنا: خون کو پانی کی طرح بہانا۔
پانی ہونا: بے مد تکلیف، پیچھا۔
پینا: (۱) خون چوسنا، لہو نوش کرنا (۲) مارنا، ذبح کرنا،
قتل کرنا (۳) دکنا، شانا، دق کرنا۔
- فعلی: مرنٹ، چہیں۔
قد: (صفت) خوش اندام، خوش قامت۔
قسمت: (صفت) اچھی قسمت والا۔
قسمتی: (۱) تقدیر کی خوبی، (۲) (د) (د) قسم کی گردش
کرنا: (۱) راضی کرنا، مسرور کرنا، (د) تسلی دینا، تسکین دینا۔
گام: (د) خوش رفتار، قدم باز گھوڑا۔
گب: خوش گفتار، چرب زبان۔
گیتیاں: مزاح اور تعزیر کی باتیں۔
گنڈراں: اچھی طرح گزارا وقت کرنے والا، مزے سے زندگی
بسر کرنے والا۔
گفتار/خوش گو: (د) خوش بیان۔
گلو: (د) خوش الحان۔
گوار: (د) خوش ذائقہ، مزے دار، دل بند چیز جو اچھی لگے
منظر: (د) خوب صورت، دیکھنے میں جو بھلا لگے۔
مذاق: (د) اچھے ذوق والا، با مذاق۔
نما: (د) ہوزوں، دلچسپ، خوش منظر، زیبا۔
نوردی: موت، رضا جوئی، خوشی۔
نویس: (د) عمدہ لکھنے والا، (۲) خوش خط، خوش رقم۔
نہاد: (د) نیک طینت۔
نیرت: دیانت دار، متدین۔
وخرم: (د) شاد، شاد ماں۔
وقت: (د) خوش حال، پر مسرت۔
وقت ہونا: ایجادت کرنا، کسی کے عداوت مرنے کے مسرور ہونا۔
وقتی: مویش، خوشی شادمانی، خوشی، آرام، چین، خوش نصیبی۔
خوشی: ہونٹ، (۱) مسرور، انبساط، خلط، شادی۔ (۲) خوش خوش
خوشی/خوشی سے: نہایت اشتیاق کے ساتھ، برسر و چشم
رضامندی سے، مشتاقانہ۔
سے کھلے جانا: اہل شادمانی کے باعث، بے وجہ تبسم ہونا۔
خوشی کرنا/منانا: خوش ہونا، شادی منانا۔
خوشامد: (د) چا پلوسی، تلوتیو، جھولی، تعزیر۔
در آمد: موت، چا پلوسی، خوشامد۔

خون تھوکتا: (۱) کسی صدمے یا مرض سے لہو کی قے کرنا، (۲) کنایتاً بہت صدمہ برداشت کرنا۔

چگرہ: (اضافت کے ساتھ) دف، (۱) کنایتاً غم، غصہ، اندوہ (۲) سخت محنت، کاوش، عرق ریزی۔

چگرہ پینا: (اضافت کے ساتھ) کنایتاً غم و غصہ ضبط کرنا۔

چگر کھانا: (اضافت کے ساتھ) کوئی کام کمال محنت اور جاں کاہی سے کرنا، رنج اٹھانا۔

چاٹنا: (تکوار کے لیے) خون آلودہ ہونا۔

چٹانا: تلوار یا چھری لہو میں بھرنا۔

چھیننا: قتل کا پوشیدہ رہنا۔

چھٹک آنا: زیادہ غصہ یا خوشی سے چہرے پر خون کی سُری چھلکنے لگنا، دھا کے باجوٹ لگنے سے جسم کے کسی حصے کا سُرخ ہوجانا۔

خرا با / خون چخچر: مذکر؛ کشت و خون، خون ریزی۔

خشک ہونا: (کنایتاً) ڈر جانا، سہم جانا، چپ ہوجانا، خوف یا رنج سے ڈبلا ہوجانا۔

خوار: (نون غنہ) دف، مذکر؛ لہو پینے والا، ظالم، ستم گر، جلاذ، غصے میں بھرا ہوا۔

دامن سے نہ چھوٹنا: (کنایتاً) قتل کرنے کا الزام قائم رہنا۔

دل: (اضافت کے ساتھ) دف، خون جگر۔

دل پینا: (اضافت کے ساتھ) اندر ہی اندر غم کھانا، نہایت افسوس کرنا، سچ ذات کھانا۔

دورٹنا: خون کا حرکت کرنا۔

رُلانا: اتہاس زیادہ رُلانا، غن کے آشوروں سے رُلانا۔

رُونا: اتنا رونا کہ آشوروں کی جگہ خون نکلے، حد سے زیادہ رنج و غم کرنا۔

رینر: (نون غنہ) دف، خون بہانے والا۔

رینری: (دف) کشت و خون۔

سر چھنا / سر پر سوار ہونا / سوار ہونا: کسی کے مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہونا، خوبی کا کسی کی زندگی کے پیچھے پڑنا۔

سر پر لینا: قتل کا گناہ اپنے سر لینا۔

سفید ہونا: سنگدل ہوجانا، بے رحم ہوجانا، محبت جاتی رہنا۔

سُوکھ جانا: (۱) جسم میں خون کا خشک ہوجانا، (۲) کنایتاً خوف زدہ ہوجانا، فکر سے پریشان ہوجانا۔

کا پیاسا: مذکر؛ جانی دشمن، تشنہ خون، جان کا خواہاں۔

کا جوش: وہ محبت جو خون کے میل سے عجز یزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔

کا دیر یا بہانا: بہت خون ریزی کرنا۔

کا دورہ: مذکر؛ خون کا چکر، خون کا جسم میں گردش کرنا، دوران خون۔

کا عوض: (۱) خون کا بدلہ۔ (۲) قصاص۔

کا مینہ برسنا: (کنایتاً) بہت خون ریزی ہونا۔

کی بو آنا: دشمنی کی علامت ظاہر ہونا۔

کی جاؤر: خون جو چوڑائی میں پھیل کر نکلے۔

کے گھونٹ پینا: غم اور غصے کو برداشت کرنا۔

کے نالے پینا: (کنایتاً) بہت خون ریزی ہونا۔

گر دن پر سوار ہونا: کسی کے قتل پر آمادہ ہونا، خون کرنے پڑنا۔

گر دن پر ہونا: کسی کے قتل کا گناہ سر پر ہونا۔

گر فتنہ: (نون غنہ) دف، مذکر؛ اجل رسیدہ، قابل قتل۔

لگا کے شہیدوں میں داخل ہونا: (مثل) ارنا عمل سے بڑے درجے کا طالب ہونا۔

لینا: قصہ کھونا۔

مُنہ کو لگ جانا: مزہ پٹ جانا۔

میں سہانا: سر سے پاؤں تک کثرت سے خون نکلنا بے حد خون جسم سے بہنا۔

ناب / خون نابہ: (دف، مذکر؛ (۱) دمجاز، خون کے آشوبانی ملا ہوا خون (۲) لال، سُرخ، خون خالص (۳) وہ خون جو غم یا مشقت میں آشوب ہو کر یا پسینہ بن کر نکلے۔

ناحق: (اضافت کے ساتھ) ناجائز قتل۔

ہلکا ہونا: کسی کا خون نکلنا نہ دیکھ سکتا، خون نکلنا دیکھ کر گھبرا جانا۔

خون تھوکتا: (۱) کسی صدمے یا مرض سے لہو کی قے کرنا، (۲) کنایتاً بہت صدمہ برداشت کرنا۔

چگرہ: (اضافت کے ساتھ) دف، (۱) کنایتاً غم، غصہ، اندوہ (۲) سخت محنت، کاوش، عرق ریزی۔

چگرہ پینا: (اضافت کے ساتھ) کنایتاً غم و غصہ ضبط کرنا۔

چگر کھانا: (اضافت کے ساتھ) کوئی کام کمال محنت اور جاں کاہی سے کرنا، رنج اٹھانا۔

چاٹنا: (تکوار کے لیے) خون آلودہ ہونا۔

چٹانا: تلوار یا چھری لہو میں بھرنا۔

چھیننا: قتل کا پوشیدہ رہنا۔

چھٹک آنا: زیادہ غصہ یا خوشی سے چہرے پر خون کی سُری چھلکنے لگنا، دھا کے باجوٹ لگنے سے جسم کے کسی حصے کا سُرخ ہوجانا۔

خرا با / خون چخچر: مذکر؛ کشت و خون، خون ریزی۔

خشک ہونا: (کنایتاً) ڈر جانا، سہم جانا، چپ ہوجانا، خوف یا رنج سے ڈبلا ہوجانا۔

خوار: (نون غنہ) دف، مذکر؛ لہو پینے والا، ظالم، ستم گر، جلاذ، غصے میں بھرا ہوا۔

دامن سے نہ چھوٹنا: (کنایتاً) قتل کرنے کا الزام قائم رہنا۔

دل: (اضافت کے ساتھ) دف، خون جگر۔

دل پینا: (اضافت کے ساتھ) اندر ہی اندر غم کھانا، نہایت افسوس کرنا، سچ ذات کھانا۔

دورٹنا: خون کا حرکت کرنا۔

رُلانا: اتہاس زیادہ رُلانا، غن کے آشوروں سے رُلانا۔

رُونا: اتنا رونا کہ آشوروں کی جگہ خون نکلے، حد سے زیادہ رنج و غم کرنا۔

رینر: (نون غنہ) دف، خون بہانے والا۔

رینری: (دف) کشت و خون۔

سر چھنا / سر پر سوار ہونا / سوار ہونا: کسی کے مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہونا، خوبی کا کسی کی زندگی کے پیچھے پڑنا۔

سر پر لینا: قتل کا گناہ اپنے سر لینا۔

خونی : دفت، جس نے خون کیا ہو، تاق، سفاک، خون ریز، ہلاک، ظالم۔

خونیں : خون آلود، سُرخ، لال، خون سے نسبت رکھنے والا۔
— جگر : کناجی، عاشق۔

خوبش : دفت، (۱) خود، آپ، (۲) قریب کا، اپنا، رشتے
کا، رشتہ دار (۳) داماد۔

رخ - ۵

خجیہ : دفت، کلمہ حسین۔

خی - ۱

خیاباں : دفت، مذکر؛ راستہ جو باغ کے بیچ میں ہوتا ہے۔
خیار : دفت، مذکر؛ کھیرا، گلگڑی۔

خیارین : دفت، مذکر؛ کھیرا اور گلگڑی (دونوں)۔
خیاط : دفت، مذکر؛ درزی، کپڑے سینے والا (لنگ، ٹیلر۔

خیال / خیال : دفت، مذکر؛ (۱) تصور، وہ صورت جو آدمی
بے اداری میں تصور کرے یا خواب میں دیکھے (۲) فکر،

اندیشہ، دھیان (۳) غور، غور، سمجھ، رائے، تجویز
(۵) منشا، ارادہ، منصوبہ، (۶) توجیہ، انتہات (۷) پاس
محافظہ، (۸) دم، گمان، قیاس (۹) ایک راگ کا نام۔

خیالات : مذکر؛ جمع خیال کی۔

خیال آنا : کچھ یاد آنا۔
— باطل : (۱) اضافت کے ساتھ (دفت) مذکر؛ جھوٹا خیال غلط خیال

— باندھنا : تصور کرنا، منصوبہ باندھنا۔
— بندھنا : تصور بندھنا، کسی بات کا برابر خیال رہنا۔

— بندھی : موٹ، خیال کا سلسلہ، خیالی تصویر۔
— پر چڑھنا : یاد آنا، کسی بات کا یاد رہنا، ذہن نشین

— ہونا : ہر وقت خیال میں رہنا۔
— پڑنا : خیال ہونا، یاد آنا۔

— پکانا : طبع کرنا، توقع رکھنا۔
— خام : (۱) اضافت کے ساتھ (دفت) مذکر؛ بے ہودہ خیال،

بے فائدہ خیال، امید موبہوم۔

خیال سے باہر : کچھ سے دور، تصور سے باہر، دور از خیال۔

— فاسد : (۱) اضافت کے ساتھ (دفت) مذکر؛ بُرا خیال،
فلسفہ برپا کرنے والا خیال، بے ہودہ خیال۔

— کرنا : (۱) سوچنا، (۲) تصور کرنا، قیاس کرنا، دھیان کرنا
منصوبہ باندھنا، (۳) تجویز کرنا، (۴) پروا کرنا، لحاظ کرنا،
رعایت کرنا، توجہ کرنا، (۵) غور کرنا۔

— مٹنا : یاد جاتی رہنا۔
— محال : (۱) اضافت کے ساتھ (دفت) مشبہ جو بیک وجود میں آنا نامکن ہو۔

— میں آنا : کسی امر کا سمجھ میں آنا۔
— میں نہ لانا : لحاظ نہ کرنا، کچھ پروا نہ کرنا، جوف نہ کرنا، وقت کرنا۔

— نہ رکھنا : یاد نہ رکھنا، فراموش کرنا، توجہ نہ کرنا، لحاظ
نہ کرنا، دھیان نہ رکھنا۔

— نہ رہنا : یاد نہ رہنا، دھیان نہ رہنا، بھولنا، فراموش ہونا۔
خیالی : وہی، قیاسی، ظنی۔

— پلاؤ پیکنا : بے جا تصورات، ذہن میں قائم کرنا، ان باتوں
کا جن کی کوئی اصلیت نہ ہو۔

— خیانت : (دفت) موٹ، (۱) دغا، (۲) غبن، امانت میں
چوری، بے ایمانی، بددیانتی چوری۔

— مجھ مانہ : (۱) اضافت کے ساتھ (دفت) موٹ؛ بددیانتی سے
مال کا تصرف کرنا۔

— خیر : (دفت) موٹ، (۱) نیکی، بھلائی، بہتری (۲) برکت (۳) اچھا
معلوم ہونا (۴) (طنزاً) ٹھیک بجا، درست (۵) سلامتی، تندستی، عافیت۔

— خیر الامور اوسطہا : (دفت) مقولہ؛ ہر کام کا اوسط بہتر
ہوتا ہے۔

— خیر اندیش : (دفت) مذکر؛ خیر خواہ، وہ شخص جو کسی کی بھلائی
چاہتا رہے۔

— یاد کھنا : کسی چیز کا چھوڑنا، ترک کرنا، رخصت کرنا، رخصت
ہونا۔

— باشد : خیر تو ہے، سب ٹھیک ہے؛
— برکت : موٹ؛ (دفت) برکت۔

خبیلا : (عو) لغو، بے ہودہ، بھوہڑ، احمق، بے وقوف۔

پائینچا : (عو) مونث، وہ عورت جسے اپنی سُدھ نہ پہنچو، عورت۔

پین / خھیلا پینا : (عو) مذکر، بے وقوف۔

پیلے : (ر) بہت زیادہ۔

خیمہ : مذکر، ڈیرا، تنبو۔

استادہ ہونا : خیمہ کھڑا ہونا۔

خیر خبر : مونث، خیریت۔

خبر لوچینا : (عو) خیر و عافیت دریافت کرنا، حال دریافت کرنا۔

چاہتا : عافیت چاہنا، بھلائی چاہنا۔

خواہ : (ر) مذکر، یہی خواہ۔

سلا : (عو) مونث، خیر و عافیت۔

سے : (ا) خیر و عافیت کے ساتھ (۲) (طنزاً) ماشا اللہ۔

سے گھٹنا / سے گزرنا : سلامتی سے بسر ہونا۔

گزرنا / ہونا : آفت سے بچنا، ناگہانی صدمے محفوظ رہنا۔

مانگنا : (۱) سلامتی چاہنا، امن چاہنا، بھلائی چاہنا، (۲)

توبہ کرنا، خدا سے ڈرنا (۳) فال بد سے پناہ مانگنا۔

مقدم کرنا : کسی کے آنے پر خوشگواہی کا اظہار کرنا، استقبال کرنا۔

منانا : بھلائی چاہنا، عافیت چاہنا، سلامتی چاہنا۔

وعافیت : مونث، خیریت، تندرستی۔

خیرات : (ر) مونث، جمع خیرگی، (۱) نیکیاں، بھلائیاں،

(۲) تصدق، صدقہ۔

خانہ : (ر) مذکر، محتاج خانہ، لنگر خانہ۔

دینا : لسنہ دینا، خدا کی راہ پر دینا، صدقہ دینا۔

خیراتی : (ر) خیرات سے منسوب۔

خیرگی : (ر) مونث، تیرگی، چمکا چوندا، آنکھوں کے آگے

اندھیرا آجانا۔

خیرہ : (ر) (۱) تاریک (۲) بے حیا، بے باک۔

چشم : (ر) شوخ چشم، بے حیا۔

سر : (ر) آوارہ گرد، بے باک، سرکش۔

سری : مونث، آوارگی، بے باکی، سرکشی۔

خیر سگالی : (ر) مونث، خیر خواہی، نیک خواہشات، بھلائی کال۔

خیر و : (ر) مذکر، خطمی، ایک مفرد و اکانام۔

خیریت : (ر) مونث، (۱) نیکی، بھلائی (۲) تندرستی، سلامتی، عافیت۔

خیز : (ر) (۱) آٹھ (۲) کوڑا (۳) فارسی کا ایک لاحقہ جو فارسی لفظوں

کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مزوم خیز، آٹھ خیز وغیرہ۔

خیفغا : (ر) مونث، اصطلاح علم بدیع، شریانظم میں ایک لفظ

منقوطہ اور دوسرا غیر منقوطہ لانا۔

خیس : مذکر، گروہ، قبلہ، خاندان۔

د : مذکر، مونث، حروف تہجی کا ایک حرف، دال، مہملہ، دال

غیر منقوطہ، حساب حمل (۱) احد میں چار عدد۔

د - ا

داب : مونث، (۱) دباؤ، بوجھ، زور، (۲) چھاپنے والی مشین میں

کاغذ کا ایک رخ سے ایک مرتبہ چھینا۔

داب : (ر) مذکر، (۱) طور، طریقہ، ڈھنگ (۲) آداب (۳)

رعب، دبدبہ۔

دبھانا : رعب دبھانا، بے جا حکومت کرنا۔

دبھانا : زبردستی قبضہ کر لینا۔

دبھانا : رعب قائم ہو جانا، سکتہ میٹھ جانا۔

- **وینا** : (۱) دفن کرنا، زمین میں دبا دینا (۲) چھپا دینا، مخفی کر دینا۔
- **رکھنا** : (۱) روپا مال لینا، (۲) کوئی چیز روک رکھنا۔
- **لینا** : (۱) دلچسپی لینا، بھیج لینا، قابو میں لے آنا، (۲) زیر کرنا، مغلوب کرنا، مجبور کرنا، عاجز کرنا، (۳) غصب کر لینا۔
- **دہنا** : (۱) تسمیہ دینا، (۲) مکارنا، دفن کرنا، (۳) بھیجنا۔
- **دوبوہنا** : (۵) رونا۔
- **دانا** : مذکر : (۱) ذیہ، والا، سخی، فیاض، (۲) خدا، (۳) کنائیہ درائش، فقیر، بیکس۔
- **دے** : بھنڈا رکھنا، کاپیٹ پھولے : (رشل) کوئی دے کوئی چلے۔
- **داخل** : (دخ) اندر آنے والا، اندرونی، پہنچنے والا، (۲) گھسا ہوا، شامل، (۳) مانند، رشل۔
- **بخشات ہونا** : کسی کا رخیب میں شرکت کر کے ثواب حاصل کرنا۔
- **خارج** : مذکر : ایک شخص کا نام ملکیت سے خارج ہو کر دوسرے کا نام سرکاری دفتر میں چڑھنا، پہلے شخص کی جگہ دوسرا مالک قرار دیا جانا۔
- **دفتر** : اداقت کے ساتھ شامل رسل، نام منظور، مقدمہ یا درخواست خارج ہونا۔
- **کرنا** : (۱) اندر کرنا، (۲) شامل کرنا، ملانا، (۳) سپرد کرنا، سونپنا، حوالہ کرنا، (۴) نام لکھواتا، (دخ کرنا) (۵) نام لکھنا، رجسٹر پر چڑھانا، (۶) بھرتی کرنا، نوکر رکھنا۔
- **کنندہ** : (دخ) داخل کرنے والا۔
- **داخلہ** : مذکر : (۱) سپردگی، حوالگی، (۲) تحریر بطور رسید، (۳) باریابی، گزار دخیل، (۴) داخل کرنے کی فیس، سپردگی کی اجرت۔
- **داخلی** : مؤنث : (۱) باریابی، کسی مقدس جگہ یا مقبرہ میں داخل ہونے کا دن، (۲) مشمولہ، بلحقہ، شامل، داخل
- **داخلیت** : (دخ) مؤنث : (۱) اندرونیت (۲) ادبی اصطلاحات شخصی تجربات و مشاہدات کا فنی اظہار۔
- **داد** : مذکر : پھینسیوں کے چھتے، جلدی کھجلی کے چھتے۔
- **داد** : (دخ) مؤنث : (۱) انصاف، عدل، (۲) غطا بخشش، (۳) فریاد، نالش (دخ) آفریں، واہ واہ (۵) سزا، پاداش۔
- **داد بے داد** : مؤنث، فریاد۔
- **پانا** : انصاف کو پہنچنا، محبتیں حاصل کرنا۔
- **چاہنا** : (دخ) انصاف کا خواہاں ہونا، (۲) محبتیں چاہنا، تعریف چاہنا۔
- **خواہ** : فریادی، مستغیث۔
- **خواہی** : (دخ) مؤنث : استغاثہ، نالش، فریاد، دعوا
- **درہی** : مؤنث : (دخ) انصاف کرنا۔ فریاد سننا، داد دینا
- **درہی** : فریاد دہی کرنا، کسی کے بہتر یا کمال کی تعریف کرنا۔
- **رَس** : فریاد سننے والا۔
- **سند** : (دخ) مؤنث، لین، دین۔
- **سخن** : (دخ) اداقت کے ساتھ بات یا سخن کی تعریف۔
- **طلب** : (دخ) داد چاہنے والا، بہتر یا کمال کی تعریف کا خواہاں
- **فریاد** : مؤنث، عدل، انصاف، واہ واہ، استغاثہ، نالش۔
- **فریاد کرنا** : غل مچانا، واہ واہ کرنا، ظلم یا بے انصافی سے چلانا، ڈبانی دینا۔
- **کو پہنچنا** : (دخ) فریاد دہی کرنا، (۲) بہتر یا کمال کی تعریف پر خوش ہونا، مبارکباد، واہ واہ ہونا۔
- **گر / داد گتر** : (دخ) منصف، عادل، خدائے تعالیٰ داد دینے والا۔
- **نہ فریاد** : اندھیروں کسی کی داد دہی نہ فریاد دہی۔
- **دادا** : مذکر : (۱) باپ کا باپ، (۲) بھروسہ، استاد، (دخ) داد
- **مریں** : گے جب سبیل نہیں گے، (رشل) : کسی معاملے میں تانخیظا ہر کرنے کے لیے دادا کے مرنے کے بعد جانا
- **کی تقسیم ہوگی**۔
- **دادھیال / ددھیال / ددھیال** : مذکر : مؤنث، دادا کا گھر، دادا کا خاندان۔

دارالرحمن، (دع) مذکر؛ رنج و غم کا گھر، (مراد دنیا)۔
 دارا مکافات / دار مکافات: مذکر؛ (۱) بدل ملنے کی جگہ
 (۲) رکنا تیا، رکنا تیا۔
 دارالیتامی، (دع) مذکر؛ یتیم خانہ، یتیموں کے رہنے کی جگہ۔
 دارین: مذکر؛ دونوں جہاں، دنیا اور عقبہ۔
 دارابی: مؤنث؛ توپ کھینچنے کی رشی،
 دارابی: (دع) مؤنث؛ (۱) حکومت، (۲) خدائی (۳) بادشاہی۔
 دارو: (دع) مؤنث؛ (۱) دوا، درماں، علاج، تدریس و معالجہ،
 (۲) بارود، (۳) شہراب۔
 داروغہ: مذکر؛ (۱) محافظ، نگراں، کووال، پولس انسپکٹر،
 تھانہ دار (۲) ملازموں کا افسر۔
 — توپ خانہ: (دع) مؤنث؛ (۱) اضافت کے ساتھ (دع) مذکر؛ توپ خانہ
 کا افسر، میر آتش۔
 داروغائی: مؤنث؛ محافلت، نگہبانی، انتظام حکومت، افسری،
 سرداری۔
 داروہ / داروہ: مؤنث؛ غذا جانے کے پھلے دانف۔
 داس: مذکر؛ (۱) غلام، چاکر، خادم۔
 داسا: مذکر؛ (۱) کڑیوں یا ستونوں کے نیچے کا پتھر، (۲) خنجر،
 (۳) لکڑی یا پتھر کا لمبا چوڑا ٹکڑا۔
 داستاں: (دع) مؤنث؛ قصہ، کہانی، طویل قصہ، سرگزشت۔
 — گو: (دع) پیشہ ور، قصہ خواں۔
 داستانہ / دستانہ: (دع) مذکر؛ ایک قسم کی ہاتھ کی پوشش۔
 داشت: مؤنث؛ نگرائی، خبر گیری۔
 داشتہ: مؤنث؛ بے نکاحی عورت۔
 داشتہ آئید بکار، اگرچہ باشد سرمار: (مقولہ) معمول سے معمول
 رکھی ہوئی چیز وقت پر کام آہی جاتی ہے۔
 داعی: (دع) (۱) دعا کرنے والا (۲) بلانے والا (لگ) کنوینر۔
 — اجل کو تکبیک کہنا: (۱) مرجانا (۲) موت کا استقبال
 کرنا۔
 داعیہ / داعیہ: مذکر؛ مؤنث؛ (۱) اجارہ نذر و خواہ، (۲) خواہش۔

داد و ستھ: ایک شہرہ فقیر داد و کی پیروی کرنے والے۔
 دادنی: (دع) (۱) وہ چیز جو دینے کے لائق ہو، (۲) کسی چیز کے لیے
 پیشگی روپیہ دینا۔
 دار: مؤنث؛ سولی، جرم کی جان لینے کی طرح کاڑھی ہوئی
 نوک دار کٹڑی، پھانسی۔
 — بست: (دع) مؤنث؛ بیل چرمھانے کا ٹھکانہ۔
 — پر کھینچنا / دار پر رکھنا: سولی چرمھانا، پھانسی دینا۔
 دار چینی: (دع) مؤنث؛ ایک درخت کی خوشبو دار چھال۔
 دار فیلین: (دع) مؤنث؛ جرج۔
 دار و گیر: (دع) مؤنث؛ پکڑ دھکڑ، مواخذہ، پرسش۔
 دار و مدار: (دع) مذکر؛ انحصار، شہرہ آؤ۔
 دار: (دع) مذکر؛ گھر، محلہ، جگہ، مقام۔
 دارالاجرۃ: آخرت، موت کے بعد کی دنیا۔
 دارالاسلام: مذکر؛ (ایک فقہی اصطلاح) جہاں اسلامی
 فرائض پر روک ٹوک نہ ہو۔
 دارالامان / دارالامن: مذکر؛ امن کا گھر، وہ جگہ جہاں
 بڑائی، جھگڑا، فساد نہ ہو۔
 دارالبقار: مذکر؛ ہمیشہ رہنے کا گھر، عالم آخرت۔
 دارالبوار: مذکر؛ رکنا تیا، دفتر، خرابی کا گھر۔
 دارالجزا: مذکر؛ عالم آخرت، عقبہ۔
 دارالخریب: مذکر؛ (ایک فقہی اصطلاح) مسلمانوں کو فرائض
 اسلامی بجالانے سے روکنے اور منع کرنے والا ملک۔
 دارالحکومت / دارالخلافہ / دارالسلطنت: مذکر؛ پایہ تخت۔
 دارالسلام: مذکر؛ سلامتی کا گھر، بہشت۔
 دارالشفا: مذکر؛ اسپتال، شفا خانہ۔
 دارالضرب: مذکر؛ ہمسال، سچے ڈھانے کی جگہ۔
 دارالعلم: مذکر؛ تعلیم گاہ۔
 دارالعمل: مذکر؛ عمل کرنے کی جگہ، دنیا۔
 دارالفنا: مذکر؛ (۱) ہٹ جانے والا گھر، (۲) رکنا تیا، دنیا۔
 دارالقرار: مذکر؛ (۱) راحت کی جگہ (۲) رکنا تیا، بہشت، جنت۔
 دارالقضار: مذکر؛ قاضیوں کی کچھری، اجلاس، عدالت۔

- داغ : (ف) مذکر؛ (ا) دھبہ، نشان (۲) جلنے کا نشان، (۳) رنج، غم، عیب، الزام، کلنک کا ٹیکہ (۵) زخم کا نشان (۶) صدمہ (۷) (کنایتاً) رشک و حسد (۸) پھل کے گل جانے سے پڑنے والا نشان۔
- اُبھرنا : (کنایتاً) صدمہ تازہ ہونا۔
- اُٹھانا : رنج اٹھانا، صدمہ عظیم برداشت کرنا۔
- ریل ڈالنا : (ا) عمارت کی بنیاد کھودنے کے لیے زمین پر نشانات لگانا (۲) کسی کام کی بنیاد ڈالنا، آغاز کرنا۔
- پڑنا : نشان پڑنا، دھبہ پڑنا۔
- تازہ ہونا : سبھلے ہوئے صدمے کا یاد آجانا، زخم تازہ ہونا۔
- چگر : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر، (ا) زخم جگر، زخم دل، (۲) (کنایتاً) اولاد کھرنے کا غم۔
- دل : (اضافت کے ساتھ) کسی غم کا روحانی صدمہ۔
- دینا : (ا) رنج دینا، صدمہ دینا (۲) جلانا، جھلسا دینا، کوئی چیز گرم کر کے اس سے جسم پر نشان ڈال دینا (۳) زخم کو جلانا، نقصان پہنچانا (۴) شکایت کرنا، جھپٹی کھانا۔
- کرنا / داغ دینا : گھی گرم کرنا، کر کر ڈالنا، بھجانا۔
- لگانا : (ا) جلانا۔ (۲) (کنایتاً) عیب لگانا، بدنام کرنا۔
- واغنا : (ا) لوہے، سونے، چاندی کی کوئی چیز آگ میں گرم کر کے بدن پر لگانا (۲) بارود میں آگ دینا، توپ، ہندوق، گولا پھوڑنا (۳) آتش ہانسی چھوڑنا۔
- داغ ہو کر نکلتا : جل کر نمایاں ہونا، پھوٹ کر نکلتا۔
- ہونا : (ا) بھجارا جانا، (۲) (کنایتاً) رنج ہونا، صدمہ ہونا، رشک ہونا، (۳) جل کر زخمی ہونا۔
- داغی : (ا) داغ دار، دھتے دار، جلایا ہوا (۲) معیوب، عیب دار (۳) سزایاب، سزایافتہ، (۴) مجرم۔
- داغ : (ا) داغ کرنے والا، ہٹانے والا، (۲) داغ کرنے والی قوت۔
- دال : (دال) کرنے والا، راہ دکھانے والا۔
- دال : موت : (۱) نلے ہوئے جنے، مونگ، ارد وغیرہ، (۲) کھرنڈ۔
- بندھنا : (ا) کھرنڈ بندھنا، چپک کے آبلوں پر کھرنڈ بندھنا، (۲) انگو ر بندھنا، (۳) آتشی شیشہ کا عکس پڑنا، شعاع کا جمع ہونا۔
- جوٹیوں میں ٹبنا : (ا) دلی ہونا، نا افسانہ ہونا، خانگی جھگڑا ہونا۔
- جھڑنا : بھند کے پتوں کا جھون ہونا۔
- ڈالنا : (ا) غریبوں کا کھانا (۲) باحضرہ روکھی سوکھی۔
- روٹی : موت : (ا) روزی، رزق، فریاد، خوراک۔
- روٹی پیٹ بھر کے کھانا : خوش حال ہونا۔
- روٹی سے خوش / دال روٹی سے آسودہ : کھانا پینا، آسودہ حال۔
- روٹی کر دینا : (کنایتاً) ہر وقت استعمال کر کے بے وقعت کر دینا۔
- فنے، عین ہونا : دفع ہونا۔
- گلنا : (ا) دال کا پک جانا، (۲) کسی جگہ دخل ہونا۔
- موٹ / دال موٹھ : موت : (ا) مسالے ملی ہوئی ایک مزیدار موٹھ کی دال میں نمک مرچ اور دوسرے نملکین کھانے والی چیزیں۔
- میں کالا ہونا / دال میں کچھ کالا ہونا : کچھ نہ کچھ خرابی ہونا، کچھ شہ ہونا، شک ہونا۔
- نہ گلنا : دخل نہ ہونا، رسائی نہ ہونا، کامیابی نہ ہونا۔
- دالان : مذکر؛ بڑا اور بڑا کہ جس میں محراب دار دروازے ہوتے ہیں۔
- در دالان : مذکر؛ ڈھرا دالان، آگے پیچھے دو برابر کے محراب دار دروازے والے کمرے۔
- دام : مذکر؛ (ا) دھڑی، چھدام، کوڑھی (۲) قیمت، سول، نرخ، بھاونہ (۳) نقدی۔
- بھرتا : تاوان دینا۔
- پہٹ جانا : قیمت طے ہونا۔
- چکانا : (ا) نرخ کرنا، بھاد ٹھہرانا، قیمت طے کرنا (۲) قیمت ادا کرنا۔

- دام و دام: کوڑی کوڑی، تہہ تہہ۔
 دینا: قیمت ادا کرنا۔
 کھڑے کرنا: چیزیں بچ کر نقدی کر لینا۔
 لگانا: (۱) قیمت لگانا، (۲) قیمت آنکھنا۔
 دام: جال، پھندا۔
 بجھانا: (۱) جال بجھانا، (۲) دغا کرنا۔
 میں پھینسا: گرفتار ہونا، جال میں پھینسا۔
 دامے درے قدمے سٹخنے: روپے پیسے ہاتھ پاؤں سے یا زبانی امداد، ہر طرح امداد۔
 دام: رع، ہمیشہ رہے۔
 اقبال: اس کا اقبال ہمیشہ رہے۔
 ظلم: (۱) اس کا سایہ عاطفت ہمیشہ برقرار رہے۔
 ہندگوں کے لیے القاب۔
 لطف: (۱) اس کی مہربانی ہمیشہ رہے برابر والے کے القاب۔
 مملکت: (۱) اس کی سلطنت ہمیشہ برقرار رہے بادشاہوں کے القاب۔
 داماد: (۱) مندر، (۲) نسوی معنی نیا دو لہاء، (۳) (اصطلاحی) بیٹی کا شوہر۔
 دامادی: (۱) موت، شادی، گھڑائی۔
 دامال: (۱) مندر، دیکھو دامن۔
 دامن: (۱) مندر، (۲) آنچل، انگر کھے یا قابا کا نیچے ٹکٹنے والا حصہ، (۳) کسی چیز کا کنارہ، ماشیر، (۴) پہاڑ کے نیچے کی زمین (۵) حرف کے دائرے۔
 آنکھ جانا: دکنا یا پھنس جانا، گرفتار ہوجانا۔
 اٹھانا: دامن سیٹنا، آنچل اوستھا کرنا۔
 اٹھنا: (۱) دامن کا کسی چیز میں پھنس جانا (۲) دکنا یا کسی جگہ سے پھنس جانا، پابند ہوجانا۔
 بچانا: دکنا یا بے لوث رہنا، علاحدگی اختیار کرنا۔
 سلامت روی اختیار کرنا۔
 بندی: موت، شادی بیاہ۔
 پروہتا رہنا: کسی کے سرالزام رہنا۔
- دامن کپڑنا: (۱) تقاضا کرنا، مانگنا، رسوا ڈالنا (۲) سہارا لینا، کسی کی پناہ میں آنا۔
 پھیلانا: (۱) گودی پھیلانا، آنچل پھیلانا (۲) دکنا یا کچھ مانگنا، التجا کرنا۔
 پھیلنا: دکنا یا سوال کرنا، کچھ طلب کرنا۔
 تر ہونا: گنہگار ہونا۔
 تلے چھینا / دامن تلے ڈھانکنا: (۱) پناہ میں لینا، اپنی حمایت میں لینا (۲) عیب پوشی کرنا، (۳) پرورش کرنا، پالنا، حفاظت کرنا۔
 تھام لینا: روک لینا، کپڑ لینا، سہارا لینا۔
 تیغ: (۱) اضافت کے ساتھ تلوار کے کنارے کا حصہ۔
 جھاڑنا: (۱) دامن کا گردوغبار جھاڑنا (۲) دکنا یا تعلقات سے آزاد ہونا (۳) خالی ہاتھ ہونا۔
 جھٹکنا: (۱) جھٹکا دے کر دامن جھڑ لینا (۲) الگ ہوجانا (۳) نفرت کرنے، بیزار ہونے کا کنایہ۔
 چھٹنا / دامن چھوٹنا: علاحدگی ہونا۔
 دار: (۱) چوڑا چکلا، بڑا چوڑا زخم۔
 دولت: (۱) اضافت کے ساتھ بادشاہ یا حکومت کا سہارا۔
 سمیٹنا / دامن سمیٹنا: (۱) دامن کو ہاتھ سے ایک کرنا (۲) دکنا یا علاحدگی اختیار کرنا۔
 سے منہ چھینا / دامن سے منہ ڈھانکنا: دکنا یا حجاب کرنا، شرمندہ ہونا۔
 شب: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مندر، رات کا آخری حصہ۔
 کوہ: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مندر، پہاڑ کے نیچے کا حصہ۔
 کی ہوا دینا: دامن کو حرکت دے کر پکھے کا کام لینا۔
 گیر: (۱) دامن کپڑنے والا، مزاحم، حمایت چاہنے والا، مستغیث۔
 محشر / دامن قیامت: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مندر، قیامت کا میدان۔
 مریم: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) دکنا یا عصمت، پاکیزگی۔

توڑنا: دکناٹا (عاجز کرنا، کام کا نہ رکھنا، مخلوب کرنا۔
 تھے تو چنے نہ تھے، چنے ہوئے تو دانٹ نہیں: (مثل)
 بے وقت مراد حاصل ہونا۔
 تیز کرنا: ایذا رسانی کا قصد کرنا، لالچ کرنا، حرص کرنا۔
 دکھانا: (۱) بے حیائی کے ساتھ ہنسنا، جواب بن نہ پڑنے تو
 ہنس دینا، جھینب مٹانا (۲) غصے کا اظہار کرنا۔
 رکھنا: (۱) دکناٹا کسی چیز کا خواہش مند ہونا (۲) بدل لینے
 کو آمادہ رہنا، عوض لینے کا ارادہ رکھنا۔
 سلسلانا: دانٹ میں خفیت کھلی ہو کر دو ہونا۔
 سننے دانٹ سبنا: (۱) دانٹوں کا حرکت میں آنا (۲) جمانا
 شدت کی سردی ہونا، تپ و لرزہ ہونا۔
 سے تر بان کاٹنا: دکناٹا، کہہ کر چھٹانا۔
 کالی ٹروٹی: پتی دوستی، بے حد دوستی۔
 رکشٹانا: کچی کچانا، دکناٹا، بے انتہا خفا ہونا، غصے کی
 حالت میں دانٹ پینا۔
 کرانا: سوتے میں دانٹوں سے آواز نکالنا۔
 گریڈ نے کو تر نکالنا: رہنا، دکناٹا، چوری سے گھر کی
 صفائی ہو جانا، سب سامان پر جھاڑو پھرجانا۔
 کھٹے کرنا: دکناٹا، ہمت توڑنا، عاجز کرنا، زبردست
 شکست دینا۔
 کھلنا: دکناٹا، ہنسی آنا۔
 کھولنا: دکناٹا، بے محنت ہنسی سے دانٹ نکال کر دانٹ لگوانا۔
 لگانا: (۱) ہنسانا، دانٹ کا زخم پھینا، ہمہ جانبہ مھوانا،
 (۲) لالچ کرنا تاکہ لگائے رکھنا۔
 نکال دینا: (۱) شرمندہ ہو کر ہنس دینا، مجزما ہر کرنا،
 طرح سے ہنسا، (۲) اُدھر جانا، دانٹے کھل جانا، پھوٹنے
 نکل آنا۔ (۳) دکناٹا، گھبر جانا، سٹپٹا جانا، (۴) دانٹ
 توڑ دینا۔
 نیکو سنا: غصے یا عاجزی سے دندنے کا دانٹوں کو نکالنا۔
 ہونا: (۱) بہت خواہش ہونا، (۲) گات ہونا، گات لگانا (۳)
 دراوت ہونا، دشمنی ہونا، دہپے تبدیل ہونا۔

دامن مہرنگاں: (اضافت کے ساتھ) مذکر، بلیک کا آخری حصہ۔
 مقصود: (اضافت کے ساتھ) مقصود کا دامن سے استعارہ۔
 میں جھپانا: رکناٹا، پناہ دینا۔
 میں لہو تو گنا: کسی قاتل پر اثبات خون ہونا، خون سے
 دامن کا آلودہ ہونا۔
 دامنی: (رف) موٹھ، (۱) گھوڑے کے پٹھے پر ڈالنے والا
 چوڑا کپڑا، زین پوش، (۲) ایک پاٹ کی باریک چادر
 (۳) اوڑھنی۔
 دان: (۱) مذکر، خیرات، صدقہ، جہیز، بخشش، سخاوت۔
 پن: مذکر، خیر خیرات، صدقہ۔
 دہیز / دان جہیز: مذکر، جہیز۔
 لینا: خیرات لینا۔
 دانی: (۱) مذکر، فیاض، سخی، دینے والا۔
 دال: (رف) طرف در کبات میں (۱) گھر، جگہ، مکان، خانہ،
 جیسے قلم دان، آتش دان وغیرہ (۲) جاننے والا۔
 دانا: (رف) سمجھدار، عقلمند، دانش مند، ہوشیار۔
 بنا: ہوشیار اور عاقل، کارآمد، موزدہ، تجربہ کار۔
 دانائی: (رف) موٹھ، سمجھ عقل، دانش۔
 دانٹ: مذکر: (۱) دندان، دندانے (۲) کھانے کی چیزیں
 چبانے کے لیے سونڑوں کی جڑوں میں لگے ہوئے سخت
 دندانے، (۳) دکناٹا، کسی چیز کی طرف رغبت اور میلان۔
 ہٹھا دینا: دکناٹا، عاجز کر دینا، پست کر دینا۔
 بچنا: (۱) دانٹ کر ڈکھانا، (۲) جمانا، ہمت سردی ہونا۔
 تبرا ق ہونا: بہت صاف اور سفید ہونا۔
 بنوانا: مصنوعی دانٹ لگوانا۔
 بھینچنا: (۱) دانٹ دانا، (۲) جمانا، غصے میں آنا۔
 بیٹھنا / روانٹ بیٹھ جانا، دانٹوں کا بکڑ جانا۔
 پھینا: دکناٹا، خفا، غصہ ہونا، جملہ نا، کسی کو ازیت لینے
 کا ارادہ کرنا، غصہ دکھانا۔
 تلے آنکلی دانا: افسوس کرنا، تپ کرنا، حیرت میں ہونا۔
 تلے ہوٹ دانا: دکناٹا، غصہ ہونا۔

دانتوں اٹھانا؛ دانتوں سے پکڑ کر لے لینا، نہایت قدر کے ساتھ اٹھانا۔
 — اُنگلی کاٹنا؛ انہوس کرنا، تاشٹ کرنا، متعجب ہونا۔
 — پسینا آنا؛ مشکل کام سے عاجز آنا، پس بول جانا بہت تھک جانا۔
 — سے زمین پکڑنا؛ مضبوط گرفت کرنا، نہایت مضبوطی سے پکڑنا، جگہ سے جنبش نہ کرنا۔
 — سے کوٹری اٹھانے والا؛ دکنا، بڑا کھوس۔
 — کا چوکا؛ اگلے چار دانتوں کی لڑی۔
 — کے نیلے اُنگلی دینا؛ حیران ہونا۔
 — میں اُنگلی دینا / دانتوں میں اُنگلی دبانا؛ (۱) حیرت یا انہوس ظاہر کرنا، (۲) حیرت کا اظہار کرنا، (۳) کسی سے باز رکھنا۔
 — میں تنکا لینا؛ دکنا، تاشٹ کرنا، جان کی پناہ چاہنا۔
 — امان چاہنا۔
 — میں زبان کی طرح ہونا؛ دشمنوں میں رہ کر سلامت رہنا، دشمنوں کے بیچ گھرا ہونا۔
 — دانتا؛ مذکر؛ دندانہ، خار، رنگھی یا آسے یا پتہ کا۔
 — کلکلی، موٹھ؛ (۱) جھگڑے فساد کی باتیں، (۲) خانہ جنگی، (۳) جھگڑا، کھرا۔
 — دانتے پڑ جانا؛ ڈانے پڑ جانا، دھاڑ گر جانا۔
 — دانتی؛ موٹھ، تیشی، دانتوں کا چوکلا، (۲) درانتی، گھاس کاٹنے کا آلہ، ہنسیا۔
 — دانتی لگنا؛ جیڑا بند ہونا، دانت بیخ جانا، بے ہوش ہو جانا۔
 — داند؛ (۱) شریر لڑکوں کی کوڑھیاند، (۲) مطلق ظلم، رعایا اور غریبوں پر سپاھیوں کا ظلم۔
 — داند / ڈانڈا؛ ملک کی سرحد، زمین کی حد۔
 — دانست؛ (د) موٹھ، سمجھ، رائے، واقفیت، شناخت۔
 — دانستہ؛ (د) جان بوجھ کر بوجھ بوجھ کر۔
 — دانتش؛ (د) موٹھ، عقل، دانائی، سمجھ بوجھ۔
 — مند؛ (د) عقلمند، ہوشیار۔
 — مندی؛ (د) موٹھ؛ دانائی، عقلمندی۔
 — وڑ؛ دانش مند، صاحبِ ظلم و فراست، پروفیسر۔

دانتش وری؛ موٹھ؛ عقل مندی، دانائی، حکمت۔
 — دانگ؛ (د) مذکر؛ (۱) چھرتی کا لڑک، (۲) سمت، جانب، (۳) کسی چیز کا چھٹا حصہ؛ (۴) ٹکڑا، حصہ۔
 — دانندہ؛ (د) جاننے والا، ماہر۔
 — دانتو؛ مذکر؛ (۱) کسی کھیل کی چال، (۲) چال بازی، فریب، (۳) جانوروں کے لیے درختوں کے پتے اور شاخیں کاٹنے کا آلہ، (۴) فوت، باری چلانا۔
 — دانوری؛ موٹھ؛ غلہ اُٹتے وقت بیل باندھنے کی رستی۔
 — دانہ؛ (د) مذکر؛ (۱) اناج، غلہ، (۲) بیج، تخم، (۳) انگور وغیرہ کا پھل، (۴) چھوٹی مچھلی، (۵) پھوٹے اور گول کنکر۔
 — بدلتا؛ ہر دوں کا آپس میں ایک دوسرے کو اپنے منہ کا دانا کھلاتا۔
 — بھرانا؛ ہر دوں کا اپنے بچوں کے منہ میں دانہ دینا۔
 — پانی؛ مذکر، رزق، آب و دانہ، آب و خورش (۲) (ذمجازا) قسمت، نصیب۔
 — پانی اٹھنا؛ رزق کا ختم ہونا، مرجانا۔
 — پانی حرام ہونا؛ کھانا پینا، بالکل موقوف ہونا۔
 — ڈنکا؛ مذکر؛ بگرے پڑے دانے، ایک آدھ دانہ۔
 — ڈالتا؛ (۱) ہر مندوں کے لیے دانہ ڈالتا، (۲) دکنا، تاشٹ کرنا، دھوکا بازی کرنا، فریب دینا۔
 — نہ گھاس کھریا تین تین بار؛ (د) مثل، نمائشی خاطر داری کرنا۔
 — نہ گھاس گھوڑے تیری آس؛ (د) مثل، دینا دلانا کچھ نہیں مفت میں کام لینا۔
 — دانوں میں پھل جانا؛ چھتیاں کثرت سے بھل جانا۔
 — دانے پر لگانا؛ (۱) اجنبی کو ترو کر دانہ دکھا کر رام کرنا، (۲) دکنا، تاشٹ کرنا، دھوکا بازی کرنا۔
 — دار؛ (د) گول گول تڑے پڑی ہوئی چیز۔
 — دانے پر پھر ہوتی ہے؛ (د) مثل، جو رزق جس کے مقدر کا ہوا ہی کو ملتا ہے۔

دانے دانے کو محتاج ہونا، بالکل منفس ہونا۔

— کا اڑ کر پہنچنا؛ قسمت کا رزق کسی نہ کسی طرح مل کر رہنا

—

— کے ساتھ گھن بھی پس جانا؛ ریش، اصل کے ساتھ

اوروں کو بھی نقصان پہنچ جانا۔

دانیال؛ مذکر؛ ایک شہور پیغمبر کا نام، (۲) رزق۔

داور؛ (ن) منصف، حاکم، عادل، خدا۔

— محشر؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ قیامت کے دن انصاف

کرنے والا، یعنی خدا تعالیٰ۔

داوری؛ (ن) موت، حکومت، انصاف، منصفی۔

داہنا؛ مذکر؛ سیدھا۔

داہنی آنکھ پھل کر کنا؛ (ع) شگون نیک۔

داثر؛ (ع) (۱) پھرنے والا، دورہ کرنے والا (۲) (قانون)

زیر تجویز، درپیش۔

داثر سائر؛ (ج) جاری، شہور، با اثر، نافذ، ذخیل۔

داثر؛ (ع) مذکر؛ (۱) چکر، حلقہ، دور محیط (۲) مجلس (۳)

اقلیدس کی ایک اصطلاح (۴) خانقاہ، ڈیرا، ٹولہ،

محلہ (۵) ایک باجے کا نام، چنگ، (۶) حرفوں کی

گولائی۔

دائم؛ (ع) ہمیشہ، سدا۔

— انجس؛ عمر سہر کا قیدی، زندگی بھر کی قید۔

— المرض / روائم المرضی؛ جنم روگی، سدا کا بیمار۔

دائمًا؛ ہمیشہ، ہر وقت۔

دائمی؛ ہمیشہ کا دوامی۔

داؤد؛ (ع) حضرت داؤد، ایک خوش الحان پیغمبر کا نام۔

داؤدی؛ مذکر؛ ایک پھول محل داؤدی۔

داؤل؛ مذکر؛ (۱) ہنسیا، ایک قوس نما پتھر (۲) باری؛

نوبت، (۳) گھات، موقع، قابو، بس، (۴) محل حیلہ

دھوکا، (۵) کشتی کا پتھر (۶) پانف۔

— پر رکھنا / داؤل پر لگانا؛ بازی پر لگانا،

شرط پر رکھنا۔

داؤل بیج؛ مذکر؛ (۱) مکرو فریب، چال (۲) کشتی یا

بازاری کے ڈھنگ، کشتی کے بند

— چلنا؛ فریبی کارروائی کرنا، کشتی کا بیج کرنا۔

— دینا / داؤل کرنا؛ (۱) دم دینا، فریب دینا، دھوکا دینا

تھکنا (۲) موقع دینا۔

— گھات؛ موت، ہتاک، گھات، پھج، خفیہ تدبیر۔

— لگانا؛ (۱) گھات لگانا، موقع دیکھنا، تباہو پانا (۲) بازی

لگانا، شرط بنانا، شرط لگانا۔

— میں آنا؛ داؤل میں چھس جانا، فریب سے قابو میں آنا۔

— دوائی؛ (موت) (۱) دیر، جنازے کا پیشہ کھنڈے والی (۲) آنا، دورہ

پلانے والی۔

— جنائی؛ موت، قابو، دایہ۔

— سے پیٹ چھپانا؛ راز داروں سے عیب چھپانا۔

— کھلانی؛ موت، ہتھے پھول کو کھلانے، بہلانے والی، دایہ۔

— کے آگے پیٹ کا پروا / دوائی کے آگے پیٹ میں چھپنا؛

(رشل) راز داروں سے راز یا عیب نہیں چھپتا۔

— دائیس؛ داہنی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف، راست۔

— بائیس؛ ادھر ادھر، چپ در راست۔

— دایاں؛ (کا) داہنا۔

— دایہ؛ (ن) موت، دوائی، آنا، کھلانے والی۔

— گیری؛ (ن) موت، دوائی کا پیشہ، دایہ کا کام۔

د-ب

دب؛ (ع) مذکر؛ ریچھ۔

— اصغر؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) چھوٹا ریچھ (۲)

(علم نجوم) قطب تارے کے قریب چند ستاروں کا مجموعہ

جنہیں باہم ملانے سے چھوٹے ریچھ کی شکل بن جاتی ہے۔

— اکبر؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) بڑا ریچھ (۲) قطب

تارے کی سیدھ پروانچ ہونے والے سات ستارے

جنہیں ایک ساتھ ملانے سے بڑے ریچھ کی شکل بن جاتی ہے۔

— دبا بیٹھا؛ (۱) تھک کر لینا، زبردستی مال مار لینا (۲) دبوچ لینا۔

- دُبا جانا، مغلوب ہوا جانا۔
 ڈالنا؛ (۱) پھیل ڈالنا (۲) کسی بات کو چھپا دینا۔
 رہنا؛ کسی چیز کی آڑ میں چھپا رہنا۔
 کر؛ جبر سے، حکومت سے۔
 لینا؛ (۱) مغلوب کر لینا (۲) مال مار لینا، (۳) دہ لوغ لینا۔
 ہوا بٹیا پورا تولے؛ (مثل) جب آدمی پر دباؤ پڑتا ہے تو حق ادا کرتا ہے۔
 دبا زت؛ موت؛ موٹائی۔ دن دار ہونا۔
 دباغ؛ مذکر؛ چھڑا رنگے والا، چھڑا پکانے والا۔
 دباغت؛ موت؛ چھڑے کا پکانا، درست کرنا، پاک کرنا۔
 دبا لگانا؛ (۱) درخت کی شاخ کی قلم لگانا، (۲) گھات، لیکن (۳) غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا۔
 دبانہ؛ (۱) کھاڑنا، دفن کرنا، زمین دوز کرنا (۲) بیج بونا، بیج زمین کے اندر رہنا (۳) زبردستی قبضہ کرنا، پرایا حق مارنا (۴) بھیجنے، دبوچنا، (۵) عاجز کرنا، تنگ کرنا، مغلوب کرنا، زیر کرنا (۶) زور ڈالنا، دباؤ ڈالنا۔
 (۷) چھپ کرنا، (۸) ٹھونسنا (۹) چھپانا (۱۰) کمی کرنا۔
 دباؤ؛ مذکر؛ (۱) بوجھ و غلبہ، زور (۲) خوف، دہشت، (۳) سختی، جبر، (۴) رعب و اب (۵) زور، حکومت (۶) لحاظ، خیال۔
 پڑنا / دباؤ ڈالنا؛ مذکر؛ (۱) بوجھ پڑنا، زور ڈالنا، (۲) خوف ہونا، دہشت ہونا، (۳) جبر کرنا، سختی کرنا، (۴) رعب و اب پڑنا، (۵) زور ڈالنا، (۶) لحاظ و خیال کرنا۔
 ماننا، خوف ماننا، ڈر ماننا۔
 دباؤ؛ آلا لڑکا مقابل۔
 دُبا جانا؛ (۱) مغلوب ہونا (۲) کسی چیز کے نیچے آجانا، کسی کے رعب میں آجانا۔
 دُبدبہ؛ مذکر؛ کتر فخر، رعب و اب، شائق و شوکت۔
 دُبدبہا؛ (۱) موٹ، بگمان، شک، پس و پیش، تذبذب، شبہ۔

- دُستاں؛ (ف) مذکر؛ (۱) مکتب، مدرسہ، (۲) کتب خیال، اسکول۔
 دُبکانا؛ چھپانا، کپڑے میں چھپانا۔
 دُبکانی؛ موٹ؛ تارکشوں کی اُمرت تار دیکھنے کا کام۔
 دُبک میٹھنا؛ چھپ میٹھنا، روپوش ہونا۔
 دُبک جانا؛ ڈر کر چھپ جانا۔
 رہنا؛ سکڑ کے چھپ جانا۔
 دُبکنا؛ (۱) چھپنا، پوشیدہ ہونا، (۲) ڈر کر چھپنا۔ (۳) پانہمی سونے کے تاروں کی کوٹ کے چوڑا کرنا۔
 دُبکی لگانا؛ چھپنا، غائب ہونا، گھات لگانا، گھات میں بیٹھنا۔
 دُبکیا؛ مذکر؛ تار دیکھنے والا۔
 دُبلہ؛ پتلا، کمزور، کم گوشت۔
 پار / دُبلان؛ مذکر؛ لاغری، کمزوری۔
 پختلا؛ مذکر؛ چھریا، ہلکے بدن کا، ہلکا پھلکا۔
 دُبلے کو مارا میں شاہِ ممدار؛ (مثل) زبردستی زبردستی ہی کو ستاتا ہے۔
 دُبنا؛ (۱) بوجھ کے نیچے آنا، (۲) دفن ہونا، (۳) چھپنا، پوشیدہ ہونا (۴) زیر ہونا، مغلوب ہونا، رعب یا خوف کھانا (۵) سکڑنا، سمیٹنا (۶) ہٹنا، بچنا۔
 راستہ دینا، (۷) رکنا، (۸) مجزوا نکسار کرنا، لحاظ کرنا، (۹) پینا، بچھنا، (۱۰) شرمانا (۱۱) چھپے آنا، اندر آنا، (۱۲) فرو ہونا، ابھرنے نہ پانا، رفع ہونا۔
 دُلی آگ کریدنا؛ دکنائیا، پڑنے سے فساد کو تازہ کرنا۔
 دُلی جی چھ ہوں سے کان کٹواتی ہے؛ (مثل) دینے پر زبردستی اپنے زبردستی کا حکم بجالاتا ہے۔
 دُلی چھوٹیں ابھرنا؛ پڑنے سے فتنوں کا تازہ ہونا، پرانے دکھ تازہ ہونا۔
 دُبے پاؤ؛ (۱) آہستہ آہستہ، آہٹ کے بغیر (۲) چوری سے۔
 دُبے پر چھوٹی بھی کاستی ہے؛ (مثل) تنگ آکر کمزور بھی حملہ کر بیٹھتا ہے۔

(۲) زمین اور پہاڑ سے اُٹنے والے نخلات زمین کے آتشیں نخلات۔

دُخانی: بھاپ یا دھوئیں کے زور سے چلنے والی چیز۔

جہاز: (ن) مذکر؛ بھاپ سے چلنے والا جہاز۔

دُخت / دُختر: موٹف؛ بیٹی، لڑکی۔

دُختر انگور / دُخت زرد / دُختر زرد (ن) موٹف؛

دُخت عنب / دُخت تاک (دکنائیا) انگوری

شراب، شراب سُرخ۔

دُخل: مذکر؛ (۱) رسائی (۲) قبضہ (۳) امکان (۴) بحال،

(۵) دست اندازی، مزاحمت (۶) مہارت، شدُبد

واقفیت۔

پانا: گذر ہونا، رسائی ہونا، باریاب ہونا۔

دُر معقولات: مذکر کسی معاملے میں خواہ مخواہ دُخل دینا

ٹھیک بات میں مداخلت کرنا بیچ میں بولنا۔

دُربانی: قانون، قبضہ دلانا، قابض کرنا۔

دُربانا: (۱) بیچ میں پڑنا، بیچ میں بولنا، دست اندازی کرنا،

سڈرا ہونا (۲) قبضہ دینا۔

دُربانی: (ن) موٹف؛ (۱) باریابی، گزر، رسائی (۲)

قبضہ، تصرف۔

دُرخول: (ج) مذکر؛ گھسنا، اندر جانا۔

دُرخیل: مذکر؛ (۱) دُخل دینے والا، باریاب، (۲) قابض،

متصرف، (۳) عروض کی ایک اصطلاح۔

کار: کار و بار میں دُخل دینے والا، سربراہ کار، مصاحب

شریک ریلے۔

د - د

دُردا: کھلائی، بچوں کو پالنے اور رکھنے والی ملازمہ۔

دُردوڑا: مذکر؛ جسم کی جلد پر کسی وجہ سے ابھرنے والے چھوٹے دانے

دُردیا خسرا / دُردیا خسرا / دُردیا خسرا؛ مذکر؛ بیوی کا

دادا، شوہر کا دادا۔

دُردیا ساس: بیوی کی دادی۔

دُردھار: موٹف؛ دودھ دینے والی، گائے، بھینس، بھری۔

دُردھیال: دادھیال، دادا کے گھرانے والے۔

دُربانی باتیں: گزری ہوئی بات، بھولی بسری بات۔

دُربے دبائے جھگڑے: پُراے جھگڑے، رُفخ دُخ جھگڑے۔

دُربی زبان سے کچھ کہنا / دُبی آواز سے کچھ کہنا؛ (دکنائیا) ڈرتے

ڈرتے کچھ کہنا، لحاظ سے صاف صاف نہ کہنا۔

دُربے مروے اکھاڑنا؛ پُراے قے یا پُراے گلے شکوے دہرانا،

گڑے مروے اکھاڑنا۔

دُربنگ / دُربنگا جھنڈا؛ (۱) سنڈا، پٹا کٹا، (۲) چُست چالاک،

قوی، توند، صحت دل آدمی، زبردست۔

دُربوچنا: بھینچنا، کسی کو ایسا قابو میں کرنا کہ چھوٹ نہ سکے۔

دُربیر: مذکر؛ (۱) کاتب، منشی، انشا پرداز، مضمون نگار،

محاسب (۲) ایک شہور مرثیہ گو شاعر کا تخلص۔

دُربیر فلک؛ (اضافت کے ساتھ) (ن) مذکر؛ (دکنائیا)

عطارد، ستیارہ۔

دُربیز: (ن) موٹا، گاڑھا، سنگین، دُل ڈار۔

دُربیل: لوگوں سے دُبنے والا، زیر دست، مغلوب۔

د - ت

دُرت: موٹف؛ سکہ، حقارت (۱) کہنے کو بھگانے کی آواز (۲)

دور ہوا لگ ہو۔

کار: موٹف؛ لعنت، ملامت، جھڑکی۔

کارنا: (۱) کہنے کو بھگانا (۲) دکنائیا جھڑکنا، حقارت

سے بھگانا دینا، لعنت، ملامت کرنا۔

دُرتون: (س) سُٹو اک۔

د - ج

دُرجال: (ج) مذکر؛ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق قیامت

سے کچھ پہلے ایک کانا شخص جو ناسیح بن کر خدا ہونے کا

دعوٰی کرتے گا۔

دُرجنار / دُرجننا؛ (ج) موٹف؛ تحفہ، نذرانہ، انعام۔

د - خ

دُرخان / دُرخان: (ج) مذکر؛ (۱) دھواں، بھلپ، بخار

درخواست : موتھ، عرض، سوال، آرزو، تمنا، تہا، غزارش۔

خور : (۱) لائق، سزاوار، قابل (۲) دخل، رسائی۔

در : در بدر۔

در ٹھو کر میں کھلوانا : مارا مارا بھڑانا۔

دولت : (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) منکر، معزز شخص کا مکان، بادشاہ یا رئیس کا مکان۔

عمل کو شہرہ چھ خواہی پوش : (۱) اعمال اچھے چاہئیں، لباس کیسا ہی ہو۔

کار : ضروری، مطلوب۔

کار خیر حاجت، مسیح استخارہ نیست : (۱) (۲) (۳) نیک کام میں دیر نہ کرنی چاہیے۔

کنار : ایک طرف، علاوہ، علاحدہ۔

گزر : موتھ، معافی چشم پوشی، معافی دینا۔

گزرے : چھوڑ دیا، ترک کیا، باز آئے۔

گزر کرنا : طرح دینا، کسی فعل کے ارتکاب سے باز آنا۔

ماہرہ : منکر، ماہانہ، تنخواہ، مشاہرہ۔

میان : (۱) منکر، بیچ، وسط، اندر، ماہرہ۔

میان دینا : بیچ میں ڈالنا، ضامن دینا۔

میان لانا : شامل کرنا، پیش کرنا۔

میانی : بیچ کا، متوسط، اندرونی۔

و در یوار سے باتیں کرنا : دیوانہ کی طرح آپ ہی آپ بکنا۔

در یافت : (۱) موتھ، پہچان، جانچ، تحقیق، ٹوہ۔ تفتیش۔

دور : منکر، موتھ، جواہر (۲) کان میں پہننے کا زیور۔

افشال : (۱) موتھ، بجھرنے والا، (۲) کھٹانا، خوش بیان۔

بار : موتھ برسانے والا۔

خوش آب : (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) منکر، (۳) نہایت

آہار، موتھ (۲) کھٹانا، عمدہ شعر، عمدہ مضمون۔

شہوار : (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) منکر، بادشاہ

دوہیل / دوہیلان : دوہ دینے والے جانور، دوہ مارو۔
گائے کی دو لاتیں بھی کھلی : (۱) رشل، جس سے نفع پہنچتا ہو اس کی حقیقی بھی ناگوار نہیں ہوتی۔

د - ر

دُر : منکر، (۱) نرخ، قیمت، بھاؤ، (۲) موتھ، قدر، منزلت۔

دُر (۱) منکر، (۲) دروازہ، دلہیز، (۳) رنگ، (۴) مین۔

آمد : موتھ، اندر آنا، باہر سے ملک میں آنے والا مال۔

آمد برآمد : موتھ، آمد و رفت، آنا جانا، اندر آنے اور باہر جانے والا مال، (تجارتی اصطلاح) دیکھو

اپورٹ، ایکپورٹ۔

آنا : (۱) کسی چیز میں کسی چیز کا دخل ہونا، (۲) کسی کے گھر میں زبردستی گھس آنا، (۳) کسی معاملے میں پڑنا۔

انداز : (۱) منکر، دو آدمیوں میں لڑائی کر دینے والا، لگائی بھائی کرنے والا، بدگو۔

باب / دربارہ : (۱) بابت، نسبت، سبب، معاملہ۔

بان : (۱) منکر، چوکیدار۔

بدر : (۱) مارے مارے پھرنا، آوارہ، سرگشتہ۔

بست / در و بست : (۱) بالکل تمام، (۲) انتظام،

بندی : (۱) موتھ، کارکنوں کے مطالبات تسلیم کرنے کی خاطر کارخانہ یا دفتر بند کر دینا، (۲) بندی،

(انگ) لاک آؤٹ۔

پر پڑنا : دکھانا، بے کسی کی حالت میں کسی کی پناہ لینا۔

پڑوہ : (۱) فائبانہ، پیٹھ پیچھے، (۲) خفیہ، پوشیدہ اشارے، کھانا ہے۔

لے : پیچھے، گھات میں، خواہاں۔

کتے ہونا : بیچا کرنا، سزا گانے کی گھات میں ہونا، سزا۔

پیش : (۱) موجود، آگے، سامنے، اندر۔

پیش ہونا : سامنے ہونا، پیش ہونا۔

دربارہ (د) مذکر؛ (۱) آستانہ، باگاہ، (۲) امیروں بادشاہوں کی مجلس، (۳) شاہی عدالت، کچہری۔
 باجمہنا؛ (دہلی) رشوت دے کر کام نکالنا۔

خاص؛ (اضافت کے ساتھ) بادشاہ کا دربار، وزیروں کا دربار، وہ دربار جس میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو۔

داری؛ مونت، حاضر باشی، کسی کے یہاں خوشامد کے لیے حاضر ہونا۔

عام؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ حاکم، بادشاہ کا کھلے دربار میں امیروں، اُمراء کا سلام لینا، عدالت کرنا، اجلاس کرنا، مصاحبت کرنا۔

گناہ (۱) جلازموں اور مجبوائی لوگوں کا مجلس میں اکٹھا ہونا، (۲) جمع ہونا، بیٹھ لگانا۔

معمور ہونا؛ مجلس اُمراء و سلاطین کا حاضرین سے بھر جانا۔

درباری؛ (د) (۱) دربار سے منسوب، دربار سے نسبت رکھنے والا، (۲) وہ لوگ جن کو دربار میں جگہ ملے، (۳) ندیم، مصاحب، ہم نشین، خواص۔

دربارہ پکار؛ (د) مذکر؛ بدسلوکی، بد معاملگی، بد عنوانی۔

دربارہ (۵) مذکر؛ آئینہ۔

دربارہ (۶) مونت، شیشہ، چوڑا آئینہ۔

دربارہ کرنا؛ کھنا، رجبڑ میں چڑھانا، فہرست میں داخل کرنا۔

دربارہ؛ مندوقہ، ڈبا، زبور یا حواہر رکھنے کا ڈبا۔

دربارہ (۷) مذکر؛ بارہ کا مجموعہ، بارہ، ایک جنس کی بارہ چیزیں۔

دربارہوں؛ جمع کثیر تعداد۔

درجہ؛ مذکر؛ (۱) مرتبہ، (۲) ایک اصطلاح علم ہیئت

و نجوم کی (۳) سیرچی کا پاندان (۴) عمدہ، منصب،

(۵) منزل، بہشت کی منزل (۶) کرہ، کوٹھری (۷) منٹ

شانہ، وقتیہ، (۸) جماعت، کلاس (۹) زمرہ (۱۰) گت،

حالت، کیفیت، (۱۱) عزت، وقار۔

کے قابل موتی، بہت بڑا موتی۔

دربارہ سفتہ؛ (د) مذکر؛ (۱) بنیر سورج کا موتی (۲) (بجازا) کنواری عورت۔

نایاب؛ (اضافت کے ساتھ) (۱) بے مثال موتی (۲) دکھائیٹا) فسرزد۔

نجف؛ (د) (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) ایک قسم جس میں بال نظر آتے ہیں، (۲) دکھائیٹا) شہریت، پنجیب۔

پتھم؛ (د) (۱) وائے، (د) (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ بڑا آب دار موتی، جیش بہا موتی۔

درا؛ (د) مذکر؛ بجز، گھنٹہ۔

درازا / دراز؛ مونت، درز، شکاف، رشتہ۔

درازا؛ (د) (۱) مونت، میز یا الماری کا باہر کھینچا جا سکنے والا خانہ۔

درازا؛ (د) لانا، طویل۔

دستی؛ (د) مونت، ظلم، زیادتی، بے انصافی۔

گوش؛ (د) (۱) بڑے بڑے کانوں والا (۲) گدھا، خر۔

کرنا؛ پھیلاتا۔

کرنا؛ بیٹھا، سوتا، پانو پھیلاتا۔

درازی؛ (د) مونت، لمبائی، طوالت، بڑا ہونا۔

دراک؛ (د) (۱) درک رکھنے والا، (۲) بات کی تباہی لانے

والا، خوب سمجھنے والا، ذہین۔

قدراکی؛ (د) مونت، سمجھ، سمجھنے کی صلاحیت، قوت، فہم، ادراک۔

درازی؛ (د) بھاڑنے والا۔

درازا؛ بے دھڑک، بے خوف و خطر۔

دراستی؛ مونت، چھوٹی ہنسیا، فصل کاٹنے کا ہلال نا اوزار۔

درازی؛ پٹھانوں کا ایک قبیلہ۔

دراوڑ؛ (د) ہندوستان کے قدیم باشندے۔

دراہیت؛ (د) مونت، عقل، دانش۔

درا؛ مذکر؛ ڈھالی، ڈبلا۔

درج بدرجہ: آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، علی قدر مراتب۔

_____ توڑنا: متفرق کرنا۔

_____ ملنا: مرتبہ حاصل ہونا۔

_____ درخت: (ف) مذکر؛ پیڑ۔

_____ درخشاں / درخشال: (ف) چمکتا ہوا۔

_____ درخشندہ: (ف) مذکر؛ تاباں، چمکنے والا۔

_____ درو: (ف) مذکر؛ (۱) دکھ، تکلیف، (۲) دریغ، افسوس (۳) ہوک، تیس، چمک، (۴) رحم، ہنس (۵) سوز، گوار۔

_____ آشنا: (ف) دروسے واقف، بہرہ ور۔

_____ آمیز: (ف) دوناک۔

_____ آنا: رحم آنا۔ ترس آنا۔

_____ بنانا: دکھ و رنج میں شریک ہونا، ہمدردی کرنا۔

_____ زہ: (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر؛ تہہ پہنچا ہونے کا درد۔

_____ سر: (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر؛ (۱) سسکا درد۔

(۲) دکھنا، رنج، محنت، مصیبت، بکھیرا۔

_____ سرخریدنا / مول لینا: (ف) دکھنا، جھگڑے میں ہٹنا،

کسی محنت و تکلیف کو اپنے ذمے لینا۔

_____ سُرمی: تکلیف، مشکل، دقت، زحمت۔

_____ لگنا: پردہ ہونا، بچہ چلنے کا درد شروع ہونا۔

_____ مند: (ف) ترس کرنے والا، غم خوار، رحم دل۔

_____ ناک: درد اور غم سے بھرا ہوا۔

_____ دُرد: (ف) موتی، چھٹ، گاد۔

_____ آشام: شراب کی چھٹ پینے والا۔

_____ دُردِ اُ: مذکر؛ مٹا، پسا، پٹا ہوا، ڈلا ہوا۔

_____ در دراہٹ: موتی، نیم کو تہ ہونے کی حالت۔

_____ دُردِ بُری: موتی؛ تیز باڑھ، ڈھاردار۔

_____ دُردِ سَا / دُردِ سَا: (ف) موتی؛ بدنامی، خرابی، گت،

بُری حالت۔

_____ دُردِ زہ: (ف) موتی؛ بُھری، شگاف، دمازدیکھو ہاز۔

_____ دُردِ زہ: (ف) موتی؛ دُردی کی بیوی، کپڑا سینے کا پیشہ کرنے والی

عورت۔

_____ دُردِ زہ: (ف) مذکر؛ کپڑا سینے والا۔

_____ دُردِ زہ کی سوتی کبھی ٹاٹ میں کبھی کم خواب تیا: (ف) (ش)

انسان کی حالت یکساں نہیں رہتی، اس کو اذنا کام سے

شرم نہیں کرنا چاہیے۔

_____ دُردِ س: (ف) مذکر؛ (۱) سبق، (۲) وعظ، پند۔

_____ قندیس: (ف) موتی؛ پڑھنا، پڑھانا۔

_____ قورسہ: (ف) (۱) شیک، صبح، سجا (۲) موزوں، چست،

(۳) پھرا، سالم (۴) تن درست، (۵) مہذب (۶)

شیک، صبح۔

_____ بنانا: شیک کرنا، گوشمالی کر کے درست کرنا۔

_____ کرنا: (۱) شیک بنانا، (۲) سدھارنا، سنوارنا (۳) ادب

دینا (۴) گوشمالی کرنا، تادیب کرنا۔

_____ دُردِ شت: (ف) (۱) سخت، کھردرا، (۲) تند و تیز۔

_____ مزاج: تند مزاج۔

_____ دُردِ شتی: (ف) موتی؛ سختی، ناہمواری، بدخلق۔

_____ دُردِ ش: (ف) مذکر؛ نظام، دیدار، زیارت۔

_____ دُردِ شنی ہنڈی: موتی؛ فوراً روپیہ مل جانے والی ہنڈی ہاتھ

کے ہاتھ روپیہ مل جانے والی ہنڈی۔

_____ دُردِ شیبہ: (ف) مذکر؛ منظر۔

_____ دُردِ ش کاویان / دُردِ ش کاویانی: (ف) مذکر؛ شاہان ایران

کے خاندان کیانی کا جھنڈا، پھریا۔

_____ دُردِ ک: (ف)؛ مذکر؛ (۱) دریافت، واقفیت، عقل، سمجھ

(۲) دخل، تمیز، مداخلت۔

_____ دُردِ کنار: ترققا، چھٹنا، بال پڑنا۔

_____ دُردِ گاہ / دُردِ گ: (ف) موتی؛ (۱) چوٹ، آستانہ، (۲) خدا

کا دربار (۳) دربارِ شاہی (۴) خانقاہ، کسی

بزرگ کا مزار، روضہ۔

_____ دُردِ گت: حوتی؛ بُری گت، پتلا حال۔

_____ دُردِ م: مذکر؛ (۱) بعض عرب ملکوں کے کتے کا نام (۲)

دوماشے اور ڈیڑھ روتی کا وزن۔

_____ دُردِ مآں: (ف) مذکر؛ بیاہ کا علاج، چارہ، دوا دارو۔

دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز (د) مقولہ؛
 (جس جھوٹ سے فساد برک جائے وہ فساد ڈالنے والے کچھ سے
 بہتر ہے) صلح معافی کرنے کے لیے جھوٹ جاسکتا ہے۔
 دُرُون : (د) مذکر؛ دل، باطن۔
 دُرُول پینی : (د) مونث؛ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے اندر ڈوب
 کر اپنا جائزہ لینا۔
 دُرُولیش : (د) مذکر؛ (۱) فقیر، بھکاری (۲) مسکین غریب
 (۳) خدا رسیدہ، سادہ مزاج۔
 دُرُولیشی : (د) مونث؛ فقیری، گدائی۔
 دُرُہ / دُرُہ : (د) مذکر؛ دو پہاڑوں کے درمیان کارسنہ گھاٹی۔
 دُرُہ : مذکر؛ چڑھے کا چاک، چڑھے کا تسمہ۔
 دُرُہم : (د) تتر تتر، گڑبڑ، الٹ پلٹ، تہ و بالا
 — بزم : (د) (۱) تتر تتر، (۲) خفا، ناراض۔
 دُرُہم : (د) سک، دم۔
 دُرُہمی : مونث؛ اہلے سوئی کپڑے کا فرش، شرطی کی ایک
 قسم، (۲) قدیم فارسی زبان کی ایک قسم جو بہت
 فصیح ہے۔
 دُرُہیا : (د) مذکر؛ ندی، پانی کی وہ بڑی اور چوڑی دھار۔
 جو پہاڑ، یا جھیل سے نکل کر خشکی پر بہتی ہوئی سمندر
 میں جاملے۔
 اُترنا، دریا کا پانی کم ہونا، دریا کی گھٹائی کم ہونا۔
 اُمنڈنا؛ دریا کا جوش میں آنا۔
 بار : (د) (۱) صاحبِ فیض، سخی، جواں مردی (۲)
 بہت برسنے والی بارش۔
 بُرد : مونث؛ وہ زمین جو دریا کی گھٹائی سے ڈوب
 گئی یا کٹ گئی ہو۔
 بُرد کر دینا؛ (۱) ڈبو دینا، دریا میں غرق کر دینا،
 (۲) دکنا یا، بٹا دینا۔
 پرجانا اور پیاسا آنا؛ بد قسمت، جہاں سے سب کو فیض
 ہو وہاں سے محرومی۔
 دُل : (د) دکنا یا، سخی، قیاض۔

درماندگی : (د) مونث؛ (۱) مجبوری (۲) عاجزی۔
 درماندہ : (د) عاجز، مجبور ہے کس۔
 دُرُمت ؛ مذکر؛ نکھر کوٹنے کا ذرفی سطح آلہ۔
 دُرُندہ : (د) مذکر؛ پھاڑ کھانے والا جانور۔
 دُرُنگ : (د) مونث؛ دیر، وقفہ۔
 دُرُوازہ : (د) مذکر؛ پھانک، دُرُپٹ، کواڑ۔
 — بھیرنا، بغیر کنڈی چڑھنے کے دروازے کے پٹ
 بند کرنا۔
 — چھنا؛ دروازے میں اینٹیں لٹکان کر بند کر دینا۔
 دروازے پر اٹھی جھومنا ک دولت مند ہونا، بہت
 جھولنا مال دار ہونا۔
 دروازے کی مٹی لے ڈالنا، دکنا یا، پھیرے کرنا، بار بار
 آنا سخت تقاضا کرنا۔
 دروست : (د) مذکر؛ (۱) کٹائی، جدھائی، انتظام
 (۲) داربی اصطلاح جو ربط، ترتیب و تہذیب
 بندش۔
 دُرُود : (د) مذکر؛ مونث؛ صلوات، برکت و رحمت
 پتھیر کے واسطے۔
 — بھینا؛ کسی خوب صورت شے کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنا،
 خوش ہو کر دُرُود پڑھنا، تعریف کرنا، حسین کرنا،
 اظہارِ مسرت کرنا، پیغمبر کی تعریف کرنا۔
 — پڑھنا؛ دکنا یا، تعریف کرنا۔
 — پڑھنے کے قابل؛ نہایت نفیس، تعریف کے قابل۔
 دروغ ؛ (د) مذکر؛ جھوٹ، بہتان۔
 — بیانی؛ مونث؛ جھوٹ بولنا۔
 — حلی؛ مونث؛ جھوٹی قسم۔
 — گو؛ (د) جھوٹا، کاذب۔
 — گوٹا حافظہ نباشد؛ (د) جھوٹے کو یاد نہیں رہتا، کچھ
 کاکھ کھنے لگتا ہے۔
 — گویم بر رویے تو؛ (د) مقولہ حقیقت جاننے والے
 کے سامنے جھوٹ بولنا صریح جھوٹ۔

دریا کوزے میں بند کرنا: (۱) کسی بڑے مضمون کو تھوڑے لفظوں میں بیان کرنا (۲) کسی بڑی شے کو کسی چھوٹی چیز میں اس طرح تبدیل کرنا کہ اس بڑی شے کی بڑائی میں کوئی فرق نہ آئے۔

— میں رہنا اور مگر مجھ سے سیر: مثل، جہاں رہیں وہیں کے مختار اور زبردست لوگوں سے عداوت رکھنا، جس افسہ کی مانتھی میں رہے اس سے بگاڑ رکھے۔

— میں عرفیہ دنیا م فرزند شیعہ میں ایک راجہ رسم، ڈالنا: (۱) بارہویں امام کے نام عرفیہ لکھ کر دریا، یا کنویں میں ڈالنا۔

دریائے شور: مذکر؛ کالا پانی، سندر۔
دریائی آدمی: (۱) جل ماس، آدمی کی صورت کا بحری جانور، (۲) دریا میں رہنے والا آدمی۔

— گھوڑا: دریا میں رہنے والا گھوڑے کی شکل کا جانور۔
دریافت: پتا چلنا یا چلانا، تحقیق۔

دریہ: مذکر، پانوں کا بازار، پناڑیوں کا محلہ۔
دریتی: چھوٹی ٹپچی، جس میں دانہ ڈالتے ہیں۔
دریچہ: (د) مذکر، کھڑکی، چھوٹا دروازہ۔

دریدہ: (د) پشٹا ہوا۔
— دہن: (د) ہٹ پھٹ، بد زبان، زبان دراز۔

— دہنی: (د) موٹھ، بد زبان۔
دریسی کرنا: زمین کو ہموار کرنا، برابر کرنا۔

دریغ: (د) مذکر؛ (۱) افسوس، (۲) بھل، نابل، (۳) مضائقہ۔

دریغ: وائے افسوس۔
دریوزہ گری: (د) بھیک مانگنا، گدائی۔

— ڈ

ڈراڑ، موٹھ، دیکھو دراز۔
ڈٹیا: مذکر؛ کبوتروں یا مرغیوں کا گھر، سائب۔
— کھول دینا: کسی بات کی آزادی دینا، کسی کام کا بے ڈک

ٹوک کرنا۔

ڈر بے ڈر بے کرنا: مرغیوں کو کھانے مانے کہہ کے ڈر بے میں لے مارا۔
ڈر وکنا: غیر سابلوتا، چنگھاڑنا، ساٹھ کا بولنا۔

ڈر مٹا: مذکر؛ داڑھی مٹانے والا۔
ڈر سیرا: مذکر؛ نور کا مینہ، دریائے بہاؤ کا زور۔

ڈر حیل / ڈر حیالا: مذکر؛ بڑی داڑھی والا۔
ڈر و: (د) مذکر؛ چور۔

— حنا: (اضافہ کے ساتھ) (د) مذکر؛ ہاتھوں پر مہندی لگانے کے بعد رنج جانے والی جگہ (سنیدی)

وزریدہ نظر: (د) کن آنکھوں سے دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔

— و-س

وُس: (۱) عدد (۱۰)، (۲) کنا پٹا، چند، تھوڑے۔
— آئے دس گئے: (مقولہ) آمدورفت کا سلسلہ جاری ہے۔

— بائیں سنانا: برا بھلا کہنا، سخت سخت کہنا۔
— کے دو کہنا: زیادہ تعداد کو بہت کم ظاہر کرنا۔

— کی لاشی ایک کا بوجھ: (مثل) سب مل کر سلوک کریں تو ایک کی حاجت رفع ہو جاتی ہے۔

— گز کی زبان ہونا: بہت زیادہ زبان دراز ہونا۔
— ہاتھ کی زبان ہونا: ہونا۔

دُسواں: مذکر؛ میت کا دسویں دن کا فاتحہ، دسواں دن، دسواں حقہ۔

دَسا / دَسا: (د) موٹھ؛ حال، حالت۔
دَسا تیر: (د) موٹھ؛ پارسیوں کی مذہبی کتاب کا نام۔

دَساور: (د) موٹھ؛ (۱) پرایاویں (۲) وہ جگہ جہاں پر ایک چیز پر افراط و خست کے واسطے جمع ہو۔ (۳) باہر کا تجارتی

مال۔

— چھٹنا: (۱) باہر سے کسی چیز کی مانگ ہونا، (۲) کرنا پٹا، گرائی ہونا۔

دَساوری: مذکر؛ باہر جانے والا تجارتی مال، (۲) ایک قسم کا عدہ چانچ

دوست کرس : (د) پیچ ، رسائی ، قدرت ، طاقت ، بساط ، مقدور ، حیثیت ۔

_____ شفا حاصل ہونا : (اضافہ کے ساتھ) طبیب کے ہاتھ میں صحت بخشنے والی تاثیر ہونا ۔

_____ شفقت : (اضافہ کے ساتھ) (د) (کنایتاً) مہربانی ، شفقت ۔

_____ غیب : (اضافہ کے ساتھ) (د) مذکر ؛ کسی ظاہری فریب کے بغیر ہونے والی آمدنی ۔

_____ قدرت : (اضافہ کے ساتھ) (د) (کنایتاً) طاقت بس ، قدرت ، قابو ، اختیار ۔

_____ کار : (د) مذکر ؛ (۱) ہاتھ کا کاریگر ، ہنرمندی ، (۲) ہاتھ کے کام سے بنی ہوئی شے ۔

_____ کاری : (د) مؤنث ؛ کاری گری ، ہاتھ کا کام ۔

_____ کش : کسی امر سے اپنا تعلق توڑ لینا ، باز رہنا ، الگ ہو جانا ۔

_____ کھینچنا / ہاتھ کھینچنا : باز آنا ، بے تعلق ہو جانا ۔

_____ گاہ / دوست گہ : (د) مؤنث ؛ قدرت ، طاقت ، مہارت ، مقدور ۔

_____ گرداں : زبانی لین دین ، ہاتھ کے ہاتھ لوثانے والا آدھار ، بغیر تحریر کے قرضہ ۔

_____ گیر : (د) مددگار ۔

_____ لگنا : اسباب جاری ہونا ، متواتر دست آنا ۔

_____ نگر : متاج ، حاجت مند ۔

_____ وگریاں ہونا : (کنایتاً) غٹ پٹ ہونا ، نہایت قریب ہونا ، چٹ جانا ، لڑنا ، گھ جانا ، گوتمر گھٹنا ہونا ۔

_____ یاب ہونا : حاصل ہونا ، وصول ہونا ، میسر ہونا ۔

_____ دستار : (د) مؤنث ؛ چگڑی ، عمامہ ۔

_____ بدل : چگڑی بدل بجائی ۔

_____ فضیلت : (اضافہ کے ساتھ) مؤنث ؛ تحصیل علم سے فراغت کے بعد عربی مدارس میں پانچ ماہ کی پگڑی ۔

_____ دستاورد : مذکر ؛ (۱) ہاتھ میں پہننے کا بنا ہوا کپڑا ، (۲) لڑائی میں

دستینا / دست پناہ : نکر ؛ چٹا ۔

_____ دست : (د) مذکر ؛ (۱) ہاتھ ، پنجا ، (۲) اصطلاح طب ، پانچ ماہ با بر آنا ، چلا پانچ ماہ ، اسہال ، (۳) چرواہے کے اگلے پاؤں ۔

_____ آرد : دست لانے والی دوا ، مسہل ، جلاب ۔

_____ افسوس ملنا : (اضافہ کے ساتھ) (کنایتاً) پھٹنا ، افسوس کرنا ۔

_____ اندازہ : نخل ، انداز ، مزاج ، ہاتھ ڈالنا ۔

_____ بدست : (د) ہاتھوں ہاتھ ، جلد ۔

_____ بردار : (د) مؤنث ؛ غبن ، خیانت ، تعزینو بے جا ۔

_____ بردار : (د) باز آنے والا ، چھوڑنے والا ۔

_____ بستہ : (د) ہاتھ باندھ کر ، ہاتھ جوڑ کر ، نہایت اطمینان کے ساتھ ۔

_____ بندہ : (د) مذکر ؛ کلائی پر باندھنے کا زبیر ۔

_____ بوس ہونا : (۱) ہاتھ چومنا ، (۲) (کنایتاً) ملاقات کرنا ۔

_____ بوجھ ہونا : دما کے لیے ہاتھ آٹھانا ، دما لگنا ۔

_____ پاک : مذکر ؛ رومال ، کھانا کھا کر ہاتھ پونچھنے کا کپڑا ۔

_____ پناہ : مذکر ؛ دستا ، چٹا ۔

_____ تاسف ملنا : (اضافہ کے ساتھ) کنایتاً ، افسوس کرنا ۔

_____ خط / دخط : مذکر ؛ اپنے ہاتھ کا کھنا ہوا ، اپنے نام کی علامت یا نشانی ۔

_____ خود دمان خود گریہ خورد زریان خود : (اضافہ کے ساتھ) (د) (دل) اختیار کے باوجود کوتاہی اپنا نقصان کرنے ، اپنی مدد مانگ کرنا ۔

_____ دراز : (د) بے باک ، نڈر (۲) مار بیٹھے کی جاوہر رکھنے والا ۔

_____ ہڈاڑی : مؤنث ؛ (۱) بے باکی ، (۲) مار پیٹ (۳) مدد طلبہ جہا ، زیادتی ۔

_____ راست : (۱) سیدھا ہاتھ (۲) کینا ، حامی ، مددگار ۔

انقلابی ادبی تحریک -
 دوسہ (۵)؛ مذکر؛ (۶)؛ جینڈ کے مہینے کی دسویں تاریخ کو ہندوں
 کا گھٹا شنان (۲) اسوج کے مہینے کی دسویں تاریخ
 کا بڑا بھائی تھوارے (۳) رام چندر جی کی راویں پر
 فتح حاصل کرنے کا دن -

دش

دشا: (۱) موٹف؛ طرف؛ جانب؛ سمت -
 دشا: (۲) موٹف؛ حالت -
 دشت: (۱) جنگل؛ صحرا؛ بیابان؛ میدان -
 — ایمن؛ (۲) اصناف کے ساتھ (د)؛ مذکر؛ گودھڑی کی وادی -
 — پیمانی / دشت نوردی / گودی؛ (د)؛ موٹف؛ جنگل
 میں مارا مارا پرہنا، صحرا نوردی -
 دشت / دوشٹ؛ (۱)؛ میرا؛ غلبہ؛ چنڈال؛ شہریر
 بدذات؛ ظالم؛ بدکار؛ کھوٹا -
 دشمن: مذکر؛ (۱)؛ مخالفت؛ بدخواہ؛ (۲)؛ حریف؛ رقیب -
 — اگر قوی است نگہبیاں قوی ترست؛ (د)؛ (مقولہ)
 دشمن اگر زبردست ہے تو بچانے والا خدا اس سے زیادہ
 زبردست ہے، کوئی پروا نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں -
 دشمنوں کی جان کو رونا؛ (۱)؛ دکنیا؛ دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف
 اٹھانا، برباد ہونا؛ (۲)؛ دشمنوں کی شکایت کرنا -
 — کے کان بہرے؛ (د)؛ عورتیں خدا نخواستہ کی جگہ
 بولتی ہیں -

دشنام: (د)؛ موٹف؛ مذکر؛ (۱)؛ گالی گلوچ (۲)؛ (۵)
 مذکر؛ برنام -

دشمنہ: (د)؛ مذکر؛ کٹاری -
 دشوار؛ (د)؛ کٹھن؛ دو بھر؛ مشکل -
 — گزار؛ کٹھن اور مشکل راستہ -
 دشواری؛ وقت؛ مشکل؛ سختی -

د - ع

دعا؛ (د)؛ خدا سے مانگنا، آرزو کرنا -

پہنے جانے والے لوسے کے کہنیوں تک دستاں (۳)؛ بڑی
 کرج کا قبضہ، تلوار کا قبضہ -
 دستاویز؛ موٹف؛ سند؛ نوشتہ؛ کسی چیز کا تحریری ثبوت،
 قباذہ؛ تمشک -

دسترخوان؛ مذکر؛ کھانا کھانے کے لیے بچا یا ہانے والا کپڑا -
 — بڑھانا؛ کھانا کھانے پر دسترخوان کا اٹھالینا -
 — کرنا؛ بزرگانِ دین کی زبردستی کرنا، شہدائے کربلا کے
 فاتحے کا کھانا کھلانا -

— کی تہی؛ (۱)؛ کھانا کھانے کے وقت آ موجود ہونے والی
 تہی؛ (۲)؛ دکنیا؛ کام چور، نوالہ حاضر آدمی -
 — کی تکھی؛ (دکنیا)؛ ہر وقت دسترخوان پر شریک
 ہو کر کھانے والے -

دستک؛ (د)؛ موٹف؛ (۱)؛ تالی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا (۲)؛ محفل
 (۳)؛ پروانہ سادھاری، بھاس کی چٹھی (۴)؛ مہری کا فذ
 جو حاکم کے حکم سے لکھا جائے -
 — آنا؛ قرقی آنا -

— دینا؛ (۱)؛ تالی بجانا، گنڈی کھڑکھڑانا، پکارنا، بلانا،
 (۲)؛ آیات قرآنی پڑھ کر تالی بجانا -
 دستور؛ (د)؛ مذکر؛ (۱)؛ رسم، رواج، معمول، طرز،
 روشن، عادت، ڈھنگ، قاعدہ؛ (۲)؛ فیس -
 کمیشن -

دستور العمل؛ مذکر؛ قانون، قاعدہ -
 دستہ؛ (د)؛ مذکر؛ (۱)؛ کسی چیز میں پکڑنے کے لیے
 لگایا جانے والا ڈنڈا؛ (۲)؛ آدمیوں کا گروہ، فوج کا
 ایک حصہ، گارو؛ (۳)؛ گل دستہ (۴)؛ بھاف، حاشیہ، ٹولی
 (۵)؛ کاغذ کے ۲۰ تختوں کا بنڈل ایک دستہ کہلاتا ہے، یم
 کا بیسوں حصہ؛ (۶)؛ کھل کا ٹوسل -

دستی؛ (د)؛ موٹف؛ (۱)؛ مشل، فلیتہ؛ (۲)؛ کشتی کا ایک
 راول - (۳)؛ ہاتھ کا رومال -

دستبر؛ (د)؛ مذکر؛ بیسوی سال کا بارہواں مہینہ -
 دستبری تحریک؛ موٹف؛ انیسویں صدی میں روس کی ایک

دُعَا: (د) دعا کرنے والا،
 لینا، بھلائی لینا، کسی کو خدمت کر کے خوش کرنا۔
 مانگنا، خدا سے بھلائی چاہنا، خدا سے التجا کرنا، مراد مانگنا
 حاجت چاہنا۔
 مستجاب ہونا: دعا قبول ہونا۔
 دُعَائے جوش: (د) جنگ میں حفاظت کی خاص دعا۔
 ہلال: ہونٹ، نیا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا۔
 دعوات: (ر) جمع دُعَا کی دعائیں۔
 دعوا: (ع) مذکر؛ (ا) درخواست، خواہش، مطالبہ، مانگ
 (۲) استغاثہ، نالیش، حق، استحقاق (۳) غرور
 (۴) ڈینگ۔
 اُٹھنا، دعوے کا جواب ہونا۔
 دعوے دار: مذکر؛ (ا) مذہبی، حق جتانے والا (۲) دعو
 کرنے والا۔
 دعوا کرنا: (ا) مطالبہ کرنا، نالیش کرنا، استغاثہ کرنا، (۲)
 غیر واقع خوبی کا اپنی نسبت گمان کرنا۔
 دُعُوْت: (ع) ہونٹ؛ (ا) کھانے کے واسطے بلانا، (۲) طلبی
 (۳) کھانے کو تعداد میں دے کے مطابق پڑھنا۔
 سمرقند: (ا) اضافت کے ساتھ (د) ہونٹ، شان و
 شوکت کی دعوت، تکلف کا کھانا۔
 شیراز: (ا) اضافت کے ساتھ (د) ہونٹ؛ بے تکلفی کی
 دعوت۔
 ولیمہ: (ا) اضافت کے ساتھ (د) ہونٹ، مسلمانوں میں
 دو لہکے گھر (رخصتی کے بعد کی) ضیافت۔

د-غ

دُعَا: (د) ہونٹ؛ مکاری، دم بازی، بے ایمانی۔
 کُوْتَدَا: مذکر؛ (ا) ایک قسم کی چوٹی، قندیل، کنول (۲)
 روشن، چمکتا ہوا، دیکھا ہوا (۳) (جہاز) خطرہ، تردد
 اندیشہ۔
 دُوْدُغْہ: مذکر؛ ڈر، دھڑکا، اندیشہ۔

دُعَل: (د) ہونٹ؛ (ا) میلہ، سکر، فریب (۲) کھوٹا، چاندی،
 فصل: مذکر؛ چالاک، فریب، مکاری۔
 دُعْنَا: (ا) چھوٹا، سر ہونا، بندوق یا توپ کا چلنا۔
 (۲) چرکا لگنا، کسی چیز کو گرم کر کے نشان دیا جانا۔
 دُعْبِلَا: (ا) دھبہ دار، داغ دار (۲) دھبے والا، چوڑ لگا ہوا
 پھل سٹرا ہوا پھل (۳) عیب دار۔

د-ف

دَف: (ع) مذکر؛ (ا) ذقنی (۲) (۳) جوش، چڑھاؤ،
 زور، غصہ، تپا۔
 دفالی: (د) بجانے کا پیشہ کرنے والا۔
 دفاتر: مذکر؛ جمع دفتر کی۔
 دَفَاع: (ع) مذکر؛ بچاؤ، مدافعت کرنا، دفع کرنا،
 ٹاننا۔

دَفَاعِي پوزیشن: (انگ + ع) ہونٹ؛ بچاؤ کی حالت۔
 دَفْتَر: (ع) مذکر؛ (ا) کاغذوں کی کتاب، کچھری کاغذوں
 کا مجموعہ، کسی محکمے کے کاغذات، حساب کتاب کے کاغذات
 (۲) آفس، (۳) دکنیٹا، طومار، بڑا بھاری
 خط، (۴) طول طویل کہانی، طویل قصہ یا
 رپورٹ۔

دَفْتَرِی: (ا) دفتر کی درست کرنے والا، (۲) جلد
 ساز، جلد بنانے والا، (بائنڈر)
 دَفْتَرِی: ہونٹ؛ (ا) کاغذ رکھنے کا پتھا، کتاب کا پتھا،
 (۲) خوش نویسیوں اور فنکاروں کے کاغذات رکھنے
 کا فائل۔

دَفْع: (ع) مذکر؛ دور کرنا، پھاننا۔
 دَفْعِ الوَقْتِ (دَفْعِ اَلْ وُقُوتِ): ہونٹ؛ وقت ٹاننا،

دقیقہ: (د) مذکر؛ (۱) تاریخی، نکتہ (۲) (اصطلاح ابن نجوم)
منٹ۔
باقی نہ چھوڑنا؛ کسر اٹھانہ رکھنا۔
کرس / دقیقہ شناس؛ (د) زود فہم، باریک بین
تیز طبع۔

د-ک

دکان: مؤنث؛ سودا بیچنے کی جگہ۔
اٹھانا؛ (۱) دکان کا اسباب اٹھانا، دکان بند کرنا،
دکان چھوڑنا (۲) دکان کرایہ پر دینا۔
بڑھانا؛ دکان بند کرنا۔
جکانا؛ (۱) دکان قائم کرنا (۲) دکنا یا خود
نمانی کرنا۔

چلنا؛ خوب بگری ہونا، گرم بازار ہونا، خریداری
ہونا۔
داری کی باتیں کرنا؛ کاروبار سے متعلق باتیں کرنا۔
لگانا؛ (۱) دکان کھولنا (۲) دکنا یا چیزوں کو
پھیلا کر بیٹھنا۔ چیزوں کو پھیلا دینا۔

دکشتا؛ (۱) مؤنث؛ خیرات، دان۔
دکن؛ دکن، جنوب۔

دکھ؛ مذکر؛ (۱) درد، تکلیف، (۲) رنج، غم (۳) مرض،
بیماری (۴) مصیبت، آفت۔
اٹھانا؛ تکلیف اٹھانا، ایذا پانا۔
بٹانا؛ شریکِ غم ہونا، شریکِ رنج ہونا، غمخواری
کرنا۔
بھرا؛ رنجیدہ، غمگین۔

بھرس بی فاختہ اور کوتے میوے اٹڈے کھائیں؛
دشلی، تکلیف کوئی اٹھائے اور لطف کوئی حاصل کرے۔
دکھتی کہنا؛ ناگوار بات کہنا۔
رگ؛ کسی کی چمپی گزوری۔
دکھ دانی؛ ستم گار۔

وقت گزاری، حیلہ حوالہ کرنا۔

دُخل کرنا؛ اعتراض کا جواب دینا۔

کرنا؛ ہشانا، دور کرنا، زائل کرنا۔

دفعنا؛ (د) یکایک، یک بارگی، اچانک، فوراً،
ناگہاں۔

دفعہ؛ مؤنث؛ (۱) باری، نوبت، (۲) قانون کا فقرہ،
نمبر، مضمون۔

دفعات؛ جمع دفع کی۔

دفعہ دار؛ مذکر؛ جماعت کا افسر، سپاہیوں کے چوٹے
سے گروہ کا سردار۔

دفعیہ؛ مذکر؛ علاج، تدبیر، روک، دفع کرنے کی تدبیر
توڑ۔

دفن؛ (د) مذکر؛ زمین میں چھپانا، گاڑنا، تجنیز و تکفین۔

دَفَنانَا؛ مَر دے کا دفن کرنا۔

دَفَنیہ؛ (د) مذکر؛ گڑا ہوا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ، گڑا
ہوا مال، دیا ہوا مال۔

د-ق

دِق؛ (د) مؤنث؛ (۱) پرانا بُخار، (۲) ہر وقت کا
اندرونی بخار، (۳) تنگ، عاجز، ناراض، آزرده،
ناخوش۔

دِقَاتِق؛ (د) مذکر؛ جمع دقیقہ کی، باریکیاں، نکتے، لمحے۔

دِقْت؛ (د) مؤنث؛ (۱) مشکل، دشواری (۲) تنگی۔

پسند دق؛ مشکل پسند۔

طَلَب؛ دشوار۔

دِقْیَانُوس؛ ایک بادشاہ کا نام جو اصحابِ کہف کے زمانے
میں تھا، بہت پرانا۔

کُوقْیَانُوس؛ دکنا یا پرانے زمانے کا، فرسودہ روش۔

دِقْیَانُوسِیت؛ پرانے خیالات کی پیروی، فرسودگی، رجعت
پرستی، قدامت پرستی، دیکھو دِقْیَانُوسِ۔

دِقِیق؛ (د) باریک، نازک، کتھن۔

دووں خراب ہو جاتے ہیں۔
 دُکھدُگی / دُکھدُگی / دُکھدُگی: موتفہ (۱) سینہ اور گلے کے
 بیچ کا گڑھا، مطلقاً (۲) گلے کا ایک زبورہ (۳) سینے کی ہڈی۔
 — پر دم ہونا { سینے میں دم ہونا، نزع کا عالم
 — میں دم ہونا { ہونا۔
 دُگر: دت، دوسرا، دیگر۔
 — گول: آنک، سرخوں، بدلا ہوا، متغیر۔
 — گول ہونا: رنگ بدلتا، تغیر و تبدل ہونا، تہ و بالا ہونا۔
 دُگلا: مندر؛ بادہ، روئی دارانگر کھا۔
 دُگنا: مندر؛ دُونا، دوچند، دہرا۔

د-ل

دُل: مندر؛ (۱) جسامت، بُنائی (۲) فوج، لشکر، انبوہ، جھنڈ،
 جماعت۔
 — بادل: (۱) بہت سی فوج (۲) مندر؛ درباری خیمہ، بڑا خیمہ۔
 — دار: صفت، موٹا، دہیز۔
 دُل: دت، مندر؛ (۱) انسانی سینے میں سب سے اہم عضو، قلب۔
 (۲) کلیجہ، جگر، حوصلہ (۳) سخاوت، قیاضی، (۴) بہت، شجاعت، دلیری،
 جرأت، دہ، باطن اندر، اندر والا (۵) توجہ، رُخ، حند (۶) (کتابتاً)
 شہت، خواہش، ہوا، ہوس (۷) دل کا کعبہ جسے بھی استعاہ کرتے ہیں۔
 — آب آب ہونا: دکنا (یثا) دل کا نرم ہونا۔
 — آراے / دل آرا: (د) دل کو آراستہ کرنے والا،
 (۲) دکنا (یثا) معشوق۔
 — آرام: (د) دل کو آرام دینے والا (۲) دکنا (یثا)
 پیارا، محبوب، معشوق۔
 — آرائی: دت، موتفہ، دل رُبائی، دل میں سما جانا۔
 — آزار: دت، دل دُکھانے والا، ایذا پہنچانے والا۔
 — آزاری: دت، موتفہ، ظلم، ستم، ایذا رسانی، آزار دہی۔
 — آزرده: دت، افسردہ خاطر، رنجیدہ، ناخوش، ناراض۔
 — آنا / دل آجانا: عاشق ہونا، مائل ہونا۔
 — آئینہ: دکنا (یثا) دل پر نیک و بد کا حال خود بخود ظاہر ہوجانا۔

دُکھ درد: آفت، مصیبت۔
 — رونا: دکنا (یثا) مصیبت بیان کرنا، گدگدہ، شکوہ زبان پر لانا۔
 — سُکھ: مندر؛ رنج و راحت، غم، شادی۔
 — کی پُورٹ: ستر یا دُکھ، دائم المرض۔
 دُکھی: مصیبت زدہ، رنجیدہ، پیارا، روئی۔
 دُکیا: موتفہ؛ درد مند عورت۔
 دُکیارا: مندر؛ درد رسیدہ، مصیبت زدہ، آفت کا مارا۔
 دُکھانا: پیش کرنا، رو بہ کرنا۔
 دُکھانے کے دانت: ناشی باتیں۔
 دُکھاؤ: مندر؛ دوسکی چیز کا نظر آنا، سامنا ہونا۔
 دُکھاوا: مندر؛ (۱) بنا دوش، ظاہری ٹیم ٹام، (۲) ظاہر داری
 نمود، نمائش۔
 دُکھاوٹی: موتفہ؛ نمائش۔
 دُکھائی دینا: دت، نظر آنا، بھائی دینا (۲) قتال قوی ہونا۔
 دُکھانا: ستانا، صدر سپینا، درد پیدا کرنا۔
 دُکھتی: دت، ضعف تکلیف دینے والی۔
 دُکھڑا: مندر؛ (۱) رنج و غم کا بیان، درد بھری کہانی (۲) رنگ
 مرض، بیماری (۳) محنت، مزدوری، (۴) گدگدہ، شکوہ۔
 — رونا: دکنا (یثا) مصیبت بیان کرنا۔
 دُکھلانا: متعدی، دُکھانا (اس جگہ دُکھانا فصیح ہے)
 دُکھن / دُکن: مندر؛ جنوہ۔
 دُکھنی مرچ: موتفہ، سفید گول مرچ۔
 دُکھنا: درد ہونا، درد کرنا۔
 دُکھیارا: دت، مندر؛ مصیبت زدہ۔

د-گ

دُگانہ: دت، مندر؛ (۱) جڑواں یا دوسری چیز (۲) نہانگی دو
 رکعت، شکوہ کی دو رکعت،
 دُگڈھا: موتفہ، دُبھا، تذبذب، پس و پیش۔
 — میں دو نزل گئے مایا مملی نہ رام: دُش (تذبذب میں
 کامیابی نہیں ہوتی، بیک وقت کاموں میں جی ڈالنے سے

— بھرا آنا: آنکھوں میں آتش بھرا آنا، رنج ہونا۔
 — پارہ پارہ ہونا: کھنکھناتا، روحانی صدمہ ہونا۔
 — پاش پاش ہونا: کھنکھناتا، روحانی صدمہ ہونا۔
 — پرتھو پرتھو کر لینا: (۱) دل سخت کر لینا، (۲) صبر کر لینا۔
 — پرتھو پرتھو کر لینا: کھنکھناتا، اندرونی صدمہ پہنچنا۔
 — پرداخ ہونا: دل پر غم سے صدمہ ہونا۔
 — پردرکھنا: کسی اہم کام کا ارادہ کر لینا۔
 — پرسناپ لوٹنا: (۱) کھنکھناتا، رنج و صدمہ گزرانا (۲)
 ریشک و حسد ہونا جلنا۔
 — پرفعل لگانا: راز دل پنہاں رکھنا۔
 — پرتکھپ جانا: محبت کا دل پراثر کر جانا۔
 — پرتکھیلنا، دل کی ہلاکت کا اندیشہ مول لینا۔
 — پرتگھونسہ پڑنا: اچانک کسی بات کا صدمہ ہونا۔
 — پرتکھ لینا: دل پر نقش کر لینا، خوب یاد رکھنا، دل میں جم جانا۔
 — پرتمہر کر دینا: دل کو مسح کر دینا کہ دل پراثر قبول کرنے
 کی صلاحیت مفقود ہو جائے۔
 — پرتمیل نہ لانا: خیال نہ کرنا، دل پر رنج نہ لانا، مکدر نہ ہونا۔
 — پرتمہ رکھنا: تسلی دینا، تسکین دینا۔
 — پرتمہ رکھے پھرنا: بے تابانہ پھرنا، مضطرب پھرنا، دل
 پھرتے پھرتے، بے چین پھرنا۔
 — پرتیر: (۱) دل پسند، مرغوب۔
 — پرتستا: دلدادہ ہونا، فریفتہ ہونا۔
 — پرتسند: (۱) مرغوب، پسندیدہ۔
 — پرتسینا: (۱) لازم کسی کے حال پر رحم کھانا، رحم آنا (۲)
 دکھناتیا، سخاوت پر آمادہ ہونا، سلوک کرنا۔
 — پرتکانا: چھیڑنا، تنگ کرنا، عاجز کرنا، دل جلانا۔
 — پرتکانا: صدمہ یا سخت کلیسیوں سے دل آگنا جانا۔
 — پرتکر اٹھنا: بے قرار ہو کر اٹھنا۔
 — پرتکر دتھام کر: بیٹھ جانا، کھنکھناتا، دل کو سوس کر رہ
 جانا، ہلے کہہ کر بیٹھ جانا، صدمے کے مارے بول نہ سکتا۔
 — پرتسپٹا / سپٹ جانا: دل بہتر ہو جانا، طبیعت کا متغیر

— دل آویز، مرغوب، دل نبھانے والی چیز۔
 — دل آویزی: (۱) دت، موقع، دل نبھانا۔
 — دل آگنا: دل پہنانا، عشق کرنا، دل لگانا۔
 — دل آٹھ جانا: برداشتہ خاطر ہونا، جی اچٹ جانا، جی
 اٹھنا نہ لگانا۔
 — دل اچٹ ہونا: جی آگنا، دل برداشتہ ہونا، جی نہ لگانا،
 دل بے نار ہونا، آگنا۔
 — دل اچٹ جانا: دل گھرا جانا۔
 — دل آفرور: (۱) دل کا روشن کرنے والا۔
 — دل آفکار: عکین، رنجیدہ۔
 — دل آلتھا: (۱) دیوانہ ہونا، پاگل ہونا، سوداگی ہونا (۲) دل
 گھرا نا، خفقان ہونا۔
 — دل آمند آنا: دل بھرا آنا، رونے کے قریب آنا، رقت آنا۔
 — دل باغ ہونا: دل کا بے حد خوش ہونا۔
 — دل بٹھا دینا: ہمت توڑ دینا۔
 — دل بٹھنا: (۱) آسنگ جاتی رہنا (۲) کھنکھناتا، دل افسردہ
 ہونا، ہمت کا پست ہوجانا۔
 — دل بر: عشوق، محبوب، پیارا۔
 — دل بڑا کرنا: رنجیدہ ہونا۔
 — دل بڑا ہونا: دل ناراض ہونا، جی کٹھا ہونا۔
 — دل برداشتہ ہونا: طبیعت کا ہٹ جانا۔
 — دل بڑھانا: ہمت بڑھانا، دلیر کرنا، تعریف یا حوصلے
 سے حوصلہ بلند کرنا۔
 — دل بستگی: (۱) ہوش، دل کا علاقہ، دل لگانا، جی پہننا۔
 — دل بستہ: کھنکھناتا، عاشق
 — دل بکھرنا: افسردہ خاطر ہونا۔
 — دل بند: دل کا کٹھڑا، دہشت پیارا دوست، محبوب، اولاد
 — دل بھاری کرنا: (۱) رنج کرنا، غم کرنا۔
 — دل بھٹکنا: دل ٹھکانے نہ ہونا، دل کا کہی کسی طرف کبھی
 کسی طرف مائل ہونا۔
 — دل بھیننا: دل سکڑنا، دل کا ٹھنڈا، بھکا جانا۔

— ہونا طبیعت ہٹ جانا۔
 — پھڑک جانا: دل کا خوش ہو جانا، خوشی سے بے تاب
 — پھڑکنے کا ہو جانا۔
 — پھسکنے: دل کا بے اختیار مائل ہونا۔
 — چھٹکا جانا: دل میں ملین ہونا۔
 — تازہ ہونا: دل میں فرحت ہونا، دل خوش ہونا۔
 — نڑپنا: دل کا مضطرب ہونا، اشتیاق سے بے تاب ہونا۔
 — تلنے اوپر ہونا: دل گھبرانا، مضطرب ہونا۔
 — تنگ: ملول، ناخوش۔
 — توڑنا: (۱) خاطر شکنی کرنا، مایوس کرنا، (۲) دل کو کسی چیز سے بے تعلق کر لینا۔
 — ترو بالا ہونا: دل کا بے قرار ہونا۔
 — تھوڑا ہونا: (۱) بہت ٹوٹ جانا، (۲) حوصلہ کم ہونا۔
 — ٹپوٹنا: مرضی دریافت کرنا۔
 — ٹھہرنا: دل کو تسکین ہونا، اضطراب دفع ہونا۔
 — ٹھکانے لگنا / ہونا: (۱) دل ٹھہرنا، اطمینان ہونا، (۲) یکسوئی خاطر ہونا۔
 — ٹھنڈا ہونا: تسکین ہونا، خاطر جمع ہونا۔
 — جلا: (۱) دکنا، عاشق، فریقہ۔
 — جمی: (۱) دلت، ہونٹ، بے فکری، اطمینان، تسلی، ڈھارس۔
 — جینا: جی لگنا، توجہ ہونا، کسی کام میں جی نہ لگنا۔
 — جو: (۱) پیارا۔
 — جونی کرنا: تسلی دینا، تالیفِ قلوب کرنا، دلداری کرنا۔
 — چسپ: دل بھانے والا، خوب صورت، خوش نما۔
 — چلا: (۱) بہادر جوری، بندہ، جوان مرد، من چلا، (۲) فیاض، سخی، (۳) ذی ہمت، (۴) دیوانہ، باولا۔
 — چھوٹ جانا: (۱) دکنا، بہت ٹوٹ جانا۔
 — چیر کر دکھانا: (۱) دکنا، سارے دل ظاہر کرنا۔
 — خراش: (۱) دلت، دل چھیل دینے والا، جامکاء۔
 — خواہ: مرضی کے مطابق، مرغوب، خاطر خواہ، پسندیدہ۔
 — خون ہونا: (۱) دکنا، غم اور غصہ میں مبتلا ہونا۔

— وار: (۱) دلت، صفت، (۲) تسلی دینے والا، (۳) دلبر، محبوب، شوق۔
 — داری: تسلی، تسکین، تشفی، ہمدردی، وفاداری۔
 — دونیم ہونا: (۱) دکنا، (۲) دل پر صدمہ پہنچنا، دل کے ٹکڑے ہو جانا۔
 — دھڑکنے: (۱) دل کا دھڑکنا معمول سے زیادہ ہو جانا، (۲) دکنا، (۳) زخوت و اضطراب، طرح طرح کے دوسوں سے بیدار ہونا۔
 — دھک دھک کرنا: دل دھڑکنا۔
 — دھک سے ہو جانا: دل پر اچانک چوٹ لگنا۔
 — دھکڑیکڑ کرنا: دل کا پس و پیش کرنا۔
 — دھکڑیکڑ ہونا: (۱) دل کا بچکچکا ہونا، خوف کھانا۔
 — دہلنا: خوف کھانا، دھڑکنا۔
 — دہی: (۱) دلت، دلاسا، تشفی، تسلی، (۲) دلت جوئی۔
 — دینا: (۱) دکنا، فریقہ ہونا، عاشق ہونا۔
 — دربا ہونا: (۱) دکنا، فیاض ہونا، سخی ہونا۔
 — ڈانڈا دل ہونا: دل کا بے اختیار ہونا، دل تریا بوند ہونا۔
 — ڈونڈا دل ڈونڈا جانا: (۱) تشفی، ناہمیت یا اتالی لٹلے گرا جانا۔
 — ربا: (۱) دل بھانے والا، طبع خاطر، مشوق، دلبر۔
 — ربابی: (۱) دلت، ہونٹ، دلبری، ہمشوقیت، محبوسیت۔
 — رکھنا: (۱) داری کرنا، بات مان لینا، آرزو پوری کرنا، امید برلانا، تسلی دینا، حوصلہ رکھنا۔
 — رُندھنا: (۱) دکنا، عمگین ہونا۔
 — روشن ہونا: (۱) نور و عرفان سے، (۲) دل کا ستور ہونا۔
 — ستاں: (۱) دلت، دل ربا، دل کش۔
 — سر دھو جانا: (۱) دلور اور جوش جاتا رہنا۔
 — سلگنا: (۱) دکنا، (۲) دل میں سوز و گملاز ہونا۔
 — سبھلنا: (۱) مضطرب دل کو قرار آنا۔
 — سوز: (۱) درد مند ہونا، غم، (۲) درد مند، (۳) بددعا، (۴) بددعا، (۵) بددعا، (۶) بددعا، (۷) بددعا، (۸) بددعا، (۹) بددعا، (۱۰) بددعا۔
 — سوزی: (۱) دلت، ہونٹ، (۲) بددعا، (۳) بددعا، (۴) بددعا، (۵) بددعا، (۶) بددعا، (۷) بددعا، (۸) بددعا، (۹) بددعا، (۱۰) بددعا۔
 — سے آتر نام: (۱) ناپسند ہونا، توجہ نہ رہنا، نظروں سے گزرا،
 — سے گرنا: (۱) حقیقہ ہونا۔
 — سے بائیں کرنا: (۱) دل ہی دل میں سوچتے رہنا، (۲) دل کو خفا دیکھنے کو کہنا۔

- سے بخار نکلنا؛ دل کی کدورت دفع ہونا۔
- سے دل اٹکنا، آپس میں تعلق ہو جانا، محبت ہو جانا۔
- سے دل کوراہ ہونا، (رشل) دونوں طرف محبت ہونا۔
- سے دُور کرنا؛ دل سے نکال ڈالنا۔
- سے کانٹا نکالنا { نکلتا } دل کی غلش جاتی رہنا۔
- سے گرنا؛ بے وقعت ہو جانا۔
- سے لگی ہونا؛ دل کو کسی امر کا انتہائی خیال ہونا، ہلکے ہونا، دُھن ہونا۔
- سے نکلتا؛ دکنیٹا، خلوص اور سہمی کے ساتھ کوئی بات کہنا۔
- سیاہ ہو جانا؛ خدا سے نڈرنا، ظالم ہو جانا۔
- سیر ہونا؛ کسی چیز سے دل کا بھر جانا۔
- شکستہ (دا) رنجیدہ، آزرده، افسردہ (د) دکنیٹا، عاشق۔
- شکستی؛ دل توڑنا۔
- صاف ہونا، دل سے کدورت و ملال کا رخ ہو جانا۔
- غنی ہونا؛ دل کا تو بھر جانا۔
- فریب؛ دفت، دل کو اچھا لگنے والا، دل کو بھانے والا ہونے۔
- فگار؛ دل ریش معزوں، زخمی دل، غمزدہ۔
- کا اریان نکالنا؛ دل کا حوصلہ پورا کرنا۔
- کا بادشاہ؛ دکنیٹا، خود مختار، آزاد۔
- کا بخار، غبار؛ دل کی کدورت، ملال خاطر۔
- کا کھوٹا؛ (دع) بہت پیارا، محنت جگر۔
- کا کنول کھلنا؛ شگفتہ خاطر ہونا۔
- کا کھوٹا؛ دل کا بُرا۔
- کا لہری م من مانی کرنے والا، آزاد، خوش
- مویجی { مزاج۔
- کرنا؛ بہت کرنا، جرأت کرنا، قیاضی کرنا، عداوت کرنا، بہادرگی کرنا۔
- گڑھاٹا؛ دکنیٹا، غم کرنا، افسوس کرنا۔
- کش؛ دفت، دل بھانے والا، دل پسند، خوش نما، پسندیدہ، مرغوب طبع۔
- گٹھا؛ دفت، روشن، کھلا ہوا، وسیع، فراخ، دل
- شگفتہ کرنے والا، فرحت افزا۔
- کو (میں) چمکنے لگنا؛ { دل کا بے حد بے چین ہونا۔
- کو لگنا؛ (ا) دل پر اثر کرنا، (د) دکنیٹا، دل کو خواہش ہونا، دل پر چوٹ ہونا۔
- کو لو لگنا؛ محبت ہو جانا، دُھن ہو جانا۔
- کھٹا میٹھا ہونا؛ دُھن دکنیٹا، کمالِ رغبت ہونا، جی لپکانا۔
- کھٹا ہونا؛ حوصلہ پست ہونا، دل بچاٹ ہونا۔
- کی بھڑاس؛ دل کا غبار، دکنیٹا، نکلتا کے ساتھ
- کی بھاتس؛ دل کی نکلیت یا رنج، دل کی غلش۔
- کے پھپھوٹے (د) پھپھوٹے، پھوڑنا م (ا) دد دد دل ظاہر توڑنا { کرنا، جلی کٹی باتیں
- کرنا (د) دکنیٹا، طعنہ دینا، غصہ نکالنا، بدلہ لینا، زہر اُگلنا، بُرا بھلا کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا، حسرت نکالنا۔
- کی چوٹ؛ دل کا صدمہ۔
- کی حسرت نکالنا؛ جی کی خواہش پوری کرنا۔
- کی دل میں رہ جانا؛ حسرت رہ جانا، ارمان رہ جانا۔
- کی طرح نہ کھنا؛ دکنیٹا، عزیز نہ کھنا۔
- کی کلی کھلنا؛ دکنیٹا، آرزو پوری ہونا۔
- کی گروہ / دل کی کانٹھ / دل کی گھٹی؛ دل رنجش۔
- کی لاگ / دل کی لگن؛ موتش؛ دکنیٹا، محبت، عاشقی۔
- کی لگی؛ دل کی چوٹ۔
- گدازہ؛ دفت، دل کو نرم کرنے والا۔
- گردہ؛ دفت، تاب و طاقت، جرأت، صبر، برداشت۔
- گزفتگی؛ دفت، دل کا غمگین ہونا۔
- گیر؛ دفت، غموم، اندوگیں، اداس۔
- لٹو ہونا؛ دکنیٹا، دل فرنیٹہ ہونا۔
- لگا رہنا؛ فکر رہنا۔
- لگانا؛ (ا) عشق کرنا، محبت کرنا، (د) کسی کام پھول کو توڑ کر جانا۔
- لگنا { (ا) جی بھلنا، (د) عشق ہونا، (د) لگ جانا { الغت ہونا۔

- لگی : (۱) ہنسی مذاق، چہل، معمولی بات، آسان بات، (۲) لگاؤ، محبت، دوستی، آشنائی، (۳) دل چسپی، مشغلہ۔
- لگی بازہ : ظریف، شطرنج، خوش طبع، مسخرا۔
- لوٹ ہونا : دل کا فریقتہ ہونا۔
- لہرانا : (۱) دل میں آئنگ پیدا کرنا، دل خوش کرنا، (۲) دل میں آئنگ پیدا ہونا۔
- لہو ہو جانا : دکنایتا، دل پر بہت بڑا صدمہ بھگانا۔
- لینا : (۱) کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینا، عاشق بنا لینا (۲) عندیہ لینا، منشا دریافت کرنا۔
- لہارنا : دکنایتا، باوجود عموماً ہوش کے کسی چیز سے صبر کرنا۔
- لمھی میں لینا : دکنایتا، کسی کے دل پر پورا قابو حاصل کرنا۔
- مرحوم و دضافت کے ساتھ : دکنایتا، دل، کھیا ہوا دل، بے آرزو دل۔
- ملا : مذکر، (دھو) بہنا پانا (وہ باہمی ہشتہ جو سپیلیاں آپس میں جوڑ لیتی ہیں)۔
- ملانا : راہ درسم پیدا کرنا، میل جول پیدا کرنا۔
- موم ہونا : دل کا نرم ہونا، ترس آنا۔
- موہ لینا : کسی کے دل کو قابو میں کر لینا۔
- سیلا ہونا : دکنایتا، دل میں کدورت ہونا۔
- میں آنا : خیال گزرنے۔
- میں آترنا : دل میں سما جانا۔
- میں بل رکھنا : بعض وعداوت رکھنا۔
- میں بیٹھ جانا : ذہن نشین ہو جانا۔
- میں جگہ کرنا : دل میں گھر کرنا، محبت پیدا کرنا۔
- میں جگہ ہونا : محبت ہونا، عزیز ہونا۔
- میں چہچہ جانا : دکنایتا، پسند آنا، کسی بات کا دل پر اثر کر جانا۔
- میں چٹکیاں لینا : دکنایتا، (۱) طعنے دینا (۲) درپردہ آزار پہنچانا، (۳) دل پر اثر کرنا، (۳) دل میں شوق پیدا کرنا، ابھارنا۔
- میں چور ہونا : بدگمانی ہونا۔
- میں دل ڈالنا : دھو، دوسرے کا پناسا دل بنانا، کسی کے دل پر اپنے دل کا اثر ڈالنا، اپنے دل کی بات کا دوسرے کے دل کو نشین کرنے میں ڈالنا، کسی بات کا دل میں پیدا کرنا۔
- میں راہ پیدا کرنا : دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا۔
- میں راہ نہ کرنا : کسی کے دل میں رسائی پیدا کرنا۔
- میں راہ ہونا : کسی کی محبت ہونا۔
- میں رکھنا : (۱) پوشیدہ رکھنا، غلطی ہرگز کرنا، مخفی رکھنا، (۲) کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا، (۳) دل میں خیال رکھنا۔
- میں سگائی ہونا : کسی بات کا دل میں شہتہ ارادہ ہونا۔
- میں سمجھنا : غور کرنا، جی میں سمجھنا۔
- میں کٹنا : دل میں شرمندہ ہونا۔
- میں کھینا : دل میں اثر کرنا۔
- میں گد گدی ہونا : شوخی یا شرارت سے دل میں کوئی خواہش پیدا ہونا۔
- میں گھر کرنا : (۱) دل میں رسائی پیدا کرنا، (۲) خصوصیت پیدا کرنا، اخلاص بہم پہنچانا، ربط بڑھانا، دوست بنانا، ہمدرد و غم خوار بنانا۔
- میں گھونٹنا لگنا : دل پر اچانک کوئی صدمہ ہونا۔
- میں ناسور کر دینا : دل کو ایسا صدمہ پہنچانا جو کبھی ڈالنا : دفع نہ ہو۔
- میں ہوک آٹھنا : دل میں درد پیدا ہونا۔
- میں ہول سمانا : دل میں گھبراہٹ سمانا، دل میں خوف سمانا۔
- نشین ہونا : دل میں جتنا، دل میں بیٹھنا، دل میں نقش ہونا۔
- نوازی : (دلت) دل کو تسلی دینے والا، دوست۔
- نوازی : تسلی، مہربانی۔
- والا : سخی، قیاض، بہادر، دلیر، جری، باہمت، حوصلہ والا۔
- وجان : رکنایتا، پیارا۔
- و دماغ نہ ہونا : توجہ نہ ہونا، التفات نہ ہونا۔
- ہاتھ بھر دہاتھوں : بڑھنا، دل کا قوی ہونا، ہمت بڑھنا، حوصلہ بڑھنا۔
- ہاتھ میں رکھنا : کسی کو خوش رکھنا، راضی رکھنا، قابو میں رکھنا۔

- رکھنا، تسلی دیتے رہنا۔
 — ہاتھ میں لینا؛ رکنا (تیا) اپنا مایع بنانا، فرماں بردار بنانا، تسلی دینا۔
 — ہٹ جانا؛ دل کا بے زار ہو جانا، نفرت ہو جانا۔
 — ہرا ہونا؛ دل کا تازہ ہونا۔
 — رل جانا/دل ہلنا؛ (۱) دل پر صدمہ ہونا، (۲) جمی میں رحم پیدا ہونا۔
 — ہی دل میں، اندر ہی اندر دل کے اندر چپکے چپکے۔
 — وِلی؛ (۱) خالص (۲) روحانی۔
 — وِنا؛ مذکر؛ اندرونی دشمنی۔
 — وِلیت؛ (۱) رونما ہوا، کچلا ہوا، پھیرا ہوا۔
 — وِلیت؛ مذکر؛ (۱) افلاس، محتاجی، تنگ دستی، (۲) نخواست تنگ حالی، (۳) نجس چیز، نجوس۔
 — وِلیکاٹا؛ ہندوؤں میں دیوالی کی ایک رسم، گھر کو صاف کرنا، پرنے چراغ کو ہٹا کر نئے رکھنا۔
 — وِلیت؛ (۱) مذکر؛ حضرت علیؑ کی سواری کا چتسر۔ (۲) امام حسینؑ کے گھوڑے ذوالجناح کی شبیہ۔
 — وِلیت؛ موٹھ؛ کچڑ، چملا۔
 — میں پھنسا؛ (۱) کچڑ میں پھنسا (۲) دکنا (تیا) مشکل میں پڑنا، ذلت میں پڑنا۔
 — وِلیت؛ (۱) موٹھ؛ گدڑی، پشمینہ کا لباس، وہ لباس جو اکثر درویش اور صوفی پہنتے ہیں۔
 — وِلیت؛ مذکر؛ گدڑی پہننے والا، درویش، صوفی۔
 — وِلیت؛ موٹھ؛ گھوڑے کی تیر جاں، پوریر تار۔
 — وِلیت؛ (۱) مذکر؛ ایک قسم کا سان، بیگن اور گجریا انگوڑے پتوں میں چاول اور قیمہ لپیٹ کر پکایا ہوا پکوان۔
 — وِلیت؛ (۱) موٹھا موٹھا پینا، درد رکھنا، دال بنانا، تخم یا غلے کو چکی سے نصف نصف کرنا (۲) دکنا (تیا) کسی کو تباہ کرنا، برا کرنا۔
 — وِلیت؛ (۱) مذکر؛ (۱) ڈول (۲) راصطلاح) آسمان کا گمار حواں بُرج۔
 — وِلیت؛ (۱) وِلیت؛ حرات میں بے جا داخل دینے والا۔

د - لا

- دُلا؛ (۱) مذکر؛ لاڈ، پیار۔
 — دُلا؛ (۱) مذکر؛ پیارا، لاڈلا، عزیز۔
 — دُلا؛ (۱) موٹھ؛ پیاری، لاڈلی۔
 — دُلا؛ مذکر؛ تسلی و تشفی، تسکین۔
 — دُلا؛ (۱) مذکر؛ (۱) آڑھتیا، سودا کرنے والا، بیچنے والا اور زمینے والے میں واسطہ کا دینے والا۔ (۲) بھر دا، کھٹنا۔
 — دُلا؛ موٹھ؛ کٹنی عورت۔
 — دُلا؛ موٹھ؛ آڑھت، مال کھولنے کی اجرت، دلالی کا پیشہ۔
 — دُلا؛ (۱) موٹھ؛ (۱) نشان، علامت، (۲) پتا، سراغ۔
 — دُلا؛ (۱) دلیل ثبوت (۲) منطق کی ایک اصطلاح (۳) دھو رعب، عظمت، شان و شوکت، (۴) اطلاق بولا جانا، ماندا ہونا۔
 — دُلا؛ (۱) دیکھو دالان۔
 — دُلا؛ (۱) دلا، امانت کرنا۔ (۲) پیدا کرنا۔

دلاور : (د) بہادر، شجاع، جوان مرد۔
 دلاوری : (د) ہوش، (ا) شجاعت، بہادری، جوان موی، (۲) جرأت، دلی۔
 دلائل : (د) مذکر، ہوش، جمع دلیل کی۔
 دلائی : ہوش، دہرا رضائی۔

د-م

دوم : مذکر، (ا) سانس، نفس، (۲) افسوس، منت، دعا کے لفظ
 یا جاوے کے پتھر، (۳) دھوکا، فریب، مکر (۴) تلوار کی دھارا، (۵)
 روح، جان (۶) ذات، نفس، (۷) حقے کا دھواں، حقے کا
 کش، (۸) لمبے پل، منٹ، لحظہ، وقت، (۹) کنٹائی، طاقت، قوت۔
 آخر ہو جانا : مر جانا۔
 آنکھوں میں ہونا : نزع کا عالم ہونا۔
 اٹکنا : سانس کا سینے میں رکننا، سانس کا نزع کے وقت
 آنکھوں یا سینے میں ٹھہرنا۔
 اکھڑنا : سانس اٹنا، سانس کا بے قاعدہ چلنا۔
 اٹنا : (ا) دم گھبرانا، سانس رکننا، (۲) نزع کے وقت سانس
 کا اکھڑنے لگنا۔
 باز : (د) مذکر، فرتی، دھوکے باز، مستار، (۲) جلیہ ساز
 جلیہ گر، (۳) حقے کا دم لگانے والا۔
 باقی نہ ہونا : (ا) سانس باقی نہ رہنا، (۲) کنٹائی، حوصلہ نہ رہنا۔
 بہ خود : (د) خاموش، ساکت، چپ۔
 بہ دم : (د) گھڑی گھڑی، ہر وقت، برابر، ہر لحظہ۔
 بند ہونا : (ا) کنٹائی، خاموش ہونا، چپ رہنا، خوف یا
 دہشت کے مارے بات نہ کر سکتا، (۲) دم رکننا، سانس
 رکننا (۳) جی گھبرانا۔
 بولانا : جی گھبرانا، وحشت ہونا۔
 بھر : ذرا دیر، لمبے پل بھر۔
 بھراتا : (ا) پہلوؤں کا شاگردوں کے ساتھ زور کر کے
 ان کو تھکانا، (۲) کبوتر کے پوٹے میں ہوا بھرتا۔
 بھڑنا : (ا) سانس پھوٹنا، سانس چڑھنا، تھلکا، ہارنا،
 (۲) کنٹائی، محبت کا دھوکا، کسی کو ہر وقت یاد کرنا، کسی

کی ہر وقت ثنا و صفت کرنا، (۳) بھروسا کرنا، کسی کا آسرا کھٹانا۔
 بچخت : (د) مذکر، (ا) دیگ کی بھاپ روک کر پکایا ہوا کھانا،
 پتیلی کا منہ خام کر کے پکائی ہوئی چیز، مرغ کے پیٹ میں رکھ کر
 پکائی ہوئی چیز، (۲) ایک قسم کا بلاؤ۔
 بچخت ہو کر رہ جانا : (کنٹائی) ناخوش ہو کر چپ ہو جانا۔
 پر آنا : کھانے کا تیاری پر آنا، بھاپ میں گلنے کے قریب آنا۔
 پرین جاننا : دم پر بننا : (کنٹائی) جان پر آہٹ،
 ہلاکت کے قریب پہنچنا۔
 پر چڑھانا : دھوکا دینا، فریب میں لانا۔
 پر چھوڑ دینا : کھانے کو کولوں کی دھمی اسیخ پر چھوڑ دینا۔
 پھوٹنا : سانس چڑھنا، سانس نہ سمانا۔
 پھونکنا : روح ڈالنا، سانس ڈالنا، جسم میں جان ڈالنا۔
 توڑنا : جان کنی ہونا، سانس اکھڑنا، ہرنا، جان دینا۔
 ٹوٹنا : (ا) سانس اکھڑنا، ہرنا، (۲) سیراک کا سانس پر قادر
 نہ ہونا، سانس کارک جانا، دم کا بھر جانا۔
 بھراتا : (ا) اپنے تئیں مردہ ظاہر کرنے کے لیے سانس روک
 لینا، جس دم کرنا (۲) ٹالنا، پہلو تہی کرنا، کسی کا کام کرنے سے
 بھاگنا، جان بھرتا۔
 چڑھنا : ہانپنا، خلاف معمول سانس کا جلدی جلدی چلنا۔
 خشک ہونا : خوف کھانا، عیب غالب ہونا، خوف سے دم فٹا ہونا۔
 خم : مذکر، (ا) تاب و طاقت، زور، قوت، مضبوطی (۲) تلوار
 اور خنجر کی دھارا اور ٹپک (۳) اوسان، حماس، ہوش۔
 ڈار : (ا) جان دار، مضبوط، (۲) باز، دھار دار، دھار دار۔
 (۳) ٹپک دار۔
 ڈاعینہ : مذکر، دعوے، حوصلہ، ارادہ، اقتضا۔
 درود نہ ہونا : ذرا طاقت نہ ہونا، قریب مرگ ہونا۔
 دلاسا : مذکر، سبکی چٹری، باتیں، تسلی۔
 دھلکی میں ہونا : نزع کا عالم ہونا۔
 دینا : (ا) قریب دینا، بھگانا، دھوکا دینا، دم میں لانا، (۲) مر
 جانا، جان کا نکل جانا، (۳) عاشق ہونا، فریفتہ ہونا، (۴)
 بلاؤ پکانا، بادل پکانا، بھاپ پھوڑنا، (۵) تلوار کو خم کر کے میل

لینا۔ (۳) نہایت فریفتہ ہونا۔ (۴) خوف غالب ہونا۔
 — واپس / دم پسین : (۱) اضافہ کے ساتھ آخری دم، آخری سانس۔
 — ہونا : (۱) دم پختہ ہونا، (۲) حوصلہ ہونا، بہت ہونا۔
 — ہونٹوں پر آنا : نزع کا عالم ہونا۔
 دم : (۱) ریح، مذکر؛ (۲) خون، لہو، (۳) جان روح، زندگی، حیات۔
 دم الاخویں : موت؛ ایک قسم کے شرح گوشت کا نام جو ذوا میں استعمال ہوتا ہے۔
 دموی : خون کی زیادتی سے پیدا ہونے والی بیماری۔
 دموی مزاج : جس شخص کے مزاج میں خون کی غلط غالب ہو۔
 دم : موت؛ (۱) پونچھ، دنبالہ (۲) پچھلا حصہ، (۳) پیرو، پیچھے لگنے والا۔
 — چھلا : مذکر؛ دنبالہ، دم گزا، ساتھ ساتھ لگا رہنے والا۔
 — جی : موت؛ گھوڑے کی دم کے نیچے رکھ جانے والی ساز کا قسم۔
 — دار تارا : مذکر؛ ایک تارا جس کو جھاڑو بھی کہتے ہیں۔
 — دبا کر بھاگنا : دب کر بھاگنا، ڈر کے مارے بھاگنا، چل دینا، پیٹھ دکھانا۔
 — کے پیچھے پھرنے : ساتھ ساتھ لگا پھرنے، پیچھے پیچھے پھرنے، کے ساتھ پھرنے، ساتھ ساتھ رہنا۔
 گزار : (۱) پچھلا، چھوٹی لٹکیاں لگانے کی دمٹی (۲) بکری، بکرے کے دم کا گوشت (۳) کنیا، ہر وقت ساتھ رہنے والا۔
 — میں گھسنے : خوشامد میں رہنا، پیچھے لگا رہنا۔
 — میں شہد ادرسا : پاندھنا؛ (۱) بچوں کو شہادت سے روکنا۔
 (۲) کنیا، معنی کا پھل پھلانا۔
 — بلانا : (۱) گنتے کا خوشامد کی علامت ظاہر کرنا، (۲) خوشامد کرنا، چالپوسی کرنا۔
 دم و دم : (۱) پے در پے، متواتر۔
 دماغ / دماغ : مذکر؛ (۱) مغز، بھیجا، سر کا گودا، (۲) کنیا، غرور، تکبر، گھنڈہ، (۳) سمجھ، عقل، دانائی، فہم (۴) تاب، برداشت، رہ، ہوش و حواس، ادا سن۔
 — آسمان پر ہونا : مغرور ہونا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔
 خیالات اونچے ہونا۔

ہونے کی جانچ کرنا، (۲) کسی بچی ہونی خول دار چیز میں منہ کی ہوا سپنچا کر چھلانا۔
 — سرگنا : (۱) دم گھٹنا، سانس کا گرفتہ ہونا، ضیق نفس کا اعراض ہونا، (۲) بول گھبرانا، گھبرانا، دم الٹا، تنگ آنا، عاجز آنا۔
 — ساوھنا : جس دم کرنا، سانس ضبط کرنا، سکوت اختیار کرنا، حرکت نہ کرنا۔
 — ساز : مذکر؛ (۱) ہدم، رازدار، دوست (۲) گانے یا نفیری وغیرہ میں آس دینے والا۔
 — سوکھا : ڈرنا، دم خشک ہونا۔
 — شماری : موت؛ مرتے وقت کی سانسیں گنا ہرنے میں چند سانسیں رہ جانا۔
 — عیسا / دم عیسوی : (۱) اصافت کے ساتھ حضرت عیسا کی پھونک سے مراد زندہ ہو جانا، حضرت عیسا کا جڑو صحت بخش جان دلنے والا۔
 — غنیمت ہونا : متبرک ہونا، قابل قدر ہونا۔
 — فنا ہونا : (۱) جان بھگنا جان جانا، (۲) زنا خوف کھانا، محراب ہونا۔
 — قدم : مذکر؛ حیات، زندگی، سلامتی، ہستی، وجود۔
 — قدم سے لگا رہنا، وابستہ رہنا، ساتھ نہ چھوڑنا۔
 — قدم کی خیر : دوائے فقیر، جان و مال کی سلامتی۔
 — کا دماغ ہے : (دش) دم کے ساتھ دنیا کی رونق ہے۔
 — کا دھاگا : (استعارہ) سانس سے۔
 — کرنا : منتر یا دعا پڑھ کر بھونکنا۔
 — کش : بھگانے بھگانے میں دوسرے کی آواز ملانے والا۔
 — کھانا : کھانے کی دیگ یا دیگی کو کولوں کی دمٹی، آج پھوڑنا۔
 — لگانا : کش پھینچنا، حقہ پینا، حقے کا گھونٹ لینا، پیرس اڑانا۔
 — لینا : (۱) سانس لینا، (۲) آرام لینا، تھوڑی دیر کام کر کے سستانا، توقف کرنا، قیام کرنا، (۳) ماننا، بانگنا، چکارہ پنا۔
 — مارنا / دم بھرنا : شیخی مارنا، دھا کرنا۔
 — میں آنا : دھوکے میں آنا۔
 — میں دم آنا : پڑھ مروی دور ہونا، اطمینان حاصل ہونا۔
 — بھگنا : جان بھگنا، روح بھگنا، مزاج، نزع میں ہونا، اخیر سانس

دماغ اڑنا؛ سخت بدبو آنا۔

— چھڑنا؛ دکنا (تیا) غرور و غرور ہونا۔

— چرخ پر چڑھ جانا؛ دکنا (تیا) غرور ہونا۔

— چل جانا؛ دکنا (تیا) اتر جانا، سڑی ہو جانا۔

— دابر؛ مغرور، متکبر۔

— روشن؛ مذکر؛ ناس، ہلا س۔

— سوزمی؛ دماغی محنت۔

— عرش پر ہونا؛ بے حد غرور ہونا، اونچے خیالات رکھنا۔

— کرنا؛ دکنا (تیا) اترنا، غرور کرنا، تمکنت کرنا، خاطر میں نہ لانا۔

— نہ ملنا؛ نہایت متکبر ہونا، غرور سے کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا

— نہ ہونا؛ برداشت نہ ہونا۔

— ہونا؛ غرور ہونا، تمکنت ہونا۔

— دماغی؛ (۱) دماغ سے نسبت رکھنے والا، (۲) مغرور، دماغ دار۔

— دماغہ؛ (۱) مذکر؛ (۲) نقارہ (۳) عموں رونق، چہل پہل۔

— دُمدَر؛ (۱) مذکر؛ مصنوعی قلعہ، مورچہ، دُوس، لڑائی کے

وقت تھیلوں میں خاک بھر کر بنایا ہوا قلعہ۔

— باندھنا؛ مورچہ بندی کرنا۔

— دمڑی؛ مرثیہ؛ (۱) پرانے پیسے کا چوتھا حصہ، چھدام (۲)

چوتھا حصہ، جوتھانی۔

— کی بڑھیا؛ نکاس مرندانی (۱) (دش) اصل قیمت کم اور

— کی بلبیل؛ نکاس ہشکائی (۱) (دش) زیادہ، وہ چیز جس پر

قیمت سے زیادہ دوسرا خرچ بیٹھے۔

— کے تین تین؛ دکنا (تیا) نہایت اڑنا، کوڑیوں کے مول۔

— کی لاندھی؛ لیتے ہیں تو اسے بھی ٹھونک بجا کر لیتے ہیں؛

(دش) ہر ایک کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

— کی لاندھی گئی؛ کتے کی ذات پہچانی؛ (دش) کسی قدر

نقصان ہوا مگر تھوڑا سا حاصل ہو گیا۔

— نہ جائے پر چھڑی جائے؛ (دش) بڑا بخیل ہے، ایذا

سہتا ہے لیکن کوڑی خرچ نہیں کرتا۔

— دُنگ؛ موت، چمک، درخشندگی، تہتاہٹ، چہرے یا

سونے کی چمک۔

دُکنا؛ چمکنا، جھلکنا، درخشاں ہونا، تالیاں ہونا۔

— دُمل؛ دُغلی، بغیر منہ کا پھوٹا۔

— دُمن؛ موت؛ نل کی مشوٹہ جو ہندوستان کے ایک راجہ

کی بیٹی تھی۔

— دُمرہ؛ مذکر؛ سائس کاروگ، ہنیق النفس۔

د - ن

— دُن؛ موت؛ (۱) توپ بندوق چھوٹے کی آواز، (۲) تڑاق۔

— سے؛ تڑاق سے۔

— دُنا دُن؛ توپ بندوق کی متواتر آواز، چوٹ یا ضرب کی پٹے

در پٹے آواز۔

— دِن؛ مذکر؛ (۱) روز، (۲) زمانہ، دُور، وقت، (۳) موسم،

رُت، (۴) ساعت، تاریخ۔

— آنا؛ (۱) موسم آنا، رُت آنا، (۲) وقت آنا، وقت مقررہ

کا آنا۔ (۳) ایام حیض آنا، (۴) دن چڑھنا، (۵) موت آنا۔

— بھڑنا؛ مصیبت کے دن پورے کرنا، مصیبت میں بسر کرنا،

عمر کے دن پورے کرنا۔

— بھلے آنا؛ اچھا زمانہ آنا، خوش اقبال کا زمانہ آنا۔

— پہاڑ سا کٹنا؛ بڑی وقت سے دن گزرنے کا شکل دن تہم پہ

— پھرنے؛ اقبال کے دن آنا، مصیبت کا زمانہ کٹ جانا، بُری

حالت سے اچھی حالت ہو جانا۔

— زیر کرنا؛ زندگی بسر کرنا، عمر بسر کرنا۔

— چڑھنا؛ (۱) دکنا (تیا) آفتاب کا بلند ہونا، (۲) دریلگنا،

زمانہ گزرنے (عموماً حیض) (۳) حساب سے کسی

دن کا زیادہ ہونا۔

— چڑھے؛ خوب دھوپ پھیل جانے کے بعد، جس وقت

دن اجمعی طرح نکل آئے۔

— دُونار ات چوگنا؛ کسی کام میں بہت ترقی ہونا۔

— دُہارے؛ دن دُوپہر؛ دن میں سب کے سامنے،

کھلے خزانے، علانیہ۔

— دُوپہرے؛ دن دُہارے۔

- دِن دیکھنا؛ بَری نوبت تک پہنچنا، روزِ بَد کا سامنا ہونا۔
 دیکھانہ رات؛ وقت بے وقت کا لحاظ کیے بغیر۔
 رات؛ شب و روز، ہر وقت۔
 رات سولی پر گزرنَا؛ ہر وقت بے چین رہنا۔
 ر سہے؛ وہ وقت جب تموڑا دن باقی ہو، شام، دن کا آخری حصہ۔
 سیدھے ہونا؛ اقبال یا ور ہونا۔
 کاٹنا؛ مصیبت سے زندگی بسر کرنا، زیادہ بسر کرنا، دن گزارنا۔
 کوتارے دکھانا؛ دماغی صدمہ پہنچانا جس سے آنکھوں کے سامنے ترہرے سے آجائیں۔
 کوتارے نظر آنا؛ (۱) نظر بہت تیز ہونا، (۲) دن میں تاریکی ہونا (۳) دکناہیت، بے انتہا پریشان ہونا، بدحواس ہونا۔
 کو دِن اور رات کو رات نہ جاننا / سمجھنا؛ کبھی کام میں رات یا دن کی پروانہ کرنا، آرام سے کام نہ کرنا، جو بخت شقت کرنا۔
 کی پوچھی رات کی بتانی؛ بے تکیا جواب دینا۔
 گننا؛ دکناہیت، سخت استغراب کرنا۔
 گیا کہ رات؛ (دش) ہر وقت متوقع حاصل ہے۔
 گننا؛ اترا نا، گھنڈ ہونا، نخوت و غرور سیدھا ہونا۔
 دنوں سے اتر جانا؛ دعو عمر سے دھلنا، جوانی کا گزرنَا۔
 دُتا؛ (۱) موٹا، مضبوط، دھار، بڑا، نڈر۔
 پیل؛ قوی ہیکل، زبردست۔
 سیٹھ؛ مذکر، بڑا سیٹھ (طنز) مغرور۔
 دناہیت؛ برع، موٹ، کمینہ پن، حقیر ہونا۔
 دُنبال / دُنبالہ؛ مذکر، (۱) پچھلا حصہ، پیچھے (۲) چارپائی کی دُم، (۳) آنکھ کا گویا، آنکھ کے نوٹے سے آگے تک بڑھی ہوئی شرم کی لکیر، (۴) کشتی یا جہاز کا پچھلا حصہ۔
 دُنبال دار؛ گتھے دار، دُم دار۔
 دُنبل / دُنبل؛ (د) مذکر، پھوٹا، دل دار، پھوٹا، بیوقوف کا پھوٹا۔
 دُربنہ؛ (د) مذکر، ایک قسم کا مینڈھا۔
 دُنت؛ مذکر، دانت کا مختلف۔
 کھو دنی؛ موٹ، بخلا۔
- دُتیللا؛ مذکر، (۱) بڑے دانتوں کا اٹھی، بڑے دانت والا آدمی۔ (۲) ذمہ دار۔
 دُند؛ مذکر، موٹ؛ (۱) بڑا نقارہ، دھوٹا، (۲) غل شدہ (۳) اندھیر، ظلم و ستم۔
 مچانا؛ (۱) شور و غل مچانا، (۲) اندھیر کرنا، ظلم ڈھانا۔
 دُندان؛ (د) مذکر، دانت۔
 ساز؛ مصنوعی دانت بنانے والا۔
 شکن جواب؛ مذکر، خاموش کر دینا، الاحباب، ایسا جواب جس کا جواب نہ بن پڑے۔
 نما؛ (د) نمایاں، ظاہر، آشکارا۔
 دُندانہ؛ (د) مذکر، (۱) آسے کا خار، دانتا پھری یا لہو دھو کی دھار میں جو دانت بڑ جائیں، (۲) دانتوں کے مشابہ چیز (۳) ہر چیز کا ننگرہ (۴) کنگھی کے دونوں جانب کے دندانے۔
 دُندانہ؛ خوشی منانا، مزہ اُڑانا، عیش کرنا۔
 دُند؛ مذکر؛ (۱) دُند، جرمانہ، تادان (۲) ہانڈ۔
 دُنکا؛ مذکر، اناج کا دانہ، (د) دانے کے ساتھ مستعمل ہے)۔
 دنگ؛ (د) حیران، ہکا بکا۔
 دُنکا؛ مذکر؛ (۱) اڑانی، جھگڑا، فساد، فتنہ (۲) ہنگامہ، بناوٹ، شرارت و ننگھی، لڑاکا، جھگڑا، شریر، فساد۔
 دُنجل؛ مذکر؛ (۱) کشتی (۲) کشتی لڑنے کی جگہ، اکھاٹا، (۳) بیٹھ، مجمع، انبوه۔
 دُنجا؛ (د) کشتی میں کشتی لڑنے کے لیے اترا۔
 دُنو دھا / دُنو دھی؛ دُنو دھا کا تعلق دن کو کم دکھائی دینے کا۔
 دُنی؛ (د) سفید، کمینہ، رذیل۔
 دُنیا؛ (د) موٹ، (۱) جہاں، عالم، دہر (۲) دُنیا کے لوگ۔
 دُنکوں میں اندھیر ہو جانا؛ کچھ سمجھائی دینا، سنگ دُم میں ڈوب جانا۔
 پہ امید قائم (دش)؛ انسان امید کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے۔
 بھر گے آخور؛ موٹ؛ نہایت بکٹی، ناقص چیز۔
 بھر گئی باتیں؛ موٹ؛ فضول باتیں۔

دُنیا بھر کے جتن : مذکر؛ سب طرح کی تدبیریں۔

پرست : (ف) دُنیا دار۔

جہان : مذکر؛ تمام عالم۔

چھانٹنا : بے حد جستجو کرنا۔

دار : تعلقات دُنوی میں گھرا ہوا آدمی، چالاک آدمی۔

ظاہری اخلاق کا آدمی۔

سبازی : مونث؛ بناوٹ، نمائش، اوپری دل سے کچھ کرنا۔

سے اٹھ جانا / دُنیا سے جانا / ہونیا سے چلنا / ہر جانا،

سے سدھارنا / دُنیا سے کوچ کرنا / دُنیا سے گزرنانا پسید

ہو جانا۔

سے دل اٹھانا : تبارک اللہ نیا ہونا۔

سے دل سرد ہو جانا : دُنیا کی باتوں سے طبیعت کی

اُٹنگ جاتی رہنا۔

غرض کی ہے : (مقود) مطلب نکل جانے کے بعد کوئی

کسی کو نہیں پوچھتا۔

کا کہنا : سب لوگوں کا کہنا۔

کی ٹھوکریں کھانا : مارا مارا پھرنانا۔

کے عیب : ہر قسم کے برے عیب۔

کے کتے : دکنائیا، دُنیا کے طلکار۔

کی ہوا لگنا : دُنیا کا اثر ہونا، دُنیا وی خواہشوں کا

ہونا، دُنیا کا مزہ پڑنا، دُنیا میں آنا۔

مردہ پسند ہے : (ش) اکثر آدمی مرے ہوئے کی بے جا

تعریف کیا کرتے ہیں۔

و ما فیہا : دُنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔

و ما فیہا کی خبر نہیں : کسی چیز کا ہوش نہیں۔

دُنیاوی / دُنوی : (ع) صفت؛ دُنیا سے منسوب، دنیا کا۔

دُنیا ئے دور روزہ : (ف) مذکر؛ فنا ہو جانے والی دُنیا۔

دُنیا کے دُئی / دُول : (ف) مونث؛ کہنی دُنیا۔

و - و

دو : (ا) ایک اور ایک کا مجموعہ، جفت، جوڑا، (۲) چند۔

(۳) دکنائیا، الگ، جدا، غیر۔

آب / دو آبہ : مذکر؛ دو دریا کے بیچ کی زمین۔

آتشہ : شراب یا عرق جو دود فہ آگ پر رکھ کر پکھنیا

گیسا ہو، تند، تیز۔

آتشہ پلانا : دکنائیا، بھڑے پر چڑھانا، خوب

اشتعال دینا؛

آشسانہ : (ف) مذکر؛ ایک قسم کا دُہرے درجے کا

تنبو، دو گروں کا ڈیرا۔

آفسو گرانا : دو آفسو سہانا : تھوڑا سا رونا۔

آبکیاں ماتھے پر رکھنا : دکنائیا، دعو سلام کرنا۔

آنی : مونث؛ پیرانا اٹھ پیسے کا سکتہ، دو آنے۔

ایک / دو اک : چند، دو چار، دو تین۔

باتیں / دو دو باتیں : تھوڑی سی بات چیت۔

بارہ : دوسری مرتبہ، دوسری دفعہ، مکرر۔

بالا : دونا، دو چند، دُگنا، دُگنی۔

بول : مذکر؛ (ا) دو لفظ، (۲) نہایت مختصر۔

(۳) دکنائیا، کج کا خطبہ۔

بھاشی : (لا) مذکر؛ دوزبان جاننے والا، مترجم، ترجمان۔

بنی : (ف) مونث؛ ایک چیز کو دو دیکھنا۔

پارہ : (ف) دو ٹوک، پٹھا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے۔

پائے کا تعویذ / دو پائے کا نقش : (ما ملوں کی اصطلاح

ایک مثلث نقش کا نام۔

پٹا : مذکر؛ (ا) دو پاٹ کی چادر، (۲) عورتوں کی ایک قسم

کی اور (۳) مردوں کی کمر میں باندھنے کی چادر۔

پٹاتان کے سونا : بے فکری سے سونا، گھوڑے بیچ

کے سونا۔

پٹا چھننا : دُٹے میں چتتیں ڈالنا۔

پُشتہ : دور رخا، دوطرفہ، دونوں رخ چھپا ہوا۔

پٹوسی : مونث؛ ایک قسم کی ٹوپی۔

پلکا : مذکر؛ (ا) اٹکھٹی بنانے کا ایک قسم کا پتھر، (۲) ایک

قسم کا گیند، (۳) ایک قسم کا پتنگ (۴) ایک قسم کا بوتل۔

- کلی : موتھ؛ دوپڑی۔
 پہر / دوپہریا : موتھ؛ دن کے بارہ بجے کا وقت، آفتاب کے خط نصف النہار پر سونے کا وقت۔
 پہریا : مذکر؛ ایک قسم کا دوپہر کو کھلنے والا پھول۔
 پیازہ : (د)؛ مذکر؛ وہ سالن جس میں دو دفعہ پیاز ڈالتے ہیں اور ترکاری نہیں ڈالتے۔
 پیسکر : (ا)؛ آسان میں جڑواں لڑکوں کی شکل کا تیسرا بڑھ، (۲)؛ تلوار کی صفت۔
 تنا : (د)؛ خمیدہ، منحنی، کپڑا، ٹیڑھا، دہرا۔
 تارا : مذکر؛ ایک قسم کی دو تار کی چھوٹی سازنگی۔
 تانی : موتھ؛ قبا کے نیچے پہنا جانے والا کرتا۔
 تہی : موتھ؛ ایک قسم کا کپڑا جو بستر کی طرح دوہرا کھیا جاتا ہے۔
 تین : چند۔
 ٹکڑیں مارنا : جلدی جلدی نما زپڑھ لینا۔
 ٹوک بات : صاف صاف بات، وہ بات جو مگی لپٹی نہ ہو۔ قول فیصل۔
 ٹوک جواب دینا : صاف انکار کرنا، صاف جواب دینا مختصر جواب دینا۔
 ٹوک ہونا : دوستی القط ہونا، فیصلہ ہونا۔
 جہاں / دو عالم / دوسرے / دو گیتی : مذکر؛ دنیا اور عالم آخرت۔
 جہاں سے کھو دنیا : بے کار کر دینا، کسی کام کا نہ رکھنا دین کا نہ دنیا کے کام کا رکھنا۔
 جی سے ہونا : (دو)؛ حاملہ ہونا، پیٹ سے ہونا۔
 چار : چند، دو ایک، دو تین۔
 چار ہونا : آسنا سنا ہونا، ملاقات ہونا۔
 چمڑ : (۱)؛ (د)؛ موتھ؛ دو مکانوں کی آپس میں ملی ہوئی دو دیواریں۔
 چشمی (دھ) : دو آنکھوں کی دھ، یہ دھ اب ہندی حروف کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے جیسے بھا، جھا، چھا وغیرہ۔
- چلو میں بہک جانا : رکنا (تھا) تھوڑی سی شراب پی کر بہک جانا۔
 چند : دونا، دگنا، دسرا، ڈبل۔
 چنداں : دو چند۔
 چوبہ : مذکر؛ دو چوب کا خمیہ۔
 حرف : مذکر؛ تھوڑا سا۔
 حرف بھینجا رکنا (تھا) : لعنت بھینجا، لعنت کرنا۔
 حرفی : نہایت مختصر۔
 رستہ : دونوں طرف۔
 دل راضی تو کیا کرے گا قاضی : (دش)؛ فریقین کی رمانندی میں حاکم دخل نہیں دیتا، دو شخص متفق ہوں تو تیسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
 دو چوڑی ہیں : (ا)؛ (دو دو تو کیں (۲)؛ لہکی سی زبانی جھڑپیں۔
 دو منہ آنا : (دہلی)؛ آواز سے کسنا۔
 دو ٹوکس ہونا : باہم تھوڑی سی سخت کلامی ہونا۔
 دو ہاتھ ہو جانا : لڑائی ہو جانا۔
 دھارا : مذکر؛ (ا)؛ دہری بازہ کا خنجر، دہری بازہ کی تلوار (۲)؛ دریا کی دو شاخوں میں بٹنے والی جگہ۔
 دن کی چاندنی : جشن چند روزہ، دولت بے ثبات، چند روزہ اقبال۔
 دلہ : (د)؛ شفلہ، سراسیمہ، شکی، وہمی، وسواسی۔
 دلی : موتھ؛ تذبذب۔
 دم : دہری دھار کی تلوار۔
 دن کا مہمان : مہمان چند روزہ، ماضی، فانی، ناپائیدار۔
 دورا با : مذکر؛ دو راستوں کے ملنے کی جگہ، راستے کی دو شاخیں چھوٹنے کی جگہ۔
 رُخا : مذکر؛ (ا)؛ (دو)؛ (۲)؛ دورنگا منافق، دونوں طرف ہو رہنے والا شخص۔
 رُخی (تصویر) : موتھ؛ دونوں رُخ نظر پڑنے والی تصویر۔

— غزولہ : مذکر؛ ایک بھر رویت تانیہ میں دو غزلیں۔
 — فصلہ : مذکر؛ (۱) دو فصلوں والا درخت، (۲) کناٹا
 یکسوئی نہ رکھنے والا، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔
 — فصلی : مؤنث؛ (۱) فصل میں دو بار بھیل دینے والا درخت۔
 (۲) سال میں دو بار بونی جانے والی زمین۔
 — فصلی بائیں : (۱) ایسی باتیں جن میں دو پہلوں کو کھتے ہوں
 (۲) ایسی باتیں جن کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ۔
 — قلم کرنا : دو ٹکڑے کرنا۔
 — کورٹی کا آدمی : نہایت بے وقعت آدمی۔
 — گانہ : دو گانہ، (۱) دو رکعت نماز (۲) عید کی نماز۔
 — گز زمین : (کنایتاً) قبر کی زمین۔
 — گونہ : دو قسم کا، دو طرح کا۔
 — گھڑی : تھوڑی دیر۔
 — لٹی مانا / دولتی پھینکنا : چوپائے کا بھیل ٹانگیں
 اٹھا کر لات مارنا۔
 — لگانا : (کنایتاً) دو جوتے مارنا۔
 — ملا میں مرغی حرام س (دش)، دو ہم دھا اور ہم پیشہ
 فرور آ آدمیوں میں کام بگڑ جاتا ہے۔
 — دو آدمیوں کی بحث و تکرار سے اصل مطلب فوت ہو جاتا ہے۔
 — منہا / دو منہی / دو مؤہسی : دو منہ کا سانپ۔
 — میں نیسرا آنکھوں میں ٹھیکرا : (دش)، اجنبی آدمی
 سخن صحبت ہوتا ہے۔
 — نالی : مؤنث؛ دونالی والی بندوق۔
 — نوالے : دو نئے، تھوڑی سی خوراک۔
 — ورتی : مؤنث؛ (۱) دو ورق کی کتاب، چھوٹی سی کتاب۔
 (۲) فسرج، قبل۔
 — ورتی کا سبق پڑھنا : جمع کرنا، عیاشی کرنا۔
 — وقت ملنا / دونوں وقت ملنا : شام ہونا،
 جھٹ پٹا ہونا۔
 — وقتہ : دونوں وقت۔
 — ہا / دوسرا : مذکر؛ چروائی، ہندی نظم کی بیت۔

— رسا، مذکر؛ نمیرہ ملا ہوا تسم کو، دو قسم کا ملا ہوا
 تمباکو۔
 — رستم : درویش۔
 — رنگی : مؤنث؛ (دوئی، مغائرت ہے کنگی، مکاری،
 رُو، دوزخ کا۔
 — روزہ : (کنایتاً) تھوڑی مدت۔
 — رؤیہ : (۱) دوزخا، دوزخگا، (۲) دوطرفہ دونوں
 جانب سے (۳) منافق
 — زانو : گھٹنوں کے بل۔
 — زانو بیٹھا : گھٹنوں کے بل بیٹھا، موثر بانہ بیٹھا۔
 — ساز ہونا : تیر کا بیوست ہونا، تیر یا نیزے کا بدن
 کے پار ہونا۔
 — ساہی : دو فصل، دو فصلیں اگانے والی زمین۔
 — سٹنے : ایسے چکلے جن کے دو جواب ہوں۔
 — سسرا : دونوں جہاں۔
 — سر بلو ادینا : نکاح بیاہ کروادینا۔
 — سوتی : مؤنث؛ دوہرے سوت کا بنا ہوا، ایک قسم
 کا کپڑا۔
 — سے تین بھلے : (مقولہ) تیسرے شخص سے مدد زیادہ ہو
 گی۔
 — شاخہ : مؤنث؛ (۱) دو شاخوں کی لکڑی، (۲) دو
 شاخوں کا درخت (۳) شمع دان۔
 — شالہ : مذکر؛ قیمتی چادر، جوڑا، دو شالوں کا جوڑا۔
 — شالے میں لپیٹ کر لگانا : (کنایتاً) درپردہ ذیل
 کرنا، عمدہ الفاظ میں بھوک کرنا۔
 — شنبہ : پیر اتوار کے بعد والادن۔
 — طرف / دوطرفی : درویش، دونوں طرف، دونوں
 جانب۔
 — عالم : مؤنث؛ دو جہاں۔
 — علم / دو علم : مذکر؛ دو شخصوں کی حکومت، دو
 آدمیوں کی ملکیت والا مکان یا کوئی دوسری شے۔
 — عمل : مؤنث؛ گزور حکومت، بدستحالی۔

- دوئی: موتھ، دو سمجنا، شرکت، غیریت۔
 ڈالنا: لڑائی کر دینا، جگا لڑ دینا، اُن بن کر دینا۔
 کاپرہ اٹھ جانا، غیریت مٹ جانا۔
 دونوں آنکھیں برابر ہیں: (مقولہ) دو فریقوں میں کسی کی
 ترجیح کی کوئی وجہ نہیں۔
 تلے برابر ہونا، کسی کی طرف کمی بیشی نہ ہونا۔
 دو ٹانگوں میں سر کر دینا: (کنایتاً) سزا دینا، ٹھیک بنانا۔
 دونوں دین سے گئے پانڈے حلوانہ ملا مانڈی (مانڈے):
 (دش) کہیں ٹھکانہ نہیں رہا، ہر طرح نقصان ہوا۔
 وقت ملنا: رات اور دن کا ملنا، شام کا وقت ہونا۔
 جھٹ پٹا ہونا۔
 ہاتھ سے تالی بکتی ہے: (مقولہ) دونوں طرف سے
 بے اعتدالی ہو کر تلی ہے، سلوک ایک طرف سے نہیں ہوتا۔
 ہاتھ سے سلام کرنا: (۱) نہایت تعظیم کرنا (۲) بیزاری
 اور دست برداری ظاہر کرنا۔
 نیم: (ف) دو ٹکڑے، دو پارے۔
 دوا: موتھ؛ دارو، درماں، علاج، معالجہ۔
 اُٹسک: ایک مقوی قلب معجون کا نام۔
 خانہ: مذکر؛ شفا خانہ، دوا ملنے کی جگہ۔
 دارو / دوا درمن: علاج، معالجہ، تیار داری۔
 راس آنا: ہونا؛ دوا کا موافق ہونا۔
 کونہ ملنا / دوا کے لیے نہ ملنا / دوا کے لیے میسر نہ ہونا:
 کسی چیز کا بالکل دستیاب نہ ہونا، ذرا نہ ملنا۔
 دوائی: موتھ؛ علاج، دوا۔
 دوا ب: (ع) جمع دابہ کی) مذکر؛ چوپائے حیوان، مویشی۔
 دوا ت: (ع) موتھ؛ روشنائی رکھنے کا ظرف۔
 دوا دوش: موتھ؛ اجالے پاکھ کی بارھویں تاریخ۔
 دوا دوش / دوا دوی: موتھ؛ دوشوہوب، سمی، کوشش۔
 دوار: (ع) بہت گردش کرنے والا، دورہ کرنے والا۔
 دوار / دوارہ: مذکر؛ (۱) دروازہ (۲) آستانہ،
 مقام، چوکھٹ۔
- دوازده امام، بارہ امام، حضرت علیؑ سے لے کر امام مہدی تک۔
 مقام: موسیقی کے بارہ مقام۔
 دوال: (ع) صفت، دینے والا۔
 دوال: (ف) موتھ؛ رکاب کا تسمہ، نقارہ بجانے
 کا موٹا تسمہ۔
 دوالا: مذکر؛ (۱) ادائے قرض کی ناقابلیت (۲)
 خسارہ، ٹوٹا۔
 نکالنا / دوالا نکال دینا: (۱) ساہوکاروں کا
 اپنے نادار ہونے کا اعلان کرنا (۲) قرض ادا کرنے کی
 صلاحیت نہ ہونے کا اعلان کرنا (۳) زیر بار کرنا۔
 نکلنا / دوالا نکل جانا: (کنایتاً) مطلق نقصان ہونا۔
 دوالیا: مذکر؛ ٹٹ پونجیا، نادار، مفلس، دوالا نکل جانے
 سے کاروبار بند کرنے والا شخص۔
 دوالی / دیوالی / دیوالی: موتھ؛ ہندوؤں کا ایک شہور
 تیوہار جس میں کچھمی کی پوجا کرتے ہیں اور کثرت سے
 چراغ جلاتے ہیں۔
 دوالیس: (ع) موتھ؛ انگیا کی کٹوریوں کے نیچے کئے کپڑے۔
 دوام: (ع) مذکر؛ (۱) ہمیشہ رہنا، (۲) ہمیشہ، مندام۔
 دوامی: مذکر؛ زمین کا انتظام جو سرکار کی طرف سے ہمیشہ کے
 واسطے ایک ہی دفعہ کر دیا جائے۔
 دواں: دوڑنا ہوا، جھاگتا ہوا، حیران، سرگرداں۔
 دوانہ: مذکر؛ دیوانہ، پاگل۔
 دواوین: (ع) مذکر؛ جمع دیوان کی۔
 دوا ب: موتھ؛ ایک قسم کی باریک نرم اور عمدہ گھاس۔
 دوا بدو: (ف) متقابل، آمنے سامنے۔
 ہونا: (۱) مقابل ہونا، (۲) آمنے سامنے ہو کر
 لڑائی لڑنا۔
 دوا بھر: (صفت) (۱) مشکل، دشوار، (۲) ناگوار، (۳) بوجھ۔
 دوت: (ع) مذکر؛ قاصد، سفیر، ایچی۔
 دوج: (ع) موتھ؛ (۱) سہرا لکھ کی دوسری تاریخ، (۲) (ع)
 مذکر؛ قری مہینے کا دوسرا اور ستر ہوا دن۔

- دوڑ: رت، مذکر، دھواں، بھاپ۔
 جگر/دوڑول: اضافت کے ساتھ، مذکر، رکنائیا، آہ۔
 دوڑولی: رت، موتھ، را، دُردھا، گوگموکی کیفیت، تذبذب
 (۲)، الجھن، بے یقینی۔
 دوڑوماں: رت، مذکر، خاندان، قبیلہ، کنبہ۔
 دوڑمی: رت، (اصطلاح طب) نبض کی ایک قسم کی چال،
 دم نکلنے کے وقت نبض کی حرکت۔
 دوڑدھ: مذکر، (۱) شیر، (۲) درخت یا کسی چیز کا گڑھا
 سفید عرق۔
 اُترنا: چھاتیوں میں دودھ بھر آنا، گائے بھینس وغیرہ
 کے تھنوں میں آجانا۔
 اُگلنا: بچے کا دودھ ڈالنا۔
 اور چھا چھ دوڑوں سفید ہوتے ہیں: (رشل) صرف
 ظاہری حالت کا اعتبار نہیں، تمیز کرنے والا چاہیے۔
 بخشنا: دودھ پلانے کا حق معاف کرنا۔
 بڑھانا: بچے کا دودھ چھڑانا۔
 بڑھائی: موتھ، بچے کو دودھ پینے سے روک دینے
 کی تقریب۔
 بھری کھوریاں: موتھ، دودھ بھری چھاتیاں۔
 پلائی: موتھ، (۱) دودھ پینے کی نرم (۲) دایہ (۳)
 ساچن کے روز دھوا کو دھن کے گھر سے ملنے والی نقدی۔
 پوت: مذکر، دھن دولت، آل اولاد۔
 پھاڑنا: دودھ کے اجزاً جدا کرنا، کسی دوا کے ذریعے دودھ
 کو پانی الگ کر دینا۔
 پھٹنا: دودھ سے پانی اور اُس کی دُہنت کا
 علاحدہ ہو جانا۔
 چرا جانا/دودھ چڑھا جانا: گائے، بھینس یا
 بکری کا دودھ چھپا لینا، دُہنتے وقت تھنوں میں
 سے دودھ اوپر کو چڑھا لینا۔
 چھٹانا/دودھ چھوڑنا: دودھ بڑھانا، بچے کو دودھ
 پلانا بند کرنا۔
- دوڑہنا: جانور کا دودھ نکالنا، دودھ کی دھار نکالنا۔
 دیا مینگنیوں بھرا: (رشل) کوئی اچھی چیز ملے اور
 اس میں کوئی عیب ہو۔
 ڈالنا: بچے کا دودھ پی کر عمل دینا۔
 سا: (رکنائیا) نہایت سفید۔
 کا جلا چھا چھ بھونک بھونک کر پتیا ہے: (رشل)
 کسی چیز سے نقصان اُٹھایا ہو آدمی بے ضرر
 شے بھی ڈرتا رہتا ہے۔
 کا دودھ پانی کا پانی: (رشل) پورا پورا انصاف،
 ٹھیک انصاف۔
 کا سا اُبال: جلد فرو ہو جانے والا جوش۔
 کی بو منٹ سے آنا: بچپن باقی رہنا، نا بچھ اور نادان ہونا۔
 کے دانت: شیر خوارگی کے زمانے کے ملائم دانت۔
 کے دانت نہ لٹوٹنا: کم عمر اور صغیر سن ہونا، نادان بچہ
 ہونا۔
 کی سی مکھی نکال کر پھینک دینا: مستحق ہونے کے
 باوجود خارج اور بے دخل کر دینا، بالکل بے دخل
 اور بے تعلق کر دینا۔
 ملیبہ کھانا: (رکنائیا) عمدہ اور نرم کھانا کھانا۔
 موت کرنا: (دعو) بچے کی پرورش اور خدمت
 کرنا۔ گُو موت کرنا۔
 میں مکھی کسی نے نہ چکھی: (رشل) نالائق کو کوئی
 پسند نہیں کرتا۔
 دوڑدھوں نہاؤ لوتوں پھلو: ردعائیتہ کلمہ دولت اور
 اولاد سے خوش رہو، صاحب اولاد رہو، مال و دولت
 کی فراوانی ہو۔
 دوڑدھیا: (۱) دودھ کا، (۲) سفید، (۳) دودھ والا،
 (۴) مذکر، ایک قسم کا پتھر (۵) ایک قسم نرم سوہن
 حلو (۶) موتھ، دودھ میں ملی ہوئی بھنگ۔
 پھل: سفید گودے کا پھل۔
 سنگھارا: کچا ہرا، سبز نرم سنگھارا۔

دو دھیا کتھا: سفیدی مائل کتھا، کان پوری کتھا۔

دو دھیل: دودھ دینے والا جانور۔

دور: (دع) مذکر؛ (۱) گرداگرد پھرنے، چرخ، گردش، چکر (۲)

فلسفہ کی ایک اصطلاح (۳) جہاں، رفتار، روش (۴) ماشیہ،

کنارہ، حلقہ، گروہ، گھیرا (۵) باری، نوبت (۶) چاروں طرف،

اردگرد، گرداگرد، عرصہ زمانہ، مدت (۸) زمانہ کا اُلٹ

پھیر، انقلاب، تغیر، تبدل (۹) حکومت کا زمانہ (۱۰) نزل

ساتھ بھولنے کی غرض سے پڑھنا (۱۱) ایک اصطلاح نجوم

(۱۲) گھر (۱۳) حاضرین جلسہ میں ساغر کا گردش

کرنا، (۱۴) پھیلاؤ۔

آخر: (۱) اضافت کے ساتھ) مذکر، اخیر زمانہ۔

دورا: مذکر؛ اقبال، حکومت، رواج، عروج۔

آنا: (۱) ساغر شراب کا گردش کرتے کرتے باری آنا۔

(۲) باری آنا، (۳) عہد آنا۔

وتسلسل: مذکر؛ دور کا سلسلہ پیہم جاری رہنا۔

چلنا: ساغر کا باری باری سے ہر ایک کے سامنے آنا۔

دور ہونا: دورہ ہونا؛ (۱) چڑھی بارگاہ

ہونا، (۲) کسی چیز کا رواج عام ہونا، مانگ ہونا،

وقع ہونا۔

کرنا: دو شخصوں کا باری باری سے ایک دوسرے

کو قرآن سنانا، قرآن کا آموختہ پڑھنا۔

دور: (دع) (۱) فاصلے پر، بعید (۲) جدا، علاحدہ

الگ، پرے (۳) دشوار۔

اندیش: (دع) دور بین، انجام بین۔

اندیشی: موت، باقیات اندیشی، عقل مندی، دانائی

باش: (دع) (۱) دور زرہ، الگ رہ (۲) بادشاہ کی

سواری کو لے کر چلنے کا دستار، نیزہ، ادب سے

راستہ صاف کرنے کی علامت۔

بین: (دع) موت، (۱) دور کی چیز دیکھنے کا آلہ،

(۲) دور اندیش، فاصلے کی چیز دیکھنے والے۔

دراز: (دع) (۱) کالے کوسوں، بہت فاصلے

پر (۲) بعید از قیاس۔

ذقان ہونا/ کرنا: غائب ہونا، علاحدہ کرنا، دور کرنا۔

دور رہنا: پھٹے پھٹے رہنا، ہٹے رہنا۔

رُس: دور تک پہنچنے والا، بلند خیال۔

کھینچنا: کشیدہ رہنا، الگ رہنا، نخوت اور غرور کرنا۔

کی بات: موت، نکتہ، بارگاہی۔

کے ڈھول سہلانے (مشعل) دور کی سنی ہوئی

کی آواز سہلانی (بات اچھی معلوم ہوتی ہے، کسی

چیز کی تعریف سننے اور دیکھنے میں بہتر نہ ہونے

کے موقع پر بولتے ہیں۔

کرنا: (۱) الگ کرنا، دفع کرنا، القط کرنا، کاٹنا، جدا

کرنا، خارج کرنا، (۲) دور کرنا، بازا آنا (۳) غائب

کرنا، آنکھوں سے علاحدہ کرنا (۴) جواب دینا، نوکر کی

سے برطرف کرنا، برزخاست کرنا (۵) رد کرنا، کاٹنا،

منسوخ کرنا (۶) بیخود فروخت کرنا، پاس نہ رکھنا۔

کی سوجھنا: باریک بات خیال میں آنا، دور بین و

دور اندیش ہونا۔

کی صاحب سلامت رکھنا: الگ الگ رہنا، میل

جول نہ بڑھانا۔

کی کوٹری لانا: باریک بینی کرنا، دور کی بات سوچنا۔

کی ہانگنا: شیخی مارنا، لیاقت سے بڑھ کر دعوا کرنا۔

ہی سے سلام کرنا: بے زاری ظاہر کرنا۔

دوران: مذکر؛ (۱) زمانہ، وقت (۲) عمر، گردش،

چکر، دورہ، انقلاب۔

خالص: مذکر؛ (۱) اضافت کے ساتھ) زمان حقیقی۔

خون: (۱) اضافت کے ساتھ) (دع) مذکر؛ خون کی گردش۔

سُر: (۱) اضافت کے ساتھ) مذکر؛ سُر گھومنا، سُر کا چکر،

دورہ: مذکر؛ (۱) گردش، چکر، (۲) باری، نوبت کسی مرض کی

(۳) گشت، حکام یا افسروں کا اپنے علاقے کو دیکھنے

کا سفر (۴) شراب کا دور۔

دوستی: (ف) موت؛ یارانہ، دوستانہ، پیار و محبت
آشنائی۔

دوسرا: مذکر؛ (۱) دوم، ثانی، اور دیگر (۲) اجنبی
خیرہ (۳) مقابل، برابر کا۔

دوسرے ٹیسرے: کبھی کبھی۔

دوش: (۱) مذکر؛ قصور، گناہ، جرم، بھول، خطا، چوک،
الزام۔

دوشی: مذکر؛ قصور وار، مجرم، گناہگار۔

دوش: (ف) مذکر؛ (۱) کندھا (۲) گزری ہوئی رات۔

بہ دوش: (ف) (۱) کندھے سے کندھا ملا کر (۲) کنایتاً
اتفاق کے ساتھ، شرکت میں۔

دوشیزگی: (ف) موت؛ کنوارا پن، بکارت۔

دوشیزہ: (ف) موت؛ کنواری۔

دوشینہ: (ف) گزشتہ شب کا۔

دورخ: (ف) مذکر؛ موت؛ (۲) شمشا (۲) راستا۔

دو غلا: مذکر؛ دوسل، وہ جس کے ماں باپ ایک قوم کے نہ
ہوں، کم اصل، کمینہ، کم ذات۔

دو غلی بات: گول بات۔

دوکان: دیکھو دوکان۔

دو کھ لگانا/ دو کھنا: (۱) تجربے کام سے منع کرنا (۲) اترنا
کرنا، صیب لگانا، (۳) بات کاٹنا۔

دول: مذکر؛ جمع دولت کی۔

دولاب: مذکر؛ چرخ، ارہٹ۔

دولامولا: (۱) نیک، سیدھا، بھولا (۲) بڑی بہت والا، سخی۔
دولت: (ف) موت؛ (۱) بخت، اقبال، نصیب، ظفر، فتح مندی

(۲) دھن، مال، زبردقت (۳) طاقت، حکومت، سلطنت
(۴) کنایتاً، اولاد، بیٹا، بیٹی (۵) بدولت، طفیل (۶)

دوین دولت، (۷) نعمت۔

بے دار: (۱) اضافت کے ساتھ (ف) موت؛ کنایتاً
وہ دولت جس سے فائدہ حاصل کریں۔

خانہ/ دولت سرا/ دولت کدہ: (ف) محل سرا،

دورہ کرنا: چکر لگانا، گشت کرنا، حکام اپنے ضلع اور علاقہ کے
دیکھنے کے واسطے گشت کرنا۔

دوری: موت؛ چھوٹی ٹوکری۔

دوڑ: موت؛ (۱) دھاوا، تاخت، چڑھائی، مجرم کو گرفتار
کرنے کے لیے بھیجے جانے والے سرکاری لوگ (۲) پہنچ،

رسائی، (۳) کوشش۔

دوڑا دوڑی: موت؛ بھاگ بھاگ، دوڑھوپ۔

دوڑاتا: (۱) بھاگانا، لپکانا، جلدی جلدی چلانا، (۲) جلد قاصد
روانہ کرنا، (۳) محنت کرنا، بھاگانا، مشقت لینا، حیران

کرانا، پھرانا۔

دوڑ چلے نہ کر پڑے: (مثل) آدمی حد اعتدال سے بڑھ کر
شوقی کام کرے تو ناکام ہوتا ہے۔

دوڑھوپ: موت؛ سعی، کوشش، محنت و مشقت۔

دوڑنا: (۱) بھاگانا، لپکانا، (۲) جلدی چلنا، (۳) پھیلنا، پھینا،
(۴) محنت و سعی کرنا، (۵) حیران کرنا، پھرنا۔

دوڑخ: (ف) مذکر؛ (۱) جہنم، تحت الثری میں گنہگاروں
کی سزا کے لیے بنائے ہوئے سات طبقے، (۲) کنایتاً،

آدمی کا پیٹ۔

کاگندا: (۱) دوڑخ میں چلنے والی لکڑی، (۲) کنایتاً،
بڑا گنہگار۔

دوس: دیکھو دوش۔

دوست: مذکر؛ (۱) پارہ، آشنا، خیر خواہ (۲) محبوب۔

اکن باشد کہ گیرد دست دوست در
پریشاں حالی و در ماندگی: (ف) مقولہ عزیز

اور دوست وہی ہے جو کسی مشکل میں دستگیری
اور امداد کرے۔

دوستانہ: (ف) مذکر؛ (۱) یاری، دوستی، محبت
یارانہ، (۲) محبت سے۔

دار: خیر خواہ، دل سوز، ہمارا۔

دوست، داری، خیر خواہی، دل سوزی، دوستی۔

رکھنا، کسی چیز کو بہت عزیز رکھنا۔

دوہلہ: (۵) مذکر، (۱) ہندی صنف سخن، (۲) دو معنوں کا ہندیا
 شعر جو مطلع کی شکل کا ہوتا ہے، بیت، فرد۔
 دوہلانی: مونث؛ (۱) فریاد، دادخواہی، استغاثہ، (۲) پناہ،
 بچاؤ، اس خواہی، (۳) قسم، واسطہ، ملت، سوگند،
 (۴) منادی، اعلان۔
 تہائی کزنا / دوہلانی مچانا: امداد کے لیے فریاد کرنا۔
 دُوہنا: (۱) مذکر، دودھ نکالنا، دودھ چوڑنا۔
 دُوہنی: مونث؛ دودھ دوہنے کا برتن۔

د - ۵

دوہ: (ف) دس، ع۔
 چند: دس گنا، دس حصے۔
 دُوہ: (ف) دس گز لانا، دس گز چوڑا (موض)
 دیک: مذکر، دسواں حصہ، پُخراج۔
 دہ / دپہ: مذکر؛ (۱) تقریب، موضع۔
 دیہات / دیہات: مذکر؛ جمع دہ کی۔
 دیہاتی / دیہاتی: گنوار، گنا توکار ہونے والا۔
 دیہاڑا: مذکر؛ (۱) درجہ، حال، گت (۲) دگت، بُرا لکھا، بُرا درجہ۔
 دیہانا: شہر کا پونا، (۱) گونوا، (۲) غل جانا، پھلانا، شور مچانا، بچوں کا تیز آواز سے رونا۔
 دیہال: (ف) مذکر؛ (۱) مہنہ، دہن، (۲) روزن، سوراخ،
 زخم کا شگاف۔
 دیہانہ / فرنگ: (ف) مذکر؛ ایک قسم کا سبز رنگ پتھر۔
 دیہانہ: (ف) (۱) مہنہ، دہن (۲) دریا کے گرنے کا مقام۔
 (۳) مشک کا مہنہ (۴) موری (۵) سرکش، شمشیر۔
 گھوڑوں کو لگائی جانے والی خاردار لگام۔
 دیہالی: مونث؛ دس کا عدد، دسواں حصہ۔
 دہ بیٹھنا: (م) (۱) مہر کرنا (۲) کسی بات کا دب جانا۔
 دہ جانا / ڈھ جانا: گر جانا۔
 دہر: مذکر؛ زمانہ، وقت، سماں۔
 دہریا: دہری، زمانے کو تھم جانے والا، خدا کو نہ ماننے والا۔
 مادہ پرست، منکر، لامذہب۔

دوسرے کا گھر، (تعظیما)
 دولت خدا داد: (اضافہ کے ساتھ) خدا کی دی ہوئی نعمت،
 کوشش کے بغیر حاصل کی ہوئی نعمت۔
 کونین / دولت دارین: (اضافہ کے ساتھ) (ف)
 مونث؛ دونوں عالم کی نعمت۔
 گرمی ہونا: روپے پیسے کی کان ہونا۔
 لٹے کوٹلوں پر مہر: دمشق، بجا خرچ کے لیے کفایت
 شکاری کی جائے اور بے جا خرچ کی پروا نہ ہو۔
 دولت مند: (ف) مالدار، امیر۔
 دوہا: مذکر؛ نوشاہ، شوہر۔
 بھائی: مذکر؛ سالیان بہنوں کو کہتی ہیں۔
 دوہن: مہن، عروس، دو لہا کی بیوی۔
 دوہم / دوہیں: (ف) دوسرا، دیگر، ثانی۔
 دوں: مونث؛ (۱) آگ، شعلہ، لو، جنگلوں کی پتاور میں
 لگائی جانے والی آگ، (۲) پیاس، تشنگی، (۳) گرمی۔
 حدت، حرارت (۴) سوزش، جلن (۵) جوش، دلولہ، شہوت۔
 دُون: مونث؛ (۱) لاف بگزان، شہمی، ڈینگ (۲) الاپ گانے
 میں آواز کا دوچند کرنا، اونچے سُری آواز۔
 پہر آنا: (۱) ڈینگ کی لینا، شہمی مارنا (۲) گلے میں آواز کا دوچند کرنا۔
 کی اُڑانا: ڈینگ مارنا، خود ستائی کرنا۔
 پرست / دُون لواز: (ف) کینے کی پرورش یا قدر
 کرنے والا، سفلہ پرور۔
 دُون: (ف) صفت؛ حقیر، کمینہ، ذلیل۔
 ہمت: کم ہمت، پست ہمت۔
 دونا: مذکر؛ (۱) بیٹوں کا پیالہ (۲) دونوں میں رکھی ہوئی
 نیازی کشمیری۔
 چڑھانا، پھول اور شیرینی کا دونامز اور غیرہ پر چڑھانا۔
 دونا: مذکر؛ (۱) دگنا، دوچند، دو بالہ (۲) دہرا، ڈبل۔
 دونا ہوا: مذکر؛ ایک قسم کی خوشبو، گھاس، آئسی۔
 دونگرا: برسات کے شروع میں زور سے ہونے والی بارش۔
 گرنا: تھوڑے وقفے میں زوردار بارش ہونا۔

دُہرا : مذکر، (۱) دوچند (۲) دُہرا بدن، (۳) دو تہ کا کپڑا،
 (۴) دم سپاری کا ٹھکانا۔
 — بدن : موٹا بدن۔
 — تہرا : دوچند، سہ چند۔
 — دُہرا : دم، دو دو۔
 دُہرا نا : (۱) دو تہ کرنا، دُہرا پینٹنا، (۲) کوئی کام دوسری مرتبہ کرنا، اعاذہ کرنا، دوبارہ کہنا، کسی کی بات کو نفل کرنا (۳) دُہر کرنا، کسی جہارت کو بار بار پڑھنا، (۴) سینا۔
 دُہراؤ : مذکر، مادہ۔
 دُہری آواز : اکہری آواز کی مند دُہریوں کی آواز۔
 — بات : موٹ، دو پہلو والی بات۔
 دُہر دُہر چلنا / دُہر دُہر چلنا : کسی چیز کا آگ لگ جانے سے شعلہ زن ہونا۔
 دُہریت : (ع) موٹ، خدا کے وجود سے انکار، مادہ پرستی۔
 دُہش : (ف) موٹ، ہنش، (اردو میں داد کے ساتھ مستعمل ہے) دہشت، (ف) موٹ، ڈر، خوف۔
 — انگیز : (ف) ڈرانا، ہدیت ناک، بیباک۔
 — پسند : (سیاسی اصطلاح) حصول مقصد کے لیے قتل و خون ریزی میں یقین رکھنے والا (ک) ہنسا وادی۔
 — زورہ : (ف) ڈرا ہوا، سہا ہوا۔
 — ناک : (ف) دہشت انگیز، دہشت بھرا ہوا۔
 دُہتال : مذکر، گنوار، ربائی۔
 دُہتانی : (۱) دیہاتی، (۲) مذکر، گنوار، دُہتال۔
 دُہتانیٹ : موٹ، گنوار بن۔
 دُہکانا : سلگانا، جلانا۔
 دُہکنا : (۱) آگ کا بھڑکنا، آگ کا روشن ہونا، بھڑکنا۔ (۲) بدن کا خوب گرم ہونا۔
 دُہل : موٹ، تردد، گھبراہٹ، ٹد۔
 دُہلنا : (۱) ڈرنا، خوف کھانا (۲) زمین کا ہنش میں آنا۔

دُہل : مذکر، ڈھول۔
 دُہلا : مذکر، تاش کا دس نشان والا پتہ۔
 دُہلی : (ک) موٹ، دلہیز، چوکھٹ، آستانہ۔
 دُہلی : موٹ، ہندوستان کا دار السلطنت، راجدھانی، شہر دہلی۔
 — کا کو تو ال : (کنایتاً) مفروز ناک مزاج۔
 دُہلوی : دہلی کا باشندہ۔
 دُہلیز : (ف) موٹ، چوکھٹ۔
 — چو، منا : (کنایتاً) قدم بوس ہونا۔
 — کا گتتا : مذکر، (۱) دروازے پر بیٹھا رہنے والا کتا (۲) (بجائزاً) مفت خورا۔
 — کی مسی لے ڈالنا : (کنایتاً) کثرت سے آنا، متواتر گھر پر آ کر تفتض کرنا، بہت سے پھیرے کرنا، پھیرے پر پھیرے کرنا۔
 — نا گھنا / دُہلیز لا گھنا / دُہلیز آ لا گھنا : (ع) دروازے سے باہر قدم رکھنا، ایک گھر سے دوسرے گھر جانا۔
 — نہ جھانگنا : (۱) دروازے تک نہ جانا، (۲) پر دے میں رہنا۔
 دُہم : (ف) ڈر، سوال حقہ، دسواں نمبر (۲) محترم کی دسویں تاریخ۔
 دُہمن : مذکر، دہاں کا محفت، مٹہ۔
 — زخم : (ف) اضافت کے ساتھ زخم کا شگاف۔
 — زخم کا ہنستا : (اضافت کے ساتھ) شگاف زخم کے بڑھنے کا ہنسنے سے استعارہ۔
 — سگ بر لقمہ دوختہ بہ : (اضافت کے ساتھ) (ف) (دل) کسی شخص کو اس کی ایذا سے بچنے کے لیے کچھ دے ڈالنا۔
 — فرنگ / فرینہ فرنگ : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر، دہانہ فرنگ، ایک قسم کا پتھر۔
 دُہن : (ع) مذکر، رخن۔
 دُہنا : داجنا، سیدھا۔

دُہنی: موتک؛ دودھ رکھنے یا دُہنے کا برتن۔
 دُہنیت: (رع) موتک؛ (رع) دُہنی، چکنائی، چربی، چکنائٹ۔
 دُہی: مذکر؛ خاص طریقے سے جمایا دودھ، مٹھا،
 کانا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔

دُیار: (رع) مذکر؛ (جمائا) ملک، شہر۔

دُیانت: (رع) موتک؛ ایما نداری، راستی، صدق، امانت۔

دُوار: (ف) ایما نداری، راست، باز صاف، امین۔

دُسیا: (ف) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

دُسیا جہ / دُسیا چہ: (ف) مذکر؛ مقدمہ کتاب، تمہید۔

دُستی: (ع) موتک؛ ملکہ رانی، سہوانی، دیوی۔

دُکھیلنا: (ف) کاسریر آنا، مجنونانہ حرکتیں کرنا۔

دُوب: (ف) مذکر؛ (۱) جزیرہ، ٹاپو، بر اعظم۔

دُوتیک: (ف) مذکر؛ (۱) آگ لگا دینے والا ایک لاگ، (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔

دُوب ماللا: (ع) مذکر؛ چراغوں کی

آفتاب چراغاں، دیوالی۔

دُویت: (رع) موتک؛ بھول بہا۔

دُیکور: (رع) تاریک۔

دُید: (ف) موتک؛ ددار، نظارہ، نگاہ، نظر۔

دُیازی: (ف) موتک؛ آنکھیں لڑانا۔

دُبان: (ف) مذکر؛ (۱) وہ سوراخ جس سے فانی نکلے

ہیں۔ (۲) پاسبان، اونچی جگہ پر بیٹھ کر اطلاعات بہم

پہنچانے والا نگہبان۔

دُشنید: کسی سے واقفیت۔

دُشنید / دیدہ نہ شنیدہ: عجیب، دلچسپ نہ سنی۔

دُیدنی: دیکھنے کے قابل، تماشاء، نظارے کے قابل۔

دُیدرو یا زدید: (ف) موتک؛ ملاقات، ایک کا دوسرے کی

ملاقات کے لیے جانا۔

دُیدرو شنید: موتک؛ دیکھنا، سُننا، سرسری ملاقات۔

دُیدار: (ف) مذکر؛ جلوہ، نظارہ، صورت، چہرہ۔

دُیکھنا: صورت دیکھنا۔

دُہی بڑے: مذکر؛ ایک قسم کا کھانا، دہی میں بڑے

ڈالا ہوا مرکب؛

دُہی کرنا: (عو) کسی امر پر شدیدہ کا جا بجا اظہار

کرتے پھرنا۔

دُجھلی: (عو) کسی کے ارادہ سفر پر شگون نیک کے لیے

یہ کلمہ مکرر کہنا، (ایک رسم)

دُجھے: (۱) عزم کے دس دن (۲) مرنے یا بین کی ایک قسم جس کو

دیہاتی عورتیں من کے ساتھ پڑھتی ہیں۔

دُہیز: مذکر؛ جینر۔

دُہینڈی: موتک؛ دودھ دہنے کی ہانڈی۔

د-ی

دے: (ف) مذکر؛ ایران کے شمسی مہینوں میں دسویں مہینہ

کا نام (دیکھو آذر)

دے: دینا سے امر کا صیغہ۔

دے: دینا، دے ڈالنا، کسی کے حوالے کرنا، بخشنا۔

دیا: دینا کا ماضی مطلق، دیا ہوا، بخش ہوا، عطا کیا ہوا۔

دیکھانا: دکھانا کسی کی مدد سے بسر اوقات کرنا۔

دُیا: (ع) موتک؛ مہربانی، بخشش، رحم دلی۔

دُیا لو: (ع) بخشش کرنے والا، سخی، رحم دل، مہربان۔

دُیا: (ع) مذکر؛ چراغ، لیمپ۔

دُی کرنا: چراغ جلانا، چراغ روشن کرنا۔

دُسلانی: موتک؛ (۱) ماہیں، دیا یا آگ جلانے کی تیلی۔

(۲) دکھانا لڑائی کی آگ لگانے والی عورت۔

دُلیا: مذکر؛ خدا کی راہ پر دیا ہوا، بھلائی۔

دُلیا آڑے آنا: خیر خیرات کا کام آنا۔

دُلیا آگے آنا: خیر خیرات کا گاہبانی آفت میں ڈھال بن جانا

دیر رو: دیکھنے کے قابل، شکیں، وجہ صورت مکمل کا اچھا۔
 دیدہ: (د) مذکر؛ (ا) آنکھ، آنکھ کا ڈھیلا (۲) دبیری
 آجرات، بیباک۔
 بازی: (د) موٹ؛ نظر بازی۔
 بڑا ہونا: ڈھیٹ ہونا، شوخ ہونا۔
 بیٹھ جانا: دیدہ کا دھنس جانا، روشنی جاتی رہنا۔
 پھٹا ہونا: رکنائیا، نڈر ہونا، بیباک ہونا۔
 ذلیل: (د) شوخ چشم، بیباک بے شرم، نڈر۔
 دیکھنا: حوصلہ دیکھنا، جرات دیکھنا۔
 دیریزی: موٹ؛ آنکھوں پر زور ڈالنے والا باریک کام،
 کسی کام میں نہایت غور کرنا۔
 ودانتہ: (د) قصداً، عمداً، جان بوجھ کر۔
 ور: (د) صاحب نظر، ہوش مند، بینا، دانا۔
 کموالی ہونا: رکنائیا، ادھر ادھر تماشادیکھتے پھرنے
 کا شوق ہونا۔
 دیدوں بھوٹی: (د) موٹ؛ (تحقیق و تدبیر سے) اندھی۔
 سے کاجل چیرانا: (د) بڑی صفائی سے چوری کرنا۔
 آنکھوں آنکھوں میں چوری کرنا۔
 میں چربی چھانا: (د) موٹ؛ (د) نیشب و فراز نہ سوجھنا، اچھے
 برے کی تمیز نہ رہنا۔
 دیدے اُلٹ جانا: رکنائیا، نزع کا عالم ہونا۔
 بد لنا: رکنائیا، بے نرمی اختیار کرنا، بے مروت ہونا۔
 پٹم ہو جانا / دیدے پٹم ہونا: اندھا ہو جانا
 بصارت نہ رہنا۔
 پھٹے ہونا: کسی چیز کا نگاہ میں نہ سمانا۔
 تلووں سے ملنا: رکنائیا، بے انتہا خوشامد کرنا۔
 گھٹنوں کے آگے آئے: (د) بد دعا، اندھا ہو جانے
 لنگر ہو جانے۔
 نکالنا: (ا) خشکیوں آنکھوں سے دیکھنا، غضبناک
 نظروں سے دیکھنا، آنکھیں منلی سلی کرنا، غصہ کرنا (۲)
 آنکھ کے ڈھیلے کو اس کی جگہ سے باہر نکالنا۔

دیر: (د) مذکر؛ (ب) کدہ، اہت خانہ۔
 دیر: (د) موٹ؛ وقفہ، عرصہ، توقف، مدت۔
 آشنا: (د) دیر میں بنے نکلنے والے شخص۔
 آید درست آید: (د) (مقولہ) جو کام دیر میں سوچ
 سمجھ کر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔
 پا: (د) پائیدار، مستحکم، مضبوط۔
 سویر: موٹ؛ کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد میں۔
 ہونا: توقف ہونا، عرصہ ہونا، وقت گزارنا،
 دیر کرنا۔
 دیری: موٹ؛ دیر۔
 دیریں / دیرینہ: (د) کہنہ، پُرانا۔
 دیرینہ سال: (د) کہن سال، پُرانا۔
 دیس: مذکر؛ (ا) ملک، ولایت، صوبہ، (۲) وطن (۳)
 ایک راگ کا نام۔
 بدیس پھرنا: سیر و سیاحت کرنا، شہر بہ شہر پھرنا،
 مارا مارا پھرنا۔
 نکال دینا: جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنا۔
 دیسی: (ا) وطنی، وطن کا، ملک کا شہر کا (۲) وہ چیز جو وطن
 میں پیدا ہو۔
 دیسیا: مذکر؛ برسی، مڑے کا ہر سال ہونے والا فاتحہ۔
 دلش: (۵) مذکر؛ ملک، وطن۔
 بھگت: (۵) مذکر؛ محبت، وطن۔
 دیشی: (۵) مذکر؛ ملکی، ملک کا، ہم وطن۔
 دیکھ، دیکھنا، اُٹھ۔
 بھال: موٹ؛ (ا) تلاش، جستجو، کسی چیز کو طور سے دیکھنا
 (۲) تیار داری، نگرانی، ناگاہی۔
 کر: (ا) واقع اور آگاہ ہو کر، جان بوجھ کر
 (۲) سوچ سمجھ کر۔
 دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ: (د) مثل، موقع عمل نہیں دیکھا، جا
 بے جا نہیں دیکھا۔
 دیکھا بھالا: مذکر؛ آزمودہ، تجربہ کیا ہوا۔

دیکھا بھالی : موٹھ، (۱) تلاش، جستجو (۲) دیدہ بازی لگاؤ، کسی چیز کو غور سے دیکھنا، دیکھ رکھ۔

— دیکھی : موٹھ، کسی کام کو کرتے دیکھ کر آپ بھی ویسا کرنے لگتا۔

— نہ بھالا : جان نہ پہچان، دید نہ شنید۔

— نہ بھالا، صدقے کی خالہ : (عوم) دشل، بے دیکھے بھالے کسی کی تعریف کرنے والا۔

— نہ سُنا : (۱) لاثانی، بے نظیر، طرز، انوکھا (۲) آنکھوں دیکھا نہ کانوں سنا۔

دیکھ لینا : (۱) آزمائش کرنا (۲) سمجھ لینا، بدل لینا۔

دیکھنا : معائنہ کرنا، نظر کرنا، نظر ڈالنا، ملاحظہ کرنا (۲) خیال رکھنا، نظر رکھنا، (۳) خیال کرنا، غور کرنا، (۴) تلاش کرنا، ڈھونڈنا (۵) مشاہدہ کرنا، آزمانا، امتحان کرنا،

پرکھنا، جانچنا، (۶) خبردار ہونا، ہوشیار ہونا، (۷) لحاظ کرنا، خیال کرنا، (۸) سوچنا، سمجھنا، سمجھ بوجھ کے کوئی کام

کرنا (۹) پانا (۱۰) آگاہ کرنا (۱۱) خیال رکھنا (۱۲) بدل لینا، (۱۳) برداشت کرنا (۱۴) فرق کرنا، تمیز کرنا (۱۵) کتابتاً، پڑھنا، مطالعہ کرنا۔

— بھالنا : (۱) غور کر کے دیکھنا، (۲) تلاش کرنا۔

دیکھنے جانا : ملاقات کرنے جانا، بیسار کی عیادت کے لیے جانا۔

— کو : برائے نام۔

— والا صحبت یافتہ، فیض یافتہ، معتقد، مرید۔

دیکھیے اونٹ کس کل / کروٹ بیٹھے : دیکھیے اجماع کیا ہو۔

دیگ : (۱) موٹھ، کھانا پکانے کا بڑا سا ظرف۔

— چھ : (۱) مذکر، دیگ کی تصغیر، چھوٹی دیگ۔

— چچی : (۱) موٹھ، پتیل۔

— دان : (۱) مذکر، چوڑھا۔

دگیس کھٹکھٹا : دگیس پکنا، دگیس چڑھنا، بہت سی دیگیں کی آواز نکلنا۔

دیگ کی کھڑچن بھی بہت ہے : دشل، بڑی مقدار میں

سے تھوڑا سا حقہ بھی بہت ہے۔

دیگ میں سے ایک ہی چاول دیکھتے ہیں، دشل، ایک — میں سے ایک ہی دانہ ٹٹولتے ہیں، کسے سب کی

جانچ ہو جاتی ہے۔

دیگر : (۱) دوسرا، اور۔

دیگ : (۱) موٹھ، ایک قسم کا مشہور سفید چینی کی شکل کا کیڑا جو لکڑی اور کتابوں کو چاٹ کر خاک کر دیتا ہے۔

— کا چاٹنا / لگنا : دیگ کا کھا جانا۔

دین : (۱) مذکر، قرض، ادھار۔

— مہر : (۱) امانت کے ساتھ مذکر، مہر کا قرضہ۔

دین : (۱) مذکر، (۲) مذہب (۳) عاقبت، آخرت، دھرم جہاں، عقبا۔ (۴) مشرب۔

— پناہ : (۱) حامی دین، دین کا معاون۔

— دار : (۱) فراغ، مذہبی پورا کرنے والا، پابند شرع۔

— دنیا سے جانا : دونوں جہاں کے فائدے سے محروم ہونا۔

دینیات : (۱) موٹھ، دین سے تعلق رکھنے والے مسائل کا علم اور اس سے تعلق کتابیں۔

دین : موٹھ، بخشش، داد و دہش، عنایت۔

— دار : مقروض۔

— لین : مذکر، داد و دہش، لین دین۔

دینا : (۱) بخشنا، عطا کرنا، مرحمت کرنا (۲) حوالہ کرنا، سونپنا (۳) جدا کرنا، بچانا، فروخت کرنا (۴) مقرر کرنا۔ معین کرنا (۵) مذکر کرنا، پیش کرنا، ہدیہ دینا (۶) بچے دینا، جننا (۷) ادا کرنا، باقی کرنا، چکانا (۸) بند کرنا (۹) قرض۔

— دلانا : داد و دہش۔

— نہ لینا : ناحق، بے فائدہ۔

دینے کے ہزاروں ہاتھ ہیں : (مقولہ) خدا ہزاروں میلوں سے دیتا ہے۔

دینار : (۱) مذکر، (۲) ملک عرب کا ایک سکہ، (۳) ایک شربت کا نام۔

دینار سُرخ: (اضافت کے ساتھ) (ن) مذکر؛ اشرفی،
سوئے کا سکہ،

دیو: (ن) (۱) سرکش، متمرد، بعض فرقوں کا معبود۔

(۲) مذکر؛ بھوت، پریت، شیطان، خناس، (۳)
(مجازاً) قوی ہیکل مرد، پہلوان، نہایت لمبا ترنگا،
موٹا، تازہ آدمی۔

_____ بند: ایک قسم کی گشتی کا بیج۔

_____ دار: مذکر؛ چیر کا درخت۔

_____ کا سایہ: بلا، عفریت کا آسیب۔

دیوانی: موتی؛ دیو کی بیوی۔

دیو: (۵) مذکر؛ دیوتا، بزرگ، مقدس، پاک برہمنوں کا
عرف قابل پرستش۔

دیوار (ن) موتی؛ (۱) مٹی یا اینٹوں کی دیوار (۲)

ادب پر وہ، ٹٹی۔ (۳) رکنائیا، نابینا (۴)

متحیر (۵) انگلیا کی دیوار، ٹوپی کی دیوار۔

_____ اٹھنا: (۱) دیوار کا تعمیر ہونا، (۲) رکنائیا، جناب ہونا
(۳) جدائی ہو جانا، اختلاف ہونا۔

_____ بن جانا: رکنائیا، بے حس و حرکت ہو جانا۔

_____ پیٹھ جانا: دیوار کا دھنس جانا، منہدم ہو جانا۔

_____ قہقہہ: (اضافت کے ساتھ) موتی؛ ایک روایتی دیوار

جس کی نسبت مشہور ہے کہ جو کوئی اس دیوار کے اوپر سے

دوسری طرف دیکھتا ہے تو نہتے نہتے مر جاتا ہے۔

_____ کے بھی کان ہوتے ہیں؛ (مثل) بے حد احتیاط سے

گفتگو کرو، جہیں کے چھپانے میں بہت کوشش کرنا چاہیے،

خائف دیوار کی پشت سے بھی کان لگا کر دوسروں کی

باتیں سنتے ہیں۔

_____ کی چوٹی: دیوار کا سیرا۔

_____ گیری: موتی؛ (۱) دیواروں پر خوش نمائی کے لیے لگایا

ہوا کپڑا (۲) دیوار میں لگانے کا لیمپ۔

_____ میں چنا جانا: پرنانے زمانے میں باغیوں کو دیوار میں

زندہ پھنوادینے کی سزا۔

دیوانی: (۵) موتی؛ دیکھو دیوانی۔

دیوان: مذکر؛ (۱) دربار شاہی، عدالت کچہری (۲) وزیر نزل

سلطنت، وزیر مال، محکمہ مال کا بڑا افسر (۳) مقام دیوان

مقام اجلاس، آدمیوں کے جمع ہونے کی جگہ، بادشاہوں کی

نشست گاہ (۴) کسی شاعر کی غزلوں کا مجموعہ۔

_____ اعلا: (اضافت کے ساتھ) (ن) مذکر؛ وزیر اعظم (قدیم)

_____ خاص: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ دربار خاص، اجلاس

خاص لوگوں کا دربار شاہی خلوت خانہ۔

_____ خالصہ: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ سلطانی مہر کا محافظ

وہ شخص جس کے پاس شاہی مہر ہے، مستعد اولہ۔

_____ خانہ: مذکر؛ (۱) مردانہ نشست گاہ (۲) ملاقات کا

کرا، بیٹھک (۳) اہل دفتر کے بیٹھنے کا مقام۔

_____ خام: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ دربار عام، بڑے

دربار یا عام دربار کا مکان۔

دیوان پن: (ن) مذکر؛ (۱) دیوان پن، جنون، سودا، وحشت

(۲) نادانی، بے وقوفی۔

دیوانہ/دیوانہ: مذکر؛ (۱) مجنون، پاگل، سڑی، (۲) عاشق

وارفتہ۔ (۳) خبطی۔

_____ بکا ر خوش ہیشیار: (ن) (مثل) دیوانہ کی دیوانگی

پر نہ جاؤ اپنے معاملے میں بات ہوشیاری کی کہتا ہے۔

_____ پن: مذکر؛ دیوانگی۔

دیوانی: موتی؛ (۱) پگلی، سڑن، باؤلی خبطی، عورت (۲)

جائیداد کے مقدمے کا فیصلہ کرنے والی عدالت (۳)

_____ رکنائیا، عاشق عورت۔

_____ ہانڈی: (ن) موتی؛ متعلق ترکاریاں ڈال کر

پکائی ہوئی ہانڈی۔

_____ بائیں کرنا؛ اول قول کہنا۔

دیو بانی: (۵) موتی، خدائی آواز، عدائے لاہوتی، نئے نئے غیب

دیو پیلا: (۵) موتی؛ (۱) رات کے

آخری اور دن کے پہلے لمحوں کے ملاپ کا وقت (۲)

خدا کے قرب کا لمحہ۔

جیسے رائگ، مانا، چاندی، سونا، سیدہ، جست، تین، غیر
(۲) پیشاب کے ساتھ خارج ہوا اسنید مادہ۔

دھار: (۵) موٹ، بہاؤ، لہر۔

دھار: موٹ، بھگیر، خط (۲) کسی رقیق چیز کا تریٹرا (۳)
باڑھ تلوار اور خنجر وغیرہ کی (۴) دریا کا بیج جہاں
پانی زور سے بہتا ہے۔

باندھنا: سمر یا جاؤ کے زور سے دھار کو کند کر دینا،
بٹھا کر دینا۔

بند ہو جانا: دھار کند ہو جانا۔

بٹیہ جانا: دھار کا کند ہو جانا۔

پرمانا: رکنا (یشا) خاطر میں نہ لانا، حقیر جانا خیال
میں نہ لانا، محض بے حقیقت ناجیز اور نالائق سمجھنا۔

دھار چرٹھانا: گنگا یا جمن پر مشقت مان کر دودھ کی
دھار ڈالنا۔

چھوٹنا: زور سے دھار نکلنا

دار: باڑھ دار، تیز۔

رکھنا: تیز کرنا، باڑھ رکھنا۔

گرنا: کند ہونا، دانستے پڑنا، دھار نہ رہنا۔

لینا: تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پینا، منہ میں دودھ
کی دھار لینا۔

لگانا: ہرمانا: پیشاب کرنا، موٹنا۔

نکالنا: دودھ دھو ہونا، دودھ نکالنا۔

دھارا: مذکر، دریا کی وسط کی روانی، (۵) موٹ، (۲)
سوج، لہر، بہاؤ، سوتا۔

دھارنا: کسی عضو پر گرم پانی کا تریٹرا ڈالنا۔

دھارسی: موٹ، بکیر، خط، سیدھا خط۔

دار: وہ چیز جس پر خط پڑا ہو۔

دھاڑ: موٹ، ایک گروہ کا اکٹھا ہو کر جھگڑنا، لوٹنا دارو
میں تنہا مستقل نہیں، بار دھاڑ کی ترکیبے تھما مستقل ہے

کی دھار: (دہلی) گروہ کے گروہ،

دھاڑیں مارنا / مارا کر رونا: چلانا، چھنا، واویلا کرنا،

دیوتا: (۱) اصطلاح اہل ہنود، مذکر، (۲) فرشتہ، اوتار، بزرگ،
مقدس (۳) بھولا بھالا، سادہ لوح، (۴) رطن، (۵) مکار، شری
مستغنی (۶) سانپ، ناگ۔

دیوٹ: مذکر، (۱) چراغ دان، شمع دان (۲) رکنا (یشا) کالا
آدی، کالا کھڑا۔

دیوٹ: (۱) بے حقیقت، بے عزت، بے جیا،
بے مشرم (۲) اپنی بیوی کے افعال نتیجے سے پشیم پشیم
کرنے والا۔

دیو داسی: (۱) موٹ، بندر کی رقاصہ مند
کی خدمت کے لیے وقف لڑکی۔

دیور: مذکر، خاوند کا چھوٹا بھائی۔

دیوزاد: (۱) دیو کی اولاد، (۲) قوی، سیکل۔

دیو کا دیو: نہایت موٹا، مجیم شمیم۔

دیورانی: موٹ، دیور کی بیوی، خاوند کے چھوٹے بھائی
کی بیوی۔

دیو کنیا: (۱) موٹ، دیوتاؤں کی بیٹی، دیوی۔

دیول: (۱) مذکر، چھوٹا مند۔

دیوللا: (۱) مذکر، دیا، ہی کا چھوٹا چراغ۔

دیولوک: (۱) مذکر، دیوتاؤں کی دنیا، عالم جاوڈانی۔

دیومالا: (۱) موٹ، (۲) دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں (۳)
اساطیر، علم الاصنام۔

دیوناگری: موٹ، ناگری زبان، ہندی حروف۔

دیوہرا: (۱) مذکر، بہت خانہ۔

دیوہر: (۱) مذکر، تن، جسم، بدن۔

دیہی: (۱) صفت، دیہہ سے منسوب، گاؤں کی، دیہاتی
مصنوفاتی۔

دیہیم: (۱) مذکر، شاہی تاج۔

دھ - ا - ج

دھا: مذکر، (۱) لے، سہ، آہنگ (۲) چٹا سہ۔

دھات: موٹ، (۱) چھلنے کی صلاحیت رکھنے والا کالی جوہر

— دھائیں کرنا؛ چائیں چائیں کرنا، شور مچانا، اپنا
راگ لگانا۔

دھبا؛ مذکر؛ (۱) داغ، نشان، ٹیکار (۲) دکنائیاں عیب
بے جا تہمت۔

— پڑنا؛ داغ لگنا، نشان پڑنا۔

— لگنا؛ (۱) داغ لگنا، کسی چیز کا داعی ہو جانا (۲) عیب لگنا،
عیب وار ہونا۔

دھبلا؛ مذکر؛ عورتوں کا ڈھیلا ڈھال لٹہ بند، لہنگا، پے قطع
ڈھیلا پاجامہ۔

دھبپ؛ مؤنث؛ تپھر، دھول۔

دھعت؛ مؤنث؛ (۱) لت، عادت، خراب عادت، دھن۔
— پڑنا / لگنا؛ عادت پڑنا، لت لگنا۔

دھیتیا؛ عادی۔

دھت؛ (۱) نشہ میں چور (۲) دُت (دور جو)

دھتا؛ مذکر؛ ٹال ٹول، دھتکار (۲) مکر، فریب، دھوکا۔

— بتانا؛ ٹالنا، رفق چکر کرنا، چھوڑنا، ترک کرنا، علاحدہ
کرنا، نکال دینا۔

— دینا؛ دھوکا دینا، جمل دینا، فریب دینا۔

دھتکار؛ مؤنث؛ لعنت، ملامت۔

— بتانا؛ ذیل کر کے ترک کرنا۔

دھتکارنا؛ نکالنا، لعنت، ملامت کرنا۔ چھوڑنا۔

دھتورا؛ مذکر؛ بانٹوں بھرا زہریلا پھل۔

دھتوریا؛ مذکر؛ مسافروں کو دھتورا اٹھلا کر لٹے والوں کا ایک گروہ۔

دھتیا؛ مؤنث؛ چھوٹی دھوتی۔

دھج؛ مؤنث؛ (۱) طرز، روش، انداز، (۲) وضع۔

— بدلنا؛ (۱) صورت بدلنا، لباس بدلنا، طرز بدلنا (۲)
دبٹے بازی میں، ٹھاٹھ بدلنا۔

— بتانا؛ کوئی وضع بنانا، نئی وضع پیدا کرنا۔

دھجیلا؛ مذکر؛ خوش اندام، وضع دار، سجیلا، جامہ زیب۔

دھجی؛ مؤنث؛ کاغذ یا کپڑے کی لاپٹی، کشتی، کشتی، کشتی

والی کشتی۔

زار زار رونا۔

دھاگ؛ مؤنث؛ (۱) رُعب (۲) دھوم (۳) ڈر خوف
دہشت۔

— باندھنا / بچھانا؛ رُعب بچھانا۔

— بیٹھ جانا؛ رُعب بیٹھ جانا۔

— چھانا؛ رُعب قائم کرنا۔

دھاگا؛ مذکر؛ (۱) تاگا (۲) فریب، دھوکا، جھانسا دینا۔

— ڈالنا؛ دھاگا پھرننا، سوئی میں دھاگا ڈالنا۔

دھامن؛ مؤنث؛ (۱) ایک قسم کا لباس (۲) کمان اور
غلیل وغیرہ بنانے کا ایک قسم کا باتش (۳) ایک قسم
کی عمدہ گھاس۔

دھان؛ مذکر؛ چھلکوں سمیت چاول (۲) چاولوں کا پودا۔

— پان؛ دُپلا، پتلا، لاغر، نازک اندام۔

دھانی؛ (۱) ہلکا سبز رنگ (۲) زمین دھان ہونے کے قابل
(۳) ایک قسم کا چاول۔

دھاندلی؛ مؤنث؛ امر واجبی کو چھپانا۔

دھانس؛ مؤنث؛ چھینکیں لانے والی سوکھی تمباکو یا تیز
مرچ کی بو۔

دھانسا؛ (۱) زمین میں دھنسا دینا (۲) گھوڑے کا
کھانسا (۳) ڈرانا، دھمکانا۔

دھانک؛ مذکر؛ کمان دار۔ تیر انداز، تیر اور کمان سے
سلح چوکیدار (۲) ایک پہاڑی قوم کا نام۔

دھانگر؛ مذکر؛ کنویں اور تالاب کھودنے کا کام کرنے والی
ایک برادری کا نام۔

دھاوا؛ مذکر؛ چڑھائی، بڑا حملہ۔

— بول دینا؛ حملہ کر دینا۔

— کرنا؛ چڑھائی کرنا، پورش کرنا، حملہ کرنا، چڑھ کر جانا۔

— مارنا؛ بڑا الجھنا کرنا، دور تک پورش کرنا۔

دھاوت؛ (۱) مذکر؛ شہدوں کا سرگروہ۔

دھاٹیں؛ دھان، توپ کی آواز، دھون۔

— دھائیں؛ مؤنث؛ ہندوؤں، توپوں کی متواتر آواز۔

— رکھنا: رکھ چھوڑنا، چھپا رکھنا، پکڑ رکھنا، تمام لینا روک لینا۔

— کے کسنا: سخت پکڑنا۔

— کے مڑوڑنا: زور کر کے مڑوڑنا۔

— گھسیٹنا: زور سے گھسیٹنا۔

— لپکنا: سب کام چھوڑ چھاڑ کے لپکنا۔

— لینا: (۱) رکھ لینا (۲) (کنایتاً) متواتر حملہ کرنا،

(۳) لعنت ملامت کرنا، قابل معقول کرنا۔

— دُھر: مذکورہ مسافت کی انتہائی دوری (۲) اختتام منزل

مقصود تک پہنچانے کا سیدھا راستہ۔

— اُدھر: سرے سے انجام تک۔

— سے: ابتداء سے جڑ سے بنیاد سے۔

— سے: دُھر تک: ابتدا سے انتہا تک۔

— کا: اعلیٰ درجہ کا، چوٹی کا۔

— دُھرا: مذکورہ (۱) محور، حد (۲) لوہے کی وہ سلاخ جس

پر گاڑی کا پھتیا پھرتا ہے۔

— دھرا/دھرے جانا: پکڑا جانا (کنایتاً) کسی آفت میں

مبتلا ہونا۔

— دھرا جائے/دھری جائے نہ اٹھائی جائے: بہت سچ دارے

قبول کی جا سکے نہ رد کی جا سکے۔

— دُھنکا: مذکورہ رکھا رکھایا، بچا کھچا۔

— رہنا/دھری رہنا: (۱) بے کار ہونا، معطل ہونا۔

بے سود ہونا (۲) رکھا رہنا۔

— دھرانا: دھمکی دینا، ڈرانے والی بات کسی کو ڈرانا۔

— دُھر پٹا/دُھر پدہ ہونٹ: ہندوستانی گانے کا ایک

قدیم طرز۔

— دُھرتی: ہونٹ، زمین، دنیا، جہان۔

— کا پھول: (۱) ککڑمتا (۲) مینڈک (۳) کنایتاً،

(نوردولت)۔

— دُھرکار: مذکورہ نرکل چیر کر اس سے مختلف چیزیں بنانے والا

کارگر۔

— ہوجانا: کمزور اور لاغر ہوجانا، بیماری کے باعث

زرد یا سفید رنگ نکل آنا۔

— دھجیاں اڑانا: لباس۔ کپڑے، کاغذ کے پارہ پارہ

کرنا، پاش پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا (۲) کنایتاً

ذلیل کرنا، رسوا کرنا، خوب خبر لینا، شرمندہ کرنا،

مکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا۔

— اُڑنا: (۱) لباس، کپڑے، کاغذ کے پارہ پارہ

ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پُرزے پُرزے ہونا (۲) برائی

بیان ہونا، رسوائی ہونا۔

— بکھیر دینا: ادھیڑ دینا، منتشر کر دینا، افشائے لاز

کرنا، توہین کرنا۔

— کرنا: پُرزے پُرزے کرنا۔

— لگانا/دھجیاں تن پر لگانا: (کنایتاً) بچھے ہوئے

کپڑے پہننا۔

— لگنا: غریبی یا مفلسی کے باعث کپڑے پھٹ جانا

نہایت غریب اور مفلوک الحال ہوجانا۔

— لینا: کھنڈ (کنایتاً) (۱) شرمندہ ہونا، (۲) جامہ و لباس

کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

— دُھچکا: (مذکورہ) (۱) ہچکولا، صدمہ، دھتکا، جھٹکا، (۲)

کنایتاً نقصان۔

— دھدھک: ہونٹ، جلیبی ہوئی ہانگ کا شعلہ۔

دھ-دھ-م

— دُھر: حرف اختصاں، اُردو میں اخصار کے معنی دیتا ہے۔

— پکڑ: ہونٹ، گرفتاری۔

— پکڑنا: مانوڈ کر لینا، پھانس لینا، جلدی سے پکڑ لینا۔

— چھوڑنا: رکھ لینا۔

— دُباننا: مغلوب کر لینا، دلچ لینا۔

— دُھر کے پینا: زور کر کے پینا۔

— دُھر دھمکنا: (۱) دُھنکا آجانا، جا سپہنچنا (۲) (کنایتاً)

خواہ مخواہ کوئی فعل کرنا۔

کے گرنے کی آواز (۳) کسی چیز کے برابر گرنے یا پٹنے کی آواز، (۴) بچے، درپے متواتر۔
 دھڑا دھڑی کا ماتم: زوردار سخت، سینہ کوئی کا ماتم۔
 دھڑ جلتا: بہت تیزی سے جلتا، شعلہ دیتے ہوئے جلتا۔

دھڑ سے گزنا: کسی بھاری چیز کا بندھی سے زور کے ساتھ گزنا۔
 دھڑا کا: مذکر؛ دھماکا۔
 دھڑا کے سے: (عم) پھرتی سے جلدی سے۔
 دھڑام: کسی بھاری چیز کے زور سے گرنے کی آواز۔
 سے گزنا: زور سے گزنا۔
 دھڑک: موٹ؛ تڑپ، بے قراری، ڈر۔
 دھڑکا: مذکر؛ خوف، اندیشہ، کھٹکا۔
 لگا رہنا: خوف غالب رہنا، کھٹکا رہنا۔
 دینا: دہلادینا۔

دھڑکن: موٹ؛ (۱) تڑپ، بے قراری (۲) دل کا ہول، اختلاج قلب۔

دھڑکنا: (۱) تڑپنا بے قرار ہونا، دل کا اچھلنا (۲) دلہنا، خوف کھانا، اندیشہ کرنا، ڈرنا۔
 دھڑتے سے: علانیہ، بے باکانہ۔
 کی لڑائی: زور شور کی لڑائی۔

دھڑنگ / دھڑنگا: (دھ) ننگا، ننگ دھڑنگ، ننگا دھڑنگا (دھڑنگ کے ساتھ مستعمل ہے)۔
 دھڑی: موٹ؛ ہستی کی تہ جموعرتیں ہونٹوں پر لگاتی ہیں یا جاتی ہیں۔

اڑ جانا: ہستی کی تہ کا ذایل ہونا۔
 جانا / لگانا: ہونٹوں پر ہستی کی تہ جانا۔
 دھڑی کر کے لوٹنا: بالکل تاراج کرنا، جھاڑ پھیرنا۔ تمام مال و متاع لوٹ لینا، تنکا ڈھونڈنا۔
 دھڑ لولہ: بہ کثرت، بہ افراط۔

دھس: مذکر؛ قلعہ، پشتہ، قلعہ کے گرد کا پشتہ یا دھمسی جو چاروں طرف چڑھا دیتے ہیں۔

دھرم: مذکر؛ (۱) ایمان، عقیدہ، انصاف (۲) قاعدہ دستور، (۳) مذہب، ملت۔
 بگاڑنا: دین کھونا، ایمان کھونا۔
 سالار شالا: مذکر؛ مسافر خانہ، خانقاہ۔
 شاستر: مذکر؛ اہل ہنود کا مذہبی قانون، فقہ۔
 لگتی کہنا: ایمان سے کہنا۔

دھرماتما: مذکر؛ دھرم والا، عابد، قیاض، سخی۔
 دھرن: (عم) موٹ؛ ناف، نلا، سچ دان۔
 دھرنا: (۱) رکھنا (۲) قائم کرنا، ٹھیکنا، بٹھانا، جسانا، جیکے قرار دینا (۳) سپرد کرنا، تحویل کرنا، ودیعت کرنا (۴) گروی رکھنا، رہن رکھنا، ضمانت میں دینا، امانت رکھنا (۵) پکڑنا، قبضہ کرنا (۶) ڈھسی، دستک۔
 دینا: جم کر بیٹھنا، قرض خواہ کی طرح جم جانا، دستک دینا۔

دھرے دھرے: رکھے رکھے۔

دھروا دینا: (۱) کسی کو گرفتار کرنا (۲) رکھنا دینا۔
 دھرونا: ہندو لڑکی کی دوسری شادی۔
 دھرونا / دھروڑ: موٹ؛ امانت، تحویل۔
 دھڑے اڑانا: (۱) مار پیٹ کرنا، دڑے لگانا، چابک مارنا، (۲) ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔

دھڑ: مذکر؛ جسم بے سر، بدن، جسم (۲) موٹ گرنے کی آواز۔
 کرہ جانا: فاج ہو جانا، جسم کا حرکت نہ کر سکرنا۔
 میں ڈالنا: دہلی، پیٹ میں ڈالنا۔

دھڑا: مذکر؛ (۱) وزن، بوجھ، (۲) پانسنگ برابر کرنے کا وزن، (۳) دھڑی۔

اٹھانا: تولنا، وزن کرنا۔
 باندھنا: دکنایت، کسی کو بغیر لمحے کے ملزم ٹھہرانا، تہمت لگانا، پانسنگ یا کسی چیز کا وزن برابر کرنا۔
 کرنا: ترازو کے دونوں پتوں کو کسی چیز کے وزن کے برابر کرنا۔

دھڑا دھڑی بکنا: کثرت سے فروخت ہونا۔
 دھڑا دھڑ: موٹ؛ (۱) مکانوں کے گرنے کی آواز، (۲) پتھوڑ

دھسنا: مذکر، موی، اونی چادر۔
 دھسانا: (۱) کپڑا یا دلدل میں پھنسانا، (۲) بھرنا، ٹھوننا
 گھسیٹنا۔
 دھسک: موت؛ کھانسی، خفیت کھانسی۔
 — جانا: صدمہ پا کر دیوار کا پھٹ جانا۔
 دھسکتا: (۱) دھسکا دینا (۲) بیٹھ جانا۔
 دھسنا / دھسننا: (۱) پھنسا، دلدل میں گھسنا، ڈوبنا،
 داخل ہونا، زمین کا اندر کی طرف بیٹھ جانا (۲) گھس جانا۔
 دھک: موت؛ (۱) چھوٹی خون، بلکہ (۲) صفت: حیران۔
 — سے رہ جانا: حیران رہ جانا۔
 — سے ہو جانا: حیرت میں رہ جانا، ناگہانی صدمے یا خوف
 سے بھونچکا رہ جانا۔
 دھکا: (۱) ہاتھ کے یا شانے کے ریلے سے پہنچنے والا صدمہ،
 (۲) ضرر، ٹوٹا، آفت، بلا، حادثہ۔
 — پڑنا: صدمہ پہنچنا۔
 — پیل: موت؛ دھکم دھسکا، ریل، پیل۔
 — پیلی کرنا: رلینا، ڈھسکتا۔
 — دینا: ہچکولادینا، ڈھسکتا، صدمہ پہنچنا۔
 — کھانا: صدمہ اٹھانا، نقصان اٹھانا، آوارہ پھرنا۔
 — لگنا: (۱) صدمہ پہنچنا، نقصان ہونا، (۲) لگنا (تھا)
 نقصان پہنچنا۔
 دھکم دھسکا: مذکر؛ بھیڑ میں آپس کی ریل پیل۔
 دھکے کھاتے پھرنا: دھسنا مارا مارا پھرنا۔
 دھک دھک: موت؛ بے قراری کیلئے یاد دل کی۔
 — کرنا: دل دھک دھکا، تڑپنا، بے قرار ہونا۔
 دھسکار: (۱) موت؛ پھسکار، لعنت، ملامت۔
 دھسکھی / دھسکھی: موت؛ (۱) گے کا ایک زیور (۲)
 سینے کی پتی۔
 — میں ڈم ہونا: نزع کا عالم ہونا۔
 دھسک پکڑ: موت؛ (۱) دھسکن، بے قراری، اضطراب، گھبراہٹ
 (۲) ڈبھا، پس دیش (۳) اسید و نیم خوف درجا۔

دھسکیانا: دھسکا دینا، بچے سے ڈھسکتا، رلینا، ٹھیلنا۔
 دھسکھی: موت؛ ڈگدی۔
 دھسکڑا: (۱) مذکر، شوہر، بدکا عورت کا بار آشنا۔
 دھسلانا: کپڑوں یا کسی چیز کا دھسکنا کرنا۔
 — دھسلانی / دھسلوانی: کپڑے دھونے کی اجرت، دھلوانی۔
 دھلے دھلائے: (۱) دھونے ہوئے (۲) پاک صاف۔
 دھلینڈی: موت؛ ہولی کا دوسرا دن رجب دھول
 اڑاتے اور رنگ کھیلتے ہیں۔
 دھل دھل: زیادہ بہنے والی پتلی شے، خصوصاً خون
 پیشاب۔
 دھما چو کرٹی: (۱) موت؛ آچھل کود، ہنگامہ دھسکا
 منشتی، بچوں کا کودنا۔
 — مچانا: اُدھم مچانا، ہنگامہ برپا کرنا۔
 دھماکوں: (۱) دھماکے والا، سنگین، ہنگامہ خیز۔
 دھمال: موت؛ (۱) کود پھاند، آچھل کود، قلندر فقیروں
 کا کودنا (۲) شورغل دھما چو کرٹی (۳) ایک قسم کا راگ
 (۴) دھلینڈی کے دن کا گیت۔
 — کرنا: قلندروں کے ایک خاص وضع کے ساتھ کودنا
 دھما چو کرٹی مچانا، غل شور کرنا، درویشوں کا آگ
 میں کودنا۔
 — کھیلنا: قلندرانہ آچھل کود کرنا، اچھلنا کودنا۔
 دھمالیہ: مذکر؛ دھمال کرنے والا فقیر، آگ میں کودنے والا فقیر۔
 دھک: موت؛ (۱) پاؤں کی آواز، آہٹ، صدمہ سخت
 آواز سے دماغ کو پہنچنے والا صدمہ، (۲) خفیت دردہر۔
 دھسکانا: ڈرانا، خوف دلانا، ڈانٹنا، سرزنش کرنا،
 گھر کرنا، تہدید کرنا۔
 دھسکتا: (۱) دردہر ہونا (۲) کوئی چیز کو ٹھنا۔
 دھسکی: موت؛ گھسکی، خوف، تہدید۔
 — دینا: ڈرانا، تہدید کرنا، خوف دلانا۔
 دھسکی میں آنا: ڈر جانا، خوف مان جانا۔

(۳) مانند، کم چمک۔

دُھندلا دکھائی دینا؛ صاف نظر نہ آنا، کم نظر آنا۔

دُھندلا: (۱) کام کاج، کاروبار، (۲) شغولیت، مصروفیت،

(۳) پیشہ، ہنر۔

دُھندلانا: دھاندلی کرنا۔

دُھندلا لگا: مذکر؛ علی القباہ جب کچھ تاریکی باقی ہو تو رکھنا لگا۔

دُھنسنا: دھسننا، زمین میں گھس جانا۔

دُھنگ: مونث؛ (۱) پتلا گونا، (۲) قوس قزح۔ وہ کمان کی

شکل جو برسات میں آسمان پر مختلف رنگوں میں نظر

آتی ہے (۳) ایک قسم کی اوڑھنی۔

دُھن کٹی: مونث؛ دھان کوٹنے کا آلہ، دھانوں کی اوکھی

(۲) ایک چھوٹا کپڑا، (۳) دکھنا پٹنا، وہ جس پر ہر وقت

مار پڑتی رہتی ہے۔

دُھنکنا: (۱) دھان چھڑنا، دھانوں کو کوٹ کر چاول کھانا

(۲) خوب زد و کوب کرنا، خوب پیٹنا۔

دُھنکنا: (۱) روئی دُھننا (۲) دکھنا پٹنا، خوب مارنا پیٹنا۔

دُھنگوائی: مونث؛ دھنکنے کی اجرت۔

دُھنکی: مونث؛ روئی دُھنکنے کی کمان، روئی صاف

کرنے کا آلہ۔

دُھنکیا / دُھنیا: مذکر؛ روئی دُھنکنے والا۔

دُھننا: (۱) روئی صاف کرنا، دھنکنا (۲) مارنا پیٹنا (۳)

سرزنش کرنا، نینبہ کرنا، (۴) ٹپکنا، دے مارتا۔

دُھنی: مونث؛ شہتیر، کڑی۔

دُھنیا: مذکر؛ کشنیز، ایک خوشبودار پودا جس کے خشک بیج

اور پتیاں گوشت کے مسلے میں ڈالی جاتی ہیں۔

دُھنیا: مذکر؛ (۵) روئی دُھنکنے والا، تداق۔

دُھنیہ وار: (۶) مذکر؛ شکر گزاری، شکر یہ۔

دھ - و

دُھوان: کسی چیز کے جلانے سے اُپر اُٹھنے والی کالی گیس۔

دُھانا: کھانے میں دُھویں کی بو آنا (۲) دھویں کی

دھ - ن

دُھن: مذکر؛ (۱) مال، دولت، جائداد (۲) بحث، نصیب

طالع، (۳) برج، قوس۔

دُھانگ: (۱) خوش قسمتی، (۲) (طنزاً) بد قسمتی۔

دُھرتنا: دولت جمع کرنا۔

دُھولت چلتی پھرتی چھاؤں ہے؛ دھل، مال و دولت

کا کوئی بھروسہ نہیں کسی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس۔

دُھنی: (۱) مال دار خوش نصیب، (۲) کسی فن میں پوری دستگاہ

رکھنے والا، (۳) (مہندو) مذکر؛ غاوند مالک۔

دُھنیہ ہے: (۱) آفریں ہے، (۲) طنزاً، یہ کیا کیا؛

دُھن: (۱) راگ کی آواز، لے، (۲) خیال دھیان، جو

برابر سلسلہ وار ہے (۳) شوق اشتیاق، ٹو، سرگرمی (۴)

کت، موہت، (۵) گانے کی طرز۔

دُھنہنا: تصور یا دھنا، خیال جمانا، کو لگانا۔

دُھنہنا: کسی امر کا خیال مستقل بندھا رہنا،

تصور جہنا۔

دُھنہنا: خیال بندھنا۔

دُھننا: دھیان لگنا، کسی خیال میں محو ہونا۔

دُھننا: دُھم، دُھکیو دھرننا۔

دُھننا: کسی کے دروازے پر تقاضے کے واسطے جھمکنا

موجود رہنا۔

دُھننا: (۱) جہایت دولت مند، دُھنی، مال دار (۲)

دُھننا (۳) مفسد، سرکش، سرزد۔

دُھننا / دُھنیا: مذکر؛ تداق؛ روئی دُھنکنے والا۔

دُھننا سہری: مونث (۱) مالکوس، راگ کی ایک راگنی (۲) کشتی

کا ایک داؤں۔

دُھننتر: (۱) دولت مند، مالدار، امیر (۲) زبردست ہرکس۔

دُھند: (۱) کپڑا، خبار (۲) اندھیرا (۳) کم نظر آنا۔

دُھنلا: (۱) تاریک جیسا، (۲) بے نور غیر شفاف، گدلا۔

سیاہی کسی بگجہم جاتا۔

دھواں اٹھنا: (۱) دھواں نکلنا، دھواں بند ہونا، (۲) دکنایا، آہ نکلنا۔

جاننا، کھانے میں دھویں کی بو آجانا (۲) چھت یا کسی چیز کا دھویں کی وجہ سے سیاہ ہو جانا۔

دھار: (۱) دھواں بھرا ہوا (۲) بہت کالا، (۳) جوش سے بھرا ہوا، پر جوش۔

دھار برستا: بارش زور سے ہونا، دھرتے سے برستا۔

دینا: کسی چیز کا بننے سے دھواں پیدا کرنا۔

گھٹنا: دھویں کا کسی بندگہ میں جمع ہو جانا۔

دھوس اڑانا، دکنایا، برباد کرنا، تباہ کرنا۔

بجھرنا: (دہلی) گھبراہٹنا، خراب خستہ ہو جانا۔

کے بادل اڑانا: بے بنیاد اور بے سرو پا باتیں بیان کرنا۔

دھواں ہو جانا: بجاپ بن کر اڑ جانا۔

دھوب: مذکر؛ دھلائی، شوب۔

دھویں: موٹ کا نام، (۱) دھوبی کا موٹ؛ کپڑے دھونے والی، (۲) ایک چڑیا۔

دھولی: مذکر؛ کپڑا دھونے والا۔

پاٹ: مذکر؛ کشتی کے ایک تیج کا نام (۲) کپڑے دھونے کا پتھر، یا تختہ۔

دھوبی سے بس نہ چلے گدھے کے کان مڑنے سے / نوچے؛ دھول بربر دست سے زور نہ ملا تو کز در کو دیا لیا۔

کاکتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا: (دھول) محض نکتا اور بے کار آدمی، وہ آدمی جو کسی مصروف کا نہ ہو۔

دھوپ: موٹ؛ سورج کی روشنی (۲) پوجا میں جلائی جانے والی خوشبو۔

اُترنا: دھوپ پھیلنا، دھوپ آنا، دھوپ کا کسی بلند مقام سے نیچے آنا۔

پڑنا: تیز دھوپ ہونا، نہایت گرمی ہونا۔

دھوپ چڑھنا: (۱) دن چڑھنا (۲) سورج نکلنا، (۳) کسی

بلند مقام پر دھوپ کا چڑھنا۔

چڑھے: دن چڑھے۔

چھاؤں: موٹ؛ ایک قسم کا ریشمی کپڑا، برے ادا چھ دن

چھیننا: قریب شام یا بدلی سے دھوپ کا غائب ہو جانا۔

چھوڑنا: دھوپ پڑنے دینا، دھوپ کی روشنی پڑنے میں مائل نہ ہونا۔

ڈال / دانی: (دہلی) موٹ؛ آگ ڈال کر خوشبودار چیزیں جلائے کل: ترن، عود دان۔

دکھانا / دینا: دھوپ میں سکھانا، کسی چیز کو دھوپ میں رکھنا۔

کھانا: دھوپ میں میٹھا، دھوپ میں رہنا، کسی چیز کو دھوپ لگنا۔

کھلنا: دھوپ کا پھیلنا۔

گھڑی: موٹ؛ دھوپ کے گھٹنے بڑھنے سے وقت معلوم کرنے کا آلہ۔

لگنا: دھوپ کا اثر ہونا، دھوپ پڑنا۔

لینا: دھوپ کا اثر لینا، دھوپ کھانا۔

میں بال (سر، چونڈا، سفید کرتا، دکنایا) بڑھاپے تک ناخبر بہ کار رہنا، طویل عمر پانکے ناخبر بہ کار رہنا۔

میں کٹا ہونا: تیز دھوپ میں دیر تک رہنا۔

نکلنا: (۱) سورج نکلنا (۲) دکنایا، روشنی پھیل جانا۔ دھوتو: مذکر؛ بھونپو، جگل، ترہی، نرسنگا،

دھوتی: موٹ؛ تہبند، دھبلا، کمر سے لے کر ٹانگوں تک کا خاص لباس۔

بند: مذکر؛ دھوتی باندھنے والا۔

دھور / دھنور: مذکر؛ ایک قسم کی فاختہ۔

دھورا: مذکر؛ وہ پسی ہوئی دوائیں جو کسی درد کی جگہ گرم گرم خشک ملی جائیں۔

دھوکا: مذکر؛ (۱) قریب، حیلہ، سکر، دُفا، (۲) غلط فہمی، مغالطہ، (۳) سراب۔

دھوکا اٹھانا؛ دھوکا کھانا۔

دھڑی : موتی، مغالطہ، پھل، بٹا، مکروہیب۔

کھانا؛ فریب میں آنا، غلطی میں پڑنا، چمکنا، خطا کرنا۔

ہونا؛ (۱) مغالطہ ہونا، شبہ ہونا، (۲) غلطی ہونا، سہو

ہونا، دم میں آنا، نقلی یا مصنوعی معاملے پر اعلیت کا

بھگان ہونا۔

دھوکے باز: فریبی، دغا باز۔

کی ٹپٹی: موتی، آشکارا دھوکا دینے والی ٹپٹی (۲)

بودی چیز، نازک چیز، (۳) دکناٹیا، فریب میں لانے

والی چیز، مغالطہ میں لانے والی چیز۔

میں رکھنا: جنونی امید رکھنا، جھوٹا وعدہ کرنا، دم

دینا، مغالطہ دینا۔

دھول: موتی؛ (۱) چائٹا، تھپڑ سر پر مارنا دھپ، (۲)

نقصان، خسارہ۔

جرطما؛ تھپڑ مارنا۔

دھیٹا؛ مذکورہ آپس میں ایک دوسرے کے سر پر تھپڑ مارنا۔

کھانا؛ چائٹا کھانا، خسارہ برداشت کرنا،

رگانا، مارنا؛ دھپ مارنا۔

لگنا؛ (۱) چائٹا لگنا (۲) خسارہ ہونا، ٹوٹا ہونا،

نقصان ہونا۔

دھول: موتی؛ گرد، خاک، راکھ، خاکستر۔

اُڑا دینا؛ دکناٹیا، مٹا دینا۔

اُڑانا؛ (متعدی) (۱) گرد اُڑانا، (۲) رُسوا کرنا،

بدنام کرنا، (۳) آوارہ پھرنا، تخریب خستہ پھرنا (۴) کوشش کرنا۔

اُڑنا؛ (لازم) ہنگام اُڑنا، گرد اُڑنا (۲) بنامی ہونا، رسولی

ہونا، (۳) برپا ہونا، تباہی پونہ۔

جھاڑنا؛ (۱) خاک جھاڑنا (۲) کنایتا؛ پینٹا، زرد کوکوب

کرنا۔

جھڑنا؛ گرد دھڑ ہونا، گت بننا، سزا ملنا۔

چائٹا؛ زمین پر گر جانا، ذلیل ہونا، شکست اٹھانا۔

کئی رستی؛ (کنایتا) بے اصل، بے ثبات۔

دھول کی رستیاں، دھول سے رستیاں بننا؛ ناممکن

بات کی کوشش کرنا، بیانہ کرنا۔

دھوم: (۱) موتی، شور و غل، ہنگامہ، غل فیاض (۲) آواز

غلغلہ، شہرت، دھاک (۳) افواہ، خیر (۴) دھوم

ایک قسم کا چکن کا کام، مڑی۔

اٹھانا، شور مچانا۔

اٹھنا؛ دھوم مینا، دھوم ہونا۔

اُڑانا؛ مشہور کرنا، شہرت کر دینا۔

پڑنا؛ جرجرا ہونا، شہرت ہونا۔

دھام: موتی، (۱) شان و شوکت، بیخبر بھارت

(۲) زور، شور، بیل پیل، (۳) غل شور، آواز، شہر، ہنگامہ، کئی

دھڑکا؛ مذکورہ ہنگامہ، شور، غلغلہ۔

ڈالنا؛ ہنگامہ برپا کرنا، غل مچانا، شور مچانا۔

کرنا؛ ہنگامہ برپا کرنا، شہرت دینا۔

مچانا؛ (۱) غل شور کرنا، غل مچانا، ہنگامہ برپا کرنا،

چلانا، (۲) ڈالی دینا، فریاد کرنا، ڈاویلا مچانا (۳)

جلدی کرنا۔

دھومک دھیٹا؛ دھوم موتی، غل شور، واویلا، ہنگامہ۔

دھونا؛ (۱) پانی سے صاف کرنا (۲) دور کرنا، (۳) رائل کرنا۔

دھونتال؛ موتی دھوم، کام میں چالاک، جلد کام کرنے والی۔

دھولش؛ موتی؛ (۱) دھکی (۲) جھانسا، دم (۳) پٹی فریب،

دھکا۔

پٹی؛ موتی، دم، جھانسا، دم دلاسا۔

دینا؛ دھکی دینا۔

میں آنا؛ دھکی میں آجانا۔

دھونسا؛ مذکورہ دم باز، مسکار، فریبی۔

دھونسا؛ مذکورہ بڑا نقارہ،

کھانا؛ شامت آنا، سر پھینا۔

دھونک / دھونکن؛ موتی؛ دل کی گرمی سے پیاس کی

شدت۔

دھونکنا؛ دھونکنی سے پھونکنا، کسی چیز سے ہوا دے کر

دھیان بندھنا: خیال بندھنا، تصور ہونا، کسی کا خیال آنا۔
 — پر چڑھنا، کسی بات کا بخوبی خیال میں آ جانا۔
 — پھر جانا: طبیعت کا پھر جانا۔
 — دوڑانا، خیال دوڑانا، سب پہلوؤں پر نظر کرنا۔
 — دینا: توجہ کرنا۔
 — رہنا: خیال رہنا، توجہ رہنا۔
 — سے اترنا: خیال سے اترنا، یاد نہ رہنا، بھول جانا
 سہو ہونا۔
 — لگانا: کسی کام میں فکر و اندیشہ کرنا۔
 — کرنا: توجہ کرنا، سوچنا، سمجھنا، فکر کرنا۔
 — لڑانا: خیال کو کسی خاص طرف متوجہ کرنا، غور کرنا،
 فکر کرنا۔
 — لڑنا: دھیان کی رسائی ہونا۔
 — میں آنا: خیال میں آنا، ذہن پر چڑھنا،
 باوقعت ہونا۔
 — میں ہونا: خیال میں ہونا۔
 دھیانی: (مہندو) خدا سے لوگنے والا، صاحب تصور۔
 دھیرا: دھما، تمحل، نرم، ملائم صابر۔
 دھیرج: (کا) مذکر، صبر، استقلال، مضبوطی، نرمی،
 بہت، ثابت قدمی۔
 دھیرے دھیرے: آہستہ آہستہ۔
 دھیلا / آدھیلا: مذکر؛ (۱) پرانا، آدھا پیسہ (جو اب
 راج نہیں) (۲) دلالوں کی اصطلاح، ۵۰ روپے۔
 دھیما: مذکر؛ (۱) کم آہستہ، نرم، شست، خفیف، ہلکا،
 ندم۔
 — پڑنا: سُٹنا، ہونا، نرم ہونا، غصہ فرو ہونا۔
 — کرنا: زور گھٹانا، نرم کرنا، سست کرنا، غصہ فرو کرنا، ہٹنا، گڑنا۔
 دھی آواز: نرم اور نیچی آواز۔
 دھینگ: دھ، قوی، مضبوط، سُٹنا۔
 — دھونکڑی کرنا: (دبلی) زبردستی کرنا، زور آدھی
 کرنا۔

آگ تیز کرنا۔
 دھونکنی: موتھ؛ مشک کی طرح چڑے کی ایک چیز جس سے
 لوہار آگ دھونکتے ہیں۔
 — لگنا: سانس چڑھنا، دم پھولنا، ہانپنا۔
 دھوئی: موتھ؛ (۱) کسی چیز کا آگ میں جلنے کا دھواں،
 (۲) کسی چیز کو جلا کر پھارا لینا (۳) سادھوؤں کی آگ کا
 ڈھیر، (۴) بخور۔
 — جگانا: (مہندو) آگ جلانا، سنیاسیوں کا آگ کے
 سامنے بیٹھ کر تپ کرنا، دھوئی رمانا۔
 — دینا: بخور دینا، دھوئی دینا۔
 — رمانا: (۱) کسی جگہ آگ جلا کر جڑیوں کی طرح بیٹھا
 دکھانا، جاگزیں ہونا، کسی کسی جگہ بیٹھ رہنا۔
 — لگا کر بیٹھنا: (دکھانا) کسی پر اعتماد کر کے بیٹھنا۔
 — لگانا: دھوئی رمانا۔
 — لینا: بخور لینا، دھواں لینا۔
 دھوون: مذکر؛ کسی چیز کا دھویا ہوا پانی۔
 دھوئی / دھولائی: (دھو) دھوئی ہوئی، پاک۔
 — دھولائی آنکھ: بے حیا، بے مروت، بُرائی کرنے
 میں ڈھیٹ۔
 — ہوئی زبان / دھوئی دھولائی زبان: پاک کی
 ہوئی زبان۔
 دھویا جانا: (دکھانا) بے شرم ہوجانا، بے پاک ہوجانا۔
 دھویا دھایا: (دکھانا) مذکر، (۱) بے عزت، بے شرم،
 سادھو، صاف (۲) عیب سے بری۔
 دھویا دیدہ: بے لحاظ، بے شرم، بے مروت۔

دھ - سی

دھیان: مذکر، خیال، تصور، توجہ، ہر اقدیم، الحلا، انفات۔
 — آنا: یاد آنا، خیال آنا۔
 — پٹانا: اور طرف توجہ کرنا، تصور کا دوسری طرف لگانا۔
 — پٹکا: ایک طرف سے دوسری طرف توجہ ہونا، خیال پٹنا۔

نور آوری۔
 دھیوت؛ ذکر؛ سات سوں میں سے چھٹے سکر کا نام۔

دھینگا دھینگا بروہانگی؛ موت؛ زبردستی، دست دلاڑی
 بدبھانگی۔
 مُشتی؛ موت؛ را، گھونے کی لڑائی (۲)، اتھاپائی

ڈ

ڈاڑھی: مونث؛ (۱) ٹھوڑی اور گالوں کے بال (۲) برگد کے ریٹھے (۳) بھٹے کے ریٹھے۔

— پر ہاتھ بھرتا: (۱) اشارتا) مستعد ہونا، تیار ہونا۔

— پھٹکارنا: ڈاڑھی کے بالوں کو ہاتھ سے جھٹکنا۔

— پیٹ میں ہونا: دیکھو، پیٹ میں ڈاڑھی۔

— پیشاب سے صحت وانا: رکنا تیا) ذلیل اور قائل ہونا۔

— چھوڑنا: ڈاڑھی بڑھانا۔

— خدا کا نور ہے: (مقولہ) ڈاڑھی متبرک ہے۔

— سفید ہونا: رکنا تیا) ڈاڑھی کے بال سفید ہونا، بڑھاپا آنا۔

— کا ایک ایک بال گزنا: (دہلی) عزت بگاڑنا، ڈاڑھی نوچنا۔

— مونڈنا: ڈاڑھی کا آسترے سے صاف کرنا۔

ڈاک: مونث؛ (۱) پوسٹ، (۲) خط، اخبار پیکٹ وغیرہ

جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتیں (۳) گھوڑوں کی

چوکی، پانکی کی چوکی، جاہر جامسلس سواری کا انتظام،

(۴) لگاتار آمدورفت کا سلسلہ، خبر لائے، لے جانے کے

لیے آدمیوں کے سلسلے کا انتظام۔

— آنا: (۱) خطوط وغیرہ آنا (۲) کسی چیز کا سلسلہ آنا۔

— بٹھانا: (۱) رکنا تیا) (۲) قاصد پر قاصد روانہ کرنا، تقاضے

پر تقاضا بھیجنا، پے در پے پیام بھیجنا (۲) چوکی

بٹھانا۔

— بنگلہ: مذکر؛ سرکاری مسافر خانہ۔

— چوکی: مونث؛ ایک ہرکارے کا دوسرے ہرکارے کو ڈاک

دینے کی جگہ، ڈاک کے گھوڑے بدلنے کی جگہ۔

— خانہ: مذکر؛ پوسٹ آفس، ڈاک گھر۔

— کا گھوڑا: (۱) ڈاک لے جانے والا گھوڑا (۲) رکنا تیا)

تیز رفتار آدمی (۳) بہت دوڑنے سے بے کار ہونے والا

گھوڑا۔

ڈ، مذکر؛ (۱) اردو حروف تہجی کا ایک حرف، حساب جمل (ابجد) میں چار عدد ہیں۔

ڈ

ڈاب: مونث؛ (۱) بان بٹنے والی گھاس (۲) پرتلا، پڑے کا کر بند، (۳) مذکر؛ کچا ناریل۔

ڈاہرا: مونث؛ (۱) جھیل، چھوٹا تالاب، (۲) نشیب جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔

ڈاٹ: مونث؛ (۱) کاگ، بوتل کا مٹو بند کرنے کی چیز (۲) محراب کے بیچ کا پتھر، محراب۔

— لگانا: (۱) روکنا، بند کرنا، (۲) محراب بنانا۔

ڈاٹنا: (۱) روکنا، بند کرنا، ڈاٹ بند کرنا (۲) ٹھونکنا، (۳) (دہلی) زیب بدن کرنا۔

ڈاج: DOGE (انگ) چال، جیلہ، داؤ بیچ، استاد، حکمت۔

— دینا: دھوکا دینا، فریب دینا۔

ڈار: مونث؛ جنگل جانوروں کا جھنڈ، پرندوں کا برا، ہرنوں کی قطار۔

ڈارک روم: DARK ROOM (انگ)، مذکر؛ تاریک کمرہ۔ جو فوٹو گرافی کے کام میں لایا جاتا ہے۔

ڈارلنگ: DARLING (انگ)، مخاطب کرنے کا طریقہ، پیارا، عزیز، چیتا، لاڈلا۔

ڈاڑھ: مونث؛ پھلے دانت، دندانچانے والے دانت۔

— گرم کرنا: (۱) رکنا تیا) کچھ کھانا، (۲) (مجازاً) رشوت لینا۔

ڈاڑھ نہ لگانا: بے چلنے نکل جانا۔

ڈاڑھا: مذکر؛ بڑی ڈاڑھی۔

ڈاک کا ہر کارہ: خبر لانے لے جانے والا، پوسٹ میں،
چشمی رساں۔
ڈاکٹری: موت، میل ٹرین۔
ڈاکٹنا: (۱) خبروں کا لگانا، آنا جانا، آدمی پر آدمی آنا۔
(۲) متواتر تھے ہونا (۳) بار بار پراس معلوم ہونا۔
ڈاکیا: چھٹی رساں، ہر کارہ، پوسٹ ٹرین۔
ڈاکا: مذکر، ڈاکوں کا حملہ۔
ڈاکٹری: ڈاکوں کا حملہ کرنا۔
ڈاکٹرا مارنا: فوٹا، قارت گری کرنا۔
ڈاکو: کٹیرا۔
ڈاکٹر: DOCTOR (انگ)، (۱) علم طب کا ماہر، معالج، طبیب
(۲) یونیورسٹی کی اعلا ترین ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل
کیا ہوا (۳) عالم فاضل۔
ڈاکٹری: (۱) پیشہ، طب، طبابت، حکمت، طبی سائنس کی تعلیم۔
ڈاکٹریٹ: DOCTORATE (انگ) مذکر، کسی تحقیقی مقالے
پر حاصل ہونے والی ایک اعلا علمی سند۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔
ڈاکٹن: (دہلی) موت، بہت سا کھانے والی۔
ڈاکٹنا: (دہلی) موت، استفراغ کرنا۔ اوکنا۔
ڈاکٹنی: (۵) موت، (۱) ڈاکٹن، چٹیل (۲) دکنایتا، زبان
دراز عورت۔
ڈاکومنٹ: DOCUMENT (انگ) مذکر، دستاویز، تحریر، نوشتہ۔
ڈاکومنٹری فلم: DOCUMENTARY FILM (انگ)
موت، دستاویزی فلم۔
ڈاکوما: DOGMA (انگ) مذکر، کٹر اصول پرستی،
اصول میں شدت برتنا۔
ڈال: موت، (۱) شہنی، شاخ (۲) آب پاشی کا ٹوکلا
یا ڈول (۳) تلوار کا پھل مے قبضہ کی تلوار (۴) شیب
سے بندری پر ٹوکری سے پانی لے جانا۔ (۵)
ڈالنا سے امر کا صیغہ۔
ڈالنا: پھینک جانا، چھوڑ جانا۔
ڈالنا: (۱) پھینک دینا، ہر دینا (۲) دکنایتا، مبتلا
زمین ملی ہوتی۔

کر دینا، (۳) بے پروائی سے رکھ دینا۔
ڈال ڈال پات پات: دیکھو تم ڈال ڈال... (دخ)
ڈالنا: (۱) تازہ پھل، عمدہ پھل (۲) استعانت
اجت، انوکھا۔
ڈالنا: دکنایتا، بندر۔
ڈالا: مذکر، (۱) درخت کی بڑی اور موٹی شاخ، (۲) شادی
کے وقت دھن کے کپڑے جو اسے ماں کے گھر سے ملتے
ہیں۔
ڈالار: DOLLAR (انگ) مذکر، بعض ملکوں اور خصوصاً
امریکا میں رائج سکہ۔
ڈالنا: (۱) گرانا، پھینکنا (۲) رکھنا (۳) اندر ڈالنا (۴)
قے کرنا، (۵) اندر کرنا، داخل کرنا (۶) شامل کرنا،
حمل کرنا (۷) پرونا (۸) اڑھنا، پہننا (۹) اُٹھ لینا۔
ڈالی: موت، شہنی، درخت کی چھوٹی ڈال۔
ڈالنا: بھول سہل یا سرکاری کی ٹوکری برٹھو ندرانہ دینا۔
ڈانٹ: موت، دھکی، جھڑکی۔
ڈاننا: گھر لکنا، دھکانا۔
ڈاننا: گھر لک دینا۔
ڈانٹ: موت، دھکی، ڈرانا۔
ڈانٹنا: دھکانا، ڈرانا، خفا ہونا۔
ڈانٹ / ڈنڈ: (۱) تاوان (۲) ناؤ کھینے کا باش (۳) موت،
بغیر چڑھے کا گد کا (۴) ریڑھ کی ہڈی (۵) کھیت کی حد،
(۶) خشک زمین (۷) اونچا کھیت جس میں پانی نہ جا سکے۔
ڈاننا: تاوان ادا کرنا، بھرمانہ دینا۔
ڈانڈا: مذکر، ملک کی حد، سرحد۔
ڈالنا: سرحد پر قبضہ کرنا۔
ڈالنا: تاوان لینا، عوض لینا۔
ڈالنا: سرحد ملا دینا، قریب کر دینا۔
ڈالنا: سرحد ملا ہونا، سرحد ملی ہوتی ہونا، زمین سے
زمین ملی ہوتی۔

ڈائٹس : DAIS (انگ) مذکر، چوترا، شلشین۔
 ڈائل : DIAL (انگ) مذکر؛ (۱) حلقہ، چکر،
 (۲) گھڑی یا کسی پیمائی آلے کی وہ سطح جس پر ہندسے لکھے
 ہوتے ہیں، (۳) ٹیلیفون کا وہ چکر جس پر ایک سے صفر
 تک اعداد لکھے ہوتے ہیں۔

ڈائلاگ : DIALOGUE (انگ) مذکر؛ مکالمہ۔
 ڈائمنڈ : DIAMOND (انگ) مذکر؛ ہیرا۔
 جوہلی : ساتھویں سال کا جشن۔

ڈائی میکر : DIE MAKER (انگ) مذکر؛ ٹھپا بنانے والا،
 ٹھپا ساز، دھات کی مہر بنانے والا۔

ڈائمن : موتی؛ (۱) جادوگرنی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ
 اپنے بچوں کو آبِ کھامانی ہے، (۲) بڑھکل عورت۔

بھی بڑوسیوں کا خیال ہوتا ہے۔
 بھی دس گھر کو چھوڑ کے کھاتی ہے؛ (دش، ظالم کو
 کو بچھ سوئیٹا؛ بچھ دشمن کے حوالے کرنا۔

ڈائنامائٹ : DYNAMITE (انگ) مذکر؛ دھماکے کے
 ساتھ پھٹنے والا مادہ۔

ڈائیننگ روم / ہال : DINING ROOM/HALL (انگ)
 مذکر؛ کھانا کھانے کا بڑا کمرہ۔

ڈ - ب

ڈب : موتی؛ (۱) جیب، (۲) گردن (۳) کپتے بنانے کا
 چمڑا (۴) مذکر؛ قابو، قبضہ۔

ڈب : DUB (انگ) (دغلی اصطلاح) کسی فلم کی اصل
 زبان کی جگہ دوسری زبان کی ریکارڈنگ۔

ڈوبا : مذکر؛ محنت جیز رکھنے کے لیے ذہنی، مین، پلاسٹک
 وغیرہ کا بنا ہوا تول، چوکور، مستطیل شکل کا ایک
 چھوٹا ظرف۔

ڈوبا : مذکر؛ (۱) (دہلی) بڑی ڈیڑھ (۲) بچوں کی پہلی چھلکی بیاری۔
 ڈوباؤ : مذکر؛ بڑی کے قد سے زیادہ گہرائی۔

ڈوبانا : آنکھ میں آٹھ بھر آنا۔

ڈانٹا مینڈی : موتی، دشمنی، عداوت۔
 ڈانٹے مینڈے کی حکمران؛ سردی جھگڑا۔

ڈانڈی : (۱) مذکر؛ ملاح، کھینے والا، (۲) موتی؛ ایک قسم
 کی پہاڑی سواری۔

ڈانس : مذکر؛ ایک قسم کا بڑا چھر؛
 ڈانس : DANCE (انگ) مذکر؛ ناچ، رقص۔

ڈانسر : DANCER (انگ) مذکر؛ ناچنے والا یا اولی۔
 ڈانسنگ پارٹی : DANCING PARTY (انگ) موتی؛

ناچ گانا پیش کرنے والے فنکاروں کی جماعت۔
 ڈانگ : موتی؛ مذکر؛ ٹینے کے نیچے چمک بڑھانے کے لیے رکھا
 جانے والا سہرا یا روپھلا ورق۔

جرٹنا : ڈانگ کا ٹینے میں رکھنا۔
 ڈانگ : موتی؛ پہاڑ کی اونچی چوٹی، سب سے اونچی
 پہاڑی۔

ڈانگر : (۱) ڈبلا، لاغر، ضعیف، (۲) مذکر؛ چوپایہ
 مویشی۔

ڈانڈول : (۱) آوارہ، خراب خستہ، پریشان خاطر؛
 (۲) دھل مل یقین (۳) ڈمگاتا ہوا۔

ڈانڈول : آوارہ پھرنا۔
 ڈانڈول : ڈولی؛ موتی؛ سرگشتی، پریشانی۔

ڈاؤ : موتی؛ حسد، رشک، دشمنی۔
 ڈائجسٹ : DIGEST (انگ) مذکر؛ (۱) تلخیص
 معیاری مطبوعہ مضامین کی تلخیص کا مجموعہ (۲) قانونی
 نظیروں کے خلاصے کا مجموعہ (۳) مہضم کرنا۔

ڈائرکٹ : DIRECT (انگ) سیدھا، براہ راست،
 فوراً، مستقیم۔

ڈائریکٹر : DIRECTOR (انگ) مذکر؛ (۱) کسی محکمہ یا
 شعبہ کا ناظم، اعلیٰ حاکم، نگران، منتظم (۲) ہدایت کار۔

ڈائریکٹری : DIRECTORY (انگ) موتی؛ سرنامہ جات
 کا مجموعہ، کتاب، ہدایت، دستور العمل۔

ڈائری : DIARY (انگ) موتی؛ روزنامہ یا یادداشت۔

کسی تعلیمی یا تربیتی نصاب کی تکمیل پر ملنے والی سند۔

— ہولڈر: HOLDER — (انگ) مندرکہ؛

سند یافتہ، ڈپلومارکھنے والا۔

ڈپلومیٹ: DIPLOMAT (انگ) مندرکہ (کن سفارت کا ماہر) (۲) حکمت عملی کا ماہر، موقع شناس۔

ڈپلومیٹک: DIPLOMATIC (انگ) سفارتی، بین الاقوامی تعلقات کے متعلق۔

ڈپلومیسی: DIPLOMACY (انگ) موٹھ؛ فن سفارت، جوڑ توڑ، حکمت عملی، تدبیر، موقع شناسی۔

ڈپلیکیٹ: DUPLICATE (انگ) مندرکہ؛ نقل، ششی۔

ڈپوٹ: DEPOT (انگ) گودام، ذخیرہ، کوشی، کارخانہ، تجارت گاہ۔

ڈپوٹیشن: DEPUTATION (انگ) (۱) نمائندوں کی جماعت، (۲) وکالت، نیابت (۳) وفد۔

ڈٹ

ڈٹ جانا، (۱) جم کر ٹیٹھ جانا (۲) مقابلے میں جم جانا۔

— کرکھانا، خوب سیر ہو کر کھانا۔

ڈٹھ بند: ڈٹھ بند، جا دوگر، مداری، نظر بندی کا تماشہ کرنے والا۔

ڈر

ڈر، مندرکہ؛ خوف، اندیشہ، خطرہ۔

ڈرانا، دمکنا، خوف دلانا۔

ڈراوا، (دہلی) مندرکہ، دمکی، خوف، دمہشت۔

— دکھاوا، دمکی دینا۔

ڈراونا، بھانگ، خوفناک۔

ڈر لوک / ڈر لوکنا، بزدل، بؤدا۔

ڈرنے ڈرتے، ڈہشت زدہ ہو کر، خائف ہو کر۔

ڈبرا، مندرکہ؛ (۱) پانی جمع ہونے کی جگہ، عین جمع ہونے کی جگہ، پانی بھرا ہوا چھوٹا گڑھا (۲) لہو کا تھکا،

ڈبکا، مندرکہ؛ (۱) کنویں کا بالکل تازہ پانی (۲) خوف خطر، اندیشہ۔

ڈبکی: موٹھ؛ غوطہ۔

ڈبل: (انگ) مندرکہ؛ دوگنا، دو چند، دہرا، موٹا۔

— روٹی؛ موٹھ، نان پاؤ۔

— کوچ / مارچ: مندرکہ؛ دگنی منزلیں طے کرنا، جلد جلد جانا۔

— کراس: CROSS (انگ) دغا بازی، مکاری فریب، مکر، دوغلا پن۔

ڈبو، مندرکہ؛ لوجہ کا بڑا بچہ۔

ڈبونا؛ (۱) غوطہ دینا، غرق کرنا، بھگوننا (۲) بجانا، بجانا، خراب کرنا، خاک میں ملانا۔

ڈبٹی: موٹھ؛ (۱) چھوٹی ڈبیا (۲) تیل ڈال کر اور تیلی لگا کر چراغ کی طرح جلانی سامنے والی کپتی۔

ڈبیٹ: DEBATE (انگ) موٹھ؛ مباحثہ، تکرار، بحث۔

ڈٹ-ٹھ

ڈپارٹمنٹ: DEPARTMENT (انگ) مندرکہ؛ محکمہ، سررشتہ۔

ڈپازٹ: DEPOSIT (انگ) موٹھ؛ امانت، جمع، امانت رکھنا۔ بطور سیعانہ ادا کرنا، پیشگی۔

ڈرپٹ: موٹھ؛ (۱) گھوٹے کی ڈوڑ، تیز رفتاری (۲) حملہ (۳) دمکی، ڈانٹ۔

ڈپٹنا؛ (۱) ڈوڑنا، (۲) دمکنا، ملامت کرنا (۳) کسی پر حملہ کرنا۔

ڈپٹی: DEPUTY (انگ) مندرکہ؛ نائب، وکیل، قائم مقام۔

ڈپلوما: DIPLOMA (انگ) مندرکہ؛ سند، دستاویز، شہادہ

ڈرٹوٹ جانا؛ جھبک جاتی رہنا، خوف مٹ جانا۔

ڈرنا؛ کھورینا؛ دل سے خوف نکال دینا۔

ڈرنا؛ خوف معلوم ہونا۔

ڈرنا؛ خوف کھانا۔

ڈر نکل جانا؛ خوف جاتا رہنا۔

ڈرونا؛ مذکر؛ ڈراؤنا۔

ڈراپ سین؛ (انگ) DROPSICINE؛ ڈرائے کا آخری

منظر، اختتامیہ۔

ڈرافٹ؛ (انگ) مذکر؛ (۱) ہنڈی (۲) سودہ (۳) خاکہ۔

ڈرافٹس مین؛ (انگ) مذکر؛ نقشہ نویس۔

ڈرام؛ (انگ) مذکر؛ ایک انگریزی وزن جو

تقریباً دو ماشے کا ہوتا ہے۔

ڈراما؛ (انگ) مذکر؛ سوانگ، ناٹک

تماشہ، تمثیل۔

ڈرامائی (دہندہ) / ڈرامینٹک؛ (انگ) ناگہانی عجیب و غریب، اچانک، حیرت انگیز، تمثیلی۔

ڈرائی کلیننگ؛ (انگ) مونت، ہنٹک

ڈرائی کلیننگ؛ (انگ) مونت، ہنٹک

ڈرائی کلیننگ؛ (انگ) مونت، ہنٹک

ڈرائی کلیننگ؛ (انگ) مونت، ہنٹک

ڈرائنگ؛ (انگ) مذکر؛ نقشہ کشی، نقاشی،

خاکہ کھینچنا، تصویر اتارنا، نقشہ، خاکہ، تصویر۔

ڈرائنگ؛ (انگ) مذکر؛ نقاشی،

ڈرائنگ؛ (انگ) مذکر؛ نقاشی،

ڈرائیور؛ (انگ) مذکر؛ گاڑی چلانے والا،

ڈرائیور؛ (انگ) مذکر؛ گاڑی چلانے والا،

ڈربا؛ دیکھو، ڈربا۔

ڈربی؛ (انگ) گھوڑوں کی ایک مخصوص سالانہ

ڈوڈر دریں، کا نام۔

ڈوگٹ؛ (انگ) مذکر؛ دو فروش، عطار،

ڈوگٹ؛ (انگ) مذکر؛ دو فروش، عطار،

ڈوگٹ؛ (انگ) مذکر؛ دو فروش، عطار،

ڈوگٹ؛ (انگ) مذکر؛ دو فروش، عطار،

مشق، فوجی تربیت، قواعد۔

ڈریل ماسٹر؛ (انگ) مذکر؛ قواعد

سکھانے والا (دورزش سے متعلق)۔

ڈرم؛ (انگ) مذکر؛ ڈھول، ڈھولک، نقارہ

طبل، کنستہ۔

ڈرنکس؛ (انگ) مذکر؛ مشروبات پینے کی چیزیں

ڈریس؛ (انگ) مذکر؛ زور کا مینہ۔

ڈریس؛ (انگ) مذکر؛ لباس، پوشاک۔

ڈریسر؛ (انگ) مذکر؛ (۱) زخموں کو مرہم پٹی

کرنے والا (۲) پوشاک پہنانے یا بال سنوارنے والا۔

ڈریس سرکل؛ (انگ) مونت، تھیمپ،

یا ناٹک میں پہلی گیلری۔

ڈریسنگ؛ (انگ) مونت؛ (۱) آرامی

(۲) مرہم پٹی۔

ڈریسنگ؛ (انگ) مذکر؛ سنگھار میز۔

ڈریسنگ؛ (انگ) مذکر؛ کپڑے پہننے کا کمرہ۔

ڈر

ڈرھیا لا / ڈرھیل؛ (انگ) مذکر؛ (طنز) بڑی ڈاڑھی والا۔

ڈر

ڈرائن؛ (انگ) مذکر؛ نقشہ، خاکہ، نمونہ۔

ڈوزن؛ (انگ) مذکر؛ دہن، بارہ چیزیں۔

ڈس، س، ش

ڈس؛ (دہلی، مونت)؛ ترازو کی ڈوری جس میں دونوں پتے

باندھے جاتے ہیں۔

ڈسپلین؛ (انگ) نظم و ضبط، آداب۔

ڈسپنسری؛ (انگ) مونت؛ شفا خانہ،

دوا خانہ، مطب۔

ڈسپچ؛ (انگ) روانہ کرنا، ہر اسلہ، روانگی، ارسال

ڈریل؛ (انگ) مونت؛ بوزرش، کسرت،

ڈکار جانا؛ دکنائیا، ہضم کر جانا، خیانت کر جانا، مار لینا۔

_____ لینا؛ (۱) معدے کی ہوا کو مہنڈے سے خارج کرنا، (۲) (ہوا) دکنائیا، مال مار لینا، ہڑپ کر لینا۔

_____ نا؛ (۱) شیر کا بولنا، (۲) (دلی) خیانت کرنا۔

_____ نہ لینا؛ دکنائیا، خبر نہ ہونا، تپانہ لگنے دینا۔

ڈکٹا فون؛ DICTA PHONE (انگ) مذکر؛ وہ آلہ جس میں آواز محفوظ رہے اور اس سے بعد میں ٹائپ کی جاسکے۔

ڈکٹیٹور؛ DICTATOR (انگ) مذکر؛ (۱) حاکم مطلق، فرمانروا، مختار رُکھ، آمر۔

_____ شپ؛ SHIP (انگ) مؤنث؛ آمریت، وہ منظم حکومت جس میں اقتدار صرف ایک شخص کے ہاتھ میں رہتا ہے۔

ڈکٹیشن؛ DICTATION (انگ) مذکر؛ (۱) اِملاد (۲) حکم، (۳) فرمان۔

ڈکشن؛ DIXION (انگ) مذکر؛ الفاظ کا انتخاب اور صحیح استعمال، بندش، طرز تحریر، آہنگ۔

ڈکشنری؛ DICTIONARY (انگ) مؤنث؛ لغت، فرہنگ، قاموس۔

ڈکلیئریشن؛ DECLARATION (انگ) (۱) اعلان، بشرط آہٹا، محضر (۲) (قانون) اقرار نامہ، عرضی، دعوٰی۔

ڈکو سٹنا؛ (دہلی) (تحقیق سے) پینا، نکلنا۔

ڈکیت؛ مذکر؛ ڈاکو۔

ڈکیتی؛ مؤنث؛ رو زنی، تفراتی۔

ڈگ

ڈگ؛ مذکر؛ قدم چلنے میں قدم کے بیچ کا فاصلہ۔

ڈگا؛ مذکر؛ ڈبے اور بے پاؤں گاؤٹرا۔

ڈگدگا کے پانی پینا؛ بڑے بڑے گھونٹوں سے پانی پینا، ایک بار بار دم میں بہت سا پانی پینا۔

ڈگدلی؛ مؤنث؛ ماریوں اور نیند والوں کا چھوٹا سا اجا۔

ڈسٹر؛ DUSTER (انگ) مذکر؛ جھاڑن، صفائی، نمہ لگا ہوا کڑی کا وہ ٹکڑا جس سے بلیک بورڈ صاف کیا جاتا ہے۔

ڈسٹرکٹ؛ DISTRICT (انگ) مذکر؛ ضلع، حلقہ۔

ڈسٹری بیوٹر؛ DISTRIBUTOR (انگ) (۱) بانٹنے والا (۲) تقسیم کنندہ۔

ڈسٹ کور؛ DUST COVER (انگ) مذکر؛ کتاب کا گرد پوش۔

ڈسچارج؛ DISCHARGE (انگ) مذکر؛ اخراج، علامتی، برطرفی، رہائی، انجام دہی، تعمیل۔

ڈسکاؤنٹ؛ DISCOUNT (انگ) مذکر؛ بٹا، چھوٹ، کمیشن، سٹوٹی، بھرائی، سہائی۔

ڈسمس؛ DISMISS (انگ) خارج، معطل، برطرف، موقوف۔

ڈسیمل؛ DECIMAL (انگ) (دسواں حصہ، اعشاریہ، عشری)۔

ڈسٹا؛ سانپ کا کاٹنا۔

ڈش؛ DISH (انگ) مؤنث؛ (۱) قاب، ڈونگا (۲) کسی خاص قسم کا کھانا (۳) پیالہ، ٹھوڑا، ڈونگے کی شکل کا برتن۔

ڈف

ڈف؛ مذکر؛ دوت۔

ڈفاجی / ڈفالی؛ ڈفلی جانے والا۔

ڈفلی؛ مؤنث؛ چھوٹا دوت۔

ڈفر؛ DUFFER (انگ) مذکر؛ نالائق، بے کار یا بہت بے دوتوں شخص۔

ڈک

ڈک؛ DECK (انگ) مذکر؛ سمندری جہاز کا فرش۔

ڈوک؛ (دہلی) مذکر؛ بستا، گھوٹا۔

ڈکیانا؛ (دہلی) سٹے مارنا، گھونٹنے مارنا۔

ڈکار؛ مؤنث؛ معدے کی ہوا جو مہنڈے سے نکلتی ہے۔

ڈومی؛ DUMMY (انگ) موٹ؛ نقل؛ ثانی؛ منشی۔

ڈونٹھل؛ مذکر؛ (۱) کسی پودے کی وہ شاخ جس میں پھول آتا ہے (۲) شہنی، (۳) پھول کا وہ حصہ جس میں پھولیاں جمی رہتی ہیں۔

ڈنڈ؛ مذکر؛ (۱) بازو (۲) تاوان سزا، مجرمانہ، (۳) ایک قسم کی ورزش، ڈنڈ۔

پیلینا کرنا؛ نماز نکالنا؛ ڈنڈ کی ورزش کرنا۔

ڈوانا؛ تاوان؛ ڈالنا؛ تاوان عاید کرنا۔

ڈنڈ؛ مذکر؛ خشک درخت کا تنہ جس میں شاخیں نہ ہوں۔

ڈنڈا؛ مذکر؛ (۱) سونٹا (۲) زینے یا سیڑھی کی لکڑی

(۳) گدگا، (۴) جھنڈے کی لکڑی (۵) خیمے کی لکڑی، مسہری کی لکڑی۔

ڈولی کرنا؛ (دہلی) دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ کر

ڈولی کی طرح اٹھانا۔

کھینچنا؛ دیوار کھینچنا، حد مقرر کرنا۔

ڈنڈے بجاتے پھرنا؛ (دکنیٹا) آوارہ پھرنا، اوقات ضائع

کرنا، بیکار مارے مارے پھرنا۔

ڈنڈوت؛ موٹ؛ تسلیم، ہندوؤں کے سلام کرنے کا طریقہ۔

ڈنڈی؛ موٹ؛ (۱) دستہ، قبضہ، (۲) ترازو کی لکڑی،

(۳) ہر سنگھار کے پھول کی پیلی ڈنڈی، (۴) پھول کا ڈنڈھل۔

مارنا؛ کم تو لنا، جالاک سے ترازو کی ڈنڈی مارنا۔

ڈنر؛ DINNER (انگ) مذکر؛ (۱) کھانے کی دعوت،

(۲) رات کا کھانا۔

ڈنٹر؛ ڈنڈ، ایک قسم کی ورزش۔

ڈننگ؛ مذکر؛ (۱) زہر پلا کاٹنا، نیش، (۲) جونگ کے

کاٹنے کا نشان۔

مارنا؛ (۱) بھڑپا پھو وغیرہ کاٹنا (۲) دکنیٹا، کسی کو

آزار پہنچانا۔

ڈنکا؛ مذکر؛ (۱) نقشہ، (۲) مجازاً، شہرت،

عروج۔

ڈگر؛ موٹ؛ راستہ، سڑک، راہ۔

ڈگر ڈگر کرنا؛ کمزوری سے کانپنے لگنا۔

ڈگری؛ DEGREE (انگ) موٹ؛ (۱) نیویوسٹی کی سند،

(۲) مرتبہ، درجہ، حیثیت، منزل، مرحلہ۔

ڈگری؛ DEGREE (انگ) موٹ؛ حکم، عدالت کا فیصلہ، حکم

ماصل کرنا، روپے زمین جائیداد کا (اور حق کا)

ڈگری اجمالی؛ موٹ؛ مشترک ڈگری۔

ڈگری اقبالی؛ موٹ؛ اقبال جرم کرنے پر دی ہوئی ڈگری۔

دار؛ جس کے حق میں ڈگری ہوئی ہو۔

ڈگگنا؛ کانپنا، ہلنا، جنبش کرنا، لڑکھانا، ضعف سے کھڑا

نہ رہ سکتا۔

ڈگگنا ہٹ؛ موٹ؛ ڈگگنا۔

ڈگگن؛ موٹ؛ پھیلنا، کاشکار کرنے کی چھڑی۔

ڈگگنا؛ جگے سے جگے ہونا، ہلنا، سرکنا، ہلنا، لغزش کرنا۔

ڈگی؛ موٹ؛ (۱) دکنیٹا، ڈھنڈورا، اعلان (۲) منادی

کا چھوٹا نقارہ۔

ڈل

ڈل؛ (۱) دستا، گروہ (۲) بہت روپیا، دولت (۳)

کشمیر کی ایک مشہور جیل کا نام۔

ڈل؛ DULL (انگ) محس، ہست، کند، احمق۔

ڈلا؛ مذکر؛ (۱) بڑا ٹکڑا، (۲) ڈھیلا، (۳) بڑی ڈلیا۔

ڈلانا؛ (۱) پلانا، (۲) پھرانا، حیران کرنا، (۳) پچکولے دینا۔

ڈلگ؛ موٹ؛ (۱) چمک دمک، سونے اور کندن کی چمک،

(۲) صاف شفاف چیز میں ناہم واری۔

ڈلی؛ موٹ؛ (۱) سپاری، چھایا، (۲) مصری کا ٹکڑا، ہٹھالی

ساجھوٹا۔

ڈلیا؛ موٹ؛ چھوٹی ڈوکری۔

ڈوم سی

ڈومرو؛ مذکر؛ ایک قسم کی ڈگڈگی۔

ڈنکا بجانا؛ (۱) نقارہ بجانا، ڈھول بجانا، (۲) حکومت کرنا، راج کرنا، ٹرعب بجانا، (۳) دکنایشا، شہرت دینا۔

— بجانا؛ شہرت پانا۔

— ڈالنا؛ مُرخ باز سے مُرخ لڑانا، مُرخ کی بازی بدنا، مُرخ کا چوسخ مارنا۔

— ہونا؛ ڈنکے کا بجانا۔

ڈنکے کی جوٹ؛ علی الاعلان، کلم کھلا۔

ڈنکارنا؛ بٹکارنا، چیننا، خفا ہونا۔

ڈنگنی؛ موت؛ (۱) ایک قسم کی عورت (۲) ڈال، ڈالنے، (۳) دکنایشا، لڑا کا عورت۔

ڈنگیا؛ موت؛ چھوٹا ڈنگا، چھوٹی ٹاؤ۔

ڈوآ؛ مذکر؛ لکڑی کا بڑا چھچھا۔

ڈوب؛ مذکر؛ (۱) ایک بار قلم کو سیاہی میں تر کرنا، غوطہ، (۲) کپڑے کو رنگ یا پانی میں ڈوبنا۔

— دینا؛ ڈوبنا؛ (۱) قلم کو سیاہی میں ڈوبنا (۲)

کپڑے کو رنگ میں ڈوبنا۔ (۳) دور دور بنیہ کرنا۔

ڈوبا؛ مذکر؛ بچی زمین جو پانی میں ڈوبی رہے۔

— نام اچھالنا، تھی ہوئی آبرو دوبارہ حاصل کرنا۔

— ہونا؛ کسی خیال یا فکر میں محو ہونا۔

ڈوتے اچھلتے؛ برشکل۔

— کو تنکے کا سہارا بہت ہے؛ (مثل) مصیبت میں

تھوڑی مدد بھی بہت ہے۔

ڈوتی ہوئی ناؤ کو ترالینا؛ دکنایشا، بگڑی ہوئی حالت کو

سنبھال لینا۔

ڈوب جانا؛ (۱) غرق ہو جانا (۲) چھب جانا (۳) بچے کا

صانع ہو جانا، (۴) بہاؤ ہونا، نام وری میں فرق آنا،

(۵) کسی خیال یا فکر میں محو ہو جانا۔

— مرنا؛ پانی میں غرق ہو کر مر جانا (غیرت یا مایوسی سے)

پانی میں خودکشی کرنا۔

ڈوبنا؛ (۱) فرق ہونا، (۲) چھیننا، غروب ہونا (۳) ضائع

ہو جانا، قرض وصول نہ ہونا، (۴) تباہ ہونا، برباد ہونا (۵) کسی چیز کا گھس جانا کامل طور سے (۶) سینے میں غرق ہونا، سمیگنا، (۷) بڑی جگہ یا ٹرے خاندان سے پالا پڑنا، (۸) کسی خیال میں محو ہونا، (۹) نشے میں بھور ہونا۔

ڈوبی ہوئی آسامی؛ قرض دارا یا نادار ہو جانے کو اس سے قرض وصول ہونے کی امید نہ رہے۔

ڈوپٹا؛ دیکھو، دوپٹا۔

ڈوڈا؛ مذکر؛ (۱) وہ چیز جس کے اندر سپل کے بیج ثابت

ہوتے ہیں (۲) ثابت کو کنار۔

ڈور؛ مونٹ؛ (۱) سوت کی باریک رستی، مستلی (۲) بٹا ہوا

ٹانگا، مچھلی کے شکار کا ٹانگا۔

— پر لگانا؛ ڈھب پر لگانا، ملانا، سدھانا۔

— پرا بھجھ دینا/کوما بھجھ دینا؛ مانجھے سے ڈور کو سوتنا۔

— سٹا بھجھانا؛ ابھی ہوئی ڈور کی ٹوٹیں اور بھندے نکال ڈالنا۔

ڈورا؛ مذکر؛ (۱) دھاگا، بٹا ہوا دھاگا، (۲) خط، لکیر (۳)

آنکھ کی رگیں، (۴) آنکھوں کی رگوں کی سُرخی (صحت

سُردور یا خار یا خواب سے بیدار ہونے کی صورت میں)

(۵) تلوار کی باڑھ، (۶) ڈنڈی لگا ہوا کٹورا جس سے

باورچی پانی نکالتے ہیں یا گھی ڈالتے ہیں، (۷) باورچی

کی اصطلاح (گرم گھی کو بچے ہوئے چاولوں میں ڈالنا،

(۸) دکنایشا، کسی کو بے نظر محبت دیکھنا، (۹) مسلم کو کنارہ

پوست (۱۰) دکنایشا، سُرخے کی سلائی سے آنکھوں میں

کھینچا ہوا خط، (۱۱) گردن، بازو، ران اور کمر کی ناپ کی

ڈورا، (۱۲) رقصوں کی اصطلاح، رقص میں تلچنے اور

کی گردن کی جینش (۱۳) دکنایشا، معشوق کی نازک

گردن کی جینش (۱۴) جال، دام، فریب، (۱۵) کباہوں

یا کوفتوں میں باندھا ہوا ڈورا۔

— ڈالنا؛ (۱) ڈورا پر (۲) دکنایشا، محبت کے جال میں

پھنسانا، رجھانا۔

ڈورے چھوٹنا؛ آنکھوں کی رگوں کا گلابی ہونا، نیند یا نشے

ڈولی آترنا: ڈولی کی سواری اترنا۔
 — اُلٹی پھرنا: ڈولی کو تن سواری کے واپس کرنا۔
 — لگانا: ڈولی کو سواری کے لیے ڈیوڑھی میں رکھنا۔
 — نہ کہا رُئی بی بی بیٹھی ہیں تیار: (دش) سامان کچھ نہیں
 اور ارادے بڑے بڑے۔

ڈوم: مذکر؛ (۱) میراثی، گانے کا پیشہ کرنے والا مرد (۲)
 ایک قوم کا نام۔

— پُنا: مذکر؛ ڈوم کا پیشہ: بے جا خوشامد۔

— کا گلا عطار کا پیشہ: (دش) دونوں یکساں
 ہیں، گلے میں ہر قسم کا نمہ نکلتا ہے اور شیشے میں سے ہر قسم
 کے شربت باعق بکھتے ہیں۔

ڈومنی: میراثی، گانے کا پیشہ کرنے والی عورت۔

ڈومینو نظریہ: مذکر؛

DOMINO THEORY (انگ)

سیاسی اصطلاح، خفیہ پالیسی۔

ڈونڈ: مذکر؛ ایک سینگ کا بیل، ٹوٹے یا مرے سینگ کا
 بیل۔

ڈونڈا: گائے یا بیل جس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا یا مڑا ہوا
 ہو۔

ڈونگا: مذکر؛ (۱) کسی برتن سے پانی نکالنے کا ڈنڈی دار برتن
 وہ برتن جس میں شوریر وغیرہ نکال کر دسترخوان پر چلتے

ہیں (۲) ایک خاص قسم کی رکابی، (۳) ایک قسم

کی چھوٹی کشتی۔

ڈونگی: مونث؛ (۱) ایک قسم کی چھوٹی ناؤ جو بڑی کشتی یا جہاز
 کے ساتھ بندر رتی ہے (۲) چھوٹا ڈونگا۔

ڈونگیا: مونث، دیکھو ڈونگیا۔

ڈونگر: مذکر؛ اونچی زمیں، پہاڑ، پہاڑی ٹلک۔

ڈویژن: (انگ) مذکر؛ (۱) تقسیم تفریق

قسمت، بٹوارہ، (۲) علاقہ، حد فاصل، حصہ، فوج کا حصہ،

باب فعل۔

ڈویژنل: (انگ) (۱) متعلق تقسیم،

قسمت داری یا قسمت سے متعلق، (۲) ملحق یا علاقہ سے متعلق،

کے بعد کی کیفیت۔

ڈورے چھوڑنا: (۱) تاگے ڈالنا، (۲) کاجل یا سرے کی لکیر
 آنکھ کے کوسے سے باہر تک کھینچنا۔

— ڈالنا، رُوئی دار کپڑے میں تاگے ڈالنا، (۲) دکنا یا

محبت کی باتیں کرنے کی اپنی طرف مائل کرنا (۳) چڑیا

مینا کا سلسل چھبانا، (۴) دکنا یا سرگودھا (۵)

فریب کاجال بھگانا۔

— کترنا / کاٹنا: ڈٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا

(دروتے سے)۔

ڈورو: مذکر؛ ایک قسم کا بابا، ڈنگی، بھنگیوں کا بابا۔

ڈوری: مونث؛ ایتلی رسی (۲) ملانی اُتارنے یا دودھ ڈالنے

کا کٹورا (۳) وہ فیتہ جس سے کاغذات باندھتے ہیں۔

— ڈھیل چھوڑنا: کسی کی نگہ بانی سے غافل ہو جانا، نگلانی

کم کر دینا، دباؤ کم رکھنا۔

ڈوریا: مذکر؛ ایک قسم کا دھاری دار باریک کپڑا۔

ڈوکر / ڈوکر: مذکر، بہت بوڑھا،

ڈوکرسی، مونث: بوڑھیا۔

ڈول: مذکر؛ (۱) ڈھنگ، وضع، صورت، خصلت (۲)

ڈھانچا (۳) طرح۔

— پر لانا: راہ پر لانا، ڈھب پر لانا۔

— ڈالنا: (۱) بنیاد قائم کرنا، انتظام کرنا، (۲) دکنا یا

تعلق پیدا کرنا۔

ڈول: مذکر؛ کنوس سے پانی نکالنے کا برتن

— پھانسا: ڈول ڈالنا۔

ڈولھی: مونث، چھوٹا ڈول، (انگ) مگ۔

ڈولا: مذکر؛ ایک قسم کی زانی سواری۔

— دینا: دکنا یا روپیہ لینے کے لیے امیر کو بی دینا

(بغیر شادی کے)

— لینا: ڈولے کی رسم ادا کر کے کسی کو سوی بنانا۔

ڈولنا: مذکر؛ (۱) چلنا، حرکت کرنا، لینا (۲) مارا مارا پھرنا۔

ڈولی: مونث؛ ایک قسم کی زانی سواری جس کو دو کھارے کھلتے ہیں۔

علاقہ واری، سرحد کا، فوجی ڈویژن کا۔

ڈھیر، مذکر؛ (۱) برساتی پانی کا تالاب، (۲) نشیبی زمین (۳)

جہاز یا کشتی کا پیدا، (۴) گھٹم کا زرد رنگ۔

ڈھنکانا؛ ترسانا، کوئی چیز کسی کے سامنے کر کے ہٹانا، دینے کا انداز بجا کر کسی کو کوئی چیز دکھانا، لینے پر آئے تو نہ

دینا۔

ڈھکنا؛ ترسنا۔

ڈھننا؛ (۱) ڈھ جانا، منہدم ہو جانا، (۲) غرور جاتا رہنا، دعو باطل ہو جانا۔

ڈمی۔ ایس۔ پی۔ : D.S.P. (انگ) ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس۔

ڈیڈ لیٹر آفس: DEAD LETTER OFFICE (انگ) ڈاک خانہ

کا وہ دفتر جس میں لاوارث چٹھیاں کھول کر کاتب کے پاس بھیج دی جاتی ہیں۔

ڈیٹھ؛ موت؛ نظر، نگاہ۔

بند؛ مذکر؛ جادوگر، نظر بندی کا کھیل دکھانے والا۔ بندھی؛ موت؛ نظر بندی، جادوگری۔

ڈیکٹیو؛ DETECTIVE (انگ) مذکر؛ خفیہ پولیس، جاسوس، سراغ رساں۔

ڈیڈی؛ DADDY (انگ) مذکر؛ (آبا) باپ

ڈیر؛ DEAR (انگ) عزیز، پیارا، شفیق۔

ڈیرا؛ مذکر؛ (۱) خیمہ (۲) عارضی مکان، عارضی قیامگاہ، (۳) گھر، مکان، بڑی جوہلیوں میں ایک چھوٹا مکان (۴) زمین

دار کا دیہاتی مکان۔

ہونا؛ ٹھہرنا، قیام ہونا۔

ڈیرے پڑنا؛ ڈیرے کھڑے ہونا، ٹھہر جانا، قیام ہونا

دار و وال؛ خوش حال کسی، مال دار طوائف۔

ڈانٹا؛ کسی جگہ قیام کرنا، ٹھہر جانا۔

ڈیری فارم؛ DAIRY FARM (انگ) (۱) دودھ گھر (۲)

وہ جگہ جہاں دودھ دینے والے مویشی رکھے جاتے ہیں اور

دودھ، دہی، گھن وغیرہ فروخت ہوتا ہے۔

ڈیڑھ؛ مذکر؛ ایک اور ادھا۔

اینٹ کی مسجد بنانا؛ انگ ہو جانا، سب سے انگ

رائے قائم کرنا، سب کی رائے سے اختلاف کرنا، سب لوگوں سے انگ چھوٹا سا کام کر کے دل کی ہوس نکالنا۔

چلو؛ تھوڑا سا پانی۔

گز کی زبان؛ بہت زبان دراز، زبان درازی کا کناہ۔

ڈیسک؛ (انگ) مذکر؛ بکھنے کی میز، ایک قسم کی جھوٹی میز جس پر کاغذ رکھ کر لکھتے ہیں۔

ڈیش؛ DASH (انگ) مذکر (۱) ٹکڑا، ٹکڑا، ڈھکا دینا، متصادم ہونا، (۲) وقفہ، یا جملہ متعرضہ ظاہر کرنے کا نشان (اس طرح)۔

یا چھوٹے حروف یا الفاظ ظاہر کرنے کا نشان (اس طرح)۔

ڈیگریڈ؛ DEGRADE (انگ) مرتبہ یا درجہ کم کرنا۔

ڈیل؛ مذکر؛ (۱) جسم، جثہ، کاٹھی، تمام قدر (۲) جسامت (۳) وہ سختی جو پاؤں کی انگلیوں میں جوتے کی رگڑ سے ہو جائے۔

ڈول؛ مذکر؛ جان دار کے قد و قامت کا انداز۔

ڈیلر؛ DEALER (انگ) مذکر؛ بیوپاری، سوداگر، (۲) کاروباری (۳) تاش بانٹنے والا۔

ڈیلنگ؛ DEALING (انگ) موت؛ (۱) کاروبار و تجارت لین دین (۲) برتاؤ، سلوک (۳) تاش کے پتے بانٹنا۔

ڈیلی؛ DAILY (انگ) روزانہ، یومیہ، روزنامہ (اخبار وغیرہ)

ڈیلیگٹ؛ DELEGATE (انگ) مذکر؛ نائب، وکیل، بنا بندہ، ایلی، سفیر، مندوب، ممبر۔

ڈیلیگیشن؛ (انگ) مذکر (وفد) نمائندوں کی جماعت۔

ڈیلی میل؛ DAILY MAIL (انگ) روزانہ کی ڈاک۔

ڈیلیوری؛ DELIVERY (انگ) موت؛ (۱) تقسیم خطوط (۲) پیدائش، ولادت، وضع حمل۔

ڈیمارچ؛ DEMURRAGE (انگ) ریل یا جہاز سے دیر میں مال لانے کا ہرجانہ۔

ڈیورٹی : موتی، داغ، من کا پٹا ہوا دروازہ، دلیرانہ آستانہ، درگاہ (۲) بروٹھا، مکان کا وہ حصہ جو بیرونی دروازے سے ملحق ہو۔

بند ہونا : باریابی بند ہونا، رئیسوں کے یہاں کی آمد و رفت بند ہونا۔

دار : مذکر؛ دربان۔

ڈیوک : DUKE (انگ) مذکر؛ نواب، انگلستان کا سب سے بڑے درجے کا امیر یا جاگیر دار۔

ڈیوہ : مذکر؛ بلند جگہ، جو مکانات گرجانے سے ٹیلے کی صورت میں ہوگی ہو۔

ڈھ - ب، پ، ت

ڈھابا : مذکر، مرغیوں کے بند کرنے کا ٹاپا۔

ڈھابلی : موتی؛ بکوتروں کے رہنے کا ڈہرا۔

ڈھانپنا : منہم کر دینا۔ دیکھو ڈھانا۔

ڈھانپنا / ڈھانپنا : پوشیدہ کرنا کسی چیز سے، کسی چیز کو چھپانے کی نیت سے اس پر کپڑا ڈالنا، یا برتن ڈھکنا۔

ڈھانا : مذکر؛ (۱) کپڑے کی پتی جسے منہ کے گرد اوگر دیا نہ کر ڈھانسی چڑھاتے ہیں، (۲) وہ کپڑا جس سے مردے کا منہ باندھ دیتے ہیں۔

ڈھانی : موتی؛ وہ کپڑا جو گھوڑے کے منہ میں لگام کی جگہ دیتے ہیں۔

ڈھارس : موتی؛ سہارا، ہمت، استقلال، آسرا، مدد۔

ڈھاڑی : مذکر؛ ڈوم، میراثی۔

ڈھاگ : مذکر؛ ایک درخت کا نام۔

کے تین بات : (دش)، (دش)، (دش)، (دش)، (دش)، (دش)، (دش) اور ہٹ کا پورا آدمی، اپنی بات پر اڑا رہنے والا۔

ڈھال : موتی؛ (۱) سپر (۲) مذکر؛ نشیب، ہستی، (۳) صفت ڈھالو، ڈھلوان، نشیبی۔

ڈھالو / ڈھالوان : ایک طرف کو نشیب اور ہستی رکھنے والا۔ سلامی دار۔

ڈھالنا : (۱) کسی ٹھوس شے کو بچھا کر سانچے میں ڈالنا (۲) فروخت

ڈیمانڈ : DEMAND (انگ) مذکر؛ مطالبہ، تقاضا، مانگ، طلب۔

ڈیمانڈیشن : DEMONSTRATION (انگ) (۱) مظاہرہ جلسے عام میں اظہار رائے، اظہار جذبات وغیرہ کا (۲) تعلیم بند فیہ شمال و تجربہ۔

ڈیبٹی : DEBTY (انگ) موتی؛ کاغذ کا ایک سائز (۲۲ $\frac{1}{4}$ x ۱۴ $\frac{1}{4}$)

ڈیمپرا : مذکر؛ (روح) اندرونی پیوڑا۔

ڈیم فول : DAM FOOL (صفت) دگالی کے طوہر پر پاجی، احمق، گدھا، نالایق۔

ڈیموکریٹک : DEMOCRATIC (انگ) جمہوری۔

ڈیموکریسی : DEMOCRACY (انگ) موتی؛ جمہوریت۔

ڈیمی آفیشل : DEMY OFFICIAL (انگ) نیم سرکاری، اس کا مختصر (D.O.) ہے۔

ڈمیج : DAMAGE (انگ) مذکر؛ نقصان، خسارہ، زیان، ضرر۔

ڈین : DEAN (انگ) یونیورسٹی کے کسی شعبہ تعلیم کا سربراہ یا منتظم اعلیٰ۔

ڈینٹسٹ : DENTIST (انگ) دانت بنانے والا، دانتوں کا ڈاکٹر، دندان ساز۔

ڈینٹل : DENTAL (انگ) مذکر، دانتوں سے متعلق دندان سازی سے متعلق۔

ڈینٹل ہسپتال : (انگ) دانتوں کا ہسپتال۔

ڈینگ : موتی؛ شیخی، بعلی۔

کی آڑھانہ کی لینا / مارنا / ہانکنا : غور کرنا، مانا / مانا / شیخی بگھارنا۔

ڈینگیا : شیخی مارنے والا۔

ڈیو : DOB (انگ) (۱) واجب الادا (۲) لازم ضروری (۳) دست۔

ڈیوٹی : DUTY (انگ) موتی؛ (۱) خدمت، فرض منصبی، (۲) خدمت کی انجام دہی، (۳) معمول، چنگی۔

ڈیوڑھا کرنا : (دہلی) (دہانوں کی اصطلاح) حساب بند کرنا۔

- کرنا، (۳) کسی پر طنز کرنا (۴) عائد کرنا۔
 ڈھانا، (۱) گرانا، منہدم کرنا، (۲) برادر کرنا، مٹانا (۳) برپا کرنا۔
 ڈھانپنا؛ ڈھانکنا، چھپانا۔
 ڈھانچ / ڈھانچا؛ مذکر؛ (۱) بغیر بنا پلنگ، بے بنی کرسی، (۲) خاکہ، قالب۔
 ڈھانچا؛ (۱) مذکر؛ بے گوشت پوست کا جسم، پنجرہ۔
 ڈھانکنا؛ (۱) کسی چیز پر کوئی دوسری چیز رکھ دینا، پوشش ڈالنا (۲) اور ڈھانا، (۳) چھپانا۔
 ڈھانی؛ (۱) اڑھائی (۲) موت، (۳) بچوں کا ایک کھیل۔
 — دن کی بادشاہت کرنا، (۱) نوشہ بننا (۲) چند روزہ حکومت کرنا۔
 — گھڑی کی موت آئے، (دعو) بددعا، اچانک موت آئے۔
 — گھڑی کی آنا؛ جھٹ پٹ مرفانا،
 — چھوٹا؛ دکنا (تیا) آتے ہی چلا جاتا۔
 ڈھب؛ مذکر؛ (۱) ڈھنگ، طور و طریقہ، روش، اسلوب، (۲) لپکا، عادت (۳) پسند۔
 — بننا، موقع ہاتھ آنا۔
 — پر چڑھانا / پر لگانا؛ دم میں لانا، قابو میں لانا۔
 — پر چڑھنا؛ قابو میں آنا۔
 — ڈالنا؛ (۱) عادت ڈالنا (۲) موقع نکالنا۔
 — ڈھب قلیہ / شوربا؛ پتلا رقیق، پتلا اور بہت سے شوربے کا بدمزہ سامن۔
 — سے؛ مناسب طریقے سے۔
 — کی چیز؛ پسند کے قابل۔
 — لگ جانا؛ موقع مل جانا۔
 ڈھبڈبانا؛ پیر نے میں ہاتھ پاؤں مارنا۔
 ڈھبڑی؛ موت، بیچ کے اوپر کٹنے کا لہوا۔
 ڈھب؛ مذکر؛ وقت۔
 ڈھبٹلی؛ ڈھالی۔
 ڈھٹ؛ موٹا سنگین کپڑا۔
 ڈھٹائی؛ موت؛ بے شرمی، بے حیائی، شوخی۔
 ڈھٹ بندی؛ موت؛ نظر بندی۔
 ڈھٹنگٹرا / ڈھٹنگٹرا؛ دعو، موٹا آڑھ آدمی، سٹٹا سٹٹا۔
 ڈھچو؛ مذکر؛ (۱) ڈھانچ (۲) کسی چیز کی درستی کا سامان۔
 ڈھترو؛ موت؛ (دم) (۱) برہمیا عودت (۲) ایک قسم کی چٹا (۳) بے شرم عودت۔
 ڈھترا؛ مذکر؛ (۱) عام راستہ (۲) ہوازا، روش، قدیم، ڈھنگ۔
 — لگا ہونا؛ عام راستہ بنا ہونا۔
 ڈھڑے پر چلانا؛ ایک خاص روش پر چلا جانا۔
 ڈھلکا؛ (۱) چھپانا، ڈھک لینا، ڈھانک لینا (۲) مذکر؛ سر پوش۔
 ڈھکنی؛ موت؛ چھوٹا سر پوش۔
 ڈھکوس؛ موت؛ تشنگی، پیاس۔
 ڈھکوسنا؛ دعو بہت کھانا۔
 ڈھکوسلا؛ مذکر؛ بے قرینہ بات، جو چلا، مہل بات، لٹوکام۔
 ڈھکیل دینا / ڈھکیلنا / ڈھکیلنا؛ (۱) سچے سے ریلینا (۲) کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا (۳) دھکا دے کر ہٹا دینا۔
 ڈھلان؛ مذکر؛ دیکھو ڈھال۔
 ڈھلاؤ، گھنچاؤ؛ اہتار چڑھاؤ (ستار یا کمان کا) ڈھلائی / ڈھلائی؛ موت؛ ڈھلانے کی اجرت۔
 ڈھلا ہوا؛ (۱) جو بے ساختہ ہو، آور سے پاک، لطیف معنوں (۲) پھلپلا (۳) سانسے میں ڈھلا ہوا۔
 ڈھلت؛ موت؛ سانچے میں ڈھلی چیز کی بناوٹ۔
 ڈھلتی / چلتی پھرتی چھاؤ؛ موت؛ (بھانڈا) دولت حکومت جو حالت سدا یکساں نہ رہے۔
 — چھاؤ؛ دکنا (تیا) ہر لحاظ زائل ہونے والی چیز۔
 ڈھلر؛ صفت؛ ڈھیللا، ڈھاللا۔
 ڈھلکا؛ مذکر؛ (۱) آنکھوں سے بہنے کی بیماری (۲) مرنے کے قریب آنکھوں سے جو پانی جاری ہوتا ہے۔
 — لگنا؛ آنکھ سے پانی جاری رہنا۔
 ڈھلکانا؛ (۱) بھانا، (۲) لڑکانا۔
 ڈھلکنا؛ (۱) بہنا، ٹپکانا (۲) نیچے سرک آنا (۳) کسی گول چیز کا غلطاں ہونا، لڑھکانا، جھک جانا، مائل ہونا۔

ڈھنگا اڑانا: انداز کی نقل کرنا، سیکھنا۔

ڈالنا: بنیاد ڈالنا، کسی کام کی ابتدا کرنا۔

ڈھنگڑا ادر، جوان، قوی بازو۔

ڈھور: (۵) مذکر: گائے وغیرہ جو پانیہ جانور۔

ڈھول: مذکر: طبل، ڈول۔

بجانا: (کنایتاً) شہرت دینا۔

ڈھوٹا / ڈھوٹکا: (دہلی) مذکر: (۱) دھوم دھڑکا، بجا

سکا جا (۲) بہت سامان، بہت اسباب۔

کے اندر بول: (رشل) ظاہری نمائش بہت اور اصلیت کچھ نہیں

ڈھولا: مذکر: (۱) کھیتوں اور زمین کی سرحد کا نشان (۲) تائب،

طاق اور گنبد کا (۳) زخمی بے وقوف، احمق۔

ڈھولک / ڈھولکی: موتھ: چھوٹا ڈھول،

ڈھولکیا: ڈھول بجانے والا۔

ڈھولنا: مذکر: ڈھول کی شکل کا سونے چاندی کا زیور (۲) چھوٹی

تقطیع کا قرآن جو ڈھولنے میں رکھا جاتا ہے۔

ڈھولی: موتھ: دوسو پانوں کا ٹٹھا۔

ڈھونا: (۱) بوجھ اٹھانا، بوجھ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا،

(۲) اٹھانے جانا، چوری سے لے جانا۔

ڈھونڈ: موتھ: تلاش۔

پھرننا: تلاش کر کے ناکام پھرنا۔

ڈھانڈ: موتھ: سڑاخ، کھوج، تلاش۔

مارنا: بہت تلاش کرنا۔

نار ڈھونڈنا: سڑاخ لگانا، تلاش کرنا، کھوج لگانا۔

مکاننا: سڑاخ لگانا۔

ڈھونڈے نہ پانا: تلاش کے باوجود نہ پانا۔

ڈھونگ: مذکر: فریب، دغا، مصنوعی باتیں۔

باندھنا: ظاہری عزت یا ٹیپ ٹاپ بنانا۔

ڈھیننا: دیوار یا مکان کا گزنا۔

ڈھسی: موتھ: ایک جگہ جانا، کسی جگہ بیٹھ کر پھروہاں سے

نہ اٹھنا۔

دینا: جم کر مٹینا، مقصد پورا ہونے سے پہلے نہ اٹھنا۔

ڈھلانا: لڑکھڑانا، جنبش کرنا، تذبذب ہونا۔

ڈھللی یقین: تذبذب، ضعیف الاعتقاد، ڈھوا ڈول ایمان کا پتلا

ڈھلنا: (۱) سانچے میں ڈھلنا، (۲) گزر جانا، (۳) پھیلنا، (۴) گل جانا،

(۵) ہونا، (۶) گھٹنا، (۷) اترنا، (۸) گھٹنا، (۹) حوالہ کا ڈال

پذیر ہونا، (۱۰) شک پڑنا، (۱۱) مضمون یا شعر کا بے ساختگی سے

نظر ہو جانا، (۱۲) شراب کا گلاس میں ڈھالا جانا، (۱۳) نیچے کی طرف

سرک جانا، (۱۴) ختم کے قریب آنا، (۱۵) پراگندہ یا آٹا کا (۱۶) سخت اترنا۔

ڈھلنا: (۱) ڈھویا جانا، (۲) اٹل ہونا، کسی طرف جھکنا، (۳) رکنائیا،

کسی کا کسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔

ڈھلواں: پھیلنے والا، ترچھا۔

ڈھلوانا: سانچے میں ہونا۔

ڈھلوانا: اسباب اٹھانا، بوجھ اٹھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔

ڈھلیا: (صفت) ڈھلنے والا۔

ڈھلیت: مذکر: (۱) ڈھال باندھنے والا، وہ شخص جو سلاح بند ہو،

(۲) سانچے میں ڈھلنے والا، (۳) گانو کا چوکیدار۔

ڈھن، وہ، می

ڈھنڈنا: (عم) تلاش ہونا، دیکھو ڈھونڈنا۔

ڈھنڈیا پڑنا / رچنا: تلاش ہونا، جستجو ہونا۔

ڈھنڈورا: (۱) منادی کا ڈھول (۲) منادی، اعلان، تشہیر۔

ڈھنڈ / رٹ جانا: (۱) منادی کرنا، تشہیر کرنا (۲) راز

کھل جانا۔ شہرت ہو جانا۔

ڈھنڈا: منادی کا ڈھول بجانا (۲) رکنائیا کسی امر کا مسلک

کرنا، جا بے جا کہتے پھرنا۔

ڈھنڈ / رٹ جانا: (عم) ڈھنڈوریا، منادی کرنے والا۔

ڈھنڈیا: (عم) موتھ: تلاش، ڈھونڈنا۔

ڈھنڈنا: بند ہونا، بند کرنا۔

ڈھنگ: مذکر: (۱) مدش، طریقہ (۲) چال چلن، رویہ (۳) طرز،

قطع، وضع (۴) سیرت، عادت (۵) ہنر، طریقہ۔

— ڈھسی؛ (۱) دریا کا اونچا کنارہ (۲) گرے ہوئے پرنانے
 — مکانات کا ڈھیر۔
 — ڈھیا؛ مذکر؛ موٹ؛ (۱) اڑھائی میرا باٹ (۲) ایک قسم
 کا روکوں کا کھیل۔
 — ڈھے پڑنا؛ گر پڑنا، زبردستی اتر پڑنا، رہ پڑنا۔
 — جانا؛ عمارت منہدم ہو جانا۔
 — ڈھیٹ / ڈھیٹھ؛ بے آگ، بے شرم، بے حیا، سرکش، کسی کا
 آکھانہ ملنے والا۔
 — ڈھیر؛ مذکر؛ (۱) انبار (۲) کثرت سے (۳) دکنا تیا، قبیر،
 فقیر کا مزار (۴) تون۔
 — سا؛ بہت سا۔
 — کرنا؛ (۱) جمع کرنا (۲) دکنا تیا، مار ڈالنا (۳) خاک کا
 تودہ بنانا۔
 — لگا دینا؛ انبار کرنا۔
 — ہو جانا؛ (۱) دکنا تیا، تنک جانا (۲) عمارت کا ٹوٹ پھوٹ
 کے گر پڑنا، (۳) مر جانا۔
 — ڈھیرا؛ مذکر، جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو، (۲) ایک کو
 رو دیکھنا۔
 — دیدہ؛ مذکر؛ ڈھیری آنکھ۔
 — ڈھیری؛ موٹ؛ چھوٹا سا انبار، روپے تلے وغیرہ کے چھوٹے
 انبار۔
 — ڈھیکلی / ڈھینکلی؛ (۱) تلے کو کونٹے کا ٹولہ (۲) سونیاں
 بنانے کا بیج، (۳) لمبی نکڑی ایک طرف ڈول دوسری
 طرف پتھر رکھ کر پانی نکالنے کا آلہ۔
 — ڈھیل؛ موٹ، ادیر، وقفہ (۲) سستی، کاپی، مہلت، فرصت،
 (۳) جمول (۴) تنگ کی ڈور چھوڑ کر اسے بڑھانا۔
 — دینا؛ (۱) مہلت دینا (۲) نکتے کو دوہرا پلانا (۳) بے چرائی کرنا
 — کرنا؛ پہلو تہی کرنا، وقت گزارنا۔
 — ڈھیللا؛ (۱) جو چست نہ ہو (۲) نامرد (۳) دکنا تیا، سست، کابل
 آدمی۔
 — بنانا، کڑاپن دور کرنا، سیدھا بنانا۔

— پاجامہ؛ مذکر؛ غزراے دلہر پائے جامہ۔
 — پڑ جانا / سو جانا؛ (۱) چست نہ رہنا، تنگ نہ رہنا،
 (۲) نرم پڑ جانا، غصہ کم ہو جانا، کڑاپن نہ رہنا (۳) سست
 ہو جانا، کم زور ہو جانا (۴) نامرد ہو جانا۔
 — پن؛ مذکر؛ فراموشی، کشادگی، سستی، کاپی، نامردی۔
 — پیچ؛ مذکر؛ (۱) سر کے بال ابرو کے اوپر گندھے ہوئے (۲)
 پیکڑی کا بیج جو بھجوں پر پڑا ہو۔
 — ٹھٹھلا؛ مذکر؛ بہت ڈھیللا۔
 — ڈھالا؛ کشادہ، فراخ۔
 — کرنا؛ تنگی اور چستی دور کرنا، سست کرنا، مہمل کرنا۔
 — ڈھیللا؛ مذکر؛ (۱) مٹی کا بڑا ٹھٹھا (۲) آنکھ کی پکوں کے اندر کا
 پورا حصہ (۳) سونے چاندی یا گڑ وغیرہ ڈالا۔
 — چلانا / ڈھیلے مارنا؛ ڈھیلوں سے مارنا۔
 — لینا؛ استغنے کے لیے ڈھیل لینا۔
 — ڈھیلے پتھرانا؛ آنکھوں کے دپڑوں کا بے حس و حرکت ہو جانا
 روشنی جاتی رہنا۔
 — لگانا؛ ڈھیلے مارنا۔
 — ڈھیلوں سے مقدر چھوڑنا؛ بد قسمتی کا کتنا یہ۔
 — ڈھینڈا؛ پھندہ؛ (۱) توند، بڑا پیٹ (۲) عمدہ ٹول کا عمل۔
 — چھلانا؛ حمل رکھوانا، حاملہ ہونا۔
 — چھولنا؛ حمل رہنا۔
 — ڈھینڈس؛ مذکر؛ (۱) گول کدو (۲) مہا زانہ خضیر،
 غایہ، (۳) موٹے بیٹے رہنے والے چھوٹے تندرست
 بچے جو چلنا پھرنا دیر میں سیکھتے ہیں۔
 — ڈھینکا؛ مذکر؛ (۱) گولٹو کی نکڑی (۲) سارس۔
 — ڈھینکی؛ کسی کی ضد سے کوئی کام کرنا۔
 — ڈھینکلی؛ موٹ؛ (۱) پانی نکالنے کی لمبی نکڑی جس کے ایک
 سرے پر پتھر، دوسرے سرے پر ٹول ہو (۲) آڑی سیون (۳)
 دھان کونٹے کا آلہ (۴) تھلا بازی۔
 — ڈھینکی؛ موٹ؛ (۱) دھن گئی (۲) آڑی سیون۔
 — ڈھینگر؛ نصیبت، لاغر۔

ذائقہ دار: لذیذ، خوش مزہ۔
ذ-ب

ذبح: (ر) مذکر؛ گلا کاٹنا، گلے پر چھری پھیرنا، شہری طور پر حلال کرنا۔

ذبیحہ: (ر) مذکر؛ قربانی کا جانور، شہری طور پر حلال کیا ہوا جانور۔

ذبیح / ذبیح اللہ: (ر) مذکر؛ حضرت اسماعیل کا لقب۔

ذ-خ

ذخارہ: مومیں مانا، اس کا صحیح املا ذخار ہے۔

ذخیرہ: (ر) مذکر، جمع: ذخائر؛ (۱) خزانہ (۲) گودام، (۳) جمع پونجی۔

ذ-ر

ذرا: مذکر؛ (۱) تھوڑا، بہت کم، (۲) تھوڑا وقت (۳) کچھ کسی قدر (۴) بالکل (۵) تھوڑی دیر کے لیے۔

ذرا: تھوڑا تھوڑا، رتی رتی۔

ذرا: تھوڑا سا، چھوٹا۔

ذرا: سانس نہ لگنا؛ چہرہ اتر جانا، خوف یا بیماری سے۔

ذرا: سی بات ہونا؛ آسان کام ہونا۔

ذرا: سی جان؛ چھوٹا سا۔

ذرا: ظہور / ذری ظہور؛ تھوڑا بہت، کسی قدر، کچھ۔

ذرا: عقل کے ناخن لو؛ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔

ذرا: ذرا / ذری کی ذری؛ تھوڑی دیر کے واسطے، لمحہ بھر کے واسطے۔

ذرا: مٹھو دھور کھو؛ تم اس چیز کے لائق نہیں۔

ذرا: مٹھو سنبھال کے؛ (بطور دھمکی کے) گفتگو احتیاط سے کرو۔ بے تمیزی سے نہ کر کے۔

ذرا: میں؛ ذرا سی دیر میں، ذرا سی بات میں، لمحہ بھر میں۔

ذرا: ہوش میں آؤ؛ خدا سمجھو، ہوش آئی باتیں کرو۔

ذرا: ذری؛ (موت کے لیے)؛ ذرا۔

ذ

ذ: حروف تہجی کا ایک حرف، جبل دایمہ کے حساب سے اس کے ۷۰۰ صد ہیں۔

ذ-ا

ذاج: (ر) مذکر؛ حلال کرنے والا، ذبح کرنے والا۔

ذات: (ر) مؤنث؛ (۱) کسی چیز کی حقیقت، ماہیت، (۲) فرد (۳) قوم (۴) عینیت، وقعت (۵) عزت، آبرو۔

ذات الحجب: (ر) مذکر؛ پسلی کا درد۔

ذات الصد: (ر) سینے کا درد، سینے کا درد۔

ذات باہر: ذات سے نکالا ہوا۔

ذات: (۱) بات؛ (۲) بات؛ (۳) ذات؛ (۴) طبیعت۔

ذات نہ پوچھے کوئے، ہر کوئی کچھ سوئے کا ہوئے؛

ذات: (مقولہ) جو شخص محنت اور دیانت کرتا ہے مقبول ہوتا ہے اور اس کی ذات کوئی نہیں پوچھتا ہے۔

ذات: پر جانا؛ کسی سے اپنی قوم کے شہر و برے اعمال کا سرزد ہونا۔

ذات: رات، موٹ؛ حسب و نسب۔

ذات: شریف (امنات کے ساتھ) رکنا، تیا، جالک، مفسد۔

ذات: کی بیٹی ذات ہی میں جاتی ہے؛ (مثل) شریف کا بیوند شریف میں ہوتا ہے۔

ذات: میں بٹا لگانا / میں دھتلا لگانا؛ غیر ذات میں رشتہ کرنا۔

ذات: میں بٹا لگتا؛ مثل میں غیب لگتا۔

ذات: میں ملانا؛ برادری میں شامل کرنا۔

ذاتی: (۱) اصلی، حقیقی (۲) اپنا، سچ کا۔

ذات: جو ہر؛ وہ خوبی جو کسی شخص کی ذات میں موجود ہو۔

ذات: (ر) (۱) ذکر کرنے والا (۲) عبادت کے طور پر اللہ کا ذکر کرنے والا (۳) وہ شخص جو منبر پر بیٹھا ذکر کرے۔

ذات: (ر) مذکر؛ ایک حرف کا نام (ذ)۔

ذائقہ: (ر) مذکر؛ زبان کی حس، چکھنے کی قوت (۲) مزہ، لذت، (۳) طعم، چسکا۔

ذائقہ: (ر) (۱) چکھنا، (۲) کھانا، (۳) کھانا، (۴) کھانا، (۵) کھانا۔

ذ-ل

- ذلالیت : (رع) موٹھ، خوار کرنا، ذلیل کرنا۔
 ذلت : (رع) موٹھ، خواری، ہوسوائی، تنک، توہین۔
 — اٹھانا؛ ذلیل ہونا، شرمندہ ہونا۔
 — دینا؛ شرمندہ کرنا، خفیف کرنا۔
 — ہونا؛ رسوائی ہونا، تحقیر ہونا، شرمندگی ہونا۔
 ذلیل : (۱) خوار (۲) کمینہ، سفلہ (۳) بے عزت (۴) رسوا۔
 — بدنام (۵) سبک۔
 — کرنا؛ شرمندہ کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا۔
 — ہونا؛ خفیف ہونا، رسوا ہونا۔

ذ-م

- ذم : (رع) موٹھ، ذمت، ہوائی، بھو۔
 ذمہ : (رع) مذکر؛ (۱) عہد، پیام (۲) ضمانت، کفالت، متعلق (۳) امانت، سپردگی (۴) جواب دہی، مواخذہ۔
 — دار / ذمہ دار؛ جواب دہ، ضامن، کفیل۔
 — داری؛ موٹھ، ضمانت، کفالت، جواب دہی۔
 ذمّی : (رع) اسلامی سلطنت کی حفاظت میں غیر مسلم رعایا۔
 ذمیرہ : (رع) موٹھ، بُری، خراب۔

ذ-ن

- ذنب : (رع) مذکر؛ (جمع) ذنوب، گناہ۔
 ذوق : (رع) خداوند، صاحب، مالک، آقا۔
 — بھرنے : (رع) دیکھنا، میں پڑھی جا سکنے والی نظم۔
 — الاحترام : (رع) مرتبے والا، عزت کیے جانے کے قابل۔
 — البیاح : (رع) مذکر؛ حضرت ام حبیبہ کے گھوڑے کا نام۔
 — اضعافِ اقل : (رع) مذکر؛ ریاضی کی ایک اصطلاح۔
 — الجلال : (رع) صاحبِ جلال، عزت والا، دہے والا (خدا کا نام)۔
 — الجلال والاکرام : (رع) خدا تعالیٰ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔

ذرہ : (رع) مذکر؛ جمع۔ ذرات (۱) وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا اجزاء جو آفتاب کی شعاع میں نظر آتے ہیں (۲) بالو کا چمک دار ذرہ (۳) تلیل، تھوڑا (۴) بکڑا، رینہ۔

- بھر؛ ذرا سا۔
 — بے مقدار؛ صفت (اضافہ کے ساتھ) بے وقت۔
 — پرور؛ (رع) ناچیز کی قدر کرنے والا، آفتاب کی ایک صفت۔
 — ذرہ؛ تفصیل کے ساتھ۔
 ذرے بھر کی چیز؛ چھوٹی سی چیز۔
 — کو آفتاب بنانا؛ ناچیز کو اعلیٰ درجے پر پہنچانا۔
 ذریت : (رع) موٹھ؛ جمع ذریات؛ نسل، بال بچے، آل اولاد۔
 ذریعہ : (رع) مذکر؛ (۱) وسیلہ، (۲) طفیل۔

ذ-ق

ذقن : (رع) مذکر؛ تھوڑی۔

ذ-ک

- ذکا : (رع) موٹھ؛ ذہانت، تیزی، بیخ۔
 ذکاوت : (رع) موٹھ، ذہن کی تیزی۔
 ذکر : (رع) (۱) آواز، ثنا، زبان سے یاد کرنا، بیان (۲) چرچا، تذکرہ (۳) خدا کا نام لینا زبان اور دل سے۔
 — جمیل؛ (اضافہ کے ساتھ) (رع) مذکر، نیکی کے ساتھ تذکرہ۔
 — چھیڑنا؛ کسی بات کے بیان کرنے کی ابتدا کرنا، بات چیت شروع کرنا۔
 — خیر؛ بھلائی کے ساتھ تذکرہ یا یاد۔
 — مذکور؛ مذکر؛ تذکرہ، بات چیت، گفتگو۔
 — آہنا / چیلنا / نکلنا / ہونا؛ کسی چیز کا تذکرہ ہونا۔
 — کرنا؛ (۱) تذکرہ کرنا، (۲) دکھانا، یاد دلانی کرنا۔
 ذکر العیش نصف العیش : (رع) (مقولہ) عیش و عشرت کی بات چیت میں بھی آدھے عیش کا مزہ آتا ہے۔
 ذکی : (رع) مذکر؛ ذہین، ہوشیار، تیز فہم۔

— کو کندی ہونا؛ (دہلی) ذہن کند ہونا۔

— کھلنا؛ عقل کا تیز ہونا۔

— کند ہونا؛ غبی ہونا۔

— لڑانا؛ حق کرنا۔

— میں بیٹھنا؛ کسی بات کا سمجھ میں آنا۔

— نشین کرنا؛ سمجھانا، تشفی کر دینا۔

— ذہین؛ (ع) تیز ذہن والا۔

— ذہول؛ (ع) مذکر؛ بھول جانا، غفلت، کوئی بات ذہن سے اتر

جانا۔

ذ-ی

— ذی؛ (ع) صاحب، خداوند، مالک۔

— اختیار؛ صاحب حکومت، حکومت والا۔

— استعداد؛ لائق، قابل، مالدار۔

— الحجۃ؛ (ع) مذکر؛ عربی بارھواں قمری مہینا۔

— جاہ؛ صاحب جاہ۔

— حرمت؛ عزت دار۔

— حس؛ جان دار جس کو حس باقی ہوں

— رتبہ؛ صاحب منصب، عہدہ دار، رتبہ والا۔

— رُوح؛ جان دار۔

— قعدہ؛ (ع) عربی گیارھواں قمری مہینا۔

— ذیل؛ (ع) مذکر؛ (۱) نیچے دیے ہوئے (۲) علاقہ، حلقہ (۳)

گروہ (۴) واسطہ، آڑ۔

— دار؛ مذکر؛ چند گانویا قبیلوں کا سکاری عہدار

ذوالفقار؛ (ع) (۱) حضرت علیؑ کی تلوار جو رسول اللہؐ نے ہیں

عطار مانی تھی (۲) تلوار۔

— القرین؛ (ع) مذکر؛ (۱) سکندر بادشاہ کا لقب (۲)

ایک دوسرا ذوالقرین بادشاہ جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

— معنی؛ (ع) (۱) باہمی (۲) دونوں والا، پہلو دریا۔

— المن / ذوالمن؛ (ع) احسان اور بخشش کرنے والا

خدا ہے تعالیٰ۔

— الثورین؛ (ع) مذکر؛ دو ٹور والا، حضرت عثمانؓ کا

لقب، ان کے نکاح میں آں حضرت کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے رہیں

— الثول؛ (ع) حضرت یونسؑ کا لقب۔

— ذوی الأرحام؛ مذکر؛ وہ کل رشتہ دار جو راشت کے

حقدار نہ ہوں۔

— الغرائض؛ (ع) مذکر؛ شرعی وارثان (وارث)

— القربا؛ (ع) مذکر؛ ایک خاندان کے ہم جدی لوگ۔

— ذوق؛ (ع) مذکر؛ (۱) لطف، حظ، شوق (۲) مذاق سلیم۔

(۳) اردو کے مشہور شاعر شیخ ابراہیم کا تخلص۔

— افزا / افزا؛ آفت، ذوق بڑھانے والا۔

— سے؛ شوق سے، مزے سے۔

ذ-ہ

— ذہانت؛ موشف، ذہن کی تیزی۔

— ذہیب؛ (ع) مذکر؛ سونا۔

— ذہین؛ (ع) مذکر؛ (۱) دانائی (۲) سمجھ کی قوت۔

— اترنا؛ دھیان سے اترنا، بھول جانا۔

ر-ا-ث

- ر: حروف تہجی کا ایک حرف، راء، رے، رے، رائے، رائے غیر منقوط، راءے قرشت حساب جمل (راجعہ)، میں اس کے دوسو عدد ہیں۔
- راب: مؤنث؛ پتلا گڑ۔
- رابڑی: مؤنث؛ شکر ملا ہوا گاڑھا دودھ۔
- رابطہ: مذکر؛ (۱) میل لاپ، تعلق (۲) قرابت، رشتہ۔
- کار: دفت؛ انتظامیہ اور کارکن یا پبلک کے درمیان رابطہ قائم کرنے والا۔
- رابیع: (ر)؛ بچھا۔
- رابعہ: (ر)؛ مؤنث؛ چوتھی۔
- بھری: بھرے کی ایک خاتون کا نام جو بڑی پرہیزگار تھیں۔
- راپی: مؤنث؛ چمڑے کو کاٹنے اور چھیس کر صاف کرنے کا اوزار۔
- رات: مؤنث؛ شب۔
- آنکھوں میں کاٹنا: دیکھو، آنکھوں میں۔
- آنا بہت آنا: رات گزرتا، رات کا زیادہ وقت ہو جانا۔
- راتا رات: (عو) رات بھر۔
- رات بس کر: شب کو قیام کر کے۔
- لبے کا رستا: جس رستے کے طے کرنے میں ایک رات بیچ میں رہنا پڑے، چار پہر کا رستا۔
- بوٹنا: رات کا سٹانا ہونا۔
- بھاری ہونا: تکلیف اور مصیبت کی رات ہونا۔
- بھرمیائی اور ایک بچہ بیائی: (مشل)؛ محنت بہت ہو اور فائدہ کم ہو۔
- بھینگنا: رات کا سرد ہونا، ابتدائی حصہ شب کا گزر چکی ہو جانا۔
- پڑی ہے: بہت رات باقی ہے۔
- پھاڑ ہونا: رات بہت بڑی ہونا کہ کاٹے نہ کٹے۔
- تھوڑی سوانگ بہت / تھوڑی کہانی بڑی: (مشل) وقت تھوڑا ہے اور کام بہت۔
- تیر کرنا: تکلیف میں رات بسر کرنا۔
- چلنا: رات رخصت ہونا، رات گزرتا۔
- دن: مذکر؛ آٹھوں پہر، شب دروز۔
- ڈھلنا: رات کا زوال پر آنا۔
- رہنا: رات باقی رہنا۔
- رہے / رہے سے: ایسے وقت جب تھوڑی رات باقی ہو۔
- زیادہ آنا: رات کا بڑا حصہ گزرتا۔
- کاٹنا: رات بسر کرنا۔
- کی رات: صرف ایک رات۔
- کی نیت حرام: (مشل) رات کو کوئی بات طے کرنا عورتوں کے خیال میں منجوس ہوتا ہے۔
- گودنا / گزر جانا: رات کٹنا، رات کٹ جانا۔
- گئے: زیادہ رات گزرنے کے بعد۔
- گئی بات گئی: (مشل)؛ موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے۔
- مال کا پیٹ: (مشل) رات کے عیب چھپے رہتے ہیں۔

- کوسب آرام پاتے ہیں۔
- نہ کھڑتا : رات تک زندہ نہ رہنا۔
- والا : رکناٹیا؛ (۱) آٹو، (۲) ہیضہ بخلا (۳) چاند۔
- راتوں رات : رات بھر میں تمام شب میں۔
- راتب : مذکر (۱) کتے، بلی کی خوراک (۲) معمول کے مطابق گھوڑے کا دانہ۔
- باندھنا : کسی بات کا معمول مقرر کر لینا۔
- خور : وظیفہ خوار۔
- لگانا : کتے، بلی کی رات مقرر کرنا۔
- راتھور : مذکر؛ راج پوتوں کی ایک گوت۔
- راج : مذکر؛ (۱) بادشاہت (۲) ریاست (۳) حکومت، دور دورہ (۴) معمار
- ادھیکاری : (۵) مذکر؛ سرکاری عہدیدار۔
- بنسی : (۱) شاہی خاندان کا آدمی (۲) رکناٹیا) مذکر؛ سانپ (۳) ایک راج پوت قوم۔
- بھنگ ہونا : سلطنت پر زوال آنا۔
- بھون بھون : (۱) شاہی محل (۲) گورنر کی رہائش گاہ۔
- پاٹ : مذکر؛ (۱) حکومت، سلطنت (۲) بادشاہی عورت کا سہاگ۔
- پڑت : مذکر؛ (۱) شاہ زادہ (۲) چھتری۔
- پٹک : موتھ؛ گدی نشینی کی رسم، تاج پوشی۔
- ڈالارا : مذکر؛ ناز پروردہ، نہایت پیارا۔
- دھانی : موتھ؛ دارالسلطنت، دارالحکومت۔
- ڈوگ : (۱) بھنگ پیاری دق (۲) کوڑھ، (۳) رکناٹیا؛ طول طویل مقدمہ، (۴) مجازاً عشق۔
- سہاگ قائم رہنا : (دعویٰ دے، سہاگ باقی رہنا۔
- کرنا : (۱) بادشاہی کرنا (۲) رکناٹیا) خوش ہونا عیش سے زندگی بسر کرنا۔
- کمار : مذکر؛ راجا کا بیٹا، شہزادہ۔
- گدی : موتھ؛ شاہی تخت۔
- گرو : (۵) مذکر؛ شاہی آئین، درباری عالم۔
- گیری : موتھ؛ معمار کا کام۔
- گس جانا : رکناٹیا؛ شوہر کا مر جانا۔
- مزدور : مذکر؛ معمار اور مہلکی۔
- نیلی : (۵) موتھ؛ سیاست۔
- ہنس : مذکر؛ تاز؛ سرخ چوچ اور پیر والی ایک قسم کی بٹ۔
- راجا : مذکر؛ (۱) بادشاہ، فرماں روا، (۲) سنی، فیاض (۳) بھولا بھالا (۴) رکناٹیا) امیر، دولت مند۔
- جوگی کس کے میت : (مقولہ) بادشاہ اور بھکاری کسی کے دوست نہیں ہوتے۔
- راج بر جاسکھی : (مقولہ)؛ جہاں کا حاکم اچھا ہوگا وہاں کی رعایا آرام سے رہے گی۔
- رکھے رانی کھاوے : (مثل)؛ کمانا کوئی ہے اور اڑاتا کوئی ہے۔
- روٹے گا بھنی ٹکری لے گا : (مثل)؛ آقا بہت کرے گا موقوف کر دے گا، کسی کے روٹھ جانے کی پرواہ نہیں۔
- کاپیر جانا اور سانپ کا کھلانا برابر ہے : (مثل)؛ بادشاہوں کی صحبت میں بڑا خطرہ ہے۔
- گھرائی رانی کھلائی : (مثل)؛ عزیز آدمی کی بیٹی کسی امیر کے گھر بیاہ کر بڑی کھلاتی ہے۔
- گھر موتیوں کا کال : (مثل)؛ جس لیاقت کا آدمی ہو اس کے پاس ویسا ہی سامان نہ ہو زیادہ ہونے کی جگہ کی واقع ہو جانا۔
- اندر کا اکھاڑا : مذکر؛ رکناٹیا؛ خوب صورت عورت کا بیچ۔
- راج : (دع)؛ قاتل، غالب، ترجیح دیا ہوا۔
- راجج : (دع)؛ صفت، پھرنے والا، رجوع کرنے والا۔
- راحت : (دع)؛ موتھ؛ آسائش، آرام۔
- پرتست : (دع)؛ خوشی اور آرام چاہنے والا۔

— ہے۔ (۲) راست کا مختلف (۳) مبارک (۴) سازگار (۵) دایاں۔

راس : (۵) را، رشی، انبار، آسمان کا ہر برج، موتھ (۲) طالع (۳) باگ ڈور، بڑی کام (۴) بے صاف کیے ہوئے اناج کا ڈھیر (۵) کھیل، تاج، تماشا، راس لیلا۔

— آنا: سزاوار ہونا، موافق آنا،

— بٹھانا: گود لینا، متینا کرنا۔

— دھاری: مذکر؛ ناچنے والے لڑکے جو کرشن جی اور ان کی گویوں کے کھیل کی نقل کرتے ہیں۔

— لانا: مبارک کرنا، پورا کرنا۔

— لیلا: موتھ؛ کرشن جی اور ان کی گویوں کا کھیل۔

— ملنا: دو شخصوں کے طالع کا ایک سا ہونا جو واقعت ہونا نشین، گود لیا ہوا لڑکا۔

— راست: (ف) درست، ٹھیک، سازگار، صبح (۲) سیدھا (۳) بائیں کا مقابل۔

— آنا: صبح ہونا، سازگار ہونا، ٹھیک بننا۔

— باز: (ف)؛ سچا، دیانت دار۔

— بازی: (ف) موتھ؛ ایمان داری، دیانت داری سچائی

— راست: (ف) صاف گو، سچا۔

— لانا: سازگار کرنا، مبارک کرنا، حسب نشتہ کرنا۔

— مزاج: (ف) نیک مزاج۔

— معاملہ: (ف) وہ شخص جس کی معاملت صاف اور سچی ہو۔

— راستی: (ف) موتھ؛ سچائی، دیانت داری۔

— پیر ہونا: سیدھا ہونا، موافق ہونا، سچائی پر ہونا۔

— سے: (دو) نرمی سے، ایمان داری سے، انصاف سے۔

— راستہ: (ف) مذکر؛ (اجیان) سڑک (۲) رسم قاعدہ (۳) طریقہ، ڈھنگ، دیکھو راہ۔

— دکھانا: (۱) انتشار کرنا (۲) براہ بنانا۔

— دیکھنا: دکھانا، انتشار کرنا۔

— جان: (اضافت کے ساتھ) (ف) دل خوش کرنے والا۔

— راجل: (د) کوچ کرنے والا۔

— راحلہ: (د) مذکر؛ سواری کا جانور۔

— رادھا: موتھ؛ کرشن جی کی ایک محبوب گوی کا نام۔

— نگرہی: مذکر؛ ایک قسم کا ریشمی کپڑا، رادھا نگر میں بنا ہوا۔

— راز: موتھ (۱) جھگڑا، فساد (۲) بچوں کا کسی چیز کے لیے ضد کرنا، چلنا۔

— بڑھانا: (دہلی ہندو) قسم بڑھانا، جھگڑا بڑھانا۔

— رازیا: (۱) ضدی بچہ (۲) ضدی فقیر۔

— راز: (ف) مذکر؛ سجد، پوشیدہ بات۔

— دار/داں: (ف) سجد جاننے والا۔

— داری: (ف) موتھ؛ سجد چھپانا۔

— روشن کرنا: راز فاش کرنا۔

— سربستہ: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ چھپا ہوا سجد۔

— فاش کرنا: پوشیدہ بات ظاہر کرنا۔

— ونیاز: مذکر؛ لطف و محبت کے رمز دکنائے۔

— رازق: (د)؛ رزق دینے والا، پروردگار، روزی رساں۔

— رازقہ: مذکر؛ رزق، روزی۔

— راس: (د) مذکر؛ (۱) سر، سردار (۲) اصل (۳) مذکر؛ (اصطلاح جغرافیہ) خشکی کا وہ پتلا قطعہ جو دوڑنگ پانی میں چلا گیا ہو، (۴) (اتلیدس) زاویے کی لوک،

— راس الجہدی: (د) مذکر؛ جس نقطہ پر سورج کے پہنچنے سے جاڑ شروع ہو جاتا ہے۔

— راس السرطان: (د) مذکر؛ جس نقطہ پر سورج کے پہنچنے سے گرمی شروع ہوتی ہے۔

— اکمال: (د) مذکر؛ سرایہ تجارت، اصل بونجی۔

— راس: (ف) مذکر؛ (۱) یہ لفظ بوجھ اٹھانے اور دودھ دینے والے جانوروں کی تعداد گننے کے لیے استعمال کیا جاتا

راقم: (رع) لکھنے والا۔
راقم الحروف: راس تحریر کا لکھنے والا، اس معنوں کا لکھنے والا۔
راکب: (رع) (۱) اونٹ سوار (۲) سوار۔
راکط: مؤنث؛ کم درجے کی زمین، صرف خریف کے کام آنے والی زمین۔
راکشس: (ہ) مذکر؛ بھوت، شیطان، دیو۔
راکھ: مؤنث؛ مٹی، خاک، بھبھوت، کسی جلی ہوئی چیز کی خاک۔
— ہو جانا: جل کر خاکستر ہو جانا۔
راکھی: (ہ) مؤنث؛ رنگین سوت کا ڈورا جسے (ہندو) بہن ایک خاص تہوار (رک ش بندھن) پر اپنے بھائی کی کلائی میں باندھتی ہے۔
راگ: مذکر؛ گانے کا طریقہ، گیت، نغمہ، وہ آواز جو کئی سُروں سے مرکب ہو کر نیکلے، گانا، سُر۔
— پورنا: لمبی چوڑی کہانی چھیڑنا۔
— رنگ: مذکر؛ (کھائیا) عیش و عشرت، کھیل تماشاء، گانا بجانا۔
— گانا/الپنا: (۱) گیت گانا، نغمہ شروع کرنا (۲) (کھائیا)؛ رام کہانی گنا (۳) بلند آواز سے رونا، بچوں کا رول رول کرنا۔
— لانا: جھگڑا کھانا، فیل لانا، بگڑنا، لڑنے کو تیار ہونا، بے موقع آزرہ ہونا۔
— مالا: مؤنث؛ (۱) راگ کے اصولوں کی کتاب، (۲) (عجازاً) طول طویل داستان
راگ راگنی: مؤنث؛ ہر راگ کا کوئی شعبہ، کوئی شاخ سُر، تان، آہنگ۔
رال: مؤنث؛ پھر کا گوند، (۲) لُعب، تھوک۔
— اڑانا: رال کو آگ ذریعہ سے شیش بارو ڈاڑانا
— پہنا: لُعب دہن کا نمٹھ سے جاری ہونا۔
— ٹپکنا: (۱) نمٹھ سے رطوبت کا جھلکا (۲) (کھائیا) جی چاہنا

— سیدھا ہونا: راستہ میں پھیر نہ ہونا۔
— ناپ: جاڑیلے جاڑ۔
— نکالنا: تدبیر نکالنا، تلاش کرنا۔
— راسخ: (رع) مذکر؛ مضبوط، پختہ، پائدار۔
— الاعتقاد/العقیدہ: (رع) مذکر؛ پختہ عقیدے والا۔
— راشٹروپتی: (ہ) صدر، صدر مملکت۔
— راشد: (رع) ہدایت پانے والا۔
— راشن: RATION (انگ) مذکر؛ خوراک، رسد۔
— ڈپو: DEPOT (انگ) مذکر؛ راشن کی دکان۔
— کارڈ: CARD — ٹکٹ یا کارڈ جس پر راشن کی دکان اور خریدار کا نام و پتہ درج ہو۔
— راشی: رشوت لینے والا، (عربی میں اس کے معنی رشوت دینے والا ہے) رشوت لینے والا مرثی کہلاتا ہے۔
— راضی: (رع) (۱) خوش، شاد (۲) رضامند (۳) توکل کرنے والا، شاکر (۴) متفق، مطمئن (۵) آوارہ، خواہش مند
— بہ رضا: خدا کے حکم پر رضامند۔
— بنانا: (رع) ٹھیک بنانا، مارنا پیننا، درست کرنا۔
— راضی: رضامندی سے، خوشی سے۔
— نامہ: مذکر؛ باہمی فیصلے کی تحریر۔
— راعی: (رع) لا، گلاب، چار پایوں کا چرانے والا، (۲) (کھائیا) بادشاہ۔
— راع: (رع) مذکر؛ سبزہ زار، پہاڑ کے نیچے کا میدان۔
— راعب: (رع) رغبت کرنے والا، خواہش مند، نائل۔
— راقبت: (رع) مؤنث؛ ہربانی۔
— رافضی: (جمع روانف) (رع) مذکر؛ وہ مردہ جو اپنے سردار کو چھوڑ دے۔ شیعوں کے ایک فرقہ کا نام۔
— رافع: (رع) (۱) حرف کو پیش دینے والا، (۲) بلند کرنے والا، حُندا۔

بہت راغب ہوتا، کسی چیز پر فریفتہ ہونا، بہت
 خواہش مند ہونا۔
 رام: (ف) مطیع، فرماں بردار۔
 — کرنا: مطیع کرنا۔
 — ہونا: مطیع ہونا، فرماں بردار ہونا۔
 رام: (ہ) (۱) پرمیشکر، پروردگار (۲) پر سرام، پوشنو
 اور رام چند جی کا خطاب۔
 — دانت: مذکر؛ ایک بیج کا نام ہے جس کی مالایانا
 ہیں۔
 — دہائی: حسد کی قسم، حسد کی پناہ۔
 — رام: (۱) ہندوؤں کا باہمی سلام (۲) صاحب سلامت
 جان، بھوان، واقفیت (۳) توبہ توبہ۔
 — رام چپنا پرا یا مال اپتا: (مثل) ظاہر میں پارسا
 باطن میں خود غرض، بد نیت۔
 — رس: مذکر؛ نمک۔
 — رنگی: شراب۔
 — کلی: مؤنث؛ ایک راگنی کا نام۔
 — کہانی: مؤنث؛ (۱) رام چند جی کی کہانی (۲) کہانیاں،
 بڑی اور طولانی داستان، مصیبت کا قفقہ۔
 — لیللا: مؤنث؛ دسہرے کا میللا، رام چند جی کی فتح یابی
 کی نقل۔
 — لومی: مؤنث؛ رام چند جی کی پیدائش کا دن،
 ہندوؤں کا ایک تہوار۔
 راماین: مؤنث؛ جو رزمیہ نظم بالیک نے سنسکرت
 اور تلمی داس نے ہندی میں رام چند جی کے حالات
 میں لکھی ہے۔
 رامش: (ف) مؤنث؛ (۱) آرام، خوشی (۲) گانا،
 سڑوں کا میل، نغمہ مست۔
 رامشکر: (ف) مطرب، گویا، گوم۔
 ران: (ف) مؤنث؛ جاگھ، زانو۔
 — اکھوتا: سوار کی ران کا گھوڑے کی پیٹھ پر اپنی جگہ سے

بہٹ جانا۔
 — سے ران باندھنا: (کنایتاً)؛ دور نہ ہونے دینا۔
 رانا: مذکر؛ (۱) راجا، راج پوت راجا کے بیٹے کا خطاب،
 (۲) اودے پور کے راجاؤں کا لقب،
 رانجھا: مذکر؛ پنجاب کے ایک مشہور قبیلے کا ہیرو جو، میر
 کا عاشق تھا۔
 راندنا: (۱) نکال دینا (۲) اپنے سے دُور کر دینا۔
 — راندھنا: چرخا چلانا۔
 راندھ: (ف) مردود، نکالا ہوا۔
 راندھ درگاہ: (ف) درگاہ الہی یا دربارت ہی سے نکالا
 ہوا، مردود، شیطان۔
 راندھنا / ریندھنا: (۱) پکانا، اُمالنا، (۲) چھلانا،
 چھیڑنا۔
 راندھ: مؤنث؛ (۱) بیوہ (۲) کلہر و تھیر۔
 — کاسانڈ: (کنایتاً) بے پروا، آزاد طبع۔
 راندھا: مذکر (۱) بنو زین، افتادہ زمین (۲) جس کی عورت
 مرگئی ہو، (معنی زہرا میں رند و استعمل ہے)۔
 رانگ / رانگا: مذکر؛ ہمسبز پتے کا عرق (۲) قلعی، ایک قسم
 کی نرم دھات۔
 — بھویا / رنگ بھریا: رانگ کا زیور اور کھلونے
 بنانے والا۔
 — ہو جانا: (کنایتاً) (۱) نرم ہو جانا، پھل جانا (۲)
 غفہ دور ہو جانا، راضی ہو جانا (۳) کم قیمت ہو جانا۔
 رانگ نمبر: WRONG NUMBER (۱) نمک، مذکر؛
 غلط نمبر (ٹیلی فون کے لیے)
 رانی: مؤنث؛ (۱) ہندو عورتوں کا معرہ خطاب
 (۲) راجا کی بیوی۔
 — روتھے گی اپنا سہاگ لے گی یا کسی کا بھاگ لے گی
 (مثل)؛ کسی عورت، کے روٹھ جانے کی کھیر ہوا نہیں۔
 — کورانا پیارا، کانی کو کانا پیارا: (مثل) ہر شخص کو اپنا
 ہم جنس پیارا ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے۔

گم راہ کا راہ راست پر آنا، بد افعال کا نیک کردار ہونا
 پر لانا / بر لے آنا : (۱) ڈھب پر لانا (۲) نیک بنانا
 رہ بری کرنا (۳) اپنے ڈھب کا بنانا۔
 پر لگانا : اپنے موافق بنالینا۔
 پوچھنا : راستے کا پتہ دریافت کرنا۔
 پیدا کرنا : (کنایتاً) دوستی یا ملاقات پیدا کرنا، ربط
 برعانا، کسی کام میں مہارت حاصل کرنا۔
 پیمانہ : (ف) راہ کرنا۔
 سکننا : انتظار کرنا۔
 جاری ہونا : رستے پر آمدورفت ہونا۔
 چلنا : (۱) راہ گیر (۲) (کنایتاً) وہ شخص جس سے
 شناسائی اور تعارف نہ ہو۔
 چلتوں سے لڑنا : خواہ مخواہ ہر شخص سے لڑنا۔
 بے سبب لڑنا۔
 چلنا : (۱) راستے پر چلنا (۲) ڈھنگ اختیار کرنا۔
 خدا : (اضافہ کے ساتھ) (۱) اللہ (۲) خدا کے
 واسطے، خدا کے پلے کا ذریعہ، سچا اور نیک راستہ
 خرچ : سفر خرچ ،
 دار : (ف) (۱) راہ کا ننگ بان (۲) راستے کا
 محصول لینے والا۔
 داری : (ف) موٹھ ؛ راہ کا محصول۔
 داری کا پروانہ : مذکر ؛ راہ سے گزرنے کی تحریری
 اجازت۔
 دکھانا : (۱) راستہ بتانا (۲) (کنایتاً) انتظار کرانا۔
 دینا : (۱) راہ گزر کا راستہ چھوڑنا (۲) (استعارے ،
 فال میں) اجازت ملنا کسی فعل کی۔
 ڈالنا : ڈھنگ ڈالنا، عادت اختیار کرنا۔
 راستہ : (ف) موٹھ ؛ صحیح راہ، سیدھا راستہ۔
 چلنا : (۱) سیدھے راستے پر چلنا (۲) کسی شخص کے
 چال چلن کی پیروی کرنا (۳) متوسط طریقہ اختیار
 کرنا۔

راو : مذکر ؛ (۱) راجا کا بیٹا (۲) ایک قدیم سرکاری
 خطاب۔
 بہادر / راہے بہادر : ایک خطاب جو انگریز سرکار
 کی طرف سے ہندوؤں کو دیا جاتا تھا۔
 چاو : مذکر ؛ اخلاص ، لاڈ پیار ، ناز نخر ، خوشی۔
 راوت : مذکر ؛ بہادر ، سورا ، ایک ہندوستانی قوم۔
 راؤلن : مذکر ؛ رالمیٹن کی کہانی میں لنکا کے مشہور
 راجا کا نام۔
 راوند : ROUND (راگ) (۱) گول (۲) گشت ،
 دور (۳) بندوق یا مشین گن کی بار۔
 راوی : (ف) مذکر ؛ روایت کرنے والا۔
 راہ : موٹھ ؛ (۱) راستہ (۲) ڈھب ، غرض مطلب (۳)
 سازش ، ربط ، رسائی ، میل جول ، دوستی ، آشنائی
 (۴) خبر ، آگاہی ، واقفیت ، طریقہ ، ڈھنگ
 (۶) موقع ، محل (۷) تدبیر (۸) راہ راست (۹)
 (عو۔ دہلی) لیے ، واسطے ، (۱۰) (کنایتاً) (عو) حیدر
 بہانہ۔
 باریک ہونا : راہ تنگ ہونا۔
 بتانا : (۱) راستے کا پتہ دینا (۲) ہدایت کرنا، رہ نمائی
 کرنا، تدبیر بتانا (۳) رخصت کرنا، ٹالنا، اپنے سامنے
 سے ہٹا دینا (۴) نکال دینا، موقوف کر دینا (۵) دھوکا دینا
 (۶) ڈھنگ سکھانا کسی بات کا۔
 بڑ : (ف) رستہ بتانے والا ، ہدایت کرنے
 والا ، رہ نما ، سردار۔
 بھٹکنا : ایک راہ بھول کر دوسری راہ چلا
 جانا۔
 بھولنا : (۱) راہ گم کرنا (۲) (کنایتاً) اتفاقاً بہت
 دن کے بعد کہیں چلا جانا۔
 پانا : گنپائش پانا ، موقع پانا۔
 پر آنا : (۱) سیدھے رستے پر آنا ، (۲) (کنایتاً) ٹھیک
 ہونا ، اصلاح قبول کرنا ، نیک بننا (۳) (کنایتاً) ؛

- لیتا: (۱) روانہ ہونا، راستہ بکھڑانا (۲) اپنا کام کرنا۔
 — مارتا: (۱) رہ زنی کرنا، راستہ ٹوٹنا (۲) چلنے ہوئے کام میں رکاوٹ پیدا کرنا، (۳) تباہ کرنا، برباد کرنا۔
 — مُلک عدم لینا: (اضافہ کے ساتھ)؛ مرجعاً۔
 — پلٹنا: منزل مقصود منظر آنا۔
 — میں آنکھیں بچھانا: دکھائی، خوب توامیح کرنا۔
 — میں کچھ جانا: (دکھائی، بہت انکسادی کرنا، کسر نفسی دکھانا۔
 — میں پھیر ہونا: راہ میں کمی ہونا۔
 — میں رہ جانا: ساتھ چھوڑ دینا۔
 — میں قدم مارتا: راہ چلنا۔
 — میں کانٹے بچھانا: (دکھائی، راستہ دشوار گزار کر دینا (کسی رکاوٹ سے)۔
 — میں لینا: منزل مقصود پیدہ پہنچنے سے پہلے کسی سے مل جانا، کسی سے ملاقات کرنا، پیشوائی کرنا۔
 — تاپنا: دکھائی، کھڑے کھڑے آنا، فزادیر کے لیے آنا۔
 — نجات: (اضافہ کے ساتھ) (ف، مؤثف، بخشش کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ۔
 — نکالنا: (۱) راستہ نکالنا، سرک نکالنا، (۲) وسیلہ پیدا کرنا، حصول مقصد کا ذریعہ پیدا کرنا، تجویز نکالنا، صورت نکالنا۔
 — نما رہ نما: (ف، ہادی، رہ بر۔
 — نوڑ نوڑ رہ نوڑ رہ: راستہ چلنے والا۔
 — وار رہ وار: (ف، مذکر؛ گھوڑا۔
 — ورکٹا / ورکسم: مذکر؛ مؤثف؛ صاحب سلامت میل جول، ربط ضبط۔
 — راہی: (ف) راہ چلنے والا، مسافر، راہب: (ع) مذکر (۱) عیسائیوں کا پاروری (۲) دنیا کو ترک کر دینے والا۔
 — راہمن: (ع) راجن کرنے والا۔
 — راستا: مذکر؛ (۱) بوری (۲) ایک قسم کی پتلی کھلنے

- روش: مؤثف؛ چال چلن۔
 — روگنا: راستہ بند کرنا، مزاحم ہونا۔
 — ریت: (ف) مؤثف؛ (۱) نماز (۲) رسم و رولج میل جول۔
 — زن: (ف) ٹیڑھا، ڈاکو۔
 — زنی: (ف) مؤثف، ٹوٹنا، گم راہ کرنا، ڈاکو لٹا۔
 — سبھانا: تدبیر تانا، راہ دکھانا۔
 — سے: رسم و رواج کے مطابق، سیدھی طرح، قاعدے سے۔
 — سے بے راہ ہونا: (۱) سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا، (۲) بد وضع ہو جانا، اوباش ہو جانا، حد سے بڑھ جانا۔
 — سے چلنا: وضع داری کی زندگی بسر کرنا، مناسب برتاؤ کرنا۔
 — سیدھی لگنا: سیدھا راستہ چلا جانا۔
 — قطع کرنا: راہ طے کرنا۔
 — کاتج / کا پھیر: راہ کی کمی۔
 — کاٹنا: (۱) ایک راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنا (۲) راہ چلنے میں مانع ہونا (کسی شخص کا یا کسی چیز کا) (۳) راہ چلنے کے آگے نکل جانا (۴) مسافت طے کرنا۔
 — کتر کے نکل جانا: ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جانا۔
 — کڑی ہونا: راستہ دشوار گزار ہونا، مشکلیں پیش آنا۔
 — کھلتا: بندش موقوف ہونا، پابندی موقوف ہونا۔
 — کھوئی کرنا: (۱) چلنے میں دیر لگانا، راستے میں روکنا (۲) دکھائی؛ ہوتے ہوئے کام کو روکنا، خلل انداز ہونا۔
 — کھوئی ہونا: منزل طے ہونے میں دیر لگنا، راہ چلنے اور سفر کرنے سے باز رہنا۔
 — گیر: (ف) مذکر، مسافر، رستہ چلنے والے۔
 — لگ: راہ لے۔

عاقبہ: رع، مؤنث؛ عوام کی رائے، عوامی تجویز۔
 رائے: مذکر؛ (۱) راجا، سردار (۲) خطاب، جو انگریز گورنمنٹ
 کی طرف سے ہندوؤں کو دیا جاتا تھا۔
 — رایان: صوبے کے دیوان کا ماتحت افسر جس کے
 سپرد شاہی اراضی ہوتی ہے۔

— ریل: مؤنث؛ ایک قسم کی چھیلی کے پھول اور اس کی پیل۔
 رایت: رع، مذکر؛ جمع۔ رایات؛ لشکر کا علم۔
 رت: رع، مذکر؛ خدائے تعالیٰ، صاحب، آقا، پالنے والا۔
 رت العالمین: رع، مذکر؛ دُنیا کا پالنے والا، کل عالم کا
 پالنے والا۔

رت النوع: رع، مذکر؛ مخلوقات کی پرورش اور حفاظت
 کرنے والے، فرشتے ہر شعبہ زندگی کا فرشتہ۔
 رت الارباب: رع، مذکر؛ تمام پرورش کرنے والوں کا
 پروردگار۔

رت یسرو تمم یا الخیر: رع، (ترجمہ) اے رب آسان کر اور اچھی
 طرح ختم کو پہنچا، مسلمان بچوں کے کتاب شروع کرنے کی دعا۔
 ربانی: رع، رب کی طرف منسوب، اللہ سے تعلق رکھنے والا۔
 رب: رع، مذکر؛ انارہی یا انجور کا پتہ ہوا گڑھا عرق۔
 ربا: مذکر؛ ایک قسم کا چھکڑا۔
 ربا: مذکر؛ سوڈ۔

رباخور: (ف)؛ سوڈ لینے والا۔
 رباب: رع، مذکر؛ (۱) ایک قسم کی سازنگی۔
 رباط: رع، مؤنث؛ مسافر خانہ۔
 رباعی: رع، مؤنث؛ جمع۔ رباعیات، ایک صنف نظم۔
 جمع چار مصرعے خاص بحر میں ہوتے ہیں اور پہلے، دوسرے
 چوتھے مصرعوں کا ہم تائید ہونا ضروری ہے۔

ربانا: مذکر؛ ایک قسم کی دف، جس کو ڈنالی بجاتے ہیں۔
 ربانیت: خدائی، خداوندی، پروردگاری۔
 ربنما: مذکر؛ پانی کے بہاؤ سے ہونے والی کھجور۔
 ربنو: مؤنث؛ ڈور کا سفر، بے فائدہ طے کرنا، ایسی محنت جس
 کا کوئی حاصل نہ ہو۔

کی چیز، جو دہی میں اُبالے ہوئے کدو یا گلڑی کو ڈال
 بناتے ہیں۔
 — رینا/کرنا: رکنا (تینا) بھرتا کرنا، مارکر پتلا حال
 کرنا۔

رایٹ: RIGHT (رائگ)؛ صحیح، اچھا، ٹھیک، درست
 مناسب، سیدھا۔

رائٹر: WRITER (رائگ، مذکر؛ (۱) لکھنے والا (۲)
 مختصر (۳) ادیب، (۴) مضمون نگار۔

رائٹنگ پیڈ: WRITING PAD (رائگ، مذکر؛
 خط لکھنے کے کاغذوں کی گڈی۔

رائج: رع، رواج، جاری، عام، رسمی، دستور کے موافق۔
 رائج الوقت: جو رواج کے مطابق جاری ہو۔
 — کرنا: رواج دینا، جاری کرنا۔

رائج: رع، مذکر؛ خوش بو۔
 رائفل: RIFLE (رائگ)؛ دو مار بندوق جس
 میں کارتوس کی نکاسی کے لیے خود کار چرخ بھی لگی
 ہوتی ہے۔

رائل: ROYAL (رائگ)؛ مؤنث؛ شاہی، بادشاہی
 کے لائق۔

رائگال: (ف)؛ ضائع، لا حاصل۔
 رائی: مؤنث؛ ایک قسم کی سرسوں۔
 — برابر: بہت تنویری مقدار۔

— بھرناتا اور گاڑی بھر آستانی: (مثل)؛ تھوڑا رشتہ
 بھی بہت سی ملاقات پر فوقیت رکھتا ہے۔

— سے پرکرت ہو جانا: نہایت چھوٹے سے بہت بڑا
 ہو جانا۔

رائے: رع، مؤنث؛ جمع (۱)؛ تمیز، تجویز، تہاس، مشورہ، نیا
 — دنیا: صلاح دینا، مشورہ دینا۔

— زن: (ف)؛ وہ شخص جس سے مشورہ لیں۔
 — زنی: (ف)؛ مؤنث؛ نیت خیال ظاہر کرنا۔

— شاری: مؤنث؛ رائے دینا (رائگ)؛ دو ٹنگ۔

اطلاع دینا (۲) حاضری یا واپسی کی اطلاع دینا۔
رپورٹر: REPORTER (انگ) مذکر؛ نامہ نگار،
اطلاع کرنے والا، خبر رساں۔

رُست: مونت؛ موسم، فصل۔
— آنا: فصل آنا، زمانہ آنا۔

— بدلنا/پھرنا: موسم کا تبدیل ہونا۔
رُستا: مذکر؛ کپڑا جو گہوں اور جو کے پودوں کو لگ جاتا ہے
رُتالو: مذکر؛ اروی کے مانند ایک جڑ۔

رُتیبہ: (ع) مذکر؛ (۱) پایہ (۲) درجہ، مرتبہ، عہدہ،
حُرمت۔

رُت جگا: مذکر (۱) خدائی رات، ایک قسم کی خوشی کی نیاز
(۲) شب بیداری۔

— ماننا: مراد پوری ہونے پر رت جگا کرنے کی منت
ماننا۔

رُتن: (۵) مذکر؛ قیمتی پتھر، جواہر۔
رُتتا: (۱) سوہن سے ریتا جانا (۲) سارنگی بننا۔

رُتواتا: سوہن سے صاف کرانا۔
رُتتار: (۵) گلابی، کیل، خوب صورت (آٹھ)

رُتوندھا: (دلی) مذکر/رُتوندھی: (لکھنؤ) مونت؛ آنکھ کی
ایک بیماری جس سے رات کو دکھائی نہیں دیتا۔

رُتوندھی: جس کو رُتوندھی آتی ہو۔
رُتی: مونت؛ (۱) ماشے کا آٹھواں حصہ (۲) گھنٹی بھر مقدار
(۲) قسمت، تقدیر۔

— بھر: ذرا سا۔

— بھرناتا گاڑی بھر آشنائی: (مش) دور کی قربت
یہ بہت سی دوستی سے بہتر ہے۔

— رتی: ذرا ذرا۔

— ریزہ: رکنیتا؛ مفصل۔

— سامنے آنا: (ع) دہلی، اقبال سامنے آنا۔
رتیلا: مذکر؛ ریت ملا ہوا۔

رُتھ: مذکر؛ ایک قسم کی گاڑی جس پر برہمنی ہوتی تھی اور

— پڑنا: بے فائدہ ٹھکانا، چکر کھانا۔

— مارنا: بلا مقصد کسی جگہ جا کر پھر آنا۔
رُبر: RUBBER (انگ)، مذکر؛ (۱) ربر، ایک

درخت کے دودھ سے تیار شدہ لچک دار مادہ جس
سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں (۲) تاش کے کیل برنج
کا خاتمہ، یا کرکٹ کے تین لٹٹ کیلیوں کا سلسلہ۔

رُبط: (ع) مذکر؛ (۱) تعلق، لگاؤ، علاقہ (۲) میل بلاپ
(۳) مشق، مہارت (۴) نسبت۔

— ضبط: مذکر؛ آدورفت، میل ملاپ، راہ رسم۔
— ہونا: تعلق ہونا، دوستی ہونا، عادت ہونا، مشق ہونا۔

— رُبع: (ع) مذکر؛ چوتھائی، ¼۔

— مسکوں: مذکر؛ دُنیا کا چوتھائی حصہ خوشی پر ہے اور
آباد شمار کیا جاتا ہے۔

رُبودگی: (ن) مونت؛ بہار کو ہونے والی غفلت، غشی۔
رُہیب: (ع) مذکر؛ وہ بیٹا جو پہلے خاوند سے ہو۔

رُہیبہ: (ع) مونت؛ وہ بیٹی جو پہلے خاوند سے ہو۔
رُبیح: (ع) مونت؛ موسم بہار (فصل خریف کی نقیض)۔

رُبیح الاول: (ع) مذکر؛ جسبسی سال کا میرا
مہینا۔

رُبیح الآخر: (ع) مذکر؛ ربیع الشانی کا مہینا، جوی
سال کا چوتھا مہینا۔

رُپیٹ: مونت؛ (۱) پھلن (۲) رُپڑ۔
— پڑے کی ہر گنگا: (مش)؛ اتفاقاً طور پر خواہش کا
پورا ہوجانا۔

رُپٹانا: (۱) پھلانا، (۲) دوڑانا۔

رُپٹن: مونت؛ پھلن
رُپٹنا: پھلنا۔

رپورٹ / رپٹ / رپوٹ: REPORT (انگ)؛
مونت؛ اطلاع۔ اسی، خبر، تجویز، روداد۔ کسی معاملہ
کے متعلق تحریری اطلاع۔

رپورٹ کرنا: (۱) کسی واقعہ کے متعلق باضابطہ بیان دینا یا

جو پڑانے زمانے میں راجا استعمال کرتے تھے۔

رٹھ : مَوْتَش ؛ کسی بات کا بار بار کہے جانا۔

رٹھنا : (۱) دُہرانا، بار بار کہنا (۲) کسی ذکر کا بار بار کرنا (۳)

مذکر ؛ تکرار مسلسل ، طلب۔

رٹھ رہنا : چھپنے رہنا۔

لگنا : بار بار کہے جانا۔

لگانا : چپا کرنا۔ رَج ، رَج ، رَج

رَج : مَوْتَش ؛ (۱) دریا کا ریتنا (۲) بالو، ریت (۳)

حیف کے ایام (۴) دَل دَل ، (۵) پھولوں کا

ریزہ۔

رِجَا : (عربی میں رجاہ) مَوْتَش ؛ (۱) امید، آس (۲) خوف۔

رِجَا بِنِجَا : (عوم) مذکر ؛ آباد، بھرا پڑا۔

رِجَال : (درجہ کی جمع) مذکر ؛ لوگ۔

رِجَالُ الْغَيْب : (ع) مذکر ؛ مردان غیب۔

رِجَالِيَّت : (ع) مَوْتَش ؛ رِجَا (امید) سے منسوب، پُر امید

ہونے کی کیفیت۔

رَجَب : (ع) مذکر ؛ سالِ حجری کا ساڑھاں تری مہینا۔

رَجْمَان : (ع) مذکر ؛ میلان، توجہ، رزمینی جھکاؤ۔

رَجَز : (ع) مَوْتَش ؛ (۱) میدانِ جنگ میں عرب قومی شرافت

اور اپنی بڑائی کے بیان میں جو اشعار پڑھتے تھے (۲)

عروض کی ایک بحر کا نام۔

رَجِسْتَر : REGISTER (انگ) مذکر ؛ دفتری کتاب کا

بھی کھاتا، روزنامہ، فہرست۔

رَجِسْتَرَار : REGISTRAR (انگ) مذکر ؛

فرد نویس، سر دشتہ دار، مسجّل۔

رَجِسْتَرِي : REGISTERED (انگ) رجسٹری کیا

ہوا، محفوظ کیا ہوا، درج فہرست کیا ہوا۔

رَجِسْتَرِي : REGISTRY (۱) دستاویز کا محکمہ

رجسٹر میں اندراج ہونا، رکنیت، کھل ہونا (۲) محکمہ

ڈاک کے رجسٹر میں معمول ادا کر کے درج کرانا (۳)

اندراج، داخلہ، درج فہرست۔

شده : (۱) وہ خط یا پکیٹ جس کی رجسٹری ڈاک خانہ

میں کرانی گئی ہو (۲) تجارتی نشان، زمین وغیرہ

کا رجسٹر میں درج ہونا (۳) رکنیت، مضمون، مستحکم۔

رَجَبَت : (ع) مَوْتَش ؛ (۱) واپسی، لوٹنا (۲) عورت کو

طلاق کے بعد زوجیت میں لانا (۳) جنون، سودا،

کسی جلالِ عمل میں غلطی ہو جانے سے پاگل ہو جانا (۴)

فضول بکنا، بے ہودہ بکنا۔

رَجَد : (ع) ف، پڑانے عقیدوں اور روایتوں کا

پیرو، لکیر کا نقیر۔

رَجَدِي : (ع) ف، مَوْتَش ؛ قدامت پرستی پڑانے

خیالات کی پیروی، روایت پسندی۔

رَجَدِي : (اضافہ کے ساتھ) ؛ مَوْتَش ؛

(۱) اُلٹے قدموں پھرنا، مٹھ سامنے رکھ کر بیٹھنے کی جا ب

سرکتے ہوئے چلنا، اُلٹے پاؤں چلنا (۲) پُرانی روایت

کو دوبارہ اختیار کر لینا۔

رَجَلِي خَلِي : (لکھنؤ) مذکر ؛ کینے، (مترادف)

رَجْمًا بِالْغَيْب : (ع) بغیر سوچے سمجھے، اُگل سے۔

رَجْمَنِي : REGIMENT (انگ) مَوْتَش ؛

(۱) دستہ (۲) جمعیت (۳) لشکر، پلٹن، فوج (۴)

فوج کا ایک حصہ۔

رَجْمَان : (عوم) سیر ہونا۔

رَجْمَانِ : راجاؤں کا ملک، راجا کی عمل داری

رَجْمَانِ : (ع) مذکر ؛ لوٹنا، جھکنا، مائل ہونا۔

رَجْمَانِ : (اضافہ کے ساتھ) دلی توجہ

رَجْمَانِ : (۱) معاہدہ کرنا (کسی طبیعت) بٹ جانا کسی طرف (۲)

(۳) دائر کرنا، پیش کرنا، عدالت میں لانا۔

رَجْمَانِ / رَجْمَانِيَّت : (عوم) مَوْتَش ؛ مردمی، قوتِ باہ۔

رَجْمَانِ : خوش کرنا، بُھانا، فریفتہ کرنا۔

رَجْمَانِ / رَجْمَانِيَّت : خوش ہونا، مائل ہونا۔

رَجْمَانِ : مَوْتَش ؛ خواہش، رغبت،

رحمت (رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رحمن: (ع) نہایت رحم والا، خدا، رحم کرنے والا، بخشاہندہ۔
رحیق: (ع) موتھ؛ شراب خالص۔
رحیم: (ع) بہت مہربان۔

ر-خ

رُخ: (ف) مذکر؛ (۱) شطرنج کے ایک ٹہرے کا نام (۲)
ایک فرضی بڑا پرندہ (۳) طرف، جانب، سمت (۴)
میل، رُحمان، توجہ (۵) سامنا۔
— بدلنا: (۱) بے مروت ہوجانا، رکھائی کرنا (۲) انداز
تقریباً بدلنا (۳) کم توجہی کرنا، کشیدہ ہونا (۴) سمت
بدلنا، منہ پھیرنا۔
— پانا: متوجہ پانا۔
— پھرنا: (۱) کشیدہ ہونا، بے اعتنائی ہونا (۲) سمت
بدل جانا۔
— چھوٹنا: ہمت پست ہونا۔
— دے کر بات نہ کرنا: توجہ سے بات نہ کرنا۔
— دیکھنا: توجہ دیکھنا۔
— کرنا: (۱) منہ کرنا، پھرنا (۲) توجہ کرنا (۳) ارادہ کرنا
(۴) کسی طرف جانا، کسی طرف متوجہ ہونا۔
رُخت: (ف) مذکر؛ اسباب، آٹا، لباس۔
رُخسار/رُخسارہ: (ف) مذکر؛ گال۔
رُخش: (ف) مذکر؛ (۱) گھوڑا (۲) روشنی۔
رُخشاں: (ف) چمکنے والا۔
رُخشندگی: (ف) موتھ؛ ہمک۔
رُخصت: (ع) موتھ؛ (۱) چھٹی، اُہلت (۲) اجازت
(۳) روانہ ہونا (۴) برطرفی، وداع (۵) خدا کی طرف
سے بندے کو کسی کام میں تخفیف کی اجازت۔
— (القافی): (افانف کے ساتھ) کسی ناگہانی ضرورت
کی چھٹی۔

رُچنا: (۱) خواہش مند ہونا، لذت پانا (۲) دلی لگاؤ ہونا (۳)
شادیانہ، شادی کے گیت گانے کا انعام۔
رُچانا: (۱) مقرر کرنا، پھیلانا (۲) منہدی سے رنجین کرنا،
خوش بودار کرنا۔
رُچاوت: موتھ؛ رچنا۔
رُچنا پچنا: موتھ؛ خوش گوار اور مضم ہونے والی چیز،
(۲) موتھ کے لیے، رچتی پچتی۔
رُچ کر کھانا: رعبت سے کھانا۔
رُچاؤ: (۵) مذکر؛ رُچ بس جانے والی کیفیت
گھل مل جانا، ہم آہنگی، امتزاج۔
رُچنا: (۱) کھانا مضم ہونا (۲) ایک شے کی بوجہ دوسری شے
میں سرایت کر جانا (۳) کو تفرخہ میں جانا (۴) منہد
کا ہاتھ پاؤں میں رنگ لانا (۵) شادی کا پھیلنا، شادی
بیاہ کا سامان ٹھہرا کرنا (۶) جزو بدن ہونا۔
رُچنی منہدی: اچھا رنگ دینے والی منہدی۔
رُح / رُوح: رحمت اللہ علیہ کا مخفف، خدا کی اُس پر
رحمت ہو۔
رُحل: (ع) موتھ؛ گدڑی کا بنا ہوا ایک شکنجہ جس پر قرآن
رکھ کر پڑھتے ہیں۔
رُحلت: (ع) موتھ؛ کوچ، موت، امتثال۔
رُحم / رُحم: مذکر؛ (۱) بچہ واں (۲) چاولوں کا شکر ڈال
کر بنایا ہوا وہ کچا حلوہ، جسے اللہ کے واسطے خوشی
کی تقریب میں عورتیں بناتی ہیں۔
رُحم: (ع) مذکر؛ مہربانی، ترس۔
— آنا: ترس آنا۔
— دل: مہربان، رقیق القلب۔
— کھانا: ترس کھانا۔
رُحمت: (ع) موتھ؛ (۱) مہربانی، کرم (۲) مجازاً؛ بارش،
(۳) درود، سلام (۴) کلمہ رحمتیں و آفرین۔
— بَرستا: کثرت سے رحمت کا نازل ہونا۔
رُحمت للعالمین: (ع) (لفظی معنی) تمام عالموں کے لیے

رَدِّ عَوْتِ : مَوْتِ ؛ دَعْوَتِ مَنفُورِ كَرْنَا -
 كَرْدِينَا : (۱) ہر دینا ، مات كَر دینا (۲) انكار كَر دینا -
 رَدِّ عَمَلِ : (ع) مَذْكُرْ ؛ جَوَابِ عَمَلِ ، اَلَا اَثْرُ ، مَخَالِفِ اَثْرِ -
 (انگ) ؛ رِی اِيكْشَنِ -
 رَدِّ وِبَدَلِ : مَذْكُرْ ، مَوْتِ ؛ (۱) اَلْطِ بَلَطِ ، پھیرنا ، بدلنا -
 واپس كَرنا ، دَفْعِ كَرنا (۲) تَكَرَّرُ ، حِجَّتِ (۳) جَنگِ مِیں
 حَمَلِ كَرنا اور تَوَلُّو كَرنا (۴) تَبَدُّلِ -
 وَقَدْحِ : مَوْتِ ؛ بَحْثِ اور تَكَرَّرِ مِیں تِیْرِ مِی بَاتِیْنِ بَحْثِ
 تَكَرَّرِ حِجَّتِ -
 وَكَدِّ : مَوْتِ ؛ حِجَّتِ ، مِبَاحِثِ -
 هَوْنَا : (۱) غَلَطًا تَابِتِ هَوْنَا ، مَسْوُوحِ هَوْنَا ، لَوْثِنَا (۲)
 دَفْعِ هَوْنَا ، بَاطِلِ هَوْنَا (۳) مَقَابِلِ مِیں پِستِ هَوْنَا -
 رَدًّا : مَذْكُرْ ؛ اِيْنِثِ پَر اِيْنِثِ رَكْنَا يَ مِثْلِ كِی اِيكِ تَه پَر
 دُوسَرِی تَه رَكْنَا - هِرْتَه اِيكِ رَدَّا هِے -
 جَمَانَا : اِلْزَامِ رَكْنَا -
 رَكْنَا : (۱) اِيكِ تَه كِے بَعْدِ دُوسَرِی تَه رَكْنَا ، چِنَانِی
 پَر چِنَانِی كَرنا (۲) اِيكِ دَفْعِ كَر دُوسَرِی دَفْعِ كَهَانَا -
 (۳) رَكْنَانِیَا اِلْزَامِ رَكْنَا -
 رَدَّا : (ع) مَوْتِ ؛ چَادَرِ -
 رَدِّ لَ / كَهْنَدَلَا : مَذْكُرْ ؛ حَقِیْرُ ، نِكْمَا ، خَرَابِ -
 رَدِّی / رَدِّی : (ع) بَجْوَا هُوَا ، نَاقِصِ ، خَرَابِ ، نِكْمَا ، نَاكَاهِ
 كَر دینا ؛ بِيكَا كَر دینا -
 رَدِّیْفِ : (مَوْتِ ؛ (۱) وَه لَفْظًا يَ اِلْفَاظِ جَوْغَزَلِ يَاقِیْبِدِے
 يَ اِیْبَاتِ كِے آخِرِ مِیں تَافِیْفِے كِے بَعْدِ بَارِ اَیْمِیْنِ (۲)
 بِيحِیْ كِی فُوجِ (۳) جَو كَهْوَرُے يَ اَدْنِثِ پَر كِی كِے بِيحِیْ
 بِيحِیْے ،
 چَمَكْنَا : رَدِّیْفِ كَ اَلْطَفِ دِینَا -
 وَارِ : اِبْجَدِ كِے حِسابِ سِے رَكْهَا هُوَا ، حُرُوفِ تَهجِی كِے
 كِی تَرْتِیْبِ سِے -

رَخِصْتَانَهْ : مَذْكُرْ ؛ (۱) كِی رَیْسِ كِے ہَاں سِے رَخِصْتِ كِے
 وَقْتِ كَ اَطِیْفِ ، اِنْعَامِ رَخِصْتِ ، غَلْعَتِ رَخِصْتِ -
 دِینَا : اِجَازَتِ دِینَا ، چِیْتِ دِینَا -
 رِعَايَتِی : (اَضَافَتِ كِے سَاثِہ) وَه رَخِصْتِ جَو ہِرِ اِلْزَامِ
 كُو سَالِ بھَرِ مِیں مُقَرَّرَه مَدْتِ كِی مَلْتِ هِے -
 طَلَبِ : (ف) جَانِے كِی اِجَازَتِ چَاسِنِے وَالا -
 كَرْنَا : (۱) مُسَافِرِ كُو رَوَانَه كَرنا (۲) لُوكِ كَ شَوْہَرِ كِے گُھَرِ بھِیْنَا
 (۳) بَرطِ كَرنا (۴) كَنَانِیَا ، مَالِنَا -
 لِیْنَا : (۱) اِجَازَتِ لِیْنَا (۲) چِیْتِ لِیْنَا -
 مَلْنَا : (۱) اِجَازَتِ مَلْنَا (۲) چِیْتِ مَلْنَا (۳) مَوْقُوفِ
 هَوْنَا -
 هَوْنَا : (۱) وَدَاعِ هَوْنَا (۲) رَكْنَانِیَا ، مَرطَانَا -
 رَخِصْتِی : مَوْتِ اور دُہْنِ كِی مِیكِے سِے رَدَانِگِی (۲) وَه رُوبِیَا
 جَو دُولِہَا كُو وَدَاعِ هَوْتِے وَقْتِ دِیَا جَانِے ، سَلَامِی -
 رَخِصْتِ : (ف) مَذْكُرْ ؛ (۱) سَوَارِخِ ، رُوزَانِ (۲) مَرَامِثِ
 غَلِ ، نَسَاوِ
 اِنْدَازِ : (ف) غَلِ ڈَالِنِے وَالا -
 اِنْدَازِی : مَوْتِ ؛ غَلِ ڈَالِنَا ، بَحَا نِجَا مَارِنَا -
 بَنْدِی : (ف) مَوْتِ ؛ سَوَارِخِ بَنْدِ كَرنا ، فِتْرَتِ دَفْسَادِ
 كُوكِنَا -
 پَرطَانَا : غَلِ پَرطَانَا -
 ڈَالِنَا : غَلِ اِنْدَازِ هَوْنَا -
 كَهْنَدَلَا : سَوَارِخِ كَهْنَدَلَا -
 رَخِصْتِ مِی كَالِنَا : كَنَانِیَا ، عِیْبِ كَالِنَا ، نِكْمَتِ چِیْنِی كَرنا ،
 حِلِ حَوَالِ كَرنا ، عُدَدِ كَرنا كِی كَامِ مِیں -
 رَكْنَا : نَقِصِ ظَاہِرِ هَوْنَا -

ر-د

رَدِّ : مَذْكُرْ ، مَوْتِ ؛ (۱) نَه مَانَا ، پھِیْرِ دِینَا ، واپس كَرنا -
 (۲) تَرْدِیدِ (۳) جَمَلَانَا (۴) بَاطِلِ -
 رَدِّ خَلْقِ : صِفْتِ ، مَرْدُودِ -

ر-ذ-ز

رذالا / رذالا: (ع، مذکر؛ جہازاً) کینز، کم ذات۔

رذالین: مذکر؛ کینزین، سفلیں۔

رذال / رذالے کی جوڑو کو سد اطلاق: (مثل)؛ کم ظرف

کی دوستی کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کینے اور سفلیے کو اپنے عہد کا کچھ پاس نہیں ہوتا۔

— کے ناختم ہونے: (مثل) معمولی آدمی صاحب اختیار ہو گیا۔

رذیل: (ع، سفلہ، کینز، کم ذات۔

رذ: (ف) (۱) رنگ کرنے والا، رنگیز (۲) انگور۔

رذاق: (ع، مذکر؛ رزق دینے والا، خدائے تعالیٰ۔

رذاتی: مؤنث؛ رزق رسانی۔

رذق: مذکر؛ رذی، خورداک، کھانا۔

— اتارنا: رزق پیدا کرنا۔

— اترنا: از خود سامان رزق پیدا ہو جانا، غیب سے ملنا۔

— پہنچنا: کھانا ملنا قدرت الہی سے۔

رذق کا کیرٹا: (۱) اناج کھانے والا، (۲) رکتیٹا؛ انسان۔

رذروڈ: RESERVED (انگ) (۱) مخصوص،

جس کو دوسرے لوگ استعمال نہ کر سکیں (۲) کم

بلنے بچنے والا، کھانا رکھ رکھاؤ والا (۳) کم سخن،

کم آمیز۔

رذلت: RESULT (انگ) مذکر؛ نتیجہ، امتحان

کا نتیجہ، انجام، حاصل۔

رذم: (ف) مؤنث؛ جنگ، مہرک۔

— گاہ: (ف) مؤنث؛ میدان جنگ۔

رذمیر: (ف) رزم سے نسبت رکھنے والا۔

رذویشن: RESOLUTION (انگ) مذکر؛

تجویز، قرارداد۔

ر-س

رَس: مذکر (۱) شیرہ، عرق، دودھ (۲) گتے کا شیرہ (۳)

جوہر، ست (۴) لوبچ (۵) دھات کا کشتہ (۶) منی

نطفہ (۷) آواز کی نرمی۔ آواز کی شیرینی (۸) نشیلا پن،

— اترنا: گھوڑے کے سُم سے مواد کا پانی نکلنا۔

— بٹا: مذکر؛ رستی بٹنے والا، رسن ساز۔

— بھری: (۵) مؤنث؛ خمار آلود، نشیلی (آنکھ)

— بھری: مکوہ سے بڑے دانوں والا پھل (انگریزی۔

راسپ بیری) سے ارد ہوتا ہوا۔

— بھری آواز: شیریں آواز۔

— پرٹنا: اناج میں دودھ پیدا ہونا۔

— چوس لینا: جوہر نکال لینا، چوس لینا۔

رَس جس: (۵) مذکر، تراوٹ، شادابی، تروتازگی،

لذت واثر۔

— کی باتیں: میٹھی میٹھی باتیں، لگاؤ کی باتیں۔

— گھوٹا: رکتیٹا، شیریں کلامی کرنا۔

— لینا: رس چوسنا۔

— میں بس بلا دینا: خوشی میں رنج پیدا کر دینا۔

رِس: مؤنث؛ غضب، عفت، ہٹ، ہند۔

رِسانا: رهندو، خفا ہونا، ناراض ہونا۔

رَسا: (ف) کسی چیز تک پہنچنے والا، دُور جانے والا۔

رَسائی: (ف) رسائی، پہنچ، باریابی، دخل، مہارت۔

— پانا: باریاب ہونا۔

— پیدا کرنا: رسوخ حاصل کرنا

رَسا: مذکر؛ بڑی اور موٹی رستی۔

رِسالت: (ع) مؤنث؛ پیغمبری، پیغامبری، سفارت۔

— مآب: حضرت محمد رسول اللہ صلعم۔

رِسال دار: مذکر؛ سواروں کے دستے کا افسر۔

رِسالہ: (ع) مذکر (۱) چھوٹی کتاب، پمفلٹ؛ مختلف حضرات

کے مضامین کا معززہ وقت پر شائع ہونے والا گٹو

- (۳) کئی سوسائروں کا دستہ۔
- داری، رسالہ دار کا عہدہ، رسالے کی افسری۔
- رسال / رسالہ : (۱) آہستگی، نرمی (۲) (ف)؛ پہنچانے والا۔
- رساؤل : مؤنث؛ گنے کے رس کی کیر۔
- رسائل : (ر) مذکر؛ (جمع رسالہ کی)۔
- رسائین : مؤنث؛ (۱) دعوات کا کشتہ (۲) (ف) آہستگی (۳) کیمیا۔
- رستخیز : (ر) مؤنث؛ (۱) (رکنایت) قیامت، ہنگامہ (۲) (رکنایت) سخت جنگ۔
- رستگار : (ر)؛ نجات پانے والا، رہائی پانے والا۔
- رستگاری : (ر) مؤنث؛ رہائی۔
- رستم : (ر) ایران کا مشہور سپہاؤں (۲) بڑا بہادر، زبردست، شجاع۔
- خاں / کاسالا : (طہر)؛ شہنی باز، اترانے والا۔
- کی دھاک : رسم کا رعب اور ہیبت۔
- کی گورپرلات مارنا : (رکنایت) بہاندی کا جھوٹا دھوا کرنا۔
- ہونا : (ر) بڑا بہادر ہونا۔
- رستی : (ر) مؤنث؛ بہادری۔
- دکھانا : بہاندی دکھانا۔
- کستہ : (ر) مذکر؛ راستہ (دیکھو راہ)۔
- بہکانا / بھلانا : گم راہ کرنا۔
- دکھانی دینا : تدبیر سوچنا۔
- دیکھنا : انتظار کرنا، تدبیر سوچنا۔
- کاٹ کے جانا / چلنا : کتر کے جانا، رستہ بچا کر چلنا۔
- کترانا : راستہ کاٹ کر جانا۔
- رستے لگانا / لگا دینا : رستے پر ڈالنا، راہ سے لگانا۔
- طریق بتانا۔
- رستخیزاں : (فرائسی)
- چائے خانہ، وہ جگہ جہاں صرف کھانے پینے کا انتظام ہو۔
- رِسٹ واچ : WRISTWATCH (رنگ) مؤنث؛ ہاتھ کی گھڑی۔
- رِسند : مؤنث؛ (۱) (ر) حصہ، قیمت (۲) جنس، غلہ (۳) ذخیرہ جو تلف یا لشکر کے ہم راہ ہو، سامان لشکر۔
- پہنچانا : سامان خوراک فوج یا لشکر میں پہنچانا۔
- رِسندی : جتنے کے مطابق۔
- رِسمل : (ر) مذکر؛ جمع، رسول کی۔
- رِسْم : (ر) مؤنث، مذکر؛ (۱) دستور، رواج (۲) میل جول (۳) روش عادت، طرز، طریق (۴) ایک کپیل کا نام (مترک)۔
- اٹھانا : عادت اور رواج کے خلاف کرنا۔
- خط / رسم الخط : (ر) مذکر؛ کسی زبان کو لکھنے کا طریقہ، اٹلا۔
- وراہ : ڈھنگ، دستور، ربط ضبط، میل جول، برتاؤ۔
- وراہ پڑ جانا / ہو جانا : ربط ضبط ہو جانا۔
- ورواج : مذکر؛ دستور، قاعدہ، ریت، رسم۔
- رِسْمی : رسم سے منسوب، عام، معمول، مستوسط درجے کا رواجی جس کا رواج ہو۔
- رِسْمیات : مؤنث، مذکر؛ رسمیں۔
- رِسْمَسا : مذکر؛ تر، کسی قسم کے پانی سے جو یا پسینے سے ہو۔
- رِسْمَسانا : (ر) تر ہونا، رس یا پانی سے بھر جانا۔
- رِسْن : (ر) مؤنث؛ رستی۔
- باز : (ر) نٹ۔ رستیوں پر تماشہ دکھانے والا۔
- رِسْتا : (۱) ٹپکنا، چوٹا (۲) خفا ہونا، ناراض ہونا۔
- رِسْتوا : (ر) ذلیل، خوار۔ بدنام۔
- کرنا : عیب کو فاش کرنا۔
- رِسْوائی : (ر) مؤنث؛ بدنامی، بے عزتی۔
- رِسْووت : مؤنث؛ ایک تلخ دوا کا نام۔
- رِسْوُخ : (ر) مذکر؛ (۱) رسائی، ربط ضبط (۲) اعتماد، اعتبار۔
- رِسْوُلی : (ر) مذکر؛ (جمع رِسْل) (۱) خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر، جو کتاب الہی بھی لائے (۲) قاصد، نامہ بر۔

رَسُولُ اللہ: (ع) مذکر؛ خدا کا رسول۔

شاهی: مذکر؛ ایک قسم کے آزاد نغیر۔

رَسُولی: مؤنث؛ ایک قسم کی بتوری، ایک قسم کے آزاد چھوڑ دینے کا نام

رَسُول: (ع) مذکر؛ مؤنث؛ (جمع، رسم کی) (۱) شادی بیاہ

کی رسمیں (۲) سرکاری خرچہ، سرکاری حق، کورٹ فیس کا

خرچہ، اسٹامپ کی فیس، چندہ یا محصول، (۳) مذکر؛

قاہے، دستور، طریقے۔

رَسُولی: مؤنث؛ (ع) (۱) کھانا، کھانے اور پکانے کی جگہ

بادچی خانہ۔

رَسُولیَا: کھانا پکانے والا۔

رَسُولی: مؤنث؛ (۱) موٹی ڈور (۲) (ع) (کنایتاً) سانپ

(۳) سوٹ کا لمبا پیمانہ (۴) (کنایتاً) عمر، زندگی۔

رَسُول: (۱) (ع) کوئل دینا (۲) (کنایتاً) جیل بنانا۔

رَسُولَانَا: تیزی سے دوڑنا، بکٹ دوڑنا (جہاں کوئی

چیز روک اور آڑ نہ ہو سکے)، آزادی حاصل کرنا۔

رَسُولِی: بل نہیں کھلا/بل گئی ایٹھن نہیں گئی روجل گئی

بل نہیں گیا: (مثل)؛ دولت اور عزت جاتی رہی غرور

اور سرکشی نہ گئی۔

رَسُولِی: (کنایتاً) مہلت دینا، اغماض کرنا، عذر

زیادہ کرنا۔

رَسُولِی: (۱) رستی کا طویل ہونا، لمبا ہونا، (۲) (عجازاً)

مہلت ملنا، ڈھیل ہونا، عسر زیادہ ہونا، زندگی

بروز جانا (۳) انتہا نہ ہونا۔

رَسُولِی: (۱) کام ڈھیل چھوڑنا، (۲) آزادی دینا

نگراںی کم کرنا۔

رَسُولِی: اصل بات کو بڑا کر کے دکھانا۔

رَسُولِی: (کنایتاً) عزم کم ہونا۔

رَسُولِیَاں تَرُونَا: (کنایتاً) آزادی کا خواہش مند

ہونا۔

رَسُولِیَا: (۵) شوٹین، زنجیلا، طرح دار، دلچسپی رکھنے والا۔

رَسُولِی: مؤنث؛ (۱) پہنچنا کسی چیز کا (۲) کسی چیز کے پہنچنے

کی تحریری اطلاع۔

رَسُولِی: (کنایتاً) لگانا، مارنا (تخیرات وغیرہ سے)۔

رَسُولِی: (۱) (میسو ادھیں)، پختگی کی حد پر پہنچا ہوا (۲) کمال

پر پہنچا ہوا (۳) کامل۔

رَسُولِی: (۱) (کنایتاً) گزشتہ وقت، (۲) مقولہ، کسی کا

آئی ہوئی مصیبت ناگہانی سے نکالنا۔

رَسُولِیَا: مذکر؛ (۱) عرق دار، رس دار، شاداب (۲) بالکھا

خوش وضع، خوش طبع۔

رَسُولِیَا: رسیلا ہونا۔

رَسُولِیَا: مؤنث؛ پیار کی آنکھ، غمور آنکھ

لگاؤ بھری آنکھ۔

رَسُولِی: مؤنث؛ دلوں میں اثر کرنے

والی آواز۔

رَسُولِی: RECEIVER (رنگ، (۱) چونکا (۲)

ٹیلی فون کا سنسنے اور بولنے کا آلہ، (۳) عدالت کی طرف

سے مقرر کیا ہوا ولی

ر-ش-ط

رَشَح: (رنگ) مذکر؛ بھیر، جوم، انبوہ۔

رَشَح: (رنگ) مذکر؛ (۱) (۳) قریب (۲) ایک مرض کا نام

(۳) لڑی، منظم۔

رَشَح: (رنگ) پانچویں ڈورا بندھا ہوا۔

رَشَح: (رنگ) (کنایتاً) سانس چلنے کا سلسلہ۔

رَشَح: نکاح کرنا، شادی کرنا، نسب کا سلسلہ ملانا۔

رَشَح: (رنگ) قریبی، ماتے دار، بھائی بند۔

رَشَح: مؤنث؛ قریب، ناتا۔

رَشَح: (رنگ) مذکر؛ چراغ کی بجٹی۔

رَشَح: نسبت کرنا، تعلق پیدا کرنا، بیاہ

کرنا۔

رَشَح: مذکر؛ قریب، میل جول۔

رَشَح: (رنگ) مذکر؛ ٹپکنا، پانی کا کسی جگہ سے ٹپکنا۔

رشد : (ع) مذکر؛ (د) ہوش سنبھالنا (۲) ہدایت پانا۔
رشک : (ف) (۱) حسد، جین (۲) غیرت (۳) کسی کی بھی محبت
 یا ترقی دیکھ کر اس کے مائل کرنے کی تنہا خواہش۔
 — آنا، کسی کے عروج و ترقی پر ملال ہونا۔
 — سے جلنا، کسی کو برصے ہوئے دیکھ کر کڑھنا۔
 — کھانا، رشک کرنا۔
رشوت : (ع) مؤنث؛ ناجائز نذرانہ۔
 — خوار/خور : (ف) رشوت لینے والا۔
 — رسانی : (ف) رشوت لینا۔
ریشی : (۵) مذکر؛ مٹی، مابہ، تارہ، خدا پرست۔
ریشید : (ع) (۱) ہدایت یافتہ (۲) تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ
 (۳) خدائے تعالیٰ کا نام۔
رصدگاہ : (ف) مؤنث؛ اجرام سماوی کے مشاہدے اور ان
 کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی جگہ۔
رضی : رضی اللہ عنہ کا مخفف۔
رضا/رضاء : (ع) مؤنث؛ خوش فودی (۲) اجازت، رضامندی
 (۳) رخصت، بھئی۔
 — بقضا : خدا کی مرضی پر راضی ہونا۔
 — پانا : اجازت پانا۔
 — کار : مذکر؛ والذیہ اپنی مرضی سے خدمت خلق کی
 ذمہ داری لینے والا۔
 — مند : (ف) خوش فودی، راضی۔
مندی : (ف) مؤنث؛ منطوری، خوش فودی۔
 — ورجبت سے : آپ سے، اپنی خوشی سے، اپنی
 خواہش سے۔
رضاعت : (ع) مؤنث؛ دودھ پلانا پچوں کو۔
رضاعی بھائی : مذکر؛ دودھ شریک بھائی۔
 — بہن : مؤنث؛ دودھ شریک بہن، ایک عورت کا
 دودھ پینے والے بھائی بہن۔
رضائی/رزائی : سردی سے بچنے کے لیے پٹھے کے دوپٹے کے
 بیچ میں روئی ڈالی ہوئی اوڑھنے کی چیز جو بڑا اور کم روئی

والا لحاف۔

رضوان : (ع) مذکر (۱) بہشت کے داروغہ کا نام (۲)
 رضامندی، خوشنودی۔

— اللطیف : اللہ اس سے راضی ہو۔

رضوی/رضویہ : (ع) امام علی موسیٰ رضا سے منسوب۔

رضی اللہ عنہ : خدا اس دان سے راضی ہو۔

رضینا بقضا : (ع) ہم حکم خدا پر راضی ہوئے۔

رطب : (ع) مذکر؛ تر۔

— ویاہس : (ع) (۱) تر و خشک (۲) بڑا بھلا، نیک و بد۔

رطب اللسان : (ع) تر زبان، مداح۔

رطب : (ع) مذکر؛ تر خرما، ایک قسم کی کھجور۔

رطل : (ع) مذکر؛ (۱) اٹھائیس تو لے ساڑھے چار ماشے
 تقریباً ایک پونڈ کا وزن (۲) شراب کا پیانا، جام شراب۔

— گراں : (ع) راضف کے ساتھ (ف) مذکر؛ بڑا پیانا۔

رطوبت : مؤنث؛ تری۔

— اصلیت : مؤنث؛ اعضائے جسم کی خلقی تری۔

ر، ع، غ، ف

رعایا/رعایا : (ع) مؤنث؛ رعیت، پرکجا۔

رعایت : (ع) مؤنث؛ (۱) لحاظ و خیال، مناسبت (۲)
 مہربانی، توجہ، طرف داری (۳) کمی، تخفیف۔

رعایتی : (۱) جس کی طرف داری کی جائے (۲) سفارشی۔

— رخصت : مؤنث؛ وہ چھٹی جس میں تنخواہ نہ وضع کی جائے۔

رعیب : (ع) مذکر؛ خوف، دبدبہ، شان و شوکت، دھاک۔

— ہاندھنا/پھٹانا : دھاک پھٹانا۔

— ذاب : مذکر؛ دھاک، ہیبت۔

— ڈار : خوفناک، ڈراونا۔

— ماننا : خوف میں آجانا، دہشت میں آجانا۔

رعد : (ع) مذکر؛ ایک ابر کا دوسرے ابر سے ٹکر کھانے
 کی آواز، گرج، بجلی کی کڑک۔

رعشہ : (ع) مذکر؛ سھر سھر اہٹ، کپکپی، ہاتھ پاؤں میں کپکپی۔

رَفْتَنی : رف - صفا؛ جانے والا، عارضی۔
 رَفْتہ : رف - صفت (۱) بیخود، عاشق (۲) گیا ہوا،
 گزرا ہوا۔
 رَفْتہ : رف (۱) آہستہ آہستہ، بتدریج۔
 رَفْت و گزشت : گیا گزرا۔
 رَفْرَف : رف (۱) مذکر؛ وہ سواری جس پر رسول اللہ سفر
 معراج میں سوار ہوئے تھے۔
 رَفْض : رف (۱) مذکر؛ سردار کو چھوڑنا، رافضی ہونا رادرو
 میں رافض مستعمل ہے۔
 رَفْع : رف (۱) مذکر؛ (۲) بلند کرنا، (۳) کانا، (۴) دور کرنا۔
 حاجت : اضافت کے ساتھ پیشاب پاخانہ کرنا۔
 رَفْع کرنا : دور کرنا، ہٹانا، جانے دینا، معاف کرنا
 جھگڑا ہٹانا۔
 شَرِّرَفْسَاد : اضافت کے ساتھ مذکر؛ شر دور کرنا،
 فساد دور کرنا۔
 رَفْعِین : رف (۱) مذکر؛ (۲) نماز میں ہر تمام اور رکوع پر
 دونوں ہاتھ اٹھانا (۳) دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔
 رَفْعیت : رف (۱) مؤنث؛ بلندی، اُچھائی، مرتبہ کی بلندی۔
 رَفْفُت : رف (۱) مؤنث؛ نرمی۔
 رَفْفَقَا : رف (۱) جمع، رفیق (۲) ساتھی (۳) دوست، مددگار
 (۴) خیر خواہ، صاحب، ہم نشین۔
 رَفْوَا : مذکر؛ بچے ہوئے کپڑے میں تانگے بھرنا، تانگوں سے
 بچھی ہوئی جگہ کو بھرنا۔
 رَفْوَا ہونا : چل دینا، بھاگ جانا۔
 رَفْوَا : مؤنث؛ رنوکرنا، بچھے ہوئے کپڑے کو سینا۔
 رَفْوَا : رفوکے تانگے کا ٹوٹ جانا۔
 رَفْوَا : رف (۱) مذکر؛ رفوکرنے والا۔
 رَفْقَدَہ : مذکر؛ (۱) تھوڑی روتی لگانے کی بھوسا بھری
 ہونی گول گدی (۲) گول اور بد وضع پگڑی۔
 رَفْسِیع : رف (۱) بلند۔
 الشَّان : بڑے مرتبے والا۔

ایک بیماری کا نام۔
 اِنْدَام : رف (۱) روضہ میں مبتلا شخص۔
 دار آواز : مؤنث؛ شہر سہراقی ہونی آواز۔
 رَعْنَا : رف (۱) زینا۔ خوش نما۔
 رَعْنَا : رف (۱) مؤنث؛ (۲) خود آرائی (۳) زیبائی، خوبصورتی
 رَعْنَا : مؤنث؛ بنگلہ، غرور۔
 رَعْنیت : رف (۱) مؤنث؛ (۲) رعایا، پرچار (۳) اسامی، کاشت کار۔
 رَعْنیت : رف (۱) مؤنث؛ خواہش، میل، ریحان
 آنا؛ ریحان ہونا، میلان ہونا۔
 کی آنکھ سے دیکھنا؛ پسند کرنا۔
 رَعْنَم : رف (۱) مذکر؛ (۲) نفرت، حقارت، تحقیر (۳) مبارزہ کسی لے
 بر خلاف کام کرنا۔
 رَف : رَاوِغ، رادروی اور تیزی میں کیا ہوا کام جو نظر کا تھاج
 ہو۔
 کاپی : COPY (۱) نگ، مؤنث؛ وہ کاپی جو
 بغور مسودہ کے ہو، (۲) سرسری نقل کیا ہوا۔
 رِفَارْمَر : REFORMER (۱) رانگ، اصلاح
 کرنے والا، لیڈر، مصلح۔
 رِفَاقت : رف (۱) مؤنث؛ (۲) ساتھ، ہم راہی (۳) میل جول۔
 اتحاد، وفاداری۔
 رِفَاہ : رف (۱) مؤنث؛ خیر خواہی، آرام، من آسانی، نیکی، بھلائی۔
 بہبودی۔
 عام / خَلَاق : مؤنث؛ عام لوگوں کی بہبودی۔
 رِفَاہیت : بہبود، لوگوں کا فائدہ۔
 رِفْقَار : رف (۱) مؤنث؛ (۲) چال (۳) رویہ، انداز۔
 اُڑانا؛ چال کی نقل کرنا، وضع کی نقل کرنا۔
 وگفتار : مؤنث؛ طور طریق، چال چلن۔
 رِفْتگان : رف (۱) جمع رفت کی، گزرے ہوئے امرو
 ہوئے لوگ۔
 رِفْتگی : رف (۱) مؤنث؛ (۲) بے خودی (۳) روانگی۔

رُفِيقُ : (ع) ہم سفر، ہم راہی، ساتھی۔

ر-ق

رُقَابَتُ : (ع) موئنت؛ (ا) محبت میں حریف ہونا (۲) چشمک، گوشچی جو بدوجہ کسی معاملات کی شرکت کے

کی آگ : موئنت؛ رقابت کی طہن۔

رُقَاصُ : (ع) مذکر؛ (ا) ناچنے والا (۲) سانس، دیوار کی گھڑی کا ٹکٹا ہوا پنڈولم۔

رُقْلُکُ : (اضافت کے ساتھ) رکنائیا، ستارہ زہرہ۔

رُقَاصِیہ : موئنت؛ ناچنے والی۔

رُقَاقَاتُ : موئنت؛ ہلباب، شعلیت۔

رُقْمِیہ : (ف) مذکر؛ زمین یا کسی سطح کے عرض اور طول کو ضرب دینے سے جو بیانش حاصل ہو (۲) مجموعی طور پر گہری ہونی سطح

رُقْتُ : (ع) موئنت؛ (ا) پتلا ہونا (۲) رونا آنا، دل بھرا آنا۔

رُقُقُ : (ع) مذکر؛ ناچ، اصول موسیقی کے موافق ٹھوکرنا

رُقُقُلُ : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ رکنائیا، تڑپنا، ہاتھ پاؤں مارنا، ذبح کیے ہوئے جانور کا پھونکنا۔

رُقْرُنَا : (ا) ناچنا (۲) رکنائیا، خوشی ظاہر کرنا، خوشی منانا۔

رُقْرُودُ : (ف) مذکر؛ ناچ رنگ، گانا بمانا۔

رُقْرُنَا : (ف) ناچ گانا۔

رُقْرُصَا : (ف) رقص کرنا ہوا۔

رُقْرُوعُ : (ع) مذکر؛ (ا) چھوٹا خط (۲) نسبت کے پیام کا خط (۳) کسی تقریب یا شادی کا دعوت نامہ (۴) بیوند، تنگی۔

رُقْرُعَاتُ : (ع) مذکر؛ جمع رُقْرُوعِ، خطوط کا مجموعہ۔

رُقْرُمُ : (ع) موئنت؛ (ا) روپے کے وہ نشان یا ہندسے جو عربی الفاظ کا اختصار کر کے بنائے گئے ہیں (مثلاً

عشرہ (دس)، عہر (۲) روپیا پسیا لکھنے کا ہندسہ

(۳) کل تعداد (۴) قسم، جنس، ڈسنگ، طور، طریق (۵)

بال، دولت، قیمتی چیز (۶) لکھا ہوا۔

رُقْنُ / رُقْنُجُ / رُقْرَا / رُقْرَاہُ / رُقْرَاہُ الحروف : لکھنے والا

مخبر۔

رُقْرَاہُ / رُقْرَاہُ : موئنت؛ ابواب، لگان کے علاوہ کی آمدنی، دریاؤں نالوں تالابوں سے پھیلی یا سنگھارا

دیگرہ سے۔

رُقْرُنَا : لکھنا، تحریر کرنا۔

وار : تفصیل وار۔

ہونا : لکھا جانا۔

رُقْرِیْبُ : (ع) مذکر؛ (ا) حریف، ہم پیشہ، دشمن، دیکھو رقابت (۲) نگہبان۔

رُقْرِیْقُ : (ع) (ا) پتلا (۲) نرم، ملائم۔

رُقْرِیْمُ : (ع) مذکر؛ خط، رقعہ۔

رُقْرِیْمُ / رُقْرِیْمُ / رُقْرِیْمُ : (ع) خط کے آخر میں، بجائے نیاز مند،

ر-ک، طہ

رُقْرَاکُ : موئنت؛ (ا) گھوڑے پر سوار ہونے کا زمین میں لٹکا ہوا آہنی حلقہ (۲) بادشاہوں کی سواری کا گھوڑا۔

رُقْرَاہُ : (۳) لمبا سا ہشت پہل پیارہ دم (۴) اس لفظ کو کہتے ہیں جو درق کے دوسرے صغے کے نیچے اور صغہ اول کے ابتدا میں لکھا جاتا ہے تاکہ ترک مل جائے۔

رُقْرَاہُ : کسی کی رکاب پکڑے رہنا۔

رُقْرَاہُ : (ف) مذکر؛ (ا) اعلا درجے کا کھانا پکانے والا باورچی، (۲) رکاب پکڑ کر گھوڑے پر چڑھانے والا نوکر (۳) بادشاہوں کی سواری کے ساتھ کھانے کر

چلنے والا ملازم۔

رُقْرَاہُ : موئنت؛ رکاب میں لگا ہوا تسمہ۔

رُقْرَاہُ : (اضافت کے ساتھ) موئنت؛ بادشاہ یا رئیس کے گھوڑے کے ہم راہ۔

رُقْرَاہُ : ہم راہ

رکھنا: (۱) دھرنا، رکھنا (۲) بچانا، خبرداری کرنا (۳) جمع کرنا
 رکھنا کرنا، قبضے میں رکھنا، پاس رکھنا، (۴) عاید کرنا،
 (۵) دفن کرنا، قبر میں آمارنا (۶) رہیں رکھنا (۷) لگا دینا
 (۸) لانا، پیش کرنا (۹) ڈالنا، مدخول بنانا، صحبت
 کرنا (۱۰) دبا لینا، قابض ہو جانا (۱۱) روکنا، ٹھہرانا (۱۲)
 قیمت مقرر کرنا (۱۳) بھرتی کرنا (۱۴) بحیثیت پر عمل درآمد کرنا
 (۱۵) ٹالنا (۱۶) سپرد کرنا (۱۷) شرط پر لگانا (۱۸) کسی
 طرف میں کوئی چیز ڈالنا (۱۹) پرورش کرنا، پالنا (۲۰)
 قبول کرنا (۲۱) کرنا (۲۲) رکھنا، تعریف میں لانا (۲۳)
 چرانا، خیانت کرنا (۲۴) رکھنا، ترک کرنا۔

رکھانی: موت؛ بڑھی کا ایک اوزار۔

رکھانی: موت؛ بے اتفاقی، بے پردائی، بے مروتی، نیکو جان
 کی لینا؛ بد مزاجی ظاہر کرنا، بے پردائی کرنا۔

رکھ پیت: رکھ پیت؛ (۵) (مثل) جو آدمی کی عزت کرنا ہے
 لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، عزت کر دعت پاؤ۔

رکھ چھوڑنا: جمع رکھنا۔

رکھ دینا: ہار مان کر ہتھیار ڈال دینا۔

رکھ رکھاؤ: مذکر؛ (۱) دیکھ بھال، خاطر داری، خاطر داری
 کا برتاؤ، وضع داری (۲) خبر گیری، نگہداشت۔

رکھوالا: مذکر؛ محافظ، نگہ بان۔

رکھوالی: (۱) محافظت کرنا (۲) محافظت کی اجرت۔

رکھنا: محافظت کرنا۔

رکھو لینا/رکھو آنا: (۱) چھین لینا (۲) واپس لینا۔

رکھو پنجا/رکھو چا: مونگ یا ماش کی دھونی ہونی دال پیس
 کر بال لیتے ہیں اور چھوڑے کر کے پکا کر کھاتے ہیں۔

رگ

رگ: موت؛ (۱) جسم کی وہ نلی جس میں خون رہتا ہے (۲)

پنجا (۳) پھول یا پتے کا ریشہ (۴) آنٹھوں کا ڈورا،

(۵) اصل، ذات، نسل (۶) تار، ساگا، دھاگا، (۷)

— میں پانور رکھنا: گھوڑے پر سوار ہونا۔

رگابی: (ف) موت؛ تعالیٰ، تشری، اچھوٹا طباق، پلیٹ۔

— سامنھ: جوڑا چکلا منھ، بدھیت منھ۔

— مذہب: جدھر کھانے کو لے آدھر ہو جانے والا،

رڈھل مل یقین۔

رگارڈنگ: RECORDING (انگ، مذکر؛

(۱) صدا بندی (۲) گانے مکالمے یا کسی تقریر کو ٹیپ

رگارڈ کے ذریعہ محفوظ کر لینا۔

رگاکت: (ع) موت؛ سستی، بے عزتی، مغلہ پن۔

رگادور/رگادوٹ: مذکر؛ (۱) روک، توقف (۲) مزاحمت

(۳) رنجش، آزدگی۔

رگشا بندھن: موت؛ (۱) راکھی باندھنے کی رسم (۲) راکھی کا

تہوار۔

رگعت: (ع) موت؛ رجب رکعات، نماز کا اس قدر حصہ

جس میں ایک رکوع دو سجدے آجائیں۔

رگن: مذکر؛ رجب، ارکان (۱) ستون (۲) سربراہ کار،

کارندہ (۳) ضروری جز، عوض کی ایک اصطلاح۔

— رگپس: (ف) مضبوط رکن، بڑا رکن۔

— رگانی: (ف) اہانت کے ساتھ (ف) مذکر؛ کبر شریف کے

رکنوں میں سے ایک رکن کا نام۔

— رگنا: (۱) ٹھہرنا، دم لینا (۲) کسی امر سے باز رہنا (۳)

کشیدہ ہونا، کھینچنا (۴) کسی چیز کا آہستہ آہستہ کسی چیز

سے نکلنا (۵) پس و پیش کرنا (۶) بند ہونا، مسدود ہونا

(۷) احوال رہنا، ناتمام رہنا۔

رگوع: (ع) مذکر؛ مقررہ طریقے پر نماز میں جھک کر

گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا۔

رگیک: (ع) ناچیز، اذنا دہے کا، گھٹیا، پست اخلاقی

معیار کا۔

رگھا رکھایا: (۱) باسی (۲) رکھا ہوا، جمع کیا ہوا

رکھا رہتا، (۱) کسی مقام سے رکھی ہوئی چیز کا نہ اٹھایا جانا

(۲) بے کار ہو جانا، بے اثر ہونا، کچھ کام نہ آنا۔

- رکناٹا؛ دھند پلانے والی کا اثر۔
 اترنا: (۱) مندود کرنا، غصہ فرو ہونا (۲) آنت کا
 نوٹے میں اترنا۔
 پٹھے سے واقف ہونا: اصل نسل اور عادت سے
 واقف ہونا، ذات بنیاد سے آگاہ ہونا۔
 پھونکنا: (۱) رگ میں حرکت ہونا (۲) رکناٹا ہونے
 والی بات سے آگاہ ہو جانا۔
 جاں: (۱) رانفت کے ساتھ، موتی؛ تمام رگوں
 میں خون پہنچانے والا، شہ رگ۔
 چڑھنا: کسی رگ کا (۲) جگہ سے ہٹ جانا۔
 چڑھی ہونا: برہم ہونا۔
 دینا: رکناٹا، قابو ہونا، یاد ہونا، کمزور پڑنا۔
 رگ سے واقف ہونا: ہر ایک جڑ سے واقف ہونا۔
 رگ میں کوٹ کے بھرا ہونا: کسی صفت کا کارل
 طور پر کسی میں ہونا۔
 زن: (۱) رن، فصد کھولنے والا۔
 کا منہ کھل جانا: فصد کھولنے میں خون زیادہ آنا۔
 کھڑی ہونا: رگ پر دم آ جانا۔
 گردن: رانفت کے ساتھ، موتی؛ رگ جاں۔
 غیرت: موتی؛ رکناٹا، حیت کا جوش، غیرت کا
 جوش۔
 ولے: مذکر؛ رگ پٹھا، رکناٹا، سارا بدن۔
 وپنے سے واقف ہونا: رگ سے واقف ہونا
 اصلیت سے واقف ہونا۔
 وپنے میں دوڑ جانا: ہر رگ میں اتر کر جانا،
 سرایت کر جانا۔
 ویشہ: (۱) رگ وپھا (۲) اصل نسل، خوبو۔
 (۳) رکناٹا، حسب و نسب،
 رگی/رگیلا: مذکر؛ (۱) مذمی، ہٹلا، سرکش، مُفسد (۲)
 اُبھرے ہوئے تاروں کا پڑھا، (۳) موٹی رگوں کا پائ
 بد ذات و شریر۔
- رگیں مرنا: رگوں کی قوت جاتی رہنا۔
 نکل آنا: رکناٹا؛ بہت ڈبلا ہونا۔
 رگڑ: موتی؛ (۱) خفیف زخم (۲) دھیریزوں کی باہمی رگڑ
 کا نشان۔
 دینا: بھس دینا۔
 کھانا: رگڑ گٹا، گھٹا گٹا، مگرانا۔
 رگڑا: مذکر؛ (۱) خراش، کسی چیز سے کسی چیز کا بل کر بھس
 جانا (۲) بھگ گھومنا (۳) پینا (۴) رکناٹا، سخت
 گیری، جھگڑا۔
 بتانا: زمین پر رگڑا کر گھٹا رہنا۔
 جھگڑا: مذکر؛ فساد، بحث، تکرار، لڑائی، بھڑائی۔
 دینا: کسی چیز کو دوسری چیز پر رگڑنا۔
 رگڑنا: (۱) گھٹنا (۲) صاف کرنا، مانجنا (۳) چیلنا، رہنا کرنا۔
 (۴) گھومنا (۵) حیران کرنا، ستانا (۶) آہستہ آہستہ کھٹنا،
 کسی چیز کا کسی چیز پر گھٹنا،
 رگید رگاد کر: گیر گھار کر، مار پیٹ کر۔
 رگیدنا: گیر کر بھگانا، پیچا کرنا۔
- ر۔ ل
- رُلا پلا: مذکر؛ بلا جلا۔
 رُل بل جانا: مخلوط ہو جانا، کمال اتحاد ہو جانا۔
 رُلانا: کسی کو کوئی مدد پہنچا کر رُلانا، یا رُلادینا۔
 رُلنا: خاک میں بل جانا، تباہ ہونا۔
 رُلوانا: (۱) رُلانا، بے انتہا پریشان کرنا، روسلے پر
 مجبور کرنا۔
- ر۔ م
- رُم: (۱) رن، وحشت، گریز، نفرت۔
 بھول جانا: بھولای بھول جانا۔
 خود زہ / زودہ / کرد / دیدہ: (۱) بھاگا ہوا،
 وحشت زدہ۔

(۵) مذکر؛ چراگاہ، وہ جگہ جہاں جانوروں کی بہت آمدورفت رہے، شکارگاہ وحشی جانوروں کو سیر و شکار کے واسطے چھوڑ دینے کی جگہ (۶) مذکر؛ گھومنے پھرنے کی جگہ، پارک۔

رموز: (۱) مذکر؛ مؤنث؛ (جمع رمزی)

رموز مملکت خولیسی خیرداں دانتد: (مثل؛ اپنے ملک کی بہتری کے بعد بادشاہ ہی جانتے ہیں۔
رموزیں چھانٹنا: نوک جھوک کی باتیں کرنا۔
رجمی جمار: (۱) جمار (جمع جمرہ کی)؛ چھوٹی ٹکریاں، مؤنث؛ حاجیوں کا رینا کے مقام میں ایک خاص جگہ پر ٹکرایا مارنا۔
رمپدیگی: (۱) مؤنث؛ وحشت، تنفر۔
رمپدہ: (۱) مؤنث؛ بھاگا ہوا، وحشی۔

ر-ن

رن: مذکر؛ (۱) جنگ عظیم (۲) میدان جنگ، مقتول۔

— باس: (۱) سنسکرت، مذکر؛ راجا کا زنان خانہ۔

— بن: مذکر؛ جنگل، بیابان۔

— یولنا: میدان جنگ سے آواز نکلتا (قدیم زبان)۔

— پیر چڑھنا: جنگ میں شریک ہونا، جنگ کرنا۔

— پیرلانا: جنگ عظیم ہونا، بہت سے آدمیوں کا مارا جانا۔

— گھن: مذکر؛ قتل عام۔

— ہلا دینا / ہلنا: میدان جنگ میں لرزہ بڑھانا۔

رن: (انگ) RUK، مذکر؛ دوڑ چھٹ، کرکٹ

کے کھیل کی ایک باری دوڑ۔

— آوٹ: OUT، (انگ)؛ کھلاڑی کا

ایک وکٹ سے دوسرے وکٹ تک دوڑتے ہوئے آؤٹ ہونا

رنج: (۱) مذکر؛ (۲) ڈکھ، درد (۳) ملال، سوگ، آزدگی

(۳) افسوس، پچھتاوا۔

— آنا: ملال ہونا۔

— اٹھانا: صدمہ برداشت کرنا۔

— پالنا: رنج مول لینا، ہمیشہ رنجیدہ رہنا۔

رم: (انگ) RUT، مؤنث؛ ایک قسم کی شراب۔

یرم / ریم: REAM، کاغذ کے بیس رستوں کا بندل۔

رسمال: (۱) مذکر؛ علمِ رمل کا جاننے والا، جوتشی، نجومی۔

رسمان: (۱) مذکر؛ انار۔

رمانا: (۱) سادینا (۲) اختیار کرنا (۳) گھمانا پھراننا، گم کرنا۔

رمبھانا: (۱) گائے بھینس کا بولنا۔

رمتنا: گھومنے والا۔

— جوگی / فقیر: مارا مارا پھرنے والا، ہمیں نہ ٹھہرنے والا۔

یرم / رجم: مؤنث؛ پانی برسنے کی آواز۔

— مینہ برسننا: زور سے مینہ برسننا

رمرز: مؤنث؛ (جمع رموز) (۱) اشارہ، لب آنکھ، برو یا کسی اور

طرح (۲) ایسا، اشارہ، کنایہ (۳) بیچ دار بات (۴) راز

(۵) نمکتہ بازیگی (۶) نوک جھونک (۷) طعنے (۸) علامت

نشان (۹) معنی بات، پوشیدہ بات (۱۰) معاملہ

(۱۱) پہلو دار بات (۱۲) مغز سخن، مراد، منشا۔

— پھینکنا: طعنے دینا، اشارت کسی کو برائے کرنا۔

— چلنا: اشارہ کنایہ ہونا، آوازے کسے جانا۔

— شناس: (۱) اشارہ پہچاننے والا۔

رمرزتیت: (۱) مؤنث؛ تہ داری، اشارت، ایمائیت۔

رمرزیہ: (۱) رمر سے منسوب (۲) اشارتی،

رمضان / رمضان: (۱) مذکر؛ نوال قمری مہینا جس

میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔

ررمق: (۱) مؤنث؛ (مجازاً) ہر ایک تھوڑی سی چیز،

بہت کم، ذرا سا۔

ررمقے: تھوڑی سی۔

ررمعل: (۱) مذکر؛ (۲) نجوم، جیوتش (۳) علمِ عروص کی

ایک بحر۔

ررمنا: (۱) پھرنا، گھومنا، سیر کرنا (۲) بستنا، سمانا (۳) کہیں

کا کہیں چلا جانا، بیٹک جانا (۴) رہ پڑنا، چھادی چھانا

- پہنچانا: اذیت دینا، ٹول کرنا۔
 — پہنچنا: صدمہ ہونا، ملال ہونا۔
 — دیکھنا: تکلیف برداشت کرنا، رنج سہنا۔
 — سہنا: رنج برداشت کرنا۔
 — کھانا: (کنایتاً) رنج برداشت کرنا۔
 — کھینچنا: صدمہ برداشت کرنا۔
 — مٹنا: تکلیف دور ہونا۔
 — مول لینا: خواہ مخواہ اپنے سر کوئی دکھ لینا۔
 — وچن: (رف) مذکر؛ دکھ، مہیبت۔
 — ہونا: (۱) غم ہونا، افسوس ہونا، آزدگی ہونا، (۲) اُن بن ہونا۔
 — رنجش: (رف) موٹھ؛ اُن بن، بگاڑ، ناخوشی۔
 — رنجور: (رف) بیمار، افسردہ۔
 — رنجیدگی: (رف) موٹھ؛ غم، رنجش۔
 — رنجیدہ: (رف) غم گین، خفا، اداس، بے زار، ناخوش۔
 — خاطر: (رف) ناراض، ناخوش
 — رنجک: موٹھ؛ بارود بندوق یا آتش بازی میں آگ لگانے کے لیے)۔
 — اڑانا: بندوق یا توپ کے پیالے کی بارود میں آگ لگانا۔
 — چاٹ جانا: بارود چل جانا اور بندوق یا آتش بازی کا زچلنا۔
 — رن چندی: (۵) موٹھ؛ جنگ کی دیوی، دگاد دیوی۔
 — رند: مذکر؛ بندوق سے فینم پرفیر کرنے والا قطعہ کی دیوار کا سوراخ۔
 — رند: (رف) مذکر؛ آزاد، بے قید۔
 — مذہب / مشرب: (رف) آزاد وضع، بد وضع۔
 — رندانہ: (رف) رند کی طرح کا۔
 — رندی: (رف) موٹھ؛ رندوں کا کام، مذہب کے محلے میں آزاد خبیالی، شہدین، بدکاری۔
 — رندانہ: (رف) صاف کیا جانا، زندہ کیا جانا۔
- رندہ: (رف) مذکر؛ لکڑی صاف اور ہم دار کرنے کا برصی کا اوزار۔
 رندا: لازم۔ پامال ہونا، روندنا جانا، کچلا جانا۔
 رندھا: (۱) پامال ہونا، پستنا (۲) غمگین ہونا۔
 رندھیر: (ہندی صفت) بہادر، شجاع، دلیر۔
 رند: (س) ارنڈ کا درخت۔
 رندا یا: مذکر؛ بیوگی، خاوند کے مرنے کے بعد کا زمانہ۔
 — کاشنا: بیوگی کا زمانہ بسر کرنا۔
 رند سال: مذکر؛ شوہر کے ماتم میں بیوہ عورت کو بیوگی کا لباس پہنانے جانے کی رسم۔
 رندا: مذکر؛ جس کی بیوی مر گئی ہو۔
 رندا یا: بیوہ عورت۔
 رند منڈ: (۱) چار آبرو کا صفایا کیے ہوئے (۲) بے شانوں اور ہتوں کا صرف تہ۔
 رندی: موٹھ؛ (۱) عورت (۲) کسی زنِ بازاری (۳) ناپنے گانے کا پیشہ کرنے والی عورت۔
 — باز: تماش بین، عیاش۔
 — بازی: موٹھ؛ (۱) تماش بینی (۲) زنا کاری، عیاشی۔
 — رنکھا / رنکھی / رنکھا / رنکی / روٹکھا: (دہلی۔ صفت) روائت، روانسی۔
 رنگ: (رف) (۱) سبز، سرخ، زرد، سیاہ وغیرہ (۲) کمر و جیلہ (۳) عیب (۴) روش، آئین (۵) خوشی و تندرتی (۶) رونق (۷) مذکر؛ رنگت، روپ (۸) طرز، انداز، (۹) نایع، اراگ، گلانا، کھیل کود، (۱۰) حال، احوال، کیفیت (۱۱) بہار، رونق، خوب صورتی (۱۲) سماں (۱۳) مانند، نظیر، (۱۴) رونق، وارنش (۱۵) خوش حالی، لطف، مزہ (۱۶) دستور، رسم، قاعدہ (۱۷) تماش، سیر (۱۸) ہنسی، مذاق، چہل (۱۹) ہم سر، جوڑ (۲۰) شغل (۲۱) خار، نشہ، قوت (۲۲) برتاؤ۔
 — آب دار ہونا: چمکیلا ہونا۔
 — آمیزی: موٹھ؛ نقاشی، مصوری، عبارت آرائی۔

- آنا: رنگ چرمضا، رونق آنا، پھیکن جاتا رہنا۔
— اترنا: رنگ جاتا رہنا، روشن جاتا رہنا، چہرے کا متغیر
رہ جانا۔
— اچھالنا/ پھینکنا: رنگ ڈالنا۔
— اداس ہونا: رنگ کا آب دار نہ ہونا، رنگ کا پھیکا
ہونا۔
— اڑانا: رنگ زائل کرنا، اپنے فروغ یا شوخی سے
دوسرے کو بے رنگ کرنا، طرز اڑانا، طرزیکہ لینا،
انماز اڑانا۔
— اڑ جانا/ اڑنا/ جاتا رہنا: (۱) رنگ پھیکا پڑنا (۲)
رکنا، چہرے کا رنگ متغیر ہونا۔
— اکھڑنا: (۱) بے رونق ہونا، بے رونق ہوجانا، حال خراب
ہوجانا، اثر جاتا رہنا (۲) رکنا، بے زنجی اور
بے رونق۔
— اور ہونا: دوسرا انداز ہونا۔
— باندھنا: سماں باندھنا۔
— بدل جانا: (۱) کسی چیز کے رنگ کا متغیر ہونا (۲) روش
تبدیل ہوجانا، وضع بدل جانا (۳) انقلاب ہونا۔
— برنگ کا: طرح طرح کا، مختلف رنگوں کا۔
— بگڑنا: (۱) رنگ کا خراب ہونا، بے رونق ہونا، بدننگ
ہونا (۲) حالت متغیر ہونا، پتلا حال ہونا۔
— بندھنا: (۱) کسی جگہ رونق پھلانا، زیبا ہونا، (۲) سماں
بندھنا۔
— بھرننا: نقشے یا تصویر میں موقعے موقعے سے رنگ
آہنزی کرنا۔
— بھنگ کرنا: لطف بھگانا۔
— بے رنگ ہونا: کسی عالم یا حالت کا خراب
ہوجانا۔
— پاسی: موتھ؛ رنگ کھلنے کی رسم۔
— پتلا ہونا: حال سے بے حال ہونا۔
— پختہ ہونا: پکا ہونا، رنگ کا۔
- پیر آنا: (۱) بہار پر آنا (۲) زوروں پر ہونا،
رونق پھلانا۔
— پیر ہونا: بہار پر ہونا، رونق پر ہونا۔
— پچا ہونا: رنگ کا پختہ اور مستقل ہونا۔
— پچرنا: (۱) رنگین ہونا، رنگ چرمضا (۲) رکنا، رونق
پھلانا، بارونق ہونا۔
— پھر جانا: کسی چیز پر رنگ کا لگایا جانا۔
— پھوٹنا: رنگ کا ایک طرف سے دوسری طرف ظاہر ہونا۔
— پھیرنا: رنگین کرنا، وارنش کرنا۔
— پھیکا پڑنا: رنگ دمدم ہونا، رونق کم ہونا۔
— پھیکا ہونا: رنگ اداس ہونا، بے لطف ہونا۔
— پیدا کرنا: طبیعت یا مزاج کے اعتبار سے کوئی ڈھنگ
اختیار کرنا۔
— ٹپکنا: رنگ کا تراوش کرنا کسی خاص حالت میں
خاص حالت ظاہر ہونا۔
— ٹھہرنا: رنگ کا پائے دار ہونا، نہ اڑنا۔
— جل جانا: رنگ کا سیاہ ہونا، چہرے پر تیرگی چھا
جانا۔
— جھانا: (۱) بنیاد ڈالنا، اثر ڈالنا (۲) رونق دینا،
(۳) رسوخ پیدا کرنا۔
— جھنا: (۱) رنگ آنا، رنگ قائم ہونا (۲) اعتبار پیدا
ہونا، کسی کا کسی جگہ کچھ فروغ ہونا (۳) نظروں میں بھلا
معلوم ہونا (۴) بنیاد پڑنا، رسائی پیدا ہونا۔
— چڑھنا: (۱) رنگ نکالنے کے واسطے کس کے پھولوں
کو جگہ کر چھانا (۲) رنگنا، رنگین کرنا (۳) وارنش کرنا،
روغن کرنا، نمود کرنا (۴) سماں باندھنا (۵) اپنا سا بنانا،
(۶) معرفت یا خدا شناسی کا مزہ ڈالنا۔
— چمکانا: رنگ کی رونق اور آب و تاب بڑھانا، چلا کرنا
مستقل کرنا۔
— چمکانا: (۱) بھرننا، رنگ کی آب و تاب بڑھ جانا (۲)
شہرت زیادہ ہونا، عزت زیادہ ہونا۔

- چوکھا آنا: گہرا آنا۔
چونا: رنگ نپکنا۔
چھا جانا: رنگ کا کسی مقام پر محیط ہو جانا۔
چھبھا ہونا: رنگ شوخ ہونا۔
دکھانا: (۱) کیفیت دکھانا، لطف دکھانا، حالت دکھانا
(۲) طرز دکھانا (۳) اثر ظاہر کرنا۔
دگرگوں کرنا: خراب کیفیت پیدا کرنا۔
دیکھنا: (۱) کیفیت یا حالت کا مشاہدہ کرنا (۲) سیر
دیکھنا، بہار دیکھنا (۳) نتیجے پر نظر ڈالنا (۴) ہوا دیکھنا
رُخ دیکھنا (۵) حال احوال یا اثر دیکھنا۔
دینا: (۱) رنگینی ظاہر کرنا (۲) لطف دینا، مزہ دینا۔
(۳) بات بنا دینا، چلا کر دینا۔
دھنگ: مذکر؛ (۱) چال چلن، برتاؤ، عادت (۲)
حالت، کیفیت۔
دھنگ ملنا: انداز اور وضع کا مشابہ ہونا (کسی سے)
رُچانا: (۱) شادی بچانا، کسی خوشی کی تقریب کا
سامان ہتھا کرنا (۲) رنگین بنانا۔
رُسیا: رنگیلا، عیاش۔
رُلیاں: مؤنث؛ ہنسی، چہل، عیش و نشاط،
مزہ لطف۔
رنگ کا: طرح طرح کا، مختلف رنگ کا، مختلف وضع کا۔
رُوپ / رُوغن: مذکر (۱) چمک دک (۲) چہرہ نہرہ۔
رُوپ پانا: صورت دار ہونا، خوش وضع ہونا۔
رُوپ نکالنا: رنگ روغن نکالنا، بہار پر آنا، چمک
دک ہم پہنچانا۔
زرد ہونا: رنگ پیلا پڑنا، بیماری کا ضعف ظاہر ہونا۔
ساز: مذکر، میز، کواڑر کسی پر رنگ کرنے والا،
وارنش کرنے والا۔
سرخ ہونا: گلابی رنگ ہونا، فرط خوشی ظاہر ہونا۔
سفید پڑنا: چہرے کی سرخی جاتی رہنا، فکر یا خوف
ظاہر ہونا، تھکا دہی، مدد سے یا تکلیف کا اثر معلوم ہونا۔
- رنگ شمالا: رنگ (۵) مذکر؛ کھیل کود کا مکان
اسٹیج، رقص و سرود کا مقام، تماشا گاہ۔
شکتر: (اضافے کے ساتھ) دف، اڑا ہوا رنگ
میں بہر ہوا یا اڑنے لگتا۔
شوخ ہونا: رنگ کا گہرا اور چمک دار ہونا۔
فق ہونا: رنگ اڑنا، رمدے خوف حیرت یا شرم
سے، چہرے کا رنگ مستحضر ہونا۔
کاٹنا: کھار یا ترشی سے رنگ اڑنا۔
کٹنا: (۱) رنگ اڑنا، رنگ زائل ہونا، ترشی سے رنگین
پڑے کی رنگت زائل ہونا (۲) شرم یا خجالت سے
رنگ کا مستحضر ہونا۔
کچا ہونا: رنگ کا ناپائے دار ہونا، رنگ کا
اڑ جانا۔
کرنا: (۱) رنگ چڑھانا، رنگ پھیرنا، رنگنا،
(۲) خوشی منانا۔
کندن ہونا: رنگ سنہرا ہونا۔
کھلنا: (۱) کسی چیز یا چہرے پر رنگ کا موزوں اور نمایاں
ہونا، رنگ کا زیب دینا (۲) سیاہی مائل رنگ کا سفیدی
مائل ہونا۔
کھیلنا: آپس میں ایک دوسرے پر رنگ ڈالنا۔
لانا: (۱) رنگ پکڑنا، رنگین ہونا، اچھا دکھائی دینا،
(۲) فیل لانا، جھگڑا کرنا، ٹکڑا کرنا (۳) بدی کرنا، بُرائی
کرنا، تماشا دکھانا، اثر دکھانا، مزہ چکھانا (۴) مختلف وضع
سے اپنے تئیں ظاہر کرنا (۵) جُنبٹ باطن ظاہر کرنا، شوخ
برپا کرنا، فساد پر آمادہ ہونا (۶) کھر پھیلانا، فریب دینا۔
لینا: (۱) رنگنا (۲) کسی کو اپنے دھنگ پر بنا لینا۔
مارنا: بزدل مارنا، جیتنا، بازی لے جانا۔
ماند ہونا: رنگ پھیکا ہونا۔
ملنا: (۱) کسی چیز کے رنگ کا بے رونق ہو جانا (۲)
رکھنا، اثر جانا، رہنا، وقعت جاتی رہنا۔
مٹی ہونا: آب و تاب نہ رہنا۔

- فحل: مذکر؛ رُو سا کے عیش منانے کا مکان۔
- بلنا: طرز بلنا، رنگت کا مشابہ ہونا۔
- میں بھنگ: خوشی میں بے لطفی۔
- میں ڈوبنا: (۱) رنگ میں شرابور ہونا، عیش و نشاط کا جوش ہونا (۲) کسی کے طرز پر ہونا۔
- نکالنا: (۱) خوش نما ہو جانا، خوب صورت ہو جانا۔ (۲) طرز نکالنا (۳) کسی دوسری چیز سے رنگ پیدا کرنا۔
- نکھرنا: رنگ کا صاف ہونا،
- ولو: (ف) مذکر؛ دکھائیٹا، گزوفرا، شان و شوکت رونق۔
- وروغن: مذکر؛ دھنیت لیے ہوئے رنگینی اور چمک ہونا: انداز ہونا، طرز ہونا۔
- ہے: کیا کہنا کی جگہ، تعریف کرنے کے لیے۔
- رنگ: RING (انگ) مذکر؛ (۱) چھلا (۲) حلقہ انگوٹھی، مٹھین کی چوڑی۔
- لیڈر: LEADER (انگ) مذکر؛ سرکردہ، سرغنہ
- ماسٹر: MASTER (انگ) مذکر؛ سرکس میں جانوروں کے سدھانے کا استاد۔
- رنگا رنگ: رنگ برنگ، مختلف رنگوں کا، طرح طرح کا۔
- ہونا: طرح طرح کا رنگین ہونا۔
- رنگا کے آنا: دعو، کوئی خصوصیت رکھنا۔
- رنگا ہوا: (۱) رنگ کیا ہوا (۲) دکھائیٹا، عارف کامل ہونا۔
- رسیار: دکھائیٹا، ظاہر اچھا اور باطن خراب۔
- رنگت: مؤنث؛ (۱) چہرے کا رنگ، کپڑے کے اوپر کا رنگ (۲) روپ (۳) حالت، کیفیت۔
- اتارنا: رنگت کی نقل کرنا۔
- آنا: رنگ پکڑنا، رنگ چڑھنا۔
- اڑ جانا: رنگ اڑ جانا۔
- بدلنا: رنگ بدلنا۔
- چھوٹنا: رنگ اڑنا۔
- سفید ہونا: (۱) رنگ سفید ہونا (۲) چہرے کا رنگ سفید ہونا، پریشانی اور اضطراب ظاہر ہونا۔
- غیر ہونا: شرم یا ندامت سے چہرے کا رنگ بدل جانا
- گھلنا: چہرے کے رنگ کا بارونچ ہو جانا۔
- لانا: رنگ ظاہر کرنا۔
- نکلنا: چہرے کا رنگ نمایاں ہونا۔
- رنگترا: مذکر؛ سنگترا، سنتر، ایک قسم کی بڑی اور میٹھی نارنجی۔
- رنگروٹ: (انگ) مذکر؛ تیا سپاہی، نیا بھرتی کیا ہوا۔
- رنگریز: کپڑے رنگنے والا۔
- رنگن: مذکر؛ سبز پتے کا عرق۔
- رنگنا: (۱) رنگ چڑھانا، رنگین کرنا (کسی چیز کو) (۲) (مجازاً) بنانا۔
- رنگوانی: مؤنث؛ رنگائی، رنگنے کی اجرت۔
- رنگیلا: مذکر؛ بانکا، چھیلا، چھیلا چھیلا۔
- رنگین: (ف) (۱) رنگ دار (۲) رنگیلا (۳) خوش طبع، زندہ دل (۴) آراستہ (۵) رنگ برنگ، گونا گوں (۶) سوسا سرخ (۷) دل پسند، خوش آئند۔
- آدا: (ف) طرح دار۔
- زبان: (ف) شوخ زبان۔
- سخنی: (ف) مؤنث؛ خوش بیانی۔
- مزاج: (ف) خوش طبع، ہنس مکھ، زندہ دل۔
- رنگینی: (ف) مؤنث؛ رنگین ہونا، کلام میں شوخی ہونا۔
- سخن: (امانت کے ساتھ) مؤنث؛ کلام کا رنگین ہونا۔
- رنگینیت: (عم) مؤنث؛ دیکھو رنگینی۔
- رنگواس: (۵) مذکر؛ راج محل۔

۹-۰

- رو: (ف) مؤنث؛ (۱) پانی کا بہاؤ، دھارا، (۲) جوش دلولہ (۳) بھیر، انبوہ (۴) دھن، خیال۔
- رُو/روے: (ف) مذکر؛ (۱) چہرہ، منہ (مجازاً) رکھنا

- (۲) مؤنث؛ سبب، وجہ، باعث، بنیاد (۳) کنایتاً؛ سبط، بساط، تختہ (۴) توحید، میلان۔
 — براہ: (ف) اصلاح کیا ہوا، درست۔
 — برؤ: (ف) مقابل، سامنے، آگے (آنا، کرنا، لانا ہونا کے ساتھ)۔
 — بہجعت: (ف) صحت کی طرف مائل۔
 — بَقْفَتَا: (ف) سر جھکائے ہوئے۔
 — پاک: (ف) مذکر؛ رومال۔
 — پوشتی: (ف) مؤنث؛ غائب رہنا۔
 — داد/ رویداد: (ف) مؤنث؛ (۱) ماجبرا، احوال، کیفیت، سرگزشت (۲) عدالت یا جلسے کی کارروائی۔
 — دار: وجہ۔ شکیل،
 — داری: (ف) مؤنث؛ وجاہت، لحاظ، پاس۔
 — قدرؤ: (دہلی) منہ پر، علانیہ، کسی کے رو بہ رو۔
 — رعایت: مؤنث؛ طرف داری، لحاظ۔
 — سیاہ/ سیب: (ف) (۱) کالے منہ کا (۲) کھلنا، گہ کار ذلیل، کم بخت (۳) آسمان کی صفت۔
 — سیاہی: (ف) مؤنث؛ رکنیتاً، ذلت، رسوائی، بدنامی۔
 — شناس: (ف) جان پہچان، واقع کار۔
 — شناسی: (ف) مؤنث؛ واقف کاری، صاحب سلامت کار: مؤنث؛ مکان کا اگلا حصہ، سامنے کا حصہ۔
 — کش: (ف) مقابل، حریف۔
 — گرداں: مذکر؛ (۱) بے دارغ (۲) کپڑا جس کا رُو اور پشت یک ساں ہو (۳) منہ پھیرنے والا، ناراض ناخوش، منحرف۔
 — گرداں کرنا: رُخ پلٹنا، نیچے کارُخ اُوپر کرنا، اُلٹ دینا، پلٹ دینا۔
 — نہائی: مؤنث؛ وہ نقد رقم جو دو لکھا کے رشتے دار رُہن کا منہ دیکھ کر دیتے ہیں (۲) نذر، منہ دکھائی۔
 — یش بیس و محاش میروس: (ف) مقولہ؛ صورت سے حال ظاہر ہے « صورت سوال » کی جگہ مستعمل ہے۔
- رُو کے زمین: زمین کی سطح۔
 — سخن: (ف) مذکر؛ خطاب، اشارہ۔
 — رو: رونا سے امر کا صیغہ۔
 — رُو البشا ہو جانا: ناراض ہو جانا، رونے کے قریب ہونا۔
 — رُو بلیٹھنا: ناامید ہونا، کھو بیٹھنا، ضائع کر دینا۔
 — پڑنا: رونے لگنا۔
 — پیٹ کر کیٹھ رہنا: صبر کر لینا۔
 — دینا: رونا، عاجز ہونا، دب جانا، ہمت ہار جانا۔
 — اپنی دفعہ بگڑنے لگنا، خفا ہونے لگنا، ہار ماننا، برداشت نہ کر سکتا۔
 — رُو کے: نہایت وقت سے، پریشک۔
 — رو کے کاٹنا: مصیبت کے ساتھ گزارنا، پریشک اوقات بسر کرنا۔
 — کے دل خالی کرنا: رو کر دل کی بھر اس نکالنا۔
 — کر اٹھنا کے اٹھنا: نہایت رنج و یاس میں رو دینا اور اٹھ کھڑے ہونا۔
 — رونا ڈھونا: رونا۔
 — رُوئی پیشانی: رُوئی صورت۔
 — صورت: رکنیتاً، ہر وقت رنجیدہ اور مگول رہنے والا، رُوئی صورت والا۔
 — رُو تے پھرنا: دُکھ کہتے پھرنا، فریاد کرنا۔
 — ہی جہنم گزرتا: تمام عمر روتے کھتا۔
 — رُوا: مذکر؛ (۱) سُوچی (۲) بارود کا دانہ (۳) چاندی بسونے کا ذرہ (۴) ریت کا ذرہ (۵) معری یا گمی وغیرہ کا دانہ، (۶) پتھر جو پازیب میں آواز کے واسطے ڈالتے ہیں
 — رُو سے دار: دانے دار۔ خستہ۔
 — رُوا: (ف)؛ جائز، مباح۔
 — دار: (ف) کسی فعل کا مباح اور جائز رکھنے والا۔
 — داری: مؤنث؛ کسی فعل کا رعایت سے جائز رکھنا۔
 — ہونا: کام چلنا، کام کا درست ہونا، جائز ہونا۔
 — رُواج: (ع) مذکر؛ عام دستور، معمول، چلن۔

- روایت : (۱) ، مؤنث ؛ (۲) کسی کی بات کی نقل ، کسی کی بات (۲) بیان ، اظہار ، ذکر ، حکایت ۔
- روایتی : جس کی روایت قائم ہو چکی ہو ۔
- روپاہ / روپہ : (۱) مؤنث ؛ (۲) لومڑی (۳) رکنا پٹا ؛ بزدل ، مکار ۔
- بازی / روپاہی ، (۱) مؤنث ؛ مکاری ، فریب دہی ، قریبی فطرت ۔
- روپکار : (۱) مؤنث ؛ تحریری حکم ، پروانہ ۔
- روپکاری : مؤنث ؛ مقدمے کی پیشی ، مقدمے کی سماعت ۔
- رُو بُوٹ : ROBOT (چیک ، مذکر ؛ (۱) کل پُرزوں سے بنا ہوا مصنوعی آدمی جو بعض حرکتیں ان اوزن کی طرح کرتا ہے ، (۲) مشینی آدمی (۳) مصنوعی آدمی ۔
- روپ : مذکر ؛ (۱) صورت ، شکل ، مجیس ، وضع ، ڈھنگ (۲) حسن ، آب و تاب (۳) جلوہ ، تجلی (۴) تصویر (۵) سوانگ (۶) چاندی ، روپا کا مخفف (۷) طرز ۔
- بدلنا : مجیس بدلنا ، صورت بدلنا ۔
- بگاڑنا : بد صورت کرنا ، بے رونق کرنا ۔
- بنانا / بھرننا : اپنی اصل صورت کے خلاف دوسری شکل میں نمایاں ہونا ، صورت اور وضع کا بدلنا ۔
- پیر ہونا : رونق پر ہونا ۔
- دکھانا : صورت دکھانا ۔
- رگھنا : آب و تاب رکھنا ۔
- لانا : مختلف وضع میں ظاہر ہونا ۔
- نکالنا : نیکرنا ، پھلنا ، آب و تاب ظاہر ہونا ۔
- نکلنا : رنگ دردغنی ، آب و تاب ، چمک دمک ظاہر ہونا ۔
- روپا : (۱) چھوٹا (۲) چاندی ، چاندی کی طرح سفید ۔
- روپلی : مؤنث ؛ (تخیر سے) روپیا ۔
- روپ وئی : (۵) مؤنث ؛ خوب صورت (عورت) روپہلا : مذکر ؛ چاندی کے رنگ کا ۔
- رواجی : رسمی ، معمولی ۔
- رواوی : مؤنث ؛ جلدی ، جاگم جاگ ، سرسری ۔
- رواسا / روآلسا : مذکر ؛ رونے کے قریب ، ناراض ، رنجیدہ ۔
- رواق / رواق : (۱) مذکر ؛ مکان کا چھتھا ، سائے بان ۔ محل ، ایوان ۔
- رواقیت : (۱) مؤنث ؛ (۲) قدیم یونان کا ایک کتب خانہ جس میں خیر حیات کا مقصد تھا اور ترک لذات پر زور دیتے تھے (۳) ترک لذات ، زمہبائیت ۔
- روال : (۱) جاری ، بہتا ہوا پانی ، چلنے والا (۲) نفسی ناطق ، جان ، روح (۳) تیز (۴) مہما ہوا ، مشت پر چڑھا ہوا ، (۵) موجودہ ، فی الحال ۔
- پڑھنا : بغیر بچے لگائے پڑھنا ، بغیر معانی عبارت پڑھنا ۔
- ڈوال : دوڑ کر ، خراب خستہ ۔
- ڈوال پھرنا : (۱) مارا مارا پھرنا ، آوارہ پھرنا ۔
- کرنا : (۱) جاری کرنا (۲) صاف کرنا ، مشق کرنا (۳) تیز کرنا ، ہاڑھ رکھنا (۴) چلانا ، پھیرنا ۔
- روآل : مذکر ؛ (۱) روگنا ، مسامات کے باریک بال ، (۲) پیشینے کے چھوٹے چھوٹے ریشے (۳) تزکاری یا پھل کے اوپر کا باریک کاٹنا (۴) پرندوں کے بچوں کے باریک بال ۔
- بدلنا : جانوروں کا پرانے بال جھاڑ کر نئے بال نکالنا ۔
- روآل : ہر ایک روگنا ۔
- روآل کا پٹنا : نہایت خوف سے جسم کے ہر بال کا پٹنا ۔
- روآگی : مؤنث ؛ بھیٹا ، روانہ ہونا ، ارسال ، چالان ۔
- روانہ کرنا : بھیٹنا ، رخصت کرنا ۔
- ہو چکنا : مر جانا ، انتقال کرنا ،
- روانی : (۱) مؤنث ؛ بہاؤ ، تیزی ۔
- روایات : مذکر ، مؤنث ؛ جمع روایت کی ۔

— روئے : (۱) اراحد جمع روپیا کی۔
 — کو روپیا نہ سمجھنا، روپے کی قدر نہ کرنا، روپے کی حقیقت نہ جاننا۔
 — گاڑنا : روپیا جمع کرنا۔
 — والا : مال دار، دولت مند۔
 — روپیا / روپیا : مذکر، (نئے) نو پیسوں کا سکہ۔
 — اٹھانا : دولت خرچ کرنا۔
 — اڑانا : دولت ضائع کرنا، اسراف کرنا۔
 — بھٹانا / ٹھڈوانا / خردہ کرنا : روپے کو پیسوں یا ریڑ گھڑی سے بدلنا۔
 — پڑنا : روپیا دیا جانا۔
 — پھینسا : مذکر، دھن دولت۔
 — ٹھیکری کرنا / ٹکڑی کر دینا : روپے کو ٹھیکری کی طرح بے پروائی سے اڑانا، بے دریغ روپیا صرف کرنا۔
 — جوڑنا : دولت جمع کرنا۔
 — کو روپیا نہ سمجھنا : روپے کی حقیقت نہ جاننا، بے دردی سے خرچ کرنا۔
 — ہاتھ کا میل ہے : روپیا کو کم وقعت سمجھنا اور اس کے حصول کو آسان جاننا۔
 — روتی پیشانی / صورت : ہر وقت رنجیدہ اور ملول رہنے والا۔
 — روٹ : مذکر، بڑی روٹی، موٹی روٹی، ہاتھی کی خوراک کی روٹی۔
 — بوٹ : نیاز کے لیے پکائی گئی بڑی روٹی، اور پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔
 — روٹ : ROUTE (راہ) مذکر، راستہ، راہ۔
 — روٹی : مؤنث، (۱) نان (۲) مسلمان مردے کے چہلم کا کھانا (۳) غذا، رزق۔
 — اڑ جانا : رزق ناپید ہونا۔
 — بنانا : روٹی پکانا، رسوئی کرنا۔
 — چھڑنا : روٹی پر روغن لگانا۔
 — دال : دکھائیٹا، نان نفقہ، معمولی غذا۔

— دال سے خوش : (کنایتاً)؛ آسودہ، کسی کا محتاج نہیں۔
 — دینا : (۱) برادری کو کسی تقریب پر کھانا کھلانا (۲) کھانا کھلانا، پرورش کرنا۔
 — ڈالنا : روٹی پکانے کے لیے توے پر ڈالنا۔
 — سے لگنا : کہیں سے کسی کا روزمرہ رزق مقرر ہو جانا۔
 — کا مارا : مذکر؛ بھوکا، کنگال، قحط زدہ۔
 — کپڑا : نان و نفقہ، کھانے اور کپڑے کا خرچ۔
 — کپڑے کی خبر لینا : خوراک اور پوشاک کی خبر گیری کرنا۔
 — کمانا : رزق حاصل کرنا۔
 — کوڑونا : رزق نہ ملنے کا (فسوس ہونا، رزق کی تلاش میں پھرنا۔
 — والا : نان بانی، روٹی پکانے والا، روٹی بیچنے والا۔
 — وہاں کھاؤ تو پانی یہاں پیو : جس قدر جلد ممکن ہو سکے چلے آؤ۔
 — روٹیاں توڑنا : دکھائیٹا؛ مفت کی روٹیاں کھانا، دوسرے کو کھانا۔
 — روٹیاں لگنا : (۱) تنور میں روٹیاں پکنا (۲) کنایتاً شامت آنا، دبا آنا (۳) سابقہ حیثیت کو بھول جانا، اترانا۔
 — روٹیوں پر پڑنا : دوسرے کی روٹیوں پر گزر کرنا۔
 — کا مارا : مذکر؛ بھوکا، کنگال، قحط زدہ۔
 — روٹھا : مذکر؛ خفا، ناراض۔
 — راکھی : مؤنث؛ خلی، رنجیدگی، شکر رنجی۔
 — روٹھنا : (۱) نضا ہونا، بگڑنا، آزدہ ہونا (۲) چھوٹے کا بڑے سے آزدہ ہونا۔
 — روٹھے چھینچھے : (دہلی) روٹھے پر، روٹھنے کے بعد۔
 — روجی / روجیاں : مؤنث؛ پرندوں کے پردوں میں پیدا ہونے والے کیرے۔

— **رُواں**: برافانفت کے ساتھ، مَوْتَتْ؛ (۱) جانے والی روح (۲) اہل
 چیز و وہ شخص جس کی ذات پر کسی کام کا دار و مدار ہو۔
 — **قبض کرنا**: موت کے فرشتے کا روح نکالنا۔
 — **قبض ہونا**: رکنا، بہت خوف ہونا، ڈر لگنا۔
 — **کا پینا**: خوف سے جان کا لرزنا۔
 — **کھینا**: جان نکلنا۔
 — **کھیننا**: عطر کھیننا، سنت نکالنا۔
 — **گھبرانا**: بہت زیادہ گھبراہٹ ہونا۔
 — **نیکالنا**: (۱) سنت نکالنا جو نیکالنا (۲) مار ڈالنا،
 روح قبض کرنا۔
 — **ہوا ہونا**: اکتائیا، خوف زدہ ہونا۔
 — **رُو حانی**: (۱) روح سے نسبت رکھنے والا، غیر جسمانی،
 پاک صاف، مقدس۔
 — **رُو حانیت**: مَوْتَتْ؛ روحی قوت۔
 — **روحی فداک**: (۱) میری روح تم پر فدا ہو، خوشی
 کے اظہار کے لیے کہا جانے والا کلمہ۔
 — **رُو د**: (۱) مذکر؛ ندی، نہر، نالا۔
 — **بار**: (۱) جس مقام پر بہت سی نہریں
 جاری ہوں (۲) بڑی نہر۔
 — **رُوڈ**: ROAD (انگ) مَوْتَتْ؛ سڑک، راستہ۔
 — **رُوڈا**: مذکر؛ (۱) رینٹ کا چھوٹا ٹکڑا (۲) قدیم باشندہ۔
 — **انکانا**: روک پیدا کرنا، رخنہ ڈالنا۔
 — **رُوڑی**: مَوْتَتْ، کنکر پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔
 — **رُوڑھا**: مذکر؛ (۱) کھڑا، وہ چیز جس میں لوح اور نرئی
 نہ ہوں، نام دار (۲) وہ بچے جن کی صمدت پر سوراخ پائا جائے۔
 — **پین**: مذکر؛ کھردرا پن۔
 — **رُوڑھی باتیں**: خشک باتیں جن میں شوخی نہ ہو، بوڑھوں
 کی سی باتیں۔
 — **روز**: مذکر؛ دن، وقت، زمانہ (۲) ہر روز، آئے
 دن، ہمیشہ (۳) روزینہ (۴) انگ ROSE
 گلاب کا پھول۔

— **رُوح**: (۱) مَوْتَتْ؛ (۲) جان (۳) علم، طب، دل سے
 پیدا ہونے والی لطیف صہاپ (۴) ست، جوہر (۵) دل
 اندرونی خواہش، ریتت۔
 — **آنا**: روح پڑ جانا۔
 — **انگنا**: دم انگنا۔
 — **انزا / پرور**: (۱) فرحت بخشنے والا، تازگی
 بخشنے والا۔
 — **القدس**: (۱) رُو حَلُّوس (۲) مذکر؛ جبریل۔
 — **الامین**: (۱) رُو حَلُّوبین (۲) مذکر؛ جبریل کا لقب۔
 — **اللہ**: (۱) رُو حَلُّو (۲) مذکر؛ حضرت عیسیٰ کا لقب۔
 — **بھاگنا**: متنفر ہونا۔
 — **بھنگنا**: (۱) روح کا مشتاق ہونا، کسی سے ملنے یا کسی
 چیز کے دیکھنے کو بہت جی چاہنا (۲) جان کا جسم سے
 نکلنے کے بعد گم راہ ہونا۔
 — **پرواز کرنا**: جان نکلنا۔
 — **پڑنا**: جسم میں جان پڑنا۔
 — **پھونکنا**: (۱) روح کا بے تاب ہونا (۲) نہایت تفریح
 ہونا۔
 — **پگھل جانا / تحلیل ہو جانا**: قوت جاتی رہنا۔
 — **پھونکنا**: جان ڈالنا۔
 — **تازہ کرنا**: خوش کرنا۔
 — **تحلیل کرنا**: قوت سلب کرنا۔
 — **ترستا**: روح کا خواہش مند ہونا، کسی چیز کے لیے
 بہت بے تابی ظاہر کرنا۔
 — **تڑپنا**: روح کا بے قرار ہونا۔
 — **تھرا نا**: خوف یا رعب سے جان کل جانا۔
 — **خوش ہونا**: میت کی روح کا محفوظ ہونا (زندوں
 کی نذر نیاز اور کار خیر سے)۔
 — **دوڑنا**: رکنا، کسی چیز کا طلب گار ہونا، خواہش مند
 ہونا۔
 — **ڈالنا**: جان ڈالنا۔

— افزوں: (ف) روز بڑھنے والی چیز۔
 — روزانہ: (ر) (۱) روزینہ (۲) ہر روز، ہمیشہ۔
 — بد دکھانا: (اضافت کے ساتھ) دکھائیاً، مصیبت میں ڈالنا۔
 — بروز: (ف) مسلسل، پے درپے۔
 — جزا: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ اعمال کے بدلے لے کا دن، قیامت کا دن۔
 — قیامت/حساب/حشر: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ قیامت کا دن۔
 — روز: ہر روز۔
 — روشن: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ دن دھاڑے صبح۔
 — سیاہ/رسیہ: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ مصیبت کا دن، ادا اور بد اقبال کا زمانہ۔
 — رسیہ لانا: آفت میں ڈالنا، مصیبت میں مبتلا کرنا۔
 — شمار: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ روز قیامت۔
 — قیام/قیامت: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ قیامت کا دن۔
 — کا قیعتہ: ہر گھڑی کا جھگڑا۔
 — کتوال کھودنا، روز پانی پینا، دکھائیاً؛ روز کمانا اور کھانا۔
 — گار: (ف) مذکر؛ (۱) زمانہ، جہاں (۲) توڑی چاکری، پیشہ مشغلہ۔
 — گار کرنا: کوئی پیشہ یا تجارت کرنا، توڑی کرنا۔
 — محشر: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ روز قیامت۔
 — مڑھ: (۱) ہر روز، بلاناغہ (۲) محاورات، وترتیب الفاظ مطابقتی اہل زبان، بول چال، اہل زبان۔
 — نامہ: (ف) مذکر؛ (۱) روزنامہ، ہر روز کا حال یا حساب لکھنے کا قاعدہ (۲) اخبار (۳) پٹواری کا روزنامہ (۴) پولیس کی روزانہ کی رپورٹ۔
 — نخست: (اضافت کے ساتھ) (ف) مخلوقات کی پیدائش کا پہلا دن۔
 — و شیب: (ف) مذکر؛ رات دن۔

— یوزن: (ف)۔ مذکر (۱) چمچ، سوراخ، شگاف (۲) روشن دان۔
 — روزہ: (ف) مذکر؛ (۱) صبح صادق سے لے کر شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا (۲) فاقہ۔
 — اچھلنا/چڑھنا: روزے میں جھنجھلا کر باتیں کرنا۔
 — افطار کرنا: روزہ کھولنا۔
 — بھلانا: کسی شے میں روزے کا وقت کاٹنا۔
 — روزے پر روزہ رکھنا: فاقے پر ناکرنا۔
 — توڑنا: ایسا کام کرنا جس سے روزہ باقی نہ رہے۔
 — چڑھنا/جھکتا: روزہ اچھلنا۔
 — چھڑانے گئے تھے، نماز گلے پڑی: (مثل)؛ ایک آفت سے بچنے کی فکر میں دوسری آفت سر پہڑے۔ مثل یوں بھی بولی جاتی ہے۔ رگئے تھے روزہ بھٹوانے اٹے گلے پڑی نماز۔
 — روزہ حوالہ/خور: (ف) رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے والا مسلمان۔
 — دار: (ف) روزہ رکھنے والا۔
 — روزے سے ہونا: روزے دار ہونا۔
 — روزہ کشائی: موت؛ (۱) دہلی، افطاری (۲) روزہ کھلوانے کی تقریب۔
 — کھانا: ماہ صیام میں روزہ چھوڑ دینا۔
 — کھولنا: (۱) روزہ افطار کرنا (۲) دکھائیاً؛ عہد توڑنا۔
 — روزہ ہریم: (ف) (۱) حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے روزے کا روزہ اور ترک کلام (۲) دکھائیاً، خاموشی۔
 — روزے خور: رمضان میں روزے نہ رکھنے والا۔
 — روزی: (ف) موت؛ (۱) رزق، حصہ، نصیب (۲) روزگار، ملازمت۔
 — پرگردش آنا: ملازمت چھوٹ جانا۔
 — جاری رکھنا: رزق کا سلسلہ قائم رکھنا۔
 — دینا: رزق بہم پہنچانا۔
 — رسال: (ف) رزق دینے والا، پروردگار۔

— کرنا : (روا، بکھنوں، دینا، نصیب کرنا۔
 — کھلنا : رزق کا ذریعہ پیدا ہونا۔
 — کی مار : رزق کا تکلیف۔
 — روزِ پیمہ : (ف) روزِ مزہ کا خرچ، یومیہ، ولیفہ، پنشن،
 — آتنخواہ، مزدوری، اجرت۔
 — روستائی : (ف) مذکر؛ گاؤں کا رہنے والا، دہقان۔
 — رُوسٹ : ROAST (انگ) اُبے ہوئے اور بھنے
 ہوئے گوشت کا بڑا ٹکڑا۔
 — رُوش : (ف) مؤنث؛ (۱) طور، طریق، تراش تراش،
 ڈھنگ، وضع (۲) باغ کی پٹری۔
 — بگڑنا : وضع بگڑنا، انداز بگڑنا۔
 — رُوشن : (ف) (۱) چمکتا ہوا، صاف (۲) کشادہ، ظاہر،
 عیاں، واضح۔
 — تاب : (ف) بہت چمکنے والا۔
 — چہیں : (ف) دکھنا، خوب صورت۔
 — چوکی : مؤنث؛ ایک قسم کے باجے والوں کی چوکی
 — دان : (ف) مذکر؛ دھواں نکلنے یا روشنی آنے کا روکن۔
 — دل : (ف) عقل مند، زود فہم، عارف۔
 — دماغ : (۱) عالی دماغ (۲) مذکر؛ ناس، لباس۔
 — سواد : (ف) خوش ذلیس۔
 — ضمیر : (ف) روشن دل، عقل مند، اللہ والا۔
 — کرنا : (۱) جلانا (حسراخ) (۲) چمکانا (۳) ظاہر
 کرنا۔
 — گہر : (ف) نیک طینت، شریف۔
 — نہاد : (ف) نیک اصل، نیک طینت۔
 — ہونا : ظاہر ہونا، کھل جانا، نتیجہ نکل آنا،
 — روشنائی : (ف) مؤنث؛ بکھنے کی سیاہی، چھلپنے کی
 سیاہی۔
 — اُٹھانا : روشنائی جذب کرنا۔
 — روشنی : (ف) مؤنث؛ (۱) نور، چمک دمک (۲) دکھنا،
 رونق، آبادی (۳) نور چشم۔

— اُداس ہونا : روشنی دہی ہونا، روشنی پھینک پڑنا۔
 — پڑنا : چمک پڑنا، کسی چمپی ہوئی بات کا ظاہر ہونا۔
 — دکھانا : شمع دکھانا۔
 — ڈالنا : (۱) چمک ڈالنا (۲) کسی غصی امر کو واضح کرنا۔
 — طبع : (اضافت کے ساتھ) (ف) مؤنث؛ ذہانت، لطافت۔
 — گل ہونا : چراغ یا شمع کا گل ہونا، بھج جانا۔
 — رُوضہ : (جمع روض و ریاض) مذکر؛ (۱) باغ (۲) گنبد
 والا، مقبرہ۔
 — خوال : (ف) منبر، بیٹھ کر معرکہ کر بلا اور مصائب اہل
 بیت کا ذکر کرنے والا۔
 — خوانی : مؤنث؛ اہل بیت کے مصائب اور واقعہ کر بلا
 کا پڑھنا۔
 — روضہٴ رسول : (ف) مذکر؛ رکنا، بہشت۔
 — روغن : (ف) مذکر؛ (۱) تیل، گھی (۲) وارنش، لک (۳) چمک
 دمک، آب و تاب۔
 — اڑ جانا : پائش جاتی رہنا، روغن والی چمک جاتی رہنا،
 چہرے سے شباب کی چمک جاتی رہنا۔
 — پانی میں ڈالنا : پانی میں تیل ڈالنا، بارش بند کرنے
 کا ٹوٹکا کرنا۔
 — پھیرنا : پائش کرنا، چمکانا۔
 — تلخ : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ کڑوا تیل۔
 — چڑھانا : چمک دار کرنا، چلا دینا، ظاہری حالت،
 اُجلی کر دینا۔
 — دار : روغن چڑھا ہوا طرف۔
 — زرد : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ گھی۔
 — سیاہ : (ایضاً) مذکر؛ لالین میں جلانے کا تیل
 منی کا تیل۔
 — فروش : (ف) تیل بیچنے والا۔
 — تازہ طبا : (اضافت کے ساتھ) (۱) خوشامد کرنا،
 دکھنا، چمکنی پٹری باتیں بنا کر دم دینا، مکھن لگانا۔
 — کھینچنا : (لازم) تیل نکالنا۔

- پھیکا: مذکر؛ رکتائیا آزرده، بدمزہ۔
- خواب: صاف خواب، کسی کام سے صاف انکار۔
- سواکھا: صفت؛ بے مزہ، خراب، بے سائل کا۔
- سواکھا کھا کر گزارہ کرنا: تنگ دستی کی حالت میں بسر کرنا۔
- کھانا: صرف روٹی کھانا۔
- ہونا: بدمزاج ہونا، کج خلق ہونا، اکھڑ ہونا، بے رُخ ہونا، خفا ہونا۔
- روکھی باتیں: رنجش کی باتیں۔
- روکھی سواکھی: مؤنث؛ بری اور خراب غذا، معمولی غذا۔
- روگ: مذکر؛ (۱) دکھ درد، بیماری، مرض (۲) رکتائیا، وبال جنمال، خلاف طبع چیز (۳) جھگڑا، فتنہ، فساد (۴) مشکل دقت تکلیف (۵) عیب، نقص (۶) عذاب جاں، سوہان روح۔
- آنا: جانفوں میں بیماری پھیلنا۔
- بسانا: عموماً اپنے پیچھے جھگڑا لگا لینا (۲) دشمن بنا لینا (۳) بری عادت ڈال لینا۔
- پالنا: روگ بسانا (۱) کوئی مرض پیچھے لگا لینا (رکتائیا) (۲) جھگڑا پیچھے لگا لینا۔
- پیدا ہونا: آزاد پیدا ہونا۔
- راج: مذکر؛ دیکھو راج روگ۔
- کاٹنا: جھگڑا چکانا۔ تفسیر پاک کرنا، دکھ دینے والی چیز کو دغ کرنا۔
- کاٹھر کی جڑ: بیماری کا سبب۔
- لانا: فیل لانا، جھگڑا کرنا۔
- لگانا: (۱) کوئی مرض پیچھے لگا لینا (۲) کوئی ناپسندیدہ امر اختیار کرنا۔
- لگنا: (۱) کسی بیماری کا سر ہوجانا (۲) جھگڑا پیچھے پڑنا (۳) رکت پڑنا، عادت ہونا۔
- روگی / روگیلا: صفت، مستقل بیمار رہنے والا، دائم المرض (۱) جھگڑا (۲) کوڑھی۔

- گر: (رف) تیلی۔
- روغنی: (رف) (۱) گھی ڈال کر گوند سے ہو آٹے کی روٹی۔ (۲) وارنش کیا ہوا، پالش کیا ہوا (۳) (لکھنؤ) مذکر؛ لڑائی کا مرغ (مزدوک)۔
- روٹی: مؤنث؛ گھی کے ساتھ گوند سے ہوئے آٹے کی روٹی
- روگ: مؤنث؛ آڑ، احاطہ بندی، بسند، ممانعت، مزاحمت، انکاؤ۔
- تھام: مؤنث؛ (۱) انداز، کوئی معاملہ بڑھنے سے روکنے کی تدبیر بیماری نہ بڑھنے کی تدبیر (۲) روگ ٹوک
- ٹوک: مؤنث؛ ممانعت، مزاحمت، پوچھ گچھ۔
- رکھنا: شہر لینا، باز رکھنا، پکڑ رکھنا، کسی چیز کا دنیا یا بیچنا، ملتوی رکھنا۔
- روگ کے: شہر اٹھرا کے، احتیاط سے۔
- روکنا: (۱) باز رکھنا (کسی نفل سے) منع کرنا (۲) کسی خیال سے باز رکھنا (۳) راستہ بند کرنا (۴) ممانعت، ٹھہرانا (۵) منع کرنا، بات کا کاٹنا (۶) پردہ کرنا، احاطہ کرنا (۷) نہ دینا، بچاؤ کرنا، وار جانا (۸) قبضہ کرنا (۹) دیر میں دینا (۱۰) الجھانا (۱۱) حفاظت کرنا (۱۲) چھیڑنا، ہنسی کرنا (۱۳) ساکن کرنا، حرکت نہ کرنے دینا (۱۴) مقرر کرنا، نسبت کرنا، (۱۵) معاملہ قابو سے نہ جانے دینا (۱۶) سنبھالنا (۱۷) گھیر لینا (۱۸) پردہ ڈالنا، چھپانا (۱۹) حریف کی ضرب کو کسی چیز پر لینا۔
- روگڑ: مؤنث؛ (۱) روپیا پسیا، نقد، دھن دولت (۲) تحویل نقد روپیا۔
- پکری: مؤنث؛ نقد فروخت۔
- پھی: مؤنث؛ نقدی کے حساب کی کتاب۔
- روگڑیا: دہندہ، مذکر؛ خواہی، تحویل دار۔
- روکھا: مذکر؛ (۱) خشک، سواکھا (۲) سادہ (۳) بے کیف، بے مزہ (۴) پھیکا سائل (نمک کے بغیر) (۵) اکھڑ، ترش رو، ناخوش (۶) بدخلق، بڑے اخلاق کار (۷) بے گھی کا (۸) وہ چیز جو کسی چیز کے بغیر تنہا کھائی جائے

(۱۲) انگریزی رسم خط۔

ROMAN CATHOLIC

رُومَن کیتھولک

(انگ) رومی کلیسا کا پیرو، عیسائیوں کا ایک فرقہ۔

رُوتَا: (۵) مذکر؛ (۱) گنکھرونا جھانچھ کے اندر کے دانے،

(۲) بیاہ کے بعد بیوی کو اپنے گھر لانا (۳) بیاہ کے بعد

تیسری مرتبہ بیوی کو گھر میں لانا۔

رُوتَا: مذکر؛ (۱) عورتوں کا کام کاج کرنے والا دروازے

کا حاضر باش ملازم (۲) مال کی تعداد دلانے والے کا

نام، چیز کا نام اور محصول درج کیا ہوا کاغذ (۳) پروانہ

راہ داری۔

رُوتَا: (۱) آنسو بہانا (۲) شکایت کرنا، گل کرنا، چھیٹنا (۳) غم

کرنا، سوگ کرنا (۴) داویلا کرنا، فریاد کرنا، فغاں کرنا،

(۵) افسوس کرنا، کڑھنا (۶) ذکر پھیلنا، افواہ ہونا (۷)

پچھتانا (۸) صدمہ اٹھانا (۹) دکھ بیان کرنا (۱۰) بروٹنے

کی شکل بنانا (۱۱) دکھنا، بُری طرح بڑھنا، بد آوازی سے

بولنا، کلام کو بگاڑ کر بڑھنا (۱۲) مذکر؛ ٹیکوہ، لگ، صدمہ

(۱۳) مذکر؛ گریہ و زاری، ماتم، فوس، افسوس، رنج، (۱۴)

مذکر؛ بات بات پر رونے والا، وہ بچہ جو بہت روتا ہو۔

— آنا: دل بھر آنا، افسوس ہونا۔

— بند کرنا: اشک باری موقوف کرنا۔

— پڑنا: ماتم ہونا۔ کہرام مچنا۔

— پھیلنا: دا، گریہ و زاری کرنا، ماتم، کہرام، (۲) ماتم

کرنا۔

— چلا آنا: رونا آنا۔

— دھونا: مذکر؛ بہت رونا۔

— رُلانا: رونا دھونا، خود رونا اور دوسرے کو رُلانا۔

— رُونا: دکھ بیان کرنا، شکوہ کرنا۔

رُونی صورت: رُونی شکل، غم گین صورت۔

رُونے پر آنا: رونے پر آمادہ ہونا۔

— کاتار بانڈھنا: برابر روئے جانا۔

روئے کاتار توڑنا: رونا موقوف کرنا۔

رول: ROLL (انگ) مذکر؛ ناموں کی ترتیب

دار فہرست۔

رول: ROLE (انگ) مذکر، کردار، پارٹ۔

رول: RULE (انگ) مذکر؛ (۱) قاعدہ،

ضابطہ، دستور (۲) لکیریں کھینچنے کا گول ڈنڈا۔

رولر: ROLLER (انگ) بیلن، سرٹک کو

ہموار بنانے والا انجن۔

رول نمبر: ROLL NUMBER (انگ) مذکر؛

ناموں کی فہرست کا ترتیبی عدد۔

رولنا: (۱) پھلنا، جُدا کرنا، چھانٹنا (۲) جمع کرنا، گوبر اور

جواہر کو خاک سے اٹھانا (۳) فائدہ حاصل کرنا (۴)

صاف کرنا، ہموار کرنا، زندہ کرنا (۵) چن لینا۔

رُوم: (۵) مذکر؛ رُوال۔

رُوم: ROOM (انگ) مذکر؛ کرا۔

رُومال: (۱) مذکر؛ (۱) منہ پونچھنے کا کپڑا (۲) وہ شالی

اُونی یا سُوتی کپڑا جو ٹکونا اوڑھا جائے۔

— اوڑھنا: شالی رومال کا کندھا یا سر بھر ڈالنا۔

— پر رُومال بھگوننا: (کنیتاً) اس قدر رُونا کہ رومال تڑ

ہو جائیں۔

— جھلنا: کھیاں اڑانے یا ہوا دینے کے لیے رومال

چلاتا۔

رُومالی: موش؛ اُڑھنی، لڑکیوں کے اوڑھنے کا دوپٹا۔

(۲) میان کا کپڑا (۳) لگوٹ (۴) گوبند (۵) وہ رومال

جو عورتیں سر سے باندھ لیتی ہیں (۶) مگدڑ کی ایک قسم

کی دیرزش۔

— رُومالیاں: موش؛ بہت باریک رُومالیاں۔

رُومانیک: ROMANTIC (انگ)؛

رومانی۔

رُومانیت: موش؛ تخیل پرستی

رُومٹا: (عمو) دہلی، بدن کارونگٹا۔

رُومَن: ROMAN (انگ) (۱) روم کا رہنے والا۔

رُو ہٹا : ذکر : رونی کا بازار۔
 رُو بڑ : ذکر : (۱) موٹا دھاگا (۲) دکنایتا، بدصورت آدمی، بھڈا،
 (۳) پرلین کی مشین وغیرہ پونپھنے کا کپڑا۔
 رُو ہو : ذکر : ایک قسم کی پھلی۔
 رُوئی : مؤنث ؛ (۱) پنبہ صاف کی ہوئی کپاس (۲)
 ملائم، نرم۔
 رُوئنا : رونی کو تار تار کرنا انگلیوں سے۔
 رُوئنا / رُوئنا : رونی کو تانت سے صاف کرنا اور
 جسدا چھڑا کرنا۔
 کا پھیل : دھکی ہوئی رونی کا کسی قدر چوڑا کیا ہوا
 حصہ۔
 کا کالا : (۱) دھکی ہوئی کچھ اکٹھا رونی، (۲) نہایت
 ہلکی اور سبک چیز۔
 کی طرح توڑ ڈالنا : (عوا) ایک ایک عیب ظاہر کرنا،
 دھجیاں اڑا ڈالنا۔
 کی طرح دھنا : (کنایتاً) پڑے پڑے اڑانا،
 خوب مارنا، خوب پیٹنا۔
 روئیدگی : (ف) نہات کا نمز، اگنا۔
 روئیں : ذکر ؛ رویاں جمع رواد کی۔
 دار : روئیں والا۔
 کھڑے ہونا : روئنے کھڑے ہونا۔
 روئیں تن : (ف) ذکر ؛ (۱) کسی سخت دھات سا بنا ہوا بدن
 (۲) سفید یار کا لقب (۳) تیغ و تبر کا اثر نہ لینے والا۔
 رُوئی : (ع) ذکر ؛ (اصطلاح علم تائید) وہ اصلی حرف جس
 پر تائید کا دار ہوتا ہو۔
 رُویا : (ع) ذکر ؛ جو کچھ خواب میں دیکھا جائے، خواب۔
 رُویا سے صادق : ذکر ؛ سچا خواب۔
 رُویاں : ذکر ؛ دیکھو رواں۔
 میلا ہونا : صدر پہننا، رنگ ہونا، ملال ہونا۔
 روئیت : (ع) مؤنث ؛ دیدار، صحبت نظر آنا، نظارہ۔
 ہلال : (اضاف کے ساتھ ہف) مؤنث ؛ نئے مہینے کے

کی جگہ : رونے کا مقام، افسوس کرنے کا مقام۔
 روئے دینا : رو کر اظہار غم کرنا، خوشی کا اظہار کرنا،
 رُوئد : انگریزی راؤئڈ ROUND کا بڑا ہوا،
 سپاہیوں یا چوکیداروں کا گشت، رات کا گشت۔
 رُوئد ڈالنا : پامال کرنا، تلوؤں کے نیچے مثل ڈالنا۔
 رُوئدن : پامال کر دینا، پامالی، تلوؤں کے نیچے کھلا جانا۔
 میں آنا : پامال ہونا، رُوئد جانا۔
 رُوئدنا : پامال کرنا، پاؤں سے کھلنا۔
 رُوئ رُوئ : مؤنث ؛ سازشی کی آواز (۲) پختے کی رونے
 کی آواز۔
 رُوئق : (ع) مؤنث ؛ (۱) چمک، زیبائش، خوبی (۲) تازگی
 طراوت (۳) آبادی اچھل پھل، بہار، لطف، کیفیت۔
 آجاتا : آب و تاب پیدا ہوجانا، چمک ظاہر ہوجانا۔
 افرور : (ف) رونق بڑھانے والا۔
 افرور ہونا : (بھارڑا) تشریف لانا، کسی بڑے آدمی کا آنا۔
 افرار فرزا : (ف) رونق بڑھانے والا۔
 بازار : (اضاف کے ساتھ) (کنایتاً) مشہور۔
 دار : (ف) پُر لطف، پُر بہار، آراستہ، آب دار۔
 محفل : (اضاف کے ساتھ) (۱) (دہلی) ذکر ؛ (کنایتاً) ؛
 حقہ (۲) محفل کی بہار۔
 رُوئنگٹا : ذکر ؛ مسات کے باریک بال پوشینے کے چوٹے
 چھوٹے ریشے، داڑھی مونچھ کے آغاز کے مہین بال۔
 رُوئنگٹا ڈھارینا : سر پادعا میں جانا، بے حسد
 شکر گزار ہونا۔
 میلا ہونا : صدر پہننا۔
 روئنگٹے کھڑے ہونا : (۱) بدن کے روئیں کھڑے ہونا،
 (۲) (کنایتاً) ڈرنا، کانپنا۔
 نکلتا : روئیں نمودار ہونا۔
 روہالسا : ذکر ؛ آنکھوں میں آنسو بھرانے والا۔
 روہمت : مؤنث ؛ نرمی، سازگی، چہرے کی رونق۔
 پھر جانا : چہرے پر نرمی اور تازگی آجانا۔

چاند کا نظر آنا۔

رُویہ: مذکر؛ طریقہ، دستور، وضع، چال چلن، برتاؤ۔

۵-۵

رہ: (رف) مؤنث؛ راہ کا متعق۔

— گزری: راہ پر گزرنے والا۔

— نمول: (رف) ہادی، راہ دکھانے والا۔

— نورد/ردو: راہ نورد، راستہ چلنے والا۔

— وار: (را) گھوڑا (۲) اچھا گھوڑا۔

رہا: (رف) (۱) چھوٹا ہوا، نجات پاتے ہوئے (۲) (قانون)

وہ ملزم جو کافی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا

جائے۔

رہائی: (رف) مؤنث؛ حتمی، نجات، فراغت،

معافی۔

رہا جانا: چھوٹا جانا۔

رہا شہیا: مذکر؛ (۱) بچا کچھا (۲) رشتے ناتے کا حامی،

مددگار۔

رہا نہ جانا: برداشت نہ ہونا۔

رہائیش: مؤنث؛ (۱) قیام، بود باش، سکونت، گنجائش

(۲) ضبط، برداشت۔

رہبان: (ع) رجب راہب کی، مذکر؛ قوم نصارا کا زاہد۔

رہبائیت: (ع) مؤنث؛ دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے

پرہیزگاری اختیار کرنا، ترک دنیا۔

رہ پڑنا: قیام پذیر ہونا۔

رہٹ: مذکر؛ (۱) کنویں سے پانی نکالنے کا جسرج؛

(۲) ہنڈولا۔

رہٹا: مذکر؛ چرنا۔

رہٹی: مؤنث؛ (۱) چھوٹا رہٹ (۲) کچھ معمول باندھنا۔

— باندھنا: دھوا، معمول مقرر کرنا۔

— چلانا: (۱) قسط پر دینا، ایک رقم بدفعات ادا کرنا،

(۲) چرخی چلانا۔

رہ جانا: (۱) شہر جانا، رہ پڑنا (۲) ترک جانا، تاق کرنا،

(۳) باقی رہنا (۴) کسی کام سے باز رہنا (۵) ناتمام رہنا

(۶) ناکام ہونا (۷) کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک نہ جا

سکتا (۸) چونکا، خطا کرنا، کسی کام میں کمی کرنا (۹) بار

جانا (۱۰) عاجز ہونا (۱۱) شل ہو جانا (۱۲) قرار پانا، ہیٹ

رہ جانا (۱۳) عالم حیرت ہو جانا۔

رہ تو سہی: کھڑا رہ، صبر کر، ستم جا رہیگی۔

رہ کر: شہر شہر کے، بار بار، گھڑی گھڑی، سوچ سوچ کر

رہڑو: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا چمکڑا، تہیل (۲) بچوں کو مڑا

ہو کر چلنا سکھانے کی گاڑی۔

رہیں: (سنسکرت) مذکر؛ (۱) خوشی، دل

گلی، دل بہلانے کی بات یا چیز (۲) کیل کو (۳) ایک

قسم کا ناچ جس میں شری کرشن اور گویوں کی نقل کی

جاتی ہے۔

رہین / رہین: مذکر؛ گرو، مال یا زمین کا گرو رکھنا۔

— نامہ: مذکر؛ رہین کی دستاویز۔

رہین: (رف) گرو کی رکھی ہوئی شے، مرہون۔

رہینا: (۱) شہرنا، بسانا، قیام کرنا (۲) چھوٹنا، باقی پینا (۳)

پائے دار، دیر پا ہونا (۴) برقرار رہنا، یک ساں

زندگی بسر کرنا (۵) کھڑا رہنا، قائم رہنا (۶) بے حس

و حرکت ہو جانا (۷) باز رہنا (۸) بسر ہونا، گزر ہونا،

(۹) گنا جانا، حساب میں آنا (۱۰) طتوی ہونا (۱۱) باقی رہنا

ادانہ ہونا (۱۲) عورت کا مرد کے پاس رہنا (۱۳) ملے پانا

(۱۴) تھمنا، صبر کرنا (۱۵) کوئی کام لازمی طور پر کرنا،

(۱۶) بتلا رہنا (۱۷) ترک رہنا، شہر جانا (۱۸) تھیب

نہ ہونا۔

— سہنا: گزر بسر کرنا۔

رہنے بھی دو: بات جتانے کی ضرورت نہیں، باتیں نہ

بناؤ۔

— دینا: (۱) ترکہ چھوڑنا (۲) بچھا چھوڑنا (۳) ہاتھ نہ لگانا۔

(۴) جانے دینا۔

(۳) مشتق، مہارت (۴) ورزش (۵) مزدوری، پیشہ داری، دیدہ ریزی۔

ریاضی: (۱) علم جس میں ہندسہ، علم حساب، علم نجوم، علم موسیقی، علم جبر و مقابلہ، علم جبر اتقال شامل ہیں (۲) ریاضت کرنے والا۔

واں: (۱) علم ریاضی جاننے والا۔
ری ایکشن: REACTION (۲) ہلک، ڈکڑا، رد عمل، نتیجہ، جوابی کارروائی۔

ریب: (۱) ڈکڑا، شک و شبہ (جیسے لاریب)
ری پبلک: REPUBLIC (۲) مونتھ: جمہوریہ، جمہوری سلطنت، پرجاتنتر۔
ریت: مونتھ: ہالو، ریگ۔

آنا: پشاپ میں ریت نکلتا۔
کے ڈرے گننا: (کتابتاً) فضول کام کرنا۔
کی مویں: ریت کے تودے جو تیسز ہوا چلنے سے بن جاتے ہیں۔

رتیل / ریتیلی: وہ زمین جس میں ریت زیادہ ہو۔
ریتا: ڈکڑا، ریت کی زمین، سراب، دور سے پانی نظر آنے والی ریگ۔

رتیلا: (۵) بھوڑکا، کرکرا۔
رہپت: مونتھ: رسم و رواج، دستور، طور۔
رسم / رسموم: ڈکڑا، شادی کی خاص رسمیں۔
ریتنا: (۱) ریتی سے گھستا، ریزہ ریزہ کرنا (۲) صاف کرنا
زندہ کرنا (۳) ریگ مال کرنا (۴) رگڑنا، گھٹے لگانا،
(۵) (سارنگی کے لیے) بجانا۔

ریتی: مونتھ: (۱) سوہن، ریتنے کا اوزار (۲) رتیل زمین ریگ۔

رہپتی کال: (۵) ڈکڑا، ہندی کی عشقہ شاعری کا ایک ڈور۔

رہپٹ: RATE (۱) ڈکڑا، بزنس، بجاؤ، شرح۔
رہپٹار: RETIRE (۲) ڈکڑا، (۱) سبکدوش

رہے نام اللہ کا: (مقولہ) خدا کے سوا سب فانی ہے۔
کسی کے مرنے کی خبر سن کر کہتے ہیں۔
رہیں جھوپڑوں میں، خواب دیکھیں مملوں کا: (مثلاً)
منظلی کی زندگی میں امیرانہ محلات باٹ کے منسوبے بنا۔

رہوسا: (۱) ڈکڑا، جمع رئیس کی (۲) سردار (۳) امیر لوگ
رہوف: (۱) بہت شفقت کرنے والا، ڈکڑا، خدائے تعالیٰ کا نام۔

رہیس: (۱) ڈکڑا، سردار، فرماں روا۔
رہیس البدن: (۱) ڈکڑا، تمام جسم کا سردار۔
رہیس با اختیار: گورنمنٹ سے مالی اور ملکی اختیارات والا رئیس۔

خود مختار: ملکی و مالی انتظامات میں خود اختیاری رکھنے والا۔
زادہ: ڈکڑا، رئیس کا بیٹا۔

رے

رے، حرف ندا (تنہا مستعمل نہیں ہے)۔
ریا: مونتھ: دوزنگی، ظاہر داری، دینا سازی۔
کار: (۱) ظاہر داری کرنے والا، مکار، زنا ساز۔
کاری: (۱) مونتھ: مکاری، فریب۔

ریائی: ریاکار، مکر سے بھرا ہوا۔
ریاچ: (۱) ڈکڑا، مونتھ: جمع ریاچی، ہادی۔
ریاچین: (۱) ڈکڑا، جمع ریاچان کی، (۲) خوش بودار پھول (۳) (مہازا) مطلق پھول۔

ریاست: (۱) مونتھ: (۱) سرداری، انفری (۲) راج، عمل داری۔

رے سیاست نہیں ہوتی: (مقولہ) حکومت کے لیے انتظام اور رعب و داب ہونا ضروری ہے۔

ریاض: ڈکڑا، (۱) باغ (۲) محنت، مشقت۔
ریاضت: مونتھ: (۱) زہد، نفس کشی (۲) محنت، مشقت،

ریڈ : RED (رنگ، سُرخ، لال)۔
 ریڈ انڈین : RED INDIAN (رنگ، مذکر)؛
 شمال امریکا کے قدیم اور اصل باشندے۔
 ریڈر : READER (رنگ) (۱) زبانزدانی کی
 درسی کتاب (۲) یونیورسٹی کے استادوں کا ایک
 اعلان شدہ (۳) پڑھنے والا۔
 ریڈ کراس : RED CROSS (رنگ، مذکر)؛
 صلیبِ احرار
 سوسائٹی : SOCIETY (رنگ)؛ (۱)
 صلیبِ احرار سوسائٹی (۲) انسانیت کے نام پر بلا تفریق
 مذہب و قومیت خصوصاً ملحق امداد پہنچانے والی ایک
 بین الاقوامی انجمن۔
 ریڈنگ روم : READING ROOM (رنگ، مذکر)؛
 دارالمطالعو۔
 ریڈیائی : مؤنث؛ ریڈیو، ریڈیو سے متعلق
 (ڈراما، فیچر، وغیرہ)
 ریڈیکل : RADICAL (رنگ)؛
 انتہا پسند۔
 ازم : ISM انتہا پسندی، انتہا پسند نظریہ۔
 ریڈیم : RADIUM (رنگ، مذکر)؛ ایک
 تابکار عنصر کا نام۔
 ریڈی میڈ : READY MADE (رنگ، بتا بتایا
 سلاسلایا۔
 ریڈیو : RADIO (رنگ، مذکر)؛ لاسکلی، بلا تار کے
 برقی پیغام وصول کرنے اور نشر کرنے والا آلہ۔
 ریمپٹھ : (۵) مؤنث؛ پیٹھ کی درمیانی ہڈی۔
 پینٹا : (۵) مؤنث؛ (دہلی، عو) پرانی وضع اختیار کرنا۔
 نیگریٹینا۔
 ریزر : RAZOR (رنگ، مذکر)؛ آسترا۔
 ریزر کرنا : توڑے یا مینا کے پتوں کا بولنے سے پیش تر پیشاپس

ہونا (۲) غلامدہ ہونا (۳) آرام کرنا۔
 ریٹھا : (۵) مذکر؛ ایک درخت اور اس کے پھل کا نام۔
 ریٹائرمنٹ : RETIREMENT (رنگ)؛
 غلامدگی، سبک دوشی۔
 ریٹیک : RETAKE (رنگ، مذکر)؛ زلفی
 اصطلاح کسی منظر کی دوبارہ فلم بندی۔
 ریٹیل : RETAIL (رنگ)؛ تنوڑا تنوڑا بیچنا،
 چھتکر۔
 ریٹجمنٹ : REGIMENT (رنگ، مؤنث)؛
 پلٹن، رسالہ، فوج کا ایک حصہ۔
 ریجھ : مؤنث؛ طبیعت کی پسندیدگی۔
 ریجھنا : نال ہونا، راجب ہونا، فریفتہ ہونا، لٹو ہونا،
 نہایت پسند کرنا، خوش ہونا۔
 ریچھ : مذکر؛ بھالو۔
 ریح : (۱) ہوا، باد (۲) پار۔
 ریحکی : (۲) جھٹ؛ ریح سے منسوب۔
 ریحکان : (۲) مذکر؛ (۱) ایک خوشبودار پودے اور اس کے
 بیج کا نام، نازبو (۲) سبز، ہر ایک خوشبودار گھاس۔
 ریح سُرخ کے سوا سب پھول (۳) جھانٹا، شرب (۴) ایک قسم کے خط کا نام
 ریح : مؤنث؛ (۱) لکیر، دانٹوں میں مستی منجن یا پانوں کے
 رنگ کا نشان (۲) چوڑی، بنیاد، جز، طاقت،
 توانائی۔
 ریجھیں : مؤنث؛ دانٹوں کی جھٹوں میں یا دانٹوں
 کے بیج میں مستی منجن اور پان کے رنگ کی
 سیاہ دھاریاں۔
 ریختہ : (۱) قالب میں ڈھال کر بنائی جانے والی چیز
 (۲) ڈویا زیادہ زبانوں سے مخلوط کلام، بے تکلف
 سمجھ میں آجانے والے معانی (۳) زبانِ اردو (۴) استرکالی
 کا سال، پختہ مہارت
 ریختی : مؤنث؛ وہ اشعار جو عورتوں کی زبان میں کہے
 جائیں۔

- کرنا، پرندوں کا چھبانا۔
ریزیٹس: موٹس؛ (1) ٹماک سے پانی پہنے کا مہن، (2) کام، (3) نزل، (4) گرنا، (5) جھڑنا۔
ریزیٹنگاری: موٹس؛ خوردہ، روپے کے حصے۔
ریزیٹنگی: (عم) موٹس؛ (1) ریزگاری (2) چھین، (3) کسرن، (4) کھرچن۔
ریزیٹو: (ف) موٹس؛ (1) بہت چھوٹی چیز (2) کودک، (3) بچہ (3) مذکر؛ پڑزہ، پارچہ (4) ریشمی کپڑے کا تھان (5) فنی، (6) نوز (6) عمدہ اور سدول صندوق (7) مکر۔
ریزیٹو قلم: (ف) مذکر؛ قلم کا تراشا۔
ریزیٹو ریزو: کرنا؛ مکرے مکرے کرنا۔
ریزیڈنٹ: RESIDENT (انگ) (1) رہنے والا، (2) مقیم، (3) باشندہ، (4) آزادی سے قبل گورنر جنرل کا ایجنٹ جو دیسی ریاستوں میں متعین ہوتا تھا۔
ریزیڈنسی: RESIDENCY (انگ) موٹس؛ ریزیدنٹ کے رہنے کا مقام۔
ریس: موٹس؛ برابری، رشک، حرص، ہوس۔
ریس: RACE (انگ) موٹس؛ دوڑ مثلاً گھوڑ (دوڑ کا مقابلہ)
کورس: COURSE (انگ) مذکر؛ گھوڑ دوڑ کا میدان۔
ریسٹ ہاؤس: REST HOUSE (انگ) مذکر؛ آرام گاہ (5) (دو شرام گرہ)
ریسرچ: RESEARCH (انگ) تحقیق۔
اسکالر/فیلو: SCHOLAR/FELLOW (انگ) تحقیق کرنے والا طالب علم۔
ریسٹنگ: WRESTLING (انگ) موٹس؛ کشتی، کشتی لڑانا، لڑنا۔
ریسماں: (ف) موٹس؛ رستی، ڈوسی۔
ریٹس: (ف) موٹس؛ ڈامی۔
ریٹش پیل: (ف) بڑی اور بلی ڈامی والا۔
- ریٹس بابا**: (ف) مذکر؛ انگور کی ایک قسم۔
بچہ: (ف) مذکر؛ ٹھوڑی کے اوپر کے بال۔
تختہ: (ف) مذکر؛ (کنایتاً) تسخر کرنا، تسخری ہونی ہنسی۔
قاصی: (اصناف کے ساتھ) (ف)؛ موٹس؛ شراب چلانے کا کپڑا، شراب کی صافی۔
مرسل: (اصناف کے ساتھ) (ف) موٹس؛ ٹکٹے والی ڈامی۔
ریٹیم: (1) ریٹیم کا منقہ، (2) مذکر؛ (1) ریٹیم کے کڑے کے پیٹ سے پیدا ہونے والا تار (2) غ۔
ریٹیمی: ریٹیم کا بنا ہوا۔
ریٹیش: (ف) مذکر؛ (1) درختوں کی رکیں (2) پھولنڈ (3) پیل یا گوشت وغیرہ کا تار۔
دار: وہ چیز جس میں پھولنڈے ہوں۔
ڈوانی: (ف) موٹس؛ شراب میں کرنا، فساد کرنا، ڈالنا۔
خطمی ہو جانا: (کنایتاً) مارے خوشی کے آپے میں نہ جانا، کسی پر بھیننا، چالوسی کرنا، بھاجانا۔
ریفارم: REFORM (انگ) مذکر؛ اصلاح۔
ریفارمر: REFORMER (انگ) مصلح، اصلاح کرنے والا۔
ریفارمیشن: REFORMATION (انگ) موٹس؛ (اصلاح)
ریفری: REFEREE (انگ) مذکر؛ بیخ، حکم (کھیلوں کا)
ریفریجریٹر: REFRIGERATOR (انگ) مذکر؛ وہ الماری جس میں بگی کے ذریعہ چیزیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔
ریفریشمنٹ: REFRESHMENT (انگ) مذکر؛ ٹھکانا، ناشتہ۔
روم: ROOM (انگ) مذکر؛ باضغ
ریفیل: REFILL (انگ) مذکر؛ مائٹشک
روشمانی کی نگی جو بال بین میں استعمال ہوتی ہے، (1) ۱۷۴

دوبارہ بجزا۔

ریفوجی: REFUGEE (انگ) مذکر؛

مہاجر، شہرناستی

ریکارڈ: RECORD (انگ) مذکر؛ (۱) محفوظ کی ہوئی

تقریر (۲) متعلقہ فہرست (۳) دفتری کاغذات، (۴) متعلقہ کاغذات مؤنث؛ مقدمہ کی بیل۔

تورٹا: پچھلے کارناموں سے بہتر کارنامہ انجام دینا
نئی مثال قائم کرنا۔

روم: ROOM (انگ) مذکر؛

تاریخی دستاویز یا سرکاری کاغذات محفوظ رکھنے کا گروہ،
محافظ خانہ۔تایم کرنا: کسی میدان یا شعبہ میں بہترین کارنامہ انجام
دینا، مثال تایم کرنا۔

رکیٹ: RACKET (انگ) مذکر؛ (۱) بیڈمنٹن

یا ٹینس کا بال (۲) چال بازوں کا گروہ۔

ریکھا: (۵) مؤنث (۱) لکیر، تقریر، نشان خط (۲) قسمت کا
لکھا ہوا، تقدیر، نصیب۔ریگ: (۲) مؤنث؛ (۱) ریت، بالو (۲) وہ ریگ جو گروے
میں پیدا ہو جاتی ہے۔

ریگستان: (۲) مذکر؛ ریتلا میدان۔

ریگ مال: مذکر؛ دھات کو صاف کرنے کا شیشے کا برادر
لگا ہوا کاغذ۔رہا: (۲) مؤنث؛ مستفقور، پھلی سے مشابہ ایک
جاندار۔روال: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مؤنث؛ چمکتی ہوئی
ریت جو پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔

ریگولیشن: REGULATION (انگ) مذکر؛

تادمہ، ضابطہ۔

ریل: REEL (انگ) مؤنث؛ پیپک، چرخی۔

ریل: RAIL (انگ) مؤنث؛ (۱) لوہے کی متوازی

پٹریاں (۲) ریل گاڑی (۳) ٹریں۔

ریٹیل: مذکر؛ (۱) سیلاب (۲) دھکا، (۳) دھار (۴) مجمع کی

ریل پیل، بڑھتی ہوئی کھیرکا دباؤ۔

ریل پیل: مؤنث؛ (۱) دھکم دھکا (۲) ہتھات، کثرت۔

ریٹیم ریٹا: (۱) باہم ایک دوسرے کو ڈھیلنا (۲) کسی چیز کا
افراط سے آنا۔

ریٹنا: ریٹا دینا، دھکا دینا، پیچھے ہٹانا۔

ریلوے: RAILWAY (انگ) مذکر؛ (۱)

ریل کا ٹکڑا (۲) ریل کی سڑک۔

ریلیز: RELEASE (انگ)؛ اجسرا۔

شروعات۔

ریلیف: RELIEF (انگ) مؤنث؛ (۱)

ہنگامی امداد، بروقت امداد۔

ریکم: (۲) مؤنث؛ پیپ۔

ریمارک: REMARK (انگ) مذکر؛ رائے۔

تبصرہ۔

ریمانڈ: REMAND (انگ) مذکر؛ قانونی اصطلاح

پولس کو مزید تعقیب تک حوالات میں رکھنا۔

ریمائینڈر: REMINDER (انگ) مذکر؛

یادداشت، یاد دہانی۔

ریمیا: (۲) مؤنث؛ ایک علم ہے جس کے عمل سے آدمی

جہاں چاہے وہاں جاسکتا ہے۔

رین: (۵) مؤنث؛ رات۔

رین بسیرا: (۵) مذکر؛ رات گزارنے کی جگہ، کمر، مکان۔

رینٹ: RENT (انگ) مذکر؛ کرایہ (مکان وغیرہ)

رینٹ: (۲) نم، ناک کا مضر عظیم، پانی۔

رینڈھا پھیلا نا: (۲) جگڑا ہر پکڑنا، جس گروے کو طول

دینا۔

ریندھنا: پکانا، اُباننا، کھانا تیار کرنا۔

رینڈھی: مؤنث؛ ارنڈھا سچ

رین ریں: مؤنث؛ بچوں کے رونے کی آواز (۲) مسلسل

آواز (۳) سارنگی کی آواز۔

ریوٹرز : مذکر؛ بیٹروں اور بیٹیوں کا غول۔
 ریوٹری : مؤنث؛ ایک قسم کی تیل کی مٹھائی جو گٹوں پر تیل
 جما کر بناتے ہیں۔
 ریوٹریاں سی بیٹ جانا : دکنا بیٹا؛ فوراً خرچ ہو جانا۔
 ریویو : REVIEW (انگ) مذکر؛ تبصرہ،
 تنقید۔

ریہ / رے : مؤنث؛ ایک قسم کی کھاری مٹی۔
 ریہہ رسل : REHEARSAL (انگ) مذکر؛
 (۱) اداکاری اور مکالمے کی مشق (۲) ڈرامے کی مکمل
 تفصیلات کے ساتھ مشق۔

ریہہ رسل : مذکر؛ ریہہ والی، بخیر آراہنی۔
 ریہہ رسل : مؤنث؛ رعو، (۱) روٹھو (۲) ایک قسم کی مچھلی کا نام

ریہن کوٹ : RAIN COAT (انگ) مذکر؛
 برساتی۔

ریٹکنا : رلازم، گدھے کا بولنا۔
 ریٹکنا : آہستہ آہستہ چلنا، جوں کی چال چلنا۔
 ریٹکنتی : (۱) مؤنث؛ ایک درد کا نام جس کو عرق النساء
 کہتے ہیں۔

ریہنی : مؤنث؛ (۱) کسٹم کو پکڑنے میں رکھ کر پانی سے رنگ چڑھانے
 کا عمل، (۲) قلعے کی چھوٹی دیوار۔

ریہنی : کسٹم سے رنگ چکنا۔
 ریہنی : پیچھے ہوئے کسٹم کو رنگ نکالنے کے لیے پکڑنے
 میں رکھ کر نکالنا۔

ریو الوڈ : REVOLVER (انگ) مذکر؛ کئی فیر
 کرنے والا پستول۔

ز

— ہر زاو، زاوے، زاوے زاو لگا کر بیٹھنا۔
 — پوش: کھانا کھاتے وقت گھنٹوں پر ڈال لینے کا پکڑا۔
 (رہگ: نیکیں)
 — پوسٹر ٹھکانا: (کنایتاً)؛ فنکارانہ طور میں جتلا ہونا،
 سوچ بچار میں پڑ جانا۔
 — پوسٹر رکھنا: (کنایتاً)، شرمندہ ہونا، ٹکر مند ہونا۔
 — پوسٹر ہونا: (کنایتاً)، ٹکر مند ہونا۔
 — پوسٹر مارنا: (کنایتاً)، تعجب کرنا۔
 — پینٹنا: حالت رنج و الم کا ظاہر کرنا۔
 — تھوکرنا: باادب بیٹھنا، مؤدب بیٹھنا۔
 — جمانا: پشٹی جمانا، گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔
 — توڑنا: ادب سے بیٹھنا۔
 — تولنا: (دہلی)، زاو بدنا۔
 زائی: (ع)، مذکر؛ زنا کار مرد۔
 زائیدہ: (ع)، مؤنث؛ زنا کار عورت۔
 زائویہ: (ع)، مذکر؛ (۱) کونا، گوشہ (۲) (اقلیدس کی
 ایک اصطلاح) دو خط مستقیم کے ایک نقطہ پر ملنے سے
 جو کونا پیدا ہو اسے زاویہ کہتے ہیں۔
 زاہد: (ع)، دینا اور مال و جاہ سے رغبت نہ رکھنے والا۔
 — خشک: (عاطف کے ساتھ)، (ف)، مذکر؛ عشقِ اہلی
 کی دولت سے بے بہرہ ماند۔
 زلیچہ: (ف)، مذکر؛ (۱) بیچے کی پیدائش کے وقت بنایا ہوا
 جو میوں کا نقشہ (۲) زکلی کی شکلیں، کنڈلی۔
 زامد: (ع)؛ زیادہ، فضول، بڑھا ہوا، بچا ہوا۔

ز: (زے) مؤنث؛ حروف تہجی کا ایک حرف،
 حساب عمل (ابجد) میں اس کے سات عدد ہیں۔
 زاد بوم: (ف)، مؤنث؛ جائے پیدائش، وطن۔
 — راہ / سفر، (اضافت کے ساتھ)، (ف) مؤنث؛ گوشہ راہ، راہ کا خرچ
 — عقبا: (اضافت کے ساتھ)، مذکر؛ آخرت میں کام آنے
 والے نیک عمل۔
 زادہ: (ف)، صفت؛ جنا ہوا، زائیدہ۔
 زار: CZAR (رہگ)، مذکر؛ قدیم روس
 کے شہنشاہ کا لقب۔
 زار: (ف)؛ (۱) ضعیف (۲) کال (۳) کسی شے کی کثرت
 (۴) رنج و غم (۵) (کنایتاً) فریفتہ۔
 — زار زار ہونا: زار و قطار ہونا، بہت رونا۔
 — و نزار: (ف)، ڈبلا پتلا، ضعیف، ناتواں۔
 زاری: (ف)، مؤنث؛ (۱) گریہ، رونا پیننا (۲) اکلہار حاجری
 و بیکسی۔
 زارینہ: CZARINA (رہگ)، مؤنث؛
 (قدیم) روس کی ملکہ کا خطاب۔
 زارع: (ف)، مذکر؛ کوسا۔
 زال: (ف)، (۱) بوڑھا، سفید بالوں والا (۲) مذکر؛
 رستم کے باپ کا نام۔
 زال و نیا: (اضافت کے ساتھ)، مؤنث؛ (کنایتاً) دنیا جس
 کی تیس عمر کسی کو معلوم نہیں۔
 زانو: (ف)، مذکر؛ جانگھ، گھٹنا، ران، پہلو۔
 — بدلتا: نشست میں زانو بدلتا۔

زائر: (ع) زیارت کرنے والا، زیارت کو جانے والا۔

زائر: (ع) دور ہونے والا۔

زائیدہ: (ف) پیدا کیا ہوا، جنا ہوا۔

ز - ب

زبان: (ف)، مؤنث؛ (۱) جیبہ (۲) بول چال، روزمرہ

(۳) بیان کرنے کا انداز (۴) اقرار، وعدہ۔

آب کوثر سے دھوئی ہونا / دھلی ہونا: (کنایتاً)

زبان کا پاکیزہ ہونا۔

آلودہ ہونا: (کنایتاً)؛ زبان پر کسی بات کا

آنا۔

آنا: بولی آنا، انداز بیان سیکھنا۔

آور: (ف) (کنایتاً) شاعر، فصیح، خوش بیان۔

اُکٹنا: زبان بدلنا، کہے سے مٹ جانا۔

اُجھٹنا: زبان لڑکھانا، ادائے مطلب پر زبان کا

قادر نہ ہونا۔

اولا ہونا: زبان اکر جانا۔

بدلتنا / پلٹنا / پھیرنا: مٹونا، اقرار سے پھرتا، ہمدونہ

کوئی بات کہہ کے اس کا انکار کرنا۔

بڑھٹنا: بدزبانی بڑھنا۔

بچاڑنا: (کنایتاً) زبان خراب کرنا، بے ہودہ الفاظ

زبان پر لانا۔

بچکھنا: (۱) زبان خراب ہونا (۲) (کنایتاً) گالی گلوچ

کی عادت ہونا۔

بند کرنا: (۱) نہ کرنے دینا، خاموش کر دینا (۲) جادو

یا توفیق کے زور سے اپنے خلاف کہنے پر کسی کی زبان نہ

چلنے دینا (۳) خاموش ہو جانا۔

بند ہونا: (۱) بولنے کی بات کرنے سے عاجز ہونا۔

خاموش ہونا (۲) قوت گویائی کا سلب ہو جانا، زبان رٹھ جانا،

(۳) جادو یا توفیق کے زور سے کسی کے خلاف نہ کہہ سکتا۔

بندی: (ف) مؤنث؛ خاموشی، سکوت، خاموش کرنا،

حکومت کی طرف سے مجمع میں تقریر کی اجازت نہ ہونا۔

پنر: اقرار پر، وعدہ پر۔

پیر آنا: (را) بات کہی جانا، بے سمجھے بوجھے کہنا۔

پنر خڑھٹنا: حفظ ہونا، اُڑبڑ ہونا، دردِ زبان ہونا۔

بوکنے کی مشق ہونا۔

پنر خرف نہ لانا: زبان سے شکوہ نہ کرنا۔

پنر ڈھرا ہونا: زبان پر موجود ہونا، کسی بات کا بغیر فکر

دوران کے یاد ہونا۔ خوب یاد ہونا۔

پنر سر دینا: عہد پورا کرنے میں دریغ نہ کرنا۔

پنر کانٹے پڑنا: زبان خشک ہو جانا۔

پنر لانا: منہ سے کہنا، بیان کرنا۔

پنر مہر ہونا: زبان بند ہونا، کچھ نہ بولنا۔

پنر ٹنا، بات کہنے سے روکنا، بات کا مٹنا، بیچ میں بول

پڑنا۔ بات کی گرفت کرنا، نکتہ چینی۔

پنر ٹنا: زبان بدلنا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) بولنا۔

پنر ٹنا / کھٹنا: زبان کا حرکت کرنا۔

پنر ٹنا: زبان بدلنا۔

پنر ٹنا: زبان کا لگنت کرنا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان کا لگنت کرنا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

پنر ٹنا: (کنایتاً) زبان پر لانا۔

- چلنا: (۱) زبان کا جلد جلد حرکت کرنا، جلد جلد باتیں کرنا۔
 (۲) کھانا نوش کرنا (۳) بے ہودہ گوئی کرنا، گالیاں
 بکنا (۴) بولنا، بات کرنا۔
 — حال سے کہنا: (اضافہ کے ساتھ) موجودہ حالت سے
 ظاہر کرنا، حالت سے بے کہے ظاہر کرنا۔
 — خامرہ: (اضافہ کے ساتھ) (ف) مؤنث؛ قلم کے
 شگاف والا سرا، ریب۔
 — خراب کرنا: زبان سے بے ہودہ الفاظ نکالنا۔
 — خشک ہونا: (۱) زبان سوکھنا (۲) (کنایتاً) بہت
 باتیں کرنا۔
 — خَلْقُ نَقَارَةِ خُدا: (اضافہ کے ساتھ) (ف) مثل؛
 جو بات خلقت کی زبان پر جاری ہوتی ہے وہ اکثر سچ خلقت
 ہے۔
 — دابنا: (۱) بولنے یا بات کرنے سے روکنا، منع کرنا۔
 کہتے کہتے رک جاتا۔
 — داب کے کہنا / دبا کے کہنا: چپکے سے کہنا، دبی
 دبان سے کہنا، آہستگی سے کہنا۔
 — دال: کسی زبان کا ماہر۔
 — دانی: (ف) علم زبان، کسی زبان کی بخوبی واقفیت
 اور اس کے کمال تک رسائی۔
 — دانٹوں تلے دابنا / دانٹوں میں دابنا: (۱) (کنایتاً)
 حیرت کرنا، افسوس کرنا (۲) کچھ کہہ کے بھتاننا۔
 — دراز: (ف) گستاخ، مُنہ پھٹ۔
 — دراز کرنا: زبان کھولنا، بات بڑھا کر بیان کرنا۔
 — درازی: (ف) مؤنث؛ گستاخی، بدزبانی۔
 — دے کے پلٹنا: کہہ کے پلٹنا، استسارہ کر کے بھار
 کرنا۔
 — دینا: حمد کرنا، وعدہ کرنا۔
 — زد: (ف) مشہور، معروف۔
 — زد ہونا: مشہور ہونا، ہر ایک کی زبان پر ہونا۔
 — سے بیٹھا بیٹھی پرانے ہوتے ہیں: (م) ان کو

- زبان کا بڑا پاس رکھنا چاہیے۔
 — سے نکالنا: بیان کرنا، تلفظ کرنا، کہنا۔
 — شمع: (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر؛ شمع کی کوہ۔
 شمع کو گول۔
 — شیریں کھلک گیری: زبان میڑھی ملک بانکا؛
 (مثل) شہریں زبانی سے دنیا مطیع دستمزد ہو
 ہو جاتی ہے۔ اور بدزبانی سے حسب بے زار ہو جاتے ہیں۔
 — فر فر چلنا: جلد جلد زبان کا چلنا۔
 قلم ہونا: زبان کٹ جانا۔
 — قینچی سی چلنا / قینچی کی طرح چلنا: (کنایتاً) تیزی سے
 گفتگو کرنا، فر فر زبان چلنا، لگا سار بولے جانا۔
 — کا پھو پھو: بد زبان، زبان دراز، بھونڈی زبان والا
 کا چٹکا / چٹکارا / چسکا / مزہ: چیوڑپن، مزے دار
 چینیوں کھانے کی عادت۔
 — کا چوڑا: لذیذ کھانوں کا عادی، رسیا۔
 — کا گل (انشائی کرنا): (کنایتاً) شیریں سمی کرنا۔
 — کا مٹھا: (۱) شیریں کلام (۲) منافق، کھوٹا۔
 — کھولنا: (۱) بڑھلا کرنا (۲) کچھ کہنا (۳) گویائی عطا کرنا
 (۴) گویائی کی قوت حاصل ہونا (۵) عیب نکالنا، زبان
 درازی کرنا (۶) گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اُف کرنا (۷) کلام
 کو طول دینا۔
 — زبان کے آگے خندق نہیں: (م) کوئی کسی کی زبان
 نہیں بند کر سکتا۔
 — کے آگے کھائی خندق برابر ہے: (م) جو منہ میں
 آیا بک دیا۔
 — کے چٹخارے لینا: خوش ذائقہ چیزیں کھا کر زبان کو چٹخارنا۔
 — کیلنا: افسوس یا مشرے کسی کا منہ بند کرنا۔
 — گدھی سے کھینچنا: پرانے زمانے کی عبرت خیز سزا۔
 — لڑانا: (کنایتاً) زبان فلاحی کرنا، زبان سے زبان لڑانا۔
 — لڑ کھڑا نا: زبان کا لغزش کرنا، کھنت کرنا۔
 — منہ میں رکھنا: گویائی کی حدت رکھنا۔

ذیل وحوار۔

ز۔ پ

زپ: ZIP (اینگ، مؤنث؛ ایک طرح کی زنجیر جو کپڑے یا چمڑے کے دو حصوں کو جوڑنے اور کسے کے کام آتی ہے۔

ز۔ ٹ

زٹل، مؤنث؛ لغو اور بے ہودہ بات، بے معنی بات، بڑا، جھک بے اصل۔
 تافیے: بے تعلقی باتیں، بے اصل باتیں۔
 زٹی: گپ ہانکنے والا۔
 زٹلیا: یوچ باتیں کرنے والا، بے معنی طول طویل قصص بیان کرنے والا۔

ز۔ ج

زجاج: (ر) مذکر؛ کاغذ، آئینہ۔
 زجر: (ر) مؤنث؛ سرزنش، جھڑکی، دھمکی۔
 — تو متوج: مؤنث؛ ڈانٹ ڈپٹ۔

ز۔ ج

زج: صفت؛ (۱) عاجز، تنگ (۲) مؤنث؛ شطرنج کی ایک اصطلاح۔
 زجہ / زجیہ: (ر) مؤنث؛ وہ عورت جس کے بچے پیدا ہوا ہوں۔
 خانہ: بچے پیدا ہونے کی جگہ۔

ز۔ ح

زحاف: (ر) مذکر؛ عروس کی ایک اصطلاح۔
 زحل: (ر) مذکر؛ ایک خمس ستارے کا نام، سینچر۔
 زحمت: (ر) مؤنث؛ کلفت، تکلیف، محنت، مشقت۔

— میں بھڑک نہ ہونا: کبھی کچھ کہنا، کبھی کچھ کہنا، ایک بات پر قائم نہ رہنا۔

— میں کانٹے پڑنا: پیاس کی زیادتی سے زبان کا خشک ہو کر کھردرا ہوجانا۔

— میں کھلی ہونا: (ر) تکرار کرنے کو جی چاہنا، کچھ کہنے کو جی چاہنا۔

— ہارنا: وعدہ کرنا، عہد کرنا۔

— ہکلانا: زبان کا بولنے میں لگنت کرنا۔

زیبائی: (۱) منہ کی کبھی ہوتی (۲) سستی سنانی (۳) ظاہری منہ دیکھے کی، بناوٹ کی (۴) حفظ، آزر۔

— باتیں: بغیر عمل کے محض باتیں ہی باتیں۔

— جمع خرچ: خیالی پلاؤ، خیالی باتیں بنانا، کچھ کر کے نہ دکھانا۔

— وعدہ: وہ وعدہ جو زبان سے کیا جائے۔

زیبانہ: (ر) مذکر؛ (۱) شعلہ، نو، آگ کی لپٹ (۲) رائدو، وہ چھوٹا سا زبان کی شکل کا حصہ جو کھل کے بیچ میں ہوتا ہے

زبدہ: (ر) چمیدہ، برگزیدہ، منتخب۔

زبر: (ر) مذکر؛ (۱) فتح (۲) طاقت اور زور اور بوجھل، گراں۔

— ہونا: غالب ہونا، طاقت یا وزن میں زیادہ ہونا۔

— دست: (ر) غالب، طاقت ور، قوی، جاہل، ظالم۔

— دست کا ٹھیکنگا سوسو: (ر) مثل، غالب سے زور نہیں چلتا اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔

— دست کے پیسوں بسوسو: (ر) مثل، قوی ہمیشہ غالب رہتا ہے، سب کچھ اسی کا ہوجاتا ہے۔

— دست مارے اور روئے نہ دے: (ر) مثل، کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر زبردستی کرے شکوہ نہ کرنے دے۔

— جھڑ: (ر) مذکر؛ ایک قسم کا زرمرد، پتا۔

زبورد: (ر) مؤنث؛ آسمانی کتاب جو حضرت داؤدؑ پر نازل ہوئی تھی۔

زبول: (ر) خراب، تباہ (۲) (ر) نحس، منوس (۳) عاجز

زخمہ: (ف) مذکر؛ (۱) ساز، بجانے کا انگشتانہ، آلہ،
مغزب (۲) نثارے کی چوب۔
زخودر فتنگی: آپے سے باہر ہونا، کھویا کھویا رہنا۔
زخودر اموشس: آپے سے باہر، اپنے خواہش میں نہ
ہونا۔

ز-د

زرد: (ف) مؤنث؛ (۱) نشانہ، ضرب (۲) بیض، صدمہ
(۳) نشانے کا سامنا (۴) نقصان، ضرر۔
پیر پڑھنا: نشانے پر ہونا۔
پیرٹنا: نقصان ہونا، خسارہ ہونا۔
وکوب: (ف) مؤنث؛ مار پیٹ۔

ز-ر

زرد: (ف) مذکر؛ (۱) سونا، طلا، روپیہ، پیسہ، دولت
(۲) پھول کے اندر کا زرد زیرہ۔
زر اٹھل: (امضات کے ساتھ) سرمایہ، اصل پونجی۔
اقتال / قتال: (ف)؛ (۱) سونے کے دوق کے ریزے
دھچکا ہوا کاغذ (۲) روپیہ عطا کرنا (۳) چمکدار۔
اقتانی: مؤنث؛ بخشش، روپیہ عطا کرنا، سونے کے
دوق کے ریزے چمکانا۔
اقتسر: (امضات کے ساتھ)، (ف)؛ سونے کی
اکسیر۔
باف: (ف)؛ زربفت بنانے والا (۲) مذکر؛ تاروں
کا پتہ ہوا کھواب۔
بافت / بافتہ: (ف) مذکر؛ زربفت، ندی کا کپڑا۔
بالائی: (امضات کے ساتھ) مذکر؛ وہ رقم جو علاوہ تنخواہ
کے ملے۔ (رشوت)
باعت: (ف) مؤنث؛ بادل اور ریشم سے تیار کیا ہوا
کپڑا۔
بل نہ زور رک: مقولہ؛ نہ روپیہ ہے نہ بدن میں طاقت

زخ

زخار: (ع) پانی سے بہت بہرا ہوا، موجیں مارتا ہوا، لہریں
لیتا ہوا، رسند، دیا وغیرہ کے لیے مستعمل ہے۔
زخم: (ف) مذکر؛ (۱) گھاؤ (۲) (کنایتاً) نقصان، خسارہ۔
بچر چلنا: زخم کے کھرنڈ بندھنے کا آغاز ہونا۔
بھڑنا: گھاؤ کا اچھا ہو کر برابر ہو جانا۔
پیر مشک چھو کرنا: (۱) زخم تازہ کرنا (۲) (کنایتاً) ایذا دینا،
تسائے ہونے کو ستانا۔
پیر نمک چھو کرنا: (کنایتاً) دکھ میں دکھ دینا، رنج
زیادہ کرنا۔
پکنا: زخم میں پیپ پڑ جانا۔
تازہ ہونا: نیا صدمہ ہونا، نیا زخم لگنا۔
چیز انا: زخم میں خشکی سے درد ہونا۔
خوشخاران: (امضات کے ساتھ) (ف) مذکر؛ (کنایتاً)
بغیر سیاہ زخم، کھلا ہوا زخم۔
دار: (ف) مجروح۔
دامن دار: (ف) مذکر؛ بڑا زخم۔
دینا: گھائل کرنا، صدمہ پہنچانا، ضرر پہنچانا، آزار
دینا۔
کانگور: زخم میں گھرنڈ بننے لگنا۔
کاچھو: زخم کا باہر سے خشک ہونا اور اندر سے کچھا
ہونا۔
کارونا: (کنایتاً) زخم سے پانی نکلنا۔
کاری: (ف) (امضات کے ساتھ) جھک زخم۔
کاشکرانا / کاشکرتنا: (کنایتاً) زخم کے ٹانگے ٹوٹ
جانے سے زخم کا بڑھ جانا، کھل جانا۔
کاسنھ: دہان زخم۔
ہرا کرنا: گھاؤ کو تازہ کرنا، صدمہ پہنچانا، گذشتہ رنج یا درد لانا۔
زخمی: (ف)؛ (۱) خستہ، مجروح، چوٹ کھایا ہوا (۲)
(بھارت) عاشق۔

- پُر سُنْت : لالچی، جنسیل۔
 تیار : (ف) سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چیز۔
 جَعْفَرْمَی : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ خالص سونا۔
 خالص : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ خالص سونا۔
 خَرْمِید : (ف) روپیہ دے کر خریدا ہوا۔
 خَشْمَر : وہ زمین جو منافع دینے والی ہو، شاداب سیراب۔
 دار : (ف) مال دار۔
 دُوز : (ف) (۱) زری کا کاریگر (۲) زری کا کام کی ہوئی چیز۔
 دُوزی : (ف) موٹنٹ؛ سلسلے ستارے اور کلاہتوں کا کام۔
 زہن : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ وہ روپیہ جس کے عوض جائیداد مکفول ہو۔
 زَرْمِز : (ف) زر خیز۔
 سَرْمِخ : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ اشرفی، طلا۔
 سَفِید : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ روپیہ، چاندی۔
 شَمَن : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ وہ روپیہ جو قیمت میں ملے۔
 ضَامِنِی : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ ضمانت کاروپیہ۔
 طلا : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ زر خالص۔
 کَش : (ف) سونے چاندی کے تاروں سے کلاہتوں کو بنانے والا۔ چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا۔
 کُوب : (ف)؛ (۱) سونے چاندی کے ورق بنانے والا (۲) سونے کے پتھر لگی ہوئی چیز۔
 کُوبِی : (ف) موٹنٹ؛ چاندی سونے کے ورق بنانا۔
 گَر : (ف) مذکر؛ ستارہ سونے چاندی کا زیور بنانے والا۔
 گَرْمِی : (ف) موٹنٹ؛ سنہاری کا پیشہ۔
 گَرْمِی : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ پھول کے اندر
- کازیرہ۔
 نقد : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ نقد روپیہ، روکڑ۔
 ناب : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ (۱) خالص سونا، (۲) کنایتاً، آفتاب۔
 بِنکار : (ف)؛ سنہرا کام کی ہوئی چیز۔
 نَدَا / ذَرَا : تھوڑا۔
 زَرَاعَت : (ع)؛ کھیتی، کھیتی کرنا، کاشت کاری۔
 پِیشہ : کاشت کاری کا پیشہ کرنے والا۔
 زَرِشْت / زَرْدُشْت : (ف) مذکر؛ ایران کے شاہ گشتاسپ کے زمانے کے ایک مشہور حکیم کا نام جسے آتش پرست پیغمبر مانتے ہیں۔
 زَرْدُ : (ف)؛ پیلا، سنہرا۔
 زَرْدِ آلو : (ف) مذکر؛ خوبانی۔
 رَوِی : (ف)؛ موٹنٹ؛ شرمندگی، خجالت، خوف۔
 زَرْدُوہ : (ف)؛ (۱) مذکر؛ (۲) زرد رنگ کے میٹھے چیا دل مزعفر (۲) پان کے ساتھ کھانے کا تمباکو (۳) زرد کوڑی۔
 بھسکنٹا : (دہلی) دم بدم نیشک تمباکو کھانا۔
 زَرْدِ مِی : موٹنٹ؛ (۱) پیلا پن، پیلا رنگ (۲) انٹے کے اندر کا پیلا حصہ (۳) پھول کے اندر کا زیرہ۔
 زَرْدِ بَرَق : (ف)؛ (۱) کنایتاً، طمطراق، کزد فر (۲) شان و شوکت (۳) بڑھکیلا، چمک دار۔
 زَرْدِ مَبَادِلہ : مذکر؛ بدلے کی رقم، تبادلہ زر دانگ؛ فارن ایکسچینج،
 زَرْدِہ : (ف) موٹنٹ؛ فولاد کے حلقوں سے بنا ہوا کرتے کی طرح کا لباس۔
 پُلوس : زرد پہنا ہوا شخص۔
 زَرْمِی : موٹنٹ؛ سونے کے تار، چاندی کے سنہرا مٹیج کیے ہوئے تار، کلاہتوں کا بنا ہوا کپڑا، گونا، کناری وغیرہ۔
 باف : سونے کے تار بنانے والا، سنہری لیس بنانے والا۔
 زَرْمِی : (ف)؛ (۱) سلسلے ستارے کا کام کی ہوئی چیز،

سہرا رکنا (تیا) بیش قیمت۔
 کلاہ : (ف) ؛ (ا) سہری ٹوپی والا شخص (۲) (مجازاً)
 آفتاب۔

ز-ش

زِشْت : (ف) ؛ بُرا ، بد شکل ، بد نما۔
 — خُو ؛ (ف) بد خصلت۔
 — خُوئی ؛ (ف) موٹے ؛ خصلت کا خراب ہونا۔
 — رُو ؛ (ف) بد صورت۔

ز-ع

زَعْفَرَان : (ع) موٹے ؛ ایک قسم کا نہایت خوشبودار
 زرد رنگ کا پھول ، کیسر۔
 — زار : (ف) وہ جگہ جہاں زعفران کثرت سے ہو۔
 زَعْفَرَانِی : زعفران کے رنگ کا ، نمد۔
 زَعْفَرَانِی کا کھیت : رکنا (تیا) ایسا مقام جہاں خود بخود
 جوشِ مست سے ہنسی آئے۔
 زَعْم ؛ مذکر ؛ (ا) گمان ، ظن (۲) غرور۔

ز-غ

زَعْفَرَانِی ؛ (ف) موٹے ؛ (ا) چیل (۲) زخند کا صنف۔
 زَعْفَرَانِی زَقَنْد ؛ (ف) موٹے ؛ چوکھی ، کود ، پھاند۔

ز-ف

زِفَاف : (ع) مذکر ؛ دو لحاظ دہن کی ہم بستری۔
 زَفِیل ؛ موٹے ؛ سینے ، منہ میں انگلی رکھ کر نکال جانے
 والی آواز۔
 — دینا ؛ سیٹی دینا ، سیٹی بجا کر بلانا۔
 زَفِیلَنا ؛ سیٹی بجانا ، سیٹی دینا۔

ز-ق

زَقَنْد ؛ دیکھو زخند۔
 زَقَوْم ؛ (ع) مذکر ؛ تنویر۔

ز-ک

زَكُ ؛ مؤنث ؛ (ا) سبکی ، خفت ، زلت ، شرمندگی (۲) ہار
 مزیت ، شکست (۳) نقصان ، خسارہ۔
 — اُطْحَانَا / پَانَا / کھانا ؛ خفت اُٹھانا ، ہار ماننا ، نقصان
 اٹھانا۔

— دینا ؛ ہرانا ، شرمندہ کرنا ، خفیف کرنا ، نقصان
 پہنچانا۔

زَكَام ؛ (ع) مذکر ؛ سردی کی بیماری ، ناک سے ریزش
 بہنا۔

— بجزنا ؛ نزلہ بند ہو جانا۔

زَكَاوَت ؛ پاکیزگی ، دیکھو زکات۔

زَكْرَتَا ؛ (ع) مذکر ؛ ایک پیغمبر کا نام۔

زَكْوَاتُ زَكْرَات ؛ (ع) مؤنث ؛ (ا) صدقہ ، خیرات (۲) ارکان
 اسلام کا چوتھا رکن (۳) نصاب سے زیادہ سال بھر

رہنے والے مال کا چالیسواں حصہ راہِ خدا میں دینا ، (۴)
 رمالوں کی اصطلاح کسی اسم یا کلمہ کا صحیحہ تعداد میں
 غلطوں کے مقرر کردہ قیود کے ساتھ پڑھنا۔

زَكِي ؛ (ع) فسادات سے پاک ، نیک ، پاکیزہ۔

ز-ل

زَلَال ؛ (ع) مذکر ؛ صاف پانی ، شیروں پانی ، سرد پانی
 تنہا ہو اوصاف پانی۔

زَلَزَل ؛ (ع) مذکر ؛ (ا) زمین کا اپنا ، بھونچال (۲)
 (مجازاً) کھلبلی۔

— پھینکا ؛ مذکر ؛ زلزلہ سے آگاہ کرنے والا آلہ۔

زَلْف ؛ (ف) ، مؤنث ؛ کاکل ، گیسو ، گندھے ہوئے سر کے بال

— کی گردش: انقلاب زمانہ۔
 — گزرتا جانا: عرصہ ہونا۔
 — نازک ہونا: عزت آبرو سنبھالنا دشوار ہونا۔
 — نظر میں اندھیر ہونا: پریشانی میں کچھ نہ سوجھنا۔
 — کا لہو سفید ہونا: آپس میں محبت نہ رہنا۔
 — کا ورق اُلٹ جانا: زمانہ بدل جانا، زمانے کا درم
 برہم ہو جانا۔

— کی ہوا کھانا: (کنایتاً) زندہ رہنا۔
 — زمانیاں: (ف)؛ زمانے کے لوگ۔
 — زمانی تعین: (ف)؛ ذکر: (تاریخ کی اصطلاح)
 مختلف عہد کی درج بندی۔
 — زمرہ / زمرہ: (ف)؛ ذکر: ایک سبز رنگ کا پتھر۔
 — زمرہ دیں: (ف)؛ سبز، ہرا۔
 — زمرہ: (ف)؛ ذکر: آدمیوں کی جماعت، گروہ،
 — زمرم: (ف)؛ ذکر: بیت اللہ کے کنوئیں کا نام، اُس کنوئیں
 آسپانی۔

— زمرمی: مؤنث؛ آب زمزم رکھنے کا ایک خاص برتن
 (۲)؛ ذکر: آب زمزم دینے والا شخص۔
 — زمرم: ذکر: نغمہ۔

— پیرداز / خواہ / سنج: (ف)؛ راگ گانے والا۔
 — زمزمے کا لہجہ: (موسیقی) گویوں کی نغمے میں بیچ دار آواز
 — زمستان: (ف)؛ ذکر: موسم سرما، جاڑوں کا موسم۔
 — زمیں: (ف)؛ روزگار، وقت، زمانہ۔
 — زمہرہ: (ف)؛ ذکر: کتہہ ہوا کا نہایت سرد طبقہ۔

— زمین: (ف)؛ مؤنث؛ (۱) خاک کی کرہ، (۲) ارض، پرستوی (۳)
 غزل کی ردیف، قافیہ اور وزن (۴) سطح زمین (۵)
 ہر عطر کا لہوہ (۵) کاغذ یا پتھرے کی اصل سطح (۶) زمین
 کا ٹکڑا۔

— آسمان ایک کرنا: (کنایتاً) چھان مارنا، نہایت
 کوشش کرنا۔

— آسار / چھکانا: درہ در پھرانا (۲)؛ (کنایتاً) دیوانہ بنانا۔

— زلفیں چھوڑنا: ایسی زلفیں برہمانا کہ ہلکتی رہیں۔
 — زلزلہ: (ف)؛ ذکر: آگے کا بچا ہوا کھانا۔

— زبا، (ف)؛ (کنایتاً) خوشہ چیں، فائدہ اٹھانے والا
 فیض حاصل کرنے والا۔
 — زبجا: (ف)؛ مؤنث؛ عزیز مہر کی بیوی جو حضرت یوسفؑ
 پر عاشق ہو گئی تھی۔

ز-م

— زمام: (ف)؛ مؤنث؛ باگ، نیکل۔ لگام۔
 — زماں: (ف)؛ ذکر: روزگار، وقت، زمانہ۔
 — زمانہ: (ف)؛ ذکر: (۱) روزگار، وقت (۲) عرصہ، مدت،
 ميعاد (۳) رت، موسم، فصل (۴) عہد، راج، حکومت
 (۵) دور دورا (۶) جگ، قرن (۷) دور (۸) دنیا، عالم
 (۹) (مجازاً) ظلیق، غلو، دنیا کے لوگ۔

— اُلٹ پلٹ ہونا: زمانہ زیر و زبر ہونا۔
 — ایک رنگ پر نہیں رہتا: مقولہ؛ کسی کی حالت
 یکسر ساں نہیں رہتی۔

— بانو نہ ساز تو بازمانہ ساز: (ف)؛ مقولہ؛ اگر
 زمانہ ساتھ نہیں دیتا تو زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے
 آپ کو بدل دینا چاہیے۔

— بڑھتا: (کنایتاً)؛ تجربہ کار ہونا۔
 — بھر: تمام دنیا، سارا جہاں۔
 — زمانہ جاہلیت: ذکر: عرب میں اسلام سے پیشتر
 کا وقت۔

— چھان مارنا: درہ در پھرنا۔
 — زبجا: (کنایتاً)؛ تجربہ کار ہونا۔
 — زبجو زبجو مونا: (ف)؛ (کنایتاً) بڑا انقلاب
 ہونا۔

— ساز: (ف)؛ خود غرض، ظاہر داری برتنے والا۔
 خوشامدی۔

— سے اڑ جانا: تاپید ہو جانا۔

- آسمان کا فرق: بڑا فرق۔
 — آسمان کے قلابے ملانا: نہایت مبالغہ کرنا،
 لاف زنی کرنا۔
 — آسمان ملانا: بے حد مبالغہ کرنا۔
 — اٹھنا: (۱) آرامی کا بیٹھنے یا کرایے پر دیا جانا (۲)
 روزین کا بویا جانا۔
 — اُفتادہ: (ف) گری بڑی زمین، بن ہوئی زمین۔
 — بُلند ہونا: غزل کی بحر کا سخت ہونا، دشوار ہونا۔
 — بیٹھنا: زمین کا دھنس جانا۔
 — پامال ہونا: کسی ردیف، بحر اور قافیہ میں کثرت سے
 غزبیں ہونا۔
 — پانوں کے بیچے سے بچل جانا/ پانوں کے بیچے نہیں تھمنار
 پانوں کے بیچے نہ ٹھہرنا: بڑا وقت آنا، بڑا زمانہ آنا۔
 ثویں ساتھی نہ ہونا۔
 — پر پانوں نہ رکھنا: مغرور ہونا، اپنے آپ کو بہت
 سمجھنا۔
 — پر قدم نہ رکھنا: زمین پر پانوں نہ رکھنا۔
 — پُست ہونا: غزل میں بحر ردیف قافیہ کا مبتذل
 ہونا۔
 — پھٹ جائے اور میں سجاؤں: (مثل) نہایت
 شرمندگی اور زندگی سے بیزار ہوجانے کی صورت،
 ناگہانی موت آجائے۔
 — ٹل جائے اُدریہ نہ ٹلے: مقولہ: (کنایتاً) (۱) ایسی
 مصیبت جو کسی طرح نہ رُکے (۲) ایسا شخص جو اپنی جگہ
 سے مجنبش نہ کرے (۳) ایسا حکم جس کو تعمیل لازمی
 ہو۔
 — شہدائی ہونا: ردیف قافیہ کا چُست نہ ہونا۔
 — دار: مذکر؛ مالک آرامی۔
 — دکھانا: (۱) پکنا، گرا دینا، دسے مارنا (۲) نیچا دکھانا
 پھاڑنا۔
 — دُور: (ف) زمین میں دھنسا ہوا، زمین میں چھپا ہوا۔
- دیکھنا: (کنایتاً) (۱) (موا) قے کرنا، استغراق کرنا (۲) نیچا
 دیکھنا، شرمندگی دکھانا (۳) (کنایتاً) زمین میں دفن ہونا۔
 — سخت آسماں دُور: (ف) (مثل) بے بسی کا مقام۔
 — سر پر اٹھالینا: بہت شور و غل کرنا۔
 — سُست ہونا: ردیف قافیہ اور وزن شکستہ نہ
 ہونا۔
 — سے پیٹھ لگنا: (کنایتاً) قرار پانا، بے قراری دور ہونا
 بیچے جین نہ رہنا۔
 — شعر: راضفت کے ساتھ (ف) موت؛ غزل کی
 ردیف بحر، اور اُس کا قافیہ۔
 — شکستہ ہونا: ردیف، بحر قافیہ کا موزوں دہنا
 ہونا۔
 — طرح کرنا: ردیف، بحر اور قافیہ کا متعین کرنا۔
 — غیر زُرعہ: موت؛ اُفتادہ زمین، بغیر کاشت کی
 ہوئی زمین۔
 — زمیں قسمت: مذکر؛ ایک قسم کی ترکیب۔
 — زمیں کا پانوں تلے سے سُرک جانا/ کا پانوں تلے سے بچل
 جانا/ کا پانوں کے بیچے نہ ٹھہرنا: (۱) حواس ٹھکانے
 نہ رہنا، سراپمہ ہوجانا (۲) بے یار و مددگار ہوجانا۔
 — کا پیوند کرنا: فنا کرنا، دقتانا۔
 — کا پیوند ہونا: (۱) نیست و نابود ہوجانا (۲) مرجانا
 دفن ہونا۔
 — کا تختہ اُلٹ جانا/ کا طبق اُلٹ جانا: (کنایتاً)
 انقلاب عظیم ہوجانا۔
 — کاگز: (کنایتاً) ماما مارا پھرنے والا، ہمیشہ سیر و سیاحت
 میں رہنے والا۔
 — کا نہ آسمان کا: نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ دین کا نہ دنیا
 کا۔
 — کی پوچھنا آسمان کی کہنا: سوال کچھ جواب کچھ۔
 — کی طنائیں کھینچ جانا: مسافت کم ہونا۔
 — گرم ہونا: بحر، ردیف، قافیہ کا چُست ہونا۔

— **وزمان** : تمام زمانہ۔

زن

زَن : مؤنث ؛ (رف) ؛ عورت (۲) زوجہ۔

— **مَدْخُولَة** : (اضافت کے ساتھ) مؤنث ؛ گھر میں ڈالی ہوئی عورت ، واسختہ۔

— **مُرْتَبِدَة** : (رف) مذکر ؛ بیوی کا غلام۔

— **مَنْكُوْهَة** : (اضافت کے ساتھ) مؤنث ؛ نکاح والی عورت۔

زِنَا : (رع) مذکر ؛ حرام ، بدکاری۔

— **بَانَجْرِد** : (رف) نَجْرِد ، مذکر ؛ زبردستی حرام کرنا۔

— **كَار** : (رف) زنا کرنے والا ، بدکار۔

زِنَاتَا : مذکر ؛ (۱) سن سناہٹ ، سائیں سائیں ، کسی شے کی چیز کے زور سے پھینکنے کی آواز (۲) بہت تیزی کرنا۔

زِنَاخ : مؤنث ؛ مرغ یا کبوتر وغیرہ کے سینے کی دو شاخ ہڈی۔

زِنَاخِي : مؤنث ؛ (۱) روباہش عورتوں کی اصطلاح ؛ سہلی۔
گوئیال ، نگوڑی۔

زِنَار : (رع) مذکر و مؤنث ؛ جینو۔

— **بِنْدُ دَار** : (رف) برہمن ، زنار باندھنے والا۔

زِنَا زِن : تیزی سے۔

زِنَا شَوِي : (رف) مؤنث ؛ مباشرت ، زنا و شوہر کے تعلقات۔

زِنَانَة : مذکر ؛ (۱) زخما ، ہجڑا (۲) پردہ نشین عورتوں کے رہنے کا مکان (۳) پردہ دار عورتیں (۴) پردہ (۵) نامرد ، ڈھیلا

زِنَان مَشْتَرِي : وہ مرد جو عورتوں کی سی حرکتیں کرے۔

زِنَانِي : (۱) عورت (۲) زن سے منسوب۔

زَنْبُور : مذکر ؛ (۱) بھڑ ، شہد کی کٹی (۲) سنسی کی طرح گول منہ کا ایک آلہ۔

زَنْبِيل : (زَنْبِيل) (رف) مؤنث ؛ ٹوکری ، جھولی ، کاندھ لائی ٹوکھیل ؛ (رع) مؤنث ؛ سونٹھ۔

زَنْجِير : (رف) مؤنث ؛ (۱) کھڈی (۲) بیڑی (۳) لہجے کی حلقہ دار کڑیاں ، سلسلہ (۴) فیل کے ساتھ تعداد بتانے کا کلمہ (مثلاً دس زنجیر فیل بہ معنی دس عدد فیل)۔

— **زِنَانَا** : (۱) رکناٹیا (آزادی یا رہائی کی خواہش میں بے تاب ہونا (۲) بہت جوش میں بھرا ہونا ، بہت غصے میں بھرا ہونا۔

— **دِنَا** : کھڈی چڑھانا۔

— **عَرَش كَهْر كَانَا** : (اضافت کے ساتھ) رکناٹیا ، دُعا کی قوت حاصل کرنا ، خدائے تعالیٰ سے مُراد حاصل کرنا۔

— **كِي جَهَنكَا** : زنجیر کی آواز۔

زَنْجِيرَة : (رف) مذکر ؛ (۱) زنجیر کی شکل کا بٹا ہوا ڈورا (۲) کپڑے یا سی اور چیزوں پر حلقہ دار سلسلہ ، لہریا ، کنٹھا۔

— **بَنْدِي** : مؤنث ؛ (رکناٹیا) ایک چیز کا دوسری درجہ چیز کے واسطے لازم ہونا۔

زَنْجَا : (رف) مذکر ؛ (۱) عورتوں کی سی چال ڈھال والا (۲) زنا نہ مرد ، بزدل ، ہجڑا۔

زَنْجِدَان : (رف) مؤنث ؛ ٹھوڑی۔

زَنْجِدَان : (رف) مذکر ؛ قید خانہ ، جیل۔

زَنْدَانِي : (ف) ؛ قیدی۔

زَنْدِگَانِي : دیکھو زندگی۔

زَنْدِگِي : (رف) مؤنث ؛ حیات ، عمر۔

— **دُو بھَر ہونا** : زندگی و بال ہونا۔

— **سے ہاتھ اٹھانا** : زندگی سے مایوس ہونا ، مرنے پر آمادہ ہونا۔

— **سے ہاتھ دھونا** : مرگ پر آمادہ ہونا ، زندگی سے مایوس ہونا۔

— **مُسْتَعَار** : (اضافت کے ساتھ) چند دن کی زندگی ، عاریتاً مانگی ہوئی زندگی۔

زِنْدَة : (رف) ؛ (۱) جیتا ، ذی حِس (۲) (آگ کے لیے)

مشعل ، سلگنے والی (۳) نرو تازہ ، سرسبز ، شاداب۔

— **بَاد** : (رف) ؛ دُعا ، نعرہ (زندہ رہو)

— **باشش** : (ف) (دعا) (۱) سلامت رہو (۲)
شاباش - مرجبا۔

— **دُرگور** : (ف) ؛ بے حد اید اور تکلیف میں مبتلا۔

— **دل** : (ف) ؛ خوش طبع، خوش مزاج، ظریف۔

— **ہونا** : کسی دعوات کے گنتے کا اپنی اصلی حالت پر آجانا۔

— **نزدیق** : کافر، بے دین۔

— **زنادیق** : (جمع زنادیق) ؛ بے دین، کافر۔

— **زن زک** : تیزی سے۔

— **زنگ** : ZINC (انگ) ، مذکر ؛ جست ، ایک قسم کی دعوات۔

— **زنگوگرافی** : ZINCOGRAPHY (انگ) ، مؤنث ؛ جست کی تختیوں پر چھاپنے کا فن۔

— **زنگ** : (ف) ، مذکر ؛ (۱) لوہے کا ٹیکس (۲) گھنٹی (۳) کدورت۔

— **آلود / آلودہ / خوردہ** : (ف) ، مؤنث ؛ لگا ہونا۔

— **کاکھا جانا** : مورچے سے لوہے کا بسیدہ اونا کارہ ہو جانا۔

— **زنگی** : (ف) ، ملک زنگ کا باشندہ ، حبشی۔

— **ہڑ** : مؤنث ؛ کالی ہڑ چھوٹی ہڑ۔

— **زنگار** : (ف) ، مذکر ؛ تانبے کا ساڑ، نیلا تھوٹھا۔

— **کاسچا ہا** : زخیم کی آلائش کاٹ کر نکال دینے والا چھاپا۔

— **زنگاری** : (ف) ، زنگار کے رنگ کا، سبز، ہرا۔

— **زنگولہ** : (ف) ، مذکر ؛ گھٹنا، جرس۔

— **زہنہار / زہنہار** : (ف) ؛ (کھربانیک اور تنبیہ کا) (۱) ہرگز۔ (۲) نفی کی تاکید کے لیے (۳) کبھی اثبات کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔

ز-و

— **زو** : ZOO (انگ) ، مذکر ؛ چڑیا گھر۔

— **زوار / زوار** : (ع) ؛ (جمع زوار کی) زیارت کرنے والے

— **زوال** : (ع) ، مذکر ؛ (۱) کمی، گھٹاؤ، آٹا، تنزل (۲) بنی

اور عروج کا جانا۔

— **کا وقت** : آفتاب کا خط نصف النہار سے ہٹنے کا وقت

دوپہر کے بعد کا وقت۔

— **پذیر** : (ف) ؛ قنا ہونے والا، انحطاط پذیر۔

— **زوائد** : (ع) ، مذکر ؛ فضول، خارج از بحث باتیں۔

— **زوج** : (ع) ، مذکر ؛ (۱) اجنت، جوڑا، عورت اور مرد کے جوڑے

(۲) شوہر و خاتون (۳) وہ عدد جو کسر کے بغیر نصف ہو سکے۔

— **زوجہ** : مؤنث ؛ جوڑو، بیوی۔

— **زوجہ مطلقہ** : مؤنث ؛ طلاق دی ہوئی عورت۔

— **منکوحہ** : مؤنث ؛ بیاہی ہوئی عورت۔

— **زوجیت میں لانا** : عقد کرنا، نکاح کرنا۔

— **زوجین** : مذکر ؛ (زوج کا تثنیہ) ؛ زن و شوہر۔

— **زود** : (ف) ، شاب ، جلد۔

— **آشنا** : (ف) ، بہت جلد مائل جانے والا، جلدیار بن جانے والا۔

— **پیشمان** : (ف) ؛ بہت جلد بچھانے والا۔

— **رس / فہم** : (ف) ؛ تیز فہم۔

— **ریج** : (ف) ؛ جلد خا ہو جانے والا۔

— **تویس** : (ف) ؛ تیز لکھنے والا۔

— **زور** : (ع) ، مذکر ؛ دغا، فریب، مکر۔

— **زود** : (ف) ، مذکر ؛ (۱) قوت، توانائی (۲) قابو، اختیار،

بس (۳) بہت (۴) بے ڈھب، عجیب و غریب، اونگھا

(۵) خوب، اچھا، عمدہ (۶) زبردستی (۷) کوشش

سعی، جدوجہد (۸) (شطح) ایک ہرے پاپیادے کو دگر

ہرے پاپیادے کا سہارا (۹) سہارا، حمایت۔

— **آزمانا** : طاقت آزمائے، طاقت دکھانا، زور دکھانا

— **آور** : (ف) ، قوی، جاہل۔

— **آوری** : (ف) ، مؤنث ؛ (۱) طاقت، توانائی (۲)

زبردستی۔

— **زور / زوری** : مؤنث ؛ زبردستی۔

— **زور بازو** : (ف) ، مذکر ؛ اپنی ذاتی قوت۔

زُفدَل: (دم) مذکر؛ قوت۔

پڑنا: (۱) بوجھ پڑنا، دباؤ پڑنا (۲) طاقت صرف ہونا، زیادہ محنت پڑنا (۳) مجبور کیا جانا، دیا جانا۔

پیکڑنا: قوت حاصل کرنا۔

تورنا: زور مٹانا، گھنٹ مٹانا، قوت زائل کرنا۔

چلنا: بس چلنا، تابو چلنا۔

ڈار: (رف)؛ (۱) قوی (۲) جوش میں بھر ہوا۔

دینا: (۱) (اصطلاح) شہر کے ہرے کو کسی دوسرے ہرے کا سہارا دینا (۲) قوت دینا، زور بڑھانا۔

ڈالنا: (۱) دبانا، مجبور کرنا، تنگ کرنا (۲) دباؤ ڈالنا، کسی طرف زیادہ طاقت دکھانا۔

زور شلہ: تیزی و تسدی، پرحماؤ، شدت، جوش و خروش زور شور سے؛ بڑی طاقت سے، جوش و خروش سے شان و شوکت سے۔

ضابطہ: (عو) مذکر؛ جبر، زبردستی۔

طبع / طبیعت: (اعانت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ معنوں پر پیدا کرنے کی قوت۔

قلم: (عم) مذکر؛ سنتی، زیادتی۔

قلم: (اعانت کے ساتھ) مذکر؛ تھیر کا زور۔

کرنا: (۱) طاقت آزمایا (۲) کوشش کرنا (۳) دوپہلو کرنا (۴) باہم لڑنا (۵) بڑھانا، ترقی پر ہونا۔

نہ چلنا: قابو نہ چلنا۔

زورق: (ف) مؤنث؛ (۱) چھوٹی کشتی (۲) کشتی نما ٹوپی (زورقی)۔

زُوف: تَف، لعنت، لعن طعن۔

زاف کرنا: لعنت ملامت کرنا۔

زولوجی: (انگ) مؤنث؛ ZOOLOGY

علم حیوانات۔

زولوجیکل پارک: ZOOLOGICAL PARK

(انگ) مذکر؛ دیکھو، زو

زون: (انگ) مذکر؛ پٹی، علاقہ، ZONE

خط، منطقہ۔

زونل: (انگ) (۱) منطوقوں کا، ZONAL
منطوقوں میں بنا ہوا (۲) علاقہ دار۔

ز۔

زہ: (رف)؛ (۱) جُفنا (۲) دامن، آستین اور گرمیاں کے کنارے کنارے ٹانگے کی ڈوری، فیتہ (۳) مؤنث؛ کمان کا پتہ۔

زہ گیر: (ف) مذکر؛ چلنے کی گرفت کے لیے سینگ یا ہڈی کی بنی ہوئی انگوٹھی کی مثل ایک شے۔

زہار: (ف) مؤنث؛ شرم گاہ۔

زہد: (ع) مذکر؛ تقویٰ پر ہمیزگاری، دنیاوی چیزوں سے بے رغبت ہونا۔

زہر: (ف) مذکر؛ (۱) سَم، بیس (۲) رکنائیا، خشم، غضب (۳) رجاؤ (۴) تلخ، کڑوا (۵) ناگوار، بُرا (۶) مُلک، قاتل، مُہیز (۷) آزار رساں۔

آلود / آلودہ: (ف) زہریلا، زہر کا بھجا ہوا۔

آب: مذکر؛ (۱) زہر آلود پانی (۲) رکنائیا، عم و غصہ۔ (۳) رکنائیا، پیشاب۔

اگلتا: (۱) رکنائیا، فتنہ اٹھانا، فتنہ انگیز باتیں کہنا جلی کسی کہنا، قہر و غضب کا اظہار کرنا (۲) زہر منہ سے نکالنا (۳) دشمنی نکالنا، بدلہ لینا (۴) لگائی بھائی کرنا۔

باد: (ف) مذکر؛ ایک مرض جس میں بچوڑے پھنسی کا زہر جسم بھر میں پھیل جاتا ہے۔

بونا: (رکنائیا) بُرائی کرنا، بُرائی یا فساد کی بنیاد ڈالنا۔

بھری آنکھ: شوخ آنکھ، غصہ بھری ہوئی نظر

بھری باتیں: فتنہ و فساد کی باتیں۔

خستہ: (ف) مذکر؛ ناگواری اور شہر مندگی والی ہنسی۔

ڈار: زہریلا۔

کی پڑیا / چھری / گانٹھ: (رکنائیا) مُفسد، شریر،

زیارت: (ع) موت؛ (د) ایک اصطلاح نحو (۲) زیادتی
پر حالاً اہلاد کرنا۔

زیارتی: موت؛ (ا) کثرت، (۲) افراط، (۳) جبراً ظلم، (۴) زبردستی۔
زیادہ: افزوں، فاضل

تر: بہت زیادہ، بیشتر۔

حد ادب: زیادہ لکھنے سے ادب مانع ہے۔

زیارت: (ع) موت؛ کسی متبرک مقام یا چیز یا آدمی کا
دیکھنا (۲) کسی بزرگ کا مقبرہ (۳) سلام (پڑھنے کے
ساتھ)

گاہ: (ف) موت؛ درگاہ، آستانہ، متبرک مقام۔

زیاں: (ف) مذکر؛ نقصان، خسارہ۔

زینت: (ف) موت؛ زینت، آرائش، خوش نمائی،
رودنی۔

من کرنا: کسی چیز کو پہننا، جسم پر لگانا۔

دینا: موزوں ہونا، خوش نما ہونا، رودنی کا
باعث ہونا۔

وزینت: موت؛ آراستگی، بناوٹنگار۔

زیبا: (ف)؛ زیب دینے والا، موزوں، خوش نما۔

زیبائش: (ف) موت؛ آرائش، زینت، خوش نمائی۔

زیبائی: (ف) خوبی، خوش نمائی۔

زیبیرا: ZEBRA (ہنگ) مذکر؛ (۱) گورخ،

ایک چوبایہ۔ (۲) گھوڑے کے مانند ایک جانور جس پر

سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔

زیتون: (ع) مذکر؛ ایک مشہور درخت جس کے روغن

(تیل) کو زیت کہتے ہیں۔

زیرٹ: موت؛ یادہ گونی، گپ، فضول کی باتیں۔

زیشیا: یادہ گو، زیرٹ ہانکنے والا۔

زیرز: (ف) موت؛ مدغم آواز، دھمی آواز، نیچا سُر۔

زیر و بزم: (ف) مذکر؛ نیچا او نیچا سُر۔

زیر: (ف) مذکر؛ (۱) کسرہ (۲) نیچے (۳) کم زور، کم طاقت۔

انداز: (ف) مذکر؛ حق کے نیچے بھانے کا پڑا پڑا۔

کتے گھونٹ: بہت ناگوار۔

لگنا: بڑا لگنا، بے حد ناگوار گزارنا۔

مار: زہر کا اثر دور کرنے والی چیز۔

مار کرنا: مجبوراً کھانا، ناپسند چیز کھا لینا، جی نہ چاہنے

پر بھی کھا لینا۔

معلوم ہونا: ناگوار ہونا۔

طاوینا: زہر گھول دینا، فتنہ و فساد کی باتوں سے کسی

بات کو ناگوار کر دینا۔

مہرہ: (ف)؛ مذکر؛ زہر جذب کر لینے والا ایک

قسم کا پتھر۔

مہرہ خطائی: (ف) شہر خطا کا نہایت عمدہ اور

خوش رنگ زہر مہرہ۔

میں بھجانا: تلوار یا چھری کی دھار کو زہر آلود پانی

میں بھجانا۔

ہلا ہل: (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر؛ قاتل زہر،

مہلک زہر۔

زہر ہلا: زہر دار، فتنہ انگیز۔

زہرا: (ع) حضرت فاطمہ کا لقب۔

زہرہ: (ف) مذکر؛ (۱) پتلا، ایک اندرونی عضو کا نام (۲)

رکنائیت، دلیری، شہامت۔

آب ہونا / پانی ہونا: رکنائیت، خوف زدہ ہونا،

حوصلہ پست ہونا۔

زہرہ: (ع) موت؛ ایک ستارے کا نام، جو تیسرے آسمان

پر ہے۔

جھیں: (ف)؛ مشوق، ماہ سپیکر، خوبصورت۔

زہے: (ف)؛ کلہرے، آفریں۔

نصیب: خوش اقبال۔ اچھے نصیب۔

زی

زیاد: (ف)؛ زیادہ کا مخفف۔

- کاپڑ: بلوچ میں دبا ہوا، مقروض۔
 — کاپڑ کرنا: کسی قسم کا بار کسی کی ذات پر عاید کرنا۔
 — کاپری: موٹن ڈاٹرز میں مبتلا ہونا (۲) پریٹنی جو زیادہ مصارف کی وجہ سے ہو۔
 — کبند: (ف) مذکر؛ گھوڑے کا تنگ۔
 — کپانی: موٹن؛ ایک قسم کی زنانی جوتی، سیلینز۔
 — کچوریز: (ف) (ع) (تالونی اصطلاح) زیر حکم، زبرد قبیلہ، غور طلب کسی معاملہ پر غور ہونا۔
 — جامہ: (ف) مذکر؛ گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالنے والا کپڑا چار جامے کے پیچھے کا کپڑا۔
 — حراست: (اضافہ کے ساتھ) جو حالات میں ہو۔
 — دست: (ف)؛ باحت، عاجز، مغلوب، کم زور، کم طاقت۔
 — سایہ: (ف)؛ (۱) حمایت میں، پناہ میں، ہم سایے میں (۲) قریب، پاس۔
 — سماعت: (ع) (ف) (تالونی اصطلاح) وہ مقدمہ جس پر عدالتی کارروائی چل رہی ہو۔
 — کرنا: مغلوب کرنا، فتح کرنا، پھاڑنا۔
 — کب: (اضافہ کے ساتھ) (ف)؛ (کنایتاً) آہستہ۔
 — مشق: (ف) (۱) مشق کے کاغذات کے پیچھے رکھنے کا چمڑا یا دھلی (۲) ہاتھ پر چڑھا ہوا، رواں۔
 — نظر رکھنا: (اضافہ کے ساتھ) (۱) حراست میں رکھنا (۲) نگاہ کے پیچھے رکھنا، بار بار دیکھتے رہنا۔
 — زیر نگین: (اضافہ کے ساتھ)؛ تصرف میں، حکومت میں، مطیع و مستقر۔
- وکالا: (ف) مذکر؛ پیچھے اُپر۔
 — وزیر: (ف) (۱) کسر و فتح (۲) تو بال، الٹ پلٹ۔
 تباہ، درہم برہم۔
 — زیریں: (ف)؛ پیچھے کا پائیں۔
 — زیر ک: (ف)؛ دانا، دانش مند۔
 — زیرگی: (ف)؛ موٹن؛ عقل مندی، دانائی۔
 — زیرگی: (زی۔ رگی) (ف)؛ موٹن؛ پھولوں میں سنج کی پیدائش کا عمل۔
 — زیرو: ZERO (انگ) مذکر؛ صفر۔
 — زیرو: (ف) مذکر؛ (۱) ایک خوش بودار باریک بیج (۲) ذریعہ۔
 — زلیست: (ف)؛ موٹن؛ زندگی، حیات۔
 — زین: (ع)؛ موٹن؛ آراستہ کرنا۔
 — زین: (ف)؛ مذکر؛ چار جامہ۔
 — زینش: (ف)؛ مذکر؛ زین کے اوپر ڈالنے کا کپڑا۔
 — زینت: (ع)؛ موٹن؛ زیب۔
 — زین خاں: مذکر؛ عورتوں کا ایک فرضی جن۔
 — زین زینٹ: موٹن؛ (کنایتاً) یا وہ گئی، بیہودہ، بکواس۔
 — زینہ: (ف)؛ مذکر؛ سیرھی۔
 — زینے کے ڈنڈے: قدم رکھ کر سیرھی پر چڑھنے کے ڈنڈے۔
 — زینہار: (ف)؛ زینہار، ہرگز۔
 — زیور: (ف)؛ مذکر؛ (۱) گہنا، پاتا (۲) پھولوں کا زیور (۳) (کنایتاً) زیب و زینت۔
 — بڑھانا: زیور اتار ڈالنا۔
 — میں کد ارہنا: بہت سا زیور پہنے رہنا۔



زنگاہی، رن، مونتھ؛ وسیع النظری، گہری نظر۔
 زنگد، رن؛ (۱) زرنشت کے زمانہ کی زبان (۲) زرنشت کی
 ایک کتاب کا نام، آتش پرست جسے آسمانی کتاب
 خیال کرتے ہیں۔
 زور پدہ؛ رن؛ درہم برہم، پریشان۔
 مؤ؛ رن؛ (۱) بھرے ہوئے بال (۲) بکھرے
 بال بھے ہوئے بالوں والا۔
 زریان؛ رن، رصفت، خشم ناک، تند خو،
 غضب ناک۔

زرے؛ اردو حروف تہجی کا ایک حرف حساب ہے
 (ابجد میں اس کے سات عدد ہیں۔
 زاز؛ رن؛ بے ہودہ گو۔
 زازخالی؛ رن، مونتھ؛ بے ہودہ گویا۔
 زالر؛ رن، مذکر؛ اولا۔
 زاری؛ رن، مونتھ؛ اولے پڑنا۔
 زردگی؛ اولوں سے چوٹ کھانا۔
 زرف؛ رن، گہرا اور عمیق۔
 زمینی؛ رن، مونتھ؛ معاملہ کی تہ میں اتر جانے والی صفت

س

س : مذکر۔ اردو حروف تہجی کا ایک حرف، سین، مہلہ، سین غیر منقوٹ، حساب جمل (ابجد) میں اس کے ساتھ عدد ہیں۔

س —

سا : (ف) (حرف تشبیہ)، (۱) شل، مانند (۲) گویا، (۳) مذکر؛ پہلے سُ سے نکلنے والی آواز (موسیقی کے سرگم میں)۔
سائبر / سائبر : مذکر۔ (۱) بارہ سنگھ، (۲) ہرن یا بارہ سنگھے کی کھال کا چمڑا، (۳) نقب زنی کا آکہ۔

سایج : (ص) مذکر؛ ساتواں، ساتواں حصہ؛ پڑا۔

سابق : (ص)؛ اگلا، پہلا، سبقت لے جانے والا۔

الذکر : (سابقہ ذکر)؛ (ص)؛ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تذکرہ بالا، مذکورہ بالا۔

سابقاً : (وج)؛ پہلے، اول دفعہ، قبل ازین۔

سابق دستور : قدیم دستور کے مطابق۔

سابقہ : مذکر (۱) واسطہ، معاملہ، (۲) جان پہچان، (۳) اصطلاح قواعد

وہ لفظ جو بعض لفظوں کے پیشتر آ کر ایک مرکب لفظ بنا آئے ہے

مثلاً گل ریز میں لفظ گل

سابقہ طریقہ : معاملہ طریقہ، کام طریقہ، واقعیت ہونا۔

سابقین : (ص)؛ مذکر، اگلے زمانے کے لوگ، پرانے آدمی۔

سابو دانہ : مذکر، ساگو دانہ، ایک قسم کی خوراک۔

سات : عدد سات۔۔۔۔۔ معہ

— اقلیم : ہفت اقلیم، پوری دنیا۔

— پارچے کا خلعت : بادشاہوں کی طرف سے دیا جانے والا بڑا خلعت۔

سات پانچ کرنا : (۱) جھگڑا لگانا، بھت کرنا، تکرار کرنا، (۲) عذر کرنا، حیلہ کرنا۔

— پردے : (۱) آنکھ کے سات پردے، (۲) سات آسمان، (۳) ساز کے سات پردے،

— پردے لگنا : (عو)؛ (طنزاً)؛ بے پردہ عورت کا ذرا خوش حال ہو کر پردے کا خاص اہتمام کرنا۔

— پردوں / قفلوں میں رکھنا : بہت حفاظت کرنا بہت احتیاط سے رکھنا۔

— پشت : مؤنث؛ (۱) سات پیرھی، (۲) دکنایتا، تمام خاندان، تمام نسل۔

— پشت کی ناک کٹنا : پورے خاندان کی آبرو جانا۔

— پھیرے : مذکر (۱) ہندو دہلہا وہن کی شادی کے وقت سات پھیروں کی رسم، (۲) دکنایتا، ہندوؤں کی شادی۔

— پیرھی : مؤنث؛ سات پشت۔

— تووں سے منہ کالا کرنا / تووں کی سیاہی سے منہ کالا کرنا : (عو) بہت دلیل کرنا، بے انتہا نفرت کرنا۔

— خط : مذکر؛ خوش نویسیوں کے سات مشہور خط؛ (۱) ٹلٹ، (۲) محقق (۳)، توجیح (۴)، ریکان (۵)، رفاع (۶) نسخ (۷)، تعلیق

— دریا : سات سمندر۔

— دریا درمیان : (عو)؛ توج، خدا نہ کرے۔

— سُر : مذکر۔ علم موسیقی کے ساتوں سُر، (سا، رے، گا، ما، پد، دھلا، نی)۔

— سمندر : مذکر (مہاز)، (۱) دنیا کے کل بحر عظیم (۲) ایک قسم کا لڑکوں کا کھیل۔

سات سمندر مار: بہت دوز۔

سنگار: نذرہ عورتوں کی سات آرایشیں۔

سوجھ ہے کما کے بٹی حج کو چلی: (ش) کثرت سے گناہ کر کے توبہ پر آمادہ ہونا۔

سہانوں کا ہاتھ لگوانا / سہانوں کو کھلانا: سات زندہ ضلالت والیوں سے شگون نیک کی غرض سے بیاہ کا جوڑا سلوانا / انھیں منت کا کھانا کھلانا۔

سہیلوں کا جھمکا: نذرہ، پروین، عقدہ تریا۔

قرآن درمیان: (جو)؛ نوح: خدا کرے۔

ساتویں آسمان پر مزاج ہونا: (جو)؛ کنایتاً، بہت اترانا، بڑا گھنٹہ کرنا۔

ساتر: (ع) نذرہ، چھپانے والا۔

ساتھ: نذرہ: (۱) ہم راہ (۲) ہم راہی، رفاقت، شرکت، ساجھا میں ملا کا کھیلا، نذرہ، بچپن کا دوست

لے کر ڈوبنا: (کنایتاً) کسی کوتاہی میں اپنے ساتھ شریک کرنا۔
والا: (۱) ہم راہی (۲) سازندہ۔

ساتھی: (۱) ہم راہی، مددگار، رفیق، (۲) ایک ساتھ

سنگتی: نذرہ، ہم راہی، رفیق۔

ساتا: (۱)؛ نذرہ (۱) عوض، معاوضہ، (۲) ہنڈی کا باہمی لین دین۔

ساتن: نذرہ، اطلس، ایک قسم کا دبیرہ شی کپڑا۔

ساتھ: ۹۰۔ ۹۔

ساتھا: نذرہ، ساتھ برس کا آدمی۔

پاٹھا: بڑی عمر میں اچھی صحت والا، ساتھ برس کی عمر میں ہونے کے آثار والا۔

پاٹھا پسی کھسی: (مقولہ)؛ ساتھ برس تک مرد جوان رہتا ہے اور بیس سال کی عورت عمر سے ڈھل جاتی ہے۔

ساج: نذرہ: (۱) کشتیاں بنانے کی لکڑی (۲) تلواروں کو پیش کرنے کا پتھر۔

ساجد: (ع)؛ نذرہ، سر جھکانے والا، سجدہ کرنے والا۔

ساجن: (۱)؛ نذرہ، پیرا، محبوب، شوہر۔

ساجنا: (۱)؛ (۲) سنا، سہانا، (۳) محبوب۔

ساجھا: نذرہ، شرکت، کسی کام میں شریک ہونا۔

ساجھی: شریک، جتنے دار۔

ساجھے کی ہانڈی جو راہے پر چھوٹی ہے: (ش) جتنے داری کے کاموں میں جھکا ضرور ہوتا ہے۔

ساجھی، ڈرکی، موٹ، ہمراہ، شادی کی ایک دم، مہندی کی دم ساجھی: (ع)؛ جا دو گر۔

ساجھی: موٹ؛ جا دو گری۔

ساجھل: (ع)؛ نذرہ، دریا یا سمندر کا کنارہ۔

ساجھٹ: (ف)؛ موٹ، (۱) بناوٹ، ترکیب، (۲) بنائی ہوئی بات، فریب ساجھی، (ف)؛ بناوٹ۔

ساختہ: (ف)؛ مصنوعی، جھٹا، نقلی، بنایا ہوا۔

پر داختہ: بنایا ہوا، سنوارا ہوا۔

سادات: (ع)؛ جمع سید کی، نذرہ (۱) سید کی قوم، (۲) حضرت علیؑ کی اولاد یعنی حضرت فاطمہؑ سے۔

سادس: (ع)؛ نذرہ، چٹا، ششم۔

سادگی: (ف)؛ موٹ؛ (۱) صفائی، (۲) بے تکلفی، راست بازی، صاف دلی، (۳) سادہ لوحی، بھولا پن، اچھے ہنری۔

سادھ: (ف)؛ نذرہ (۱) بے ریش، (۲) صاف، بغیر لکھا ہوا، (۳) بغیر آرایش زیبائش کی چیز، (۴) بے ہنر، بے سلیقہ، بھولا بھلا، (۵) خالص، بے عیب، (۶) صاف دلی، بے تکلف، (۷) بے نقش و نگار،

(۸) بے وقوف، (۹) خالی۔

پر کار: (ف)؛ نذرہ، (کنایتاً) شوخ و عیار معشوق۔

دل: (ف)؛ صاف دلی، بھولا۔

دلی: (ف)؛ موٹ؛ بھولا پن، بے وقوفی، صاف دلی۔

رُخ / رُو / رُو / ہزار: (ف)؛ (کنایتاً) جو ان بے ریش، معشوق۔

کار: ہنر، سونے چاندی کا زین بنانے والا۔

لوح: (ف)؛ بے وقوف، بھولا بھلا،

مزاج: بے تکلف، بے بناوٹ مزاج والا، صاف دل۔

سادوی: موٹ؛ (۱) بھولی بھالی، بے تکلف، نادان، گوری، صاف بے نقش و نگار، (۲) وہ پتنگ کی ڈور جس پر بانجھا ہوا۔

تو: (کنایتاً) معمولی عادت۔

سادیت: (سا۔ دی۔ یت)؛ موٹ؛ (نفسیاتی اصطلاح) دوزخ

دوسروں کو اذیت پہنچانے کی لذت حاصل کرنے کی فطرت و کیفیہ

(انگ) : SADISH

سادھ : (۵) نڈرہ پارساہ پر سزگار۔

سادھن : (۵) نڈرہ گوشش، تندرہ، زریعہ، سبب (۵) آپاتے۔

سادھنا : (۱) سنبھان، روکنا، تھامنا (۲) اختیار کرنا (۳) مشق کرنا۔

(۴) پانا، مانوس کرنا (۵) روکنا (سائنس)۔

سادھنی : (۵) موت، وہ آکر جو بخاریوں اور مسلمانوں کے پاس رہتا ہے ٹیڈ

سادھو : نڈرہ : (۱) پارساہ پر سزگار، صاف دل (۲) جوگی، سیراگی۔

سچہ : (کیناٹا) : مکار، فریبی۔

سار : (۱) اؤنٹ۔

سار : (۲) نڈرہ شتریان، اؤنٹ چلانے والا۔

سار : (۵) وزن، قیمت، مٹن۔

سارا : خالص پورا، مکمل، تمام

سارن جانا دیکھے تو آدھا دیکھے بانٹ : (ش) جب مکمل

اسباب کا نقصان ہوتے دیکھے تو مکمل کا خیال چھوڑ کر بھٹا ہوا

لگے اسی پر قناعت کرنا چاہیے۔

سارن تقدیر کا ہے : (مقولہ) : نوشتہ تقدیر پورا ہو کر رہتا ہے

سارن سر پر اٹھالینا : بہت شور و مغل مچانا۔

سارن خدائی : مکمل خلقت۔

سارن ایک طرف، جوڑو کا بھائی ایک طرف : (ش) :

یہ زن مردوں کا وصف ہے۔

سارن کا جھوٹا : بہت جھوٹ بولنے والا۔

سارن میں ایک ہی چاول ٹٹولتے ہیں : (ش) : جڑ سے

مکمل کا حال معلوم ہوجاتا ہے۔

سارن میانیاں اور ایک ہی پتھر میانیاں : محنت بہت لاد

فائدہ کم۔

سارن چاروی اور یہ معلوم ہوا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد

(ش) : سب مکمل مطلب و سمجھنا، بات سمجھنے کی مطلق صلاحیت نہ ہونے

سارن چاروی چھوڑنا : (ش) : ساری عمر ایسے کاموں میں ضایع

کی جس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔

سارن دن اؤنی اور رات کو چر خاؤنی : (ش) :

وقت پر کام نہ کرے اور بے وقت کام کرے۔

سارن اؤنٹ ہڈنا : (ش) : جو شخص ہڈنا ہو جاتا ہے سب

الزام اسی کے سر آتے ہیں۔

سارنٹ : SERGEANT : (انگ) : فوجی حکم پوریس کا ایک

عہدہ دار، سولدار۔

سارنٹ : نڈرہ : قاز۔ لمبی ٹانگوں والا ایک آبلی پرندہ

سارنٹ : (ع) : نڈرہ : چور۔

سارنگ : (۵) نڈرہ : (۵) دیک کی ایک رنگینی کا نام، (۶) شہد کی بڑی

مکتی، (۳) ہادل، گھٹا، (۴) مور کی آواز، جھنکار (۵) پیہا۔

سارنٹا چھڑنا : (کیناٹا) : کسی کو چھڑ کر اپنے سر بلا لینا۔

سارنٹ : موت، ایک قسم کے باجے کا نام۔

سارنٹا : سارنٹ کی ایک قسم،

سارنٹیا : سارنٹ بجانے والا۔

سارنٹ / سوری : SORRY : (انگ) : اظہارِ معذرت یا افسوس کا کلمہ

سارنٹ : (ع) : سرایت کرنے والا

سارنٹ : موت، ایک قسم کی لمبی دھوتی جسے اکثر عورتیں آدمی باندھتی آدمی

اڑھتی ہیں۔ سارنٹ۔

سارنٹو : (۵) نڈرہ : سالی کا خاندان، ہم زنت۔

سارنٹو : (۵) فصل ریح جس میں گیہوں، چنا، شتر، ارہر وغیرہ آج

پیدا ہوتے ہیں۔

سارنٹ : (۵) نڈرہ : (۱) سامان، اسباب (۲) باجے، مزاجیہ (۳) جنگ

کے ہتھیار، سامان جنگ (۴) میل بول، سارنٹ، ربط ضبط، (۵)

میل بول جو کسی کی مخالفت میں ہو (۵) دوست، سرانجام، (۶)

سارنٹ، موافقہ (۵) شل، مانند، تناسب، مثال، (۸) ہواقت

میل، ٹاپ، (۹) ناپنے کا سامان (۱۰) صدری کے اوپر کا فیتہ،

گھنٹیاں وغیرہ (۱۱) ہندوق کا سامان (۱۲) گھونٹے کا سارنٹ،

زیہ (۱۳) گاڑی اور اس کے کا سارنٹ (۱۴) کون گھونٹے کو کوڑھتے

کرنے کا زور۔

سارنٹ : نڈرہ : سارنٹ، میل ٹاپ۔

سارنٹا : سارنٹا شروع کرنا۔

سارنٹو : معرکہ آواز دینے والا، سانکی ترکیب، چوٹی کا کوئی ٹیڑ

سازش: (ن)؛ موتھ؛ کسی کے خلاف گتھ جوڑ۔
 سازشی: (۱) سازش کرنے والا (۲) فریبی۔
 سازگاہ: (۱) مبارک، موافق، لائق۔
 سازگہ: (۱) سازگہ، طبعی، سازبھانے والا۔
 ساس: SAUCE (انگ)؛ نڈرہ، تلی چینی، شوربا۔
 پان: PAN؛ (انگ)؛ کرچھا، چھوٹی کڑاہی بس ہیں دستہ لگا ہوتا ہے۔
 ساس: موتھ؛ جوف یا خاوند کی ماں۔
 کے آگے: بھو کی بُرائی: (دش)؛ کسی کی تعریف اس کے دشمن کے سامنے کوئی قدر نہیں رکھتی، دوست کی بُرائی دوست کے آگے بے جا ہے۔
 ساسانی: (ن)؛ نڈرہ، شاہان ایران کا ایک خاندان۔
 ساسنا: (۵)؛ جرمانہ کرنا، دھکی دینا۔
 ساطح: (ع)؛ بلند (جمع سواطح)۔
 ساطور: (ع)؛ نڈرہ، بڑا چمڑا، خنجر۔
 ساعت: (ع)؛ نڈرہ، موتھ، ۱۵ گنتا، ڈھائی گھڑی، لحظہ، لمحہ، پل، ۱۲ معین وقت۔
 دیکھنا: کوئی کام کرنے کے لیے اچھا بُرا وقت دیکھنا، سعد و خس دیکھنا۔
 ساجد: (ع)؛ نڈرہ، موتھ، اہد کی کلائی، ہاتھ کا پہنچنے سے کہنی تک کا حصہ۔
 سپیس: چاندی کی سی کلائی، سفید کلائی۔
 ساعی: (ع)؛ کوشش کرنے والا، دؤر دھوپ کرنے والا۔
 ساعز: (ن)۔ نڈرہ، شراب کا پیالہ۔
 ساجم: (اضافہ کے ساتھ)؛ (ن)؛ جام، جشید، جامِ مہم۔
 چلنا: شراب کا دؤر چلنا۔
 چھلکنا: (۱)؛ ساعز کا لبر نہ ہو کر چھلکنا (۲)؛ کناٹیا، ختم ہو جانا۔
 کش: (ن)؛ شرابِ خوار۔
 سافل: (ع)؛ نڈرہ، نیچے والا، زیر۔
 ساق: (ع)؛ موتھ؛ (۱)؛ پنڈلی، (۲)؛ درخت کا تنہ، ڈنڈی ساگ پات کا ڈنٹھل۔
 پلو پین: (اضافہ کے ساتھ)؛ (ن)؛ موتھ؛ بلور جیسی پنڈلی۔

گوری پنڈلی۔

عُزْش: (اضافہ کے ساتھ)؛ (ن)؛ موتھ، عرش کا پایہ۔

ساقط: (ع)؛ گرانے والا، گرا ہوا، متروک۔

کرنا: (۱)؛ (محل کے لیے)؛ گرانہ، نکالنا، (۲)؛ عمر یا وزن سے گرنے

(۳)؛ نامعلوم کر دینا۔

ساقن: حقہ اور بھنگ پلانے والی بازاری عورت۔

ساقی: (ع)؛ نڈرہ، (۱)؛ پانی پلانے والا، شراب پلانے والا، (۲)؛ حقہ

پلانے والا (۳)؛ (کناٹیا)؛ معشوق۔

اَزْزَل: (ن)؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ (کناٹیا)؛ خدائے تعالا۔

کوٹھڑ: (ن)؛ (اضافہ کے ساتھ)؛ نڈرہ، (مراد)؛ حضرت وصالت

پناہ صلعم۔

ساکا: (۵)؛ ہندستانی دیہاتیوں کے پرکھوں کی بہادری کی منگوم

داستانیں۔

ساکت: (ع)؛ بے حس و حرکت، خاموش، چُپ۔

ساکٹ: SOCKET (انگ)؛ نڈرہ، کسی چیز کا خانہ یا گھر۔

ساکرن: (ع)؛ (۱)؛ باشندہ، رہنے والا (۲)؛ جرم والا طرف (۳)؛ غیر متحرک

ساگھ؛ موتھ؛ (۱)؛ بھرم، (۲)؛ اعتبار، عزت، (۳)؛ آبرو، نیک نامی (۴)؛ آن بان

چانا؛ عزت جانا، اعتبار جانا۔

ساگھا: (۵)؛ نڈرہ، (۱)؛ ایک دل ہونا، کسی کام پر چند آدمیوں کا متفق

ہونا، یک دلی، اتفاق، (۲)؛ لڑائی، (۳)؛ ساگھ۔

ساگھو؛ نڈرہ، ایک درخت کا نام جس کی لکڑی مضبوط اور پائدار ہوتی ہے،

ساگ؛ نڈرہ، سبزی۔

پات؛ موتھ؛ بقولات، ترکاری۔

ساگر: (س)؛ نڈرہ، سمندر، بحر۔

ساگو: SAAG (انگ)؛ نڈرہ، ایک درخت کا نام جس کے پھل

سے ساگو دانہ نکالتے ہیں۔

ساگو دانہ / ساپو دانہ؛ نڈرہ، ایک قسم کے کھانے کی دانے دار

خدا، ساپو دانہ ساگو کے پھل سے نکالے ہونے دانے۔

ساگون / ساگوان: موتھ؛ ایک قسم کی عمارتی اور عمارت قسم کی لکڑی۔

سال: نڈرہ، (۱)؛ ایک درخت کا نام (۲)؛ تھکے کا چھید، سوراخ،

(۳)؛ کاتنا، (۴)؛ ایک قسم کی مچھلی، (۵)؛ گیدڑ، سیار۔

- سال: (د)؛ مذکر، برس۔
 آئینہ: (د)؛ (اضافہ کے ساتھ) آنے والا سال۔
 آگہی: (د)؛ (اضافہ کے ساتھ) اکبر بادشاہ کی تخت نشینی سے شروع ہونے والا سال۔
 برس: (د)؛ ہر سال، سالانہ۔
 بھاری ہونا: (اہل نجوم کی اصطلاح) سال کا موسم ہونا۔
 سال کا تکلیف سے بسر ہونا۔
 بھر میں سخی موسم برابر ہو جاتے ہیں: (مقولہ) سخی کا مال بچا اور موسم کا بے جا خرچ ہو جانے سے دونوں سال میں برابر ہو جاتے ہیں۔
 پلٹنا: سال پورا ہونا، دوسرا سال شروع ہونا۔
 پتوسہ: (اضافہ کے ساتھ)؛ تیورس سال۔
 جلالی: (اضافہ کے ساتھ)؛ (د)؛ سال شمس، جلال الدین ملک شاہ سلجوق کی طرف منسوب سال۔
 خوردہ: (د)؛ پرانا۔ کہنہ۔
 رومی: سکندر کے عہد کا سال۔
 شمسی: مذکر، سورج کی چال کے حساب سے گنا جانے والا سال۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہونے والا سال۔
 (۳۶۵ دن ۵ گھنٹے ۲۸ منٹ ۴۷ سکنڈ کا۔)
 عیسوی: سال شمسی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہونے والا سال۔
 فصلی: مذکر، فصلوں کے اعتبار سے شمار کیا جانے والا سال۔
 قمری: مذکر، چاند کی چال پر شمار کیا جانے والا سال۔
 کبیسہ: (اضافہ کے ساتھ)؛ ہر تین سال کے اندلنے والا تیرہ مہینوں کا برس، لوند کا برس۔
 ساگا: رہا سا باہن کا رہا بکر اجمیت پر فتح پانے کا سال۔
 سمیت بکر می: رہا بکر اجمیت سے منسوب سال۔
 گزہ: (د)؛ موقت، عمر کے ہر تین سال شروع ہونے کی تلخیص۔
 ہجری: رسول اللہ کا کھٹے سے مینے ہجرت کرنے کا قمری سال۔
 سالینہ: (د)؛ وہ رقم جو سالانہ کسی کو ملے، وظیفہ۔
 سالیا: مذکر، (۱) بیوی کا بھائی، (۲) بطور، گالی ہیں۔
 سالار: (د)؛ مذکر، سردار، افسر۔
 سالٹ: (د)؛ (۱) انگ؛ (۲) مذکر، نمک۔
- سالک: (د)؛ (۱) راہ چلنے والا، (اصطلاح صوفیہ) تقرب خدائے تعالیٰ کا طالب اور عقل معاش رکھنے والا شخص۔
 سالم: (د)؛ (۱) صبح سلامت۔ تندرست، (۲) محفوظ، (۳) کامل، ثابت پورا، (۴) ایک اصطلاح عروض۔
 سالمیت: موقت، پورا ہونا، غنیمت۔
 سالن: مذکر، شوسبے والی پکی ہوئی ترکاری یا گوشت۔
 سالنا: (۱) لکڑی میں چھید کرنا، کاٹنا، چول ہانکا، بکچا، تکلیف دینا۔
 سالوٹری: مذکر، جانوروں کا علاج صالحہ کرنے والا۔
 سالوس: (د)؛ (۱) اپنی ظاہری وضع سے لوگوں کو دھوکا دینے والا، (۲) مکر و فریب، دھوکا۔
 سالوشن آرمی: SALVATION ARMY، انگ؛ موقت عیسائیوں کی ایک تبلیغی جماعت جسے مکتی فوج بھی کہتے ہیں۔
 سالی: موقت؛ بیوی کی بہن۔
 سالیسیٹر (سال میشر): SOLICITOR، انگ؛ قانون مشیر۔
 سام: (د)؛ مذکر، (۱) نوح کا بڑا بیٹا، (۲) رستم کا دادا۔
 سامان: (د)؛ مذکر، (۱) اسباب، چیز، اُتھ، (۲) اہتیار، اوزار۔
 سالار: (۳) بندوبست، درستی، اصلاح، (۴) ہوش، (۵) آثار، علامت۔
 بوندھا: بندوبست ہونا، تیاری ہونا، کسی چیز کے مینا ہونے کے آثار ظاہر ہونا۔
 کرنا: کسی چیز کی درستی کے اسباب مہیا کرنا، تیاری کرنا۔
 میں آنا: (د)؛ آپے میں آنا، ہوش میں آنا، غصہ فرو ہونا، قہقہے میں آنا۔
 سائڈرک: موقت؛ ہاتھ کی ٹیکری دیکھ کر انسان کی قسمت بتانے کا علم و فراست اللہ۔
 سامراج: (د)؛ مذکر، وہ ملک جس کے ماتحت بہت سے ملک ہوں، شہنشاہیت نوآبادیات اور ماتحت سلطنتیں رکھنے کی پالیسی۔
 سامری: (د)؛ مذکر، حضرت موسیٰ کے زلمے میں پھڑپھڑانے والی کڑواہ کرنے والا جادوگر۔
 فن: مذکر، اکتیٹا، جادوگر۔
 سارح: (د)؛ (۱) گنے والا۔

————— ساحعہ: (ع) موٹ، سننے کی قوت۔
 ————— ساحعی: (ع) جمع ساح کی، مذکر، سننے والے۔
 ————— ساہنا: مذکر، (۱) مقابلہ، لڑائی، جنگ، (۲) آگاہ۔ (۳) رُو بہ رُو
 ————— (۴) ملاقات، برابری، گستاخی۔
 ————— کرانا: کسی امر کی تصدیق کے لیے ایک کا دوسرے
 ————— کے سامنے پیش کرنا۔
 ————— کرنا: (۱) کسی کے رُو بہ رُو ہونا، (۲) کناٹا، مقابلہ کرنا، مقابلہ
 ————— پر آنا، لڑنا، (۳) ٹکرا کرنا، مباحثہ کرنا۔
 ————— ہونا: (۱) آنکھیں چل رہی ہونا، ملاقات ہونا، (۲) مقابلہ ہونا،
 ————— (۳) بے پردگی ہونا۔
 ————— سامنت: सामन्त: مذکر، جاگیر دار۔
 ————— کال: काल: (۱) مذکر، جاگیر داروں کا عہد۔
 ————— سامنے: (۲) مذکر، رُو بہ رُو مقابلہ ہونا، موجودگی میں (۳) سیدہ میں (۴) بلوچ۔
 ————— آنا: (۱) مقابلہ ہونا، (۲) رُو بہ رُو ہونا، منہ دکھانا، (۳) پیش آنا۔
 ————— کرنا: (۱) رُو بہ رُو کرنا، پیش کرنا، دکھانا، (۲) مقابلہ کرنا۔
 ————— کی بات: رُو بہ رُو کا ذکر، (۲) موجودگی کا حال، (۳) جیسے جی کی بات
 ————— کی چوٹ: آگے کی چوٹ، ٹھٹھکی ہوئی چوٹ، وہ طعن و طنز جو حکم کھٹا ہو۔
 ————— ہونا: (۱) رُو بہ رُو ہونا، مستورات کا کسی سے پردہ نہ کرنا، (۲) گستاخی
 ————— سے پیش آنا، (۳) دعوتِ جنگ دینا، لڑنے کو تیار ہونا۔
 ————— سامی: (ع) بلند، عالی (۲) (۳) موٹ، زرخیز اور قابلِ زراعت زمین۔
 ————— سان: (ف)؛ موٹ، (۱) ہاڑھ رکھنے کا پتھر، (۲) دھاباڑھ (۳) جنگلی
 ————— بط کی ایک قسم، (۴) ذبح کیے ہوئے جانور کے کباب بنانے
 ————— والے اعضاء، (۵) (۶) دہلی، مذکر، ستانا۔
 ————— پر چڑھنا: دھارتیز کرنا۔
 ————— چڑھانا: (۱) ہاڑھ دینا، (۲) کناٹا، تیز کرنا۔
 ————— سانجھ: (۱) مذکر، بڑے ہرن کی ایک قسم، (۲) سانجھ جیل سے
 ————— نکلنے والا ننگ۔
 ————— سانپ: مذکر، مارہ ناگ۔
 ————— اور چور دے پر چوٹ کرتے ہیں: (مقولہ)؛ یعنی دونوں
 ————— مایوسی کی حالت میں حملہ کرتے ہیں۔
 ————— پچھو سمجھنا: (۱) کناٹا، موزی جھنڈا، باعثِ لیلیٰ، کھینٹا۔

————— چھاتی پر پھرتا: رشک آئندہ ظالم ہونا، صدر پہنچنا۔
 ————— سالوٹا: بہت بے تابی ہونا، بہت حسد کرنا
 ————— سالہراٹا: (۱) سانپ کی طرح جنبش کرنا، (۲) کناٹا، صدر پہنچنا،
 ————— رشک ہونا، اضطراب ہونا۔
 ————— سے کھیلنا: (۱) کناٹا، خطرناک انسان سے ربط پیدا کرنا۔
 ————— کا پتھر سنوٹیا: دشمن کا پتھر بھی خطرناک ہوتا ہے۔
 ————— کا پتھر چھوٹا: سانپ کا چھالا، سانپ کے مُنہ کا نہرِ مٹا آبلہ۔
 ————— کا چھوڑا: ایک قسم کا دہل۔
 ————— کا راستہ کاشتا: فطون بد۔
 ————— کا سونگھ جانا: (۱) سانپ کا ڈس جانا، (۲) کناٹا، دم بہ خود
 ————— ہو جانا، خاموش ہو جانا۔
 ————— کا کانا پانی نہیں آگتا: (مقولہ) سانپ کا کانا بہت جلد مر جاتا ہے
 ————— کا کانا رستی سے ڈرتا ہے: (مثل) سخت مصیبت زدہ معمولی
 ————— بات سے ہی ڈرتا ہے۔
 ————— کا کھیلنا: سانپ کے کاٹنے ہوتے کا منتر کے زور سے باتیں کرنا۔
 ————— کا من: سانپ کا دل، وہ مشہور چیز جو سانپ مستی میں آگتا
 ————— ہے، ہر شے لیتا ہے۔
 ————— کی سی پھلی جھاڑنا: بخرنا، صاف اور ستھرا بنا دینا، بیماری
 ————— سے صحت پانا۔
 ————— کے کاٹنے کی لہر: مارگزیدہ کا بھی کبھی جنبش میں آنا۔
 ————— کی لکیر: سانپ کے چلنے کا نشان جو زمین پر پڑتا ہے۔
 ————— کھلنا: کسی دعایا، فسوس کے اثر سے سانپ کو کاٹنے سے باز رکھنا۔
 ————— کے منہ میں پھونڈنا: ننگے تو انہو کاٹے تو کوڑھی: (مثل)
 ————— ایسا فعل جس کو کر کے چھوڑنا دشوار ہو۔
 ————— مرے نہ لاشی ٹوٹے: (مثل) برائی بھی ختم ہو جاتے اور کوئی
 ————— نقصان بھی نہ پہنچے، حکمت اور چوڑھیاری سے کام نکالنا۔
 ————— نکل گیا لکیر پٹیا کرو: (مثل)؛ کسی بات کا علاج وقت پر
 ————— نہ کرنے میں غفلت کرنا اور جب وقت گزر جاتے اس کی تدبیر میں
 ————— فحول کی کوشش کرنا، مطلب ہاتھ سے جاتا رہا اب اسوس سے کیا فائدہ
 ————— سناؤ پٹن: موٹ، ناگن، سانپ کی مادہ، بعض آدمیوں کی پشت پر اور
 ————— گھوڑے کی بال کے نیچے ایک لمبے بالوں کی لکیر یا جھوٹری۔

— سانٹ / سانٹھ: موت، گرہ پڑی ہوئی رتی، گرہ، مسمیٰ (۱۷) ساٹھ۔
 — گانٹھ، موت، ساٹھ (اصل) آٹھ ساٹھ۔ دشمنی۔
 — لینا: ہم، کسی شخص کو اپنی طرف کر لینا، مخالف کے آدمی کو توڑ لینا۔
 — ساٹھا: نڈرہ (۱۱) بس ہانکنے کے لیے چھوٹے کا تسمہ بندھی ہوئی لکڑی،
 چابک (۱۲) آگس۔
 — ساٹھا: دم، (۱۱) دھاگے میں جوڑ لگانا (۱۲) موافق کر لینا۔
 — ساٹھ: (۱۵) موت، شام، سورج ڈوبنے کا وقت۔
 — ساٹھ: (۱۵) نڈرہ سچے صبح۔
 — کو آئی نہیں / کو آئی کیا: (مثل) سچ بولنے میں مرز نہیں۔
 — سانچی بات سعادتمند کہے، سب کے سُن سے اُترا رہے: (عمل) (مثل) سچی بات کہنے والے سے سب ناخوش ہوتے ہیں۔
 — سانچا: نڈرہ (۱۱) قالب (۱۲) ڈھانچا۔
 — سانچے میں ڈھالنا: (۱۱) قالب میں ڈھال کر بنانا، کسی چیز کے قوام
 یا ماترے کو قالب میں ڈھال کر حمانا (۱۲) کرنا، (۱۳) اسٹول
 اور خوبصورت بنانا۔
 — سانچو: (۱۸) نڈرہ، ظاہر ہونے والا، پیش آنے والا، حادثہ۔
 — ساٹھ: نڈرہ (۱۱) بیل، (۱۲) گائے کو گاجن کرنے والا مخصوص بیل، (۱۳)
 دیوتا کے نام پر جو محو دیا جانے والا بے روک ٹوک پھرنے والا
 بیل (۱۴) خصیہ دار، (۱۵) موٹا تارہ (۱۶) کرنا، (۱۷) عیاش۔
 — ساٹھا: نڈرہ، گرہ کی قسم کا ایک جانور۔
 — ساٹھ سے کی اولاد: بہت کم خوراک۔
 — کاٹھیل، بیچنا: قوت خوانہ کو اشتغال دلانے والی باتیں کرنا۔
 — ساٹھنی: موت، تیز رفتور سواری کی اونٹنی۔
 — سوار: (۱۱) نانا سوار (۱۲) جھڈا: نامہ بر، پیغام برد، قاصد۔
 — سانس: نڈرہ، موت، (۱۱) نفس، پھونک، (۱۲) بھاپ، (۱۳)
 ہوا لپکنے کی جگہ، شگاف۔
 — آرتنا، دم ٹکنا، دم اٹکنا، سانس رُک رُک کر نکلنا۔
 — آگھڑنا: سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ ٹوٹ جانا، نزع کی
 حالت پیدا ہونا۔
 — بھونا / بھرجانا / پھولنا / چڑھنا: (۱۱) اوپر کا دم لینا، (۱۲) اپننا۔
 — ٹوٹنا: سانس کے چلنے میں فرق آنا۔

— خزانہ: سانس کھینچ کر روک لینا، مُردہ بن جانا۔
 — ڈکار نہ لینا: مال ۴۴ تم بجانے کے اٹھنا ظاہر نہ ہونے دینا۔
 — کاروگ: ڈنر۔
 — کاشکار ہونا: نزع کا وقت ہونا۔
 — کھینچنا: زور سے سانس لینا، غصہ کرنا، مشکوکہ کرنا۔
 — گینتا: دم کشاری کرنا، نزع کے وقت سانس کی آمد و رفت دیکھنا۔
 — نہ نکلنا: سانس نہ لینا، اُف نہ کرنا، برداشت کرنا۔
 — سانس: نڈرہ (۱۱) غصہ، اہیشہ، خوف، خطرہ، (۱۲) سوچ، بچار۔
 — سانس: نڈرہ، خاندانہ دوش، جراثیم پھیلنا۔
 — سانگ: (۱۵) نڈرہ، برہمی، نیزہ، بھالا، آگس۔
 — سانگ: نڈرہ، (۱۱) ایک ٹوک دار آلہ جس سے کنول کھودتے
 ہیں (۱۲) ہاشمی کا ایک آگس۔
 — سانگ / سوانگ: نڈرہ (۱۱) بیس، کسی کی نقل بنانا، بیس بدلنا، (۱۲) کھیل تماشہ
 لاس لپلا (۱۳) محکمہ، مسطور، مزاح، (۱۴) کرتب، (۱۵) فریب، شعبہ۔
 — کرنا: تماشہ کرنا، کھیل کرنا، (۱۲) روپ بھرنے، (۱۳) سفر اپن
 کرنا، راگ لانا۔
 — لانا: کھیل کرنا، جھگڑا نکلانا، (۱۲) روپ بھرنے۔
 — ساٹھی: نڈرہ، (۱۱) سوانگ بھرنے والا، (۱۲) گاڑی بان کے بیٹھے کی جگہ،
 گاڑی کا جوڑا۔
 — سان گمان: نڈرہ، دم و خیال۔
 — ساٹھا: نڈرہ (۱۱) گوندھنا، مٹھنا، مٹھنا، (۱۲) بھرنے، آلودہ کر لینا، (۱۳) شریک
 کر لینا، پھانسا، شریک حال کرنا، شریک جرم کرنا۔
 — سانولا: نڈرہ (۱۱) سیاہی مائل رنگ، نیکلین، (۱۲) سبزہ رنگ آدمی۔
 — سلوٹا: کرنا، (۱۲) سلوٹا۔
 — سانولی صورت: نیکلین صورت۔
 — سان: موت، (۱۱) کھلی ٹاپا ہوا سوسا، (۱۲) دہلی، کھیتی باڑی اور باغ کا کام
 کرنے والا کاشت کار۔
 — ساوتھ: SOUTH (انگ) نڈرہ، دکھن، جنوب۔
 — ساو دھان: (۱۵) ہوشیار، خبردار۔
 — ساون: نڈرہ، ایک ہندی میزہ۔
 — بھادوں: (۱۱) وہ مکان جس میں چاروں طرف باریک باریک

ساتر داتر: (ع) ۱۱، پھرنے والا اور گردش کرنے والا، (۲) (مجازاً) جاری اور مشہور۔

ساترن: SIREN (انگ) مذکر، خبردار یا ہوشیار کرنے کا بھونڈا بلند آواز پیدا کرنے والا آلہ۔

ساترن: SIPHON: (انگ)؛ مذکر، خم دار نلی۔

سائیکل: CYCLE: (انگ)؛ مؤنث؛ دو یا تین پہیوں کی گاڑی جو ہر سے چلائی جاتی ہے (۲)؛ بائیکل۔

سائل: (ع) ۱۱، پوچھنے والا، سوال کرنے والا (۲)؛ چاہنے والا (۳)؛ جاری ہونے والا، (۲) فقیر، بھکاری (۵) عرضی دینے والا، درخواست دینے والا۔

سائن بورڈ: SIGN-BOARD (انگ)؛ نام کا بورڈ، دکانوں پر نام کا لگایا جانے والا تختہ۔

سائنٹسٹ: SCIENTIST: (انگ) سائنس داں۔

سائنٹفک (سائنس ٹی فک) SCIENTIFIC (انگ)؛ سائنسی، سائنس سے متعلق۔ علمی۔

سائنس: SCIENCE (انگ)؛ مؤنث؛ کسی چیز کا جاننا، علم، علوم طبعی، حکمت، کسی مضمون کا مجموعی علم۔

داں: مذکر، سائنس جانتے والا۔

سائی: مؤنث؛ ۱۱، بجا، کسی مالے شدہ معاملے میں بات کہی کرنے کے لیے کچھ رقم بطور علامت پیشی دینا، (۲) وہ روپیا جو نا چنے

گانے سے پہلے مطرووں کو بطور پیشی دیا جاتے۔

سائیس/سائیس: مذکر، گھوڑے کی خدمت کرنے والا۔

سائیس: مؤنث؛ گھوڑے کی خدمت کا کام یا پیشہ۔

علم دریاو: (مثل) ہر علم و دہن میں خاص ماز ہوتے ہیں معمولی فن کی اہمیت ظاہر کرنا۔

سائیس: مذکر، ۱۱، درویش، خدائشاس، (۲) گدا، بھکاری (۳)؛ خدا، خدائے مالک، آقا، شوہر (۴)؛ ایک قسم کے کبل پوش فقیر۔

سائیس سائیس: مؤنث؛ ہوا چلنے کی آواز۔

کنا: (۱) جسم میں سن سناہٹ ہونا، ضعف سے جسم کا گرا پڑنا (۲) جھگڑ میں ہوا چلنے سے درختوں کے پتوں کی آواز، (۳) عموماً

ویرانی پر سنا، وحشت برستا۔

سایا: (پرتگالی)؛ مذکر، میوں کی گھیر دار پوشاک، گون، پٹی کوٹ، لہنگا۔

جالیان لگی ہوتی ہیں اور دیکھنے سے موسلا دھار بارش کا سماں لگتا ہے، ایک قسم کی آتش بازی (۳)؛ دہلی، دھوپ چھاؤں۔

ساون بھادوں بلنا/ بھادوں بلنا: ۱۱، ساون کے مہینے کا نام ہو کر بھادوں کا شروع ہونا (۲) (مجازاً) بہت بارش ہونا۔

کی بھرن: شدت کی بارش جو ساون میں ہوتی ہے۔

کے اندھے کو ہرا ہرا سوا بھگے: (مثل) ہر شخص اپنے حال کے موافق سب کی حالت خیال کرتا ہے۔

ہرے نہ بھادوں سوکھے: (مثل) جس شخص کا حال ہمیشہ یکساں رہتا ہو۔

ساونی: مؤنث؛ ۱۱، افضل خریف (۲) ساون کے مہینے میں کھلنے والا ایک قسم کا پھول (۳) ساون کے مہینے میں دو لہلہ کے گھر سے ڈہن کے گھر بھیجا جانے والا جھولا۔ مٹھائی، آم، ترکاری اور میوے۔

ساون کی پورن ماشی (۵)؛ ساون کے گیت۔

ساونت: (۵)؛ اندکڑ، دلیر، بہادر، شجاع، سوزا۔

ساہ: (۵)؛ (مذکر)؛ تاجر، مہاجن، ساہوکار (۲)؛ دکاندار (۳)؛ صراف، (۴)؛ مل دار، (۵)؛ عزت دار (۶)؛ بھلا، شریف (۷)؛ گھرا، دیانتدار۔

جوگ ہنڈی: حال کو روپیہ بل جانے والی ہنڈی۔

ساہا: مذکر۔ (دہلی) ۱۱، ہندوؤں کی شادی کے دن، سہاگ، لگن (۲)؛ وقت، ساں (۳)؛ کھین کاٹنے کا وقت۔

سائیس: (۵)؛ مذکر، ہمت، دلیری، مردانگی۔

سائیس: (۵)؛ غیر خواہ، دوست، سچا۔

سائیس: پیشہ پرے بال کا کتا۔

کار: مذکر (۱)؛ مہاجن تاجر (۲)؛ سونے پر روپے قرض دینے والا۔ کارا: مذکر، لین دین کی جگہ بھراؤ۔

سائیس: مؤنث؛ تمام جسم پر کانٹے والا ایک جانور۔

سائیس: (انگ)؛ (۱)؛ طرف، جانب، (۲)؛ پہلو، حاشیہ، ہرا، کنارہ۔

ساتر/سایر: (ع) ۱۱، پھرنے والا، گردش کرنے والا (۲)؛ تمام، ٹکڑا (۳)؛ مؤنث، چکی۔

خریج: مذکر، متفرقات خرچ، عارضی اور غیر معمولی خرچ، خرچ کا متفرق خرچ۔

سب سے بھل چپ: (مشل) خاموشی سب سے بہتر چیز ہے۔
سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہنا، (مقولہ)؛ سب سے جدا ہو کر
بس خدا ہی کے بن جانا۔

کچھ ہو جو اگر: (مقولہ) سب معاملے ہو کر کاروائی ختم ہونے کے بعد
کو ایک آنکھ دیکھنا، (مقولہ) سب کو ایک نظر دیکھنا، سب کو
یکساں سمجھنا، کسی کے ساتھ خصوصیت یا طرفداری نہ کرنا۔

کو ایک لامٹی سے ہانکنا: (مشل)؛ ہر ایک سے یکساں برتاؤ کرنا
بغیر تیز درجے اور مرتبے یا حیثیت کے۔

کے داتا ر ام: (مشل)؛ خدا سب کا رزاق ہے۔

گنوں پورا: لایق، ہوشیار، تمام خوبیوں سے بھرا ہوا۔
بسبی: سب ہی کا تحفہ۔

سبا: ملک یمن کے ایک شہر کا نام، جس کی ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمانؑ
نے مع تحفہ کے طلب کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔

سباہ: (دع) مویشی، بکے کی انگلی، آگوتھے کے پاس کی انگلی۔

سباس: (دع)؛ مویشی، خوش بو، عطر۔

سباق: (دع)؛ مذکر، علم حساب کی مہارت، سیاق کے ساتھ مستعمل ہے،

سب آرڈینیٹ: SUB ORDINATE (انگ)؛ ماتحت

سب آفس: SUB OFFICE (انگ)؛ مذکر، ماتحت دفتر، بڑے دفتر کی شاخ۔

سب انسپکٹر: SUB INSPECTOR (انگ)؛ ماتحت انسپکٹر، تھانے دار۔

سبب: مذکر، (انگ)؛ اصطلاح علم عروض، (۲)؛ اصطلاح حکماء، وسیلہ،

وہ چیز جس سے دوسری چیز کا وجود حاصل ہو، (۳)؛ باعث، وجہ،

(۴)؛ حجت، دلیل، (۵)؛ ذریعہ، وسیلہ، واسطہ۔

سببت: (دع)؛ مذکر، سبب کا دن۔

سبجکٹ: SUBJECT (انگ)؛ مذکر، مضمون، موضوع۔

سبحان: (دع)؛ پاک، خدا کو پاکی سے یاد کرنا۔

سبحان اللہ: (۱)؛ پاک ہے اللہ، (۲)؛ تعجب کا کلمہ، (۳)؛ تحسین و آفرین کا

کلمہ، (۴)؛ فطرت یا خوشی کا کلمہ۔

سبحان تیری قدرت: (۱)؛ کلمے تیری بولی، (۲)؛ تمام تعجب و تحسین کا کلمہ۔

سبحانی: خدا سے تعالیٰ سے منسوب۔

سبحو: (دع)؛ مذکر، مویشی، تسبیح کے دانے، تسبیح۔

سبح رگمداں: (دع)؛ تسبیح پڑھنے والا۔

سایبان: (دع)؛ مذکر، مکان نیچے وغیرہ کے آگے کا چھتر، مکان کی
آڑ کا نام میرا۔

سایہ: (دع)؛ مذکر، (۱)؛ چھانو، پرچائیں، پرتو، (۲)؛ مہازا؛ حمایت، مدد،

(۳)؛ جن، بصوت پریت، (۴)؛ صحبت کا اثر، خلقِ عاطفت، (۵)؛ ہتھو

کا تصویریں سایے کی طرح پیدا کی ہوئی سیاہی یا تیرگی۔

آترنا: (۱)؛ اکنائیا، جن پر ہی کا اثر نازل ہونا، (۲)؛ پرچائیں

کا اوپر سے بچے آنا۔

اٹھنا: مرنے، سر پرست کا اثر جانا۔

بن کر ساتھ رہنا، (دکنائیا)؛ کسی جدا نہ ہونا۔

پڑنا: (۱)؛ کسی چیز کا سایہ زمین وغیرہ پر پڑنا، (۲)؛ پرچاواں پڑنا،

صحبت کا اثر ہونا، کسی کی خوب مزاج حاصل کرنا۔

ڈالنا: (دکنائیا)؛ اثر ڈالنا، فیضِ صحبت سے مستفید کرنا۔

ڈھلنا: (۱)؛ جھٹ پٹنے کا وقت ہونا، (۲)؛ سایہ اتر جانا، نروال کا وقت ہونا۔

رہنا: (۱)؛ چھانو رہنا، (۲)؛ سر پر کسی بزرگ کا قائم رہنا۔

ہونا: (۱)؛ صحبت کا اثر ہونا، (۲)؛ حمایت ہونا، مہربانی ہونا، (۳)؛

آسیب زدہ ہونا۔

بال ہوا: (دع)؛ مذکر، ہمارے پروں کے سایے کا اثر (کہا جاتا ہے کہ

جس شخص پر ہوا کا سایہ پڑ جلتے وہ بادشاہ ہو جائے۔)

تیغ میں نیندا آنا: خطرے کی حالت میں نیندا آنا۔

سایے سے بھاگنا: سے بھڑکنا، وحشت ہونا؛ کسی چیز سے انتہا

کی وحشت ہونا، ڈر ہونا۔

س - ب ، بھ

سب: (دع)؛ سارا، کل، تمام، (۱)؛ ہر ایک، ہر طرح کا، ہر قسم کا، (۲)؛ پورا۔

کامل، (۳)؛ عام، مشترک، (۴)؛ بالکل، سر اسر، (۵)؛ عام لوگ۔

ایک ہی تھیل کے چٹے چٹے ہیں: (مشل)؛ سب ایک ہی سے ہیں۔

دن چٹے، تھوار کے دن ننگے: (مشل)؛ ہر شخص وقت پر عمدہ

پوشاک نہ پہننے سے شرمندگی اٹھانے۔

دن خدا کے ہیں: (مقولہ)؛ سعادت و خوشی کسی دن پر موقوف نہیں۔

دھان باتیں پھیری: (مشل)؛ سب سے یکساں برتاؤ ہونا، جہاں

بڑے، بچے، اچھے بڑے کی تمیز نہ کی جاتے۔

سبطین: (ع) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ۔
سبوح: (ع) سات۔ ۷۔

سبزواری: (ع) سبزواری: (اصناف کے ساتھ) (ع) مذکر سات سپلیوں کا جھکا، سات سیارے۔

المشائی، موت: (کنایتاً)؛ سورۃ فاتحہ (جس میں بت بسم اللہ سات آیتیں ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر دو گانہ میں دو بار پڑھی جاتی ہیں۔ یا اس کا نزول دو مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ تمہیں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔

سبوح: (ع) مذکر، کتاب کا وہ حصہ جو یکے بعد دیگرے آگے پڑھایا جاتے۔ (۱۳) پند نصیحت۔ سزا۔
پڑھانا: (۱۰) تسلیم دینا، درس دینا۔ (۱۲) (کنایتاً)؛ پڑھانا۔ بہکانا۔

لینا: (۱۱) سبق لینا (۱۲) کچھ سیکنا، عبرت حاصل کرنا۔

سبقت: (ع) موت؛ (۱۱) کسی سے آگے بڑھنا۔ بڑائی۔ بزدلی۔ تزیج۔ (۱۲) برتری۔ پیش قدمی۔ فوقیت۔ پہل۔

سبک / سبک: (۱۱) ہلکا، تخفیف، (۱۲) نازک (۱۳) تیز، سست، چالاک، (۱۴) (کنایتاً)؛ بے عزت (۱۵) بے تعلق۔

بار / بال / جال: (د) ہلکے بوجھ والا۔ (۱۲) (کنایتاً) فارغ الہال۔ مجرور، اکیلا۔ ہلکا چلکا۔

خیز: (د) چست و چالاک۔ تیز رفتار۔

دست: (د) ہاتھ کے کاموں میں جلدی کرنے والا، تیز دست۔ دوش: (د) جس کے پاس کچھ بوجھ نہ ہو، آزاد، مجرور۔ بے تعلق۔

فارغ، بری الذمہ، فرہمت پانے والا۔

رور / رفتار: (د) تیز رفتار۔

رؤح: (د) جسم کی لطافت، لطیف طبع۔

سار: (د) ہلکا۔ بے وقار، کم قیمت۔

سر: (د) کینہ، اوجھا، کم حوصلہ، احمق۔

سیر: (د) تیز رفتار۔

عنان: (د) تیز جانے والا۔ (دہرکارہ یا گھوڑا)

گام: (د) تیز رفتار۔

سبزواری: (د) موت، ٹوکرا، ٹوکری (۱۲) ڈالی نندکی۔

سبب و ویشی: (د) SUB-DIVISION (گ) (۱۱) ضلع کا ایک حصہ (۱۲) ذیلی طاقت۔

سبزواری: (د) ہرا، کچا، تازہ، شلواپ۔

سبزواری: (د) مذکر، باغ کے درخت۔

سبزواری: (د) کھانا، (کنایتاً) فریب دینا، دھوکا دینا۔

پڑی: (۱۰) ایک پڑی کا نام (۱۲) (کنایتاً) شراب اس ہر خوبصورت بہر چیز۔

پوش: (د) (۱۱) سبز لباس والا (۱۲) (کنایتاً) زارہ، ناجی۔

قام: (د) (۱۰) سبزواری (۱۲) (کنایتاً) معشوق۔

قدم: (د) (۱) دلدار، بدھت، محوس۔

سبزواری: (د) مذکر، رویدگی، بناکت (۱۲) میل کش، (۱۳) لڑو، پنا،

(۱۴) ایک قسم کا آم، (۱۵) ایک قسم کا فروزہ (۱۶) کان کا ایک سبزواری کا

زیورہ (۱۷) (کنایتاً) پلک، (۱۸) سبزی نالہ، سیاہی رنگ گھوڑا،

(۱۹) داڑھی مونچھوں کے نئے بال نکلنے سے چہرے پر نمایاں ہونے

والی سبزی جسے اخطا کہتے ہیں۔

آغاز: (د) نوزیر، نوجوان، خط نکلنے کا آغاز۔

آگنا: (د) گھاس جتنا، سبزے کا پیدا ہونا، نکلنا۔

سبزواری: (د) مذکر، خود رو سبزہ، آپ آگنے والی ہریالی۔

خط: (د) مذکر، رنساہوں پر بالوں کے آگنے سے خود لرہنے

والی سبزی۔

خوابیدہ: (د) (۱۱) اصناف کے ساتھ، مذکر کسی قدیمہ سبزہ۔

سبزہ رنگ: (د) (۱۱) (کنایتاً) گدی رنگ، (۱۲) (کنایتاً) معشوق۔

رفندنا: (د) (۱۱) سبز گھاس پر پھرتا، نباتات کو پال کرنا، آخری

چہار سبب کی ایک رسم۔

سبزہ نوزیر: (د) مذکر، نیا آگاہ سبزہ۔

سبزی: (د) موت؛ (۱۱) سبزے سے منسوب، سبزواری (۱۲) ساگ

پات، ترکاریاں (۱۳) ہمنگ، (۱۴) اسیل حواد کے

بھور کی رنگت۔

منڈی: موت؛ سبزواریاں تازے میوے پکنے کی جگہ۔

سبسکر آئبز: SUBSCRIBER: (د) (۱) (گ) (۱) چند دینے والا، خریدار۔

سبب: (د) (۱) (د) (۱) قبیلہ، نسل، خاندان۔

لگانا لگانا: (دہلی)؛ چند لگانا، نشاہ لگانا، جال ڈالنا۔
 سٹاٹ: (۱) برابر، ہم دار (۲) صاف، سادہ، (۳) یکساں، سطح۔
 سٹاپا: مذکر، ۸، دوڑ جھپٹ، (۲) سیر تماشہ۔
 بھرتا: (۱) چھلانگ مارنا، آڑ جانا، (۲) جلد جلد پڑھنا۔
 سپارٹس: (۱) موٹو؛ سفارش۔

سپارہ: (۱) (سی پارہ کا مخفف)؛ کتاب کا جز، حصہ۔ پارہ۔
 سپاری: (۱) ام، موٹو؛ (۲) ڈلی، چھایا، (۳) سُر ڈکر۔
 سپاس: (۱) مذکر، تعریف، شکر گزار۔
 سزائی: (۱) موٹو؛ (۲) انہار احسان مندی کرنا، شکر یہ ادا کرنا۔
 نامر: (۱) مذکر؛ ایڈریس، تحریر، شکر یہ۔
 سپاہ: (۱) موٹو؛ فوج۔ لشکر۔

سپاہی: مذکر؛ لشکر، فوجی آدمی، پیادہ۔
 سپینر: موٹو، (۱) دو حال، پھری (۲) مجازاً؛ آڑ، پناہ، حفاظت، روک۔
 آنداختہ: (۱) (دیکھنا)؛ عاجز۔
 آندازی: (۱) موٹو؛ ہتھیار ڈال دینا۔
 سپر ڈسپینڈر: (۱) کسی کے قبضے میں دیا ہوا، سونپنا۔
 کرنا: (۱) سونپنا، حفاظت میں دینا، (۲) قبضے میں دینا، لمانت رکھنا۔ حوالے کرنا (۳) حراست میں دینا۔

سپروڈگی: (۱) موٹو؛ (۲) تحویل، تفویض (۳) حوالات، حراست۔
 سپرنٹنڈنٹ: SUPERINTENDENT؛ دفتر کے کسی شعبے کا سربراہ۔
 سربراہ کار: (۱) کسی دفتر کا، ناظر، ہتم۔
 سپرووائیئر: SUPERVISER؛ (انگ)؛ داروغہ، ہتم، نگران۔
 سپریم: SUPREME؛ (انگ)؛ (۱) اعلیٰ سب سے بڑا، اعلیٰ درجے کا، (۲) اعلیٰ اختیار یا اقتدار رکھنے والا۔

کورٹ: COURT؛ (انگ)؛ مذکر، ملک کی سب سے بڑی عدالت، صدر عدالت۔
 سپنڈر: موٹو؛ بے تیزی کے کھانے کی آواز، گتے کے کھانے کی آواز۔ جوتیاں چٹھاتے ہوئے چلنے کی آواز۔
 سپنڈر: (۱) ام، تمام ہوجانا۔

سپسٹان: (۱) مذکر، لہو ٹراہ، لہو ٹرا۔
 سپلائی: SUPPLY؛ (انگ)؛ (۱) ہم مہیا کرنا، ہم پہنچانا، فراہمی، وصلہ۔

سپنگ مزاج: (۱) غیر مستقل مزاج، تلون مزاج، نازک مزاج ہونا۔ (۲) ہلکا ہونا، فارغ ہونا، بری الذمہ ہونا، (۳) بے وقت ہونا، ناقص ہونا، (۴) خفیف ہونا، حقیر ہونا۔

سپنگی: (۱) موٹو؛ (۲) ہلکا پن، (۳) خفیف، ذلت، رسوائی۔
 سپنگنا: (۱)؛ سسکی بھرنا۔
 سپنگی: (۱) موٹو؛ ہلکا، ہونے وقت اوپر کی سانس بھرنے کے ساتھ لینا۔
 سپنگیاں لینا/بھرنی: رونے میں چکیاں لینا۔
 سٹبل: (۱) مذکر، جمع سبیل کی، روشن راہیں۔
 سٹیو: (۱) مذکر، گھڑا، مٹکا، ٹھیلہ۔
 سٹیوٹا: (۱) مذکر، قانون اور معاشرتی اصطلاح)؛ توڑ پھور، تخریبی کارروائی، دیکھو؛ (انگ) SABOTAGE

سٹیوس: (۱) موٹو؛ بھوسا، چوکر۔
 سب و سٹم: (۱) مذکر، گالی گلوچ، گالی دینا، بڑا ہلکا کرنا۔
 سٹیٹا: مذکر۔ (۱)؛ (۲) فرصت، جھٹی، (۳) اطمینان، انتظام۔
 سٹیبل: (۱)؛ (۲) راستہ، طریقہ، وسیلہ، سبب، تدبیر (۳) پانی ڈو دیا شربت تقسیم کرنے کی جگہ۔
 پلانا: پانی یا شربت کسی کے نام پر پلانا، بیشتر حضرت امام حسین کے نام پر پلانا۔

رکھنا: کسی جگہ پانی اور آب خورے مسافروں کے پینے کے لیے رکھنا۔
 سبھ/سبھ: (۱)؛ مبارک، مسعود۔

گھڑی: موٹو؛ نیک ساعت، مبارک وقت۔
 لگن ہونا: دونک ستاروں کا ایک بطن میں جمع ہونا، روشنی کی ہم۔
 سبھا: (۱) مذکر، مجلس، جماعت، کمیٹی۔
 سبھا پتی: (۱) مذکر، میر مجلس، صدر۔
 سبھاگی: (۱)؛ خوش قسمت، بہاولان۔
 سبھاو: (۱)؛ مذکر، عادت، خواہ، خلعت، نظرت (۲)؛ ڈھنگ، تھانہ۔
 سبھیتا: (۱)؛ موٹو؛ تہذیب، تمدن۔

س۔ پ، پھ

سپٹا: (۱)؛ مذکر، ٹپس، ڈھب، ڈھنگ۔
 لڑانا: ٹپس جانا، ڈھنگ ڈالنا۔

س۔ ت۔ تھ

- سنت**: مذکر، نذر بل طاقت (۲)، دو اکا جمع ہر روح (۳۱) سات کا منفعت (۳)، ایمان، و حرم، (۵) اکتب لباب۔
- **سچن**: (۵) مذکر، سچا مقولہ، سچتی بات۔
- **سج**: سچ اور ایمان داری والا دنیا کا پہلا قرن۔
- **سچڑھنا**: (۱۱) سستی ہونے کو ہی چاہنا، مرنے پر مستعد ہونا۔ (۲) دلولہ پیدا ہونا۔
- **سختی**: (۱) عوامت، (۱) ایکے بعد دیگرے بہت سے خصم کی ہوتی عورت (۲) کنایتاً: وہ جاے دلو جو کسی کی ملکیت نہ ہو اور اس پر شرمگین اختیار کھنڈا: (۱۱) سات منزل کامکان، (۲) مذکر، ایک قسم کے لڑا: مذکر، (۱) سات لڑی کارت، (۲) ایک زیور۔ لڑیوں کا کیل۔
- **سانسا** و **انسبا**: ساتویں مہینے پیدا ہونے والا بچہ، حاملہ عورت کی ایک دم کانام، جو بچے کی سالیوں مہینہ برتی جاتی ہے۔
- **سجا**: مذکر، (۱) سات قسم کا ٹھنڈا ہوا نخل، سات قسم کا طلا ہوا نخل، سات اندج طائر پکایا ہوا ششہ (۲) (سجائاً، بلا جلا، گڈمڈ، دو غلہ، مخلوط النسل۔
- ستا**: مذکر، (۱) تاش کا سات نقطے (علامتیں) والا پتہ، (۲) بھوسی کی سات کوڑیوں کا چت گزنا۔
- ستار**: (۱) خداے تعالیٰ کا نام، (۲) پردہ پوشش، عیب ٹوھانکنے والا۔
- ستار**: (۱) مذکر، ایک بابے کا نام۔
- ستاری**: موت، جھوٹا ستار۔
- ستاریا**: ستار باز۔
- ستارہ**: (۱) مذکر، (۱) تارا، (۲) طالع قسمت، تقدیر، اقبال، (۳) گھوڑوں کی پیشانی کا سفید نشان، (۴) ایک قسم کی آتش بازی، (۵) گولی گولی چمک دار شکر کی افشاش (۶) ایک گلے کا زیور۔
- **اچھا ہونا**: مقدر اچھا ہونا، اقبال کا زمانہ۔
- **اوج پر ہونا**: اقبال مند ہونا، بلند طالع ہونا۔
- **برگشتہ ہونا**: طالع کا خلاف ہونا، بد اقبال کا زمانہ ہونا۔
- **بھاری ہونا**: نجوم کی رو سے منحوس ہونا۔

- سپلیمنٹ**: (سپلی منٹ)، SUPPLEMENT، (انگ)، مذکر ضمیر، بچہ کسی اخبار کا۔
- سپنا** / **سپینا**: ہنڈکڑ، خواب۔
- سپنڈ**: مذکر، کالے دانے، نظر اتارنے کے لیے اور چڑوں کے ساتھ رکھے جانے والے اسپنڈ۔
- سپوٹ**: مذکر، (۱) سعادت مند دنیا، (۲) طنز، نالابقی بیٹا سپوٹوں کے کپوٹ اور کپوٹوں کے سپوٹ، (۳) «مش» بڑوں کی نیک اور نیکوں کی بُری اولاد ہوتی ہے۔
- سپولا** / **سپولیا**: مذکر، سانپ کا نلکا ہوا بچہ۔
- سپم**: (۱) سپاہ کا منصف، فوج۔
- **دار**: (۱) شکر کا سردار۔
- **سالار**: (۱) مذکر، فوج کا بڑا منگر۔
- **گرمی**: سپاہی کا پیشہ، فوجی۔
- سپمہ**: (۱) مذکر، آسمان۔
- **بریں**: (۱) اصناف کے ساتھ، (۲) مذکر، کنایتاً: نوال آسمان سب سے اتنی آسمان۔
- سپید** / **سفید**: (۱) گورا، (۲) گورا، سادہ بے لکھا، (۳) خوف یا ضعف سے رنگ اڑا ہوا، خوف زدہ۔
- **پڑ جانا**: چہرے کا رنگ اڑ جانا، خوف یا غم سے خون خشک ہو جانا۔
- **وسیہ عالم**: (۱) ف، (۲) کنایتاً: بُرائی بھلائی، نشیب و فراز ترقی و تنزین۔
- **وسیہ کا اختیار**: کامل اختیار، بنانے بگاڑنے کا اختیار۔
- سپید**: (۱) مذکر، (۱) صبح صادق کی روشنی، (۲) ایک قسم کی دوا۔
- سپید صبح**: (۱) مذکر، طلوع آفتاب سے پہلے کی سفیدی۔
- سپیدی** / **سفیدی**: (۱) موت، (۲) بیاض، عیاست، (۳) روشنی نور، صبح کی روشنی، (۴) قلعی، پتھر کا چمکا ہوا چونا، سنگ مرمر کا چونا، (۵) جھنڈ مرغ کے اندر کا سپید حصہ۔
- **پھیرنا کرنا**: دیوار یا مکان وغیرہ پر چڑھنا پھیرنا۔
- سپیرا**: مذکر، سانپ پاتے والا، سانپ کھلانے والا، سانپکے تاشے دکھلانے والا۔
- سپنٹھل**: (۱) کاسیاب۔

ستارہ ٹوٹنا، ستارے کا پڑنا، مگر سے تیزی کے ساتھ دو طرف جاننا، شہادت
 چھلکنا، لاش تم ہونے کی علامت ظاہر ہونا۔
 چمکنے کا: ستارے کا روشن ہونا، اقبال یا در ہونا۔
 واں / شناس: (ف) نجومی، ستاروں کا علم جاننے والا۔
 دُم دار / دُنبالہ دار: (ف) دُم والا ستارہ، جھاڑو تارا۔
 شناس: (ف) نجومی۔
 ستارہ صبح: (ف) زہرہ۔
 گردش میں آنا: (ف) کائنات، مگرے دن آنا۔
 ملنا: (ف) راس ملنا، مزاج اور طبیعت موافق ہونا۔
 ستاری: موتی، چاروں کے جوڑ لینے کے ایک اوزار کا نام۔
 ستانا: (ف) تکلیف دینا، سنج دینا، (ف) حیران کرنا، پیچھے پڑنا
 ستا توے: نوے اور سات، ۹۷۔
 ستاؤن: پچاس اور سات، ۵۷۔
 ستائیس: بیس اور سات، ۲۷۔
 ستائیش: (ف) موتی، سراہنا، تعریف، حمد و ثنا۔
 گز: (ف) سر پہنے والا، تعریف کرنے والا۔
 ستر: ستر اور سات، ۷۷۔
 ستر جانا: (ف) ڈبلا جانا، (م) دنیا چہرے کے ساتھ)
 ستر: (ع) مذکر، (ف) چھپانا، (ف) عورت یا مرد کے شرٹ چھپانے کے وہ مقامات
 جس کا پردہ واجب ہے، اور جسے کولنے سے شرم آتی ہے۔
 پوشی: (ف) ستر چھپانا۔
 عورت: (اضافہ کے ساتھ) (ع) مذکر، چھپانا، عورت مرد کے شرٹ کا
 ستر: (ع) ۱۵-۲۱، کثرت، بہتر سے بہتر اور چھپانے کے مقامات، مقام مخصوص۔
 چڑھنے کھا کے پتی حج کو چلی: (ش) عمر بھرا خلیق جرم میں بسر
 کر کے تائب بنے۔
 ستر / بھتر / ستر / بہتر: (م) مذکر، (ف) کائنات، بہت بڑھا، ستر بہتر
 سال کی عمر کا آدمی۔
 ستر: (ف) دس اور سات، ۱۷۔
 ستر صویں: موتی، (ف) سترہ تاریخ، (ف) ہندوؤں میں مرنے کے سترہ روز بعد
 کی رسم، (ف) حضرت نذام الدین اولیا کا رسم سترہ شوال، (ف) حضرت امیر خسرو کا
 رسم سترہ ربیع الآخر (چھٹی سترہ صویں)؛

مشغلی: موتی، سن کی باریک ڈوری۔
 ستم: (ف) مذکر، (ف) غلام، (ف) انصافی، (ف) غضب، قیامت، (ف) اندھیر
 اچھا: (ف) کسی نے ظلم کی بنیاد ڈالنے والا ظالم، بڑا ظالم، (ف)
 (ف) کائنات، معشوق۔
 جوتنا: (ع)؛ ستم برپا کرنا۔
 دیدہ / رسیدہ / زد / کش: (ف) معلوم۔
 ڈھانا: (ف) ظلم کرنا، نہایت تشدد کرنا، (ف) غضب کرنا، کوئی نرالی یا لائق
 شعار: (ف) ظلم کرنے کا عادی، (ف) مجازاً، معشوق۔
 ظریف: (ف) اطراف کے پردے میں ظلم کرنے والا، شوخی اور
 شرارت ملی ہوتی ظرافت کرنے والا۔
 کش: (ف) معلوم۔
 گار / گز: (ف) ظالم، مردم آزار
 ہونا: (ف) ظلم ہونا، تشدد ہونا، سختی ہونا، غضب ہونا، بڑا ہونا۔
 آفت نازل ہونا، (ف) افسوس ہونا، غم ہونا، (م) انوکھا آدمی
 ہونا۔ نہایت چالاک ہونا، کسی فن میں کیتا ہونا، کسی فن یا چالاک
 میں کیتے روزگار ہونا۔
 ستمبر: SEPTEMBER؛ (انگ)؛ مذکر، عیسوی سال کا نوواں مہینہ۔
 سٹنا: (ف) صاف ہونا، کھینچنا، سمٹنا، (ف) کائنات، (ف) پتلا پڑنا، ڈبلا ہونا،
 (ف) نوجانا۔
 ستو: (ف) بچنے ہونے کا آنا، پیش تر بچنے جو کا آنا۔
 باندھ کے پیچھے پڑنا: (ف) کائنات؛ کسی کام میں دل لگا کے مسلسل
 محنت کرنا، پوری تیاری سے کسی کام کے درپے ہونا، سر ہو جانا۔
 ستواں: سستی ہونی، تہی، نازک۔
 ستو: (ف) سرا ہوا، تعریف کیا گیا، نیک۔
 کار: (ف) نیک، نیک خصلت۔
 ستوں: (ف) مذکر، (ف) کھمبہ، پہل پایہ، (ف) کرن، منارہ۔
 سٹ و تخی: موتی، پاک دامن۔
 سستی: انتہائی محنت کی وجہ سے اپنے خاوند کی لاش کے ہمراہ جل
 مرنے والی عورت۔
 ہونا: عورت کا اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جل کر مر جانا۔
 سٹیا گز: (ف) (۵)؛ (س) موتی، خاموش مقابلہ، پڑھیں

مظاہرہ کسی اصول کی صداقت ثابت کرنے کے لیے پُرماں مظاہرہ۔
سٹیٹیا ساس، مذکر، ناس، تباہی۔

سٹیٹیا ساسی، مونث؛ ایک بہت کانٹوں والا درخت، (۱۶) اہاڑ کر لے
والا، برباد کرنے والا۔

ستیز / ستیزہ: (ف) مذکر، لڑائی، جھگڑا۔

ستیزہ کار: (ف) لڑنے والا، جلی آدمی۔

ستھرا: مذکر، پاک، صاف، نفیس۔

ستھرائی: مونث؛ صفائی، نفاست، خوش سلیبھی، طبیعت کی صفائی۔

ستھرناس: (۱) جھاڑو دینہ، (۲) کپڑا، (۳) برباد کرنے والا، (۴) لڑ کر لے جانا۔
ستھراؤ: مذکر، (۱) مقتولوں کا ڈھیر، قتل عام، (۲) بہت سے مکانوں
اور علاقوں کا گڑ بڑنا۔

ستھوجانا: (۱) کشتیوں کا ڈھیر لگ جانا، (۲) بہت سی عمارتوں
کا ڈھے جانا۔

ستھتھا: (۱) مذکر، پاتے جامدہ۔

سٹ

سٹ: (دہلی) مونث؛ (۱) سازش، (۲) تدبیر، ڈھب۔

سٹ: SET؛ (انگ)؛ مذکر، (۱) ایک دوسرے سے تسلی
رکھنے والی چند موزوں چیزوں کا مجموعہ، (۲) ایلیج یا اسٹوڈیو
کے اندر ڈرامے وغیرہ کا منظر (منقش پردے اور دیگر لوازم)؛
(۳) صفت، قائم، مستقل (اپنی جگہ) جما ہوا۔

ستابٹا؛ مذکر، سازش، مکرو، فریب۔

ستے بٹے لڑانا؛ سازشی کارروائی کرنا؛ سازش کرنا۔

ستاسٹ: مونث، لگاتار کڑے یا قہمی مارنے کی آواز۔

ستانا: (۱) م، (۲) لانا، بھڑانا، جڑنا، چپاں کرنا۔

ستپٹا جانا / ستپٹانا: (۱) حیران ہونا کسی امر میں گھبرانا، چمکے چومٹنے
اوسان جلتے رہنا، (۲) جواب نہ بن پڑنا۔

ستھر پٹو؛ مونث؛ خفیہ کام، چھوٹا موٹا کام، متفرق کام، وہی تباہی۔

ستھرتا؛ (ع)؛ چھوٹا موٹا کام کرنا، بے جا بھڑانا۔

ستٹ سٹٹ: مونث، ہٹا سٹ، جلد جلد۔

ستٹک؛ مونث؛ (۱) پتی لک ڈاڑھی، (۲) پتلا ساپ، (۳) چھوٹا چچرا۔

ستٹکانا: (۱) چھپ کر غائب کر دینا، (۲) کپٹا، مارنا۔

ستٹک جانا / ستٹکانا؛ کسک جانا۔ بھاگ جانا، چمکے سے چلا جانا،
روپوش ہو جانا۔

ستٹکانی؛ مونث، دروازے کی پٹی، حشمتی۔

ستٹلا؛ بے ہودہ، کم حیثیت۔

ستٹلو / ستٹلی؛ مونث؛ بے ہودہ عورت، بے سلیقہ عورت۔

ستٹنا: (۱) (۵)؛ گھٹنا، سازش کرنا، (۲) مل جانا، چپنا، بچلانا۔

ستٹھٹی؛ (م)؛ مونث؛ بازار، آدمیوں کا مجمع۔

ستٹنی؛ CITY؛ (انگ)؛ مذکر۔ شہر۔

ستٹنی زن: CITIZEN؛ (انگ)؛ (۱) شہری شہر کا باشندہ۔

ستٹنی شہری حقوق رکھنے والا۔

ستٹنی: مونث، حواس، اوسان۔

ستٹون / لم ہونا؛ اوسان جلتے رہنا، شپٹا جانا۔

ستٹو؛ (۱)؛ ساٹھ کا محقق، (۲) جاہل، بے وقوف۔

ستٹھیا جانا / ستٹھیا نا؛ ساٹھ برس کے اوپر کا ہو جانا، اور
عقل جاتی رہنا۔

ستٹھانی؛ مونث؛ سیتھی کی عورت۔

ستٹھنی؛ (ع)؛ مونث؛ بیاہ میں سمدھوں کو دی جانے والی گالی۔

ستٹھورا / ستٹھورا؛ مذکر، زچہ کو کھلتے جانے والا ایک قسم کا تحریرہ
جہاں میں رے کے ساتھ سٹھ اور دیمہ ڈال کر بناتے ہیں۔

س - ج، بھ

سج؛ مونث؛ آرایش، نمائش، انداز۔

سج؛ مونث؛ بناؤ، سکار، آراستی، انداز۔

سجاء: (۱)؛ (۲)؛ (۳)؛ (۴)؛ (۵)؛ (۶)؛ (۷)؛ (۸)؛ (۹)؛ (۱۰)؛ (۱۱)؛ (۱۲)؛ (۱۳)؛ (۱۴)؛ (۱۵)؛ (۱۶)؛ (۱۷)؛ (۱۸)؛ (۱۹)؛ (۲۰)؛ (۲۱)؛ (۲۲)؛ (۲۳)؛ (۲۴)؛ (۲۵)؛ (۲۶)؛ (۲۷)؛ (۲۸)؛ (۲۹)؛ (۳۰)؛ (۳۱)؛ (۳۲)؛ (۳۳)؛ (۳۴)؛ (۳۵)؛ (۳۶)؛ (۳۷)؛ (۳۸)؛ (۳۹)؛ (۴۰)؛ (۴۱)؛ (۴۲)؛ (۴۳)؛ (۴۴)؛ (۴۵)؛ (۴۶)؛ (۴۷)؛ (۴۸)؛ (۴۹)؛ (۵۰)؛ (۵۱)؛ (۵۲)؛ (۵۳)؛ (۵۴)؛ (۵۵)؛ (۵۶)؛ (۵۷)؛ (۵۸)؛ (۵۹)؛ (۶۰)؛ (۶۱)؛ (۶۲)؛ (۶۳)؛ (۶۴)؛ (۶۵)؛ (۶۶)؛ (۶۷)؛ (۶۸)؛ (۶۹)؛ (۷۰)؛ (۷۱)؛ (۷۲)؛ (۷۳)؛ (۷۴)؛ (۷۵)؛ (۷۶)؛ (۷۷)؛ (۷۸)؛ (۷۹)؛ (۸۰)؛ (۸۱)؛ (۸۲)؛ (۸۳)؛ (۸۴)؛ (۸۵)؛ (۸۶)؛ (۸۷)؛ (۸۸)؛ (۸۹)؛ (۹۰)؛ (۹۱)؛ (۹۲)؛ (۹۳)؛ (۹۴)؛ (۹۵)؛ (۹۶)؛ (۹۷)؛ (۹۸)؛ (۹۹)؛ (۱۰۰)؛ (۱۰۱)؛ (۱۰۲)؛ (۱۰۳)؛ (۱۰۴)؛ (۱۰۵)؛ (۱۰۶)؛ (۱۰۷)؛ (۱۰۸)؛ (۱۰۹)؛ (۱۱۰)؛ (۱۱۱)؛ (۱۱۲)؛ (۱۱۳)؛ (۱۱۴)؛ (۱۱۵)؛ (۱۱۶)؛ (۱۱۷)؛ (۱۱۸)؛ (۱۱۹)؛ (۱۲۰)؛ (۱۲۱)؛ (۱۲۲)؛ (۱۲۳)؛ (۱۲۴)؛ (۱۲۵)؛ (۱۲۶)؛ (۱۲۷)؛ (۱۲۸)؛ (۱۲۹)؛ (۱۳۰)؛ (۱۳۱)؛ (۱۳۲)؛ (۱۳۳)؛ (۱۳۴)؛ (۱۳۵)؛ (۱۳۶)؛ (۱۳۷)؛ (۱۳۸)؛ (۱۳۹)؛ (۱۴۰)؛ (۱۴۱)؛ (۱۴۲)؛ (۱۴۳)؛ (۱۴۴)؛ (۱۴۵)؛ (۱۴۶)؛ (۱۴۷)؛ (۱۴۸)؛ (۱۴۹)؛ (۱۵۰)؛ (۱۵۱)؛ (۱۵۲)؛ (۱۵۳)؛ (۱۵۴)؛ (۱۵۵)؛ (۱۵۶)؛ (۱۵۷)؛ (۱۵۸)؛ (۱۵۹)؛ (۱۶۰)؛ (۱۶۱)؛ (۱۶۲)؛ (۱۶۳)؛ (۱۶۴)؛ (۱۶۵)؛ (۱۶۶)؛ (۱۶۷)؛ (۱۶۸)؛ (۱۶۹)؛ (۱۷۰)؛ (۱۷۱)؛ (۱۷۲)؛ (۱۷۳)؛ (۱۷۴)؛ (۱۷۵)؛ (۱۷۶)؛ (۱۷۷)؛ (۱۷۸)؛ (۱۷۹)؛ (۱۸۰)؛ (۱۸۱)؛ (۱۸۲)؛ (۱۸۳)؛ (۱۸۴)؛ (۱۸۵)؛ (۱۸۶)؛ (۱۸۷)؛ (۱۸۸)؛ (۱۸۹)؛ (۱۹۰)؛ (۱۹۱)؛ (۱۹۲)؛ (۱۹۳)؛ (۱۹۴)؛ (۱۹۵)؛ (۱۹۶)؛ (۱۹۷)؛ (۱۹۸)؛ (۱۹۹)؛ (۲۰۰)؛ (۲۰۱)؛ (۲۰۲)؛ (۲۰۳)؛ (۲۰۴)؛ (۲۰۵)؛ (۲۰۶)؛ (۲۰۷)؛ (۲۰۸)؛ (۲۰۹)؛ (۲۱۰)؛ (۲۱۱)؛ (۲۱۲)؛ (۲۱۳)؛ (۲۱۴)؛ (۲۱۵)؛ (۲۱۶)؛ (۲۱۷)؛ (۲۱۸)؛ (۲۱۹)؛ (۲۲۰)؛ (۲۲۱)؛ (۲۲۲)؛ (۲۲۳)؛ (۲۲۴)؛ (۲۲۵)؛ (۲۲۶)؛ (۲۲۷)؛ (۲۲۸)؛ (۲۲۹)؛ (۲۳۰)؛ (۲۳۱)؛ (۲۳۲)؛ (۲۳۳)؛ (۲۳۴)؛ (۲۳۵)؛ (۲۳۶)؛ (۲۳۷)؛ (۲۳۸)؛ (۲۳۹)؛ (۲۴۰)؛ (۲۴۱)؛ (۲۴۲)؛ (۲۴۳)؛ (۲۴۴)؛ (۲۴۵)؛ (۲۴۶)؛ (۲۴۷)؛ (۲۴۸)؛ (۲۴۹)؛ (۲۵۰)؛ (۲۵۱)؛ (۲۵۲)؛ (۲۵۳)؛ (۲۵۴)؛ (۲۵۵)؛ (۲۵۶)؛ (۲۵۷)؛ (۲۵۸)؛ (۲۵۹)؛ (۲۶۰)؛ (۲۶۱)؛ (۲۶۲)؛ (۲۶۳)؛ (۲۶۴)؛ (۲۶۵)؛ (۲۶۶)؛ (۲۶۷)؛ (۲۶۸)؛ (۲۶۹)؛ (۲۷۰)؛ (۲۷۱)؛ (۲۷۲)؛ (۲۷۳)؛ (۲۷۴)؛ (۲۷۵)؛ (۲۷۶)؛ (۲۷۷)؛ (۲۷۸)؛ (۲۷۹)؛ (۲۸۰)؛ (۲۸۱)؛ (۲۸۲)؛ (۲۸۳)؛ (۲۸۴)؛ (۲۸۵)؛ (۲۸۶)؛ (۲۸۷)؛ (۲۸۸)؛ (۲۸۹)؛ (۲۹۰)؛ (۲۹۱)؛ (۲۹۲)؛ (۲۹۳)؛ (۲۹۴)؛ (۲۹۵)؛ (۲۹۶)؛ (۲۹۷)؛ (۲۹۸)؛ (۲۹۹)؛ (۳۰۰)؛ (۳۰۱)؛ (۳۰۲)؛ (۳۰۳)؛ (۳۰۴)؛ (۳۰۵)؛ (۳۰۶)؛ (۳۰۷)؛ (۳۰۸)؛ (۳۰۹)؛ (۳۱۰)؛ (۳۱۱)؛ (۳۱۲)؛ (۳۱۳)؛ (۳۱۴)؛ (۳۱۵)؛ (۳۱۶)؛ (۳۱۷)؛ (۳۱۸)؛ (۳۱۹)؛ (۳۲۰)؛ (۳۲۱)؛ (۳۲۲)؛ (۳۲۳)؛ (۳۲۴)؛ (۳۲۵)؛ (۳۲۶)؛ (۳۲۷)؛ (۳۲۸)؛ (۳۲۹)؛ (۳۳۰)؛ (۳۳۱)؛ (۳۳۲)؛ (۳۳۳)؛ (۳۳۴)؛ (۳۳۵)؛ (۳۳۶)؛ (۳۳۷)؛ (۳۳۸)؛ (۳۳۹)؛ (۳۴۰)؛ (۳۴۱)؛ (۳۴۲)؛ (۳۴۳)؛ (۳۴۴)؛ (۳۴۵)؛ (۳۴۶)؛ (۳۴۷)؛ (۳۴۸)؛ (۳۴۹)؛ (۳۵۰)؛ (۳۵۱)؛ (۳۵۲)؛ (۳۵۳)؛ (۳۵۴)؛ (۳۵۵)؛ (۳۵۶)؛ (۳۵۷)؛ (۳۵۸)؛ (۳۵۹)؛ (۳۶۰)؛ (۳۶۱)؛ (۳۶۲)؛ (۳۶۳)؛ (۳۶۴)؛ (۳۶۵)؛ (۳۶۶)؛ (۳۶۷)؛ (۳۶۸)؛ (۳۶۹)؛ (۳۷۰)؛ (۳۷۱)؛ (۳۷۲)؛ (۳۷۳)؛ (۳۷۴)؛ (۳۷۵)؛ (۳۷۶)؛ (۳۷۷)؛ (۳۷۸)؛ (۳۷۹)؛ (۳۸۰)؛ (۳۸۱)؛ (۳۸۲)؛ (۳۸۳)؛ (۳۸۴)؛ (۳۸۵)؛ (۳۸۶)؛ (۳۸۷)؛ (۳۸۸)؛ (۳۸۹)؛ (۳۹۰)؛ (۳۹۱)؛ (۳۹۲)؛ (۳۹۳)؛ (۳۹۴)؛ (۳۹۵)؛ (۳۹۶)؛ (۳۹۷)؛ (۳۹۸)؛ (۳۹۹)؛ (۴۰۰)؛ (۴۰۱)؛ (۴۰۲)؛ (۴۰۳)؛ (۴۰۴)؛ (۴۰۵)؛ (۴۰۶)؛ (۴۰۷)؛ (۴۰۸)؛ (۴۰۹)؛ (۴۱۰)؛ (۴۱۱)؛ (۴۱۲)؛ (۴۱۳)؛ (۴۱۴)؛ (۴۱۵)؛ (۴۱۶)؛ (۴۱۷)؛ (۴۱۸)؛ (۴۱۹)؛ (۴۲۰)؛ (۴۲۱)؛ (۴۲۲)؛ (۴۲۳)؛ (۴۲۴)؛ (۴۲۵)؛ (۴۲۶)؛ (۴۲۷)؛ (۴۲۸)؛ (۴۲۹)؛ (۴۳۰)؛ (۴۳۱)؛ (۴۳۲)؛ (۴۳۳)؛ (۴۳۴)؛ (۴۳۵)؛ (۴۳۶)؛ (۴۳۷)؛ (۴۳۸)؛ (۴۳۹)؛ (۴۴۰)؛ (۴۴۱)؛ (۴۴۲)؛ (۴۴۳)؛ (۴۴۴)؛ (۴۴۵)؛ (۴۴۶)؛ (۴۴۷)؛ (۴۴۸)؛ (۴۴۹)؛ (۴۵۰)؛ (۴۵۱)؛ (۴۵۲)؛ (۴۵۳)؛ (۴۵۴)؛ (۴۵۵)؛ (۴۵۶)؛ (۴۵۷)؛ (۴۵۸)؛ (۴۵۹)؛ (۴۶۰)؛ (۴۶۱)؛ (۴۶۲)؛ (۴۶۳)؛ (۴۶۴)؛ (۴۶۵)؛ (۴۶۶)؛ (۴۶۷)؛ (۴۶۸)؛ (۴۶۹)؛ (۴۷۰)؛ (۴۷۱)؛ (۴۷۲)؛ (۴۷۳)؛ (۴۷۴)؛ (۴۷۵)؛ (۴۷۶)؛ (۴۷۷)؛ (۴۷۸)؛ (۴۷۹)؛ (۴۸۰)؛ (۴۸۱)؛ (۴۸۲)؛ (۴۸۳)؛ (۴۸۴)؛ (۴۸۵)؛ (۴۸۶)؛ (۴۸۷)؛ (۴۸۸)؛ (۴۸۹)؛ (۴۹۰)؛ (۴۹۱)؛ (۴۹۲)؛ (۴۹۳)؛ (۴۹۴)؛ (۴۹۵)؛ (۴۹۶)؛ (۴۹۷)؛ (۴۹۸)؛ (۴۹۹)؛ (۵۰۰)؛ (۵۰۱)؛ (۵۰۲)؛ (۵۰۳)؛ (۵۰۴)؛ (۵۰۵)؛ (۵۰۶)؛ (۵۰۷)؛ (۵۰۸)؛ (۵۰۹)؛ (۵۱۰)؛ (۵۱۱)؛ (۵۱۲)؛ (۵۱۳)؛ (۵۱۴)؛ (۵۱۵)؛ (۵۱۶)؛ (۵۱۷)؛ (۵۱۸)؛ (۵۱۹)؛ (۵۲۰)؛ (۵۲۱)؛ (۵۲۲)؛ (۵۲۳)؛ (۵۲۴)؛ (۵۲۵)؛ (۵۲۶)؛ (۵۲۷)؛ (۵۲۸)؛ (۵۲۹)؛ (۵۳۰)؛ (۵۳۱)؛ (۵۳۲)؛ (۵۳۳)؛ (۵۳۴)؛ (۵۳۵)؛ (۵۳۶)؛ (۵۳۷)؛ (۵۳۸)؛ (۵۳۹)؛ (۵۴۰)؛ (۵۴۱)؛ (۵۴۲)؛ (۵۴۳)؛ (۵۴۴)؛ (۵۴۵)؛ (۵۴۶)؛ (۵۴۷)؛ (۵۴۸)؛ (۵۴۹)؛ (۵۵۰)؛ (۵۵۱)؛ (۵۵۲)؛ (۵۵۳)؛ (۵۵۴)؛ (۵۵۵)؛ (۵۵۶)؛ (۵۵۷)؛ (۵۵۸)؛ (۵۵۹)؛ (۵۶۰)؛ (۵۶۱)؛ (۵۶۲)؛ (۵۶۳)؛ (۵۶۴)؛ (۵۶۵)؛ (۵۶۶)؛ (۵۶۷)؛ (۵۶۸)؛ (۵۶۹)؛ (۵۷۰)؛ (۵۷۱)؛ (۵۷۲)؛ (۵۷۳)؛ (۵۷۴)؛ (۵۷۵)؛ (۵۷۶)؛ (۵۷۷)؛ (۵۷۸)؛ (۵۷۹)؛ (۵۸۰)؛ (۵۸۱)؛ (۵۸۲)؛ (۵۸۳)؛ (۵۸۴)؛ (۵۸۵)؛ (۵۸۶)؛ (۵۸۷)؛ (۵۸۸)؛ (۵۸۹)؛ (۵۹۰)؛ (۵۹۱)؛ (۵۹۲)؛ (۵۹۳)؛ (۵۹۴)؛ (۵۹۵)؛ (۵۹۶)؛ (۵۹۷)؛ (۵۹۸)؛ (۵۹۹)؛ (۶۰۰)؛ (۶۰۱)؛ (۶۰۲)؛ (۶۰۳)؛ (۶۰۴)؛ (۶۰۵)؛ (۶۰۶)؛ (۶۰۷)؛ (۶۰۸)؛ (۶۰۹)؛ (۶۱۰)؛ (۶۱۱)؛ (۶۱۲)؛ (۶۱۳)؛ (۶۱۴)؛ (۶۱۵)؛ (۶۱۶)؛ (۶۱۷)؛ (۶۱۸)؛ (۶۱۹)؛ (۶۲۰)؛ (۶۲۱)؛ (۶۲۲)؛ (۶۲۳)؛ (۶۲۴)؛ (۶۲۵)؛ (۶۲۶)؛ (۶۲۷)؛ (۶۲۸)؛ (۶۲۹)؛ (۶۳۰)؛ (۶۳۱)؛ (۶۳۲)؛ (۶۳۳)؛ (۶۳۴)؛ (۶۳۵)؛ (۶۳۶)؛ (۶۳۷)؛ (۶۳۸)؛ (۶۳۹)؛ (۶۴۰)؛ (۶۴۱)؛ (۶۴۲)؛ (۶۴۳)؛ (۶۴۴)؛ (۶۴۵)؛ (۶۴۶)؛ (۶۴۷)؛ (۶۴۸)؛ (۶۴۹)؛ (۶۵۰)؛ (۶۵۱)؛ (۶۵۲)؛ (۶۵۳)؛ (۶۵۴)؛ (۶۵۵)؛ (۶۵۶)؛ (۶۵۷)؛ (۶۵۸)؛ (۶۵۹)؛ (۶۶۰)؛ (۶۶۱)؛ (۶۶۲)؛ (۶۶۳)؛ (۶۶۴)؛ (۶۶۵)؛ (۶۶۶)؛ (۶۶۷)؛ (۶۶۸)؛ (۶۶۹)؛ (۶۷۰)؛ (۶۷۱)؛ (۶۷۲)؛ (۶۷۳)؛ (۶۷۴)؛ (۶۷۵)؛ (۶۷۶)؛ (۶۷۷)؛ (۶۷۸)؛ (۶۷۹)؛ (۶۸۰)؛ (۶۸۱)؛ (۶۸۲)؛ (۶۸۳)؛ (۶۸۴)؛ (۶۸۵)؛ (۶۸۶)؛ (۶۸۷)؛ (۶۸۸)؛ (۶۸۹)؛ (۶۹۰)؛ (۶۹۱)؛ (۶۹۲)؛ (۶۹۳)؛ (۶۹۴)؛ (۶۹۵)؛ (۶۹۶)؛ (۶۹۷)؛ (۶۹۸)؛ (۶۹۹)؛ (۷۰۰)؛ (۷۰۱)؛ (۷۰۲)؛ (۷۰۳)؛ (۷۰۴)؛ (۷۰۵)؛ (۷۰۶)؛ (۷۰۷)؛ (۷۰۸)؛ (۷۰۹)؛ (۷۱۰)؛ (۷۱۱)؛ (۷۱۲)؛ (۷۱۳)؛ (۷۱۴)؛ (۷۱۵)؛ (۷۱۶)؛ (۷۱۷)؛ (۷۱۸)؛ (۷۱۹)؛ (۷۲۰)؛ (۷۲۱)؛ (۷۲۲)؛ (۷۲۳)؛ (۷۲۴)؛ (۷۲۵)؛ (۷۲۶)؛ (۷۲۷)؛ (۷۲۸)؛ (۷۲۹)؛ (۷۳۰)؛ (۷۳۱)؛ (۷۳۲)؛ (۷۳۳)؛ (۷۳۴)؛ (۷۳۵)؛ (۷۳۶)؛ (۷۳۷)؛ (۷۳۸)؛ (۷۳۹)؛ (۷۴۰)؛ (۷۴۱)؛ (۷۴۲)؛ (۷۴۳)؛ (۷۴۴)؛ (۷۴۵)؛ (۷۴۶)؛ (۷۴۷)؛ (۷۴۸)؛ (۷۴۹)؛ (۷۵۰)؛ (۷۵۱)؛ (۷۵۲)؛ (۷۵۳)؛ (۷۵۴)؛ (۷۵۵)؛ (۷۵۶)؛ (۷۵۷)؛ (۷۵۸)؛ (۷۵۹)؛ (۷۶۰)؛ (۷۶۱)؛ (۷۶۲)؛ (۷۶۳)؛ (۷۶۴)؛ (۷۶۵)؛ (۷۶۶)؛ (۷۶۷)؛ (۷۶۸)؛ (۷۶۹)؛ (۷۷۰)؛ (۷۷۱)؛ (۷۷۲)؛ (۷۷۳)؛ (۷۷۴)؛ (۷۷۵)؛ (۷۷۶)؛ (۷۷۷)؛ (۷۷۸)؛ (۷۷۹)؛ (۷۸۰)؛ (۷۸۱)؛ (۷۸۲)؛ (۷۸۳)؛ (۷۸۴)؛ (۷۸۵)؛ (۷۸۶)؛ (۷۸۷)؛ (۷۸۸)؛ (۷۸۹)؛ (۷۹۰)؛ (۷۹۱)؛ (۷۹۲)؛ (۷۹۳)؛ (۷۹۴)؛ (۷۹۵)؛ (۷۹۶)؛ (۷۹۷)؛ (۷۹۸)؛ (۷۹۹)؛ (۸۰۰)؛ (۸۰۱)؛ (۸۰۲)؛ (۸۰۳)؛ (۸۰۴)؛ (۸۰۵)؛ (۸۰۶)؛ (۸۰۷)؛ (۸۰۸)؛ (۸۰۹)؛ (۸۱۰)؛ (۸۱۱)؛ (۸۱۲)؛ (۸۱۳)؛ (۸۱۴)؛ (۸۱۵)؛ (۸۱۶)؛ (۸۱۷)؛ (۸۱۸)؛ (۸۱۹)؛ (۸۲۰)؛ (۸۲۱)؛ (۸۲۲)؛ (۸۲۳)؛ (۸۲۴)؛ (۸۲۵)؛ (۸۲۶)؛ (۸۲۷)؛ (۸۲۸)؛ (۸۲۹)؛ (۸۳۰)؛ (۸۳۱)؛ (۸۳۲)؛ (۸۳۳)؛ (۸۳۴)؛ (۸۳۵)؛ (۸۳۶)؛ (۸۳۷)؛ (۸۳۸)؛ (۸۳۹)؛ (۸۴۰)؛ (۸۴۱)؛ (۸۴۲)؛ (۸۴۳)؛ (۸۴۴)؛ (۸۴۵)؛ (۸۴۶)؛ (۸۴۷)؛ (۸۴۸)؛ (۸۴۹)؛ (۸۵۰)؛ (۸۵۱)؛ (۸۵۲)؛ (۸۵۳)؛ (۸۵۴)؛ (۸۵۵)؛ (۸۵۶)؛ (۸۵۷)؛ (۸۵۸)؛ (۸۵۹)؛ (۸۶۰)؛ (۸۶۱)؛ (۸۶۲)؛ (۸۶۳)؛ (۸۶۴)؛ (۸۶۵)؛ (۸۶۶)؛ (۸۶۷)؛ (۸۶۸)؛ (۸۶۹)؛ (۸۷۰)؛ (۸۷۱)؛ (۸۷۲)؛ (۸۷۳)؛ (۸۷۴)؛ (۸۷۵)؛ (۸۷۶)؛ (۸۷۷)؛ (۸۷۸)؛ (۸۷۹)؛ (۸۸۰)؛ (۸۸۱)؛ (۸۸۲)؛ (۸۸۳)؛ (۸۸۴)؛ (۸۸۵)؛ (۸۸۶)؛ (۸۸۷)؛ (۸۸۸)؛ (۸۸۹)؛ (۸۹۰)؛ (۸۹۱)؛ (۸۹۲)؛ (۸۹۳)؛ (۸۹۴)؛ (۸۹۵)؛ (۸۹۶)؛ (۸۹۷)؛ (۸۹۸)؛ (۸۹۹)؛ (۹۰۰)؛ (۹۰۱)؛ (۹۰۲)؛ (۹۰۳)؛ (۹۰۴)؛ (۹۰۵)؛ (۹۰۶)؛ (۹۰۷)؛ (۹۰۸)؛ (۹۰۹)؛ (۹۱۰)؛ (۹۱۱)؛ (۹۱۲)؛ (۹۱۳)؛ (۹۱۴)؛ (۹۱۵)؛ (۹۱۶)؛ (۹۱۷)؛ (۹۱۸)؛ (۹۱۹)؛ (۹۲۰)؛ (۹۲۱)؛ (۹۲۲)؛ (۹۲۳)؛ (۹۲۴)؛ (۹۲۵)؛ (۹۲۶)؛ (۹۲۷)؛ (۹۲۸)؛ (۹۲۹)؛ (۹۳۰)؛ (۹۳۱)؛ (۹۳۲)؛ (۹۳۳)؛ (۹۳۴)؛ (۹۳۵)؛ (۹۳۶)؛ (۹۳۷)؛ (۹۳۸)؛ (۹۳۹)؛ (۹۴۰)؛ (۹۴۱)؛ (۹۴۲)؛ (۹۴۳)؛ (۹۴۴)؛ (۹۴۵)؛ (۹۴۶)؛ (۹۴۷)؛ (۹۴۸)؛ (۹۴۹)؛ (۹۵۰)؛ (۹۵۱)؛ (۹۵۲)؛ (۹۵۳)؛ (۹۵۴)؛ (۹۵۵)؛ (۹۵۶)؛ (۹۵۷)؛ (۹۵۸)؛ (۹۵۹)؛ (۹۶۰)؛ (۹۶۱)؛ (۹۶۲)؛ (۹۶۳)؛ (۹۶۴)؛ (۹۶۵)؛ (۹۶۶)؛ (۹۶۷)؛ (۹۶۸)؛ (۹۶۹)؛ (۹۷۰)؛ (۹۷۱)؛ (۹۷۲)؛ (۹۷۳)؛ (۹۷۴)؛ (۹۷۵)؛ (۹۷۶)؛ (۹۷۷)؛ (۹۷۸)؛ (۹۷۹)؛ (۹۸۰)؛ (۹۸۱)؛ (۹۸۲)؛ (۹۸۳)؛ (۹۸۴)؛ (۹۸۵)؛ (۹۸۶)؛ (۹۸۷)؛ (۹۸۸)؛ (۹۸۹)؛ (۹۹۰)؛ (۹۹۱)؛ (۹۹۲)؛ (۹۹۳)؛ (۹۹۴)؛ (۹۹۵)؛ (۹۹۶)؛ (۹۹۷)؛ (۹۹۸)؛ (۹۹۹)؛ (۱۰۰۰)؛ (۱۰۰۱)؛ (۱۰۰۲)؛ (۱۰۰۳)؛ (۱۰۰۴)؛ (۱۰۰۵)؛ (۱۰۰۶)؛ (۱۰۰۷)؛ (۱۰۰۸)؛ (۱۰۰۹)؛ (۱۰۱۰)؛ (۱۰۱۱)؛ (۱۰۱۲)؛ (۱۰۱۳)؛ (۱۰۱۴)؛ (۱۰۱۵)؛ (۱۰۱۶)؛ (۱۰۱۷)؛ (۱۰۱۸)؛ (۱۰۱۹)؛ (۱۰۲۰)؛ (۱۰۲۱)؛ (۱۰۲۲)؛ (۱۰۲۳)؛ (۱۰۲۴)؛ (۱۰۲۵)؛ (۱۰۲۶)؛ (۱۰۲۷)؛ (۱۰۲۸)؛ (۱۰۲۹)؛ (۱۰۳۰)؛ (۱۰۳۱)؛ (۱۰۳۲)؛ (۱۰۳۳)؛ (۱۰۳۴)؛ (۱۰۳۵)؛ (۱۰۳۶)؛ (۱۰۳۷)؛ (۱۰۳۸)؛ (۱۰۳۹)؛ (۱۰۴۰)؛ (۱۰۴۱)؛ (۱۰۴۲)؛ (۱۰۴۳)؛ (۱۰۴۴)؛ (۱۰۴۵)؛ (۱۰۴۶)؛ (۱۰۴۷)؛ (۱۰۴۸)؛ (۱۰۴۹)؛ (۱۰۵۰)؛ (۱۰۵۱)؛ (۱۰۵۲)؛ (۱۰۵۳)؛ (۱۰۵۴)؛ (۱۰۵۵)؛ (۱۰۵۶)؛ (۱۰۵۷)؛ (۱۰۵۸)؛ (۱۰۵۹)؛ (۱۰۶۰)؛ (۱۰۶۱)؛ (۱۰۶۲)؛ (۱۰۶۳)؛ (۱۰۶۴)؛ (۱۰۶۵)؛ (۱۰۶۶)؛ (۱۰۶۷)؛ (۱۰۶۸)؛ (۱۰۶۹)؛

پہنچی قاب: زہر کے اٹنے ٹوٹ جانے والی بچی چینی کی رکابی۔
پچھے مرتے جھوٹوں کو سب بھی نہیں آتی: امش، جھوٹے کو
کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

س — ح

سحاب: (ع) مذکر، ابر، بادل۔
سحر: (ع) موت، (۱۱) طلوع فجر سے پہلے کا وقت، (۱۲) سحرگی۔
سخت: (ع) صبح کی طرح ہنسا ہوا، خوش۔
سخت: (ع) صبح سویرے سوکر اٹھنے والا۔
سخت: (ع) خیزیا، چور، اچکا۔
سخت: (ع) سحر، (ع) موت، سحر، صبح کا وقت، روزے میں صبح کا کھانا۔
سخت: (ع) ہو جانا، دکھانا، فاقہ ہو جانا۔
سحر: (ع) مذکر، جادو، ٹونا، طلسم۔
سحر: (ع) آسیر، (ع) مرعوب۔
سحر: (ع) بیان، (ع) فصیح و بلیغ، خوش تقریر۔
سحر: (ع) حلال، (ع) (۱) اصناف کے ساتھ، مذکر، (دکھانا، کلام فصیح و موزوں۔
سحر: (ع) ساہری، (ع) مذکر (اصناف کے ساتھ) وہ جادو جو سامری کو معلوم
تھا، جس کے ذریعے اس نے گوسالہ بنایا تھا جو بولتا تھا۔

س — خ

سخر/سختاوت: (ع) موت، سخی ہونا، قیامت، بخشش۔
سخت: (ع) (۱) لاکڑا، (۲) مضبوط، بے دم (۳) بہت بڑا، (۴) ہنگامی کرنے
والا۔ (۵) بہت، (۶) سنگ دل، (۷) دہلپا، تیزی۔
سخت: (ع) جان، (ع) جس کی جان مشکل سے نکلے، (۲) دکھانا، بے حیائی
سے زندہ رہنے والا، (۳) جفاکش۔
سخت: (ع) دل، (ع) دکھانا، بے مہر، سنگ دل۔
سخت: (ع) زمین، (۱۱) کڑی زمین، مضبوط حکم زمین، (۱۲) غزل کے مشکل ردیف اور
شست کہنا، بڑا جھلا کہنا، جھڑکنا، لعنت سلامت کرنا۔
سخت: (ع) کلامی، موت، بد زبان، گستاخی۔
سخت: (ع) گوئی، موت، بد زبان۔
سخت: (ع) گھڑی، منحوس وقت، مشکل کا وقت۔

سخت کی تلافی کے لیے کیے جانے والے دو سجدے۔
سختہ شکر، (ع) مذکر، خدا کا شکر بذریعہ سجدہ ادا کرنا۔
سختہ جلالنا/شکر ادا کرنا: خدا کے لیے شکرگزاری کا اظہار کرنا۔

سبح: (ع) مذکر، (یک اصطلاح علم ہند، (۱۱) دو جہلوں کے آخری
الفاظ کا ہم قافیہ ہونا، (۱۲) وہ مصرع جس کے ظاہری معنی بھی شیک
ہوں اور کسی شخص کا نام بھی آجاتے۔
سبحل: موت، (۱۱) عمدہ، نفیس، درست، (۱۲) مہر کیا ہوا کاغذ یا
سند، دستاویز۔
سبحن: (ع) مذکر، شریف۔
سبحنا: (۱۱) زیب دینا، موزوں ہونا، آراستہ ہونا، مرتب ہونا، (۱۲) موزوں
کرنا، زیب تن کرنا، آراستہ کرنا۔
سبحو: (ع) مذکر، سجدہ کرنا، سجدہ۔
سبحی: موت، ایک تم کا پڑے دھونے کا کھار۔
سبحیلا: مذکر؛ آراستہ پیراستہ، بنا ٹھنا، ہانکا۔
سبحنا: آگاہ کرنا، جتنا، کھولنا، ظاہر کرنا، دکھانا۔
سبحانی دینا: نظر آنا، ثابت ہونا، خیال میں گزرنا۔

س — ج

سج: (ع) مذکر، (۱) واقعی بات، راست، حق، درست، (۲) راستی، صدق،
(۳) بجا، درست، البتہ، واقعی، ہاں۔
سج: (ع) بولنا/کہنا: واقعی بات کہنا، جھوٹ نہ بولنا۔
سج: (ع) (۱) فی الحقیقت، واقعی، (۲) ہونہ ہو۔
سج: (ع) (۱) سچ بولنے والا، راست گو، صادق، (۲) وفادار، (۳) بے میل،
کھرا، (۴) اصل معدنی جوہر، (۵) نہایت مضبوط، (۶) بے کھوٹ
خالص، (۷) ایمان دار، (۸) مخلص، بے کپٹ، بے ریا۔
سج: (ع) سچا کاروبار، شیک شیک معاملہ، کھرا کھرا حساب۔
سج: (ع) مذکر، راست بازی، دیانت داری، وفاداری، راست گوئی۔
سج: (ع) (۱) کھرا کام دار، (۲) چوڑوں کا کھرا چوڑا۔
سج: (ع) گانا، اصل موسیقی کے مطابق گانا گانا۔
سج: (ع) موت، (۱) راستی، صداقت، دیانت، (۲) اصل ہونا۔
سج: (ع) (۱) موت، (۲) راست بان، (۳) راست، (۴) بکری خالص، بے میل۔

- سخنی گمراہ: سخنی کرنے والا، ظالم۔
 سخنی: ہفت، مونث، (۱) کراچی، (۲) مضبوطی، (۳) استقلال، (۴) دشواری
 وقت، (۵) بے رحمی، سنگ دلی، (۶) بد مزاجی، اکھڑ پن، (۷) ظلم،
 زیادتی، سخت گیری، (۸) سخت تاکید، (۹) تندی، تیزی، (۱۰) تہیہ،
 ڈانٹ، (۱۱) عسرت، تنگی، افلاس۔
 کی گزہ آنا: (دہلی) مصیبت کا نانا آنا۔
 سخن: (ف) مذکر، (۱) کام، بات چیت، (۲) قول، عہدہ، (۳) احترام،
 (۴) شعر، نظم، (۵) مقولہ۔
 آرا: (ف)؛ (دکنیاشا)؛ اچھی گفتگو کرنے والا، فصیح۔
 آفریں: (ف)؛ (دکنیاشا)؛ شاعر کا۔
 پزرداز: (ف)؛ (دکنیاشا)؛ شاعر۔
 پزور: (ف)؛ عمدہ گفتگو کرنے والا، اپنی بات کی بیخ کرنے والا۔
 پزوری: (ف)؛ بات کی بیخ کرنا۔
 ٹکیہ: مذکر، تکیہ کا نام۔
 چھین: (ف)؛ مذکر، (۱) دھرا دھرا کہنے والا، (۲) لڑا، (۳) عیب
 نکلنے والا، چغلی خور۔
 ڈاں / سُر / سُرور: (ف)؛ مذکر، شاعر فصیح، خوش بیان۔
 زُن: (ف)؛ بات کی تہہ کو پہنچنے والا، (دکنیاشا)؛ شاعر۔
 ساز: (ف)؛ باتیں بنانے والا، حرب زبان، جوڑ توڑ کرنے والا۔
 سر سبز ہونا: گتھگو میں غلبہ پانا، بات چیت میں کامیاب ہونا۔
 شناس: (ف)؛ بات کی تہہ کو پہنچنے والا، قدردان، سخن۔
 طراز: (ف)؛ (دکنیاشا)؛ شاعر۔
 فہم: (ف)؛ (۱) دانہ، حافل، (۲) شعر سمجھنے والا، (۳) بات سمجھنے
 والا، (۴) (دکنیاشا)؛ شاعر۔
 کوتاہ: (ف)؛ (۱) القصہ، قصہ کوتاہ، مختصر۔
 گرم: (اضافت کے ساتھ)؛ (ف)؛ مذکر، رنگین بات۔
 گسٹری: (ف)؛ مونث، بات کو سمیٹا کر پچھے پیر لیے میں کہنا، شکر کرنا۔
 گو: (ف)؛ شاعر، خوش بیان۔
 گوئی مشکل نہیں سخن فصیح مشکل ہے: (مقولہ)؛ شعر کہنا آسان
 ہے، شعر سمجھنا مشکل ہے۔
 مرداں جان وارد: (ف)؛ (مقولہ)؛ مردوں کا قول پکا ہوتا ہے۔
- سخنی: (ع)؛ (۱) فائن۔
 دانا: بڑا فائن۔
 سے سوم بجلا جو تڑت دے جواب: (دش)؛ انتظار میں
 رکنے سے انکار بہتر ہے۔
 کا پیرا پار ہے: (مقولہ)؛ سخنی کی مشکل آسان ہے۔
 چخف: (ع)؛ بے ہودہ، ہلکی۔
 سند: (ع)؛ مذکر، (۱) روکنا، (۲) مونث؛ دیوار۔
 سند پاب: (ف)؛ مذکر؛ کسی بات کی قطعی روک۔
 راہ / رُہ: (ف)؛ راستہ روکنے والا، مزاج۔
 زُفق: (ف)؛ (دکنیاشا)؛ تھوڑی سی چیز، تھوڑی۔
 روئیں / روئند / ریا جوج: (ف)؛ (مونث)؛ (۱) کانٹے کی دیوار، زمین
 (۲) (دکنیاشا)؛ بہت مضبوط اور پائے دار۔
 سندا: (۵)؛ ہمیشہ۔
 بَرَت: مذکر، لنگر، دائمی خیرات۔
 بہار: (۱)؛ ہمیشہ سر سبز رہنے والا، (۲) ہمیشہ سبز رہنے والی گھاس،
 (۳) وہ پھول جو کسی فصل سے مخصوص نہ ہو اور اہر موسم، فصل میں پھولے۔
 رہے نام اللہ کا: اس عالم کی سب چیزیں فانی ہیں۔
 سہاگ / سہاگن: (۱)؛ شوہر دار عورتوں کی طرح رنگین لباس اور
 چوڑیاں پہننے والے ایک قسم کے فقیر، (۲) ایک قسم کا پھول۔
 سہاگن: (مونث)؛ (۱)؛ ایک قسم کی چڑیا کا نام، (۲) (دکنیاشا)؛ کسی،
 تجربہ، (۳) (دہلی)؛ سدا سہاگ۔
 کاروگی: ہمیشہ بیمار رہنے والا۔
 کسی کی نہیں رہی: (دش)؛ ہمیشہ کسی کا زائد موافق نہیں رہا۔
 مَلاب: مذکر، بارہوں میں سے چھوٹے والا، ایک قسم کا سرخ مَلاب۔
 ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں: (دش)؛ فریب ہمیشہ نہیں ہلتا۔
 سُدھ: (۱)؛ سدا بھر۔ سوچا سمجھا۔
 سُدھہ / سُدھہ: (۱)؛ (سُدھہ / سُدھہ)؛ (ع)؛ مذکر، ساتویں آسمان پر پیری کا
 بہت بلند درخت، مقام جبریل۔
 سُدھہ: (ع)؛ آسمان میں گرہ کی شکل کا سخت خلیط مادہ۔
 سُدھی: (مونث)؛ ہندی بیہنے کا دوسرا پالک، اترتے چاند کا وقت۔
 سُدیش: (۱)؛ مذکر، ملک، وطن۔

سُدیسی: ملک کا، وطن کا۔

سُدھ: (۵) شیک، بجا، منکمل۔

سُدھ کرنا: (۱) منتر یا جادو میں کمال حاصل کرنا، (۲) پورا کرنا، (۳) پاک

کرنا، (۴) بنانا، (۵) کامیابی حاصل کرنا۔

سُدھ (۵) مونث: (۱) یادداشت، (۲) خبر، آگاہی، ہوش، (۳) علم،

واقفیت، (۴) ہوشیاری، چوکسی (۵) توجہ، غور، انتہائی فکر، تدبیر۔

سُدھ: (۵) مونث: عقل و شعور، سمجھ بوجھ۔

سُدھ رکھنا: خیال رکھنا، یاد رکھنا، نگرانی رکھنا۔

سُدھ لینا: خبر لینا، تہہ گیری رکھنا۔

سُدھ نہ ہونا: خیال نہ ہونا، دھیان نہ ہونا۔

سُدھ: مذکر، صفت، مانوس کیا گیا۔

سُدھایا: مذکر، سدھ سدا دھایا ہوا جانور۔

سُدھایا: (۱)؛ (۵) مونث: اُمرت، آب حیات۔

سُدھارنا: (۱) جاننا، رخصت ہونا، روانہ ہونا، (۲) دیکھنا، دینا سے

رخصت ہونا، مرجانا۔

سُدھارنا: (۱) سوارنا، درست کرنا، (۲) شیک بنانا، سنا دینا،

(۳) آراستہ بنانا۔

سُدھانا: (۵) مذکر: جانوروں کو سکھانا، تعلیم کرنا، مانوس کرنا، پلانا،

گھوڑے کو قدم باز بنانا، سکھانا، تربیت دینا۔

سُدھانت: (۵) مذکر، اصول، دلائل بات۔

سُدھرنا: (۵) سوزنا، درست ہونا، شیک ہونا، راستی پر آنا، مرتب ہونا

تیار ہونا۔

سُدول / سُدول: خوش وضع، زیبہ۔

س - ر - ط

سُر: (۱) مذکر، (۲) کھوپڑی، (۳) گردن تک کا سر کا حصہ، (۴) فی کس، (۵)

کسی چیز کا بالائی حصہ، چوٹی، (۵) عنوان، پیشانی، (۶) کسی چیز کی جہاں

سر انجام، (۷) میل، خواہش، (۸) اول، شروع، ابتدا، (۹) مراد

سامان کا، (۱۰) دھم، (۱۱) کسی چیز کا کارہ، (۱۲) مذکر خیال، دھن،

(۱۳) لکڑی پھینکنے والوں کی ایک اصطلاح، (۱۴) سوزخوٹوں کی اصطلاح

سوزخوٹوں کا سردار، (۱۵) سودھ، عشق، (۱۶) دماغ، (۱۷) سردار۔

سُر آہنا: الزام نئے آنا، سر پر مصیبت آنا، آفت آنا۔

سُر آغاز: (اضافہ کے ساتھ)، (۱) مذکر، عنوان، جملہ کی لمبی پیشانی۔

سُر آمد: (۱) سردار، برگزیدہ۔

سُر آنا: (۱) بھوت پریت کا اثر سر پر ظاہر ہونا، (۲) سر پر وار کرنا،

سر کی چوٹ چلنا۔

سُر آنکھوں پر: ہر سرچشم منظور، شوق سے۔

سُر آنکھوں پر بٹھانا: کمال عزت اور قدردانی کرنا۔

سُر آنکھوں پر رکھنا: بے حد تعظیم کرنا۔

سُر اٹھا کر چلنا: (دیکھنا،) عزت کرنا، اہترانا، فخر کرنا۔

سُر اٹھانا: (۱) جھکی ہوئی گردن اٹھانا، گردن سیدھی کرنا، (۲) دھوم

مچانا، شور مچانا، (۳) سر کو ہٹانا، (۴) دیکھنا، فتنہ برپا کرنا،

شور و شر کرنا، (۵) سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، (۶) اترانا، غرور کرنا،

(۷) مقابل ہونا، مُنسا سنا کرنا۔

سُر اٹھانے کی فرصت نہیں: ذرا بھی فرصت نہیں۔

سُر اجلاس: (اضافہ کے ساتھ،) جمعی پوری میں، حاکم کے روبرو بھر جیسے۔

سُر افرآز: (۱) مذکر، مُر بوند، منبت۔

سُر اگھنڈہ: (۱) سر پہ ڈالے ہوتے، (۲) دیکھنا، نکل، (۳) سر اید پریشان۔

سُر اگھنا: سر اٹھانا، سر اٹھانا، سرکشی کرنا۔

سُر انجام: (۱) مذکر، انجام کار، تکمیل، انتظام، بندوبست۔

سُر انگشت: (۱) مذکر، انگلی کے اوپر کا حصہ۔

سُر باز: (۱) جان پر کھینے والا، بہادر۔

سُر بازار: (اضافہ کے ساتھ)، (۱) دیکھنا، (۲) عملی الامتحان۔

سُر جمع میں، بھرے بازار میں۔

سُر بازار بیچ لینا: دیکھنا، کسی کا بالکل مطیع ہونا، اور دوسرے

شخص کا مختار کامل ہونا۔

سُر بالہیں: (اضافہ کے ساتھ)، مذکر، سر مانے۔

سُر بَر آوردہ: افسر، سردار۔

سُر براہ / براہ کار: (۱) مذکر، منتظم، ہتھم۔

سُر براہی: (۱) مونث، اہتمام، انتظام۔

سُر بڑا سردار کا، سپر بڑا گنوار کا: (مقولہ،) ظاہری معنی میں)

سُر بزرگوں: (۱) زانو پر سر رکھ کر بیٹھنا، (۲) دیکھنا، نام، متعذر۔

سر پر ٹیکا ہونا: (۱) کسی قسم کی ناموری کا تاج ہونا، (۲) عزت پانا،
(۳) کسی کام کا کسی شخص پر منحصر ہونا۔

سر چمن چڑھنا: (۱) بھرت پیت کا سر پر آنا، (۲) اکتائیا سر پر چھتر سوار
ہونا، ضد یا ہٹ پر قائم ہونا، (۳) دکننا تیا اخیط ہونا۔

سر خاک اڑانا / سر خاک ڈالنا: اکتائیا، قائم کرنا، نور کرنا۔

سر خون چڑھنا / سوار ہونا: قاتل کے چہرے سے آثار خون ظاہر
ہونے لگنا، قاتل کے حرکتوں سے خون ہونے کا شہ ہونے لگنا، قاتل کی
باتوں سے خون اور قتل کا پتا چلنا۔

سر دست شفقت رکھنا: اکتائیا، پناہ میں لینا۔

سر زمین اٹھالینا: آفت برپا کر دینا، ہنگامہ مٹھ کر دینا۔

سر سایہ ہونا: اکتائیا، والی دلوت کا زندہ رہنا، کسی سر پرست کا
زندہ رہنا، کسی بنگ کا زندہ رہنا۔

سر شست: مرقی، مدگار۔

سر شستی: (ف) موت؛ ولایت، نگرانی۔

سر سوار رہنا: مسلط رہنا، ساتھ نہ چھوڑنا۔

سر سو اوچڑھنا: کسی چیز کی دھن ہونا، غبط ہونا۔

سر شیطان چڑھنا / سوار ہونا: «۱» اکتائیا، غر چڑھنا، ہٹ ہونا،
(۲) میرے کام کی طرف رغبت ہونا، (۳) بہت شرارت پر آمادہ ہونا۔

سر قدم لینا: اکتائیا، بہت تعظیم کرنا۔

سر قرآن اٹھانا: احو، قرآن کی قسم کھانا۔

سر گفن باندھنا: اکتائیا، ہر وقت مرنے پرست ہونا۔

سر کوئی نہ ہونا: کوئی مدگار اور مربی نہ ہونا۔

سر کھیلنا: (۱) سر پر آنا، قریب ہونا، (۲) جان پر کھیلنا، (۳) پر یوں یا بھرت
جھکا کر سر پر آکر باتیں کرنا۔

سر نہ رہنا: اکتائیا، کسی مرقی یا بڑے بوڑھے کا زندہ نہ کسی مددگار کا
نہ رہنا۔ سامنے موجود نہ رہنا۔

سر ہاتھ دھرنا / رکھنا: (۱) سر پرست بندہ اپنی حمایت میں لینا،

(۲) اکتائیا، کسی کے سر کی قسم کھانا، (۳) کسی کی دلجوئی کرنا، (۴) اکتائیا،
سلام کرنا۔

سر پلٹنا: (۱) حق دینا، مدد دینا، سہارا دینا، (۲) سر کو جھل بنانا، سر کو پلٹ لینا۔

سر پلٹ: مگر، بچوں کا سردار۔

سر پرست: (ف) «۱» معنی، پوشیدہ۔ چھا ہوا، (۲) مطلق، دشوار (۳)
ظنوف، بے چیدہ، (۴) ناگشاہ۔

سر سُر: (ف) «۱» برابر مساوی، یکساں، (۲) اکتائیا، تمام۔

سر سُر: (ف) دیوانہ وار۔

سر کف: (ف) جان دینے پر تیار۔

سر گر پیاں: (ف) فکر اور اندیشے میں مبتلا، نادام، شرمندہ۔

سُر: (ف) معزز، ممتاز، عالی مرتبہ۔

سُر: (ف) «۱» عورتوں کے سر پر بندھی ہوئی پتی، (۲) سر پر ٹہر۔

سر ٹہر: ٹہر کر کیا ہوا، بند۔

سر بھاری ہونا: سر کا نزلے یا کسی وجہ سے گرانی محسوس کرنا۔

پا تو پر دھرنا: پاؤں پر رکھنا، خوشامد کرنا، عاجزی کرنا۔

پا تو نہ ہونا: شور و شکانا نہ ہونا، مہل ہونا، اتر ہونا۔

پنچنا / پلٹنا: سر دے دے مارنا، تھلانا، (۲) واپس کرنا، اٹا پھرتا

(۳) بے سود کوشش کرنا، کسی کام میں بہت کوشش کرنا،

(۴) منت سماجت کرنا، (۵) افسوس کرنا، ہاتھ کھلنا۔

(۶) جھنجھلانا، غصا ہونا۔

پر آسے چلنا: دل آزاری ہونا، اذیت پہنچنا۔

پر آسکھیں نہ ہونا: اکتائیا، بے عقل ہونا۔

پر اٹھانا / پر اٹھالینا: بہت شور و غل کرنا۔

پر آجھل / قضا / موت کھیلنا: موت سر پر سوار ہونا،

شامت آنا، کم معنی آنا۔

پر بال ہونا: اکتائیا، مجال ہونا، سہنے کی طاقت ہونا۔

پر بھٹانا: بہت تعظیم و تکریم سے پاس بھٹانا، بہت اعزاز و اکام کرنا۔

پر بلانا نازل ہونا: سر پر مصیبت نازل ہونا، سر پر مصیبت آنا۔

پر بوچھڑنا: کسی کا ممنون ہونا، فکر مند ہونا، دتے دار،

بڑھنا، بارشنا۔

پر بولنا: منتر کے زور سے سانپ کے کاٹے ہونے سے باتیں کرنا۔

پر بھوت سوار ہونا: اکتائیا، کمال غصہ ہونا، پاگل
ہونا، بدحواس ہونا۔

پر پانورکھ کر اڑ جانا / بھاگ جانا: اکتائیا، بہت جلد بھاگ

جانا، گھبر کر جلدی سے بھاگ کھڑے ہونا۔

- سُورُوش: (ف) مذکر، ۱۱، ڈھکنا، ڈھکان، ۱۲، خوان ڈھانکنے کا کپڑا۔
 پُچھنول: مؤنث، ۱۱، سر جوڑنا، باہم ملنا، ۱۲، کنایتاً، لڑائی جھگڑا۔
- پُھرا ہونا: غیظ ہونا، جنون ہونا۔
 پُچ: (ف) مذکر، پُچڑی، پُچڑی کے اوپر کا چھوٹا کپڑا، پُچڑی میں باہر سے
 کا ایک قسم کا زیور۔
- پُسر نہ ہونا: مہل ہونا، ابتدا اور انتہا نہ ہونا۔
 تاب: (ف) اس سرکش، نافرمان۔
- تا یا: (ف) سر سے بات تک، اول سے آخر تک، بالکل۔
 تاج: (ف) مذکر، ۱۱، مقنع، ۱۲، تاج سر، آقا، مالک۔
- تانسر: (ف) سر پر سر، بالکل، تمام۔
 تسلیم جھکا کرنا / تسلیم خم کرنا: (اضافت کے ساتھ) فرماں برداری
 کرنا، راضی بہ رضا ہونا۔
- تھام کے بیٹھ جانا: سر پٹے کے بیٹھ جانا، بے بس ہو جانا، کوئی
 چارہ کار بھجائی نہ دینا۔
 تھوینا: کسی کے ذمے کرنا۔
- جاٹے بات میں فرق نہ آئے: (مقولہ) قول پورا کرنا چاہیے
 اگرچہ جان پر بن جاتے۔
 جوٹے شیشیا: صلاح مشورے کے لیے پاس پاس بیٹھنا،
 باہمی بات چیت سے کوئی رائے قائم کرنا۔
- جوڑنا: ۱۱، سر ملانا، ۱۲، کنایتاً، جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اتفاق ہونا،
 ایک ہونا، ۱۳، باہم سازش کرنا، کسی کے خلاف صلاح و مشورہ کرنا۔
 جوش: (ف) ۱، پہلی مرتبہ جوش دیا ہوا شور، ۲، (جازا،
 خلاصہ، منتخب، عمدہ۔
- جھاڑ منہ پہاڑ: ۱۱، بیباک صورت، دیوانہ وار، وحشیانہ،
 ۱۲، عورت کا بناؤ سنسگار نہ کرنا۔
- جھکانا: ۱۱، سر نیچا کرنا، سجدہ کرنا، انکار کرنا، ۱۲، شرم یا خیرت سے
 گردن لپی کرنا، ۱۳، ماننا، تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، حکم ماننا، پشیمان ہونا۔
 چڑھانا: ۱۱، سر عزت کے ساتھ رکھنا، ۱۲، مصاحب بنانا، منہ لگانا
 پارہ نہانا، ۱۳، گستاخ بنانا، بے ادب بنانا، ۱۴، سر قربان کرنا، سر نذر کرنا۔
 چڑھ کے بولنا: بھوت پریت کی شکل میں نایا ہونا، ۱۲، آپسے آپ
 ظاہر ہو جانا، چپاٹے نہ چھپنا۔
- سُتر چشمہ: (ف) مذکر، چشمہ ٹکلی کی جگہ۔ چشمے کا پانی ٹکلی کی جگہ کسی
 جگہ کے آغاز کی جگہ۔
- حد: (مؤنث)؛ انتہا، کنارہ، حد، قیاس۔
 حشر / محشر: (اضافت کے ساتھ)؛ عین محشر میں۔
 حلقہ: (اضافت کے ساتھ)؛ (ف) مذکر، جماعت کا سردار۔
- خط: (ف) مذکر، ۱۱، قبالہ، کرایہ نامہ، ۱۲، ملکیت کی سند۔
 خوشی: (ف) مؤنث، ۱، شراب کا سرور، خوش حالی۔
 خیل: (ف) مذکر، سرگردو، سرخند۔
- درگریباں: شرمندہ، شرمسار۔
 دُست: (اضافت کے ساتھ)؛ (ف) اس وقت، ابھی، ۱۲، خورا۔
- دینا: ۱۱، سر قربان کرنا، جان پر کھیلنا، ۱۲، سر اندر رکھنا۔
 ڈھانکنا: ۱۱، کوئی کپڑا سر پر ڈالنا، ۱۲، ازالہ بکر کرنا۔
- رشتہ / سُرشتہ: مذکر، ۱۱، دفتر محکمہ، کپڑی، ۱۲، دستور،
 رواج، معمول، ۱۳، تادیب، چارہ۔
- رشتہ دار: مذکر، سر دفتر، میزبانی، دفتر کا افسر۔
 زمین: (ف) مؤنث، ملک، ولایت، اقلیم۔
- زگن (ف) مؤنث، ملامت، برا بھلا کہنا۔
 زوری: (ف) مؤنث، سرکشی، مگر اپن، دھینگا مٹھنی۔
- سبزر: (ف) ۱۱، کنایتاً، زندہ، تروتازہ، عیش میں مصروف، مال دار،
 کامیاب، ۱۲، ہر بھرا، ۱۳، خوش و خرم، بھرا پڑا، آباد، ۱۴، غالب۔
- سُہرا ہونا: کسی کام کی دوستی، اور سر انجام کا کسی شخص پر موقوف ہونا،
 کسی پر کسی کام کا دار و مدار ہونا، کسی ہم میں کامیاب ہونا۔
 سہلانا: ۱۱، سر پہاڑ پھینا، ۱۲، لٹو تو گزنا، تعریف کرنا، خوشامد کرنا۔
- سہلاتے بھیجا کھاتے: دوست بن کر نقصان پہنچانا، دوستی
 کے پردے میں دشمنی کرنا۔
 سے بیگار ٹالنا: کنایتاً، بے دلی سے کام کرنا۔
- سے تنکا اتارنے کا احسان ماننا: تھوٹے سے احسان
 کا سبھی شکر گزار ہونا۔
 سے سایہ اٹھنا: کسی بزرگ یا مددگار کا فوت ہو جانا۔
 سے کفن باندھنا: مرنے کے لیے تیار ہونا، آمادہ ہونا۔
 سے کھیلنا: جن، پری یا بھوت کے اثر سے سرکوبش دینا، کیڑے
 کا سر کا ہلا کر کھ کھنا، مار گزیدہ کا منتر کے اثر سے سر ہلا کر بولنا۔

سُحْر سے گزرتا: ۱۱) جان سے گزرتا، ہلاک ہو جانا، زندگی سے دست بردار ہو جانا، ۱۲) سر سے اوپر ہو جانا، ڈبا و پانی ہو جانا، ۱۳) اکنائیا، کسی معاملہ کا انتہا پر پہنچ جانا۔

سے مارنا: ۱۱) نانووش ہو کر کوئی چیز کسی کو واپس کرنا ۱۳) سر پر مارنا، اٹھا کر سینک دینا، ۱۲) کماہت کے ساتھ سپرد کرنا، بے دلی سے کوئی چیز دینا۔ بے فائدہ ذتے ڈالنا، ۱۳) سر سے لگانا، سر سے ٹکرانا۔

سینگ ہونا / میں سینگ ہونا: کوئی خاص علامت ہونا۔

شار: ۱) اف، ۵) وہ چیز جو سر سے پھسلے، ۲) اکنائیا، بہت، لبریز، بلبل، نشے میں چوڑا، مست، بے خود۔

غزل: ۱) ان، نکرہ، ۵) غزل کا مطلع، ۱۲) دیوان میں عمدہ اور اعلیٰ غزل۔

غصہ: ۱) ان، نکرہ، سرگروہ۔

فرار کرنا / فرمانا: ۱) عزت دینا، درجہ برصانہ، ترقی دینا، ۱۲) کسی کے مکان پر کسی معزز کا جانا، تشریف لانا۔

فرزازی: ۱) مونث، ۱) جاہ کی بندری، مرتبے کی بندری۔

فروشی: ۱) ان، مونث، ۱) اکنائیا، جاں بازی، دلیری، شجاعت۔

کا بوجھ اترنا: ۱۱) کسی امر سے خانے ہونا، سبک دوش ہونا، ۱۲) کینڈا کسی کے تقاضے سے سبک بار ہونا، وعدہ ایفا کر کے سبک بار ہونا۔

گچلنا: ۱۱) سر کسی چیز سے مل ڈلنا، ۱۲) اکنائیا، اصل قوت زائل کر دینا۔

گڑوگی: ۱) ان، مونث، ۱) سرداری۔

گزرتا: ۱۱) فتح کرنا، ۱۲) چھوڑنا، چلانا، فیر کرنا، ۱۳) سر اندر گھسیٹنا، ۱۴) ہڈی گلے ٹرھنا، زبردستی دینا، ۱۵) ذتے کرنا، ذمہ دار بنانا، ۱۶) بھڑانا، بڑھا دینا۔ ۱۷) ہند و سوغ، چوٹی گوندھنا، سر گزرتا۔

گش: ۱) ان، ہائی، نافرمان، شرآء، چوکھی سے نہو بے۔

گوبی، مونث، سر کلپنا، تعویب، گوش مالی، سزا۔

گھانا: ۱) اکنائیا، غل چھانہ، ستانہ، بک بک کر کے پریشان کرنا۔

گھسانا / گھسی کرنا: ۱۱) کسی کام میں بہت ٹکر کرنا، ہلک بک کرنا۔

گھبانا، اکنائیا، شامت آنا، مار کھانے کو بی چاہنا۔

کے بٹل: ۱۱) سر کے سہارے۔ سر کے بل جانا، چلنا، ۱۲) ادب اور تعظیم کے ساتھ جانا، چلنا۔

گرانی: ۱) ان، مونث، ۱۱) شمار، سر کا بھاری ہونا، ۱۲) کشیدگی۔

غشلی: ۱۲) (سہارا) افسوس، افسردگی۔

سُحْر گرداں: ۱) اف، ۱۱) سر اسیر، حیران، پریشان، ۱۲) قربان، عمدتے۔

گرم: ۱) ان، مستعد، چالاک، محنتی۔

گرمی: ۱) ان، مونث، ۱۱) تیزی، گرم پوشی، ۱۲) مستعدی، چالاک، ۱۳) کوشش، بیخ۔

گرو: ۱) ان، نکرہ، سردار و رئیس جماعت۔

گریبان میں ڈالنا: ۱۱) اکنائیا، مستحقر ہونا، ۱۲) شرمندہ ہونا۔

گڑوشٹ: ۱) ان، مونث، گزرا ہوا حال، واقعہ، حادثہ، ماجرا۔

گشٹنگی: ۱) ان، مونث، ۱۲) حیرانی، پریشانی، آدوگی، ۱۳) آفت، مصیبت، غمست۔

گوشی: ۱) ان، مونث، ۱) اکانا پھوس، کان میں آہستہ آہستہ بات کہنا، ۱۲) اکنائیا، ضبط، چغلی، بدی۔

گوندھنا: عورتوں کے سر کے بالوں میں گوندھنا، چوٹی کرنا۔

گنگر: ۱) اضافت کے ساتھ، فوج کا سردار۔

لوح: ۱) اضافت کے ساتھ، ۱) ان، نکرہ، کتاب کا تشریح نگار والا پہلا صفحہ۔

مارتے پھرتا: سر ٹکراتے پھرتا، سر گرداں۔

مارنا: ۱) سر مغز کرنا، سمجھانا، ۱۲) چیننا، چلاتا، دق ہونا، حیران ہونا۔ ۱۳) سر سے دے مارنا، ۱۴) اکنائیا، بہت کوشش کرنا، ۱۵) غشلی سے واہس کرنا، ۱۶) کسی کام میں بہت سی جدوجہد کرنا، جان لڑانا، ۱۷) ذتے ڈالنا۔

مست: ۱) ان، اتوالا، نشے میں چوڑا۔

مُشَق: ۱) ان، نکرہ، روبرو کر کے کھانے کے لیے نکھی ہوئی مہارت۔

مُشَد استے ہی اولے پٹرے: ۱) اشل، کسی کام کے شروع ہوتے ہی خرابی واقع ہونا۔

موا: ۱) اضافت کے ساتھ، ۱) ان، ۱) بال کی نوک کے برابر ورتی بھر۔

جزیرہ، ذراسا۔

مؤتیدنا: ۱۱) سر کے بال آجانا، ۱۲) اکنائیا، ٹھگنا، لوٹنا۔

میلا ہونا: ۱) عو، حیرن سے ہونا۔

میں بال ہونا: مار کھانے کی طاقت ہونا، جھیلنے کی طاقت ہونا۔

میں خاک ڈالنا: ماتم کرنا، رونما پینا۔

میں تختاس سماں، اکنائیا، بہت عزت ہونا۔

میں سودا ہونا: کسی بات کی دھن بندھنا، غبٹا ہونا۔

میں ہوا بھرتا: دھن سماں۔

سُحْر سے گزرتا: ۱۱) جان سے گزرتا، ہلاک ہو جانا، زندگی سے دست بردار ہو جانا، ۱۲) سر سے اوپر ہو جانا، ڈبا و پانی ہو جانا، ۱۳) اکنائیا، کسی معاملہ کا انتہا پر پہنچ جانا۔

سے مارنا: ۱۱) نانووش ہو کر کوئی چیز کسی کو واپس کرنا ۱۳) سر پر مارنا، اٹھا کر سینک دینا، ۱۲) کماہت کے ساتھ سپرد کرنا، بے دلی سے کوئی چیز دینا۔ بے فائدہ ذتے ڈالنا، ۱۳) سر سے لگانا، سر سے ٹکرانا۔

سینگ ہونا / میں سینگ ہونا: کوئی خاص علامت ہونا۔

شار: ۱) اف، ۵) وہ چیز جو سر سے پھسلے، ۲) اکنائیا، بہت، لبریز، بلبل، نشے میں چوڑا، مست، بے خود۔

غزل: ۱) ان، نکرہ، ۵) غزل کا مطلع، ۱۲) دیوان میں عمدہ اور اعلیٰ غزل۔

غصہ: ۱) ان، نکرہ، سرگروہ۔

فرار کرنا / فرمانا: ۱) عزت دینا، درجہ برصانہ، ترقی دینا، ۱۲) کسی کے مکان پر کسی معزز کا جانا، تشریف لانا۔

فرزازی: ۱) مونث، ۱) جاہ کی بندری، مرتبے کی بندری۔

فروشی: ۱) ان، مونث، ۱) اکنائیا، جاں بازی، دلیری، شجاعت۔

کا بوجھ اترنا: ۱۱) کسی امر سے خانے ہونا، سبک دوش ہونا، ۱۲) کینڈا کسی کے تقاضے سے سبک بار ہونا، وعدہ ایفا کر کے سبک بار ہونا۔

گچلنا: ۱۱) سر کسی چیز سے مل ڈلنا، ۱۲) اکنائیا، اصل قوت زائل کر دینا۔

گڑوگی: ۱) ان، مونث، ۱) سرداری۔

گزرتا: ۱۱) فتح کرنا، ۱۲) چھوڑنا، چلانا، فیر کرنا، ۱۳) سر اندر گھسیٹنا، ۱۴) ہڈی گلے ٹرھنا، زبردستی دینا، ۱۵) ذتے کرنا، ذمہ دار بنانا، ۱۶) بھڑانا، بڑھا دینا۔ ۱۷) ہند و سوغ، چوٹی گوندھنا، سر گزرتا۔

گش: ۱) ان، ہائی، نافرمان، شرآء، چوکھی سے نہو بے۔

گوبی، مونث، سر کلپنا، تعویب، گوش مالی، سزا۔

گھانا: ۱) اکنائیا، غل چھانہ، ستانہ، بک بک کر کے پریشان کرنا۔

گھسانا / گھسی کرنا: ۱۱) کسی کام میں بہت ٹکر کرنا، ہلک بک کرنا۔

گھبانا، اکنائیا، شامت آنا، مار کھانے کو بی چاہنا۔

کے بٹل: ۱۱) سر کے سہارے۔ سر کے بل جانا، چلنا، ۱۲) ادب اور تعظیم کے ساتھ جانا، چلنا۔

گرانی: ۱) ان، مونث، ۱۱) شمار، سر کا بھاری ہونا، ۱۲) کشیدگی۔

غشلی: ۱۲) (سہارا) افسوس، افسردگی۔

سُرنام، مشہور نامی، ممتاز۔
 نامہ: ان، مذکر، خط کی پیشانی پر لکھا ہوا پتا وغیرہ
 نالے: ان، مؤنث؛ نفیری، بچل۔
 نغول: ان، اندر سے منڈے سر کے بل، (۲۱) شرمندہ، بچل۔
 نوانا: ام، سر جھکانا، عاجزی کرنا، سر تسلیم خم کرنا۔
 ٹوٹٹ: ان، مؤنث؛ خط پیشانی، تقدیر، حکم ازلی۔
 نہ اٹھانے دینا: (۱۱) دم بھر کی ہمت نہ دینا، (۲۱) سرکشی کا موقع نہ دینا
 ابھرنے نہ دینا، (۲۱) بولنے بات کرنے کی فرصت نہ دینا۔
 نہیں یا سُر وہی نہیں: (مقولہ) شخی الوسع اپنے حق کو ضیاع
 نہ ہونے دین گئے۔
 نئے: ان، مؤنث؛ مہنال۔
 نیچا کرنا: (۱۱) شرمندہ کرنا، (۲۱) دکھانا، (۱) اس ہونا، (۳۱) سرخ کرنا،
 سر جھکانے لکھنا۔
 ہاتھ پر رکھنا / ہتھیلی پر دھرنا / رکھنا: دکھانا، بقل ہونے
 پر آمادہ ہونا۔
 ورق: ان، (اضافہ کے ساتھ) مذکر، کتاب کا پہلا ورق۔
 وساماں: ان، مذکر، اسباب، سلمان۔
 سروکار: ان، مذکر، علاقہ، لگاؤ، غرض، مطلب۔
 سر ہونا: (۱۱) پیچھے پڑنا، درپے ہونا، (۲۱) چٹنا، گلے کا ہار ہونا، (۳۱) نہایت
 مصروف ہونا، (۴۱) دتے پڑنا، تھپنا، گلے پڑنا، (۵۱) محبت کرنا،
 لڑنا، جھگڑنا، (۶۱) تہمت لگانا، الزام لگانا، (۷۱) ہمہ فتنہ ہونا،
 (۸۱) کھلنا، بل کھلنا، (۹۱) شروع ہونا۔
 سروں پر متحالی پھرنا: دکھانا، بڑا بجمع ہونا، بیٹھ ہونا۔
 سُر: SIR (انگ)، (۱) خطاب کرنے کا کلمہ، صاحب جناب
 جناب والا، (۲۱) ایک انگریزی محرز خطاب۔
 سُر: (۱) مذکر، بھیدہ راز۔
 سُر آئنت: ان، راز ازل، روز پیشانی کا راز۔
 سُر تھنی: پوشیدہ راز۔
 سُر وکلن: ان، پوشیدہ اور کھم کھم۔
 سُر: (۱) مذکر، تان، آواز، راگ۔
 سُر: مذکر، (۵) بڑی زحمتی، (۶) تاک سے سانس نکلنے کی آواز، (۳۱) اول

تان، ماگ، موسیقی میں آواز کے آواز چڑھاؤ کا ایک درجہ۔
 سُر گھٹنا بڑھنا: سُر کی آواز کا گھٹنا بڑھنا۔
 طانا بڑھانا: آواز طانا، ساز کا سُر کے موافق کرنا۔
 طنا: آواز طنا، تال بٹنا، تال میں ہونا۔
 سُر: ان، سُر سے۔

پر دہ: ان، مذکر، بارگاہ شاہی، شیخے کے گرد و گرد لگا دی جانے
 والی اونچی قات، بچیمہ، شاہی بچیمہ۔
 چہ: (۱) مذکر، چھوٹا بچیمہ، چھوٹا مکان، قنات سے گھری ہوئی جگہ۔
 سرا: مذکر، کنارہ، ابتدا، آغاز، انتہا، اول، آخر۔
 سرے پر: کنارے پر۔
 سے: شروع سے، کنارے سے۔

سے دھرانا: ابتدا سے سب باتیں مکرر کہنا۔
 سُر اب: ان، مذکر، مونث، (۱) وہ ریتی زمین جو چاند، سورج کی
 بجگ سے پانی کا دھوکا دیتی ہے، (۲) دھوکا ہی دھوکا۔
 سُر اب: (۱) مذکر، لعنت، بددعا۔
 سُر اپا: (۱) مذکر، (۱۱) سر سے پانڈک ہر عضو کی تعریف والی نظم، (۲) اذکر
 تاپا، تمام، سب، بالکل، (۳) مذکر، پورا خلعت۔

سُر اٹا: مذکر، تیز ہوا کی آواز۔
 سُر ارج: (۱) مذکر، چراغ، آفتاب۔
 سُر ادھ: مذکر، ہندوؤں میں مرے ہوئے بزرگوں کی یادگار میں کھانا
 دینے کی رسم۔

سُر اسُر: (۱) اس سرے سے اس سرے تک، تمام، بالکل۔
 سُر اسُر / سُر سُر: رواروی، کوئی کام بے توجہی سے کرنا،
 رواروی میں کوئی کام کرنا۔

سُر اسُر: مؤنث، پیشانی کا ایک زیور۔
 سُر اسیمکی: ان، مؤنث، پریشانی، اضطراب۔
 سُر اسیمہ: ان، حیران، پریشان، مضطرب، گھبرایا ہوا۔
 سُر اسخ: (ترکی)، مذکر، کھوٹ، نشان، ٹھکانا۔
 چلنا: کھوٹ لٹنا، پتال لٹنا۔

رساں: مذکر، پتال لگانے والا، تلاش کرنے والا، جاسوس۔
 رساں: مؤنث، تلاش، جستجو، پتال معلوم کرنا۔

_____ وسفید : (۱۸) دکناٹیا، سونا چاندی (۲۱) دکناٹیا، سفیدی کے ساتھ
سرخی ملی ہوئی چہرے کی رنگت۔

_____ وسفید ہونا : گوری رنگت پر سرخی نمایاں ہونا۔

سرخ ہونا : (۱۱) لال ہونا، (۱۲) میوے کا یک جانا، (۱۳) صفحے میں لال ہونا
سرخا : مذکر، (۱۱) ایک قسم کے گھوٹے کا رنگ، (۱۲) ایک قسم کا کپڑا
(۱۳) شراب۔

سرخاب : (۱) مذکر، ایک آبی برنگ کا نام۔

_____ کا پیر لگا ہونا : (مقولہ) کسی شخص میں کوئی نئی یا نوکی بات ہونا۔

_____ کا پیر ہونا : انوکھی بات ہونا، خاص طور پر ہونا، فوقیت ہونا، ترجیح ہونا۔

سرخی : (۱) موت، (۱۱) لال رنگت، (۱۲) سرخ روشنائی، (۱۳) آدھ پنکی
انبٹ کی لاکھ، (۱۴) دکناٹیا، عنوان، پیڑنگ۔

_____ قائم کرنا : عنوان قائم کرنا۔

سرد : (۱) ف، (۱۱) فضا، بے جان، (۱۲) ناخوش، بے مزہ، (۱۳) بے رفتی
(۱۴) پسیدہ، (۱۵) دکناٹیا، ٹھنڈی آہ۔

_____ بازاری : موت، بازار سرد ہونا، کسی چیز کی مانگ نہ ہونا،
کسی چیز کی پرسش نہ ہونا۔

_____ گرم : مذکر، شیب و فرار، اونچ بیچ۔

_____ گرم جھیلنا : انقلاب و زمانہ کا تجربہ کرنا۔

_____ مہر : (۱) بے رحم، بے مروت۔

_____ ہوجانا : (۱) ٹھنڈا ہوجانا، گرمی دفع ہوجانا، (۲) مرجانا، (۳)

متحیر ہوجانا، دم بخود ہوجانا۔

سردی : (۱) ف، (۱۱) ٹھنڈ، خشکی، (۱۲) جاڑے کا موسم، (۱۳) دہلی،

زکام، سردی کی تپ، لرزے کے ساتھ تپ۔

_____ پڑنا : جاڑا پڑنا، ٹھنڈ ہونا۔

_____ چڑھنا : جوڑی چڑھنا۔

_____ کھانا : جائے کا اثر ہونا، جائے کی تکلیف برداشت کرنا۔

_____ گرمی سے بچانا : گرم و سرد موسم یا ہولے سے محفوظ رکھنا۔

_____ ہونا : زکام ہونا، ٹھنڈی ہوا لگ جانا۔

سرداب / سردا پیر : (۱) تھلا، (۲) وہ قبر جو پہلے سے کھودا گیا

پاٹ دیتے ہیں۔

سردان : (۱) مذکر، مرغز، افسر۔

سراگائے : موت، جنت، تاجار، کوہ ہائے میں پانی جانے والی
گاتے۔ جس کی دم کے چوڑ بنائے جاتے ہیں۔

سراٹا : متبرک چیزوں کو دریا میں بہانا، دفن کرنا، ٹھنڈا کرنا۔

سراوگی : مذکر، جین مت کا پیرو۔

سراوان : مذکر، کھیت کی جی ہو کر کرنے کا آلہ، پڑا۔

سراہنا : موت، تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا۔

سراہیت / سراہت : (۱) موت، گستا، بیٹھنا، بچنا، تاثیر کرنا،
جذب ہونا، نفوذ۔

سرب : (۱) مذکر، سیر۔

سربٹ : موت، (۱) گھوڑے کی ایک قسم کی تیز دوڑ، (۲) دکناٹیا،
تیز بڑھنا، تیز لگنا۔

سربھو کا : مذکر، ایک قسم کی مصنی خون گھاس۔

سرت : (۱) موت، خبر خیال، یاد، ہوش۔

سرتا : مذکر، ہوشیار، چالاک، عقل مندی، چوکتا، (۲) ذہین، (۳)
وہ گول پتھر جس پر ہندو مندر بس کر لگاتے ہیں۔

سرتی : (۱) موت، (۲) تمباکو کا بڑا دہ، (۳) دانائی، ذہانت۔

سرتیکٹ : (سرتی ٹکٹ) : CERTIFICATE : (ٹک) : سند،
صداقت نامہ۔

سرتج : SEAG : (ٹک) : مذکر، آڑی بنانی کا گرم پتڑا، ایک قسم کا
اولی پتڑا۔

سرتجری : SURGERY : (ٹک) : موت، جراحی، فن جرات۔

سرتجن : SURGEON : (ٹک) : آپریشن کرنے والا ڈاکٹر، جراح۔

سرتج لاٹ : SEARCH LIGHT : (ٹک) : موت، کسی دور کی
چیز کو دیکھنے کے لیے بہت تیز اور جری روشنی۔

سرتجھ : (۱) موت، کنارہ، انتہا، حیرت فاضل۔

سرتج : (۱) لال، چھپا، (۲) موت، گھنٹی، رتی (۳) ڈاٹے کا آٹھواں حصہ،

باد : مذکر، ایک چھدی مرض کا نام۔

سرد : (۱) ف، (۱۱) لال چہرے والا، (۱۲) کامیاب، خوش، عزت آبرو

حاصل کرنے والا، (۱۳) یا آبرو۔

_____ رو کرنا : عزت دینا۔

_____ رو ہونا : کسی کے یہاں عزت پانا۔

سر داری: (ف) موٹ، افسری، حکومت۔

سر دُل: مذکر، چوکٹ کے اوپر کا پٹا، چوکٹ کے اوپر کی لکڑی جس میں کاز کی اوپر والی چول رہتی ہے۔

سر د: (ف) مذکر، ایک قسم کا شیریں خربوزہ جس کا گودا اندر سے سبز رنگ کا ہوتا ہے۔

سر زد ہونا: واقع ہونا، عہد میں آنا۔

سر س / سر سا: مذکر، ایک درخت کا نام۔

سر سام: (ف) مذکر، ایک ہذیبائی مرض کا نام، جس میں انسان کے دماغ میں حرم بھجاتا ہے۔

سر ششی / سر سوتی: موٹ، (۱) ایک دریا کا نام، (۲) زبان، راگ، علم و ہنر کی دیوی کا نام، (۳) ایک راگنی کا نام۔

سر سُر: موٹ، (۱) ساتیں ساتیں کی آواز، (۲) تیز چلتی ہوئی چیز

سر سُر آنا: (۱) جوں یا چینی وغیرہ کا بدن پر آہستہ آہستہ چلنے معلوم ہونا، (۲) ہوا کا لہانا، ہوا کا ساتیں ساتیں کرنا، (۳) کسی رقیب چیز کے

جوش ہوتے وقت پانی کا آواز دینا، پکنے کی آواز دینا، (۴) پودوں یا درختوں میں جان پڑنا، رونق آنا، رُوپ آنا، ہلکی ہلکی سانس

آنا۔ ہلکی ہلکی ہوا آنا، (۶) ہوا سے درختوں کے پتوں کا گر کر کھانے آواز دینا۔

سر سر آنا: سردی سے کانپنا، سردی کے مارے کانپتے ہوئے سر سر کی آواز نکالنا۔

سر سر اہٹ: موٹ، (۱) سانپ کے چلنے یا کسی کیرے کے رینگنے کی آواز، رستی کے گھسنے کی آواز، (۲) پکنے میں پانی کے بولنے

کی آواز، (۳) جنبش، نیزی۔

سر سر سی: (ف) (۱) سر اسری (۲) محل طور پر جلدی سے بے سوچے سمجھے بے پروائی سے، بے فکر (۳) عدالت خفیہ، (۴) عورتوں

کی ہر لفظ سے پہلے سین (س) بڑھا کر راز کی زبان بنالینا، (اب متروک ہے۔)

اختیارات: مذکر، تحقیقات سے پہلے حکم دینے کے اختیارات۔

سر سر سی: موٹ، (۱) نام میں لگ جانے والا سرخ کیر (۲) آتش بازی کی چھوٹا سا سر سر اہٹ۔

سر سوتی: موٹ، (۱) علم و ہنر کی دیوی۔

سر سوں: (ف) موٹ، رانی کی تم کا ایک بیج۔

پھولنا: (دکنیاشا) زردی کا عالم نظر آنا، سر سوں کے پھولوں کا پھولنا۔

سر شست / سر شست: (ف) غیر، طبیعت، خواہ مزاج۔

سر شستہ / سر شستہ: (۱) دفتر، حکم، کچھری، (۲) دستور، رواج، طریقہ۔

دار: سر دفتر، میر منشی۔

داری: سر دفتر، دار کا عہدہ، میر منشی۔

سر شک / سر شک: مذکر، قطرہ، آنسو۔

باراں: (اضاف کے ساتھ) (ف) مینہ کے قطرے۔

سرطان: (ع) مذکر، (۱) مکڑی یا بھتے سے مشابہ ایک آبی کیر (۲) آسان کے چوتھے بروج کا نام (۳) ایک خطرناک جھوڑا، (کینسر)

سر عت: (ع) موٹ، جلدی، تیزی، پھرتی۔

سر عتہ: (ف) مذکر، (۱) بڑا، بزرگ، (۲) مفردوں کا سردار۔

سر ف: (ع) مذکر، فصول خرق، بے ہودہ خرچ، زائد خرچ۔

سر قہ: (ف) مذکر، کھانسی۔

سر قہ: (ع) مذکر، (۱) چوری ڈکیتی، (۲) دوسرے کے مضمون یا شعر کو اپنے کلام میں شامل کر لینا۔

سر کار: موٹ، (۱) حکومت، سلطنت، گورنمنٹ (۲) بادشاہی عدالت (۳) دکنیاشا کسی رئیس کی ریاست، (۴) سردار، آقا، حضور، عالی جناب (۵) دکنیاشا، عشوق (۶) دکنیاشا، تعظیم سے، گھر، گھر کا مالک۔

دربار: بادشاہ کی کچھری۔

دربار چڑھنا / کرنا: (ع)؛ کچھری میں نالاش کرنا، دعوے دار ہونا۔

سرکاری: (ف)؛ (۱) سرکار سے منسوب، سرکار کا منصبی، (۲) شاہی۔

حاکمانہ: (۳) آقا کا۔

کاغذ: مذکر، اسٹامپ کا کاغذ، پراسری نوٹ۔

کام: مذکر، آفس کا کام، دفتر کا کام۔ (حکومت سے) متعلق۔

سرکانا: (۱) ہٹا، ایک طرف کرنا، الگ کرنا، کھسکانا، (۲) کسی کام کی تاریخ بدلنا، ملتوی کرنا، (۳) غائب کر دینا، چھپا دینا، (۴) اڑا دینا، چھپنے کے دوسرے کاہل کسی کو دے دینا، (۵) رشوت دینا۔

سرکٹ: (۱) الگ، (۲) مذکر، (۳) چکر، دور۔

سرکٹ ہاؤس : CIRCUIT HOUSE (انگ) مذکر، دوسرے پر جانے والے حکام کے قیام کرنے کی عمارت۔

سٹرکس : CIRCUS (انگ) مذکر، ۱۱ جہان کرتب دکھانے والی ٹولی، (۲) وہ تماشاج میں سہانے ہوتے جانوروں کے کرتب دکھاتے جلتے ہیں۔

سٹرکول : CIRCLE (انگ) مذکر، حلقہ، دائرہ، احاطہ، چکر، گھیرا۔ سٹرکولر : CIRCULAR (انگ) مذکر، گول، چکر دار، دائرہ نما، (۲) جفتی مراسلہ، اعلان، اشتہار۔

سرکنا / سرک جانا : جیسے ہٹنا، ایک طرف ہوجانا، الگ کرنا، کھٹکانا، آزاد بنا۔

سٹرکنڈا : مذکر، سینٹھا، ٹرنگل۔

سٹرنگلیبن / سٹنگبین : (ف) مونث، سر کے کاشتیت۔

سٹرک / سٹرکا : (ف) مذکر، ٹر۔ گئے اور انکو دھیرہ کا غیر آٹھا ہوا شیرو۔

سٹرکی : مونث، سوپ، پال وغیرہ بنانے کی ایک قسم کی گھاس کی تیلی۔

سٹرگ باشی ؟ لغبت میں رہنے والا، خلد نشین، آن جہان، مرحوم۔

سٹرگم : مونث، راگ کے ساتوں سروں کا مجموعہ۔

سٹرگنی : (جو) سہری، روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری حصہ میں کھایا جانے والا کھانا۔

سٹرن : (۱) مذکر، سیدھا، سادہ، آسان۔

سٹرم : (ف) مذکر، جاڑا، سردی کا موسم۔

سٹرمایہ : (ف) مذکر، پونجی، دولت، اصل زر، ۱۲۱ و ۱۵۱ اشیا۔ جو دولت کی پیداوار میں مدد دے سکیں۔

سٹرمایہ دار : (ف) مال دار، صاحب ثروت، پونجی پی۔

سٹرمایہ داری : (۱) دولت خندی، مال داری، (۲) سٹرمایہ دارانہ نظام۔

سٹرمہ : (ف) مذکر، انجمن آنکھوں میں لگانے کی مہین پوسی چیز۔ (۲) نہایت باریک۔

سٹرمہ آواز : (ف) (اضافت کے ساتھ) (کنایتاً) آواز بند کر دینے والا، سٹرمہ کھانے سے آواز بیٹھ جانا۔

سٹرمہ بنانا : (۱) سٹرمہ تیار کرنا، (۲) (کنایتاً) بہت باریک کرنا۔

سٹرمہ پھیلنا : لگاتے ہوئے سرے کا اپنی جگہ سے بڑھ جانا۔

سٹرمہ چٹھم : (ف) (اضافت کے ساتھ) (کنایتاً) پیارا، عزیز۔

سٹرمہ دان : مونث، سٹرمہ رکھنے کا ظرف۔

سٹرمہ دنیالہ دار : (ف) مذکر، (اضافت کے ساتھ)؛ انکھ کے کوسے سے کھیا کی طرف بڑھا ہوا سٹرمے کا خط۔

سٹرمہ سیلیکان / سیلیکانی : ذیبا کی چھپی ہوئی چیزیں دکھانے کی تہیروالا سٹرمہ۔

سٹرمہ کرنا : نہایت باریک کرنا۔

سٹرمہ کھانا : (کنایتاً) خاموشی اختیار کرنا۔

سٹرمہ لیں / سٹرمہ لیں : (ف)؛ سٹرمہ لگی ہوئی، سٹرمہ آلود۔

سٹرمے کا قلم : مذکر، پینسل۔

سٹرمہ تھی : سٹرمے کا رنگ کا۔

سٹرن : (۱)؛ (۲)؛ (۳)؛ مونث، پناہ۔

سٹرن : (ف)؛ مونث، نفیری۔

سٹرنج : SYRINGE (انگ) مونث، پمپکاری۔

سٹرنگ : (۱)؛ مونث، (۲)؛ نقب، زمین دوز راستہ، پہاڑ وغیرہ اٹلنے کی زمین کے اندر کی بارود بھری تالی، (۳)؛ لال، سرخ، (۴)؛ مذکر تیل یا لاکھی رنگ کا گھوٹا، (۵)؛ اچھے رنگ کا خوش رنگ۔

لگانا : (۱)؛ سوراخ کرنا، نقب لگانا، (۲)؛ (کنایتاً) خبر لگانا، اندر کی اندر کھوج لگانا، (۳)؛ (کنایتاً) جزو کھودنا، بنیاد کھول کر بنا دینا، بیخ کنی کرنا۔

سٹرنگی / سٹرنگیا : (۱)؛ سٹرنگ لگانے والا، سوراخ رساں۔

سٹرنو : (ف)؛ مذکر، ایک مشہور درخت کا نام۔

سٹرنو آزاد : (اضافت کے ساتھ)؛ (ف) سیدھا اور اونچا ہمیشہ سربز رہنے والا، سرو کی ایک قسم۔

بالا : (ف)؛ (۱)؛ سرو قامت، (۲)؛ (کنایتاً) محبوب۔

چمن / خرما / رواں / سمن اہدام / قامت رگل اندام : (اضافت کے ساتھ)؛ (کنایتاً) محبوب، معشوق۔

رعشا : (اضافت کے ساتھ)؛ (ف)؛ (۱)؛ سرو عیش خاد آراستہ، (۲)؛ (کنایتاً) معشوق۔

چراغ خاں : (اضافت کے ساتھ)؛ مذکر، لکڑی کے عیشوں سے سرو کی شکل بنا کر اس کی شاخوں پر چراغ روشن کیا ہوا مصنوعی سرو۔

سہکی : (ف)؛ (۱)؛ دو سیدی اوپر کوئی ہوتی شاطوں والا سرو،

(۳) مہاز، محبوب۔

سُرو قد: (۱۱) سرو جیسے سیدھے قد والا خوش قامت، (۱۲) اکنائیا، معشوق۔

_____ اٹھنا: تعظیم کے لیے کھڑے ہوجانا۔

_____ تعظیم دینا: سیدھے کھڑے ہو کر کسی کی تعظیم کرنا۔

_____ ناز: (۱) نازک، (۲) اضافت کے ساتھ، (۳) ہر طرف جھکی ہوئی شانوں

والا سرو، (۴) اکنائیا، محبوب۔

سُرو ا: نازک پتک کے سرانے اور پائنتی کی پٹیاں۔

سُرو اہا: نازک، (۱) سرو سامان، (۲) وارث۔

سُرو ڈپ: (۱) نازک روپ، شکل و شباہت، خوب صورتی۔

سُرو تانا: نازک، چھالیا کرتنے کا اوزار، گنڈیریاں کاٹنے کا اوزار۔

سُرو و: (۱) نازک، گیت، نغمہ، راگ۔

سُرو و: ایک قسم کا بابا۔

سُرو ر: (۱) نازک، سردار، اختر۔

سُرو ر کائنات: (سرو عالم)؛ نازک، اس حضرت صلعم سے مراد۔

سُرو ر: (۱) نازک، (۲) خوشی، فرحت، (۳) خیف سا نشہ، خماری۔

_____ جمنار ہونا: غار چڑھنا، آنکھوں میں سرخی جھلکانا۔

سُرو س: SERVICE؛ (انگ) موٹ، نوکری، ملازمت، خدمت،

خدمت گاری، کام، انتظام۔

_____ بک: BOOK؛ (انگ) موٹ، وہ کتاب جس میں

ملازمین کی مدت خدمت اور ان کے چال چلن کی بابت لکھا جاتا ہے۔

سُرو ش: (۱) نازک، فرشتہ جبریل، فرشتہ غیب کی آواز، اہام۔

_____ غیب: (۱) اضافت کے ساتھ، نازک، باعفت، غیب، آسمانی

آواز۔

سُرو ش: SERVANT؛ (انگ) نازک، نوکر، خدمت گزار، ملازم۔

_____ کوارٹر: QUARTER/S؛ (انگ) کسی بڑے

مکان کے احاطے میں ملازمین کے لیے رہنے کے کمرے۔

سُرو وور: (۱) نازک، طالب، جیس، پالیہ میں واقع ایک بڑی جھیل کا نام۔

سُرو و: (۱) ماڈرنوں کوہ آلو کے پاس کا ایک مشہور تھقہ، (۲) موٹ،

ایک قسم کا خنجر، ایک قسم کی دودھاری تلوار۔

سُرو وے: SURVEY؛ (انگ) نازک، پیمانہ، معائنہ۔

سُرو مانا: نازک، سر رکھنے کی جگہ، نیکہ رکھ کے لیٹنے کا رُخ۔

سُریج / سُلج: موٹ، سالے کی چھوڑ۔

سُریجنگ: (۱) نازک، (۲) فوج کا سردار، پہلوان، سپاہی، (۳) دل چلانا۔

سُری: موٹ، نذیب، جانور کا سر۔

_____ پائے: نازک، کٹے پائے۔

_____ پھل: نازک، ناریل۔

سُری / سُری: (۱) لہمی کا نام، دولت اور اقبال کی دیوی، (۲) ایک

عزت کا خطاب، جناب۔

سُری راگ: نازک، راگ کی ایک قسم۔

_____ ریشن / رکرشن: نازک، کنہیا جی کا لقب۔

سُری سے: (۱) ۱۶۰۰، (۲) پیچھے، (۳) کسی، (۴) پہلے ہی، اول، (۵) انتہائی حد پر۔

سُری شیت: (۱) موٹ، (۲) برتنے منسوب، باطنیت، (۳) فلسفہ ویدانت

جس میں ذات الہی پر بحث کی جاتی ہے۔

سُری شتی: (موٹ) لاشوری تصور، ماورائی حقیقت، دیکھو: (انگ)

SURETY

سُریہ / سُریہ: (۱) نازک، بدن، جسم۔

سُریہ: (۱) نازک، تخت، مسند، شاہی گدی۔

سُریس / سُریس: (۱) نازک، ایک قسم کی چکنے والی چیز۔

سُریج: (۱) جلدی کرنے والا، تیز، (۲) موٹ، عروض کی ایک بحر کا نام۔

_____ الالہیاب: (۱) جلد آگ پکڑ لینے والا۔

_____ اتا شہر: (۱) جلد اثر کرنے والا، زود اثر۔

_____ اظہم: (۱) زود فہم، جلد ہی سمجھنے والا۔

_____ اظہم: (۱) جلد فہم ہوجانے والا۔

سُریلا: نازک، خوش گلو، خوش آواز، نئے والا۔

_____ گلا: نازک، نغمہ سرائی سے مناسبت کھنے والا گلا، سب سُریٹیک

ٹیک ادا کرنے والا گلا۔

سُریلی: موٹ، سُریوں ڈولی ہوتی، تال سُری کے موافق۔

سُریلیسٹ: (سُریلیسٹ)، SURREALIST؛ (انگ) ماورائی

حقیقتوں کو ماننے والا۔

سُریس: (۱) نازک، چوڑے پٹھان۔

سُری: (۱) موٹ، جنون، دیوانگی، باولا پن۔

_____ پلا / پلا: نازک، اول اول جلول۔

- شتر: مذکر، گلابو، بوسیدہ۔
 گلابو: مذکر، بدبودار، گلابو۔
- شترنا: ۱۰، بدبودار ہونا، گل جانا، غیر نضام، ۱۱، دکناٹیا، مدت تک پڑا ہونا، ۱۲، بڑا، خراب ہونا، کام کا نہ ہونا۔
- شتر: مذکر، دیوانہ، پاگل، احمق۔
 باولا: پاگل، دیوانہ، مجنون۔
- شتر اشتر: برابر، لگاؤ، شامٹ، کوڑے یا تھپی کے متواتر مارنے کی آواز
 کسی چلک دار چیز کے مارنے کی آواز۔
- شتر اک: موت: ۱۰، جلد، فوراً تیزی سے ۱۱، تھپی یا چاچک مارنے کی آواز۔
- شتر اندر / شتر اہند: موت: بدبو، تعفن۔
- شتر ب / شتر ب: موت: کسی تلے کی چیز کے پینے یا جلد جلد کھانے کی آواز۔
- شتر بنا / شتر بنا: کش کھینچنا، چوستا، پینا۔
- شتر شتر / شتر شتر: موت: متعین کی آواز، جھٹکی کی آواز۔
- شتر سے: جلدی سے۔
- شترک: موت، روڈ، راستہ، شارع عام، شاہراہ۔
- آسٹی: لوسکی شترک، ریل کی شترک (پٹری)۔
- شتر گٹا: ۱۱، نکل جانا، ہب کر جانا، ۱۲، ناک کا گاڑھا پانی اوپر کی طرف
 کھینچنا۔ ۱۳، ناس لینا، ۱۴، ناک میں پانی دوایا ناس پھینا، ۱۵،
 تلوار میاں سے سوتنا، ۱۶، دکناٹیا، پانی کی طرح لہی جانا۔
- شتران: موت، دیوانی عورت سے وقف عورت۔
- شتری: مذکر، موت، پاگل، احمق، دیوانہ۔
- سلطان / سودانی: دیوانہ اور مجنون۔
- شتری بسا فدی یا تیں: دوا، نکتی تیں رنگ اور باتیں، ہم مددہ باتیں۔
- شتر: ۱، موت، ۱۱، لائق، سزاوار، موافق، ۱۲، عوض، بدلہ، جزا،
 ۱۳، تہاوان، جہانہ، قید۔
- پانا: بدی کا عوض ہانا، دکھ پانا، ہجرانہ یا قید بگھٹنا۔
- دینا: قید کرنا، ہجرانہ کرنا، مارنا، پینٹا، گوش مالی کرنا، بدی کا بدلہ لینا۔
- کارنرا چکھنا: سزا کی تکلیف سہنا، سزا کھینچنا، کیے کی سزا لینا۔
- دار ہن، لائق، مناسب، مستحق، قابل، زینبہ مبارک، مسجد۔
- دار ہونا، موافق ہونا، مبارک ہونا، مسجد ہونا۔
- یاب / یافتہ: ۱، سزا پلانا، ہوا انسان۔
- بسائند / بسا اہند: موت، پھیلنے کی سی بدبو۔
- بسست: ۱، ات، ۱۰، ناتوان، کمزور۔ ۱۱، کابل، جموں، ۱۲، کم شہرت
 ۱۳، اداس، آزرده، افسردہ (۵)، دھیا (۶)، مضمحل، مہلک، ۱۴، گھٹنا۔
- اعتقاد: کمزور عقیدے والا۔ ضعیف الاعتقاد۔
- پیمان: ۱، ات، دھمکے کا کچا، عہد شکن، بسست راستے۔
 بے عقل۔ بے وقوف۔ نادان۔
- ہونا: ۱۰، کابل، ہونا۔ جموں، ہونا۔ ۱۱، اداس ہونا۔ عم میں ہونا۔
 ۱۲، کم شہرت ہونا۔ ۱۳، کم رفتار ہونا۔
- بسستا: مذکر۔ کم دم، ۱۱، ارزان، کم قیمت۔
- چھوٹا: ۱۱، کم قیمت پر بکنا، ۱۲، بلا دفع ہونا۔ ۱۳، آسانی سے
 کسی محلے سے نبٹ جانا۔
- سما / سماں: مذکر، رستائی کا زمانہ، ارزانی کا وقت۔
- سسٹا / سستا لینا: آرام لینا۔ دم لینا۔ تازہ دم ہونا۔
- شستی: ۱، ات، موت، ۱۰، کالی، ڈھیلا پن، اگسی، کھنسل، ۱۱، نامردی۔
 آثارنا / توڑنا: دکناٹیا، انکڑائی لینا۔
- شستر: (SISTER) ۱، انگ، ۱۰، موت، ۱۱، بہن، ہمشیرہ۔ ۱۲، (مجازاً،
 ۱۳، اسپتال کی نرس، ۱۴، عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنے والی راہبہ کا خطاب)۔
- شستیم: SYSTEM ۱، انگ، مذکر۔ اصول، طریقہ، رواج۔ طرز، نظام۔
- شستر / شستر: ۱، مذکر۔ ۱۰، شستر، بیوی کا باپ۔ خاوند کا باپ۔
 ۱۱، ایک قسم کی گالی۔
- شستری: موت، ۱۰، ساس، ۱۱، ایک قسم کی گالی۔
- شسترال: موت، ۱۰، ساس یا سسر کا گھر۔ ۱۱، خاوند یا بیوی کی
 طرف کانیزہ، ۱۲، عمر، قید خانہ۔
- گاکتا: دکناٹیا، شتری روٹوں پر پشارہنے والا دلا۔
- شسکارنا: نکتے کو کسی پر دوڑانا۔
- شسکاری: موت، ۱۰، سسکی، ۱۱، نکتے کو بھٹانے یا پھلانے
 کی آواز۔
- شسکارنا: بچے کو منی کی آواز سے پشاب کرانا، بچے کو پشاب کرانا۔
- شسکتی: موت، روتی، بسورتی، منہ ہانا۔
- شسکتی: موت، کھوس عورت۔
- شسکت / شسکت: کروڑوں لگانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑی تکلیف

شکھ پانا: ۵۱، آرام پانا۔
 شکھی: ۵۱، شکھ پانے والا خوش، آسودہ۔
 شکھا شاری: موتھ، شکھوں کی عمل داری۔
 شکھانا/شکھلانا: تسلیم دینا، یڑھانا، ۱۲۱ بسدھانا، ڈھب پر لگا دینا، چلانا۔

پڑھانا: ۱۱۱، تعلیم اور تربیت دینا، ۱۱۷ اور غلانا، بہکانا۔
 شکھانا/شکھلانا: ۱۱۱، خشک کرنا، تری دور کرنا، رطوبت جذب کرنا، ۱۲۱، اکنا پنا کسی کو دیر تک بٹھاتے رکھنا۔
 شکھاتے میں آنا: کسی کے کہنے میں آنا۔
 شکھایا پڑھایا: مذکر، ۱۱۱، تعلیم و تربیت دیا ہوا، ۱۲۱، بہکایا ہوا۔
 شکھ پال: مذکر، ایک قسم کی پالگی، جس میں ہیروں کی عورتیں سواہ جوتی تھیں۔
 شکھ ڈریشن: موتھ؛ ایک بونی کا نام۔
 شکھی: موتھ؛ ۱۱۱، سہلی، ۱۲۱، سداساہک فقیروں کا گروہ، جو زنانہ لباس پہنتا ہے، ۱۲۱، ایک قسم کی پھیل، جس میں ایک بہت کہہ کر کہہ جاتے ہیں، کہہ ٹکری۔

س-گ، گھ

سنگ: ۱۱۱، مذکر، سنگا۔
 اصحاب کھف: (اضاف کے ساتھ) مذکر؛ (اصحاب کھف کا کتا، قطعیہ۔
 پاش برادر خرد مپاش: ۱۱۱، (مقولہ)؛ چھوٹے کو بڑے کی اطاعت و فرماں برداری کرنی پڑتی ہے۔
 تازی: ۱۱۱، (اضاف کے ساتھ) ف؛ مذکر، شکاری کتا۔
 دنیا: (اضاف کے ساتھ) ۱۱۱، مذکر؛ اکنا پنا؛ دنیا کا طالب، لاپچی۔
 زرد برادر شغال: (اضاف کے ساتھ) ۱۱۱، (مثنیٰ)؛ وہ خراب شخص جو خرابی میں دوسروں کے مانند ہو۔
 حضور بہ از برادر دور: (اضاف کے ساتھ) ۱۱۱، (مثنیٰ)؛ جو شخص رو بہ دور رہتا ہو وہ کسی ایسا دنیا کیوں نہ ہو اس کی حمایت کرنا پڑتی ہے۔
 سنگا: مذکر، حقیقی، ایک ماں باپ کا۔
 سگار: CIGAR، (مثنیٰ)؛ مذکر، خشک تباہی کا غلہ میں لہنی موٹی پٹری چڑھتی۔

سنگھ: (ع) موتھ؛ سکونت کی جگہ، گھر۔
 سنگھی: موتھ؛ مکانات کی جائے داد۔
 سنگھوت: ۱۱۱، مذکر؛ خاموشی، چپ رہنا۔
 گرننا: شہرنا۔ خاموش ہو جانا۔
 بسکورہ/بسکورہ: مذکر، مٹی کا پیالہ۔
 بسکوری: موتھ؛ مٹی کی پیالی۔
 بسکورٹ: موتھ؛ ۱۱۱، سمیٹ کر ایک جہا ہونا، جسم کی کھال یا کسی چیز کا، ۱۲۱، اکنا پنا کسی سے کسی کی علامت دہی۔
 بسکورتا: سیکھنا، ہاتھ پاؤں سمیٹ لینا۔
 سنگھون: (ع) مذکر، ۱۱۱، آرام، قیام، شہراؤ، ۱۲۱، جزم، حرف ساکن کی مقررہ علامت۔
 سنگھونٹ: موتھ؛ بود و باش، قیام۔
 پذیر ہونا: بود و باش اختیار کرنا، رہ پڑنا۔
 سنگھونیت: (سنگھونٹی یش)؛ ۱۱۱، مذکر، سکون کی کیفیت، حالت سکون، فلسفے کی اصطلاح، افلاطون کا فلسفہ زنان۔
 سنگھ: (ع) مذکر، ۱۱۱، شہا، ۱۲۱، سرکاری طرف سے جاری کیا ہوا روپیہ پسا۔
 ۱۲۱، طرز، روش، قاعدہ، دستور اصل، ۱۲۱، مہر شاہی، ۱۵۱، حکم حکومت حکم، رعب و داب۔
 شھانا/شھلانا: حکومت جانا، رعب داب قائم کرنا۔
 شھانا: سنگھ دھانا، چوری سے کوئی سنگھ تیار کرنا، جعلی روپیہ پسا بنانا۔
 شھنا: رعب شھنا، حکومت قائم ہونا۔
 پڑنا: ۱۱۱، سنگھ پر نام کو داجانا، ۱۲۱، اکنا پنا، رعب شھنا۔
 جاری ہونا: ۱۱۱، کسی والی ملک کا روپیہ ملک میں رائج ہونا، ۱۲۱، رعب داب شھنا۔
 سنگھ سماجی: مذکر، ۱۱۱، قدیم ریاست نظام وکن کا سنگھ، ۱۲۱، سنگھ رائج الوقت۔
 سنگھ رائج الوقت: وہ سنگھ جو حال میں چلتا ہو، رائج سنگھ۔
 سنگھ قلب: (ع) مذکر، کوٹا سنگھ، جھوٹا سنگھ۔
 سنگھ: ۵۱، مذکر؛ کھانا وغیرہ رکھنے کے لیے جھت میں لٹکانے والی جالی یا لٹکن، چھینکا۔
 سنگھ: مذکر؛ گردنا تک کا پیرو۔
 سنگھ: (ع) راحت، آرام، چین، تندرستی۔

کے ذکر کے ساتھ ایک قسم کی مدھیہ نظم، (۱۶۱) اکتائیا، انزام دینے اور قابل کرنے کا سلام، (۱۶۰) بٹے کا سلام، (۱۶۰) میلاد کی مجلس میں کھڑی ہو کر پڑھی جانے والی نظم۔

سلام پھیرنا: نماز ختم کرنا۔

— پیام / پیغام: مذکر، (۱۶) گفت و شنید، بات چیت، (۱۶) منہ کی نسبت، ذکر اذکار۔

— روستائی بے عرض نیست: (اضافت کے ساتھ) (۱۶) من، (۱۶) کی شخص کسی عرض سے بار بار آکر سلام کرے۔

— شوق: (اضافت کے ساتھ)؛ اشتیاق ملاقات کا سلام۔

— تخلیک: (۱۶) موت، (تجوید کا سلام، تو سلامت رہے)؛ (۱۶) بندگی تسلیم، (۱۶) صاحب، سلامت، ششمانائی۔

— سلام علیکم / السلام علیکم: (۱۶) تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو مسلمانوں کا سلام۔

— سلام کرائی: موت، (۱۶) دہن کے رشتے داروں کا دوہا کو خصتی کے وقت نقدی یا زیور دینا۔

— کرنا: (۱۶) آداب بجالانا، (۱۶) اکتائیا ترک کرنا، چھوڑنا، (۱۶) کسی کی استادی بڑائی چالاک یا ہنرمندی کا قابل ہو جانا، (۱۶) نصرت ہونا، خیر باد کرنا، (۱۶) اظہر سے، الزام دینے کے لیے سلام کرنا۔

— کرنے والا، امیدوار۔

— لینا: سلام کا جواب دینا۔

— نیاز: (اضافت کے ساتھ)؛ عاجزی کا سلام، خریدی کا سلام۔ سلامت: (۱۶) محفوظ، آفت اور صدمات سے محفوظ، صحیح،

تندرست، زندہ (۱۶) پورا، کامل ثابت، صحیح سالم (۱۶) بخیر و عافیت، تندرستی کے ساتھ (۱۶) مبارک۔

— رومی: (۱۶) من، موت، میانہ چال چلنا، کھایت سے گزارا کرنا۔ رہنا: (۱۶) صحیح سالم رہنا، (۱۶) برقرار رہنا، ثابت رہنا، کمی یا نقصان نہ ہونا، محفوظ رہنا۔

— سلامتی: موت، (۱۶) حفاظت، بچاؤ، (۱۶) غیریت، عافیت، (۱۶) تندرستی، آرام (۱۶) زندگی، رحمت، موجودگی۔

— چرھنا، جو: جن کلمات میں خدا کے ازل سے اپنک ہونے کا اقرار ہو وہ کلمات دعا پڑھنا۔

سگانی: موت، سگنی، نسبت۔

سگریٹ: CIGARETTE (۱۶) انگ، مشہور پینے کی کاغذ میں تباکو بھری چیز۔

— لائٹر: LIGHTER (۱۶) انگ؛ مذکر، سگریٹ سگانے کی چھوٹی سی ڈبی۔

سگند / سگندھ: (۱۶) خوش بو، مہک۔

— سگنل: SIGNAL (۱۶) انگ؛ مذکر، موٹر میں گاڑی وغیرہ آنے جانے کی اطلاع دینے والا آکر / علامت / نشان۔ اشارہ۔

— سگھر: (۱۶) اورتوں کے لیے سلیقہ مند، باقیمز، ہوشیار۔

— سگھڑا یا: سلیقہ، تمیز۔

— سگھرین: سلیقہ مندی، ہوشیاری، خوش سلیقی۔

س۔ ل

— سل: (۱۶) موت، (۱۶) مہر سے خون آنے والی ایک بیماری۔

— سل: (۱۶) موت، (۱۶) سال اپنے کا پتھر (۱۶) چٹان، پتھر۔

— سنا: مذکر، سل اور باٹ۔

— سلا چیت: مذکر، ایک پتھر سے نکلنے والا سیاہ رنگ کا پتلا مادہ جو دولے کی طرح استعمال ہوتا ہے۔

— سلاح: (۱۶) مذکر، اختیار، اوزار، آلات جنگ۔

— خانہ: (۱۶) مذکر، اختیار رکھنے کا اسٹور۔

— شور / دار: (۱۶) بہادر سپاہی، ہتھیار بند، میگزین کا داروہ۔ سلاح: موت، (۱۶) لوہے چاہی یا سونے کا پتلا گول لمبا ٹکڑا۔

— سلامت: (۱۶) موت، (۱۶) روانی، ہم داری، نرمی، طاقت (۱۶) کلام کا نقلی نقلوں سے پاک ہونا، آسانی سے پڑھا جانا، سادگی، صفائی۔

— زبان: (۱۶) (اضافت کے ساتھ)؛ (۱۶) موت، نرم کلامی، شیریں گفتاری، سلیس اور روان عبارت۔

— سلاسل: (۱۶) موت، (۱۶) جمع سلسلہ (۱۶) زنجیر، پیری (۱۶) سلسلے۔

— سلاطین: (۱۶) مذکر، (جمع سلطان کی)؛ شہزادے، پہلے بادشاہوں کی اولاد، شاہی خاندان کے سوائے بندہ بادشاہ۔

— سلام: (۱۶) مذکر، (۱۶) تسلیم، بندگی، کورنش، آداب (۱۶) رخصت، (۱۶) معافی خواہی، باز آنا، (۱۶) خانہ نماز کا سلام (۱۶) ہرگز کربلا

سلا متی سے: (جو ۱۱۱۱ خدا کے فضل سے ۱۱۱۱) (طنزاً) ماشا را اثر۔

_____ کا جام پینا، جام صحت پینا۔

_____ میں: (جو ہمدت میں، موجودگی میں، فیصل میں۔

سلا می: (بن، موت، ۱۱۱۱، دولہا اور دولہن کو دیا جانے والا دوسرا، ۱۱۱۱)

اختیاروں کو اٹھا کر سلام کرنا، (۱۱۱۱) بادشاہوں یا معززین کی تعظیم

کے لیے چند بار توپوں کا پھونٹنا، (۱۱۱۱) نذرانہ، (۱۱۱۱) ڈھال، ڈھالوں

(۱۱۱۱) جوئی سلام کہنے والا، (۱۱۱۱) جھکنے والا۔

_____ آنا رتا، کسی بادشاہ یا حاکم اہلکے آنے پر توپوں کے یہی سے

انہما تعظیم کرنا۔

سلا نا / سلا دینا: (۱۱۱۱) نیند میں ڈالنا، (۱۱۱۱) بچے کو تھک چک کر سلا نا، (۱۱۱۱) زہر کھلا کر

مار ڈالنا، گھاسوت دینا، (۱۱۱۱) (قرمیں) دھنکنا۔

سلائی: (۱۱۱۱) سر نہ لگانے کی گول پٹی سلاخ، (۱۱۱۱) پٹی سلاخ، گولٹا بننے کا کاغذ

کڑی کے اندر رکھنے کی پٹی سینک، (۱۱۱۱) دیا سلائی، (۱۱۱۱) ۵۵ آلہ

جس سے مشاطہ زلف بناتی ہے۔

_____ پھیرنا: (۱۱۱۱) ہم سلائی کے ذریعے سے اندھا کرنا، نابینا کرنا، (۱۱۱۱) کسی

زخم میں سلائی لگانا، آنکھ میں سلائی لگانا، سر نہ لگانا۔

سلائی: (۱۱۱۱) موت، (۱۱۱۱) سینے کی اجمت، سینے کا کام، (۱۱۱۱) نالکا، رسپون۔

سلب: (۱۱۱۱) مذکر، دھڑ کرنا، جذب کرنا، طاقت سلب کرنا، (۱۱۱۱) چھین

پینا، (۱۱۱۱) نعتی کرنا۔

سلب: (۱۱۱۱) سلب، (۱۱۱۱) موت، (۱۱۱۱) پہلنا، سبوں چوک، انفرش، سہو،

(۱۱۱۱) کاغذ کی پتی، تراش، کاغذ کا لہا پڑو، کاغذ کی چٹ۔

سلب پٹ: (۱۱۱۱) صاف، ہم وار، (۱۱۱۱) خوش منہ ہوتے ہوئے، (۱۱۱۱)

(۱۱۱۱) بے نور، اندھا۔

سلبچانا، (۱۱۱۱) کھولنا، وا کرنا، جدا کرنا، (۱۱۱۱) ہارک اور پے چیدہ معاملت

کا فیصلہ کرنا، توضیح کرنا، تصریح کرنا، صل کرنا۔

سلبچا اور سلبچاوا: (۱۱۱۱) مذکر، فیصلہ، عقد کشائی، توضیح، وضاحت۔

سلبچنا، (۱۱۱۱) ابھی ہوئی ڈور، تانگے یا بالوں کا کھن جانا، (۱۱۱۱) اپنا یا بھگڑے

کا فیصلہ ہونا، (۱۱۱۱) صل ہونا، گول بہات کی تصریح ہونا۔

سلبچھی ہوئی تقریر: (۱۱۱۱) صاف تقریر، مرتب تقریر۔

سلبخ: (۱۱۱۱) مذکر، آلہ حرب، اوزار، ہتھیار۔

_____ پوش رہند، اختیار بند، سلبخ۔

سلبخ شور: (۱۱۱۱) دیکھو سلبخ شور۔

سلبخ: (۱۱۱۱) قری سینے کا آخری دن، چاند رات۔

سلسلُ البُول: (۱۱۱۱) سُن سُن بُول، (۱۱۱۱) مذکر، ایک قسم کی مٹانے کی بہاری

جس میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو کر بار بار نکلتا ہے۔

سلسلُ بَیْلِ: (۱۱۱۱) موت، بہشت کی ایک نہر کا نام۔

سلسلُ سَلَا: (۱۱۱۱) مذکر، گوشت پلاؤ وغیرہ یا کسی اور پکی ہوئی چیز میں پکنے کے بعد

رہ جانے والا پانی۔

سلسلُ سَلَا: (۱۱۱۱) خیفیت کھجی ہوئی، (۱۱۱۱) رنگنا، کڑے کا پیتھ کے بل چلنا، (۱۱۱۱)

خیفیت پسینا آنا، (۱۱۱۱) پکی ہوئی چیز میں رطوبت نمایاں ہونا۔

سلسلُ سَلَا پِشْت: (۱۱۱۱) موت، (۱۱۱۱) غارش، کھجلی، (۱۱۱۱) تھوڑا پسینا لگانا، (۱۱۱۱) زخم سے

رطوبت نکلنا، (۱۱۱۱) کپے ہونے گوشت یا ترکاری وغیرہ کی رطوبت، تری۔

سلسلُ سَلَا: (۱۱۱۱) مذکر، زنجیر، بشری۔

سلسلُ سَلَا: (۱۱۱۱) مذکر، قطار، لڑی، (۱۱۱۱) خاندان، نسل، پیراں طریقت کا

شجرہ، (کسی نامہ، (۱۱۱۱) ترتیب، درستی، (۱۱۱۱) تعلق، واسطہ،

ملازمت کا تعلق۔

سلسلُ سَلَا: (۱۱۱۱) ان تحریک کرنے والا۔

سلسلُ سَلَا: (۱۱۱۱) بیان کا سلسلہ۔

_____ کوہ: (۱۱۱۱) مذکر، پہاڑوں کا سلسلہ۔

_____ ملنا: تعلق ظاہر ہونا، واسطہ ظاہر ہونا، خاندانی تعلق ہونا، بیعت کا شجرہ ملنا۔

_____ وار: ترتیب وار درجہ کے مطابق، درجے کے موافق، سلسل۔

_____ ہونا: تعلق ہونا۔

سُلطان: (۱۱۱۱) مذکر، بادشاہ۔

_____ جی: حضرت نظام الدین اولیا کا لقب۔

سُلطَنَات: (۱۱۱۱) موت، بادشاہت، حکومت، دور دورہ، عمل داری۔

سُلطَنَات: (۱۱۱۱) گزشتہ، اگلا، پہلے کا، (۱۱۱۱) اگلے زمانے والے، آباد اجداد۔

_____ سے: (۱۱۱۱) ابتلا سے، اول زمانے سے، سابق سے۔

سُلطَنَات: (۱۱۱۱) مذکر، صرف خاص تبا کو سے جبری ہوئی پیم کا حق،

_____ اُڑانا: (۱۱۱۱) شگفا بھر کے پناہ دم لگانا، کش لگانا، (۱۱۱۱) خاک سیاہ کر دینا

بر باد کر دینا، (۱۱۱۱) چرس پینا، چرس کا دم لگانا۔

_____ کرنا / کر ڈالنا: (۱۱۱۱) جلا کر رکھ کر دینا، (۱۱۱۱) صرف کر ڈالنا، اُڑا دینا۔

_____ ہو جانا: (۱۱۱۱) مارے گئے کے جل کر خاک ہو جانا۔

سُلُوٹو: ہندوؤں کا ایک تہوار جو ساون میں ہوتا ہے، جس میں ہمیں
بھائی کے ہاتھ میں رکھی ہاروتی ہیں، رکشا بندھن۔
سُلی: موتی، (۱۱) ستر، پاتو، پھری وغیرہ تیز کرنے کا پتھر کا چھوٹا ٹکڑا۔
(۱۲) درخت کے تنے کا تھنہ، موتا تھنہ، (۱۳) مرخابی۔

سُلیپھر: SLEEPER (انگ: ۱) مذکر، ریوے لائن کے نیچے
بچانے کا تھنہ۔

سُلیپھر: موتی، بے ایڑی کی جوتی۔

سُلیٹ: SLATE (انگ: ۱) موتی، پتھر کی تختی جس پر پتے لکھتے ہیں۔

سُلیٹس: (۱) آسان، رواں، ہم دار، وہ عبارت جس میں مشکل الفاظ نہ ہوں۔

سُلیقہ: (۱) مذکر، (۱۱) تیز شعور، سٹھرن، (۱۲) اُستر، دست کاری، جوہر،

لیاقت، (۱۳) سفیدی، تہذیب۔

دار/شعار/مذہب: ان تینوں دار، مذکر، مرشد۔

سُلیقہ کی گفتگو: محبت کی گفتگو، اخلاق کی گفتگو۔

سُلیقہ مجلس: مذکر، نشست و برخاست کا طریقہ، لوگوں کے
ساتھ برتاؤ کی قابلیت۔

سُلیکشن: SELECTION (انگ: ۱) مذکر، انتخاب، پسند۔

سُلیم: (۱) ع، (۱۱) حلیم، بُرد دار، (۱۲) صحیح، درست۔

سُلیط: (۱) ع، (۱۱) نرم دل، دانش مند، دُور اندیش۔

سُلیم شاہی: ایک قسم کی خوبصورت، کمزور دلی والی جوتی۔

سُلیمان: (۱) ع، (۱۱) مذکر، ایک مشہور مغربی جن کے جتنے میں جن و انس
دونوں تھے۔

سُلیمانی: حضرت سلیمان سے منسوب۔

سُلیمانی: مذکر، (۱) ایک قسم کا دورنگا پتھر، (۱۲) ایک قسم کا پوزن۔

سُلیمانی مذکر، (۱۳) ایک قسم کا سفید خرم۔

س-م

سَم: مذکر، (۱) آواز، تال، (۱۲) اصطلاح موسیقی میں مقررہ

چوٹوں پر آواز کے موزوں ہونے کو تال اور آخر ضرب کے فنکار

کے ساتھ برابر ہونے کو سَم کہتے ہیں۔

سَم: ہونے کے رُہ جانا، (۱) کناٹا، کچھ بولنا، سَم سَم بھجانا۔

سَم: (۱) مذکر، زہر قاتل۔

سُلفی: موتی، چمبی، تھت، ہاتھ دھونے کا برتن۔

سُلفر: SULPHUR (انگ: ۱) مذکر، گندھک، کیریت۔

سُلیک: SILK (انگ: ۱) مذکر، ریشم، ریشمی کپڑا۔

سُلیک: (۱) ع، (۱) موتی، (۱۱) پارہ، موتیوں کی لڑی، (۱۲) رشتہ، دھاگا، رشتہ

مروارید، (۱۳) ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ پروتا، نظم، سلسلہ، قطار۔

سُلیک: گوبہر، گہر، لالی، (۱) اہانت کے ساتھ، (۱) موتی، (۱۲) مروارید

کی لڑی، (۱۳) کناٹا، دانوں کی لڑی۔

سُلیک: (۱) ع، (۱) لگانا، برابر، اس سرے سے اس سرے تک

۱۳) پورا، کامل، سالم۔

سُلیگانا: (۱) ع، (۱) آگ روشن کرنا، جلانا، آگ بھوننا، آگ بڑھانا، (۱۲) کناٹا،

ترجیب دینا، فساد کی بنیاد ڈالنا، (۱۳) کناٹا، رنج دینا۔

سُلیا: مذکر، لباس وغیرہ میں لگانے والے چاندی سونے کے بٹے اور

بل دیے ہوتے تار۔

سُلیا: لکڑی میں چید کرنا، چول پشاننا۔

سُلیا: بلازم، آسیا جانا۔

سُلیندر: CYLINDER (انگ: ۱) نلکا، بیلن (مختلف کلوں اور

چھاننے کا) (۱۲) رولر جیسی ایک چیز جو اندر سے ٹھوس یا کھول ہوتی ہے

سُلیو: SLOW (انگ: ۱) شست رفتار، مذم۔

سُلیوٹری: مذکر، گھوڑوں کی بیماری کا علاج کرنے والا۔

سُلیوٹ: موتی، ٹیکس، بیل، کپڑے کی ٹیکس، بھری۔

سُلیور: SILVER (انگ: ۱) موتی، چاندی، چاندیسی۔

سُلیور جوبلی: JUBILEE (انگ: ۱) موتی، پچیس

سالہ جشن، جشن پچیس۔

سُلیوک: جمع، (۱) اصطلاح تصوت، (۱) تعالاکا قرب چاند تالی

قند، (۱۲) برتاؤ، عمل، رویہ، (۱۳) بھلائی، نیکی، خیر خواہی، (۱۴) مال، حالت۔

سُلیوک سے پیش آنا، محبت پیدا، خلاص کا برتاؤ کرنا، پرسان حال ہونا۔

سُلیوک سے رہنا: بل کر رہنا، بلا رکھنا۔

سُلیوک کرنا: (۱) بھلائی کا برتاؤ کرنا، نیکی کرنا، (۱۲) روپے سے خیر گیری کرنا

(۱۳) پانا، ملاپ کرنا، صلح کرنا۔

سُلیونا: (۱) ٹیکس، مذکر، لگا ہوا، (۱۲) خوش رنگ، سانولا،

گندھی رنگ۔

- سَمَّ الفار: دغ، موتق؛ سَنکِیا۔
 سَمَنَات: مذکر، زہری چیزیں، زہری چیزیں۔
 سَمَنَات: موتق، زہری پائین، زہری کا اثر۔
 سَم: (ف) مذکر، گھوڑے یا چوپائے کے جڑے ہوتے کھر۔
 سَمَا: مذکر، آسمان۔
 سَمَاوی: آسمان کی طرف منسوب، (۲۱) بالائی، اوپر کی، غیبی، آسمانی۔
 سَمَا سَمَا: (دہلی، سماء لکھنؤ، سماں، ۱۵، وقت، زمانہ، دور، ۲۱) موقع،
 محل (۲۱) رت، موسم، فصل، سال، (۲۱) برس، سمیت، (۵)
 کیفیت، عالم، حالت، بہار، رونق، آرایش، زیبائش، (۶)
 تماشا، نظارہ، میوہ، (۱) راگ رنگ کا مزما۔
 سَمَاں یا نَدھنَا: رنگ جلتا، لطف پیدا کرنا، پورا پورا نقشہ کھینچ دینا۔
 سَمَدھنَا: راگ یا نغمہ کی کیفیت سے اہل محفل کا محو ہونا، رنگ مٹنا۔
 چھانا، کسی کیفیت کا طاری ہونا۔
 سَمَاج: موتق، سبھا، انجمن، معاشرہ، سوسائٹی۔
 سَمَاجَت: (ف)؛ موتق، خوشامد، عاجزی۔
 سَمَاجار: (۵) موتق، خبر، حال۔
 سَمَاجار: (۵) مذکر، اخبار۔
 سَمَادھ / سَمَادھی: (سنسکرت) موتق؛ ہندو سنیاسی جوگی کی قبر مرزا مقرب۔
 سَمَاع: (ع) مذکر، راگ سُننا۔
 سَمَاعَت: (ع) موتق، سُننا، سُننے کی قوت۔
 سَمَنا: (۱۱) سُننا، توجہ کرنا، مباحثات کرنا، (۲۱) حاکم کا کسی مقدمے میں۔
 کارروائی کرنا۔
 سَمَنا: (۲) سَمَنا ہونا، کم سَمَنا دینا۔
 سَمَنا: (۱) اصناف کے ساتھ، ایک فرقہ کی حاضری پر مقتضے
 کی سماعت، یک طرفہ ڈگری۔
 سَمَاعی: (ع) (۱) سَمَنا ہوا سُننے پر موقوف بات، (۲) (اصطلاح علم
 صرف) وہ لفظ جو کسی قاعدے کے بموجب نہ بنا ہو، صرف
 اہل زبان سے سَمَنا گیا ہو۔
 سَمَاق: (ع) مذکر، ایک قسم کا سفید اور نرم پتھر۔
 سَمَان: (۵) مذکر، برابر، موافق، مانند۔
 سَمَان: (۱) مذکر، عزت۔
 سَمَنا: (۱) سَمَنا پانا کسی چیز کا کسی چیز میں، پورا آنا، ٹھیک آنا،
- (۲) اندر بیٹھنا، (۳) گھر کرنا، بسنا، مقرر نظر ہونا، (۴) رچنا،
 بسنا، (۵) پسند آنا۔
 سَمَنا: (۵) پھرا، تمام، ختم، انجام۔
 سَمَاور / سَمَاوار: (ف)؛ مذکر، ہندو میں چولھا لگا ہوا پانی گرم
 کرنے کا برتن۔
 سَمَانی: (۱) گنجائش، وسعت، (۲) حوصلہ، طاقت، برداشت، تحمل،
 (۳) کھپت، (۴) رسائی، پہنچ، داخلہ، شرکت۔
 سَمَنا: مذکر، ہندی سال، راجا بکر اجیت کا جاری کیا ہوا سال۔
 سَمَنا: (۵) مذکر، تعلق، رشتہ، لگاؤ۔
 سَمَنا: (۵) مذکر، مرقب، اڈیٹر، مدیر۔
 سَمَنا: (۵) موتق، دھن، دولت، جاتے داد۔
 سَمَنا: (۵) مذکر، مہوڑوں کا دعویٰ بند کر کے نرم نرم لکچر
 رکھنے کا برتن۔
 سَمَنا: موتق؛ دوجا کا چندن رکھنے کی تانبے کی کٹوری۔
 سَمَنا: (مجموعی، رسم پوزی، نم، ۱) SYMPOSIUM (انگ) مذکر، کسی
 موضوع پر مختلف خیال کے لوگوں کا تبادلہ خیال۔
 سَمَنا: (ع) موتق، طرف، جانب، رخ۔
 سَمَنا: (ع)؛ مذکر؛ سر کے اوپر کی طرف۔
 سَمَنا: موتق، بسکن۔
 سَمَنا: آنا، اکٹھا ہونا، یک جا ہونا، سَمَنا جانا۔
 سَمَنا: (۱) سَمَنا، (۲) کام کا گٹھ جانا، ترتیب میں آجانا، ٹھیک ہوجانا
 (۳) اکٹھا ہونا، (۴) چند چیزوں یا چند آدمیوں کا ایک جا ہونا،
 (۵) سرک جانا، سَمَنا کر۔
 سَمَنا: موتق، عقل، رائے، دانست۔
 سَمَنا: (۱) ہوشیار ہونا، سِنا ہونا، (۲) عقل آنا، آنکھیں کھلنا۔
 سَمَنا: اوندگی ہونا، اُلٹی سمجھ ہونا۔
 سَمَنا: عقل ضبط ہونا، کوئی بے وقوفی کا کام کرنا، ابھی
 کی بات کہنا، بات کا مطلب نہ سمجھنا۔
 سَمَنا: نا سَمَنا۔
 سَمَنا: خیال میں آنا، ذہن نشین ہونا۔
 سَمَنا: موتق؛ ہم و فرامست۔

سمجھ بوجھ کر: ۱۰ دیدہ و دستہ ۱۱، سوچ بچھ کر۔

سمجھ بوجھ لینا: اکتایا، حساب کتاب کر لینا، کی پیشی پوری کر لینا۔

سمجھ دار: ۱۱، سنا، ہوشیار، ۱۲ عقل مند، تجربے کار۔

سمجھانا: ۱۱، ذہن نشین کرنا، ۱۲، مطلع کرنا، آگاہ کرنا، ۱۳، انہایش کرنا،

نصیحت کرنا، ۱۴، شرع کرنا، تصریح کرنا، حل کرنا، ۱۵، حساب کتاب

دکھانا، حساب دینا، ۱۶، خریدنا، ٹھیک بنانا، ۱۷، منوانا، تسلیم کرنا،

۱۸، کان کھولنا، تنبیہ کرنا، دھمکانا، ڈرانا۔

سمجھانا: نشیب و فراز سمجھانا، نہایت کرنا۔

سمجھنا: ۱۱، جاننا، واقف ہونا، عقل میں آنا، ۱۲، سیکھنا، حاصل کرنا، معلوم

کرنا، ۱۳، خیال کرنا، کوئی بات ذہن میں لانا، ۱۴، دل میں ٹھہرانا،

ٹھاننا، قرار دینا، ۱۵، سمجھنا، لینا، ۱۶، عرض لینا، بدلہ لینا، ۱۷، ذہن

نشیں ہونا، ذہن پر چڑھنا، ۱۸، مارنا، پیننا، سزا دینا، باز پرس کرنا،

۱۹، ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، ۲۰، ہوشیار ہونا، مستعد ہونا،

۲۱، سوجھنا، فکر کرنا، ۲۲، معنی سمجھنا، مطلب سمجھنا۔

سمجھنے والے کی موت ہے: (مقولہ)؛ دانش مند کو بڑی

دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔

سمجھوتا: تصفیہ، آپس میں سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا۔

سمجھن: موت، دولہا دلہن کی ماؤں کی باہمی رشتہ۔

سمجھی: مذکر، دولہا دلہن کے باپ کی باہمی رشتہ، بیٹے یا بیٹی کا خسر۔

سمجھیانا: مذکر، بیٹے یا بیٹی کی کسرال۔

سمجھراٹ: مذکر، ۵۱، شہنشاہ۔

سمجھرن: ۵۱، موت؛ ۱۱، اکتایا، ورد، وظیفہ، یاد، ۱۲، مالا، تسبیح،

۱۳، ایک قسم کا بازو کا زیور۔

سمجھرنی: ۵۱، موت؛ چوٹی کی مالا۔

سمجھنا: ۵۱، مذکر، مستلہ۔

سمجھان: ۵۱، موت؛ مرگٹ۔

سمج: ۱، مذکر، موت؛ کان، ساعت۔

سمجاشی کرنا: بگ بگ کے دماغ پریشان کرنا۔

سمجٹ: ۱، موت، ۱۱، پھلی، زیر زمین پھلی، ۱۲، اکتایا، سب سے نیچا طبقہ۔

سمجٹن: ۱، موت؛ پھلی، اچھیلی، ۱۔

سمجٹ / بڑ / رڈ / سجا / جدار: ۱، اکتایا؛ مشرق کی

صفات میں مستعمل ہیں۔

سمجٹن: SUMMON، (۱) آگ، (۲) مذکر، بلاوا، علی کا حکم نامہ، حاضر کی حکم نامہ۔

سمجٹند: (۱) مذکر، سیاہ، آیل دم اور زانو والا گھوڑا۔

۱۲، گھوڑا۔

سمجٹنار کو اک اور تازیانہ ہوا: (ش)، شوخی اور شرارت

کے لیے جملہ ائمہ آگیا۔

سمجٹنر: (۱) مذکر، چوہے کی شکل کا آگ میں پیدا ہونے والا ایک

جانور، جب وہ آگ سے نکلتا ہے تو فرامرجاتا ہے۔

سمجٹنر: ۵۱، مذکر؛ بحر، دریائے اعظم۔

سمجٹونا: جسے سمندر کو جھان مارنا، نہایت تلاش کرنا۔

سمجٹل: مذکر، ایک قسم کا سپل۔

سمجٹین: سمندر کے کناروں پر جم کر خشک ہوجانے والا ٹکڑ۔

سمجٹکھ: مذکر، ۱۱، ایک دو اکتا نام، ۱۲، بہت پینے والا۔

سمجٹکار: مذکر، سکھیا، ہڑتال۔

سمجٹ کے پار: اکتایا، بہت دور۔

سمجٹدہری: بحر، سمندر سے منسوب۔

سمجٹنگ: موت؛ گھیبوں کا اندرونی حصہ جو اہل کر نکالا جاتا ہے۔

سمجٹوچا: پورا کال، سارا۔

سمجٹور: ۱، مذکر؛ ایک نہایت باریک شمشیر، دلی جانور اور اس کی کھال کا نام۔

سمجٹوسا: (۱) مذکر، ۱۱، سنو، قیہ ترکاری وغیرہ بھر کر پکایا جانے والا

تکڑی شکل کا پکوان، ۱۲، چوکور کپڑے یا رومال کو سہ

گوشہ بنالینا۔

سمجٹوم: ۱، موت؛ گرم ہوا جو قاتل ہو، زہریلی لوز، ۱۲، مذکر؛

شم کی جمع، زہر۔

سمجٹونا: ۱۱، پلانا، ۱۲، ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر معتدل کرنا، ۱۳، دھلتی

بیزوں کو ملا کر معتدل پر لانا۔

سمجٹوٹا ہوا: ۱۱، گرم، شہر گرم، ۱۲، دھلا، مخلوط، انسل۔

سمجٹن: ۵۱، مذکر، وقت، فرصت، موقع۔

سمجٹیت: ساتھ ہمارا، اکتھا۔

سمجٹیت: موت؛ زہریلا پن، زہر نالی۔

سمجٹیت لینا: ۱۱، سینا، ۱۲، ہم میں شریک کر لینا، لازم لگانا۔

بیمینا: (۱۱) فراہم کرنا، اکتھا کرنا، (۱۲) تنگ کرنا، ٹیکرنا، سنبھالنا،
(۱۳) انجام کو پہنچانا
سَمِیح: (۱۴) مذکر، بہت نئے والا، خداے تعالیٰ کا نام۔

س — ن

سُنن: (۱) موثق: (۲) رسی بنانے کی ایک چھال، (۳) کسی چیز کے زور سے گزر جانے کی آواز۔

سَن / سَنہ: (۱) مذکر، سال۔

سُجُوس: (۱) اضافت کے ساتھ، مذکر کسی بادشاہ کی تخت کی نشانی کھمال۔

سِن: (۱) مذکر، عمر، عمر کی مقدار۔

سُجُوع / سُجُوع / سُجُوع: (۱) اضافت کے ساتھ، مذکر، سمجھ کی عمر، جوانی کی عمر۔

سُجُوع / سُجُوع: (۱) باغ ہونا، سیانا ہونا۔

سُجُوع: (۱) بوزھا۔

سُجُوع: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) مذکر، سن چنر۔

سُجُوع / سُجُوع: (۱) سن سے اتر جانا، شباب کے زمانے کا زوال پر آجانا۔

سُنن: (۱) بے سن و حرکت عضو، (۲) خاموش، چپ چاپ، حیران، (۳) خوف

تنبہ جو دھمکانے اور خبردار کرنے کے موقع پر بولتے ہیں۔

سُنن: (۱) موثق، ایک پودے کا نام جس کی پتی جلاب میں استعمال ہوتی ہے۔

سُنن: (۱) بڑا بھلا کہہ بیٹھنا۔

سُنن: (۱) کہہ دینا، مطلع کر دینا۔

سُنن: (۱) نہیں جانا، سننے کی تاب نہ ہونا۔

سُنن: (۱) مذکر، پُرانا، ابتدائی، قدیمی۔

سُنن: (۱) مذکر، قدیم ہندو مذہب جو موثق پوجا کا قائل ہے۔

سُنن: (۱) مذکر، (۲) دیباکے چڑھاؤ کا شور، (۳) زور کی پوجا پلنے کا شور، (۴) پند

دغیرہ کے زور سے آنے کی آواز، (۵) بادوباراں کا شور، (۶)

(۷) صدائے دشت، (۸) حیرت، (۹) سکتے کا عالم، (۱۰) ہوا کا عالم

ہر طرف پھائی ہوئی خاموشی، (۱۱) مکان کا آدمیوں سے خالی ہونا،

کسی جگہ سے کسی ہتھار کی آواز نہ آنا۔

سُنن: (۱) خاموش نہ ہونا، دیر لہ نہ ہونا، خل شور نہ ہونا۔

سُنن: (۱) کامیاب، زور شور کی بارش۔

سُنن: (۱) ہوا، زور کی ہوا۔

سُنن: (۱) آنا، حیرت میں ہو جانا، ڈر جانا۔

سُنن: (۱) میں رہ جانا، حیرت میں ہو جانا۔

سُنن: (۱) مذکر، گہنا بنانے والا۔

سُنن: (۱) موثق، پیشہ زریگری۔

سُنن / سُنن: (۱) تارک الدنیا، ہندو فیروں کا ایک پتھر۔

سُنن: (۱) موثق، تیری نوک، بھلا، نیرے کے اوپر کا حصہ۔

سُنن: (۱) ہم، بے فکر ہو کر سونا، ساتیں ساتیں کی آواز دینا۔

سُنن: (۱) کان میں ڈالنا، کہنا، (۲) آگاہ کرنا، جانا، (۳) گالیاں دینا، بُرا

بھلا کہنا، (۴) آواز کسنا، طعنہ دینا، (۵) سنانا، قرآن، قرآن شریف

لوگوں کے سامنے یا تراویح میں پڑھنا، (۶) کسی کے رُو بہ رُو گانا،

کسی کے رُو بہ رُو پڑھنا۔

سُنن / سُنن: (۱) موثق، (۲) فریاد رسی، سماعت، باریابی، رسائی،

(۳) بے موقع بات۔

سُنن: (۱) مذکر، ایک خوش بو دار گھاس، بال بچڑ، سنبل الطیب۔

سُنن: (۱) مذکر، (۲) کیوں یا جو کی مالی، (۳) آسمان کے چنے برقع کا نام۔

سُنن: (۱) سوسا۔

سُنن: (۱) مذکر، مرنے والے کا موت سے پیش تر کا افاقہ۔

سُنن: (۱) مرنے آدمی کا کسی قدر ہوش میں آ جانا، کچھ دیر کے لیے

بال سنبل جانا پھر جانا۔

سُنن: (۱) تمام پڑنا، روکنا، سہارا دینا، دست گیری کرنا، (۲) نازت

چیز کو درست کرنا، (۳) گھسنے دینا، (۴) باز رکھنا، قابو میں رکھنا

(۵) اٹھانا، سمیٹنا، (۶) مرض بڑھنے نہ دینا، (۷) تولنا، وار کرنے کو

اٹھانا، (۸) اٹھانا، ہاتھ میں اٹھانا، (۹) گھسنا، شمار کرنا،

(۱۰) اہتمام کرنا۔

سُنن: (۱) مذکر، ایک درخت کا نام۔

سُنن: (۱) ہوشیار ہو کر، ہوشیاری سے، خبردار ہو کر، (۲) اصلاح قبول

سُنن: (۱) درست ہو کر۔

سُنن: (۱) نجان کر، تکلف سے، شہر شہر کے، دم لے کے۔

سنبھلنا: ۱۱۱ تمنا، رکنا، مرنے سے بچنا، شہرنا، لگنا، ۱۲۱ خبردار ہونا۔
 چوکس ہونا، ۱۳۱ افادہ ہونا، آرام ہونا، ۱۴۱ پینا، تازہ ہونا، رون
 پکڑنا، ۱۵۱ درست ہونا، بگڑنے خراب ہونے سے بچنا، ۱۶۱ پلن
 درست ہونا، ۱۷۱ پھیلنے سے بچنا، ۱۸۱ خراب حالت سے افادہ
 ہونا، ۱۹۱ دم لینا، سستا، نا، ہوش میں آنا، ۱۱۰ اصلاح قبول
 کرنا، ۱۱۱ مجبوری ہونی حالت یا بجز کا درست ہوجانا، ۱۲۱ بڑوت
 ہونا۔ اٹھنا، ۱۳۱ ہوشیار ہونا، مستعد ہونا، آمادہ ہونا، ۱۴۱
 عبرت پکڑنا، مشتبہ ہونا، ۱۵۱ بچنا، محفوظ ہونا۔
 سنبھلنے نہ دینا: فرصت نہ دینا، مہلت نہ دینا، دم نہ لینے دینا۔
 سنبھولا / سنبھولیا: مذکر، سہولا، سانپ کا بچہ۔
 سنڈت: ۱۵۱ مذکر، بزرگ، درویش، خدا سیدہ۔
 سنڈت: ۱۵۱، مونٹ، ۱۶۱ طرز طریق، ۱۷۱ اصطلاح محدثین، قول فعل
 اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے اصحاب اور تابعین کی،
 ۱۸۱، ۱۹۱ روش، دستور، ۲۰۱ افقہ، وہ طریقہ جس پر پیغمبر اسلام
 اور اصحاب کرام نے عمل کیا ہے، ۲۱، ۲۲ ختم، ۲۳ نازکی وہ رکعتیں جو
 فرض نہیں ہیں اور جن کو رسول اللہ نے اکثر پڑھا ہے۔
 سنڈان: ۱۵۱، مونٹ: بال بچے، اولاد۔
 سنڈرا: مذکر، مشترکہ، نارنگی، رنگتار
 سنڈری: ۱۵۱، سنڈری: انگ، مذکر، پہرا دینے والا، سپاہی،
 سپاہی، چوکی دار۔
 سنڈوش / سنڈوٹھ: ۱۵۱ مذکر، صبر، تسلی، اطمینان، قناعت۔
 سنڈٹر: ۱۵۱، سنڈٹر: انگ، مذکر، ۱۱ مرکز، ۱۲ درمیان، درمیانی
 نقطہ، ۱۳ اجتماع کی جگہ۔
 سنڈٹرل: ۱۵۱، سنڈٹرل: انگ، ۱۱ مرکزی، دھیان، دھلی۔
 سنڈیل: ۱۵۱، سنڈیل: انگ، ۱۱ مذکر، مرکزی جیل،
 بڑا جیل یا قید خانہ۔
 سنڈی: مونٹ: پتی شاخ، تہی، چھڑی۔
 سنڈی گریڈ: ۱۵۱، سنڈی گریڈ: انگ، مذکر، حرارت، پیم
 جس میں ٹھورے ہوں۔
 سنڈاف: مونٹ: چوڑی اور آڑی گوٹ، کپڑے کا حاشیہ۔
 سنڈوگ: مذکر، ۱۱ دوستی، ملاقات، میل ملاپ، ۱۲ قرآن العزیز،

(۲) دو آدمیوں کی ملاقات۔

سنڈیگی: (۱) مونٹ: وقت، متانت، وزن دار ہونا۔
 با وقت ہونا۔

سنڈیڈ: (۱) مونٹ: موزوں، بچا ہوا، ٹکڑا ہوا، ۱۲۱ فہیدہ، مین، مہذب۔
 (۲) جانچ کر نشانہ لگانے والا، تادرا انداز۔

سنڈھا: ۱۵۱، مونٹ: شام۔

سنڈی کرنا: شام کا چراغ جلانا۔

سنڈولنا: شفقت پھیلانا۔

سنڈھلا: مذکر، منجھلے سے چھوٹا، تیسرا بیٹا۔

سنڈیائی: مونٹ: ۱۱ سینپنا، ۱۲ سینپنے کی اجرت۔

سنڈی: CENTURY: انگ، ۱۱ مونٹ: ۱۱۱ سو سال، ایک صدی،
 ۱۲۱ اکڑت کی اصطلاح، ۱۳۱ سوزن۔

سنڈ: (۱) مذکر، مونٹ: ۱۱ ثبوت، نظیر، دلیل، تمثیل، ۱۲ کارگزاری
 کا پروانہ، سرٹیفکیٹ، ۱۳ وثوق، اعتبار، ۱۴ تشک، تباہ، ۱۵
 اہمازت نامہ، ۱۶ قابل اعتماد، معتد، معتبر۔

سنڈ پکڑنا: دلیل میں پیش کرنا۔

سنڈ لانا: مثال لانا، ثبوت میں پیش کرنا، دوسرے کا قول یا فعل
 تائید میں پیش کرنا۔

سنڈ یافتہ: کوئی ذمہ داری حاصل کیا ہوا شخص۔

سنڈان: (۱) وہ لوسے کا بٹا جس پر لوہا رکھ کر ہتھوڑے
 سے کوٹتے ہیں، بنائی۔

سنڈر: ۱۵۱، مذکر، خوبصورت، حسین۔

سنڈرتا: ۱۵۱، مونٹ: خوب صورتی، حسن۔

سنڈری: ۱۵۱، مونٹ: ۱۱ خوبصورت، ۱۲ تار کا ایک پرنڈہ جس
 سے سر ملاتے ہیں اور آواز پڑھا دکتے ہیں۔

سنڈرور: دیکھو سینڈور۔

سنڈیٹیا: ۱۵۱، مذکر، پیغام، خبر۔

سنڈیریم: ۱۵۱، مذکر، شک، گمراہی، غم، گمان، اندیشہ۔

سنڈھرا: مذکر، ۱۱ سمندر، دنیا، ۱۲ دریائے سندھ، ۱۳ پاکستان کے ایک
 صوبہ کا نام، ۱۴ بیرون راک کی ایک راگنی۔

سنڈھیا: ۱۵۱، مونٹ: ۱۱ شام، مغرب، ۱۲ برابن پھرتی اور ویش کا

ضعف اور سستی کی دماغ میں محسوس ہونے والی آواز (۴) ہوا کے تیز چلنے کی آواز۔

سُنسُنسی: سنا اور لوہار کے ایک اوزار کا نام، جس سے گرم چیز پکڑ کر آگ سے نکالتے ہیں، اسی سے تمام کرچوٹ لگاتے ہیں۔
سُن سے: جلدی سے، زناٹے سے۔

سُنسُنسی: طبیعت ہو جانا: ناگہانی بات سے مدد نہ رومی پہنچنا۔

سُنسُنسی: جلدی سے نکل جانا، زناٹے سے جانا، آواز کے ساتھ ٹھکانا۔

سُنسُنک: موتک، (۱) خبط، جنون (۲) خفیف ہوا چلنا۔
سُنسُنکار دینا / سُنسُنکارنا: (۱) اکھ ماننا، اشارہ کرنا، (۲) آگ نا، پیچھے لگا دینا۔

سُنسُنکٹ: (۱) مذکر، مصیبت، آفت، خطرہ۔

سُنسُنکر: مذکر؛ (مختصر) میوہ فروش۔

سُنسُنکرانت: موتک، (۱) سورج کے ایک برج سے دوسرے برج میں جانے کا دن (۲) پہلی تاریخ (۳) ہندوؤں کا ایک تہوار۔

سُنسُنکلب: (۱) مذکر، غیر خیرات۔ وقف۔

سُنسُنکنا: ہوا کا سرسرانا، خفیف ہوا چلنا۔

سُنسُنکونا: CINCHONA، (انگ)؛ موتک؛ ایک قسم کی کوزین۔

سُنسُنکھ: مذکر۔ (۱) ناقوس، بجانے والی بڑی کوزی، (۲) سوہدگم کی تعداد، سولاکھ کر ڈھ۔

سُنسُنکھنی: موتک؛ وہ عورت جس کا قد اور بال لمبے اور جسم اوسط درجے کا ہو۔

سُنسُنکیا: موتک؛ (۱) سم الفار، (۲) اکنائیا، ہر قاتل چیز۔

سُنسُنک: (ان) مذکر، پتھر۔

سُنسُنود: (اضافہ کے ساتھ) (ان) مذکر، کبھے کی دیواریں یا پوکا کالا پتھر۔

سُنسُنریت: (اضافہ کے ساتھ) (ان) مذکر؛ مُردے کے نام کی قبر پر لگی ہوتی تختی، لوح مزار۔

سُنسُنراحت: (اضافہ کے ساتھ) موتک؛ دو امیں کام آنے والا ایک قسم کا پتھر۔

سُنسُنراخارہ: (اضافہ کے ساتھ) (ان) ایک قسم کا سخت پتھر۔

سُنسُندانہ: (ان) مذکر، پرندہ کا پونا جس میں اکھ ٹکڑی بھی بچھا کرتے ہیں۔

سُنسُنراندہ: (زوال نظر اور غروب آفتاب کے وقت پڑھی جانے والی دعا)۔

سُنسُنرہیا کال: (۱) غروب آفتاب کا وقت۔

سُنسُنڈ: (۱) سائڈ کا مخفف، قرعہ، موٹا، (۲) اردو میں تنہا ستم نہیں ہے)۔

سُنسُنڈ / سُنسُنڈا: بہت موٹا، موٹا تازہ۔

سُنسُنڈا: قوی، سیکل، زور آور۔

سُنسُنڈا اس: مذکر، سوراخ والا پانہ جس کا بول دہرائیچے کھڑا یہی میں گسے اور مہتر مکان سے باہر کمالے۔

سُنسُنڈے: (SUNDAY)؛ (انگ)؛ مذکر، اتوار، یکشنبہ۔

سُنسُنڈیشن: (EDITION)؛ (انگ)؛ اخبار کی خصوصی اشاعت جو اتوار کو شائع ہو۔

سُنسُنڈیکمٹ: (SYNDICATE)؛ (انگ)؛ موتک؛ (۱) شریک مقصد کے تحت قائم کی ہوئی سیاسی یا تہارتی تنظیم، (۲) سینٹ کی پیش کیٹی (کیمبرج)۔

سُنسُنسار: مذکر، عالم، دنیا۔

سُنسُنشان: (۱) ویران، اُجھاڑ، ویرانہ، غیر آباد جگہ، (۲) مہیب خوفناک سیالک، (۳) اُداسی چھائی ہوتی جگہ۔

سُنسُنشتر: (CENSOR)؛ (انگ)؛ مذکر، عیب جوا، حرف گیر، نکتہ چینی، مختص، نکتہ چینی کرنے والا، کانٹ چھانٹ کرنے والا۔

سُنسُنشورڈ: (BOARD)؛ (انگ)؛ سرکاری طور پر خبروں، تہاشوں، کتابوں یا فوجی معلومات کو غیر اخلاقی، باعزت یا نامناسب قرار دینے والا ادارہ۔

سُنسُنشکار: (۱) مذکر، مذہبی رسومات۔

سُنسُنشکرت: موتک؛ آریوں کی اصل زبان۔

سُنسُنسن: موتک؛ (۱) ہوا کی آواز، سن سناہٹ (۲) توار چلنے کی آواز۔

سُنسُنسناٹا: (۱) جھن جھانا، ضعف اور سستی کی کیفیت پیدا ہو جانا، (۲) اکنائیا، خوف زدہ ہونا، ستانے میں آ جانا، (۳) کسی چیز کا زناٹے سے جانا، (۴) خاص آواز (کھولنے وغیرہ) کی نکلنا۔

سُنسُنسناہٹ: موتک؛ (۱) سرسراہٹ، (۲) مٹی کے کورے برتن میں پانی ڈالنے سے نکلنے والی آگوشٹ وغیرہ پکنے کی آواز، (۳)

سنگ دل: ان، اکنائیا، بیدرم، جفاکار۔

— راد: اضافت کے ساتھ، ان، مذکر؛ اکنائیا؛ راستے کی رکاوٹ، سدراہ، مانع، مزاحم۔

— ریزہ: ان، مذکر، نکر۔

— سار: ان، مذکر، تھوڑا کرنا، پتھر یا کر ڈالنا، ایک قسم کی شرعی سزا۔

— ساز: مذکر، چھاپنے کی پتھر یا پلٹ کی تصحیح کرنے والا۔ مصلح سنگ۔

— سُرخ: اضافت کے ساتھ، ان، مذکر، ایک قسم کا سرخ نرم پتھر۔

— سُرمہ: اضافت کے ساتھ، ان، مذکر، نرم نرمے کا پتھر۔

— سلیمانی: اضافت کے ساتھ، مذکر، سلیمانی نگ، سیاہ و سفید پتھر۔

— تجزی: مذکر، عقیق تجزی، درختوں کے نقش بنے ہوئے پتھر۔

— تڑواں: اضافت کے ساتھ، ان، مذکر، ہلکے دارچیز کی طرح لانے سے ہلنے والا پتھر۔

— لوح: اضافت کے ساتھ، مذکر، نام و غیرہ لکھا ہوا قبر کے سرہانے کا پتھر۔

— ماہی: ان، مذکر، چیل کے سر میں سے نکلا ہوا سخت اور سفید پتھر۔

— مشابہ: اضافت کے ساتھ، مذکر؛ پتھری، آدمی کے شانے کے ککھ پتھر۔

— فرخ: مذکر، ایک قسم کا عمدہ سفید پتھر۔

— مزار: اضافت کے ساتھ، ان، مذکر، سنگ بہت سنگ لوح۔

— مقصود: اضافت کے ساتھ، ایک قسم کا پتھر۔

— مونس: ان، اضافت کے ساتھ، ایک قسم کا سیاہ پتھر۔

— نشان: اضافت کے ساتھ، ان، منزل کا نشانہ بنانے کے لیے نصب کیے جانے والے پتھر۔

— نشیب: ان، مذکر، ایک قسم کا بزرگ کمال قسمی پتھر۔

— سنگ: ان، ساتھ، رفاقت، ہم راہی۔

— سنگاتی: رفیق، ساتھی۔

— سرگار: مذکر، آرایش، زیور لباس لگھی چوٹی سے آرایش، زیب و

زینت، آراستہ۔

— دان: مذکر، ساہ آرایش، رکھنے کا عندیہ یا پٹائی

— کرنا: بنا، سنون، بگھسی چوٹی کرنا۔

— سنگا سن: ان، تخت۔

— سنگ آستان / آستانہ: ان، مذکر، گھر کی دیوار۔

— سنگ آمد و سخت آمد: ان، مثل؛ کوئی مشکل کام یا چیلنج کرنا ہی ہوتے۔

— سنگت: موٹ؛ طوائف کے ساتھ کے لوگ، سازندے، ۱۳۱، مرثیہ خواں اور گویے کے ساتھ آواز لانے والا، ۱۳۱، گویے کے

سازندے، ۱۳۱، ہم صحبت، ہم مجلس۔

— سنگترا: مذکر، ایک قسم کی بڑی اور میٹھی نازکی، سنتر۔

— سنگ تراش: ان، مذکر، پتھر کاٹنے والا، پتھر کا کام بنانے والا۔

— سنگر: ان، مذکر، جنگ میں پھاؤ کی دیوار، کاتوں کی باڑھ، ڈھونڈ، مورچا، کھائی خندق۔

— سنگر: سنگ: (انگ) مذکر، موٹ؛ گلے والے موسیقاہ پرکھنے کی مشین اور اس کے ایجاد کرنے والے کا نام۔

— سنگر آہنی: ان، موٹ؛ بدبھنی، دستوں کا آنا، دستوں کی یساری۔

— سنگل: (انگ)؛ ایک، واحد تھا۔

— سنگلخان: ان، موٹ؛ ۱۱، پہاڑی زمین، پتھری زمین، ۱۳۱، مشکل، دشوار، سنگم، ان، مذکر، دو چیزوں یا دو آدمیوں کا میل، دور اسکے یا دو دیکھنے کی جگہ۔

— سن گن: ان، موٹ؛ ۱۱، خفیہ خبر، بیدار، اثری خبر، ناقابل اعتبار خبر، دیرہ کسی کا راز سننا، راز کی بات چھپ کر سننا۔

— سنگوٹی: موٹ؛ ۱۱، بیوں کے سینکوں پر چڑھانے کا نول، ۱۳۱، گلے یا ہرن کا چھوٹا سا سنگ۔

— سنگیت: ان، مذکر؛ موسیقی۔

— سنگین: ان، ۱۱، پتھر کا بنا ہوا، پتھر کی جھلرت، ۱۳۱، بھاری، مضبوط، سخت، دیرپا، ۱۳۱، موٹ، ایک قسم کا ہتھیار۔ ۱۳۱، دبیز۔

— سنگینی: موٹ؛ مضبوطی، سختی، گرانی، ٹھوس پن، گاڑھا پن۔

— سنگھ: ان، مذکر، ۱۱، شیو، ۱۳۱، سکھوں، پتھریوں، راجپوتوں کا عام خطاب۔

— سنگھ آرا: مذکر، ۱۱، پانی میں پیدا ہونے والا ایک کانٹے دار پھل، ۱۳۱، سوسے کی طرح لپٹا ہوا رومال، ۱۳۱، حلق کی شکل۔

— مچھل: موٹ؛ ایک قسم کی کانٹے دار پھل۔

سنین: (ع) (جمع سنہ کی)؛ مذکر؛ سال۔

س

سو: (۱) پاک بستی، (۲) کثرت، بہت۔

بات کی ایک بات، عمدہ بات، قولِ فیصل۔

باتیں سنانا: کہنا، سننا؛ لعنت طاعت کرنا، بُرا بھلا کہنا،

کثرت سے لعنت طاعت کرنا۔

سوے: غالباً، یقیناً۔

حیلے ہزار بہانے: کہنا، سننا؛ بہت تدبیریں۔

دن چور کے ایک دن شاہ کا: (مثل)؛ چور ایک نذیک

دن بڑا ہاتھ گاہ، جھوٹے کا جھوٹ، فریبی کافرِ بے اور چور کی

چوری بڑھاتا یقیناً ہے۔

سنار کی ایک لوہار کی / دن سنار کی ایک دن لوہار کی؛

(مثل)؛ زبردست کی کوشش زبردست کے آگے محض بے فائدہ

ہے۔ کم زور کی سوغتیں زبردست کی ایک حرب کے برابر

ہوتی ہے۔

سو نام دھرنا: بہت بُرا بھلا کہنا، نکتہ چینی کرنا۔

سو: (کسی اسم اشارہ، کسی ضمیر، کسی خبر کے لیے)؛ وہ کی جگہ۔

سو: (ان) حوث، سمت، طرف، جانب۔

سو: ایک اور اس کا چوتھا حصہ، اٹھ۔

نیزے پر آفتاب آنا: (۱) مسلمانوں کے عقیدے میں قیامت

کا دن، (۲) کہنا، شدت کی گرمی پڑنا، نہایت مصیبت کا وقت آنا۔

سو: (ع)؛ (۱) علاوہ، بغیر، (۲) زیادہ بڑھ کر۔

سو: مذکر، بڑی سوئی۔

سو اہل: (ع)؛ مذکر، جمع ساحل کی، سمندر دیا کا کنارہ۔

سو اد: (ع)؛ مذکر، سپاہی، رنگ کی سپاہی، (۲) دل کا سیاہ نقطہ، مضافات

اعظم: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) ان، مذکر، (۳) عموماً، ہر بڑا شہر،

خصوصاً مکہ معظمہ، (۴) بڑا گروہ۔

سو اد: (ع)؛ مذکر، ذائقہ، مزہ، لذت۔

پڑنا: مزہ پڑنا، عادت پڑنا۔

سو: (ع)؛ مذکر، اس سواری پر بیٹھے والا، (۲) چڑھنے والا، سواری پر

سگھاسن: مذکر، شاہی تخت۔

سنگھٹن: (ع)؛ مذکر، میل، ٹاپ، ساتھ، (۲) جامعہ تعلیم۔

سنگھ: رُوپر رُو، مقابل۔

سنگھ: (ع)؛ مذکر، جمع سنگ کی۔

سنگھا: آوردہ ہونا، دھبنا لگنا۔

سنگھا: (۱) کالوں سے آواز معلوم کرنا، (۲) توجہ کرنا، غور کرنا، غریبا کو پہچاننا

(۳) بُرا بھلا سننا، (۴) کسی کا گانا سننا، (۵) ماننا۔

سنگھ میں آنا: گوش گزار ہونا۔

سنگھار: حوث، (۱) سجاوٹ، درستی، اصلاح، (۲) (دو) بھلاکار، لعنت،

(تربیب کے ساتھ)؛

سنگھارنا: (۱) درست کرنا، اصلاح دینا، (۲) ترتیب سے لگانا، سلیقے

سے لگانا، (۳) آراستہ کرنا، (۴) مہذب بنانا، راہ پر لانا۔

سنگھون: (ع)؛ مذکر، سخن۔

سنگھ: دیبھوشن۔

سنگھوی: شمسی سال کا حساب حضرت عیسیٰ کی پیدائش

سے کیا جاتا ہے۔

سنگھوی: قمری سال جو حضرت محمدؐ کا کہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو

ہجرت کرنے کی تاریخ سے شروع ہوا۔

سنگھڑا: مذکر، سونے کے رنگ کا زین۔

سنگھڑی: حوث، (۱) وہ چیز جو سونے کے رنگ کی ہو، (۲) طلائی رنگ کی

سنگھتی: (ع)؛ مذکر، اہل سنت والجماعت۔

سنگھتیاں: (ع)؛ مذکر، چھوڑنا، دنیا کے تعلقات کو ترک کرنا، رہبانیت۔

سنگھتیاں: (ع)؛ مذکر، جوگی، راہب، تارک دنیا، ہندو فقیروں کا

ایک گروہ۔

سنگھن ان سنگھ کرنا: سخن کرنا، دینا۔

سنگھ سنائی: سخن ہونی، بات، یاد ہوانی۔

سنگھ سنائی بات: باتی اہل اعتبار بات، سامعی بات، افواہ۔

سنگھ سچ: (۱) ایک نہایت سست رفتار مونس ستارے کا نام، (۲) اصل،

(۳) شہدہ، ہفتہ، (۴) کہنا، (۵) غوث، (۶) ادبار، (۷) یقینی۔

آنا: غوث آنا، ادبار آنا، اصل ستارے کا طالع میں آنا۔

آنا: (ع)؛ مذکر، غوث دور ہونا۔

سوائی: (۱۱) سنی اور ریت ملی ہوئی زمین جو چاول کے علاوہ دوسرے غلوں کی کاشت کے قابل ہو، (۱۲) موٹ: وہ غلہ جو کاشتکاروں کو بیج کے واسطے اس شرط پر دیا جائے کہ غلہ کٹنے پر اس کا سواں دیا جائے۔

سوائے: (۱۳) حرف اشتقاقی، سواہ علاوہ۔

سوا یا: (۱۴) ایک اور اس کا چوتھائی، (۱۵) زیادہ۔

سویجا/شویجا: (۱۶) موٹ: آرائش، آراستگی، زیبائش۔

سوپ: SOAP، انگ: مذکر، صابن۔

سوت: SOUF، انگ: مذکر، شویجا یعنی۔

سوت: (۱۷) اناج پھینکنے کی توکری، (۱۸) پانی سونپنے کا توکر۔

سوت سوت چھلنی کیا لولے، جس میں بہتر چھید: (۱۹) کسی بڑے آدمی کا دخل در معقولت دینا، عیب دار آدمی کا دوسرے پر کھینچنا۔

سوپروائزر: (۲۰) سپر والی زر، SUPERVISOR، انگ: نگران، ناظم۔

سوت / سوتن / سوتکن: پہلی بوی کے بعد لائی جانے والی بوی کا ایک خاندان کی دو عورتوں کا باہمی رشتہ۔

سوتنی سوتیلایا: (۲۱) سوت کی بر نسبت اس کی اولاد زیادہ دشمنی کرتی ہے۔

سوتن کی بھی بڑی: (۲۲) سوتن کی کسی ہی ناچیز بونا ہم بڑی۔

سوت: (۲۳) موٹ: پانی نکلنے کی جگہ، پانی کا چشمہ، نکاس، نکلنے کی جگہ۔

سوتنا / نکلنا / جاری ہونا: چشمہ چھوٹنا، پانی کا چشمہ جاری ہونا۔

سوت: مذکر۔ (۲۴) تاکا۔ کچے دھلے کا تار، (۲۵) معاول کی اصطلاحاً سیدھ دیکھنے کا دور، (۲۶) ریشہ، پیل والی تار کا ریل میں باندھنا۔

(۲۷) بعض جمہوریت، مثلاً ہسپانیا پر کا خط، ہسپانیا کا اندوخی جوہر۔

سوتنا: چرٹی یا شیرن پر سوت چڑھانا۔

سوت کپاس کوئی سے کٹھم کٹھا: (۲۸) جس میں سان گمان بھی نہ ہو اس خواہ خواہ کی کٹھی اور صحیح کرنا۔

سوت: سوت کا بنا ہوا۔

سوا ہوا: (۲۹) گھوٹے کا سوار، رسالے کا ملازم۔

سوار: موٹ: گھاس، پانی میں اگنے والی گھاس۔

سوارت: اچھے کام میں آنا۔

سوارنا: استعمال میں لانا، کامیاب کرنا، سود مند کرنا۔

سوارنی: (۳۰) مرتبہ سوار ہونے کی چیز، نیک، محاذی نہیں، پالی وغیرہ، (۳۱) جلوس، (۳۲) سوار شخص، (۳۳) تھینے کا جلوس۔

سوارنا گھٹنا: کشتی میں دبا ہوا، آسن تے دبانہ۔

سواریاں: موٹ: پورہ، خین عورتیں، (۳۴) سوار ہونے والے۔

سوارگت: (۳۵) مذکر، استقبال پیش دانی۔

سوال / سوال: (۳۶) مذکر، (۳۷) درخواست، اتنا، طلب، (۳۸) استفسار، پرسش، (۳۹) اتنا، آرزو، (۴۰) عرض محروض، (۴۱) استغاثہ، (۴۲) گزارش، (۴۳) عرض داشت، (۴۴) بجیک مالگنا، (۴۵) امتحان کوئی بات پوچھنا، (۴۶) مسئلہ۔

سوار آسان جواب از ریساں: (۴۷) دل، (۴۸) انا سیدھا جواب دینا، سوال کچھ جواب کچھ۔

سوار بنا: امتحان کے لیے سوالات تیار کرنا۔

سوار پورا ہونا: مانگی ہوئی چیز کا ملنا۔

سوار حل کرنا: مسئلہ حل کرنا، کسی مشکل امر کی تشریح کرنا۔

سوار کرنا: (۴۹) مالگنا، طلب کرنا، چاہنا، (۵۰) درخواست کرنا، پوچھنا، (۵۱) استفسار کرنا، دریافت کرنا، (۵۲) جانچ کی عرض سے کوئی بات پوچھنا، (۵۳) الجھنا، مت کرنا۔

سوالات: (۵۴) مذکر، جمع سوال کی، بہت سے سوال۔

سواری: (۵۵) مذکر، آقا، مالک، شہرہ، گرو، جوگی، حضرت، میاں۔

سواریاں: (۵۶) مذکر، سرحد، کنار، میٹھ، کھیت یا گھوٹی حد۔

سوارچ: (۵۷) مذکر، موٹ: (۵۸) سو فو کی جمع، (۵۹) دعتے داد، واقعات، (۶۰) حادثات۔

سوارچی: مذکر، موٹ: سرگذشت، کسی شخص کی زندگی کا حال۔

سوار ف: (۶۱) واقعہ نگار، اخبار نویس، سارے دیکھنے والا۔

سوارنگ: سانگہ، نقل، بہرہ، بھیس بدنا۔

سوارنگیا: شہدہ، گریہ، بھیس بدل کر قاتل دکھانے والا بہرہ پیا۔

سوائی: موٹ: سوا جھڑ زیادہ۔

سوتلا: مذکر، سوت، کسی دریا یا تالاب سے نکل کر بہنے والی پانی کی شاخ۔
 چاگن: سوت کا تیزی سے جاری ہونا، سوت کا بند ہونے کے بعد پھر سے جاری ہونا۔

سوتے بہانا: اکنایشا، کثرت سے پانی یا آنسو بہانا۔
 سوتایا: مذکر: دوسو کنوں کا باہمی رشک و حسد، دشمنی۔
 سوتیا ڈاھ: مونث: ایک سوت کا دوسری سوت کے ساتھ رشک و حسد۔
 سوتائشسار جاگتا پروردگار: (مجازاً) انسان رات۔
 سوتیا / سوتنتا: ۱۱ ہاتھ کا کسی چیز یا عضو پر ہر بار اوپر سے نیچے پینا (۲) ہاتھ چڑھانا، کھپ چڑھانا، (۳) کھسونا، (۴) الجھنا، صاف کرنا، (۵) تلوار میاں سے کھینچنا، (۶) چوسنا، جذب کرنا۔
 کینچ لینا۔

سوتنتر: (۵) آزاد۔
 سوتوال / ستوال: سستی ہوئی، تپلی، نازک۔
 ناک: پتلی اور خوب صورت ناک۔
 سوتی بھڑیں جگانا / بھڑ جگانا پیرانے بھڑے تارہ کرنا۔
 سوتے جاتے: ہر وقت، ہر حالت میں۔
 سوتے کا منہ کتا چاٹے: اشل، سوتے آدمی کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی۔

سوتے جگانا: قیامت برپا کرنا، شور و شر کرنا، ہنگامہ کرنا۔
 نصیب جاگنا: اقبال یا درہنہ، مختہ خفتہ بیدار ہونا۔
 سوتیلایا: مذکر، سوت سے پیدا ہونے والا ایسا وہ بھائی جو کسی ماں سے پیدا نہ ہو، وہاں جو غیر حقیقی ہو۔

سوت: SUIT: انگ: ۱۱، مذکر، ۱۲ ایک ہی رنگ اور کپڑے کا کوٹ پتلون۔ (۲) زمانہ جوڑا، (۳) کسی مکان یا ہوسٹل کا ایک مکمل حصہ۔ (۴) مقدمہ، نالغ۔

سوت کیس: SUIT CASE: انگ: ۱۱، مذکر، چمچے یا ریجین کا جدید طرز کا کیس۔

سوت پڈ بولڈ: SUITED BOOTED: انگ: ۱۱، مذکر، سوت بلاٹ پہنے ہوئے، انگریزی وضع کا۔

سوتینگ: SUITING: انگ: ۱۱، مذکر، سوت کا کپڑا۔
 سولجا: مذکر، بڑی سوتی، (۱۱) بر۔

سولجا پھولا: مذکر، اکنایشا؛ منہ پھلا سے، خفاخفا۔
 سولجن: مونث، دم، آماں۔

سولجنا: (۱۱) دم ہوجانا، (۱۲) اکنایشا، غصے یا بد مزاجی سے منہ پھولنا۔

سولجی: مونث، گیہوں کے مفر کا ڈورا آنا، ردا۔

سولجھ: مونث، (۱۱) نظر بینائی، (۱۲) سوجھ بوجھ۔

سولجھ: مونث، عقل و فہم، دور اندیشی۔

سولجھتا نہیں: (۱۱) نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، (۱۲) اکنایشا؛ سمجھ میں نہیں آتا۔

سولجھنا: (۱۱) نظر آنا، دکھائی دینا، (۱۲) کرنی بات خیال میں آنا، ذہن میں آنا، سمجھ میں آنا، (۱۳) تیز ہونا، (۱۴) دھن ہونا، (۱۵) آگاہ معلوم ہونا، (۱۶) مشغلہ ہونا، (۱۷) فکر پڑنا۔

سولج: مذکر، (۱۱) فکر، خیال، (۱۲) تندرڈ، تذبذب۔

سولج: بچار: مذکر، فکر و تامل۔

سولجنا: غور کرنا، دھیان کرنا، خیال کرنا، عاقبت اندیشی کرنا۔

سولنت: (۱) دن؛ مونث، جلن۔

سولخت کرنا: جلانا، ضبط کرنا، تدار کرنا۔

سولختہ: (۱) دن، (۲) جلا ہوا، مجلسا ہوا، (۳) اکنایشا؛ عاشق، افسردہ، پژمردہ، (۴) جلاگ بچھنے والا کوٹریا اُٹلا، (۵) مذکر، بارود میں رنگا ہوا

کپڑا، (۶) اردو، مذکر، جاذب، بلائنگ پیپر۔

سولختی: مونث، خفت، ٹپکی، رسخ، طال۔

سولڈ: (۱) دن، (۲) منکر، (۳) بیابان، (۴) نفع، فائدہ، (۵) بہتری، بھلائی، تجربہ، ثمرہ۔

سولڈ: مذکر، نفع نقصان۔

سولڈ لینا: جب سولڈ نہ ادا ہو تو سود کی رقم اس میں شامل کر کے اس پر ہی سولڈ لینا۔

سولڈ منڈ: (۱) دن، فائدہ دینے والا، مفید۔

سولڈا: مذکر، (۱) چاروں اطفا میں سے ایک سیاہ خط کا نام، (۲) خط، جزلہ و دو آئی، (۳) اکنایشا؛ عشق، فریفتگی، (۴) خرید و فروخت کا معاملہ

معاہدہ، بیچارہ، (۵) بازار سے خریدی ہوئی چیز، (۶) خیال، دھن۔

سولڈ: (۱) دن، سودائی، دیوانہ۔

سولڈ: مذکر، کھانے پینے کی چیزیں، بازار سے خریدی جانے والی چیزیں۔

سوداگر: اف، ذکر، تاجر، یو پارہ۔

سوداگری: اف، ذکر، تہارت، سپار، m تہارتی۔

سوداوی: و، م، سودا سے منسوب، m جس میں خلط سودا غالب ہو۔

مزاج: ان، جس کے مزاج میں خلط سودا اور غلظوں سے زیادہ ہی خفتانی مزاج، جنونی مزاج۔

سودانی: اف، م، دوانہ، غبلی، ۱۳۱، دکنیاشا، عاشق۔

سوداے خام: اف، ا، اصناف کے ساتھ، ذکر، خیال خام۔

سودیش: ۱۵۱، ذکر، اپنا وطن۔

سودیشی: وطنی، ملکی۔

سوڈا: SODA، انگ؛ سوڈا، سوڈیم کا کار، کھاری پانی، دیگر سوڈاواتر۔

واٹر: SODA WATER، انگ؛ ذکر، وہ پانی جس میں

کاربوئک ایسڈ گیس حل کیا ہوا ہو۔

کاجوش: (بھارت)، فوری جوش۔

سور: موٹ، ۱۱، زچہ خانہ، ۱۳۱، پرتے جینے کے بعد سے عمل کرنے تک

کازمانہ، ۱۳۱، ایک قسم کی پھل۔

سوز: ۱۵۱، ذکر، ۱۱، بہادر آدمی، طیر، ۱۳۱، نابینا۔

داس: ایک ہندی کے عظیم شاعر کا نام جو نابینا تھے۔

سوزما / سوزمان: ذکر، بہادر، جری۔

سور: ۱۵۱، ذکر، ۵، ایک جانور، نوک، ۱۳۱، ہمازا، ایک گلی ہے جب

قہر و غضب اور غمٹے کا۔

سوزاخ: اف، ذکر، چمید، رخصت۔

سوزت: و، موٹ، قرآن مجید کے ایک سوچوہ جھٹوں

میں سے ہر ایک جھٹ۔

سوزج: ذکر، آفتاب، نورشید۔

سوسی: ذکر، راہچوتوں کا ایک فرقہ۔

خاک ڈالنے سے چھپ نہیں سکتا، اٹھ، ناہرات پتیا

نہیں چھپ سکتی۔

کو چراغ دکھانا، دانا کو دانائی کی بات بتلانہ، صلح کرنا۔

گربن / گرنی: ذکر، چاند کو زمین اور آفتاب کے درمیان آٹل

ہر آفتاب کی روشنی کو زمین تک نہ آنے دینا، اس وقت پر سورج

میں اس کا کچھ حصہ تاریک نظر آتا ہے۔

سوزج کھلی: موٹ، ۱۱، سورج کے ساتھ اپنا رخ بدلتے رہنے والا ایک

قسم کا زرد رنگ کا پھول، ۱۱، مور کی کھلی دم کی طرح ایک قسم کی

پھولی می پٹکھیا، ۱۳۱، ایک قسم آتش بازی۔

سوزگ: ۱۵۱، ذکر، بہشت، جنت۔

واشی / باشی: جنت آشیان، مرحوم۔

سوزخجان: اف، موٹ، ایک دوا کا نام ہے۔

سوزدہ: ذکر، قرآن کی سورت۔

سوز: ان، ذکر، ۱۱، سوزش، جلن، کوٹ، درد، ذکر، ۱۳۱، مفر خوانی کا ایک

طرز، وہ اشعار جو مرثیہ خواں نے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

سوزاک: ذکر، ایک بڑی بیماری جس میں پیشاب بہت سوزش کے

ساتھ آتا ہے۔

سوزاں / سوزناک / سوزندہ: ان، جلانے والا۔

سوزخوال: موسیقی کی ایک خاص طرز پر مشتمل پٹھنے والا۔

سوزش: ان، موٹ، جلن۔

سوزن: اف، موٹ، سونی۔

ساعت: اف، ا، اصناف کے ساتھ، موٹ، گھڑی کی سونی۔

عیسیٰ: ان، ا، اصناف کے ساتھ، موٹ، حضرت عیسیٰ علیہ

کے دامن میں ابھی ہوئی سونی۔

کاری: موٹ، سونی کا کام۔

سوزنی: ان، موٹ، سونی کا ایک کام کیا ہوا اور زیادہ سونی بھرا ہوا پتلا۔

سونی کا ایک کام کیا ہوا فرش۔

سوز و گداز: ذکر، بقیہ ماری کرنے والی کیفیت۔

سوس: و، موٹ، گلہن، ایک دوائی کا نام۔

سوس: ان، سوسناک کا صفت، گوہ۔

سویار: ان، موٹ، ایک صحرائی جانور کا نام۔

سوسائٹی: SOCIETY، انگ، موٹ، ۱۱، سماج، معاشرہ، اجتماعی

زمین، ۱۱، تہذیبی ادارہ یا انجمن۔

سوسن: ان، موٹ، ایک قسم کا نیلا پھول، اشعرا اس پھول کو زبان

سے تشبیہ دیتے ہیں۔

سوسنی: ان، ۱۱، آسمان تک کا گھوڑا، ۱۳۱، نیلگون، آسمانی۔

سوسائٹیز: جانسے کے اسے کا پتہ۔

سوسائٹی: (۱) موٹو، ایک قسم کا رنگین دھاری دار کپڑا۔

سوشل: SOCIAL: انگ: مذکر، متنازع، معاشرتی، اجتماعی، سماجی،

معاشرتی روابط رکھنے والا، سوسائٹی میں دل چل کر رہنے والا۔

رفارم: REFORM: انگ: مذکر، قومی اور

معاشرتی اصلاح، سماجی اصلاح۔

سوشلزم: (SOCIALISM): انگ: مذکر، اشتراکیت۔

سوشلسٹ: (SOCIALIST): انگ: مذکر، اشتراکیت کے اصول

پر عمل کرنے والا، اشتراکی۔

سوغات: (۱) موٹو، (۲) تحفہ، ہدیہ، (۳) انوکھی چیز

سوقار: (۱) مذکورہ لوگوں میں تیر بٹھانے کا گھر، تیر کی چنگی (۲)

سون کا ناکا۔

سوفستانی: مذکر، حکماء کا ایک وہی گروہ۔

سوقی: سوق سے منسوب، بازاری۔

سوقیانہ: صفت، بازاریوں کا، عوام کا۔

سوک / شوگر: مذکر، (۱) ستارہ زہرہ، (۲) جمود۔

سوکن: (۱) موٹو، (۲) دیکھو، سوت۔

سوکنا: (۱) جذب کر لینا، سوکھنا۔

سوکھا: مذکر، (۱) خشک، (۲) ڈبلا پتلا، (۳) روکھا، پھیکا، (۴) قحط، قحط

سالی، (۵) خشک تباکو، (۶) بھنگ، (۷) بچوں کی ایک بیماری۔

پڑنا: قحط پڑنا۔

جواب دینا: صاف انکار کرنا، خشک جواب دینا۔

شہا: مذکر، ڈبلا پتلا، لاغر، نحیف، چپ چپ، خوف زدہ۔

سوکھنا: (۱) خشک ہونا، بے رطوبت ہونا، (۲) اکتا یا، (۳) ڈبلا ہونا، (۴) اکتا

(۵) اکتا یا، (۶) انتظار کی تکلیف برداشت کرنا۔

سوکھنا: جذب کرنا، چوسنا۔

سوکھے ٹٹھے: (۱) روٹی کے خشک ٹٹھے، (۲) اکتا یا، عزیزوں کی خدا۔

دھانوں پر پانی پڑنا / سوکھے دھانوں پر پانی پڑنا: ایسی

کی حالت میں مراد حاصل ہونا، مراد برآنا۔

سوکھی اٹھن: (۱) موٹو، اکتا یا، (۲) ڈبلی تیلی عورت۔

تختوا: خشک تختوا، جس میں اور کوئی بالائی آمدنی نہ ہو۔

سوکھی کھانسی: موٹو، بیڑ بلی کی کھانسی۔

سوکھلی: موٹو، خشک خارش۔

سوک: (۱) مذکر، فکر، غم، دکھ، افسوس، ماتم۔

اٹھانا / سوگ بڑھانا: سوگ اُتارنا، سوگ رکھنا، غم اور

ماتم کی حالت قائم رکھنا۔

سوگند: (۱) موٹو، قسم، عہد۔

سوگوار: (۱) غمگین، مغموم، ماتمی، ماتم کرنے والا، مصیبت

زدہ، آفت زدہ۔

سوگی: (۱) غم گین، ماتم میں مبتلا۔

سول: CIVIL: انگ: (۱) ملکی، شہری، اجتماعی، انتظامی،

دیوانی، غیر فوجی، (۲) مہذب، صاحب اخلاق، شائستہ۔

سج: JUDGE: انگ: مذکر، عدالت دیوانی کا منصب۔

سرجن: SURGEON: انگ: (۱) امراض کی دوا کرنے

کا بڑا ڈاکٹر جو ہر مرض میں عام اسپتالوں کا نمبر ہوتا ہے۔

سروس: SERVICE: انگ: (۱) غیر فوجی خدمات

سول ملازمت میں جو فوجی ملازمت کے برعکس ہو، (۲) اطلاع ملازمت۔

کوڈ: CODE: انگ: (۱) مذکر، دیوانی قوانین

کا دستور العمل۔

کورٹ: COURT: انگ: (۱) مذکر، عدالت دیوانی

جس میں نایات کے مقدمے ہوتے ہیں۔

لا: LAW: انگ: (۱) مذکر، عدالت دیوانی کا قاضی

لائن: LINE: انگ: (۱) موٹو، شہر کا وہ حصہ جہاں

سرکاری ملازمین کے مکانات ہوں۔

میرٹج: MARRIAGE: انگ: (۱) موٹو، قانونی

شادی جو عدالت میں طے پاتی ہے۔

نافرمانی: موٹو، عوامی سطح پر سرکاری قانون کی خلاف ورزی۔

وار: WAR: انگ: (۱) موٹو، خانہ جنگی۔

سولین: CIVILIAN: انگ: (۱) غیر فوجی، غیر فوجی حکمے کا

ملازم، انتظامی ضیعے کا ملازم۔

سول: (۱) مذکر، (۲) کانشا، (۳) پیٹ کا درو، (۴) موٹو،

برجی کی نوک۔

_____ کا نوالا : اکنیشا، عمدہ، قیمتی غذا، نعمت۔
 _____ کی چڑیا : اکنیشا، مالدار، دولت مند، بیش قیمت چیز
 نایاب، نادر چیز۔
 _____ کی چڑیا ہاتھ آنا / لگنا / ملنا : کسی مال دار اہمق کا قابو میں لگنا
 قیمتی شے حاصل ہونا۔
 _____ کے کانٹے میں تلنا : ٹھیک ٹھیک وزن کیا جانا۔
 بہت مرعوب ہونا۔
 _____ میں سہاگا : اکنیشا، زہیت اور جلا بڑھانے کا باعث۔
 سونا : (۵)؛ نیند آجانا، آرام کرنا، قیلو کرنا۔
 سونا : مذکر، اجازت، ویران، انسان، خالی۔
 سونپنا : (۱) سپرد کرنا، حوالے کرنا، (۲) امانت کی طرح رکھنا، (۳) مرد
 کو ایک مقررہ مدت تک زمین میں دفن کرنا۔
 سونٹا : مذکر، ڈنڈا، لہجہ، جرب، عصا۔
 سونٹھ : موت، سوکھی ادک۔
 _____ کی ناس لینا : اکنیشا، خبر نہ ہونا، خاموشی اختیار کرنا، بڑکتا
 کرنا، تھل کرنا۔
 سوندنا : (۱) کوئی چیز بھر جانا، (۲) ترمیمی یا کچھ دھیرو کا کسی چیز میں بھرنے،
 (۳) اکنیشا، شال کر لینا، (۴) گوشت میں مسالا اچھی طرح ملانا۔
 سوندھا : (۱) کوری ہتی یا کورے برتن کی خوشبو رکھنے والا، (۲) بال
 دھونے کا ایک مرکب خوشبو کا مسالا۔
 _____ پن : سوندھی، سوندھی خوشبو۔
 سوندھاوٹ / سوندھاہٹ : موت، سوندھی بڑ، باس،
 خوش بو۔
 سوندھنا : (۱) پیرے کو دھونے کے واسطے ملانا، (۲) کسی مٹی کے
 طرف کو رہا یا آنے سے ملنا، (۳) سوندنا۔
 سونڈ : ہاتھی کی لمبی ناک۔
 سونٹ : موت، بادیاں، ایک مشہور دوا کا نام۔
 سونگھنا : (۱) ناک سے بڑھاس معلوم کرنا، مہک معلوم کرنا۔
 سونگھنے کو بھی نہیں : بالکل ناپید ہے، بالکل نہیں ہے۔
 سولانا / سلولانا : دھوپ سے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جانا، سافلا
 ہو جانا، کالا ہو جانا۔

سول : SOLE؛ (انگ)؛ مذکر، (۱) جوتے کا تلاء، (۲) تلاء، (۳) تہا،
 واحد، بلا شرکت غیرے۔
 _____ ایجنٹ : AGENT؛ (انگ)؛ واحد نامندہ، کسی تجارتی
 مال کا تہا ایجنٹ۔
 سولجر : SOLDIER؛ (انگ)؛ مذکر، سپاہی، فوج کا لازم۔
 سولہ : (۵) دس اور چھ، ۱۶۔
 _____ سنگار : عورتوں کے سولہ قم کے سنگار، عورتوں کی مکمل آرائش
 سولی : موت، (۱) پھانسی، (۲) اجازت، مصیبت، ہلاکت۔
 _____ پریس ہونا : اکنیشا، اضطراب اور بے چینی میں بسر ہونا۔
 _____ پرنسپل آتی ہے : نیند مصیبت کی جگہ بھی آتے بغیر نہیں رہتی۔
 نیند پر کسی کا قابو نہیں ہے۔
 _____ پرجان ہونا : عذاب میں جان ہونا، صحت مصیبت میں مبتلا ہونا۔
 _____ پر چڑھانا : پھانسی پر چڑھانا، (۱) نہایت تکلیف دینا، (۲) ذہنی پہچانا۔
 سوں : (۵)؛ عین، کجوس۔
 سُوم : (۱) تیسرا، (۲) اور دو، (۳) مرنے کا تہا، (۴) معنی نر، میں ستم ملے گا
 سوم رس : (۵)؛ مذکر، ایک قسم کا نر اور مشروب، (۱) بھنگ کا رس۔
 (۲) ہندو عقیدہ، دیوتاؤں کے پینے کے شراب۔
 سومنات : (۱)؛ مذکر، گجرات کا مشہور بت خانہ۔
 سوموار : مذکر، پیر، دو شنبہ۔
 سوں : (۱)؛ قوم، عمدہ حلف۔
 سون : (۵)؛ موت، نفس، دم۔
 _____ کھینچنا : خاموشی اختیار کرنا، خبر نہ ہونا، نال دینا۔
 سونا : مذکر، طلا، ایک قیمتی پیلی دھات، جس کے زیور بنتے ہیں۔
 _____ چاندی : مال و دولت، روپیا پسا۔
 _____ چڑھانا : سونے کا مائع کرنا۔
 _____ گنسا : سونے کی جانچ کرنا۔
 _____ کھنٹی : موت، ایک قسم کی دوا میں کام آنے والا پتھر۔
 _____ سونے کا پانی : (۱)؛ سونے سے بھرا دیا ہوا پانی، (۲)؛ سونے کا مائع۔
 _____ کا ڈورا : زنجیر طائی، سونے کی زنجیر۔
 _____ ڈلا : سونے کا ڈھیلا، سونے کا مونا ٹھلا۔
 _____ کا گھر مٹی ہو جانا : بنا بنایا گھر تہا ہو جانا۔

— پُول : POOL —) ؛ «انگ» مذکر، پیرا کی کامصنوعی تالاب، تالاب، دریا یا سمندر کا وہ حصہ جہاں پیرا کی مشق کی جاتی ہے۔

سوویا: مذکر؛ (۱) ایک خوشبودار ساگ، (۲) خوابیدہ سوویا ہوا۔ سوویاں / سوویاں: عیبوں کے میدے کو گوندھ کر نکالے ہوئے تار جس کو خشک کر کے دودھ اور شکر ملا کر پکاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ سوویت: (ع) (سووی، بیت)؛ مونث؛ (۱) برابری، مساوات، (۲) اعتدال۔

سوئیٹر: SWEATER؛ «انگ» مذکر، موٹی ادنی بنیان۔ سویدا: (ع) مذکر، وہ سیاہ نقطہ جو دل پر ہوتا ہے۔ سویر: (۵) اول، پہلے، اتنا مستعمل نہیں ہے، سویرا / سویرے: مذکر، (۱) صبح تڑکا، (۲) اول وقت۔ سوویکار: (۵) قبول کرنا، ماننا، رضامندی، منظور، قبول۔ سوویٹیز: (۵) مذکر، (ہندو عقیدہ) وہ تقریب یا رسم جس میں لڑکی اپنا شوہر خود منتخب کرتی ہے۔

س۔ ۵۰۵۔ می، ے

سہ: (ن)؛ تین، ۳۔
— پھر: مونث؛ تیسرے پیر کا وقت۔
— پٹیلو: (۱) تین پہلو کا، (۲) مذکر، ایک تم کا پیر۔
— چند: (ن)؛ تنگنا۔
— حدہ: مذکر؛ جہاں دسے زیادہ محالوں کا اتصال ہو، پھر یا چونے وغیرہ سے تیار کیا ہوا مربع ناچوتراہ یا ستون۔
— درہ: مذکر، تین دروازوں کا دالان، تین محراب دار دروازے۔
— دری: مونث؛ تین دروازوں کا چھوٹا کمرہ۔
— شنبہ: (ن)؛ مذکر، منگل۔
— فصلہ: سال میں تین بار پل دینے والا درخت۔
— کتر: (ن)؛ تیار، تیسری دفعہ۔
— ماہی: (ن)؛ (۱) سال کا چوتھا حصہ، ہر تیسرا مہینہ، (۲) مونث ہر تیسرے مہینے لٹنے والی رقم، (۳) تین ماہ میں ایک بار شائع ہونے والا جریدہ، تین مہینے کے بعد ہونے والا امتحان۔

سوویت: SOVIET؛ روسی، مونث؛ (۱) وہ کونسل جسے کسی چھوٹے مملکت کے مزدور اور سپاہی منتخب کرتے ہیں، (۲) صوبے کی کونسل جسے یہ کونسلیں منتخب کرتی ہیں، (۳) روسی پارلیمنٹ۔

— یونین: UNION —)؛ مونث؛ وفاقی ریاست جس میں روس اور دوسری سولہ خود مختار ریاستیں شامل ہیں۔

سوہا: مذکر، (۱) لال، سُرخ، تیز سُرخ رنگ، (۲) بھیروں رنگ کی ایک قسم۔

سوہا: (۵) وہ چیز جو جلا کر خاک کر دی گئی ہو۔ سوہان: (ن)؛ مذکر، ریتی، لکڑی یا لوہا وغیرہ صاف کرنے کا خاردار آلہ۔

— روح: (اضافت کے ساتھ)؛ (ن)؛ جان کو آزار دینے والا، ناگوار خاطر۔

سوہن: (ن)؛ مذکر، سوہان کا مخفف، دیکھو سوہان۔ سوہنا: (۵) زیب دینا، بھلا معلوم ہونا، زیب تن ہونا۔ سوہنی: مونث؛ (۱) ایک رنگی کا نام، (۲) خوب صورت۔ سوہر: (ع)؛ مذکر، (۱) بدی، خرابی کی طرف مزاج کی تبدیلی، بیماری، (۲) مونث، خرابی، ہتری۔

سوئے اتفاق: مذکر، موقع کی خرابی۔

— ادب: مذکر، بے ادبی، گستاخی۔

— ظن: مذکر، (اضافت کے ساتھ)؛ بدگمانی، بُرا خیال۔

— مضم / مضمی: (ع)؛ مذکر، بد مضمی، پیٹ کی خرابی۔

سوئی: مونث؛ پڑا سینے کی چیز، سوزن، (۱) ترازو کا کانا، (۲) گھڑی کا کانا، کمپاس، اور قبلہ نما کی سوئی، (۳) اول اول نکلنے والا اندھ یا کسی اور چیز کا ریشہ۔

— کانا کا: سوئی کا سوزان۔

— کے ناکے سے اونٹ لگانا: اپنا ناکہ نامکھن بات کر دکھانا۔

سوئیچ: SWITCH؛ (۱) بجلی کا بٹن جس کے دبائے سے برقی رو کا سلسلہ جوڑا یا توڑا جاتا ہے۔

سوئیچ بورڈ: BOARD —)؛ «انگ» مذکر، دیوار میں نصب لکڑی کا وہ تہہ جس پر لائٹ کے کٹکے، بٹن، پلک وغیرہ لگاتے ہیں۔

سوئمنگ: SWIMMING؛ «انگ»؛ مونث، پیرا کی، حیرنا۔

— وقت : دل کو خوش کرنے والا وقت، طبیعت میں تازگی پیدا کرنے والا وقت۔

سہاؤل : (۵۱) مذکر۔ دیوانوں اور عمارتوں کی سپیدہ دیکھنے کا سہارا کا آلہ۔

سہایتا : (۵۱) مؤنث؛ مدد، سہارا۔

سہانیک : (۵۱) مذکر، مددگار۔

سہج : (۵۱) مذکر، سہل، آسان، آہستہ۔

سہرا : (۵۱) مذکر، دو ہلکا دہن کے سر سے باندھنے والی پھولوں کی لٹریاں، (۵۱) سہرا باندھنے کی تقریب میں کبھی جلنے والی نظم، (۵۱) وہ پھولوں کے ہار جو مزار کے چاقوں پر لٹکا دیتے ہیں۔

— بندھائی : مؤنث، سہرا باندھنے کا ٹیگ۔

— چڑھائی : لوح مزار پر سہرا لٹکانا، فرج کے نشان یا تعزیریوں کے علم پر سہرا لٹکانا۔

سہرے کے کھول کھلنا : (۵۱) کنایتاً؛ بیاہ کا وقت آنا۔

سہرا ناسیر آنا : (۵۱) مقدس چیز کو دریا میں بہانا۔

سہرنا : (۵۱) کانپنا، تھر تھرانا، لرزنا۔

سہر فردیدہ : (۵۱)؛ شباب الدین سہروردی کی طرف منسوب صوفیوں کا ایک گروہ۔

سہل : آسان، سادہ۔

سہلاننا : (۵۱) جسم پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا، گدگدانا، (۵۱) خوشامد کرنا، چاہوسی کرنا، (۵۱) تھیلنا، پچکارنا۔

سہم : (۵۱) مذکر، خوف، ترس، ڈر۔

سہما : (۵۱) مذکر، خوف زدہ، ڈرا ہوا، چُپ۔

سہم جانا : ڈر جانا، ہیبت جھانجانا۔

سہمنا : ڈرنا، ہیبت زدہ ہونا، خوف کھانا۔

سہمن : (۵۱) مذکر، سہنا، برداشت، ضمیر۔

سہمنشا : (۵۱) صبر کرنا، برداشت کرنا، جیلنا۔

سہنو : (۵۱) مذکر، بھول چوک، خطا، غلطی، فراموشی۔

— قلم : (۱) اضافت کے ساتھ؛ مذکر، قلم سے کچھ کچھ نکل جانا۔

— کتابت : (۱) اضافت کے ساتھ؛ مذکر، لکھنے کی غلطی۔

سہوا : (۱) بھولے سے، غفلت سے، بلا ارادہ۔

سہا : (۵۱) مذکر، ایک چھوٹے ستارے کا نام۔

سہانا : (۵۱) مذکر، مریقب، دل پسند، پیارا۔

سہار : مؤنث، (۵۱) برداشت، تحمل، سہنا۔

سہارا : (۵۱) مذکر، (۱) مدد، آسرا، بھروسا، ٹیکر، ٹیک، (۱) امید، توقع، (۱) اطمینان، تقویت، توانائی، قوت۔

— ڈھونڈنا : آسرا تلاش کرنا، وسیلہ ڈھونڈنا، قوت ڈھونڈنا، مدد ڈھونڈنا۔

— کرنا : (۱) وسیلہ کرنا، ذریعہ کرنا، (۱) کنایتاً؛ نوکر رکھوانا، (۱) گزراوقات کا اطمینان کر لینا۔

سہارنا : (۱) رنگ اور تکلیف برداشت کرنا، سہنا برداشت کرنا، (۱) (۱) تمامنا، روکنا۔

سہاگ : (۱) مذکر، (۱) خاندنک حیات کا زمانہ، (۱) شادی میں گاتے جانے والے گیت، (۱) سہا، عجت، ناز دینا، سہانوں کے پسینے کے تمام خوشی کے زیور اور چیزیں، (۱) ایک مشہور عطر کا نام۔

— آمارنا : جب عورت راند ہو جائے اس کی نتھ آمار کر چوڑیاں توڑنا، رند سلا پہنانا۔

— آمارنا : سہاگ کی چیزیں آمارنا، بوجہ ہونا۔

— پیارا / ساری : (۱) مذکر، (۱) ہندو، (۱) زیورات کا ڈرا۔

— پڑا : (۱) مذکر، خوشبو کی چیزیں رکھ کر دہن کے لیے بیجا جانے والا کاغذ کا خوشما پڑا۔

— تارا : (۵۱) مذکر؛ سہاگ بندی۔

— رات : مؤنث، دو ہلکا دہن کی اول شب۔

سہاگا : (۵۱) مذکر، (۱) ایک دو آکا نام، (۱) کیمت کی ہٹی کے ڈھیلے توڑنے کا لکڑی کا آلہ۔

سہانگ : مؤنث؛ خاوند والی عورت۔

سہال : (۵۱) مذکر، ایک قسم کی گھسٹ اور روغن تللی ہوتی روٹی۔

سہالگ : (۵۱) (۱) م؛ مؤنث؛ ہندوؤں کے بیاہ کا زمانہ۔

سہام : (۱) جمع سہم کی، (۱) جھٹھے، ٹکڑے، (۱) پیر، ناوک۔

سہانا : (۱) مذکر، مریقب، دل پسند، موزوں، مناسب، معقول، اچھا۔

— معلوم ہونا، خوب صورت، لائق، (۱) بھانا، پسند آنا، (۱) زیب

دینا، موزوں ہونا۔

- سہولت، موتھ، نرمی آسانی۔
- سہی : مذکر، موتھ، ۱۱ صبح، درست، ۱۲ بجا، ۱۳ فرض کرو، تسلیم کرو۔
- مان لو، ۱۴ شرط کے لیے، ۱۵ تمہیں فصل کے لیے، ۱۶ قلی خاطر کے لیے، ۱۷ سلسلہ قائم رکھنے کے لیے، ۱۸ بے پروائی ظاہر کرنے کے لیے۔
- سہی : (ف) راست، سیدھا، موزوں۔
- پالا/قامت/رقد : (ف) اکرنا، اکرنا، معشوق۔
- سہیل : (ع) مذکر؛ ایک ستارے کا نام۔
- سہیلی : موتھ؛ ساتھ ہونے والی مصاحب، ہم جولی لڑکی، خواص، سگی۔
- سہیم : (ع) شریک، حصہ دار، ساتھی، رفیق۔
- سہتیس : (ع) مذکر، ساتیس۔
- سی : موتھ؛ ۱۱ چنگی لینے یا کسی چیز کے کاٹ کھانے یا تکلیف یا مرج کی جہن سے مزے لکھنے والی آواز، ۱۲ مانند، ۱۳ شہ، ۱۴ اکثریت ظاہر کرنے کے لیے۔
- سی : (ف) تیس، ۳۰۔
- سیارہ : (ف) مذکر، قرآن شریف کا ہر ایک تیسواں حصہ، سیارہ۔
- دانہ : (ف) موتھ؛ ۲۳ دانوں کی تسبیح۔
- مُرخ : (ف) مذکر، ایک پرند کا نام۔
- سے : (۱) ابتداء کے لیے، ۲۱ ربط کلام کے لیے، ۳۱ سبب یا علت کے لیے، ۴۱ وسیلے ذریعے۔
- سے : سو، مرکبات میں اعداد کے بعد آتا ہے۔
- سیات : (ع) مذکر، اجماع سیرت کی؛ بُریاں، گناہ، معاصی۔
- سیاحت : (ع) سیر سفر کرنے والا، سیاحت کرنے والا، مسافر۔
- سیاحت : (ع) موتھ، سیر، سفر۔
- سیادت : (ع) موتھ؛ ۱۱ بزرگی، سرداری، ۱۲ امانت، سلطنت، حکومت، ۱۳ قوم سادت، سید ہونا۔
- سیار : (ع) ۱۱ گردش کرنے والا ستارہ، ۱۲ تیز چلنے والا، سیر کرنے والے بہت پھرنے والا۔
- سیار : مذکر، گیدڑ، ایک جانور کا نام۔
- سیارات : (ع) مذکر، اجماع سیارہ کی، حرکت کرنے والے ستارے، سیارے۔
- سیارہ : مذکر؛ گردش کرنے والا ستارہ۔
- سیاست : (ع) موتھ؛ ۱۱ ملک کی حفاظت اور نگہبانی، جزا اور سزا کی تہنید، انتظام، ۱۲ رعب داب، قبر و غضب، سختی، خوف۔
- دہشت، سخت گیری، ۱۳ دھمکی، مار پیٹ، گوشمالی۔
- سیاسی : ملی معاملات کے متعلق، ملی انتظام کے متعلق۔
- سیاق : مذکر، ۱۱ مضمون کا ربط، طرز، ڈھنگ، قرینہ۔
- سیال : (ع) بچنے والا، رواں، تپلا، رقیق، ۱۲ اپنی شکل بدل سکنے والی چیز۔
- سیال : مذکر، ۱۱ شوہر، مالک۔
- بجئے کو تو ال اب ڈر کا ہے کا : مذکر، جان پہچان یا دوست کے صاحب اختیار ہونے سے ڈر جاتا رہتا ہے۔
- سیان : مذکر، دانائی، ہوشیاری، چالاک۔
- پت / پن : موتھ؛ مذکر، ہوشیاری، دانائی، چالاک۔
- سیانا : مذکر، ۱۱ دانائے سمجھ دار، ۱۲ ہوشیار، عیار، چالاک، ۱۳ بالغ سن تیز کو پہنچا ہوا، ۱۴ بچل، ۱۵ عالی، بھوت، پریت آنانے والا، گنڈا تعویذ کرنے والا۔
- کو آگوا کھاتا ہے : (م) زیادہ چالاک کرنے والا آدمی بہبودہ غلطی کر جاتا ہے۔
- سیاہ / سیر : (ف) ۱۱ کالا، ۱۲ نمس، شوم، بد۔
- بادام : اکرنا، ۱۱ محبوب کی آنکھ۔
- باطن : (ف) ۱۱ بد باطن، مکار، منافق۔
- بخت : (ف) ۱۱ بد نصیب۔
- بختی : (ف) موتھ؛ کم نصیبی۔
- پوش : (ف) اکرنا، ۱۱ ماتی، سوگوار۔
- چشم : (ف) اکرنا، ۱۱ بے مروت، بے وفا۔
- خانہ / سیر خانہ : (ف) مذکر، اجماع، خانہ دیران۔
- دانہ / سیر دانہ : (ف) مذکر، کالے بن۔
- درون / دل / سیر دل : (ف) اکرنا، ۱۱ بے مروت، بے وفاء، سنگ دل۔
- رو / سیر رو : (ف) ۱۱ کالا گلوٹا، ۱۲ ذلیل، رسوا، خوار۔
- زبان : وہ شخص جس کی بددعا جلد اثر کر جلتے۔
- سفید کرنا : متنازع ہونا، جو چاہنا کرنا۔

سیخ: (ف) موٹف؛ لوسے کی وہ لانبی اور گولی سینک جس پر کباب لگاتے ہیں۔
 پاپوٹا: گھوٹے کا آلف ہونا۔

سیخچہ: انڈر ڈکڑ۔ چھوٹی سیخ، لوسے کی چھوٹی سلان صاف کرنے کی لوسے کی چھڑ۔

سیخ کے کباب (مختوم) } وہ کباب جو سیخ پر بھون کر بناتے
 سینیا کباب (دہلی) } جاتیں۔

سید: (ع) ڈکڑ، (۱) امام، پیشوا، سردار، (۲) حضرت غلامظفر کی اولاد۔

سیدھ: موٹف؛ (۱) سیدھا پن، راستی، سادگی، (۲) سشت، نشانہ، سامنے کی طرف۔

سیدھا: ڈکڑ، (۱) براہ راست، بھٹ مستقیم، (۲) بھولا، (۳) غریب، (۴) سبک، (۵) درستی، باقاعدہ، (۶) آسان، (۷) سہل، (۸) موافق، مہربان، (۹) سامنے، مقابل، (۱۰) کچی خوراک۔

بننا: (۱) درست ہونا، کچی نکلنا، (۲) راہ پر آجانا، ٹھیک ہو جانا، (۳) جان بوجھ کر اپنے آپ کو ناواقف ظاہر کرنا۔

جواب دینا: (۱) اکتائیا، انکار کرنا، (۲) ایسا جواب دینا جس میں بے حسدگی نہ ہو۔

راستہ: آسان طریقہ، آسان راستہ۔
 سادہ/سادھا: ڈکڑ، بھولا بھالا، سادہ مزاج شخص۔

کرنا: (۱) راہ راست پر لانا، کچی دفر کرنا، (۲) وار کرنے کے لیے بندوق چھتیا، نشانہ لگانے کے لیے تیر یا بندوق کا رز کرنا، (۳) اکتائیا، مار پیٹ کر ٹھیک کرنا۔

گھر خدا کا: (دش) بے غیرت آدمی، کسی باختیار کے پاس بار بار دوڑ دوڑ کر جانے والا، کسی کو بار بار تکلیف دینے والا۔

سیدھی آنکھوں بات نہ کرنا: (دہلی)؛ بھڑک بات کرنا، (مختوم) میں سیدھے منہ بات نہ کرنا۔

انگلیوں گھی نہیں نکلتا: (دش)؛ ملامت اور نرمی سے ہر ایک کام نہیں نکلتا۔

باتوں کا آٹا جواب: ملامت کی باتوں کا ٹیڑھا جواب۔
 چال چلنا: سلامت روی اختیار کرنا، اچھا طریق اختیار کرنا۔

سیاہہ: (ف) ڈکڑ، (اہل دفر کی اصلاح)؛ ہر روز نقدی یا اجناس درج کرنے کا پتہ دینا۔

سیاہی: (ف) موٹف؛ (۱) کالک، (۲) روشنائی، (۳) تاریکی، (۴) چھڑا، تیرگی، (۵) کاجل، (۶) داغ، (۷) دھبہ، (۸) اکتائیا، (۹) جب، نقص۔

سوکھ: ڈکڑ، جاذب۔
 سیب/سیو: (ف) ڈکڑ، ایک مشہور میل کا نام۔

سپ: موٹف؛ (۱) صدف، ایک قسم کا دیوانی کیرا جس کے اندر سے موتی نکلے ہیں، اور جس کو جلا کر چونا بناتے ہیں، (۲) ایک قسم کی سنی مشعل کا نام، جو سب سے پہلے نکتا ہے۔

سید پارہ: (ف)؛ ڈکڑ، قرآن شریف کے تیس پاروں میں سے کوئی ایک حصہ۔

سی پورٹ: SEAPORT؛ (۱) ڈکڑ، بند گاہ۔
 سپت: موٹف؛ استیلا اور پاتو کے نیچے سے نکلنے والا پسینہ (اب نہیں بولتے ہیں)۔

سپتا: موٹف؛ رام چندر جی کی بیوی کا نام۔
 سپل: (۱) ڈکڑ، (۲) شریف، ایک پل، (۳) گولی کدو۔

سپتلا: موٹف؛ چپک۔
 منہ داغ: چپک رز، مز پر چپک کے نشان والا شخص۔

سپتلی پانی: ایک قسم کی چٹائی بوجھنی ہوتی ہے۔
 سپٹ: SEAT؛ موٹف؛ نشست، جھک، ایک آڈی کے بیٹھے کی جگہ۔

سپٹی: موٹف؛ (۱) منہ کو گول بنا کر نکالنے والی مہین آواز، (۲) کبوتر اٹاتے وقت منہ کے اندر دو انگلیاں رکھ کر نکالنے والی آواز، (۳) منہ میں رکھ کر جانے کا چھوٹا آلہ۔

سپٹھ: ڈکڑ؛ (۱) دولت مند، مہاجن، کوشمی والا، تموک فروش، (۲) ایک عزت کا خطاب یا کلمہ۔

سپٹھا: ڈکڑ، بے مزہ، پھیکا، بے نمک مزہ۔
 سیج: موٹف؛ بستر، پھوننا، پلنگ، چار پائی، (۲) بستر پر تازے پھولوں کا فرش۔

سند: ڈکڑ، پلنگ کے فرش کو چاروں طرف سے باندھنے کی ڈوریاں، پلنگ کی ڈوریاں۔

چڑھنا: اکتائیا؛ مرد اور عورت کا ہم بستر ہونا۔

سیر: (ع) موٹ؛ (د) تفریح، پھرنا، گشت، ہوٹوری، تماشا، کیفیت، نظارہ، (۳) مزہ، لطف، بہار، (۴) کتاب کا دیکھنا (۵) ہنسی مذاق پھرنا، گردش کرنا۔
 سیر گاہ: (ف) موٹ، تماشا گاہ، سیر دیکھنے کی جگہ، نضا کا مقام۔
 سیر گاہ: (ف) موٹ، تماشا گاہ، سیر دیکھنے کی جگہ، نضا کا مقام۔
 سیر: (ف) (۱) آسودہ، چمکا ہوا، پیٹ بھرا، (۲) مستغنی بے نیاز، (۳) بیزار، منتفر۔
 چشم: (ف) (۱) آسودہ بے پروا قاض، صابر، (۲) سنی، توصلے والا، (۳) چشمی، (ف) موٹ، آسودگی، استغنا۔
 حاصل: (ف) زریز، شاداب، سرسبز، اچھی پیداوار کی آرائی۔
 ہونا: (۱) جھلنا، آسودہ ہونا، پیٹ بھرنے، نیت بھرنے، (۲) بیزار ہونا، دل پھر جانا، مستغنی ہونا، بے پروا ہونا۔
 سیر: (ع) (جمع سیرت کی)؛ (ف) موٹ، (۱) خصلتیں، عادتیں، (۲) علم تاریخ، گزرے ہوئے لوگوں کے حال کا بیان۔
 سیر: (۵) مذکر، سولہ چنانک کا وزن۔
 کے واسطے سوا سیر موجود ہے: (ف) (۱) زبردست کی سرکوبی کے لیے اس سے زیادہ زبردست موجود ہے۔
 میں ہسیری کا دھوکا: (ف) (۱) چھوٹی رقم میں سے بڑے حصے کا ضیق۔
 سیر: موٹ، زمین دار کی خود کاشت آرائی۔
 سیراب: (ف) پانی سے بھرا ہوا، تروتازہ، شاداب، لبریز، دکنا، ہونا کے ساتھ۔
 سیرت: (ع) (۱) موٹ، خصلت، عادت، طریقہ، ہیئت، اخلاق۔
 سیریز: SERIES (۱) مذکر، سلسلہ، قطار، ترتیب وار۔
 سیریز نمبر: SERIAL NUMBER (۱) مذکر، نمبر شمارہ، ترتیب وار نمبر۔
 سیرھی: موٹ، زینہ، درجہ۔
 سیریز: SEASON (۱) مذکر، رت، موسم، فصل، سمان، مناسب وقت، صحیح موقع، میعاد۔
 ٹکٹ: TICKET (۱) بس یا ریلوے کے سفر یا کسی کیل

یا تفریحی اجتماع میں داخلے کے لیے ایک مدت کا ٹکٹ۔
 سیریں بھول: مذکر، سر کے ایک زلیوے کا نام۔
 ناگ: (۵) مذکر، ناگوں کا بادشاہ۔
 سیسا: مذکر۔ ایک دعوات کا نام۔
 پہلانا: (۱) کینا، کسی چیز کو مضبوط کر دینا، کسی چیز کو وزنی کر دینا۔
 سینئر: مذکر، زہ، کمان کی وہ دور جس میں تیر رکھ کر چھینکے ہیں۔
 سیشن: SESSION (۱) مذکر، (۲) سال، مدرسہ یا کالج کا تعلیمی سال، (۳) عدالت فوجداری کا اجلاس، (۴) قانون ساز اداروں کے جلسوں کی مدت، انعقاد، بیٹھک، اجلاس، جلسہ نشست۔
 جج: JUDGE (۱) مذکر، عدالت فوجداری کا جج۔
 سینف: (ع) تلوار۔
 زبان: (ف) تیز زبان، پُر اثر بات کرنے والا شخص۔
 سینف: SAFE (۱) مذکر، (۲) تجزی، آہنی الماری، (۳) محفوظ، سلامت۔
 ڈپازٹ والٹ: DEPOSIT VAULT (۱) (۱) مذکر، وہ محفوظ آہنی الماری جو بینک میں کاپیوں پر مہیا کی جاتی ہے اور جس میں قیمتی اشیاء رکھی جاتی ہیں، بینک کی تجزی۔
 سینف: (ف) مذکر، جلد سازوں کا کاغذ کاٹنے کا اوزار۔
 سینف: موٹ، (۱) کسی دشمن کے دفعیہ کے واسطے خاص ترکیب پر مہیا جانے والا، ام جلالی، (۲) ایک جلالی دھا کا نام۔
 الٹ جانا: ام جلالی کا خود پڑھنے والے کے حق میں برہادی کا باعث ہونا۔
 سیک / سینک: موٹ، (۱) گرمی، تیش، (۲) سینکے کا عمل۔
 سیکرٹ: (۱) گرمی کا اثر سینکے سے پہنچنا۔
 سیکرٹ: SECRET (۱) مذکر، (۲) راز، خفیہ بات، پوشیدہ۔
 سیکرٹ: (۵) مذکر، (۱) ایک سو، (۲) فی صدی۔
 سیکرٹوں: (جمع سیکرٹ کی)؛ کثرت ظاہر کرنے کے لیے۔
 سیکس: SEX (۱) مذکر، جنس، ذات، جنسی جذبہ۔
 اپیل: APPEAL (۱) مذکر، موٹ، جنسی کشش۔

سیلانی: سیر کا شوقین، مارا مارا پھرنے والا، ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا، سیر تلے میں معروف رہنے والا۔

سپل بند: ۱) مہر لگا کر بند کیا ہوا، ۲) سرکاری طور پر مہر لگائی ہوئی برادروکان، مکان، یا پبلک جانتاد۔

سیلس بیکن: SALESMAN، ۱) انگ، مذکر، بھری ٹیکس، وہ ٹیکس خرید و فروخت کے وقت لگایا جاتا ہے۔

سیلس مین: SALESMAN، ۱) انگ، مذکر، بیچنے والا۔

سیلف ریسپکٹ: SELFRESPECT، ۱) انگ، مونث، عزت نفس، خود داری۔

گورنمنٹ: GOVERNMENT، ۱) انگ، مونث، حکومت، خود اختیاری، خود انتظامی۔

سیل کھری: مونث، سنگ جراحی، ایک قسم کا دواؤں میں کام آنے والا نرم پتھر۔

سپل: سپل، نئی، تری۔

سپلٹا: نم ہونا، گیلا ہونا، کسی چیز کا نمناک ہونا۔

سیلوٹ: SALUTE، ۱) انگ، مذکر، ۲) سلام، آداب، تسلیم، کورنش فوجی طریقے کا سلام، ۲) سلام، آداب، تسلیم، کورنش۔

سیلون: SALOON، ۱) انگ، مذکر، ۲) دیوان خانہ، ملاقات یا تقریب کا بڑا کمرہ، ۳) اول درجے کے مسافروں کا کمرہ۔

سپل: مونث، ۱) بالوں یا دھاگوں کی سیاہ ڈوری، فقیر یا سپن لوگوں کی آرائشی ڈھری، ۲) انسان کے پیٹ اور سینے کے

بالوں کی سیدھی لمبی کپڑ۔

سیم: ۱) ایک قسم کی ترکاری۔

سپم: ۱) مونث، چاندی۔

سپم ربر / تن / ذوق: ۱) گور، چٹا، چہی، خوبصورت، ۲) اکتایشا، معشوق۔

سپا: ۱) مونث، ۲) حد، سرحد، ۳) اف، مذکر، ماتا، پیشانی، ۴) چہرہ، ٹخنہ۔

سیما: ۱) مذکر، پارہ، ۲) اکتایشا، بے قرار، مضطرب۔

سپا: ۱) اکتایشا، سیما کی طرح بے قرار ہونا۔

بے تاب ہونا۔

سیکشن: SECTION، ۱) انگ، مذکر، ۲) حصہ، ٹکڑا، شعبہ، قطعہ، ۳) دفعہ، قانون کی اصطلاح، ۴) باب، فصل۔

سیکنڈ ریسینٹا: ۱) آگ پر گرم کرنا، گرم پانی کا تھپڑا دینا، ۲) روٹی سیکنا، ۳) انگاروں پر لال کرنا، ۴) بلانا جیسے کباب سیکنا۔

سیکنڈ: SECOND، ۱) انگ، مذکر، ۲) دوسرا، دوسرے درجے کا، ۳) ایک منٹ کا ساتواں حصہ، ۴) اکتایشا، لحظہ، لمحہ، پل۔

سیکنڈری: SECONDARY، ۱) انگ، مونث، ۲) ثانوی، دوسرا درجہ، ۳) دوسرے درجے کی تعلیم، یعنی پرائمری کے بعد سے میٹرک تک، ثانوی تعلیم، ۴) ضمنی، تابع۔

سیکنڈ ہینڈ: SECONDHAND، ۱) انگ، مذکر، ۲) برتا ہوا، ۳) استعمال کیا ہوا۔

سیکلر: SECULAR، ۱) انگ، مذکر، غیر مذہبی، غیر دینی۔

ایزم: ISM، ۱) انگ، مذکر، تمام مذاہب کے یکساں احترام کا نظریہ، ۲) سر و دھرم سمجھاؤ۔

سیکیورٹی: SECURITY، ۱) انگ، مونث، ۲) بچاؤ، حفاظت، سلامتی، ۳) ضمانت، ضامن، کفیل، ۴) اطمینان، سکون۔

سیکنا: تعلیم پانا، حاصل کرنا، پڑھنا، ۲) تجربہ حاصل کرنا، عبرت پکڑنا۔

سیگریٹ: CIGARETTE، ۱) انگ، مونث، پینے کے لیے کاغذ میں پٹا ہوا تمباکو، سگریٹ۔

سینل: مذکر۔ مونث، پانی کی رو، طغیانی، موج، لہر۔

سپل: SEAL، ۱) انگ، مونث، تھپا، مہر۔

ریسل: SALE، ۱) انگ، مذکر، بھری فروخت، ۲) رعایتی فروخت، نیلام۔

سپل / سپلن: مونث، ۱) تری، رطوبت، ۲) شرم، جیا، مروت، حجاب، لحاظ، ۳) ایک قسم کی پھلی۔

سپل کا کوٹا: ۱) مذکر، لوگوں کی زمینیں بیگانے کی نیاز۔

سپلا: ۱) مذکر، ٹر، گپلا، بھگا ہوا، ۲) ٹھنڈا، ٹھک، ۳) کھیت کٹنے کے بعد رہ جانے والا اناج۔

سیلا: مذکر، ۱) ٹیٹی چادر، ۲) سر باندھنے کا لٹھی ہمار، ۳) ایک قسم کا بلا ہوا چال۔

سیلاب: ۱) مذکر، پانی کی رو، طغیانی، پانی کا چڑھاؤ۔

سپی: ۱) مکھن، ۲) مونث، ۳) تومہ، دھونے کا لٹھ، سفلی۔

سیٹلان: ۱) مذکر، پانی یا خون کا جاری ہونا۔

سینٹ پیٹ : SENIATE ؛ (انگ) : مونتھ، مجلس قانون ساز کا
اعلاہیوان یا شعبہ۔
سینی ٹوریم : BANATO RUM ؛ (انگ) : (۱) محبت افزا مقام ۱۹۱۱
جگہ یا مکان جہاں مریضوں کو رکھا جاتا ہے، (۲) دارالصحہ۔
سینک : (۱)؛ مذکر، نوجی، سپاہی۔

سینئر : SENIOR ؛ (انگ) : بڑا، اعلیٰ، بزرگ، سابق، عمرِ عمدہ۔
ملازمت کی مدت کے اعتبار سے بڑا۔

سیو : (ف) مذکر، (دہلی)؛ سب (۳) (اردو)؛ ایک قسم کا میٹھا
اور ٹیکن پکوان۔

سیوا : (ہ) مونتھ؛ خدمت، پرستش۔
سیوی : مونتھ؛ ایک قسم کا سفید پھول، نستر۔
سیورا : مٹی کا اندر سے کچا بظاہر پکا ہوا برتن، (۳) (کنٹیا) وہ شخص
جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔

سیوک : مذکر، (۱) نوکر چاکر، غلام، (۲) بجاری، (۳) مرید، چیلہ، (۴)
سیون : مونتھ؛ سلائی، ٹانگا۔

سٹھانا : ابھری ہوئی سیون کو دیا دینا۔

سیونگ اکاؤنٹ : SAVINGS ACCOUNT ؛ (انگ) مذکر،
(۱) بچت کھاتا، (۲) بینک یا ڈاک خانے میں بچت جمع کرنے کا کھاتا۔

بنک : SAVINGS BANK ؛ (۱) بچت کاروبار رکھنے والا ادارہ۔
سیہہ / سیہی : دیکھو ساہی۔

سیہہ : (ف) سیاہ کا مخفف۔
کاسہ : (ف)؛ (۱) (کنٹیا)؛ پینل، (۲) آسمان کی صفت۔

کدہ : (ف)؛ (۱) دیران مکان، غریب خانہ، (انگ) سے)؛
پنامکان۔

حیوانات کا دست والا اگلا دھڑ۔
سپنہ اوگار : (ف)؛ (۱) رنجیدہ، غمگین، (۲) (کنٹیا)؛ عاشق۔
سبند : مذکر، (۱) اگلیا، (۲) گھوڑے کی پٹی، (۳) بچوں کی رال سے
پکڑے پانے کے لیے سینے پر کا پکڑا، (۴) ایک سرمایہ پوشش۔
(۵) کفن کے نیچے کا پکڑا۔

سپنہ : (ف)؛ (۱) سلسلے وار سینوں میں پشت در پشت چلی
آنے والی خاندانی بات یا راز۔

چاک : (ف)؛ (کنٹیا)؛ غمگین، عاشق۔
ریش : (ف)؛ سینے پر نرم ڈالنے والا۔

زنی : (ف)؛ مونتھ؛ چھاتی پینا، ماتم کرنا۔
زوری : (ف)؛ (کنٹیا)؛ مونتھ؛ زبردستی، سختی، سرکشی۔

سپر ہونا : آفت اور بلاؤں کا نشانہ بنا، مقام خوف و خطر میں
مردانہ وار کھڑا ہونا، جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا۔

شق ہونا : روحی صدمہ ہونا۔
نگار : (ف)؛ رنجیدہ، غمگین۔

کادی : (ف)؛ مونتھ؛ سخت کوشش، نہایت مشقت۔
کوبی : (ف)؛ مونتھ؛ سینہ زنی۔

کوٹنا : چھاتی پینا، ماتم کرنا۔
سینے پر پتھر رکھنا / بریل دھرنا / بریل رکھنا : چھاتی پر پتھر رکھنا،
صبر کرنا بے قراری اور اضطراب، ضبط کرنا۔

پرسناپ لوٹنا : چھاتی پر سناپ لوٹنا، ولی صدمہ ہونا۔
پرہاتھ دھرنا / پرہاتھ رکھنا : دل کو تسلی دینا، اضطراب
خاطر کو روکنا۔

منے لگانا : چھاتی سے لگانا، پیار کرنا، تسلی دینا۔
سپنی : (ف)؛ مونتھ؛ لوسے، پتیل تانبے یا تین کی کشتی۔

ش

ش : مذکر، اُردو حروف تہجی کا ایک حرف، شین معجمہ، شین منقوہ
 حساب کمال الجبر میں اس کے تین تنگ عدد ہیں۔
 شاب : (ع) مذکر، جوان۔
 شاباش : (ف)؛ شاباش کا (مخفف) موتھ؛ کلمہ تحسین و آفرین
 مرجا، واہ وا، کیا کہنا۔
 شاباشی : موتھ، تحسین و آفرین، پیٹھ ٹھوکا۔
 شاب : (ع) مذکر؛ بد دعا۔
 شاپ : SHOP، (انگ)؛ مذکر، دکان، کارخانہ۔
 شاپکسپر : SHOPKEEPER؛ (انگ)؛ مذکر، دکان دار۔
 شاپنگ : SHOPPING؛ (انگ)؛ موتھ؛ خریداری (۲)؛ سودا
 خریدنے کے لیے بازار میں جانا (۳)؛ روزمرہ ضروریات کی خریداری۔
 شاپٹ : SHOT؛ (انگ)؛ مذکر، (۱)؛ فائر، نشانہ (۲)؛ کوئی عین منظر
 یا اس کے کسی حصہ کو ایک ہی وقت میں فلما نا، (۲)؛ فٹ بال کو
 ٹھوکر مارنا۔
 شاخ : (ف)؛ (نمبر ۱)؛ تا (۴)؛ فارسی ہے، موتھ؛ (۱)؛ شہی، ڈالی (۲)؛
 جانوروں کے سینگ، (۳)؛ بڑی نہر سے نکل ہوئی چھوٹی نہر، (۴)؛
 پارا، ٹکڑا، قاش، پھانک، (۵)؛ حصہ، جز، (۶)؛ عیب، نقص،
 (۷)؛ کمان کی کھڑکی (۸)؛ کسی چیز کی نسبت جو کسی کی طرف کی جاتے۔
 (۹)؛ بچ، جھگڑا (۱۰)؛ انوکھی بات، ہنسر، خوبی، عمدگی (۱۱)؛ ایک تم کا
 پھول، شاخیں (۱۲)؛ نسل، اولاد۔
 آش : (اصناف کے ساتھ) (۱)؛ ہرن کا سینگ، (۲)؛ اکتا یا
 انوکھی بات۔
 شانچہ : (ف)؛ مذکر، (۱)؛ چوٹی شاخ (۲)؛ اکتا یا، تہمت، افترا۔
 بندی : (ف)؛ موتھ؛ (۱)؛ درخت میں قلم لگانا، (۲)؛ تہمت لگانا۔
 شاخ دار : (شہی والہ سینگ والا۔
 شاخ و رشاخ : (۱)؛ دوست، (۲)؛ اٹھا ہوا پتہ درپتہ۔
 دریا : (اصناف کے ساتھ)؛ دریا کے دھارے سے جدا ہو کر
 بہنے والا حصہ۔
 زعفران : (اصناف کے ساتھ)؛ اکتا یا، انوکھا تار، عجیب
 سار؛ وہ جگہ جہاں شاخوں والے درخت کثرت سے ہوں۔
 لگانا : (۱)؛ شہی لگانا، قلم لگانا، (۲)؛ کسی کام کے ساتھ کوئی اور کام
 متعلق کرنا، کسی کی طرف مزید بات کی نسبت کرنا، (۳)؛ بچ لگانا۔
 شاخسانہ / شاخشانہ : مذکر، (۱)؛ محبت، تکرار، جھگڑا، بحث، دلیل
 (۲)؛ رنر، عیب (۳)؛ بدگمانی (۴)؛ ڈھکوسلا، دم، فریب، (۵)؛ حیلہ،
 خودمانی، (۶)؛ بات کے پہلو۔
 کھڑا کرنا؛ جھگڑا لگانا، رختہ ڈالنا، فستہ برپا کرنا۔
 شاخ لگانا : (۱)؛ شہی لگانا، (۲)؛ کوئی مزید بات ہونا، عیب ہونا، (۳)؛ کوئی
 تکلف یا عمدگی کی وجہ سے کسی چیز میں خصوصیت سے موجود ہونا۔
 نہات : (اصناف کے ساتھ)؛ (ف)؛ موتھ؛ معمری کے کوزے
 میں آنچرہ بناتے وقت لگائی جانے والی لکڑی۔
 نکالنا : (۱)؛ سینگ نکالنا، (۲)؛ شہی نکالنا، (۳)؛ اکتا یا، عیب نکالنا،
 نکتہ چینی کرنا، (۴)؛ اکتا یا، بچ نکالنا، (۵)؛ نئی بات پیدا کرنا،
 انداز نکالنا۔
 شاخیں لگانا : (۱)؛ سببیاں لگانا، (۲)؛ قلیں لگانا، درخت کی تہنیاں
 شاد : (ف)؛ خوش، نرم۔
 باش : (ف)؛ کلمہ تحسین و آفرین، خوش رہو، شاباش۔
 شاد باید زیستن / ناشاد باید زیستن : (مقولہ)؛ زندگی سے بیزارگی
 ہر حال میں زندگی گزارنا ہے۔

ش : مذکر، اُردو حروف تہجی کا ایک حرف، شین معجمہ، شین منقوہ
 حساب کمال الجبر میں اس کے تین تنگ عدد ہیں۔
 شاب : (ع) مذکر، جوان۔
 شاباش : (ف)؛ شاباش کا (مخفف) موتھ؛ کلمہ تحسین و آفرین
 مرجا، واہ وا، کیا کہنا۔
 شاباشی : موتھ، تحسین و آفرین، پیٹھ ٹھوکا۔
 شاب : (ع) مذکر؛ بد دعا۔
 شاپ : SHOP، (انگ)؛ مذکر، دکان، کارخانہ۔
 شاپکسپر : SHOPKEEPER؛ (انگ)؛ مذکر، دکان دار۔
 شاپنگ : SHOPPING؛ (انگ)؛ موتھ؛ خریداری (۲)؛ سودا
 خریدنے کے لیے بازار میں جانا (۳)؛ روزمرہ ضروریات کی خریداری۔
 شاپٹ : SHOT؛ (انگ)؛ مذکر، (۱)؛ فائر، نشانہ (۲)؛ کوئی عین منظر
 یا اس کے کسی حصہ کو ایک ہی وقت میں فلما نا، (۲)؛ فٹ بال کو
 ٹھوکر مارنا۔
 شاخ : (ف)؛ (نمبر ۱)؛ تا (۴)؛ فارسی ہے، موتھ؛ (۱)؛ شہی، ڈالی (۲)؛
 جانوروں کے سینگ، (۳)؛ بڑی نہر سے نکل ہوئی چھوٹی نہر، (۴)؛
 پارا، ٹکڑا، قاش، پھانک، (۵)؛ حصہ، جز، (۶)؛ عیب، نقص،
 (۷)؛ کمان کی کھڑکی (۸)؛ کسی چیز کی نسبت جو کسی کی طرف کی جاتے۔
 (۹)؛ بچ، جھگڑا (۱۰)؛ انوکھی بات، ہنسر، خوبی، عمدگی (۱۱)؛ ایک تم کا
 پھول، شاخیں (۱۲)؛ نسل، اولاد۔
 آش : (اصناف کے ساتھ) (۱)؛ ہرن کا سینگ، (۲)؛ اکتا یا
 انوکھی بات۔
 شانچہ : (ف)؛ مذکر، (۱)؛ چوٹی شاخ (۲)؛ اکتا یا، تہمت، افترا۔
 بندی : (ف)؛ موتھ؛ (۱)؛ درخت میں قلم لگانا، (۲)؛ تہمت لگانا۔

شاعری کرنا: ۱۱۱ بیان میں مبالغہ کرنا، ۱۱۲ شعر گوئی کرنا۔
شاشل: (ع) مصروف، مشغولہ، کسی شغل میں مصروف، ۱۱۳ خدا کا ذکر کرنے والا، ۱۱۴ شغل کرنے والا۔

شایع: (ع) مذکر؛ شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔
روز جزا / مختصر: (اضافت کے ساتھ) مراد جناب رسول خدا صلعم سے۔

شافعی: (ع) مذکر؛ ۱۱۱ اہل سنت کے چار اماموں میں سے ایک امام کی کنیت، ۱۱۲ امام شافعی کا پیروہ، ۱۱۳ امام شافعی کی طرف منسوب۔

شافہ: مذکر؛ کسی دو امین لت کر کے زخم کے اندر رکھی جانے والی جتی۔ پیمانہ لانے کے لیے پیمانہ کے مقام پر رکھی جانے والی گیسرین کی جتی۔

شانی: (ع) ۱۱۱ شغادنے والا، ۱۱۲ تسکین دینے والا۔
مطلق / تحقیق: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ اصل صحت دینے والا، خدا تعالیٰ۔

شاق: (ع) دشوار، مشکل، ناگوار، دُوبھر۔
گزرنا: ناگوار معلوم ہونا، بُرا لگنا، دُوبھر ہونا۔
شاقہ: صفت، موت، دشوار، مشکل، سخت۔

شاک: SHOCK (لگ) مذکر؛ ۱۱۱ جھٹکا، دھٹکا، چوٹ، ۱۱۲ ذہنی یا قلبی صدمہ، ۱۱۳ بجلی کا جھٹکا۔
شاکر: (ع) شکر کرنے والا، شکر گزار، ۱۱۴ مبر کرنے والا۔
شاکر موزی کو شکر: (ع) شاکر کو خدا کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اور موزی کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔

شاکلی: (ع) صفت، شکایت کرنے والا، گلہ کرنے والا۔
شاکرد: (ع) مذکر؛ استاد سے سیکھنے والا، طالب علم۔
پیشہ: نوکر چاکر، خدمت گار اور اوپر کا کام کاج کرنے والے۔
رشید: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ ہدایت یافتہ اور لائق شاکرد۔
شاکردی کرنا: تعلیم پانا، کسی سے کام سیکھنا۔
شال: موت، اولیٰ یا ریشمی چادر۔

باف: موت، ایک طرح کا سُرخ ریشمی پیرا۔
دوز: شال پر ہلے بنانے والا، شال پر کام کرنے والا۔

شاداں: (ع) خوش حال، خوش وقت۔
شاداں: (ع) خوش و خوش۔

شادی: (ع) ۱۱۱ خوشی، ۱۱۲ جشن، عید، تہوار، ۱۱۳ خوشی کی تقریب، بیابا، ۱۱۴ ولادت، بچہ پیدا ہونے کی خوشی۔
خانہ آبادی: (ع) مقولہ، بیابا کرنے سے گھر آباد ہوجاتا ہے۔

مُزگ: (اضافت کے ساتھ) (ع) ۱۱۱ افراطِ خوشی سے ہونے والی موت، ۱۱۲ خوشی کی زیادتی سے مرنے والا شخص۔
شادیانہ: (ع) مذکر، خوشی کا باجا، شادی میں بجاتی جانے والی نوت، ۱۱۳ خوشی کے گیت، ۱۱۴ مبارک باد۔

شاداب: (ع) تروتازہ، سرسبز، سیراب، بہرا بھرا۔
شاد: (ع) کم، نادار، انوکھا، ۱۱۱ خلاف قاعدہ لفظ یا ترکیب، ۱۱۲ کبھی، اتفاقاً، گاہے گاہے۔

وناڈر: کبھی کبھی، گاہے گاہے، اتفاق سے۔
شارب: (ع) پینے والا۔

شارٹ ہینڈ: SHORT HAND (لگ) مذکر؛ مختصر نویسی۔
شارح: (ع) مذکر، شرح کرنے والا، شرح لکھنے والا، مُبشر۔
شارع: (ع) موت، بڑی راہ، سڑک، مذکر؛ ۱۱۱ شریعت بنانے والا، صاحبِ شرع۔

اسلام: مذکر، پیغمبرِ اسلام سے مراد ہے۔
عام: موت، عام راستہ، شاہراہ۔

شارک: SHARK (لگ) موت، ایک خوفناک سمندری مچھلی جو آدمیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔
سکنی: SKIN (لگ)؛ ۱۱۱ شاکر کی کھال، ۱۱۲ اچھانٹا، نہایت چمکے قسم کا پیرا۔

شاسٹر: (ع) مذکر؛ قانون، ضابطہ، ہندوؤں کی مذہبی کتاب جو کسی مٹی یا ریشمی نے لکھی ہو۔
شاستری: (ع) مذکر؛ شاستر جاننے والا، پندت، عالم و فاضل۔
شاطر: (ع) کبھی پر بار نہ ہونے والا شخص، ۱۱۳ چور، گمراہ کاٹنے والا، چوری میں مشاق، ۱۱۴ خطرناک، ۱۱۵ ہلاک، عیار۔

شاعر: (ع) مذکر، شعر کہنے والا۔
عُزّا: (اضافت کے ساتھ) بڑا شاعر۔

شالی: ابنِ اشل سے منسوب۔

شام: موت؛ ۱۱) کسی دھات یا ہاتھی دانت کا بنا ہوا نول یا چھلا، ۱۲)

ذکر، شری کرشن جی کا لقب، ۱۳) پیارا، محبوب، مستحق۔

_____ کلیمان، ۱۵) ذکر، شام کو گایا جانے والا ایک راگ۔

شام: ۱۵) سیاہ، نیلا رنگ۔

شام: ۱) (ف، موث) ۱۱) سورہ ڈھبے کا وقت ۱۲) رات کا ابتدائی حصہ

۱۳) ذکر، عرب کا ایک ملک۔

_____ اَبَد: (اصناف کے ساتھ) موت؛ پیشہ رہنے والی شام۔

_____ اَوَدَد: (اصناف کے ساتھ) اودھ کی ہندیہ مشہور شام۔

_____ پُھول: (صفت) پھولنا، شام کے وقت مغرب سے شرفی کا نمودار ہونا۔

_____ جوانی: (اصناف کے ساتھ) اکنایشا؛ آخری جوانی۔

_____ غریب / عزیز بنانا: (اصناف کے ساتھ) موت؛ بے وطن ہونا

_____ کی دھت ناک شام، مصیبت کی شام، مغسی کی شام۔

_____ کا بھولا صبح کو آئے: (اسل) دیکھو صبح کا بھولا۔

_____ کی پوچھنا سحر کی کہنا؛ بے تکا جواب دینا۔

_____ گاہ: (ف، شام کا وقت۔

_____ گھات: پتے ہانوں کی ایک اصطلاح۔

_____ ویرگاہ: ہر وقت، شام و صبح۔

_____ و سحر کرنا: (اکنایشا) جلد و حوالہ کرنا، ٹالنا۔

_____ شاما: موت؛ ایک سیاہ رنگ کی خوش آئین چڑیا۔

_____ شامت: (ع، موت؛ بد نصیبی، بُرائی، آفت۔

_____ اَسْمَال: (اصناف کے ساتھ) موت؛ کبے کی سزا۔ گناہوں

_____ کی سزا، اعمال کی کم سختی۔

_____ زندہ: بد نصیب، کم سختی کا مارا۔

_____ سر پر کیلنا / سوار ہونا: (ع، شامت آنا، بڑے

_____ دہ آنا۔

_____ کا مارا: ذکر، خراب حال، خستہ جاں۔

_____ کی مار: نصیبوں کی خرابی، کمال بد نصیبی، کم سختی۔

_____ شامتی: بد نصیب، کم سختی کا مارا۔

_____ شامل: (ع، ملا ہوا، ساتھ، اکٹھا، شریک۔

_____ شاولی: (ع، ساجھتہ داری، بہت سے لوگوں میں مشترک

_____ ملکیت یا جامداد۔

_____ شاطلی: (صفت) مشترکہ۔

_____ شامل حال: ۱۱) شریک حال، ۱۲) باہم بل کرنا، ساتھ میں۔

_____ مُسَل: (اصناف کے ساتھ) مقدس کے کاغذات کے ساتھ نعتی۔

_____ شاملہ: (ع، ذکر، سونے کی قوت۔

_____ شامیانہ: (ترکی، ذکر، نگیر، ایک قسم کا خمیر، کپڑے کا سا بنانا۔

_____ شامی کباب: ذکر، گول ٹکیہ والے کباب۔

_____ شان: (ع، موت؛ ۱۱) شوکت، عظمت، مرتبہ، درجہ، ۱۲) حق، نسبت،

_____ ۱۳) موقع، ۱۴) عزت، شرف، توقیر، ۱۵) قدرت، طاقت، ۱۶) آن

_____ انداز، طرز، وضع، صورت، شکل۔

_____ بڑھنا: عزت بڑھنا، وقعت بڑھنا۔

_____ جانا: رتبہ گھٹنا، عزت میں فرق آنا۔

_____ خُدا: (اصناف کے ساتھ) موت؛ خدا کی عجب قدرت۔

_____ حُط: (اصناف کے ساتھ) موت؛ تحریر کا انداز۔

_____ دار: ۱۱) عظمت، ذی رتبہ، عالی شان، بلند، ۱۲) خوش نما

_____ ۱۳) دھوم دھام کا۔

_____ دکھانا / دکھلانا: ۱۱) عظمت دکھانا، قدرت دکھانا۔

_____ ۱۲) انداز دکھانا۔

_____ شوکت: (ع، رعب داب، ۱۲) شاک، افسام۔

_____ عبودیت: (اصناف کے ساتھ) بندگی کی شان، راضی برضائے الہی ہونا۔

_____ گمان: دیکھو سان گمان۔

_____ میں جھٹتے آنا / پڑنا: (اکنایشا) کسی کو کسی چیز

_____ سے ننگ و عار کرنا۔

_____ میں بٹنا آنا: عزت میں فرق آنا، شان گھٹنا۔

_____ نزول: (ع، موت؛ کسی آیت قرآنی کے اُترنے کا موقع۔

_____ شانت: (ع، ٹھہرا ہوا، پرسکون، مطمئن۔

_____ شانتی: (ع، موت؛ چین، سکھ، اطمینان، امن۔

_____ نیکیتن: (ع، موت؛ ۱۱) سکون گاہ، امن گاہ، ۱۲) مغربی بنگال

_____ میں رابندر ناتھ ٹیگور کی قائم کی ہوئی ایک درس گاہ۔

_____ شانہ: (ف، ذکر؛ ۱۱) کٹھنسی، ۱۲) کاٹھا، مونڈھے کی ہڈی، ۱۳) سنا

_____ پر مدھنہ لے کرتے۔ انگرکھے وغیرہ کا حصہ۔

شاہ آفر جانا، شانے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔
 — بزن : فال نکلنے والا۔
 — پتھر کٹنا : کامی سے کام لگانا، دوست کی طاقت کا شکنجہ۔
 شانے سے شانہ چھلنا : (۱) ہم کی دوسرے سے کامی سے کام لگانا
 رگڑنا (۲) دیکھنا، بڑا حیرت منگنا، جمع ہونا۔
 شاور SHOWER : ٹپک، ٹپک، بوجھار، غسل خانہ کا فرارہ۔
 شاہ : مذکر، (۱) آقا، مالک، بادشاہ (۲) فقیروں کا لقب (۳) نوشہ،
 دولہا (۴) بڑا عظیم (۵) دوسروں سے ممتاز (۶) تاش اور کھینچے کا بڑا
 شاہانہ / شہانہ : (۱) سلطانی، بادشاہوں کے موافق، بادشاہوں
 کے مانند، نفیس (۲) چوڑوں کا جوڑا۔
 شاہ باز / شہباز : (۱) مذکر، بڑا باز جس سے بادشاہ شکار
 کرتے تھے۔
 شاہ بالا / شہ بالا : مذکر، برکت میں عمدہ لباس پہنا کر دولہا کے
 پیچھے بٹھا کے جانے والا کس قریبی رشتے دار چھوڑے۔
 — نیت : (۱) موت، قصیدہ یا غزل کا بہترین شعر۔
 — پیر / شہ پیر : مذکر۔ ہندسے کے بازو کا سب سے بڑا پیر۔
 — پسند : موت، ایک قسم کی پکی ہونے والی۔
 — تیرہ / شہ تیرہ : (۱) مذکر، ایک قسم کا دوائی کا سنگ۔
 — تیر / شہ تیر : (۱) مذکر، بڑی بڑی، بڑی موٹی ڈھنکی۔
 — جی / صاحب : بڑے درجے کے ڈریشنوں کا لقب۔
 — چھڑا : لکھنؤ کے ایک مشہور فقیر کا نام۔
 — خاور : (اضافت کے ساتھ) (۱) مذکر، دیکھنا، آفتاب۔
 — ڈرا / شہ ڈرا : مذکر، شاہی جھوکوں، محل یا قلعے کے نیچے کی کبابی۔
 — زاہ : (۱) موت، بڑا راستہ، شارع عام۔
 — زگ / شہ زگ : (۱) موت، رگ جہان۔
 — زادہ / شہ زادہ : مذکر، بادشاہ کا بیٹا، (۲) پیارا بیٹا۔
 — زادی / شہ زادی : موت، بادشاہ کی بیٹی۔
 — عباس کا حکم ٹوٹے : (۱) بددعا، حضرت عباس کے حکم
 کی ندرت سے، تباہ ہو، برباد ہو۔
 — گام / شہ گام : (۱) مذکر، ایک قسم کی گھوڑے کی چال، تیز قدم۔
 — لا چھٹے : (اضافت کے ساتھ) دیکھنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔

شاہ لولاک : (اضافت کے ساتھ) دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 — مُرداں : (اضافت کے ساتھ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب۔
 شاہنشاہ / شہنشاہ : (۱) مذکر، شاہشاہان کا خطاب، بڑا بادشاہ،
 جس کے تحت کئی بادشاہ ہوں۔
 شاہ نشین / شہ نشین : (۱) موت، بادشاہ کے بیٹے کی جگہ،
 (۲) دالان کے اندر کا اونچا دالان۔
 — ڈار / شہ ڈار : (۱) بادشاہوں کے لائق، نہایت عمدہ،
 نفیس چیز، بیش قیمت۔
 شاہی : (۱) (۲) بادشاہی، شاہانہ (۳) بادشاہت، حکومت۔
 شاہد : (۱) گواہ (۲) خوب صورت معشوق، محبوب۔
 — باز : (۱) معشوقوں سے ربط مضطر رکھنے والا۔
 — بازار : (اضافت کے ساتھ) معشوق۔ طوائف۔
 — لم یزنا : (اضافت کے ساتھ) دیکھنا، خدا تعالیٰ۔
 شاہین : (۱) مذکر، ایک شکاری پرندہ (۲) دونوں پہلے ٹککنے
 کی ترازو کی سیدھی ٹکڑی۔
 شاہینہ : (۱) مذکر، آمیزش، آلودگی۔
 شایخ : (۱) فاش، آشکارا (۲) چھاپ کر شہر کیا ہوا۔
 — کرنا / شہ کرنا : (۱) شہار دینا، چھاپ کر شہر کرنا۔
 شایق : (۱) شوق میں لانے والے، اپنا فرض بنانے والا، (۲) دیکھنا،
 معشوقہ (۳) مشتاق، آرزو مند طلب گار، چاہنے والا۔
 شائقین : مذکر، جمع شائق کی۔
 شایاں : (۱) لائق، سزاوار، مناسب، موزوں۔
 شاید : (۱) کس بات کے ہونے نہ ہونے میں شک ظاہر کرنے کا
 لفظ، مگر، غالباً، ممکن کی جگہ۔
 — وہاں : دیکھو، بید و شاہد۔
 شایستگی : (۱) موت، لیاقت، تہذیب، ممانعت، عروت،
 آدمیت، بھل منستی۔
 شایستگی : (۱) لائق، سزاوار (۲) (۳) معقول، تعلیم یافتہ، متین، بہت
 خوش خلق (۴) تربیت یافتہ (۵) سیدھا بوجھار تہذیب۔
 شاہ گال : (۱) صفحہ، بادشاہوں کے لائق چیز، (۲) بے گالگی کے
 حکم سے اجرت کے بغیر کے جانے والا کام (۳) قلعہ کا ایک صوبہ۔

ش-ب

شب: موتی؛ (ف) رات۔

اُسری: (اضافے کے ساتھ) موتی؛ شب معراج۔

افروز: (ف) مذکر؛ (۱۷) رات کا روشن کرنے والا (۱۸) اکناٹیا چاند، چگونہ۔

شبانگاہ: (ف) رات کے وقت۔

شبانہ روز: (ف) مذکر؛ شب و روز، ہر وقت۔

شب باش ہونا: رات کو رہنا۔ شب کو ہم محبت ہونے کے واسطے خدا

شب بخیر: (ف) دکھ دُعا تیرے رات خیر سے گزرے، صبح ارادہ پورا ہو۔

بُرات: (اضافے و بغیر اضافے) (ف) موتی؛ ماہ شعبان کی

پندرہویں رات، مسلمانوں کے عقیدے کے بموجب اس میں رزق

کی تقسیم اور عر کے حساب کا کام کیا جاتا ہے، خوشی کی رات۔

بیدار: رات بھر جاگنے والا، رات کو جاگ کر عبادت

کرنے والا، شہید گزار۔

تاب: (ف) رات کو پچکنے والا، گہرا آبدار۔

تار/تاریک: (اضافے کے ساتھ) (ف) موتی؛ اندھیری رات۔

چرباع: (ف) مذکر؛ ایک قسم کا رات کو چراغ کے مانند چمکنے والا لعل

نوابی؛ موتی؛ رات کو پہن کر سونے کے پڑے۔

خوں: (ف) مذکر؛ رات کا مملہ، چھایہ، رات کے وقت بے خبری

میں دشمن پر حملہ کرنا۔

خیر: (ف) رات کو اٹھنے والا، شب بیدار (۱۷) آہ کی صفت میں

مستعمل ہے یعنی وہ آہ جو رات کو کی جائے۔

دہجُو: (اضافے کے ساتھ) موتی؛ اندھیری رات۔

دیر: (ف) مذکر؛ کالے رنگ کا گھوڑا، مشکلی گھوڑا۔

دنگ: موتی؛ رات بھر دم آگے پر پکا ہوا ایک قسم کا کھانا۔

رنگ: (ف) مذکر؛ مٹی رنگ کا گھوڑا۔

زو: (۱۱) رات کو چلنے والا (۱۲) اکناٹیا، چور (۱۳) کو توال۔

زُفاف: (اضافے کے ساتھ) (ف) موتی؛ تخت کی رات۔

دو لہا دہن کی پہلی رات۔

زُندہ دار: رات بھر جاگنے والا۔

شہادت: (اضافے کے ساتھ) محرم کی نویں رات، حضرت

امام حسین کی شہادت کی رات۔

شب ظلمات: (اضافے کے ساتھ) (ف) موتی؛ بہت تاریک رات۔

قَدْر: (اضافے کے ساتھ) (ف) موتی؛ مسلمانوں کے عقائد

کے مطابق ایک نہایت متبرک رات، ماہ رمضان کی ستائیسویں

شب۔

کُور: (ف) مذکر؛ رات کو نظر سے نہ دیکھ سکنے والا شخص۔

کُوری: (ف) موتی؛ رات کو نہ دکھائی دینے والی سیاری، تونیا۔

گزیدہ: رات میں تکلیف گزارنے والا، جس کی رات تکلیف میں

گواں: (ف) کالا سیاہ۔

گواں: (ف) کالا سیاہ۔

ماہ / ماہتاب / مہتاب: (اضافے کے ساتھ) موتی، چاندنی رات۔

مُحْرَج: (اضافے کے ساتھ) معراج کی رات ۲۶ و ۲۷

ماہِ رجب کی درمیانی رات۔

میکدَا: (اضافے کے ساتھ) (ف) موتی؛ اندھیری رات جو کانے نہ کٹے۔

شہیندہ: (ف) مذکر؛ (۱۱) رات کا باسی (۱۲) حافظ کا رمضان کی کسی ایک

رات میں پورا قرآن شریف تراویح میں ختم کرنا۔

شَبَاب: (ع) مذکر؛ (۱۱) جوانی (۱۲) عروج کا زمانہ، ترقی کا زمانہ۔

شَبَان: (ف) مذکر؛ چرواہا، گڈریا۔

شَبَاہت: موتی؛ (۱۱) مشابہت صورت یا سیرت کی مطابقت،

(۱۲) رونق، لُط۔

شہید: (۱۵) مذکر؛ لفظ۔

شہیر: (۱۱) حضرت ہارون کے بٹے صاحبزادے کا نام (۱۲) پیغمبر خدا

کے بٹے نواسے حضرت امام حسنؑ کا لقب۔

شہنم: (ف) موتی؛ (۱۱) اوس (۱۲) ایک قسم کا سفید ادنیٰ نہایت باریک کپڑا۔

کاروٹا: اکناٹیا، شہنم گنا۔

شہری: موتی؛ (۱۱) اوس سے بچنے کے واسطے مسہری یا پلنگ یرتان

دیا جانے والا کپڑا، (۱۲) مسہری۔

شہو: رات کو خوش بو دینے والا پھول۔

شہبہ: (ع) مذکر؛ مثل، مانند، تصویر، ڈھانچہ۔

شہبہ: (ع) پوشیدہ، مشتبہ۔

شہبہات: مذکر؛ جمع شہری، شک، گمان، احتمال، دھوکا۔

شہید کرنا، بدگمانی کرنا، شک کرنا۔

شہیر : (۱۱) سعزت ماروں کے چھوٹے صاحبزادے کا نام۔ (۱۲)

حضرت امام حسینؑ کا لقب۔

شہیدہ : (۱۳) موٹھ؛ (۱۴) مشابہ، مثال، ہم شکل (۱۵) تصویر (۱۶) شہادت۔

ش-پ-ت-ط

شپ : (۱) موٹھ، بھی مارنے کی آواز، تلوار مارنے کی آواز۔

شپ / شپاشاپ : (۱) جلد جلد، چپ چپ (۲) متواتر

چلانے کی آواز، متواتر تلوار چلانے کی آواز۔

شپاشپ : (۱) موٹھ؛ (۲) پیکان تیر کی تیرم آواز (۳) جلد جلد کوئی

کام کرنا، (۴) چڑچڑ چاٹنے کی آواز، پانی کے چھکے یا پانی

میں گھسنے کی آواز (۵) بے دہے جسمی یا بید یا تلوار مارنے کی

آواز، کسی ٹپک دار چیز کے تھم مارنے کی آواز۔

شپ : SHIP (۱) موٹھ؛ جہاز، کشتی، دھاتی جہاز۔

شپاشپ : مذکر، شپس۔

شپشہ / شپشہ : (۱) مذکر، چمگاڑ۔

شپتاب : (۱) جلد، جھٹ پٹ، بلا توقف۔

شپتاباں : (۱) تیزی کرنا، جلد باز، دوڑنے والا۔

شپتابلی : موٹھ (۱) جلدی، تیزی (۲) اضطراب، گھبراہٹ۔

شپتابا : مذکر، ہدف (بارود) جلانے کا قیضہ۔

شپتابدی : (۱) موٹھ؛ ایک سو سال، صدی۔

شپتابہ : (۱) موٹھ، بد وضع عورت۔

شپتابھی : موٹھ؛ بے حیائی، شوخی۔

شپشہ : (۱) مذکر، اونٹ۔

شپشہ بان : (۱) مذکر، اونٹ ہانکے والا، اونٹ والا۔

بے شہار : (۱) انصاف کے ساتھ (۲) بے نکمیل کا اونٹ،

(۳) کرباشا، آزاد، ٹڈر، (۴) اقلہ۔

عزہ : (۱) مذکر، (۲) کر، فریب، چالاک، شرارت، (۳)

اکٹایا، نانہ بے جا، خزا۔

عزے اٹھانا : ناز بے جا برداشت کرنا۔

کپنہ : (۱) مذکر، (۲) پھسہ کپنہ اور کپٹے رکھنے والا شخص

(۳) ولی عداوت، ولی دشمنی۔

شتر گاؤ : (۱) مذکر، ایک چوپائے کا نام۔

گرہہ : (۱) مذکر، (۲) دونوں اوقاف چیزیں، بے نکمیل، (۳)

شعراء کی ایک اصطلاح۔

مُرخ : (۱) مذکر، اونٹ سے مشابہ ایک ہند کا نام۔

نال : موٹھ؛ اونٹ کی ہڈی پر لادی جانے والی ایک قسم کی

چھوٹی توپ۔

شتر فو : (۱) دشمن۔

شترم : (۱) مذکر، گالی دینا، گالی۔

شٹ اپ : SHUT UP (۱) بس ٹپ رہو، خاموش ہو جاؤ

شٹر : SHUTTER (۱) مذکر؛ (۲) فولادی چادر کا فولڈنگ

دروازے۔

شٹل کاک : SHUTTLE COCK (۱) مذکر، بیدستی

کھیلنے کا پر دار ٹیڈ۔

ش-ج

شجاع / شجاع / شجاع : (۱) دلیر، بہادر، بھری۔

شجاعیت / شجاعت : (۱) موٹھ؛ بہادری، دلیری۔

شجر : (۱) مذکر، درخت، جس میں تہ ہو۔

طور / کلیم : (۱) (اصناف کے ساتھ) کاوی ایروں

کوہ طور کے پاس کا وہ درخت جس پر حضرت موسیٰؑ کو حجت

ہوتی تھی۔

کاری : (۱) موٹھ؛ (۲) بڑی تعداد میں درخت اگانا۔

اکا درخت اگانے کا کام۔

شجرہ / شجرہ : (۱) مذکر؛ (۲) نسبت نامہ (۳) مشاعرے کی طرف سے

اپنے پیروں کے نام اور سلسلہ لکھ کر مرتبہ کو دیا جانے والا کاغذ۔

ش-ح

شحم : (۱) موٹھ، چربی۔

شحمہ / شحمہ : (۱) مذکر؛ (۲) خانقاہ شہرہ کو توہاں (۳) چمکیدہ

چشم (۱) موٹھ

شسر: مذکر، مونث؛ بدی، شرارت، بُرائی، جھگڑا، فساد، خرابی۔
 انگلیز، اف، شریر، مُفسد، شرارتی۔

شسری: جھگڑالو، فسادی، بُد۔
شسراب: (ع) مونث؛ نشہ پیدا کرنے والا عرق، مے، ڈاڑو۔
 چلنا، کسی جگہ میں چند آدمیوں کا بیٹھ کر کچھ عرصے تک شراب
 پینا، (۱) شراب کا پیالہ ایک کے پاس سے دوسرے تک اور
 دوسرے کے پاس سے تیسرے تک جانا۔

خانہ: (ف) مذکر، (م) شراب پینے اور بچنے پر قانونی پابندی۔
بندوبستی: مونث؛ شراب پینے اور بچنے پر قانونی پابندی۔
خوار: (ف) مذکر؛ بے خوار، بادہ نوش۔

خوار: ہمیشہ خوار (مثل) شراب خوار ہمیشہ مغلس و تباہ رہتا ہے
 اور ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

دو آتش: (ع) اضافت کے ساتھ، دو تیر لٹیکہ کی ہوتی تیرا تیرا
شیراز: (ع) اضافت کے ساتھ، شیراز کی ہی ہوتی ایک قسم کی
 انگوری شراب۔

ظہور / شرابا ظہورا: (ع) اضافت کے ساتھ، مونث؛ بہشت
 کی پاک و صاف شراب۔

مقطر: (ع) اضافت کے ساتھ، پیکانی ہوتی تیرا شراب۔
شسرائی: شراب پینے والا۔

شسرائور: تیرا تیرا، بہت بھگا۔
شسرائا: مذکر، (۱) زنانہ، ہوا کا سا، زور سے مینہ برسنے کا ہلکا
 (۲) خون یا پانی کی دھار زور سے نکلنا۔

شرار: (ع)؛ جمع شرارہ کی، مذکر؛ آگ کی چنگاری۔
شرارت: (ع) مونث؛ (۱) بدی، ایذا رسانا، بُرائی، خرابی، بدبختی،
 (۲) شوخی، بے باکی، بدزبانی۔

شرارہ: (ع) مذکر؛ آگ کا بچنگا، چنگاری۔
شیر: شرارے پیدا کرنے والا۔
شرافت: (ع) حوش، بھل، مُسبی، بزرگی، اصالت۔
شرارکت: مونث؛ ساجھا، جیسے داری۔

شرائط: (ع) مذکر؛ مونث؛ شرطیں، قیدیں۔
شرائع: (ع) جمع شریعت کی، بھنونا، مذکر، دہلی مونث۔

ش ش

شخص: (ع) مذکر، (۱) آدمی، بشر، (۲) فرد۔
شامٹ: (ع) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ دھڑکنوں میں فہرہ کرنے والا، ہنکا۔
شخصی: (ع) کسی آدمی سے متعلق، ذاتی۔
شخصیت: مونث؛ (۱) انسانیت، آدمیت، (۲) شرافت، اصالت،
 (۳) عزت، حرمت۔

بگھارنا / جتاننا: شینی مارنا، ڈینگ مارنا، اترانا۔

ش - د - ذ

شد: (ع) مونث؛ کسی کام کی ابتدا، آغاز۔
شدا: (ع) (۱) مذکر، (۲) غلم، نشان، (۳) وہ غلم جو تعزیوں
 کے ساتھ ہوتے ہیں۔

شداد: خدائی کا دعا کرنے والا قوم عاد کا ایک بادشاہ۔
شدابد: (ع) مذکر؛ تکلیفیں، بھگتیاں۔
شدبند: مونث؛ پڑھے لکھے کا تھوڑا سا ملکہ۔

شدت: مونث؛ (۱) سختی، تکلیف، تعلق، زبردستی، جبر، (۲) زور،
 قوت، (۳) زیادتی، کثرت، ترقی، غلبہ، (۴) تیزی، جوش۔
شدنا: غلم کرنا، زبردستی کرنا، کسی بات میں سختی کرنا۔

شدنی: (ع) مونث؛ ہونے والی بات۔
شدنی امر: ہونے والی بات، اتفاقیات۔
شدوند: (ع) مونث؛ (۱) شان و شوکت، تکلف، دھم دھما
 (۲) شدت، زور۔

شدہ شدہ: رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھبہ دھبہ ہوتے ہوتے۔
شدبند: (ع) (۱) سخت، مشکل، کٹھن، (۲) بہت زور کا، بہت زیادہ
شدہ: (۱) صاف، پاک، درست، خالص۔

شدھی: (ع) مونث؛ صفائی، پاکیزگی، خالصیت۔
شدزہ: (ع) مذکر؛ (جمع شدرات) (۱) برآگہ، شتر، بھری ہوئی چیز۔
 (۲) اخباریں ایڈیٹر کا کسی واقعہ پر مختصر تبصرہ۔

ش ر

شرابیں، (۱۷) ایک شریک کی موت، تمام جسم میں خون بہنا نہ ملے گی
 شرب، (۱۸) مذکر، پینا۔
 شرب الیہود، (۱۹) کثافت، چمپ کر شرب پینا۔
 شربیت، (۲۰) مذکر، (۲۱) شکر، مصری، یا نقد میں لگا ہوا عرق (۲۲) شکر
 مٹھلا ہوا پانی۔
 آثارین، (۲۳) اصناف کے ساتھ، مذکر؛ آثارش اور شرین کا شربت۔
 طائنا، (۲۴) نکاح سے پیشتر یا بعد برائوں کو شربت طائنا (۲۵) (۲۶)
 بات شہرہ نامہ، سگائی کرنا، نسبت کرنا۔
 پلائی، موت، ساچی یا برات کے روز دو لحاظ والوں کا شربت
 پنی کرتالی میں ڈالی ہوتی نقدی۔
 دیدار، (۲۷) اصناف کے ساتھ، دیدار کا شربت سے استعارہ۔
 دینار، (۲۸) اصناف کے ساتھ، مذکر؛ ایک قسم کا مرکب شربت۔
 کے پیالے پر لکھ کر بڑھا دینا / کو پینا
 بہت سادگی سے شادی کر دینا۔
 کے سے گھونٹ پینا، بلا کسی ٹروی چیز کو مزے لے کر پینا۔
 (۲۹) کینٹا، کسی نئے بات کو خوشی سے برداشت کرنا۔
 مرگ، (۳۰) اصناف کے ساتھ، (۳۱) کینٹا، موت۔
 شربتی، (۳۲) مذکر؛ (۳۳) زرد آلو، (۳۴) ایک قسم کا شربت کے
 رنگ سے مشابہ رنگ، (۳۵) حقیقی، (۳۶) ایک قسم کا گیند۔
 (۳۷) میٹھا نیبو، (۳۸) بڑا فالسہ، شکر کی فالسہ، (۳۹) سیلا، (۴۰) سیلا، (۴۱)
 (۴۲) موت، ایک نہایت باریک اور نفیس کپڑا۔
 شرٹ (shirt) (۴۳) مؤنث، حقیقی، کرتا۔
 شرح، (۴۴) مؤنث، (۴۵) بیان، اظہار، کھل کر کہنا، (۴۶) تفسیر، تشریح،
 (۴۷) نرنغ، در قیمت، عمل، بھاد۔
 شرر، (۴۸) مذکر، آگ کی چنگاری۔
 ہار / فشاں، چنگاریاں برسانے والا، شرر ازلہ والا۔
 شرط، (۴۹) مؤنث، (۵۰) قول و قرار، وہ چیز جس پر کچھ منحصر ہو،
 (۵۱) بازی، (۵۲) قاعدہ۔
 باندھ کے سونا / بند کے سونا، بہت سنا۔
 شرطی، (۵۳) مذکر کے، شرط، کسی شرط پر، (۵۴) ہی ضروری ہے شک۔
 شرطیہ، (۵۵) مذکر، ایک اصطلاح منطقی، (۵۶) از روئے شرط بمنزور۔

شرع، (۱) مؤنث، آئین مذہب، قانون محمدی۔
 پرچلتا، (۲) دین اسلام اور اس کے قانون پر عمل ہونا۔
 حنفی، مؤنث؛ قانون شربت۔
 توبے والی، (۳) طنزاً، (۴) پابند شربت عورت۔
 میں رختہ ڈالنا / نکالنا، مذہب میں کوئی نئی بات
 داخل کر کے غلط امداد ہونا، مذہبی امور میں بھڑکا نکالنا۔
 میں شرم کیا، (۵) مثل، مذہبی بات صاف کہہ دینے میں کچھ لگلا
 نہیں کرنا چاہئے۔
 شرعاً، (۶) از روئے شرع، قانون اسلام کے موافق۔
 و عرفاً، (۷) قاعدے قانون اور رواج کی رو سے۔
 شرعی، (۸) شرع کے مطابق، قانون اسلام کے موافق، (۹) شرع پر چلنے والا۔
 پیجامہ، مذکر؛ ٹخنوں نے اونچا پیجامہ۔
 شرف، (۱۰) مذکر؛ (۱۱) بزرگی، ترویج، فوقیت، خوبی، بھلائی، (۱۲) کسی
 تیارے کا اپنے اصلی بروج میں آنا، (۱۳) عزت، اہتمام۔
 شرفاً، (۱۴) مذکر؛ جمع شرفین کی؛ شائستہ اور مہذب لوگ، اہمگی اور
 نسل رکھنے والے، نیک نژاد۔
 شریقی، (۱۵) مذکر؛ سورج نکلنے کی جگہ، مشرق، یورپ۔
 شریک، (۱۶) مذکر، خدائی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔
 جلی، (۱۷) اصناف کے ساتھ، مذکر، شرک ظاہری اور صریح۔
 غشی، (۱۸) اصناف کے ساتھ، مذکر؛ پوشیدہ شرک۔
 شرک کا، (۱۹) مذکر؛ جمع شریک کی، شرک ہونے والا۔
 شریکت، مؤنث؛ (۲۰) شامل ہونا، سا بھا، ہم راہی۔
 شرم، (۲۱) مؤنث، (۲۲) حیا، عزت، ندامت، (۲۳) عزت، حرمت، لحاظ
 (۲۴) خیال لحاظ، پاس۔
 آلود، (۲۵) شرم گین، شرمندہ۔
 شرما شرمی، (۲۶) شرم و لحاظ کے دباؤ میں، مروت کے باعث، حجاب
 کے باعث، (۲۷) حجاب شرم و لحاظ۔
 شرمانا، شرمندہ ہونا، نام نہاد ہونا۔
 شرما صورتی، مؤنث؛ سامنے کا لحاظ و آنکھ کی شرم منہ دیکھے
 کی مروت۔
 شرم سار، (۲۸) شرمندہ۔

شرم سے پانی پانی ہونا : شرمندگی سے پیسے پیسے ہونا، نہایت شرمندہ ہونا۔

سے ڈوب مرنا : غیرت کے مارے پانی میں ڈوب کر جان لینا ہے حد شرمندہ ہونا۔

سے گزر جانا : نہایت شرمندہ ہونا، ایسی شرم آنے کہ زمین میں دن ہونے اور منہ چھپانے کو بھی چاہنا۔

سے منہ نہ دکھانا : مارے غیرت کے روپوش ہونا۔

گاہ : (ف) موت، شرم سے چھپاتے رکھنے والے مخصوص عضو، اندام نہانی۔

گہیں رنک : (ف) غل، شرمندہ۔

شرمندگی : موت، شرمندہ ہونا، ندامت، غیرت۔

شرمندہ : (ف) ۱ تا ۳ مجنون، احسان مند۔

شرمنلا : ذکر : شرم کرنے والا، حیا دار۔

شرنا تہی : (ع) مہاجر، پناہ گزین۔

شروا : (ع) ذکر، شورا۔

شورور : (ع) اے شرم، برجائیاں۔

شروط : (ع) جمع شرط کی، عہد، پیمان، قرار۔

شروع : (ع) ذکر، آغاز، ابتدا، آٹھان۔

کرتا : (ع) آغاز کرنا، بنیاد ڈالنا، نیرکھنا، بنام رکھنا۔

سے آخر تک : ابتداء سے انتہا تک۔

شرائیاں : (ع) موت، رُک جہدہ جس میں اور چھوٹی رگوں کی نسبت خون زیادہ ہوتا ہے۔

شریکہ : (ع) بد ذات، عیب دار، شوخ، بے باک۔

شریکہ : (ع) ۱۵۱، ذکر، جسم، تن، بدن۔

شریعت : (ع) موت، دینی قانون، اسلامی قانون۔

شریف : (ع) صفت، ۱۱۱، بڑے تہے کا، عالی خاندان، اونچے گھرانے کا، ۱۱، ہلا س، بزرگ، ۱۲، پاک، مقدس، تعظیم کا کلمہ۔

زادہ : ذکر، شریف کا بیٹا۔

شریفقا : ذکر، ایک شریفی پھل کا نام، سستا پھل۔

شریفک : (ع) ۱۱، شال، طاہر، طہی ۱۲، ساتھی، مددگار، رفیق، ۱۳، ہم سر، برابر کا، حال، (اضافہ کا ساتھ) دگر دو میں ساتھ بیٹے والا۔

ش س

شست : (ف) ۱، پھل کپڑے کا کاشا، ۲، مضرب، ۳، ہدف، نشانہ، سیدہ، ۴، درزی اور تہر اندازوں کے انگلی میں پھیننے کا پڑھ۔

شاندھنا / لگانا : سیدہ باندھنا، نشانہ درست کرنا۔

ششکلی : (ف) موت، ۱۱، الفاظ کی سلاست، ۱۲، صفائی۔

شست و شو : (ف) موت، نہانا، دھونا، دھوکر صاف کرنا۔

شستہ : (ف) دھویا ہوا، پاک صاف، اٹھا ہوا، صیتل کیا ہوا۔

ورقتہ : (ف) سبھی ہوتی، پاک صاف تقریر یا گفتگو۔

ش ش

شش : (ف) ۶۔ ہے۔

چہت : (ف) موت، ۱۱، پورب، پھم، اتر، دکن، اوپر، نیچے۔

کھٹا : (ع) تمام عالم، اطراف عالم، شش سوز، شش طرف۔

ڈانگ : تمام، کل چیز، تمام دنیا۔

روز : (ف) ذکر، دنیا کی پیدائش کے چھ دن۔

ششاعید کے روزے : ذکر : ہے روزے، عید رمضان کے بعد کے روزے۔

ششتم : (ف) چھٹا چھٹے، چھٹی چیز۔

شش ماہی : موت، نصف سال۔

و توج : ذکر، اُدھیر، فکر و اندیشہ، گھبراہٹ، تاگی، حیران۔

میں پڑنا : اُدھیر، میں مبتلا ہونا، فکر میں پڑنا۔

ششہ ز : (ف) حیران، پریشان، عاجز، نمشہر۔

ششکار / ششکاری : موت : شش کہ کہہ کے کتے کو کسی شکار پر دوڑانا۔

ش ط

شطاح : (ع) ذکر، شریعت کے خلاف کلمات زبان پر لانا، واصلان

اپنی کا بے انتہاری کی حالت میں کوئی خلاف شرع کلمہ زبان پر لانا۔

(جیسے منصور کا اٹالی کہنا)

شعلہ آواز: (اضافت کے ساتھ) ان، مذکر، اکیثا، پرسوز، دہلی میں اشرک کرنے والی آواز۔

آہ: (اضافت کے ساتھ) ان، مذکر، آہ کی گرمی، آہ۔

افشاں / فشاں / ہار: ان، شعلہ برسانے والی۔

تباہ: (اضافت کے ساتھ) مذکر، انگور کی شراب۔

جوالہ: (اضافت کے ساتھ) ان، مذکر، ۱۱ گرداگرد پھرنے

والا شعلہ، ۱۲ جلتی ہوئی کپڑی کا پکڑ، ۱۳ معشوق۔

خو: ان، تیز مزاج، غضب ناک، بد مزاج معشوق۔

رُخ: ان، اکیثا، معشوق۔

رُخسار / رُو / عذار: ان، اکیثا، حسین معشوق۔

رُزا: ان، شعلہ دینے والا۔

رُبان: ان، تیز زبان۔

رُزن: ان، شعلہ نکالنے والے چیز، وہ چیز جس سے شعلہ نکلیں۔

شکوٰۃ: (اع، مذکر، ۱۱ دانائی، ۱۲ سلیقہ، واقفیت، پہچان، تیز۔

آنا، سلیقہ آنا۔

دار، تیز دار، ہنرمند۔

شعیب: (اع، مذکر، ایک مشہور پیغمبر، حضرت موسیٰ کے خسر۔

ش ع

شغال: (ان، مذکر، گیدڑ۔

شغب: (اع، مذکر، شور وغل۔

شغف: (اع، مذکر، بہت محبت، بے انتہا محبت، بے حد دلچسپی۔

شغل: (اع، مذکر، ۱۱ کام، دھندا، ۱۲ پیشہ، مشغلہ، ۱۳ خدا کا

دھیان، ۱۴ تفریح، طبع۔

کڑنا: ۱۱ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کرنا، ۱۲ اکیثا، کھانے

پینے، محنت نوش کرنے کے لیے مستعمل ہے۔

ش ف

شفا / شفا: (اع، مؤنث، صحت، شفا، درستی۔

پانا، بیماری سے صحت حاصل کرنا۔

شاہ: مذکر، اسپتال۔

شطرنج: مؤنث، ایک کھیل کا نام۔
شطرنجی: ان، ۱۱ شطرنج باز، ۱۲ ایک قسم کا دبیز سوتی فرش۔

ش ح

شکار: (اع، مذکر، کور، طریقہ، چال۔

شعاع: (اع، مؤنث، کرن، چاند، سورج، تلوار وغیرہ کسی روشن چیز

کی چمک کا عکس۔

شعائر: (اع، مذکر، قربانیاں اور عبادت جیسے شعائر۔

شعب: (اع، مذکر، بڑا قبیلہ، جمع شعب۔

شعبان: (اع، مذکر، مسلمانوں کا آٹھواں قمری مہینہ۔

شعبہ: مذکر، گردن چالاک سے جادو کا کھیل، نظم بندی

دھوکا، فریب۔

باز: (ان، مذکر، تعجب، انگیز کتب دکھانے والا بازی گر،

بھانکتا، جلاک، دھوکے باز۔

شعبہ: (اع، مذکر، شکر، جھٹ، شام۔

شعر: (اع، مذکر، نظم، بیت۔

شمر: (اضافت کے ساتھ) پُر لطف، با مزہ شعر۔

شک: (اضافت کے ساتھ) ان، مذکر، بے خوبی کا، بے مزہ شعر۔

شہل جانا: شکر کا بے ساختگی کے ساتھ موزوں ہو جانا۔

شہی عالم ہالما معلوم شد: ان، اظہار، سخن فہمی کا

حال معلوم ہو گیا۔

گو: (ان، شعر کہنے والا، شاعر۔

گڑنا، کسی شاعر کے شعر کا مضمون دوسرے شاعر کے

مضمون کے مطابق ہونا۔

دستین: مذکر، شاعری کا مذاق، شاعری۔

شعرا، (اع، مذکر، جمع شاعری، شعر کہنے والے۔

شعریات: مؤنث، شاعری سے متعلق علم، علم شعر۔

شعریت: مؤنث، شعری خاصیت، شعر کا حسن، شعر کی روح،

رعنائی، دل کشی، جاذبیت۔

شعریہ: (اع، مذکر، چمک، آفتاب کی روشنی۔

شعلہ: (اع، مذکر، روشنی، آگ کی لپٹ، لو، آگ۔

شَفَاعَتٌ : (ع) موتش، سفارش، گناہوں کی معافی کی سفارش۔
شَقَافٌ : (ع) نہایت صاف جس میں آریا نظر آئے۔
شَقَانِي : (ع) موتش، کھلا ہوا، آریا نظر آنے والا، عیاں۔
شَقَقْنَا لَوْ : (ف) مذکر؛ ایک قسم کا بڑا آڑو، (پھل)
شَقَقْتُ : (ع) موتش؛ بے ہودہ، نالائق، بدکار عورت۔

شِفْطٌ SHIFT (ایک) موتش؛ ۱۱ باری، مزدوروں کی بدل چوکی، باری باری سے بدلنا، ۲۱) تبدیل، تبادلہ، بدلنا۔

شَفْعَةٌ : (ع) مذکر؛ گھریا زمین کا ہم ساگی سے حاصل ہونے والا حق۔
شَفْقٌ : (ع) موتش، عزوب آفتاب کے بعد ظاہر ہونے والی سرخی، پھولنا / کھلنا : شفق کا نمودار ہونا۔

_____ کا ٹکڑا : (کنایتاً) نہایت حسین۔

شَفْقِي : سرخ رنگ والا، شفق کے رنگ والا۔

شَفَقْتُ : (ع) موتش؛ مہربان، غم خواری، رحم۔

_____ کرنا؛ مہربانی کرنا۔

شَفِيعٌ : (ع) مذکر؛ ۱۱ دوسرے کی شفاعت چاہنے والا، شفاعت کرنے والا (۲) شفعہ کا حق رکھنے والا۔

_____ الْأُمَمُ : (شَفِيعُ الْأُمَمِ) (ع) مذکر؛ اُمت کی شفاعت کرنے والا، پیغمبر اسلام کا لقب۔

_____ مُشْفِرٌ : اضافت کے ساتھ، ۱۱ حشر میں شفاعت کرنے والا (۲) کنایتاً، شَفِيعًا : ایک خاص قسم کا خط۔

شَفِيقٌ : (ع) مہربان، غم خوار، پیارا، ہم درد۔

ش ق

شَقٌ : (ع) پٹنا ہوا، شگاف پڑا ہوا۔

_____ الْقَمْرُ : (ع) اشقل قمر، مذکر؛ چاند کا شق ہو جانا، رسول اللہ کا ایک معجزہ۔

شَقٌّ : (ع) موتش، آدھا، ٹکڑا، حصہ (۲) طرف، جانب۔ (۳) قسم، صنف۔

_____ زکالان : شبہ کرنا، جھگڑا لگانا۔

_____ زکالنا : جھگڑا لگانا، کسی بات کی شاخ لگانا۔

شَقَاوَاتٌ : (ع) سنگِ دلی، تسی اقلبی، بدبختی۔

شَقِيقَةٌ : مذکر؛ ۱۱ فرمان شاہی (۲) پھریرا۔
شَقِيقِي : (ع) سنگِ دل، بدبخت، بد نصیب۔
شَقِيقَةٌ : (ع) آدھے سر کا درد۔

ش ك

شَكٌّ : (ع) مذکر؛ شبہ، گمان۔

_____ آنا، شبہ پڑنا۔

_____ رَفَعُ كَرْنَا / زَكَا لَنَا / مَثَانَا : شبہ دور کرنا۔

شَكِي : ڈالواں ڈول، شبہ کرنے والا۔

شَكَارٌ : مذکر؛ ۱۱ جنگلی جانوروں کو مارنا، (۲) مارا ہوا جانور، (۳) شکار کیا جانے والا جانور (۴) اجازت، مطیع، مغلوب (۵) سونے کی چڑیا، ۱۱ مفت کا مال، (۶) (کنایتاً) وکیلوں کا متوکل۔

_____ بَنَدٌ : مذکر؛ شکار کا سامان، لشکانے والا تسمہ۔

_____ كَرْنَا : کسی جانور یا حیوان کا شکار کرنے کے طریقے سے پکڑنا یا مارنا، (۲) کنایتاً، قابو میں لانا، پسندے میں پھنسانا، (۳) کنایتاً، فریفتہ کرنا، مطیع کرنا، مغلوب کرنا، (۴) قریب سے ٹوٹنا۔

_____ كَهَيْلَانَا : جانوروں کو مارنا، جانوروں کو پکڑنا۔

_____ كِي شَقِي : ۱۱ شکاری کے ساتھ رہنے والی چھوٹی سی ٹیٹی (۲) دوگلا قریب کے وقت گیتا ہرگا اسی : (مثل)، کام کے وقت جلد بہاڑ کرنے

_____ والا۔ عین وقت پر تل جانے والا۔

_____ كَاهٌ : (ف) موتش؛ شکار کھیلنے کا مقام، رَمْنَا۔

_____ مَا تَهْدَانَا / لَغْنَا : ۱۱ شکار کا جانور ہاتھ آنا، (۲) سبب، (۳) کوئی شخص ہاتھ آنا، مفت دستیاب ہونا۔

_____ ہونا : ۱۱ کسی جانور کا مارا جانا، یا شکار میں پکڑا جانا، (۲) جاں میں پھنسا، قابو میں آنا (۳) عاشق ہونا۔ مفتوں ہونا۔

شَكَارِي : (ف) مذکر؛ ۱۱ شکار کرنے والا، صیاد، (۲) شکار سے نسبت رکھنے والا، شکار کا کام دینے والا (۳) شکار کیا ہوا جانور۔

_____ جانور : مذکر؛ شکار کرنے والا جانور۔

شَكَارَا : مذکر؛ ایک قسم کی چھوٹی شق (عموماً کشر کی جھیلوں میں استعمال ہوتی ہے۔

- شکایت : ۱۷، موتھ، ۱۸، گر، شلوہ، ۱۹، ڈکھ، مرض، تکلیف،
۱۸، برائی ہدی، ڈکھڑا، غیبت۔
- میرے سر پر / سر آنکھوں پر، شائستہ طریقہ پر
شکایت تسلیم کرنا۔
- ہوتا : ۱۹، گدھ ہونا، ۱۸، برائی بیان کی جانا، ۱۷، کسی مرض کا لاحق ہونا۔
- شکستی : ۱۵، موتھ، طاقت، اہلیت۔
- شکر / شکر : ۱۷، موتھ، جین، کھاٹھ، بڑا۔
- پارہ : مذکر، ایک قسم کی مٹھالی۔
- قری، موتھ، سفید شکر۔
- خفہ / خفہ : ۱۷، مذکر، مسکرانا، تبسم۔
- خودرا : مذکر، ۱۸، ایک پسند کا نام، ۱۷، اکائیٹام، نعمت کا نگر
ترمال کھانے والا۔
- خورے کو خدا شکر دیتا ہے، اشل، خدا ہر شخص کو اس کے
تویص کے مطابق دیتا ہے۔
- خورے کو شکر، موڈی کو شکر، اشل، اچھے کو نیک تبہ
اور بُرے کو سزا دیتی ہے۔
- زخمی، موتھ، غیبت، زخم، اہلی بڑی۔
- پرنہ، ۱۷، فیص، شیریں کلام، خوش طبع آدمی۔
- سفید، ۱۷، موتھ، شکر تری۔
- سے منہ بھرنا، کسی خوش خبری کے شکر سے میں مٹھالی کھلانا،
شیریں کھلانا، مزہ میٹھا کرانا۔
- شکر، ۱۷، شیریں سنن۔
- فروش، ۱۷، اکائیٹام، شیریں سنن۔
- خند / کند : موتھ، زمین کے اندر پیدا ہونے والی ایک
قسم کی بیسی ترکاری کی بیج۔
- کب : ۱۸، شیریں بیان، ۱۸، اکائیٹام، معشوق۔
- شکر نیات : (شکر یا ت، ۱۷، موتھ، خدا میں شکر کی مختلف قسمیں۔
- شکر : ۱۷، مذکر، شکر یہ ادا کرنا، ۱۷، احسان ماننا۔
- شکرانہ، ۱۷، کسی شخص کے احسان کا ذکر کرنا، شکر یہ۔
- ادا کرنا، شکر گزاری کرنا۔
- شکوہ رہ جانا، نیکی اور بڑی کی یادگار باقی رہ جانا۔
- شکر ضد شکر : شکر کی تاکید، بہت بہت شکر یہ۔
- شکر، لغت : (اضافے کے ساتھ، مذکر، مہربانی اور عنایت کا شکر۔
- شکر یہ : مذکر، کسی کے احسان کا تعریف کے ساتھ اظہار۔
- شکرانہ، مذکر، شکر اور گمی ڈالا ہوا شکر۔
- شکر م، (انگ، موتھ، ایک قسم کی چارہ بیٹوں کی گاڑی۔
- شکرہ، ۱۷، ان، مذکر، بازی قسم کا ایک شکاری پسند۔
- پالنا : (جاری، بار اپنے سر لینا۔
- شکر پری، (ان، موتھ، ایک قسم کا نہایت شیریں اور بڑا نالا۔
- شکر گشت : (ان، موتھ، ۱۷، ٹوٹ پھوٹ، شکر گشتی، ۱۷، ہر قیمت۔
- توبہ : (اضافے کے ساتھ، توبہ توڑنا، توبہ توڑنا۔
- ریخت / ریخت : (اضافے کے ساتھ، موتھ، ٹوٹ پھوٹ، نقصان، چھانہ
فابش : (اضافے کے ساتھ، موتھ، بے شبہ، کھلی ہوئی
شکست، بھاری شکست۔
- شکر گشتی : (ان، موتھ، ٹوٹ پھوٹ، شکست۔
- وریخت : (ان، موتھ، ٹوٹ پھوٹ، ٹری پڑی پالنا۔
- شکستہ : (ان، موتھ، ۱۷، ٹوٹنا ہوا، کسی قدر ہار یک ہوا، گرا ہوا، ۱۷)
بے رونق، غراب، ۱۷، بے قاعدہ گھسیٹ کر لکھا جانے والا خط۔
- پال / بازو : (ان، بے قوت، بے کس۔
- پا : (ان، پھلے معذور، بے بس۔
- حال : (ان، محتاج، بے چارہ، پریشان،
- حالی : موتھ، خستہ حالی، پریشانی، محتاجی۔
- خاطر / دل : (ان، عم کہن، رنجیدہ۔
- شکر گشتی : (ان، موتھ، ۱۸، صورت چہرہ، بیس، ۱۸، مانند، مشابہ، مثل۔
- ۱۷، وضع، رنگ، ڈھنگ، ۱۷، انداز، ۱۷، طور، طریق، ۱۷، نوع، قسم،
- ۱۷، نقشہ، ڈھانچہ، ۱۷، ہیکل، موت، ۱۷، موقع، تہذیب، ۱۷،
- گنت، ۱۷، بناوٹ، ۱۷، اقلیدس کے نقش۔
- پگلاڑنا، ۱۷، صورت پگلاڑنا، چہرے کو بھر روپ کرنا، ۱۷، کینٹا
باریٹ کر بد صورت کر دینا۔
- بنانا، ۱۷، خاکہ کینٹا، نقشہ بنانا، ۱۷، نقل کرنا، کسی صورت
کا اختیاب کرنا، ۱۷، وضع بنانا، ۱۷، انداز بنانا، ۱۷، چہرہ پگلاڑنا
منز بنانا۔

شکل چڑیلوں کی مزاج (دماغ) پریوں کا، بدصورت آدمی کا عروار اور نزاکت دکھانا۔

میں کیا لال لگے ہیں ۹: (دش) کون سی ایسی بڑی خوبی ہے۔

لکنا: موقع ہاتھ آنا، تدبیر ہو جانا، صورت کا خوش معلوم ہونا۔

وشاہت: (ف) موت؛ صورت، رنگ ڈھنگ۔

وشائش: (ف) موت؛ صورت اور سیرت، خوب صورتی۔

ہشکم: مذکر، پیٹ، بطن۔

پرور / پرست: خود غرض، پیٹ پالنے والا۔

بیر: پیٹ بھرا، آسودہ۔

ہشمنی: (ف) ۱۱ مادر زاد، پیدائشی، ۱۲ لُج کا اندرونی، ۱۳

(اہلِ دُخْرِ اصطلاح) وہ کاشت کار جو اپنے آرائشی کو اصل کاشتکار

سے لے کر جوتے بوئے۔

ہشکن: (ف) مذکر، موت؛ بھول، بیچ، جفتہ۔

درہشکن: (ف) بیچ دار۔

ہشکنجہ: (ف) مذکر: ۱۱ بھروسے کو سخت سزا دینے کا آلہ، ۱۲ جلد بڑوں

کا کتابیں دبا کر کاٹنے کا ایک بیج دار اوزار، ۱۳ اکتائیا،

غذاب، ڈکھ، ایذا، ۱۴ روتی دبانے کی ایک گل

۱۵ کو کھوپلنے کا آلہ۔

میں کھینچنا: سخت سزا دینا، ہر طرف سے جکڑ دینا، نہایت

تنگ کرنا، اذیت پہنچانا۔

ہشکور: (ع) ۱۱ بہت شکر کرنے والا، ۱۲ خدائے تعالیٰ کا نام۔

ہشکوک: (ع) مذکر: جمع شکی۔

ہشکوه: (ف) موت؛ دہبر، شان، رعب۔

ہشکوه: مذکر، بکر، شکایت۔

ہشکب / ہشکبائی: (ف) مہر تھل، بردہاری۔

ہشکین: صورت دار، خوب صورت، خوش وضع۔

ہشکیلہ: موت؛ خوب صورت عورت۔

ش گ

ہشگاف: (ف) مذکر، پھیرا، درز، بھری، ۱۲ بھری رکھنے والا۔

پہڑنا: پھٹ جانا۔

ہشگفت: (ف) موت؛ ۱۱ تفریح، ۱۲ شگفتہ، خوش۔

ہشگفتل: (ف) موت؛ ۱۱ پھول کا بھنا، ۱۲ خوشی، فرحت،

سرسبز، شادابی۔

ہشگفتہ / شگفتہ: ۱۱ بھلا ہوا، پھولا ہوا، ۱۲ خوش، ۱۳ اکتائیا،

فرحت دینے والا۔

بھر / زمین: موت؛ (جہاز) اشعار میں دل انگیزی اور

طبیعت میں روانی پیدا کرنے والی کمر۔

پیشانی: ہنس مکھ، خندہ پیشانی۔

خاطر: خوش مزاج، بشارت۔

دل / طبع / مزاج: خوش مزاج۔

رو: ہنس مکھ، خندہ پیشانی۔

ہشکن: (ف) شگون کا معنی، مذکر، ۱۱ فلان مبارک اور سعادت

دیکھنا، ۱۲ نیک، اندرانہ۔

کرنا، ۱۱ کسی کام کو اچھے وقت میں شروع کرنا، ۱۲

ابتدا کرنا، پہل کرنا۔

ہونا: کسی کام کا اچھی گھڑی شروع ہونا۔

ہشگنیا / شگونیا: مذکر: زوال، تجوی، فال کھلنے والا۔

ہشگوقہ: ۱۱ بفر کھلا ہوا پھول، گلی، ۱۲ عیب، انوکھی بات، ۱۳ ٹھڑہ۔

پھولنا: ۱۱ کلی بھولنا، ۱۲ اکتائیا، عجیب و غریب بات ظاہر

ہونا، ۱۳ فتنہ برپا ہونا۔

چھوڑنا: اکتائیا، کوئی فتنہ انگیز اور تعجب خیز بات کہنا، الگ

تھک رہ کر فساد برپا کرنے والی بات کرنا۔

کاری: (ف) موت؛ گل کاری۔

بھلانا: ۱۱ پھول بھلانا، بہار دکھانا، ۱۲ انوکھی بات پیش

کرنا، ۱۳ اکتائیا، فتنہ اٹھانا۔

ہاتھ آنا: ہنسی اور تفریح کا موقع ملنا۔

ہشگون: فال، مبارک ساعت دیکھنا، کسی بات سے نیک بدگمان

ش ل

ہشل: (ع) تھکا ماندہ، تھک کر چھوڑ، وہ جس کے ہاتھ پیرہ گئے ہوں۔

ہوجانا: کام سے تھک جانا، تھک کر چھوڑ جانا۔

شمسداد : (ف) مذکر؛ سرودی قسم کا ایک خوش تقد درخت۔
شمسکو کرنا : (ع) چاول یا دال میں پانی ڈال ڈال کر ٹھیک میں بیٹھے
ہوتے نگر چننا۔

شمسپشیر : (ف) موٹھ، تلوار۔

برہنہ / بکف : (ف) اگنا یا اٹرنے مرنے پر تیار۔

کاکھیت : بہت سے گھٹوں کی لاشوں والا میدان جنگ۔

کھینچنا : مارنے کے لیے تلوار کا نکالا جانا۔

ہلالی : (ف) موٹھ؛ ایک قسم کی ٹیڑھی تلوار۔

شمسج : (ع) موٹھ؛ موم کی بٹی، چربی کی بٹی۔

ایمن : (ا) اصناف کے ساتھ، (ف) قبلی نور حق کی جو موسمی کو

وادئی امین میں ایک درخت پر نظر آتی تھی۔

بالین : (ف) موٹھ؛ قبر کے سرانے روشن کی جانے والی شمع۔

چڑھانا : شمع گل کرنا۔

چڑھانا، کسی مزار پر شمع چڑھانے کی منت ماننا اور رولو

پوری ہونے پر شمع جلانا۔

خاموش ہو جانا : شمع کا گل ہو جانا۔

ڈان : (ف) مذکر؛ وہ چیز جس پر رکھ کر موم جتی جلائی جاتی ہے۔

ڈھالنا : پگھل جاتی چربی یا گھلا ہوا موم قالب میں ڈال کر

شمع کی صورت میں جمایانا۔

رؤ : (۱) فدائی چہرے والا (۲) اگنا یا معشوق۔

سجری : (ا) اصناف کے ساتھ، موٹھ؛ صبح کا چراغ، مغرب یا یونے والا

عالم تاب : (ا) اصناف کے ساتھ، (ف) اگنا یا آفتاب۔

کائسو : شمع کا موم پگھل کر قطرے چلنا۔

کاچور : شمع میں ایک طرف گھل جانے سے پڑنے والا رخز۔

کارو پشت برابر ہے، (ش) صاف باطن، آگے پیچھے

یکساں ہوتے ہیں۔

گشتہ : (ا) اصناف کے ساتھ، (ف) موٹھ؛ بھیجی ہوئی شمع۔

مخفل : (ا) اصناف کے ساتھ، (۱) محفل کی رونق بڑھانے والا

شخص، (۲) اگنا یا معشوق۔

مزار : (ا) اصناف کے ساتھ، (ف) موٹھ؛ مزار پر جلائی

جانے والی شمع۔

شیل : SHELL (انگ) (۱) م کا گولہ (۲) ٹونکا، سپی، صدف۔

شلا : (۱) موٹھ؛ بس، پتھر، چٹان۔

شلیکھ : (۱) کتبہ، سٹی تحریر۔

شلی / شلیپ کار : (۱) مذکر؛ کاری گر، منرمند، صنّاع۔

شلی / شلیق : مذکر؛ ایک ترکاری کا نام۔

شلی / شلیکیں : (دہلی) موٹھ؛ بڑی بڑی آنکھیں۔

شلیک : موٹھ؛ جست، تڑپ، زغند، چھانگ۔

بھرنا : چھانگ بھرنا، اونچا اچھلنا۔

شلینگ : SHILLING (انگ) مذکر؛ انگلستان کا ایک رسک۔

پونڈ کا بیسواں حصہ (1/16 پونڈ)

شلوگا : مذکر؛ دُور دُور کا ٹانکا۔

شلوگے بھرنا / مارنا : سلائی میں دُور دُور ٹانکے لگانا۔

شلوار / شلووار : موٹھ؛ ازہر، پجامہ۔

شلو کا : مذکر؛ ایک قسم کا چھوٹی آستین کا کڑیا کرتا۔

شلہ / شولہ : (ف) مذکر؛ (۱) ایک قسم کا کھانا (۲) پتلی کھڑی۔

ش م

شماتت : (ع) موٹھ؛ کسی کی خرابی پر غصہ ہونا، خندہ زنی۔

شمسار : (ف) مذکر؛ گنتی، تعداد (۱) اگنا یا شامل کرنا کسی ڈمرے میں۔

دانے : تسبیح کے پھندے میں ہر سیکڑہ پر حساب کے

پے لگائے جانے والے دانے۔

سے باہر : افراط سے مہے حساب۔

شمال : (ع) اتر۔

شمالی : شمال سے منسوب، اتر کا۔

شمائل : (ع) مذکر؛ (۱) صورت، وضع (۲) حادثیں، خصلیں۔

شماسہ : (ع) موٹھ؛ کسی چیز کی خوش بو۔

شمس : (ع) مذکر؛ (۱) یزید کے ایک سپہ سالار کا نام (۲) اگنا یا

مردود، شعی، ظالم۔

شمس : (ع) مذکر؛ سورج۔

شمسنہ : (ف) مذکر؛ (۱) تسبیح کا چھوٹا پھندا (۲) کس کا منہ اقرص۔

شمسنی : (ع) موٹھ؛ شمس سے منسوب، سورج سے متعلق۔

شو راکری : (۱) موٹھ، ہندوؤں کا ایک ڈراما۔
 شو الہ : (۱) مذکر، مہادیو کا استھان، شوی کا مندر۔
 شو : SHOW (انگ) مذکر، تماشا، ناٹش، نظارہ، ظاہر داری، دکھاوا، ٹیپ ٹاپ، ٹھاٹ، بھڑک دار۔
 شو الہ : (۱) مذکر، مسلمانوں کا دسواں قمری مہینہ، عید الفطر کا مہینہ۔
 شو اہر : (۱) مذکر، (جمع شاہکی) مثالیں، گواہ، ثبوت۔
 شو ب : مذکر، دھو کے جانے کا فعل، ڈھلانی۔
 شو بٹنار : کھانا، کپڑے کا ایک مرتبہ دھویا جانا۔
 شو بزنس : (SHOW BUSINESS) (انگ) مذکر، تفریحی پروگرام کا پیشہ۔

شو بوائے : SHOW BOY (انگ) مذکر، (۱) حقیقت سے دُور (۲) وہ شخص جسے دوسرے اس طرح پیش کریں جو وہ حقیقت میں نہ ہو۔

شو بھا : (۱) موٹھ، زینت، رونق، چمک۔
 شوٹ : SHOOT (انگ) گولی مارنا، بندوق چلاتا۔
 کرنا : گولی مار کر ہلاک کرنا۔

شوٹنگ : SHOOTING (انگ) موٹھ، (۱) بندوق بازی، (۲) فلم بندی، کسی سین یا منظر کو فلمانا، (۳) کیمرے سے تصویریں لینا۔

شوٹ : (۱) طرار، بے باک، (۲) دل کی باز، ظریف، (۳) شہر، گستاخ، (۴) اکائیٹا، معشوق، (۵) چکیلا، تیر، (۶) نڈر۔
 چشم / دیدہ : ڈھیٹ، بے حیا، بے شرم۔
 چشمی : (۱) موٹھ، بے حیائی، بے باکی، گستاخی، شرارت۔
 طبع / طبیعت : (۱) اکائیٹا، تیز مزاج، بے باک، (۲) خوش طبع۔

شوخی : موٹھ، چلڈیا پن، (۱) شرارت، ظرافت، (۲) بے قراری، اہطلآ، (۳) بے ادبی، گستاخی، (۴) رنگ کی تیزی، چمک۔

شوڈر : (۱) مذکر، ہندوؤں کی پوتھی ذات۔
 شور : (۱) مذکر، غل غوغاء، (۲) شہرت، دھوم، (۳) کھاری ٹک، (۴) عشق، جنون، دلولہ، (۵) کھاری، کھار یا شورے کے سبب ناقابل کاشت زمین، (۶) غص، نامبارک، (۷) خشکی سے چلاتا۔

شہتی : (۱) مذکر، سبز رنگ، پائل ہر سیاہی، تیلیا رنگ۔
 شہلہ : (۱) مذکر، سر پر باندھنے کی مثال، ایک خاص قسم کی دستاؤ، نظر، عمار کا سرا یا چوٹی۔

شہلہ بہ مقدر اعلم : (۱) اہل، جتنا علم ہو اسی کی مناسبت سے دوازیلہ ہے۔
 شہمول : (۱) مذکر، شامل ہونا۔

شہمولیت : (۱) موٹھ، شرکت، شامل ہونا۔
 شہم / شہمت : (۱) مذکر، تموڑا، مقدار، قیل۔
 شہم : (۱) موٹھ، خوشبودار ہوا۔

ش - ن

ششنا : (۱) موٹھ، پیرنا، پانی میں اترنا، پانوں مارنا۔
 اور : (۱) پیرنے والا۔

شناخت : (۱) موٹھ، پہچان، تمیز، واقفیت، شناسائی۔
 شناختی کارڈ : پہچان کا کارڈ۔
 شناسا : (۱) پہچاننے والا، پرکھنے والا، (۲) جان پہچان۔
 شناسائی : (۱) موٹھ، جان پہچان، واقفیت، حساب، سلا، شناخت : (۱) موٹھ، بدی، بُرائی۔

ششہ : (۱) مذکر، ہفتہ، سینہ۔
 ششور / ششگرف : (۱) مذکر، ایک شش رنگ کی دھات جو گندھک اور پائے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے۔

ششگرف : ششگرف کے رنگ کا شش۔
 ششگہ / ششگہ : (۱) مذکر، ایک قسم کی بہت بڑی ٹوڑی، ناقوس۔
 ششگ : (۱) بھارا، شوخ، ظریف، معشوق۔

ششواتی : (۱) موٹھ، سہمت، توجہ، التفات۔
 ششیدہ : (۱) سنا ہوا۔
 کے بُو د ماہند دیدہ : (مقولہ) سنی ہوئی بات کی وقعت

ششہ کی ہوتی بات کے مقابلے میں نہیں کی جاسکتی۔
 ششہ : (۱) مذکر، بڑا، ہند، خواب۔
 ششو / ششو : (۱) مذکر، ہندوؤں کے تین سب سے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک۔

شور بوز : شرابور، ترہیز۔

زمین : کھاری زمین۔

محشر : (اضافے کے ساتھ) اکتائیا، بہت شور و غل۔

نشور : (اضافے کے ساتھ) اف، مذکر؛ ۱۱ شور قیامت،

۱۲ اکتائیا، بہت شور۔

وشر : اف، مذکر؛ فتنہ و فساد، لڑائی و لگا، ہنگامہ، بلوہ۔

وشغب : مذکر؛ غل، شور۔

وشین : غل، شور۔

شورتت : موتھ : کھاری پن۔

شورتی : (ع) مذکر؛ مشورہ۔

شوربا / شوروا : (ف) مذکر؛ ۱۱ پیلاسان، پکے ہوئے گوشت کا پانی،

۱۲ رقیق چیز کے لیے بھی مستعمل ہے۔

شورنخت : (ف) بد نصیب۔

شورش : (ف) موتھ، شور و غوغا، فتنہ و فساد، آشفتگی، پریشانی،

بلوہ، ہنگامہ۔

برپا کرنا : ہنگامہ برپا کرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا۔

شوروم : (ف) موتھ؛ (ع) مذکر؛ (دکانوں میں

مال سے) آراستہ کمرہ۔

شورہ : (ف) مذکر؛ ۱۱ پانی ٹھنڈا کرنے اور آتش بازی بنانے

میں کام آنے والا ایک قسم کا کھارہ، ۱۲ ایک گھاس

کا نام۔

پشت : سرکش، نافرمان، لڑاکا، جھگڑاؤ۔

شورے میں جھاننا / میں جھلنا : پانی کی مراچی کو

نک اور شورہ طے ہوتے پانی میں ڈال ڈال کر ٹھنڈا کرنا۔

شوریدگی : ۱۱ پریشانی، ۱۲ دیوانگی جنون، ۱۳ عشقِ محبت۔

شوریدہ : (ف) ۱۱ حیران، پریشانی، ۱۲ اجازت، دیوانہ، عاشق۔

حال : پریشاں حال، دیوانہ، سرگستہ۔

خاطر : (ف) پریشاں خاطر، پریشاں حال۔

دماغ / مزاج / سر : (ف) اکتائیا،

دیوانہ، سودائی۔

شوشہ : (ف) مذکر؛ ۱۱ ہائے ہوز کی علامت، ۱۲ بعض حرفوں کے

سر سے کا دھلنا، ۱۳ فتنہ انگیزیاں، اٹوکی بات، چٹکلا۔

شوشہ چھوڑنا، ۱۱ فساد انگیز بات کہنا، اٹوکی بات کہنا، ۱۲ شہنی

کرنا، شرارت کرنا۔

شوقر : CHAUFFEUR (انگ) مذکر؛ موٹر ڈرائیور،

موٹر چلانے والا۔

شوق : (ع) مذکر، ۱۱ خواہش، آرزو، تمنا، اشتیاق، ۱۲ رغبت،

طبیعت کا میلان، ۱۳ شغل، کام، مشغولی، ۱۴ جوش سرگرمی،

(۱۵) چاٹ، چسکا، انگ، ۱۶ دُمن، ترنگ۔

چرانا : شوق بڑھنا۔

شوقین : ۱۱ خواہش مند، مشتاق، شوق رکھنے والا، نوگر لیتا،

(۱۲) پھینلا، ریٹیل، ۱۳ عیاش، تماش بین۔

شوقیہ : (ع) اشتیاق سے بھرا ہوا، ۱۲ دل بہلانے کے لیے،

رغبت سے، شوق سے۔

شوکت : (ع) موتھ، (ع) قوت، دبدبہ، رُعب داب، جاہ و مال

(۱۲) مرتبہ، شان و شکوہ۔

شوکیں : SHOW CASE (انگ) مذکر؛ شیشے کی وہ الماری

جس میں ناکشی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔

شوگر : SUGAR (انگ) موتھ؛ کھانڈ، شکر، چینی۔

شولا : (دہلی) دیبھوشتہ۔

شوم : نموس، کنوس، بخیل۔

شومی : موتھ؛ بد بختی، خوست۔

بخت / طالع / تقدیر : (اضافے کے ساتھ،

(ف) موتھ؛ خوست، بد نصیبی۔

شوں شان : (ع) موتھ، عزور، ڈینگ۔

شوہر : (ف) مذکر؛ خاندان، خصم

شہ

شہ : موتھ، ۱۱ شاہ کا ختف، بادشاہ، ۱۲ ڈھیل، آہستہ آہستہ نکلنے

کو دفعہ پلانا، ۱۳ اصطلاحِ نکست شطرنج، ۱۴ مدد، حمایت، پُرچک

ترغیب، بہکانا۔

باز (ف) مذکر، عام باز سے کچھ بڑا شکاری پرندہ، بڑا باز۔

شہادت نامہ: مذکر، حضرت امین کی شہادت کے حال کی کتاب۔
۱۱) کلہ شہادت نامہ کے کئی میں رکھا جانے والا پترا۔

شہادت: (۱۵) موت؛ دلیری، بہادری، شجاعت۔
شہادہ: (۱۶) شہانہ کا صفت، (۱۷) سُرخ رنگ کی خاص قسم کی چوڑیاں۔

۱۱) شادی کا جوڑا، (۱۲) ایک قسم کا شادی کا گیت، ایک قسم کی گت۔
جوڑا، مذکر، دو لہا کا سُرخ جوڑا، سُرخ پوشاک۔

شہانی مہندی: مہرے رنگ کی مہندی۔
شہد: (۱۸) مذکر، (۱۹) ہمال کی مکھیوں کا جمع کیا ہوا میٹھا سپرہ،

۱۱) نہایت شیریں۔
کی چھری: (۲۰) میٹھی چھری، (۲۱) اکناٹیا، زبان کا میٹھا دل کا کھولنا
دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والا۔

کی نکستی: (۲۲) وہ کئی جو شہد جمع کرتے ہے، اور جتنا بناتی ہے (۲۳)
اکناٹیا، لالچی، حریص، پیمانہ چھوڑنے والا شخص۔

شہدا: (۲۴) مذکر، جمع شہید کی، خدا کی راہ میں قتل کیے ہوئے لوگ۔
شہنشاہ: بدھن، بد معاش، ہانسی آدی (۲۵) ایک فرقہ نکلے سر نکلے پتو
رہنے والا، گلی گلوچ میں مشہور۔

پن پنا: مذکر، بد معاشی، دھول دھپنا۔
شہر: مذکر، بڑی آبادی۔

آشوب: (۲۶) مذکر، وہ نظم جس میں کسی شہر کی پریشانی اور
گردش آسانی وغیرہ کا ذکر ہو۔

بڈر: بھلا دھن۔
پناہ: موت؛ شہر کی چار دیواری۔

خیرا: مذکر، تمام شہر کی خبر کھنے والا، گھر گھر کی خبر کھنے والا۔
خوشاں: (۲۷) اضافت کے ساتھ، مذکر، گورستان، قبرستان۔

گرد / گشت: مذکر، شہر میں گشت کرنے والا، پتروں۔
میں اونٹ بنام: (۲۸) مثل، کسی عیب کے باعث بنام شخص،
مشہور آدی کی شامت آتی ہے۔

یار: مذکر، (۲۹) ام عصر بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ
۱۱) مطلق بادشاہ۔

شہری: (۳۰) شہر کا رہنے والا، شہر سے منسوب، شہر کا باشندہ۔
شہریت: کسی ملک کا باشندہ ہونے کا حق۔

شہر بالا / شاہ بالا، برات میں سواری پر دو لہا کے آگے یا پیچے
بٹایا جانے والا پترا۔

پچانا: (۳۱) اصطلاح شطرنج، بادشاہ کا شہ کے تمام سے
ہٹ جانا۔ یا کوئی اور سپرہ اردب دینا۔

پانا: اشارہ پانا، بہکانے یا دو غلانے میں آنا۔
پنر: پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پنر۔

توت: (۳۲) مذکر، ایک پھل اور اس کے دفت کا نام۔
تپر: مذکر، بڑی کڑی۔

دینا: (۳۳) شطرنج کے بادشاہ کو کشت دینا، (۳۴) تنگ کو ڈھیل دینا،
ڈور چھوڑنا، (۳۵) اکناٹیا، ترغیب دینا، بہکانا، بھڑکانا۔

رُنی، اکناٹیا، سامنے کی چوٹ۔
رگ: (۳۶) موت، شاہ رگ۔

زادہ / زادی: بادشاہ کا بیٹا، بیٹی۔
زور: (۳۷) مذکر، بہت طاقت، زور زور آور، زبردست۔

سوار: (۳۸) مذکر، گھوڑے کی سواری کا ماہر۔
سواری کرتا ہے: مثل، شائق ہی دھوکا کھاتا ہے۔

گام / شاہ گام: گھوڑے کی خاص قسم کی چال، تیز قدم۔
لو لاک: (۳۹) اضافت کے ساتھ، مذکر، اکناٹیا، آنحضرت صلعم۔

نا / نانی: (۴۰) موت؛ نظیری، موسیقی
نشین / شاہ نشین: مکان میں نشست کا اونچا چوڑا،
مکان کا صدر جگہ۔

شہی: (۴۱) موت؛ بادشاہی۔
شہاب: (۴۲) نہایت سُرخ رنگ جو کسم کو بھلو کر پٹکانے کے بعد
حاصل ہوتا ہے۔

شہاب: (۴۳) مذکر، (۴۴) پھلکا ہوا ستارہ، (۴۵) وہ ستارہ جو آسمان سے
گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، (۴۶) شعلہ۔

ثاقب: (۴۷) اضافت کے ساتھ، مذکر، رت کو ٹوٹنے والا پھلکا ستارہ
شہاہ: مذکر، ایسا بتال۔

شہادت: (۴۸) موت، (۴۹) گواہی، اظہار، (۵۰) راہ خدا میں شہید ہونا،
(۵۱) خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول مقبول کی رسالت کا
پختہ دل سے اقرار کرنا، (۵۲) کلہ شہادت، (۵۳) ذبح، قتل۔

شیاطینِ الإنس : (ع) مذکر؛ شیطان کی طرح بہکانے والا آدمی۔
شیاف : (ع) مذکر؛ شیاف، پخانے کی جگہ اجابت لانے کے لیے
رکھی جانے والی روٹلی ہوتی تھی۔

شیب : (ع) مذکر؛ بڑھاپا۔
شیخ : (ع) مذکر؛ ۱) بوڑھا آدمی، ۲) پیر، مُرشد، بزرگ (۳) مذہبی
علوم میں فائق (۴) سرگروہ، پیشوا، ۵) خانقاہ کا سردار، سجادہ
نشین۔ (۶) مسلمانوں کی چار ذاتوں (شیخ، سید، مثل، پٹانہ)
میں سے ایک ذات۔

شیخ الاسلام : (ع) مذکر؛ مسلمانوں کا سب سے بڑا پیشوائے دین۔
الزئیس : (ع) مذکر؛ بڑی سینا کا لقب۔

الشیوخ : (ع) مذکر؛ تمام عالموں اور فاضلوں کا گروہ، پیر، شیخ۔
شیخِ چلی : مذکر؛ ۱) ایک فرضی اہم (۲) مسز، ۳) دس بیٹھائیں مارنے والا
شیخنا : مذکر؛ (تخفیر سے) شیخ کا لڑکا۔

شیخِ سدا : مذکر؛ جاہل عورتوں کا فرضی ولی، جن۔
شیخوخت : (ع) مؤنث؛ بڑھاپا، سردار ہونا۔

شیخ و شباب : مذکر؛ بوڑھے اور جوان۔
شیخوں کی شیخی پٹھانوں کی ٹر : شیخوں کی ڈینگ اور
پٹھانوں کی محبت مشہور ہے۔

شیخی : مؤنث؛ بڑائی، گھمنڈ، ڈینگ۔
باز / خوار : مذکر؛ گھمنڈی، ڈینگ کی لینے والا
دور کی ہانکنے والا۔

بگھارنا : ڈینگ مارنا، خود ستائی کرنا، اترانا۔
شید / شیدائی : (ف) دیوانہ، عاشق، مہوش، عشق
میں ڈوبا ہوا۔

شیدی : (ف) مذکر؛ جیشیوں کا لقب۔

شید : SHADE (لگ) مذکر؛ ۱) سایہ (۲) تصویر کا سیاہ حصہ۔
شید : SHED ساتھان۔

شیر : SHARE (لگ) مذکر؛ ساہا، تقسیم (کسی دینی کمپنی کا حصہ)۔
ہولڈر : HOLDER (لگ) ساہمی، حق دار، شریک۔

شیر : (ف) مذکر؛ دودھ۔
بہرئج : (اضاف کے ساتھ) (ف) مؤنث؛ چٹلوں کی کھیر۔

شہر : (ع) مینہ۔
شہرت : (ع) مؤنث؛ ۱) فواہ، چرچا (۲) نیک نامی، (۳) رسوائی، بنامی۔
اُرژنا : شہرت پھیلنا، چرچا ہونا۔

افزرا : شہرت بڑھانے والا۔
پانا : مشہور ہونا، نام حاصل کرنا۔

پیدا کرنا : نام پیدا کرنا، مشہور ہوجانا۔
شہرہ : (ع) مذکر؛ آوازہ، دھوم دھام، چرچا۔

آفاق / انام : (اضاف کے ساتھ)؛ (ف)؛
تمام عالم میں مشہور۔

شہلا : (ع) ۱) ایک قسم کی سیاہ بھول والی گرس، ۲) اکتائیا، بڑی بڑی
آکھ (۳) وہ عورت جس کی آنکھیں سیاہی لیے ہوتے بھوری یا
سیاہی نالی پر سفیدی ہوں۔

شہشاہ : شاہشاہ، بہت بڑا بادشاہ۔
شہواشیات : (ع) خواہش نفسانی سے تعلق رکھنے والی باتیں۔
شہوت : (ف) مؤنث؛ جماع کی خواہش، نفسانی خواہش۔

انگیز : (ف) خواہش نفسانی بھانسنے والا۔
شہود : (ع) جمع شاہد کی؛ مذکر؛ (اصطلاح تصوف) سالک کو تم
موجودات میں جلوہ حق بکھرے عین حق نظر آنے لگنا۔

شہودی : شہود سے نسبت رکھنے والا۔
شہور : (ع) جمع شہر کی؛ مذکر؛ مینہ۔
شہید : (ع) ۱) ناحق مارا جانے والا شخص، خودکراہ میں مارا جانے والا
(۲) مقتول، مذبح، فدا، قربانی، عاشق۔

گزنہلا : (اضاف کے ساتھ) مذکر؛ حضرت امام حسین سے مُرو۔
مرد : (۱) از روئے شرائط اسلام شہادت پانے والا۔
(۲) اکتائیا، گھوڑا۔

ش می

شے : (ع) مؤنث؛ ۱) ہمیز (۲) نیلاب جز (۳) (دہلا) برکت، زیادتی، افزونی۔
لطیف کی قلت : اکتائیا، کم عقل۔

متنازعہ : مؤنث؛ جھگڑے والی شے۔
شیاطین : (ع) مذکر؛ جمع شیطان کی۔

شیر خشک : موتھ، ایک دست آور دوا۔

خوار / خور : (ف) دودھ پیتا بچہ۔

گرم : (ف) نیم گرم، معمولی گرم۔

مادر : (اضافت کے ساتھ) مذکر : ماں کا دودھ، (۳) مباح، حلال۔

مال : (ف) موتھ، ایک قسم کی تور میں پکائی جانے والی میدے کی

غیری روغنی روٹی، جس کے پکانے میں دودھ کا چھینٹا دیتے ہیں۔

دشکر ہونا : آپس میں بل بل جانا، باہم اختلاف ہونا، خوب

اتفاق ہونا۔

شیر : (ف) مذکر : (۱) باگھ (۲) اکنٹیا، بہادر آدمی، دلیر (۳) شیر کے

منہ کی طرح بنا ہوا پر نالہ۔

شیر آبی : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر، گر مجھ، نہنگ۔

انداز / افکن : اکنٹیا، شجاع، دلیر۔

بکتر : ایال والا بھورا بڑا شیر۔

گبری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں : (اشل) عدل اور انصاف

کاراج بٹے جموٹے دونوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہوتا

ہے، کسی کی رعایت نہیں ہوتی۔

خدا : (اضافت کے ساتھ) مذکر، حضرت علیؑ کا لقب۔

دہاں : مذکر، شیر کے کتے سے مشابہتوں پر ناؤں وغیرہ کے دہاؤں

پر بنی شکل (۳) ایک قسم کا عصا، (۳) ایک قسم کی بندوق۔

ثریاں : (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر : (۱) درندہ شیر،

(۲) اکنٹیا، بہادر۔

قالی / قالین : (اضافت کے ساتھ) مذکر : (۱) قالین پر

بنی ہوئی شیر کی تصویر (۲) اکنٹیا، بیچ، نامشی، بے وقت

کرنا، (۱) دلیر کرنا، (۲) زیادہ کرنا، تیز کرنا، (۳) اگانا آگے بڑھانا۔

کی خالا : موتھ، دلی۔

کے منہ سے شکار لینا : اکنٹیا، زبردست سے کوئی چیز

چھین لینا۔

ماہی : (ف) موتھ، ایک قسم کی بڑی مچھلی۔

مرد : (ف) اکنٹیا، دلیر، شجاع مرد۔

نیستان : (اضافت کے ساتھ) اکنٹیا، بڑا بہادر، بڑا جبری۔

شیروں کے منہ چڑھنا / لگنا : بہادریوں کے مقابل آنا۔

شیرازہ : (ف) مذکر : (۱) کتاب کی جڑ بندی کے بعد چھتے کے دھول

طرف لگایا جانے والا فیتہ، کتاب اور پتھوں پر کی سلائی،

(۲) اکنٹیا، انتظام، سلسلہ، بندش۔

بکھڑنا / ٹوٹنا / کھلنا : (۱) اکانٹیا، انتظام اور

ترتیب قائم نہ ہونا، اتر جانا۔

شیرازی : (ف) مذکر : (۱) شیرازی طرف منسوب، (۲) ایک قسم کا گولہ کو تیر۔

شیرہ : (ف) مذکر : (۱) تروام، چاشنی، (۲) پتلا گڑ جو تبا کو میں ڈالا

جاتا ہے۔ (۳) زاب۔

انگور : (اضافت کے ساتھ) مذکر، انجوری شراب۔

شیرف : (انگ) مذکر، شہر کا ممتاز شہری

جسے حکومت نامزد کرتی ہے۔

شیریں : (ف) (۱) میٹھا، (۲) عزیز پر پیارا، (۳) نرم، خوش گوار، (۴) نرہادی

مشقودہ، خسرو پر دیز کی بیوی کا نام۔

ادا : (ف) دل پسند اداؤں والا۔

زبان / بیاباں / سخن / کلام / نفس /

مقال : (ف) خوش گفتار، فصیح۔

شامل : (ف) خوش خلق۔

کب : (ف) شیروں کلام۔

شیرینی : (ف) موتھ، مٹھائی، حلوات۔

شیشم : مذکر، ایک درخت کا نام۔

شیش اھل : مذکر، چاروں طرف شیش لگا ہوا مکان۔

شیشہ : مذکر : (۱) کالج، (۲) تون قرابہ، (۳) آئینہ، آرسی۔

باز : (ف) مذکر : (۱) شعبہ باز، (۲) ناپچے وقت شیشہ کو ہر ایک

عضو بدن پر رکھ کر تماشا کرنے والا ایک گروہ۔

دکھائی : موتھ، عید، بقرعید کے موقع پر آئینہ دکھانے کے

صلے میں نانی کو دیا جانے والا انعام۔

دل : (اضافت کے ساتھ) (دل کی نزاکت کا استعارہ)

نازک مزاج۔

ساعت : (اضافت کے ساتھ) مذکر، مالو گھڑی۔

شیطان و سوسہ : مذکر : بڑی کا ذمہ، خیال۔
شیعہ : حضرت عیسیٰؑ اور ان کی اولاد کا دوست دار گروہ
یا شخص۔

شیمی : شیعہ کی طرف منسوب۔

شبیقتہ : (ف) فریفتہ۔

شیلڈ : SHIELD (انگ) مذکر : واہ ڈھال، سپر، روک
(۲) انعام کی شیلڈ۔

شیلف : SHELF (انگ) مذکر : الماری، کتاب دان۔

شیم : (ع) جمع خمیر کی : مذکر : مادیتیں، خصلتیں۔

شیمپین : CHAMPAGNE (انگ) مؤنث، ایک قسم کی شراب۔
شین : مذکر : حروف تہجی کا ایک حرف۔

شین قاف درست نہ ہونا : زبان کا تلفظ صحیح نہ ہونا۔

شیو : SHAVE (انگ) جھامت، اصلاح خط، موتراشی
دار صحی بنانا۔

شینوا : (ف) فصیح دینے۔

شیربان / بیان : (ف) فصیح، بلیغ، تیز زبان آدمی۔

شیوخ : (ع) جمع شیخ کی، بوڑھے، اساتذہ، مشائخ۔

شیوع : (ع) مذکر : (۱) ظاہر ہونا، آشکارا ہونا (۲) اشاعت
ہونا، شایع ہونا، جاری ہونا۔

شیون : (ف) مذکر : (۱) نوحہ، آواز ماتم، (۲) مجازاً : نالہ و فریاد

شیوہ : (ف) مذکر : طور طریقہ، انداز، دستور، ڈھنگ۔

شیطان : (ع) مذکر : (۱) ابلیس، عزرائیل، (۲) شوخ، بذات، شریر
(۳) فقہ ائمیر، فساد، گمراہ کرنے والا، بہکانے والا، ہنزاہ،
لڑائی کر دینے والا (۴) جھگڑا، فساد۔

آکرنا : (۱) غصہ دُور ہونا (۲) شرارت نفع ہونا۔

اٹھانا : (دہلی، بہتان لگانا، جھگڑا کرنا، شور و غل مچانا،
ہنگامہ برپا کرنا۔

چڑھنا / سوار ہونا : غصہ چڑھنا، بدمی پر آنا،
مند چڑھنا۔

سے زیادہ مشہور : (۱) نہایت بدنام (۲) (مزاحاً)
نہایت مشہور۔

کی آنت : بہت لاجبی چیز، طول طویل بات یا قصہ۔

کی خالا : مؤنث، اگناٹا، لڑائی جھگڑا کر دینے والی عورت۔

کی ڈور : مٹھی کے جلے کا راستہ میں تناہوا لبتا تار۔

کے کان بہرے : کسی خبر بد کے سُننے کے وقت یا کسی کا ذکر
یا ذکر مگ آجانے کے وقت کہا جانے والا کلمہ۔

کے کان کاٹنا، نہایت شریر، مُغیب، فسادی ہونا۔

نہ لڑکوں سے پناہ مانگی ہے : (مقولہ) لڑکے شیطان
سے بھی زیادہ شریر ہوتے ہیں۔

ہر تہہ موجود ہے : (ش) بُرے افعال کے واسطے
ہر جگہ سامان موجود ہے۔

ص

— سجادہ : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، سجادہ نشین۔
— سلامت : مؤنث، زندگی اور سلام باہمی طور پر کرنا
(۲) رکھی ملاقات، روشناسی، (۳) جان

پہچان۔

— عالم : دہلا کے شہزادوں کا لقب۔
— فرانس : بستر سے نہ اٹھ سکے والا بیمار۔
— صاحبقران : اقبال مند، وہ شخص جس کی ولادت کے وقت زحل اور مشتری دونوں ستارے ایک برج میں ہوں، امیر تجور کا لقب۔

— قرآن ثانی : (اضافہ کے ساتھ) شاہ جہاں بادشاہ
دہلی کا لقب۔

— قیافہ : (اضافہ کے ساتھ) دیکنا یا مقل والا
کچھ دار۔

— بولالک : (اضافہ کے ساتھ) کنایا یا ہمینبر
خدا صلعم۔

— مقدور : (اضافہ کے ساتھ) مال دار۔

— نسبت : (اضافہ کے ساتھ) خدا رسیدہ کامل۔

— نظر : (اضافہ کے ساتھ) دانا، دُورا ندیش۔

— ولایت : (اضافہ کے ساتھ) ولی امیر، خدا کا
دوست۔

— صاحبان : جمع صاحب کی، شرفاً، خدا ونداں۔

— صاحبو : کلمہ، خطاب، حضرات، اے حاضرین جلسہ۔

— صاحبی : (ف) مؤنث، حکومت، سلطنت، عہدہ دورہ،
عروج، عزت۔

— صاد : (ع) مذکر، ایک حرف کا نام، (ص) (۲) قرآن

شریف کی ایک صورت کا نام۔

— پیغم : (ف) مذکر، ماد کو آنکھ سے تشبیہ۔

— کرنا : (۱) صبح کی طلعت ڈالنا (۲) کسی چیز کی
تولی تسلیم کرنا، (۳) دستخط کرنا۔

— ہونا : منظور ہونا، پسند ہونا۔

— صادر : (ع) جاری کیا گیا، نافذ۔

— صا : مذکر و مؤنث، مادہ ہلکا یا غیر منقوہ حساب میں
(ابجد) میں نوے عدد۔

— صابر : (ع) مذکر، صبر کرنے والا، متقی، بردبار۔

— صابن : مذکر، صابون کا بگاڑا ہوا، دیکھو صابون۔

— صابون : (ع) مذکر، کپڑا صاف کرنے اور ہاتھ منہ
دھونے کی ایک ٹرک چیز۔

— سامنہ میں گھٹنا / صابون سامنہ ہونا، منہ کا
مزا بیٹھا ہونا

— صابونی : (ف) مؤنث، ایک قسم کی مٹائی۔

— صاحب / صاحبہ : (ع) (۱) مالک، آقا، حاکم،
(۲) والا جیسے صاحب علم (۳) گزشتہ عظیم،
(۴) معشوق (۵) جناب، حضور (۶) یار، دوست

— صاحب الغرض محبتوں : (مقولہ) غرض والا،
اپنے مطلب کے لیے دیوانہ
ہوتا ہے، موقع عمل نہیں دیکھتا۔

— صاحب خانہ : گھر کا مالک، میزبان۔

— دل : (اضافہ کے ساتھ) عارف، خدا
شناس، بہ ہیز گار، دانش مند، دانا۔

— ذوق : (اضافہ کے ساتھ) (۱) باذوق،
شوقین، عاشق مزاج (۲) کارل،
خدا رسیدہ۔

— زادہ : مذکر، (۱) امیر زادہ، عزت دار کا
بیٹا، (۲) بیٹا، فرزند (۳) کنایا یا ناخبر ہے
کارنوجوان۔

— زبان : (اضافہ کے ساتھ) زبان کا ماہر،
زبان داں۔

صاحب

— زادہ : مذکر، (۱) امیر زادہ، عزت دار کا
بیٹا، (۲) بیٹا، فرزند (۳) کنایا یا ناخبر ہے
کارنوجوان۔

— زبان : (اضافہ کے ساتھ) زبان کا ماہر،
زبان داں۔

کرنا : جاری کرنا، کوئی حکم یا قانون پاس کرنا۔
 وارڈ : (ف) مذکر، آیا گیا، جہاں، مسافر۔
 ہونا : نافذ ہونا، جاری ہونا (۲) پہنچنا۔
 صادق : (ع) (۱) سچا، (۲) معنی کا کسی دوسری چیز پر
 درست آجانا، ٹھیک، درست، چسپاں، (۳) ظاہر
 آشکارا (۴) خالص۔

صادق القول : (ع) مذکر، بات کا پکا، وفادار
 آنا : ٹھیک ہونا، درست ہونا، موزوں ہونا۔
 صارفین : (ع) (۱) خرچ کرنے والے، استعمال کرنے
 والے (واحد) صارف (انگ) : کنزیومر۔
 (۲) عام اشیا کو مصرف میں لانے والے۔
 صاعقہ : (ع) مذکر، موٹ، زمین پر گرنے والی بجلی۔
 صاعقہ آفگنی : (ف) موٹ، (سفا عمری) بجلی گرانا۔
 بجلی گرنے کی آواز۔

صاف : (ع) (۱) بے میل، خالص، (۲) کورا بے داغ،
 اچھا، (۳) پاک، (۴) سہل، سلیس، (۵) ہموار،
 برابر، (۶) ہو بہو، (۷) بے کینہ،
 (۸) بالکل، قطعی، (۹) واضح، تشفیق (۱۰) چٹا ہوا،
 بھٹکا ہوا، (۱۱) صیقل کیا ہوا، مانجا ہوا، (۱۲) درست،
 ٹھیک، یعنی، (۱۳) بے غبار، بے کدورت۔
 (۱۴) علی الاعلان، (۱۵) ظاہر، صریح، (۱۶) بے ٹو

باطن : صاف دل، بے کینہ۔
 بچنا : کچھ ضرر یا صدمہ نہ پہنچنا۔
 بکرا توڑ کے جواب دینا : گستاخی سے جواب

دینا۔
 دل / ضمیر / طبع / طینت : بے ریا،
 بے کپٹ، بے کینہ۔
 دیدہ : بے فیرت، ڈھیٹ۔
 صاف ستانا : بے نقط ستانا، گالیاں دینا،
 کھری کھری کہنا۔
 کرنا / کر دینا : (۱) دھونا، چھانڈنا، میل کھیل نکالنا

کوڑا کرکٹ نکالنا، (۲) مسودے کو ٹھیک
 کر کے لکھنا، (۳) جھاڑو دینا، بھارتنا۔
 (۴) بالکل چٹ کر جانا، کھا جانا، پی جانا
 (۵) بالکل غارت کرنا، سخت و تاراج کرنا،
 (۶) مشتق کرنا، (۷) روانی بہم، پہنچانا (۸)
 آلائش نکالنا، (۹) قتل کرنا۔

میدان پانا : تنہائی پانا۔

ہونا : (۱) بہار آجانا (۲) دل میں بغض یا کدورت
 نہ رہنا (۳) میل بچیل دور ہونا (۴) منہدم ہونا،
 گر بڑنا، (۵) رواں ہونا، (۶) قتل عام ہونا،
 (۷) جنگل کا ٹاٹا جانا، (۸) بان موٹ سے جانا (۹)
 مسودے کی نقل ہونا، (۱۰) ختم ہو جانا۔
 صافا : مذکر، (۱) سر سے باندھنے کا ڈوپٹا، (۲) (دہلی)
 شکاری جانور کو بھوکا رکھنا۔

صافی : (ع) موٹ، (۱) باورچی خانے کے برتن وغیرہ
 صاف کرنے اور کپڑے کا کپڑا، (۲) چھانسنے کا
 کپڑا، (۳) بے ریا۔
 صالح : (ع) مذکر، (۱) نیکو کار، نیک بخت، (۲) قوم نشود
 کے ایک پیغمبر کا نام۔
 صالحات : (ع) موٹ، (۱) جمع مالک کی (۲) اچھے کام۔
 صالحہ : (ع) موٹ، نیک بخت عورت، پاک دامن
 بی بی۔

صامیت : (ع) خاموش، چپ چاپ۔
 صانع : (ع) مذکر، (۱) دیکھو متاع، (۲) پیدا کرنے
 والا۔
 حقیقی / قدرت / مطلق : (ف) مذکر،
 خدا تعالیٰ۔

صاحب : (ع) رساء، ٹھیک۔
 صاحبکم : (ع) مذکر، روزہ دار۔
 صاحب الدہر : (صاحب دہر) : (۵) ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔

_____ کاتارہ / - کاستارہ : ستارہ زہرہ جو اکثر صبح

کے وقت اور کبھی شام کو بھی دکھائی دیتا ہے

_____ کاذب : (اضاف کے ساتھ) صبح کی روشنی

جس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور ٹھوڑی

دیر کے بعد سپید صبح نمودار ہوتا ہے۔

_____ کاسپیدہ : پو پھینے کے وقت رات کی تیرگی کا

مائل بسپیدی ہونا۔

_____ کر دینا : رات گزار دینا، رات کاٹنا، (۲) تڑکا

کر دینا۔

صبح

_____ کی پو پھینا : صبح صادق ہونا، سیاہی میں سے سفیدی

نکلنا۔

_____ گاہ : (ف) طل الفجاء، صبح کا وقت۔

_____ گاہی : (ف) صبح والا۔

_____ محشر / - حشر : (اضاف کے ساتھ) صبح،

روز قیامت۔

_____ وشام بیتانا : جیلہ حوالہ کرنا، ٹالنا۔

_____ ضمیر : (ع) مذکر، (۱) برداشت، تحمل، (۲) نوقت (۳) کسی

صدر سے یا حادثے پر خاموشی اختیار کرنا، (۴) نفس کا رونا،

(۵) تامل، (۶) نسل، الطینان۔

_____ ایٹوٹ : (ف) (اضاف کے ساتھ) مذکر، کنائیا

بے انتہا مہر۔

_____ پڑنا : مظلوم کی آہ کا اخ پڑنا، خدا کی مار پڑنا۔

_____ بجیل : (اضاف کے ساتھ) مذکر، وہ مہر جس پر ثواب

ملتا ہے۔

_____ سمیٹنا : بہتان کا وبال اپنے ذمے لینا، ناحق تہمت

لگانا۔

_____ کر کے بیٹھ رہنا : مایوس ہو کر بیٹھ رہنا۔

_____ کرنا : (۱) ناپسند ہونا، مایوس ہونا، (۲) برداشت

کرنا، تامل کرنا (۳) قناعت کرنا، اکتفا کرنا۔

_____ صبا : (ع) صبح، صوا۔

_____ حزام / دم : (ف) (کنائیا) تیز رو گھوڑا۔

_____ صباح : (ع) سویر، تڑکا، سحر، صبح۔

_____ صباخت : (ع) صبح، خوب روئے، گوراہن۔

_____ صباغ : (ع) مذکر، کپڑا رنگنے والا، رنگ ریز۔

_____ صبح : (ع) صبح، فجر، سویرا، تڑکا۔

_____ ألسنت : (ف) (اضاف کے ساتھ) صبح، یوم

میتاق کی صبح۔

_____ أزل : (ف) (اضاف کے ساتھ) صبح، مخلوق کی

پیدائش اول کا وقت، آغاز، وہ وقت جس کی ابتدا

نہ ہو۔

_____ أمید / - مراد : (اضاف کے ساتھ) صبح،

خوشی کی صبح، عیش کی صبح۔

_____ بنا رُس : (اضاف کے ساتھ) صبح، بنارس

میں صبح کے وقت گھاٹ پر حسینوں کے نہانے کا منظر

انتہائی دل کش ہوتا ہے اس لیے بولتے ہیں۔

_____ پیری : (اضاف کے ساتھ) صبح، (کنائیا)

بڑھاپا بڑھاپے کی ابتداء!

صبح

_____ خیز : (ف) (کنائیا) زاہد، عابد، صبح سویرے

اٹھنے والا۔

_____ خیزا / - خیزیا : مذکر، بہت سویرے جاگنے

والا (۲) بخور، عمرہ کٹ۔

_____ دم / - گاہ : (ف) مذکر، گھردم، ہند اندھیرے

_____ رستخیز : (اضاف کے ساتھ) صبح، قیامت۔

_____ سویرے : (ف) طل الفجاء، تڑکے۔

_____ کاجھولا ہوا شام کو آئے تو اسے کھولا

_____ نہیں کہتے : (مثل) اگر آدمی بڑے کاموں سے

مغنیہ ہو کر توبہ کرے تو ظنیت ہے، ان ان خرابی

اٹھا کر بھی سنبھل جائے تو بہتر ہے۔

ضمیمہ:

صحیح : (ع) مونت، (ا) تن درستی، (د) عیب سے پاک ہونا، درستی، (ج) تصحیح کرنا، عیب سے پاک کرنا۔

کی سبیل : صبر کا سبیل سے استعارہ۔
نہ ہونا : کسی خواہش کا ضبط نہ ہونا۔

بخشش : شفا دینے والا، مفید۔

وَشُكْرُكَرْنَا : کسی مصیبت یا بلا سے ناگہانی پرچہ پناہ لکھیں اور مصیبت میں خدا کا شکر بجا لانا۔

نامہ : مذکر، کتابوں کا غلط نامہ۔

صبر : (ع) مذکر، ابواء، ایک دو کا نام۔

صخر : (ع) مذکر، جنگل، بیابان۔

صِفَاتُ الشُّرَا : (ع) مذکر، قدرتی رنگ، دین کا رنگ (۲) خدائی قانون۔

صخر : (ع) مذکر، ایک ہزار میل جو تین ہزار میل لمبا، ایک ہزار میل چوڑا ہے۔

صخر : (ع) مذکر، (ف) جنگلوں میں پھرنے والا، مسافر۔

صَبْوَمِي : (ع) مونت، صبح کو پنی جانے والی شراب۔
كش : (ع) (کنا یا) ہادو کش، شرابی۔

صخر : (ع) مذکر، مقام لاہوت۔

صَبْوِي : (ع) مذکر، دودھ پینا بچہ، لڑکا۔

صخر : (ع) مذکر، میدان قیامت۔

صَبْوِي : (ع) مونت، دودھ پینا بچہ، لڑکی، دختر۔

صخر : (ع) مذکر، جمع صحیفہ کی۔

صَبْوِي : (ع) گورا پٹا، حلیج کا مقابل۔

صخر : (ع) مذکر، (ا) آگن، (د) رقبہ۔

ص - ح - می

صخر : (ع) مونت، (ا) اضافت کے ساتھ مذکر، ہاتھ کا تختہ۔

صحابہ : (ع) جمع صحابہ کی، مدبر، اصحاب رسول۔

صخر : (ع) مونت، (ا) دالان کے پہلو والا چھوٹا کوٹھری نما جگہ جس میں لکڑی کا دروازہ نہیں ہوتا ہے۔

صحابی : (ع) مذکر، وہ شخص جو اسلام کی حالت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہا اور عقیدہ اسلام پر وفات پائی، (ع) مونت کے لیے صحابیہ۔

صخر : (ع) مونت، (ا) راکب، چھوٹا طباق، (د) حضرت فاطمہ کی نیاز، اور اس کی نیاز کے کھانے کو بھی صخر کہتے ہیں۔

صباح : (ع) مونت، جمع صبح کی۔

صبر : (ع) مونت، صبح حدیثوں کی چھ مشہور اور مستند کتابیں، (ا) بخاری (۲) مسلم (۳) ترمذی، (د) ابوداؤد (۵) ابن ماجہ (۶) نسائی۔

صخر : (ع) مذکر، کتاب کی جلد بنانے والا، جلد ساز

صحاب : (ع) مونت، اخبار نویس۔

صخر : (ع) مذکر، اخبار نویس۔

صباح : (ع) مذکر، جمع صحیفہ کی، کتابیں، رسالے

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخب : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

صخر : (ع) مونت، (ا) ساتھ، وفاقت، (د) دوستی ربط ضبط۔ (۳) جلسہ، مجلس، (د) ہم نشینی، کسی کے ساتھ نشست برخاست، (۵) ہم بستری خلوت جماعت۔

(۴) امیر یا میر مجلس، جیرمین، (۵) دارالمخلافہ،
ہیڈ کوارٹر، (۶) علم و روش میں شعر کا پہلا لفظ، (۷)
فوج کے رہنے کا مقام، (۸) ملک کا سربراہ۔
— اعظم، مذکور (اضافہ کے ساتھ) دیوانِ اعلیٰ،
وزیر اعظم۔

صَدْر

بازار : مذکور، چھاوٹی کا بڑا بازار۔
جمہوریہ : مذکور (اضافہ کے ساتھ) جمہوری ریاست
کا سربراہ۔

مجلس : مذکور (اضافہ کے ساتھ) پریسیڈنٹ
مقام : مذکور، ہیڈ کوارٹر، دارالمخلافہ۔

ملکیت : مذکور (اضافہ کے ساتھ) کسی ریاست
یا حکومت کا سربراہ پریسیڈنٹ۔

نشین : مذکور، میر مجلس۔

— ہر جا کہ نشینند صدر دست : (ف) (مقولہ) لائق اور
امیر آدمی، جہاں بیٹھ جائے وہیں قدر و منزلت
پائے گا۔

صدوری : مونت، ایک قسم کی مرزئی۔

صدوق : (ع) مونت، سببی۔

صدوق : (ع) مذکور، سچائی، خلوص۔

مقالہ : مذکور، سچ بولنا، سچائی۔

نیت : (اضافہ کے ساتھ) مذکور، خلوص نیت۔

صدقہ : (ع) مذکور، (۱) خیرات، سر پر سے اتاری ہوئی
چیزیں، (۲) (مجازاً) خدایا، قربانی۔

(۳) طفیل، بدولت۔

— اتارنا : کسی چیز کو کسی کے گرد پھرا کر تصدیق کرنا۔

صدقہ جاریہ : (اضافہ کے ساتھ) مذکور، ہمیشہ لوگوں کو
فیض پہنچانے والی خیرات۔

— دیارِ بکلا : (مثل) خیرات دینے سے بلازدہ ہوتی ہے

صدقہ فطر : (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکور، عیدِ رمضان
کا صدقہ۔

کرنا، دستخط کرنا، (۳) درج سب کرنا، لکھ لینا،

(۴) حق ماننا، (۵) کرنا، (۶) دیکھنے کرنا، (۷) (ع)

گواہی شہادی سے لگا کرنا، تصدیق کرنا۔

مجھے سلامت آئے : (ع) (مثل) (ف) (مثل) (ع) جیسے

مجھے تھے ویسے ہی چلے آئے نہ کچھ کمایا نہ صرف کیا

جیسے یہاں تھے تھے ویسے ہی باہر رہے۔

صحیفہ : (ع) مذکور، کتاب، رسالہ، (۲) نامہ، خط

— صحیفہ آسمانی : وہ کتاب جو خدا کی طرف سے نازل

ہوتی ہو۔

— صد : (ف) (۱) سو، (۲) توراہ کی کثرت کے

واسطے۔

— بزرگ : مذکور، گنبد، گنبد کھن کھن کھن۔

— یا : (ف) مذکور، گنبد کھن کھن کھن۔

— چراغ : (ف) مذکور، روشنی کا چوٹی یا پشتی ستون

جس میں چراغ جلانے جاتے ہیں۔

— صل : وار

— صدنا : (ف) سیکڑوں، بہت سے۔

صدی : (ف) مونت، سو برس کا زمانہ، (۲) سیکڑہ

صدنا : (ع) مونت، (۱) آواز، آہٹ، (۲) دوش

کے مانگنے کی آواز۔

— دینا : (۱) فقیر کو آواز لگانا، (۲) بلانے کے لئے آواز

دینا، آواز دینا کسی چیز کا۔

— کرنا : (۱) کرنا، فقیر کا بھیک مانگنا، سوال کرنا،

فقیر کا آواز لگانا۔

— صدارت : (ع) مونت، صدر نشین ہونا۔

— صدراع : (ع) مذکور، در دوسر۔

— صداقت : (ع) مونت، (۱) راست بازی، خلوص سچائی

کھرا پن۔ (۲) تصدیق، ثبوت۔

— کشش : (ف) راستی کا مسلک رکھنے والا۔

— صدور : (ع) مذکور، (۱) ان کا سینہ، (۲) مکان کا

صحن، سامنے کا رخ، (۳) اطلاع، اطلاع دہندہ۔

صراحتاً : (ع) کھلم کھلا ، صاف طور پر ۔
 صراحی : (ف) مونت ، (د) شراب یا پانی رکھنے کا ایک
 خاص قسم کا ظرف (۲) لمبنا اور خوش نما ۔
 دار : صراحی کی شکل کا ، صراحی نما ۔

صراط : (ع) مونت ، (د) راستہ ، (د) اہل اسلام کے
 عقائد کے موافق ایک پل جو دوزخ پر قائم ہوگا ، وہ
 پل (اردو میں اسے پل صراط بھی کہتے ہیں) ۔
 مستقیم : (اضافہ کے ساتھ) (ف) راہ راست ،
 سیدھا راستہ ۔

صراف : (ع) مذکر ، (د) سونا چاندی رکھنے والا ، روپیہ
 پرکھنے والا ، (د) نقدی یا یوریا پیسوں وغیرہ کا
 لین دین کرنے والا (۳) پرکھنے والا ۔

کے سے گئے : اُس مسودے یا سال کی نسبت بولتے
 ہیں جو پڑانہ ہے اور جب چاہیں اُس کو بیچ لیں ،
 (۲) (دیکھنا) تھوڑے نفع کا سودا ۔

صراف / صرافہ : مذکر ، (د) مرانی کا پیشہ (۲) صرافوں کا
 بازار ، (۳) بینک ، کوٹھی ۔

صرافی : مونت ، (د) روپے پیسے کا بیوپار ، (۲) روپیہ یا
 اشرفی کی خوردہ کوٹھی ۔
 صرصر : (ع) مونت ، بادشہ ، آندھی ۔

صرع : (ع) مونت ، ہرگ ، ایک بیماری کا نام ۔
 صرف : (ع) مونت ، ایک جمل کا نام جس سے کون کی شناخت
 اور اول بدل معلوم ہو (۲) صیفوں کی گردان ،
 (۳) مشغول ، مصروف ، مذکر ، (۴) خرچ کرنا ، (۵) بسر ۔

تخو : مونت ، گرام ، قواعد ۔
 شرقی : علم صرف جاننے والا ۔
 صرف : (ع) تنہا ، اکیلا ، فقط ۔

صرفہ : (ع) مذکر ، (د) کفایت شعاری ، بخل ، (۲) افسوس ،
 دریغ ، (۳) خرچ ، بے جا خرچ ، فضول خرچ ۔
 صریح : (ع) ظاہر آشکارا ، صاف ۔

صریحا : (ع) کھلم کھلا ۔

صدقے جانا : نثار ہونا ۔
 کا چراغ : کسی پر سے اتار کر چوراہے پر رکھا جانے
 والا چراغ ۔

کا کوتا : (د) صدقے میں چھوڑ جانے والا کوتا ۔
 (۲) کھٹائی کا لالا کھڑا آدھی ۔
 کرنا : قربان کرنا ، نثار کرنا ۔

کی گڑیا : (د) بنا سنوار کر چوراہے پر رکھی جانے والی
 گڑیا ، (۲) نظر کشا یا طنزاً بدچینیت رکھی
 نامورت کا آرایش کرنا ۔

کے ماش : صحت یابی یا سفرے واپسی پر صدقہ کیے
 جانے والے تیل اور ماش ۔
 میں چھیننا : (د) کسی طفیل میں ریا پانا ، (۲) رڈیلا
 کے واسطے رپائی پانا ۔

صدومہ : (ع) مذکر ، (د) دھکا ، ٹکر ، ٹھیس ، (۲) چوٹ ، ضرب ۔
 (۳) رنج و غم کی چوٹ (۴) نقصان ، ضرر ۔

مہینچانا : (د) رنج دنیا ، دکھ دنیا ، (۲) آسیب پہنچانا
 ضرب لگانا ، (۳) نقصان پہنچانا ۔

صدومہ جاں کاہ : (اضافہ کے ساتھ) مذکر ، جان بھروسہ
 سنبھالنا ، صدمہ اٹھانا ، صدمہ کھینچنا ، صدمہ برداشت
 کرنا ۔

گزرنا : رنج ہونا ، مصیبت پڑنا ۔
 صدور : مذکر ، (د) صادر ہونا ، پہنچنا ، (۲) جاری
 ہونا ، نافذ ہونا ۔

صدیق : (ع) دوست ، دوستان ، (مفرد اور جمع دونوں
 میں مشغول ہے) ۔
 صدیق : (ع) نہایت سچا ، (۲) رسول خدا کے خلیفہ ،
 اول حضرت ابو بکرؓ کا لقب ، (۳) حضرت یوسفؑ
 کا لقب ۔

صدیقہ : مونت ، (د) حضرت عائشہؓ کا لقب ۔
 (۲) حضرت مریمؑ کا لقب ۔

صراحت : (ع) مونت ، وضاحت ، تشریح ، آشکارا ہونا ۔

صغیر : (ع) مون، قلم چلنے کی آواز۔

ص ص

صعق : (ع) سخت، دشوار، ناگوار۔

صعوبت : مونث، دشواری، وقت، مصیبت، تکلیف۔

صعود : (ع) مذکر، اُپر چڑھنا۔

صزول : اُتار چڑھاؤ۔

صنعار : (ع) مذکر، چھوٹے ریل کے چھوٹی لوکیاں۔

صغیر : (ع) مذکر، چھوٹا بچہ، چھٹائی۔

صغیری : (ع) خردسال، نابالغی۔

صغیرا : (ع) مونث، منطقیوں کی ایک اصطلاح۔

(۱۲) حضرت امام حسین کی ایک بیٹی کا لقب۔

صغیر : (ع) چھوٹا، آواز، (۲) علم عروض میں ایک بحر کا نام۔

صبر : کم فر، خردسال۔

صغیر : (ع) مونث، (۱۱) چھوٹی، (۲) چھوٹا گناہ۔

صغیر و کبیر : مذکر، خرد و بزرگ، چھوٹے بڑے۔

صفت : (ع) مونث، قطار، (۱۱) فرش، (۲) ہدیہ

چٹان، (۲) نمازی جس میں سب برابر اور ایک

خط پر کھڑے ہوں (جمع صفوف)۔

آرائی ہو : (ف) مونث، میدان جنگ میں پراہندی۔

اُلت جانا : (ف) لڑائی میں صف کا تتر بتر ہو جانا۔

بچھنا : (ف) کھینچنا، ماتم ہونا، کثرت سے آدمیوں کا

زمین پر گر جانا۔

بستہ : (ف) پڑا جانا، ہونے، قطار بانڈھ ہونے

بندگی : مونث، صفیں قائم کرنا، صفیں جانا۔

صغیر : (ف) (۱۱) لشکر کی صف پھاڑنے والا، (۲) حضرت

علیؑ کا لقب۔

صف : (ف) روشنی کرنا، (ف) کھینچنا، چراغ جلانا۔

شکن : (ف) صف ٹوڑنے والا، بہادر۔

کشی : (ف) مونث، میدان جنگ میں صف کسے

کرنا۔

ماتم : (اضافہ کے ساتھ) مونث، وہ فرش جس پر ماتم

کرنے والے بیٹھیں۔

مخشر : (اضافہ کے ساتھ) مونث، میدانِ حشر

میں آدمیوں کی قطار۔

صفا : (ع) مونث، (۱۱) صفائی، درستی، پاکیزگی، صاف ہونا

جلا، (۲) بے لاگ، بے رعایت، (۳) مکہ معظمہ کی ایک

بھاڑی کا نام۔

چٹ کرنا : بالکل موند ڈالنا، صاف کر دینا۔

کھینا : (ع) بے لاگ، کھری کھینا، گلی پٹی نہ رکھنا۔

مشریب : (ف) صاف طینت، صاف دل۔

صفیات : (ع) (جمع صفت کم) بامذکر، مونث،

اوصاف، خوبیاں

حسبہ : (اضافہ کے ساتھ) اچھی صفیں۔

ذاتی : (اضافہ کے ساتھ) کسی انسان کی ذات

میں پائی جانے والی خوبیاں۔

صفائی : صفات سے منسوب، ماضی۔

صفاً صفاً : (ع) صاف، برابر۔

صفتار : (ع) مذکر، ٹھنڈا۔

صفائی : مونث، (۱) صاف ہونا، جھاڑ پونچھ، ہمواری۔

(۲) سادگی، (۳) چکنائٹ گھٹائی، (۴) بریت

بے بڑی، (۵) گواہی، ملامت کی تائید میں، (۶) صلح،

ملاپ، (۷) کھرا پن، صداقت، راستی، دیانت،

(۸) حساب کی بے باقی، چکوٹا، چھٹا، (۹) بے بڑی،

بے حمل، (۱۰) کاٹ چھانٹ، قطع، (۱۱) بربادی

تباہی، (۱۲) جلا، (۱۳) خاکہ، بالکل نہ رہنا، (۱۴) نیک

نیت، دل کا صاف ہونا، (۱۵) پھرتی، چلائی،

(۱۶) سیل کھیل اور نظامت کا نکال ڈالنا، (۱۷) سیل

کھیل کا خارج ہو جانا۔

گردینا : (۱) جھاڑ پونچھ دینا، صاف کر دینا، جھلونا۔

(۲) بے باقی کر دینا، جھٹکانا کر دینا، دس خٹقل

گردینا، مارج دینا، (۳) کھا ڈالنا، اڑا دینا،

برباد کر دینا، خرچ کر ڈالنا، (۵) منہدم کر دینا،

کردینا

اجازت دینا (۶) قتل کر ڈالنا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا۔

(۷) چکا دینا، فصل کر دینا۔

صفایا بولنا : صفایا کرنا۔

صفایا کرنا : نیت و نابل و کرنا، مٹا دینا۔

صفت : (۵) موزن، (۱۱) خوبی، خاصیت، تعریف،

(۱۲) مانند، مشابہ، مثل، (۳) ایک اصطلاح صرف

و نحو۔

مُتَبَيِّنٌ : (اضافت کے ساتھ) (۵) وہ صفت جس میں وصفی معنی ہمیشگی کے واسطے پائے جائیں۔

صَفْرٌ : (۵) مذکر، ورق کا ایک طرف کا رخ۔

صَفْرٌ مَبْسُتٌ : (۵) مذکر، (اضافت کے ساتھ) (۱۲) اجماعاً دُنیا۔

سے اٹھنا : دُنیا سے گزرنا، مَرنا۔

سے نام و نشان ہٹا دینا : بالکل ناس

کر دینا، دُنیا کے پردے سے ناپید کر دینا۔

صَفْرٌ : (۵) مذکر، مسلمانوں کے دوسرے قری بیٹے کا نام۔

صَفْرٌ : (۵) مذکر، لفظ، نقطہ کا نشان۔

صَفْرٌ : (۵) مذکر، ایک خلط کا نام۔

صَفْرٌ : (۵) صفر از ازل کرنے والا، حرارت زائل کرنے والا۔

وی۔ صفر سے متعلق، منسوب بہ صفر۔

صَفْرُوی مَزاج : از زیادہ خلط صفر رکھنے والا مزاج۔

صَفْوَةٌ / صَفْوَةٌ : (۵) موزن، (۱۱)

برگزیدگی (۲) خالص، برگزیدہ۔

صَفْوِی : (۵) مذکر، ایران کے ایک شاہی خاندان کا نام،

صَفْوِی : (۵) برگزیدہ، دوست خالص۔

صَفْوِی النَّشْرُ : (مرد) حضرت آدم، اللہ کا خاص دوست۔

صَفْوِی : (۵) موزن، سیٹی، پرندگی آواز۔

صَفْلٌ / صَفْلٌ : (۵) موزن، صیقل کرنے والا، برتنوں

پر قلعی کرنے والا۔

صَلَا : موزن، دعوت عام کرنا، صیانت کے واسطے آواز دینا
نہ شد بلا شد : (دخل) منہ لگانا ہی، بڑا ہوا۔

صَلَّائے عَلام : (۵) موزن، عام دعوت۔

صَلَّابَت : (۵) موزن، (۱۱) سختی جو عمدہ یا جگر کے مقام

پر ہوتی ہے، (۱۲) رائے کی سختی، بے جا سختی۔

صَلَّاح : (۵) موزن، (۱۱) اچھائی، نیکی، بھلائی، (۱۲) مشورہ

(۳) رائے، تجویز، (۴) ارادہ، منشور، منصوبہ،

(۵) مناسب، موزوں۔

صَلَّائِش : (۵) خیر اندیش۔

صَلَّاتَانَا : رائے دینا، تہ تبریتانا۔

صَلَّار : (۵) (۱۱) زاہد، کھنٹی، (۱۲) شریک مشورہ،

مشورہ دینے والا، (۳) (اضافت کے ساتھ)

کام کی درستی۔

صَلَّاتٌ : (اضافت کے ساتھ) قرین مصلحت ہفتائے

وقت۔

صَلَّائِيَّت : (۵) موزن، (۱۱) لیاقت، قابلیت، استعداد

(۲) آہستگی، نرمی۔

صَلَّانَا : درستی پر آنا، راہ پر آنا۔

صَلْبٌ : (۵) مذکر، نسل، نطفہ۔

صَلْبِي : صبح، حقیقی۔

صَلْبٌ : (۵) موزن، باہمی موافقت، ملاپ، (۱۲) تصفیہ یا جگہ

صَلْبٌ : (۱۱) کسی کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا، سب کے ساتھ

آہستگی سے الگ رہنے والا۔

صَلْبٌ : نامہ، مذکر، راضی نامہ۔

صَلْبًا : (۵) مذکر، (جمع صراح کی)

صَلْبٌ عَلٰی : (۵) صلح علی محمد کا مخالف، محمد صلح پر درود بھیج

موزن، واہ دا، سبجان اللہ، کیا کہنا، شاہ باشل۔

زیادہ ثنا خوانی کے موقع پر۔

صَلْبٌ : (۵) صلح علی علیہ وسلم کا مخفف۔

صَلَوَاتٌ / صَلَوَاتٌ : (۵) جمع صلوة کی، موزن، (۱۲) درود

خدا کی رحمت، (۱۲) (۱۲) درود کسی چیز یا کسی فعل سے

دست بردار ہونا، باز آنا، بے زار ہونا، (د) گالی، دشنام۔

صلواتیں سنانا : بڑا بھلا کہنا، گالیا دینا۔

صلوٰۃ / صلوات : مونث، نماز، دعا، خدا کی رحمت۔

صلوٰۃ العتج : مونث، ایک قسم کی نفل نماز۔

صلوٰۃ الخوف : مونث، خوف کے عالم کی نماز، جو لڑائی کے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔

صلہ (ع) مذکر، (د) انعام، عطا، بخشش، (د) بدلہ، عوض۔

صلہ رحم : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، خویش واقربا سے محبت کا برتاؤ رکھنا۔

صلیب (ع) مونث، (د) سولہ، (د) نشان چلیبا +

(د) میساجوں کا مقدس نشان، (د) دار۔

صم (ص - م، ن، و) :

صم : بالکل خاموش، صامت و ساکن، وہ شخص جو کسی بات کا جواب نہ دے سکے، بہرا گوئیگا۔

صمد : (د) ہلنیا، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، (د) خدا کا ایک صفاتی نام۔

صمدیت : (ع) مونث، بے نیازی، بزرگی۔

صمصام : (ع) مونث، (د) کاٹنے والی تلوار، تیر تلوار (د) جھاڑا، مطلق تلوار۔

صمغ : (ع) مذکر، گوند۔

صنم : (ع) خالص، سچا۔

صنادید : (ع) جمع صندیدی، مذکر، بزرگ لوگ، سرور، ستارے : (ع) کارگر، نہایت ہنرمند۔

صناعۃ : مونث، پیشہ، ہنر، دست کاری۔

صنائع بدائع : مذکر، وہ متاعی اور ہنرمندی ہو کلام میں ہو۔

صندل : مذکر، ایک خوشبو دار لکڑی۔

رگڑنا : صندل کی لکڑی پتھر پر پانی کے سہارے سے رگڑنا۔

کاچھا یا : لگیے ہوئے صندل میں ٹر کر کے شوزیش

کلب مٹانے کے لیے دل پر درد سردور کرنے کے لیے سر پر رکھا جانے والا کپڑا۔

کاچھا پا : منٹیں چوری ہونے پر جسم میں صندل کا لگا یا ہو چھا پا، مکان کی دیواروں

یا طعام نذر کے ظروف پر بنائے ہوئے نشانات۔

صندل : (د) صندل کے رنگ کا، صندل کی لکڑی کا۔

(د) مونث، چوکی، کرسی، (د) ایک خاص قسم کی اونچی تپائی جس پر چڑھ کر سفیدی وغیرہ مکاؤں پر پھیرنے میں آسانی۔

صندوق : مذکر، (د) کبس، اسباب رکھنے کا ظرف، (د) مڑے رکھنے کا کبس۔

صندوقچہ : (د) مذکر، صندوق کی تصغیر، صندوقچی سے چھوٹا کبس۔

صندوقچی : مونث، چھوٹا صندوقچہ، صندوق کی وضع کا صنعت : مونث، (اصطلاح) کلام میں لفظ یا معنی کوئی خاص زبانش پیدا کر دینا، (د) پیشہ، ہنر، دست کاری، ہنرمندی، کاریگری۔

گر : (د) پیشہ ور، کاریگر۔

گری : (د) مونث، کاریگری۔

صنعتی انقلاب : (د) مذکر، وہ انقلاب جو مشینوں کی ایجاد سے یورپ میں آیا تھا۔

صنف : (ع) مونث، نوع، جنس، قسم۔

صنم : (ع) مذکر، (د) بیت (د) جہاز، معشوق۔

خانہ / کدہ : (د) بیت خانہ۔

صنوبر : (ع) مذکر، ایک پہاڑی درخت کا نام، ایک قسم کا مرو۔

خرام / قدر : قامت، (د) کناشا، معشوق۔

صواب : (ع) مذکر، درست، درستی، نیکی۔

اندیش : معقول بات سوچنے والا، بہتری کی رائے سوچنے والا۔

دید : (د) مونث، صلاح، تجویز، مصلحت۔

صویر : مذکر ، ملک کا متعدد ضلعوں پر مشتمل ایک حصہ ، ریاست ، (ہنگام) پردیش ۔

داری : نمونہ (۱۱۰) صویر کی حکومت (۲) صویر دار کا عہدہ ۔

صوت : (۱) نمونہ ، آواز ، صدا ۔

صوتیات : (۲) نمونہ ، (لسانی اصطلاح) ، علم آواز ، آواز شناسی ، لفظوں کی ادائیگی سے پیدا ہونے والی آوازوں کا علم ، علم الاصوات ۔

صویر : جمع صویر کی ۔

صویر : (۳) مذکر ، نرسنگ ، ٹرنی ، (۴) قیامت کے روز حضرت اسرافیل کا چھونکا جانے والا صویر ۔

صورت : (۵) (۱) پیکر ، شکل ، (۲) تصویر ، (۳) گت حالت ، کیفیت ، (۴) طرح ، وضع ، طرز ، ڈھنگ ، (۵) تدبیر ، تجویز ، موقع ، عمل ، (۶) مانند ، مثل ،

(۷) انداز ، قرینہ ، آثار ، (۸) وضع ، لباس ، بھینس ، روپ ، (۹) پت ، (۱۰) آثار ، علامت ، نشان ، (۱۱) شغل ، مشغلہ ۔

آشنا : (۱) جان پہچان ، روشناس ۔

باندھنا : (۲) منظر دکھانا ، سماں باندھنا ، کوئی واقعہ یا حال اس طرح بیان کرنا کہ اس کا سماں آنکھوں کے سامنے پھر جائے ۔

بلیں حالتیں میرس : (۳) (مقولہ) چہرے چہرے سے حالت ظاہر سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ۔

بگاڑنا : بد صورت کرنا ، بد شکل کرنا ۔

بنانا : (۱) شکل بنانا ، تصویر بنانا ، (۲) بھینس یا وضع اختیار کرنا ، (۳) منہ چرانا ، (۴) خاکہ ڈالنا ۔

پر کھینکا رہ کرشنا : صورت کا بے حد بے رونق ہونا ۔

چرچاڑو پھرے : (بددعا) نیست و نابود ہو ، غارت ہو ۔

چرچاڑو پھیرنا : مارے نفرت کے صورت نہ دیکھنا

نام نہ لینا ۔

پرکشت : (۱) ظاہر پرست ۔

پکڑنا : (۲) شکل اختیار کرنا ، کام کا ٹھیک ہو جانا ۔

جسے عیتم : (۳) نمونہ ، ہیبت ، پیکر ، دانگ ، خام

چیزیلوں کی مزاج پر کیوں کا (۴) مثل / بد شکل

مغز و جوتا ناک مزاجی دکھائے ۔

حال : (۱) اضافت کے ساتھ ، نمونہ ، موجودہ حالات ۔

حرام : (۲) ظاہر کا اچھا اور باطن کا خراب ۔

ساز : نمونہ ۔

سوال ہونا : صورت سے حاجت مندی ظاہر ہونا ۔

گرمی : صورت بنانا ، نقاشی ۔

نظر آنا : (۱) دکھائی دینا ، (۲) واقعہ ملنا ۔

نہ شکل بھاڑے نکل : (۳) عورت (مثل) بد صورت آدمی

کی نسبت طنزاً بولتی ہیں ۔

صورت نوعیت : (۴) نمونہ ، خصوصیات کی نوعیت خاص

تہم کی خصوصیات

صوری = (صفت) معنوی کا منہ ، ظاہری ۔

صوف : (۱) مذکر ، (۲) قلم کار ، (۳) دوات میں ڈالا

جانے والا کپڑا ، (۴) گونا گونے کا بانا ، اون ،

پشم ، (۵) زخم میں بھر جانے والا کپڑا

صوفی : (۱) مذکر ، پشم پوش ، اولی کپڑا پہننے والا ۔

غیر حق سے دل صاف کرنے والا ، روئیش ۔

صافی : (۲) مذکر ، کامل صوفی ، پارسا ۔

صوفیانہ : صوفی سے منسوب ، سادہ ، بے چمک ۔

صوت : (۳) نمونہ ، روزہ ۔

مترجم : (۴) (اضافت کے ساتھ) مذکر ،

ایک قسم کا دن بھربات نہ کرنے کا روزہ ،

منسوب حضرت مترجم سے ۔

وصال :- (اضافت کے ساتھ) (۱) مذکر ، دن بھر

ض

ض۔ ا

ضاد : مذکر، ضامجہ، ضاد منقوط، حساب، حمل (اجد)

میں اس کے ۸۰۰ عدد۔

ضابط : (ع) تحمل، بردبار۔

ضابطہ : مذکر، قاعدہ، دستور العمل۔

ضرتنا : دستور رواج کے مطابق کاروائی کرنا۔

قانون پر چلنا۔

ضاحک : (ع) ہنسنے والا۔

ضارب : (ع) مارنے والا۔

ضامن : (ع) مذکر، (د) کفیل، ذمہ دار، بیچ میں پڑنے

والا، کسی کی ضمانت دینے والا (۲) گلوئی کی

مضبوطی کے لیے جتنے کی دونوں طرف کی نئے کے درمیان

کی بانڈھی ہوتی پختہ (۳) دودھ جمانے کی ترشی۔

(۴) وہ چیز جس کے بغیر وہ سری چیز نہ کرے۔

ضار : (ع) وہ شخص جو ضمانت پیش کرنے۔

ضینا : کسی کو اپنا کفیل یا ذمہ دار بنا کے پیش کرنا۔

ضہونا : ذمہ دار بننا، کفیل ہونا۔

ضامنی : مومن، ذمہ داری، کفالت، ضمانت،

سپردگی۔

ضائع : (ع) اکارت، غارت، رایگان، بے فائدہ۔

ضمانہ : (د) تلف ہونا (۲) رایگان جاننا (۳) سرجانا

گزرنا : بر باد کرنا، تلف کرنا۔

ضہونا : (د) اکارت ہونا، تلف ہونا، بے فائدہ

صرف ہونا، (د) مرنا، فوت ہونا۔

(ض۔ ب)

ضبط : (ع) ہزکر، جوش کی روک، تحمل، برداشت،

(۲) انتظام، بندوبست۔

روزہ دکھ کر شام کو بھی روزہ افطار نہ کرنا اور
روزے پر روزہ رکھنا۔

وصلوۃ : مونت، روزہ۔ نماز۔

صیام : (ع) مذکر، جمع صوم کی، روزے۔

صومعہ : (ع) مذکر، گر جا۔

صوبیا : (ن) موضع، شرابِ سمرخ۔

صیاد : (ع) مذکر، (د) شکاری، چڑی مار، مای گیر

(ک) نیا مشوق۔

صیانت : (ع) مونت، حفاظت۔

صیغہ : (ع) مذکر، (د) شکار کیا جانے والا جانور

(۲) مونت، پنگ بازی یا کبوتر بازی، بیئر بازی

کی جنگ۔

أفکن / آندانہ : شکار کرنے والا، شکاری۔

صیدی : مذکر، کبوتر بازی، پنگ بازی، بیئر بازی

میں ایک دوسرے کا مقابل، ترین، مقابل دشمن،

صیغہ : مذکر، (د) مطلق صرف، کلمے کی وہ ہیئت

جو اس کو حرف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات

سکناات کی وجہ سے خارج ہوتی ہے، فعل کی

گردان کی صورت (۲) شیعوں کا نکاح، (۳) سریشہ

عکس۔

پڑھانا : (د) پہلی تشبیح (نکاح پڑھانا، ایجاب و

جواز کرنا۔

صیقل : (ع) مذکر، مونت، جلا، صفائی۔

ضرف : (ع) جلا کرنے والا، ہتھیار صاف

کرنے والا، سان پڑھانے والا۔

ضیہوتی : ا۔ یہودی۔

۲۔ یہودیوں کی ایک مالی تحریک کا

پیر۔

ستانے کے لیے تیار کی تھی، خدا تعالیٰ نے اس کے
گرا دینے کا حکم فرمایا۔

— **ضرب** : (ع) موٹ، (د) مار، صدمہ، جھوٹ،
(۲) ٹھپا، نہر، (۳) شمشیر کی جھوٹ، کسی
آلے کی جھوٹ، (۴) علم حساب کی ایک اصطلاح،
(۵) ضرر نقصان، (۶) دن کی زبان سے ائمہ اللہ
کو کرنا، (۷) بیان، (۸) اصطلاح علم عروض میں
بیت کا آخری رکن۔

— **آنا** : جھوٹ آنا، دھکا لگانا۔
— **جلدیا** : (اضافہ کے ساتھ) ایک خاص قسم کی آڑی ستر
ضرب المثل : موٹ، کہاوت۔
— **ہونا** : مشہور ہونا، کہاوت کی طرح مشہور ہونا۔
ضرب پڑنا : (۱) ہتھیار یا لٹھی کی جھوٹ پڑنا، (۲) آفت
آنا، ناگہانی صدمہ پہنچنا۔

— **خفیف** : (اضافہ کے ساتھ) موٹ، ہلکی جھوٹ، ہلکی ستر
— **شدید** : (اضافہ کے ساتھ) موٹ، سخت جھوٹ
ہلکے ضرب، سخت نقصان۔

— **ضربیں لگانا** : (اصطلاح صوفیوں کی) اللہ کا نام
اس طرح لینا کہ دل پر جھوٹ لگے۔
— **مرکت** : موٹ، ایک قسم کی ضرب (اصطلاح علم ستارہ)
— **مفرض** : (اضافہ کے ساتھ) موٹ، سادہ ضرب
ضرب غیر مرتب۔

— **ورقمت** : ضرب اور تقسیم۔
— **ضربات** : (ع) مذکورہ جمع ضربت کی۔
— **ضربت** : (ع) موٹ، جھوٹ، زد۔
— **ضرب** : (ع) مذکورہ زبان، نقصان۔
— **رساں** : نقصان پہنچانے والا۔ **مفیر**۔
— **جبر غام** : (ع) مذکورہ شہیر، درندہ۔

— **فلک** : (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکورہ بروج احد۔
ضرور : (ع) ضرورت کا مخفف، (د) ناگزیر، وادب،
لازم، فرض، (۲) (طنزاً) بے شک، ہرگز نہیں۔

— **کرنا** : (۱) روکنا، جاہلاد کا فرق کرنا، (۲) جوش
روکنا، تلخ بات کا جواب نہ دینا، غصہ نہ کرنا،
آنسو نہ گرنے دینا، درد کے موقع پر اُف نہ کرنا، نالہ
و فریاد نہ کرنا (۳) غصہ کو روکنا۔
ضبطی : موٹ، قزقی، چھین لینا۔
میں آجانا : مال یا جاہلاد کا قرق ہو جانا، چھین جانا

(ض - ح - خ)

— **ضج** : (ع) دوپہر، دن چڑھے۔
— **ضجک** : (ع) (۱) بہت ہنسنے والا، (۲) ایران کے
ایک ظالم بادشاہ کا نام۔
— **ضخامت** : (ع) موٹ، جسارت، جھم، لمبائی چوڑائی
اور مٹائی۔
— **ضخیم** : (ع) بڑا حجم رکھنے والا۔

(ض - د)

— **ضد** : موٹ، (د) مخالف، خلاف، برعکس (۲) کینہ،
دشمنی، مخالفت، (۳) پٹ، سینہ زوری، اصرار۔
— **رکھنا** : کینہ رکھنا، مخالفت رکھنا، نیز رکھنا۔
(۲) کسی کے اصرار و پٹ کو رد نہ کرنا۔
— **کرنا** : (د) اصرار کرنا، پٹ کرنا، (۲) تکرار کرنا،
جھگڑنا۔

— **ضدم** : ضد (دو) موٹ، ایک کے دوسرے کے خلاف ہونا۔
ضدّی : (دو) موٹ، ہتھی، اڑیل، پٹ کرنے والی موت۔
ضدّی : (د) ضد کرنے والا، ہتھی۔
— **ضدّین** : (ع) مذکورہ ایک دوسرے کی مخالف دو چیزیں

ص - ر - می

— **ضرار** : (ع) موٹ، مسجد ضرار، مدینے میں وہ مسجد جو
منافقوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے

ضرور

ضرور یا بالضرور : تاکید ضرور کی۔

ضرورت : (ع) موث، کمی، حاجت، احتیاج۔

کے وقت گدھے کو باپ بناتے ہیں : (مثل)
ناچاری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ناچاری کے وقت
ادنا لوگوں کی بھی خوش برد کرنا پڑتا ہے۔

مند : حاجت مند، مفلس۔

ضروری الاظہار : ضروری اں اظہار، جس کا ظاہر کرنا
لازمی ہے۔

ضروریات : مذکر، جمع ضروری کی، کسی کام کے لیے لازم
چیزیں یا افعال۔

ضریح : (ع) موث، (۱۱) ایک قسم کا تزیینہ ڈریج کوٹھی کے
انماز کا، (۲) قبر پر لگانے والی سہری۔

(صل - ع - م - و - مے)

ضعف : (ع) مذکر، شست، ناقص، کمزوری۔

بصارت / بصیر : (اضافت کے ساتھ)
مذکر، آنکھوں کی روشنی کم ہونا۔

ضعیف : (ع) شست، کمزور، لوٹھا۔

ضعیف الامتقاد (ضعیف امتقاد) : شست
امتقاد، وہ شخص جس کے امتقاد کا بھروسہ نہ ہو۔

ضعیف البنیان (ضعیف بنیان) : جس کی بنیاد کمزور
ہو۔ (مجازاً) انسان۔

ضعیفی : موث، کمزوری، بڑھا ہوا۔

ضعف / ضعف : (ع) مذکر، سختی، مشقت، تنگی، کمکش۔
ضلالت : (ع) موث، گم راہی، کج راہی۔

ضلع : (ع) مذکر، (۱۱) خط، لکیر (۲) صوبے یا ریاست
کا حصہ، جزو (۳) ذومعنی بات، جگت، رعایت، نفعی
(۴) پہلو۔

جگت : موث، رعایت، نفعی کے ساتھ پہلو دار
ضم / ضمہ : (ع) مذکر، (۱۱) ملانا، شامل کرنا۔

(۲) پیش (۳)

ضداد : (ع) مذکر، لہب، دو اکو ہانی یا کسی دینق شے
میں ملا کر ہلکا کرنا۔

میں ملا کر ہلکا کرنا۔

ضمانت : (ع) موث، ذمہ داری، کفالت۔

کرنا۔ ضمانتی دینا، ضمانت ہونا۔

ضمانتی : ضمانت، کفیل، ذمہ دار۔

ضما بئر : (ع) مذکر، موث، جمع ضمیر کی۔

ضمین : (ع) مذکر، (۱۱) اخرون، اندر، شمول، شرکت
(۲) (قانون) باب، فصل، دفعہ، مضمون، فقرہ۔

ضمناً : اشارتاً، کینایتاً، درپردہ۔

ضمناً : (ع) مذکر، دیکھو ضم۔

ضمیر : (ع) موث، (۱۱) دل، (۲) راز، مجید (۳) وہ
ایم جو قائم مقام ایم ظاہر کے ہو۔

آگاہ / (دل) : (دل) کے حال کا واقف۔

پوشیدہ راز دا جاننے والا۔

بھرنار : راجع ہونا : جس ایم کی جگہ ضمیر آئی ہے
اس ایم کی طرف ضمیر سے اشارہ ہونا۔

ضمیمہ : (ع) مذکر، وہ شے جو کسی اور شے پر لٹھا کر
لگا دیں۔ تہتمہ، تکلمہ، اضافہ۔

ضوء : (ع) موث، روشنی، آفتاب کی روشنی۔

ریوز / فگن : روشنی پھینکنے والا۔

رفش : (ف) مٹور، روشن۔

ضوء ابط : (ع) جمع ضابطہ کی، مذکر، قواعد، قوانین۔

ضیا : (ع) موث، (۱۱) آفتاب کی روشنی، (۲) روشنی۔

بار / رفش : روشنی پھیلانے والا۔

پاش / گستر : (ف) روشنی پھیلانے والا۔

ضمانت : (ع) موث، جہان، دعوت۔

ضمیم : (ع) مذکر، (۱۱) پھارنے والا شیر۔

(۲) دکناٹا، بھری، بہادر۔

ضیق : (ع) موث، (۱۱) نکل، مکان کی تنگی، (۲) دق، دشواری
ضیق النفس (ضیق نفس) : مذکر، سانس کا تنگی سے
آنا جانا، دسے کی بیماری۔

میں آنا۔ ہونا، ننگ ہونا، مایوس ہونا، گھبرانا۔

میں جان ہونا : بے حد پریشان ہونا۔

ط

بھول بتا شے وغیرہ چڑھانا۔
 — پر رکھنا : (کنایتاً) الگ کرنا، کسی کام کا خیال
 تھوڑا دینا، بھول جانا۔
 — پر رکھنا : (کنایتاً) بے کار ہونا، بے اثر ہونا، نکتہ
 اور ناکارہ ہو جانا۔
 طاقت : (ذ) مذکر، چھوٹا طاقت۔
 — فراموش : (ذ) فراموشی : (اضافہ کے ساتھ)
 جس جگہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائے۔
 — کرنا : بیکٹ کرنا۔
 — نسیاں : (اضافہ کے ساتھ) (ذ) مذکر،
 نسیاں کا طاق سے استعارہ۔
 طاق و جفت : (ذ) مذکر، ایک قسم کا جوا۔
 طاق ہونا : (۱) ماہر ہونا، بیکٹا ہونا (۲) جانا رہنا۔
 زانگی ہونا۔
 طاقت : (ذ) مونث، (۱) توانائی، زور، کئی (۲) مجال،
 سولہ، بساط، ظرف، (۳) مقدور مقدرت،
 (۴) سلطنت، حکومت۔
 — آزمائی : مونث، زور آزمائی، زور لگانا۔
 — سلب ہونا : طاقت جانی رہنا۔
 — کا جواب دینا : طاقت نہ رہنا۔
 — جہاں نہداشت خانہ بہ جہاں گزاشت :
 (مقولہ) کسی کے یہاں کوئی جہاں آئے اور صاحب خانہ
 جہاں داری کے موقع سے مل جائے۔
 — زور زور آور، توانا، پہلوان۔
 طاقت : (ذ) مذکر، ادنیٰ پارسی کپڑے کا تھان۔
 طاقتی : (ذ) مونث، ایک قسم کی طاق نالی ٹوپی۔
 (۲) بھینگا، اٹول، (۳) وہ گھوڑا جس کی ایک آنکھ
 چھوٹی اور ایک بڑی ہو۔
 طال اللہ عمرہ : (ذ) خدا عمر دراز کرے۔
 طالع : (ذ) خواست گار، طلب کرنے والا، ڈھونڈنے
 والا، مشتاق۔

طوع : مونث، طاعے خشکی، طاع ہوا، فیز نقطہ،
 حساب جمل (ابجد) میں اس کے فوئد مقرر ہیں۔
 طاب : (ذ) صفت، (۱) خوش بودار (۲) عمدہ، خوش
 و گوار، نفیس (۳) دل پسند (۴) صاف ستھرا۔
 — تراہ : اس کی قبر خوشبودار ہو، یعنی اس کی روح کو
 سکون اور خوشی نصیب ہو۔
 طابع : (ذ) مذکر، چھاپنے والا (انگ : پرنٹر)
 طابہ / طیبہ : مدینہ منورہ کے نام۔
 طارق : (ذ) مذکر، (۱) رات کو ظاہر ہونے والی رات کا
 مسافر (۲) وہ ستارہ جو صبح کو نکلتا ہے۔
 (قیل الاستعمال)
 طارم : مذکر، کلہی کا گھر، بالخانہ، کوٹھا۔
 — اختصر : (اضافہ کے ساتھ) (ذ) مذکر آسمان۔
 طاری : (ذ) چھا جانے والا، غالب ہونے والا۔
 — ہونا : چھانا، کسی کیفیت کا غالب ہونا۔
 طاس / تاس : مذکر، (۱) بڑا تھال (۲) ایک قسم کا
 ریشمی کپڑا۔
 طاعت : (ذ) مونث، نماں برداری، بندگی۔
 طابین : (ذ) طعنہ دینے والا۔
 طاعون : (ذ) مذکر، ایک مشہور متعدی مرض کا نام۔
 طاعنی : (ذ) سرکش، مالک کا نافرمان۔
 طاق : (ذ) مذکر، (۱) دیوار کی محراب دار ڈاٹ۔
 (۲) جو حفت نہ ہو (۳) فرد، لاشائی (۴) مکان کے
 دیواروں میں چیزیں رکھنے کے لیے بنائی ہوئی جگہیں
 — اُترو : (اضافہ کے ساتھ) (کنایتاً) برو کا طاق
 سے استعارہ۔
 — بھرنا : مسجد یا کسی بزرگ کے مزار کے طاق میں

طاؤس : (ع) مذکر (د) مور (۲) مور کی شکل کا ایک
 ساز۔
 — کا کوکنا، مور کا چلانا، بولنا۔
 — کی مستی؛ تھوڑی دیر رہنے والی مستی۔
 طاؤسی؛ طاؤس کے رنگ کا۔
 رقص؛ مذکر، مور کے ناچ سے مشابہ ایک قسم کا ناچ
 طائی کٹے؛ (ع) مذکر، عرب کے ایک سختی قبیلے کا نام،
 جس میں حاتم طائی کو سخاوت میں بہت زیادہ
 شہرت حاصل ہے۔

ط ب ع

طب : (ع) مونت، حکمت، یونانی علاج معالجے کا علم۔
 — جسمانی؛ (اضافہ کے ساتھ) مونت، جسم کے متعلق
 امراض کے تشخص و معالجہ کرنے کا علم۔
 — روحانی؛ (اضافہ کے ساتھ) مونت، روح کی بیماریوں
 علاج کرنے کا علم، علم اخلاق۔
 طبابت -؛ (ع) مونت، علاج کرنا، ڈاکٹری۔
 طبیب؛ (ع) بدن کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، حکیم۔
 — حاذق؛ (ع) مذکر، عقلمند اور تجربہ کار حکیم۔
 طباشیر؛ (ع) مذکر، ہارچی۔
 طباشیر / تباشیر؛ مونت، جس لوہن۔
 طباطبائی؛ (ع) مذکر، حضرت اسماعیل بن ابراہیم
 بن حسن بن علیؑ کے سلسلے کے سادات۔
 طباع (ع)؛ ذکی، تیر طبیعت۔
 طباطبائی؛ مونت، ذہانت، طبیعت کی تیزی۔
 طباعت؛ (ع) مونت، چھاپائی، (انگ، پرنٹنگ)
 طباق؛ (ع) مذکر، برسی رکابی، شلا، شمال۔
 — سامنہ؛ جوڑا چلا گول چہرہ۔
 طباطبائی کتتا؛ (ع) مونت، دہل، مفت خور اور سرے شخص کی
 روٹیاں بڑھنے والا، طفیلیا۔

طالبات؛ علم حاصل کرنے والی لڑکیاں (جمع طالبہ کی)
 — علم، علم سیکھنے والا۔
 طالب اور مظلوب؛ محبت و محبوب، بکنے والا (د)؛
 بخت، نصیب، قسمت۔
 — آزما، نصیب آزمانے والا۔
 — بے دار؛ (اضافہ کے ساتھ) مذکر (د) خوش
 قسمتی، (۲) دکنا یا (مشتوق۔
 — جاگنا / — چمکنا؛ (دکنا یا) قسمت کھلنا، نصیب جاگنا
 — خوا بیدہ؛ (اضافہ کے ساتھ) (د) مذکر، سویا
 ہوا نصیب، بد قسمتی۔
 — شناس؛ نجومی، قسمت کا حال بتانے والا۔
 — کرلنا؛ قسمت کا موافق ہونا، کسی کی قسمت سے۔
 — کند / — ڈر (د) صاحب نصیب، بختا اور۔
 طاہوت؛ (ع) مذکر، بنی اسرائیل کے ایک سردار کا نام
 طاہات؛ مونت، (د) ریاکار صوفیوں کے لاف و
 گزاف (۲) گب بازی۔
 طامع؛ (ع) لاپھی، حریص۔
 طاہر؛ (ع) پاک، صاف۔
 طاہر؛ (ع) مذکر، اڑنے والا، پرند۔
 — بسل؛ انیم جان پرندہ، آدھا ڈج کیا ہوا پرندہ۔
 — رنگ؛ (اضافہ کے ساتھ) رنگ کا طاہر سے استعارہ۔
 — روح؛ (اضافہ کے ساتھ) روح کا طاہر سے استعارہ
 — سدرہ / — عرش / — قدس / قدسی؛
 (اضافہ کے ساتھ) مذکر، دکنا یا (جبریلؑ)۔
 — قبلہ نما؛ (اضافہ کے ساتھ) مذکر، قبلے کا رخ بنانے
 والی مشق طیبی سوتی۔
 طاہرانہ؛ (ع) صاف، پرندے کی طرح، پرندے کی
 مانند۔
 — نگاہ ڈالنا؛ سرسری طور پر دیکھنا، اچھٹی نگاہ ڈالنا
 — طاہرہ؛ (ع) مذکر (د) گروہ، فرقہ، قوم، جماعت۔
 — (د) طوائف، رقاصہ اور گس کے ساتھ، ناچنے
 والوں کا گروہ۔

ایک رخی ڈھولک۔

— پرتھاب پڑنا؛ طبلہ بجانا۔

طَبِيعَت : (ع) مونث، (د) مزاج، خاصیت، (۲)

خصلت، عادت، طینت۔

— آنار۔ آجانا (د) دکنائیا، عاشق ہونا، فریفتہ

ہونا، راجب ہونا، (۲) دل کا آمادہ ہونا،

مائل ہونا۔

— اُتھل پُتھل ہونا۔ (ع) طبعیت بے قرار ہونا۔

— اُچٹنا۔ اُچاٹ ہونا؛ دل بے زار ہونا، اگانا جانا

— بارغ و بہار ہونا؛ طبعیت خوش ہونا، طبعیت کا

رنگین ہونا۔

— بحال ہونا؛ افاقہ ہونا، تندستی ہونا،

طبعیت کا خوش ہونا۔

— پودوچھ زور ڈالنا؛ (دکنائیا) غور و فکر کرنا۔

— پُر رکھ لینا؛ مقسم ارادہ کر لینا۔

— پُر گرائی آنار۔ پُر گرائی ہونا؛ (دکنائیا) ناگوار ہونا

— پھیل ہونا؛ (د) بیمار ہونا، (۲) اُٹنگ باقی نہ رہنا۔

— ظہر جانا۔ ظہرنا؛ تسکین ہونا، تسک ہونا،

افاقہ ہونا۔

— ٹھکانے ہونا؛ طبعیت اک سو ہونا۔

— ثانیہ؛ (اضافہ کے ساتھ) مونث، دوسری طبیعت

(دکنائیا) عادت، مزاج کا انداز پیدا کر لینے

والی عادت۔

— حاضر ہونا؛ طبیعت کا کسی کام کی طرف مائل ہونا۔

— وار؛ سوخ، ذہین، ہوشیار، زود فہم۔

— رُندھنا؛ طبیعت اشرہ ہونا۔

— رُنگ پُر آنا؛ طبیعت میں اُٹنگ پیدا ہونا۔

— رُوواں ہونا؛ طبیعت میں تیزی ہونا، کسی کام

میں تڑکنا۔

— سَینھلنا؛ بیمار کی طبیعت ڈرستی پر آنا۔

— کارنگ؛ طبیعت کا انداز۔

— کا قبول کرنا؛ طبیعت کا موافق ہونا، کسی بات کا

پسند کرنا۔

طَبِيع : (ع) مذکر، مونث، جمع طبیعت کی۔

طَبِيع : (ع) مذکر، بکنا۔

طَبِيع : (ع) مونث، (د) خصلت، مزاج، طبیعت، فطرت

(۲) چھاپنا۔

— آزماؤ؛ مونث، امتحان، طبیعت کی جودت اور

رسائی کا۔

— رسا/رواں؛ (اضافہ کے ساتھ) مونث تیز طبیعت

تیز ذہن۔

— زادا؛ (د) طبیعت سے نکالا ہوا، اپنی ایجاد یا

اختراع۔

— کرنا؛ چھاپنا، شائع کرنا۔

طَبِيعِي : (ع) طبیعت سے منسوب، قدرتی، ذاتی، نیچل۔

طَبِيعِي : (ع) مذکر، (د) موافق، مطابق (۲) عالی، بڑی کلابی

(۳) چھٹی، (۴) طبقہ، تختہ، (۵) درجہ منزل۔

— اُلٹ جانا؛ (د) کسی خاندان میں زوال آنا،

(۲) طبقہ الٹ جانا۔

— طَبِيعَات : (ع) جمع طبقہ کی، مذکر، طبقہ۔

— الارض؛ (طب) تاشل زمین کے طبقے،

زمین کی تہیں۔

طَبِيعَة : درجہ، منزل، تختہ۔

— اُلٹ جانا؛ کسی ملک یا ولایت کا تہ والا ہونا،

تہس تہس ہو جانا۔

طَبِيعَاتِي كَشْكَش (طب) قاتی کش، م کش، مونث،

(اشتمال اصطلاح)

سماج کی اقتصادی ناہمواری کی وجہ سے مختلف طبقوں

میں بے چینی۔

طَبِيعِي / طَبِيعِي : (ع) مذکر، بڑا ڈھول۔

— جَنگ : (اضافہ کے ساتھ) جنگ کا فہل،

نقارہ۔

— کا ہاتھی؛ (دہلی) جلوس کا وہ ہاتھی جس پر

نقارہ رکھا ہوا ہو۔

طَبِيعِي / طَبِيعِي : مذکر، طبلہ بجانے والے۔

طَبِيعَة : (د) مذکر، (۱) ڈبا، صندوقچی (۲) ایک خاص قسم کی

طَبِیْعَت :

— کا لہرانا / کا لہریں لینا ، طبیعت میں اُتنگ پیدا ہونا۔

— ہونا ؛ دمور رفت ہونا، جی چاہنا۔

— کا مالش کرنا ؛ جی تٹلانا۔

— گد گدانا ؛ طبیعت میں اُتنگ پیدا ہونا۔

— کرانا ؛ طبیعت پر زور ڈالنا۔

طبیعی ؛ حکمت کے ایک فن کا نام، جس میں اجسام کے تغیر و تبدل اور ان کی خاصیت کا حال درج ہو۔

طپاں / تپاں ؛ (ف) تڑپنے والا۔

طپا نچھ ؛ مذکر، (۱) چھتر، (۲) تیز ہوا کا تھونکا

طپش / تپش ؛ موٹ، (۱) گرمی کی شدت، تنازت جلیں، (۲) (مجازاً) جوش، فہم۔

طپال ؛ (۱) موٹ، تپتی۔

طزار ؛ (۱) تیز زبان، چالاک، شمش (۲) جگر۔

طزارا ؛ مذکر، چوکڑی، کٹا پٹخ۔

— بھرنا ؛ کلابجیں مارنا، بھاگنا۔

طراسے بھرنا ؛ (۱) خرف پڑھنا، (۲) سرپٹ دوڑنا، تیز بھاگنا۔

طراوت ؛ (۱) موٹ، (۲) تازگی، (۳) ٹھنڈی، شنگ

(۳) تزی، رطوبت، تراوٹ۔

— آنا ؛ ٹھنڈک پیدا ہونا۔

— بخشنا ؛ تازگی دینا، فرحت دینا۔

طرب ؛ (۱) موٹ، خوشی، خوشی، انبساط۔

— انگیزا / تیزا / سنج / قزا ؛ نشا

بڑھانے والا۔ زمت بخشنے والا۔

طرب گاہ (طربگاہ) ؛ خوشی کا مقام، عیش کی جگہ۔

طرح ؛ موٹ، (۱) تفریق نکالنا، (۲) بنیاد، جبر۔

(۳) وضع، انداز، طرز، (۴) حالت، گیت

رسم، (۵) مانند، (۶) وہ مہر جو غزل کہنے کے لیے

ردیف قافیہ بحر بنانے کو مقرر کیا جائے۔

— اُڑانا ؛ کسی کا ڈھنگ سیکھ لینا، ہوا ہونقل کرنا۔

— پک پڑھنا ؛ طرح پر غزل پڑھنا، طرحی غزل پڑھنا۔

— دارا ؛ وضع دار، خوب صورت، بالکا، نازو

انداز والا۔

— دے جانا ؛ مالنا، حیم پونشی کرنا، درگزر کرنا۔

— پروانی کرنا۔

— ڈالنا ؛ بنیاد ڈالنا، تدبیر کرنا۔

طرحی غزل ؛ موٹ، طرح میں بھی ہونی غزل۔

طرز ؛ (۱) مذکر، موٹ، (۲) روش، انداز، ڈھنگ،

طریقہ، (۳) خو، خصلت۔

— اُڑانا ؛ انداز سکھانا، کسی کا ڈھنگ سیکھ لینا۔

— کسی کی وضع کی نقل کرنا۔

— تحریک ؛ عبارت لکھنے کا ڈھنگ۔

طرف ؛ (۱) موٹ، (۲) کنارہ، (۳) جانب، عوض۔

رُخ، سمت، (۳) پاس، کھاڑ، پاسداری، پج۔

— اول ؛ (اضاف کے ساتھ) مذکر (قانون) مُدعی،

مستفیث۔

— ثانی ؛ (اضاف کے ساتھ) مذکر (قانون) فریق

مخالف مدعا علیہ۔

— دار ؛ ساتھی، مددگار، پاسداری کرنے والا۔

طرفین ؛ مذکر، دونوں طرف، دونوں جانب، مدعی

و مدعا علیہ۔

طریق ؛ (ف) موٹ، موگ، خوبی، زالاہن۔

طریقہ ؛ (۱) نیا، عجیب، افوکا، نادر، (۲) عجیب بات۔

— تماشا ؛ مذکر، عجیب و غریب تماشا۔

— ماجرا ؛ افوکا واقعہ، تعجب کی بات۔

طرقہ العین ؛ نظر نقل عین، (۱) لمحہ بھر دم بھر،

ذرا سی دیر۔

طَرَف : (ع) مذکر، لٹ، زلف، کاکل، سر کے بل کھائے ہوئے بال، سر کے بالوں کی لٹ، ۷۱، متقیس کے تاروں کا گچھا، (۳) ٹوٹی کا پھنسا، (۴) جانور کے سر کی چوٹی، (۵) پھندا، گچھا، (۶) اٹوٹھی بات، بھلائی، خوبی، (۷) ایک قسم کا شریخ زرد بھول، (۸) اٹوٹھا، عجیب۔
— پینا : بھگ پینا۔
— جانا : (ع) ذمہ جانا، حکم کرنا۔

طَرَف دَسْتَار : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، پگڑی کا پھندا۔

طَرَف گُل : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، دستار میں لگانے کا پھولوں کا گچھا۔

— لگانا : اضافہ کرنا۔

— ہونا : اصل سے بڑھ کر ہونا، ناقص ہونا، اٹوٹھا ہونا، زیادہ ہونا، بڑھ کر ہونا۔

طَرِيف : (ع) جمع طرف کی، مذکر، (۱) مذہب، (۲) رواج، شریعت، دستور، (۳) طرز، روشن، دلچسپ۔

طَرِيفَت : (ع) مؤنث، (۱) (مطلوبہ تصوف) تزکیہ باطن، (۲) موافقہ کا وہ طریقہ جس سے روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔

طَرِيفَة : (ع) مذکر، (۱) طرز، روش، (۲) قاعدہ، ترکیب، (۳) وضع، مذہب۔

— بتانا : کسی کام کے کرنے کا ڈھنگ بتانا، ترکیب بتانا، قاعدہ بتانا۔

— بڑھتا : ایسی دستور یا قاعدہ پر چلنا، بڑھانا، بڑھانا۔
طَشْت / تَشْت : مذکر، شلا، تھال، لٹن، ماتہ دھونے کا فرس۔

— آڑہام : (ف) صریح، آشکارا، مشہور، بدنام۔

طَشْتَرِي : پیر، چھوٹی پلیٹ۔

— کھٹنا : امراض و فیروز کے لیے حامل کا پینے کی

شتری پر زعفران سے دھاتیں لکھنا۔

طَعَام : (ع) مذکر، کھانا۔

طَعْم / طَعْم : مذکر، ذائقہ، مزہ۔

طَعْمَة : مذکر، (۱) لقمہ، ذوالا، (۲) خورش، رزی، (۳) شکاری پرندوں کا کھانا۔

طَعْن : (ع) مذکر، مؤنث، طعن کرنا، ملامت، طنز، عیب گیری۔

— تَشْتِيع : مؤنث، طعن، طنز، آوازہ۔

— کرنا : آوازہ کرنا۔

طَعْنَة تَشْتِيع : (طعن تشییع) مذکر، لعنت ملامت، برا بھلا۔

طَعْنَة زَنْ : (ف) طعنہ مارنے والا۔

طَعْنَة تَشْتِيع وِیْتَار / طَعْنَة وِیْتَار سَنَانَا :

برا بھلا کہنا، برا بھلا۔

طَعْرَا : (ترکی) مذکر، (۱) پیچیدہ خط میں نام یا القاب، (۲) تھروں پر نام کندہ کرانے کا لفظ، (۳) کنا پٹا، نشان، ملامت۔

— کَشْر : نویس : (ف) طعنا بنانے والا۔

طَعْنَرَاے بَدَنَامِي : بدنامی کا نشان۔

طَعْنَرَاے بَدَامَت : مذمت کا نشان۔

طَعْنَزِل / طَعْنَزِل : (ترکی) مذکر، خاندان سلجوق میں سے پہلے بادشاہ کا نام۔

طَعْنِيَان : (ع) مذکر، (۱) زیادتی، ظلم، (۲) حد سے گزر جانا، (۳) مجازاً سرکشی، پائی کاموں میں مارنا، خون کا جوش کرنا۔

طَعْنِيَانِي : مؤنث، سیلاب، دریا کا چرلھنا۔

— پَرَا نَا : سمندر یا دریا میں پانی بڑھنا۔

(ط - ف)

طِفْل : (ع) مذکر، (۱) بچہ، سفیر، خوار۔

طِغْلَانِ چمن : (ف) مذکر، رکنائیا) بانگ کا سبزہ اور پھولوں کی کلیاں۔
 طِغْلِ اشک : (ف) مذکر، (مزد) آنسو۔
 طِغْلِ دِبیستاں : (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر (۱) وہ شخص جو کسی کے آگے کچھ رتبہ نہ رکھتا ہو، (۲) ہوز، نا بخر بہ کار، (۳) ملک میں بڑھنے والا چھوٹا بچہ۔

مکتب : (اضافہ کے ساتھ) (ف) مذکر طفیل دبستان، نا بخر بہ کار۔
 طفلی : مونث، لڑکھن، نادانی، کستی۔
 طفولیت : (ع) مونث، لڑکھن، طفلی۔
 طفیل : (ع) مذکر، واسطہ، ذریعہ، وسیلہ، تصدیق طفیلی : بے بلائی کسی کے ساتھ دعوت میں چلا جانے والا۔
 طفیلیا : مذکر، خوشامدی، طفیل۔

ط - ل، م، ن

طلا : (ع) مذکر (۱) پتلی دوا جو عضو پر مالش کریں (کرنا کے ساتھ) (۲) سونا، حلیق، مگلاٹ۔
 دوز : (ف) جس چیز پر طلاق کام ہو، سونے کا کام کی ہوئی چیز۔
 ساز : (ف) کیمیاگر۔
 کارر : باف : طلا سے نقش و نگار بنائی ہوئی چیز۔
 کاری : مونث، سونے کا کام بنانا، سونے کا کام بنانے کا پیشہ کرنا، (۲) سونے کا کام۔
 کوب : (ف) (۱) زر کوب (۲) سونے کا ورق بنانے والے لوگ۔
 طلایے آخر : (ع) مذکر، عمدہ سونا، کندک۔
 دست افشار : لا خروہ و ریز کے خزانے کا پیشہ

جہل موم کے سونا۔
 اب : (ف) مذکر، زرخالص، خالص سونا، طلائی : (ع) (۱) سونے کا، سنہرا، (۲) زرد رنگ۔ (۳) آفتاب کی صفت میں مستعمل ہے۔
 طَلَّاب : (ع) مذکر، جمع طالب کی، طالب علم، چیتری۔
 طلاق : (ع) مونث، عورت کا فیرو نکاح سے آزاد ہونا۔

ہائِن : (اضافہ کے ساتھ) مونث، قطعی طلاق تین مرتبہ کی طلاق۔
 خلع : (اضافہ کے ساتھ) مونث، عورت کا مرد سے طلاق لینا۔
 رجعی : (اضافہ کے ساتھ) مونث، وہ طلاق جس کی مدت عہدت میں خاوند عورت کو بے جد یہ نکاح کیسے بیوی بنا سکتا ہے۔
 اکتیایہ : (اضافہ کے ساتھ) اشارتاً دی ہوئی طلاق۔

مغلظ : (اضافہ کے ساتھ) (ع) قطعی طلاق جس کے بعد بیوی کو لوٹنا نہیں سکتے۔
 طلاقن : (دہلی) مونث، طلاق دی ہوئی عورت۔
 طلاق نامہ : مذکر، طلاق دینے کی تحریر۔
 طلاقت : (ع) مونث، تیز زبانی، چرب زبانی۔
 طلائیہ : مذکر، (۱) رات کو حفاظت کرنے والی فوج۔ (۲) سپاہیوں کی رات کا گشت (ایک زاوند)۔
 پھرنا : فوجی گروہ کا شب کو گشت کرنا۔
 طلب : (ع) مونث، (۱) تلاش، جستجو، (۲) آندو۔ مانگ۔ (۳) خواہش، ملت، دھت۔
 (۴) ہلاوا، طلبی، اسی تنخواہ۔
 بچھانا : (ع) مونث، خواہش دفع کرنا، آرزو پوری کرنا۔
 گار : (ف) خواہش مند، جو یاں۔
 لنامہ : مذکر، مستحق، حاضر عدالت ہونے کا سرکاری پروان۔

طُحْرَقُ؛ (د) مذکر، کروزفر، شان و مثل، دھوم
 دھام، (۲۵) فرور، ڈینگ۔
طُحُ؛ (د) مونث، لالچ، حرص، چاہ،
 — خام؛ (اضافہ کے ساتھ) (د) مونث، پوری
 نہ ہو سکے والی تھنا۔
طُحْنَابُ؛ (د) مونث، جینے کی رستی۔
 — **أَصْلُ**؛ (اضافہ کے ساتھ) مونث، امید کی رستی
 امید کا نہ ٹوٹنا۔

طُحْرُو؛ (اضافہ کے ساتھ) مونث، عرق درازی۔
 طُنَابِینُ کھینچنا؛ (کنایتاً) دوری کم ہونا، فاصلہ
 نہ رہنا۔

طُنَّازُ؛ (ع) (۱۱) رمز کنایہ میں بات کہنے والا،
 (۲) ناز سے چلنے والا، شوخ، بے باک۔

(۳) (کنایتاً) ممشوق۔
طُنْبُورُ / **طُنْبُورُہ**؛ (ع) مذکر، ایک باہا، قبور۔
 — **نَوَّازُ**؛ (د) طنبور بجانے والا۔

طُنْزُ؛ (ع) مونث، طعنہ، چوٹ، آوازہ۔
 — **أَمِيزُ**؛ (د) طعنہ ملی ہوئی بات۔
طُنْزَا؛ (ع) طعنہ سے۔

طُنْزُکُنَا؛ آوازہ کتنا، طعنہ مارنا۔
طُنْظُنْظُنْ؛ (ع) مذکر، (د) کروزفر، رعب داب، دیدہ پر،
 (۲) فصہ، بد مزاجی۔ (۳) فرور، تکبر، گھمنڈ۔
 (۴) آن بان، تکنت۔

— **دُکھَانَا**؛ (ع) حکم جتاننا، اترانا، کروزفر دکھانا۔

ط۔ و، ہ، ی

طَوَاتُ؛ (ع) مذکر، (د) کسی چیز کے گرد پھرنا، (۲) خانہ،
 کعبہ کے گرد پھرنا۔

طَوَالَتْ؛ (ع) مونث، (د) درازی، لمبائی، (۲) زریاں۔
طَوَالَتْ؛ (ع) جمع طائفہ کی، مونث، ناچنے گانے کا
 پیش کرنے والی عہدت۔

طَلَبِي؛ مونث، بلاوا۔
طَلْبُ وِرْسُدُ؛ (ع) مونث، بازار میں اشیاء کی مانگ
 اور فراہمی

طَلَبِيہ؛ (ع) (طالب کی جمع) مذکر، طالب علم، شاگرد۔
طَلْبِيْمُ؛ مذکر، (د) جادو کا مجیب و تزیب تماشاء،
 مہیب شکل، (۲) بھان سستی کا تماشاء جادو۔

— **بَانِدُھِنَا**؛ انوکھی بات کرنا، تہیب انگیز اور حیرت خیز
 امر ظہور میں لانا۔

— **بِنْدُ**؛ (د) سحر یا منتر اور طلسم کے اثر میں مبتلا۔
 — **نُوْشِنَا** (د) بندھے ہوئے طلسم کا غالب ترافضوں
 یا اسم سے شکست ہونا، (۲) (کنایتاً) پردہ
 فاش ہو جانا۔

طَلِبَسَاتُ؛ جمع طلسم کی، مذکر، حیرت میں ڈالنے والا
 منظر۔

طَلِسَانُ؛ آفت کا، جادو کا۔
طَلِسِي؛ جادو کا، آفت۔

طَلِيعَتُ؛ (ع) مونث، صورت
طَلْوَعُ؛ (ع) مذکر، کسی ستارے کا نکلنا، بلند
 ہونا، نکلنا۔

طَلِيْعُہ؛ (ع) مذکر، وہ لشکر جو فوج کے آگے آگے
 دشمن کے اترنے کی جگہ اور دیگر امور دربان
 کرنے کو جاکر مانتا ہے، مشہر اور لشکر کی مخالفت
 کرنے والی سپاہ۔

طَلِيعُ؛ (ع) لالچی، بہت بڑا لالچی۔
طَلَانْجَا / **طَلْچَا** / **طَلْچَاہ** / **طَلْچَاہ** / **طَلْچَاہ**؛ مذکر، (د) تھپڑ
 تھپڑ، (۲) تھپڑا، (۳) چپاتی بڑھانے کے
 لئے ہاتھ کی چٹکی

— **بُزْزَانَا**۔ سہی کرتا رہنا۔ مارنا / کھینچ مارنا؛
 تھپڑ لگانا، طھانچا مارنا۔

طَلَانِيْتُ / **طَلَانِيْتُ**؛ (ع) مونث، اطمینان،
 دل جمعی

طوفان :

— بے تیزی : (اضافت کے ساتھ) بے عقل کی باتوں کا مجموعہ۔

— بھڑکانا : (دعویٰ جھوٹا الزام لگانا۔

— ڈھکانا : غضب کرنا۔

— زرا : (ف) سیلاب لانے والا۔

— مچانا : شور و غل کرنا۔

طوفانی : (۱) طوفان سے منسوب (۲) جھوٹا، مستغنی،

شریہ، نادبی، آفت کا بد کالا۔

طوق : (ع) مذکر (۱) گلے میں پہننے کا ایک زیور،

(۲) ہرموں یا دیوانوں کے گلے میں ڈالا جانے والا

بھاری حلقہ (۳) کبوتر فاختہ وغیرہ پرندوں کے گلے

کا قدرتی سیاہ گول نشان، (۴) منٹ کا گنڈا

یا چاندی کا حلقہ، ہنسل۔

— بڑھانا : (عوم) منٹ کا طوق اتارنا۔

— لعنت : (اضافت کے ساتھ) ف، مذکر، لعنت

کا ٹوکرا۔

طول : (ع) مذکر، (۱) درازی، (۲) لمبائی (۳) طول۔

— ایلند (طولیل بند) : (ع) مذکر، کسی مقام کا

طول میں فاصلہ، خط نصف النہار سے لے کر

اُس مقام تک۔

— اُکل : (اضافت کے ساتھ) ف، حرمی دنیا، امید کی

طوالت۔

— پکڑنا : بڑھ جانا، طوالت ہو جانا۔

— دینا : (۱) بڑھانا، دراز کرنا، موصہ لگانا (۲) کسی

مختصر بات یا معاملے کو بڑھانا۔

— طویل : بہت لمبا۔

— غمگین : (جھوٹوں کے لیے) خدا عمر دراز کرے۔

— عملی : (اضافت کے ساتھ) عمل کی طوالت۔

— کلام : (اضافت کے ساتھ) مذکر، زیادہ گوہ۔

— کھینچنا : دیر لگنا، مدت لگنا۔

طوائف الملوک : موت، بد انتظامی، بظلمی، انتشار۔

طوبی / طویا : (ع) مذکر، بہشت کا ایک درخت۔

— قامت / قد : (ف) رکنائیا، محبوب،

طور : (ع) مذکر، طرز، ڈھنگ، روش۔

— بے طور ہونا : (۱) حالت غیر ہونا (۲) حالت دلگڑاؤ

ہونا (۳) مرنے کے قریب ہونا (۴) کچھ بگڑنا،

حالت ابتر ہونا (۵) موقع بے موقع ہونا۔

— طریق / مذکر، وضع، حال، چلن، نوعیت، برتاؤ۔

طور / طور سینا : (ع) مذکر، کو طور، سینا، وہ پہاڑ جس

پر حضرت موسیٰ نے بجلی دیکھی تھی۔

طوس / توس : مذکر (۱) خراسان کے ایک شہر کا نام، مشہور،

(۲) ایک قسم کا اعلیٰ مقام، دل دار کھڑا۔

طوسی : (۱) طوس کا، طوس کا باشندہ (۲) ایک رنگ کا نام۔

طوطا / توتا : ایک مشہور پرندہ۔

طوطی : مذکر، مونث، ایک مشہور پرندہ۔

طوطیا : دیکھو توتیا۔

طوطیہ : مذکر، تھبید۔

طوع : موت، رفت، رضامندی، خوش نودی خاطر۔

طوعاً : رضامندی سے۔

— دوگرہ : (ع) چارونما چار، جبراً تھرا۔

— طوف : (ع) مذکر، طواف کرنا، گرد بھرنا۔

— حرم / کعبہ : (اضافت کے ساتھ) مذکر، کعبے کا طواف۔

طوفان : (ع) مذکر، (۱) سیلاب، طغیان (۲) بادِ تند،

آندھی (۳) کمال، نہایت (۴) دعویٰ تہمت،

بہتان، الزام (۵) غل، ستر، فادہ، ہنگامہ، جھگڑا

(۶) واویلا، کھرام، (۷) تہر، غضب، آفت (۸) شدت

کی بارش۔

— آنا : سیلاب آنا، شدت سے پانا، برسنا، شدت

سے ہوا چلنا، تیز آندھی چلنا۔

— اٹھانا : (۱) کسی پر تہمت لگانا (۲) فتنہ برپا کرنا،

ہنگامہ مچانا، غل، شور کرنا، واویلا کرنا۔

طَبِيبَات : مونث ، پاک عورتیں ، پاک چیزیں۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مذکرہ مدینے کا نام

طَبِيبِيَّة : مونث ، پاک۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مذکرہ پرند۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مذکرہ فصعہ ، تہر ، جوش ، غضب۔

طَبِيبِيَّة : آنا ؛ غصہ آنا۔

طَبِيبِيَّة : کھانا ؛ غم و فصعہ برداشت کرنا۔

طَبِيبِيَّة : مونث ، اہل عرب کی کاڑھوں پر ڈالنے

والی چادر۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مونث ، سرشت ، خو ، عادت۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مونث ، سرشت ، خو ، عادت۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مونث ، سرشت ، خو ، عادت۔

طَبِيبِيَّة : (ع) مونث ، سرشت ، خو ، عادت۔

طَوَّلًا : (ع) لمبائی میں ، درازی میں۔

طَوَّلًا : بہت لمبا ، دراز۔

طَوَّلًا : (ع) مذکرہ ، (د) کاغذوں کا مٹھا ، (۲) جھوٹی باتیں ، مبالغہ آمیز بیانیہ یا تحقیر (۳) اٹالا ، ڈھیر۔

طَوَّلًا : جھوٹی بات بڑھا کر بیان کرنا۔ جھوٹ کا اہل

باندھنا۔

طَوَّلًا : (ع) (د) دراز ، لمبا ، (۲) مونث ، علم و عزم میں ایک

بجر کا نام۔

طَوَّلًا : (ع) مندر ، گھوڑوں کا تھان ، اَضْبَلِيل

طَوَّلًا کی بلا بندر کے ستر (مخل) ایک کی آفت

دوسرے کے ستر ، قصور کسی کا اور کوئی مار جائے

طَوَّلًا : (ع) مونث ، قرآن پاک کی ایک صورت کا نام۔

طَوَّلًا : (ع) مونث ، (د) پاک ، صفائی ، (۲) وضو۔

طَوَّلًا : (ع) استنجا ، آب دست ، (۲) غسل۔

طَوَّلًا : (ع) مندر ، حیض سے پاک ہونا ، وہ ایام ہیں جن میں

حیض نہ ہو۔

طَوَّلًا : (ع) پاک کرنے والا ، پاک۔

طَوَّلًا : (ع) مندر ، (د) مین کے ایک قبیلے کا نام ،

(۲) قطع مسافت ، (۳) فیصلہ ، بے باقی ،

چکوتہ ، (۴) کوہ ، مختصر ، (۵) ختم کرنا ، تمام کرنا۔

طَوَّلًا : (ع) مندر ، (د) پیشینا ، موڑنا ، تہ کرنا ، (۲) ختم کرنا ،

فیصلہ کرنا ، نزاع کا رفع دفع کرنا ، (۳) قطع

مسافت کرنا ، (۴) بے باقی کرنا۔

طَوَّلًا : (ع) (د) بہت اڑنے والا ، (۲) (جواز)

آبادہ ، مستعد ، (۳) تیز فہم ، (۴) حضرت جعفرؓ

ابن ابی طالب کا لقب۔

طَوَّلًا : (ع) مندر ، ایک قسم کا فوجی عشارہ ، (۲)

ہوائی جہاز۔

طَوَّلًا : (ع) مونث ، خوشی ، رضامندی۔

طَوَّلًا : (ع) مونث ، خوشی ، رضامندی۔

طَوَّلًا : (ع) مونث ، خوشی ، رضامندی۔

طَوَّلًا : (ع) مونث ، خوشی ، رضامندی۔

ظ

مُونث ، ظوے ، ظائے معجمہ ، ظائے منقوطہ ، حساب جمل

(د) (بجد) میں نوسو تعداد ہیں۔

(ظ - ا م)

ظَالِم : (ع) (د) ظلم کرنے والا ، (۲) سنگ دل

(۲) (دکنائشا) معشوق۔

ظَالِمَانہ : ظلم سے بھرا ہوا۔

ظَالِم کی بیل نہیں بڑھتی ؛ ظالم کی اولاد نہیں بڑھتی۔

ظَالِم کی رسمیں دراز سے ؛ (مخل) ظالم کی عمر سواہ ہوتی ہے

ظالم کو بہت ملتی ہے۔

ظاہر : (ع) (د) خدا کا نام (۲) مکمل ہوتی بات ، صاف صاف

مطالعہ

ظرف :
 — پیدا کرنا؛ حوصلہ پیدا کرنا۔
 — دیکھنا ؛ حوصلہ دیکھنا۔
 — عالی ہونا ؛ حوصلہ بڑا ہونا۔
 — لبریز ہونا ؛ عمر آخر ہونا۔
ظرفیت : (ع) مونت، ظرف ہونا۔
ظروف : (ع) مذکر، جمع ظرف کی، برتن۔
ظریف : (ع) خوشنویس آدمی، دل لگی باز، ہنسی دل لگی کرنے والا، لطیف گو۔
 — طبع :- / مزاج ؛ (ع) خوش مزاج، ہنس مکھ۔
ظفر : (ع) مونت، نخی، کامیابی۔
 — جنگ ؛ مذکر، ایک قسم کا فوجی خطاب۔
 — یاب (ع) نخی پانے والا۔

(ظ - ل)

ظَل : (ع) مذکر، سایہ۔
 — انشُر - الہی - / حق - خدا - / سُبْحانی ؛
 (اضافہ کے ساتھ) مذکر (۱) خدا کا سایہ (۲)
 (مجازاً) بادشاہ۔
 — حمایت ؛ (اضافہ کے ساتھ) مذکر، حمایت کہنہ۔
 — ہما ؛ (اضافہ کے ساتھ) مذکر، ہما کا سایہ، رُشید
 ہے کہ جس پر ہما کا سایہ پھیر جائے وہ بادشاہ
 بن جاتا ہے۔

ظَلَم : (ع) مذکر (۱) بے انصافی، زبردستی، آفت،
 مصیبت، (۲) کمزور کو ستانا۔
 — اٹھانا ؛ جو دستہ بنا۔
 — ایجاد کرنا ؛ رستم پیدا کرنا۔
 — پالنا ؛ ظلم کا بدورسش کرنا، رستم کو مزید رکھنا۔
 — پیشہ ؛ (ع) ظلم کرنے کا عادی، دل دکھانے کا نوکر،

(۳) کھلا ہوا، صاف، عیاں، واضح (۴) صورت،
 اوپری حال (۵) دکھانا، ناپائیدار، دکھاوا۔
ظاہر ؛ ظاہر میں ۔
ظاہر باطن ایک سما ہونا / باطن یکساں ہونا۔
 دل اور زبان کا موافق ہونا۔
 — بنائے رکھنا ؛ ظاہر آراستہ رکھنا۔
 — میں ؛ ظاہر دیکھنے والا۔
 — پختہ ؛ ظاہری باتوں پر عمل کرنے والا، ظاہری
 حالت پر نظر رکھنے والا، دنیا دار۔
 — داری ؛ مونت، دکھاوے کی باتیں اوپری باتیں۔
 — داری برتناہ ؛ دکھاوے کی باتیں کرنا، تکلف برتنا
 نمود کرنا۔
 — رحمان کا باطن شیطان کا ؛ (دشمن) ظاہر تھا۔
 باطن بڑا۔

ظہور ؛ ظاہری طور سے ظاہر میں کھل کھلا، صاف صاف
کرنا ؛ (۱) دکھانا، افشا کرنا (۲) نشر کرنا، وضاحت
 کرنا، (۳) بناوٹ سے دکھانا، (۴) اشارے سے
 نمایاں کرنا۔

— کی دنیا ہے ؛ (دشمن) دکھاوے کی دنیا ہے، حین کا دکھاوا
 اچھا ہے سب اس کی طرف دار ہیں۔
 — ہونا ؛ واضح ہونا، کھل کھلا، مشہور ہونا، شہرت پانا۔
ظاہری ؛ (۱) دکھاوے کا، ظاہری برتاؤ (۲) کھلا ہوا، برہمی،
 ظاہری صورت۔

ظاہریت ؛ (ظاہری۔ یت) ؛ (ع) مونت، (تصوف کی
 اصطلاح) دنیا پر یقین رکھنے کا مسلک۔

(ظ - ر - ف)

ظرافت ؛ (ع) مونت، دل لگی، خوش بینی، تسنن۔
 — کا پھل ؛ بڑا ظریف۔
 — کا پہلو ؛ دل لگی کا انداز۔
 — کی پوٹ ؛ ظرافت کا مجوزہ۔

ظرف ؛ (ع) مذکر (۱) برتن، (۲) حوصلہ، (۳) مہمان نوازی،
 سچائی۔

۵-۵

ظہیر : (ع) مذکر، فقہ کی اصطلاح میں مرد کا اپنی موت کو مان بہن یا ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو شرما اس پر حرام ہیں۔

ظہیر : (ع) مذکر، (د) دوپہر ڈھلے کا وقت، تیسرا پہر (۲۷) لہوٹ، مسلمانوں کی دوسری نماز کا نام۔

ظہیرت : (ع) تشبیہ ظہیر کا، موت، مسلمانوں کی دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر جو ملا کر پڑھی جائیں۔

ظہیرتہ : (ع) مذکر، دوپہر کے کھانے کی دعوت (دنگ ا پنج)

ظہیری : پشت پر لکھا ہوا۔

ظہور : (ع) مذکر، ظاہر، نمائش، دکھاوا۔

زبانے دھوا : بنائے مخاصمت پیدا ہونا۔

زبانہ : ظاہر ہونا، وجود میں آنا۔

زبانہ آنا : کسی امر کا ظاہر ہونا۔

زبانہ : ظاہر ہونا۔

ظہور : دم۔ عوم مذکر، رونق۔

ظہیر : مددگار، دوست۔

❖ ❖ ❖ ❖

ظلم : توڑنا، ڈھانا، سختی کرنا، بہت ظلم کرنا، آفت ڈھانا، قیامت برپا کرنا۔
— دیکھنا : ظلم اٹھانا۔

رسیدہ : (ف) مظلوم، وہ جس پر ظلم ہوا ہو۔
— کا پھل / کا ثمر : ظلم کا نتیجہ۔

ظلمی : (صفت) ظالم، ٹھہر۔

ظلمات : (ع) موت، (۱) وہ تارکی جو سکندر کو آب حیواں میں علی نقی، (۲) اندھیرے، تاریکیاں۔

ظلمت : (ع) موت، تاریکی، اندھیرا، سیاہی۔

— آیا در، ستر، / کدہ / خانہ : (ف) مذکر، (۱) مقام تاریک، (۲) جہاز، دنیا۔

ظلم : سخت ظلم کرتے والا۔

ظ-ن

ظن : (ع) مذکر، گمان، خیال، رائے۔

— باطل : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، گمان بے اصل۔

— بند : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، گمان۔

— غالب : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، گمان غلط،

گمان بے ہودہ۔

— ظنی : (ع) (صفت) قیاسی۔

ع

عارض : عارض : (۱) اضافت کے ساتھ جانندی کی طرح گال،
نہایت خوب صورت چہرہ۔

— ہونا : ظاہر ہونا، پیدا ہونا، لاحق ہونا۔

عارضہ : (۱) عارضہ، مرض، روگ۔

عارضی : (۱) چند روزہ، اتفاقیہ، غیر مستقل۔

عارضیت : عارضیت، عارضی، چند روزگی، غیر مستقل صورت۔

عارف : (۱) (۱) پہچاننے والا (۲) خدا شناس،

صاحب معرفت ولی۔

عارف باللہ : خدا شناس۔

عارفانہ : عارف سے منسوب، عارف کی طرح۔

عاری : (۱) ننگ، خالی، (۲) مجبور، معذور،

(۳) بچ، دق (۴) سادہ نشتر

عاری آجانا / ہو جانا : ننگ آجانا، تنگ جانا،

ماجز آجانا۔

عاریت : (۱) عاریت، ادھار قرض۔

عاریتاً / عاریتی : عاریت، لہو قرض، چند روز کے

لئے، عارضی۔

عازم : (۱) قصد کرنے والا، ارادہ کرنے والا۔

عائشہ : (۱) دسواں، شمار میں دسواں حصہ۔

عاشق : (۱) (۱) چاہنے والا، لڑنے والا، بہت پسند کرنے والا

قائل۔

— مزاج : (۱) زندہ دل، خوش طبع، رنگیلا (۲) حس

پرست۔

عاشقانہ : (۱) عاشقوں کا سا (۲) عشق کے مضمون کا۔

عاشقی : عاریت، عشق، ہونا محبت، محبت۔

— خالاجی کا گھر نہیں : (مثلاً) عاشقی کرنا آسان

کام نہیں،

مشقت کا کام کرنا آسان نہیں ہے۔

ع : مذکر، بیہیہ، میں غیر منقوط، حساب (جبل) (بجد)
میں ستر عدد ہیں، (۱) رکوع قرآن (۲) اشارہ (۲) ہجو
کا اشارہ (۳) طیبہ السلام کا مخفف۔

عابد : (۱) مذکر، عبادت کرنے والا، زاہد، پرہیزگار۔

عاج : (۱) مذکر، ہاتھی دانت۔

عاجز : (۱) کمزور، ناتوان (۲) بے بس، مجبور (۳)

غریب، تنگ

— آنا : تنگ آنا، باپوس ہونا، پریشان ہونا۔

— کرنا : تنگ کرنا، مجبور کرنا، زبرد کرنا۔

— فوازی : (۱) ہونٹ، بے کس کی امداد۔

عاجزی : عاریت، عجز، انکار، عینت، مساجت، مجبوری

عاجل : (۱) جلد باز، جلد۔

عاد : (۱) عاریت، (۲) ایک قوم کا نام جس کے پیغمبر حضرت

ہوہ تھے۔ مذکر (۱) وہ عدد جو ایک معلوم عدد کو

پورا تقسیم کر دے۔

— اعظم : (۱) اضافت کے ساتھ وہ بڑے سے بڑا عدد

جو دو یا دو سے زیادہ اعداد کو پورا پورا تقسیم کر دے

عادات : (۱) عادت کی، مذکر، عادت،

عادت : (۱) عادت، (۲) عادت، (۳) رسم،

ریت، دستور، قاعدہ (۳) قلب، کسی چیز کی

لنت (۴) طبیعت، خاصیت (۵) طور طریقہ،

عادتاً : (۱) عادت سے، عادت کے طور پر۔

عادل : (۱) منصف، انصاف کرنے والا۔

عادی : (۱) خوگر، کسی بات کی عادت پڑ جانا۔

عار : (۱) عاریت، (۲) غیرت، شرم، لاج، ننگ،

(۳) عیب، بُرائی۔

عارض : (۱) مذکر (۲) گالی (۳) رخسار (۴) رخسار (۵) پیش آنیوالا،

لاحق ہونے والا۔

حاشور / حاشورہ : (۵) مذکورہ (۱۱) ماہ محرم کی دسویں
تاریخ (۲) حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
شہادت کا دن (۳) محرم کے پہلے دس دن۔
— کا دن : دسویں محرم۔

عاصی : (۱) گنہگار، نافرمان۔
عاطر : (۱) خوشبو (۲) مجازاً پاکیزہ، نفیس۔
عاطفت : (۱) مومن، مہربان، شفقت۔
عاقبت : (۱) مومن، (۲) سلامتی، آرام (۳) نیکی،
خیریت۔

تنگ کرنا : آسائش میں خلل ڈالنا، عیش بلیغ کرنا۔
تنگ ہونا : بزح ہو کر تنگ ہونا۔
ماق : (۱) نافرمان، سرکش، مان باپ کا حکم نہ ماننے والا۔
— کرنا : فرزند کی سے الگ کرنا۔
نامہ : مذکور، فرزند سے محروم کرنے کی دستاویز۔
ماقت : (۱) مومن، (۲) خاتمہ، انجام، نتیجہ (۳) آخرت
مقتا : (۱) آخر کار، بالآخر، (۲) زمانہ آئندہ۔
— (۱۵) قیامت کا دن۔

اندیش : (۱) دور اندیشی، انجام میں، ہوشیار
بخشوانا : خدا سے مغفرت کرنا۔
بخیر ہونا : انجام اچھا ہونا۔
— کا توڑنا : (۱) اعمال نیک سے۔
— کے پورے سمیٹنا : (۱) کنایاً، بہت بوڑھا ہو کر
— مرنا۔

گندی کرنا : ماقبت بگاڑنا۔
ماقتی جوڑا : (۱) مردے کے قواب کے لیے خیرات
کرنے کا جوڑا۔

ماقبل : (۱) مذکور، عقل مند، دانہ۔
عاقبت : (۱) اعکاف کرنے والا۔

عالم : (۱) خدا تعالیٰ کے سوا سب چیزیں، انواع مخلوقات
(۲) جہاں، زمانہ، دنیا (۳) صورت، سمت، ہم طور
طریق، ڈھنگ، (۴) کیفیت، لطف، (۵) بہار، روپ،

رونی، (۱) مانند، نظیر۔
عالم اب : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور جہاں
ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے۔
— آراہ : دنیا کو آراستہ کرنے والا۔

— آشنا : جگت آشنا۔
— آنکھوں میں اندھیرا ہونا : بے حد رنج و
— غم ہونا۔

— ارواح : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور،
— روجوں کا جہاں۔

— اسباب : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور،
— (مجازاً) دنیا۔

— افروز / ناب : عالم کو روشن کرنے والا۔
— سورج کی صفت۔

— امر : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور، (نصوف کی
— اصطلاح) ملائکہ۔

— بالال : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور، فرشتوں
— کا عالم۔

— بدل جانا : انقلاب عظیم ہو جانا۔

— برزخ : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور، مرنے کے
— بعد سے قیامت تک کا درمیانی زمانہ۔

— عالم پناہ : (۱) جہاں پناہ، وہ شخص جس کے پاس مخلوق
— کو امن ملے (۲) کنایاً، بادشاہ۔

— تصویر : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) اسکوٹ
— اور حیرت کا منظر۔

— تہ وبالا کرنا : اندھیرا مچانا۔

— جاوید : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور، عالم آخرت
— جبروت : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور، (نصوف
— کی اصطلاح) صفات خدا کا مرتبہ۔

— خاک : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکور، دنیا۔

— دکھانا : (۱) انداز دکھانا (۲) بہار دکھانا
— (۳) کیفیت دکھانا۔

عالم :

- ذہن ہو سکے، کنا یہ ہے ذات و صفات واسما ع
الہی ہے۔
- نکلوت : (اضاف کے ساتھ) مذکر، فرشتہ
کا عالم میں مشہور ہونا؛ مشہورہ آفاق ہونا، تمام دنیا
میں مشہور ہونا۔
- میں نشر ہونا : (۱) بڑا نام ہونا، رسوا ہوا۔
- ناسوت : (اضاف کے ساتھ) مذکر، دنیا کے
فانی۔
- نظر آنا : کیفیت معلوم ہونا۔
- وجود : (اضاف کے ساتھ) مذکر، عالم ہستی،
زندگی کا عالم۔
- ہیولائی : (اضاف کے ساتھ) مذکر، عالم اجرام
مالئیاں، مذکر، جمع عالمی کی، عالم کے رہنے والے دنیا
کے لوگ۔
- عالم : (ع) جاننے والا (۲) صاحب علم پڑھا لکھا فاضل۔
- عالم الغیب : (مائل غیب) (ع) مذکر، غیب کی بات
جاننے والا خدا تعالیٰ۔
- عالمی : (ع) بلند، بلند مرتبہ۔
- تبار : (ف) مالی خاندان۔
- جاہ / جناب / حضرت - درگاہ /
- حرمت / مہر / مقام / وقار۔
- بلند مرتبہ، رئیسوں کے لقب۔
- خاندان : اچھے گھرانے کا۔
- دماغ : بڑے دماغ والا عقل مند۔
- عالی شان : (۱) بڑی شان والا، اعلیٰ مرتبہ کا۔
(۲) شان دار۔
- ظرف : بڑے ظرف کا، بلند حوصلہ۔
- قدر / مرتبہ / مکان : بڑے مرتبے والا۔
- ہمت : (ف) بڑی ہمت والا، بلند نظر، فیاض۔

- دوست و جگت آشنا۔
- رویا : (اضاف کے ساتھ) مذکر، خواب کا عالم،
خواب کی حالت۔
- سوغلی : (اضاف کے ساتھ) مذکر، دنیا۔
- سوز : (ف) عالم کو جلانا دینے والا۔
- مشہور : (اضاف کے ساتھ) ایک اصطلاح تصوف
وہ عالم جس میں سب چیزیں نظر آجیں۔
- صغیرے / صغیر / صغیر : (اضاف کے ساتھ)
داوے انسان اور جسم انسان ہے۔
- علوی : (اضاف کے ساتھ) مذکر، (تصوف کی اصطلاح)
دنیا کے علاوہ عالم۔
- عالم غیب : (اضاف کے ساتھ) مذکر، دوسرا جہاں، ہم
سے پوشیدہ جہاں۔
- فانی : (اضاف کے ساتھ) مذکر، فنا ہونے والا۔
جہاں دنیا ع فانی۔
- قدس : (اضاف کے ساتھ) مذکر، بہشت۔
- کون : (اضاف کے ساتھ) مذکر، عالم موجودات
دنیا۔
- کون و نون : (اضاف کے ساتھ) مذکر، آرزوینا
دنیا، عالم فانی۔
- گہرا : (۱) نام دنیا میں پھیلا ہوا، (۲) جہاں کو
فج کرنے والا۔
- لاہوت : (اضاف کے ساتھ) مذکر، عالم ذات
الہی، سالک کے فانی اثر ہونے کا مقام۔
- مثال : (اضاف کے ساتھ) مذکر، ایک عالم ہے
اطیف تر بہ نسبت اس عالم اجرام کے جو
چیز کہ اس عالم میں نظر آتی ہے، اس کی نظیر
اس عالم میں پائی جاتی ہے۔
- معقول : (اضاف کے ساتھ) مذکر، عالم ذہنی،
معنی : (اضاف کے ساتھ) مذکر، عالم جو محسوس

عبّاس : (۵) (۱۱) اشیر دزمہ (۲) رنگ سیاہ، نیلا ہٹ
لے، ہوتے مرنج رنگ (۳) حضرت پیغمبر خدا کے چچا کا نام
عبّاسی : (۱) حضرت عباس رضی عنہ سے منسوب (۲) ایک پورا
اور اس کے پھول کا نام۔

عبّث : (۵) (۱۱) فضول، بے کار (۲) ناحق، بے وجہ۔

عبّث : (۵) مذکر، بندہ، غلام۔

عبّثیت : (۵) مؤنث، غلامی، بندگی۔

عبّثانی / عبّثی : (۵) (۱۱) مؤنث (۱) اہل کنگان کو
زبان (۲) مذکر، یہودی۔

عبّثت : مؤنث، نصیحت، خوف، تنبیہ۔

عبّثیز : خوف دلانے اور نصیحت پکڑنے والی بات۔

عبّثیزا : حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔

عبّثی : (۵) مذکر، بہت عقل مند (انگ، جنین)

عبّثیت : (۵) قرآنی آیت (۵) مؤنث، اطلاق سے۔

عبّثی : معمولی ذہانت۔

عبّثیت : (۵) مؤنث، بندگی، اطاعت۔

عبّثور : (۵) مذکر، (۱) پانی سے گزرتا، راہ پر گزرتا (۲) راہ پر گزرتا (۳) راہ پر گزرتا (۴) راہ پر گزرتا (۵) راہ پر گزرتا

پر حاوی ہونا، چھارت۔

عبّثور : (۵) مذکر، (۱) پانی (جزائر انڈمان)

بھیج دینا۔ (۲) عمر قید کی سزا۔

عبّثوری دور : (۵) مذکر، دور تغیر، بدلنے ہوئے حالات

کا زمانہ۔

عبّثیز : (۵) مؤنث، ایک قسم کی نرگس جو اندر سے زرد

ہوتی ہے۔

عبّثید : (۵) بہت سے غلام۔

عبّثیدہ : (۵) تصغیر عبیدک۔ چھوٹا غلام۔

عبّثیر : (۵) مذکر، کپڑوں پر چھڑکنے کا ایک قسم کا خوشبودار

مٹالا۔

(ع. ت. ج. م)

عبّاب : (۵) مذکر، فصیح، غضب۔

وقار : (۵) عالی مرتبہ۔

عالیہ : (۵) عالی کا مؤنث، بڑی، بلند۔

عام : (۵) (۱۱) پھیلا ہوا، مشہور (۲) کل، تمام سب لوگ

(۳) رواجی، رسمی، (۴) ہانڈا، اذنا، کم قدر،

(۵) معمول۔

پسند : سب لوگوں کی پسند، جسے سب پسند کریں۔

انفہم : سب کی سمجھ میں آنے والا، سہل، آسان۔

کر دینا : (۱) سب کے واسطے وقف کر دینا جو چاہے

قائدہ اٹھائے۔

میں : علانیہ، کھل کھلا۔

عامہ : (۵) عام، کل۔

عامی : مذکر، جاہل آدمی۔

عامیانہ : (۵) جاہلوں کا، عوام کی،

عامر : (۵) مذکر، آباد، آباد کرنے والا۔

عامرہ : (۵) مذکر، پھرا ہوا، معمور۔

عاطل : مذکر، (۱) ہاتھ سے کام کرنے والا، کارکن (۲) حاکم،

شاہی جہدے دار، تحصیل دار (۳) سیانا ٹینٹ

یا جھوت پرست کا عمل جاننے والا، تعویذ، منتر کرنے

والا (۴) عمل کرنے والا۔

عائد : (۵) عود کرنے والا، الٹ کر آنے والا۔

ہونا : ذمے پڑنا۔

عائلی : (۵) صیف، شادی بیاہ کے متعلق، ازدواجی

(ع. ب. م)

عبّاب : (۵) مؤنث، ایک عربی پوساک کا نام۔

عبّاد : (۵) جمع عبیدک، مذکر، خدا کے بندے، غلام۔

عبّاد : (۵) جمع عابدی، عبادت کرنے والے۔

عبّادت : (۵) مؤنث، خدا کی پرستش، نماز۔

عبّارت : (۵) مؤنث، بیان، مضمون، دعا، تحریر۔

آرائی : مؤنث، مضمون کو سنوار کر لکھنا، مضمون کی

رنگینی۔

عجائب :
 — نامہ ؛ شکل کا خط۔
 — و خطاب میں آنا ؛ نقل میں آنا ؛ ہر کیاں کھانا
 عذبات ؛ (ع) جمع عقبہ کی مذکورہ صفت۔
 عقبہ ؛ (ع) ۱۱) استاد ؛ دبیر (۱۲) اجازت (۱۳) مقدس
 دنگاہ
 عذرت ؛ (ع) مونت ؛ قریب رشتے دار ؛ بیٹے ، بیٹیاں وغیرہ۔
 زاپھار ؛ (ع) مذکر ، پاک اولاد (۱) آلی نبی۔
 عذیبی ؛ (ع) ۱۱) پڑانا ؛ کہنہ ، (۲) آزاد (۳) برگزیدہ۔
 عجائب ؛ (ع) مذکر ؛ جمع عجیب کی ؛ عقبہ ؛ انگریز ؛ عقبہ ؛ انگریز
 چیزیں۔

(ع-د)

عدالت ؛ (ع) صفت ؛ (۱) گواہی کے قابل ہونا (۲)
 عادل ہونا (۳) انصاف (۴) انصاف کی کچھری۔
 عدالت خفیہ ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛ چھوٹے
 چھوٹے مقدمات کا فیصلہ کرنے والی عدالت
 دیوانی ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛ ہاؤس یا حق
 کے معاملات کا تعین کرنے والی عدالت۔
 سیشن ؛ صفت ؛ وہ جو عدالت کی کچھری جس میں
 سنگین مقدمات کا فیصلہ ہو۔
 عالیہ ؛ صفت ؛ (اضافہ کے ساتھ) بہت بڑی
 عدالت ہائی کورٹ۔
 فوجداری ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛ ماہیٹ
 نقل جوری وغیرہ کے مقدمات کے فیصلے
 کی عدالت۔
 کے کئے ؛ مذکر ؛ رشوت لینے والے ملازمین عدالت۔
 ماتحت ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛ وہ کچھری
 جو کسی بڑے عالم کے ماتحت ہو۔
 مجاز ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛ مقدمہ کی سماعت
 کا اہل اختیار رکھنے والی عدالت۔
 دافوہ اولے ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛
 مقدمہ کی ابتدائی تحقیقات اور
 فیصلے کی عدالت۔
 ثانی ؛ (اضافہ کے ساتھ) صفت ؛ عدالت ابتدائی
 کی اپیل دائر کرنے کی عدالت۔

عذرت ؛ (ع) مونت ؛ قریب رشتے دار ؛ بیٹے ، بیٹیاں وغیرہ۔
 زاپھار ؛ (ع) مذکر ، پاک اولاد (۱) آلی نبی۔
 عذیبی ؛ (ع) ۱۱) پڑانا ؛ کہنہ ، (۲) آزاد (۳) برگزیدہ۔
 عجائب ؛ (ع) مذکر ؛ جمع عجیب کی ؛ عقبہ ؛ انگریز ؛ عقبہ ؛ انگریز
 چیزیں۔
 عجائب المخلوقات ؛ (ع) عجائب مخلوقات / مخلوقات
 میں حیرت انگیز چیز۔
 عجائب خانہ / گھر ؛ مذکر ؛ نادرا انوکھی چیزیں رکھنے
 والی عمارت۔
 عجائب و غرائب ؛ مذکر ؛ انوکھی اور عجیب چیزیں۔
 عجائبات ؛ مذکر ؛ جمع عجائب کی۔
 عجیب ؛ (ع) ۱۱) انوکھا ؛ نادرا (۲) طرفہ ؛ نیا ؛ چمنچے
 میں ڈالنے والا ؛ (۳) عقبہ ،
 (۴) دور ؛ بعید۔
 چیز ؛ (ع) انوکھی چیز (۲) طنز ؛ بے انکس (۳) ناگہ
 بے عقل۔
 عجیب ؛ (ع) مذکر ؛ غور ؛ عجیب ؛ خود بینی۔
 عزیز / عزیز ؛ (ع) مذکر (۱) عاجزی ؛ ناچاری (۲) انکار
 فروتنی وغیرہ ؛ (۳) امانت سماجت۔
 — ہونا ؛ کسی کام کے کرنے پر قادر نہ ہونا۔
 عجبت / عجبت ؛ (ع) صفت ؛ مہلکی ؛ بھرتی ؛ تیزی
 عجم ؛ (ع) ۱) عرب کے سوا ملک ، (۲) غیر عرب لوگ
 (۳) گونگا۔
 عجمی ؛ (ع) مذکر ؛ عجم کا رہنے والا ؛ عجم سے منسوب۔
 عجمیہ / عجمیہ ؛ (ع) مذکر ؛ عجیب چیز ؛ انوکھی چیز۔

عذابت (ع) موت، دشمنی، بغض، کینہ۔
 — قابی : (اضاف کے ساتھ) موت، پوشیدہ کینہ یا بغض۔

عداوت نکالنا : دشمنی کا بدل لینا۔
 عدت : (ع) موت، (اصطلاح فقہ) بے شوہر عورتوں کا وہ زمانہ جس میں دوسرا خاوند کرنا جائز نہیں۔

— میں بیٹھا : عدت کی عیاد گزارنا، مسلمان بیوہ موت کا عدت میں رہنا۔

عدو : (ع) مذکر، (د) گنتی، شمارہ والا یا کاکا کائوں کا مجموعہ (۲) ہندسہ، رقم۔

عَدَس : (ع) مونٹ، سوسر۔

عَدْل : (ع) مذکر، انصاف۔

— پُرُوْر / گُسْتَر : (ف) انصاف کرنے والا، داد دینے والا۔

— گُسْتَرِی : (ف) مونٹ، انصاف، عدالت۔

عَدَم : (ع) مذکر، نیستی نہ ہونا۔

آباد : مرنے کے بعد انسان کے جانے کی جگہ۔
 — کی راہ لینا : مرجانا۔

— مَطَابَقَت : مونٹ، کسی امر کا دوسرے سے مطابقت نہ ہونا۔

— وجود ہر لہر سے بڑھنا نہ ہونا کیساں ہے۔
 — بگتا ہے، بے کار ہے۔

— تَعَاوُن : (ع) مذکر، (د) کسی کام میں تعاون نہ کرنا، (۲) دانگنا نان کو اہر لیں۔

عَدَن : (ع) مذکر، (د) ایک شہر اور ایک طاقت کا نام۔
 (جنوبی عرب میں) (۲۶) بہشت)

عَدُو : (ع) مذکر، (د) دشمنی، مخالف (۲) رقیب، معشوق، کا دوسرا عاشق۔

عُدُول : (ع) مذکر، (د) روگردانی کرنا، منہ پھیرنا۔
 — تَحْتَلِی : مونٹ، نافرمانی، سرکشی۔

عَدِیْل : (ع) برادر، نظیر۔

عَدِیْم : (ع) وہ چیز جو معدوم ہو، ناپید ہو۔
 عَدِیْمُ الضَّرْفَت : (مدنیل فرصت) وہ جس کو مطلق فرصت نہ ہو۔

عَدِیْمُ الْمِثَال : (مدنیل مثال) بے مثل۔
 عَدِیْمُ الْوُجُوْد : (مدنیل وجود) نایاب، کم باب۔

(ع - ذ)

عذاب : (ع) مذکر، (د) اعمالیوں کی سزا، گناہ کی سزا، (۲) اذیت، دکھ، (د) دقت، دشواری، بھگڑا

بکھیرا (۳) روگ، علت (۵) تکلیف دینے والا، ایذا دینے والا۔

— ثَوَاب : مذکر، بُرّان بھلائی۔

— جَان : (اضاف کے ساتھ) جان کا وبال، جی کا وبال۔

— فِشَار : (اضاف کے ساتھ) فِشَارِ قَبْرِ کا عذاب قبر سگڑنے کا عذاب

— کا نازل ہونا : خدا کا قہر نازل ہونا۔

عَذَابٌ ہو نا : سخت تکلیف ہونا۔

عِذَار : (ع) مذکر، رُجْسَار، گال

عَذْبُ الْبَيَان : (مدنیل بیان) (ع) شیریں کلام عَذْر : (ع) مذکر، (د) حیلہ، بہانہ (۲) حجت، دلیل، اعتراض گرفت (۳) انکار، معذرت۔

— آوَر : مزلانے والا، مزل کرنے والا، معافی مانگنے والا

— باقی نہ رکھنا، کسی حجت دلیل اور اعتراض کی گمنامی نہ چھوڑنا۔

— پُذْرُ از گناہ / گناہ پُذْرُ از گناہ : (ف) (مثل) بے ہودہ مذر کہے ہوئے

— گناہ سے بھی خراب ہے۔

— لُجَا : (اضاف کے ساتھ) لغو اور بے ہودہ عذر

— پُذْرُ مِر : (ف) عذر قبول کرنے والا۔

— اکبر (اضافت کے ساتھ) (کنائیاں) آدمی کا
دل، قلب۔
— عرشِ بریں، مَعْلَاً؛ (اضافت کے ساتھ)
عرشِ اعظم۔
— پایہ / وقار؛ عالی مرتبہ۔
— پَر پہنچنا؛ (کنائیاں) بہت رفیع القدر اور
رفیع الشان ہونا۔
— پَر تھولنا؛ کنایاً بڑے رتے پر ہونا۔
— پَر چڑھانا؛ بڑی قدر کرنا۔ بڑی تعریف کرنا،
خوبصورتی کے مغزور بنانا۔
— پَر دماغ پہنچنا / پَر دماغ ہونا؛ بڑا مغرور
ہونا۔

— پناہ؛ (ف) عالی مرتبہ۔
— پُتیا / کرس؛ (ف) عرش پر پہنچنے والا۔
مقبول۔
— ثانی؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر، عرش کی
کڑوسی

— سے اُتارنا؛ وہ کام کرنا جو کسی سے نہ ہو سکے۔
— سے فرش تک / سے باتا بہ فرش؛ آسمان
سے زمین تک، اوپر سے نیچے تک۔
— کانارا؛ (کنائیاں) بہت عالی مرتبہ۔
— عرش کی زنجیر کھینچنا / کی زنجیر ہلانا؛
کناہ بچے دعا کی رشتی اور قبولیت کا۔
— کے تارے توڑنا؛ (کنائیاں) (۱) عجیب کام کرنا،
ناممکن کام کرنا، بڑا کام کرنا،
(۲) بے حد عیاری و چالاکی کرنا۔

— کانوٹا؛ عجیب اٹوٹھا۔
— ہل جانا؛ (کنائیاں) خدا کو روم آجانا۔
— عرشِی؛ (ف) مذکر، مغرب فرشتہ۔
— عرشیاں؛ (ف) مذکر، اللہ کے مغرب
فرشتے، حاملانِ عرش۔

عذر! خواہ / ساز / صبح؛ (ف) عذر کرنے والا
— دار؛ معترض، دعوے دار۔
— دارمی؛ مونث، اعتراض، دعوہ، حجت دلیل۔
— دُرمیان لانا؛ عذر پیش کرنا۔
— لنگ؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر، بوجِ عذر
— معذرت؛ مونث، منت سماجت۔
— نیوس؛ (ف) عذر سننے والا۔
— عذرا؛ (ع) مونث، کنواری، دوستیزہ (۲) واقعہ کی
معتشوہ کا نام، (۳) حضرت مریم اور حضرت فاطمہ
زہراء کا لقب۔

ع - ر - ر

— عراق؛ (ع) ایک عرب مُلک کا نام (۲) ایرانی موسیقی کے
ایک راگ کا نام جسے چاشت کے وقت
گاتے ہیں۔

— عراقی؛ عراقی کا گھوڑا۔
— عَرَب؛ (ع) مذکر، (۱) ایشیا کا مشہور جزیرہ نماد (۲)
اہل عرب کسب کا باشندہ۔
— عَرَبِستان؛ (ف) مذکر، عرب کا مُلک۔
— عَرَبی؛ (ع) (۱) عرب سے منسوب (۲) مذکر، عرب کا گھوڑا
(۳) عرب کا باشندہ (۴) مونث، عرب کی زبان۔
— عَرَبِیدہ؛ (ع) مذکر، بدخون، جنگ جوں، فتنہ۔
— جو؛ (ف) (۱) جنگ جو، (۲) (کنائیاں) فریبی،
بازنی، گرو خوشامدی۔

— عروس؛ (ع) مذکر، کسی کا بی بزرگ کا سالانہ فاقہ۔
— عروش؛ (ع) مذکر، تخت، چھت، خدای تعالیٰ کا عرش
— آرشیاں؛ (کنائیاں) مرحوم۔
— اعظم؛ (اضافت کے ساتھ) (ف) مذکر، خدا تعالیٰ
کا عرش۔

عُرْفَات ؛ (۷) مذکر، یکے کا ایک بڑا میدان، جہاں حاجی حج کے دن آکر ٹھہرتے اور دعاؤں کے ساتھ لپیک پکارتے ہیں۔

عِرْقَان ؛ (۷) مذکر، خدا شناسی، حق تعالیٰ کی معرفت عُرْفَةُ / عُرْفَةُ ؛ (۷) مذکر، (۱) ماہ ذی الحجہ کا نواں دن۔ جس روز مسلمان حج کرتے ہیں اور میدان عرفات میں بیٹھے ہو کر احکام حج بجالاتے ہیں (۲) عید بقرعید اور شب بارات سے ایک روز پہلے کا دن۔

عُرْق ؛ (۷) مذکر، (۱) پسینا (۲) کشید کے ذریعے سے نکالا ہوا پانی، دواؤں کے بھاپ سے بنایا ہوا پانی، (۳) کسی چیز کا پھوڑا ہوا پانی، شہیرہ۔

عُرْقِ النِّعَالِ ؛ (۱) اضافت کے ساتھ مذکر دو دفعہ کا کھینچا ہوا عرق۔

عُرْقِ رِمِیْ ؛ مونث، پسینا لانے والی سمٹ محنت بے حدت، جاں فشانی۔

عُرْقِی ؛ (۷) کسی کام میں بہت کوشش کرنا، سڑھنڈہ ہونا۔

عُرْقِی ہونا ؛ پسینے پینے ہونا۔

کھینچنا ؛ بخارات کے ذریعے سے کسی چیز کا پانی سفید کرنا۔

عُرْقِی ؛ (۱) اضافت کے ساتھ مذکر، گلاب کا عرق۔

عُرْقِی ؛ (۱) مذکر، وہ آلہ جس کے ذریعے سے دواؤں کا عرق کشید کرتے ہیں

عُرْقِی ؛ (۱) مونث، رمی عِرْقِ النِّسَاءِ ؛ (۷) مذکر، ایک بیماری جس کا درد پھڑپھڑوں سے اٹھ کر قوتوں تک پہنچتا ہے۔

عُرْوَج ؛ (۷) مذکر، پڑھتا، بلند ہونا۔

عُرْوَج ؛ (۱) اضافت کے ساتھ مذکر، چاند تک پہلی تاریخ سے چودھویں تاریخ تک کا زمانہ

عُرْوَج ؛ (۷) مذکر۔ جہاز کی چھت، (انگ) ڈیک عُرْوَج ؛ (۷) مذکر، (۱) دیر، تاخیر، توقف، (۲) زمانہ، اثنا، وقفہ، (۳) میدان (۴) فاصلہ۔

تنگ ہونا ؛ (۱) وقت کم ہونا، خیال کا میدان کوتاہ ہونا (۲) دکھنا، مصیبت میں مبتلا ہونا۔ عاجز ہونا، ناچار ہونا۔

عُرْوَجِ دِرَاز ؛ (۱) اضافت کے ساتھ مذکر، بڑا وقفہ۔ زلیبت تنگ ہونا ؛ (۱) اضافت کے ساتھ زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہونا۔

عُرْوَجِ حَشْرَا - حَشْرَا - قیامت ؛ (۱) اضافت کے ساتھ (۲) دن، میدان، قیامت۔

عُرْوَج ؛ (۷) مذکر، (۱) ایک اصطلاح وہ چیز جو اپنی ذات سے قائم نہ ہو، بلکہ دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو۔

عُرْوَج ؛ (۷) مذکر، (۱) لمبائی کی ضد، چوڑائی، موٹ (۲) درخواست بیان، التماس، گزارش۔

عُرْوَجِ الْبَلَدِ ؛ (۱) جغرافیہ کی ایک اصطلاح، مذکر، وہ زنی خطوط جو خط استوا کے متوازی کھینچے جاتے ہیں

عُرْوَجِ بِنِیْ ؛ (۱) مذکر، بارش کے حضور میں لوگوں کی درخواستیں پیش کرنے والا۔

حَال ؛ (۱) اضافت کے ساتھ مذکر، (۱) حال بیان کرنا، (۲) عرض داشت، عرض۔

عُرْوَجِ دَاشْت ؛ مونث، عرض، تحریر، درخواست۔

مِعْرُوج ؛ مونث، درخواست، گزارش۔

عُرْوَجِ طَوْل ؛ مذکر، چوڑائی، لمبائی۔

عُرْوَجِ قَوْلِیس ؛ مذکر، عمومی بات تک و غیرہ کہنے کا پیشہ کرنے والا۔

عُرْوَج ؛ (۷) مذکر، مشہور نام، عام نام۔

عُرْوَجِ ؛ (۷) حرف سے منسوب، رسمی، ملول، ظاہری، مشہور۔

عُرْوَج ؛ (۷) مذکر، جمع عارف کہ، اہل افتر۔

— پر ہونا ؛ اقبال یا در ہونا۔

عروس ۱۱ (۵) دہن۔

عروسانِ باغ /۔ عین ؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر
(کنایا) بھول اور باغ کے

نئے پودے۔

عروسی ۱ (د) امونٹ، مٹادی، نکاح۔

عروض ۱ (۵) مذکر ایک مشہور جیس میں نظم کی درستی کے
قواعد اور بحر کے ارکان اور زحمان کا ذکر

ہوئے۔

عروض ۱ (۵) ظاہر ہونا، عارض ہونا۔

عروق ۱ (۵) مذکر، (۱) جمع عرق کی رگیں، نسین (۲)

پتوڑا ہوا پانی رس۔

عزایاں ۱ (۵) برہنہ۔

عزبانی ۱ (د) امونٹ، دریاں ہونا، برہنگی۔

عزین ۱ (۵) پوڑا، پچلا۔

عزینہ ۱ (۵) (عین کیا گیا) مذکر، (۱) پھرنے کی طرف سے
لڑے کو لکھا جانے والا خط۔

عزیز ۱ (۵) مذکر، رجبہ۔

عزروجاہ ۱ شان، عزت اور مرتبہ۔

عزرا ۱ (۵) مونت، ماتم، ماتم پڑھی۔

— دارا، (۱) ماتم، میت کا نام کرنے والا۔

خانہ ۱ (د) مذکر، (۱) ماتم خانہ (۲) مریچے پڑھے
جانے یا تغیر رکھے جانے کی جگہ۔

قرنی / عزرا ۱ (د) مذکر، (۱) حب کے ایک مشہور نیت کا نام دن ابام
جاہلیت میں بتوں کی طرح بوجا جانے والا ایک نعت

عزراہیل ۱ (۵) مذکر، شیطان کا نام۔ بیس۔

عزائم ۱ (۵) نیت کی جمع، مذکر، ارادے۔

عزت ۱ (د) مونت، شان، آبرو، بڑائی۔

— اتارنا / بگاڑنا / کھونا / لینا ؛ آبرو اتارنا۔

— دار ؛ صاحب عزت، باعزت

— ریزی کرنا ؛ آبروریزی کرنا۔ آبرو بگاڑنا۔

عزت ۱

— میں بٹا لگنا / میں فرق آنا ؛ آبرو میں بٹا لگنا۔

عزرائیل ۱ مذکر، ملک الموت، جہان نکالنے والا فرشتہ۔

عززل ۱ (۵) مذکر، معزولی، موقوفی۔

عززل و نصب ۱ مذکر، موقوفی بحالی، ترقی و متنزل۔

— اول بدل کرنا۔

عزرات ۱ (۵) مونت، گوشہ نشینی، تنہائی۔

— دوست /۔ گزین۔ (د) گوشہ نشین۔

(۲) کنایا، ہمارے، مرتاض۔

عزیم ۱ (۵) مذکر، قصد، ارادہ۔

عزیم یا عزیم ۱ (د) ہکا ارادہ، مقصد۔

عزوجل ۱ (۵) غالب ہو اور بزرگ ہو (۱) ہمیشہ بزرگ
رہنے والا، خدا تعالیٰ کی صفت۔

عزیمز ۱ (۵) (۱) محبوب، پیارا (۲) رشتے دار، قربت

قربہ رکھنے والا، (۳) مصر کے وزیر کا
لقب (۴) خوب، دل پسند۔

عزیز القدر (عزیزل قدر) چھوٹے بھائی یا رشتے دار
کو لکھنے کا القاب، قابل
قدر، عزیز۔

عزیز الوجود ۱ (د) بزرگی وجود (۵) کم باب۔

عزیز جاننا ۱ کسی چیز کی قدر و منزلت کرنا، چاہنا، محبت
رکھنا۔ پیارا سمجھنا۔

— داری ۱ مونت، رشتے داری، یگانگت۔

— ہونا ۱ پیارا ہونا۔

عزیمت ۱ (۵) مونت، (۱) قصد، (۲) افسوں، منتر،
موکلوں کو طلب کرنے کا عمل۔

ع۔ س۔ ط

عساکر ۱ (۵) مذکر، جمع مسکر کی، فوجیں۔

عسکر ۱ (۵) مذکر، تکی، عسرت، غریبی۔

عَشْرَتِ : (ع) مونٹ، تنگل، دشواری، نمٹسی۔

عَشْرَكُ : مذکر، لشکر۔

عَشْرَكِي : (صفت) فوجی، سپاہی۔

عَشْرَكِيَّت : (ع) مونٹ، فوجی برتری کا زمانہ، فوجی دباؤ۔

عَسَل : (ع) مذکر، شہد۔

عَسِيْر : (ع) دشوار، مشکل۔

عِشَاءُ : (ع) مونٹ، رات کی نماز جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے سونے وقت کی نماز۔

عِشَاقُ : (ع) مذکر، (د) عین عاشق کی (۲۱) ایران کی سوجھ کے ایک راگ کا نام جو دو گھنٹی دن رہے لگایا جاتا ہے۔

عِشَاءُ نَيْتِيَّة : (ع) مونٹ، رات کا کھانا۔

عِشِيَّة : (ع) مذکر، ایک بوٹی کا نام۔

عِشْر : (ع) دس (۱۰)۔

عِشْرَد : (ع) دسواں حصہ (۱/۱۰)۔

عِشْرَات : (ع) جمع عشرہ کی، مذکر، دہائیاں۔

عِشْرٌ عَشِيْرٌ : کسی چیز کے دسویں حصہ کا دسواں حصہ بہت قلیل، ذرا سا۔

عِشْرَه : (ع) دس (۱۰) دس (۱۰) مذکر، مہینے کا دسواں دن

(۳) محرم کی دسویں تاریخ (۴) محرم کے اول دس روز۔

عِشْرَتْرَه : (د) ایضاً کے ساتھ وہ دس صحابی جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دی۔

عِشْرَتِ : (ع) مونٹ، عیش و نشاط۔

عِشْشُ عِشْشُ : دیکھو آتش آتش۔

عِشْشِقُ : (ع) مذکر، (د) کسی شے کے ساتھ حد سے بڑھ کر محبت کرنا (۲) رحمت، آفرین کی جگہ۔

عِشْشَرٌ مَوْلَا : مذکر، آزاد فقیروں کا اسلام لانا کا جواب دہ (اللہ ہے)

عِشْقُ بَارِ : (د) حُشْنِ پُرسْت، عاشق مزاج، عیاش۔

عِشْقَالُ / عِشْقِيَّة : (د) مذکر، ایک بھولے داریل کا نام۔

عِشْقِيَّة : (د) اضافت کے ساتھ، مذکر، محبت الہی۔

عِشْقُ كَا اَزَارُ : عشق کا بیماری کی طرح لاحق ہونا۔

عِشْقُ كَرْمَانَا : محبت میں جوش پیدا ہونا۔

عِشْقِيَّة : (د) اضافت کے ساتھ، مذکر، دنیاوی مشتاق کا عشق۔

عِشْوَه : (ع) مذکر، غمزہ، سرشمر، ناز و ادا۔

عِشْوَزِلُ / عِشْوَزِلُ / عِشْوَزِلُ / عِشْوَزِلُ : (د) ناز و ادا کرنے والا، فریبی (کنایتاً) معشوق۔

عِصَا : (ع) مذکر، لاشعری، چھتری۔

عِصَا دَارُ : مذکر، چوب دار۔

عِصَايِي : (ع) پیری، (د) مجازاً، بوڑھے کا لڑکا، بڑھاپے کا سہارا۔

عِصَايِي مَوْسِي (موسا) / عِصَايِي مَوْسُوِي : حضرت موسیٰ کا عصا جو ساحروں کے مقابلے میں سب سے جاتا تھا۔

عِصَاْرَه : (ع) مذکر، بھڑا، ہوا پانی، شہرہ۔

عِصْبُ : (ع) مذکر، جمع اعصاب کی، پنٹھا۔

عِصْبَات : (ع) جمع عصبہ کی، مذکر، باپ کی طرف کے مرد رشتے دار۔

عِصْبِيَّة : (ع) مذکر، باپ کی طرف کا مرد رشتے دار۔

عِصْبِيَّة : (ع) مونٹ، طرف داری، قرابت، مغربی پاس داری۔

عِصْبَانَه : (ع) مذکر، شام کے ناشتہ کی دعوت۔

عِصْبِيَّة : (ع) مونٹ، (د) دو درجہ کا شعور (۲) اپنے ہمد سے الگ ہی (کسی تخلیق پر اپنے ہمد کا اظہار۔

عِصْبَانَه : (د) زمانہ، روز شمار (۲) دن کا اخیر

عِصْبَانَه : (د) مونٹ، نماز عصر۔

عصمت : (ع) ہونٹ، اپنے تئیں عمامہ سے بچانا، پاک رہی
 بی بی ازیلی چادرنی (د) (دش) کسی کا ایک
 کام مجبوری سے کرنا۔

پر حرف آنا : پاکدامی پر حرف آنا۔

عصیاں : (ع) مذکر، گناہ۔

عصفور / عصفور : (ع) مذکر، بدن کا کوئی حصہ / عضو۔

تئاسل : (اضافے کے ساتھ) مذکر، ذکر،

عطا : (ع) ہونٹ، بخشش دینا، سخاوت پیش۔

پاش خطا پوش : (د) (کنایا) خدا تعالیٰ جو بندوں
 کے گناہوں کی پروا نہیں کرتا اور

مہربانیاں کرتا رہتا ہے۔

عطائے توبہ لگانے تو : (د) (مثلاً) دی ہوئی چیز
 کی ناپسندی کا عنصر / اظہار

یعنی آپ کی چیز آپ ہی کو مبارک رہے۔

مجھ کو لینا منظور نہیں۔
 عطائی : دیکھو اتالی۔

عطا یا : (ع) مذکر، جمع عطیہ کی، بخشش۔

عطار : (ع) (۱) عطر بیچنے والا (۲) مذکر،

دوا فروش۔
 عطار د : (ع) مذکر، دوسرے آسمان کا ایک ستیارد

دبیر فلک منشا فلک۔

عطر : (ع) مذکر، (۱) خوش بو (۲) جوہر / خلاصہ،

لب لباب (۳) خوش بودار چیز کا جوہر۔

افشال : (د) بیخیز (د) خوشبو پھیلانے والا۔

دان : (د) مذکر، عطر کی شیشیاں رکھنے کی

ایک خاص وضع کی صندوقچی۔

ریشہ : نہایت خوشبودار۔

فروش : (د) مذکر، گندھی، عطر بیچنے والا۔

کاجھویا : عطر میں ترکی ہوئی روٹی۔

کھینچا : (د) کسی خوشبودار چیز کا تیل کشید کے

ذریعے نکالنا (۲) است نکالنا، خلاصہ
 کرنا۔

کی سینک : عطر میں ڈھولی ہوئی روٹی پیٹ کر خریدار
 کو دیا جانے والا تینکا۔

میں بسانا : (کنایا) خوشبودار کرنا۔

عطریات : (ع) جمع عطر کی، مذکر، خوش بودار

چیزیں۔

عطریت : ہونٹ، عطر کی خوشبو رکھنا۔

عطش : (ع) ہونٹ، پیاس، تشنگی۔

عظف : (ع) مذکر، پھیرنا، علم خوشی ایک (مطلق)

عظوفت : (ع) ہونٹ، مہربانی۔

عظیہ : (ع) مذکر، بخشش، انعام میں دی ہوئی چیز۔

عظام / عظام : (ع) مذکر، بزرگ، کلاں۔

عظی / عظیما : (ع) ہونٹ، بڑی بزرگ عورت۔

عظمت / عظمت : (ع) ہونٹ، بڑائی، برتری۔

عظیم : (ع) بڑا، کلاں، بزرگ،

عظیم / عظمت : (د) بڑا، بڑے سے بڑے، بڑے ہونٹ کی

عظیم / عظمت : (ع) بڑا، بڑے سے بڑے

کا، بلند۔

(ع-ف-ق-ک)

عفت : (ع) ہونٹ، پرہیزگاری، پارسائی، پاکدامنی

ماہ : (د) مہینہ، پارسا۔

میں خلل ڈالنا : بے حرمت کرنا۔ زنا کرنا۔

عفتیت : (ع) مذکر، دیو، بھوت۔

عفت عفت : (ع) ہونٹ، کتے کی آواز،

عقور : (ع) مذکر، معافی، درگزر، بخشش۔

عقونہ : (ع) ہونٹ، بدبو، شراب۔

عقنی الثرقنہ : (ع) دُعا، (خدا اس کے گناہ معاف

کرے) اپنے نام کے بعد ایک سہ لکھا جاتا ہے

عصفیہ : (ع) ہونٹ، پارسا عورت۔

عقاب : (ع) مذکر، (۱) ایک طاقت ور اور بلند پرواز

شکاری پرندہ (۲۲) دیکھا گوں کی اصطلاح) نوسادر۔
 عقاب (۱۵) مذکر، غذاب۔
 عقائید (۱۶) مذکر، جمع عقیدہ کی، مذہبی اصول سامنا۔
 عقبت (۱۷) کسی کے پیچھے پیچھے آنا۔ پیچھے۔
 عقبا / عقبتی (۱۸) مونث، آخرت، دوسرا جہاں۔
 عجز ہونا (۱۹) عالم آخرت میں اچھا برتاؤ ہونا۔
 بنانا، عاقبت سنوارنا۔
 عقد (۱۰) مذکر، (۱۱) نکاح (۱۲) قول و قرار۔
 اناجیل (۱۳) اضافت کے ساتھ مذکر، انگلیوں پر شمار کرنا۔
 پروہیں (۱۴) اضافت کے ساتھ مڑیا، چھ ستاروں کا جھنکا۔
 خرتیا (۱۵) اضافت کے ساتھ ستارہ پروہیں۔
 عقد سیاب (۱۶) اضافت کے ساتھ (۱۷) اصطلاح کبیا) مذکر، سیاب کی گولی (۱۸) سیاب کی گولی بانہنا۔
 نکاح (۱۹) اضافت کے ساتھ اصطلاح فقہ ہندو، نکاح۔
 عقدہ (۲۰) مذکر، (۲۱) گبرہ، گنچ (۲۲) دکناٹا) مشکلات پیچیدہ مسئلہ (۲۳) بچھڑا، بچھڑا، (۲۴) بھید راز، دل کی بات۔
 حل کرنا / حل ہونا: پیچیدہ مسئلہ سمجھ میں آجانا
 عقدہ دل کھلنا: اضافت کے ساتھ دل میں شگفتگی پیدا ہونا۔
 عقدہ کشائی: اف / مونث، دقت دور کرنا، مشکل حل کرنا۔
 عقدہ لائینل / لا حل: اضافت کے ساتھ مذکر، وہ مشکل مسئلہ جو حل نہ ہو۔
 مشکل (۲۵) اضافت کے ساتھ مذکر مشکل سمجھ، پیچیدہ بات۔
 عقرب (۲۶) مذکر، (۲۷) بچھو، (۲۸) آسمان کے ایک

بُرج کا نام، (۳) دکناٹا) تھکراؤ، مُعید۔
 عقل (۴) مونث، فہم، ادراک، سمجھ۔
 عقلا (۵) جمع مافلی کی، عقل مند لوگ۔
 عقلاً (۶) انکل سے، عقل کی رو سے۔
 عقل آرائی: مونث، عقل دوڑانا
 اول (۷) اضافت کے ساتھ (۸) حکما کی اصطلاح میں پہلا فرشتہ، (۹) دکناٹا) تبریل (۱۰) رسول خدا صلعم کا نور (۱۱) عرض اعظم۔
 عقل اوندھی ہونا: بے عقل ہونا، منت اٹھی ہونا۔
 بڑی کہ بھینس: دم) مثل) (مزاخا) بے تکی بات۔
 پر پتھر پڑنا / پر پر (۱۲) پڑنا، عقل جاتی رہنا۔
 چرخ ہونا / چرخ میں ہونا: سمجھ میں نہ آنا، تعجب ہونا، حیرت ہونا۔
 چرنے جانا: ہوش ٹھکانے نہ رہنا۔
 چکر کھانا، حیران ہونا، پریشان ہونا۔
 دارو / کی دارو: مونث، انسان کے جوان ہونے کے قریب نکلنے والی دارو۔
 رُفو چکر ہونا: بڑھاپے کے باعث کم عقل ہو جانا
 سلیم (۱۳) اضافت کے ساتھ مونث، راس صابت پوری عقل۔
 ششدر ہونا: عقل حیران ہونا۔
 کا اندھا: مذکر، سمجھ بے وقوف۔
 کا پتلا: جسم عقل، نہایت عقل مند۔
 کل (۱۴) اضافت کے ساتھ وہ مشیر جس کے بغیر کوئی کام نہ کر سکیں، ناک کا بال۔
 عقل کی پڑیا، دعوہ عقل مند۔
 کے پیچھے ڈبڈبا لیے پھرنے: بے عقلی کے کام یا بات کرنا۔
 کے ناخن لینا (دکناٹا) ہوش میں آنا، سمجھ کر بات کرنا۔
 گدی میں ہونا: بے وقوف ہونا، کم عقل ہونا۔

عقل مجرّد : (اضاف کے ساتھ) مونث، معقول مشرہ میں سے ایک۔

عقل مند : (ف) خردمند، دانایا، ہوشیار۔

عقل کی ڈم : (طنزاً) عقل مندا میرا ہے وہی وہی۔

عقل کڈا لگانا : (نکل سے بات کہنا۔

عقول : (ر) مذکر، جمع عقل کی۔

عقول مشترکہ : (اضاف کے ساتھ) حکما کے مفروضہ

دس (بڑھتے جنہوں نے ساری کائنات

پیدا کی۔

عقلی : (ع) مذکر، ماقبل، عقل مند، ذکی، دانایا۔

عقلیت : (ع) مونث، معقولیت پسندی۔

عقل پرستی : (د) مذکر، (د) اکرام عقل کے ماتحت کرنے کا

رجحان، (د) عقل کی اولیت پر اعتقاد۔

عقوبت : (ع) مونث، عذاب، سزا، سختی، معیبت۔

عقیدت : (ع) مونث، اعتقاد، ارادت مندی۔

عقیدت مند : (ف) معتقد۔

عقیدہ : (ع) مذکر، (د) اعتبار، بھروسا، (د) مذہبی اصول کو ماننا۔

— ہونا : بھروسا ہونا، اعتقاد ہونا۔

عقیق : مذکر، ایک نرغ رنگ کا بیش قیمت پتھر۔

عقیق الجوز : (ع) مذکر، مونگا۔

— جگری : (اضاف کے ساتھ) مذکر، ایک قسم کا قیمتی عقیق

— شجری : (اضاف کے ساتھ) مذکر، ایک قسم کا عقیق

جس پر درخت کی شکل نمایاں ہو۔

— ناب : (اضاف کے ساتھ) مذکر، مجازاً (د) لب معشق

(د) اشکِ خمینی (د) شہزادہ انجوری۔

— مینہ : ایک اعلیٰ قسم کا عقیق۔

عقیقہ : (ع) مسلمان بچوں کے سر پر ڈالنے، بچے کے واسطے

دو بکرے، بچے کے لیے ایک بکرا ذبح کرنے اور نام

رکھنے کی تقریب۔

عقیمہ : (ع) مونث، بالآخرت، وہ مدت جس کے بال بچہ ہوتا ہو

عکس : (ع) مذکر، (د) برتو، سایہ، پرچھائیں، (د) اُٹلا،

(د) عداوت، ضد (د) فروغ۔

— اتارنا : ہو، ہو نقشہ بنانا، عکس تصویر کھینچنا۔

— پڑنا : سایہ پڑنا (کسی چیز کا)

— ڈالنا : برتو ڈالنا۔

عکس لینا : کسی تصویر یا تحریر کا ہو، ہو نقشہ لینا۔

عکسی : عکس سے مشوب۔

عکس بین : عکس بین (ع) من، مذکر۔ ایشیے کے

رنگین شجروں سے بنایا گیا ایک کھلونا جسے

پھرانے سے مختلف شکلوں کے بدلتے ہوئے

عکس نظر آتے ہیں، (د) منظر نما۔

(ع-ل)

علا : (ع) بلند مرتبہ۔

علا شانہ : عیس کی شان بلند ہے (مراد) خدا۔

علا : (ع) اوپر۔

علا الاتصال : (ع) اتصال (ع) متواتر، لگانا

— پے در پے۔

علا الاجمال : (ع) اجمال (ع) مجمل طور سے،

بالاشترک، مختصر طور پر۔

علا الاطلاق : (ع) اطلاق (ع) مطلق۔ بے قید۔

علا الاعلان : (ع) اعلان، حکم کھلا، علانیہ۔

علا التواتر : (ع) تواتر (ع) پے در پے۔

علا الحساب : (ع) حساب، چالو حساب میں بلا مسنا

پیشگی۔

علا الخصوص : (ع) خصوص، خاص کر۔

علا الدوام : (ع) دوام (ع) ہمیشہ۔

علا الرخوم : (ع) رخوم، خلاف۔

علا الصباح : (ع) صبح (ع) بہت سویرے تازگی

علا القوم : (ع) قوم، عام طور پر۔

عَلَامَت : (ع) مونث، (د) نشان (۲۱) آثار (۳۱)
پہچان (۴) کسی اداسے کی مہر یا کوئی اور
نشان۔

عَلَامَتِ شَاعِرِی : مونث، وہ شاعری جس میں
بعض خاص الفاظ سے استعمال سے
نئے معنا ہم پیدا کئے جاتیں۔

ہِزْتَال : (مونث) نمونے کی ہِزْتَال، وہ ہِزْتَال جو کسی
دوسری بڑی ہِزْتَال کی حمایت میں کی جائے۔

عَلَامَتِہ : (ع) مذکر، (۱) نہایت دانا، عالم اور فاضل مرد
(۲) نہایت چالاک، مکار مرد، (۳) مونث نہایت
چالاک، قیاس مورت، بے باک شوخ، چشم مورت۔
عَلَامَتِہ : (ع) ظاہر، کھلا، کھلا، کھلے خزانے، ڈنکے کی پوٹ
کہنا، ڈنکے کی چوٹ پر کہنا، کھلم کھلا کہنا۔
عَلَاوہ : ماضی، زیادہ اور بھی۔

اَزْس / بریس / باوجود یکہ مزید برآں،
اسی کے سوا۔

عَلَائِق : (ع) جمع علاقہ کی، تعلقات، کبھی بڑے۔

عَلَامِہ : (ع) مذکر، نشان، علامت، رسم۔

عِلَّت : (ع) مونث، (۱) بیماری (۲) وجہ، سبب (۳) جھگڑ
کبھی بڑا، (۴) خراب، اکالہ، چیز، کوڑا، کوٹ،

(۵) لٹ، بڑی عادت (۶) تہمت، بے جرم، گناہ۔

اَبْتِہ : (۱) اضافت کے ساتھ (مونث) مفہومیت کی کٹ
انگلام کرانے کی عادت۔

تَاَمَتہ : (۱) اضافت کے ساتھ (مونث) پورا سبب،
سبب کا بن۔

صَوْرِی / صَوْرِیہ : (۱) اضافت کے ساتھ (مونث)
چیز کی ظاہری صورت۔

عَالِی / عالیہ : (۱) اضافت کے ساتھ (چیز بنانے
مقصود اصل معنا، ماقصود، نتیجہ۔

فَاعِلِی / فاعلیہ : (۱) اضافت کے ساتھ (مونث)
کسی شے کا بنانے والا۔

عَلِی حَالِہ : (ع) بدستور، اپنی پہلی حالت پر۔

عَلَا حِلْدِی : (ع) مونث، جذباتی، تنہائی، خلوت۔

پَسْنَدِی : (ع) مونث، (۱) الگ تنگ رہنے کا

رُحْمَان (۲) تنہائی پسندی (۳) سماج

بیزاری۔ دنیا سے کنارہ کشی ہونے کا

رُحْمَان۔

عَلَا حِدَہ : (ع) (۱) الگ، جدا (۲) تنہائی میں

کَرْنَا : (۱) الگ کرنا، جدا کرنا (۲) برطرف کرنا۔

مَوْقُوف کَرْنَا (۳) انتخاب کرنا، چھانٹنا۔

عَلِی قَدْر مَرَاتِب : حیثیت یا مرتبے کے موافق۔

ہَذَا الْقِيَامِی : (ع) (۱) قیاس، (ع) اسی طرح،

اسی قیاس۔

عَلَا قِی : (ع) صفت سوتیلا، سوتیلی۔

عِلَاج : (ع) مذکر، (۱) معالجہ، بیمار کی دوا دوا کرنا

(۲) چارہ تریبیر، دفعیہ، (۳) سزا۔

کَرْنَا (۱) معالجہ کرنا، تدبیر کرنا، (۲) طنزاً

سزا دینا، ٹھیک بنانا۔

وِلَاج : (ع) (۱) وِلَاج تاج، (۲) وِلَاج

عِلَاقَہ : (ع) (۱) پھندنا، تلوار یا زور کا ڈورا، رکاب کا

تسمہ، حلقہ، طہرہ دستار (۲) دو چیزوں میں مناسبت

(۳) مذکر، تعلق، لگاؤ، ربط، ضبط (۴) سرکار، نسبت

واسطہ، (۵) صوبہ، احاطہ، قلمرو، عہداری، سرحد،

(۶) تعلقہ، زمین داری، جانے دار، ریاست،

(۷) نوکری کا تعلق۔

ذَار : (ع) مذکر، (۱) رشتے دار، قرابتی (۲) تعلق دار،

علاقے کا مالک۔

عِلَاقَہ دَسْتَار : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مذکر، بگڑی کا حق

یا شملہ۔

عَلَا لَت : (ع) مونث، بیماری، روگ۔

عَلَامُ الْعِیُوب : (ع) (۱) مطلق صیوب (۲) عیبی ہونے

یا قورساجانے والا (۳) خدا تعالیٰ

— زارہ : چچا زاد بھالی
 — عموی : میرا چچا۔
 — عمارت : (ع) مونث، تعمیر شدہ مکان، مکان۔
 — کھڑی ہونا : مکان بن جانا، تیار ہو جانا۔
 — عیاری : (ف) مونث، ہاتھی کا ہتھوڑہ۔
 — عثمان : (ع) جمع عامل کی، مذکر، سرکاری کار گزار،
 روپیہ وصول کرنے والے عہدے دار، پٹنوں کے حاکم۔
 — عمامہ : (ع) مذکر، دستار، بگڑی۔
 — (تارنا (۱) عمامہ چھیننا، لے لینا (۲) دکن پٹا)
 — زسو کرنا، لے آ کر کرنا۔
 — عمان : (ع) مذکر، ایک عرب علاقہ کا نام۔
 — عمائد : (ع) مذکر، قوم کے سردار، ممتاز لوگ۔
 — عمدہ : (ع) مذکر، فقہ، ارادہ۔
 — عمدہ : جان بوجھ کے، قصداً، دانستہ :
 — عمدگی : مونث، خوبی، بھلائی، فضیلت، بزرگی، جوہر و صفا
 — عمدہ : (ع) (۱) پسندیدہ، منتخب (۲) نفیس، تحفہ، اعلا
 درجہ کا (۳) ریش، صاب، ثروت، ذی مرتبہ، سردار
 — عمر : (ع) مذکر، جناب رسول خدا کے دوسرے خلیفہ کا نام۔
 — عمر : (ع) مونث (۱) سن، سال (۲) عرصہ، مدت (۳) زمانہ
 — آئندہ : (اضافہ کے ساتھ) مونث، امر جاوید،
 ہمیشگی کی عمر۔
 — بسنر ہونا : زندگی کٹنا۔
 — یہ پایاں رسید، عمر کا انتہا پر پہنچا ہوا۔
 — عمر پٹا : مذکر، عمر بھر کا ٹھیکہ، ہمیشہ جیتے رہنے کا قرار نامہ۔
 — پانچ روٹہ : (۱)۔ دو روزہ : (اضافہ کے ساتھ)
 پندرہ روز کی عمر۔
 — پندرہ روز کی عمر :
 — بسر کرنا۔
 — جاوید : (۱) جاوداں : (اضافہ کے ساتھ)
 ہمیشہ زندہ رہنا۔

علوم : مغربی (۱) اخافت کے ساتھ) مذکر، مغربی ممالک کے
 راج علوم۔
 — علوی : (ع) حضرت علیؑ کی اولاد۔
 — علوی : (۱) آسان (۲) مذکر، آسان، موکلوں فرشتوں
 یا ساتھی اٹھ کے ذریعے کیا جانے والا عمل۔
 — علی : (ع) مذکر (۱) خدا تعالیٰ کا نام (۲) خلیفہ چہارم
 کا نام۔
 — علی بند : مذکر (۱) ایک زیور (۲) کشتی کے ایک بیچ کا نام
 — ڈھت : بہت اونچا، قد آور۔
 — غول : مذکر، مسلمان بچے، بڑوں کا گروہ۔
 — علیا : (ع) مونث کے لیے، اعلیٰ بزرگی۔
 — علیک سلتک : مونث، معمولی ملاقات، صاحب سلاطین۔
 — علیک السلام : (ع) تجھ پر سلام، جو سلام کا جواب
 علیہ : (ع) بیمار، کمزور، ناساز۔
 — علم : (ع) دانا، خدا تعالیٰ کا نام، جاننے والا۔
 — علم : (ع) اوپر اُس کے۔
 — علیہ الرحمۃ : دُعا، اِس پر خدا کی رحمت ہو۔
 — السلام علیہ التَّیْم : (ع) دُعا، اِس پر سلام ہو۔
 — اَلصَّلٰوۃ : (ع) دُعا، اِس پر خدا کی رحمت ہو۔
 — علیہم السلام : (ع) دُعا، اُن سب پر خدا تعالیٰ کا
 سلام ہو۔
 — علیہم الرضوان : (ع) اُن سب پر خدا کی رضا مندی ہو
 — علیین : (ع) مذکر، بہشت کا نام۔

ع . م .

— علم : (ع) مذکر، چچا، باپ کا بھائی۔
 — علمتہ : مونث، باپ کی بہن، چھوہی۔
 — عموی : مذکر، چچا۔
 — علم زاد : چچا زاد۔

— رسیدہ : بڑی عمر کا ہوتا۔

— زواں : (اضافہ کے ساتھ) جاری عمر جو ہر وقت

دہر لکھنے رواں رہتی ہے۔

— سے اتر جانا : (کناتیہ) جوان سے ڈھل جانا۔

— ظیفی : (اضافہ کے ساتھ) موت، اصل عمر،

قدرت عمر۔

— کے دن بھرنار : کے دن پورے کرنا۔ کے

— دن کاٹنا : بڑی بلکل طرح عمر کاٹ لینا۔

— نوح : (اضافہ کے ساتھ) (کناتیہ) بہت بڑی عمر۔

— عمران : حضرت موسیٰ ؑ کے والد کا نام۔

— عزرائیلات : (ع) مذکر، علم تمدن۔

— عمر و (عمر) : (ع) مذکر، عام اشخاص، تشبیلی نام۔

فلان فلان سے عمر۔

— کی زنبیل : (د) عمر و نام کے ایک شخص کی جھول۔

حس میں سب کچھ سجا جاتا تھا۔ اور پھر

بھی جگہ باقی رہتی تھی، (۲) (بھارا)

ایسا طرف جس میں تمام ضروریات سما جائیں۔

— قرہ : (ع) مذکر، مسلمانوں کی مکتے میں ایک خاص عبادت۔

کا نام۔

— عتیق : (ع) مذکر، گہرائی، کنواں، حوض یا دریا کی گہرائی۔

— عئل : (ع) مذکر، (د) کام، (۲) تعمیل، کارہ الی، (۳)

مشق عبادت، معمول، (۴) قاعدہ، قاعدے کا برتاؤ،

(۵) اثر تاثر، (۶) نشہ، نشے کا اثر، (۷) فلک کی حد،

حکومت، عہد، (۸) قبضہ، (۹) منتر، افسون، اسم، جلا،

— حلوی یا سفلی (۱۰) سفیاض، پچکاری۔

— اٹھا لینا، قبضہ اٹھا لینا، حکومت اٹھا لینا،

— طیفہ جانا : پورا پورا قبضہ ہو جانا، حکومت جانا۔

— پڑھنا : کسی منتر دے یا افسون کا پورہ وغیرہ پڑھنا

— پڑھنا : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، چیز پھاڑنا۔

— چلنا : عمل کا کارگر ہونا۔

عَمَل

— دارمی : مونت، حکومت، ریاست، سلطنت

— دَخل کرنا : قبضہ کرنا۔

— دَر آمد : مذکر، ضابطہ، کارروائی، تعمیل۔

— دَر آمد ہونا : عمل میں آنا، کارروائی ہونا۔

— کرنا : (۱) کسی بات پر کار بند ہونا، تعمیل کرنا،

بات جاننا، کسی بات پر چلنا، بجالانا، برتنا،

برتنا، (۲) کرنا، (۳) اتر کرنا، (۴) کسی اسم یا ڈھکا

کسی خاص غرض کے لیے پڑھنا، (۵) قبضہ کرنا۔

— عملی : (ع) عمل سے منسوب، معمولی، روزمرہ کے استعمال کی

— عملہ : (ع) مذکر، (۱) کارکن لوگ، اہل کار و دفتر کے ملازم

(۲) مکان کا مکبہ۔

— دُخَلہ : مذکر، قبضہ و تصرف۔

— عَمُو و : (ع) مذکر، (۱) ستون، (۲) علم ہندسہ کی اصطلاح

میں وہ خدیہ مستقیم جو دوسرے خطہ مستقیم پر قائم ہو کر

دو زاویہ متعلقہ برابر کے پیدا کرے، (۳) گروز۔

— عَمُوم : (ع) مذکر، عام ہونا، بے قید ہونا۔

— عَمُومًا : (ع) عام طور پر، بیشتر، اکثر۔

— عَمِیق : (ع) گہرا۔

— عَمِیم : (ع) مذکر، عام، سب پر حاوی۔

ع - ن، و، ہ

— عَنَاب : (ع) مذکر، ایک سرخ میوے کا نام۔

— عَنَابِی : (ع) مذکر، (۱) سرخ مائل یہ سیاہی رنگ۔

(۲) صفت، عَنَاب کے مانند سرخ۔

— عَنَاد : (ع) مذکر، دشمنی، نیر۔

— عَنَادِی : (ع) مذکر، جمع ضد لیب کی، بیل۔

— عَنَاصِر : (ع) مذکر، جمع عنصر کی۔

— اَزْبَعہ : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، چاروں طرف،

آب، باد، آتش، خاک۔

- عُناں : (ع) موت، لگام، باگ۔
 — کتاب : (ف) اشارے پر چلنے والا گھوڑا۔
 — گشتہ : (ف) (د) لگام ڈالنا ہونا، (د) کنایتاً بہت تیز گھوڑا۔
 — گیر : باگ بڑھانے والا، چلنے سے روک دینے والا۔
 عنایات : (ع) موت، جمع عنایت کی۔
 عنایت : (ع) موت، (۱) مہربانی (۲) دہیہ، (تخفہ ۳) توجہ، التفات۔
 — فرما : دوست، مہربانی کرنے والا۔
 — کرنا : (د) مہربانی کرنا، (۲) احسان کرنا، (۳) دنیا نظر کرنا، (۴) توجہ کرنا۔
 — کی نظر ہونا : نگاہ لطف ہونا۔
 عَنب : (ع) مندر، انگور۔
 عَنبَر : (ع) مندر، ایک مشہور خوشبو کا نام، بھاگ پڑم کی طرح بھل جاتی ہے۔
 — آبودار : بار : (ف) (کنایتاً) خوشبودار۔
 — آفتشاں : (ف) (بمبیر : (ف) خوشبو دینے والا۔
 عَنبَرِین : (ف) عنبر کی خوشبو دینے والا۔
 عَنبَرِی : مندر، (۱) ایک رنگ کا کبوتر، (۲) ایک قسم کا خن لوزہ، (۳) ایک قسم کا سیب بھی ہوتا۔
 عَنَد : (ع) نزدیک۔
 عِنْدَ اللّٰہِ : (ع) اللہ کے نزدیک؛
 عِنْدَ الرَّاجِحِیَّاتِ : (ع) (غیدل) احتیاج) ضرورت کے وقت۔
 عِنْدَ الرِّضْوَانِ : (ع) (غیدل) ضرورت) ضرورت پڑنے پر۔
 عِنْدَ الطَّلَبِ : (ع) (غیدل) طلب کرنے پر، مانگنے پر۔
 عِنْدَ المَلٰٓئِکٰتِ : (ع) (غیدل) ملاقات، ملاقات کے وقت۔
 عِنْدَ النَّاسِ : (ع) (غیدل) ناموں لوگوں کے نزدیک۔
 عِنْدَ لَیْلِ : (ع) (موت،) نینل۔
 عِنْدَ یَمِ : (ع) مندر، (۱) رائے، (۲) منشا، منصوبہ۔
 عَنصَرٌ : (ع) مندر، (۱) اصل، بنیاد، (۲) اصطلاح) پانی، اصل، ہوا، بیٹی۔
- عَنْصَرِی گھروندا : (کنایتاً) جسم انسان۔
 عَنْوَان : (ع) مندر، ہر شے کا اول، جوان کا آغاز۔
 عَنْقَا : (ع) مندر، (۱) نایاب، (۲) نظیر (۳) محروم، ناپید۔
 عَنْقَا ہونا : ناپید ہونا، محروم ہونا، نایاب ہونا۔
 عَنْقَرِیْب : (ع) (موت،) مکرٹی۔
 عَنْوَان : مندر، (۱) سبیل، طرح، طور، (۲) صنگ (۳) تہدید (۴) مسکر نامہ۔
 عَنَیْن : (ع) مندر، نامرد، جو عورت کے کام کا نہ ہو۔
 عَوَارِض : (ع) جمع حادثہ کی، مندر، (۱) پیش آنے والی چیزیں، (۲) مرض، دکھ، بیماریاں۔
 عَوَارِضِ جِنْسَانِی : (ع) بیماریاں۔
 عَوَاظِیف : (ع) جمع ماہی کی، مندر، (۱) مہربانیاں۔
 عَوَاقِب : (ع) جمع ماقبت کی، مندر، (۱) چیزیں جو دوسری چیز کے پیچھے آئیں، (۲) کام کے انجام، نتائج۔
 عَوَام : (ع) مندر، عام لوگ۔
 عَوَامُ النَّاسِ : (ع) مندر، (۱) عام لوگ، (۲) عام لوگ، (۳) بازاری آدمی، جاہل۔
 عَوَالِمُ کَالِ النِّعَامِ : (ع) (عوام کی انعام) منقولہ عام لوگ جو مال ہو، (۱) توپاؤں کے ہیں، عام لوگ جن کی کوئی اہمیت نہیں۔
 عَوَامِل : (ع) جمع مامل کی، عمل کرنے والے سے عظیم الحقیقہ عَوَاجِزِ بِنِ عَوَاقِبِ : (ع) (ع) مندر، (۱) عظیم الحقیقہ طویل القامت شخص کا نام۔
 جو حضرت آدم کے وقت میں پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ کے زمانہ تک زندہ رہا۔
 عَوَد : (ع) مندر، (۱) ٹوٹنا، پھرنا، (۲) واپسی، مراجعت۔
 عَوَد کرنا : لوٹ آنا، اعادہ کرنا، پھر آنا۔
 عَوَد : (ع) مندر، (۱) سیاہ رنگ کی مکرٹی جس کا ڈھواں خوشبودار ہوتا اور یہ مکرٹی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔
 (۲) دھم آگ۔
 عَوْدِ بِلَاؤ : مندر، دیکھو اور بلاؤ۔

عورت (۱۱) (۱۱) زن، استری (۱۲) زوجہ، بیوی (۱۳)
 آدمی کے جسم کا وہ حصہ جس کا کھولنا باعث شرم ہے،
 (۱۴) ناف سے نچنے تک انسان کے جسم کا حصہ۔

ذات : عورت کی جنس، عورتوں کا طبقہ

بعض : (۱۵) مذکر، (۱۶) بدلا، معاوضہ (۱۷) بجائے۔

معاوضہ : اول بدلہ۔

گلہ نڈارو : (۱۸) (مقولہ) جس چیز کا بدلا ہو سکتا
 ہے اس کی شکایت کیا۔

عوان : (۱۹) موت، حدود۔

فہد : (۲۰) مذکر، (۲۱) وقت، زمانہ، (۲۲) سلطنت کا
 زمانہ، حکومت کا زمانہ (۲۳) قول فرار، ششم ۵۱
 وعدہ۔

باندھنا : عہد کرنا۔

شکن / گسیل : وعدہ خلاف، قول پر قائم نہ
 رہنے والا۔

عتیق : (اضاف کے ساتھ) موت، (۲۴) ناروغ سے
 پہلے کا زمانہ، (۲۵) توبیت۔

وائق : (اضاف کے ساتھ) مذکر، مضبوط عہد۔
 عہد و پیمانے : مذکر، قول فرار، قسمتی :
 لوٹ جانا : قول و قرار کا قائم نہ رہنا۔

عہدہ : (۲۶) مذکر، (۲۷) منصب، مرتبہ، سرکاری منصب
 (۲۸) ذمہ (۲۹) درجہ۔

بر آہونا : فرض ادا کرنا، ذمے داری سے سبکدوش
 ہونا۔

عہدے دار : مذکر، افسر ذی منصب۔

عہدے سے باہر آنا : کبھی کام کی ذمے داری کو پورا
 کر کے اس سے سبکدوش ہونا۔

(ع۔ ی)

عائش : (۳۰) موت، بیماری کی خبر پھینا۔

عیاذ باللہ : (۳۱) خدا کی پناہ، معاذ اللہ۔

عیار : (۳۲) مذکر، (۳۳) کھرا کھوٹا پن، (۳۴) سونا تولنے کا
 کاٹنا۔

عیار : (۳۵) (۳۶) چالاک، ہوشیار، (۳۷) منکار فریبی۔

عیاری : (۳۸) (۳۹) مومنت، چالاک، فریب۔

عیاش : (۴۰) نفس پرست، تماش بین، ادبش،

زندگی باز۔

عیال : (۴۱) مذکر، (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

دار : (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

دار کی میں پھینسا : خانہ داری کے جھگڑے

کبھی بڑے میں مبتلا ہونا۔

بال بچوں میں گرفتار ہونا۔

عیال : (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰)

زاجہ بیاں : (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰)

کھنے سنے کی محتاج نہیں۔

کرنا : (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰)

عیب : (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰)

بگھانا : (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰)

بگھانا : (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰)

بگھانا : (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰)

بگھانا : (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰)

بگھانا : (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰)

بگھانا : (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰)

بگھانا : (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰)

بگھانا : (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰)

بگھانا : (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰)

بگھانا : (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰)

بگھانا : (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰)

بگھانا : (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰)

بگھانا : (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰)

لگانا : (۱۱) تہمت لگانا (۲) کسی چیز میں کوئی برائی پیدا کر دینا، ستم دکھانا۔

عیب و ثواب : مذکر، بڑا بھلائی۔

عین و بھتر کھانا : اچھا بڑا ظاہر ہونا۔

عیسیٰ : (۱۱) ناقص (۲) مشرور، جذبات (۳) کوئی بڑا نیکوال

عیند : (۱) جو بار بار آئے، مونت (۲) مسلمانوں کے جشن کا دن جو یک شوال کو ہوتا ہے (۳) دارود خوشی، مراد بر آنا۔

عید اضحیٰ : (۱) مونت، بقرعید مسلمانوں کا وہ تہوار جو دس ذی الحجہ کو تہا ہے اور جس میں قربانی کی جاتی ہے۔

الغفر : ماہ رمضان کے بعد کی عید جو پہلی شوال کو ہوتی ہے

عید بزرگ : عیدِ رحم، مونت، حضرت علیؑ کی عظمت کے اعتراف کے لئے ۱۸ ذی الحجہ کو شیعوں کا منایا جانے والا جشن۔

قرباں : (۱) اضافت کے ساتھ مونت، عید اضحیٰ کا چاند (۲) شوال کا چھینہ (۳) کھانا (۴) وہ جس کو عید کے بعد دیکھیں، جو کبھی کبھی نظر آئے۔

کا دو گانہ : عید پر پڑھی جانے والی دو رکعت نماز کے پچھلے ٹکڑے (مثل) موقع اور عمل نکل جانے کے بعد کوئی کام کرنا، یا بے عمل کوئی کام کرنا۔

کے پچھلے چاند مبارک : (۱) دہلی (مثل) تہوار کے بعد مبارکباد دینا۔

موقع نکل جانے کے بعد کسی بات کا ذکر کرنا۔

عید گاہ : (۱) مونت، عید کی نماز پڑھنے کی جگہ۔

منانا : خوشی کرنا، عید کا تہوار کرنا، جشن کرنا۔

مولود : مونت، ربیع الاول کی بار ہونے تاریخ کو ولادت آنحضرتؐ کا جشن۔

عیدی : (۱) مونت، (۲) عید کا انعام (۳) عید پر بڑوں کی طرف سے بھولوں کو دی جانے والی رقم۔

عیدین : (۱) عید الغفر، عید اضحیٰ۔

عیسیٰ : مذکر، ایک مشہور پیغمبر کا نام۔

عیسیٰ ذوراں : (۱) اضافت کے ساتھ کامل طہیب۔

مردیکیم : (۱) اضافت کے ساتھ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے بیٹے۔

عیسیٰ : نرانی، حضرت عیسیٰ کے پیرو اور ان کے ماننے والے۔

عیسوی : (۱) مسیحی، حضرت عیسیٰ سے منسوب، (۲) حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہونے والا سن۔

کیش : (۱) مذکر، خوشی، آرام، آسائش۔

آرام خرام کرنا : آسائش اور آرام کی پرورد کرنا، آرام و راحت سچ دینا۔

تلیخ کرنا : غنغصہ کرنا، عیش و آرام میں خلل انداز کرنا۔

کابند : نفس پرست عیاش۔

عیش کرنا : خوشی اور چین کرنا۔

عین : (۱) آنکھ، چشم (۲) پانی کا چشمہ (۳) ہر چیز کی ذات، جو ہر حقیقت (۴) ایک حرف کا نام (۵) (۵) ٹھیک، خاص (۶) مجنبہ

عین الیقین : (مثل یقین) دیکھو عظم الیقین۔

عین غنواب : (۱) بالکل ٹھیک، نہایت درست۔

عین : (۱) ہم شکل، ہم صورت، قریب قریب، بہت (۲) احوال بھنگا، (۳) آنکھ میں پھلنے والا شخص۔

مردی : مونت، اصل مردی، ذاتی رخصتمندی۔

مقصود : اصل مقصد۔

عین : (۱) مونت، ہونہا، چھینہ۔

عینی : (۱) (۱) عینت، دیکھی ہوئی (۲) سنگ (جیسے برادر عینی)

عینیت : مونت، (۱) ایک افلاطونی فلسفہ، (۲) کسی بھی شے میں حسن کی اولیت کو تسلیم کرنے کا فلسفہ، مثالییت، تصوریت (۳) اصل ذات ہونا، اصل حقیقت ہونا۔

عینک : (۱) آنکھ کا چشمہ۔

غ

غالبیہ : (د) مذکور چھوٹا ادنیٰ غالبین۔
 غائض : مشکل کلام۔
 غائب : (ع) غیر حاضر، پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا۔
 غائبانہ : (ف) بیٹھ بیٹھ، غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں
 غائب غلہ : بالکل غائب۔
 غائر : (د) گہرا وسیع۔
 غایت : (د) مونت (۱۱) غرض، مطلب (۲) انجام، انتہا۔
 غایتہ الاصر : (د) غایتی امر (۵) انجام کار، آسوار۔
 غایت درجہ : اخیر درجہ، انتہائی۔

ع - ا - ب

عبار : (د) مذکور (۱) گرد، دھول، گردلی ہونے ہوا۔
 (۲) مجازاً (۱) ملال، کدورت، معمولی رنج۔
 آلودہ : (د) گرد میں بھرا ہوا، گرد آلودہ۔
 بیٹھنا : اڑی ہونے، گرد کا بیٹھ جانا۔
 خاطر : (۱) اضافت کے ساتھ مذکور، دل کا رنج،
 کدورت، خاطر۔
 رکھنا : کدورت رکھنا، رنج رکھنا۔
 مونا : (۱) آسمان پر گرد ہونا، (۲) دو شخصوں کی
 آپس میں رنجیدگی، ہونا، (۳) آنکھوں سے آنکھ لگانا۔
 عبار : (د) مذکور (۱) ایک قسم کا ہوائی جہاز، (۲) ایک قسم کی
 آتش بازی۔
 غیب : (د) مذکور موٹے ناز سے آدمی کی ٹھوڑھی کے
 نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔
 غیبی : (د) مذکور خیانت، خرد برد۔
 غیبی : (د) کدورتیں۔
 غیب رکب : مونت، (۱) چھوٹا، (۲) ششما کی بات (۲) جلدی
 سے طلق دنیویں میں اتر جانے کی آواز۔
 شب : مونت، بے کار باتیں، ادھر ادھر کی باتیں
 بے ہودہ اور لغو باتیں۔

غین : مذکور، غین، مجب، غین منقوط۔
 حساب جمل (۱) بجد میں ایک ہزار عدد ہیں۔
 غار : (د) مذکور (۱) گڑھا، پہاڑ کی کھوہ (۲) گھاؤ کا کئی
 غارت : (د) مونت (۱) لوٹ کھسوٹ، دشمن پر لوٹ مار
 کرنا، (۲) تباہ کرنا، (۳) اذکار، (۴) اجازت، منہدم کرنا،
 (۵) ہمو، نیست و نابود کرنا (۶) خراب کرنا، بگاڑنا
 گر : (د) لہیرا، رافرن۔
 ہوش : (د) اضافت کے ساتھ (دکنائیا) حسین طرہدار
 ہونا : (د) تباہ ہونا، اہل جاہلہ منہدم ہونا، تلف
 ہونا، اکارت جانا، نیست و نابود ہونا،
 (۲) دھو دغ ہونا، جانا۔
 غارہ : (د) مذکور، ایک قسم کا خوشبودار سفوف، پودر۔
 غازی : (د) مذکور (۱) کافروں سے لڑنے والا (۲) مسلمان
 بادشاہوں کا خطاب (۳) دکنائیا گھوڑا۔
 مرد : (د) مذکور (۱) بہادر آدمی (۲) دکنائیا گھوڑا۔
 میاں : مشہور بزرگ سالار مسعود غازی کا خطاب۔
 غاشیہ : (د) خاصیت، چھپانے والی (مذکور (۲) مجازاً)
 چار جانے کے اوپر ڈالنے کا کپڑا۔
 بردار : بردوشس مطیع فرمانبردار سائین
 خادم۔
 غاصب : (د) زبردستی کسی کا حق چھین لینے والا۔
 غافل : (د) بے خبر، (۲) غفلت کرنے والا بے پروا۔
 غالب : (۱) (۲) زبردست، (۲) جینے والا، فتح یاب،
 (۳) سہقت لے جانے والا، خالق، (۴) اکثر۔
 غالباً : ایسے نکتے کے لئے کہا جانے والا کہ جو یقین کے قریب
 غالی : (د) (۱) حد سے گرنے والا (۲) ایک فرقہ جو حضرت
 علیؑ کو خدا مانتا ہے۔

عَرَضٌ : (۱) ع (۱) مونث (۱۱) مقصد صاحب ارادہ، خواہش، مطلب (۲۱) پروا، ضرورت (۳) قصر مخفف، حاصل کلام
 آشنا : خود فرین۔
 اکنسا / اکنی ہونا : حاجت ہونا، پروا ہونا، کسی سے کسی کا کام اکنسا۔
 یا ولا / کا باولا : مذکر، حاجت مند، مطلب کا ظم۔
 کا آشنا / کا دوست / کا یار : مطلبی دوست۔
 کے لیے گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے (مثلی)
 حاجت مند کو ذلیل ترین کام کرنا پڑتا ہے۔
 مند : (۱) حاجت مند، خواہش مند۔
 غرہ : (۱) مذکر، فرارہ۔
 غریش : مونث (۱) کٹھن، شیرینی کو فتنے بھری آوازیں (۲) دکنا بیٹا، ان کی نگرار، لالین گفتگو، فتنہ آمیز باتیں، دھمکی۔
 غرہ : (۱) مذکر (۱۱) درجہ، کھڑکی، بھرکا، (۲) خلوت، تنہائی۔
 غرنے کی بات : (۱) علم، پوشیدہ بات۔
 غرق : (۱) (۱۱) ڈوبا ہوا، غریق (۲) نہایت معروف محو (۳) نشے میں چور ہونا۔
 ہونا : (۱) ڈوبنا، پانی میں سنانا (۲) نہایت معروف ہونا، محو ہونا (۳) نشے میں چور ہونا۔
 غرقاب : (۱) گہرا پانی، ڈبا و پانی (۲) پانی میں ڈوبا ہوا۔
 نہایت مشغول (۳) نشہ میں چور (۵) فینوں میں غرق : (۱) مونث (۱۱) پانی میں ڈوب، ہونے میں (۲) سیلاب (۳) ایک قسم کی کم عرض لنگوٹی، اونچی لنگی (۴) (۵) صفت ایک قسم کا عود۔
 غروب : (۱) مذکر، چاند سورج کا چھبنا، ڈوبنا۔
 غرور : (۱) مذکر، تکبر، گھمنڈ۔
 آسا : تکبر ہونا۔
 ڈھے جانا : تکبر اور نخوت کا زائل ہونا۔

غرہ : (۱) مذکر، فرور، گھمنڈ، ناز۔
 غورنا : کسی کے غرور کو زک دیکھ کر زائل کرنا۔
 ہونا : ناز ہونا، گھمنڈ ہونا، فخر ہونا۔
 غرے ڈپے : مذکر، دھمکی، ڈرانا۔
 غریب : (۱) نا ذر، غیب، انوکھا اور ہنسکین عاجز بے زبان (۲) مغلس، ناوار (۳) سیدھا سادھا، وہ جو شہر سے دور (۵) محاورہ، چینی، پردیسی۔
 غریبا مٹو : (۱) غریبوں کا سا، روکھا سوکھا۔
 غر بڈ دیا : غریب و مل وطن
 غریب التریا / غریب الوطن : مذکر، مسافر، پردیسی، لے گھر، غریب۔
 پرور : نواز، لے کسی کی پرورش کرنے والا۔
 خانہ : مذکر، (۱) کمار سے، اپنا مکان۔
 غرابا : مذکر، محتاج، ننگے بھوکے۔
 غریبی : مونث، (۱) مغلس، بے زری (۲) عاجزی (۳) سادگی (۴) بے وطن ہونا۔
 غریق : (۱) ڈوبا ہوا مشغول۔
 رُحمت : خدا تعالیٰ کی رحمت میں ڈوبا، مغفورا مروج غراب : پانی میں غوطہ یاد کی لگانے کی آواز۔
 غیر آب (سے) اخلد، پھرتا ہے۔
 غمرین : مونث، (۱) ڈوبنے کی آواز، کسی چیز کی دفعتاً اندر داخل ہونے کی آواز، (۲) کسی چیز کے فوراً نکل جانے کی آواز۔
 شرب : جلدی کھا جانا، جلد جلد اپنی کرنا۔
 غزا : (۱) مونث، دین کے دشمن کے ساتھ جنگ کرنا۔
 غزال : (۱) مذکر، ہرن۔
 چشم : (۱) اصناف کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والا۔
 ختن : (۱) شہری، (۲) اصناف کے ساتھ (کننا بیٹا) مشغول۔
 غزالہ : (۱) ہرن کا مادہ بچہ۔

رغ - ص - ض م

- عَضْبُ** : (ع) مذکر زبردستی لینا، خیانت، بھرانہ۔
عَضْبِي : عیبت، عصب کہا ہوا مال۔
عَضْبَةٌ : (ع) مذکر، (مجازاً) غفلت۔
 — آنا : غضب آنا، تہہا آنا۔
اُتَارْنَا : تخفایس پر ہونا اور سر زدن کسی اور کو کرنا
 بخار نکالنا۔
بِهْت، زور تھوڑا، مار کھانے کی نشانی؛
 (مثلاً) کمزور کا فصرہ اس کی ذلت کا موجب ہے۔
بِي جَانَا : جوش غضب کو روکنا۔
پَتُوک دینَا : دینا / تھوک ڈالنا، غفلت سے باز
 آنا، جانے دینا۔
 — سے بھوت ہو جانا : بے حد خشم ناک ہونا۔
میں بوشیاں کاٹنا : (کٹاٹا) بے حد فروختہ ہونا
نکالنا : دن کا بخار نکالنا، فصرہ اتارنا، بدلہ لیکر
 ٹھنڈا کرنا۔
وَر اِدْرَاج، جلد فصرہ ہو جانے والا۔
عَضْبِيل / عَضْبِيْلَا : درخراج، مظہب الغضب، فصرہ ور۔
عَضْبِي : (ع) مذکر، (د) قہر، غصتہ۔ (۲) آفت، بلا،
 مقصبت (۳) بہت بری بات، بہت بے جا بات،
 (۴) اڑھیراز زبردستی، سختی، ظلم، (۵) ستم۔ (۶)
 بڑھ چڑھ کے (۷) مبالغہ کے لفظ (۸) باثر، کاریگر
 (۹) آفت کا پرکالہ لغتہ و فدا پیدا کرنے والا (۱۰) نہایت
 دشوار و ناگوار (۱۱) ناراض، خفا، رنجیدہ، (۱۲)
 عجیب انوکھا (۱۳) خوبی میں پکتا بے حد حسین۔
 (۱۴) ضرر رساں، مضر، بہت برا۔
اَلْوَدَّ : (ف) غصتہ میں بھرا ہوا۔
اِرْبِي : مذکر، (د) خدا کا قہر (۲) دعوم اور دعا بخدا کا
 غضب لوٹنے۔

غَزَالِي : (ع) منسوب، فزیر غزالہ سے امام گو غزالی کی پیدائش
 کی جگہ۔

غَزَالِي : (ع) مونث، (د) عورتوں سے اپنی کرنا، (۲) وہ استاد
 جس میں حسن و عشق، وصال، فراق، ذوقِ اشتیاق، جنوں
 پاس و فیرہ کی باتیں جو عشق سے متعلق ہیں بھی جاتیں۔

— **بِنَانَا** : غزل پر اصلاح دینا۔
بِرَوَارِز : (ف) غزل گو شاہر۔

— **پھیل پڑ جانا / ٹھنڈی ہونا** : غزل سنت
 ہو جانا۔

— **چرکانا** : غزل کو اصلاح دے کر اطلاع پر پہنچانا۔

— **کی زمین** : غزل کی طرح۔

— **گور - طراز - سہرا - خواں** : (رکنا پٹا) غزل پڑھنے
 والا غزل سننے والا۔

غَزَالِيَات : (ع) مونث، جمع غزل کی۔

عَزْوَةٌ : (ع) مذکر، وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم بذاتِ خود شریک ہوتے رہے۔

رغ - س - ش م

عَسَال : (ع) مذکر مردوں کو قتل دینے والا۔

عَسَلِي : مذکر، (د) تمام بدن کو دھونا، دھونا، نہانا۔

— **خَانہ** : مذکر، تمام، نہانے کی جگہ۔

— **صَحْت** : (د) اضافت کے ساتھ / مذکر بیماری سے
 صحت پا کر نہانا۔

— **کی حاجت ہونا** : بدن کا ناپاک ہو جانا، نہانے
 کی حاجت ہونا، احتلام ہونا۔

عَشِي : مونث، بے ہوشی۔

عَشِي : (ع) مونث، (د) کوہوت (۲) آئینہ شمس، کھوپڑی

(۳) نشوونما جیسے بے نل / شمس۔

عَفْوَرُ (ع) معاف کرنے والا، بخشنے والا،

خدا تعالیٰ کا نام۔

عَفْوَرُ الرَّحِيمِ (ع) بخشنے اور رحم کرنے والا (دونوں لفظ خدا کے تعالیٰ کے اسماء صفاتی ہیں)۔

خَفِيرٌ (ع) اتنی بڑی جماعت کہ جہاں تک نظر کام کرے وہیں نظر پڑے، (تنہا مستعمل نہیں ہے۔ مثلاً جم غفیر بمعنی بڑا مجمع)۔

عُلٌّ (ف) مذکور (۱) ہنڈکھ شور و غوغا، (۲) فریاد، (۳) دھوم۔

عُشُورٌ - عُيَارٌ : مذکور، شور و غوغا۔
عُلَاظِتٌ : (ع) ٹونٹ، (۱) نجاست، ناپاکی، گندگی (۲) گاڑھاہٹن۔

عُظَافٌ : (ع) مذکور، (۱) تلوار کی میان (۲) کھینے یا کھینے کے اوپر کا کپڑا (۳) جزدان (۴) کھینے کی پوشش (۵) حول۔

کعبہ پر چڑھا یا جانے والا عُظَافٌ ۔
عُظَافِيٌّ اُنْكُهٌ : ٹونٹ، بڑی جھک ہونے پر ٹونٹ سے ڈھکی ہونے آنکھ۔

عُظَامٌ (ع) مذکور، (۱) زرخیز چھوڑ کر جو بے تنخواہ گھر کا کام کاج کرے (۲) بندہ زرخیز۔ (۳) محبزو آنکار سے (۴) نیاز مند، عقیدت مند ملازم، نیک طور (۵) مطیع، فرمانبردار۔

(۵) تاش کے ایک چے کا نام۔
عُظَانَانٌ : بنا لینا، مطیع کر لینا۔
عُظْرُوشٌ : (ف) ٹونٹ، کوئی یا محل کے چاروں طرف کا برآمدہ۔

عُظَامِيٌّ (ف) ٹونٹ، (۱) بندگی، غلام ہونا، (۲) لطاعت، فرماں برداری۔

عُظُوْلٌ كُرْنَا : (د) دکنا پٹا، داماد بنانا، (۲) ملازم رکھنا۔

عُظْبِيَةٌ رَعْلَبِيَةٌ : (ع) مذکور، (۱) زیادتی (۲) ملازم، (۳) جیت سبقت، ترجیح۔

عُوتْنَا : (ع) ہنگامہ چمانا۔

دُعَانَا (۱) آفت برپا کرنا، بہت ظلم کرنا، سختی کرنا، (۲) کوئی اونٹنی ہات کرنا، عجیب کام کرنا۔

کَابُجَا ہوا : تھر میں ڈوبا ہوا۔

کَانِيَا ہوا : (ع) آفت کا بڑا کالہ، بڑا شریر۔

كُرْنَا : (۱) ہر کرنا، دوسرے حق میں یا اپنے حق میں

کچھ بران کرنا، کوئی بے جا ماننا سب فعل کرنا، (۲) حیرت انگیز کام کرنا، عجیب طریقہ فعل کرنا (۳) ظلم ڈھانا، آفت برپا کرنا۔

میں جہاں پڑنا : کسی آفت اور بلا میں مبتلا ہونا، جھگڑے میں پھینسا۔

نَازِلٌ ہونا : (۱) کسی پر کوئی آفت آنا، مصیبت آنا (۲) خفلی ہونا، غتاب ہونا۔

تَاكٌ : غصہ میں بھرا۔

ہونا : خفا ہونا، غصہ ہونا (۲) کام نواب ہونا، خرابی و نقصان کا موجب امر واقع ہونا، (۳) تعریف میں مباہلہ کے لئے۔

عُضْبِيٌّ : ظالم، فحشہ ور۔

عُضْبُفْرٌ : (ع) مذکور، شیر، دکنا پٹا، جاری بہادر۔

غ - ف، ل

عُقَارٌ : (ع) معاف کرنے والا، بخشنے والا، خدا تعالیٰ کا نام۔

عُقْرَانٌ (ع) مذکور، گنا ہوں سے دھندلا آرزو۔
عُقَابٌ : (ع) معفو، رحم۔

عُقْلَتٌ : (ع) ٹونٹ، (۱) چوک، کھول، بے خبری۔ (۲) عشق، بے ہوشی، (۳) اونگھ، نیند۔

عُقْبِيَةٌ : (ف) پیشہ، کار، زر، شعار، (ف) نجات یافتہ اور بے خبر۔

عُقْرُوْدٌ : کسی کتابیں بے پرواں اور بھولے کا حال ہونے سے خبر ہونا۔

پانا، فتح پانا، قاب ہونا۔

غلط : (۱) پھر صحیح، نادرست، (۲) خلاف واقع، لغو۔
 غلط العالم / غلط عام : مذکر، وہ عام فطیل جس کو
 فصحا نے جائز سمجھا لیا ہو، صحیح ہے،
 غلط العالم فصیح : (۱) مغزول، وہ فطیل جس کو فصحا نے جائز سمجھا
 لیا ہو صحیح ہے۔

غلط العوام / غلط عوام : مذکر، وہ فطیل جو عوام اور بازاری
 اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں
 اور جس کو فصحا صحیح نہیں مانتے۔

غلط انداز : نگاہ یا تیر جو نشانے برد گئے۔

بیانی : مومنٹ، خلاف واقعات بیان کرنا۔

بھیرانا : غلط ثابت کرنا، نادرست قرار دینا۔
 رد کرنا، جھوٹا ٹھہرانا۔

در غلط : کسی فطیل کا کسی دوسری فطیل پر نہیں ہونا

سینٹ : (اسلط تابع ہیل) گڑ بڑ، غلط۔

قبیحی : (ف) مومنٹ، نا اچھی، کج نہیں۔

کاری : مومنٹ، بد اعمالی، بدوصفی۔

گولی : (ف) مومنٹ، غلط بیانی۔

نامہ : مذکر، فہرست، افلاط، صحت نامہ۔

فطیلی : مومنٹ، بھول ہو کر نادرستی، خلاف بیانی،
 نا اچھی۔

غلطیاں نکالنا : اعتراض کرنا، نقص ظاہر کرنا۔

غلطاس : (ف) ٹوٹتا ہوا، ٹڑھکتا ہوا، ٹوٹنے والا
 تڑپنے والا۔

سچاں : فکر میں پریشان، متشکر۔

غلط : مذکر، دم ایک قسم کا موٹا پتلا (۲) تلوار رکھنے
 کا چڑھے کا نیام، خلاف شخصیت (۳) ہماروں کی
 اصطلاح) ایک قسم کی لمبائی دار چٹائی۔

غلط / غلطت : (۱) چھلا مذکر، دوسرا مومنٹ،
 گاڑھا پن، گندگی۔

غلطہ : (ف) مذکر، (۱) شور و غوغا، (۲) سٹھرو، دھوم،

غلگ : (ف) مومنٹ، وہ طرف میں بکری محصول یا
 نذر و دیوہ کی آمد کی آواز دے دیتے ہیں، (۲) وہ
 موکھا جو بچے اپنی جینے علاحدہ جوڑنے کے واسطے
 دیوار باز میں میں بنا لیتے ہیں۔

میں ڈھرنا : جمع کرنا، جیب میں رکھنا، اپنے
 پاس رکھنا۔

غلاماں : (ع) جمع غلام کی، مذکر، امر، ڈھر لڑکے۔

وہ مخلوق جو مردوں کو صورت میں اہل جنت
 کی خدمت کے واسطے ہوگی۔

غلمنا : مذکر، (۱) دم / غلام زادہ (۲) تاش کے ایک پتے
 کا نام جس کو غلام بھی کہتے ہیں۔

غلور غلو : (ع) مذکر، (۱) اصطلاح معانی) ایسا بالندہ
 جو مقلد اور مادتا چمال ہو (۲) شدت، بے حد

امراہ کسی خیال میں بے حد مشغول۔

غل و غش : (ع) کدورت و کینہ۔

غلولہ : (ف) مذکر، (۱) گولی، غلہ (۲) شکار کے جانور
 کا جمع۔

غلہ : (ف) مذکر، (۱) اناج، (۲) بکری رکھنے کا صندوق
 (۳) دن بھر کی بکری۔

غلہ : مذکر، غلیل میں رکھ کر چلانے والی گولیاں۔

غلپٹ : (ع) مذکر، (۱) گاڑھا، کشیف، موٹا، دبیز،
 (۲) نا پاک چیز، گو، میلا۔

غلیل : مومنٹ، وہ دو تانت کی کان جس کے ذریعہ
 سے غلہ بھینکتے ہیں۔

ع - م - ن

غم : (ع) مذکر، (۱) رنج، ملان، ام، سوگ، ماتم،
 افسوس، (۲) فکر، پروا۔

گورڈ : (ف) غم ناک، ہر وقت غم میں رہنے والا۔

گمیز : غم پیدا کرنے والا۔

غم

پالنا / بکھیرنا اپنے سر لینا

خوار ؛ (ف) دن ہمدرد دکھ درد کا شریک ،

(۲) متحمل ، بردبار ، برداشت ، سہارا۔

دوست ؛ (ف) رنج و غم کو دوست رکھنے والا۔

دیدہ / رسیدہ / زردہ ؛ مصیبت زدہ ، نکلین۔

غلط ہونا / جی بہلنا ، کس نکلین کی طبیعت کا کسی مشغلے میں بہن جانا۔

کاپٹلا / سر پانچم / غم کا پہاڑ ؛ اکنائیا غم کی مصیبت

کڈہ ؛ (ف) مذکورہ غم کا ٹھکانہ ، مصیبت کا ٹھکانہ۔

گرکش ؛ (ف) نکلین ، رنج برداشت کرنے والا۔

گپن / رنجیدہ ؛ (د) س۔

ناک ؛ (ف) رنجیدہ ، اداس ، مایوس۔

نڈاری بڑھیر ؛ (ف) (خل) جب کوئی خواہنا کوئی

ایسا کام کرے جس میں غم و تردد کرنا

پڑے۔ (جس کو کوئی غم نہ ہو وہ بگڑی ہوئے)

رعی / نکلین ؛ (ف) (۱) نکلین ، (۲) موت ، غمی ہو جانا ،

موت ہو جانا۔

غماز ؛ (ع) (۱) جنٹل خور ، (۲) آگھ سے اشارہ کرنے والا

طنز کرنے والا۔

غمرہ ؛ (ع) مذکورہ (۱) چشم و ابرو کا اشارہ (۲) ناز ، غم

معشوقانہ ۔

غنا ؛ (ع) موت ، (۱) دولت مندی (۲) بے پروائی ، بے

نیازی

غناہ ؛ (ع) مذکورہ لغز ، راگ ، گیت۔

غناہیم ؛ (ع) غنیمت کی ، مذکورہ ، لوٹ کا مال ، مال غنیمت۔

غناہیت ؛ (ع) موت ، ترس ، موسیقیت۔

غناہیم ؛ (ف) مذکورہ (۱) گلے سے کھلا بھول (۲) گنجان۔

(۳) بھڑکتا ، ایک جگہ بیٹھے ہوئے چند آدمی کا بچا ،

(۴) دیوار کا معشوق کا درہن۔

پیشانی ؛ (ف) بددماغی اور فصد کی حالت کا پیشانی سے ظاہر ہونا (متروک)

غمنہ

سیرکال / تیرا (دخاقت کے ساتھ) مذکور ، تیرا پہل۔

چٹکتنا ؛ گل کا کھلنا۔

دہن / دہاں / لپ ؛ (ف) (۱) چھوٹے سے

منہہ کا (۲) اکنائیا معشوق۔

صبح کھلکھلانا (اکنائیا) صبح ہونا۔

کاموگرانا ؛ (اکنائیا) گل کا کھلنا۔

ناشگفتہ ؛ (اضافت کے ساتھ) مذکورہ (۱) بندگی ،

(۲) اکنائیا دو سفینہ ، کنواری۔

غند ؛ (۱) مذکورہ لپٹا ، منہوا ، دیکھو گنڈا۔

غنتنا / غنتنا ؛ مذکورہ ناک میں بولنے والا۔

غنتنا / رگنتنا ؛ (۱) ناک میں بولنے والا ، ناک میں بات

کرنا ، (۲) ناک میں گانا ، (۳) آہستہ آہستہ

دھیمے نغروں میں کچھ گانا یا شعر پڑھنا۔

غنودگی ؛ (ف) موت ، اونگھ ، نیند ، خمار۔

غینتہ ؛ (ع) مذکورہ وہ لون جس کی آواز ناک سے نکلے۔

غنی ؛ (ع) (۱) دولت مند (۲) بے پروا ، بے نیاز ، سودا

(۳) خدائے تعالیٰ کا نام ، (۴) تیسرے خلیفہ حضرت

عثمان کے نام کا جزو ، (حضرت عثمان غنی رضی

عظیم ؛ (۱) مذکورہ (۲) ٹوٹنے والا (۳) مجازاً دشمن ، سرین

غنیمت ؛ (ع) موت ، (۱) لوٹ کا مال ، وہ مال جو دشمن سے

تھیں لیں ، وہ مال جو بے محنت ہاتھ آئے (۳)

قدر کے قابل۔

جاننا ؛ بہتر جاننا ، قدر کرنا ، قابل قدر سمجھنا۔

ہونا ؛ قابل قدر ہونا ، قابل شکر ہونا۔

(غ - و)

غواض ؛ (ع) مذکورہ (۱) غوطہ لگانے والا ، (۲) اصطلاح کھانا

کسی دعوت کے اندر سرایت کر جانے والا۔

غواض ؛ (ع) جمع نامزدگی ، مذکورہ چھٹی ہوئی ، گنتے ، ایک مٹی۔

عَوْنًا : (دفع) سٹور کرنے والا (۲) ایک قسم کے پر نکالنا
جس کو ڈومنی بھی کہتے ہیں، (۳) وہی ہے ہودہ،
بے سلیقہ، چھوٹا، دروغ گو۔

عَوْنٌ : (مذکر) (۱) انہ، بھینر، گروہ، جمعیت (۲) جھلاوا
اگیا بیتال بھوت پریت۔

— بیابان / — بیابانی : (دخافت کے ساتھ) دف
نکر یا بھوت پریت، جھلاوا
(۳) رکنا بنا، وحشی، جاہلی۔

عَوْنٌ نَالٌ : عونت، دودھ پیتے بچوں کے بولنے کی آواز
سُخْرٌ خَوْرٌ بچوں کی بات چیت۔

(دغ - می)

غِيَابٌ : (دغ) مذکر غیر موجودگی۔

غِيَابٌ : (دغ) عونت، (۱) زیاد (۲) زیاد (۳) زیاد
غَيْبٌ : (دغ) مذکر، غیر موجودگی، غشی، نہاں۔
— دال : (دغ) پوشیدہ حال جاننے والا۔

— کی خیر : آئندہ واقعات کی خبر۔

غَيْبٌ / غَيْبٌ : (دغ) عونت (۱) دیکھے غیر موجودگی
غیر حاضری (۳) برگوں، بیٹھے دیکھے برائے۔

غَيْرٌ : (دغ) (۱) اجنبی، بیگانہ (۲) مجازاً (۳) رقیبہ
(۳) دوسرا (۴) نفس کے سنی میں ۵۱ سوا، بجز۔

— (۲) دگرگوں۔

— آباد : (دغ) ویران، اجالا (۲) خادہ، برقی زمین۔

— اختیارِی / مجبوری کی بے اختیارگی کی۔

— حاضر : قاضی، غیر حاضری، موجود نہ ہونا۔

— فانی : فنا نہ ہونے والا، نہ ہونے والا۔

— حننا ہی : بے انتہا، جس کی انتہا نہ ہو۔

— مرآت : (دغ) بعینہ دریافت کے اشارے۔

— مرتی : (دغ) دکھائی نہ دینے والا، موجود مگر لطافت
کے سبب چھپا اور دکھانا نہ جانے والا۔

عَوْنٌ : (دغ) (۱) فریاد رس، (۲) اطلاع تصوف، قلب،
اہل اسلام میں ولایت کے ایک درجے کا نام۔

عَوْنٌ الْأَعْظَمُ / عَوْنُ الشَّعْبَيْنِ : سیدنا عبدالقادر جیلانی
کالقب۔

عَوْرٌ : (دغ) مذکر، عونت، (۱) نگر، تاتل (۲) خبر گیری
پرورش رکھ رکھاؤ۔

— برداشت : عونت، خبر گیری، پرورش، رکھ رکھاؤ
— ظنن : سوچنے فکر کرنے کے قابل۔

— کرنا : (۱) فکر کرنا، دھیان کرنا، (۲) فوجہ کرنا،
منوجہ ہونا، (۳) علاج معالجہ کرنا، خبر گیری۔

عَوْرِيٌّ : (دغ) عونت، عور کا باشندہ (۲) ایک قسم کی عور
سے آنے والی چینی کی رکابی جو بڑھنے سے
ٹوٹ جاتی تھی، (۳) تانبے کی کنگڑے دار
رکابی۔

عَوْرٌ : (مذکر) (۱) اڑتے ہوئے کنگڑے کا اوپر سے نیچے
طرف آنا (۲) سکوت کا عالم، غشی، بے ہوشی،
(۳) چنے کی شدت۔

عَوْرٌ : (مذکر) (۱) ڈبکی، پانی میں ڈوبنا یا ڈوبنا۔

— عَوْرٌ : (مذکر) (۱) ڈبکی لگانے والا (۲) ایک آبی
برز، جل کوآ۔

— زین : عور مارنے والا۔

— کھانا : (۱) ڈوبنا، غرق ہونا، (۲) بھولنا، بھگنا،
— بیچ میں چھوڑا جانا، (۳) جل میں آنا،
دھوکا کھانا۔

— لگانا : (۱) ڈبکی لگانا، پوشیدہ رہنا، غائب رہنا
(۳) کسی خیال میں ڈوبنا، غور ہونا۔

— مارنا : (۱) ڈبکی مارنا (۲) غائب رہنا، ناپ کرنا
(۳) کسی معاملہ میں جہت غور کرنا۔

— عورے میں ہونا : فکر میں غور ہونا۔

عَوْنًا : (دغ) مذکر، نکل، پیاز، ہلڑا۔

غیرت :
 — چکر رومہ ! وہ زمیں جو جون نہ گھٹی ہو۔
 — مستحق : وہ حرف جو گھٹنے میں آئے بولنے میں نہ آئے۔
 — ممکن : دشوار۔ محال۔
 — منقولہ : ہونٹ، وہ جانہوا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ
 اٹھا کر نہ لے جاسکیں۔
 — منکوحہ : وہ عورت جس سے نکاح نہ ہوا ہو، یعنی بیابا
 عورت۔
 — واجب النکاح : بے جا۔
 — غیرت / غیرتیت : (ع) ہونٹ، بے جاگی، منازرت۔

غیرت : (ع) ہونٹ، (ا) رشک (ع) شرح، حیا، اذیت۔
 — سے کٹ جانا، غیرت سے شرمندہ ہو جانا۔
 — ماہ : (ا) عافت کے ساتھ (اکتاریت) معشوقی۔
 — ہنید : صحت، غیرت والا، صاحب غیرت۔
 — غنظ : (ع) مذکر، شد پر فتنہ، غیر۔
 — غنظ و غضب : مذکر، بے حد فتنہ۔
 — غنین : مذکر، ایک حرف پنجی کا نام، (ع)
 ہونا، نیشے میں چوڑ ہونا۔
 — غیرت : (ع) بہت غیرت کرنے والا۔
 بہت رشک کرنے والا۔

❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖

ف

ف۔ ا

فے : موتی، اردو حرف تہمتی کا ایک حرف، حساب عمل (آبجر) میں اسی عدد ہیں۔

فاج : (ع) مذکر، فتح کرنے والا، کھولنے والا۔

فاجتہ : موتی، (۱۱) سورۃ الحمد، (۲) کسب مردے کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ بڑھنا، آخر میں درود پڑھ کے اس کا ثواب کسی کی روح کو بخشنا۔

پڑھنا / دینا / دلانا (۱۰) نیاز دینا (۲) کتنا چاہوں ہو جانا، امید منقطع کرنا۔

نہ درود کھانے ضرور دو : (مطل) کسی شے کا، جہت ضائع ہونا۔

نہ درود کھانے کو موجود : (مطل) بے محنت و مشقت مزدوری مانگنا۔

نہ درود مگیا مردود : منزیل اور بد مزاج کی موت پر بولتے ہیں۔

فاتر : (ع) صفت، سست، کمزور، ضعیف۔
فاتر العقل : فاجر، عقل کم : (ع) جس کی عقل میں خور آگیا ہو۔ پاگل۔

فاجر : (ع) مذکر، بدکار، بدکار مرد۔
فاجش : (ع) اجماع، شرمناک، ہمداری، قبیح۔

فاجشہ : (ع) موت، بدکار عورت، قبیح۔
فاجتہ : (ع) موت، کمبوتر کی قسم کے ایک پرند کا نام۔

آزانا : (دہلی) گل پھسوانا، پیش کرنا، مزے اٹھانا
فاجتہ : (ع) مذکر، ایک قسم کا خاک رنگ۔

فاجر : (ع) مذکر، (۱۱) فخر کرنے والا، نازاں، (۲) قبیح، عمدہ، نادر، بیش قیمت۔

فادر : FATHER : (انگ) ۱) مذکر،

۲) باپ (۲) پوری۔
فارختلی / فارغ خطی : (۱) طلاق نامہ، (۲) بے تعلق کی تحریر، جو میاں بیوی کے درمیان ہو، طلاق نامہ۔

فارسی : (ع) مذکر، گھوڑے کا سوار، شہ سوار۔
فارسی : (ع) موت، (۱) ملک فارس کی زبان، (۲) فارس کا رہنے والا۔

فارغ بانی / فارغ البالی (فارغ بانی) : (ع) موتی، خوش حالی، بے فکری، آسودگی
FARM : (انگ) مذکر، (۱) کھیت،

کاشت، (۲) ۱۰۰ عاظم جہاں جانور پالے جاتے ہیں۔

فارم : FORM : (انگ) ۱) مذکر، (۱) صورت، شکل، ظاہری صورت، بہنیت (۲) چھپا ہوا کاغذ، برائے خانہ کبریٰ۔

فارمولا : FORMULA : (انگ) قاعدہ، نشیہ، طریقہ۔

فارمیسی : PHARMACY : (انگ) (۱) دوا سائنگ (۲) دوا خانہ۔

فارن : FOREIGN : (انگ) ۱) مذکر، بیسی بیرون، غیر۔

فارس : OFFICE : (انگ) ۱) مذکر، دفتر، امور خارجہ۔

ڈیپارٹمنٹ : DEPARTMENT : (انگ) محکمہ خارجہ۔

مینسٹر : MINISTER : (انگ) ۱) مذکر، وزیر خارجہ۔

ایکسچینج : EXCHANGE : (انگ) ۱) تبادلہ

فاروق : (۲۱) حق و باطل میں فرق کرنے والا۔

(۲۲) مذکر، طہیز دوم حضرت عمرؓ کا لقب۔ (۲۳) ایک نریاق کا نام، (۲۴) سونے چاندی کا کھرا کھوٹا پرکھنے کے تیزاب کا نام، تیزاب فاروقی۔

فاروقی : فاروق سے منسوب۔

فاریندر : FOREIGNER غیر ملکی،

غیر ملک کا باشندہ۔

فاسٹ : FAST آہل مذکر، (۱۱) تیز تیز رفتار (۱۲) تیز تیز رفتار (۱۳) رنگ COLOUR (۱۴) رنگ؟

مذکر، تیز رنگ، گہرا رنگ، پکار رنگ۔

فارسخ : (۲۱) وضع کرنے والا، تباہ کرنے والا، کسی اولاد کا بٹ دینے والا۔

فاسد : (۲۱) مذکر، (۱۱) خراب کرنے والا، (۲۲) بڑا خراب۔

فاسق : (۲۱) مذکر، بدکار، زانی، گنہگار۔

فاسخ : (۲۱) ظاہر، آشکارا۔

فاسطی : صریح غلطی، کھل غلطی۔

فاسیت : (۱۱) موت، (۱۲) تشدد، پسندانہ آفریت۔

(۲۲) خود مختار اور ظالم حکمرانوں کا اقتدار۔

(۳) (انگ) قاسم

فاسل : (۲۱) جدا کرنے والا، فرق کرنے والا۔

فاسلم : (۲۱) مذکر، دوری، مسافت، میدان۔

فاسل : (۲۱) (۱۱) افزوں، زیادہ، حساب سے زیادہ (۲۲) (کن یا) فضول، زیادہ، بے کار، (۳) عالم، صاحب فضیلت۔

فاسل اجل : (۲۱) بہت بڑا فاسل۔

فاسل باقی نکالنا : آمدنی اور خرچ کا حساب کر کے

کی بقیہ نکالنا۔

فاسلات : (۲۱) موت، فاسل رقم۔

فاسلرؤایا اولی البصائر : (۲۱) سمجھ و ادب و عبرت حاصل کرنے، عبرت کے پستعمل ہے۔

فاسل : (۲۱) مذکر، (۲۲) کام کرنے والا، (۲۳) اصطلاح (۲۴) فاسل وہ ہے جس سے فعل سرزد ہو، (۲۵) اخلاک کے نیک

تحقیقی : (۲۱) اخلاص کے ساتھ مذکر خدا سے تعالیٰ۔

فاسقہ : (۲۱) مذکر، بھوکا رہنا۔

فاسقہ منستی : (۲۱) موت، (۲۲) اخلاص میں ملگن رہنا، بے فکری سے بسر کرنا، مجلس میں رنگ رلیاں۔

فاسقوں کا ٹوٹا : (۲۱) کامارا، (۲۲) مذکر، وہ جو خائے کرتے کرتے ڈبلا ہو گیا ہو،

نہایت بھوکا۔

فاسل : (۲۱) موت، (۲۲) نکلنا۔

فاسرا : (۲۱) اخلاص کے ساتھ (۲۲) موت، (۲۳) وہ حال جس میں قرآن مجید کے کسی صفحے کے ابتدا میں ہم الف

یا خدا کا نام نکل آئے، (۲۴) بہت مبارک حال ہے، گوار۔ گیر : (۲۱) (۲۲) فال دیکھنے والا۔

فاسم : (۲۱) مذکر، شگون بنانے کی کتاب۔

فاسس : (۲۱) موت، (۲۲) راہ چلتوں کی باتوں پر کان رکھنا اور اس سے اپنے مطلب کے موافق آواز

غیب سمجھ کر شگون لینا۔

فاسس : (۲۱) ضرورت سے زائد، فضول، بڑھتی، بے کار، بگنا۔

فاسلج : (۲۱) مذکر، اعصاب کے سن پڑ جانے یا وسیلے ہوجانے کے باعث بدن کے کسی حصہ کا بے کار ہوجانا۔

فاسلج : (۲۱) فالج کا مرض ہوجانا۔

فاسسہ : (۲۱) مذکر، ایک قسم کا اڑے رنگ کا بہت چھوٹا پھل۔

فاسسائی / فاسسسی : (۲۱) مذکر، فالسے کے رنگ کا اودا رنگ

فالوڈہ : (۲۱) مذکر، پکا اور جا ہوا زینا ستہ۔

فالپنز : (۲۱) موت، خبر بوزوں کا کھیت، کھیرے، کھڑی،

تربوز کا کھیت۔

فاسم : (۲۱) رنگ، شہید، مانند۔

فالوسس : (۲۱) مذکر، ایک قسم کی بڑی قندیل۔

فاسل : (۲۱) خیالی، (۲۲) گرداں، (۲۳) اخلاص کے ساتھ) مذکر، ایک جسم کا فاسل فاسس جس میں

فائل FILE : (انگ) ، مونٹ ہسبل کی

خاص مسئلہ سے متعلق

کافہ

فائن FINE : (انگ) ، (۱) خیر نامہ ، (۲)

بہت اچھا ، عمدہ ، نازک ،

فائن آرٹ ART : (انگ) فنون لطیفہ

FINANCE

(۱) مالیات ، (۲) روپیہ لگانا ، سرمایہ لگانا ،

فائنل FINAL : (انگ) ، آخر ، آخری ۔

ف۔ ب۔ ت۔ ٹ

فتہا : (ع) ، یہی اصل براد ہے ، یہی تم چاہتے ہیں ۔

فتاح : (ع) خدا تعالیٰ کا نام جو اپنی مخلوق پر رحمت کے

دروازے کھولتا ہے اور سب پر حاکم ہے ۔

فتال : (ع) ، (۱) فتنہ اٹھانے والا ، (۲) (کن یا) چشم محبوب

فتی وئی : (ع) جمع فتوا کی ، مذکر ، فتووں کا مجموعہ ۔

فتوح : (ع) مونٹ اجیت ۔ ظفر ۔

فتوح الباب (فت محل باب) : (ع) مذکر ، ابتدا ، آغاز ۔

فتوح یاب : (ع) مونٹ ، کشائیش ، آسودگی ۔

کاڈنکار / نقارہ : (ع) لڑائی فتح کرنے کے بعد بجایا

جانے والا نقارہ ۔

فتوح / یاب : (ع) جینے والا ، ظفر یاب ۔

فتوح : (ع) مذکر ، زبرد ۔

فتراک : (ع) مذکر ، مونٹ ، زمین کے دائیں بائیں

جانب ضروری سامان باندھنے کے واسطے

لگے ہوئے چمڑے کے تسمے ۔

فتیق / فتیق : (ع) مذکر ، فوطوں کے ایک مرض کا نام ۔

فتیق : (ع) مذکر ، جمع فتنہ کی ۔

فتیقہ : (ع) مذکر ، (۱) ہنگامہ ف و ہنگامہ ، بغاوت ،

(۲) ایک قسم کے طہر کا نام ، (۳) ہایت مشورہ مشوخ ۔

فاتح کھوڑے وغیرہ کاغذ کے بنا کر اس طرح رکھ دیتے

ہیں کہ وہ ہولے خود بخود گردش کرتے ہیں ۔

فانی : (ع) فنا ہونے والا ،

فائونٹین پین FOUNTAIN PEN : (انگ)

مذکر ، وہ قلم جس میں روشنائی بھر کر لکھا

جاتا ہے ۔

فائونڈر FOUNDER : (انگ) ، مذکر ،

بنیاد رکھنے والا ، بانی ۔

فائونڈیشن FOUNDATION : (انگ)

مونٹ ، نیز ، بنیاد ۔

فائدہ : (ع) مذکر ، (۱) نتیجہ ، حاصل ، (۲) وصف ، خوبی ۔

اثر ، (۳) نفع ، حاصل ، آمدنی ، (۴) فرض ، مطلب

واسطہ ، (۵) بھلائی ، (۶) افتادہ ، آرام ، (۷) بہتری

بھلائی ۔

فتند : مفید ، سود مند ، کارگر ۔

فائر FIRE : (انگ) ، مونٹ ، (۱) آگ ،

(۲) گولی چلانا ۔

فائر انجن ENGINE : آگ بجھانے والا انجن

فائر بریگیڈ FIRE BRIGADE : آگ بجھانے

والی جماعت اور مشین ۔

فائر کرنا : مذکر ، گولی چلانا ، (بندوق ، سپتوں یا رولور سے)

فائرنگ FIRING : (انگ) ، مونٹ ،

مسلل گولیاں چلانا ، فائر ہونا ،

(بندوق ، مشین گن وغیرہ سے) ۔

فائر مین FIREMAN : (انگ)

مذکر ، (۱) بائبل کا کام کرنے

والا ، (۲) ریل کے انجن میں کوئلہ بھرنے والا ۔

فائبر : (ع) پہنچنے والا ، کامیاب ۔

فائبر اٹھرام (فائبرل حرام) : (ع) مراد پانے والا ۔

مقصود تک پہنچ جانے والا ۔

فائق : اعلیٰ ، بڑھا ہوا ، شگرتز ، سب سے بڑھ کر ۔

۱۰ پر سے سجا دیتے ہیں (۵) بیمار یا آسیب زدہ کیے
سامنے جلانے والی نعوذ کی تہی۔

سوز : (۱) مذکر، شمع (۱)۔

فیتن : چالاک، قیارت، فتنہ گر۔

فٹ : FIT (انگ) مذکر، (۱) ٹھیک، درست
موزوں لائق (۲) ہے ہوشی کا

دورہ۔

فٹ : FOOT (انگ) مذکر، بارہ اینچ کا پیمانہ،
گر کا تہائی حصہ۔

بال : BALL (انگ) مذکر، پیروں سے
کھیلا جانے والا بڑا گیند۔

بورڈ : BOARD (انگ) مذکر، (۱) پائے ان
(۲) کسی گاڑی پر پاؤں رکھ
کر چڑھنے کا تختہ۔

پاٹھ : PATH (انگ) مذکر، پگڈنڈی،
بڑی سڑک کے دونوں طرف پیدل
چلنے والوں کا راستہ۔

نوٹ : NOTE (انگ) مذکر، حاسبے
کی تحریر، شریعی جہارت
جو صفحے کے نیچے لکھتے ہیں۔

فٹر : FITTER (انگ) مذکر،
مشین کے ہرزوں کو جوڑنے
والا، سبزی۔

فٹن : PHANTON (انگ) مونث،
ایک قسم کی بوہیدہ گاڑی جسے گھوڑے
کے ذریعے چلاتے ہیں۔

(ف۔ ج۔ ح۔ خ۔ د)

فخیر : (۱) مونث، (۱) صبح، فجر (۲) نماز صبح۔
فخوز : (۱) مذکر، گنہ گاری، بدکاری، بد چلنی۔

فتنہ : انداز، انگیز، پرواز، توجہ، فادی، جگہ،
کھڑا کر دینے والا۔

برپا ہونا : فتنہ اٹھانا۔

جاگتا : فتنہ بیدار ہونا۔
جہاں / دوراں / روزگار / عالم : اضافہ کے
رہنما (۱) مجازاً، معشوق۔

زا / رخ / سنگال : (۱) فساد (۲) کنایتاً
معشوق۔

گر : (۱) فادی (۲) کنایتاً معشوق (۳)
آسمان کی صفت۔

فتنی : مونث، (۱) مفید، چالاک (۲) عیادت (۳)
تھکڑا ہوا، لڑاکا۔

فتویٰ / فتوا : (۱) مذکر، شرع کا حکم، حقیقی کا فیصلہ کسی
مسئلے کے متعلق۔
دینا : شری حکم بیان کرنا، کسی فعل کو جائز یا ناجائز
قرار دینا۔

فتوحات : (۱) مونث، شجاعت، مروت، سخاوت۔
فتوح : جمع فتح کی، (۱) مذکر، مونث، (۲) فتحیں (۱) کاپی
(۳) کنایتاً، بالوائے یافت (۴) کنائش۔

فتوحات : (۱) مونث، جمع فتوح کی۔
فتوحی : (۱) مونث، ہے استیثوں کی ہرزائی جو کمرنگ
ہوتی ہے۔

فتور : (۱) مذکر، (۱) مجازاً، کمزوری، خواری (۲) شرارت
فاد (۳) غفلت، رخصت۔

ڈالنا : خلل انداز ہونا، زخمہ ڈالنا۔
فتیل سوز : مذکر، روشنی کا چونکا طرف جو پتیل بالوسہ
کا ہوتا ہے۔

فتیلہ : (۱) مذکر، (۱) سولہ تہی، چراغ کی تہی، بیٹی ہونے والا،
مشعل (۲) وہ تہی جو زخم میں رکھتے ہیں (۳) توپ باندھنی
کا ٹوڑا (۴) وہ بنا ہوا ڈورا جو لگھوں وغیرہ میں دکر

فحش : (ع) مذکر، بے ہودہ بات، قابل شرم بات، بے حیائی کی باتیں۔

— **بکنا** : بے حیائی کی باتیں کرنا۔

فحشیا : (۱) گالم گلوچ، پھکتہ پن، بگڑی، جمع فحش کی۔

(۲) وہ ادب جس کی بنیاد عریانی پر ہو۔

فحشا : (ع) مذکر، طرز، ڈھنگ، انداز۔

فحشا : (ع) مذکر، بزرگی، شرف، تاز، شیخی، گھنڈ۔

— **بشرف** : (اضافہ کے ساتھ) (کنائیاں) آنحضرت (م)

— **خانڈان** : (اضافہ کے ساتھ) مذکر، وہ شخص جس کی

ذات سے خاندان کو عزت حاصل ہو۔

فدا : (ع) عاشق، فریفتہ۔

— **ہونا** : (۱) قربان ہونا، جان دینا (۲) عاشق ہونا۔

فدائی : (ع) جان نثار، عاشق۔

فدوی : بندہ عاجز، خاکسار، کتیرین۔

فدیہ : (ع) مذکر، (۱) صدقہ، کفارہ (۲) وہ مال یا روپیہ

جو کسی قیدی کے عوض دیا جائے، (۳) ذیت، جان کا

معاوضہ (۴) صدقہ، نظر۔

ف۔ رائے

فر : (ع) مذکر، (۱) بھڑک، شان شوکت (۲) دہریہ،

رعب داب، امرکیات میں مستقل ہے جیسے کز و فر

فر : اڑنے کی آواز، پھڑ۔

— **سے** : پھڑ سے، جلدی سے۔

فرا : (ع) فرات، (ع) مونس، کوثر (عراق) کے پاس

ایک نہر کا نام۔

فرا : مذکر، (۱) ہوا میں کسی چیز کے اڑنے کی آواز،

(۲) شرم سے بولنا، دوڑنا، (۳) ہوا کا

تیز جھونکا۔

فر آئے بھرنے / لینے : (۱) جلد جلد پڑھنا، بے اہمکے پڑھنا

بے نکان پڑھنا، (۲) تہایت تیزی سے دوڑنا، تیزی سے اڑنا، (۳) بھڑکنا

یا بھڑکے کا ہوا میں لہرانا۔

فراخ : (ع) وسیع، کثادہ، چوڑا۔

— **چشمی** : مونس، عالی، تہمتی، حوصلہ بلند ہونا۔

— **دست** : (ع) دولت مند، مال دار۔

— **حوصلہ** : (ع) (۱) بلند ہمت (۲) کنائیاں) بڑبڑا، باوقار

فراخی : (ع) مونس، (۱) کثادگی، چوڑائی، وسعت،

پھیلاؤ (۲) آسودگی، خوش حالی۔

فرار / **فرار** : (ع) مذکر، بھاگنا۔

— **کرتا** : بھاگ جانا۔

— **ہونا** : بھاگنا، غائب ہونا، چھپ جانا۔

فراری : مفرور، بھاگا ہوا۔

فراریت : (ع) مونس، (۱) بے عملی کارجان، اگر بیز (۲)

ذمے داریوں اور پابندیوں سے بھاگنے کی کوشش۔

فرازا : (ع) اونچائی، بلندی۔

فراست : (ع) مونس، دانائی۔

فراش : (ع) مذکر، (۱) فرش بچانے والا، بھاڑو دینے والا

(۲) وہ شخص جس کے ذمے جنموں کا کھانا اور کھرا کرنا ہے

— **خانہ** : مذکر، ڈیرا، خیمہ اور فرش فروش کھانا رکھنے

کا مکان۔

فراشی پنکھا : (دہلی) مذکر، بڑا پنکھا جو مکان کی چھت

پر لٹکا یا جاتا ہے اور تمام فرش پر ہوا پہنچاتا ہے

— **سلام** : مذکر، وہ سلام جس کے چمکنے میں فرش تک

سہلے جانا پڑے، نہایت ادب اور تعظیم کا

سلام، فراشی سلام۔

فراغ : (ع) مذکر، نجات، فراغت، آسودگی۔

— **ہالی** : (ع) مونس، بے فکری سے زندگی بسر کرنا۔

— **آسودگی**۔

— **خاطر رول** : مذکر، تسلی، بے فکری، آسودگی۔

فراغت : (ع) مونس، (۱) چھٹکارا، نجات، خلاصی، فرصت

(۲) راحت۔

— **جانا** : (دہلی ہندو) جائے ضرور جانا، بیت اٹھنا جانا۔

— **ہونا** : فارغ ہونا، فرصت ہونا۔

فراق : (۱۷) مذکر، (۱۱) جڑائی، (۲۱) علاحدگی، (۲۱) (موم فکر، خیال، دھمن، تاک (۲) محبوب سے علاحدہ دینے کا زمانہ۔

فراک : FROCK (انگ، انڈیز، ایک قسم کا عورتوں کا لباس۔
فراوش : (۱۱) (۱۱) بارے اترا ہوا (۲) جڑواں بھیل، (۱۳) ایک کھیل (یا دفراموش)۔

فراوش کاری : (۱) فونٹ، بھولنے کی عادت، بھولی۔
فراوشی / فراوشی : (۱) فونٹ، بھولی، بھوک۔
فراوشین : (۱) مذکر، جمع فرمان کی۔
فراوشینس : مذکر، ملک فرانس کے باشندے۔
فراوشیسی : (۱) فرانس کا باشندہ (۲) فرانس کے ملک کی زبان۔

فراواں / فراواں : (۱) فونٹ، بہ کثرت۔
فراوانی : (۱) فونٹ، کثرت، افراط، زیادتی۔
فراجم : (۱) (۱) کٹھا، جمع۔

فراجمی : (۱) فونٹ، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔
فراگش : (۱) (۱) مذکر (۱) جمع فریضہ کی (۲) وہ کام جن کا کرنا ضروری (۳) تقسیم میراث کا علم۔

فراجم گانہ : (۱) (۱) اضافت کے ساتھ (۱) مذکر (۱) پانچوں وقت کی نماز میں (۲) اسلام کے پانچ ارکان۔
فراجمی : (۱) (۱) اضافت کے ساتھ (۱) اور جن کا کرنا ضروری ہے کارو سے ضروری ہو۔

فراجم / فریبہ : (۱) فونٹ۔
فراجم : (۱) (۱) فونٹ، موناہا، مٹھاپا۔
فراجمت : (۱) (۱) بہت بڑا صاحب کی عقل زائل ہو گئی ہو۔

فراجم : (۱) فونٹ، مورث کا اندام نہانی۔
فراجم : (۱) (۱) مذکر، دو چیزوں کی بیچ کی کشادگی، رخنے، شگاف، دراڑ۔

فراجم : (۱) فونٹ، خوشی، فرحت۔

فراجم : (۱) فونٹ، خوشی، شادان۔

فراجمت : مونت، خوشی، شادمانی۔

فراجم : خوشی، بڑھانے والا، نازگی، بخش۔

فراجم : خوشی دینے والا۔

فراجم : (۱) مبارک، زیبا۔

فراجم : (۱) مالی خاندان، اچھے گھرانے کا۔

فراجم : جس کا نام مبارک ہو۔

فراجم : نیک نہاد، نیک طبیعت۔

فراجم : (۱) مبارک۔

فراجم : خوش نصیب۔

فراجم : نیک تدبیر، دانش مند۔

فراجم : طالع / فال، خوش نصیب۔

فرد : (۱) (۱) تنہا، طاق / مونت (۱) بیت، ایک شعر (۲) محرز کے حساب کتاب، کھینے کا کاغذ، رجسٹر (۳) زانی،

رضائی (۴) کامیاب، چادر، مثال، (۵) مذکر، ایک شخص

تن واحد، منفیس۔ (۵) (۵) یکتا، بے مثل۔

فردا / فردا : (۱) (۱) جدا جدا، الگ الگ۔

فردا : (۱) (۱) اضافت کے ساتھ مونت (۱) نکلی اور بیکار

فردا (۲) (۱) مجازاً / رتی، بے کار چیز۔

فردا : مونت، بقایا حساب کی فرد۔

فردا : (۱) (۱) اضافت کے ساتھ (۱) شخص واحد، نفس۔

فردا : دعوت کی فہرست، اپنے نام کے آگے

اطلاع پانے کا صادرہ، بنانا۔

فردا : حساب کا چٹھا۔

فردا : (۱) (۱) ایک ایک، علاحدہ علاحدہ۔

فردا : (۱) (۱) گل آنے والا دن (۲) مجازاً، قیامت کا دن

فردا : (۱) (۱) مذکر، بہشت، بہشت کا طبقہ، اعلیٰ۔

فردا : (۱) (۱) اضافت کے ساتھ (۱) مذکر، فردوں کا علاقہ

فردا : (۱) (۱) مرحوم، جنتی۔

فردا : (۱) (۱) مونت، بھولی، بھولی، بھولی، بھولی (۲) (۲) زانی (۳) (۳) زانی کی فرد، یا اور کسی پر ایک دوسرے کے قریب

بناتے ہیں۔

فرز انگلی (ف) مونس، دانائی، عقلندی۔

فرزبانہ: (ف) داناء، عقلمند۔

فرز ناز: (ف) مذکر، بیٹا، عزیز ترین اولاد۔

— از بھنڈ: مذکر، ہونہار بیٹا، لائق بیٹا۔

— بنانا: گود لینا، مقینا کرنا۔

— خدیف: لائق بیٹا، مطیع بیٹا۔

فرزند نما میں لینا: (ف) بیٹا بنانا، (۲) دلا دینا۔

فرزیک: (ف) مذکر، شطرنج کا وزیر۔

بنانا: (اصطلاح شطرنج) پیادے کو فرس کے

درجے پر پہنچانا۔

فرس: (۵) مذکر، (۱) ٹھوڑا (۲) شطرنج کا وہ ہو

جو ڈھالی گھر جلتا ہے۔

— استادہ: (ف) مہجبا ہوا، قاصد، ایچی۔

— فرشتہ: (ف) مذکر، فرستادہ، رسول۔

فرشتہ FIRST (انگ)، پہلا، اول درجے کا

— ایڈ: (انگ) ڈاکٹر کے آنے سے پہلے

پہنچائی جانے والی، ابتدائی طبی امداد۔

— کلاس CLASS (انگ)، مذکر،

(۱) پہلا درجہ (۲) اول درجے کا۔

— گریڈ GRADE (انگ) مذکر، (۱) درجہ اول کا۔

(۲) پہلے درجے کا۔

— فرسنگ / فرسنگ: (ف) مذکر، کوس، بیس میل کی فرسٹ

فرسودہ: (ف) گھسا ہوا، کپڑا، استعمال ہو گیا گزرا۔

— فرس: (۵) مذکر، (۱) بھجونا، بھجانے کا چیز۔

(۲) وہ زمین جس پر اینٹیں بھادی گئی ہوں۔

— ہونے سے ہٹا کی ہوتی زمین: (۳) (مجازاً) سطح زمین)

— خاک: (۱) اضافت کے ساتھ راہ پر بھجا ہوا۔

— لے حد عاجزی و خاکساری کا اظہار۔

— زمین کرنا: ہونہار زمین کرنا۔

— سے عرش تک: زمین سے آسمان تک۔

فرس: (ف) مذکر، بھجونا وغیرہ۔

— کرنا: (۱) بھجونا کرنا، بھجانا، (۲) ہونے یا

اینٹوں وغیرہ کو بھجا کر سطح یکساں کرنا،

(۳) سارے بھجا دینا، مار کر زمین پر گرادینا،

— گل: (۱) اضافت کے ساتھ مذکر، بھجوں کی سیج۔

فرشی: (۱) فرس کا، فرس سے مقلن، (۲) ایک قسم

کا بڑا اور چوڑے پیندے کا حصہ۔

— پنکھا: بڑا پنکھا۔

— جوتا: مذکر، فرش پر بیٹھنے کا جوتا۔

— حقہ: چوڑے پیندے کا حصہ۔

— سلام: بہت جھک کر کیا جانے والا سلام۔

— فرشتگان: (ف) مذکر، قیام فرشتگی۔

— فرشتہ / فرشتہ: (ف) مذکر، (۱) تنگ خدا کی

نورانی مخلوق، (۲) پاک، مقدس،

بھولا بھالا۔

— پر نہیں مارتا: نہایت روک ٹوک ہے، کوئی جان نہیں

سکتا۔

— جنصال / جنصلت: (ف) نہایت

مقدس، پاک، بھولا بھالا۔

— فرشتوں کو خبر نہ ہونا: (۱) کسی کو مطابق خبر نہ ہونا

(۲) بالکل بے خبر ہونا، ناواقف ہونا۔

— فرشتوں کی دال نہیں گلتی: کسی کی بات نہیں

— کے پر جلتے ہیں: کسی جگر رعب حلال یا لاف

کی وجہ سے کسی کو جانے کی

تاپا نہ ہونا، مجال نہ ہونا، حوصلہ نہ ہونا

— کی جگہ۔

— فرشتہ: (۵) مونس، (۱) موقع، ٹھیک، چھٹکارا، چھٹی

— فراغت: (۲) اطمینان۔

— چاہنا: بہت چاہنا، موقع چاہنا۔

— ہونا: (۱) فراغت ہونا، (۲) موقع ملنا، بہت ہونا۔

فرق فرقی : مونت، معنوی زبان اوروں سے بات پوشیدہ رکھنے کے لئے ہر حرف کے بعد فرق اضا ذکر دیتے ہیں (متروک)

فرق : (دع) مذکر، (۱) جدائی، عداوت (۲) فاصلہ، دوری (۳) اختلاف (۴) سر کے بالوں کی مانگ (۵) سر پہ (۶) تمیز، شناخت (۷) گانگی، غیریت (۸) خلل لگنا
— آجانا / آنا : (۱) پہلی سی بات نہ رہنا (۲) اختلاف ہو جانا، صفائی نہ رہنا (۳) اصلیت میں اختلاف ہو جانا (۴) خلل واقع ہونا (۵) کدورت آجانا۔

فرقان : (دع) مذکر، (۱) اصطلاح کلام اللہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔

فرقت : (دع) مونث، جدائی، علاحدگی، بکیر۔
فرقدان / فرقدین : (دع) مذکر، (۱) صبح تک ظاہر رہنے اور کبھی نہ بھیننے والے قلب سنال کے دو ستارے۔

فرقہ : (دع) مذکر، جماعت، گروہ، قوم، پیروی : اپنے فرقہ کی بے جا طرف داری۔
فرقہ دارانہ ذہنیت : گروہ بندی کی ذہنیت عصبیت، بے جا مذہبی جانبداری۔

فرلانگ : FURLONG (انگ) (۱) ۲۲ گز کا فاصلہ (۲) ایک میل کا اٹھواں حصہ
فرم : FIRM (انگ) مونث، تجارتی ادارہ، کمپنی۔

فرما : مذکر، ہر وہ، وہ کاغذ جو جانچنے کے لئے پہلے چھاپتے ہیں۔

فرموتا : چھپے ہوئے کاغذ کو ترتیب کے لئے موڑنا
فرمان : (دع) مذکر، بادشاہی حکم، حکم، پروانہ، برار۔ بر دار۔ پزیر : (دع) (۱) تاج، مطبع (۲) نوکر، ملازم۔

— **دہ** / گزار / روا : (دع) حاکم، بادشاہ، رئیس خود مختار۔

فرض : (دع) مذکر، خدا کے حکم سے واجب کیا ہوا کام (۲) ضروری لازمی ضروری کام (۳) مانا ہوا تسلیم کیا ہوا (۴) ذمہ داری، باجوت (۵) وہ نازی رکعتیں جن کا پڑھنا لازم ہے (۶) کنایا، عموماً نکاح۔

— **ادا کرنا** : (۱) خدا کا حکم بجالانا (۲) اپنے اوپر جو کچھ واجب ہے اس کو بجالانا۔

— **پڑھنا** : نازی فرض رکعتوں کا پڑھنا۔
— **عین** : (اضاف کے ساتھ) مذکر ہر ایک کا ذاتی فرض۔

— **کرنا** : ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، کسی بات کو بلا ثبوت ماننا۔

— **کفایہ** : وہ فرض جو جماعت میں کسی ایک کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔

— **محال** : (اضاف کے ساتھ) ناممکن القیاس، ایسی چیز کا مان لینا جس کا واقع ہونا دشوار اور محال ہو۔

فرضی : خیالی، قیاسی، بے اصل، معنوی۔

فرضیت : (دع) مونث فرض ہونا۔
فرض : (دع) مذکر، زیادتی، افراط، کثرت۔

فراع : (دع) مونث، (۱) شے، ٹھنی، (۲) کسی چیز کا چھوٹا جز، رضی بات۔

فرغی : جو اصل نہ ہو، جزوی۔
فرغون : (دع) معر کے قدیم بادشاہوں کا لقب (۱) (مجازاً) منکبتر، سرکش، مغرور۔

— **بے سامان** : (اضاف کے ساتھ) مذکر، بے مقدرت، گھنڈی آدمی، بے سروسامان

مغرور آدمی، مفلس، منکبتر، سرکش، مغرور۔

فرغونی / فرغونیت : مونث، سرکش، مغرور۔
فرغی / فرغلی : مذکر، مونث، لباکوت، روتی دار لبادہ روتی دار جو چھتہ

فرغی : (دع) جلد جلد، بشتاب، بے روک تیز، دی کے روک پڑھنا، گھنڈا دوڑنا، کاشنا۔

فرمانا : (۱) حکم دینا، کہنا، ارشاد کرنا، (۲) بیان کرنا۔
فرمائش : (ف) مونث، بطور حکم کہ مانگنا یا کوئی کام لینا، حکم، فرمان۔

فرمائشی : (۱) حکم کے موافق، فرمائش کی ہوئی، کہہ کے منگوانی ہوئی، بنوائی ہوئی، حکم کے مطابق، (۲) اجماعاً عمدہ، نفیس، (۳) دکھنا یا جوڑوں کی مار، منغلظ گالیاں۔

فرمائشی ستنا : فحش گالیاں دینا۔
فہمقہ لگانا : کسی کی حماقت پر زور دار فہمقہ لگانا۔

فرمائشات : مونث جمع فرمائش کی۔
فرمودہ : (ف) کہا ہوا، حکم۔
فرٹ : FRONT

داگم، مذکر (۱) محاذ، مورچہ (۲) باغی، سرکش، منحرف اس سامنا، مقابل کا حصہ۔
فرٹ ہو جانا : بگڑ جانا، باغی ہو جانا۔ (۲) رنجیدہ ہو جانا، ناراض ہو جانا۔

فرنیچہ : FRONTIER (انگ) مونث، سرحد۔
فرنجی : FRENCH (انگ) مذکر، مونث، فرانسیسی، فرانس کی زبان۔

فرنیچ : (ف) (۱) برائے کم یورپ، ملک نصارا۔
فرنیچی : (ف) یورپ، یورپ کا باشندہ۔
فرنیچی : (ف) مونث، چاولوں کی کھیر : FURNITURE

فرنیچر : (فرنیچر) (انگ) مکان کے آرائشی ساز و سامان میز کرسی وغیرہ۔

فرنیچہ : (ف) نیچہ، زیر۔

فرنیچہ : (ف) عاجز، تواضع کرنے والا۔

فرنیچہ : (ف) مونث، عاجزی، تواضع۔

فرنیچہ : (۱) بچھانا، مٹھانا، (۲) آگ بجھانا۔ (۳) دباننا، کم کرنا۔

فرنیچہ : (ف) نکش، ہونا، ٹھہرنا، اُترنا، قیام کرنا۔
گزاشت : (ف) مونث، چھوڑنا، بھول، تلفعیر، غفلت۔

ماتدہ : (ف) عاجز، مکلس، ٹھکا ہوا، کمزور۔
مائیکان : (ف) کمینے لوگ، نالایق۔
مایہ : (ف) اصل، بے عقل، کمینہ۔

فروخت : (ف) مونث، بکری۔
فروڈگاہ : (ف) مونث، اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ،
فروزدین : (ف) مذکر، ایک ایرانی مہینے کا نام، پارسیوں کے پہلے مہینے کا نام۔

فروزی : FEBRUARY
عیسوی سال کا دوسرا مہینہ۔

فروشندہ : (ف) بیچنے والا۔
فروغ : (ف) مذکر، جمع فروغ کی، شائیں، ڈالیاں۔
فروغ (فروغ) : (ف) مذکر، (۱) روشنی، چمک (۲) سرفرازی، رونق، (۳) سبقت، ترجیح۔

فریاد : (ف) نام و نمود حاصل کرنا، رونق پانا۔
فریاد : (ف) مذکر، فارس کا مشہور سنگ تراش، شیریں کا عاشق۔

فرہنگ : (ف) مونث، (۱) کتاب نصف (۲) دانائی، دانش، عقل، سمجھ،

فرنی : FREE (انگ) مذکر، مونث، (۱) آزاد، (۲) مفت (۳) بے روک ٹوک (۴) ٹیکس وغیرہ سے مستثنیٰ۔

فرنی : FREE STYLE
پلا پانزی

فرنی : (ف) اصول، دجیسے فرنی سٹائل
کشی جس میں لڑنے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔
وہ جس طرح چاہیں مقابلہ کو شکست دے سکتے ہیں

فرنی پورٹ : FREE PORT (انگ) :

مونث، آزاد بندر گاہ، وہ بندر گاہ

فریش : فراست والا، داننا۔
فریضہ : (۵) مذکر، (۱۱) خدا کا حکم، بندوں پر خدا کا واجب کیا ہوا، (۲) نماز۔

فریضہ : (۱۱) فریب میں آیا ہوا، (مجازاً) عاشق۔
دلدادہ، (۲) نحو۔

فریق : (۵) مذکر، (۱۱) جمع، کردہ، جماعت، (۲) مذہبی فرقہ، علیہ۔

فریقہ : (۵) مذکر، دونوں مقابل شخص یا گروہ فریقین، مذہبی و مذہب علیہ۔

فریکچر : (انگ) مذکر، جوڑ،
یا پڑی کا ٹوٹ جانا۔

FRACTURE

فریم : (انگ) مذکر، جو کھٹا،
دھانچا، ساچھا۔

FRAME

فرینڈ : (انگ) مذکر، دوست،
(انگ) مونث، دوستی۔

FRIEND

فریپ : (انگ) مونث، علم،
(انگ) مونث، علم،
طبیعیات۔

SHIP

PHYSICS

فزون : (ف) افزوں، زیادہ۔

فزون : (ف) مونث، زیادتی۔

فزیکالوجی : (انگ) ۲

PHYSIOLOGY

فزیکی کے مختلف حصوں کی تشریح کا علم، (۲) علم تشریح الامداد

فزیکی : (انگ) مذکر،
معالج، ڈاکٹر۔

PHYSICIAN

ف-س-ش

فساد : (۵) مذکر، (۱۱) خلل، بگاڑ، (۲) مذہب، بکبیرا،
چنگڑا، رنگا۔

فساد : بھگوان، شہرہ، ٹینڈ۔

فسانہ : (۵) مذکر، افسانہ، قصہ کہانی۔

جہاں سے سامان لائے اور لے جانے پر کوئی
پابندی یا ٹیکس نہ ہو۔

فری شپ : (انگ)
FREE-SHIP
مونث، علیہ

سے ٹیکس نہ لی جانے کی سہولت۔

فری پاس : (انگ)
FREE PASS
مذکر، (۱) ٹیکس

ٹیکس وغیرہ میں لے کر یا سفر کرنے کا اجازت نامہ
(۲) سینیٹ، ٹیکس وغیرہ میں بلا ٹیکس داخلے کی سند۔

FREE MASON SOCIETY

فری مینس سوسائٹی : (انگ) مونث، (۱) خفیہ انجمن میں کے
ارکان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہر اور ان
خلوص رکھتے ہیں، (۲) یورپ کی ایک خفیہ تحریک
جس کے ممبر ایک باہمی خفیہ معاہدے کے پابند
ہوتے ہیں۔

فریاد : (ف) مونث، (۱) مدد مانگنے کے لئے شہ کرنا،
دہائی، (۲) علم، زیادتی کی شکایت، (۳)
نابینی، استغاثہ۔

رس : (د) دیگر، (د) رس، کسی کی شکایت اور
فریاد کو دور کرنے والا۔

خواہ فریادی : دہائی دینے والا، (خواہ۔
فریب / فریب : (۵) (۱) مشوہ، ناز، مکر، (۲) جیل،
دھوکا۔

زمی : مونث، دغا بازی، فریب دنیا۔

فریبی / فریبیا : دغا باز، مکار، فریب دینے والا۔
فریب : بے بیش، بیکتا۔

بوئی : مونث، ایک نہایت سرد لیدر بوئی،
شکر، (۲) ایک قسم کی پانی جمادینے والی بوئی۔

شکر : (۱) باہا سطح فریب الہی، (۲) کلقب۔
فریدوں : (ف) مذکر، فارس کے ایک مشہور دانشمند
بادشاہ کا نام۔

فسخ : (ع) مذکر (۱) ارادہ بدل دینا (۲) نکاح باطل کرنا ، کسی معاہدے کا باطل کرنا۔

فسطائیت : مونت ، دیکھو ، فاسیت۔

فشقی : (ع) مذکر ، قربانی ، نغمہ صدوی ، بدکاری۔

فطیق و فخور : (ف) مذکر ، بدکاری ، بدچلتی۔

فسوں : مذکر ، افسوں ، جادو ، سحر۔

فٹائیر : جادو کا اثر رکھنے والا۔

فیش : (۱) بیچ ، پیرچ (۲) راگ ، مچھلی FISH

فشار : (ف) مذکر (۱) دبانا بھینسا (۲) ڈیکر کر دے کو بچھنا۔

فگڑ جانا : حالت خراب ہو جانا ، مگھرا جانا۔

فگڑنا : (کنائیا) برابھلا کہنا ، گھمبھرا لیاں دے کر گھمرا دینا۔

فگڑنا : (ف) مذکر (۱) خوب سا دبا یا جانا۔

فشرده : (ف) مذکر (۱) عرق ، رس (۲) پھوڑا ہوا ، عرق نکالنا۔

ف-ص-ق

فضاحت : (ع) مونت (۱) خوش بہانی ، خوش کلامی۔

(۲) اصطلاح علم معانی (۳) کلام میں ایسے الفاظ لہنا

جہی کو اہل زبان بولتے ہیں ، جس میں اذھی ترکیبیں

نقیل ، بھڑے ، غیر فوس ، منعلق ، خلاف معادہ

الفاظ و مرکبات نہ ہوں۔

فضاد : (ع) مذکر ، قصہ کھولنے والا ، شہتر لگانے

والا ، جراح۔

فضد : (ع) مونت ، خون نکالنا رگ سے۔

فضل : (ع) مونت (۱) موسم ، رت (۲) باب ، کتاب کا

حصہ ، (۳) دو چیزوں کے بیچ کا حجاب (۴) فرق ،

فصلہ (۵) پیداوار۔

آنا ، موسم آنا ، بھول آنا ، بھل آنا۔

استادہ : (۱) اضافت کے ساتھ م کھڑی کہتی ،

کہتے ہیں وہ فصل جو ابھی لئی نہ ہو۔

بہار : (۱) اضافت کے ساتھ مونت ، بہار کا موسم

حریف : (۱) اضافت کے ساتھ مونت ، ہندی سال کے

پہلے چھ مہینے (موسم خزاں) جن میں ہوار ، ہار ،

موتی ، موکھ ، دھان وغیرہ اناج پیدا ہوتے ہیں۔

ربیع : (۱) اضافت کے ساتھ مونت ، ہندی سال کے

دوسرے چھ مہینے (فصل بہار) جن میں گھوں ،

جنا ، مسور ، وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

گل : (۱) اضافت کے ساتھ مونت ، فصل بہار ،

فصلی : فصل کی طرف منسوب ، موسم کا رت کا۔

میوہ : مذکر ، کسی خاص موسم میں پیدا ہونے والا پھل۔

فصیح : (ع) خوش بیان ، شیریں کلام ، فصاحت سے کلام

کرنے والا۔

فصیل : (ع) مونت (۱) شہر کی چار دیواری (۲) چار دیواری

دیوار۔

فضا / فضا : (ع) مونت (۱) زمین کی فرائی ، کھلا میدان

جگہ کی سمیت (۲) بہار ، روتی ، کیفیت۔

فضائل : (ع) مذکر ، جمع فضیلت کی۔

فصل : (ع) (۱) زیادتی (۲) جنبش ، مطالعہ۔

الہی رخصت : (۱) اضافت کے ساتھ مذکر خدا کی

مہربانی۔

خدا شامل حال ہونا ، کسی کے حال پر خدا کی

مہربانی ہونا۔

فکرنا : (ع) مذکر ، مہربانی کرنا (۲) کنائیاً فضا کھٹنا

آرام دینا۔

فہم : (ع) فقر (۱) دماغ خدا خوش رکھے خدا کی مہربانی۔

فضلا : (ع) مذکر ، جمع فاضل کی ، نما۔

فضلات : (ع) مذکر ، جمع فضلہ کی۔

فضلہ : (ع) مذکر (۱) جموں ، جموں کا نماد (۲) بھدک ،

(۳) بھاست ، پیدی ، بول برائے۔

فضول : (ع) (۱) بے فائدہ ، بے کار ، کھانا (۲) فالتو (۳) بیجا

خرچ : (ف) بے موقع اور بے جا خرچ کرنے والا۔

گو : (ف) بات پر مٹا کر بیان کرنے والا ، باقوانی ، لٹی۔

فضولی : ہے ہود و آدی، زیادہ گو، غیر ضروری کام کرنے والا کس
فضیلتا / فضیلتی : دعوہ مذکور فضیلت، جگہ، رسوائی،
 ذلت، ذلیل کرنا۔

فضیلتا ارٹانا : دعوہ فضیلت کرنا، رسوا کرنا۔

فضیلت : (ع) مونت، رسوائی، ذلت، بدنامی۔

کرنا : (۱۱) رسوا کرنا، بدنام کرنا (۲) اکتا یا بھڑکانا،
 برا بھلا کہنا۔

فضیلت : (ع) مونت، بزرگی، بڑائی، برتری۔

فطانت : (ع) مونت، دانائی، ہوشیاری، غیر معمولی
 ذہانت۔

فطر : (ع) مذکر، روزہ کھولنا۔

فطرت : (ع) مونت، (۱) آفرینش، قدرت (۲) فطر
 طینت (۳) دانائی، ہوشیاری (۴) مکر

فزیہ، شرارت، چالاک (۵) دعوہ سازش،
 سازش کا منظر۔

فطرت : (۱) طبی، قدرتی، خلقی (۲) شوخ، چالاک،
 فتنہ پرداز۔

فطرہ : (ع) مذکر، عید رمضان کا صدقہ، صدقہ فطر۔

فطری : (ع) فطرت سے منسوب، پہلی، پیدائشی۔

فطنت : (ع) مونت، عقل مندی، موافق مندی، فطانت

فطین : (ع) (۱) تیز ذہین، دانائے نیرک (۲) چالاک،
 شریر (۳) دو بین طالع مشد کے ساتھ فطین۔ (۴)

فعل : (ع) مذکر، (۱) کام (۲) اصطلاح علم صرف، وہ کلمہ جو معنی
 مستقل رکھتا ہو اور جس میں نینوں زمانوں میں

ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا

جائے (۳) عمل (۴) ہے جا حرکت، کچھ (۵) بڑا کام

شخیخ : (اضاف کے ساتھ) مذکر، شرم ناک کام،
 بڑی حرکت،

فعلیت : (ع) مونت، (۱) مگرگی،

مستعدی (۲) مہر گرم ہونا، باطنی ہونا، متحرک ہونا۔

فعلیت : (ع) مونت، (۱) مونت (۲) مونت کی خاصیت
 (۳) عملیت۔

فقال : (ع) مونت، شور، دہائی، فریاد، نالہ،
فقھور : مذکر (۱) چینی کے ایک مشہور بادشاہ کا نام

(۲) چین کے ہر بادشاہ کا لقب۔

فقیر : ہونا (دیکھنیو) ہوا ہونا، زچہ کر ہونا۔

فق : اچھے کی دگت کا لغت، ہٹا ہٹا، متعجب، حیران،
 پریشان۔

فقدان : (ع) مذکر (۱) نہ ہونا (۲) ناپید ہونا۔

فقیر : (ع) مذکر، درویشی، محتاجی، تنگی۔

فاقہ : مذکر، تنگی، ترشی۔

فقرا : (ع) مذکر، جمع فقیر کی۔

فقرہ : مذکر (۱) جملے کا کوئی حصہ، جملہ (۲) فریب کی بات
 (۳) بے اصل بات۔

فقرے باز : چالاک، قمار، دھوکے باز،

فقرہ جڑونا / چشت کرنا : آواز کرنا، دس سے گھڑ کر
 کون بات کہہ دینا۔

چلنا : جھٹکا چھوڑنا، چال چلنا۔

چکل جانا : چالاک بننا، چھوڑنا۔

فقرے تراشنا : چھوٹی یا انوکھی بات گھڑی جانا۔

فقط : (ع) مذکر (۱) تمام شد (۲) صرف، تنہا، بس۔

فحصہ : (ع) مونت، (۱) شرعی احکام اور مسائل کا علم، علم دین
 (۲) دانائی، سمجھ،

فقیہا : (ع) مذکر، جمع فقہیہ کی۔

فقہی : (ع) فحصہ سے منسوب۔

فقیر : (ع) مذکر، (۱) مفلس، محتاج (۲) درویش، فقیرت
 (۳) اکتا سے، خاکسار بندہ، ناہیز (۴) اکتا یا

ماشق (۵) بھکاری، بھیک مانگنے والا۔

چی کل ہی میں مسکت : (مثل) غریب خود بڑے
 ہی سامان میں خوش ہے۔

بننا : (ع) محرم میں بچوں کو منہ کڑے پہننا کہ مقت پوری
 کرنا (۲) محتاج ہونا، مفلس ہونا، فقیری اختیار
 کرنا۔

فلاسفہ : PHILOSOPHER (انگ) ، مذکر ،
فلسفی ، دانیش ور ۔
فلاسفہ : (یونانی) (د) جمع فلسفی کی ، حکما ۔ (۲۱) ایک
مبعون کا نام ۔

فلاسفی : PHILOSOPHY (انگ) ، مذکر ،
علم فلسفہ ، حکمت ۔
فلاطون : افلاطون ، مشہور یونانی حکیم ۔
فلاکت : موت ، شمس ، ناداری ۔
زردہ : شامت زدہ ، فلسف ۔
فلاپن : FLANNEL (ہمشہ مذکر) ایک
قیم کا گرم کپڑا ۔

فلان : موت ، اندام نہانی ۔ شخص غیر معلوم ۔
فلاں / فلاں : (ع) ، مذکر ، (د) شخص غیر معلوم ۔
(۲۱) چیز ، شخص ، امر کے واسطے جو ذہن
میں جو پیش اس کو زبان سے نہ لیں ۔
فلا نہ / فلا نہ : مذکر ، (۱۱) فلاں شخص ، کوئی شخص ،
وہ شخص ، (۲) وہ بات ، وہ معاملہ ۔

فلائنگ بوٹ : FLYING BOAT
(انگ) ، مونث ، (۱۱) فضا میں اڑنے والی
کشتی (۲) ہوائی کشتی جو سمندر میں بترتی بھی ہے
اور ہوا میں اڑتی بھی ہے ۔

فلٹ ہیٹ : FELLHAT (انگ) ، مذکر ،
ایک قسم کی انگریزی
وضع کی چھبے دار ٹوپی ۔

فلس : (ع) ، مذکر ، (د) پسیا (۲) سفنا ۔
ماہی (۱) اضافت کے ساتھ (د) مذکر ، چھل
کاسفنا ۔

فلسفہ : (یونانی) ، مذکر ، (۱۱) حکمت ، دانائی ، علم حکمت
(۲) استدلال ، حجت کا اندازہ
فلسفی : فلسفہ جاننے والا ، فلسفے سے منسوب ۔
فلسفیانہ : فلسفے سے متعلق ۔

فقیری : کو کبتل ہی دو مثالا ہے ، (مثل) غریب آدمی کو
فقیری ہی پوئی بہت ہونے
کی جھولی میں سب کچھ ، (مثل) فقیر کے اختیار میں
خدا ہی ہے ۔

فقیری لٹکا : مذکر ، سہل نسخہ ، سہل علاج ،
فقہیہ : علم فقہ کا نام ۔
فلت اضافت : (اضافت کے ساتھ) مذکر ، اضافت
کی علامت ، (کسر) چھوڑ دینا ، مثلاً صاحب
دل میں ب کے کسرے کو چھوڑ کر محزم دینے
ہیں ۔

فکر : (ع) ، مذکر ، مونث ، (د) اندیشہ ، تردد ، دغدغہ ،
احتمال ، (۲) دھیان ، (۳) غم ، رنج ، (۴) غور
تاقل ، معنوں آفرینی کا غور ، نظم یا نثر میں ۔
سہ (۶) تدبیر ، ہدایہ ، حاجت ۔

فکھن : (اضافت کے ساتھ) مونث ، شکر کہنے
کے واسطے غور و تامل کرنا ۔

فردا : (اضافت کے ساتھ) مونث ، آئندہ کی فکر ۔

فرگس بقدر محنت اوست : (د) (مقولہ) ہر
شخص کا خیال اس کے حوصلے اور ہمت کے
مطابق ہوتا ہے ۔

فلاپ ہونا : ناکامی ، تبارکی حیثیت سے کتاب یا علم
کی ناکامی ۔

فلا ح : (ع) ، مونث ، بنات ، بھلائی ، صلاحی ۔
2 اڑس : (اضافت کے ساتھ) (د) ، مونث ،
دنیا اور عقبا کی بھلائی ۔

فلائن / فلاسنگ : (د) ، مذکر ، گوجھن ، وہ برسی
کی نئی ہونے ایک خاص وضع کی چیز
جس میں پتھر یا دھیرا کو کر بھینکتے ہیں ۔

فل انکیپ : (انگ) ،
ایک مقررہ برے
سائز کا کاغذ ۔

فلم : لائن _____ (انگ) (انگ) مونٹ،
فلمی پیشہ، فلمی

دنیا سے تعلق رکھنے والا کاہ بار۔
فلو (انگ) مذکر، انفلو انزا کا مفسد۔
فلور (انگ) مذکر، فرش،
کمرے کی چھلی سطح۔

شو (انگ) ہوش یا گلب جملت
کے کھانے کے بعد کچھ پر
رخصی دوسرے کا پروگرام۔

قلبتا / فلیتہ : مذکر، بی، پلینہ،
جلانا : (۱) جی روشنی کرنا (۲) آسیب زدہ کے
ساتھ فلیتہ جلانا۔

فلیٹ (انگ) مذکر، کسی جملت کی منزل
پر چند کمروں کا رہائشی مقام۔

فلیش لائٹ
(انگ) مذکر، فلیش من سے پھینکی جانے
والی روشنی کا جھکا تیز روشنی جو عام طور پر
فوٹو لینے وقت استعمال ہوتی ہے۔

فم (انگ) مذکر، منہ، کوہن۔
فم : (اضافے کے ساتھ مذکر، بیچے والی کاٹنے،
معدہ : (اضافے کے ساتھ مذکر، معدے کاٹنے
کوڑی۔

فن : مذکر، (۱) ہنر، جو ہر دست کاری (۲) ہنر، فریب
حیلہ، (۳) علم کی شاخ۔
تشریح : (اضافے کے ساتھ مذکر، اعضاء
جوانی کی دریافت کا علم۔

فنا : مونٹ، (۱) فہمی، ہلاک ہونا، نیست و نابود ہونا
(۲) معدوم، ناپید (۳) اصطلاح تصوف (صوف
ذہم کے لغزے اور تیز کا زائل ہونا۔
فی : تصنیف، تصوف میں ایک مرتبہ کا نام میں

فلش (انگ) ایک قسم کا جو جو
تاش سے کھینچا جاتا ہے۔

فلش سسٹم (انگ)
مذکر، بیت بخلاہ
کی خلافت کو پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ نالہ کے
ذریعہ خارج کرنے کا طریقہ۔

فلنل : مونٹ، مرج۔
فلگ : (۱) مذکر، آسان۔

فلک : (۱) استعاراً، جامع استقام و رفعت۔
فلک اعظم / فلک الافلاک : مذکر، ذوال آسمان۔
بارگاہ : مالہ مرتبہ۔

پرواز / پیار : تازہ (۱) مرش پر پہنچنے والا۔
(۲) مشہور (آہ کے لیے)

پیر : (اضافے کے ساتھ) مذکر، آسان۔
ڈاٹ پڑنا : فخر خانا نالہ ہونا۔

ڈو : (۱) ف، مفلس، محتاج، معیبت کا مارا ہوا۔
کسیر : (۲) ف، مونٹ، (۱) تیز و گھوڑا (۲) بھنگ۔
قدور : پایہ۔ سرچرا۔ رفعت۔ مرتبہ۔
حال رتبہ آدمی۔

فلکیات : مونٹ، فلک سے متعلق چیزیں، علم الافلاک۔
فلکی راصتہ : مذکر، چاند سورج اور دوسرے ستاروں کی حرکت۔
فلم : (انگ) مونٹ، (۱) سلولائیڈ
جو سینا گرافی اور فوٹو گرافی میں

استعمال ہوتا ہے (۲) پیکس، تصویر۔
اسٹار (انگ) مذکر، بڑا فلمی
اداکار یا اداکار۔

بندی : مونٹ، شوٹنگ، فلم بنانا۔
پروڈیوسر (انگ) ،
مذکر، فلم بنانے
والا (۱) فلم ساز۔
ساز : فلم بنانے والا، پروڈیوسر۔

فونوٹ

— گراف GRAPH — (انگ) مذکر، (۱۱) مکی

تصویر (۲۲) فونوٹینا یا تصویر
کھینچنا۔

— گرافر GRAPHER — (انگ) مؤنث، مذکر

تصویر کھینچنے والا۔

— گرافی GRAPHY — (انگ) مؤنث، تصویر

فوج: (ج) مؤنث، گروہ، آدمیوں کا مجموعہ، لشکر، جنگی آدمیوں
کی جماعت۔

— دار: (ف) مذکر، (۱۱) سپہ سالار، فوج کا افسر۔
(۲) وہ شخص جو بادشاہ کی سواری میں بائیں پرانے
بٹھے، جلی بان (۳) کو توال۔

— داری: مؤنث، لڑائی، جھگڑا، مابہیث۔

— کا نشان: فوج کا کھنڈا۔

— کشتی: (ف) بیونٹ، پڑھانے، دھاوا، حملہ۔

— کی آگاری آندھی کی پھیلاؤ: (مثنیٰ) فوج کا
الگ اجتماعہ اور آندھی کا پھیلا جتہ زور شور کا ہونا ہے
فوجی: فوج سے متعلق، لشکر، جنگی۔

فوراً: جلدی، اسی وقت، جھٹ پٹ۔

فوری: (صفت) حال کی، جھلت کی۔

فورٹ: FORT (انگ) قلعہ۔

فورڈ: FORD (انگ) مذکر، (۱۱) امریکا کا ایک

مٹھ جو رکروٹینی خانڈان۔

(۲) وہ موٹر کاریں جو فورڈ کے کارخانے میں بنتی ہیں۔

فورمین: FORE MAN (انگ) م

مذکر، (۱۱) مزدوروں کا داروغہ یا اٹھراں۔

فوز: (ج) مؤنث، کامیابی، مطلب کو پہنچنا۔

عظیم: (اصناف) کے ساتھ مذکر، بڑی کامیابی۔

فوطہ: (ف) مذکر، (۱۱) حقیقہ، (۲) خراج محصول، روپہا جو رعایا

نکالنے میں داخل کرے۔

از ہر وقت اپنے مرشد کے دھیان میں ڈوب رہتا ہے۔
— فی القم: خدا تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت میں ڈوب جانے
کا طریقہ۔

فنایت (فنا۔ ئی۔ بیت) (ج) مؤنث، (۱۱) فنا ہو جانے کی
خاصیت، (۲) (تعرف کی اصطلاح) فقر کا ایک اصطلاح
خدا کی حقیقت و معرفت میں غرق ہو جانا، فنا فی اللہ
کا درجہ۔

فنیان: مؤنث، چالے، قبوہ وغیرہ بننے کی چھوٹی پیمانی۔

فندق: (ج) مؤنث، (۱۱) میوے کا نام جو نہایت سرخ اور
چھوٹے پیر کے برابر ہوتا ہے (۲) (کلاسیک) ہندی
لگی ہوئی انگلیوں کا سہرا۔

فند: FUND (انگ) مذکر، (۱۱) جمع سرمایہ، راس
الجمال، (۲) کسی خاص مقصد کے لئے
جمع کیا ہوا سرمایہ۔

فنس: سنس، پالکی (م) پینس۔

— فنکر ہرنٹ: FINGER PRINT (انگ) مذکر،

کسی شخص کی شناخت کے لئے انگلیوں کا نشان،
— فنون: (ج) مذکر، جمع فن کی۔

فوج احش: (ج) جمع فاسقہ کی، (۱۱) بدکار عورتیں، (۲) برے کلم

فواد: (ج) مذکر، قلب، دل، جان،

فوازہ: (ج) مذکر، چوکاری، پانی کو اوپر پھینکنے کا آلہ،

فواکہ: (ج) مذکر، جسے خاکہ کی، میوے۔

فوائد: (ج) مذکر، جسے فائدہ کی۔

فوت: (ج) نیست معدوم۔

— ہونا (۱) (۱۱) مرنا، جہاں سے گزرتا (۲) جا تا رہتا۔

فونی فراری: (اہل دین کی اصطلاح) موت، مرنے یا

بھاگ جانے کی رپورٹ۔

فونو: PHOTO (انگ) مذکر، کسی تصویر

تصویر۔

فوج : (۵) مذکورہ کلمہ، عقل، مانائی۔
 جہانیش : مومن، ہدایت کھانا، منہ پر گناہ، آگاہ کرنا۔
 نصیرہ : کلمہ دار، ہوشیار، عقیل
 فہم : (۵) دانائے کلمہ دار۔
 فی : (۵) میں، ہر ایک کے لئے اور ہر چیز کے لیے،
 (۲) نقص، ٹھیک، غلطی، توبہ، کھوٹ۔
 الأصل : اصل میں۔
 البدر : کلمہ دار، بے سوچے، فوراً، برجستہ۔
 الکلمہ : حرف کسی قدر۔
 النجالی : اسی وقت، سر دست، ابھی۔
 الحقیقت : بے سنگ، سچ، سچ، اصل میں۔
 الغور : (۵) فوراً
 النار : جہنم، اصل، ہونا، دور ہونا۔
 الواقع : الواقعی : اصل میں، حقیقتاً۔
 الوقت : فوراً، اسی وقت۔
 امان اللہ : خدا کی امان اور حفاظت میں خدا حافظ
 زمانہ : ہمارے زمانے میں، آج کل، ان دنوں۔
 سبیل اللہ : خدا کی راہ میں، وقف۔
 مابین : دونوں کے بیچ میں، دونوں میں، درمیان۔
 نفسیہ : اپنی ذات سے۔
 فیاض : (۵) بڑا سخی، دریا دل۔
 فیثا : (پرتگالی) مذکورہ (۱۱) نوڈ کی پٹی (۱۲) پیمائش کرنے کی پٹی
 (۱۳) ریشمی یا سونی کپڑے کی پٹی۔
 فیثا غورس : ایک نامی گرائی حکیم کا نام۔
 فیچر فلم : (۱) ایک (۲) مونٹ
 FEATURE FILM : مختصر فلم، معلوماتی فلم
 فیلڈ آؤٹ : (۱) فیلڈ اصطلاح
 (۲) بند رکھنا، غائب ہونا۔

فیئر پرائز شاپ : FAIR PRICE SHOP
 (۱) ایک (۲) مونٹ، واچھی قیمت کی دکان۔

فوطہ :
 دار / پوت دار : مذکورہ خزانچی، تحویل دار۔
 فوق : (۵) مذکورہ (۱۱) اوپر بلند (۲) تھیک بڑائی، بڑی
 فوقانی : اوپر کا، اوپر نقطہ دیا ہوا۔
 فوق البیان : (۵) کلمات کو حقیقت سے زیادہ بیان
 کرنا، مبالغہ آرائی، بلند آہنگی۔
 الجھڑک : (۵) چٹکلا، زرق برق۔
 العادات : (۵) حد بشری سے بڑھ کر حد سے زیادہ۔
 فطری : (۵) مذکورہ (۱۱) فطرت کے معمول سے اوپر،
 (۲) برتر و بالا۔

لے جانا : بصیقت لے جانا، بڑھ جانا۔
 فوقیت : مومن، تزئین، بہتری، شرف۔
 فولاد : مذکورہ (۱۱) ایک قسم کا نہایت سخت و ہر دار لونا۔
 (۲) بہت سخت، کڑا، مضبوط۔

فولادی : (۱۱) فولاد کا بنا ہوا (۲) بہت سخت، بہت مضبوط
 فولڈنگ : FOLDING : (۱) آگ، تہہ دار۔
 فوولس کپ : FOOL'S CAP : (۱) آگ، مذکورہ
 پرانے زمانے میں

انگریزی دربار کے سفروں کی ٹولی جو ایک خاص
 سائز (پہ ۱۳ پلہ ۱۶) کی ہوتی تھی (۲) ۱۶ پلہ ۲۲
 کا سائز کا کاغذ جو بڑا کر فٹل اسکیب کہلاتا ہے۔
 (۳) ستر ہویں صدی میں بعض خاص قسم کے کاغذ کا
 کاغذ ان یا مار کہ۔

فون : مونٹ، سانس کی ٹھنکار۔
 فون : (۱) ایک (۲) فون کا مخفف۔
 فونوگراف : PHONO GRAPH : (۱) آگ،
 ریکارڈ کرنے کی مشین، صدا بندشیں۔
 مذکورہ آواز

ف۔ ۵

فرہشت : (۱) ف (۲) مومن، چیزوں کی تفصیل، وہ کاقد جس میں
 کسی اور یا کسی چیز کی تفصیل کسی ہو، فرد، سپاہیہ۔

فیل :

فیل FAIL (انگ) ، مذکر ، ناکام۔
 فیل : مذکر ، (۱) ہاتھی ، (۲) شطرنج کے ایک مہرے کا نام۔

— بان : (ف) مذکر ، جہاقت۔
 — پا : (ف) مذکر ، ایک مرض کا نام جس سے پاؤں ہاتھی کے پاؤں کے مانند سوج جاتے ہیں۔

— پایہ : مذکر ، ستون ، پیل پایہ۔
 — مریخ : (ف) مذکر ، سپرو ، ایک پرند کا نام۔
 فیلڈ مارشل FIELD MARSHAL (انگ) ، مذکر ،

(۱) فوج کا سب سے بڑا عہدہ (۲) سپہ سالار۔
 فیلڈنگ FIELDING (انگ) ، مونث ، کرکٹ کے میدان میں نظریہ کے ساتھ کھیلنا۔

فیلسوف : مذکر (۱) دانائے (۲) فریبی ، بد باطن چال باز۔

فیلسوفی : مونث ، مکاری ، عیاری ، چالاکی ، شرارت۔
 فیلہلی FAMILY (انگ) ، مونث ، گھرانہ ، خاندان۔

— پلاننگ PLANNING (انگ) ، مونث ، خاندانی منصوبہ بندی۔

فینسی FANCY (انگ) ، مونث ، بھڑک دار ، زرق برق ، نفیس۔

— ڈریس DRESS (انگ) ، بیہودہ کا لباس۔

فیروزہ : (ع) (۱) کامیاب (۲) (بجائز) مبارک۔
 بخت : (ف) مند ، (ف) خوش نصیب ، کامیاب۔
 فیروزہ : (ف) مذکر ، ایک قسم کا مہترنگاری ، نیلگوں یا آسمانی رنگ کا قیمتی جواہر۔
 فیروزی : (۱) فیروزے کے رنگ کا ، نیلگوں (۲) ایک رنگ کا نام۔

فیئرٹی : مونث ، دیکھو فنی۔

فیس FEE (S) (انگ) ، مونث ، وہ رقم جو محنتانہ اجرت یا معاوضہ کے طور پر دی جائے۔ جیسے یوشن فیس ، ڈاکٹر اور وکیل کی فیس۔

فیشن FASHION (انگ) ، مذکر ، وضع ، تراش خواہش ، طور پر ہونے والا۔

— ایبل ABLE (انگ) ، مذکر ، فیشن والا۔

فیصل ہونا : تصفیہ ہونا ، طے ہونا ، بے باقی ہونا۔

فیصلہ : مذکر ، (۱) تصفیہ (۲) خاتمہ۔

فیض : (ع) مذکر ، فائزہ ، نفع ، بھلائی۔

— بخشش : (ع) رساں ، فائدہ پہنچانے والا۔

— گشتگر : بہت فیض پہنچانے والا۔

یاب : فیض حاصل کرنے والا۔

فیضان : (ع) مذکر ، فیض پہنچانا ، نفع پہنچانا۔

فیکٹری FACTORY (انگ) ، مونث ، کارخانہ۔

فیکٹری FACULTY (انگ) ، مونث ، شعبہ ،

فیل : مذکر ، (۱) چمٹنا (۲) مکر ، فریب ، شرارت۔

بھرنانا : (دہلی) (۲) دھوکا دینا۔

مچانانا : شرارت کرنا ، شور مچانا۔



ق

قاف: مذکر؛ حساب جمل (جمع) میں اس کے سو عدد ہیں۔

ق - ا

قا: موش؛ کوزے کی آواز۔

قآن: (ر) مذکر؛ (۱) شہنشاہ چین کا لقب، (۲) ترکستان کے بادشاہ کا لقب (۳) (مجازاً) علیل القدر بادشاہ، عالِ سخی اور عادل بادشاہ۔

قاب: (ر) موش؛ چینی کی بڑی رکابی۔

قابض: (ر) (۱) قبضہ کرنے والا، ذخیل (۲) بھالنے والا (۳) (طب) قبض پیدا کرنے والی غذا یا دوا

قارواح: (ر) اضافت کے ساتھ (روحوں کا جسم سے جدا کرنے والا، قضا کا فرشتہ۔

قابل: (ر) (۱) پسندیدہ (۲) سزاوار، اہل (۳) ہوشیار، تجربہ کار، استعداد رکھنے والا، حیثیت رکھنے والا (۴) عالم فاضل (۵) لائق۔

سماحت: (ر) اضافت کے ساتھ (مقدمہ) وہ مقدمہ جو از روئے قانون کسی عدالت کے حدود اختیار میں ہو، سننے کے لائق۔

مواخذہ: (ر) اضافت کے ساتھ (باز پرس کا سزاوار۔

قابلہ: (ر) (۱) قابل کامونٹ (۲) بچہ جانے والی عورت، عدائی۔

قابلیت: (ر) موش؛ (۱) یاقوت، استعداد، سلیقہ، مناسبت، ہوش۔

قابو: (ترکی) مذکر؛ موقع، بس، اختیار۔

پانا: قدرت پانا، موقع پانا، اختیار پانا۔

قپس آنا: بس میں آنا، زیر ہونا کسی کسی کے اختیار میں جانا۔

قابوچی: (ترکی) مذکر؛ (۱) دربان (۲) (جو کلمہ بے تحقیر) سبقت، کینہ، تمسید، بد ذات۔

قابل: (سربیائی) مذکر؛ حضرت آدم کے بڑے بیٹے ہابیل کے بھائی کا نام۔

قاتل: (ر) (۱) قتل کرنے والا، (۲) ہلاک کرنے والا، ہلک۔ (۳) مذکر؛ (کنایتاً) معشوق۔

قاچاتی: اسمکلمہ غیر قانونی طور پر درآمد کرنے والا سوداگر۔

قادر: (ر) (۱) قدرت والا، اختیار والا، نفوذ والا (۲) قابو رکھنے والا۔

مطلق / علی الاطلاق: (ر) (۱) اذیت کے نشان، (۲) کبریا پر قدرت رکھنے والا (۳) (کنایتاً) خدا تعالیٰ۔

قادری: مذکر؛ صوفیہ کا ایک گروہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے مسلک کا پابند ہے۔

قارورہ: (ر) مذکر؛ (۱) شیشہ، شیشی، ایک قسم کی شیشی جس میں پیشاب بھر کر حکیم کو دکھلاتے ہیں (۲) مجازاً، پیشاب۔

رملنا: موافقت ہونا، کمال، اتحاد ہونا۔

قارون: (ر) مذکر؛ بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار شخص کا نام جس کے خزانوں کی کنجیاں چالیس چھڑوں پر لٹی تھیں۔

(۲) (مجازاً) بخیل مال دار۔

کاخزانه: (کنایتاً) بہت بڑا خزانہ، بے انتہا دولت۔

قاری: (ر) مذکر؛ (۱) پڑھنے والا (۲) حروف کے خارج کے موافق قرآن شریف پڑھنے والا، علم قرأت سے واقف۔

قاز: (ر) موش؛ ایک پرند کا نام، راج ہنس۔

قاسم: (ر) مذکر؛ تقسیم کرنے والا۔

قاش: (ر) موش؛ چھل کا لمبائی میں تراشا ہوا ٹکڑا، پھانک۔

قاش ہونا: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

قاصد: (ر) مذکر؛ (۱) قاصد کرنے والا (۲) ایلچی، نامبرو، پیغام لے جانے والا۔

قاصر: (ر) کوتاہی کرنے والا، مجبور۔

ہونا: معذور ہونا، مجبور ہونا، فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرنا۔

قاضی: (ر) مذکر؛ (۱) مسلمان بیج جو شرع کی رو سے فیصلہ کرے (۲) بھلا پڑھنے والا (۳) (کنایتاً) ذمہ دار شخص۔

قاضی الحاجات: (ر) حاجت روا کرنے والا، (مجازاً) خدائے تعالیٰ۔

القضات: مذکر؛ قاضیوں کا افسر۔

قاضی جی کیوں ڈبلے شہر کے اندیشے سے: (مثلاً) ناحی اور بے موقع فکر کرنے والے کی نسبت بولتے ہیں۔

قدوہ: (۱) ایک کثیر الاولاد بزرگ کا نام (۲) قدوائیوں کے مورث اعلیٰ۔

کاپیادہ: (۱) سرکاری سپاہی، کچھری کا سپاہی (۲) (کنایتاً) وہ شخص جس سے لوگ ڈریں۔

قال مقال: موت: قیل و قال، جنت۔
 — وقیل / قول و قال: موت: جنت، بحث۔
 قالب: مذکر؛ (۱) کا بُد سا بچہ (۲) چھینٹ چھاپنے کا چھاپہ،
 (۳) تن، بدن۔
 — بدلنا: دوسرا جسم اختیار کرنا۔
 — پر چڑھانا، جوتی یا ٹوٹی کو قاب چڑھانا۔
 — سہی شکرنا / خالی کرنا: (۱) رُوح کا جسم کو خالی کرنا (۲)
 دکھنا، مرنا۔
 — میں ڈھالنا: سانچے میں ڈھالنا۔
 قالی / قالین: (رت) مذکر؛ ایک قسم کا بچھڑا، غالیہ۔
 قامت: (رع) موت؛ مذکر؛ (۱) قد، ڈیل (۲) وقت آغاز
 ناز کا مقررہ اعلان، (۳) جسم۔
 قاموس: (رع) مذکر؛ (۱) بحر و سمندر (۲) عربی کا ایک مشہور لغت۔
 قاموسیت: موت؛ طبعیت، زبان میں مشکل الفاظ استعمال کرنا۔
 قانع: (رع) قناعت کرنے والا، تنویری چیز پر صبر کرنے والا۔
 قانون: (مذکر)؛ (۱) قاعدہ، دستور، ضابطہ (۲) ایک مشہور
 رومی بابے کا نام، (۳) شیخ بوعلی سینا کی مشہور طب کی کتاب۔
 — بگھارنا / چھانٹنا: بے ضرورت نکلنا اور جھٹ کرنا۔
 — گو: مذکر؛ (۱) وہ محضر جس کے پاس تمام ضلع یا علاقہ کی
 زمینوں کا حساب کتاب رہے۔
 قانونی: (۱) قانون بنانے والا، قانون جاننے والا، (۲) قانون
 سے منسوب (۳) مجتبیٰ، جھگڑاؤ۔
 قانونیات: (رع) موت؛ علم قانون۔
 قاہر: (رع) مذکر؛ تم کرنے والا، غالب، زبردست۔
 قاہرہ: (رع) موت؛ (۱) غالب، زبردست (۲) مہر کی راہروان ہونا
 قائد: (رع) مذکر؛ (۱) فوج کا سردار، حاکم (۲) اندھ کی لاشی
 کپڑا کس کورا سے پرے جانے والا (۳) رہنما، لیڈر۔
 قائل: (رع) مان جانے والا، لاجواب ہونے والا، تسلیم کرنے والا۔
 قائم: (رع) (۱) کھڑا ہونے والا، کھڑا ہونا (۲) برقرار۔
 — اللیل (قائیل لیل): (رع) عبادت کے واسطے رات
 بھر جانے والا۔

قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے: دشمنی سیانے لوگوں کے
 چھوٹے بھی سیانے ہوتے ہیں، حاکم یا امیر کے گھر کا اڈنا آدمی
 بھی چالاک ہوتا رہتا ہے۔
 قاطبہ: (رع) تمام، سرتاسر، بالکل۔
 قاطع: (رع) (۱) کاٹنے والا (۲) لاجواب کرنے والا۔
 قاعدہ: (رع) مذکر؛ اصول، بنیاد (۲) دستور، ریت، آئین (۳) طرز،
 ڈھنگ، عادت، خصلت (۴) وہ کتاب جس میں حروف تہجی
 اور ان کے مرکبات درج ہوتے ہیں، پڑھائی کی ابتدائی کتاب
 (۵) ترتیب، اسلوب، قرینہ۔
 — کلیہ: (رت) اضافت کے ساتھ عام قاعدہ، اصول۔
 قاف: (رع) مذکر؛ پچھڑے تہجی کا ایک حرف (ق) (۲) ایشیائے
 کوچک کے شمال میں بحیرہ کیپسین اور بحر اسود کے مابین واقع
 ایک پہاڑ کا نام۔
 — تا قاف: (رت) تمام جہاں سے مراد۔
 — کی پریاں: (رکنا) تاج سین عورتیں۔
 قافلہ: (رع) مذکر؛ مسافروں کا گروہ، سوداگروں کا گروہ۔
 — سالار: (رت) مذکر؛ قافلہ کا سردار۔
 قافیہ: (رع) مذکر؛ وہ ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں
 چند مخصوص قیدوں کے ساتھ لائے جائیں۔
 — بندی: موت؛ تک بندی۔
 — پیمائی: موت؛ اشعار کی گنتی پڑھانے کے واسطے متعدد
 قافیوں کو شعر میں باندھنا۔
 — تنگ کرنا: پریشان کرنا، عاجز کرنا، (رق) کرنا۔
 — تنگ ہونا: زچ ہونا، لاجواب ہونا، حیران ہونا، عاجز ہونا۔
 — شنایگان: (رت) مذکر؛ وہ قافیہ میں سے ایسا جسے حل ہو۔
 — معمولہ: (۱) اضافت کے ساتھ قافیہ کو جو روایت لاکر قافیہ کرنا۔
 — ملانا: (۱) تنگ سے تنگ ملانا (۲) (رکنا) تاج بار بار دہنا یا بار دہنا۔
 قاقی: (رت) باتوں کو بلا تپلا، سوکھا ہوا آدمی۔
 قائم: (رت) مذکر؛ ایک قسم کے نیوے کی کھال جس سے پوستین
 بناتے ہیں۔
 قال: مذکر؛ مباحثہ، گفتگو، بات۔

مذآنا۔

قبر میں تین دن سحاری؛ مسلمانوں کے خیال کے مطابق
قبر میں مردے کے حساب کتاب کے تین دن۔

_____ میں ساتھ لے جانا؛ (دعو) قبر میں بھی یاد رکھنا قبر تک پہنچنا۔
_____ میں کھڑے پڑیں؛ (دعو) گوشنا۔

قبض؛ (رع) مذکر؛ (۱) ایک اصطلاح علم عروض (۲) قابض؛ بس تحت
دخل (۳) اڑ، معدے کی گرفتگی جس سے اجابت نہ ہو یا بہت کم
ہو، (۴) اصطلاح تصوف، دل کی گرفتگی۔

_____ الوصول (قبض و وصول)؛ مذکر؛ تنخواہ وصول کرنے
والے ملازموں کے دستخط کا رجسٹر، رسید کا رجسٹر۔

_____ قبضت؛ اصطلاح علم تصوف، دل کا خدا کی یاد کی طرف
کبھی متوجہ ہونا، کبھی نہ ہونا۔

قبضہ؛ (رع) مذکر؛ (۱) دخل، مداخلت، تعسّف،
(۲) مؤثّر، دستہ (۳) قابض اختیار، (۴) وہ لوہے کا
ٹکڑا جس سے کو اڑ یا صندوق وغیرہ کے دو حصوں کو ملا ہوا
رکتے ہیں، (۵) موٹے آدمی کا بازو۔

قبضی؛ مذکر؛ فرعون کے ساتھی جو ملک مصر کے باشندے تھے۔
قبل؛ (رع) پہلے، آگے، پیشتر، اول۔

_____ از مرگ و اولیلا؛ (مثل) مصیبت آنے سے پہلے
فریاد اور رنج مچانا۔

قبل؛ (رع) موٹھ؛ عورت کا اندام نہانی۔

قبلہ؛ (رع) مذکر؛ (۱) کعبہ، نماز پڑھنے کی سمت، (۲) کلمہ
تعظیم حضور، جناب (۳) (طنز) بڑا چالاک۔

_____ اُتام؛ راضف کے ساتھ (تعظیم) سب کا واجب التعظیم۔
_____ حاجت / حاجات؛ راضف کے ساتھ (مذکر؛ کلمہ تعظیم

_____ سب کی حاجتیں رفع کرنے والا، مراد برلانے والا۔

_____ رُو؛ کسی شخص یا چیز کا قبلہ کی طرف منہ، قبلہ کی سمت۔

_____ عالم؛ راضف کے ساتھ (کلمہ تعظیم۔

_____ رگاہ؛ (مجانا) (۱) پد پد نگوار (۲) بزرگ، حمایتی۔

_____ سنا؛ (رف) مذکر، قلیے کا رخ معلوم کرنے والے ایک لے کا نام۔

_____ و کعبہ؛ کلمہ تعظیم و تکریم۔

قائم بالذات (قائم بذات)؛ (رع) وہ چیز جو بذات خود قائم ہو۔
_____ بالغير (قائم بغير)؛ وہ جو دوسرے کے
سہارے پر قائم ہو۔

_____ مقام؛ دوسرے کی جگہ کام کرنے والا، عوضی۔

_____ ہونا؛ (۱) کھڑا ہونا، اٹھنا (۲) برقرار ہونا، مستقل ہونا۔

(۳) بنیاد پڑنا، (۴) دھات کا آگ پر پھیر جانا اور مقدار
میں نہ گھٹنا، (۵) حد مقرر ہونا (۶) چکنا، رہنا۔

قائمہ؛ (رع) مذکر؛ (اصطلاح اقلیدس) ۹۰ درجہ کا زاویہ۔

ق - ب - د

قبا؛ (رع) موٹھ؛ ایک خاص قسم کا لمبا کوٹ یا پکین۔

قباحت؛ (رع) موٹھ؛ برائی، نقص، عیب۔

قبالہ؛ (رع) مذکر؛ (اصطلاح کے معنی) ضامن نامہ، مکان یا جاگیر وغیرہ
کا وہ کاغذ جس سے ملکیت ثابت ہو، مکان کا بیعنامہ۔

_____ نویس؛ مذکر؛ وہ شخص جس کا پیشہ تمک اور سینا رکھنے کا ہے۔
قباخ؛ (رع) مذکر؛ جمع قبیلہ کی۔

قبائل؛ (رع) جمع قبیلہ کی؛ مذکر؛ (۱) جماعتیں، فرقے، (۲) پال
بچے، گھر کے لوگ۔

_____ قبیح؛ (رع) مذکر؛ (۱) برائی عیب (۲) محسن کا تعیض۔

قبر؛ (رع) موٹھ؛ تربت، مردے کو دفن کرنے کا گڑھا۔

_____ تک ساتھ جانا؛ زندگی تک باقی رہنا مرنے تک نہ چھوڑنا۔

قبرستان؛ مذکر؛ مردوں کے دفن ہونے کی جگہ۔

قبر کا منہ جھانک آنا؛ (کنایتاً) مرنے کو سینا، خدا کے گھر
سے پھیرنا۔

_____ کھود کر لانا؛ (دہلی) جہاں سے بھی ممکن ہو تلاش کر کے لانا۔

_____ کے مردے اُکھاڑنا / اُکھیرنا؛ (۱) مردوں کا ذکر
کرنا، مردوں کے عیوب ظاہر کرنا (۲) (کنایتاً) پرنے جھگڑنے

نکالنا، سوئے ہوئے فتنے چگانا۔

_____ میں پانچ لٹکانے بیٹھنا؛ موت کے دن قریب آنا
آخر عمر پہنچ جانا۔

_____ میں پیٹھ نہ لگنا / کمر نہ لگنا؛ (کنایتاً) مرکز سبھی چین

قبول: رع، جمع قبر کی، مذکر؛ موت؛ گھوڑے کی کاٹھی میں قبول رکھنے کے لیے بنا ہوا چمڑے کا خانہ۔

قبول: رع، مذکر؛ تسلیم، منظور، پسند۔

— صورت: نحو صورت، حسین۔

— عام: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ عام پسندیدگی، شخص کو پسند آنا۔

قبولنا: (۱) اقرار کرنا، اقبال کرنا، منظور کرنا، پسند کرنا۔

قبولی: (د) موت؛ چنے کی دال اور چاول ملا کر پکائی ہوئی ایک قسم کی کھجوری۔

قبولیت: موت؛ (۱) دعا کا قبول ہونا، (۲) مقبول ہونا پسندیدگی پسندیدہ ہونا۔

قبیہ: رع، گنبد، گنبد کی شکل کی کوئی چیز۔

قبیح: رع، مذکر؛ بد صورت، نازیبا، (۲) مہیوب، قابل شرم۔

قبیل: رع، موت؛ نوع، جنس، قسم۔

قبیلہ: رع، مذکر؛ گروہ (۱) ایک دادا کی اولاد خاندان نسبی فرقہ، (۲) موت؛ جوڑو۔

قتل: رع، مذکر؛ خون کرنا، جان سے مار ڈالنا۔

— عام: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ عام خون ریزی، بلا امتیاز جان سے مار ڈالنا۔

— عمد: مذکر؛ (قانون) دیدہ و دانستہ ہلاک کرنا۔

— گاہ / گہ: موت؛ قتل کرنے کی جگہ۔

قتال: بہت کارزار کرنے والا، بہت قتل کرنے والا۔

قتال: رع، موت؛ (۱) ہتھیاروں کی لڑائی، خون ریزی، جنگ۔ قتلہ: مذکر؛ قاش، پھاٹک، کسی کھانے کی چیز کا ترشٹا ہوا ٹکڑا۔

قتی: رع، موت؛ انگور کی پٹاری۔

قتیل: رع، مقتول، شہید۔

قحجہ: رع، موت؛ برا، فاحش، بد کا عورت (۲) رکنائیا، دنیا۔

قحط: رع، مذکر؛ (۱) کال، خشک سالی (۲) (جائزہ) کسی چیز کی کمی، نایابی۔

قحط الرجال: (مفطر رجال) رع، مذکر؛ بھلے مانسوں کا ناپا یا جانا۔

قحط زرد / کا مارا: بھوکا، کھلا۔

— سالی: موت؛ خشک سالی۔

قَدْر: رع، مذکر؛ قامت، جسم کی لمبائی۔

— آدم: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ آدمی کے قدم کے برابر۔

— آور: لیے قدم کا۔

— نکلنا: بچے کا دراز قدم ہونا۔

— وقامت: مذکر؛ حیاست۔

قدامت: رع، موت؛ کہنہ ہونا، ہمیشگی، پرانا پن، قدیم ہونا۔

— پرستی: موت؛ پرانے طور و طریق کی پیروی۔

— پسند: (۱) تجویزین اور اصلاحوں کا مخالفت (۲) (سیاسی اصطلاح) ملک میں رائج پالیسی اور قواعد اصول و قانون کے تسلسل و تحقق

کا حامی (۳) (سماجی اصطلاح) پرانی روایتوں اور رسموں کا پیرو (۴) (ادبی اصطلاح) ادب کی قدیم اور کلاسیکی خصوصیتوں کو سبک چھوڑنے والا۔

قدح: رع، مذکر؛ بڑا پیالہ، مطلق پیالہ۔

— آشام / پیانہ / خوار / کش / نوش: شراب خوار، شرابی۔

قدح: رع، مدح کی مند، عیب گوئی، نکتہ چینی، تردید۔

قدر: رع، موت؛ (۱) تقدیر الہی، فرمان، حکم، (۲) مقدار، اندازہ ظاہر کرنے کے لیے۔

— انداز: (د) تیر چھینکنے والا جس کا نشاء خطا نہ کیے۔

قدر: رع، موت؛ (۱) عزت، بزرگی، توقیر، درجہ، مرتبہ، (۲) اندازہ، مقدار، برابر، یکساں۔

— جوہر شاہ: حامد یا مدعا بنانند جوہری: رع، ترجمہ، خواہری قدر بادشاہ جانتے یا جوہری، اہل کمال کے قدر والے خاص لوگ ہوتے ہیں۔

— عاقبت: (اضافت کے ساتھ) موت؛ اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا طبع۔

— عاقبت کھلنا: (کنائیا) مزہ چکھنا (طنزاً)

— نعمت بعد زوال: (اضافت کے ساتھ) (مقولہ) اچھی حالت جب نہیں رہتی اس وقت اس کی حمد ہوتی ہے۔

— قدرے: (د) تھوڑا سا، قلیل۔

قدرے قلیل: تھوڑا سا۔

قدرت: (د) مونتھ، (ا) طاقت، زور، جمال (د) حوصلہ
اختیار، دسترس (د) خدا تعالیٰ کی شان، خدا تعالیٰ
کی صفت اور طاقت۔

_____ کا گھلونا: (د) کنایتاً، پیدائشی خوب صورت۔

قدرتی، خلقی، اصلی، قدرت سے منسوب۔
قدریہ: مذکر؛ ایک فرقہ کا نام، جو قضا و قدر کا منکر اور
جبر کا قائل ہے۔

قدس / قدس: (د) پاک (د) پاکیزگی، (د) مقدس
متبرک (جبرئیل کا نام)، (د) بیت المقدس۔

قدس سترہ / قدس السترہ العزیز: (د) پاک ہوا
بھیداس کا (د) مقدس مرے ہوئے بزرگوں کے نام کے بعد
بجائے رحمت اللہ علیہ کے مستعمل ہے۔

قدوسی: (ا) پاک، پاکیزہ (د) دجائز، فرشتہ۔

قدسیاں: (د) کنایتاً، فرشتے، علماء، اولیاء اللہ، روحانیوں۔

قدغن: (د) مذکر؛ موت، تاکید، روک ٹوک، منافی۔

قدم: (د) مذکر؛ (ا) پاؤں (د) فاصلہ، دونوں پاؤں کا نشان (د)
آنا، گھوڑے یا زور یا کسی کے آنے کا ٹکڑا (د) دجائز، ذات،
دوم، موجودگی (د) گھوڑوں کی ایک قسم کی رفتار۔

باز: (د) گھوڑوں، خوش رفتار، تیز رفتار۔

_____ با قدم / بہ قدم: قدم بہ قدم کسی کی پیروی کرتے ہوئے
ساتھ ساتھ۔

_____ بوس ہونا: (ا) تعظیماً پاؤں چومنا (د) کنایتاً کسی
بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا۔

_____ بیخ میں ہونا: دخل ہونا، واسطہ ہونا۔

_____ کپڑنا: (ا) تعظیماً بزرگوں کے پاؤں چومنا (د) کسی جگہ کا
اپنی دھبسی کے باعث چلنے والے کو ٹھہرائینا۔

_____ چھ: مذکر؛ گھڈی کا پایا جس پر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں۔

_____ چوٹنا: (ا) پائوسی (د) کامل مانتا (د) (د) شریا
تقدیر، تجویز، تسلیم کرنا۔

_____ درویشیال روٹلا: (مقولہ) بابرکت آدمی کے آنے سے

بلا رت ہو جاتی ہے۔

قدم گیر: (د) فٹ، پاؤں پکڑنے والا، چلنے میں رکاوٹ ڈالنے والا۔

_____ رنجہ فرمانا / رنجہ کرنا: (د) تعظیماً، تشریف لانا۔

_____ زمین پر نہ رکھنا: (د) کنایتاً، بے حد ضرور ہونا۔

_____ لگنا: (ا) قدموں کا بوسہ دینا (د) کسی کے زیر سایہ رہنا،
(د) کسی کی پناہ یا حفاظت میں رہنا۔

_____ لینا: (ا) تعظیماً پاؤں چومنا، تعظیم کرنا (د) دوسرے کے کمال
کا اعتراف کرنا (د) کنایتاً، منت سماجت کرنا (د) استقبال

کرنا (د) (د) بدی شرارت وغیرہ کا بانی تسلیم کرنا۔

_____ تلے آنکھیں بچھانا / کے نیچے آنکھیں بچھانا: بے حد غلوں
برتنا، بہت عزت کرنا۔

_____ لگی بلا: (د) (د) مونتھ، ساتھ رہنے والی آنت، بلانے سخت۔
قدم: (د) مذکر؛ ہمیشگی، (د) خدا کی صفت، خدمات۔

_____ قدم مار: (د) مذکر؛ جمع قدیم کی۔

_____ قدوس: (د) مذکر؛ (ا) پاک، مبارک (د) خدا تعالیٰ کا نام۔

_____ قدوم: (د) مذکر؛ آنا، تشریف لانا۔

_____ مہمنت کزوم: مذکر؛ ایسا آنا جس سے برکت ہو۔

_____ قدوہ / قدوہ: پیشوا، مُرشد۔

_____ قدیر: (د) صاحب قدرت، خدائے تعالیٰ کا نام۔

_____ قدیم: (د) ہمیشہ کا ازلی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو (د) اگلے
رہنے کا (د) آبائی، موروثی۔

_____ قدیمی: پُرانا۔

ق۔ ر

_____ قرابادین: (د) مذکر؛ دواؤں کا لفظ۔

_____ قرابت: (د) موثق؛ رشتہ داری، پگانگت، رشتہ۔
_____ دار: مذکر؛ رشتہ دار۔

_____ قرابتی: رشتہ کا پگانہ۔

_____ قرابہ: (د) مذکر؛ عرق رکھنے کی شیشے کی بڑی بوتل۔

_____ قرابین: (د) مونتھ؛ ایک قسم کی چوڑے منگنی چھوٹی ہندوق۔

_____ قرأت: (د) مونتھ؛ (ا) علم تجوید (د) قرآن کا عرب کے خاص

لمح میں پڑھنا۔

قرار: (ر) مذکر، (وا) مبین، سکون، الطینان، قیام (۲)

اقوار: مہد۔

داد: مذکر، مؤنث؛ (وا) ہمدیمان (۲) تجویز، فیصلہ۔

قرقر: (ر) مذکر، پیٹ کے بولنے کی آواز۔

قرآن: (ر) مذکر، (وا) اصطلاح علم نجوم، آفتاب کے ملاوہ کوئی حد سے ایک ایک برج میں جمع ہونا۔

قرآن الشہدین / (قرآن شہدین): (ر) مذکر، (وا) دو

اچھے ستاروں کا ایک برج میں جمع ہونا (۲) (مجازاً) دوا چھ

آرزوں کا جمع ہونا (۳) ساعت سمید۔

قرآن: (ر) مذکر، (وا) معنی پڑھنا اصطلاحی، کلام اللہ۔

درمیان دینا: (ر) قرآن مجید کا واسطہ دینا، قرآن

کی قسم کھانے سے کہنا۔

— کا جامہ پہن کر آنا: سرتاپا راست بازی اور صداقت کا

باس پہننا، یقین دلانے کے لیے درجہ کی تدبیر کرنا،

پارسانہنا۔

— کی ہوا دینا: بیمار کو صحت کے لیے قرآن کی ہوا دینا۔

— ہدیہ کرنا: (وا) قرآن شریف کا فروخت کرنا۔

قراول: (ر) مذکر، (وا) بندوچی (۲) چند سرداروں کا مجموعہ

جو فوج کے آگے بڑھ کر کئی کئی دشمن کی فوج اور

مردودیش کے حالات کی خبر لےتا ہے۔

قرار: (ر) مذکر؛ جمع قاری کی بہت سے قرآن پڑھنے والوں کی۔

قرأت: (ر) مؤنث، پڑھنا۔

قرائن: (ر) مذکر؛ جمع قرینگی۔

قرب: (ر) مذکر؛ نزدیک، مرتبہ، منزلت۔

— روحانی: (وا) صفت کے ساتھ، مذکر، (وا) نزدیک، باطنی نزدیک۔

— وحوار: مذکر؛ گرد و فوج، آس پاس۔

قربان: (ر) مذکر، (وا) شہر جس میں ترکش بندھا ہوا پیٹھ

پہن سکتا ہے (۲) قربان ہونا، صدقے۔ پانا چھا اور ہونا۔

قربانی: مؤنث؛ (وا) ذبح (۲) و جانور جو خدا کی راہ میں ذبح

کیا جائے۔

قربانی کرنا: بقرعید میں جانور کا ذبح کرنا۔

قربت: (ر) مؤنث؛ نزدیک، قرب۔

— کرنا: صحت کرنا۔

قرۃ العین (قرۃ العین): (ر) آنکھ کی صحت دکھانے والا

اولاد سے۔

قرح: (ر) مذکر؛ پیپ پڑا ہوا زخم۔

قریشی: (ر) قریشی، قریش سے نسبت رکھنے والا۔

قرص: (ر) مذکر؛ (وا) ٹکیا، کافور کی ٹکیا، کسی دوا کی گول

ٹکیا۔ (۲) آفتاب کا گردہ (۳) ساچھ میں بھی جانے والی

ایک قسم کی شکر کی بنی ہوئی سبز رنگ کی ٹکیا

قرض: (ر) مذکر؛ (وا) دھار، مستعار، مانگا ہوا۔

— حسنہ: (وا) صفت کے ساتھ، مذکر؛ بلا سود اور

بلا معاوضہ۔

— خواہ: قرض چاہنے والا۔

— دار: قرض لینے والا۔

قرضہ: قرض، دھار۔

قرطاس: (ر) مذکر؛ کاغذ۔

— ابيض: (وا) صفت کے ساتھ، (وا) سفید کاغذ (۲) ہا

تحریر جو حکومت کی طرف سے عام اطلاع پیشینہ کی جاتی ہے۔

قرع ابلق / قرع بلیق: مذکر؛ عرق کھینچنے کا ایک آلہ۔

قرعہ: (ر) مذکر؛ پائسا۔

— اندازی: (ر) مؤنث؛ پانسا پھینکنا۔

— فال بنام من دیوانہ نزدند: (وا) صفت کے ساتھ

(ر) فال کا قرعہ جو دیوانے کے نام نکلا ہے، جس کے ذمے

کوئی کام پڑے وہ اپنی نسبت کہتا ہے۔

قرق: (ر) مذکر؛ (وا) منسلی، (۲) روک، بندش۔

— امین: مذکر؛ ناظر عدالت جو قرقی کرتا ہے۔

قرقی: مؤنث؛ (وا) مال اسباب، منقولہ وغیر منقولہ کا ضبط ہونا،

یا سرکاری قبضے میں آکر ڈگری دار کو دلایا جانا (۲) روک

ٹوک۔

— قبل فیصلہ: مؤنث؛ قرقی جو فیصلے سے پیشتر ہوتی ہے تاکہ

جس کو عقل قبول کرے۔

قرینہ: (رع) مذکر؛ (۱) مناسبت جو دو چیزوں میں ہو، قیاس
اندازہ، (۲) ڈھنگ، وضع، صورت، شکل

(۳) سلیقہ، سجاوٹ، ترتیب۔

قرینے کی بات: موقع کی بات، مناسب بات۔

قریہ: (رع) مذکر؛ سگاؤں۔

— جات: (دت) جمع قریہ کی۔

ق - ز

قرآق: (دت) مذکر؛ راہ زن، ڈاکو، لٹییر۔

— اجیل: (اضافت کے ساتھ) رکنائیا، ملک الموت۔

قرزل: (ترکی) خاندان بلجق کے ایک بادشاہ کا نام۔

قرزلباش / قرزلباش: (رع) مذکر؛ (۱) شاہ اسماعیل صفوی
نے اپنی فوج کے لیے سرخ ٹوپی بارہ گوشے کی

بنوائی تھی، اس وجہ سے ان کے لشکریوں کا نام

قرزلباش ہو گیا پھر ان کی اولاد کو بھی قزلباش کہنے لگے۔

(۲) دجازا، سپاہی۔

ق - س - ش

قتام: (رع) تقسیم کرنے والا، بچنے والا۔

— آزل: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ رکنائیا، خدائے تعالیٰ۔

قتاوت: (رع) موٹھ؛ سنگ دلی۔

قتالی: قصابی؛ (مذکر؛ (۱) مسلمان گوشت فروش،

دجازا، بے رحم، سنگ دل، ظالم۔

— کے کھونٹے بندھنا: ظالم کے پالے پڑنا۔

— کے کھونٹے سے بکری بندھنا: (رکنائیا) (۱) بے رحم

ہمزاج آدمی کے ساتھ لڑکی بیاہ دینا (۲) کسی غریب کو

بھوناک جگہ پر ڈال دینا۔

قسط: (رع) موٹھ؛ (۱) حصہ، ٹکڑا (۲) وہ رویا جو تھوڑا تھوڑا

کر کے حسب قرار داد دیا جائے (۳) مال گذاری کا حصہ

جو وقت معین پر دیا جائے (۴) وہ میعاد جو روپیہ باسقاط

معا علیہ اپنے مال کو ملاحظہ نہ کرے۔

قرقرا: مذکر؛ ایک قسم کا پرند۔

قرم: قمر مساق کا مخفف۔

قرمساق: مذکر؛ بھڑوا، پاجی، مکینہ۔

قرمزوی: (دت) مذکر؛ سرخ، لال رنگ۔

قرن: (رع) مذکر؛ (دجازا) (۱) زمانہ، دراز (۲) مین کے

ایک قبیلہ کا نام۔

قرنا: (دت) موٹھ؛ سنگ کا بھل، تڑپئی۔

قرنطینہ: QUARANTINE کا معرب، مذکر؛ مسافروں

یا وہابی بیماری کے علاقوں کے بیماروں کو جبراً علاج دہ

رکھنے کی میعاد۔

قرنفل: موٹھ؛ بونگ۔

قرولی: (ترکی) موٹھ؛ شکاری چاقو، ایک قسم کی چھری جس

کو کر میں باندھتے ہیں۔

قرولیاں کرنا: (دہلی) فنون سپگری دکھانا۔

قرولون: (رع) مذکر؛ جمع قرن کی، عرصہ ہائے دراز۔

قریب: (رع) پاس، نزدیک (۲) نزدیک کا رشتہ دار (۳) تقریباً

انگ سبک (۴) عروض میں ایک بھر کا نام۔

قریب الاحتمام / قریب الاحتمام: (قریب الختم) قریب الختم؛

ختم ہونے کے قریب۔

قریب العظم: جلد بھ میں آنے والا۔

— المرگ: مرنے کے قریب، کوئی دم کا مہمان۔

قریش: (رع) قرش کی تصغیر؛ مذکر؛ عرب کے ایک مشہور قبیلہ کا

نام جو عورت، اشرافت، فصاحت میں تمام قبیلوں پر فوقیت

رکھتا ہے۔

قریش: (رع) قبیلہ قریش کا، قریش سے منسوب۔

قریشہ / کروشیا: موٹھ؛ ایک قسم کی بوہ یا پلاسٹک کی

بسی سلائی جس سے منہ سے مینا آن سوسٹر وغیرہ نینے جاتے ہیں۔

قرین: (رع) (۱) پاس، نزدیک، ملا ہوا (۲) ملحق (۳) مثل،

مانند، (۴) ہمنشین، مصاحب۔

— عقل / قیاس: (اضافت کے ساتھ) وہ بات

قشقہ: (ر) مذکر؛ ٹیکا، تلک۔

ق۔ ص

قَصَاب: (ر) دا، گوشت کاٹنے والا، گوشت بیچنے والا، (۲) ظالم، بے درد۔

قَصَابَا: مذکر؛ عورتوں کا سر پہ باندھنے کا ندمال۔

قِصَاص: (ر) مذکر؛ خون کا عوض لینا، خون کا بدلہ، جزا، مکافات۔

قَصَائِد: (ر) مذکر؛ جمع قصیدہ کی۔

قِصَبَات: (ر) مذکر؛ جمع قصبہ کی۔

قِصَب: (ر) مذکر؛ شہر سے چھوٹی اور گاؤں سے بڑی آبادی۔

قِصْد: (ر) مذکر؛ ارادہ، نیت، مطلب۔

قِصْدَا: جان بوجھ کر، عمدتاً۔

قِصْر: (ر) مذکر؛ محل، (۲) کمی، (۳) موٹ؛ فرض سزا کا مسافرت کی حالت میں چار رکعتوں کی جگہ دو رکعتیں پڑھنا، (یہ سزا قِصْر کہلاتی ہے)

قِصْص: (ر) جمع قصہ کی۔

قِصْصُور: (ر) مذکر؛ (۱) خطا، بھول، چوک، کمی (۲) قصہ یعنی عمل کی جمع۔

قِوَار: خطا دار، قابل الزام۔

قِصَّة: (ر) مذکر؛ (۱) کہانی، داستان، حکایت (۲) بیان، تذکرہ، (۳) لڑائی، جھگڑا، جھگڑت، تکرار۔

آخِر ہونا: قصہ تمام ہونا، جھگڑا ختم ہونا۔

اَسْتَحْنَا / سْتَحْنَا: ہنگامہ و فساد برپا ہونا۔

بِطْرَہَانَا: (۱) قصہ کو طول دینا (۲) دیکھنا، بات بڑھانا، جھگڑے کو طول دینا۔

بِکْہِیْرَا: مذکر؛ فتنہ و فساد۔

پَاک کرنا: (۱) جھگڑا طے کرنا، (۲) قرضہ بے باق کرنا، (۳) دیکھنا، مار ڈالنا۔

نِجْوَال: مذکر؛ داستان گو، قصہ سنانے والا۔

فِیْصِل کرنا / کو تباہ کرنا: (۱) جھگڑا چکانا، (۲) کھٹنا

دینے کے واسطے مقرر کی جائے۔

قِیْط باندھنا: محل کا کوئی جنس کسی خاص وقت پر ادا کرنے کا اقرار کرنا۔

قِیْم: (ر) سوگند، حلفت۔

قِیْمَا لِقِیْم: موٹ؛ باہمی، عہد و پیمان۔

قِیْم کھانا: (۱) حلفت اٹھانا (۲) کسی کام کے ترک کرنے کا عہد کرنا، (۳) کسی کام کے لیے قسم کھا کر اپنے کو باندھ کرنا۔

قِیْمِیہ: (ر) مذکر؛ وہ جگہ جس میں قسم کا ذکر ہو، قسم کھا کر

قِیْم: (ر) موٹ؛ (۱) نوع، طرح (۲) وضع، ڈھنگ۔

وَار: جنس وار، قسم کے اعتبار سے۔

قِیْمَت: (ر) موٹ؛ (۱) تقدیر، نصیب، تقدیر (۲) تقسیم

(۳) صوبہ، اعلیٰ (۴) نوشتہ، تقدیر۔

بَد لانا: (۱) تقدیر برگشتہ ہونا (۲) اقبال کا زمانہ آنا۔

پِلٹنا / پھیرنا: (۱) تقدیر برگشتہ ہونا، قسمت بگڑنا، (۲) دن پھرنا، اقبال یا اور ہونا۔

بِکَاوِث جانا: (۱) برے دن آنا (۲) دکھنا، بیوہ ہوجانا، (۳) بڑی جوڑ یا برے ماوند سے پالا پڑنا۔

رَسَا ہونا: تقدیر یا اور ہونا۔

کَا بَدَا: نوشتہ، تقدیر، قسمت کا لکھا۔

کَا شِکْرُطَا / کَا دَانَا: قسمت کا لکھا، ہوا رزق۔

کَا دِہْنِی: تقدیر والا، خوش اقبال۔

کَا سِکْنَدَر: بڑا خوش نصیب، سکندر طالع۔

کَا لِکْہَا پُورَا ہونا: مصیبت پیش آنا، شامت آنا، قسمت پھوٹنا۔

کَا ہِیْمَا: مذکر؛ بد نصیب۔

کَا کھلنا: (۱) نصیب یا اور ہونا، دن پھرنا (۲) دکھنا، شادی ہونا، بر ملنا۔

کَا لڑنا: نصیب یا اور ہونا۔

قِیْسِ الْقَلْب (قِیْسِ الْوَلْب): (ر) سخت دل۔

قِیْسِیْس: (ر) مذکر؛ دانش مند، نصاریٰ کا عالم دین۔

قِیْم: (ر) تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔

قِشْر: (ر) مذکر؛ چھلکا، حضرت یامیوے کا پوست۔

معلق؛ وہ موت ہو کسی تدبیر سے ٹل جائے۔

قفاۃ: (ع) مذکر؛ جمع قافی کی۔

قفاۃ: (ع) مذکر؛ جمع قفیفہ کی، (۱) عبارت کے جملے

(۲) جھگڑے (۳) مطالب (۴) احکام (۵) خبریں۔

(۶) لکھے ہوئے مسائل۔

قفیب: (ع) مذکر؛ درخت کی شاخ، ہاتھ کی چوڑی (۲)

(مجانا) آدمی کا عضو تناسل۔

قفیبہ: (ع) (۱) حکم، فرمان، خبر (۲) (اصطلاح منطقی) جزئیہ۔

پاک کرنا: قفیفہ پاک کرنا۔

نزمین برسر زمین: (اصناف کے ساتھ) مقولہ حسن مقام

کا جھگڑا ہوا اسی مقام پر طے ہونا چاہیے۔

ق - ط

قَطُّ: (ع) مذکر؛ قلم کی نوک کا ٹٹا۔

قُرْنٌ رَکِیْمٌ: مذکر؛ وہ مکڑی یا ہتھی دانٹ کی پٹی چیز

جس پر قلم کی نوک رکھ کر کاتتے ہیں۔

قطار: (ع) مؤنث؛ (۱) صف، ترتیب، سلسلہ، پڑا، (۲) شمار۔

قَطَامِرٌ: (ع) مؤنث؛ قاحشہ، قمبہ۔

قطب: (ع) مذکر؛ (۱) وہ ستارہ جو ہمیشہ شمال کی

طرف نظر آتا ہے، قطب تاراء (۲) (اصطلاح) وہ

دلی اللہ جس پر دُنیا کے انتظام اور نگہ بانی کا مدار ہے (۳)

دلی کے قریب کا قصبہ مہرولی (۴) زمین کے دونوں حصے

(۵) سالار قوم، جس پر کسی کام کا مدار ہو (۶) کپل جس پر

چکی گھومتی ہو (۷) افضل، عمدہ، برگزیدہ (۸)

(اصطلاح علم جغرافیہ) کترۃ ارض کا وہ نقطہ جو شمال اور

جنوب پر ساکن ہے، زمین محور۔

ازجانہ جنید: (مقولہ) وہ شخص جو اپنے مقام سے نہ

رہتا ہو، یا کم حرکت کرتا ہو۔

سُخَا: مذکر؛ قہقروں کی سمت تپانے والا آکر۔

قطبی: (ع) (۱) قطب سے منسوب، (۲) یا قوت یا زبرد

کا چھوٹا ٹکینہ۔

بہ تمام کرنا۔

قصۃ کوتاہ / مختصر: الغرض، الحاصل۔

کہانی: افسانہ، بے کار باتیں۔

قصیدہ: (ع) مذکر؛ (اصطلاح) اُن اشعار کا نام جن

میں کسی کی بجز، مدح یا وصف و نصیحت یا تعریف بہار،

یا شکایت روزگار وغیرہ مضامین بیان کیے جائیں، قصیدے

کے پہلے دونوں مصرعوں اور ہر شعر کے دوسرے مصرع

میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔

قصیر: (ع) شگفتا، پست، قد، کوتاہ۔

ق - ض

قضا: (ع) مؤنث؛ (۱) حکم خدا، مشیت الہی (۲) وہ فرض جہاد

میں کا وقت گزر گیا ہو (۳) موت؛ اجل۔

ادا کرنا: فرض یا واجب نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھنا۔

راہ: خدا کی مشیت سے، یکایک، اتفاق سے۔

سر پر کھیلنا: رکنا (یا) شامت آنا، موت کا وقت

قریب آنا، مصیبت سر پر منڈلانا۔

کرنا: (۱) مذہبی فرض یا واجب کا وقت مقررہ پر ادا کرنا۔

(۲) مر جانا، فوت ہو جانا۔

وقدر: تقدیر الہی، خدا کی رضا۔

قضائے الہی: اتفاقاً۔

الہی سے مرنا: اپنی موت مرنا، عمر طبعی پہنچ کر

مرنا۔

حاجت: مؤنث؛ پاخانہ پھرنا، بول و براز سے

فراغت حاصل کرنا۔

عمری: مؤنث؛ وہ نماز جو ہر وقت کے فرضوں کے

ساتھ معمول سے زیادہ حسب قرار واد وقت، نماز قضا شدہ

کے عوض پڑھتے رہتے ہیں۔

کار: اتفاقاً۔

مبصر: مؤنث؛ نہ ٹلنے والا علم، وہ موت جو کسی طرح نہ

ٹلے۔

ق - ع

قعدہ : (ع) مذکر؛ بیٹنا، نماز میں اہتمام پڑھتے وقت بیٹنا۔
 قعر : (ع) مذکر؛ بڑا گڑھا۔
 قذلت : مذکر؛ دکھانا، انتہائی ذلت۔
 قعود : (ع) مذکر؛ قعدہ۔

ق - ف

قفا : (ع) مؤنث؛ پیچھے۔
 قفس : مذکر؛ (۱) پنجرہ، جال، پھندا، (۲) جہانن قالبِ خاکی، (۳) (ع) قید خانہ۔
 قنصری : (ع) مؤنث؛ (۱) اضافت کے ساتھ جسم، بدنِ انسانی۔
 قفل : (ع) مذکر؛ تالا۔
 قفج : (ع) مؤنث؛ (۱) اضافت کے ساتھ حروف کی ترتیب سے بند ہونے اور کھلنے والا تالا۔
 قحط : (ع) مؤنث؛ (۱) جھوٹا ہونا، قفس کا ایسا ناقص ہونا کہ تھوڑے سے اشارے سے بغیر کبھی کے کھل جائے۔
 قہن : (ع) مؤنث؛ (۱) کرنا یہ ہے خموشی سے۔
 قفلی / قلعی : مؤنث؛ ڈھکنے دار ظرف (۲) بیچ دار ظرف جو ایک دوسرے میں چسب جاتا ہے، (۳) شیر برنج کی دو پیالیاں ایک دوسری پر رکھی ہوئیں (۴) نشس کا پیالہ (۵) پہلوانوں کا بیج، (۶) دکھانا۔
 قحط : (ع) مؤنث؛ (۱) پتنگ لڑانے میں ایک سرے کی ڈور میں ایسے بیج پڑنا جن کا چھوٹا شکل ہو۔
 قحط : (ع) مؤنث؛ (۱) شربت یا دودھ وغیرہ قفلی میں رکھ کر جمانا۔
 قحط : (ع) مؤنث؛ (۱) درندوں کا دانتوں کو نہ کھنا اس طرح کہ پھر نہ کھولیں۔
 قحط : (ع) مؤنث؛ (۱) جمانا، دو چیزوں میں ایسا بیج پڑنا کہ پھر چھوٹا شکل ہو۔
 قفٹس : (ع) مؤنث؛ (۱) رنگ، ایک نہایت خوش رنگ اور خوش آواز پزیرے کا نام۔

ق - ل

قل : (ع) مذکر؛ (۱) فاتحہ، دو بیٹوں کے سالانہ فاتحہ کا دن،

قطبین : (ع) مذکر؛ قطب کا ستیہ، مذکر؛ محور کے دونوں سرے جس پر زمین گھومتی ہے۔

قطر : (ع) مذکر؛ وہ خطِ مستقیم جو دائرہ کے مرکز پر گزرنے کے اس کے دو برابر حصہ کرے اور محیط تک پہنچائے۔

قطرہ : (ع) مذکر؛ (۱) پانی کی بوند، رقیق شے کی بوند (۲) ذرا سی رقیق چیز۔

قطرہ و قطرہ دریا ہو جاتا ہے : (ع) (محل) تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے۔

قطع : (ع) مؤنث؛ (۱) تراش، بیوت (۲) طور، طریق، انداز (۳) وضع۔

تعلق : مذکر؛ کچھ علاقہ نہ رکھنا، کچھ غرض نہ رکھنا، چھوٹنا۔

سنن / کلام : مذکر؛ بات کا نسا۔

کرنا : (۱) کا نسا، تراشنا، بیوتنا (۲) چھوٹنا (۳) بیچ سے بات کا نسا، رو کرنا۔

نظر : اس کے سوا، اس پر بھی، تاہم۔

وُبرید : مؤنث؛ کاٹ، جھاٹ، تراش، خراش۔

ہونا : (۱) تراشنا، بیوتنا جانا، کپڑے کا چھانٹنا جانا۔ (۲) بسر ہونا، گذرنا، (۳) ختم ہونا۔

قطعاً : (ع) ہرگز، اصلاً، یقینی۔

قطعات / قطعات : جمع قطعہ کی۔

قطرہ / قطعہ : مذکر؛ ٹکڑا، آراضی کا جزو، حصہ (۲) پزیرہ،

پیرے، (۳) دو بیٹوں یا اس سے زیادہ ایات جو مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں، (۴) خوش نوییوں کا لکھا ہوا قطعہ۔

بند : مذکر؛ وہ بیٹیں جن کے معانی بغیر دوسری بیت کے ملائے مکمل نہ ہوں۔

قطعی : (ع) (۱) دائرہ، نایق، کامل (۲) یقینی، بے شبہ (۳) بالقطع (۴) مکمل، بالکل۔

قطعییت : مؤنث؛ دوڑ، فیصلگی، انداز۔

قطعیہ : (ع) مذکر؛ اصحابِ کہت کے کتے کا نام۔

قَلْعَة: (ع) مذکر؛ وہ سنگین اور محفوظ عمارت جس میں فوج رہتی ہے، گڑھی، جھار۔
 — بَنَد: قلعہ میں پناہ لینے والا۔
 قَلْعَمی: (ع) موٹ، (د) سانگا (۲) سفیدی، مکانوں پر پھینے کا چونا (۳) مائع، گِلٹ۔
 — اُتارنا، اُٹھانا، اُتر جانا، اُتر جانا: قلعی جاتی رہنا، سانگ کا مائع اُتر جانا۔
 کھل جانا: (د) مائع اُتر جانا، قلعی اُتر کر برتن کی اصل حالت دکھائی دینے لگنا، (۲) دکھانا، پوشیدہ عیبتا ہر ہو جانا، چچی بات ظاہر ہو جانا (۳) اصلیت ظاہر ہو جانا، حقیقت معلوم ہو جانا (۴) شیخی کر کمری ہونا، دعوا لڑنا۔
 کھولنا: پردہ فاش کرنا، پوشیدہ عیب ظاہر کرنا۔
 — گَر: مذکر؛ برتنوں پر سانگ کا مائع کرنے والا۔
 قَلَق: (ع) مذکر؛ (د) بیتابی (۲) رنج، الم (۳) حسرت، بچھتاوا۔
 قَلَقاری: موٹ؛ بے زبان (شہر خوار) بچوں کی ہنسی جو آواز کے ساتھ ہو۔
 قَلَقاریاں مارنا: بے زبان بچوں کا آواز کے ساتھ ہننا۔
 قَلَقْتَل: مذکر؛ موٹ؛ صراحی سے شراب پانی نکلنے کی آواز۔
 قَلَم: مذکر؛ (د) لکھنے کا قلم، نامہ (۲) اصطلاح تصوف، عقل، اول (۳) بریدہ، تراشیدہ (۴) موٹ؛ بہری شاخ یا شہتی جو زمین میں لگاتے ہیں (۵) کپٹیوں کے اوپر تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال (۶) مذکر؛ تصویر بنانے یا رنگ بھرنے کا بالوں کا برش (۷) موٹ؛ شیشے یا پتھر کا تراشا ہوا لمبا ٹکڑا (۸) کسی چیز کا لمبا ٹکڑا (۹) پتلی اور لائٹی جھولی شیشی (۱۰) گائے بکری کی پنڈلی کی بڑی (۱۱) مذکر؛ دکھانا، حکم۔
 — انداز: لکھنے میں چھوڑ جانا، نہ لکھنا۔
 — برداشتہ لکھنا: بے سوچے جلدی جلدی لکھنا۔
 — بنانا: (د) قلم کو تراش کر لکھنے کے قابل کرنا (۲) کپٹیوں کے اوپر کے بالوں کو اترے سے ٹھیک (۳) ایک قسم کی سلانی کرنا۔
 — بند: (د) لکھا ہوا، قلم (۲) شل کرنا (۳) درج رجسٹر۔
 — بند کرنا: لکھنا، یادداشت میں لکھنا، درج کرنا۔

(۲) دکھانا، خاتمہ، کام تمام ہونا، جان نکل جانا۔
 قَلْ اَعْوَدیہ: مذکر؛ غیر ضرورت، نیاز، فاتحہ پر زندگی بسر کرنے والا۔
 — کرنا: (د) کام تمام کرنا (۲) دکھانا، استفا کرتے کرتے تھکا دینا۔
 — مَوَالِد: موٹ؛ سُورۃ اخلاص۔
 — ہونا: فاتحہ ہونا، عرس ہونا۔
 قَلَاب / قَلَابیہ: (ع) پھیل پھڑنے کا خم دار آہنی کانٹا، (۲) حلقہ، کڑی۔
 قَلَابازی کھانا: سرنچے پاؤ اور کر کے اپنے تئیں اٹا کر دینا۔
 قَلَابَج / قَلَابَج: (د) قَلَابَج، قَلَابَج، قَلَابَج۔
 قَلَادَہ: (ع) مذکر؛ پٹا۔
 قَلَابَش: (د) مغل، بے غیرت۔
 قَلَابَقْتَد: مذکر؛ موٹ؛ ایک قسم کی مٹائی۔
 قَلَابَج: موٹ؛ چوڑی، خرگوش یا ہرن کی زغند، جست، پھیل کود۔
 قَلَابَجیسی بھڑنا / لگانا / مارنا: چوڑیاں بھرنی، بہت اچکنا کودنا۔
 قَلَب: (ع) (د) کھوٹی چاندی یا سونا، (۲) بولی (۳) فوج کا درمیانی حصہ، (۴) کھوٹا سکہ (۵) اٹا ہوا، (۶) واڑگوں، آؤدھا۔
 قَلَبی: (د) بولی (۲) کھوٹا، جلی (۳) اٹا کیا ہوا۔
 قَلَوَب: (ع) جمع قلب کی بمعنی دل۔
 قَلَبیت: موٹ، کمی، کم پابی۔
 قَلَبَتین: (ع) قَلَبَت کا تثنیہ؛ مذکر؛ (د) پانی کے ایسے دو طرفین میں دس دس فن پانی آجائے، میں فن پانی کی مقدار (۲) ناپاک، نجس (۳) دکھانا، کسی، فاحشہ۔
 — کرنا: (د) پانی کے لیے ناپاک کرنا، نجس کرنا، گھلونا، ہاتھ ڈالنا۔
 قَلَم: (ع) مذکر؛ (د) وہ سمندر جو عرب اور مصر کے مابین واقع ہے (۲) نہایت گہرا سمندر۔
 قَلَمِغ: (ع) مذکر؛ اُگھاڑ پھاڑ، تور پھوڑ، مساکرنا۔

- قلم تراش : موتہ، مذکر؛ قلم بنانے کا چاقو، پتلے پھل کا چاقو۔
 قور دینا : دکنا یا تباہے نظیر نظم یا شعر لکھنا کہ کوئی مقابل
 میں تلمذ نہ اٹھاسکے، کوئی ایسا کام قلم سے کرنا جس کا
 مثل کوئی نہ کر سکے۔
 دان : مذکر؛ قلم دوات چاقو رکھنے کا چھوٹا کبس۔
 دان دینا : دکنا یا تباہے عہدہ دینا، وزیر بنالینا، پڑھوٹ
 سکریشی بنانا۔
 ران : (دع) قلم چلانے والا قلم کا بادشاہ، قلم کار، ایب۔
 رانی : (دع) موتہ، قلم کی حکومت، لکھنا۔
 رو : موتہ؛ ملک، سلطنت۔
 سرب / سرسہ : مذکر؛ پنسل۔
 کار : (د) رنگ بھرنے والا، نقاش (۲) نقش و
 نگار بنا ہوا ایک قسم کا بافتہ، (۳) مہر کن (۴)
 منشی، محرر۔
 کرنا : دو ٹکڑے کرنا، کاٹ ڈالنا، چھانٹنا۔
 لگانا : ٹوڑے میں سے شاخ کاٹ کر اور جگہ لگانا۔
 مؤہ : مذکر؛ دانشمندی کے ساتھ بالوں کا قلم، تصویر
 بنانے یا رنگ بھرنے کا مٹیش، مؤقلم۔
 قلمی : (د) ایک قسم کی چادر جس پر سیاہی دھاریاں ہوتی ہیں (۲)
 ہاتھ کا لکھا ہوا جو مطبوعہ ہونے پر قلم سے نسبت رکھنے والا قلم کے
 مانند لانا (۳) آم کا درخت جس میں قلم لگائی گئی ہو۔
 آم : مذکر؛ پیوندی آم۔
 شورہ : مذکر؛ صاف کیا ہوا شورہ جس کی قلبیں بن جاتی ہیں۔
 قائم آقنی : (دع) موتہ؛ اردو بیٹنی، وہ عورت جو تھیانہ
 سے مسلح ہو کر شاہی محلوں میں سچا ہیوں کی طرح
 پہرہ دیتی تھی۔
 قلع / قلعہ : ایک تھاری کا نام، آنتوں میں شدید درد۔
 قلندر : مذکر؛ (د) اصطلاح، وہ شخص جو روحانی ترقی میں
 تک کر گیا ہو کہ اپنے وجود اور دنیا کے تمام تعلقات سے بغیر
 ہو کر بہت کم خلی ذات کی طرف متوجہ ہو، (۲) بربند، آزاد
 (۳) غمیر کا آنکڑا یا ٹلاہ۔

ق-م

- قلم : (دع) دھندلے کھڑا ہونے والی اٹھ۔
 باؤن اللہ : (دع) خدا کے حکم سے جی اٹھ حضرت علیؑ
 کا معجزہ، جو مرنے کو یہ کہہ کر زندہ کرتے تھے۔
 پاؤنی : (دع) میرے حکم سے جی اٹھ۔
 قمار : (دع) مذکر؛ جو بازی میں شرط ہو۔
 باز : (دع) شرط لگا کر بازی بند کرنے والا۔
 قمار یا : چالاک، عیار۔
 قماش : مذکر؛ (د) طرح، وضع، ڈھنگ، قسم، نوع جنس، (۲) موتہ؛
 کھینچنے کی ایک بازی کا نام (۳) ریشم کا کپڑا۔
 قچی : (دع) موتہ؛ پتل چھڑی جو جھک جاتی ہے۔
 قمر : (دع) مذکر؛ (د) چاند تیسری تاریخ سے آخر مہینے تک کا چاند
 (۲) اصطلاح علم کیمیا، موتہ؛ چاندی۔
 پیکر / شمائل / طلعت / روش : (دع) حسین، خوبصورت۔
 محاق میں آنا : چاند کی تیسری تاریخ سے آخر مہینے تک کا چاند
 قمری : (دع) قمر سے منسوب، وہ مہینے یا سال جو چاند کی چال کے
 مطابق ہوتے ہیں۔
 قمرین : (دع) قمر کا شیبہ، مذکر؛ سورج اور چاند سے مراد۔
 قمری : (دع) موتہ؛ (د) فاختہ کی قسم کا ایک طوق دار پرندہ،

قولِ محال: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

مرداں جاں دارو: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

ق-۵

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قہار: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) ایسی بات جو بظاہر سبکی
لیکن حقیقتاً گہرے معنی رکھتی ہے۔

قوتِ سامعہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ آوازوں کی تیز
کرنے والی قوت۔

قوتِ شامہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ سونگھنے کی قوت۔

قوتِ لامسہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ چھونے اور س کرنے کی قوت۔

قوتِ ماسکہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ غذا کو معدے میں
محفوظ رکھنے کی قوت۔

قوتِ مستحکمہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ محسوس چیزوں کی
موجود کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی قوت۔

قوتِ متصرفہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ بعض صورتوں کو
بعض معانی کے ساتھ نسبت دینے والی قوت، تصرف
کرنے والی قوت۔

قوتِ مُمدرکہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ دریافت کرنے
اور معلوم کرنے کی قوت، سمجھ۔

قوتِ ممیزہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ ہر چیز کا فسق
دریافت کرنے کی قوت۔

قوتِ ماضمہ: (اضافت کے ساتھ) موتھ؛ کھانا ہضم کرنے کی قوت۔

قوتِ قور: (رع، مؤنث، ادنیٰ اصطلاح) کور (۲) کپڑوں کے حاشیے پر لگانے
پر کافیتہ (۳) خاصے کا ہاتھی۔

قوتِ فورمہ: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) گھسی میں سمبنا ہوا گوشت جس میں لہدی
اور شوربہ نہیں ڈالتے۔

قوتِ قوس: (رع، مؤنث، ادنیٰ اصطلاح) کمان (۲) کسی عبارت کی دونوں طرف
کی کمانیں (برکیٹ) (۳) آسمان کے نویں برج کا نام۔

قوتِ قوس السما: (رع، مؤنث، ادنیٰ اصطلاح) سما، (رع، مؤنث، ادنیٰ اصطلاح) مراد آدھا آسمان۔

قوتِ قوس قزح: (رع، مؤنث، ادنیٰ اصطلاح) دھنگ۔

قوتِ قوسی: (رع، مؤنث، ادنیٰ اصطلاح) محراب دار۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

قول: (رع، مذکر، ادنیٰ اصطلاح) کہنا (۲) بات، کہادت، مقولہ، (۳)
اقرار، عہد، (۴) ایک قسم کا ساگ۔

دن، وہ دن جب مُردے زندہ ہوں گے، روزِ محشر، (۳)
 (کنایتاً) مدتِ دلاز، ہمیشہ (۴) غنصب، آفت، مصیبت،
 (۵) انوکھی بات، امر عجیب، (۶) اندھیر، ظلم، نا انصافی،
 (۷) حدِ وسیع، کثرت، (۸) بے حد شوخ، چلبلا (۹) فتنہ انگیز، فساد
 (۱۰) مشکل، دشوار، کٹھن (۱۱) بُرا، مُضر، ضرر زدہ سال (۱۲)
 غنصب، ناک آگ بگولہ، خشم، ناک۔

قیامت بپا کرنا / برپا کرنا: (۱) فتنہ اُٹھانا (۲) مصیبت
 ڈالنا، آفت لانا، (۳) اُدھم مچانا، شور مچانا، (۴) کنایتاً
 غنصب ڈھانا، بہت غصہ کرنا۔

پیشہ / حرام: (۱) محبوب کی تعریفیں بولتے ہیں۔

کوڑھنا: (۱) بے حد غصہ ہونا (۲) بہت ظلم کرنا، ستانا۔

کا آنا: (کنایتاً) آنے میں بہت دیر لگانا۔

کا درامن: (کنایتاً) بہت وسیع۔

کی گھڑی: کٹھن گھڑی، مصیبت کا وقت۔

کے بوریلے سیٹنا: (دہلی) (کنایتاً) عرصہ دراز

تک زندہ رہنا۔

قید: مذکر، مؤنث: (۱) بند، ایسری (۲) روک، شرط پانا ہندی۔

تنہائی: (۱) اضافت کے ساتھ مؤنث: تنہا رہنے کی سزا،

جس میں قیدی کو الگ کوٹھری میں تنہا رکھا جاتا ہے۔

خانہ: (۱) مذکر، جیل خانہ۔

سخت: (۱) اضافت کے ساتھ، مشقت کی قید۔

فرنگ: (۱) اضافت کے ساتھ، مؤنث: (کنایتاً) ایسی

قید جس سے چھوٹنا مشکل ہو۔

فقس: (۱) اضافت کے ساتھ، پنجرے کی قید۔

محض: (۱) اضافت کے ساتھ، ایسر، مقید، گرفتار پابند

سادہ قید، بلا مشقت کی قید۔

قیدی: ایسر، مقید، گرفتار، پابند۔

قیر: (۱) مذکر، (۲) کشتیوں اور جہازوں پر لگانے کا ایک

قسم کا سیاہ روغن، (۲) مطلق سیاہ۔

گوئل: سیاہ فام۔

قیراٹ: (۱) مذکر، درہم کے بارہویں حصے کے برابر ایک وزن۔

قبرِ درویش برجانِ درویش: (مثل) غریب آدمی غصہ
 کرے گا تو کسی کا کیا بے کام صرف اپنی جان کھوئے گا۔

قیامت ہونا: بے حد شوخ ہونا، فساد مچنا۔

قبرِ مان: (۱) دگرمان کا معرب، (۲) کارفرما (۳) قبر و جلال

والاد (۳) حاکم، سربراہ، بادشاہ (۴) وکیل، خزانچی۔

قہقہری: (۱) اُلٹے پاتو چلنے والا، پیچھے کی طرف چلنے والا۔

قہقہرہ: (۱) مذکر، کھلکھلا کر مینٹا، زور کی سنسنی۔

قہوہ: (۱) مذکر، ایک قسم کے بیج کا نام جسے بھون کر پیسے اور

پانی میں چائے کی طرح جوڑ دے کر پیتے ہیں۔

ق-ی

قے: (۱) مؤنث، استغفار، مثل (۲) وہ چیز جو

آجکائی میں گرے۔

قیادت: (۱) مؤنث، (۲) رہبری، (۳) سرداری، سرکردگی۔

قیاس: (۱) مذکر، تصور، جانچ، اندازہ، اھل، گمان۔

سے باہر: بے شمار بے حد سمجھ سے باہر۔

گن زنگستان من بہا رِمرہ: (مثل) ابتدائی حالت

سے آئندہ حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔

مَع الفارق: (۱) مذکر، قیاس کرنا ایک چیز کا دوسری

چیز پر پیمائش کے دو نول میں کچھ مناسبت ہو۔

قیاسی: خیالی، ذہنی، ذہنی، مشکل پہنچو۔

قیاسرہ: (۱) مذکر، جمع قیصر کی، شاہانِ روم۔

قیافہ: (۱) مذکر، (۲) ایک علم کا نام جس میں ہاتھ پاتو، چہرے

و دیگر کے خطوط و احوال سے بظاہر اشکون لیتے اور علامات کے

مطابق اقوال و افعال و احوال سے بحث کرتے ہیں، (۲)

صورت، ہشکل، چہرہ۔

دان / شناس: علم قیاد سے واقف۔

قیام: (۱) مذکر، (۲) کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا (۳) ٹھہراؤ،

سکونت، پائندگی، استقلال۔

پذیر: (۱) دیر پا، (۲) فروکش، مقیم۔

قیامت: (۱) قائم ہونا، (۲) سب کے مرنے اور فنا ہونے کا

قیستی: بیش بہا عمدہ، نفیس، قابل قدر۔
 قسیمہ: (ف) مندرجہ؛ ریزہ ریزہ کیا ہوا گوشت۔
 کرنا: کسی چیز کو مانند گوشت وغیرہ کے ریزہ ریزہ کرنا۔
 قینچا: مندرجہ؛ باغبانوں کی بڑی قینچی۔
 قینچی: (د) موتی؛ (ا) کترنی، مقراض (۲) مکانوں کے گرد
 لگائی جانے والی لوبہ کی سلائیں (۳) آٹری لکڑیاں جن
 پر کھیرل کا ٹھاٹھ رکھتے ہیں
 باندھنا: (بیلوان) حریت کو اپنی دونوں ٹانگوں میں
 جکڑ کر مجبور کر دینا (۲) گھوڑے کو دونوں رانوں میں دبانا۔
 سسی زبان چلنا / کی طرح زبان چلنا: جلد بولنا
 کرنا، تیز تیز باتیں کرنا، تفر زبانی چلانا۔
 قیوف: (ع) مندرجہ؛ موتی، جمع قیوکی، شیطیں، پابندیاں۔
 قیوم: (ع) مندرجہ؛ کاموں کا سنبھالنے والا، خدائے تعالیٰ
 کا صفاتی نام۔

قیروٹی: (یونانی) موتی؛ (ا) سوم، رومن (۲) ایک قسم کا مہم۔
 قیس: (ع) مندرجہ؛ مجنون، عامری کا نام، لیلکا کا عاشق۔
 قیصر: مندرجہ؛ (ا) شاہانِ روم کا لقب (۲) سلطان شاہنشاہ۔
 ہنتم: (ا) اضافت کے ساتھ ملکہ و کٹوریہ کا خطاب، ایڈورڈ
 ہنتم کا خطاب۔
 قیف: (د) مندرجہ؛ موتی؛ ایک ظرف کا نام جس کا منہ اوپر سے
 کھلا ہوا اور نیچے ایک ٹی لگی ہوتی ہے اس کے ذریعہ سے قیق
 چیز تولوں میں بہ آسانی بھری جاتی ہے۔ کیپ
 قیل و قال: (ا) گفتگو، بات چیت، تذکرہ (۲) حجت، تکرار،
 مباحثہ۔
 قیلو لہ: (ع) مندرجہ؛ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد ذرا
 دیر آرام کرنا۔
 قیمت: (ع) موتی؛ (ا) مول، دام، سرخ (۲) قدر، مرتبہ۔

ک

کارتب : (دع، مذکر؛ ۱) کتابت کرنے والا (۲) نقل نویس، کاپی نویس۔
— ازلی، (دع) مذکر؛ ہر اللہ تعالیٰ۔

— وحی : مُراد کتاب قرآن (یعنی رسولِ خدا پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے)۔

کارتب اعمال : (دع) مذکر؛ اعمال لکھنے والا فرشتہ۔
— تقدیر پر قدرت : (دکنائیا) اللہ تعالیٰ۔

کالنگ : مذکر؛ ساواں ہندی مہینہ۔
— کی گتیا : (دکنائیا) فاحشہ عورت۔

کاتنا : چرخے پر روئی کے ذریعے سوت بنانا۔

کاٹ : مونث؛ (۱) تیزی، بُترش (۲) گھاؤ، چرکا، زخم۔
(۳) دفعیہ (۴) تراش (۵) روانی (۶) دشمنی،
بیزرد، بُرائی، بدی۔

— سھاش : مونث؛ (۱) عیساری، چالاک (۲) اجرت یا
حق میں کمی بیشی (۳) چھل خوری۔

— چھانٹ : مونث؛ (۱) کتر بیونت (۲) تراش خراش
(۳) حساب میں کمی بیشی (۴) ترمیم۔

— کرنا : (۱) توڑنا، تردید کرنا، جواب دینا، (۲) تراشنا،
کاٹنا۔

— کھانا : (۱) دُشنا، منہ مارنا، ڈنگ مارنا (۲) دانتوں سے
کاٹنا (۳) چڑھنے سے بن کا منظر ہر کرنا۔

— کھانے کو دوڑنا : تلخی اور تن مزاجی سے پیش آنا۔

کاٹنا : (۱) تراشنا، پھانک آٹارنا (۲) کترنا، قلیبی یا
چاقو سے کاٹنا (۳) گھاؤ ڈالنا، زخم کرنا (۴) دانتوں

سے کاٹنا، (۵) دُشنا، ڈنگ مارنا، (۶) الگ کرنا،
(۷) بسر کرنا، مجبوری سے گزارنا (۸) بھگتنا (۹) طے

کرنا (۱۰) مہنا کرنا، وضع کرنا (۱۱) منشوخ کرنا، قلم زرد
کرنا (۱۲) بیچ میں پوننا (۱۳) تردید کرنا، رد کرنا (۱۴) جسم میں

چھیننا (۱۵) تلاش کی بازی میں جیتے چھانٹنا۔
کاٹنا : صفت؛ کاٹنا ہوا، ڈسا ہوا، ڈنگ مارا ہوا۔

کاٹو : کاٹنا کا امر۔

— قولہ نہیں : خوف یا مدے کی انتہائی حالت۔

کاف : (دع، مذکر؛ ۱) حرف تہجی، کاف تازی، کاف عربی
کاف کلبن (۲) حساب عمل (اجود) میں بیس عدد ہیں۔

ک۔ ا

کا : اضافت کی علامت۔

کابس : مونث؛ مٹی کے برتن پر قلعی کرنے کی مٹی۔

کابگ : (دع) مونث؛ کبوتروں کا دربا جو بانس کی
کھچٹیوں سے بناتے ہیں۔

کابل : افغانستان کی راجدھانی۔

— میں کیا گدھے نہیں ہوتے : جہاں اچھے ہوتے ہیں،
وہاں برسے بھی ہوتے ہیں۔

کابلی : مذکر؛ کابل کا باشندہ، ایک قسم کا کبوتر۔

— چننا مرثر : سفید رنگ کا بڑا پتلا یا مٹر۔

کابوس : (دع) مذکر؛ (۱) خواب میں ڈر جانے کی کیفیت
(۲) گھٹن، خوف، دہشت (کا احساس)

کابین : (دع) مذکر؛ مہر حق زوجیت، وہ رویہ جو شوہر نکاح
کے وقت اپنی بیوی کو دینا منظور کرتا ہے۔

— نامہ : مذکر؛ مہر کی دستاویز۔

کابینہ : (دع) مونث؛ فزیروں کی جماعت (انگ، ایکٹیٹ)۔
کاپی : COPY (انگ) مونث؛ (۱) نوٹ بک (۲) نقل،

(۳) نسخہ، (۴) مسودہ۔

— رائٹ : RIGHT (انگ) ، مذکر؛ جتنی جلتا،
حق اشاعت۔

— رائٹر : WRITER (انگ) ، مذکر؛ ٹیڈ رائٹرنگ
ایجنسیوں پر اشتہارات لکھنے اور ترجمہ کرنے والا۔

— کرنا : نقل کرنا۔

— نویس : کارتب، نقل نویس۔

کاتا : (۱) کاٹا ہوا، (۲) ٹاگا، سوت، تار۔

— اور لے دوڑی : (دع) ہمیشہ ہر کام میں جلدی
کرنے والی عورت۔

— کی کھلونی اور کھولوں کا سنگھار: بدصورت آدمی کے
بناؤ سنگھار پر فتنہ۔

— کی کوٹھری: (۱) بدنامی کی جگہ، عیب لگنے کا مقام (۲)
وہ مقام جہاں اکٹھا کاجل پارا جائے۔

کا چھا: (۱) مذکر؛ جاتگیا، لنگوٹی۔ کچھی

کا چھن: موٹ؛ کاجھی کی عورت، ہندو، گجرات، مانن۔

کا چھنا: (۱) (۲) خشک ماس کی پوٹھی میں سے ایفون نکالنا (۲)
عطر یا چکنائی کا پانی سے نکالنا (۳) بانہٹنا۔

کا چھی: مذکر؛ (دہلی) ہندو گھوڑا، مانی کی ایک قوم۔

کاخ: (۱) مذکر؛ بلند عمارت، محل۔

کا دا: (۱) مذکر؛ کچھڑ، مٹی۔

کا ڈب: (۱) جھوٹا، دروغ گو۔

کار: (۱) مذکر؛ (۱) کام، شغل، (۲) دھندار (۲) ہنسر،

پیشہ (۳) زراعت، کھیتی باڑی (۴) (۵) کوئی بڑی

شادی یا تقریب۔

— آرمودہ: تھوکار۔

— آسگاہ: (۱) وقت، کام سے وقت، ہوشیار۔

— آمد: (۱) وقت، کام آنے والا، فائدہ مند، ضروری۔

— بار: مذکر؛ کام کاج، بیوپاری، لین دین۔

— باری: مذکر؛ بیوپاری، تاجر۔

— بڑاری: کام نکالنا، کارروائی۔

— بند: (۱) وقت، تعمیل کرنے والا، فرماں بردار۔

— بردار: (۱) مذکر؛ کارکن ہنستلم، گماشتہ۔

— ثواب: (۱) امانت کے ساتھ، مذکر؛ ثواب کا کام نکالنا

اور شیخی کا کام۔

— چوب: (۱) زردوز، کشیدہ کار، چکن یا کشیدے

کا نام کرنے والا۔

— چوٹی: موٹ؛ زردوزی، کشیدہ کاری۔

— خاند: (۱) مذکر؛ چیزوں کے بنانے اور تیار کرنے

کا مقام (انگ)؛

— خانہ پھیلا نا: (۱) چیزوں کو بے ترتیبی سے رکھنا،

کھٹے یا ٹھنڈے نام تلوار کا۔ لڑے فوج نام سردار کا: (مش)

کام کسی کا نام کسی کا چھوٹوں کی کارگزاری پر بڑوں کا نام ہونا۔

— کا منتر نہیں: (کنایتاً) ایسا فریب جس کا توڑ نہ ہو، ایسا

نقصان جس کی تلافی نہ ہو۔

— کھٹے نہ ٹالے ٹلے: کڑا وقت۔ مصیبت۔

— نہ کھٹا: مذکور ہونا، سخت گزرنا۔

— کاتج: COTTAGE (انگ) مذکر؛ جھونپڑا، گھر، چھوٹا سا

بنگلہ۔

— کاٹھ: مذکر؛ (۱) لکڑی (۲) ایک قسم کا شکنجہ جس میں سزل کے

طور پر مجرم کے پیر چھان دیے جاتے ہیں۔

— چباننا: تنگی میں بسر کرنا، روکھی سوکھی روٹی سے گزارا کرنا۔

— کا آٹو: نہایت بے وقوف۔

— کباڑ: (۱) مذکر؛ گھر کا ٹوٹا چھوٹا سامان۔

— کی تلوار: لکڑی کی تلوار، مصنوعی رعب واپ۔

— کی ہانڈی: بار بار نہیں چڑھتی؛ ہر بار دھوکا دینا ممکن

نہیں، نہایت لاشے کا بار بار اعتبار نہیں ہوتا۔

— میں یا فودینا: مصیبت کو گلے لگانا، دشواریوں میں پڑنا۔

— ہو جانا: (۱) بے حس و حرکت ہو جانا (۲) سخت ہو جانا۔

— کاٹھی، موٹ؛ (۱) گھوڑے کے زین کے نیچے کی لکڑی (۲) تلوار

کی نیام، غلاف، (۳) جسم کی ساخت۔

— گہر: تلوار کا غلاف بنانے والا۔

— انڈسٹری: INDUSTRY (انگ) موٹ؛

گھریلو صنعت۔

— کاج: مذکر؛ (۱) زمین لگانے کا سوراخ (۲) (۳) کاج۔

— (تہا استعمال نہیں) کام کاج بولا جاتا ہے)

— کاجل: مذکر؛ چراغ کے دھوپ سے بنائی ایک چیز جو

آنکھوں میں لگاتے ہیں۔

— پارنا: کاجل اکٹھا کرنا، کاجل بنانا۔

— دینا: آنکھوں میں کاجل لگانا۔

— کاجل: مصنوعی تیل جو عام طور سے بچوں کو نظر بد سے

بچانے کے لیے رخصت کیا پیشانی پر مارتے ہیں۔

کاربن پیپر: CARBON PAPER (انگ) مذکر؛ کاربن کاغذ۔
 کاپی: COPY (انگ) مؤنث؛ وہ نقل
 جو تازین کاغذ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مثنوی۔

ڈائی آکسائیڈ: DIOXIDE (انگ)۔
 مؤنث؛ ایک گیس کا نام جو کاربن اور آکسیجن سے مل کر بنتی ہے۔
 کارپوریشن: CORPORATION (انگ) مؤنث؛ (۱) جماعت
 (۲) کوئی مخصوص کام کرنے والا ادارہ۔

کارٹوس: CARTON (انگ) مذکر؛ گولی بارود سے بھرا ہوا ٹکڑا
 یا ٹوٹکا جسے بندوق میں بھر کر چلاتے ہیں۔
 کارٹون: CARTON (انگ) مذکر؛ معضکہ خیز تصویر یا خاکہ
 ہجریہ تصویر، خاکہ اڑانے والی تصویر، کسی سیاسی یا ملکی مسئلے
 کی خاصی کو مزاحیہ انداز میں ظاہر کرنے والی
 تصویر۔

کارڈ: CARD (انگ) مذکر؛ (۱) موٹے کاغذ کا ٹکڑا،
 کارڈ۔ دفنی، پتھا (۲) تاش کے پتے۔
 بورڈ: BOARD (انگ) مذکر؛ گتہ، موٹے کاغذ
 کا سخت تختہ، پتھا، دفنی۔

کارستانی: مؤنث؛ جالاکی، سازش، ہوشیاری، شہرت۔
 کارک: CORE (انگ) مذکر؛ کاگ، بوتل کی ڈاٹ۔
 کارکن: (۵) مذکر؛ سبب، وجہ، باعث۔

کارندہ: (۵) مذکر؛ کام کرنے والا، کارکن، مختار، نگاشتہ۔
 کارنس: COERCION (انگ) مؤنث؛ دیوار کی لکڑ، منڈیر۔
 کارن فلور: CORN FLOUR (انگ) مذکر، چاول
 یا جواری کا آٹا۔

کاروال: (۵) مذکر؛ قافلہ۔
 سالار: (۵) قافلے کا سردار۔

سرا: (۵) مؤنث؛ قافلہ اترنے اور قیام کرنے کی جگہ۔
 کاروشرا: CORNER (انگ) مذکر؛ ایک عہدہ دار جو شوک
 اور غریبی موت کے اسباب کی تفتیش کرتا ہے۔

کاری: (۵) مذکر؛ اثر دار، گہرا، پورا پورا۔
 گر: (۵) مذکر؛ ہنرمند، دستکار، کام والا، ہوشیار۔

کاچھ: مؤنث؛ (۱) دھوتی کا پچھلا حصہ (۲) لباس، بھیس،
 روپ، (۳) زانو کے اوپر کا حصہ، جاگ۔
 کچھنا: (۵) روپ بھرنے، پوشاک بدلنا۔
 کھولنا: (۵) (۱) منگا ہونا، بے شرم ہونا (۲) جہاز کرنا
 (۳) کاروبار شروع کرنا۔

کارخانہ دار: مذکر؛ کارخانے کا مالک۔
 خیر: مذکر؛ بھلائی کا کام (۲) نیک کام۔
 دار: (۵) مذکر؛ عہدہ دار، عامل۔
 دال: (۵) کام جاننے والا، تجربہ کار۔
 دانی: (۵) مؤنث؛ کام جانتا، معاملہ فہمی۔
 دیدہ: (۵) تجربہ کار۔

روائی: مؤنث؛ کام چلانا (۲) تدبیر، انتظام، بندوبست۔
 روانی کرنا: (۱) عمل کرنا، تدبیر کرنا (۲) کام چلانا، کام کھلانا۔
 زار: (۵) مؤنث؛ لڑائی، مقابلہ۔
 ساز: (۵) مذکر؛ کام بنانے والا، ہر ادوائے تعالا
 سازی: (۵) مؤنث؛ کام بنانا، ہنرمندی۔
 سنج: (۵) عقل مند، دانا، صاحب لیاقت۔

شناس: (۵) کام جاننے والا، تجربہ کار۔
 فرما: (۵) کام بتانے والا، حکم کرنے والا، حاکم، پادشاہ، استلا
 کردگی: (۵) مؤنث؛ کارگزاری۔

کردہ: (۵) کیا ہوا کام، تجربہ کار۔
 کمن: (۵) کام کرنے والا، کارندہ، منیجر۔
 گاہ: (۵) مؤنث؛ چیزیں بہانے کا مقام، کارخانہ۔
 گر: (۵) کام کرنے والا، نوکر، کارندہ۔

گزار: (۵) کام کرنے والا، نوکر، کارندہ۔
 گزارگی: (۵) مؤنث؛ (۱) ادائے فرض، خدمت گزارگی۔

فرماں برداری: (۲) مستعدی، ہوشیاری۔
 نامہ: (۵) مذکر؛ (۱) حیرت انگیز کام یا واقعہ (۲)
 کارگزاری کی سند۔

نمایاں: (۵) منافقت کے ساتھ بڑے بڑے کام کام۔
 کار: (۵) مؤنث؛ موٹر گاڑی۔

کاظم: رع، غصہ پی جانے والا۔
 کاغذ: رع، مذکر؛ دا، پیر، قرطاس، وہ چیز جس پر لکھتے ہیں
 (۷) پرزہ، رقعہ، تحریر (۳) اخبار، (۴) ہندی۔
 — پیسز؟ مذکر؛ دستاویز، خط، چٹھی۔
 — کی ناؤ: دکناٹا، ناپائے دار چیز۔
 — کی ناؤ آج نہ ڈوبی کل ڈوبی: ناپائے دار شے کے وجود
 کا کچھ اعتبار نہیں۔
 — کی ناؤ بہانا: بے فائدہ کام کرنا، ناپائیدار کام کرنا۔
 — کے گھوڑے دوڑانا/ کاغذی گھوڑے دوڑانا: جاہِ جاہلو
 بھیجنا، خط و کتابت کرنا۔
 — گپر: رع، مذکر؛ کاغذ لگا ہوا روشندان تاکہ روشنی
 بدستور رہے۔
 — لکھانا: دستاویز لکھانا۔
 — لکھنا/ لکھ دینا: دستاویز کر دینا، ہبہ کر دینا۔
 — نکلنا: دکناٹا، موت کا حکم جاری ہونا۔
 کاغذی، مذکر؛ کاغذ والا، کاغذ کا بنا ہوا۔
 — بادام: مذکر؛ باریک چھلکے والا بادام۔
 — پیریزن: رع، دا کاغذ کا لباس جو پیمانے زمانے میں
 ایران میں فریادی لوگ پہن کر دربار میں جاتے تھے اور
 بادشاہ سے انصاف چاہتے تھے۔ (۲) ماہزی، بے چارگی۔
 کا فر: رع، مذکر؛ دا، تمنا کو نہ ماننے والا (۲) دکناٹا، شوخ،
 ظالم، بے رحم (۳) دکناٹا، مشوق، پیارا (۴) ناشکر (۵) منکر۔
 — کتابی: رع، مذکر؛ جو شخص اہل کتاب میں سے دین
 محمدی کا منکر ہو۔
 — نعمت: رع، انصاف کے ساتھ ناشکر۔
 کا فور: رع، مذکر؛ کپڑا، ایک خوشبو دار سفید کڑوا مادہ
 جو کھلے میں اور آگ پر اڑتا ہے۔
 — ہو جانا، بھاگ جانا، غائب ہونا۔
 کا فورسی: رع، کا فور کا (۲) کا فور کے رنگ کا کا فور ملا ہوا۔
 کا قہ: رع، سب، کل، تمام۔
 — نام: رع، مذکر؛ آدمی کا گروہ، سب لوگ۔

— گرمی: رع، موت؛ ہنرمندی، دست کاری،
 آستادی، ہوشیاری۔
 کاریا لے: رع، مذکر؛ دفتر کا کام کرنے کی جگہ۔
 کاریز: رع، موت؛ کھیت میں پانی دینے کی نالی۔
 کاڑھا: مذکر؛ (۱) جو شانہ (۲) وہ گرم دوائیں جو سر ہار
 کے اخراج کے لیے جوش دے کر زچہ کو پلاتے ہیں۔
 کاڑھنا: رع، (۱) کاننا، باہر کرنا (۲) کشیدہ بنانا۔
 کا سبج: کسب کرنے والا۔
 کاسٹ: CAST (انگ، موت؛ فلم ڈراما) کسی ڈرامے
 یا فلم میں کام کرنے والوں کی فہرست۔
 کاسد: کھوٹا، ناقص، بے قدر، وہ جس کا رواج نہ ہو۔
 کاسر: رع، توڑنے والا۔
 کاسخی: رع، موت؛ ایک دوا کا نام۔
 — رنگ: مذکر؛ سرخی مائل، نیلا رنگ۔
 کاسہ: رع، مذکر؛ پیالہ، کٹوہ۔
 — باز: رع، بازی کر، دکناٹا، مکار، جیلہ گز۔
 — چشم: رع، (اضافے کے ساتھ) مذکر؛ آنکھوں کا طبقہ۔
 — سر: رع، (اضافے کے ساتھ) مذکر؛ کھوپڑی۔
 — گدا کی: رع، (اضافے کے ساتھ) مذکر؛ بھیک کا پیالہ۔
 — گر: رع، مٹی کے برتن بنانے والا، کھپار۔
 — لیس: رع، (۱) خوشامدی (۲) للہی، لوبھی
 (۳) دکناٹا، فقیر، گدا۔
 کاش/ کاش کہ: رع، (۱) انوس اور تھلکے کھے، حسرت
 خواہش، آرزو کے موقع پر بولتے ہیں۔
 کاشانہ: رع، (۱) مکان (۲) آشیانہ، گھونسلہ (۳)
 رئیسوں کا گھر۔
 کاشت: رع، موت؛ کھیتی، بوائی۔
 — کار: رع، مذکر؛ کسان، کھیتی کرنے والا۔
 — کاری: رع، موت؛ کھیتی باڑی، زراعت۔
 کاشف: رع، کھولنے والا، ظاہر کرنے والا۔
 کاشی: رع، موت؛ بنارس، وراثی۔

— پانی : مذکر؛ (۱) جزائراً من جہاں عمر قید کی سنرا پانے والا ایچھے جاتے تھے (۲) عمر قید۔
 — پن : مذکر؛ سیاہی۔
 — سپارہ : مذکر؛ (مجازاً) (۱) ہاتھی (۲) ایک قسم کے آم کا نام (۳) دکناٹا (مصیبت، آفت)۔
 — کالا دانہ : مذکر؛ رائی، سپند۔
 — کلوتا : مذکر؛ نہایت کالا۔
 — کوا کھایا ہے : لمبی عمر پائی ہے۔
 — نمک : (۱) سیاہ رنگ کا نمک (۲) ایک قسم کا چاول۔
 — کالی : موٹھ؛ (۱) سیاہ (۲) ہندوؤں کی ایک دیوی کا نام۔
 — آندھی : موٹھ؛ وہ آندھی جس کی گردے اندھیرا چھا جائے۔
 — کبلا : موٹھ؛ (۱) بھتیسی، چڑیل (۲) سخت، مصیبت۔
 — جمعرات : موٹھ؛ (۱) خرمی دن، وہ دن جس کا کوئی وجود نہ ہو (۲) جھوٹا وعدہ۔
 — دیوی : (۱) موٹھ؛ (۲) ہندوؤں کی ایک دیوی (۳) کالا (۴) دکناٹا (افیون)۔
 — زیری : موٹھ؛ ایک قسم کا سیاہ زیرہ۔
 — ماتا : (۱) موٹھ؛ ایک قسم کی چیچک جس کے دانے سیاہ ہوتے ہیں۔
 — کھانسی : موٹھ؛ بچوں کی ایک تکلیف وہ کھانسی۔
 — گھٹا : موٹھ؛ (۱) سیاہ بادل، برسے والا بادل (۲) دکناٹا، لمبی سیاہ زلفیں۔
 — مریج : موٹھ؛ گول مریج، سیاہ مریج۔
 — مٹھ : موٹھ؛ چھوٹی مٹھ۔
 — کالے پائی بھینجا : ایسی جگہ پھنچا دینا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔
 — سا کاٹا پائی نہیں مانگتا : کالے کے کالے کا منتر نہیں فریبی اور حیلہ گر کی دفا سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔
 — کا منتر : سانپ کو قابو میں کرنے کا منتر۔
 — کوسوں : بہت دور۔
 — کے آگے چراغ نہیں جلتا : دخل زبردستی آگے نہ دینی ہے۔
 — کے منہ میں آٹھلی دینا : سانپ کے منہ میں آٹھلی ڈالنا خطرناک کام کرنا ہے۔

— آٹامی : (دفع) (ع) اجتماعی، ہمہ شخصی۔
 — کافی : COFFEE (انگ) موٹھ؛ قہوہ، کافی۔
 — ہاؤس : HOUSE (انگ) مذکر؛ قہوہ خانہ، چھوٹا ریسٹوران۔
 — کافی : (دفع) (۱) کفایت کرنے والا (۲) بس، بہت، وافر کام نکل جانے کے قابل (۳) ایک قسم کی راگنی۔
 — وانی : (دفع) بھر پور، سچوی۔
 — کاک : (دفع) مذکر؛ روغنی ٹیکیا، بسکٹ۔
 — کاکا : (۱) مذکر؛ باپ کا چھوٹا بھائی، چچا۔
 — کاکھی : (۱) موٹھ؛ چچی۔
 — کاکاٹوا : مذکر؛ ایک قسم کا سفید اور بڑا توتا جس کے سر پر سُرخ یا زرد لکھی ہوتی ہے۔
 — کانٹرا : ایک قسم کا ہرن جس کے سینگ مڑے ہوتے ہیں۔
 — سینگی : (۱) موٹھ؛ ایک قسم کی پہلی جو دو اگے کام آتی ہے۔
 — کاکل : (دفع) موٹھ؛ سر کے بڑے بڑے بالوں کی لٹ، زلفت۔
 — پینچیاں : (دفع) بل کھلے ہوئے ہال، خمدار زلفیں۔
 — شیخ : (دفع) موٹھ؛ دکناٹا شیخ کا دھواں، چراغ کی لو۔
 — کاکرن : موٹھ؛ پٹیوں کو کھلایا جانے والا ایک قسم کا چھوٹا ننگی کاک / کاکا : (۱) مذکر؛ کڑا۔
 — کاک : مذکر؛ شیشی اور تیل کی ڈاٹ۔
 — کال : (۱) مذکر؛ موت، وقت، زمانہ، موسم، قحط، کمی، قلت، کالا کاغذ پڑنا؛ (۲) قحط ہونا (۳) خشک سالی ہونا۔
 — کامارا : قحط زدہ، بھوکا، کنگال۔
 — کوسٹھری : موٹھ؛ (۱) اندھیری کوسٹھری (۲) دکناٹا (پٹ) (۳) قید تہائی۔
 — کال : CALL (انگ) مذکر؛ بلاوا، طلبی، فون آنا یا کرنا۔
 — بیل : BELL (انگ) موٹھ؛ اطلاعی گھنٹی۔
 — گرل : GIRL (انگ) موٹھ؛ جسم فروش لڑکی۔
 — کالا : مذکر؛ (۱) سیاہ، سیاہ فام (۲) سیاہ سانپ۔
 — بھٹ : (۱) بھٹی کی طرح سیاہ (۲) بہت زیادہ کالا۔
 — بھونگ : نہایت کالا۔

دینا (۳) جنگ میں ملنا جانا (۴) صرف ہونا، خرچ ہونا،
(۵) استعمال میں آنا بتانا۔

بنالینا: مطلب حاصل کر لینا۔

بن جانا: کام درست ہونا، مطلب پورا ہونا، کامیابی حاصل ہونا۔
کام پڑنا: پالا پڑنا، تعلق ہونا۔

جہام کرنا: (۱) کام ختم کرنا (۲) مار ڈالنا، ہلاک کرنا۔

جھوٹی: (۱) دھت، موشٹ؛ مطلب حاصل کرنا۔

چلانا: (۱) دقت سے کام نکالنا (۲) مطلب پورا کرنا۔

چھوٹ ہونا: کام خراب ہونا۔

چھور: کام سے بچنے والا، کابل، نکمّا۔

چھور نوالے حاضر: نکمّا اور خود غرض آدمی۔

دار: (مذکر) (۱) کارکن، منتقل، کسی امیر کا خرید و فروخت
کرنے والا ملازم (۲) وہ جوتی یا لباس جس پر زبردستی

کا کام کیا ہو۔

دانی: موشٹ؛ سونے چاندی کے تاروں کا کام کیا ہوا کپڑا۔

دھندا: مذکر؛ کاروبار، کام کاج۔

دلیو: (۱) مذکر؛ خواہش نفسانی کا دیوتا۔

رائ: (۱) دھت، کامیاب، خوش نصیب۔

رائی: (۱) دھت، کامیابی، خوش نصیبی۔

رکھنا: مطلب رکھنا، غرض رکھنا۔

رؤا: (۱) دھت، جس کا مقصد حاصل ہو چکا ہو، کامیاب۔

روائی: (۱) دھت، موشٹ؛ کامیابی۔

سے جانا: نکمّا ہونا، بے کار ہونا، استعمال کے قابل
نہ رہنا۔

سے کام ہونا: رکھنا: اپنی غرض سے غرض رکھنا۔

اپنی غرض سے غرض ہونا۔

سے لگنا: کام میں مصروف ہونا۔

کا: کار آمد۔

کاج: مذکر؛ گھر کا کام، کاروبار۔

کانہ رکھنا: بے کار کر دینا۔

کانہ کاج کا دشمن اناج کا: دھت، کابل، نکمّا۔

کایا: کالے رنگ کا آدمی۔

کالا: (۱) دھت، مذکر؛ اسباب، پونجی۔

کالہدا: (۱) دھت، ڈھانچا، بدن (۲) قاب، سانچا (۳) جوتے کے
اندھ پنسانے والا کلڑی کا فرم۔

کالیوت: مذکر؛ دیکھ کر کالہدا۔

کالج: COLLEGE (۱) مذکر؛ (۱) ہائی اسکول کے بعد
کی تعلیم کی درسگاہ (۲) بڑا مدرسہ، مدرسہ العلم۔

کالٹر: COLLECTOR (۱) مذکر؛ قیض کے گلے پر لگی ہوئی
بجڑی پتی۔

کالرا: CHOLERA (۱) مذکر؛ ہیضہ۔

کالعدم: (۱) نہ ہونے کے برابر، جس کا وجود نہ ہو، ناپسند
(۲) ختم، قاب (۳) بے حقیقت۔

کالک: (۱) سیاہی (۲) کنایتا، کنک، کاشیک، رسوائی۔

لگنا: (۱) سیاہی کا دھنا لگنا (۲) کنایتا، رسوا کرنا۔

لگنا: سیاہی کا دھنا لگنا، رسوا ہونا، ذلیل ہونا۔

کالم: COLUMN (۱) مذکر؛ (۱) خانہ، مضمون، (۲)
اخبار کے صفحے کا ایک حصہ۔

نویس: مذکر؛ (۱) اخبار کا کوئی مخصوص حصہ لکھنے والا،
(۲) اخبار میں مخصوص اور مستقل مضامین لکھنے والا۔

کالونی: COLONY (۱) مذکر؛ موشٹ، نبی بستی، نوآبادی، ماتحت ملک،
کام (۲) مذکر؛ چاہ، خواہش، آرزو، ہوس، شہوت۔

کام: (۱) دھت، مذکر؛ (۱) مراد، غرض، مقصد، مطلب (۲) فعل و
عمل (۳) مزدوری، محنت، مشقت، (۴) تالو،

(۵) شغل، دھندا (۶) پیشہ، حرفہ (۷) بیوپاری، لین، دین،
پیشے کا کام (۸) تعلق، سروکار (۹) روزگار، نوکری،

خدمت (۱۰) مزدوری، کار جوئی، کشیدہ کاری، نقاشی وغیرہ
والہ، مویشیاری (۱۱) کارگر جوئی (۱۲) حاجت، ضرورت۔

آپڑنا: غرض رکھنا۔

آخڑ کرنا: ملنا۔

آخڑ ہو جانا: مر جانا۔

آنا: (۱) کار آمد ہونا (۲) مددگار ہونا، آٹھ آنا، سہارا

- کر جانا: اثر دکھانا۔
 — کر کے سپاہی نام ہوسوار کا: کام کئی کرے نام کی کا۔
 — کو کام سکھاتا ہے: کام کرنے سے کام خود بخود آتا چلا جاتا ہے۔
- کام کار: (د) خوش نصیب۔
 — میں کام نکالنا: کام بڑھانے جانا۔
 — نکالنا: مطلب پورا کرنا۔
 — یاب: فتح یاب، کامران۔
 — یابی: (د) موت؛ فتح یابی، مطلب پورا ہونا۔
- کاما/کوما: COMA (انگ) مذکر؛ وقفے کا ایک نشان جو اردو میں آئے ٹیپس (،) کی مانند ہوتا ہے اور جملے کے مختلف حصوں کے درمیان آتا ہے۔
- کامرس: COMMERCE (انگ) مذکر؛ (۱) اصول تجارت وغیرہ سے متعلق علم (۲) تجارت، سوداگری۔
- کامریڈ: COMRADE (انگ) مذکر؛ ساتھی، رفیق، ہدم (ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی اشتراکی اصطلاح)
- کام کار: (د) مذکر؛ (۱) خوش نصیب، کامیاب اقبال مند؛ (۲) (۵) کام کرنے والا مزدور محنت کش۔
- کامل: (د) مذکر؛ (۱) پورا، مکمل، تمام (۲) ماہر فن کا استاد بڑا عالم (۳) عارف، خدا رسیدہ۔
- کامل العیار/کامل عیار: (د) (۱) کھڑا، پکا (۲) وفادار۔
- کاٹنا: (د) موت؛ تمنا، آرزو، خواہش۔
- کامن ویلتھ: COMMON WEALTH (انگ) مذکر؛ دولت مشترکہ۔
- کامنی: موت؛ (۱) ایک خوشبودار پھول (۲) نازک اور خوب صورت عورت۔
- کامود: مذکر؛ مالکوس، راگ کی ایک قسم۔
- کامونی / کمونی: موت؛ ایک قسم کی جمن جس میں زیرہ ملایا جاتا ہے۔
- کامیڈی: COMEDY (انگ) مذکر؛ (۱) طہیر (۲) وہ ڈراما جس میں طنز و مزاح شامل ہو (۳) مزاحیہ کہانی یا ناول جس کا انجام خوش گوار ہو۔
- کان: (د) ہوت؛ (۱) وہ جگہ جہاں سے کھود کر دھات، جواہرات وغیرہ نکالتے ہیں (۲) چشمہ (۳) سنج۔
 — کن: (د) کان کھودنے والا۔
- کان: مذکر؛ (۱) سننے کا عضو، سننے کی قوت (۲) مجازاً؛ توجہ دہیان (۳) استدار اور طنز اور وغیرہ کی کھوٹی۔
- کان اڑانا: شور و غل سے پریشان کر دینا۔
 — اونچے کرنا: کان کھڑے کرنا، چوکنا ہونا۔
 — اینٹھنا: گوشمالی کرنا۔
 — بچنا: بغیر کسی آواز کے کوئی بات سنائی دینا۔
 — بھرجانا: جی اکتا جانا۔
 — بھردینا: بدگمانی پیدا کرنا۔
 — بھرنا: بدگونی کرنا، لگائی بجھائی کرنا۔
 — پیر پیر خوں نہیں رینگنا: بے بغیر ہونا، بے پروا ہونا۔
 — پیر پیر تھہر رکھنا: صاف صاف کر جانا، لاطمی ظاہر کرنا۔
 — پیکر کے اٹھادینا: چیز نکال دینا، ذیل کر کے بھگا دینا۔
 — پکڑنا: تشبیہ کرنا، توہ کرنا، باز رہنا، چھوڑ دینا۔
 — پھہر پھڑانا: (۱) کتے کا دونوں کانوں کا ہلانا، (۲) دکھانا، مستعد ہونا۔
- تک پہنچنا: سننے میں آنا، بغیر کاٹنا جانا۔
 — دبا کر چلانا: چپ چاپ چلا جانا۔
 — کاٹنا: (۱) کسی سے کسی معاملے میں آگے بڑھ جانا، (۲) سبقت لے جانا (۳) چالاک میں سبقت لے جانا۔
- کا کچا: دوسروں کی لگائی بجھائی میں آجانے والا، جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔
- کھڑنا: (۱) کان کاٹنا (۲) ایسی چالاک دکھانا جس سے دوسرے زچ ہو جائیں، (۳) ہوشیار رہ کر دکھانا۔
- کھانا: (۱) کب تک کرنا، (۲) فضول باتوں سے پریشان کرنا۔
 — کھڑے رکھنا: ہوشیار رہنا۔
 — کھڑے کرنا: چوکنا ہونا۔
 — کھلے رکھنا: ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا۔
 — کھول دینا: جت دینا، آسگاہ کر دینا۔

— میں گویا بھینسا: کسی نسی ہوئی بات یا آواز کا بار بار سنائی دینا۔
 کانا: مذکر: (۱) ایک آنکھ کا (۲) وہ پھل جس میں کپڑے لگ گئے ہوں
 (۳) ترچھا، میسرھا بے ڈھنگا (۴) (ت بے وقوف)
 — باقی: (مخ) کان میں بائیں کرنا، کانا پھوسی۔
 کانا پرودہ: دکھاوے کا پردہ۔

— پھوسی: موتھ: (۱) چپکے چپکے کی جانے والی بات، کھسر
 پھوسر، سرگوشی (۲) خفیہ مشورہ۔
 کانا پ: موتھ: (۱) بینک کی مٹری ہوئی بتی قچی جو کمان کی شکل کی
 ہوتی ہے (۲) کمائی (۳) نہایت سفید عمدہ چونا (۴) کانپا
 سے امر کا صیغہ (۵) دریا کے نشیبی علاقوں میں بڑھنے والی کانپ۔
 — اٹھنا: لرز جانا، بدن کھلنا جانا، خوف سے تھرا جانا۔

کانپنا: بلنا (۱) لرزنا، تھرا جانا (۲) دکنا (تثا) خوف کھانا۔
 کانشا: مذکر: (۱) خار (۲) ترازو (۳) ترازو کے دستے کی سوئی
 (۴) پھلی کپڑے کا ٹیڑھا ٹوک دار کانشا (۵) کنویں سے
 گرے ہوئے ڈول بھکانے کا اوزار (۶) بچھنا چچھ (۷)
 مہینہ (۸) پھلی کے گوشت کی بڑی (۹) بک، آٹھ (۱۰) چھین کھٹکا
 (۱۱) انتہائی دبل لاغر (۱۲) ناپسندیدہ شخص دشمن (۱۳) گھڑی
 کی سوئی (۱۴) نر پزندوں کے پانوں کا خار (۱۵) پزندوں کی ایک
 مہلک بیماری (۱۶) پیاس کی شدت سے پیدا ہونے والی زبان کی درلہٹ
 (۱۷) حساب جانچنے کا ایک طریقہ (۱۸) قوام کا تار، (۱۹)
 لوک، انکاؤ۔

— چھبونا: بھکیٹ دینا۔
 — ڈاغنا: گرم لوہے سے پرندوں کے بد گوشت کو جلانا۔
 — سا: نہایت ڈبلا۔
 — سا کھٹکنا: بڑا لگنا ناپسند ہونا۔
 — کھانا: (۱) پھلی کا پھنس جانا (۲) دکنا (تثا) دھوکا کھانا۔
 — لگنا: (۱) کانشا چھنا (۲) پزندوں کو کانٹے کی بیماری لگنا۔
 (۳) خوب شراب پی لینے سے مرنے کے قریب پہنچنا۔
 — مارنا: (۱) مڑوں کا لڑتے وقت ایک دوسرے کو خار مارنا
 حملہ کرنا (۲) ہم ٹولنا، ڈنڈی مارنا۔
 — ہو جانا: سٹو کے لاغر ہو جانا، بہت ڈبلا ہونا۔

— نی پھلی: کان کا ایک زریہ۔
 — کے پتے: کان کا ایک زریہ۔
 — کے پردے اڑا دینا/بھاڑنا: بہت شور کرنا۔
 — کے پردے پھٹ جانا: شور وغل سے کانوں کو
 بھکیٹ پہنچانا۔

کان گتنگ ہونا: ہر وقت بھینھنا ہٹ کی آواز محسوس کرنا۔
 — گتنگ ہونا: آتفا کوئی بڑی بات سن لینا۔
 — گوتنگے ہونا: بہرا ہونا۔
 — لینا: تنبیہ کرنا۔ گوشالی کرنا۔
 — مائوس ہونا: جانی پہچانی آواز۔
 — میلیا: مذکر: کان کا میل صاف کرنے والا۔
 — میں بات کرنا: کوئی سزا کی بات کہنا۔
 — میں پھونکنا: (۱) بہکانا، برانی کرنا (۲) بے جا
 تعریف کر کے مغرور کرنا۔
 — میں بھنک پڑنا: سناگن ملنا، کسی بات سے
 آگاہ ہونا۔
 — میں تیل ڈال لینا: کچھ نہ سنا، لاپرواہی برزنا۔
 — میں ڈھول بجانا: دکنا (تثا) شور وغل کرنا، کان کے
 پاس چلانا۔
 — میں رُوئی دینا: دکنا (تثا) کوئی بات نہ سنا، غافل
 ہو جانا۔

— نہ بلانا: اعتراض نہ کرنا، چپ ہو جانا۔
 — کانوں پر سنا تھ دھرنار رکھنا: (۱) صاف انکار کر جانا (۲)
 اچان بننا (۳) نفرت کرنا، پتہ مانگنا۔
 — کان خبر نہ ہونا: کسی کو معلوم نہ ہونا، کسی کو پتا نہ چلنا۔
 — کی لوں پھرنا: (۱) نزع کی حالت میں ہونا (۲)
 اذیت سے دوچار ہونا۔
 — میں انگلیاں دینا: نہ سنا۔
 — میں تیل ڈال کے بیٹھنا: دکنا (تثا) بے تعلق ہونا۔
 — میں بھینٹھیاں دینا: دکنا (تثا) کچھ نہ سنا۔
 — میں رگڑی سٹوٹس لینا: جان بوجھ کر کوئی بات نہ سنا۔

کانٹول بھرا بھری: وہ چیز جو شکلوں اور پریشانیوں سے پتر ہو۔

پرے ستر کرنا: انتہائی دشوار اور تکلیف دہ زندگی گزارنا۔

میں کھینچنا: بہت تکلیف دینا، اذیت پہنچانا۔

کانٹول پر رہیں کھینچنا: شرمندہ کرنا۔

پر ٹوٹا: دکنا (تیا)، بے چین رہنا، بے حد تکلیف اٹھانا۔

میں الجھنا: مشکل میں پھنسنا۔

کانٹے بچھانا: مشکلیں پیدا کرنا۔

لونا: اپنے یا کسی کے حق میں برائی کرنا، کوئی ایسا کام کرنا۔

ڈانٹنا: کسی کا نتیجہ بہتر بنانے کی امید نہ ہونا۔

پر کی اوس: نہ ٹھہرنے والی چیز، ناپائیدار چیز۔

بے کار چیز۔

پڑنا: پیاس کے مارے زبان یا حلق کا خشک ہو جانا۔

کی تول: بہت ٹھیک، ذرا کم نہ زیادہ۔

میں ٹھلنا: سونے یا چاندی کے مول بننا۔

کانٹھی: (۱) موٹ، (۲) روٹی کا کوٹرا (۳) چھوٹا ٹک (۴) ساٹھ کے کپڑے کی لکڑی، (۵) بٹیری۔

کاجھی: (۱) ایک قسم کا کھٹا پانی، (۲) گاجروں کے اچار کا پانی

(۳) چاولوں کی پیچ، مائٹ۔

ہاؤس: (۱) انگ (۲) مذکر؛

سرکاری باڑا، وہ سرکاری مکان جہاں لاوارث موتی

بند کیے جاتے ہیں۔

کانچ: موٹ، (۱) غیر صاف کیا ہوا شیشہ (۲) ایک بیماری کا نام۔

نکال دینا: دم، دکنا (تیا)، بہت مارنا، عاجز کرنا،

کسی کو نقصان پہنچانا۔

نکلتا: دم، (۱) پانچا نہ پھرتے وقت مقعد کا باہر نکل آنا،

(۲) دکنا (تیا) نقصان اٹھانا۔

کاندھا: مذکر؛ کندھا، شانہ۔

بدلنا: کسی بوجھ کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر رکھنا۔

دینا: (۱) جنازے کو کندھے پر رکھنا، (۲) سہارا

دینا، مدد دینا۔

کاندھوں کے فرشتے: کرانا کا تین۔

کاندھی دے جانا: کاندھیاں دینا: (۱) مال جانا، بہانے کرنا

(۲) گھوڑے کا ایک عیب کہ سوار کو گرانے کے لیے گردن آگے

کی طرف جھکا کر پشت مارتا اور پیٹھ سے جھٹکا دیتا ہے۔

کانڈلی: مذکر؛ سروں کا ساگ۔

کانڈلی: موٹ؛ ایک قسم کا ساگ جس کے بیج ٹھنڈائی میں ڈالنے

میں رخرف۔

کانڈرا: (دہلی) مذکر؛ (۱) کاننا (۲) سر کنڈرا (۳) ایک راگنی

کانام (۴) ایک قسم کی تنگ۔

کانس: موٹ؛ (۱) ایک قسم کی لمبی گھاس (۲) ایک قسم کا پتیل۔

کانسا: مذکر؛ پتیل اور تانبا ملی ہوئی ایک دھات۔

کانسٹبل: CONSTABLE (انگ)؛ مذکر؛ پولیس کا سپاہی۔

کانسٹیٹیوشن: CONSTITUTION (انگ)؛ مذکر؛ (۱) دستور

قانون، آئین حکومت (۲) بناوٹ، ساخت۔

کانفرنس: CONFERENCE (انگ)؛ موٹ؛ (۱) صلاح و

مشورے کی کمیٹی (۲) مجلس، مشاورت کا جلسہ (۳) کسی

خاص موضوع پر بہت سے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کر گفتگو کرنا۔

کانفیڈنشل: CONFIDENTIAL (انگ)؛ مذکر؛ خفیہ،

رازدارانہ، بہ صیغہ راز۔

کانگھنا: (۱) کراہنا، آہیں بھرننا، سسکنا (۲) پیچانہ پھرنے یا

کسی بوجھ اٹھانے کے وقت ایک قسم کی آواز کاہنہ سے نکلنا۔

کانگریس: CONGRESS (انگ)؛ موٹ؛ سبھا، مجلس؛

جماعت۔

کانگریسی: موٹ؛ تیلیاں منڈھی ہوئی رسی کی انگلیسی کتیری

اسے گلے میں لٹکتے ہیں۔

کانون: دم؛ مذکر؛ انگلیسی۔

کانووکیشن: کان ووکیشن CONVOCATION (انگ)؛

مذکر؛ یونیورسٹی کا جلسہ تقسیم اسناد۔

کانی: موٹ؛ ایک آنکھ کی۔

کوڑی: (۱) پھوٹی کوڑی (۲) دکنا (تیا)؛ بے کار چیز خراب مال

کاوا: مذکر؛ گھوڑ سواری کا ایک فن (دکنا (تیا)؛ چکر۔

— سبھی پھٹ جانا؛ تتر بتر ہونا؛ جمع کا منتشر ہونا۔
 کایا؛ مونث؛ جسم، شکل، ماہیت۔

— بڑی کہ مایا؛ جان سے بہر مال نہیں۔
 پلٹ؛ مونث؛ بالکل بدل جانا، حیرت انگیز تبدیلی۔

— کاسستھ/کایتھ؛ ہندوؤں کی ایک ذات کا نام۔
 کاسنات؛ (دع) مونث؛ (۱) دنیا (۲) مخلوقات، موجودات (۳)
 پونجی (۴) اصل حقیقت، بساط۔

— عالم؛ (امانات کے ساتھ) مونث؛ دنیا کی مخلوقات۔
 کایئر؛ (۵) بزدل، ڈرپوک۔

ک۔ ب۔ بھ

کب؛ (۱) کس وقت، کس سوز، کس زمانے میں (۲) کیوں کر،
 کس طرح (۳) کہاں (۴) سوالیہ انکار۔

— کا؛ (۱) کس زمانے کا (۲) بہت دیر سے، مدت ہوئی۔
 کب؛ مذکر؛ (۱) ٹیڑھ کچھ انسان کی پیٹھ کی کچی، (۲) جھکاؤ،
 عم (۳) اونٹ یا سانڈ وغیرہ کے اوپر کا ابھرا ہوا
 حصہ، کوبان۔

کباب؛ (دع) (۱) سیخ پر پھینچے ہوئے سالہ دار گوشت کے ٹکڑے (۲)
 سیخ پر ٹھکانا ہوا قیمہ، قیہ کی تلی ہوئی ٹکیا (۳) کناٹیا، جلا ہوا۔
 — چینی، مونث؛ ایک دوا کا نام۔

— حسین، ایک قسم کے کباب کا نام۔
 — دارالی؛ ایک قسم کے کباب کا نام۔
 — شامی؛ ایک قسم کے کباب کا نام، شامی کباب۔

— کرنا؛ کناٹیا، جلا نا، پھلین دینا۔
 — ہونا؛ جلا کر کھنا، خفہ کرنا۔
 کبابہ؛ (دع) مذکر؛ ایک دوا کا نام۔

کبار؛ (دع) مذکر؛ جمع کیہ کی، بڑے آدمی، بزرگ آدمی۔
 کبار؛ (دع) مذکر؛ ٹوٹا چھوٹا سباب۔

کباری/کباریا؛ مذکر؛ پراتا سب اور استعمال میں انگریزی فروخت ہونے
 کبار؛ (دع) مذکر؛ جمع کیہ کی، بڑے گناہ۔

کبیت؛ (دع) مذکر؛ شعر، شاعری۔

— دینا؛ (۱) گھوڑے کو چکر دینا (۲) پراتا کرنا (۳) مال ٹھیل کرنا۔

— کھانا، لٹائی میں ایک مربع کا دوسرے سے زبردست چوٹ کھانا۔
 — لگانا؛ پچر کا ٹٹا، چاندوں طرف پھرنا۔

— کاواک؛ (دع) گھوکھلا، خالی، بے ڈول۔
 کاوش؛ (دع) مونث؛ (۱) کھوج، تلاش (۲) دشمنی، رنج کد،
 (۳) (اردو) بیر، جلن، حسد۔

— کاؤ؛ (دع) مونث؛ (۱) کھودنے والا، کھوج لگانے والا (۲)
 کھودنا، آزمائش، تلاش، محنت، دکھ، تکلیف۔

— کاؤ؛ (دع) مونث؛ (۱) کھوج، تلاش، کوشش، جلن (۲)
 زخم کو نازن سے پھیلنا اور کھانا (۳) آواز۔

— کاؤں کاؤں؛ مونث؛ (۱) کوئے کی آواز (۲) کناٹیا،
 آدمیوں کا شور وغل۔

— کاہ؛ (دع) مونث؛ (۱) تنکا، گھاس (۲) گھانا۔
 — کشتال/کرکشتال؛ (دع) مونث؛ (۱) چھوٹے چھوٹے

ستاروں کا لمبا سلسلہ (۲) ستاروں کا راستہ۔
 کاہی؛ مذکر؛ سیاہی لیے ہوئے، ہلکا سبز رنگ۔

— کاہش؛ (دع) مونث، گھٹاؤ، زوال، کمی۔
 — آٹھانا؛ تکلیف برداشت کرنا، نقصان اٹھانا۔

— جان؛ (امانات کے ساتھ) ف، مونث؛ جان یواصدا۔
 کابل؛ (دع) سست، کام چور۔

— کاپی؛ (دع) مونث؛ سستی۔
 کاہن؛ غیب کی خبریں بتانے والا، فال کھانے والا۔

— کاہو؛ (دع) مذکر؛ ایک دوا کا نام۔
 کاسپو؛ (دع) (عم) کیوں، کس لیے۔

— کاہیدی؛ (دع) مونث؛ گھٹاؤ، کمزوری، ڈبلا پن۔
 کاہیدہ؛ (دع) (۱) گھٹا ہوا، ڈبلا، کمزور (۲) کناٹیا، عاشق۔

— کاسپل؛ (دع) مذکر؛ ایک دوا کا نام، ایک خاص دار پودا جس کے
 پھل اور پتے خوشبودار ہوتے ہیں۔

— کانی؛ (دع) مونث؛ (۱) ایک قسم کی سبزی جو اکثر چھے ہوئے
 پانی پر جم جاتی ہے (۲) ایک قسم کی پھوندی جو نمی کی وجہ سے

دیواروں اور پتھروں پر جم جاتی ہے۔

— پنتھی: کبیر کے پیرو۔
 کبیرہ: (رع) موت، بڑی، جمع کبائر، دیکھو گناہ کبیرہ۔
 کبیسہ: (رع) مذکر؛ بونکا مہینہ، شمس اور قمری سال کا فقہی دور
 کھنے کے لیے تیسرے سال ایک مہینہ کا اضافہ۔
 کبھو: کبھی (بھی داب مستعمل نہیں ہے)۔
 کبھی: (دا) کسی وقت، کسی گھڑی (۲)، اتفاقاً (۳) کسی زمانے میں
 (۳) سوالیہ انکار (۵) ہرگز، بالکل۔
 تولا کبھی ماشا، کھل کھلتے رہنے والا، دم میں کچھ دم میں کچھ غیر مستقل مزاج۔
 کے دن بڑے کبھی کی رامیں: ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوتے
 زمیں پر کبھی آسمان پر: بہت جلد غصے میں آجانے والا،
 زود رخ، جذباتی۔

کا: کب کا، بہت دیر کا، مدت کا۔
 کبھار: کبھی کبھی۔
 گاڑی ناو پر کبھی ناو گاڑی پر: ہمیشہ ایک سی حالت
 نہیں رہتی، تبدیلی لازمی ہے۔
 گھورے کے دن کبھی پھرتے ہیں: بُرے دن ہمیشہ نہیں رہتے
 نہ کبھی: کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت۔
 نہیں: ہرگز نہیں۔

ک۔ پ

کپ: (cup) (اگ) مذکر، پیالہ، گوزہ، جام۔
 کپا: مذکر؛ (دا) چڑھے کا پیولا ہوا چھوٹے منہ کا برتن جس میں
 گھی یا تیل رکھتے ہیں (۲) موٹا، فریب (۳) پھولا ہوا۔
 ہو جانا: (دا) بھول جانا، سوچ جانا (۲) موٹا ہو جانا، (۳)
 دکنا تیا خٹا ہو جانا، فحشے سے منہ سہلا لینا۔
 کپاری: گھوڑے کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کے منہ پر بانھی
 جانے والی تسی۔

کپاس: موت، بغیر صاف کی ہوئی رونی، رونی کا صفت،
 رونی جس میں سے بچ نہ ملاحظہ کیا گیا ہو۔
 کپاسی: مذکر، ایک قسم کا ہلکا زرد رنگ۔
 کپٹ: موت، (دا) چھل، فریب، دھوکا (۲) کینہ (۳) ملامت

کبہ: (رع) مذکر؛ بچہ۔
 کبڈی: موت، لڑکوں کا ایک کھیل۔
 کھیلے پھرنا: مارا مارا پھرنا، آواز گردی کرنا۔
 کبڑ: (۱) بڑھاپا، پیری (۲) بکتر، گھنڈ۔
 کبڑسن: بڑھا، بڑھاپا، عمر رسیدہ۔
 کبریا: مذکر؛ اللہ تعالیٰ کا نام۔
 کبریاٹی: اونچا درجہ، بزرگی۔
 کبڑا: مذکر؛ (دا) سیاہ و سفید (۲) چتکرا، ابلق۔
 کبریت: (رع) موت، گندھک۔
 آخمر: (اضافے کے ساتھ) (۱) لال گندھک (۲) بھانج

کم باب، معدوم۔
 کبڑا: مذکر؛ ڈیڑھی پیٹھ والا، کھرچکا۔
 کپن: مذکر؛ خمیدگی۔
 کپڑن: موت؛ ترکاری بیچنے والی عورت، کپڑن۔
 کبڑیا: مذکر؛ ترکاری بیچنے والا۔
 کنگ: (د) مذکر؛ چکور۔
 دری/کبساری: (اضافے کے ساتھ) (د) مذکر؛ پہاڑی کپڑ
 کبوتر: (د) مذکر؛ ایک شہور پرندہ۔
 اڑانا: کبوتر بازی کرنا۔

باز: (د) مذکر؛ کبوتروں کا کھلاڑی، کبوتر اڑانے والا۔
 بازی: (د) موت؛ کبوتر اڑانے کا کھیل۔
 خانہ: (د) مذکر؛ (دا) دربا (۲) دکنا تیا، تنگ جگہ۔
 کاگو، سنجنا: کبوتر کا مست ہو کر لوٹنا۔
 کبوتری: موت؛ (دا) مادہ کبوتر (۲) دکنا تیا، ناچنے والی دیہاتی
 عورت (۳) لمبی جلی خور عورت (دکنا تیا)۔

کبورو: (د) مذکر؛ نیلا، نیلگوں، آسانی۔
 کبورویت: (د) موت؛ نیلا پن۔
 کبیدیگی: (د) موت؛ رشیدگی۔
 کبیدہ: (د) رشیدہ، ملول، غمگین۔
 خاطر: رشیدہ دل، آرزو، خاطر۔
 کبیر: (رع) مذکر؛ (دا) بڑا جنگ (۲) (۵) جندی کا ایک مشہور صوفی شاعر۔

کتاب: (دع) موت؛ (ا) کچھے ہوئے درقوں کا مجموعہ (۲) (۵) پستک۔
 — آسمانی: (دع) موت؛ وہ کتاب جو اللہ نے کسی پیغمبر پر اتاری
 (مثلاً توریت، زبور، انجیل اور قرآن)۔

— اللہ: (دع) موت؛ اللہ کی کتاب، قرآن۔
 کتاب دیکھنا: کتاب پڑھنا۔

— کا کپڑا: بہت پڑھنے والا، مطالعے میں غرق رہنے والا۔
 — مقدس: (اضافت کے ساتھ) (دع) موت؛ پاک کتاب
 خدا کی اتاری ہوئی کتاب۔
 کتابت: (دع) موت؛ (ا) لکھائی، کاپی نویسی (۲) نامہ، خط۔
 کتابت: (دع) مذکر؛ (ا) قبر کی لوح (۲) پتھر یا دیوار پر لکھی ہوئی یا
 کندہ کی ہوئی عبارت، مکتوب۔

کتابی: (دع) کتاب والی، کتاب کی کتاب جیسی (۲) لکھی ہوئی۔
 — چہرہ: لمبوتر چہرہ، کسی قدر لالہ بنا چہرہ۔

کتابیات: (دع) موت؛ (ا) کتابوں کے متعلق علم، کسی مصنف
 کی تصنیفات کی مکمل فہرست (۲) کسی کتاب یا مقالے
 کے آخیں حوالہ جات کی تفصیل فہرست۔

کٹارا: مذکر؛ (ا) ایک قسم کا گٹارا (۲) اعلیٰ کا پھل (۳) کٹار، خنجر۔
 کتان: (دع) موت؛ (ا) اسی (۲) مذکر؛ ایک قسم
 کا باریک کپڑا جو شاعروں کے خیال سے چاندنی میں پھٹ جاتا
 ہے (۳) دکھنا، پھٹنا، ہوا، چاک۔

کٹائی: موت؛ سوت کا تانا، کاتنے کی اجرت۔
 کتب: (دع) مذکر؛ موت؛ جمع کتاب کی۔

— خانہ: (دع) (ف) مذکر؛ (ا) کتاب گھر، کتاب کی دکان
 (۲) لائبریری۔

— فروش: (دع) (ف) مذکر؛ کتابیں بیچنے والا۔
 کتبہ: (دع) مذکر؛ دیکھو کتابہ۔

کتخد: (دع) مذکر؛ دیکھو، کد خدا۔
 کتخدائی: (دع) موت؛ کد خدائی، شادی، بیاہ۔
 کتھر: مذکر؛ کپڑے کی کتھر، دمچی۔

کتھر کتھوت: (دع) کاٹ چھانٹ (۲) تراش فراش (۳) قطع
 برید (۴) کسی پیشی بہت کفایت شعاری (۵) سوچ، فکر، توڑ، جوڑ۔

دشمنی۔
 کپٹی: کپٹ رکھنے والا۔

کپڑ: کپڑا کا محقق۔

— چھین: موت؛ کپڑے کا چھنا ہوا، باریک چھنا ہوا۔

کپڑ پھول / دھول: مذکر؛ ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

— کوٹ: (دع) مذکر؛ ڈیرا، خمیہ، تینو۔

— گند: موت؛ کپڑا جلنے کی بو۔

کپڑا: مذکر؛ (دع) پارچہ، بستر (۲) لباس، پوشاک۔

— چل جانا: کپڑے کا پھٹ جانا، کپڑے کا مسک جانا۔

— لقا: (دع) کپڑا۔

کپڑے آنا: (دع) ماہواری آنا، حیض آنا، کپڑوں سے ہونا۔

— اتار لینا: لوٹ لینا، ننگا کر دینا۔

— بسانا: پوشاک میں عطر یا خوشبو لگانا۔

— بھاڑ کے نکل جانا: پاگل ہو جانا۔

کپڑوٹی: موت؛ گل ٹکٹ (۲) کپڑ چھین، کپڑے میں چھاننا۔

کپکپانا، کانپنا، تھر تھرانا۔

کپکپا ہٹا، کپکپا: (دع) موت؛ تھر تھری، لرزہ، گھبراہٹ۔

کپوت: مذکر؛ بالائین اولاد، نالائق بیٹا۔

کپور: مذکر؛ کافور۔

— کچری: موت؛ ایک قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ۔

کپوری: مذکر؛ ایک قسم کا پان۔

کپورا: مذکر؛ خصیہ، بھیڑ، بکری، مینڈھے کا۔

کپتی: موت؛ (دع) چھوٹا کپتا، (۲) چھوٹی چری شیشی (۳) بارود رکھنے
 کا برتن (۴) شیشیوں میں تیل ڈالنے کا برتن۔

ک ت

کتا: چوڑے پھل کی دو دھاری تلوار۔

کتا: مذکر؛ (دع) ایک مشہور جانور، سگ (۲) مچھانا، غلام، بھول بڑا

(۳) پانی، کینہ، ذلیل۔

— بھی بیٹھتا ہے تو دم ہلا کر بیٹھتا ہے: اپنے گویا ٹٹھے میٹھے کی

جگہ کو گھبراہٹ والوں کی نسبت مغالطہ کی تاکید کے لیے بولتے ہیں۔

- کترانا: (۱) ٹیڑھا چلنا، (۲) بچنا، کنارہ کرنا (۳) ایک راہ چھوڑ کر دوسری راہ سے جانا، راستہ بدل دینا۔
- کترنی: (۱) ہوش، قیچی، ایک تیز دھاڑا ڈازار۔
- کترن: ہوش، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، دہجی، کترا ہوا کپڑا۔
- کترنا: (۱) تراشنا، قطع کرنا، کاٹنا، چھانٹنا، (۲) سروتے سے ڈلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔
- کترنا: دانتوں سے کاٹنا، چڑیوں اور چوہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- کتر وانا: چھنٹوانا، ترشوانا۔
- کتر وائی: ہوش، کتر وائے کی اجرت۔
- کترلا: مذکر، تھلا، بچانک، بھڑا۔
- کترمان: (۱) مذکر، چھانا، پوشیدگی، پردہ۔
- کترنا: کاٹنا، جانا۔
- کتوانا: کسی سے سوت کاٹنے کا کام لینا۔
- کتنتی: ہوش، کاٹنے کا سامان رکھنے کا برتن۔
- کتنا: (۱) کس قدر، کس تعداد میں، کہاں تک (۲) چاہے، کس قدر۔
- کتنے پانی میں ہے: کتنا گرا کہاں تک حوصلہ ہے کتنی قوت ہے۔
- کتنا: (۱) اندازہ ہونا۔
- کتنا: ہوش، ہنسا، ایک اور (۲) ایک قسم کی تلوار، نیچہ۔
- کتنے: جمع کھٹاکی۔
- کتھڑ وانا: کتوں کا شکار پر ڈوڑانا۔
- کتھی / کتھی: ذیل کام بے غزنی کام، بھگڑے کام۔
- کارونا: نحوست، بد شگون۔
- کاکن: دکناٹیا، نہایت گھٹیا کپڑا۔
- کوگھی نہیں سچتا: برون کو اچھی صحبت پسند نہیں۔
- کی موت مرنا: ذیل حالت میں مرنا، حرام موت مرنا۔
- کی نیند: دکناٹیا، کھٹے کی نیند، لہکی نیند۔
- کی ہڑکٹ: ایک بیماری جو کتے کے کانٹے سے پیدا ہوتی ہے جس میں بچہ پانی اور ہٹی آگ سے خوف محسوس ہوتا ہے اور لڑکی کتے کی طرح بھونکنے اور کانٹے لگتا ہے۔
- کوتے ہیں: دیرانہ ہے۔
- کتیا: ہوش، (۱) کتے کی مادہ۔ کتھی۔
- کتے کی حالت میں عورت کے لیے بولا جانے والا لفظ۔
- کابللا: رکناٹیا، حرام زنا، ذلیل۔
- کتیرا: (۱) منکر، ایک قسم کا گوند۔
- کتھا: (۱) ہوش، (۲) کہانی، (۳) بیان، (۴) ہندوؤں کی مذہبی کہانی۔
- کتھانا: دھارک کہانیاں سننے کے لیے بیڈت مقرر کرنا۔
- کتھا: مذکر، پان کے ساتھ کھائی جانے والی ایک چیز، ایک پورے کا ست۔
- کتھری: (۱) ہوش، غریبوں کا اور صنا، کھونا، گڈری، بستر۔
- کتھک / کتھک: (۱) مذکر، (۲) داستان گو۔
- (۲) شمالی ہند کا نامندہ کلاسیکی رقص (۳) گویوں اور ناچنے والوں کا ایک ہندو فرقہ۔
- ک-ٹ، ٹ، ٹھ
- کٹ: کٹنا کا امر (مرتب استعمال ہوتا ہے)۔
- جانا: (۱) دو ٹکڑے ہو جانا، ترش جانا (۲) ٹم لگ جانا، ترش آ جانا (۳) الگ ہو جانا، جدا ہو جانا (۴) دکناٹیا، شرمندہ ہونا، (۵) گزر جانا، بسر ہو جانا (۶) مارا جانا، (۷) فاصلے ہو جانا، (۸) وضع ہو جانا، منہا ہو جانا (۹) خارج ہو جانا۔
- حجت: خواہ مخواہ حجت کرنے والا۔
- حجتی: ہوش، بے جا حجت۔
- جانا: بری طرح شرمندہ ہونا۔
- کھنا: کاٹ کھانے والا، منہ مارنے والا، چوٹ کرنے والا۔
- مرنا: (۱) آپس میں لڑنا، دکناٹیا، شرمندہ ہونا۔
- ملا: دیکھو کٹھ ملا۔
- کٹ: ہوش، (۱) کٹا ہوا (۲) دانت سے کھٹکنے کی آواز، ڈور یا چھالیہ کو دانتوں سے کٹنے کی آواز، (۳) ناخن سے دانت بجانے کی آواز، (۴) بچوں میں دوستی ختم کرنے کی علامت۔
- کنا: (۱) ناخن سے دانت بجانا، (۲) دوستی ترک کرنا۔

گٹنا: (۵) الگ، جدا دو ٹکڑے، نامکمل۔
 — جانا: بشر مندہ ہونا، خفیت ہونا۔
 — چھینی، مونث؛ (عم)، (۱) لڑائی بھڑائی، مارپیٹ (۲)
 — بیرو، دشمنی۔

گٹنا: (۳) گز رنا، بسر ہونا، طے ہونا، (۵) رنگ اڑنا،
 (۶) وضع ہونا، منہا ہونا، ریسیے خواہ گٹنا، (۷) فصل گٹنا
 (۸) کت سرتا۔

گٹنا: بھڑوا، طوائف کا دلال، ریوٹ۔
 گٹنا پا: مذکر؛ دلائی، دیوتی، کمینہ پن۔
 گٹنی: دلاڑ، ناگہ، چالاک، متار عورت۔

گٹا: (۱) پکا، مضبوط، ہٹا کے ساتھ (۲) پنہا، بھینس کا بچہ۔
 گٹا: مذکر، پر گٹا کنوتر۔

گٹنا: (۱) کوٹا جانا (قیمہ وغیرہ) (۲) پٹنا، مار کھانا (۳) چھت
 کا موگری سے کوٹا جانا۔

— دینا: پرکٹے کو تر سے دوسرے کو تر پھینانا۔
 گٹا ر: (۱) مذکر، مونث؛ (۲) چوڑے پھل والا خجرا، نیچ، پیش قبض
 (۲) نیولے جیسا ایک خوشخوار جانور۔

گٹوانا: کسی سے کاٹنے کا کام لینا۔

گٹوانی: مونث؛ کاٹنے کی اجرت۔

گٹوانا: کسی سے کوٹنے کا کام لینا۔

گٹوتی: مونث، (۱) مہنائی، بھرائی، کیشن (۲) کٹائی، تراش۔

گٹورا: مذکر؛ پیالا۔

— سجانا: (دہلی) سقے کا پانی پلانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا۔
 — سجانا/کھٹکنا: دکنا تیا، رونق ہونا، چہل پہل ہونا، شہر
 کا آباد ہونا۔

گٹاری: مونث؛ چھوٹا خجرا۔

— دار: آڑی دھاریوں کا۔

گٹانا: گٹوانا۔

گٹاؤ: مذکر؛ (۱) کٹائی (۲) تراش خراش (۳) گل کاری۔

گٹائی: مونث؛ (۱) کوٹنا (۲) کوٹنے کی اجرت۔

گٹائی: مونث؛ (۱) فصل گٹنا (۲) کوٹنے کی اجرت۔

— کرنا: فصل کاٹنا۔

گٹ پین CUTPIECE (انگ) مذکر؛ (۱) کٹے ہوئے ٹکڑے
 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے (۲) تھان بنانے کے بعد کپڑے
 کے بچے ہوئے ٹکڑے۔

— پھرانا/دوڑانا: کٹورے کو منتر یا کسی عمل کے ذریعہ چکر
 دے کر چھڑکا جتا چلانا۔

— سی آنکھیں: بڑی بڑی گول گول آنکھیں۔

گٹوروان: مذکر؛ ڈھکنے والا پتیل کا برتن۔

گٹوری: مونث؛ (۱) چھوٹا کٹورا (۲) انگیا کا وہ حصہ جس میں چھاتیا
 رہتی ہیں (۳) تلوار کی موٹھ۔

گٹول: (دس) مذکر؛ (۱) ایک درخت کا نام (۲) چنڈال۔

گٹھرا: مذکر؛ (۱) لوہے یا لکڑی کا جھگلا (۲) درندوں کے
 رکھنے کا لکڑی یا لوہے کا بچرا۔

گٹنی: مونث؛ (۱) سادھوں اور درویشوں کی جھونپڑی (۲)
 باریک کی ہوئی چمبیر (۳) مونث؛ (دہلی) گٹنا سے
 سے کٹا ہوا چارہ، سانی۔

گٹنیا: (۵) مونث؛ چھوٹی جھونپڑی۔

گٹنی: مونث؛ (۱) باریک کٹا ہوا چارہ (۲) سانی (۳) پانی میں
 چھلایا ہوا کاغذ (۴) پرکٹا۔

گٹنی کٹنی باتیں: (دہلی) جلی کٹی باتیں، طعن و طنز کی بات چیت

گٹیر: (دعوت) سخت، پتکا، سنگ، دل سیدرو بے وفا، بے مروت۔

گٹرا: مذکر؛ چھوٹا عملہ، احاطہ، چوک، منڈی، چھوٹا بازار۔

گٹر گٹر: (مونث) کسی سخت چیز کے چبانے کی آواز۔

گٹڑا: مذکر؛ (۱) بھینس کا نر بچہ؛ (۲) کاٹھ کا کوٹنا۔

گٹٹانا: دانتوں کو آپس میں رگڑنا، دانت پینا، غصہ کرنا۔

گٹٹھی: مونث؛ (۱) ایک کڑوی دوا (۲) دامن (۳) (دہلی)

ڈور پر دانت لاگایا ہوا نشان۔

گٹ گلاس CUTGLASS (انگ) مذکر؛ نقش ہیشیہ۔

گٹم رگٹم: مذکر؛ خاندان، کنبہ، مہمان۔

گٹن: (۱) تراشنا، قتل ہونا، زخم لگنا (۲) فدر ہونا، بھجنا،
 الگ ہونا، ختم ہونا (۳) دکنا تیا، ذیل ہونا، شرمندہ ہونا

گٹھنا فی: (۵) موت؛ دشواری۔
گٹھوتی: موت؛ کاٹھ کا برتن، لکڑی کا بنا ہوا برتن۔
گٹھور: (۱) سخت، کڑا سنگ دل (۲) بے رحم۔
گٹھیا: (۱) سخت، کڑا (۲) موت؛ بھینس کا ماہہ بچہ،
(۳) سخت جھلکے والا بادام (۴) ایک قسم کا پھول۔
گٹھیا: موت؛ غلہ رکھنے کا مٹی کا گودام، کوٹھی۔

ک۔ ث

کثافت: (۱) میلان، گاڑھا پن (۲) نجاست، گندگی۔
کثرت: (۱) زیادتی، بہتات، افراط (۲) مجازاً
علاقہ دنیاوی (۳) دھماکا، جھوم، بیٹھڑ۔
کٹے: (۱) اضافت کے ساتھ موت؛ کسی بات کے حق میں
بہت سے آدمیوں کی متفقد رائے۔

کثیر: (۱) بہت زیادہ۔

الاصلاح: (۱) بہت سے ضلعوں کی شکل والا۔

العلاق: (۱) کثرت سے تعلقات رکھنے والا۔

العیال: (۱) اولاد: (۲) بہت سے بچوں والا۔

المعنی: (۱) وہ لفظ جس کے بہت سے معنی ہوں۔

کثیف: (۱) صفت، غلیظ، میلا، کچھلا۔

الطبع: (۱) منکر، میلا آدمی، گنداء، گھوری، شخص

جو پاک صاف نہ رہے۔

ک۔ ج

کج: (۱) ٹیڑھا، خم۔

ادا: (۱) (۲) بے وفا، بے مروت، بدخلق۔

ادائی: (۱) موت (۲) بے مروتی، بے وفائی، بدخلق

(۲) دھماکا، برائی، دشمنی، عداوت۔

بجٹ: (۱) الٹی سیدھی بحث کرنے والا۔

بجٹی: (۱) موت؛ بیہوش، بیکار، نامتقول گفتگو۔

خلق: (۱) کھڑ، بد مزاج، بد خلق، بد مرث۔

خلق: (۱) موت؛ اکھڑ، بد خلقی۔

کرنا: (۱) دوستی غم کرنا (۲) رشتہ توڑنا (۳) ٹکڑے کرنا۔

گٹھا: موت؛ (۱) جھلی کرنے کا کاشا (۲) چھوٹا ہگ کاشا کی تصغیر۔

گٹھا: موت؛ دیکھو بٹ گٹھا۔

گٹے پر شک چھڑکنا: (۱) دکنایتا، ڈکھ پر ڈکھ پہنچانا، (۲)

تخلیق میں شکیلیت دینا۔

کٹی اٹنگلی پر پیشاب نہیں کرتا: (۱) مو، فرا بھی ہمدردی نہیں

کرتا۔

کٹی چھنی: موت؛ نوک جھونک، بیر، عداوت۔

گٹھلا: منکر؛ (۱) کانٹے دار (۲) ایک خاردار گھاس کا نام (۳)

دکنایتا، دل میں کھینے والا، نیکیلا، تیسز، (۴)

چالاک، بہادر۔

کٹیلی آنکھ: شوخی بھری ہونی آنکھ۔

کٹھ: کاٹھ کا سخت؛

پستلی: موت؛ (۱) کاٹھ کی گڑیا (۲) دکنایتا، دل چلی

عورت (۳) دوسروں کے اشاروں پر چلنے والا بے بس۔

کاناج: کاٹھ کی گڑیوں کا تماشہ جو انگلیوں پر بندھے

تاریوں کے اشارے سے دکھاتے ہیں۔

مٹلا: منکر؛ جاہل مولوی، دنیاؤسی، متعصب، کم پڑھا ہوا

گٹھار، موت؛ ذیرو، غلے کا گودام۔

گٹھالی: موت؛ (۱) چاندی سونا گلانے کی پیالی (۲) وہ پتھر کا

گڑھا جس میں دھان کوٹتے ہیں۔

کرنا: (۱) سونے چاندی کو گلانا (۲) ہندوؤں کا مردے

کو جلانا (۳) کھوکھلا کرنا، گڑھا ڈال دینا۔

گٹھلا: منکر؛ (۱) لکڑی کی ناند (۲) بھینس کا تڑپو (۳) دیکھو کٹرا۔

گٹھل / گٹھیل: منکر؛ ایک بہت بڑے پھل کا نام جس کا چمکا

کانٹے دار ہوتا ہے۔

گٹھلا: منکر؛ (۱) د، جم، گلے کا ایک زور، منسل، (۲) دکنایتا،

دوسرے کے ساتھ رہنے والا (۳) مشتوق و عاشق۔

گٹھلا: منکر؛ (۱) اناج کا گودام (۲) چڑانا پکانے کی بجٹی (۳)

کان کی ہڈی۔

کٹھن: (۱) سخت، مشکل، دشوار۔

کچھ : موٹف؛ عورتوں کی چھاتی، پستان۔
 کچھوں کا آبھار؛ عورتوں کے سینے کا آبھار۔
 کچھتا؛ مذکر؛ (۱) بن پکا، خام (۲) آدھ گلا (۳) کچی اینٹوں یا مٹی کا بنا ہوا مکان (۴) بودا، ناپائے دار (۵) کمزور، نرم، ملائم (۶) وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ (۷) نا تجربہ کار (۸) آڑ جانے والا رنگ (۹) غیر سرکاری کاغذ۔
 کچھا بچہ؛ مذکر؛ ادھر اچھے۔
 کچھتا؛ (۱) کچھ کچھا، کچھ کچھا، جیسا تیا، (۲) مندب (۳) نیم بچہ (۴) وہ تعمیر جس میں کہیں چونے اور کہیں اینٹ عمارت سے کی چھانی ہو۔
 کچھا کرنا؛ (۱) آدھ بھٹا کرنا (۲) دعویٰ کسی بات پر کچھ آمادہ کرنا۔
 کچھا ہونا؛ گومگو میں پڑنا، مندب ہونا۔
 کچھتا؛ مذکر؛ نا تجربہ کاری، خامی۔
 کچھتا؛ مذکر؛ صحیح صحیح حال، کل کیفیت۔
 کچھتا؛ ننھے ننھے بال بچوں کا کنبہ۔
 کچھتا؛ بغیر صاف کیا ہوا سونا۔
 کچھتا؛ مذکر؛ اسی روپے سے کم وزن کا سیر۔
 کچھتا؛ (۱) کچھا دودھ پینا (۲) کستا پینا، ماں کا دودھ پینا۔
 کچھتا؛ مذکر؛ وہ کاغذ یا دستاویز جس میں اسٹمپ نہ لگا ہو۔
 کچھتا؛ انتہائی غصے کا اظہار کرنا۔
 کچھتا؛ (۱) ہمت ہارنا، شرمندہ ہونا (۲) کھسیانا ہونا (۳) کچی سیلائی ہونا (۴) نا تجربہ کار ہونا، کمزور ہونا۔
 کچھتا؛ مذکر؛ (۱) ایک قسم کی ترکاری (۲) امر و دیا آجیے ہوئے آلو یا آبی ہوئی اروالی کے قتلے جن پر تنک مرچ اور کھٹائی ڈال کر کھاتے ہیں۔
 کچھتا؛ تیلی یا پچی ہوئی چیز کے کچھا جانے کی بو، کچھا مسالا کچھ جانے کی بو۔
 کچھتا؛ (۱) بچوں کی کثرت (۲) رات دن کا جھگڑا۔
 کچھتا؛ (۱) کچھتا میں ملنے کی آواز (۲) کستا پینا، کچھتا، دلی دلی۔

کچھتا؛ (۱) بچے کی رائے دینے والا۔
 کچھتا؛ (۱) ٹیڑھی چال چلنے والا۔
 کچھتا؛ (۱) موٹف؛ ٹیڑھی چال چلنا۔
 کچھتا؛ (۱) مزاج / شہاد؛ (۲) بد اخلاق، بد طبیعت، بد نحو۔
 کچھتا؛ (۱) الٹی سمجھ کا، نا سمجھ۔
 کچھتا؛ (۱) ٹیڑھی ٹوپی پہننے والا (۲) بانکا ترچھا (۳) دکھنا پنا، مشوق۔
 کچھتا؛ (۱) جیسے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو۔
 کچھتا؛ (۱) وہ شخص جو صاف نہ بول سکے جس کی زبان گفتگو کرنے میں اچھی طرح نہ چلے۔
 کچھتا؛ (۱) انکار جس میں اقرار چھپا ہو۔
 کچھتا؛ (۱) ٹیڑھی نظر والا۔
 کچھتا؛ (۱) موٹف؛ ٹیڑھا پن، خمیدگی۔
 کچھتا؛ (۱) کہاں، کس جگہ؟۔
 کچھتا؛ (۱) بیخ قوم کا کنبہ۔
 کچھتا؛ (۱) مذکر؛ اونٹ کی کاٹھی، مہل، جس پر دو شخص ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہیں۔
 کچھتا؛ (۱) موٹف؛ ہولی میں گایا جانے والا ایک لوک گیت۔
 کچھتا؛ (۱) مذکر؛ موٹف؛ ہاتھی کا آنکس۔
 کچھتا؛ (۱) مذکر؛ کٹکول، بھیک مانگنے کا ٹھیکرا۔
 کچھتا؛ (۱) مذکر؛ کاجل کی تغیر۔
 کچھتا؛ (۱) آگ کا بچھنے لگنا، (۲) تاریک ہونا، دھندلا ہونا۔
 کچھتا؛ (۱) موٹف؛ کاجل رکھنے کی ڈبیا۔
 کچھتا؛ (۱) مذکر؛ ہاتھیوں کے رہنے کا جھگڑا۔

ک۔ کچھتا، کچھتا۔

کچھتا؛ (۱) کم زور، پیٹ کا ہلکا، بات کا کچھا۔
 کچھتا؛ (۱) مذکر؛ بوڑھے دل کا آدمی، ڈر لوک۔
 کچھتا؛ (۱) موٹف؛ (۱) ڈر لوک عورت (۲) بزدلی۔

- کچھ بچہ بچہ / کچھ لکھان : موٹھ؛ کچھ بچہ۔
 کچھ بچہ بچہ ہونا؛ (۱) دل ڈل یا کچھ میں چلنے کی آواز ہونا (۲)
 لت پت ہونا؛ (۳) کچھ ہونا، دل ڈل ہونا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ (۱) کچھ بچل کے چلنے کی آواز اور بکرتا
 گوشت کھانے کی آواز (۲) بک بک۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ ایک بچل کا نام۔
 کچھ بچہ بچہ کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ بک بک، بھٹ، جھگڑا، تکلار۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ دانتوں کے پینے کی حالت، زود سے
 دانت سمیٹنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ بہت زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ (۱) غصے سے دانت پینا (۲) بالوں کا ایک بارگی
 نکل آنا (۳) بہت سے کثیر ویلایا پوروں کا زمین سے
 ایک ساتھ نکل آنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ مذکر؛ ایک نہر بلا بچل جو درواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔
 جانا؛ (۱) مسلا جانا، ہوندا جانا (۲) مارا جانا، پٹیا جانا۔
 کر دینا؛ پیس ڈالنا، قیر کرنا۔
 نیکالنا؛ مار مار کر علیہ بگاڑ دینا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ (۱) کسی وزنی چیز سے ڈب جانا، پس جانا، روندنا
 جانا (۲) زیر بار ہو جانا۔
 ڈالنا؛ مسل ڈالنا، پیس ڈالنا، بھر کس نکال دینا، ہوندا
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ اگلے دانتوں سے ملا ہوا نوکیلا دانت۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ ایک درخت اور اس کی کلی۔
 کچھ بچہ بچہ؛ KITCHEN (انگ) مذکر؛ باہرچی خانہ، رسوئی گھر۔
 کچھ بچہ بچہ؛ مذکر؛ ہلدی کی قسم کا ایک درخت اور اس کی جڑ
 جو درواؤں میں پڑتی ہے۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ ماش کی دال بھری ہوئی پودی۔
 سے گال؛ ہونے پونے گال۔
 کچھ بچہ بچہ؛ مذکر؛ (۱) کسی نوک دار چیز سے بھونکنا (۲) کناٹیا، طعنے دینا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ مذکر؛ ایک قسم کا اچا جس میں کیریاں وغیرہ کتر کر
 ڈالتے ہیں۔
 نیکالنا؛ (۱) خوب کھلنا، بھر کس نکالنا، خوب پینا (۲)
- تور پھونڈ کر حشیت بگاڑ دینا (۳) کناٹیا، تباہ کر دینا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ چھوٹا، بھونکنا، گھونپنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ اجلاس، عدالت۔
 کچھ بچہ بچہ؛ (۱) عدالت تک جانا، مقدمہ کرنا، ناش کرنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ عدالت میں مقدموں کا فیصلہ کرنا، اجلاس کرنا۔
 لگانا؛ (۱) اجلاس کرنا (۲) (بھارت) بھیر لگانا، شور کرنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کچا کی تانیٹ۔
 کچھ بچہ بچہ؛ ماضی جگہ، ماضی نوکری۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ وہ اینٹ جسے پہاڑے میں پکایا گیا ہو۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ وہ بھجس میں رقم کے کم و بیش کرنے کا
 اختیار ہو۔
 کچھ بچہ بچہ؛ دیہاتی بولی۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ (تافون) اصطلاح (۱) پہلی پٹی
 (۲) اپیل کی پہلی شہوائی۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کم عمری میں کنوارن دور ہونا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ گھری پانندی۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ کھود دین۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کچھ بولی، دیہاتی بولی۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ ناگھمی کی عمر۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کوتاہی کرنا، لاپرواہی برتنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ (۱) منہ بند کلی (۲) کناٹیا، کنواری
 دوشیزہ، نابالغہ باکرہ۔
 کچھ بچہ بچہ؛ (۱) چھوٹی عمر میں مر جانا (۲) کم
 عمری میں کنواریں دؤر ہونا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کناٹیا، مانع لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کناٹیا، نادان ہونا، ناچھریہ کار ہونا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ بچپن میں ہر طرح
 سے تعلیم و تربیت دی جا سکتی ہے۔
 کچھ بچہ بچہ؛ لکڑی کو سیدھا کرنا؛ کناٹیا، کم عمر بچے کو اچھی تعلیم دینا۔
 کچھ بچہ بچہ؛ موٹھ؛ نیند جو اچھی طرح بھری نہ ہو، ہنسی نیند۔
 کچھ بچہ بچہ؛ کچھ بچہ؛ آل اولاد، اولاد کی کثرت۔

— بچے دن : مذکر؛ (۱) حمل کے چوتھے پانچویں مہینہ تک کا زمانہ (۲) برسات کا آخری زمانہ۔
 — دن : مذکر، عورتوں کے حمل کا زمانہ۔
 — دھاگے میں بندھنا؛ دکنا (ثنا) فرماں بردار ہونا۔
 — کچھینا : موٹ؛ کان کی نو۔
 — جانا؛ ہمت ٹوٹ جانا، جھینپ جانا۔
 — کچھ؛ (۱) کسی قدر، تھوڑا (۲) بعض، چند (۳) اور کوئی بات اور کوئی امر (۴) بالکل، مطلق کی جگہ۔
 — تم سمجھے کچھ سمجھے؛ دوا دہوں کا ایک دوسرے کے دل کی باتیں سمجھ لینا، ایک دوسرے کا مدعا سمجھ لینا۔
 — تم نے سنا؛ حیرت کے اظہار کے لیے۔
 — تو ہے؛ کوئی خاص راز ہے، کوئی وجہ ہے۔
 — خرچ نہیں ہوتا؛ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
 — دال میں کالا ہے؛ کوئی سبب ضرور ہے، کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے۔
 — دور نہیں؛ کیا عجب، کیا بھروسا، ایسا ہی ہو۔ بعید نہیں۔
 — راہ پر آنا؛ نیم راضی ہونا۔
 — سے کچھ ہو جانا؛ بڑی تندرستی آ جانا۔
 — کا کچھ؛ غلط سلسلہ، اصل کے بالکل خلاف۔
 — کا کچھ سمجھنا؛ اٹسا سمجھنا۔
 — کا کچھ کہنا؛ جموٹا بیان دینا، توقع کے خلاف کہنا۔
 — کان میں پھونکنا؛ کاننا پھونسی کرنا، کسی کی بُرائی کرنا۔
 — کرتے دھرتے بن نہیں پڑتا؛ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔
 — کر دینا؛ دکنا (ثنا) (موم) جاؤ کر دینا۔
 — کھا لینا؛ دکنا (ثنا) زہر کھا لینا۔
 — کہہ بیٹھنا؛ کوئی ناگوار بات کہنا، گالی دے بیٹھنا۔
 — کھوکھو کے سیکھنا؛ نقصان سے تجربہ حاصل کرنا، ٹھوکریں کھا کر بیٹھنا۔
 — کھیل نہیں؛ آسان کام نہیں۔
 — گرہ میں ہونا؛ کچھ رقم ہونا۔
 — لوہا کھوٹا کچھ لہارا؛ دھل، دونوں کی غلطی دونوں کی غالی

— ملا دینا؛ زہر ملا دینا۔
 — گمنہ سے سُکنا؛ مہا بھلا سنانا۔
 — مُنہ سے نکالنا؛ زبان سے کچھ کہنا، مہا بھلا کہنا۔
 — نہ اُکھاڑ سکتا؛ کوئی بس نہ چل سکتا، قابو نہ چل سکتا۔
 — کچھ نہ چلنا؛ بس نہ چلنا، زور نہ چلنا۔
 — کچھا ر؛ مذکر؛ دریا کے آس پاس کی زمین، ترائی (۲) شیر کے رہنے کی جگہ۔
 — کچھنی؛ (۲) موٹ؛ جانگھیا، گھٹنا، مذکر؛ کھنا۔
 — کچھو؛ مذکر؛ ایک دہائی جانور کا نام جس کے پشت کی ہڈی پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے، موٹ؛ کچھوی۔
 — کچھینا؛ مذکر؛ وہ کیفیت جس میں ساگ یا تر کا ریاں بونی جاتی ہیں۔

ک - ح

— کتالی؛ (ع) مذکر؛ (۱) آنکھوں کا علاج کرنے والا، (۲) سرمہ بنانے والا (۳) آنکھوں میں سرمہ لگانے والا۔
 — کٹھنل؛ (ع) مذکر؛ سرمہ۔
 — کٹھنل الجواہر (ع) مذکر؛ جواہرات پس کر بنا یا ہوا سرمہ، وہ سرمہ جس میں جواہرات لے ہوں۔
 — کھیل؛ (ع) سرمی، جس کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہو۔

ک - د

— کڈ؛ (ف) گھر، خانہ۔
 — کڈا؛ مذکر؛ گھر والا، دو لہا (دستجا بھی استعمال ہے)۔
 — کڈائی؛ (ف) موٹ؛ نکاح، شادی، عروسی۔
 — کڈ؛ (ع) موٹ؛ (۱) اصرار، ہٹ، ضد، تپ (۲) سعی، کوشش (۳) سختی، تکلیف۔
 — کڈارا؛ مذکر؛ دیک، راگ کی ساگنی کا نام۔
 — کڈال؛ مذکر؛ موٹ؛ زمین کھودنے کا ایک نوک دار اوزار۔
 — کڈالی؛ موٹ؛ چھوٹی کڈال۔

ک - ذ

کدھام: (د) کون، کون سا۔
 کدانا: اچھلانا، اچھلانگ گونا، کسی سے کودنے کا کام لینا۔
 کڈر: مذکر، ذلیل، کینے لوگ۔
 کڈ کرے لگانا: کڈ کے مارنا؛ کودتے پھرنا، اچھلنا، کودنا۔
 خوب کھیلنا کودنا۔

ک - ر

کمر: (د) بہرا۔
 کمر: کمر یا کامر۔

کمیٹنا: (د) کسی امر کو بے سوچے سمجھے اختیار کر لینا، (د) غلطی سے
 چلنے میں کوئی کام کر بیٹھنا۔

کودرنہ کر تو کبھی ڈر کر تو کر نہیں تو خدا کے غضب ڈر:

(مثل) خدا سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کسی بے گناہ

پر کوئی الزام آجائے تو بولتے ہیں)

گذرنا: (د) مندر پر جا رہنا (د) کسی دشوار کام کو کر کے
 چھوڑنا۔

کڈر: (د) مذکر؛ (د) ہاتھ (د) موٹھ؛ معمول، چنگی (د)

مال گزاری، ٹیکس، خراج (د) ڈنڈ، جرمانہ، تاوان۔

باندھنا: (د) ٹیکس لگانا (د) کسی بات کا ہمیشہ کے
 واسطے معمول بنا لینا۔

کتر: کرار، سخت، کڑا۔

کترات: (د) کمر سے کمر، بار بار اکثر، کسی مرتبہ۔

کترار: (د) بار بار جملہ کرنے والا، جھکا دینے والا، حضرت علی کا لقب۔

کترار: مذکر؛ (د) سخت، کڑا (د) مضبوط، ٹکڑا (د) کمر کڑا ہستہ،

(د) دلیر، جری (د) مزیدار۔

کترار: مذکر؛ دریا کا بلند کنارہ، دریا کے کنارے کا ٹیلا۔

سائل۔

کرام: (د) مذکر، بزرگ، معزز، بخت والا، سخی لوگ۔

کرامات: (د) موٹھ؛ (د) جہات، خلافت، عادت کسی ولی

سے ظاہر ہونے (د) کمر شہ، حیرت انگیز بات (د)

عمدگی، خوبی، بڑائی، عظمت (د) بڑی چیز،

سرماہ، دولت۔

کدم: مذکر؛ (د) ایک سایہ دار درخت کا نام (د) ایک قسم
 کی گھاس۔

کدو/کدو: (د) شراب کا پیالہ، شراب کی بوتل یا صراحی (د)
 طنزورہ (د) کدنا (د) کھوپڑی (د) مذکر؛ ایک قسم
 کی تیرکاری۔

دانہ: (د) مذکر؛ (د) پیٹ کا ایک قسم کا کپڑا (د)

ایک سیاری جس میں تمام جسم پر کدو کے بیج جیسی پھنسیاں

بہل آتی ہے۔

ککش: (د) مذکر؛ کدو کھرنے والا آلہ۔

کدوانا: (د) کدانا۔

کدورت: (د) موٹھ؛ (د) گدلا بن، غبار آلود ہونا (د)

دل کا غبار (د) دجانا، ملال، رنجش، کمینہ۔

آنا: دل پر میل آنا، رنج آنا۔

کدوکاوشن: (د) موٹھ؛ کوشش، کھوج، تلاش۔

کدہ: (د) گھر، خانہ (د) مکتبات میں استعمال ہے جیسے آشکدہ

سے کدہ، دولت کدہ۔

کدھر: کہاں، کس طرف۔

آ آیا کدھر گیا: آنے جانے کی کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔

سے: کس جانب سے، کس مقام سے۔

ک - ڈ

کڈھب: بے ڈھب، بے موٹھ۔

کڈھنگ/کڈھنگا: (د) بے ڈھنگا، بدناما، بد اخلاق،

ڈھی۔

کرتہ بللا: رع، موتھ؛ عراق میں ایک جگہ کا نام جہاں حضرت امام حسینؑ نے شہادت پائی (۲) تعزیوں کے دفن کرنے کی جگہ (۳) دکنا یا، وہ مقام جہاں پانی میسٹرنہ ہو (۴) رع، کمی، تھوٹ۔

کرتی: موتھ؛ جواریا باجرے کے اناج نکالے ہوئے پودے جو کاٹ کر مویشیوں کو کھلاتے ہیں۔

کرتیا: (۵) موتھ؛ مہربانی، عنایت، نوازش۔

کرتیان: (۶) موتھ؛ تلوار۔

کرتیز: منکار، بہانے باز۔

کرتیزی: (۷) منکار، بہانے بازی۔

کرتیا: (۸) منکر؛ فیض، پیرا من، وہ فیض جس میں کالر اور کت نہ ہو۔

کرتی: موتھ؛ (۱) بے آستینوں کا اونچا کرتا جسے عورتیں انگلی کے اوپر پہنتی ہیں (۲) فوجی وردی کی جاگٹ۔

کرتا دھرتا: منکر؛ (۱) کرنے والا، پیدا کرنے والا (۲) مالک مختار (۳) خالق (۴) تجربہ کار، واقف کار۔

کرتار: (۵) منکر؛ خالق، پیدا کرنے والا۔

کرتتب: منکر؛ (۱) کام، ہنر (۲) چالاک (۳) شعبہ بازی عجیب و غریب کام۔

دکھانا؛ ہنر دکھانا، کمال دکھانا، شعبہ دکھانا۔

کرتوت: منکر؛ (۱) کام، برے کام (۲) جادو، ٹوناد اکثر جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، (۳) دھنڈل، نام وری یا شہرت کا کام۔

کرتانا: کسی دھار دار چیز کی دھار پٹ جانا۔

کرتجک: منکر؛ کام کرنے کا زمانہ، موجودہ زمانہ۔

کرتوج: موتھ؛ (۱) ایک قسم کی لمبی تلوار (۲) ریزہ، ٹکڑا۔

کرتچیں: ہڈی یا شیشہ یا پستی کے چھوٹے چھوٹے ریزے۔

کرتجھا: منکر؛ لوسہ یا پستیل کا بڑا چھوٹا نمہ برتن جس سے

حقیقی وضعہ داغ کتے ہیں۔

کرتچھی: موتھ؛ کرجھائی تائینٹ، گھی داغ کرنے کا لوسہ یا

پستیل کا برتن۔

کراماتی: کرامت دکھانے والا، صاحب کرتشمہ۔

کرامت: موتھ؛ (۱) بڑائی، بزرگی، عظمت (۲) عنایت، مہربانی

بخشش (۳) دلی کا خرق عاریت کام (۴) تعجب انگیز بات،

کرتشمہ، چشکار (۵) خورد، عمدگی، انوکھاپن۔

کرامت نامہ: بڑے کا خط، عنایت نامہ۔

دکھانا؛ عجیب کا کرنا، کرتشمہ دکھانا، چشکار دکھانا، بزرگی دکھانا۔

کراما کاتبین: (۱) بزرگ کہنے والے (۲) (اصطلاحاً)

وہ دو فرشتے جو انسان کے اچھے اور برے اعمال دیکھتے رہتے ہیں۔

کرتال: (۱) منکر؛ کنارہ، انتہا۔

کرتانا؛ کوئی کام دوسرے سے لینا، کمروانا۔

کرتانا؛ منکر؛ مصاح کی مختلف قسمیں پر چون۔

کرتا پتی کار: (۱) انقلابی۔

کرتا پچی؛ اسباب لادنے کی گاڑی۔

کرتا: (۱) موتھ؛ وہ آواز جو دریا میں کھلیں کے سبب نکلتی ہے۔

کرتاہنا؛ آہ آہ کرنا، درد سے بیتاب ہونا۔

کرتاہمت: رع، موتھ؛ گھمن، نفرت، بے زاری۔

کرتاہت: رع، کراہت سے۔

کرتاہیت دکرتاہیت: رع، دم، موتھ؛ دیکھو کراہت۔

کرتاہیہ: (۱) منکر؛ بھاڑا، کسی چیز کی اجرت۔

پر چلانا؛ بھاڑے پر دینا۔

پر دینا؛ بھاڑے پر دینا۔

چرتھ جانا؛ کراہیہ ادا نہ ہونا۔

دار؛ منکر؛ کرائے کے مکان میں رہنے والا۔

دار آرتنا؛ (۱) کسی مکان میں کراہیہ دار کا آکر رہنا،

(۲) بھاڑا، حاملہ ہونا۔

کرتنا؛ (۱) بھاڑا ٹھہرانا (۲) بھاڑے پر لینا۔

کی گاڑی؛ وہ گاڑی جو کراہیہ پر ملتی ہے۔

لینا؛ کراہیہ وصول کرنا۔

کرتب: رع، منکر؛ دکھ، اضطراب، بے چینی، غم، رنج

درد، درد کی اذیت، ذہنی اذیت۔

کرتبت: رع، موتھ؛ کرتب۔

کا اشارہ، ناز، غمزہ، ادا (۲) انوکھی بات، شعبدہ (۳)۔

نشان، علامت، نمونہ (۴)، چال، حرمت۔

— دکھانا، ناز دکھانا، انوکھی بات ظاہر کرنا، عجیب کام کرنا۔

کرشمی: (۵) موٹا، بھیتی، کاشت، کسان (انگ) (ایگری کلچر)۔

کرشن: کنفیاجی کا نام۔

کرشن لہلا: (۵) موٹا، کرشن جی کے کھیل تماشے۔

کرَفیو CURFEW (انگ) مندر: خانہ بندی کا حکم

یا وقت، حکم امتناع، جو عام طور سے فسادات کے دوران

نافذ کیا جاتا ہے۔

کرزک: (۵) مندر: (۱) کیلکٹ (۲) برج سرطان۔

کرکٹ: مندر: گھاس بھوس، کوڑا۔

کرکٹ CRICKET (انگ) مندر: گیند تلے کا کھیل۔

کرکریر: (۵) موٹا، بریت یا کنکر وغیرہ کا دانت کے نیچے

پسنے کی آواز۔

کرکریرا: مندر: (۱) ریتیل، خاک آمینہ، کھسکا (۲)

دکناٹا، ناقص۔

— پن: (۵) مندر: کرکریرا ہونا، کرکریرا ہونے کی حالت۔

— ہٹ: (۵) موٹا، کرکریرا۔

— کر دینا: (عیش، مزہ، لطف وغیرہ) خراب کر دینا، بگاڑ دینا۔

— کر کررا: مندر: ہختہ، ٹھہرا، کررا۔

کرکریری: موٹا: (۱) خاک ملی ہوئی چیز، کنکر ملی چیز، (۲) ہٹی

ذلت، خواری (۳) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

— خانہ: مندر: گھر کا وہ حصہ جہاں کاٹھ بھاڑ رکھتے ہیں۔

کرکریری: (۱) مروڑ، پیش (۲) گھوڑے کی ایک بیماری

(۳) دیکھو کر کررا۔

— اٹھنا: (۱) پیٹ میں درد ہونا (۲) گھوڑے کا پیشاب

بند ہو جانا، (۳) رحم) شامت آنا۔

کرزگا: مندر: کپڑا بننے کا کارخانہ، کپڑا بننے والوں کے کپڑا

بننے کی جگہ۔

کرزگردن: (۱) مندر: گینٹا، جاحمی کے مانند ایک جانور کا نام

جس کی کھال سے ڈھال بناتے ہیں۔

کرچیل: (۱) موٹا، کرچھا۔

کرخت: (۱) کرٹا، سخت، درخت۔

کرختگی: (۱) موٹا، کرچا، سستی، درختی۔

کرورا: مندر: بنا، کٹوتی، پرائی چیزوں کی بدلائی کے فرق کی رقم۔

کرودار: (۱) مندر: را، طرز، انداز، طور طریق، قاعدہ (۲)

کام، شغل، فعل (۳) چلن، خصلت، عادت۔

کرودگار: (۱) مندر: خدا، خالق، کرتار۔

کرودنی: (۱) کر کے لائق (۲) کرنی، اعمال۔

— خویش آمدنی پیش: (۱) دخل، (۲) اپنا کپانے

ہی آگے آتا ہے (۲) تجربے کام کا تجربہ۔

کرڑوہ: (۱) کیا ہوا، آزمایا ہوا، عمل میں لایا ہوا۔

کرڑوہنی: (۱) عورتوں کی کرکا زبور، ایک قسم کی زنجیر

جیسے سبوں کی کمر میں باندھتے ہیں (۲) لنگوٹ

اٹھانے کا ڈورا۔

کرستان: مندر: (انگ) کرسمس، عیسائی۔

کرسمسین: CHRISTIAN (انگ) مندر: عیسائی مذہب

کا ماننے والا۔

کرسمس: CHRISTMAS (انگ) مندر: (۱) حضرت عیسیٰ کی

پیدائش کا دن، ۲۵ دسمبر (۲) بڑا دن۔

کرسی: موٹا، ایلوں کے چھوٹے چھوٹے مکرے اور چوڑا۔

کرسی: (۱) موٹا، (۲) چوکی، تخت، مسند، کرسی،

ایک خاص وضع کی بیٹھنے کی چیز (۲) آسمانوں آسمان

(۳) حرفوں اور علامتوں کی مناسب ترتیب (۴)

مکان کی سطح (۵) پیڑھی، پلٹ، خاندان (۶) تزیین، درجہ۔

— دینا: (۱) عزت کرنا (۲) عمارت کو سطح زمین سے بلند بنانا۔

— زور: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) موٹا، سورج۔

— کا احمق: کرسمس (جگہ) یہاں کے بوگ احمق کہے جاتے ہیں

— نامہ: مندر: نسب نامہ، خاندانی شجرہ۔

— نشین: (۱) کرسی پر بیٹھنے کے درجہ تک پہنچنے والا، (۲)

عزت اور کامیابی حاصل کرنے والا۔

کرشمہ / کرشمہ / کرشمہ: (۱) مندر: (۱) آنکھ

کزنا: (دفعہ) موزن؛ مجل، نفیری۔
 کزنا: چھری، چاقو وغیرہ کی دھار خراب ہونا، کند ہونا۔
 کزٹ: CURRENT (انگ) مذکر؛ رُو، بہار، دھار۔
 کزنجبا: مذکر؛ نیلی آنکھ والا، مونث؛ کزنجی۔
 کزنجوا: مذکر؛ (انگ) ایک خالی رنگ کا پھل اور اس کا درخت،
 (۲) خالی رنگ (۳) ایک قسم کی آتش بازی۔
 کزند: مذکر؛ ایک قسم کے مسالے سے بنا ہوا پتھر، جو ہتھیار تیز
 کرنے کے کام آتا ہے۔
 کزنی: CURRENCY (انگ) مونث؛ بسکہ راج الوقت۔
 کزنیل: COLONEL (انگ) مذکر؛ فوج کا ایک علا افسر۔
 کزنی: مونث؛ (۱) کام، کزوت، فعل (۲) راج مزدوروں
 کے ایک اوزار کا نام۔
 کزوا: (۱) مذکر؛ مٹی کا ٹوٹی والا برتن، بندھنا پھوٹا گھرا
 کزواتا: کوئی کام درست کرنا، کام ہونا، کام لینا۔
 کزونی: (دفعہ) مذکر؛ مقرب، فرشتہ۔
 کزوبیاں: مذکر؛ مقرب فرشتے۔
 کزوٹ: مونث؛ (۱) پہلو، ایک طرف (۲) جانب، طرف (۳)
 طرح، طور ڈھنگ (۴) رکنائیا، انقلاب۔
 کزوٹ نہ لینا: (رکنائیا) (۱) خبر نہ ہونا، واپس نہ پھرنا، سفر
 سے واپس آنے کا ارادہ نہ کرنا (۲) بے خبر ہونا۔
 کزوٹوں میں رات کاٹنا: بے قراری میں بسر کرنا۔
 کزوٹیں بدلنا: (رکنائیا) بستر پر بے قرار رہنا، بے چینی سے
 بار بار پہلو بدلنا۔
 کزوودھ: (۱) مذکر؛ غصہ، خفگی۔
 کزوودھی: غصہ اور خند مزاج۔
 کزووٹ: سولاکھ (کثرت تعداد ظاہر کرنے کے لیے)
 — پتی، (۱) دولت مند، ساہوکار۔
 — روپے کی بات؛ قیمتی بات، اہم بات۔
 کزووڑوں: بے شمار، کزووڑ کی جمع۔
 کزووفر: (دفعہ) مذکر؛ شام، شان و شوکت، رعب داب۔
 کزووندا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا کھنا پھل اور اس کا درخت (۲)

کزگس: (دفعہ) مذکر؛ گدو۔
 کزیم: (دفعہ) مذکر؛ (۱) ہمت، بہادری، جواں مردی (۲)
 سخاوت، بخشش (۳) (جاننا) عنایت، مہربانی۔
 — بخششی: مونث؛ مہربانی، عنایت۔
 کزیم پرواز گستر: (دفعہ) مہربانی کرنے والا، دوست۔
 — پیشہ: (دفعہ) بہادر، جواں مرد۔
 — فرما: (دفعہ) مہربانی کرنے والا، مہربان۔
 — فرمانا: تشریف لانا، مہربانی کرنا۔
 کزیم: (۱) مذکر؛ قسمت، نصیب، کام، فعل۔
 — بھوگ: مذکر؛ پہلے جنم کے کیے ہوئے کام کا پھل۔
 — پھوٹنا: (۱) تقدیر خوب ہونا، مہرے دن آنا (۲) رکنائیا،
 بیوہ ہونا، بڑی جگہ شادی ہونا۔
 — پھوٹ: بد نصیب۔
 — کی رکھا نہیں مٹی: (دفعہ) تقدیر کا لکھا نہیں مٹتا۔
 کزیموں کو رونا: قسمت کو رونا، افسوس کرنا۔
 کزیمجاری: (۱) مذکر؛ کار پر داز، کارکن۔
 کزیم: مذکر؛ کپڑا۔
 — پیلہ: (دفعہ) مذکر؛ ریشم کا کپڑا۔
 — خور زو: (دفعہ) پرانا، بوسیدہ۔
 — شب افروز/ شب تاب/ شب چراغ: (دفعہ)
 مذکر؛ جگنو۔
 کزیمک: کزیم کی تصغیر۔
 — شب تاب: (دفعہ) مذکر؛ جگنو۔
 کزیم کزیم: مونث؛ کسی کزیمی یا بھر بھری چیز کے چبانے کی آواز۔
 کزیم کلا: مذکر؛ ایک قسم کی تکاری۔
 کزیم کلا: مذکر؛ کانوں کے نیچے کا درم۔
 کزیمی: مذکر؛ ہندوؤں کی ایک ذات۔
 کزیم: کان۔
 — پھول: عورتوں کے کان کا ایک زیور۔
 کزیم: مونث؛ (۱) چاندیا سورج کی شعاع (۲) گونے کا
 ریزہ، سنہارا، جو کپڑوں پر ٹانگے ہیں۔

— کرنا: پرندوں کا پرانے پر جھاڑنا۔
 — کھانا: پرندوں کا پر جھاڑنے وقت پر وارزہ کرنا۔
 — میں آنا: پرندوں کا پر جھاڑنے لگنا۔
 کر نیلا: مذکر؛ ایک قسم کی کڑوی ترکاری، ایک قسم کا آم جو کر لیے کی شکل کا ہوتا ہے۔
 کریم: (ع) (۱) مہربان، بخشنے والا، بزرگ، سخی، (۲) خدا کا ایک صفاتی نام (۳) جوان مرد، بامروت۔
 — النفس: (ع) نیک دل، نیک مزاج، مہربان۔
 کریمی: موٹ، نیا ضی، مہربانی، بزرگی۔
 کریم: CREAM (انگ) موٹ؛ (۱) بالائی، ملائی (۲) چہرے پر لگانے والی ایک قسم کی چینی چیز۔
 کرین: CRANE (انگ) مذکر؛ ذرنی اشیاء اٹھانے والی ایک مشین، جڑ تھیل۔
 کریم پتہ: (ع) مکروہ، بُرا، گھناؤنا۔
 — الصوت: (ع) سننے میں بُرا، بُری آواز۔
 — منظر: بد صورت، بد نما۔

ک - ط

کرط: مذکر؛ کپڑے کا محفت، گرم۔
 — کھایا: (۱) کپڑوں کا کھایا ہوا، گرم خوردہ، بوسیدہ، پُرانا، (۲) حقارت، چمک رو، سیتلا، منہ دار۔
 کرا: مذکر؛ (۱) سخت گیر، بے رحم (۲) تند تیز، (۳) کٹھن، توشوار، مشکل (۴) گنڈا، سکھوں کے پہننے کا لوہے کا حلقہ، چھلا (۵) ایک قسم کا مورتوں کے پانچ کا زیور۔
 (۶) لداؤ کی عمارت، گول ڈھٹ۔
 — پکن: مذکر؛ (۱) سختی، مضبوطی، کراپن، تند تیزی، تیز مزاجی (۲) دلیری، شجاعت۔
 — تاوہ: دکنایتا، غصے کی انتہا۔
 — کرنا: (۱) سخت کرنا (۲) بجاؤ چڑھانا (۳) مضبوط کرنا۔
 — دس چپت کرنا: کسنا (۵) ہمت بڑھانا، دلیر کرنا۔
 — کوس: دو میل سے کچھ زیادہ فاصلہ۔

دکنایتا: کان کے پاس کی گلی۔
 کڑوی: (ع) گول، لٹاڑہ نما، کمرہ کی شکل کا۔
 کڑوہ: (ع) مذکر؛ گول چیز، گولا۔
 کڑوہ ارض / زمین: (ع) مذکر؛ زمین کا گولا، تمام زمین جو گیند کی شکل پر ہے۔
 کڑوہ باد / ہوا: ہوا کا حصہ جو زمین کے چاروں طرف ایک مخصوص بلندی تک ہے۔
 کڑوہ: (ع) کراہت سے، ناگواری سے (آرٹو میں طوفا کرنا کی ترکیب کے ساتھ مستعمل ہے)۔
 کڑوسی: موٹ، کڑ کڑی، خستہ۔
 کربیا: (ع) موٹ؛ (۱) تجزیہ و تکفین (۲) مذہبی رسوم (۳) قسم، خلعت۔
 — بگاڑنا: مٹی پلید کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔
 — کرم کرنا: مرد سے کی مذہبی رسوم ادا کرنا، مرد سے کے جلانے اور کھنڈنے کی رسمیں ادا کرنا۔
 — کھانا، قسم کھانا۔
 کڑیاں: موٹ؛ (۱) پرندوں کا خوش ہو کر اپنے پرول کو کھانا۔ (۲) دم، اسن، آرام، بے فکری۔
 — میں آنا: پرندوں کا خوش ہو کر پھر پھڑپھڑانا، خوش ہونا۔
 — میں غلہ لگنا: مین مزے میں کھنڈت ہونا، رنگ میں بھنگ ڈالنا۔
 کرپ: (انگ) مذکر؛ ایک قسم کا کپڑا۔
 کرٹیت: موٹ؛ (ع) بُری رسم، بُرا دستور۔
 کرٹیل: موٹ؛ کھوج، چھان بین، تلاش، جستجو۔
 کریدنا: (۱) کھرنہ، خالی کرنا، کھالنا (۲) خلال کرنا (۳) آگ کو تیلے اور پر کرنا۔
 کریدنی: موٹ؛ (۱) کھرنے کا آلہ (۲) خلال (۳) کان کھانے کا آلہ (۴) کھٹکا، خالش۔
 کرپیڈٹ: (انگ) مذکر؛ (۱) ساکھ، بھروسا اعتبار (۲) ادھار، قرض۔
 کرین: (ع) موٹ؛ پرانے پرول کا کرنا۔

کڑکیت : مذکر، (۱) بادشاہ کی سواری کے آگے آواز لگانے والا نقیب (۲) میدان جنگ میں آواز لگانے والا۔
 کڑنگا : مذکر، (۱) سخت گو، سخت کلام (۲) طاقت ور، مضبوط، توانا۔
 کڑوا : مذکر، (۱) تلخ، بد مزہ، ناگوار (۲) تیز تند (۳) جھلا (۴) بد مزاج، تندخو (۵) خفا، ناخوش۔
 پین : مذکر، تلخی، بد مزاجی، تیزی، تندی۔
 پیل : چالاک، پھرتیلا، تیر چلنے والا۔
 تیل : مذکر، سرسوں کا تیل۔
 زہر : بہت کڑوا۔
 کرلیلا : درجائز، نہایت بد مزاج۔
 کرلیلا نیم چڑھا : (دش) وہ بد مزاج جو کسی وجہ سے زیادہ بد مزاج ہو جائے۔
 کیلا : تلخ اور ناگوار۔
 نا : کڑوا ہونا۔
 ہٹ : موٹ، تلخی، تیزی۔
 ہوتا : (۱) تلخ ہونا (۲) (کنائیا) نالامض ہونا، رنجیدہ ہونا۔
 کڑوی : موٹ، تلخ، تیز، ناگوار۔
 بات : ناگوار بات، تلخ بات۔
 روٹی / پھڑٹی : وہ کھانا جو مرنے کے گھروالوں کو دوسرے عزیز کم سے کم ایک دن اور زیادہ سے زیادہ تین دن تک بھیجتے ہیں۔
 بنگا : غصے والی نگاہ۔
 کڑوے کیلے دن : مذکر، سختی کے دن، مصیبت کے دن۔
 گھونٹ : ناگواریات، کٹھن کام۔
 کڑھی : موٹ، (۱) کڑا کی تانیٹ (۲) سخت (۳) تہمتیر یا دھتی (۴) کندھی (۵) ہندی نظم کا ایک ٹکڑا، انتر۔
 آنکھ : غصہ کی نظر۔
 آٹھانا : سستی برداشت کرنا۔
 چوٹ : سخت صدمہ۔
 کابلوتا : شہتیر کا چھتا، بدشگونی کی علامت۔

لگانا : لداو کا مکان بنانا، لداو ڈالنا۔
 مہونا : (۱) سخت ہونا، کٹھن ہونا (۲) گراں ہونا، بھاؤ تیز ہونا (۳) تند مزاج ہونا۔
 کڑا کا : مذکر، (۱) کسی سخت چیز کے ٹوٹنے کی آواز (۲) دھماکے کی آواز (۳) سختی، شدت، فاقہ۔
 کڑا گزرا : فاقہ ہونا، بھوکا رہنا۔
 کڑا ہی : موٹ، ایک پھیلے ہوئے آہنی برتن کا نام جس میں پکوان ملتے ہیں۔
 کڑک : موٹ، (۱) کسی چیز کے ٹوٹنے یا چٹنے کی آواز (۲) بکلی کی آواز (۳) سخت اور بھانک آواز (۴) گھوڑے کی تیز چال (۵) مکان کے کھینچنے کی آواز۔
 بانگھا : مذکر، (دہلی) وہ بانگھا جو ان جس کی آواز سے لوگ ڈر جائیں۔ کڑیل جوان، بانگھا ترچھا جوان۔
 بکلی : موٹ، (۱) توڑے دار بندوق (۲) توپ (۳) کنائیا، زعب داب کی عورت۔
 فوڑنا : (دہلی) سر پٹ جانا، پویر جانا۔
 کڑکنا : گرجنا، غصے سے چیخنا۔
 کڑک : موٹ، وہ مرضی جو اٹھے دینا بند کر دے۔
 کڑکا : مذکر، (۱) کڑا کا، بکلی کا شور (۲) آواز (۳) رجز، میدان جنگ میں بہت بڑھانے والے گیت (۴) زور سے بولنا۔
 کڑکڑ : موٹ، (۱) کسی سخت چیز کے چبانے کی آواز (۲) کسی سخت چیز کے ٹوٹنے کی آواز (۳) انگلیوں کے چٹنے کی آواز۔
 کڑکڑ : موٹ، (۱) دانتوں کے رگڑنے کی آواز۔
 کڑکڑ : (۱) موٹ، (۲) مرضیوں کے مہکلنے کی آواز۔
 کڑکڑا : مذکر، سخت، کڑوا، مضبوط۔
 تا : (دجاڑے کے لیے) شدت کا۔
 نا : (۱) ٹھی یا تیل کے گرم کرنے سے آواز کھلنا (۲) بگھانا۔
 کڑکڑانا : (دہلی) دیتے وقت مرضی کا بولنا (۲) (کنائیا) بڑبڑانا۔
 مہلا کھنا، دہلی زبان سے عورت یا سحر کرنا۔
 کڑک ناتھ : (۱) مذکر، ایک قسم کا پاؤ بڑا سیاہ مرنٹ۔

— بلی: مذکر؛ دم خم، زور و طاقت، قوت۔
 — بھڑا، مذکر؛ پتیل وغیرہ کے برتن بنانے والا۔
 کس: (۱) سوالیہ لفظ، کون شخص، کون چیز (۲) استعجاب کے لیے
 — بات پر پھولا ہے: کس گھنڈ میں ہے، کس برتنے پر
 انرا تا ہے، کس وہم و خیال میں ہے۔
 کس برتنے پر بنتا پانی؛ کس بات پر شیخی مارتے ہو۔
 — بلا کا ہے: کس غضب کا ہے (تعریف کے موقع پر بولتے ہیں)
 — بلا کو پیچھے لگا دیا: کیسے عذاب میں پھنس گئے، کیسے
 خندی اور شہریر سے پالا پڑا ہے۔
 — پر پھولے ہو: کس کی حمایت پر مغرور ہو، کس بات
 پر مغرور ہو۔
 — پیر گئے: کس کی شہادت اختیار کی۔
 — جانور کا نام ہے: بے حقیقت چیز ہے۔
 — جو بن سے: کس شان سے۔
 — چچی کا پسیا کھایا ہے: کسی موٹے آدمی پر کیا
 جانے والا طنز۔
 — حساب میں ہے: کون پوچھتا ہے، کس گنتی میں ہو؟
 — خدا نے بتایا / کہا: بے وقوفی کی بات پر کیا جانے
 والا طنز۔
 — خیال میں ہے: کیا سوچتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا۔
 — دل سے: کس پر تنے پر، کس ہمت سے؟
 — دن: کب؟
 — دن کے لیے اٹھا رکھا ہے: کب کے لیے ملتوی کیا
 ہے، ابھی کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں کہتے؟
 — زبان سے: کس طرح؟
 — زمان سے بیان ہو: زبان بہان کرنے سے قاصر ہے۔
 — زبان سے شکر ادا ہو: زبان شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔
 — شمار میں ہے: کس گنتی میں ہے، کچھ قدر و منزلت نہیں ہے؟
 — طرح: کیوں کر، کس وجہ سے۔
 — طرح کا: کیسا، کس رنگ ڈھنگ کا کس درجے کا؟
 — قدر: (۱) کتنا (۲) حد سے زیادہ۔

— کمان: سخت کمان۔
 — کمان کا تیر: دکھانا، نہایت تیز رفتار۔
 — گات: سخت سینہ۔
 — کڑھی: موٹھ؛ مرنی ہنکانے کی آواز۔
 — کڑیل: مذکر؛ (۱) آگ کا بڑا ٹھیکرا (۲) سخت طاقتور۔
 — جوان: مذکر؛ قد آور جوان، گبر و طاقت و رجوان۔
 — کڑھانا: دل دکھانا، ناراض کرنا۔
 — کڑھن: موٹھ؛ کڑھاپا۔
 — کڑھنا: افسوس کرنا (۲) ہمدردی کرنا۔
 — کڑھنا: زردوزی ہونا، کشیدہ ہونا۔
 — کڑھاؤ: مذکر؛ بڑی کڑاہی۔
 — کڑھوائی: کڑھنے کی اجرت۔
 — کڑھی: موٹھ؛ ایک قسم کا سالن جو بین اور دہی سے
 بناتے ہیں۔
 — کاسا ابال: (مجازاً) جلد ختم ہونے والا غصہ، جلد ٹوٹ
 جانے والا حوصلہ۔

ک۔ ت

— کتر دم: (د) مذکر؛ بچھو۔
 — کتر مشر زبان: (د) توٹلا، کج کج زبان۔

ک۔ س

— کس: (د) مذکر؛ آدمی، شخص، کوئی۔
 — کسیر سی: موٹھ؛ بے کسی، بے سہارا، بے بسی۔
 — کس نبی پیرند کہ سبھا کون ہو۔ ڈھائی ہو یا تین ہو یا پون ہو:
 (مقل) کوئی کسی کا ہمدرد، نہیں، کوئی کسی کے درد کو
 نہیں سمجھتا، عام طور سے پہلا مصرع استعمال ہوتا ہے۔
 — کس و نا کس: مذکر؛ ادنا و اعلا، خاص و عام۔
 — کس: مذکر؛ (۱) طاقت، بل، زور (۲) امتحان، آزمائش،
 (۳) پاشنی، تاؤ (۴) مضبوطی، اصلیت، حقیقت
 (۵) کساؤ کا مختلف۔

— کرنا / کرمانا: بدکاری سے کمانا، پیشہ کرنا، کوٹھے پر بیٹھنا۔
 کسبئی: (رع ہوت) مذکر؛ (۱) پیشہ، ور، دست کار،
 کاری گھر، اپنی کوشش سے حاصل کیا ہوا کمال،
 (۲) موٹھ؛ (مجازاً) رنڈی، فاحشہ، بازاری
 عورت، بہار عورت۔

کسبیت: موٹھ؛ (۱) نالی کی بیٹی، وہ چڑے کا تھیلا جس
 میں نالی اپنے اوزار رکھتے ہیں (۲) وہ چڑے کا ٹھکڑا جو
 ستے اپنے بائیں کولھے پر حفاظت کے خیال سے
 باندھتے ہیں۔

کٹھورا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا ہرن بس کی ناف سے
 مشک نکلتا ہے (۲) ایک قسم کا خوش آواز گانے والا
 پرندہ۔

کٹھوری: موٹھ؛ (۱) مشک، کٹھورا ہرن کی ناف سے
 نکلنے والی خوشبودار چیز۔
 کٹھوم: CUSTOM (انگ) مذکر؛ (۱) رسم و رواج،
 دستور (۲) معمول، چنگی۔

ہاؤس: HOUR (انگ) مذکر؛ چنگی، گھر۔
 کٹھوم: CUSTOMER (انگ) مذکر؛ گاہک، خریدار۔
 کٹھورین: CUSTODIAN (انگ) مذکر؛ محافظ، نگراں،
 رکھوالا۔

کٹسر: (رع) مذکر؛ (۱) موٹھ؛ (۱) توڑنا، شکستگی (۲) زیری
 حرکت (۳) ٹھکڑا، حصہ، کمی (۴) موٹھ؛ علم حساب میں اکائی
 کا ایک حصہ یا کسی حصے، جمع) کٹسور، کٹسرات۔
 — آعشاریہ (اضافات کے ساتھ) وہ کسر جو دس کا کوئی حصہ
 ہے اس کی علامت (ع) ہے۔

— نشان: (اضافات کے ساتھ) (رع) موٹھ؛ وہ بات
 جس سے آدمی کی عزت آدمیوں میں فرق آئے۔
 — عام: (اضافات کے ساتھ) وہ کسر جو آعشاریہ کی
 پابند نہ ہو۔

— غیر واجب: (اضافات کے ساتھ) موٹھ؛ وہ کسب
 کا شمار کنندہ، نسب نما سے بڑا یا برابر ہو، جیسے

کام کار کی: نکتا، بے کار، بے فائدہ۔

— کاٹھڑے: کیسے طاقت ہے، کس کی ہمت ہے؟

— کھیت کی ٹولی ہے؛ بے حقیقت ہے، بے قدر ہے۔

— کی بنی روٹی ہے؛ کون ہمیشہ ترقی پر رہا ہے۔

— کس کی سنتا ہے؛ کسی کی بات نہیں مانتا، ضدی۔

— موٹھ سے؛ کس طرح، کس برتنے پر۔

— وقت: کب؟

کسا: (۱) تنا ہوا، چنسا ہوا، تنگ، سخت، چست، (۲)
 وزن میں کم۔

— جانا؛ کسی بد فلتی برتن میں رکھے کھانے کا خراب ہو جانا۔

— کسایا؛ تیار، گاڑی میں جٹا ہوا گھوڑا۔

— مسی: (رع) موٹھ؛ تکلیف، پریشانی۔

— کستا؛ مذکر؛ کڈال، پھاوڑا۔

کساو: (رع) موٹھ؛ چیزوں کا نہ بننا، بے رونقی، بے رواجی۔

— بازاری: (رع) موٹھ؛ بکری نہ ہونا، بازار مندا ہونا۔

کساللا؛ مذکر؛ (رع) (۱) سختی، تکلیف، رنج، محنت،

فاقہ (۲) ہستی، کاپی، کسل۔

کسالت: (رع) موٹھ؛ کابل ہونا، ہستی، الکی۔

کسان: مذکر؛ کاشت کار، کھیتی باڑی کرنے والا۔

کسانا، (۱) کھرے کھوٹے سونے کو پھکھواتا (۲) تلوار کو

موڑ کر اس کا کس دیکھنا (۳) دو بیروں کو لڑوا کر

ان کی آزمائش کرنا، (۴) کسی انسان کو ڈھاریا

میں آزمانا۔

کساو، مذکر؛ (۱) تناو، کساوٹ، کھاوٹ (۲) تنگی،

چستی (۳) بدمزگی، کبیلان، تانے پیل کے برتن

میں کسی چیز سے پیدا ہونے والا اثر۔

کساوٹ؛ موٹھ؛ (۱) کساو، تناو، کھاوٹ چستی،

(۲) کمر باندھنے کا انداز۔

کسب: (رع) مذکر؛ (۱) حاصل کرنا، پیدا کرنا، کمانا (۲)

ہنر، پیشہ (۳) وہ کمائی جو عورت بدکاری سے

حاصل کرے۔

کَسَلُ : (ر) مذکر؛ اَلکسی سستی، کاہلی، بھگان۔

مُفَد : (و) سست، ناساز۔
کَسْم : مذکر؛ ایک قسم کا پھول جس سے لال کپڑے رنگے جاتے ہیں۔

کَسْمَانَا : (ا) بل کھانا، پہلو بدنا، ہٹنا (۲) گھبرانا، بے قرار ہونا، اکتانا، تنگ ہونا، بے چین ہونا (۳) قابو سے بچنے کی کوشش کرنا۔

کَسْمَاہِٹ : موٹھ؛ گھبراہٹ، بے کلی، بے چینی، بے آرامی۔

کَسْنَا : (۱) کھینچنا، تانا، جکڑنا، باندھنا (۲) دکتا، تاننا، تلوار کو موڑ کر اس کی آزمائش کرنا (۳) سونے چاندی کا کھرا کھونا پرکھنا، کسوٹی پر لگانا (۴) انسان کو مشکلوں میں آزمانا (۵) بیٹروں کو آزمانے کے لیے نظرانا (۶) بندوق بھرنا، (۷) دباننا (۸) قیمت چڑھانا (۹) کم توان (۱۰) گھوڑے کی پیٹھ پر زین باندھنا (۱۱) مذکر؛ پٹاری کا غلاف (۱۲) بستر بند (۱۳) پنگ کسے کی ڈوری اگھری باندھنے کا پٹرا (۱۴) خاصداں کا غلاف۔

کَسْوَانَا : بددعا، بددعا لینا، بددعا لینا۔

کَسْوَت : (ر) موٹھ؛ (ا) لباس، پوشاک (۲) کسبت۔

کَسْوُٹ : موٹھ؛ (۱) سونے کو پرکھنے والا پتھر (۲) دجارجا جانچ، پرکھ، آزمائش، امتحان۔

پرچڑھانا / کَسْنَا لگانا : (۱) سونے چاندی کو کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا (۲) جانچنا، پرکھنا، آزمانا، امتحان کرنا۔

پرچڑھنا : جانچ میں کھرتا بت ہونا۔

کَسْوَف : (ر) مذکر؛ سورج گم ہین۔

کَسْی : (ا) کوئی چیز، کوئی آدمی، کوئی بات، کوئی ایک (۲) وہ شخص جس کا علم نہ ہو۔ فلاں۔

پہلو؛ کسی طرح۔

طرح باہر نہ ہونا؛ مکتل فیراں بردار ہونا۔

عنوان؛ کسی پہلو، کسی طور، کسی طرح۔

قابل نہ رکھنا؛ بے کار کر دینا، رُسوا کر دینا۔

قدر؛ (ا) ذرا، (۲) گنتا ہی۔

($\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{11}$)

مَرکَب : (ا) اضافت کے ساتھ، موٹھ؛ وہ کسر جس میں ایک مذد صبیح اور کسر ہو، جیسے $\frac{2}{3}$ ۔

مُضَاف : (ا) اضافت کے ساتھ، موٹھ؛ وہ کسر جس میں کسر کی کسر ہو جیسے $\frac{5}{11}$ کا $\frac{2}{3}$ ۔

کَسْرُفَسْی : (ا) اضافت کے ساتھ، موٹھ؛ اَلکساری، اَلکساری، اَلکساری کا واجب؛ اضافت کے ساتھ، موٹھ؛ وہ کسر جس کا شمار کنندہ نسب نامہ سے چھوڑا ہو جیسے $\frac{2}{3}$ ۔

کَسْر : موٹھ؛ (۱) کمی، خامی، نقص، عیب (۲) بد معنی، (۳) بیٹ کا غفل (۴) نقصان، گھانا۔

اُمُتْحَار کھنا : دقیقہ اُمُتْحَار کھنا، کمی باقی رکھنا۔

باقی نہ رکھنا؛ دعویٰ کوئی بات باقی نہ چھوڑنا، ذرا کوتاہی نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔

پڑنا؛ کمی پڑنا۔

رہ جانا؛ کمی رہ جانا۔

کرنا؛ کمی کرنا، کوتاہی کرنا، کافی نہ ہونا۔

نکالتا؛ بدل لینا، کمی پوری کرنا۔

کَسْرُی / کَسْرُی : نوشیروان عادل، قدیم ایرانی بادشاہوں کا لقب۔

کَسْرُہ : (ر) مذکر؛ زیر، زیر کی حرکت۔

کَسْرُت : موٹھ؛ (۱) درزش (۲) شش، مہارت۔

کَسْرُتِی : (۱) درزش کیا ہوا (۲) کسرت کرنے والا۔

کَسْک : موٹھ؛ (۱) کھٹک، ٹیس، کم کم درد (۲) دکھ، درد، تکلیف۔

آنا؛ جھٹکا لگنا، صدمہ پہنچنا۔

اُمُتْحُنَا : ٹیس ہونا۔

مُتْحَانَا : (۱) دکھ دور کرنا، غم مٹانا (۲) نفسانی خواہش پوری کرنا۔

کَسْکُنَا : درد کرنا، ٹیس اُمُتْحُنَا، کم کم درد ہونا۔

کَسْکُٹ : مذکر؛ کسی قسم کی ملی ہوئی دھات، کاسی۔

کَسْکُر : مذکر؛ کھار، مٹی کے برتن بنانے والا۔

ک-ش

کش : (ف) (۱) کشیدن کا امر، برداشت کرنے والا دیکھئے
 محنت کش (۲) مذکر، حقہ کا گھڑنٹ، دم۔
 ککش : (ف) موت؛ (۱) کھینچا تانی، کش کش، لڑائی
 جھگڑا (۲) الجھن، دقت، دشواری، تکرار، محضہ (۳) بھیڑ
 جس میں سے نکلنا مشکل ہو۔
 کش : (ف) کشتن کا امر، مار ڈالنے والا۔
 کشا : (ف) مذکر، کھولنے والا، فراخ کرنے والا (مکھیاں مستعمل ہے)
 کشاد : (۱) کھلا ہوا (۲) خوشی (۳) فتح۔
 کار : مذکر، مطلب حاصل ہونا، کامیابی۔
 گی : (ف) موت؛ فراخی، وسعت۔
 کشادہ پیشانی : (ف) (۱) چوڑی اور کھلی ہوئی پیشانی والا
 (۲) دکھنا، ہنس کھ، خوش اخلاق۔
 دل : (ف) دکھنا، سخی، فیاض، صاف دل۔
 کشاف : (ف) ظاہر کرنے والا، کھولنے والا، پردہ اٹھانے والا۔
 کشا کش : (ف) موت؛ (۱) کھینچا جھٹی، کھینچا تانی، ناخوشی
 (۲) بھیڑ، دھکم، دھکا (۳) تکلیف، الجھن،
 پریشانی، آن بن (۴) جھڑپ۔
 کشاں : (ف) کھینچنے ہوئے، کھینچنے والا۔
 کشاں : زبردستی کھینچنے ہوئے، جلد جلد تیزی سے چلنا۔
 کشایش : (ف) موت؛ چوڑائی، وسعت، فراخی، کشادگی۔
 کشت : (ف) موت؛ (۱) کھیتی، زراعت (۲) شطرنج
 کے بادشاہ کا ایسے خانے میں ہونا کہ اگر اس جگہ دوسرا
 مہرہ ہوتا تو مارا جاتا ہوتا۔
 زرار : (۱) اضافت کے ساتھ، موت؛ کھیتی، زراعت۔
 کشت : (ف) مذکر، قتل، قتل، قتل، قتل (تہا مستعمل نہیں)
 کش و خول : (ف) مذکر، خوب زری۔
 کشم کشم : مذکر، کشتی لڑنا، کھم کھم ہونا، لپٹ پڑنا۔
 کشم کشم : گردون مارنے کے قابل۔
 کشتہ : (ف) (۱) قتل کیا ہوا، مقتول (۲) دکھنا، ستایا

کاش : (ف) دکھنا، دکھنا، کسی کا محتاج نہیں
 دست بچھ نہیں۔
 کاش : (ف) نہیں جانا، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔
 کاش : (ف) کسی کا کیا جا رہا ہے۔
 کاش : (ف) کسی کا گھر تلے کوئی تاپے : (مشل) کسی کی تکلیف پر کوئی
 خوش ہو۔
 کاش : (ف) کسی کا ہاتھ : (مشل) بذر بانی کا نتیجہ
 مار کھانا ہے۔
 کاش : (ف) کسی سے وابستہ ہو جانا۔
 کاش : (ف) کسی کا ساتھ دینا۔
 کاش : (ف) کسی کا نہیں، نکتا، بے کار، بے فائدہ۔
 کاش : (ف) کسی پہلو، کسی طرح۔
 کاش : (ف) آگ میں پڑنا، دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا۔
 کاش : (ف) آئی مجھ کو آجائے : دوسرے کی موت مجھ کو
 آجائے (ایک قسم کی عورتوں کی بد دعا)۔
 کاش : (ف) نہیں سننا، کسی کی بات نہیں ماننا، بے پروا ہونا۔
 کاش : (ف) لینے دینے میں نہ ہونا، کسی سے کوئی سروکار نہ رکھنا۔
 کاش : (ف) کوئی آدمی، کوئی شخص۔
 کاش : (ف) کوئی بھی سو، کوئی کیوں نہ ہو۔
 کاش : (ف) سوالیہ لفظ، کس کو؟ کس شخص کو؟
 کاش : (ف) گنیسا جانا : (دہلی) تاجے پیل کے بد قلی برتن میں کسی چیز کا منہ
 بدل جانا، کھیلا ہونا، کساد آ جانا۔
 کاش : (ف) مذکر، کاشے تاجے پیل کے برتن بنانے اور بچنے والا۔
 کاش : (ف) چیز چھانے والی گھاس۔
 کاش : (ف) مذکر، ایک قسم کی گھاس جس کی جڑ کھائی جاتی ہے۔
 کاش : (ف) مذکر، ایک قسم کی پھوکی جولو ہے اور کھٹکتی ہے
 کاش : (ف) مذکر، کساد دار، کڑوا، جس کی کڑواہٹ
 زبان اور طبع کو کپٹ لے۔
 کاش : (ف) مذکر، مضبوط، مستحکم۔

وہ درجہ جس میں غیب کے اسرار کھل جاتے ہیں۔
 — قبور: (اضافت کے ساتھ) (تصوف کی اصطلاح) وہ مرتبہ جس میں مردوں کے قبر کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔

— وکر امارت: موت؛ انوکھی بات، کمرشمہ، خرق عادت۔
 کُش کُول: (دفع) مذکر؛ (۱) بھیک کا پیالہ، کمنڈل، کاسہ گدائی (۲) (مجازاً) وہ کتاب جس میں مختلف قسم کے متغیب مضامین یا چیدہ اشعار ہوں۔ نوٹ بک۔

کُشَل مُنْکَل: (۸) مذکر؛ خیر ومانیت۔
 کُشَمِش: (موت) (دفع) چھوٹے قسم کے سڑکے انگور۔

— میں تنکا ہونا: (دفع) (رکنا یا) کوئی شخص ایسا نہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کشش ایسی نہیں جس میں تنکا نہ ہو۔
 کُشَمِشِی: (دفع) کشش کے رنگ کا۔

کُشَمِیر: (دفع) ہندوستان کی ایک خوبصورت خنکادی اور مشہور پہاڑی ریاست۔

کُشَمِیرا: مذکر؛ ایک قسم کا پٹینڈ جو کشمیر سے آتا ہے۔
 کُشَمِیرِی: (دفع) کشمیر کا، کشمیر کا باشندہ (موت) کشمیر کی زبان۔
 کُشَمِین: CUSHION (انگ) مذکر؛ گدا، بکیہ۔

کُشَمِینِز: مذکر؛ ڈھنیا۔
 کُشَوْد: (دفع) موت؛ (۱) کھلنا، فائدہ، کامیابی (۲) پھیلاؤ۔
 کار، کام پورا کرنا، مطلب حاصل ہونا۔

— ولسبت: (دفع) (۱) کھلنا، بند ہونا (۲) دکنا یا انتظام۔
 کُشَوْر: (دفع) ملک، ولایت، اقلیم۔

— سَتان: (دفع) ملک فتح کرنے والا، بادشاہ۔
 سَتانی: (دفع) ملک فتح کرنا، ملک گیری۔
 کُشَا/گِیر: (دفع) بادشاہ، ملک کا مالک۔

کُشَید: (دفع) موت؛ عرق نکلنا۔
 کُی: (دفع) موت؛ (۱) کھپنا (۲) ملال، رکاوٹ، تاراج

کُشَیدہ: (دفع) (۱) کھپنا ہوا، کھپنا ہوا، برداشت کیا ہوا (۲) رنجیدہ، ملول (۳) مذکر؛ سوئی تانگے سے کاڑھا ہوا، زردوزی کا کام، گلکاری کا کام (۴) لمبا، بلند، دراز۔
 خاطر: (دفع) رنجیدہ دل، آزرده، ناراض۔

ہوا (۳) عاشق، آرزو مند (۴) مذکر؛ لاش (۵) پھکی ہوئی دھات (جیسے کشتہ فولاد)

— رُحبت: (اضافت کے ساتھ) (رکنا یا) عاشق۔
 کُشَتوں کے پستے لگ جانا؛ (رکنا یا) لاشوں کے ڈھیر لگ جانا۔
 کُشَتِی: (دفع) موت؛ (۱) ناو (۲) شراب پیچکی ایک قسم کی کُشَتِی سیالی (۳) سینی (۴) ٹریس (۵) بھیک مانگنے کا پیالہ۔
 کُشَتِی بان: (دفع) مذکر؛ ملاح۔

کُشَتِی: (دفع) موت؛ زور آرائی، دو پہلوئیوں کا مقابلہ۔
 باز: (دفع) مذکر؛ کُشَتِی بڑھنے والا، پہلوان۔

— پڑنا: اتفاقاً کُشَتِی ہو جانا۔
 ڈولانا: (دفع) کُشَتِی کی مشق کے واسطے شاگرد کو بچھاڑ دینا۔

— مارنا: بچھاڑ دینا، چک دینا۔
 کُشُٹ: (۸) مذکر؛ تکلیف۔

کُشُش: (دفع) موت؛ (۱) کھنڈاؤ، کھینے کی قوت، جذب (۲) دل رُبائی (۳) سیل، رغبت، رُحمان (۴) حرفوں کی کشش (۵) (رکنا یا) سختی، تکلیف (۶) اُن بن۔

— اتصال: (اضافت کے ساتھ) (دفع) موت؛ رسانیسی (اصطلاح) جسموں کے قریبی اجزا کو آپس میں ملا کر رکھنے کی قوت۔

— ثَقَل: (اضافت کے ساتھ) (دفع) موت؛ رسانیسی (اصطلاح) اپنے مرکز کے جانب کھینچنے والی قوت۔

— زمین: (اضافت کے ساتھ) (دفع) موت؛ رسانیسی (اصطلاح) ہر ایک چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچنے والی زمین کی قوت۔

— کُہر بانی: (اضافت کے ساتھ) (دفع) موت؛ ہلکی ہلکی چیزوں کو اپنے جانب کھینچنے والی کُہر بانی قوت۔

— کیمیائی: (اضافت کے ساتھ) (دفع) موت؛ رسانیسی (اصطلاح) دو مختلف چیزوں کے ملنے سے ایک نئی چیز بننے کی قوت۔

— مقناطیسی: (اضافت کے ساتھ) (دفع) موت؛ جبک پتھر کی وہ قوت جس کے ذریعہ سے وہ لوہے اور پارے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

— کُشُف: (دفع) مذکر؛ (۱) ظاہر کرنا، کھولنا (۲) (تصوف کی اصطلاح)

— **مَر جَان** : (د) (اضافت کے ساتھ) موت؛ مَر جَان کی شائیں جو نیچے کی شکل کی ہوتی ہیں۔
کفار : مذکر؛ جمع کافر کی، انکار کرنے والے۔
کفارہ : (ع) مذکر؛ (ا) گناہ و عورنیہ والا (۲) (اصطلاح) خطایا گناہ کا بدلہ۔

کفایت : (ع) مذکر؛ (ا) اندازہ (۲) روزمرہ کا خرچ، روٹی کپڑا، روزینہ (۳) وظیفہ۔
کفالت : (ع) موت؛ ضمانت، ذمہ داری، بار اٹھانا۔
 — نامہ : مذکر؛ ضمانت کی دستاویز۔

کفایت : (ع) موت؛ (ا) کافی ہونا، کثرت، نفع (۲) بچت کی، صرف۔
 — **شعار** : کم خرچ کرنے والا، جبرس۔
 — **شعاری** : کم خرچ، جبرسی۔

کفر : (ع) مذکر؛ (ا) خدا کا انکار، خدا کی ناشکری (۲) مجازاً، ضد، ہٹ۔
 — **بکنا** : بے دینی کی باتیں کرنا۔

— **توڑنا** : (مجازاً) ضد توڑنا، ہٹ توڑنا، کوئی بات کسی کو مشکل سے منوانا۔

کفرستان : (د) مذکر؛ کافروں کا ملک۔
کفر کا فتویٰ دینا : کسی کو لومہ یا کافر قرار دینا۔
 — **کاکلمہ بولنا** : منہ سے نکالنا، خدا کی شان میں گستاخی کرنا۔

کفران : (ع) مذکر؛ ناشکری۔
 — **نعمت** : (اضافت کے ساتھ) (د) مذکر؛ نعمت کی ناشکری، احسان فراموشی۔

کفش : (د) موت؛ جوئی، نعل، دار جوئی، نعلین۔
 — **بردار** : (د) (ا) جویتیاں اٹھانے والا (۲) ادنام ترین ادنامرتبے کا۔

— **پا** : (اضافت کے ساتھ) موت؛ پاؤ کی جوئی پاؤش۔
 — **خانہ** : مذکر؛ (ا) جوئے رکھنے کا گھر (۲) (گھسانا) اپنا مکان۔
 — **دوزرگر** : (د) مذکر؛ ہوجی، جوئی بنانے والا۔

— **کارٹھنا** : (ا) باریک کام کرنا (۲) (کنایتاً) (عوم) سستی سے کام کرنا، کام میں دیر لگانا۔

ک - ع

کعب : (ع) مذکر؛ (ا) (ریاضی کی اصطلاح) تین مرتبہ ضرب کھانے والے عدد کا حاصل (۲) چوسر اور قمار بازی کی جو پہل بڑی، پاسہ (۳) شخڑ۔
کعبین : (ع)؛ موت؛ (ا) دو پاسوں کی جوڑی، جو (۲) مذکر؛ مکہ معظمہ اور بیت المقدس۔

کعبہ : (ع) مذکر؛ (ا) بلند، مرتفع، چوکور عمارت (۲) اللہ کا گھر، بیت اللہ، قبلہ (جو مکہ میں ہے)۔

— **ڈھانا** : (ا) مقدس مقام کو مسار کرنا (۲) (کنایتاً) دل توڑنا۔
 — **کی طرف ہاتھ اٹھانا** : کعبہ کی قسم کھانا، کعبہ کو اپنی سچائی کا گواہ بنانا۔

— **کعبہ مقصود** : مذکر؛ (کنایتاً) اصل مطلب۔

ک - ف

کفت : (ع) مذکر؛ (ا) پنجہ (۲) کپڑے کی دوہری تہی (د)؛ (۳) ہتھیلی، پاؤ، تلوار (۴) جھاگ (۵) مذکر؛ بھینا، تھوک، بلغم (۶) (مجازاً) ہاتھ۔

— **افسوس ملنا / کفت حسرت ملنا** : (اضافت کے ساتھ) ہاتھ ملنا، افسوس کرنا، پچھتانا۔

— **پا** : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ بٹلوا۔
 — **چہ** : (د) مذکر؛ (ا) چھوٹی بگلی (۲) سانپ کا پھن۔

— **خاک** : (د) (اضافت کے ساتھ) (د) (کنایتاً) مٹی، مہر۔
 — **دست** : (د) (اضافت کے ساتھ) موت؛ ہتھیلی۔

— **دست میدان** : (اضافت کے ساتھ) سنان جنگل وہی وہی میدان جس میں دور تک درخت اور آبادی نہ ہو۔

— **گیر** : (د) مذکر؛ ڈوئی، بڑا چمچ۔
 — **لانا / آنا** : (ا) جھاگ لانا، پھن نکلانا (۲) فقیر ہونا۔

— **اڑانا** : جلد غرق ہونا، غرق ہونا۔

گکر وندا: مذکر؛ ایک قسم کی گھاس جو دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔
گکر: مذکر؛ (۱) بے نیچہ کا حقہ، مٹی کا بڑا حقہ، ایک قسم کا بھڑکا تمباکو (۲) کنایتاً، ڈبلا پتلا، حقیر آدمی۔
— باز بہت حقہ پیئے والا۔

خانہ: مذکر؛ (۱) حقہ پینے کی جگہ، تکیہ، دائرہ (۲) مری صحبت۔
گکر والا: (۱) بازاروں میں حقہ پلانے والا (۲) (مجازاً) گھٹیا آدمی۔

گکر ٹولوں کوں: موتھ؛ مرنے کی باتگ۔
گکر ٹی: موتھ، ایک قسم کی ترکاری۔
— کھیرا کرنا؛ کم تر سمجھ کر کوسنا، بات بات پر کوسنا۔

گکر ٹی: موتھ؛ (۱) کچے سوت کی ٹھنی آنٹی (۲) ٹھنی کا جھٹھا، (۳) پنجاب ہرنی (۴) مدار کا چیل۔
— ہو جانا: (م) سردی سے اینٹھ جانا، سڑکھ کر ڈبلا ہو جانا، سمٹ کر ذرا سا ہو جانا۔

گکینا: (۱) بند ریگتے کا چلانا (۲) چیخنا، جنگھاڑنا۔
گکار / گکر: موتھ؛ (۱) کنارا، حاشیہ (۲) سلامی دار پھت کے اوپر کا کنارہ (۳) دھار، باڑھ۔

ک۔ ل

کل: کالا کا مخفت۔

— جتھا: (۱) کالی زبان کا (۲) اصطلاح، وہ شخص جس کی بددعا جلد اثر کرے، مخوس (موتھ) کل جتی۔

— چڑا: مذکر؛ (۱) ایک خوش آواز پرندہ، (۲) (دوہلی) ایک قسم کی تینگ۔

— سرا: (۱) وہ پرندہ جس کا سرا یا چوٹی سیاہ ہو۔ (۲) (مجازاً) انسان۔

— مولا: مذکر؛ (۱) کالے منہ کا (۲) کم بخت، بد نصیب۔

— مؤوی: موتھ؛ (۱) ایک قسم کی مور توں کی کالی (۲) ذیل، نابکار، بد نصیب عورت۔

گل: موتھ؛ (۱) مشین، کام کرنے کا آلہ (۲) کنایتاً

گنگ: (د) موتھ؛ (۱) تمبیل، (۲) تلوا۔
گنگل: (د) مذکر؛ چوڑا، آدمی یا حیوان کے شرین۔
گنگ لینکس - CUFF - LINKS (گنگ) مذکر؛ آستین کے شرین۔
گنگن / گنگن: (د) مذکر؛ مرنے کو پیٹنے کا پیرا۔
گنگنا: مرنے کو گنگن پہنانا۔

— دُفنانا: مرنے کو گنگن پہنانا اور دفن کرنا۔

گنگن پھار کر بولنا: اپناک بول اٹھنا، چیخ مارنا، بے تاب ہو کر بولنا۔

— چور: (۱) قبر کھود کر مرنے کا گنگن پھارنے والا، گنگن کھوٹ (۲) کنایتاً، شہیرے بے رحم۔

گنگن دُفن: تجہیز و تکفین۔

— دینا: مرنے کو گنگن کا پیرا پہنانا۔

— سر سے باندھنا / لپیٹنا: (کنایتاً) مرنے کو تیار ہونا، زندگی کو خطرے میں ڈالنا، جان پر کیلنا۔

— کو کوٹری نہ ہونا: نہایت مغس، تلاش ہونا۔

— گھسوٹ: (۱) گنگن چور (۲) آدمیوں کا مال کھا جانے والا۔

— کے کام آئے: (م) گنگن کو گنگے۔

— نیلانا نہ ہونا: (کنایتاً) مرے ہوئے بہت زمانہ نہ گزرتا۔

— نصیب نہ ہو: (بد دُعا) بے گور و گنگن رہے۔

گنگنی / گنگنی: (د) موتھ؛ (۱) ایک قسم کا بے سلا کرنا، قیرو کا پیرہن (۲) مرنے کے گلے میں ڈالنے والا کپڑا (۳) بے آستین کا بے سلا کرنا جو نو نائیدہ بچوں کو پہناتے ہیں۔

گنگو: (د) مذکر؛ (۱) مانند، برابر، ایک برادری کا، ایک خاندان کا، ہم ذات، ہم قوم (۲) فرقہ، قوم، برادری۔

گنگیل: (د) ضامن، ذمہ دار، پرایا کام سنبھالنے والا۔

ک۔ ک

گنگ: (د) مذکر؛ باورچی، کھانا پکانے والا۔
گنگالی: بیل کا پھوڑا، ایک قسم کی گنگلی جو بیل میں ہوجاتی ہے۔

گنگر دتتا: ایک قسم کی نباتات جو برسات میں آگتی ہے۔

خدا جو واحد مطلق ہے (۳) ہر، ہر ایک (۴) صرف، فقط۔

کائنات: (۱) کائنات (۲) موٹھ، تمام سرمایہ۔

کلیتاً: (۱) بالکل۔

کلبیہ: (۱) مذکر، (۲) مجزیہ کا ضد (۳) عام قاعدہ۔

کلا: (۱) موٹھ، فنون لطیفہ۔

ککہ بکہ جواب دینا: برابر کا جواب دینا، ترکی بہ ترکی جواب دینا۔

کلا: مذکر؛ (۱) کونسل (۲) گال، جیڑا (۳) بذربانی، زبان

درازی (۴) بیب یا لائیں کا وہ پرزہ جس میں

بتی لگاتے ہیں۔

کلا توڑنا: دکنائیا، مغلوب کر دینا، منہ توڑ دینا۔

کھلا: (۱) زبان درازی، ظاہر داری، دکھاؤ، رعب

دب (۲) دکنائیا، چرب زبانی۔

کلمے تلے ڈب لینا: زبان درازی کر کے کسی کو ڈب لینا۔

ڈراز: چلا کر بولنے والا، بذربان، لڑاکا۔

ڈرازی: موٹھ، (۱) چلانا، شور مچانا (۲) زبان

درازی۔

کلا: (۱) مذکر، کُلی۔

کلابازی: موٹھ، (۱) عم، قلابازی۔

کھانا: (۱) نٹ کی طرح سر نیچا ٹانگیں اوپر کر کے لوٹنے

لگنا، (۲) بچے کا پنخیاں کھانا۔

کلا بتو: چاندی یا سونے کے تار جو ریشم پر چڑھا کر بٹے جاتے

ہیں، چاندی یا سونے کے تاروں کی ڈور۔

کلاہ: (۱) کلاوہ، کچا سوت جو تھکے پر لگا ہوا ہو۔

کلاہ کلاہ: مذکر، شراب پینے والا۔

کلاس: CLASS (۱) مذکر، (۲) درجہ، جماعت،

(۳) ذات پات۔

کلاس: TEACHER (۱) مذکر، مدرسہ کی

جماعت کا استاد۔

کلاس: FELLOW (۱) مذکر، ہم جماعت

ہم سبق۔

وہ چیز جس سے دوسرے پر قابو ہو جائے (۳)

حکمت عملی۔

بے گل ہونا: بے چین ہونا۔

ڈار: مذکر؛ (۱) مشین سے ڈھلا ہوا سکہ، چہرہ

شاہی روپیا (۲) موٹھ؛ لیلیٰ والی بندوق،

گھوڑا لگی ہوئی بندوق۔

گل کا پتلا: مذکر؛ مشینی، دوسرے کی مدد سے کام کرنے والا،

دوسرے کا تابع۔

کا گھوڑا: مشین سے چلنے والا گھوڑا۔

مروڑنا / موڑنا / گھمانا: (۱) مشین چلانا (۲) دباؤ

ڈالنا، طبیعت کو پھیر دینا۔

ہاتھ میں ہونا: کسی پر قابو ہونا۔

گل: موٹھ، (۱) آرم، چین، (۲) پہلو، ڈھب، طور۔

آنا: چین پڑنا، اطمینان ہونا، قرار آنا۔

پانا: آرام پانا، چین پانا۔

پڑنا: اطمینان ہونا، بے چینی دور ہونا۔

گل: موٹھ؛ (۱) گزرا ہوا دن (۲) آنے والا دن (۳) کتا

روز قیامت (۴) زمانہ قریب۔

کا ذکر ہے: چند دنوں کی بات ہے۔

کالڑکا: (۱) تھوڑے عرصے کا پیدا ہوا (۲) دکنائیا،

نا تجربہ کار۔

کس نے دیکھی ہے: آنے والے دن کا اعتبار نہیں

جو کرنا ہے آج کر لو۔

کلاں / کلاں کو: (دلی، قدیم، بعد میں، آئندہ زمانے میں۔

کو: کل، پھر آئندہ۔

کی بات: تھوڑے عرصے کا ذکر۔

کلبائیں: گزشتہ باتیں۔

کلا کلی: (۱) مذکر، ایک قسم کا ہندستانی رقص۔

کل کی کل پر: آئندہ کی فکر نہ کرو۔

کل: (۱) مذکر، خاندان، قبیلہ۔

کل: (۱) تمام، سب، پورا (۲) (تصوف کی اصطلاح)

کلاسیکل : CLASSICAL (انگ) کلاسیکی۔

کلاسیکی : وہ موسیقی، مصوری اور ادب جس میں توازن، تناسب، وحدت اور سادگی کے ساتھ عظمت بھی ہو۔

کلاسیکیت : (۱) وہ خصوصیات جو موسیقی، مصوری اور ادب کو توازن، وقار، اعتبار اور عظمت بخشتی ہیں (۲) فصاحت و بلاغت کا اعلامیہ معیار (۳) سالہ پن۔

کلاخ : (۱) مذکر؛ جنگلی کوا۔

کلال : مذکر؛ (۱) شراب پیچنے اور کھینچنے والا (۲) ہندوں کا ایک فرقہ جس کا پیشہ شراب فروشی ہے۔
خانہ : مذکر؛ شراب خانہ۔

کلال : (۱) مذکر؛ کبار، کاسہ گزرتی کے برتن بنانے والا۔
کلام : (۱) مذکر؛ (۲) بات، سخن، گفتگو (۳) وہ عبارت جو کم از کم دو کلموں سے مرکب ہو (۴) علم کلام، (۵) شعر و سخن، نظم (۶) اعتراض، غدر، شک و شبہ، محبت (۷) قول (۸) (۹) علم کلام (۱۰) گفتگو (۱۱) سوال۔

الشد / پاک / مجید : خدا کا کلام، قرآن شریف۔

دکھانا : شاعری پر اصلاح لینا۔

دیکھنا : شاعری پر اصلاح دینا۔

کرنا : (۱) بولنا، بات چیت کرنا (۲) جھگڑنا، بحث کرنا، مشہور کرنا۔

ہونا : اعتراض ہونا، شبہ ہونا، انکار ہونا۔

کلام الملوک، ملوک الکلام، (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

کلال : (۱) بڑا، بزرگ، دراز، بہتر، بلند، وسیع۔

کلتانا : چوٹ کی وجہ سے کسی عضو کا دگر بنا جانا، سوزش ہونا۔

کلاخ : موٹ، شلاخ۔

کلاوت / کلاوت : مذکر؛ گویا مفتی، وہ گویا جس کا خاندانی پیشہ گانے کا ہو۔

کلاؤہ : (۱) مذکر؛ (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

کلاہ : (۱) مذکر؛ (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

آتا رنا : دکھانا، ہنسنے، عزت کرنا۔

نمد : (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

نمدے والی ٹوپی۔

کلاٹنگس : CLIMAX (انگ) مذکر؛ (۱) کسی ڈراما یا کہانی کا نقطہ عروج (۲) کمال، عروج۔

کلائی : موٹ؛ (۱) تھیلی اور کپڑے کے درمیان کا حصہ (۲) ایک قسم کی ورزش۔

آتا رنا : کلائی موٹ دینا۔

کلب : CLUB (انگ) مذکر؛ انجمن، سوسائٹی۔
کلب : (۱) مذکر؛ کتا۔

کلبیل : موٹ؛ (۱) بلا، آفت۔

کلبیل : موٹ؛ (۱) کپڑوں کا رنگنا (۲) مجازاً، بچے کچے۔

کلبیلانا : کپڑوں کا رنگنا۔

کلبیلانا : (۱) آہستگی سے پلانا، تڑپنا، بہت بے قرار ہونا (۲) کپڑوں کا رنگنا (۳) انٹریوں کا بولنا، پیش میں قرا ہونا (۴) سوتے میں حرکت کرنا۔

کلبیلہٹ : موٹ؛ (۱) کپڑوں کا رنگنا (۲) نیندیں بار بار پیش کرنا (۳) کسی بات کا دل میں پھرتا۔

کلبیہ : (۱) مذکر؛ چھوٹا سا گھر، چھوٹا، کونا، گوشہ۔

کلبیہ : (۱) حنا : (۲) مذکر؛ نموں کا گھر، ماتم کدہ۔

کلبیت : (۱) نک چڑھانا، خشک مزاجی، تند خوئی (۲) دنیا اور اسباب عیش سے نفرت کرنے کا فلسفہ، (۳) ایک یونانی فلسفہ، زندگی۔

کلب : مذکر؛ (۱) اہار، کاجی، کلف، جوڑھوئی کپڑوں پر لگاتے ہیں۔

کلب : مذکر؛ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

کلب : (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

مردار، صرف و نحو، گرامر۔

کلب : (انگ) کاغذوں یا بالوں کو اکٹھا کرنے کے لئے کی چمٹی۔

جو گچڑی یا ٹوپیا تاج میں لگاتے ہیں۔
کَلْفُ : (۱) ایک بچی ہوئی لیس دار چیز جسے کپڑے میں
 سختی لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں (۲) اہار
 کا بچی (۳) خون کی خرابی سے چہرے پر پیدا ہونے والے
 سیاہ دببے۔

کَلْفَتُ : (ع) موٹھ؛ تکلیف؛ مصیبت، بے چینی۔
کَلْفَتُ دُورِ مَوْنَا : کدورت جاتی رہنا، تکلیف یا رنج مٹنا۔
کَلْک : (د) منڈک؛ موٹھ؛ (۱) کھوکھلی سُرنگ، بانسری (۲)
 قلم کا نیزہ، قلم، خلم۔
کَلْکِ کَارِی : موٹھ؛ (۱) بیج، زور کی آواز (۲) بندر کے چلانے
 کی آواز۔

کَلْکِ کَل : (۵) موٹھ؛ (۱) بک بک، بے ہودہ محبت (۲)
 ٹکڑا، بیج (۳) شور و غل (۴) عورتوں کا بلند آواز سے
 بڑنا۔

کَلْکَلَانَا : (ع) چڑچڑانا، کاٹ کھلنے کو ڈرنا۔
کَلْکَلَا : (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ (۱) منڈک کا حکم (۲) جمع
 کرنے والا، وصول کرنے والا محصل۔

کَلْمَاتُ : (ع) منڈک؛ موٹھ؛ جمع کلمہ کی۔
کَلْمَہُ / کَلْمَہُ : (ع) منڈک؛ (۱) بات، قول، لفظ (۲) (شرعی اصطلاح)
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ (۳) باسنی لفظ
 جو انسان کے منہ سے نکلے۔

— **کَلْمَہُ** : (ع) کسی کا بے حد معتقد ہونا، کسی کو ہر وقت یاد
 کرتے رہنا۔

— **کَلْمَہُ** : (د) شہادت پڑھنا، مسلمان ہونا (۲) خدا
 کو یاد کرنا، خدا کا نام لینا (۳) ماننا، دم بھڑانا، اطاعت
 کرنا (۴) نام پڑھنا (۵) شہید ہونا، قرینتہ ہونا۔

کَلْمَہُ حَق : کلمہ الحق، سچی بات، حق بات، انصاف کی بات۔
کَلْمَہُ خَیْر : کلمہ الخیر، اچھی بات، نیک بات، نیک صلاح،
 شہادت، مدح، سفارش۔

— **کَلْمَہُ** : منڈک؛ (۱) وہ بات جس سے اسلام کی مخالفت

کَلْمَانَا : (۵) ستانا، تڑپانا۔
کَلْمَانَا : (۱) دعوایا آہ و زاری کے ساتھ رنج کرنا، تڑپنا
 (۳) کسی کے حق میں بددعا کرنا۔
کَلْمَانَا : — (۵) موٹھ؛ (۱) خیال، تخیل (۲) ہان لینا
 فرض کر لینا۔

کَلْمَتِی : موٹھ؛ ایک غلہ کا نام، ماش۔
کَلْمِ جَانَا : کیلنا۔
کَلْمِ جَلْک : (۵) اسم، منڈک؛ (۱) ہندو عقائد کے مطابق
 چار زمانوں میں سے آخری اور موجودہ زمانہ (۲) اکتائیا
 بجز زمانہ۔

کَلْمِچَا / کَلْمِچَہُ : (۱) چوٹی ٹھہری روٹی جو تھوڑی پکائی جسنائے
 (۲) لکڑی کا گول گتھا جو خیمہ کی چوب میں لگا
 ہوتا ہے۔

کَلْمِچَر : (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ ثقافت۔
CULTURAL : (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ ثقافت۔
کَلْمِچَر : منڈک؛ (۱) ایک خوش آواز پرندہ (۲) ایک قسم کی پتنگ۔

کَلْمِچَہُن : (۵) منڈک؛ بڑا چلن، بدکرداری، بد مذاقی۔
کَلْمِچَہُن : (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ مختلف رنگوں
 کا ڈبا، رنگین پنسلوں کا ڈبا۔

کَلْمِچَرک : (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ (۱) منڈک؛ (۲) محرر (۳)
 اہل کار (۴) کارکن۔

کَلْمِچَرُہ : (ع) بے وقوف، کوڈن، جاہل (۲) منڈک؛ بڑی
 کاربن، آنجورہ۔

کَلْمِچَس : منڈک؛ (۱) گنبد کے اوپر کی کلمنی، گنبد (۲) مسجدوں
 مندروں کے گنبد کے اوپر کی سنہری کلمنی، (۳) (۵)
 گلرا، لوہے تانبے پتیل وغیرہ کا گھڑا۔

کَلْمِچَسَا : منڈک؛ تانبے یا پتیل کا بڑا گھڑا۔
کَلْمِچَسِی : موٹھ؛ (۱) چھوٹا کلبا (۲) چھوٹا کلس۔

کَلْمِچِنِی : موٹھ؛ (۱) پروں کا خوش نما چھتا جو بعض پرندوں
 کی چوٹی پر قسرتی ہوتا ہے (۲) کلس، قبتہ، (۳) طرزہ

شکل و نسی: (۱) موٹ، (۲) اچھے گھرانے کی عورت، شریف لڑکی
(۳) پاک دامن۔

سکھو: نجی: موٹ، ایک قسم کا سیاہ یوج۔

سکھوش: موٹ، (۱) کالک، سیاری، کامل، (۲) دکھنا، الزام، بدنامی۔

کاشیکا: کلنگ کا ٹیکا۔

سکھوش لگانا: (۱) عیب لگانا، بدنام کرنا،

کلمہ: (د) مذکر، سر، کھوٹھی۔

سکلمہ: (د) موٹ، سلاہ کا مخمف، ٹوپی۔

سکلباڑا: مذکر، بڑی کلبھاڑی۔

سکلبھاڑی: موٹ، بوجے کا وہ اوزار جس سے لکڑی کا تپتے چیرتے اور بھارتے ہیں۔

سکلمھڑ: مذکر، (۱) مٹی کا بڑا آنچورہ (۲) ایک قسم کی آتش بازی
(۳) بے ڈول آدمی، جاہل، اُجھ۔

سکلبھم: دیکھوکل۔

سکلبھیا: موٹ، (۱) مٹی کا بہت چھوٹا گول برتن (۲) مٹی کا چھوٹا
برتن جس میں پرندوں کا دانہ پانی رکھتے ہیں (۳) وہ برتن

جس میں کتھا یا چونا رکھتے ہیں۔

سسا، بہت تنگ، چھوٹا۔

سسا میں گڑ پھوٹنا: کوئی کام جیسا کرنا، ناممکن کام کرنا۔

سکلبھیا میں گڑ تھوڑا ہی پھوٹتا ہے: بُرائی چھپ نہیں سکتی
راز پرشیدہ نہیں رہ سکتا۔

سکھنا: (۱) دیوالی کی پوجا کے وقت کھلیوں میں

کھلیں ڈالنے دیوی دیوتاؤں پر دودھ یا شربت

چڑھانا۔

سکلی: موٹ، (۱) بن کھلا پھول، غنچ، شگوف، کونپل (۲)

پرندوں کے نئے اور چھوٹے پر، (۳) کنواری دوستیزہ،

باکرہ (۴) کوئی تراش کا کرتا پاجامہ (۵) ایک قسم کا طرحی

دارحرقہ (۶) گھیلا چونا، قلعی۔

سکپوش: پرندے کا بچہ جس کے کئی کئی بچے۔

سکپوشنا: (۱) پرندوں کے ابتدائی پرنکھنا (۲) غنچ پرکھنا

اور اہانت ہو (۲) گستاخی کی بات، (۳) غرور کی بات
(۴) ناشکری۔

سکلمہ گو: (۱) مسلمان (۲) دعاگو، معتقد۔

سکلمے کا شریک: مسلمان بھائی، دینی بھائی۔

سکلمی: انگوٹھے کے پاس کی انگلی، انگشت شہادت۔

سکلمک: مذکر، ہارسوائی، الزام، بدنامی، داغ، عیب۔

سکلمیکا: رسوائی کا داغ، بدنامی کا دھبہ۔

سکلمنا: عیب لگانا، بدنام کرنا، رسوا کرنا۔

سکلمنی: بدنام، رسوا، ذلیل۔

سکلمنی: موٹ، بدنام عورت، ذلیل عورت۔

سکلمک: (د) مذکر، (۱) ایک لمبی گردن کا آبی پرندہ قاز (۲)

دکنیاشا، لمبی ٹانگوں کا آدمی (۳) اصل، مرغ۔

سکلمی: موٹ، چھوٹی ایک چھوٹے سے کیڑے کا نام اکثر گلے بکری

اوٹ اور کتے کے جسم میں پایا جاتا ہے۔

سکلمو: مذکر، کالے رنگ کا آدمی، کالا آدمی۔

سکلمو: کالا گٹھا، کالا کولٹا آدمی۔

سکلموٹا: (۱) کالا، سیاہ فام۔

سکلموڑن: مذکر، کلال، شراب پیچنے والا۔

سکلموڑا: منتر پڑھ کر کیلوں سے باندھنا، حصار کرنا۔

سکلموڑخ: (د) مذکر، (۱) مٹی کا ڈھیلا (۲) پکی یا پختی اینٹ کا

مکڑا، روڑا۔

سکلموڑو: (د) ڈھیلا مارنے والا۔

سکلموڑو: گائے کا نوجوان بچہ۔

سکلموڑو: (۱) گنگ، (۲) گنگ، (۳) امانت گھر

(۲) ریلوے اسٹیشنوں پر عارضی طور پر مسافروں کے سامان

رکھنے کا کمرہ (۳) کپڑے وغیرہ رکھنے کا کمرہ۔

سکلموڑو / سکلموڑو / سکلموڑو: موٹ، (۱) کھیل کود، اچھیل کود

(۲) چلبلا پن (۳) دل بگی، شوخی (۴) کھیل، چین، مزے۔

سکلموڑو: دعویٰ مصیبت دور ہونا، بلائ جانا۔

سکلموڑو: (۱) جانوروں کا خوشی سے اچھلنا، کودنا (۲) مزے

کرنا، خوشی میں بولنا، چھینا (۳) کھیلنا کودنا۔

- ہونا۔
 چنگٹنا: کھلی کا کھلنا۔
 دار پانچام: وہ پانچام جس میں کلیاں ہوتی ہیں۔
 کھلنا: (۱) غنچے کا شگفتہ ہونا (۲) خوشی حاصل ہونا۔
 گھلی: (ع) موت؛ سارا، پورا، تمام۔
 گھلی: موت؛ (۱) منہ میں پانی بھر کر اگھلنا (۲) وہ ذرا جس سے غرارہ کریں۔
 گھلیا: (ع) موت؛ پتلی گھلی، تنگ کوچہ۔
 گھلیات (گھلی، بی بیات) (ع) مذکر؛ موت؛ تمام تصنیفات یا نظموں کا مجموعہ (زیادہ تر نظم کے مجموعے کے واسطے مستعمل ہے) کلیان: (۵) مذکر؛ (۱) بھلائی، خوش حالی، بہتری (۲) ایک راگنی کا نام۔
 گھلیانا: (ع) (۱) درخت میں کلیاں آنا (۲) پرندوں کے نئے پرنکلنا۔
 گھلیت: موت؛ پورا، پورا ہونا۔
 گھلیجا: مذکر؛ (۱) جسم کا ایک عضو، جگر (۲) مجازاً، ہمت، جرأت حوصلہ، دلیری (۳) سینہ، دل (۴) دکھنا، پیارا، عزیز (۵) دکھنا، (ع) نہایت عزیز، جیسے، دولت، جمع، پورنچی۔
 اچھلنا: (۱) (ع) دل دھڑکنا (۲) خوشی سے بیتاب ہونا۔
 اڑا جانا: گھبرائے جانا۔
 اٹ پلٹ ہونا: بہت گھبرانا، بے پنی ہونا، اضطراب ہونا۔
 اٹھنا: دل کلبے قرار ہونا، جی گھبرانا، وحشت ہونا۔
 بڑھ جانا: بہت بڑھ جانا، خوشی سے دل کا باغ بلخ ہونا۔
 بھوننا: (ع) جلانا، کڑھانا۔
 بیٹھا جانا: دل بیٹھا جانا، خوف یا کمزوری سے دل ڈوبا جانا۔
 پاش پاش ہونا: دل کڑھنا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، صدمہ ہونا۔
 پانی ہونا: رھاڑا، ہم آنا، ترس آنا، خوف زدہ ہونا۔
 پتھر کر لینا: دل کو سخت کر لینا، بے حس ہونا۔
 پتھر ہونا: نہایت سخت ہونا۔
 پکانا: دل دکھانا، کڑھانا، جلانا، سبک دینا۔
 پک جانا / پکنا: (۱) دکھنا، (۲) عاجز آ جانا (۳) تنگ آ جانا (۴) جلنا۔
 پکڑ کے رہ جانا: (۱) کسی صدمے کی تاب نہ لانا، دل تھام کر رہ جانا، تڑپ کر رہ جانا (۲) حیرت میں پڑ جانا، حیران ہو جانا (۳) مزے میں آ کر لوٹنے لگنا۔
 کلیجا پکڑ لینا: (۱) کسی صدمے سے بے تاب ہو جانا، (۲) (ع) چھائی جکڑ دینا۔
 پکڑ لینا: (۱) کسی صدمے سے بیتاب ہو جانا (۲) (ع) چھائی جکڑ دینا، پکڑنا: کلیجا تھامنا، کلیجے کو دبانا، اگر زیادہ صدمہ نہ پہنچے۔
 پک جانا: مسلسل دکھ چھیلے رہنے سے تنگ آ جانا۔
 پھٹ جانا: (۱) اچانک بہت بڑا صدمہ پہنچنا (۲) حسد سے جل جانا (۳) دل میں فرق آنا (۴) عشق و محبت کا گھائل ہو جانا۔
 پھٹنا: دکھنا، (۱) ترس آنا، (۲) رحم آنا، دل بھر آنا (۲) دل پر صدمہ گزرا (۳) رشک و حسد سے جلنا۔
 پھونکنا: جلانا، کڑھانا۔
 تھام تھام کر رونا: روتے روتے برا حال کر لینا۔
 تھام کر: دل پکڑ کے تڑپ کر بے قرار ہو کر۔
 تھام کے رہ جانا: دل سوس کر رہ جانا، تڑپ کر رہ جانا، صبر کر بیٹھنا، دکھ کا اظہار نہ کرنا۔
 ٹھنڈا رہے: (دعا) خوش رہو، آرام سے رہو۔
 ٹھنڈا کرنا: چین دینا، سکین دینا، کسی کو خوش کرنا۔
 ٹھنڈا ہونا: (۱) جی، خوش ہونا، تسلی پانا (۲) صبر آنا، چین پڑنا۔
 جلانا: (۱) دل جلانا، صدمہ پہنچانا، (۲) دکھنا، نشہ آور چیزوں کے لیے تھانسا استعمال کرنا۔
 چاہیے: ہمت چاہیے۔
 چھوڑ جانا: بہت صدمہ آٹھانا۔
 چھلنی ہو جانا: دل کا خون ہو جانا، طعن و تشنیع سے

- تنگ آجانا۔
 چھیدنا، صدمہ پہنانا، دکھ دینا، طعنے دینا۔
 خون کرنا؛ صدمہ پہنانا۔
 دھڑکا دینا؛ خوف زدہ کر دینا، ڈرادینا۔
 دھڑکنا؛ خوف کھانا، اندیشہ کرنا۔
 دھک دھک کرنا؛ خوف چھانا۔
 کلیجا دھک دھک ہونا؛ خوف سے دل کانپنا۔
 دھک دھک ہونا؛ کلیجہ دھڑکنا۔
 دھک سے رہ جانا/ مہو جانا؛ خوف یا کسی حیرت انگیز بات سے جی بیٹھ جانا، دہل جانا۔
 دہل جانا/ دہلنا؛ دکھنا، ڈر جانا۔
 کباب رہنا؛ کوفت رہنا۔
 کباب ہونا؛ دل میں جلن ہونا، کوفت ہونا۔
 کٹنا؛ (۱) خون کے دست آمادہ (۲) دل پر چوٹ لگنا۔
 ناگوار گزرنا، جی کھٹنا۔
 کھانا؛ دکھنا، دکھ پہنانا، تکلیف دینا۔
 کھڑینا؛ دکھنا، خوب بھوک لگنا۔
 کھلانا؛ بے مدعا ظلمداریاں کرنا، جان حاضر کر دینا۔
 کھٹنا؛ بے قرار ہونا۔
 مسوس کے رہ جانا؛ کیسا تھام کے رہ جانا، صدمے کو برداشت کر جانا، صبر کر جانا۔
 ملنا؛ دلی صدمہ پہنانا۔
 منہ کو آما؛ جی گھبراتا، بے چین ہونا۔
 نکال کے رکھ دینا؛ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے جان دینے پر آمادہ ہو جانا۔
 ہاتھ بھر کا ہو جانا؛ ہمت بڑھ جانا، حوصلہ بڑھ جانا۔
 بلا دینا؛ ڈرادینا، خوف زدہ کر دینا۔
 ہل جانا؛ دہشت زدہ ہو جانا۔
 کلیجی، موٹھ؛ کلیجی کی تانیٹ، جانوروں کا جگر۔
 کلیجہ پر تھم رکھ لینا؛ صبر کر لینا۔
 پرتیر لگنا؛ دل پر چوٹ لگنا، کوئی اچانک صدمہ پہننا۔
- پر چوٹ لگنا؛ گھونسا لگنا، اچانک صدمہ پہننا۔
 پرتھری چلنا؛ دکھنا، دل پر صدمہ گزرنا۔
 پرتھری لوٹنا؛ رشک و حسد سے بے قرار ہونا۔
 پرتھم دھکے دیکھنا؛ (۱) دوسرے کے دل کا حال اپنے دل سے جاننا (۲) چھوٹ سچ کا اندازہ لگانا
 سے آہ کھلنا/ سے دھواں اٹھنا؛ دل جلنا، دل سے آہ کھلنا۔
 کلیجہ سے لگا کے رکھنا؛ نہایت عزیز رکھنا، ایک پہل کے لیے جہاد نہ ہونے دینا، احتیاط اور حفاظت سے رکھنا۔
 سے لگا لینا / لگانا؛ گلے سے لگا لینا، قبول کر لینا، پیار کرنا۔
 کا ٹکڑا؛ (۱) تخت جگر (۲) دکھنا، پیارنا۔
 کی ٹکڑا؛ دکھنا، جس سے دل کو تسکین ملے، راحتیں
 کے اندر سچائش لگنا؛ (۱) کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہونا (۲) کسی تکلیف دہ بات کا کھٹنا۔
 کے پار ہونا؛ بے حد ناگوار گزرنا۔
 میں آگ لگنا؛ (۱) سینے میں جلن ہونا (۲) شدت کی پیاس لگنا، بے قرار ہونا۔
 کلیجہ؛ (ف) کلیجہ۔
 کلیجہ؛ (ف) موٹھ، چابی، گنجی۔
 ایمان / سہشت؛ (۱) اضافت کے ساتھ (ف) موٹھ؛
 دکھنا، کلمہ شہادت۔
 کلیسا / کلیسا؛ (۱) ریوانی، گرجا، چرچ، عیسائیوں کا عبادت خانہ۔
 کلیش؛ مذکر؛ (•) دکھ، درد، تکلیف۔
 کلیش، موٹھ؛ (۱) گھوڑے کی اچھل کود، چوپا یہ جانوروں کا خوشی سے اچھلنا کودنا (۲) اچھلنا کودنا، رنگ لیاں مٹانا، مزے کرنا، چکنا۔
 کلیسہ؛ (۱) گھوڑے کی اچھل کودنا۔
 کلیسہ میں غلیس لگنا؛ خوشیوں میں اچانک رنج پیدا ہونا، رنگ میں جھنگ ہونا۔
 کلیسہ (ع)؛ (۱) کلام کرنے والا، ہم سخن (۲) حضرت موسیٰ کا لقب۔
 اللہ؛ (ع) مذکر؛ (۱) اللہ سے بات کرنے والا، (۲)

— زور: (ف) بدصورت، وہ شخص جو وجاہت نہ رکھتا ہو۔
 — زور: (ف) (۱) ناقول، ضیف (۲) بُودا، (۳) وہ جس میں طاقت کم ہو۔

— سخن: (ف) کم بولنے والا، چپ، بے زبان۔
 — سخن: (ف) مونث؛ کم بات کرنا، تھوڑا بولنا، بے زبانی۔
 — سن: کم عمر، چھوٹی عمر کا۔

— کم سُنتنا: (ا) اونچا سُنتنا (۲) دھیان میں نہ لانا، بے توجہی کرنا۔

— برستی: (ف) مونث؛ کم عمری، بچپن۔

— فہم: (ف) ناتجھ، نادان۔

— قدر: (ف) بے قدر۔

— قیمت: سستا۔

— کرنا: (ا) گھسانا (۲) مختصر کرنا۔

— ظرف: (ف) (۱) اونچا، کم حوصلہ (۲) کمینہ۔

— عقل: (ف) بے وقوف۔

— عمر: (ف) کم سن۔

— فرصتی: مونث؛ فرصت کم ہونا۔

— کم: (ف) (۱) آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا (۲) گاہے گاہے، کبھی کبھی۔

— کھائے غم نہ کھائے: (ا) غم انسان کو گھلا دیتا ہے، (۲) کم کھانا قرض لے کر کھانے سے بہتر ہے۔

— گو: (ف) کم بولنے والا، کم سخن۔

— مائے: چھوٹی پونجی رکھنے والا، غریب، بے حیثیت۔

— مائی: مونث؛ غریبی، بے حیثیتی۔

— نصیب: بد قسمت۔

— بگاڑی / بگڑی: (ف) مونث؛ بے توجہی، تنگ نظری۔

— ویش: (ف) تھوڑا بہت، تقریباً۔

— ہمت: (ف) کم حوصلہ، بزدلی، ڈرپوک۔

— یاب: (ف) کم طے والی چیز، نادر۔

— گہتی: کم وزن، کم رتبہ، ایذاقت میں گھٹا ہوا۔

— کمی: (ف) مونث؛ گھٹا، نقصان، کسر۔

— حضرت موسیٰ کا لقب۔ دہلی کے ایک اولیاء کا مزار۔
 — کلین: (ف) اشرف، عالی خاندان، بنگالی برہمنوں کا ایک فرقہ۔
 — کلینٹر: (ف) (۱) مذکر؛ صاف کرنے والا، موٹر
 کار یا کسی اٹمن یا مشین کو صاف کرنے والا۔

— کلینک: (ف) (۱) مذکر؛ (۲) شفاخانہ (۳) مطب۔
 — کلیہ: (ف) (۱) مذکر؛ (۲) کالج، یونیورسٹی (۳) عام قاعدہ (۴) تمام
 وکمال، سب کا سب (۵) جزئیہ کی ضد۔

— کٹے والی / کٹے ٹٹے والی: زبان دما زعومت، گالی گلوں
 کچنے والی

ک-م

— کم: (ف) (۱) تھوڑا، ذرا سا (۲) شاذ و نادر (۳) چھوٹا، ادنا۔

— از کم: کم سے کم، بہت تھوڑا، بہت کم۔

— اصل: (ف) بیچ ذات کا، کمینہ، ذلیل، نالائق۔

— اوقات: (ف) گھٹیا، بے حیثیت، ادنا۔

— سخت: (ف) بد نصیب، بد قسمت۔

— سختی: (ف) مونث؛ بد قسمتی، مصیبت، شامت۔

— سختی کا مارا: آفت کا مارا، بد نصیب۔

— پس: (ف) (۱) پست حوصلہ (۲) تنگ نظر (۳) نابینا۔

— پایہ: (ف) معمولی، کم رتبہ، ادنا۔

— پڑنا: (ا) ضرورت سے کم ہونا (۲) نیچا پڑنا کمزور پڑنا۔

— پڑ: (ف) گھٹیا، بہت کم، ادنا۔

— توجہی: (ف) مونث؛ بے پروائی، غفلت۔

— خوشگلی: (ف) مونث؛ بے ہمتی، بزدلی۔

— خوشگلی: (ف) بے ہمت، بزدل۔

— حیثیت، ٹٹ پونجیا، کمینہ، ذلیل۔

— خرچ: (ف) (۱) سستا (۲) کفایت شعار (۳) کم ہوس۔

— خرچ بالاشین: (ف) (۱) رش، سستی اور اچھی چیز۔

— خوراک: (ف) کم کھانے والا۔

— ذات: (ف) (۱) بیچ، ذلیل، کمینہ۔

— رُوہ آہستہ چلنے والا، سست رفتار۔

— کرنا: کوتاہی کرنا، پہلو تہی کرنا۔
 کماج (کماج: دت، موت؛ درہلی، (۱) وہ روٹی جو کہیں سے
 موٹی اور کہیں سے پتلی ہو، (۲) جمانا) موٹی اور
 گول چیز۔
 کما حقہ: (رع) بخوبی، ٹھیک ٹھیک، جیسا چاہیے، جیسا
 اس کا حق ہے۔
 کماری: (۴) موت؛ (۱) بن بیاری لڑکی، (۲) شہزادی۔
 کما کھانا، محنت مزدوری سے پیٹ پانا۔
 کمال: (رع) مذکر، (۱) تمام، پورا، (۲) نہایت، بہت، انتہا
 کا (۳) ہنر قابلیت (۴) انتہائی ترقی (۵) حیرت
 انگیزات، انوکھی بات۔
 کمال پیدا کرنا: خوبی پیدا کرنا۔
 حاصل کرنا: ہنر یا فن حاصل کرنا، کسی کام میں مہارت
 حاصل کرنا۔
 حاصل ہونا: کسی کام میں ماہر ہوجانا۔
 درجے کا: انتہا۔
 دکھانا: ہنر دکھانا، جوہر دکھانا، استاد دی دکھانا،
 کربت دکھانا۔
 رکھنا: فن یا ہنر پر عبور رکھنا۔
 کا بنا ہونا: (۱) بڑا کرتبی (۲) نہایت عیار، آفت کا
 پر کا لا (۳) فزیبی، چال باز، نہایت ہوشیار۔
 کرنا: (۱) دکھانا، حیرت انگیز کام کرنا، غضب کرنا (۲)
 انتہا کرنا، حد کرنا (۳) مبالغہ کرنا۔
 کو پہنچنا: کمال حاصل کرنا، انتہا کو پہنچنا، پورا کرنا،
 ختم ہونا۔
 کمالات: (رع) مذکر؛ جمع کمال کی۔
 کمان: (۱) موت؛ (۲) انگریزی نلف کمانڈ کا مخفف۔
 حکم، فرمان، قیادت۔
 کمان: (۱) موت؛ (۲) حکومت (۳) سرداری۔
 افسر: (۱) مذکر؛ فوج کا سردار۔
 پر جانا: لڑائی پر جانا۔

— پیر چڑھنا: جیننا، ڈنکا بجا، اقبال بلند ہونا۔
 کماندار: (۱) مذکر؛ فوج کا افسر۔
 کمان: (د) موت؛ (۱) تیر پھینکنے کا آلہ (۲) قوس، دھنک
 (۳) خمیدہ، جھکا ہوا (۴) لچک دار۔
 — اُترنا: (د) (۱) کمان جیسی مہموں والا (۲) بجاؤ مشق
 — اُتارنا: کمان کا چلہ اُتارنا، کھنچاؤ کم کرنا۔
 کمان آتر جانا: قوت ختم ہوجانا، اُتر جاتا رہنا، رعب داب
 باقی نہ رہنا۔
 برزوار: (د) کمان لے کر چلنے والا ملازم، تیسرا انداز
 سپاہی۔
 پُشت: (د) کپڑا۔
 تاشنا: کمان کا چلہ چڑھانا۔
 چڑھانا: کمان پر چلہ چڑھانا، کمان کو جھکانا۔
 چڑھنا: دکھانا، (۱) دُور دورا ہونا، ڈنکا بجانا (۲)
 رعب داب ہونا، غرور میں رہنا (۳) تیوریوں پر
 بیل رہنا۔
 کمانچہ: (د) مذکر، (۱) چھوٹی کمان (۲) روٹی دھننے
 والی دھنکی، (۳) ایک قسم کا شاہی نشان۔
 (۴) ایک قسم کی سازگی (۵) محراب دار چھت، طاقچہ
 (۶) فولاد کی کمانی۔
 دار: (د) (۱) کمان رکھنے والا (۲) محراب دار (۳)
 قوس نما۔
 گمر: (د) موت؛ کمان بنانے والا۔
 کماند: COMMAND (انگ) موت؛ کمان۔
 کمانڈر: COMMANDER (انگ) مذکر؛ (۱) کمان دار
 (۲) فوج کا افسر، قائد (۳) قیادت کرنے والا۔
 — انچیف: INCHIEF (انگ) مذکر؛
 سپہ سالار، امیر لشکر۔
 کمانا: (۱) روپا پیدا کرنا، (۲) چڑے یا لوسے کو کوٹ پیٹ
 کر ملائم بنانا، (۳) چڑھا صاف کرنا (۴) حاصل کرنا،
 (۵) کیفیت کو درست کرنا (۶) ورزش کی مشق سے

جسم بنانا (۷) روزی حاصل کرنا، پسیا پیدا کرنا (۸) کمزور کرنا (۹) سمیٹے گاٹھیاں صاف کرنا (۱۰) گھٹانا۔

— ڈھمانا، دعو) روپیا پسیا پیدا کرنا۔

کماؤ: (۱) روپیا کمانے والا، محنتی، مزدور (۲) ہونہار۔

کمانی: مونث (۱) خمیدہ اور ٹھیک دار لوہے کا حلقہ، (۲) بڑھی کا ایک اوزار (۳) پھانسی کا گز۔

کماؤ پوت: مذکر: کمانی کرنے والا بیٹا، ہونہار بیٹا

— ڈھن: مذکر: (۱) بیٹا، اولاد ترمینہ (۲) کرایہ پر چلانے کی گاڑی (۳) دکنایشا، نوچی۔

کماہی: (س) جیسا کہ وہ ہے۔

کماہی: (د) پورا، کامل۔

کما بیٹھی، دگنا۔ نم۔ بٹی (س) جیسا چاہیے، بخوبی۔

کمانی، مونث: (۱) آمدنی پیدا، یافت (۲) کام، مزدوری (۳) قلع، فائدہ (۴) دکناشیا، اولاد۔

— کرنا، کمانا، دولت جمع کرنا، روپیہ پیدا کرنا۔

کپل: موٹی اونی چادر۔

کپھو: (۱) آسمان کا گیارھواں برج (۲) ہر دور کا شہور سیلا۔

کپنا، مذکر: لاسانگی ہونے لگی چھری یا باش جس سے پرندوں کو پکڑتے ہیں۔

— مارنا/ لگانا: (۱) پرندوں کو کپے سے پھنسانا (۲)

دھاننا، ڈاٹا مارنا۔ جل دینا۔

کپار ٹمنٹ: (انگ) مذکر: ریل

کامپارٹمنٹ کا ڈبا، درجہ حصہ۔

کپاس: (انگ) مذکر: (۱) برکار (۲) قطب

نما، قبلہ نما (۳) گاڑی کا چکر (۴) زمین ناپنے کا آلہ۔

کپاؤنڈ: (انگ) مذکر: (۱) چار دیواری

کپاؤنڈر، COMPOUNDER (انگ) مذکر: دھاساز دو اول

کامرٹ تیار کرنے والا، ڈاکٹر کا معاون، عطار۔

کپیشن: (انگ) مذکر: مقابلہ، مسابقت لے

جانے کی کوشش، مسابقت۔

کپنی: (انگ) مونث: (۱) تجارتی ادارہ (۲)

کپتان کے ماتحت، فوج کا دستہ (۳) ٹولی، منڈلی۔

— باغ: مذکر: سرکاری باغ۔

— راج: ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت۔

کپو: (انگ) (۱) کیمپ، چھاؤنی (۲) ڈیرے، نیسے، (۳)

فوج سپاہ (۴) وہ فوج جو ایک جنرل کے ماتحت ہو۔

کپوزنگ: JOYOUSING (انگ) مونث: ہچھاپے خانے

میں ٹاپ جمانے یا جوڑنے کا کام۔

کپوزنگ: COMPOSITOR (انگ) مذکر: ہچھاپے کے ٹاپ

دیکھنے، جانے والا، ٹاپ کے حروف جوڑنے والا۔

کیمٹ (کٹ۔ منٹ) JOUJMENT (انگ) مذکر:

(۱) پابند ہونا (۲) قید (۳) پابندی (۴) وعدہ

زمداری۔

ککشا: (مذکر) باش کی کمان۔

ککشی: مونث: ایک قسم کا زیور۔

ککنا/ ککنا: (د) ایک قسم کا زکار ریشمی کپڑا، زربفت۔

ککر: (د) مونث: (۱) جسم کا درمیانی حصہ (۲) لباس کا وہ حصہ

جو کمر پر رہتا ہے (۳) پہلو اولیٰ کا ایک بیچ۔

— اکھر جانا، کمر کی ہڈی ٹوٹ جانا۔

— باندھنا: (۱) دھاننا، چلنے کو تیار رہنا (۲) مستعد

ہونا، آمادہ ہونا، پختہ ارادہ کرنا، ہمت کرنا (۳) امید

رکھنا، بھروسہ کرنا۔

— بستہ: (د) آمادہ، مستعد، تیار۔

— بند: مذکر: (۱) انار بند (۲) ٹیکا، باندھنے کی چیز

(۳) کمر بستہ، تیار، مستعد، یس۔

— بندی: مونث: تیاری، فوج کا ہتھیاروں اور

دروسی سے یس ہونا۔

— پکڑ کے اٹھنا/ چلنا: (۱) کم زور ہو جانا (۲) بوڑھا

ہو جانا۔

— تکیہ: مذکر: کمر ٹکانے کا تکیہ۔

— توڑنا: (۱) ہمت توڑنا، (۲) کم زور کرنا، بے سہارا

کر دینا، ہمت توڑنا، عاجز کرنا۔

ٹوٹ جانے / ٹوٹنا: (۱) ہتھ ٹوٹ جانا، آس جاتی رہنا، زور ٹوٹ جانا (۲) کسی شخص کے مر جانے سے بے سہارا ہو جانا (۳) ہتھ پست ہو جانا۔

ٹھوکننا: بڑھا دینا، شاباشی دینا، تعریف کرنا۔

ٹھکانا: بوڑھا ہونا، کم زور ہونا۔

* سیدھی کرنا: (۱) لیٹنا، آرام کرنا، دم لینا (۲) کنایاً قبول کرنا۔

کا ڈھبلا: نامرد۔

مضبوط: (۱) طاقتور (۲) پوری قوت باہ والا (۳) دولت مند

کمزورگنا: (۱) تیار ہونا، (۲) مستعد ہونا، بچا ارادہ کرنا۔

کمزور: کمزور، کمزور برابری۔

کمزور: (۱) اضافت کے ساتھ (۲) موٹ، پہاڑی کا درمیانی حصہ۔

کھول کر بیٹھنا: کسی کام سے فارغ ہو کر بیٹھنا، کوشش سے باز آنا۔

کھولنا: (۱) پٹی کھولنا، ہتھیار کھولنا (۲) کنایاً کام سے فارغ ہونا، ارادہ چھوڑ دینا، کوشش ترک کرنا۔

لگنا: (۱) چوپائے کی پیٹھ کا زخمی ہونا (۲) بستر پر پڑے کر میں زخم ہو جانا۔

ہمت باندھنا: ہمت باندھنا، ارادہ کرنا۔

کمزور: (۱) کوششی کے اندر کا ہر ایک درجہ (۲) خلوت خانہ، (۳) ریل یا جہاز کا درجہ۔

کمزور شیل: (انگ) تجارتی، تجارت سے متعلق۔

کمزورنگ: (انگ) موٹ، ایک قسم کا باریک کپڑا۔

کمزور کھو: موٹ، ایک کٹھاپھل اور اس کا درخت، کمزور۔

کمزور ریٹ: (انگ) مذکورہ سپاہیوں کی رسد رسائی کا حکم، رسد رسائی کے افسر کا دفتر۔

کمزورنر: (انگ) مذکورہ ناظر، ناظم چند ضلعوں یا محکموں کا سربراہ۔

کمزورنری: موٹ، (۱) کئی ضلعوں کا ملکہ، قسمت (۲) کمزورنری کچھری۔

گنگلی: (۱) موٹ، چھوٹا، کٹل، فقیروں کا لباس۔

بچھانا: (۱) سوگ ظاہر کرنا۔

ڈالنا: دھوکا دے کر لوٹ لینا۔

گنگلا: مذکورہ (۱) ایک قسم کا زرد کپڑا (۲) پاگل دیوانہ، (۳) ایک قسم کی نارنگی، (۴) موٹ، بچھی دیوی کا نام،

دشمن کی بیوی (۵) خوبصورت عورت۔

گنگلانا: (۱) گھلانا، مہ جانا، سو گھنا، ڈبلا ہونا (۲) مجساز، چہرہ اتر جانا، ٹھکین ہو جانا۔

گنگلیٹری: (انگ) موٹ، (۱) بیان جاریہ (۲) فلسفی اصطلاح و ستاویزی فلموں کے تشریحی مکالمے (۳) اسپورٹس کی اصطلاح کھیل کے میدان کا کھیلوں و کھیلوں کا نیا نیا۔

گنگلیٹریٹر: (انگ) گنگلی کرنے والا۔

گنگند: (۱) موٹ، (۱) پھندا، جال رستی کی سیر می (۲) گنگند، رسائی کا ذریعہ۔

گنگنڈل: (۱) مذکورہ (۱) سنیاسیوں اور جوگیوں کے پانی پینے کا برتن، جو عام طور سے مٹی، تھڑی یا دریائی تاریل کا بنا ہوتا ہے (۲) کشکول۔

گنگنڈر: (۱) کمان بنانے والا (۲) ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ٹٹنے والا۔

گنگونی: (۱) (کون، زیرہ) موٹ، ایک قسم کی بھون جس کا جزو اعظم زیرہ ہے۔

گنگھار: مذکورہ مٹی کے برتن بنانے والا۔

گنگھار: (۱) گنگھار کی تانیت، گنگھارن (۲) ایک قسم کی بھڑوٹی کا گنگھار بنا کر رہتی ہے۔

گنگھلانا: دیکھو، گنگھلانا۔

گنگھیت: (۱) (بی-یت) (۲) موٹ، مقدار کا مقدار

اس چیز کی جو تولی ناپی یا گنتی جائے۔

کمیت : (دع) مذکر؛ سیاہی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا،

تیلیا، سترنگ۔

کمیٹی : COM-ITTEE (انگ) موٹھ؛ مجلس جو کسی خاص

قصد کے لیے مقرر کی گئی جماعت بورڈ۔

کرننا؛ پنچایت کرنا، باہم جمع ہو کر صلاح مشورہ کرنا۔

کھینڈان : (دع) کھینڈان کا نائب۔

کھیرا، مذکر؛ (دع) کمیت پر کام کرنے والا مزدور (۲) مزدور

(۳) سمجھی کا نائب۔

کمیشن : COM-MISSION (انگ) مذکر؛ (دع) دلائل کا معاوضہ

تجارتی رعایت (۲) با اختیار جماعت، باعث خصوصی

کمپن : (دع) موٹھ؛ گھات، دشمن یا شکار کے لیے چھپ کر بیٹھنا۔

گاہ : (دع) موٹھ؛ گھات کی جگہ۔

کھینڈہ : (دع) (۱) کم رتیبہ پنج (۲) کم ذات۔

کھین : مذکر؛ اوچھاپن، رذالت، کم ظرفی، پاجی بن۔

کمیونٹی : COMMUNITY (انگ) موٹھ؛ گروہ، معاشرہ۔

کمیونزم : COMMUNISM (انگ) موٹھ؛ اشتیائیت۔

کمیونیکیشن : COMMUNICATION (انگ) مذکر؛

(دع) خبر رسانی، مواصلات (۲) خبر، اطلاع، مکتوب مواصلہ

(۳) ترسیل۔

ک-ن

کٹن : مذکر؛ (دع) ریزہ، ذرہ، ٹکڑا (۲) شگوفہ، کلی، کونپل

(۳) اناج، غلہ، طاقت، زور (۵) آدھا، کونا،

گوشہ، (۶) کان کا مخمف۔

کٹھیوں سے دیکھنا : ترجمہ بگاہ سے دیکھنا، کھیر

مچا کر دیکھنا۔

کن بندھا : مذکر؛ (دع) کان چھیدنے والا۔

کپٹی : موٹھ؛ کان اور آنکھ کے بیچ کی جگہ۔

کپھول : مذکر؛ کن پھول۔

کٹوپ : مذکر؛ ایک قسم کی بڑی ٹوپی جس سے دونوں

کان ڈھک جاتے ہیں۔

چھیدان : مذکر؛ بچوں کے کان چھیدنے کی رسم۔

رَس : مذکر؛ (دع) راگ رنگ سننے کا مزہ (۲) بات سننے

کا مزہ۔

سلانی : موٹھ؛ ایک قسم کا کثیر اجوا اکثر کان میں پھلانا

سُویان لینا : چھپ کر کسی کی باتیں سنانا۔

کٹا : بوجا، جس کے کان کٹے ہوں۔

کٹا : (دع) کان کٹنے والا (۲) بچوں کو ڈرنے کا ایک فرضی نام۔

کھجورا / کھنکھجورا : مذکر؛ (دع) کھجور کے درخت کی شکل کا

ایک زہریلا کپڑا۔

کن : (دع) ہوجا، ظاہر ہوجا، وجود میں آجا۔

فوکاں / فیکوٹن : (دع) لفظی معنی، ہوجا اور وہ ہونگیا۔

(مجازاً) مخلوق، کائنات، عالم موجودات۔

کٹنا : مذکر؛ (دع) پتنگ میں اوپر نیچے چھید کر مانگی جانے والی

ڈور (۲) جوتی کے پنجے کا کنارہ (۳) کنارہ، کنگر۔

کٹنل جانا؛ کنارہ پھٹ جانا، کنارہ ٹوٹ جانا۔

کٹوں سے آکھڑ جانا؛ (دع) کٹنا ٹوٹ جانے سے پتنگ کا

آکھڑ جانا (۲) (مجازاً) بگڑ جانا، برہم ہوجانا، ناراض

ہوجانا۔

کٹے ڈھیلے ہونا؛ (دع) دکنائیا، غرو جانا رہنا، جوش ٹھنڈا

ہوجانا (۲) پتنگ کے بازو ڈھیلے ہوجانا۔

کنارہ : (دع) مذکر؛ کنارہ، حاشیہ، طرف، پہلو۔

کنارہ : (دع) موٹھ؛ (دع) گودا، بغل، آغوش، (۲) مبدائی،

فراق، علاحدگی۔

کنارہ : (دع) مذکر؛ (دع) ساحل، لب دریا (۲) گوشہ،

کونا، کھونٹ (۳) انجام، سلسلہ، انتہا، حد (۴)

مبدائی، علاحدگی (۵) گوٹ، کوزر، حاشیہ، فنیہ،

شمال دو شاہوں پر بنا ہوا ریشمی یا زرکار حاشیہ۔

کنارہ کرنا؛ الگ ہوجانا، بھنا۔

کشی : (دع) موٹھ؛ علاحدگی، مبدائی۔

کنارے بیٹھنا؛ الگ بیٹھنا۔

موت کے آثار ظاہر ہونا۔
 — پھوٹنا / نکلتا: گلے کی اس ہڈی کا ٹھہرنا جو سینہ پرغ پر نکلتی ہے۔
 — مالا: مذکر؛ (۱) گلے کا ایک مرض جس میں گلیٹیاں نکل آتی ہیں (۲) لکڑی کے دانوں کی مالا۔
 گنٹھا: مذکر؛ (۱) سونے یا مونگھے کے بڑے دانوں کا ہار، (۲) ایک قسم کا گلے کا طلائی زیور (۳) پھولوں کی کلیوں کا ہار (۴) بڑے دانوں کی تسبیح (۵) وہ ہلائی وضع کا گڑھا جو اکپڑا جو گریبان میں لگاتے ہیں۔
 — اٹھانا: دم، تسبیح کی قسم کھانا۔
 کنٹھی: موٹ؛ (۱) تسبیح (۲) گلے میں باندھنے کی لڑی، موتیوں کی لڑی (۳) پہنوں کے گلے کا طوق۔
 — باندھنا: (۱) چیلنا ہونا (۲) دکنا (تیا) پارسا بن جانا، گوشت اور شراب سے پرہیز کرنا (۳) چیلنا ہونا۔
 کنٹھہ باز (د) کنٹھہ ڈالے ہوئے فقیر (۲) دکنا (تیا) مکار، ریاکار۔
 کنج: (۱) مذکر؛ (۱) وہ مقام جس کے اطراف گلے درخت اور بلیں ہوں (د) مذکر؛ (۲) کونا، گوشہ، کنارہ۔
 — تنہائی: (د) (اضافت کے ساتھ) موٹ؛ مکمل تنہائی، خلوت، گوشہ خلوت۔
 — قفس: (د) (اضافت کے ساتھ) بجرے کا کونا۔
 — قناعت: (د) (اضافت کے ساتھ) موٹ؛ ممبر کا کونا، گوشہ تسلیم و رضا۔
 — لحد: (د) (اضافت کے ساتھ) بجر کا کونا، گوشہ لحد۔
 کنٹھا: مذکر؛ کرنا نیلی آنکھوں والا۔
 کنٹھ: (د) مذکر؛ (۱) جس کا تیل نکالتے ہیں۔
 کنٹھ: مذکر؛ (۱) ایک خانہ بدوش قوم کنٹھ (۲) دکنا (تیا) بدوش بہ شکل۔
 کنٹھ: موٹ؛ (۱) کنٹھ کی تائیت (۲) قفس گیت، کنٹھ کی کنٹھوں کی بولی، دکنا (تیا) ناشائستہ گفتگو۔
 کنٹھ: مذکر؛ تزکاری، بیچنے والا، سبزی فروش۔
 کنٹھ: اپنے بے کھٹے نہیں بتاتی، (دش) کون بھی اپنی

— رکھنا: الگ رکھنا۔
 — لگانا: (۱) ساحل پر لانا، (۲) دریا پار آنا، (۳) مدد دے کر انجام کو پہنچانا، مدد کو پہنچانا۔
 — لگانا: (۱) ساحل پر پہنچنا، دریا پار ہونا (۲) اختتام پر پہنچنا، زندگی ختم ہونا۔
 — ہوجانا: علاحدہ ہوجانا، بچ جانا۔
 کناری: موٹ؛ پتلا، گوتا۔
 کناس: (د) مذکر؛ بھنگی، مہتر، خاک روپ (۲) جلا، کھاسی دینے والا۔
 کنائت: موٹ؛ سرادھ، کنوار کے ابتدائی پندرہ دن۔
 کنائی: موٹ؛ گزرگاہ، راہ، راستہ۔
 — کاٹنا: (۱) راستہ بدل دینا (۲) موقع پر ٹال جانا، پہلو ہٹ کرنا، کنئی کاٹنا۔
 کنائیت / کنایہ: (د) موٹ؛ (د) مذکر؛ (۱) اشارہ، رمز، ایما، پوشیدہ بات (۲) (مجازاً) استعارہ، مبہم بات۔
 کنبہ: مذکر؛ خاندان، گھرانہ، آل اولاد۔
 — پرفرد: بال بچوں اور خاندان کی خبر گیری کرنے والا۔
 — پروری: موٹ؛ خاندان اور اولاد کی خبر گیری کرنا۔
 کنبہ / کنبہ: مذکر؛ پانی کا برتن، گھڑا، آسمان کا گیارہوں بروج۔
 — کامیلا: ایک میلہ، جو ہر بار ہوں سال ہر دوڑ میں ہوتا ہے۔
 کنٹرول: CONTROL (انگ) مذکر؛ اختیار، قابو، نگرانی، تسلط یا حکومت۔
 کنٹری بیوشن: GENTLE BUITION (انگ) مذکر؛ چندہ امداد، حصہ، تعاون۔
 کنٹروینٹ: (انگ) مذکر؛ چھاونی، شکر سہ، صدر کیب۔
 کنٹھ: مذکر؛ (۱) گلے کی وہ ہڈی جو مرد کے بانہ ہونے پر ابھرتی ہے (۲) حلق، گلا (۳) کنٹھا کا مخفف۔
 — بیٹھ جانا: (۱) گلا پڑ جانا، آواز بھاری ہونا (۲)

کرنا: کھودنا، نقاشی کرنا۔

گندہ: (د) منکر؛ (۱) موٹی لکڑی کا ٹکڑا (۲) درخت کا تنہ (۳) وہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس پر قصاب گوشت رکھ کر قلم بناتے ہیں۔

گندہ ناتراش: (اصناف کے ساتھ) گنوار، بے تمیز، بے سلیقہ، جاہل۔

گندہ ہم جنس باہم جنس پر وارہ: (د) (مثل، ہر شخص اپنے جیسوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔

گندنی: موٹ، بکڑی کا وہ ٹکڑا جس پر دروازے کی چول گھومتی ہے۔

گندی: موٹ؛ (۱) موگری (۲) موگری سے کپڑوں کی صفائی (۳) مار پیٹ، ڈرگت۔

گندھا: مذکر؛ ساندھا، شانہ۔

دینا: (۱) جنازے کو کاندھے پر لینا (۲) سہارا لگانا، مدد کرنا۔

گندھے سے لگالینا: بچے کو گودی میں لے کر مونڈھے سے چمٹالینا۔

گنڈ: مذکر؛ (۱) تالاب، چشمہ (۲) گڑھا، غار، (۳) ہون کی آگ رکھنے کا گڑھا (۴) گرم چشمہ (جیسے ستیا گنڈ)

گنڈا: مذکر؛ اُپلا۔

گنڈا ہونا: دکنا، خشک ہونا، بھوک سے ڈبلا ہونا۔

گنڈا: مذکر؛ بوجھ کا حلقہ جس میں زنجیر ڈالتے ہیں۔

گنڈل: مذکر؛ (۱) حلقہ، دائرہ، گھیرا (۲) کان کا بالاجاند یا سورج کا بالہ۔

گنڈلی: موٹھا؛ (۱) چھوٹا حلقہ (۲) جنم پترا، زانچہ (۳) سانپ کا حلقہ۔

مانا: (۱) چھوٹا حلقہ بنانا (۲) سانپ کا حلقہ بنا کر بیٹنا۔

گنڈم: (انگ) رُکھا ہوا، ناکارہ، مسترد، نکما۔

گنڈی: موٹ؛ (۱) ایک قسم کا کھانچے دار فکڑا (۲) ہیروہ کا ہار (۳) چھوٹے اُپلے۔

گنڈی: موٹ؛ دروازے کی زنجیر۔

جیسز کو گمراہ نہیں کہنا۔

گنڈنگ: (د) موٹ؛ چڑیا، گوریآ۔

گنڈوس: سفت، بخیل، خیس۔

گنڈی جوئس: بخیل کی مذمت میں بولتے ہیں۔

گنڈوسی: موٹ؛ بخل، خست۔

گنڈی: موٹ؛ (۱) تالی، چالی (۲) کسی کتاب کی شرح۔

گنڈیا: موٹ؛ چھوٹا دانہ جو آنکھ کے پوٹوں پر نکل آتا ہے۔

گنڈین: مذکر؛ سونا، زر۔

گنڈینا: دکنا، روپیہ برسنا، خوب آمدنی ہونا، خوب پیداوار ہونا۔

گنڈینی: موٹ؛ ناچنے والی عورت، تقاضہ، کسی۔

گنڈ: (د) تیز کی مند (۲) کابل، مٹی۔

چھری سے حلال کرنا: دکنا، بہت اذیت دینا۔

ذہن: (د) ٹھس، غبی۔

گنڈا: (۱) پانچام کی لمبی تین گوشوں کی کلی (۲) بندوق کا پچھلا حصہ، دستہ، قبضہ (۳) پنگ کا ہر گوشہ (۴) کھویا، بھنا ہوا دودھ۔

چڑھانا: بندوق کی نال میں لکڑی کا دستہ لگانا۔

گندے ٹولنا: (۱) پزندے کا پُڑونا، اُڑنے کا ارادہ کرنا، (۲) (جنازہ) کہیں جانے کا قصد کرنا۔

گندرو: مذکر؛ ایک قسم کی ترکاری۔

گنڈلا: مذکر؛ سونے کا تار، سونے کا ٹولا۔

گنڈلاکش: چاندی پر سونا چڑھانے والا۔

گنڈن: مذکر؛ (۱) خالص سونا (۲) (جنازہ) چمکیلا (۳) بے میل، خالص (۴) دکنا، بے عیب۔

گنڈندی: (د) موٹ؛ (۱) دسترخوان (۲) دلہن والوں کی طرف سے نکاح کے بعد کھلایا جانے والا

کھانا (۳) مذکر؛ ایک قسم کا جنگلی گیہا (۴) ایک قسم کے سرخ پھل کا نام۔

گندہ: (د) کھدا ہوا۔

کارگر: (د) نقش دیکھا کھودنے والا۔

— پین / پینا: مذکر؛ شادی سے پہلے کا زمانہ، دوشیزگی۔
 کنواری: مونث؛ بن سیاسی لڑکی، دوشیزہ۔
 کنوارا ناما: (۵) مذکر؛ سنگی اور شادی کے درمیان کا رشتہ۔
 کنواں: مذکر؛ چاہ، بادی۔

— کھوڑنا: (کنایتاً) دوسرے کے لیے بڑی کرنا۔
 کنواں کھوڑنے والا: (کنایتاً) بڑی کر نے والا، دوسروں کے لیے بدی کرنے والا۔

کنویں جھانکنا: بہت جستجو کرنا، حیران پریشان ہونا۔
 — جھٹکانا / جھٹکوانا: (۱) کنویں کا پانی یا تہہ دکھانا (۲) (جانتا) حیران کرنا، آوارہ پھرانا، تھکا مارنا۔
 — کاتارا: انتہائی گہرے کنویں کی تہہ کا پانی جو ادھر سے تارے کی طرح نظر آتا ہے۔
 — کی آواز: جیسا کہنا و بیاسننا۔

— کے پاس پیسا جالگے کنواں نہیں جاتا: (مثل) کسی چیز کا عرق مند خود اس چیز تک پہنچتا ہے۔
 — میں پانس ڈالنا: (کنایتاً) بہت جستجو کرنا۔
 — میں بولنا: (کنایتاً) نہایت دبی آواز سے بولنا۔

کنوٹی: مونث؛ گھوڑے کا کان۔
 کنوٹیاں بدلنا / کھڑی کرنا: گھوڑے کا دوڑوں کانوں کو کھڑا کرنا، چوکنا ہو جانا، ہوشیار ہو جانا۔

کنور: مذکر؛ (۱) لڑکا (۲) بیٹا (۳) راجا کا بیٹا (۴) عزت کا خطاب۔

کنول: مذکر؛ (۱) ایک پھول کا نام۔ گل نیلوفر، (۲) ایک قسم کا فانوس جو گل نیلوفر کے مشابہ ہوتے ہیں، قندیل (۳) (کنایتاً) دل (۴) سرخ کا غذا یا برق کا پھول جس میں موم جی جلاتے ہیں، (۵) جانور کا شانہ (۶) ایک بوٹی (۷) برقان کی بیماری جس سے جسم زرد ہو جاتا ہے۔

— کھلنا: (کنایتاً) دل کا خوش ہونا۔
 — کھٹنا: مذکر؛ کنول کا بیج جسے کھایا جاتا ہے۔

کنہ: (۵) مذکر؛ بات کی تہہ، باریکی۔
 — پر پہنچنا: کسی بات کی تہہ کو پہنچنا۔

کنھیا: مذکر؛ (۱) شری کرشن جی کا لقب (۲) (بھارت) خوبصورت بیچ (۳) خوبصورت لڑکا (۴) معشوق صفت۔

کنشت: (د) مذکر؛ پارسیوں کا عبادت خانہ، آتشکدہ۔
 کنھان: (۵) مذکر؛ (۱) حضرت نوح کے بیٹے کا نام جس نے کفر اختیار کر لیا تھا (۲) شام کا صوبہ فلسطین، حضرت یوسف کی پیدائش کی جگہ (۳) نرود کے باپ کا نام۔

کنکا لا: مونث؛ ڈائن، جا دوگری۔
 کنکر: مذکر؛ (۱) جوڑنے کا سخت ٹکڑا، پتھر کا چھوٹا ٹکڑا (۲) سنگ ریزہ (۳) عورتوں کی چھاتیوں میں نکلنے والا پھول۔
 — پتھر (کنایتاً) (۱) اَلابلا، رتی جیر (۲) روڑے۔

کنکری: مونث؛ (۱) چھوٹا سنگ ریزہ (۲) ڈلی، ہکڑا۔
 — کر دینا: ٹھیکری کر دینا، بے قدری کے ساتھ صرف کرنا۔
 کنکر ملا: (د) مذکر؛ کنکر ملا ہوا، کر کر۔
 کنگنا: مذکر؛ شیر گرم، نیم گرم، گنگنا۔

کنکڑے باز: کنکڑے لڑنے والا۔
 کنکی: مونث؛ چاول کا مگر، چاولوں کا پھرا۔
 کنگال: (۱) نادار، مفلس (۲) قحط زدہ، سال کا مارا، فاقہ کش۔

کنگرہ: (د) مذکر؛ شہر کی فصیلوں، قلعے کی دیواروں یا قدیم طرز کی عمارتوں میں خوبصورتی کے لیے بنے ہوئے طاقے، کنگورے۔

کنگن: مذکر؛ کلائی کا زیور۔
 کنگنا: مذکر؛ ایک قسم کا کلاوے کا پھولدار ڈورا جو دو لہا اور دو لہن کی کلائی میں باندھا جاتا ہے۔
 کنگنی: مونث؛ (۱) دیوار کی کنگر (۲) ایک قسم کا باریک غلہ، کاکن۔

کنگھا: مذکر؛ (۱) بال بلھانے کا دندانے دار آلہ (۲) بکھروں کا آزار جس سے بانا ٹھونکتے ہیں۔

کنگھی: مونث؛ (۱) چھوٹا کنگھا (۲) ایک خورد رو پودا۔
 — چوٹی: مونث؛ عورتوں کا بناؤ سنگھار۔

کنگھنا: بے چین ہونا، پس و پیش کرنا، غدر کرنا۔
 کنوار گوار: مذکر؛ ہندی کا سا نواں مہینہ۔

کنوارا: مذکر؛ بن بیا ہوا، وہ مرد جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔
 — بالا: مذکر؛ بن بیا لڑکا۔

کوٹا: مذکر؛ (۱) کاگ، زراغ (۲) گوشت کا وہ چھوٹا ٹکڑا جو آدمی کے مطلق کے اندر لٹکا ہوتا ہے۔

— پیری: موٹھ؛ کالی عورت۔

— چلا ہنٹس کی چال اپنی چال کبھی بھولا، (دشل) اپنی اوقات سے بڑھ کر ڈھونگ رجانے والا اپنی اوقات بھی کھو دیتا ہے۔

کوآپریٹو سوسائٹی COOPERATIVE SOCIETY (انگ) موٹھ؛ (۱) انجمن امداد باہمی (۲) مشترکہ سرمائے سے کام کرنے والی جماعت۔

کوآرٹر: QUARTER (انگ) مذکر؛ مکان، ٹھکانا۔

کوآڑ: مذکر؛ (۱) دروازہ، پٹ (۲) دروازہ بند کرنے کا تختہ، (۳) سینے کا ہر ایک پہلو۔

کوآڑا: (ع) مذکر؛ کوآڑ۔

کوآڑی: موٹھ (۱) کوآڑ کی تصغیر (۲) قبا، وہ کپڑا جو سینے کے دونوں طرف ہوتا ہے، الجھ کھے کا پردہ۔

کوآکب: (ع) مذکر؛ جمع کوکب کی، روشن ستارے۔

— ثنا بتر: (۱) اصناف کے ساتھ) مذکر؛ وہ ستارے جو

اپنی جگہ پر قائم ہیں اور اپنے محور پر گھومتے ہیں۔

— ستیارہ: مذکر؛ وہ ستارے جو آفتاب کے گرد گھومتے ہیں۔

کوالمی: QUALITY (انگ) موٹھ؛ وصف، صفت، خوبی، مرتبہ۔

کوآنا: (ع-عم) (۱) بترانا (۲) دکنا یا تیا) بدحواس ہوجانا گھبرا جانا۔

کوآسج: موٹھ؛ ایک درخت اور اس کی پھلی کا نام جس کے چھڑکنے سے آدمی کے جسم میں قارشت ہونے لگتی ہے۔

کوآفت: (ع) مذکر؛ کیفیات۔

کوآب: (د) چوٹ، ضرب، صدمہ (مرکبات میں مستعمل)

کوآبڑ: مذکر؛ بڑھاپے کی وجہ سے پیٹھ کی ہڈی کا نکل آنا، پیٹھ کا ابھار۔

کوآبہ: (د) مذکر؛ کٹھے کا آلہ، ہوگری۔

— کاری: (د) موٹھ؛ تیبہ، تادیب، گوشمالی

زرد کوآب، (کرنا کے ساتھ)

کئی: موٹھ؛ (۱) ہیرے کا ریزہ، ٹکڑا، ریزہ (۲) ٹوٹے ہوئے چاول (۳) چاول کا وہ حصہ جو گلنے سے رہ گیا ہو۔

کرتی: موٹھ؛ (۱) حاشیہ، گوٹ، فیتہ، کنارہ (۲) وہ دھجی جو تنگ کے بازو میں باندھتے ہیں (۳) تبا کو کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں۔

— باندھنا: تنگ کے بازو میں دھجی باندھنا۔

— دار: رنگین کناروں والا کپڑا۔

— ڈبانا: (دجائز) قابو میں لانا، بس میں کرنا۔

— ڈبنا: (دہلی) (۱) عاجز ہونا، (۲) مغلوب ہونا (۳) چھینا

آنکھ نیچی ہونا (۴) مخالفت ہونا، کورڈینا۔

— کاٹنا: کترانا، بچنا۔

— کھانا/لگنا: (۱) تنگ کا ایک رخ کو جھکناد (۲) شرمانا،

آنکھیں سامنے نہ کرنا۔

— کئے: (دہلی) (قدیم) پاس، نزدیک۔

کئیٹا: موٹھ؛ (۱) چھوٹی عمر کی لڑکی (۲) کنواری لڑکی (۳)

میٹھ (۴) دھن (۵) برج سنبھ (۶) رورکا دیوی

کانام۔

— دان: مذکر؛ (۱) لڑکی کا بیاہ کرنا (۲) جہیز (۳) بیٹی

بیانہنے کے لیے لوگوں سے اللہ کیچھا مانگنا۔

کئیٹا: (۱) تنگ کا کئی کھانا (۲) کترانا، بچنا، کنارہ کرنا،

(۳) شرمانا، چھیننا، آنکھ نہ ملانا، آنکھیں پھرتانا (۴) پاس

نہ پھینکنا، الگ الگ رہنا، ٹال مٹول کرنا۔

کئیٹ (کئی، یت): (ع) موٹھ؛ وہ نام جو باپ ماں یا

اولاد کی طرف نسبت کر کے بولا جائے۔

— کئیٹ: مذکر؛ ایک تلخ زہر ملا پھل اور اس کا درخت۔

— کئیٹ: (د) موٹھ؛ لوتھی۔

ک-و

کو: (۱) موصول کی علامت (۲) لیے، واسطے، ہرلئے۔

کو: (د) موٹھ؛ گلی، کوچہ، محلہ۔

— بہ کو: (د) محل گلی، در بدر، ادھر ادھر۔

کوئیل: رت، مونٹ، کلی، تنگوفہ، نئی چھوٹی ملائم ہتی۔
 کوپن: COUPON (ڈانگ) منڈکڑ؛ الگ کر لیا جانے والا،
 ٹکٹ، کاغذ کا وہ حصہ جو اپنے اصل سے الگ کر لیا
 جائے۔

کوٹاہ/کوٹہ: رت (۱) چھوٹا، مختصر (۲) تمام، تنگ۔
 — اندیش: رت (۱) کم سمجھ، بے سوچے سمجھے کام کرنے والا۔
 — ہیں/دست: رت (۱) ناعاقبت اندیش، کم ہمت۔
 — فہم: رت (۱) کم فہم، بے عقل۔
 — قلم: رت (۱) کم لکھنے والا۔
 — نظر: رت (۱) کم دیکھنے والا، ناعاقبت اندیش غافل، سخیل۔
 — ہمت: رت (۱) کم ہمت، پست ہمت۔

کوٹاہی: رت (۱) کسی (۲) غفلت، بے پروائی، قصور۔
 کوٹیل: رت (۱) منڈکڑ؛ (۱) عالی گھوڑا، خاص گھوڑا،
 جلوں کا گھوڑا (۲) وہ گھوڑا جسے سجا کر امیروں کی
 سواری کے آگے چلاتے ہیں۔

کوٹوال: رت (۱) منڈکڑ؛ (۱) پولیس کا وہ عہدہ دار جس کے ماتحت
 کسی تھانے میں (۲) قلعے کا محافظ (۳) شہر
 کا محافظ۔

کوٹوالی: مونٹ؛ بڑا تھانہ، پولیس اسٹیشن۔

کوٹھا: دعویٰ کوٹھا۔

کوٹھ: COAT (ڈانگ) منڈکڑ؛ مغربی وضع کا ایک لباس۔

کوٹھ: کوٹھا کا امر۔

— ڈانا: کسی چیز سے ضرب لگانا، پھینسا، چورا کرنا، ہلکے
 دھکے کرنا، تھیمہ کرنا، بہت مارنا۔

کوٹلا: (۵) منڈکڑ؛ چھوٹا قلعہ، گڑھی۔

کوٹٹا: (۱) ریزہ ریزہ کرنا (۲) مارنا پھینانا۔

کوٹھا: منڈکڑ؛ (۱) بالافانہ، اوپر کا کمرہ، گودام، ذخیرہ،

(۲) دم، پیٹ، سینہ، منہ (۳) وہ اندرونی مکان
 جس میں امیروں کا خزانہ رہتا ہے۔

— لے کر بیٹھنا/کوٹھے پر بیٹھنا: عورت کا بڑا پیشہ کرنا،

کسب کرنے کے لیے چپکے میں بیٹھنا۔

کوٹھے چڑھنا: دکنا (تیا) بات کا مشہور ہو جانا۔

— وائیاں: دعویٰ، رزٹیاں، کسبیاں۔

کوٹھری، مونٹ؛ ایک دروازے والا، چھوٹا سا مکان،

کمرہ، چھوڑ۔

کوٹھی: مونٹ؛ (۱) پتھر کا مکان، حویلی، جنگل، (۲) اناج

بھرنے کا مٹی کا گودام، ذخیرہ (۳) اینٹ یا لکڑی

کا گول چکر جسے کنویں کی تہہ میں مضبوطی کے لیے

ڈالتے ہیں (۴) صراف یا ساہوکار کی دکان (۵) کارخانہ (۶)

بڑی دکان (۷) بینک (۸) ہندوؤں کا وہ حصہ جس میں بلا رہتی ہے۔

— بیٹھ جانا: بینک کا دوا لے کر نکلنا، گھٹانا ہو جانا۔

— کرنا/کھولنا: کارخانہ جاری کرنا، سودا گری کی بڑی

دکان کرنا۔

— وال: منڈکڑ؛ مہاجن، صراف، ساہوکار۔

کوٹھر: رع، منڈکڑ؛ بہشت کی ایک نہر کا نام۔

— کی دھلی زبان: پاک، صاف شستہ زبان۔

کوچ: COACH (ڈانگ) سواری گاڑی، گھوڑا گاڑی۔

شاہی گاڑی، ریل کا مخصوص ڈبہ، ایک قسم کی آرام دہ بس،

(۲) خانگی طور سے تعلیم دینا، سکھانا، تربیت دینا (۳)

ایک قسم کا پلنگ۔

کوچ وان COACHMAN (ڈانگ) منڈکڑ؛ گاڑی بان، گھوڑا

گاڑی چلانے والا۔

کوچ: رت (۱) منڈکڑ؛ (۱) روانگی، ایک جگہ سے دوسری جگہ

جانا، (۲) رحلت۔

— بہ کوچ: رت (۱) بے درپے جانا۔

— بول دینا: روانگی کا حکم دینا، کوچ کرنا۔

— کا دن: روانگی کا دن، موت کا وقت۔

— کا نفاذ: رت (۱) روانگی کا اعلان (۲) مرنے کی گھڑی

(۳) دکنا (تیا) مر جانا۔

— کرنا: (۱) روانہ ہونا، سفر کرنا (۲) دنیا سے گزرنا ہرنا

(۳) رخصت ہونا۔

کُوڑ: COVER (انگ) مذکر؛ ڈھکن، سرپوش، سردق غلّا۔
کُوڑ: (د) اندھا۔

— باطن / دل: (د) ناسمجھ، کند ذہن، دل میں کینہ اور حسد کرنے والا۔

— سخت: (د) بدبخت، بد نصیب۔

— چشم / نگاہ / دیدہ: (د) اندھا، نابینا۔

— وہ: (د) کم آباد چھوٹی اور گنم بستی۔
(۲) جاہلوں کی بستی۔

— مادر زاد: (اضافت کے ساتھ) (د) پیدائشی اندھا۔

کُوڑ: موت: (۱) کنارہ، حاشیہ، سرا، کنگر، (۲) اُپلے کا چوڑا۔ (۳) ناخنوں کی جڑوں کی کھال (۴) مغزی سجات۔

کُوڑ بننا: (دکنائیتا) عاجز ہونا، منقلب ہونا۔
— کسٹر: موت: گلی، عیب، نقص۔

کورا: مذکر: (۱) نیا غیر استعمال شدہ، جس سے کام نہ لیا گیا ہو، (۲) صاف، سادہ سبے داغ (۳) دکنائیتا بے وقوف، جاہل۔

— بچ جانا: صاف بچ جانا۔

— برتن: (۱) نیا برتن، (۲) (مجازاً) کنواری لڑکی۔

— پینڈا: اچھوتا جسم، بن بیاہی عورت۔

— رکھنا: (۱) کچھ نہ سکھانا (۲) محروم رکھنا۔

— رہ جانا: جاہل رہ جانا، محروم رہ جانا۔

— نکل جانا: بے داغ بچ جانا۔

— گوری: موت: (دکنائیتا) باکرا، کنواری۔

گورٹ: COURT (انگ) مذکر؛ (۱) عدالت، کچہری (۲) دربار۔

— شپ: SHIP (انگ) موت: شادی سے

پہلے لڑکے اور لڑکی کی ملاقاتیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے (یہ دراج خاص طور سے مغربی تہذیب میں ہے)۔

— مارشل: MARSHAL (انگ) (۱) ججی عدالت،

جس کے قوانین علامہ اور سخت ہوتے ہیں، (۲) فوجی عدالت،

جہاں فوجی افسروں کے مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔

کوجا: مذکر؛ کچوکا، جین، کس نوک دار چیز کا ہلکا سا زخم۔
کوپنے دینا: (۱) کچوکے دینا، گودنا، چھوٹا (۲) (دکنائیتا) طعنے دینا۔

— کویک: (د) چھوٹا، خورد۔

کُوچنا / کُوچینا: (۱) چھوٹا، چھری یا کانٹے سے گودنا (۲) (دکنائیتا) طعنے دینا۔

— کُوچہ: (د) مذکر؛ نکلی۔

— بند: (د) محفوظ، وہ گلی یا محلہ جس کے نکاس پر دروازہ لگا ہو۔

— بندی کرنا: گلی یا محلے کی حد بند ہونا، احاطہ کھینچنا۔

— بچھکانا: گلی کے پھیے کرنا، پریشان کرنا۔

— کُوچہ نموشال: (د) (اضافت کے ساتھ) قبرستان۔

— گرد: (د) گلیوں میں مارا مارا پھرنے والا، آوارہ پھرنے والا۔

کُوچی / کُوچی: موت: (۱) برش (۲) سفیدی کرنے کا ہونج کا برش، (۳) سونے چاندی صاف کرنے کا برش

(۴) گھوڑے کے جسم کا گرد وغبار صاف کرنے کا برش (۵) (د) دکنائیتا، ہبی داڑھی۔

— کُوچیں / کُوچیں کاٹنا: پاؤں کاٹنا، اڑی کا پچھلا حصہ۔
کُوڈ: کُوڈنا کا امر۔

— پڑنا: کسی معاملے میں بے جا دخل دینا۔

— پھانڈ: موت: اُچھل کُوڈ۔

— کُوڈک: (د) مذکر؛ لڑکا، بچہ۔

— کُوڈن: (د) احمق، کند ذہن۔

— کُوڈنا: (۱) اُچھلنا، جست لگانا، پھانڈنا، (۲) خوشی سے پھولے نہ سمانا۔

— کُوڈوں: موت: ایک قسم کا موٹا اناج۔

— ولانا: سخت کام لیتا۔

— دے کے پڑھنا: کم خرچ کر کے پڑھنا، مفت پڑھنا ناقص تعلیم پانا۔

— کُوڑ: (د) مذکر؛ لقمہ، بولا۔

کوڑی : COURSE (انگ) مذکر ؛ ندرت ؛ تعلیم ۔
 کوڑس : CHORUS کئی آدمیوں کا مل کر گانا بولنا ۔
 کوڑم : QUORUM (انگ) مذکر ؛ کسی جلسہ کو جائز کرنے کے لیے ممبران کی مقررہ تعداد ۔
 کوڑنش (دف) : گرنش ؛ (رت) : موٹ ؛ (ا) : جھکاؤ ، خمیدگی ، آداب ، تسلیات ، جھک کر سلام کرنا (۲) ، شاہی آداب ۔
 کوڑنش (دف) : موٹ ؛ جمع کوڑنش کی ۔
 کوڑیدود : CORRIDOR (انگ) مذکر ؛ غلام گردش راہ داری ۔
 کوڑرا : مذکر ؛ (ا) : گھاس پھوس جس دغا شاک (۲) خراب اور بے معرفت ۔
 کوڑکٹ : مذکر ؛ کوڑرا ۔
 کوڑرا : مذکر ؛ بڑی کوڑی ۔
 کوڑے کر ڈالنا : دم) اُونے پونے پچ ڈالنا ، پر یا مال بچھکانا ۔
 کوڑرا : مذکر ؛ تازیانہ ، چابک ۔
 کوڑی : موٹ ؛ بیس عدد ، ایک بیس ۔
 کوڑی : موٹ ؛ ایک قسم کا چھوٹا سنگھ جو پہلے خرید و فروخت کے کام بھی آتا تھا ، خرمبرہ (۲) سینے کی خرمبرہ جیسی ہڈی (۳) کٹار کی موٹی ٹوک (۴) مجازاً ؛ روپایا جینہ ، دمڑی ، پائی ، قلیل مقدار ۔
 کوڑی : موٹ ؛ تہایت مفلس ہونا ۔
 کوڑنا : (قومی اصطلاح) چند آدمیوں کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا ۔
 کوڑنا : (دہلی) بار بار آنا جانا ، بہت سے پھیرے کرنا ۔
 کوڑنا : سستا کر دینا ، بے وقت کر دینا ۔
 کوڑنا : بے کار چیز ، بے وقعت چیز ، گھٹیا چیز ۔
 کوڑنا : بے قدر ہو جانا ، نکما ہو جانا ، ذلیل ہو جانا ۔
 کوڑنا : کفن کو نہ ہونا ، نہایت محتاج اور مفلس ہونا ۔
 کوڑی ادا کرنا ؛ ؛ نکل ادا کرنا ، سب بیاق کرنا ۔

کوڑی کوڑی پر جان دینا : نہایت نفوس ہونا ۔
 کوڑی پر دانت رہنا : بے انتہا لالچی ہونا ۔
 کوڑی جوڑنا : نہایت کجوسی سے روپیہ جمع کرنا ۔
 کوڑی کو تنگ ہونا / حیران ہونا : نہایت مفلس ہونا ۔
 کوڑس دوڑانا : بڑی محنت لینا ، تھکا دینا ۔
 کوڑس دوڑنا : (ا) نہایت محنت و مشقت کرنا (۲) دکھانا ، نہایت لالچی اور حرص ہونا ۔
 کوڑ پوچھنا : کوئی اہمیت نہ دینا ، ذرا قدر نہ کرنا نہایت حقیر اور ذلیل جانا ۔
 کوڑ عزت ہو جانا : ذرا آبرو نہ رہنا ، رسوا ہو جانا ۔
 کوڑ تین تین : نہایت سستا ، نہایت بے قدر ۔
 کوڑ کام کا ؛ بے کار ، نکما ۔
 کوڑ ملنا ؛ کچھ نہ ملنا ۔
 کوڑیوں کے مول : نہایت سستا ، بے قدر ۔
 کوڑیا لا : مذکر ؛ (ا) ایک قسم کا سفید چٹیوں والا زہریلا سانپ (۲) ایک بوٹی (۳) ایک قسم کا چھوٹا پرندہ ، (۴) لوبان کی ایک قسم ۔
 کوڑھ : احمق ، بھوڑھڑ ۔
 کوڑ پن / پینا : مذکر ؛ (عو) بد سلیقگی ، بد تمیزی ، بے وقوفی ۔
 کوڑھ : بے سلیقہ ، بے وقوف ۔
 کوڑھ : مذکر ؛ موٹ ؛ جڈام ، برص ۔
 کوڑنا / چوڑنا : جڈام کے زخموں سے مواد کا بہنا ۔
 کوڑنا : (دشل) مصیبت پر مصیبت ، آفت پر آفت ۔
 کوڑھی ؛ جڈھی ۔
 کوڑ : (دف) جھکا ہوا خمیدہ ۔
 کوڑ پشٹ / کوڑ پشٹ ؛ گبڑا ۔
 کوڑہ : مذکر ؛ (ا) ٹکڑھ ، ڈونگا (۲) مصری کا ڈالا (۳) مٹی کا برتن (۴) مٹی کا آنچور (۵) قفل ۔
 کوڑہ : (دف) مذکر ؛ کھار ۔
 کوڑے میں دریا بند کرنا : کسی بہت بڑے مضمون کو مختصر

مگر جامع انداز میں لکھنا۔

کوس : (ف) مذکر؛ بڑا نقارہ۔

— حرولت / رحیل : (ف) مذکر؛ (اضافت کے ساتھ)

کوچ کا نقارہ۔

کوس : (ا) دو میل کا فاصلہ ۲۰۳۰ کلومیٹر (۲) فرسنگ (۳)

آستین کا کت، آستین کا جوڑا۔

کوسوں : دور تک۔

— دور بھاگنا، (کننا یا) سخت نفرت کرنا۔

کوسا؛ مذکر؛ (عو) بددعا، بُرا بھلا کہنا۔

— کافی : (عو) موٹا؛ بددعا، کوسنا۔

— لگنا؛ (عو) بددعا کا اثر ہونا۔

کوسم کاٹا؛ (عو) موٹا؛ ایک دوسرے کو کوسنا۔

کوسنا، مذکر؛ بددعا دینا، بُرا بھلا کہنا۔

— پیننا؛ بُرا بھلا کہنا، بددعا دینا۔

کوش : (۱) مذکر؛ (۲) خزانہ (۳) دکشتری، لغت۔

کوش : (ف) برداشت کرنے والا، جھیلے والا درمکبات میں

استعمال ہوتا ہے جیسے ستم کوش)

کوشاں : (ف) کوشش کرنے والا۔

کوشش : (ف) موٹا؛ محنت، دوڑوہپ، قصد،

جدوجہد۔

کوشک : (ف) مذکر؛ محل، اورنجی عمارت، بلند عمارت۔

کوفت : (ف) موٹا؛ (۱) صدمہ، تنگن، (۲) غم، ملال

(۳) گشتائی، گوننا۔

— پر کوفت اٹھانا؛ صدمہ پر صدمہ برداشت کرنا۔

کوفتہ : (ف) (۱) دکھی، مصیبت زدہ (۲) قیر کے گول کباب

بچے ہوئے کباب۔

— پنچتہ؛ (دو آیس) کوٹ چھان کر، کوٹ کر پھر چھان کر۔

کوفہ : (ع) مذکر؛ عراق کا ایک مشہور شہر۔

کوفی : کوفہ کا باشندہ، کوفی کی زبان۔

کوک : (ف) (۱) سُریلی آواز، کوئل اور ناختہ کی آواز (۲)

(عو) پیچ، کلکاری (۳) گھڑی یا بجے وغیب میں

بھری گئی چابی۔

کوکتا؛ (۱) چینا، چلانا، کرنا، درو کی آواز نکالنا (۲) گھڑی

یا باجے میں کچی دینا (۳) کوئل کا بولنا، ناختہ کا کوکو کرنا،

(۴) پیٹیر کو جگانا۔

کوکا؛ (۱) مذکر؛ جمعوی اور باریک کیل۔

— بیلی؛ مذکر؛ گل نیلوفر۔

کوک شاستر؛ (۱) مذکر؛ وہ کتاب جس میں عورتوں سے صحبت

(جماعت) کرنے کا حال دست ہوتا ہے۔

کوکب : (ع) مذکر؛ ستارہ، بڑا ستارہ، روشن ستارہ۔

کوکبہ : (ع) (ف) مذکر؛ (۱) ستارہ (۲) جہوم، بھیڑ بھاڑ،

شہابی جلوس، شان و شکوہ۔

کوکلا؛ (۱) مذکر؛ (۲) کوئل (۳) (ف) ہڈ ہڈ۔

کوکل تاش : (ف) مذکر؛ بادشاہ کا رضائی بھائی، دودھ

شریک بھائی۔

کوکنار؛ (ف) مذکر؛ پنخاش کا ڈوڈا۔

کوکو پلاؤ؛ (کنگن) وہ پلاؤ جس میں کباب یا سلم انڈے

ڈالتے ہیں۔

کوکو؛ (ف) مذکر؛ انا کا بیٹا، دودھ شریک بھائی۔

کوکھ : موٹا؛ (۱) پیٹ، شکم (۲) (جمانا) اولاد۔

— اُجڑ جانا؛ اولاد کا زندہ نہ رہنا۔

— جلی؛ موٹا؛ وہ عورت جسے اولاد کے مرنے کا صدمہ

پہنچا ہو۔

— سے ٹھنڈی ہے؛ اولاد والی ہے، اولاد سے خوش ہے۔

— کی آبیخ؛ مانتا، مادری محبت۔

— مانگ سے ٹھنڈی رہنا؛ (عو) (دعا) سہاگن

اور صاحب اولاد رہنا۔

کوئل؛ مذکر؛ (ع) (۱) لغز، لوالہ، کور (۲) (انج کی وہ مقلد

جو ایک ہی ذمہ دہی میں بیٹنے کے لیے ڈالتے ہیں۔

کول تار COAL-TAR (انگ) مذکر؛ تار کوئل، ڈامر۔

کوللا؛ مذکر؛ (۱) دروازے کے ادر دھری دیوار (۲)

کائنات کے لیے دی گئی (۳) پولی (۴) (عو) جل گود۔

کوئن: (۱) کلر استفہام (۲) کیا، کوئی، کتنا، کس، کسے،
(۳) بے حقیقت بے تعلق۔

— جانے، کسے خبر، خدا معلوم۔

کونسا / کونسی: کون، کیا، کس قدر، کتنا، کوئی۔

کونسی بات اٹھا رکھی ہے: کون سی کسر باقی رکھی ہے۔

کوٹنے نعل لگے ہیں: (دعو) کیا خاص بات ہے۔

کوئیج سے مرض کی دوا ہے، کس کام کا ہے، محض نکلتا ہے۔

— ہوتا ہے: (۱) کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے (۲) کیا رشتہ ہے۔

کونا: مذکر؛ (۱) گوشہ، زاویہ، (۲) کھونٹ (۳) طون، جانب۔

— کونا دیکھ ڈالا: اچھی طرح دیکھ ڈالنا، اچھی طرح تلاش

کر لینا۔

— کھدرا: مذکر؛ کونا۔

— کونا جھانکنا: بہت تلاش کرنا، جستجو کرنا۔

کونے میں بیٹھ رہنا: گوشہ نشین ہونا۔

— میں پڑا ہونا: سب کے الگ ہونا۔

کوئج: موٹ، قاز، کلنگ، راج ہنس، مرغابی۔

کوئچا: مذکر؛ بھڑ بھڑانے کا بالونکالنے والا کرچھا۔

کوئڈ / کوئڈا: مذکر؛ بجلی کی چمک۔

— پیکنا: کوندا لگنا۔

کوئڈنا: بجلی چمکنا۔

کوئڈا: مذکر؛ (۱) آٹا گوندھنے کا ریشی کا برتن (۲) چھوٹی ناند

تسلا، (۳) عموں ندرنیاز کی شیرینی۔

— کرنا: کسی بزرگ کے نام کی نیاز دلانا۔

کوئڈی: چھوٹا کوئڈا، بھنگ گھوٹنے کا برتن۔

کوئڈیلی: موٹ؛ چھوٹا کوئڈا۔

کوئٹل: COUNCIL (انگ) موٹ؛ جماعت، مجلس، سجا۔

کوئٹلر: COUNCILLOR (انگ) مذکر؛ مشیر، رائے

دہندہ، رکن مجلس۔

کوئین: QUININE (انگ) موٹ؛ (۱) ایک قسم کی کڑوی

انگریزی دوا (۲) سکونا کی چھال کا جو ہر جو دافع لیڈ

بھارت ہے۔

(۳) سنگترا، ایک قسم کی نازکی۔

کولا / کوللا: مذکر؛ (۱) جل ہوئی لکڑی کا بچھایا ہوا گولٹا (۲) سان سے نکالا ہوا سیاہ مادہ۔

کولا، مذکر؛ چوڑے سے اوپر کا وہ حصہ جہاں کمر بند باندھتے ہیں، کولھا۔

کولا مشکانا / مار کر چلنا: کولھے کو حرکت دینا، بل کھاتے ہوئے چلنا، سستی دکھانا۔

کولڈ ڈرنک: COLD DRINK (انگ) موٹ؛ ٹھنڈا مشروب

مشرب۔

کولھو: مذکر؛ تیل پیلنے اور رس نکالنے کی کل۔

— پیلنا: کولھو چلانا۔

— سے پیلنا: اذیت دینا۔

— کابیل: (کنناٹیا) ہر وقت کسی کام میں جٹا رہنے والا

نہایت محنتی۔

— کے پیل کی طرح پلنا: نہایت محنت اور مشقت اٹھانا۔

— میں پلوادینا: سمت سزا دینا۔

کولی: موٹ، گود، دونوں ہاتھ کا حلقہ، آغوش۔

— بھرنار میں لینا / کولیا نا: (۱) گگے لگانا، بانہوں میں

لینا، بغل گیر ہونا (۲) لایچ کرنا، طبع کرنا۔

کولی: (مراٹھی) (۱) جنوبی ہند کی ایک قوم، بیٹی کے چھپے

(۲) (۳) مذکر؛ ہندوؤں کی ایک قوم جو موٹا کپڑا

پننے کا پیشہ کرتی ہے۔

کولیک: COLLEAGUE (انگ) مذکر؛ ساتھی، رفیق،

شریک کار، ہم منصب۔

کومل: (۵) مذکر؛ نرم، ملائم، نازک۔

کوملتا: (۶) موٹ؛ نرمی، نازکی، ملائمت۔

کون، (۷) مذکر؛ دنیا، جہان۔

— وفساد: عالم

— و مکاں: (۸) مذکر؛ دنیا، جہان۔

— کوئین: (۹) مذکر؛ دو فوجی جہان، دنیا، روزِ آخرت۔

کوہم : دنت، مذکر؛ (۱) پہاڑ (۲) دکنائیاں، تھل۔
 — آتش فشاں : ارضانفت کے ساتھ، دنت، مذکر؛ آگ
 لگنے والا پہاڑ، جو لاکھی پہاڑ،
 — الم : ارضانفت کے ساتھ، مذکر؛ استعارتاً مسیتوں
 کا پہاڑ، بڑی مسیت۔
 — پیکر : دنت، پہاڑ جیسے جسم والا تو ہی ہشتہ۔
 — چنگر : دنت، ارضانفت کے ساتھ، باوصلہ آدمی، پہاڑ لیر۔
 — جوڑی : وہ پہاڑ جس پر طوفان کے بعد فوج کی کشتی
 ٹھہری تھی۔

کوہستان / گہسار : دنت، مذکر؛ پہاڑی مقام پہاڑوں کا سلسلہ۔
 کوہستان، دنت، مذکر؛ پہاڑی علاقہ، پہاڑی ملک۔
 کوہستانی : دنت، پہاڑی، پہاڑ کا باشندہ۔
 کوہِ ستم : دنت، مذکر؛ ارضانفت کے ساتھ، ظلم کا پہاڑ (۲)،
 استعارتاً، بڑا ظلم۔
 — قاف : ارضانفت کے ساتھ، قاف (پہاڑ) وہ جگہ جہاں
 آدمی لگاڑ نہ ہو سکے۔
 کوہکن : دنت، (۱) پہاڑ کھودنے والا (۲) مذکر، فردا کا لقب۔
 کوہ کنڈن کا وہ برآؤ، دنت : دنتوں، بے تیرہ کام کرنا، ایسا
 کام کرنا جس میں شقت بہت ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو
 یا بہت کم۔
 کوہکشی : دنت، موتھ؛ پہاڑ کھودنا۔
 کوہ کو کاہ سمجھنا؛ دشوار کام آسان سمجھنا۔
 کوہی : دنت، پہاڑی، کوہستان کا باشندہ۔
 کوہان : دنت، مذکر؛ میل یا اڈنٹ کی پیشگی بندی
 کوہلا : دیکھو کولا۔
 کوہلے کے مول : دکنائیاں، بہت سستا۔
 — کی دلائی میں ہاتھ کالے : بُروں کی محبت میں بنی
 لاری ہے۔

ک - ۵

کوہی : دکنائیاں، بہت سستا۔
 کوہی : دنت، پہاڑی، کوہستان کا باشندہ۔
 کوہان : دنت، مذکر؛ میل یا اڈنٹ کی پیشگی بندی
 کوہلا : دیکھو کولا۔
 کوہلے کے مول : دکنائیاں، بہت سستا۔
 — کی دلائی میں ہاتھ کالے : بُروں کی محبت میں بنی
 لاری ہے۔
 کوئی : علامت تکبیر، (۱) کچھ، کسی (۲) نامعلوم شخص (۳) لگ
 بھگ، تقریباً، اندازاً، تخمیناً (۴) ایک آدھ، آٹا ڈکٹا
 (۵) گویا (۶) تعلق رکھنے والا، رشتہ دار، بیگانہ (۷) کبھی

کہیں (۸) کہاں، کبھی نہیں۔
 کوئی جیسے کہ مرسان کو اپنے کام سے کام : دنتوں، خود غرض
 آدمی جس کو کسی کے رنج و راحت کی پروا نہ ہو۔
 — دَم / لمحہ : تھوڑی دیر، ذرا دیر۔
 — دَم کا مہان : جلد مرنے والا۔
 — کل سیدھی نہیں : کوئی پہلو ٹھیک نہیں، ہر بات
 سیدھی ہے۔
 — کل نہ بیٹھنا : کسی طرح چین نہ لینا۔
 — کوئی : شاؤ نادرا، آٹا ڈکٹا۔
 — گھڑی کا مہان : کچھ دن اور زندہ رہنے والا۔
 — مَرے کوئی ملہا رگائے : دشل، ایک کو صدر
 ہو دوسرا خوشی منائے۔
 — نہ کوئی : ایک نہ ایک۔
 کوئی : (۵) مذکر؛ شاعر۔
 کوئیٹا : موتھ؛ شاعری، نظم۔
 کوئی سمیان : دنت، کوئی۔ سنم۔ مے۔ (۵) مذکر؛ شاعر۔
 کوہیا : مذکر؛ (۱) آنکھ کا کوناد (۲) شریفہ یا بر محل اور کھٹل کا
 دان یا گودا (۳) رشیم کے کپڑے کا ٹول۔
 کوہل : موتھ؛ ایک کالے رنگ کا خوش آواز پرندہ۔
 کوہلیا : موتھ؛ کوہل کی تصنیف۔

- کہانی جوڑنا: (ع) قصبہ بنانا، افسانہ لکھنا۔
 — ہے: سب جھوٹ ہے، قلم ہے، صرف کہنے کی بات ہے۔
 کہاوت، موٹھ، نیشل، ضرب المثل۔
 کہتے سنتے، ہوتے ہوتے، شدہ شدہ۔
 — نہ بنی: کچھ جواب نہ بن پڑا۔
 کہتے کہتے زبان دبا جانا: باتیں کرتے کرتے کسی بات کو نال جانا۔
 — کی زبان نہیں کچڑی جاتی، کہنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا۔
 — ہیں: روایت ہے، کہا جاتا ہے۔
 کھنر: موٹھ، (دہلی) کھنر، سردی کے موسم میں صبح و شام جو زمین کے آس پاس دھواں نظر آتا ہے۔
 کھنرا: مذکر؛ کھنر۔
 کھنرا م: مذکر؛ (۱) آہ دزاری، رونا، ماتم، داویلا (۲) شور و غل، ہنگامہ۔
 کھنریا: (د) مذکر؛ (۱) ایک قسم کا زرد گوند جسے کپڑے یا چمڑے پر رگڑا جائے تو گھاس تینکے وغیرہ کو متناطیس کی طرح ٹھنچ لیتا ہے۔
 کھنریا: برقی خاصیت والا۔
 کھنوا: مذکر؛ (۱) کہاوں کا ناچ اور گانا (۲) جلد جانے میں ایک قسم کا آلہ کہت: (ع) مذکر؛ (۱) غار، گڑھا، پناہ (۲) امواب کہت کے چھینے کی جگہ۔
 کھکشاں: (د) موٹھ؛ کاکشاں۔
 کھنکل: (د) موٹھ؛ بھوسے میں ملی ہوئی مٹی جس سے دیواروں پر استرکاری کرتے ہیں۔ ساہ گل کا مخفت۔
 — کرنا: پلستر کرنا، استرکاری کرنا۔
 کھلا بھینجا: پیام بھینجا۔ کسی کے ذریعہ سے اطلاع دینا۔
 کھلا لینا، اقرار لینا، اگلو لینا، اعتراف کرا لینا۔
 کھلانا: (۱) کسی کی معرفت پیغام بھینجا (۲) کوئی بات منہ سے نکلوانا (۳) مشہور ہونا، نامزد ہونا۔
 کھلنا: موگ، ماش وغیرہ برساں کرنا۔ ہلکا بھوننا
 کھنن: (ع) موٹھ؛ کہنے کا ڈھنگ۔
- کہہ کے گناہ گار ہونا: بے بابا بات کہنا، بے تہیہ بات کہنا۔
 — گزنا: بیان کر دینا۔
 رکہ (د) (۱) کاف بیانیہ، بیان کے لیے (۲) علت، سبب (۳) دفعتاً، ناگاہ (۴) استفہام۔
 کہہ: (د) کم، چھوٹا، کم رتیبہ۔
 کہتر: (د) زیادہ چھوٹا، بہت حقیر، کتر۔
 کہترین: (د) سب سے چھوٹا، سب سے حقیر۔
 کہڑو مٹھ: (د) مذکر؛ چھوٹا، بڑا، امیر وغریب۔
 کہا: مذکر؛ کہا ہوا، کہنا۔
 — سنا: خطا، تصور۔
 — سنی: (دہلی) موٹھ؛ لگائی کھائی، ادھر کی ادھر کہنا، بحث مباحثہ۔
 کہو: بولو، بتاؤ۔
 کہی بدی: موٹھ؛ قول و قرار۔
 — سنی: موٹھ؛ کہنا سنا، ورغلانا، لگائی کھائی۔
 کہے میں آجا: دم میں آجانا، ہبکا دے میں آجانا۔
 کہہرا: مذکر؛ (۱) پانی لانے والا (۲) ڈولی یا لکی اٹھا کر چلنے والا، برتن ماٹھنے والا۔
 کہہاری: کہاروں کی مزدوری، اجرت۔
 کہہاں: (۱) سوالیہ لفظ کس طرف کہہ رہے (۲) بعد، دوری (۳) کب کی جگہ۔
 — راجا بھوج کہہاں گنگوایتلی: (منزل) ادنا کوہلی سے کیا نسبت، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔
 — سے کہاں: بے شکمانے، بہت دور۔
 — کی بلا تھیجے پڑی / لگی: کس مصیبت میں پڑ گئے۔
 — لا کر چھنسانا: کس مذہب میں ڈالا، کس مصیبت میں مبتلا کیا۔
 — مڑ مڑ: کہاں دیر لگائی، کہاں دیر لگائی۔
 کہانت: (ع) موٹھ؛ غیب کی بات بتانا، فال گوئی، پیش گوئی۔
 کہانی: موٹھ؛ (۱) قصہ داستان (۲) فضول اور تعویبات۔

کہن : رفت و آمد پرانا قدیم (۲) آسان کی صفت۔
 سال / گنہ سال : رفت، مذکر؛ بڑھا، بڑی عمر کا۔

سالی : رفت، موشت؛ بڑھاپا، ضعیفی۔

گونا : (۱) نام رکھنا، برا کہنا، گالی دینا، الزام رکھنا، سمجھانا، شعر
 کہنا۔ نصیحت کرنا، تنبیہ کرنا (۲) عرض کرنا، التماس
 کرنا، (۳) بوجا کرنا، بوجا مانگنا (۴) سوال کرنا (۵)
 جواب دینا، پیام دینا (۶) مذکر؛ بات، مقولہ،
 بیان (۷) مذکر، بند، نصیحت (۸) حکم، فرمان (۹)
 بات چیت، گفتگو، عرض، التماس۔
 بجالانا : کہنا ماننا، حکم کی تعمیل کرنا۔

ماننا : کہنا ماننا۔

سننا جا، بہکانا، ورغلانا (۲) بات چیت کرنا، بحث کرنا، ضد کرنا۔

کرنا : کہنا ماننا۔

ماننا : کسی کے کہنے پر عمل کرنا۔

کہنے پر جانا / چلنا : کہنا ماننا، کسی کے بہکاوے میں آنا۔

سننے میں آجانا : لگائی چھائی پر عمل کرنا۔

سے بات پرانی ہوتی ہے، سزے سے نکلی ہوئی بات پھر

بدلی نہیں جاسکتی۔

کوہ نام کو، برائے نام (۲) عیب نکلنے کو الزام لگانے کو۔

کہنجی : رفت، موشت؛ پڑنا پن، بڑھاپا۔

کہنہ : رفت، پڑنا، سال خوردہ۔

مشق : مشاق، تجربہ کار۔

کہنی : موشت، کلائی اور بازو کا جوڑ، ساعدہ بازو۔

کہنے میں : (۱) فرماں بردار (۲) قابو میں، بس میں۔

میں آجانا : کہے کا یقین کر لینا، بہکاوے میں آجانا۔

گنودن کی سنے رات کی : اٹنا سنے والا، ناگجھ۔

کہی : موشت؛ کہا، بات۔

بدی : موشت؛ عہد و پیمان، قول و قرار۔

کہی سنی : موشت؛ دوسرے کی سکھائی ہوئی بات، بہکاوے کی

بات، لگائی چھائی والی بات۔

کہیں : (۱) کسی جگہ، دوسری جگہ (۲) ایسا نہ ہو (۳) بہت

زیادہ (۴) کسی طرح (۵) کسی حال میں (۶) صرف۔
 کہیں تزل و زہرنے کی جگہ نہیں؛ بالکل جگہ نہیں، بڑی تلاش
 اور ہجوم ہے۔

ڈوبے گئی تیرے ہیں : (مثل) بگڑے ہوؤں کا سنورنا
 دشوار ہے۔

دائی سے پیٹ چھپتا ہے : (مثل) خاص لوگوں سے

کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتا۔

کانہ رہنا : کسی کام کا نہ رہنا، نکتا ہونا، برابر
 ہو جانا۔

کی اینٹ کہیں کا روٹا بھان متی نے گنہ جوڑا :

(مثل) لمبے سیدل رشتہ جٹا، اوٹ پٹانگ کام کرتا۔

گر جس کہیں برسیں : (مثل) ایک کا غصہ دوسرے
 پر نکالنا۔

ناخن سے بھی گوشت جدا ہوتا ہے : (مثل) اپنلا

سے اپنے نہیں چھوٹ سکتے۔

ہاتھوں کی لیکریں بھی مٹی ہیں : (مثل) ہونے والی

بات ہو کر رہتی ہے، مقدر کا لکھا پورا ہوتا ہے۔

ک۔ ی

کی : (حرف اضافت) موشت سے پہلے بجائے، کا، کی جگہ

بولتے ہیں، کی خاطر، کے لیے۔

کے : (حرف جار) (۱) جمع کا، کی، الفاظ جمع سے پہلے کا،

کی جگہ مستعمل ہوتا ہے (۲) دونوں کے درمیان اظہار

عطف کے لیے، جیسے پڑھ کے آیا۔

کے : کتنے، چند۔

آمدی کے پیر شدی : (مثل) تھوڑے تجربے پر لاترانی

والے کی نسبت کہا جاتا ہے۔

بار : (محو) کتنی مرتبہ، چند مرتبہ۔

کئے : (رفت) مذکر؛ (۱) حاکم (۲) بادشاہ، ایران کے کیمانی خانہ

کے بادشاہوں کا لقب۔

کیا : (۱) سوالیہ نشان، پھر (۲) کونسا، کتنا، نہیں (۳)

انکار کے لیے (۳) تعریف کے لیے (۵) تحقیر کے لیے (۶) طنز کے لیے (۷) کثرتِ ظاہر کرنے کے لیے (۸) لاپرواہی کے اظہار کے لیے۔
 کیا آسمان کے تارے ہیں: ایسی نواب چیز تو نہیں کہ
 بل نہ سکے۔
 آنکھوں میں خاک ڈالتے ہو: آنکھوں میں گٹا انا۔
 آئے کیا چلے: آنا نہ آنا برابر۔
 کچھ اجارہ ہے: دیکھو، اجارہ کیا ہے۔
 انھیں کے سر سہرہ ہے: یہ کام صرف ہی نہیں کر سکتے۔
 بات ہے: کیا کہنا ہے، کیا خوب، شاباش۔
 بات رہی: کیا عزت رہی۔
 بُرا تھا: بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا۔
 بُرائی ہے: کوئی بُرائی نہیں۔
 بڑا کام ہے: آسان کام ہے۔
 بڑی بات ہے: آسان ہے، مشکل نہیں۔
 بساط ہے: کوئی ہستی نہیں۔
 بکتا ہے: غلط کہتا ہے۔
 بلا ہے: کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، سچ ہے، ناچیز ہے۔
 پدی کیا پدی کا شور مچا: (مثل) بے حقیقت چیز،
 حقیر چیز، معمولی چیز۔
 پڑی ہے: کیا فکر ہے، کیا غرض ہے۔
 پوچھنا ہے: (۱) کیا کہنا ہے (۲) بہت خوب۔
 تماشا ہے: (۱) کیا مذاق ہے (۲) اگلی بات ہے۔
 تمہارے سرخاب کا پر لگا ہے: کیا تم ہی سب سے
 بڑھ کر ہو، تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟
 تھا کیا ہوا، بنا ہوا کام بگڑ گیا، بڑی تبدیلی آگئی۔
 ٹھکانا: (۱) کوئی بھروسہ نہیں (۲) کچھ حد نہیں،
 انتہا نہیں۔
 جانا: کیا نقصان ہونا۔
 جانے / جانے معلوم نہیں، خدا معلوم۔
 جائے گا: کیا نقصان ہوگا۔
 چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی: دکھوں کا ہی کوئی نواہل پر طنز

کیا چھاتی ہے: بڑا حوصلہ ہے۔
 چیز ہے: (۱) کیا مال ہے (۲) بے حقیقت ہے۔
 خبر: کیا معلوم، کچھ خبر نہیں۔
 خدائی ہے: (۱) کیا اللہ کی شان ہے (۲) حیرت طنر
 اور طنے کا اظہار۔
 خوب آدمی تھا: اچھا آدمی تھا (عنوان کسی کے مرنے
 پر کہتے ہیں)
 دال بجات کا فوالہ ہے: (مثل) کچھ آسان بات
 نہیں ہے۔
 دن تھے: کیسا اچھا زمانہ تھا۔
 رکھا ہے: (۱) کچھ باقی نہیں (۲) کیا خصوصیت ہے
 (۳) کیا انوکھا پن ہے۔
 رنگ ہے: کیا حال ہے، کیسی حالت ہے۔
 رمل: (۱) کچھ نہیں رہا، آس ٹوٹ گئی (۲) کچھ کسر باقی
 نہیں رہی۔
 زمانہ ہے: کیسا بُرا وقت ہے۔
 سمجھ کر: ناحق، بیکار، خواہ مخواہ، عبث۔
 سے کیا ہو جانا: کچھ کچھ ہو جانا، بڑی تبدیلی
 آ جانا۔
 شے: (۱) کتنا تھا، (۲) عجیب چیز (۳) بے وقعت بے قدر۔
 ضرور ہے: کوئی ضرورت نہیں۔
 علاج: کوئی تدبیر نہیں، کیا سزا۔
 غضب ہے: اندھیر ہے، قہر ہے، ستم ہے۔
 قیامت ہے: کیا اندھیر ہے، کیسا غضب ہے،
 کیا ستم ہے۔
 کچھ: کس قدر، کتنا، بہت کچھ۔
 کرے گا / کر لے گا: کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بگاڑ نہیں
 سکتا۔
 کسی کا اجارہ ہے: (۱) کسی کی ملکیت نہیں (۲) کسی کا
 خوف نہیں کسی کی پرواہ نہیں۔
 کھا کے: کس برتنے پر۔

کیا سنا منے آیا: بُرے کام کی سزا ملی۔
 آگے آئے گا: بُرائی کا بدلہ ملے گا
 دھرا کارت ہونا: بنا بنایا کام بگڑ جانا، کیا ہوا کام
 خراب ہو جانا۔
 کرنا: ہمیشہ ایک ہی کام کرنا۔

کیا د: (ع) متاثر فریبی، وہ شخص جس کا پیشہ مکہ ہے۔
 کیاری: موثق؛ کھیت یا باغ کا ایک چھوٹا حصہ جس کی
 میٹل بنا دیتے ہیں۔
 کیاست: موثق؛ دانائی، عقل مندی، فہم و فراست۔
 رکیانی: ایران کے قدیم دے، خاندان سے منسوب، شاہان
 ایران مثلاً کیا دس، کیقباد، کیخسرو
 و خیرہ۔

کیبرے: CABARET (انگ) مذکر؛ (۱) ایک نیم عریاں
 انگریزی ناچ جسے رقاصائیں، ہٹلوں، ریستوران
 میں پیش کرتی ہیں۔ (۲) ریستوران وغیرہ میں پیش
 کیا جانے والا ایک تفریحی پروگرام (۳) فرانسیسی
 شراب خانہ (انگلیزڈ امریکہ وغیرہ میں)

کیبل: CABLE (انگ) مذکر؛ (۱) سمندری تار بجری
 برقیہ (۲) جہاز کا رستا، سنگر کی رستی (۳) بھاری برقی رو
 لے جانے والی کئی تاروں کی موٹی رستی۔

کیبن: CABIN (انگ) لکڑی یا تین سے گھیر کر بنا ہوا کمرہ۔
 کینینٹ: (کے۔ بی۔ نٹ) CABINET (انگ) موثق؛
 کابینہ، ذریعوں کی جماعت۔

کیپ: CAP (انگ) موثق؛ ٹوپی، ڈھکنا۔

کیپٹن: CAPTAIN (انگ) مذکر؛ (۱) کپتان، نوجوان کا ایک
 عہدہ دار (۲) سمندری جہاز کا ناخدا (۳) سردار لیڈر
 قاید۔

کیپسول: (کیپ سول) CAPSULE (انگ) مذکر؛
 کچھ لمبی جھلی میں بھری ہوئی انگریزی دوائیں۔

کیٹکی: موثق؛ ایک خوشبودار پھول اور اس کا پودا۔

کیٹلن: KETTLE (انگ) موثق؛ (۱) ایک ڈنڈی دار تین

کیا کنیا: (۱) تعریف کے لیے (۲) طنز کے لیے۔
 کپڑوں: بھر۔ ہوں، کچھ کہا نہیں جاتا، کیا شکایت
 کروں۔

کہیں گے: کیا خیال کریں گے، کیا شبہ کریں گے
 برا کہیں گے۔

کیا: (۱) کیسے کیسے، کون کون (۲) کس طرح، کتنا،
 (۳) بہت کچھ (۴) کہاں کہاں۔

کیا: (۱) بڑا غضب کیا، بہت بُرا کیا، (۲) کوئی غلط
 نہیں کیا (۳) کس مصروف میں لائے (۴) کیا کر دیا۔

کیا کچھ: بہت کچھ، کون کون سی بات۔

کیا گندرا: بڑی مصیبت پیش آئی۔

کیا نہ کیا: سب کچھ کیا، کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

کیا نہ ہوا: سب کچھ ہو گیا، کون سی بات رہ گئی،
 کون سی رسوائی نہ ہوئی۔

کیا: کیا نقصان ہوا؟

لعل لگے ہیں / ایسے لعل لگے ہیں: کون سی ایسی
 خوبی ہے۔

نلتا ہے: کیا خرچ ہوتا ہے، کچھ نہیں جاتا۔

نل جائے گا: کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہ فائدہ ہوگا۔

منہ دکھاو گے: کیا جواب دو گے۔ شرم نہیں آئے گی۔

منہ دکھائیں: ہرے شرمندہ ہیں۔

منہ کا نوالہ ہے: کام کچھ آسان نہیں، مشکل کام ہے۔

منہ لے کر جاؤں: بہت شرمندہ ہوں، منہ دکھاتے

شرم آتی ہے۔

ہو: تمہاری کیا حقیقت ہے۔

ہے: (۱) کیا معاملہ ہے؟ کیا بات ہے؟ (۲) کس بات کا ہے؟

(۳) کیا نتیجہ ہے؟ (۴) یہی ہے (۵) کیوں ہے، کس لیے ہے۔

یاد کرو گے: بہت یاد کرو گے، بہت احسان مند ہو گے

کیا سمجھو گے؟

کیا: مذکر؛ (۱) کیا ہوا کام (۲) بُرے کام۔

آگے آئے: بُرے کام کا بدلہ ملے۔

کیڑے پڑنا: (۱) کسی چیز میں سڑھانے سے کیڑے پیدا ہوجانا (۲)
 (ع) عیب ہونا، نقص ہونا۔

— پڑیں: (ع) دبدبھا، سڑے، خراب ہو۔

— نکالنا: عیب نکالنا، نقص نکالنا۔

— مکوڑے: چھوٹے چھوٹے کیڑے۔

کیس: Case (انگ) مذکر؛ (۱) ڈھکنا، خاد، فریم

(۲) مقدمہ، دعوا، نالش (۳) کسی بیمار کی حالت مرض

واقعا یا حادثہ مرض۔

کیس: مذکر؛ ہسکے بال، مرض کی کلنی۔

کیسا: مذکر؛ (۱) کس قسم کا، کس طرح کا؛ (۲) کس بات کا

(۳) کس قدر، کتنا، نہایت (۴) کس کام کا، محض،

بیکار (۵) کس طرح، کس ڈھنگ سے (۶) کیوں،

کس لیے (۷) تعجب کا لفظ۔

— کیسا: ہر طرح کا، طرح طرح کا۔

کیسے: (۱) کس قسم کا، کس رنگ کا (۲) کیوں (۳) کس طرح کس

حالت میں (۴) کس قدر، کتنے۔ (جمع کیسا کی)

— کیسے: کس کس طرح کے۔

— ہو: مزاج کیسا ہے؟

کیسیر: مؤنث؛ (۱) زعفران۔

کیسیری: زعفرانی، زرد۔

— بانا: مذکر؛ نرد پوشاک جو ہندوؤں میں دولہا کو پہناتے

ہیں۔

کیسیریا: زرد۔ کیسیری۔

— بانا: وہ زرد لباس جو ایک قدیم دستور کے مطابق راجپوت

لوگ کسی لڑائی پر جانے سے قبل زندگی یا موت کا

ہمد کرنے کے لیے پہنتے ہیں۔

کیسہ: (د) مذکر؛ (د) جیب، پاکٹ، تھیلی، خرطیہ

(۲) کھپسا۔

رکیش: (د) مذکر؛ (۱) دین، مذہب (۲) عادت، عود (۳)

صفت (۴) طریقہ، روش۔

کیس: Case (انگ) مذکر؛ نقد، نقدی، روپا، پیسا۔

جس میں چائے یا پانی کو جوش کرتے ہیں۔

کیتھا: مذکر؛ ایک کٹھا پہل اور اس کا درخت۔

کیتھی: مؤنث؛ وہ ہندی جو کاتھو کا دستور لکھتے ہیں۔

کیٹ: مؤنث؛ چراغ کی گاد، جتنے کا میل، تلچٹ، ہرہ میل

جو درخت کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔

کیٹلاگ: Catalogue (انگ) مذکر؛ (دکتابوں) کی

ترتیب وار فہرست۔

کیچ: مؤنث؛ کچھڑ۔

کیچڑ: مؤنث؛ (۱) گانا، دلدل، گیلی مٹی، سڑی مٹی (۲) تلچٹ

(۳) آنکھ کا میل، چھیڑ۔

— اچھالنا: بنام کرنا، عیب لگانا، رسوا کرنا۔

کیٹھن: کیٹھنلی؛ (۱) سانپ کی سفید جھلی جو اس کے جسم پر

سے اترتی ہے (۲) لباس، پوشاک۔

کیچوا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا بے اور سرد رنگ کا رنگینے والا

کیڑا، جو اکثر نمناک زمین میں برسات کے موسم میں

پیدا ہوتا ہے (۲) ایک قسم کا کڑا جو بیٹ میں پیدا

ہو جاتا ہے۔

کید: (د) مذکر؛ مکر، فریب، دھوکا، دغا۔

کینڈٹ: Cadet (انگ) مذکر بھری یا فوجی کالج کا طالب علم۔

کور: Corps (انگ) اسکولوں میں

ابتدائی فوجی تربیت حاصل کرنے والے طلبہ۔

کیسرتن: (۵) مذکر؛ بھجن، حمد۔

کیسری: مؤنث؛ (۱) کچا آم (۲) ایک قسم کا زریور جس میں عطر

رکھ کر گلے میں پہنتے ہیں (۳) دم نیلی آنکھوں والی عورت

گرہنی (۴) کیسری کی شکل کا مصنوعی پیل۔

کیسکٹر: Character (انگ) مذکر؛ (۱) چال چلن،

کردار، سیرت (۲) ہندسہ، حرفت، رسم خط۔

کیٹرا: مذکر؛ (۱) رنگینے والا لانا، رنگین، دیگ (۲) حشرات

الارض، سانپ، بچھو (۳) جھلی، گھٹل۔

— کھیلانا: دم، خواہش، نفسانی کام ہونا۔

گٹنا: (۱) دیگ گٹنا، گٹن لٹنا، کسی چیز میں نقص پیدا ہونا۔

سب سے چھوٹا آم (۵) لوسہ کی کیل جو بھٹی میں لگی ہوتی ہے۔

کیل کانٹا: مذکر؛ ہتھیار، اوزار، اسلحہ، سامان۔
گھر: مذکر؛ (انگ) سلاٹر، اوس، اندر۔

کانٹا: (۱) چھنی یا مہاسے کو دبا کر اس کے اندر سے پیپ کا خشک مادہ نکالنا (۲) خوب ٹھیک بنانا، بہت مارنا پٹینا۔

کیلا: مذکر؛ کھوٹا، بڑی میخ۔

کیلا: مذکر؛ ایک قسم کا لبا شیا پھل اور اس کا درخت۔

کیلے کی کیل / گود: کیلے کی پھلیوں کا گچھا۔

کیلنا: (۱) منتر سے سانپ کو قابو میں کرنا (۲) مکان کے کونوں میں عمل پڑھ کر کیلیں گاڑنا (۳) جاو یا منتر کے زور سے کسی شخص کو اپنے خلاف بولنے سے باز رکھنا منہ بند کرنا (۴) کیلیں جڑنا، کیلیں ٹھوکرنا، (۵) (کھانا پینا) آنے جانے سے روک دینا۔

کیلنڈر: CALENDER (انگ) مذکر؛ جتیری، تقویم۔

کیلو گرام: ریوٹانی، مذکر؛ پکا ہوا، پختہ، غذا ہضم ہونے کی حالت کا پہلا درجہ۔

کیلومیٹر: KILOMETRE (انگ) مذکر؛ ایک ہزار میٹر کا پیمانہ [۳۲۸۰.۸۹ فٹ] — ۱/۵ میل۔

کیلی: مونث؛ (۱) بگڑی کی کھوٹی (۲) لوسہ کی لاش (۳) کشتی کا ایک دافو (۴) دھسے کے سوراخ کی کیل۔

کیمبرج: CAMBRIDGE (انگ) مونث؛ انگلستان میں ایک مقام جہاں کی یونیورسٹی شہور ہے۔

کیمپ: CAMP (انگ) مذکر؛ چھاؤنی، ڈیرا، خیمہ، پڑاؤ، لشکر گاہ۔

یکمرا: CAMERA (انگ) مذکر؛ فوٹو تارنے کا آلہ۔

مین: MAN (انگ) مذکر؛ فوٹو گرافر، تصویر اتارنے والا۔

کیمسٹ: CHEMIST (انگ) مذکر؛ دواساز، دوا فروش، کیمیا داں۔

کیمسٹری: CHEMISTRY (انگ) مونث؛ علم کیمیا۔

کیش بک: CASH BOOK (انگ) مونث؛ یہی کھاتہ وہ کھاتا جس میں نقدی کی آمد و خرچ کا حساب درج ہو۔

کیشیر: CASHIER (انگ) مذکر؛ خزانچی۔

کیف: (ف) مذکر؛ (۱) نشہ، سرور (۲) کیفیت، حالت (۳) وہ کیفیت جسے مرث محسوس کیا جاسکے۔

وکم: (ع) مذکر؛ کیسا اور کتنا۔

کیغی: (۱) عمور، سرشار، نشہ باز، مدہوش، متوالا، (۲) کیفیت یا خاصیت کے متعلق نوعی۔

کیغی: (ف) مذکر؛ سزا، پاداش، برے کام کا بدلہ، بدی کا عوض۔

کردار: (۱) اضافت کے ساتھ (ف) مذکر؛ کیے کی سزا، سزائی کا انجام، برے کام کی سزا۔

کردار کو سپنچنا: کیے کی سزا پانا۔

کیفے: CAFE (انگ) تہوہ خانہ، کافی ہاؤس، سٹورن کیفیت / کیفیت: (ع) مونث؛ (۱) حالت، ماجرا، حقیقت (۲) رنگ ڈھنگ (۳) شرح، تفصیل (۴) بہار، رونق (۵) لطف، مزہ، نشہ (۶) رپورٹ۔

طلب کرنا: (قانونی اصطلاح) سبب معلوم کرنا، شناسا کرنا، سرکاری طور پر دریافت کرنا۔

لکھنا: رپورٹ لکھنا۔

میں رہنا: نشے میں رہنا۔

کیفے شیریا: CAFETERIA (انگ) مذکر؛ وہ سٹورن جہاں گاہک کو کھانے پینے کی چیزیں کاؤنٹر پر جا کر خود لینا پڑتی ہیں۔

کیک: CAKE (انگ) مذکر؛ نان کی طرح کی ٹکیہ جو رڈا، میدہ، انڈا وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔

کیکر / کیکرٹ: مذکر؛ ایسی شاخوں والا بھول۔

کیکرٹ: مذکر؛ بھوکے شکل کا ایک آبی کتراء، سرطان، عقرب۔

کیل: مونث؛ (۱) لوسہ کی کھوٹی (۲) مہاسوں کے اندر کی جمی ہوئی پیپ (۳) ایک قسم کا ناگ کا زیور (۴) ایک ہی درخت کے آموں میں

(۲) کیوڑے کا عرق۔
 کیوں: (۱) سوائیہ لفظ، کس سبب سے؛ کس لیے؟ (۲) تاکید کے لیے۔
 بے / برے: (حقارتاً) کیوں جی، کیوں صاحب کی جگہ۔
 جی: کیوں صاحب۔
 کر: (۱) کس طرح، کیسے، کس انداز سے، (۲) کس ڈھنگ سے۔
 کہ: (۱) اس لیے کہ، اس طرح کہ (۲) اس وجہ سے کہ۔
 مَرے جاتے ہو: کیوں گھبرائے جاتے ہو؟ جلدی کیا ہے؟
 مغز کھاتا ہے: چپ رہ، بگ بگ نہ کر۔
 نہیں: ضرور، یقیناً، بے شک۔
 ہم نہ کہتے تھے: آخر وہی بات ہوئی جو ہم کہتے تھے۔
 کیسے کی سزا پانا: برے فعل کی سزا پانا۔
 کئی: چند۔
 بار: چند مرتبہ۔

کھا - کھ - ا

کھا: کھانا کا امر۔
 بیٹھنا: رقم دبا لینا۔ غبن کرنا۔
 بی ڈالنا: آڑا دینا۔
 جانا: (۱) بھگ جانا، چٹ کر لینا (۲) مال مار لینا
 غبن کر لینا (۳) تباہ کر دینا، اھاڑ دینا (۴) آڑا لٹا کر لینا۔
 کے ڈکار نہ لینا، دشل، پر لیا مال بالکل معقم کر جانا۔
 کھا بڑ: نا ہوار۔ اونچا نچا۔
 کھانا: مذکر؛ حساب کی کتاب، روزنامہ۔
 بہی: موٹ؛ ہر سامی کے حساب کی الگ الگ حساب کی کتاب۔
 کھاتا بیٹا: مذکر؛ خوش حال۔
 کھاٹ: موٹ؛ ہانگ۔ چارپائی۔
 سے لگ جانا: دم، صاحب ڈراش ہونا، بہت بیمار ہونا۔
 کھولا: مذکر؛ دم، مال اسباب، انگریز کھنڈ، بوریاء، بندھنا۔
 کھاج: موٹ؛ کھیل، غارشت۔
 کھا جا: مذکر؛ ایک قسم کی مٹھائی۔

کیمیا: موٹ؛ (۱) مادے کے اندرونی خواصوں کا علم (۲) وہ علم جس میں مادے کی اجزائی صورتوں سے بحث ہوتی ہے۔
 (انگ) کیسٹری، (۳) (ع) دھاتوں کو سونا بنانے کی روایتی صنعت، (۴) (ا) (و) نہایت مفید مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ (۵) دکھائیٹا، تباب، اکسیر۔
 بنانا: (۱) چاندی سونا بنانا (۲) مطلب حاصل کرنا۔
 سازگر: (ف) کیمیا بنانے والا۔
 کیمیا ئے آٹھ: (ف) موٹ؛ سُرخ گندھک جس سے تانبے کو سونا بناتے ہیں۔
 کین: (ف) موٹ؛ (۱) کینہ، بغض، عداوت، بیر (۲) فریب۔
 کینٹین: CANTEN (انگ) موٹ؛ چلے گھر جو کسی دفتر، کالج یا ادارے سے ملحق ہو۔
 کینچل بدلنا: (۱) سانپ کا پرانی جھلی اتارنا (۲) ذطرافشا، لباس بدلنا (۳) دکھائیٹا، رنگ بدلنا۔
 کینچو: دیکھو کچو۔
 کینڈرا: مذکر؛ نمونہ، پیانہ، ڈول، دھج۔
 کینسٹر: (ف) کینسٹر (انگ) مذکر؛ ٹین کا ڈبا جو اکثر مٹی، کاسٹل یا دوسری اشیاء رکھنے کے کام آتا ہے (۲) دیکھو کینسٹر۔
 کینسٹر: CANTER (انگ) مذکر؛ سلطان راج، پھونسا، اکلمہ، کینڈہ: (ف) مذکر؛ بغض، حسد، دشمنی، عداوت، کپٹ۔
 پرور: کینہ رکھنے والا۔
 گوزور: (ف) حاسد، کپٹی، دل میں بغض رکھنے والا بدلا لینے والا، دشمن۔
 کینوال: (ف) مذکر؛ (۱) زل، ستارہ، سنچر (۲) (مجازاً) ساتواں آسمان۔
 کیوہنم: CUBER (انگ) موٹ؛ مصوری کا ایک نیا طریقہ جس میں تصویر ہندسوں کا مجموعہ معلوم ہوتی ہے۔
 کیوٹی: موٹ؛ کئی قسم کی ملی ہوئی دالیں۔
 کیوٹرا: مذکر؛ (۱) ایک دھت اور اس کا خوشبودار پھول،

کھاو: موٹھ، مذکر؛ کوڑا کرکٹ، سڑھی لگی چیزیں، پانس۔
کھاوڑ: موٹھ، ترائی، فٹیب کی زمین جس میں بلندی سے
آکر پانی جمع ہوتا ہے۔

کھاوی: دیکھو کھڈر۔
کھاو: مذکر؛ (۱) ننگ، شور، شوریت (۲) بستی مٹا کرنے
والی چیزیں۔

کھاوار: مذکر؛ (۱) نمکین کڑوا تلخ (۲) رنگی جال (۳) (۵) شادی کی لیک-ٹیم
کھاوی: موٹھ؛ نمکین۔

کھاووا: مذکر؛ ایک قسم کا سرخ موٹھا سوتی کپڑا۔
کھاڑی: موٹھ؛ پانی کا وہ تنگ حصہ جو دو ترک خشکی میں
گیا ہو۔ (طبع)۔

کھال: موٹھ؛ (۱) چڑھا، جلد، (۲) (دہلی) چھلکا، پوست،
پھال (۳) چڑھے کی دھوئیں۔

آتارنا: (۱) کھال کھینچنا (۲) چڑھی اُدھیڑنا (۳) سزا
دینا، بدل لینا۔

میں مست ہونا: اپنی حالت میں خوش ہونا۔

کھالا: مذکر، دم، وہ نیچی زمین جس میں بہت سے ندی نالے
ہوں۔ گڑھا، غار، نالا، ندی۔

کھان: موٹھ؛ وہ جگہ جہاں سے معدنی اشیاء برآمد
ہوتی ہیں، کان (۲) مخزن، خزان، معدن، پورٹ،
(۳) افراط کثرت، بہتات۔

پان: (۱) مذکر؛ کھانا پانی۔

کھانا: مذکر؛ (۱) خوراک، خاصہ (۲) ہنسیافت، دعوت۔

پانی حرام کر لینا: قطعاً کچھ نہ کھانا۔

پینا: مذکر؛ (۱) دانہ پانی (۲) خورد نوش۔

وانا (دھو) برادری کو دی جانے والی دعوت۔

زہر مار کرنا: مٹا سنا سے کھانا بہ دلی سے کھانا۔

وہاں کھاؤ تو پانی یہاں پیو: آنے میں دیر نہ کرو
فوراً چلے آؤ۔

کھانے کھیلنے کے دن: بے فکری کا زمانہ۔

کے دانت اور ہاں دیکھانے کے اور: ظاہر باطن

کے خلاف، قول کچھ عمل کچھ۔

کھاؤں کھاؤں کرنا: (دہلی) بہت فتنہ کرنا، چڑھنا، دکھانا۔
کھاچ / کھاچھا: مذکر؛ (۱) ٹاپا، جھابا، مرفیوں کے بند کرنے کا
ٹوکرا، (۲) چھوٹا گڑھا، (۳) خوان پوش۔

کھاچی: موٹھ؛ ڈھکن والی ٹوکری۔

کھانڈنا: (عم) ایک جگہ سے کھو کر دوسری جگہ درخت لگانا
درخت لگانے کے لیے زمین کھودنا، زمین میں کھود کر
گڑھا کرنا۔

کھانڈ: موٹھ؛ شکر، پھنی۔

کھانڈا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کی سیدھی دورخی تلوار تینہ،
(۲) قصائی کا بُندا، مچھلی کا قتلہ۔

بھنا: تلوار چلانا، جنگ ہونا۔

کھانڈنا: مچھڑے مچھڑے کرنا، کھلنا۔

کھانستا: (۱) کھانسی کی آواز نکالنا، (۲) کھنکارنا۔

کھانسی: موٹھ؛ کھنکھن، سُرف، سُعال۔

کھا شکر: بے مدد خشک چیز۔

کھاو: (۱) بہت کھانے والا، پیٹو (۲) رشوت لینے والا،
(۳) چٹورا۔

اُڑاؤ: فضول خرچ، چٹورا۔

کھلاؤ: سخی، اوروں کو مال کھلانے والا۔

کھائی: موٹھ؛ خندق، وہ گڑھا جو قلعہ یا شہر پناہ کے چاروں
جانب کھود دیتے ہیں۔

کھایا پیا انگ نہ لگنا: کھانے پینے کے باوجود کڑور نہ ہونا، غذا
کا جزو بدن نہ ہونا۔

نکالنا، (کناشتا) خوب پیٹنا، خوب محنت لینا، ٹھکانا
بدلا لینا۔

کھینا: مذکر؛ اٹنا، بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

کھینا رکھنا: (۱) چھہ جانا، گڑھا جانا (۲) پسند آنا، آنکھوں
کا ٹھکانا، (۳) ہونوں ہونا، زہب پینا۔

کھیناچ / کھینچ: موٹھ؛ (۱) ہانس کا ٹکڑا (۲) پھانس۔

کھینا: جذب کرنا، پیوست کرنا۔

درج کرنا، رقم کو کھاتے میں درج کرنا۔

کھٹ - ط

کھٹ : موتھ؛ (۱) دو کڑی چیزوں کے باہم ٹکرانے کی آواز۔
(۲) کھاٹ کا مخفف۔

کھٹا کھٹ : موتھ؛ دو کڑی چیزوں کے مسلسل ٹکرانے کی آواز۔
کھٹ بنا : مذکر؛ چار پائی بننے والا۔

— پیٹ : موتھ؛ (۱) گھوڑے کی ٹاپ کی آواز (۲) کھڑاؤں
پہن کر چلنے کی آواز (۳) لڑائی، بھڑائی، اُن بن، ناچائی۔
— ہو جانا : لڑائی جھگڑا ہو جانا۔

— پیٹی : کھڑاؤں، پٹا لگا ہوا لکڑی کی کھڑاؤں۔

— سے : رنونا۔

— کھٹ : موتھ؛ (۱) دو چیزوں کے مسلسل ٹکرانے یا کوٹے
جانے کی آواز (۲) جھگڑا۔

کھٹ، موتھ؛ کسی چیز کے ٹکسنے کی آواز (۲) کسی چیز کے ٹکرانے
کی آواز (۳) دکنا تینا، ترک ملاقات۔

کھٹ بڑھئی : موتھ؛ ایک بلی چوچ کا چھوٹا پرندہ جو پیرو
کے تنوں سے کیڑے نکال کر کھاتا ہے۔

کھ - ت

کھتا : مذکر؛ وہ گڑھا جس میں انج بھرا جاتا ہے (۲) برف دہاکر
رکھنے کا گڑھا (۳) مقبولوں کے ڈالنے کا گڑھا، کھتی
(۴) ذخیرہ۔

کھتے میں پڑ جانا : دم کسی معاملے کا کھٹائی میں پڑ جانا، ملتوی ہو جانا۔
کھڑائی : موتھ؛ کھتری کی تانینٹ۔

کھتر : مذکر؛ جس کے منہ پر چمک کے گہرے داغ ہوں۔
کھتری : مذکر؛ ہندوؤں کی ایک ذات۔

کھتوئی : موتھ؛ گاٹو کی زمین کے حساب کتاب کا کاغذ۔
کھتی : موتھ؛ کھتا۔

— کا انج : دکنا تینا، خراب فلتہ۔

کھتیا نا : دم، ہر دم کا حساب، رفرنہ پانچ سے چھانٹ کر کھاتے میں

کھٹا : مذکر؛ (۱) ایک ترش پھل، ایک ترش لیمو (۲) بڑی
چار پائی، جس کے پاپے اوپے ہوں، (۳) ترشی، ترش۔
— چوک / چڑنا : بہت کھٹا۔

— مینٹھا : کھٹ مٹھا۔

کھٹی : موتھ؛ ترش۔

— میٹھی بائیں : بڑی مٹھی باتیں۔

کھتے میٹھے دن : مذکر؛ (۱) بڑے دن (۲) حمل کا زمانہ۔

— کوچی چاہنا : لذیذ غذا کو جی چاہنا (۲) حاملہ عورت کو
کھٹائی کی خواہش ہونا۔

کھٹاس : موتھ؛ (۱) ترش، کھٹائی (۲) دہلی خٹکی، کھفت،
(۳) مذکر؛ (دہلی)، ایک قسم کا نیولا۔

سے باہر نکلنے کے لیے اندر سے انڈے میں چوبیس مارنا، (۳) کسی

چیز کا اگلے دانوں سے توڑنا، ڈور میں کھٹکی دینا۔

کھٹکی: موتھ، پتنگ کی ڈور کو دانوں سے کاٹ کر زور کر دینا،
 اس طرح کا ٹٹا کہ ڈور آدمی جڑی رہے
 کھٹکیٹھے: (عوم) جھگڑے کی باتیں۔

کھٹلے: مذکر؛ (دع) ۵، کان کے اوپر کے سوراخ جو زیور کے
 لیے عورتیں چھدواتی ہیں۔

کھٹ مہنا: مذکر؛ کھٹا، مہنا۔

کھٹل: مذکر؛ (۱) چارپائی کا کثیر، (۲) ایک سیاہ رنگ کا پہاڑی
 پھل۔

کھٹولا: مذکر؛ چھوٹا پتنگ، چھوٹی چارپائی۔

کھٹولی: موتھ؛ چھوٹا کھٹولا۔

کھٹیا: موتھ؛ دم، (۱) پتنگی (۲) ۵، عم، جنازہ۔

سینا: بیمار پڑنا، صاحب فرماش ہونا۔

نکلنا: جنازہ نکلنا۔

کھٹیا: موتھ؛ ریوڑی، ایک مٹھائی کا نام۔

کھ - ح

کھج: (۵) موتھ؛ (۵) (عوم) چڑ، غصہ، ناراضی، خفگی، سڑکیگی
 ملال۔

کھجانا: (۵) (۱) چڑانا، چھیڑنا، غصہ دلانا، (۲) مزاح، ایسی بات
 کہنا جو سببِ خفا کا باعث ہو۔

کھجانا بھر کھیلانا: (۱) ناخن سے آہستہ آہستہ سنبھلانا،
 (۲) کھجلی ہونا۔

کھجلا: مذکر؛ ایک قسم کا خستہ اور سیت دار مٹھا کپوان، کھا جا۔
 کھجلی: موتھ؛ (۱) کھاج، غارش، غارشت، (۲) پھل (۳)
 ایک سوداوی مرض کا نام۔

کھٹنا: (کننا تیا) (۱) مار کھلے کو می چاہنا (۲) شہوت
 ساز و ر ہونا۔

کھجور: موتھ؛ ایک قسم کا چھوٹا (۲) خرما اور اس کا درخت،
 (۳) ایک قسم کی مٹھائی۔

(۳) مذکر؛ (دہلی) ایک قسم کا نیولا۔

کھٹائی: موتھ؛ (۱) تڑھی (۲) کچے آم کی سوکھی ہوئی پھانگ۔

میں پڑنا: (۱) زبور کا تڑھی میں پڑنا (۲) کننا تیا، توتھ
 میں پڑنا، جھیلے میں پڑنا، کسی چیز کے ملنے میں دیر ہونا۔

میں ڈالنا: ٹال شول کرنا، دیر لگانا، بہانہ کرنا۔

کھٹائی: (دہلی) کھوٹ، قصور، دغا۔

کھٹراگ: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا راگ جس میں کئی راگنیوں کے
 سُر ملے ہوتے ہیں (۲) مذکر؛ جھگڑا، بھگڑا، جھگڑا۔

پھیلا نا، جھگڑا پھیلا نا، جمعہٹ کرنا۔

میں پڑنا: بھیکھے میں پڑنا، جھال میں پڑنا۔

کھٹنگ: موتھ؛ (۱) غلش، چھین (۲) ٹیس (۳) رنج،
 غم، گلہ، شکوہ، ملال۔

جانا: (۱) چھید جانا، (۲) کننا تیا، دل میں اثر کر جانا (۳) ناگوار
 ہونا، مبرا لگنا (۴) شبتہ ہو جانا (۵) بگاڑ ہو جانا، آن بن ہو جانا۔

کھٹکھٹانا: کھٹکھٹانا، کسی کو ہوشیار کرنا، دروازے
 پر دستک دینا۔

کھٹکنا: (۱) درد کرنا (۲) کر کر معلوم ہونا (۳) ڈرنا، دہنا، بچھکانا
 (۴) دل میں ڈرنا، (۵) ہوشیار ہو جانا (۶) بڑھنا ہونا۔

کھٹکا: مذکر؛ (۱) ہلکی آواز، آہٹ، پانڈی چاپ (۲) غلش،
 کھٹک (۳) بانس کا ٹوٹنا (۴) چٹھنی، آبی (۵) قفل کا کھٹکا
 (۶) آواز کی گٹھری (۷) اندیشہ، ڈر، (۸) تزد، فکر۔

گذرنا: اندیشہ ہونا،

لگا رہنا: فکر رہنا، اندیشہ رہنا۔

مٹنا: اندیشہ دور ہونا۔

ہوا: رز کا ہوا، کشیدہ خاطر۔

ہونا: آہٹ ہونا، فکر ہونا، تردد ہونا، خوف و اندیشہ ہونا۔

کھٹکا: مذکر؛ (۱) آہٹ (۲) نقصان، ضرر (۳) اندیشہ،
 دغدغہ، (۴) گمان، شک۔

کھٹکار: موتھ؛ پھل کے بنسی کو جنبش دینے کی آواز۔

کھٹکارنا: پھل کا بنسی کو جنبش دینا۔

کھٹکنا: (۱) چھلکا آٹا کرنا (۲) چڑیا یا مرغی کے بچے کا انڈے

کھڈر: مذکر؛ کرگھے پر بننا ہوا کپڑا۔
 کھڈرا: مذکر؛ (۱) کٹر گھرا، اونچا نچا، ناہوار، سطح والا، (۲)
 کونا (کونا کے ساتھ مستعمل ہے)
 کھڈنا: کھو دا جانا، نقش کیا جانا۔
 کھڈوانا: (۱) کندہ کرنا، نقش کرانا (۲) جڑ سے نکلوانا،
 (۳) کھڈانا۔

کھڈیڑ: مونث؛ پیچھا، تعاقب۔
 کھڈیڑنا: تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، رگیدنا۔

کھ - ڈ

کھڈ: مذکر؛ دو پہاڑوں کے بیچ کا میدان، غار، گڑھا۔
 کھڈی: مونث؛ (۱) قدیم، جس پر پیٹھ کر پاخانہ پھرتے ہیں،
 (۲) (جھاننا) دانتوں کے سنواراخ۔

کھ - ر

کھر: مونث؛ سوکھی گھاس، پھوس۔
 کھر: مذکر؛ گائے بچی اور برہن وغیرہ کے ناخن، جڑا ہوا ستم۔
 کھردی: مونث؛ گھوڑے کو نعل لگانا۔
 کھر: مونث؛ کھاشی کی آواز۔
 کھر کرنا: کھاشنا۔
 کھرا: مذکر؛ (۱) خالص، بے میل (۲) صاف، پاک، بے ریا،
 خوش معاملہ (۳) صاف گو (۴) کھوٹا کند۔
 کھرن: خوش معاملگی، خوبی، دیانت داری، صاف گوئی۔
 کھرنا: پرکھنا۔
 کھوٹا: مذکر؛ اچھا بُرا، برا بھلا۔

کھری: مونث؛ کھرا کی تانیٹ۔
 کھری: صاف بات، بے لاگ، غیر جانبدارانہ بات۔
 کھری: کھری کھری کہنا؛ بُرا بھلا کہنا، صاف
 صاف کہنا، سچی پوری نہ رکھنا۔
 کھری: مزدوری جو کھاکام: (مثل) جب مزدوری جلدی،
 لیتی ہے تو کام بھی اچھا ہوتا ہے۔

کھ - ح

کھچا: مذکر؛ تنا ہوا، کسا ہوا، (۲) کشیدہ، ناراض، (۳)
 تیسر، مہنگا۔
 کھچا کا: مذکر؛ کسی آدمی کو لگنے والی تلوار کی ضرب کی آواز۔
 کھچا کھچ: (۱) خوب بھرا ہوا، (۲) بہت زیادہ کثرت سے (۳)
 موٹ؛ چچا جتی، ہتھیاروں کے جسموں پر چلنے اور گوشت
 میں گھسنے کی آواز۔
 کھرنا: ٹھوس ٹھوس کر بھرنا۔
 کھاؤ: مذکر؛ تناؤ، کشیدگی۔

کھچاؤٹ: مونث؛ کسا ہوا (۲) دم (۳) رکاوٹ، کشیدگی۔
 کھچ جانا: (۱) کشیدہ ہونا، (۲) کنارہ کش ہونا، ناراض ہو جانا۔
 کھچڑا: مذکر؛ ایک قسم کا نیکین کھانا جس میں گوشت، گیہوں
 چاول اور سبب قسم کی دالیں پڑتی ہیں۔
 کھچڑی: مونث؛ (۱) ایک خوراک جو دال چاول ملا کر پکاتے ہیں
 (۲) بیری کا پھول (۳) ملی تلی اشرفیاں اور روپیے (۴) خفیہ
 صلاح و مشورہ (۵) سیاہ اور سفید بال (۶) ہندوؤں
 کا ایک تہوار۔
 کھچانا: دکھانا، خفیہ صلاح و مشورہ کرنا، سازش کرنا۔
 کھچنا / کھینچنا: (۱) تننا کسا جانا، جکڑا جانا (۲) گھسیٹنا جانا (۳)
 کشیدہ ہونا، آزرہ ہونا، احتیاط کرنا، (۴) بھلنا (۵) طول
 کھینچنا، (۶) بھلنا، خارج ہونا، (۷) آترنا، نقل ہونا، بنا،
 (۸) عکس آترنا، شبیہ آترنا، (۹) مہنگا ہونا، چڑھ
 جانا، (۱۰) کشش ہونا۔
 کھچوٹا / کھنچوٹا: کھینچنا کا متعدی۔

کھ - د

کھڈائی: مونث؛ (۱) کھوٹنے کا کام (۲) کھوٹنے کی اجرت۔
 کھڈبند: مونث؛ دال یا چاول وغیرہ کو کھنے کی آواز۔
 کھڈبڈانا: آبلنا، کھوٹنا۔
 کھڈبڈی: مونث؛ (۱) کھلی، پھل، فکر و اندیش۔

کھڑنک : نہایت سوکھا۔
کھڑکی : مونث؛ (۱) اٹھی ہوئی، سیدھی (۲) کچی، ادھ پکری
ایک قسم کی تیراکی۔

— بولی : (۱) مردانہ لہجے والی بولی (۲) دہلی کے مشرقی
قرب وجوار میں بولی جانے والی وہ بولی جس میں عربی
فارسی کے الفاظ طے سے اردو زبان بنی۔

— پچھاٹریں کھانا : کھٹے ہوئے سہکر گر پڑنا۔
— پیرانی : کھٹے ہو کر پیرنا۔

— فسور : مسلم سور۔

— ہنڈی : وہ کھنڈی جس کا روپا ادا نہ ہوا ہو۔

کھڑے پانی نہ پینا : ذرا ٹھہرنا، فوراً چلا جانا۔

— پیر کا روزہ رکھنا : (مراٹھا) برابر کھڑا رہنا مینے
کا نام نہ لینا۔

کھڑے کر لینا : نقد کرنا، حاصل کرنا، کرنا۔

— کھڑے : (۱) فوراً، جلد (۲) دیکھ کھڑے رہ کر (۳) ذرا۔

— کھڑے ہو جانا : تھوڑی دیر کے لیے مل جانا۔

کھڑ پیچ : مونث؛ (۱) ہلکا زخم، جھیل جانے سے جسم پر پٹنے والا زخم
(۲) کیل کاتنے میں پھینس کر جو کپڑا پھٹ جاتا ہے اسے

بھی کھڑ پیچ کہتے ہیں (۳) دہلی کینہ، بعض نکتہ بینی، بھرا۔
— رکھنا : عداوت رکھنا، کینہ رکھنا۔

— لگتا : (دہلی) کھونچ لگنا۔

— سکا لٹا : نفص سکا لٹا، تکرار کرنا، عداوت نکالنا۔

— کھڑ پیچنا : مذکر؛ نکتہ چین، حاسد لہیری۔

کھ - س

کھس پھس : مونث؛ کھس پھس۔

کھس پھس : مونث، کانا پھوسی، سرگوشی، درختوں کا اس

طرح باتیں کرنا کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے نہ سمجھ سکے۔

کھسرا : مونث؛ ایک قسم کی چھوٹی ٹیچک۔

کھسکانا : (۱) دور بٹانا، ملتوی کرنا (۲) سرکانا، بڑھانا (۳)

چھرانا، غائب کر دینا، (۴) ڈانٹنا اور نہ کرنا۔

کھڑا ہونا : (۱) اٹنا، اُستادہ ہونا (۲) برپا ہونا، بنیا د پڑنا،
(۳) شہرنا، تمسنا (۴) گردنا، نصب ہونا، (۵) کسی انتخابی
مہم کا امیدوار بننا۔

کھڑا کا : مذکر؛ کھڑا کا، کھٹکا۔

کھڑا تو : مونث؛ ایک قسم کی لکڑی کی جوتی، لکڑی کی چل نعلین۔

کھڑ بڑ : مونث؛ (۱) چیزوں کے اٹنے پٹنے کی آواز (۲) کھٹ پٹ۔

کھڑ بڑا کر : کھڑ بڑ کر کے، گھبراکے۔

کھڑ پیچ : مذکر؛ کوئی عیب کانا، جھٹ کانا۔

کھڑ کا : مذکر؛ آہٹ، کھٹکا۔

— ہونا : آہٹ ہونا، کھٹا ہونا۔

کھڑ کا نا : (۱) دستک دینا، زخمیر ملانا، (۲) (دہلی) خبر لینا، دھمکانا

جھڑکنا (۳) آواز کرنا (۴) متنبہ کرنا، ہوشیار کرنا۔

کھڑ کنا : (۱) سوکھے پتوں کا بیجا (۲) تلواریں چلنے کی آواز ہونا،

(دہلی) بجاڑنا،

کھڑکی : مونث؛ (۱) جھڑکا، غرز، چھوٹا دسوارہ (۲) پگڑی

کے اوپر کا حصہ۔

کھڑکی دارانگر کھا : وہ انگر کھا جو سینے پر سے کھلا ہوا ہو۔

— دار بگڑی : مارواڑی پگڑی۔

کھڑ کھڑ : مونث؛ کسی چیز کے چلنے یا گھسنے کی آواز، ہتھیالوں

کے پھٹنے کی آواز، سخت چیز کے ٹکرانے کی آواز۔

کھڑ کھڑ اڈالنا : جھڑک دینا، جھڑکنا۔

کھڑ کھڑانا : (۱) بجانا، کھٹ کھٹ کرنا، گنڈی بجانا (۲) کواڑ

بجانا، (۳) آڑے ہاتھوں لینا، ڈرانا، (۴)

خطرے کی بات سے آگاہ کرنا۔

کھڑ کھڑا ہٹ : مونث؛ (۱) کھڑ کھڑ کی آواز، خشک گھاس

کی حرکت کی آواز (۲) آگے وغیرہ چلنے کی آواز۔

کھڑ کھڑا : مذکر؛ (۱) ایک قسم کی گھوڑا گاڑی جس میں گھی کے

گھوڑوں کو سدھاتے ہیں، (۲) سامان لادنے اور

مسافروں کو لے جانے والی کھلی ہوئی گھوڑا گاڑی۔

کھڑ سجا : دیکھو کھڑ سجا۔

ننگا، بے حجاب (۴) صاف، بے ابر آسمان (۵) آزاد، بے قید (۶) عام، مشہور، معروف (۷) ظاہر، علانیہ۔

کھلا کھلا: (۱) صاف صاف (۲) وسیع، کشادہ۔

کھلاڑی، مذکر؛ ڈھلوان، جگہ، نشیبی جگہ۔

کھلاڑی، صفت، مؤنث؛ (۱) اوباش عورت (۲) مکار چوٹی نغ

پتن: اوباشی، مکاری، شوخی، چنیل پن۔

کھلاڑی: (۱) کھیل جاننے والا، کھلاڑا، کھیل کود میں شغول

رہنے والا (۲) جو اکیلے والا لڑکائی، (۳) مکاری، شیعہ باز، (۴) مکار، فریبی، چالاک۔

کھلانا: (۱) کھانا کھلانا، دعوت کرنا، (۲) کوئی کھیل کھلانا (۳)

بھلانا (۴) شگفتہ کرنا (۵) بہت پریت کا سر پر لانا۔

پلانا: ضیافت کرنا، کھانا کھلانا۔

کھلائے سونے کا لوالہ، دیکھے شیر کی نظر: بچوں کو کھلائے

پلائے تو بچھا لیکن تربیت دیتے وقت اپنا رعب بھی قائم رکھے۔

کھلائی: مؤنث؛ (۱) کھانا، خوراک، خورش، (۲) خوراک

کی قیمت (۳) کھانا کھلانے کی اجرت، آنا (۴) کسی کی

پرورش کی ہوئی لڑکی۔

کھلانا: کھونا، ایلنا، جوش آنا۔

کھلا ہٹ: مؤنث؛ گھبراہٹ، اضطراب۔

کھلبلی: (۱) مؤنث؛ پھل، گھبراہٹ بے قراری، ہنگامہ۔

کھل بڑنا: دکنا پٹنا بے حجاب ہونا بے تکلف ہوجانا۔

کھم کھم: (۱) اچی طرح (۲) آزادی سے بچے کھلانے کا نام۔

کھیلنا: کوئی کام علانیہ کرنا، بے جھجک کرنا، شرم و حیا آٹھادینا۔

کھلتا ہوا: مذکر؛ موزوں، مناسب، صاف۔

کھلنا: (۱) گرہ کھلنا، بیچ کھلنا (۲) ظاہر ہونا، عیاں ہونا،

ثابت ہونا، (۳) چھٹ جانا (۴) ہلے نقاب ہونا (۵)

آدھڑنا، سنجیہ کھنا، سببوں کھلنا (۶) جاری ہونا، بچنے لگنا،

چلنے لگنا (۷) حجاب دفع ہونا، (۸) صاف ہونا (۹) زیب دینا

موزوں ہونا (۱۰) کیفیت معلوم ہونا (۱۱) گھنرنا، رونق پراٹنا،

(۱۲) جدا ہونا، الگ ہونا (۱۳) رہائی پانا۔

کھسک جانا: (۱) چپکے سے نکل جانا، دیک کر چلے جانا۔

کھسکتا: (۱) سرکتا، ہٹنا، چلنا، ٹھٹنا، چپکے سے چل دینا (۲)

جنش کرنا، (۳) ایک طرف کو ہوا بیٹھنا (۴) چوتر کے

بل چلنا۔

کھسکھسنا: مذکر؛ کرکرا۔

کھسکھسنا: کرکرا۔

کھسکھساہٹ: مؤنث؛ کرکراہٹ۔

کھسوٹنا: (۱) لڑچنا (۲) بال آکھارنا (۳) زبردستی

چھین لینا۔

کھسیانا: مذکر؛ (۱) رو ہنسا (۲) شرمندہ، موٹ؛

کھسیانی۔

کھسیا جانا / کھسیانا ہونا: رو ہنسا ہوجانا، حینپ جانا،

شرمندہ ہوجانا،

کھسیانی، تلی کھبا توچے: فقہ ور، دوسروں پر اپنی

جھلاہٹ اتارتا ہے۔

ہنسی: مؤنث؛ وہ ہنسی جو شرمندگی یا فتنے میں آئے۔

ہنسی ہنستا: حینپ شانے کے لیے ہنستا۔

کھ۔ ک

کھکری: زمیلی، مؤنث؛ ایک قسم کا تیز دھار والا نیپالی چھرا۔

کھکل / کھکھل: (۱) کھوکھلا، خالی (۲) دکنا پٹنا، نادار

مفلس۔

کھکیڑ: مؤنث؛ (دوبلی) (۱) محنت، مشقت، سخت، بھلیف

رہنچ (۲) آپس کالڑائی جھگڑا۔

کھکھ: (۱) مفلس، نادار (۲) کھوکھلا، خالی۔

کھ۔ ل

کھلا: کھلنا کا ماضی، کھلانا کا امر۔

کھل پڑنا، مارے خوشی کے مسکرانے جانا۔

کھل جانا ہے: خوشی سے ہنسے دیتا ہے۔

کھلا: مذکر؛ (۱) کشادہ (۲) فراخ، وسیع، چوڑا (۳) مہیاں

کھمبھی : موت؛ ایک قسم کی سفید نباتات جو برسات میں خود سے پیدا ہو جاتی ہے۔

کھ-ن

کھنجر : کنگمٹر۔

کھنجری : موت؛ (۱) ایک قسم کا بابا جھوٹی ڈفلی (۲) خنجر۔
کھنجن : مذکر؛ ایک چھوٹا پزندہ جس کی دم ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہے، شاہا۔

کھنچانی : موت؛ کھینچنے کا کام۔

کھڑا : مضحکہ آرا، زچ کرنا، پریشان کرنا، طنز چلبے کہنا
کھڑانا : مذکر؛ دھم، تلوار یا چھری وغیرہ کی باڑھ میں پرنے والا
دندانہ (۲) لکڑی یا دیوار کا چھوٹا سا سوراخ (۳) دکناٹیا،
رخنہ جو کسی چیز میں پڑ جائے۔

کھنڈ : موت؛ (۱) کھانڈ کا مخفف (۲) مذکر؛ بٹکڑا، حصہ (۳)
کتاب کا حصہ، باب (۴) مکان کا اندرونی حصہ۔
منزل، درجہ۔

سار / سال : موت؛ شکر بنانے کا کارخانہ۔

کھنڈا : مذکر؛ (۱) چادلوں کا چوڑا، (۲) ایک قسم کی دو
رخی تلوار، کھانڈا۔

کھنڈا، مذکر؛ کند، جو تیز نہ ہو۔

کھنڈت : (۱) موت؛ (۲) نعل، دل اندازی (۳) بکڑے
میکڑے، ابتری، پرانگی (۴) تردید، تنسیخ۔

پہڑنا : نعل پڑنا۔

کھنڈر : مذکر؛ ویران، ٹوٹا پھوٹا مکان، ویرانہ، ٹوٹے پھوٹے
مکانوں کے نشانات۔

کھنڈلا : مذکر؛ (۱) پھلی کا قتلہ، گوشت کا کھنڈ (۲)
قتلا، بکڑا۔

کھنڈلا : مذکر؛ (۱) وہ لڑکا جس کے دو دھکے آگے کے دانت
ٹوٹ گئے ہوں۔

کھنڈوی : موت؛ ایک قسم کی مین کی غذا جس کو قتلوں کی
صورت میں کھایا جاتا ہے۔

کھل جانا : (۱) شگفتہ ہو جانا، (۲) دکناٹیا، خوش ہو جانا۔

کھل : موت؛ (۱) طشے، قہقہے کی آواز (۲) پھوٹنے کی آواز۔

کھلا پڑنا : بے تاب ہو کر زور سے ہنس پڑنا۔

کھلانا / کھل کھلا کے ہنسنے : تہقہ مارنا، ہٹھا مار کر
ہنسنے۔

کھل کھلانا : اشتراکوں کا گڑگڑ بولنا، پیٹ بولنا۔

کھلم کھلا : بے روک ٹوک، کھلے خزانے، اعلائیہ۔

کھلکا : (۱) ناگوار ہونا (۲) دو بھر ہونا۔

کھلنا : (۱) کلی کا پھولنا، پھول آنا، پھولنا (۲) خوش ہونا،
ہنسنے۔

کھلندرا / کھلندرا : مذکر؛ (۱) کھیل کود میں مشغول ہونے
والا، کھلاڑی (۲) دکناٹیا، بے پروا۔

کھلو : (۱) موت؛ (۲) ہر وقت ہنستی رہنے والی (۳) کھلندری۔

کھلونا : مذکر؛ (۱) بچوں کے کھیلنے کی چیز (۲) دکناٹیا، نازک

اور دکھانے کی چیز۔

کھلی : موت؛ ہنسی، کھٹھا، تمسخر۔

کھلانا : ہنسی، آنا، احمق بنانا۔

باز : مسخرہ، ظریف۔

بازمی : موت؛ چھپر، مذاق۔

کھلیان : مذکر؛ (۱) غلے کا انبار، وہ جگہ جہاں غلے کا ڈھیر لگاتے

ہیں، (۲) انبار، ڈھیر۔

کھل دینا : (۱) ستیاناس کر دینا۔

کھلے بازار : کھلم کھلا۔

کھلم کھلا : دکناٹیا، بے تکلف، صاف صاف، کھلم کھلا،

ڈنکے کی چوٹ پر، بے قید، آزاد۔

ظہر خزانے : علائیہ، ظاہر۔

کھلی مٹھی : کنایہ ہے سوال کرنے سے۔

کھ-م

کھم / کھما : مذکر؛ ستون، تنوں۔

کھما ج : موت؛ ایک قسم کی راگنی کا نام۔

کھوے لگتا: پہلو انوں کی اصطلاح، اکھاڑے کی زمین سے کندھے کا چھو جانا۔

کھوا: مذکر؛ دوڑھ کا ماوا، کھوا۔

کھو بیٹھا: گم کر دینا، تباہ کر دینا، ضائع کر دینا۔

کھو جانا: (۱) گم ہو جانا، (۲) دکنا تیا، پٹھانا جانا بعد خوا اس ہو جانا۔

کھو پڑا: مذکر؛ (۱) ناریل کا مغز (۲) علم، کھوپڑی، کاسہ سر۔

کھو پیری / کھو پڑی: موت؛ سر کے اوپر کا حصہ، چندیا۔

چالچلانا: دکنا تیا مار کھانے کو جی چاہنا۔

گنہی کرنا: دکنا تیا بہت مارنا۔

کھوٹ: موت؛ (۱) ملاوٹ، میل، آمیزش (۲) نقص، عیب

بدی، بُرائی (۳) کینہ، کپٹ، (۴) شرارت، بد ذاتی۔

کرنا: بُرائی کرنا، نقصان پہنچانا۔

نکالنا: عیب نکالنا۔

کھوٹا: مذکر؛ (۱) جو خالص نہ ہو، جعلی، -- خراب (۲) دکنا تیا

شریر (۳) ناقص، بچکا، ناکارہ (۴) بد دیانت، جھوٹا بد باطن۔

پیسا: مذکر؛ نہ چلنے والا پیسا۔

پیسا بھی کبھی کام آتا ہے: (شکل) ضرورت کے وقت نکتی چیز بھی کام آتی ہے۔

سکھ: مذکر، خراب سکھ۔

کام: ناقص کام۔

کھرا پر کھنا: اچھے بُرے میں تمیز کرنا۔

مال: ناقص مال۔

کھوٹی: کھوٹا کی تائینٹ۔

کرنا: بُرائی کرنا، ضائع کرنا۔

کھوج: مذکر؛ (۱) سُراغ، پتا، (۲) جستجو، تلاش۔

کرنا: ڈھونڈنا، جستجو کرنا۔

لگانا: تفتیش کرنا۔

لینا: (۱) پتا لگانا، سُراغ لگانا (۲) پتا دریافت کرنا۔

گھنس: موت؛ نفرت، غم، دشمنی، دلی مداوت۔

گھنسانا: (۱) حسد کرنا (۲) تیوری چڑھانا، (۳) لگائی بھائی کرنا، چغلی کھانا۔

گھنک: موت؛ (۱) بکنے کی آواز، جھنکار (۲) دکنا تیا، گانے والے کی اچھی آواز،

گھنکنا: جھنکارنا، بجانا۔

گھنکنا: (۱) بیجا، کھڑکنا (۲) پر کھنے وقت روپے کا بجنا (۳) برتنوں کا کھرا کر بیجا۔

گھنکارنا: (۱) کلاصاف کرنا، کھاش کر کھو کنا (۲) اشارہ کرنا، ہوشیار کرنا۔

گھنکھڑ: خشک، سخت، مُر جھایا ہوا۔

گھنکنا: مذکر؛ وہ مٹی کا برتن جس میں کوئی درز ٹر جائے اور جس وقت اس پر باتھ ماریں تو ایک ایسی آواز پیدا ہو کر جو اس کے ٹوٹ جانے پر دلالت کرے۔

گھنکھنا: (۱) بجانا، جھنجانا (۲) مٹی، چینی اور شیشہ کے برتنوں کا ٹوٹنے پر آواز دینا۔

گھنکھنا / گھن گھن کرنا: بیمار بچے کا ناک سے رونا، گھنکھنا۔

گھنکنا: (۱) کپڑے کو پانی میں ڈبو کر نکال لینا، (۲) سرسری طور پر کپڑے دھونا، برتن کو پانی سے صاف کرنا (۳) دھو استعمال کرنا (۴) دکنا تیا، جراع کرنا (۵) خوب ڈھونڈنا، چنچہ چنچہ مانا۔

گھنکڑ / گھنکڑ: (۱) مذکر؛ ملی ہوئی اینٹ کا بڑا ٹکڑا (۲) لوہے کا ٹیل جو پھلنے کے بعد نکلتا ہے (۳) ایک قسم کے سالے کا پتھر جس سے چھاپے کے پتھر صاف کرتے ہیں۔

کھ - و

کھو / کھو: موت؛ غار، گڑھا، پہاڑ کے اندر کا کھو کھلا حصہ۔

کھوا: مذکر؛ کندھا، موٹھدا۔

کھوے سے کھوا چھلنا: بیشرک و جبر سے کندھے سے کندھا رگڑنا۔

کھوٹا سا بیٹھ جانا: مضبوطی سے قابم ہو جانا، خوب جم کر بیٹھ جانا۔

کھوٹے پر کوڑنا: کھوٹے کے بل کوڑنا۔

پر مارنا: دکنا یا، جوتی کی نوک پر مارنا، پرواہ نہ کرنا۔

سے بندھنا: ایسے سے بندھنا (دعو) (۲) نکاح ہونا، شادی ہونا، پابندی ہونا۔

کھوٹے کے بل کوڑنا، دکنا یا، کسی کی حمایت پر اترنا، کسی کے بھروسے پر گھنڈ کرنا۔

کھوٹے: موتھ، (۱) چھوٹی سیخ، کیل (۲) سارنگی یا ستارہ کان (۳) دکنا یا، بالوں کی جڑ۔

لینا: چھوٹے چھوٹے بال کاٹنا یا مونڈنا،

نہ چھوڑنا: بہت معافی سے حجامت بنانا (۲) دکنا یا، خوب لوٹنا، لوٹ کر صفا کر دینا۔

کھوٹا: مذکر؛ بڑی کھوٹ، کپڑے کی بڑی درز۔

کھوٹا: مذکر؛ (دہلی) گھنڈلا۔

کھول کھول: موتھ، کھانسنے کی آواز۔

کھول کھینا: بندر کا فتنے سے آواز بکالنا۔

کھوٹا: دعویٰ بہت کھانے والا، پیٹو۔

کھوٹا: دعویٰ، ناؤ کھینے والا۔

کھوٹا: مذکر؛ (۱) دودھ کا ماوا (۲) پتی اینٹ کا موٹا موٹا چورا (۳) اینٹیں بنانے کا کارا۔

کھویا جانا/کھوے جانا: گم ہو جانا، حیران ہو جانا، گھبرانا، حواس اڑ جانا، سٹ پٹا جانا، لاجواب ہو جانا، بند ہو جانا،

(۲) نکمٹا ہو جانا، خراب ہو جانا۔

کھویا رہنا: کسی خیال میں گم رہنا، اُداس رہنا۔

کھ - ی

کھینا: دعویٰ، پُرانا ہو جانا، گھس جانا، استعمال ہوتے ہوتے گھس جانا۔

کھیب: موتھ، (۱) بار، مرتبہ، دفعہ، شمار (۲) بوجھ، بھرتی۔ کھیت: مذکر؛ (۱) زمین جسے جوتا، تویا جائے، کشت (۲) زمین

کھوچی/کھوجیا: پتا لگانے والا۔

کھوٹ: مذکر؛ پھوک۔ کھو کھلا۔

کھو کھو کر پوچھنا: اچھی طرح دریافت کرنا، خوب چھان بین کرنا۔

کھوٹا: (۱) گڑھا کرنا (۲) جڑ سے اکھاڑنا (۳) کندہ کرنا، نقاشی کرنا (۴) دکنا یا، تحقیقات کرنا، (۵) کھو کھلا کرنا، خالی کرنا۔

کھوٹ: مذکر؛ (۱) آلو، (۲) دکنا یا، نکمٹا، بہت بڑھا (۳) نموس۔

کھوٹنا: دعویٰ کسی چیز کو کسی چیز میں ابھادینا، کوئی چیز اٹکانا، کسی چیز کا کسی چیز میں داخل کر دینا۔

کھو کھا: مذکر؛ (۱) کڑی یاد دہنی کا گول بڑا ڈبیا بکس۔ کھو کھلا: مذکر؛ پولا، کھٹکل، اندر سے خالی۔

کھوٹا: (۱) جوش دینا، اُباتنا (۲) دعو، جلانا، غصہ دلانا۔ کھولن: موتھ، (۱) دعو، جوش ببال (۲) جلن، سوزش۔

کھولنا: (۱) اُبنا، جوش کھانا (۲) بیچ و تاب کھانا (۳) نہایت گرم ہونا۔

کھول کر: صاف صاف، ظاہر کر کے، واضح کر کے علانیہ۔ کھولنا: (۱) بندھی ہوئی چیز کو کوکھ کرنا، ظاہر کرنا، (۲) آزاد کرنا، (۳) کشا دہ کرنا، (۴) پھاڑنا، پیرنا، (۵) پھاٹنا، پھوڑنا،

(۶) تنگ کرنا، (۷) دھیرنا، بخیمہ اُور سون کا، (۸) جاری کرنا۔ کھونا: (۱) گم کرنا، بھلانا (۲) برباد کرنا، ضائع کرنا، (۳) دد کرنا، (۴) نقصان کرنا۔

کھوٹ: موتھ؛ (۱) کپڑے کی درز جو پھٹنے سے ہو جائے۔ (۲) ایک قسم کی لمبی سلائی۔

بھرنا: (۱) کپڑے کو سینا (۲) موٹا موٹا سینا، (۳) ایک قسم کی لمبی سلائی کرنا۔

کھوٹ: مذکر؛ (۱) گونا، گوشہ، کنارہ (۲) کان کا میل (۳) ملک کا حصہ، قطعہ۔

کھوٹا: مذکر؛ (۱) میخ، کیل، چوب (۲) ہکی کا ہتھا (۳) کھو کی لاش۔

ہلک، غلط، میدان جنگ (۲)، پاندنی، پاندنی روشنی۔
 کیفیت اٹھانا: کیفیت دکان پر دینا۔
 پڑنا: (۱) بہت سے آدمیوں کا مارا جانا (۲) جنگ شروع ہونا۔
 چھوڑنا: میدان جنگ سے ہجاگ جانا، پیڑ دکھانا۔
 رہنا: درانی میں مارا جانا۔
 کاٹنا: فصل کاٹنا، کھیتی کاٹنا۔
 کرنا: (۱) پاندنی بھننا (۲) پونا، جوتنا۔
 نرانا / ملانا: کیفیت کو صاف کرنا خود روگھاس الگ کرنا۔
 کھیتی: موٹ، (۱) زراعت، کاشت، غلہ، فصل (۲) دکھانا،
 آل اولاد۔
 باڑی: (۱) موٹ، کاشت کاری۔
 پھانا: دکھانا، کامیابی ہونا۔
 کھید: (۱) مذکر، (۲) افسوس، دکھ، تکلیف (۳) سوچ، فکر (۴)
 غم، ماتم (۵) روگ، بیماری۔
 کھیدا: ہاتھی اور شیر وغیرہ کو گھیر کر لانا اور ان کا شکار کرنا۔
 کھیدنا: (۱) نکال دینا (۲) ہاتھی یا شیر وغیرہ کا شکار کرنا (۳)
 ستانا، دکھ دینا۔
 کھیر، موٹ، دودھ میں بچے ہوئے مٹھے چاول۔
 چٹائی: موٹ، ایک رسم جس میں بچے کو دودھ چھڑک کر کھیر
 چٹاتے ہیں۔
 کھلوانا: شادی کی ایک رسم جس میں دو لہاؤں کو پاس
 بٹھا کر کھیر کھلاتے ہیں۔
 کھیرا: مذکر، (۱) ایک قسم کا کبوتر (۲) بھولارنگ، خاک رنگ
 (۳) موٹ، کھیری۔ (۴) ایک قسم کی پھلی جو بیٹوں میں ہوتی ہے۔
 کھیرا: مذکر، گلڑی کی طرح کا ایک پھل جس کی کڑواہٹ دودھ
 کمرے کے کھاتے ہیں۔
 کھیرے گلڑی کی طرح کاٹنا: جلد جلد کاٹنا، بے دردی سے
 کاٹ ڈالنا۔
 کھیری: موٹ، جانوروں کے تھنوں سے اوپر کا گوشت۔
 کھیرا: موٹ، (۱) بستی، چوڑا سا گاؤں (۲) کسی قسم کا میلا
 جلا اناج، (۳) وہ ٹیلا یا مٹی کا ڈیم جس سے معلوم ہو کہ

یہاں پہلے آبادی تھی۔
 کھیس: مذکر، ایک قسم کا سوتی کپڑا جو اوڑھنے بچانے کے کام
 آتا ہے۔
 کھیس: مذکر، دم، (۱) ایک قسم کی تھیلی جس سے بدن کا میل
 صاف کرتے ہیں، کپڑے کا جھانواں (۲) تھیلی، جیب
 پاکٹ، بٹوا، کیس۔
 کرنا: کھیسے سے بدن صاف کرنا۔
 کھنسیں نکالنا: دم، دانت کھول کر ہنسا، دانت نکوسنا۔
 کھی کھی: بے ہودہ ہنسی، ہنسنے کی ناگوار آواز۔
 کھیل: مذکر، (۱) بازی، تماشہ، سوانگ، ٹانگ، سینا (فلم)
 (۲) دکھانا، سہل، آسان، (۳) سیر و تفریح،
 مشغلہ
 کھڑنا: بنا بنایا کام بگاڑنا، رختہ ڈالنا۔
 بچھڑ جانا: بنے ہوئے کام کا بگڑ جانا۔
 بننا: کام بننا، مطلب پورا ہونا۔
 بھڑ بھڑ کر دینا، کھیل خراب کر دینا، بنے ہوئے کام
 کو بگاڑ دینا۔
 تماشا: (۱) کھیل کی باتیں، تفریح کا مشغلہ، (۲) آسان
 کام، معمولی کام۔
 جانا: (۱) ایسے کام کی جوت کرنا جس میں مرنے کا اندیشہ
 ہو (۲) مر جانا، ہلاک ہو جانا۔
 جاننا سمجھنا: آسان سمجھنا۔
 جلنا: فلم یا ٹانگ دکھایا جانا۔
 کرنا: (۱) کھیلنا، کودنا، تماشہ کرنا (۲) کسی کام کو
 سنجیدگی سے نہ کرنا۔
 کور: مذکر، آچھل، کود، تفریح۔
 کھلانا: دم، (۱) پریشان کرنا، دق کرنا، پھانا (۲)
 بازی کرنا۔
 کے دن، دکھانا، لڑکپن کا زمانہ۔
 نکالنا: نیا کھیل ایجاد کرنا۔
 نہیں: آسان نہیں، دشوار ہے۔

کھٹا رہ، فوٹو اتارنا (۶) میان سے لموار نکالنا، کھیننا

لکھانا، چڑھانا۔

کھینچ : موتھ؛ ددہلی، (۱) کشش، کھیناؤ (۲) کمی، قلت،
اچھی تنگی (۳) پتنگ لڑانے کا ایک طریقہ۔

— بلانا: زبردستی بلانا۔

— تان کے: بڑی مشکل سے، تنگی سے۔

— کرنا: ددہلی، کمی کرنا، مڑکاٹ کرنا۔

— کھانچ: اسیخ تان۔

— لانا: (۱) اسیخ لانا (۲) گھیٹ لانا، پکڑ لانا، زبردستی
لے آنا۔

کھینچا تانی: موتھ؛ اینچا تانی، لڑائی جھگڑا۔

کھیوا: بندکر؛ ناؤ کا کرایہ (۲) دھمازاً کشتی میں بیٹھنے والوں
کا گروہ (۳) کشتی، بیڑا، ناؤ۔

کھیوا پار ہونا: کنارے پر پہنچنا۔

کھیوٹ: موتھ؛ وہ سرکاری رجسٹر جس میں گانو کا مال
درج ہوتا ہے۔

— دار: سکاٹو کا شریک۔

کھیل ہاتھ لگنا: شغل ہاتھ آنا۔

— ہے: اذابات ہے، معمولی بات ہے، آسان ہے،
سہیل ہے۔

کھیلا کھایا: مذکر؛ تجربہ کار، گھاگ۔

کھیلنا: (۱) بازی کرنا، کھیل کھیلنا (۲) اچھلنا، کودنا (۳)
کام کرنا، (۴) جو اکیلنا۔

کھیل: موتھ؛ (۱) بیٹھے ہوئے چاول، جواری یا مکئی (۲)
وہ ٹھنڈا ہوا اناج جو کھل گیا ہو، (۳) دھمازاً،

ذرا سا، تھوڑا سا (۴) ٹھنڈا ہوا سہاگایا
پھٹکری۔

— اڑ کر مٹہ میں نہ جانا / پڑنا: کچھ نہیں کھانا،
بالکل بھوکا ہونا۔

کھیلیں: موتھ؛ بیٹھے ہوئے دھان جو کھل جاتے ہیں،
(۲) ہر وہ چیز جو ٹھن کر کھل جائے۔

کھینا: چتو سے کشتی چلانا، ناؤ چلانا۔

کھینچنا: (۱) گھیننا، اینچنا، تاننا، (۲) جذب کرنا،
چوسنا، سوکھ لینا (۳) کشید کرنا (۴) جلد جلد

گ

گ۔ ا

گاف : (ف) ، مڈل : یہ حساب جیل (اجب) اس کے بینا عدد ہیں۔
 گاہ : (ع) عربی فارسی کے لیے مخصوص ہے ، عربی میں نہیں آتا ہے
 گا : (مذکورہ) یہ کلمہ استقبال کے صیغوں کے آخر میں آتا ہے (جیسے آئے گا۔
 پاسے گا) ، (۲) موتش کے لیے آگی۔
 گا : (۱) کا نام۔
 گا : (۱) جانوروں کا حمل (۲) کچی فصل
 ڈالنا : (۱) جانوروں کا حمل گرانا (۲) رب و داب کا کٹنا یہ۔
 گا بھا : (۱) بیڑا کھینچنا۔ کونپل (۲) کڑی گاگودا (۳) کھڑی کھیتی۔
 کچا تاج : (۲) پُرانی روٹی
 گا بھن : موتش ؛ (۱) حیوان جس کے پیٹ میں بچہ ہو (۲) (عم) حاملہ
 بیٹ والی۔
 گات : موتش ؛ (۱) عورت کی دونوں چھاتیوں (۲) وضع اسلوب جہم کی
 خوش نمائی ، محبوب کی خوش نمائی ، معشوق کی چھتین (۳) عورت
 کا اوپر کا ہنر ، جسم بدن۔
 اُبھرنا : چھاتیاں اُبھرنا ، عورت کے بلن ہونے کی علامت
 ظاہر ہونا۔
 گات سے ہونا ؛ (ع۔ ۵) حاملہ ہونا۔
 گاتی : موتش ؛ چادر یا دوپٹے کو دونوں کانوں پر ڈال کر سینے پر
 باندھنے کا ایک طریقہ۔
 گاٹنگ گن : (۱) (انگ) ، موتش
 ایک قسم کی توپ۔
 گا جہر : موتش ؛ ایک قسم کی دیشی جھوٹی ترکاری
 صولی ؛ (۱) دو ترکاریوں کے نام ، (۲) (مجازاً) گھٹیا ، لونا ، حقیر۔

کم قیمت ، بے وقت۔

گا چھ : (۵) ، مذکر ؛ دخت

گا د : موتش ؛ (۱) تل چھٹ (۲) تیل کے نیچے بیٹھی ہوئی گرد ، نیچے کا
 گدلا اور گاڑھ تیل۔

گا دا : (۱) کچے گیسوں اور جو کا بھنا ہوا غلہ (۲) خوشے میں پکنے
 کے قریب گیسوں اور جو۔

گا ڈ : (انگ) ، (۱) خدائے تعالیٰ ، اللہ ، خالق ،
 (۲) دیوتا۔

گار : (ف) ، (تحریک کے ساتھ آخر میں) (۱) کرنے والا ، صاحب (جیسے
 گنہگار) (۲) سبب (جیسے یادگار) (۳) لائق (جیسے رستگار)

گارا : مذکر ؛ گوندھی ہوئی نمٹی ، جس سے اینٹیں بنتے ہیں

گار جین / گارڈین : (انگ) ؛ (۱) مذکر ؛ سرپرست ، ولی۔
 گارڈ (GUARD) ؛ (انگ) ، مذکر ؛ (۱) چونکہ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے
 (۲) ٹرین کا ذمہ دار

گارڈین (GARDEN) ؛ (انگ) ، مذکر ؛ باغ ، پن۔

گارڈن پارٹی (GARDEN PARTY) ؛ (انگ) ، موتش ؛ کسی محل
 جگہ یا باغ میں دی جانے والی ناشتہ کی دعوت۔

گارنٹی (GUARANTEE) ؛ (انگ) ، موتش ؛ (۱) ضمانت ، قندیل
 کفالت ، (۲) ضامن ، ذمہ دار ، کفیل ، (۳) مقررہ مدت تک کسی
 خریدی ہوئی چیز کی پائیداری کی ضمانت۔

گارٹنا ؛ (۱) ٹھوکنا ، (۲) دبانہ ، دفن کرنا۔

گاڑی : موتش ؛ اسباب لانے یا سواریاں لانے جانے کی گاڑی۔

بان ؛ مذکر ؛ کوچ ، بان ، گاڑی چلانے والا

بھراستہ ؛ تھوڑا سا راستہ۔

گھامٹی: موٹھ؛ گھوڑے کی دُم میں لگایا جانے والا ساز کا ایک ٹکڑا۔
گانا: (۱) اپنا، راگ گانا، بکنا، کہنا (۲) سرانہ، تعریف کرنا (۳) اپنے
مطلب کی بات کہنا (۴) مذکر؛ راگ، گیت، نغمہ۔

— بجانا، مذکر؛ راگ رنگ

گانہ: (ن)؛ شمار اعداد کی علامت (جیسے دو گانہ، سو گانہ)۔

گانٹھ، موٹھ؛ (۱) گرہ (۲) جوڑ، بندہ (۳) گھڑی، (۴) جڑو (۵) آن بن۔

— نا اتفاق، کشیدگی، (۶) جوہر پیمان، قول و قرار

— باندھنا؛ دکنا، گرہ لگانا، یاد رکھنا۔

— پڑنا؛ (۱) گرہ لگ جانا، (۲) آن بن جو جانا۔

— دار؛ گرہیں رکھنے والا، گرہ دار۔

— دینا؛ (نم)؛ (۱) گانٹھنا سہی دینا، (۲) گرہ دینا۔

— ڈالنا؛ گرہ ڈال لینا، بدگمان کر دینا۔

— سے لے جانا، ذاتی نقصان ہو جانا، اپنی جیب سے روپیہ نکل جانا

— کا؛ اپنے پاس کا، اپنا ذاتی۔

— کا پورا؛ گتے کا وہ پُور جس میں گرہ ہو۔

— کا پورا؛ مذکر، دکنا، دولت مند، مال دار۔

— گانٹھ کا پورا عقل کا اندھا؛ دکنا، بے وقوف، مال دار۔

— کا پیسا؛ ذاتی روپیہ۔ اپنا روپیہ۔

— کاٹنا؛ جیب کترنا، ٹھکانا

— کترنا؛ مذکر؛ پاکٹ مار۔

— کرنا؛ (۱) اتفاق کرنا، (۲) سازش کرنا، (۳) دھوکا، اپنی جیب میں رکھنا

— جمع کرنا، جوڑنا

— کھولنا؛ (۱) گرہ کھولنا، (۲) دکنا، کینہ دور کرنا، صفائی

— کر لینا، (۳) خوب خرچ کرنا۔

— گرہ میں کچھ نہیں؛ بالکل مفلس ہے۔

— لینا؛ (۱) قبضہ میں کر لینا، (۲) ملا لینا، ہم خیال کر لینا، موافق کر لینا۔

— میں باندھنا، دکنا، گرہ میں باندھنا، بصیرت کی بات یاد رکھنا۔

— گانٹھنا؛ (۱) اپنے ساتھ ملا لینا، متفق کر لینا، (۲) جوتی وغیرہ کی مرست کرنا،

— (۳) بُری طرح پکڑنا۔

— گانٹھا، مذکر؛ جنگ، ایک نشہ دار درخت کی پتی۔

— گانڈ؛ موٹھ؛ ایک قسم کی گھاس جس سے چیتڑ بناتے ہیں اور اس کی

— جوشنا؛ (۱) گاڑی میں گھوڑا یا بیل جڑنا (۲) کلاب پر گاڑی چلانا۔

— چھوٹنا؛ (۱) ریل گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہو جانا (۲) کسی مسافر

کے پہنچنے سے پہلے ریل گاڑی کا چھوٹ جانا۔

— گاڑھا؛ مذکر؛ (۱) موٹا، گھنا، کپڑا، (۲) دانا، چالاک، (۳) مضبوط (۴)

مست جنگی ہاتھی، (۵) پتلا کی ضد، (۶) کھڈر

— پسینہ؛ مذکر؛ دکنا، محنت و مشقت۔

— گاڑھی چھٹنا؛ (۱) جنگ کا خوب گاڑھا چھٹنا جانا، (۲) دکنا، آپس

میں خوب میل جول ہونا، گہری دوستی ہونا (۳) گہرا نشہ ہونا، (۴)

بے تکلفی اور مذاق میں ایک کا دوسرے کو سخت سست کہنا۔

— گاڑھی دوستی؛ موٹھ؛ گہری دوستی۔

— کماٹی؛ موٹھ؛ وہ مال جو بے انتہا محنت و مشقت سے حاصل ہو۔

— گاڑھے پسینے کا پیسا؛ محنت و مشقت کی کماٹی۔

— گاڑز؛ (ن)؛ مذکر؛ دھوپ، کپڑا دھونے والا

— کاف؛ (ن)؛ مذکر؛ ایک حرف کا نام (رگ)

— گاگر؛ موٹھ؛ لوہے تانبے پتیل یا مٹی کا گھڑا۔

— گال؛ مذکر؛ مڑھار۔

— کالا؛ مذکر؛ دھنسی ہوئی اور صاف کی ہوئی روئی کی ایک قلیل مقدار۔

— کالا سا؛ روئی کی مانند، ملائم، نہایت سفید، بروت سا۔

— کالم گلوچ؛ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو گالی دینا۔

— گالی؛ موٹھ؛ فحش بات، دشنام، بدزبانی۔

— کبنا / دینا / سنانا؛ بدزبانی کرنا، دشنام دینا، فحش

بات کہنا۔

— کھٹا / گلوچ؛ مذکر؛ (نم)؛ ایک دوسرے کو گالی دینا،

زبان درازی کرنا کے ساتھ)۔

— گالیاں؛ موٹھ؛ (۱) جمع گالی کی، (۲) وہ گالیاں جو بیاہ میں

سمدھیلنے والوں کو دی جاتی ہیں۔

— گالیوں پر اتر آنا؛ جڑا بھلا کہنے لگ جانا، گالیاں کہنے لگ جانا۔

— گالیوں منٹھ کھولنا؛ گالیاں دینے لگ جانا

— گام؛ (ن)؛ مذکر؛ (۱) قدم، پانو، دنگ، ایک قدم کا فاصلہ

(۲) گھوڑے کی ایک چال

— گانڈ؛ (۱) تیز رفتاری کا قصد، (۲) تیز رفتاری گھوڑا۔

گا ہوارہ: (ف)، گہوارہ -
 گالٹے: مونث (۱) بیل کی مادہ، گاؤ (۲) رکنائیا، غریب ساہ لوح،
 بے زبان -
 گائٹری: (۱) رگ وید کا ایک منظوم منتر جو خوشی یا مصیبت کے وقت
 سوا لاکھ دفعہ پڑھوایا جاتا ہے، (۲) ایک قسم کا چھنڈ -
 گاڈ: GUIDE: (۱) رگ، مونث، رہنما، رہبر -
 گبک: BOOK (۱) رگ، (۲) درسی کتابوں کے مطالعہ میں مدد
 دینے والی کتاب (۲) کسی شہر یا تفریحی مقام کی رہنما کتاب -
 گائیگ: (۵) مذکر، گلنے والا، گویا، میرانی، ٹوم -

گ

گبدا/گبتا: مذکر، موٹا تازہ، بھرا ہوا بدن، ملامت گوشت -
 گبڑ: (ف)، مذکر، آتش پرست، بھوسا -
 گبڑو/گبڑو: نوجوان، نوجیز -
 گبرون: مذکر، ایک قسم کا موٹا کپڑا
 گبتھا/گبتا: مذکر، ایک قسم کا روٹی دار ملامت بھوننا

گ

گپ: مونث، (۱) جھوٹی بات، افواہ (۲) شنی، ڈینگ (۳) بکواس
 گپ بک، لغزات
 گپ: جھوٹی سچی دھپ باتیں، تفریحی باتیں، دل لگی باتیں -
 گپ خپ آڑنا: جھوٹی سچی باتیں کرنا
 گپ مارنا/ ہانکنا: جھوٹ بولنا، شیخی بھارنا، ڈونگیں مارنا
 گپ گپ کھانا: اچھا ہند کھانا، جلدی جلدی کھانا
 گپا گپا: (۱) جلد جلد کھانے اور گلنے کی آواز (۲) کثرت سے غلطی
 گپ چپ: مونث (۱) چپ چاپ، خاموشی (۲) مذکر، لڑکوں کا ایک کھیل
 (۳) ایک قسم کی مٹھائی
 گپ کے لڑو/کی مٹھائی: ایک قسم کی مٹھائی جو منہ میں رکھتے
 ہی کھل جاتی ہے -

جز کو خس کہتے ہیں
 گانسا: مذکر، اٹھلیوں اور انگوٹھے کے درمیان کا حصہ -
 گانسا: (عم) گھیر لینا، پھنسانا -
 گانو: مذکر، دیہات، بستی، موضع -
 گانو گرانو: (۵) مذکر، دیہات، قصبہ
 گاؤ: (ف)، مونث (۱) گائے (۲) بڈل، بڑا کھیہ (۳) آسمان کا ایک ٹیچ -
 گچھاڑ: (پہلوانوں کی اصطلاح)، مذکر، بگشتی کا ایک دانو -
 پشت: (ف)، (۱) خروچی، (۲) رکنائیا، آسمان -
 پیکر/سمر: (ف)، گلے کی شکل کا، گائے کی مرن کا -
 تکلیہ: (ف)، مذکر، بڑا اور لمبا تکلیہ -
 دم: (ف)، لمبی نوک دار گول چیز -
 دی: (ف)، بے وقوف، کٹھنہن
 زبان: (ف)، مونث (۱) ایک مشہور دو کا نام (۲) ایک قسم کا چھوٹا
 پراٹھا جو تنوں میں شیرمال کی طرح پکایا جاتا ہے -
 سامری: (ف)، مونث، سونے کا وہ بچڑا جو سامری نے بنایا تھا
 اور جاؤ کے زور سے اس میں جان ڈال دی تھی
 کشی: مونث، گائے کو ذبح کرنا -
 گاوشیش: (ف)، مونث، بھینس
 گاؤن: GOWN: (۱) رگ، (۲) عورتوں کا لباس، لباس، لباس
 وہ سیاہ جیبہ جو وکیل یا ایجوکیشن کے ساتھ یا گریجویٹ پہنتے ہیں -
 گاؤں/گم: (ف)، مونث (۱) وقت، سامان (۲) جگہ، مقام، مکان -
 (۳) بار، دفعہ، موقع (۴) کسی وقت کبھی -
 برگاؤ: (ف)، کسی کسی وقت، کبھی کبھی -
 گاؤ: (ف)، کبھی کبھی
 گاہے: (ف)، کبھی
 گاہے: (ف)، کبھی کبھی
 ماسے: کبھی کبھی بہت کم -
 گاہنا: (۱) کٹنا، مسلنا، روندنا، راج پر بیلوں کو پھرا کر ٹیس لگ کرنا،
 (۲) تلاش کرنا (۳) ڈھونڈنا
 گاہک: مذکر، خریدار -
 گاہکی: مونث، خریداری -

پڑنا: (۱) سوت کا بچھ جانا، گرہ پڑ جانا، (۲) کنا تیا، ابھن پیدا ہو جانا، (۳) ابھ جانا، ابھاؤ پیدا ہونا۔
سلجھانا: (۱) گرہ کھولنا، ابھن دور کرنا، (۲) کنا تیا عقدہ حل کرنا۔

گ

گٹ: گرہ۔ مج
گٹ پٹ: موتی، انگریزی بولنے کی نقل
گٹ پٹ: موتی، (۱) لڑائی یا پیار سے گٹھ جانا۔
گٹا: مذکر، (۱) ہاتھ، پانوں کی ہڈیوں کا جوڑ، ٹٹنے کی پڑی، کلائی کے جوڑا، (۲) ڈاٹ، کاگ، (۳) ٹٹے کا وہ حصہ جہاں دونوں نے ملائی جاتی ہیں، (۴) ایک قسم کی مٹھائی (۵) زرد، (۶) الس وغیرہ کا ٹکڑا، (۷) پیشانی کا نشان جو بہت سجدہ کرنے سے پڑ جاتا ہے، (۸) رخ، نشان، (۹) گلی گھوڑ کی دم کی گرہ۔

گٹا: مذکر، (۱) کنگر یا اینٹ کا چھوٹا ٹکڑا، (۲) کنا تیا، بونا، پستہ قد۔
گٹے کھیلنا: گٹوں میں کھیلنا، کم عمر لڑکیوں کا ایک کھیل
گٹے زنگٹ: کنا تیا، (۱) ٹٹھنا، بونا، (۲) مذکر، چلم کے سوراخ میں رکھنے کا ٹھیکرا۔

گٹکا: مذکر، (۱) ایک علسی گولی، (۲) ایک خیال کے مطابق اس گولی کے ٹٹے میں رکھنے سے اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، (۳) چھوٹی ٹی کتاب، (۴) بڑی گولی، رنگین، (۵) شطرنج کا چہرہ، (۶) (دہلی) مٹھائی (۷) ایک مرکب چیز جس کو بان کی جگہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔
گٹکری: موتی، (۱) وہ بچہ دار آواز جو گویوں کے گلے سے گلانے کے وقت نکلتی ہے، (۲) کنگر روڑا، اینٹ کا چھوٹا ٹکڑا۔

گٹیا: گویہ کا گانا گانے میں آواز کا لہر کرنا۔
گٹ گٹ: موتی، پانی اٹھانے کی آواز، جلد جلد پینے کی آواز غٹ غٹ۔
گٹھ: مذکر، (۱) بڑا تھپڑ، (۲) گانٹھ کا مفعت۔

گٹھن: مذکر، (۱) بندوں میں دو لہا دہن کے آنچلوں کی وہ گرہ جو پھیروں کے وقت لگائی جاتی ہے، گٹھ جوڑ (۲) دو آدمیوں کا ایک ہونا، ایک دل ہونا۔

گٹھ جوڑ: مذکر، (۱) گٹھ بندھن، (۲) ایکا، مٹاپ۔

گٹھ کھانا: بالکل چپ رہنا۔

گٹت: (۱) چھپا ہوا پوشیدہ
گٹتی: موتی، (۱) وہ تلوار جو دستی چھری میں پوشیدہ ہوتی ہے، (۲) چھپی ہوئی تلوار، (۳) کنا تیا، پوشیدہ مال، (۴) پوشیدہ گٹتہ شپٹر: موتی، (عم)، بے ہودہ باتیں۔

گٹکنا: مٹھنا، جلد جلد کھانا
گٹکنا: (دہلی)، ہوا میں اچھل ہونی گیند کو ہاتھ میں لے لینا، (کنگھو، گوچنا)۔

گٹیل: مذکر، گول ٹھیکرا
گٹیا: (۱) مذکر، نار، کھو، چھپنے کی جگہ
گٹھا: مذکر، (۱) ٹٹھنا، (۲) پھولوں کا ٹٹھا۔

گ

گت: موتی، (۱) رشا، حالت، طرح، حرکت، (۲) کرایہ کم، مردوں کے جلانے یا دفنانے کی رسم، (۳) ایک قسم کا ناغ، (۴) تان، سرو نغمہ۔
گتا: کسی باجے پر سرگ بجانا، ساز کا ایک انداز سے بجانا۔
گتانا: (۱) وضع اختیار کرنا، ڈھنگ بنانا، (۲) باجے کے شر کو گلانے کے بول کے مطابق بنالینا، (۳) خراب حال کرنا، خوب پیشنا۔
گتھنا / ناچنا: رگ کے اصول کے مطابق ناچنا، رقص کرنا۔
گتھنا: گت پر ناچنا۔

گتا: (۱) وضع کا، ڈھنگ کا، (۲) اچھا، عمدہ
گتانا: کرایہ کم کرنا، (۳) کام میں لانا، (۴) مارنا، پیشنا، (۵) ہری حالت کرنا۔
گتیا: مذکر، طبلہ بجانے والا، طبلہ۔

گٹکا: مذکر، پٹا کھینے کی کلائی، گڈ کا۔
گٹھ جانا: بٹھ جانا، لڑ جانا، مل جانا۔
گٹھ گٹھ: مذکر، بٹ پٹ، گٹھ گٹھ، ایک دوسرے سے لپٹ جانا۔
گٹھ گٹھ: (۱) لپٹ جانا، بٹھ جانا، (۲) پھو یا جانا، تھی ہونا، (۳) جو جو جانا، عزیز ہونا، (۴) بچھن جانا

گٹھوال: شاہو، ملا ہوا، لپٹا ہوا۔
گٹھتی: موتی، (۱) گرہ، (۲) ابھاوا، ابھن، (۳) تھیلی۔

گٹھ جوڑ: (۵) موت: (سیاسی اصطلاح) ساز باز کسی سازش کے تحت چند افراد یا جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملپ۔
 گٹھا: مذکر: (۱) بوجھ، گھاس وغیرہ کا گٹھ، پستارہ (۲) بڑا بقیہ (۳) پیاز یا لہسن کی گانٹھ (۴) کر کا پیمانہ، جریب کا بیسواں حصہ۔
 گٹھانا: سلوانا، پیوند لگانا، جوڑنے وغیرہ کی مرث کرانا۔
 گٹھانی: مونث: سلائی
 گٹھڑ: مذکر: بڑی گٹھڑی، گٹھا، بوجھ پستارہ
 گٹھڑی: مونث: (۱) بچی (۲) دکنا، نیشا، مقدار، تعداد، (۳) گناہوں اور جرائم کا بار
 مارنا: مال مارنا، لوٹنا، ٹھکانا، چوری کرنا، فریب سے لینا۔
 مٹھری: مٹھی، مٹھری تابع محل ہے، گٹھری کی جگہ مستعمل ہے۔
 گٹھل: (۱) گند (۲) گند زین، جمول، غبی، (۳) بڑی گٹھلی کا پھل۔
 (۴) مذکر: بڑی گانٹھ
 گٹھلی: مونث: (۱) پھل کا بیج و تخم (۲) گرہ، گٹھلی (۳) دم (م) سڈہ۔
 گٹھنا: (۱) سلنا، پیوند لگانا، گانٹھاجانا، (۲) مل جانا، پیوست ہونا، (۳) بندھنا (۴) جفتی کھانا۔
 گٹھوانی: مونث: گانٹھنے کی اجرت
 گٹھی: مونث: (۱) گرہ، گانٹھ (۲) پیاز، لہسن کی گرہ، (۳) دم، ہڈر، جوڑ بند، (۴) چوٹا بندل۔
 گٹھیا: مونث: جوڑوں کا درد، وجع مفاصل، نقرس۔
 گٹھیلا: مذکر: (۱) گرہ دار، گانٹھوں والا، (۲) خوب مضبوط۔
 کساہوا، (مونث) گٹھیلی
 گٹھی: مونث: (۱) پھر کی، تاگا پینے کی ریل، (۲) چلم کی ٹھیکری (۳) کٹکری۔

گ-ج

گج: مونث، سفیدی، چونا، (۲) پکافرش، پٹی چھت، (۳) اوکھل (۴) کپڑے میں پٹنے کی آواز، (۵) کسی دھار دار آلے کے گوش میں گٹھنے کی آواز
 گچا گچ / غچا: مونث: ملائم گوشت میں کسی دھار دار آلے کے بار بار گٹھنے کی آواز۔

گ-ج

گج: مذکر: (س) ہاتھی
 باگ: مونث: آئینہ۔
 پتی: مذکر: (۱) بادشاہ (۲) فیل بان، (۳) ہاتھیوں والے راجوں کا ایک خاندان۔

گدگام: مذکر؛ گودام، ذخیرہ، ذخیرہ کرنے کا مقام۔
 گدگڑ: آدھ پکا، آدھ پکا پھل، وہ پھل جو کچھ کچا کچھ پکا ہو۔
 گدگرا: مذکر، موٹا اور مضبوط آدمی، (موتش) گدگری۔
 گدگرا لکھنچولوں کا کہنے کے قریب پہنچنا، آدھ پکا ہونا، (۲) دکناٹیا،
 جوانی میں بھونا، جھین پر آنا، (۳) آدمی کے بدن کا مضبوط اور
 فریب ہونا۔

گدگراہٹ: موتش؛ کہنے کے قریب ہونے کی حالت۔
 گدگڑی: موتش؛ (۱) فقیروں کا لباس، بیوند لگا لباس، خرقہ، (۲)
 پھٹا پرانا کپڑا، (۳) پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کا بازار، بازار۔
 کالال، دکناٹیا، وہ معمولی شخص جو غیر معمولی خوبیوں کا مالک ہو۔
 نہایت عزیز۔

گدگڑی میں لال نہیں چھپتا، بیروں میں اچھا نہیں چھپتا۔
 والا، پرلے کپڑے بیچنے والا شخص
 گدگرا: مذکر؛ چمڑے کا مڑھا ہوا ڈنڈا، گنگکا۔
 گدگرا: موتش، مذکر؛ (۱) نرم، طام، گدرا، (۲) موٹا، فریب
 گدگرا: (۱) گدگری کرنا، ہنسنا، ستانا، چھیڑنا، مذاق کرنا، (۲) لگھوٹے
 کو ایڑ لگانا (۳) اُچھارنا، گادہ کرنا، برا بگبیز کرنا۔

گدگراہٹ: موتش؛ گدگدگری کا آخر۔
 گدگدگری: موتش؛ (۱) بغل وغیرہ میں انگلیوں کے تس ہونے سے پیدا
 ہونے والی کیفیت (۲) دکناٹیا، جوش، اُتنگ، خود بخود ہنسی آنا،
 جی میں شوخی پیدا ہونا۔

کرنا، گدگد کرنا۔
 گدگدے: مذکر؛ (۱) اہلی ہوئی جوار، گھنگھنیا
 گدگدلا گدگدلا: مذکر؛ (۱) میلا، (۲) گاڑھا، غلیظ۔
 گدگدلا: مذکر؛ میلا پن، میل، کدورت۔

گدگدانا: کسی قربت شے کا میلا ہونا، پانی کا میلا ہونا۔
 گدگدنا: مذکر؛ (۱) گودنا کا لازمہ، (۲) وہ نشان جو گودنے سے جسم پر
 پڑ جاتے ہیں۔

گدگدنا گدوانا: بدل بدل پھیل پڑنے ہونا
 گدگدھا: مذکر؛ (۱) ایک سیدھا سادا بچھو ڈھرنے والا جانور، خر، (۲)
 (صفت) دکناٹیا، کم عقل، بیوقوف۔

گدگدکاری: (د) موتش؛ چوڑا کاری
 گدگد: موتش؛ (۱) بیٹھ، از رمام، کچھا کچھ، (۲) سب سے ترتیب، گنگک
 (۳) بہت پاس پاس، بہت ملا ہوا۔

گدگدینا: گدگد دینا، اُچھا دینا، بے ترتیب کر دینا۔
 گدگدھا: مذکر؛ (۱) خوشہ، (۲) اتاج کی بالی، (۳) پھندنا، پھانٹاؤں کا ڈھیر
 (۴) ہینڈل، (۵) پاجا بیلوں کا چھللا، (۶) چنڈتا سے جو ایک جگہ لگیں۔
 گدگدھے دار: گدگدھے والا، گدگدھے لگا ہوا۔

گ-د-ڈ

گدگد: موتش؛ (۱) مارنے کی آواز، (۲) زمین پر دے مارنے کی آواز۔
 گدگد، موتش؛ (۱) پے دسپے گرنے کی آواز، پے دسپے مارنے کی
 آواز، (۲) لگاتار، اناپ شاپ۔

گدگدبند: موتش؛ (د) اوپر سے گرنے کی آواز، پے دسپے گرنے کی آواز۔
 گدگدبدا: مذکر؛ موٹا، جیم، (موتش) گدگدبدا
 گدگدگدھ: مذکر؛ (۱) چیل کی قسم کا مڑا رکھانے والا پرندہ (۲) ایک
 قسم کی پتنگ۔

گدگدا: (د) مذکر؛ فقیر، بھکاری
 گدگد: (د) بھیک مانگنے والا، بھکاری، فقیر۔
 گدگدگری: (د) موتش؛ بھیک مانگنے کا کام، فقیری
 گدگدائی: (د) موتش؛ فقیری۔

گدگدا: مذکر؛ (۱) گدگدلا، روٹی دار بستر، توٹک، (۲) جوار یا جو گیہوں کا
 خوشہ جو پک جلنے کے قریب ہو (۳) ہاتھی کا چار جامہ (۴) قیاس۔
 گدگدے بازی: موتش، عقل دوڑانا، اندازے قائم کرنا۔
 قیاس آرائی کرنا۔

گدگدا: مذکر؛ (۱) دختر کی موتی اور مضبوط شاخ، (۲) گنگکا۔
 گدگدختہ: (د) پگھلا ہوا، گلا
 گدگدان: (د) مذکر؛ (۱) پگھلانا، (۲) پگھلانے والا، (۳) گھلا ہوا، (۴)
 (آر دو) نرم، طام، دھا، پھل ہوا، پھیلا ہوا، موٹا، نرمی۔

گدگدانی: موتش؛ گدگداز ہونا۔
 گدگدالا: مذکر؛ بڑی گدال جس سے زمین کھودتے ہیں۔

پن: مذکر، بیوقوفی۔

گدھا گھوڑا ایک بھاؤ؛ اچھے برے سب یکساں۔

(بے انصافی اور قدر نشناسی کے موقع پر بولتے ہیں)

گدھوں کے ہل چلنا پھرنا؛ نہایت ویران ہونا۔

چلوانا؛ ویران کر دینا۔

گدھے پر چڑھانا؛ دکناٹا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، بے عزتی کرنا۔

کو آدمی بنانا؛ بیوقوف کو عقلمند بنانا۔

کو باپ بنانا؛ اپنی غرض پر کسی کو بڑا ماننا

گدھی؛ موت، مسر کا پھلا حصہ، گردن کا پھلا حصہ

ناپنا؛ دھپ لگانا، گدھی پر دھلیں جڑنا۔

سے زبان کھینچنا / نکالنا؛ مزے موت دینا۔

(پرلنے زمانے کی ایک منزل)

گدھی؛ موت، (۱) تخت شاہی، سنگھاسن، (۲) گدیلا گدا، مسند

(۳) کاغذ یا کپڑے کی تہ، (۴) جیمن کا تہا، چار جامہ (۵) مذکر

مسلمان گوالا جو دودھ، دہی اور گھی بیچتے ہیں۔

سے آتارنا؛ تخت سے آتارنا، معزول کرنا

پر بٹھانا؛ تخت پر بٹھانا، جانشین کرنا، حکومت کی باگ ڈور سونپنا۔

نشین؛ تخت پر بیٹھنے والا، تخت نشین، بادشاہ۔

گدھی نشینی؛ موت، تخت نشینی، حکومت

گدیلا؛ مذکر، (۱) روٹی کا گدا، توشک، (۲) تھی کے اوپر کھنے کی گدھی۔

گدا (GOOD)؛ (۱) گدا، عمدہ، اچھا، نیک، شریف، خوشگوار پسندیدہ۔

گدا آفٹرنون (GOOD AFTERNOON) (۱) (انگ)

دن کے تیسرے پہر کا سلام، سہ پہر بخیر۔

گدا ایوننگ (GOOD EVENING) (انگ)؛ شام کا سلام،

شام بخیر

گدبانی (GOOD BYE)؛ (انگ)؛ خدافظ، رخصتی کا سلام۔

فرائی ڈے (FRIDAY)؛ (انگ)؛ (۱) عیسائیوں کے عقیدے

کے مطابق حضرت عیسیٰ کے صلیب پر چڑھانے

جانے کا دن (۲) اپریل میں جمعہ کو منایا جانے والا

عیسائیوں کا ایک تیوار

لک (LUCK)؛ (انگ)؛ مذکر؛ اچھی قسمت، خوش قسمتی

سین اتفاق۔

مارننگ (MORNING)؛ (انگ)؛ صبح کا سلام، صبح بخیر

گدناٹ (GOOD NIGHT)؛ (انگ)؛ رات کا سلام، شب بخیر۔

گڈس ٹرین (GOODS TR. IN)؛ (انگ)؛ موٹ، مال گاڑی

گڈ؛ مذکر، دو آدمیوں کا یا چند آدمیوں کا باہمی اتفاق (۲) کاغذوں کا

مجموعہ، طے مجلے کاغذ (۳) مجموعہ

بڈ؛ بلا ٹھلا، گڈ ٹڈ، غلط ٹلط

گڈ ٹڈ؛ گڈ بڈ

کرنا؛ ملا دینا، گڑ بڑ کرنا

گڈا؛ مذکر، بڑے کپڑا جس سے لوکیاں کھلتی ہیں

گڈا بنانا؛ دکناٹا، بدنام کرنا، رسوا کرنا۔

گڈھ؛ مذکر، قلعہ، محاصرہ، گڑھ۔

گڈھی / گڈھی؛ موت، چھوٹا قلعہ

گڈھا؛ مذکر، دھم، گڑھا

گڈھی؛ موت، (۱) بڈیوں کے جوڑ (۲) ایک قسم کا چوکور پتنگ

گ

گر: (ف) (۱) بنانے والا (۲) کرنے والا مرکب شکل میں مستقل

ہے جیسے دلگرو، ستم گرو، غیرو) گار کا مخفف (۳) ہمیں صاحب

رکھنے والا (۵) حرف شرط، اگر کا مخفف۔

گر قبول افتد زہے عز و شرف؛ اگر قبول ہو تو میری موت بوجہ

گر؛ مذکر، (۱) کلیہ، اصول، قاعدہ، (۲) نکتہ، باریکی

مکتبی؛ موت، گڑوں کے مذکر کی زبان، پنجابی زبان

گرا؛ مذکر، (۱) لاکھی رنگ، سرخی مال سفید (۲) گھوڑے اور کھوڑے

کا ایک رنگ۔

گرا؛ گرا ہوا، محتاج، مغرب ذلیل

پڑا؛ مذکر، (۱) آفتاب (۲) زمین پر گرا اور پڑا ہوا (۳) دکناٹا

(دلی) ذلیل کمینہ، بے حقیقت

گرا پڑنا؛ ٹوٹنا پڑنا

گر پڑ کے؛ (۱) منت سماجت کر کے (۲) افسانہ خیزان بڑی مشکل سے۔

گرے پڑے کا سودا: وہ معاملہ جو شام درآمد کر کے کیا جائے۔
 گزrab: مذکورہ وہ توپ کا گولہ جس میں بہت سی گولیاں رل جھرتے
 وغیرہ بھرے ہوتے ہیں، (۲) بڑا چھڑا۔
 گزاری: موٹھ؛ (۱) دھاگا لپٹنے کی ریل (۲) کنویں کی چرخی
 (۳) لوہے کا دانے دار پہیا۔
 گراف: GRAPH (انگ) خاکہ، اعداد و شمار کا علامتی خاکہ
 پیپر: PAPER (انگ) کاغذ جس پر چوکور خاکے بنے ہوتے ہیں۔
 گرام: (۵) مذکورہ (۱) گائو، بستی (۳) (انگ) (GRAM) وزن کا ایک
 چھوٹا پیمانہ۔
 گرامر: GRAMMAR (انگ) موٹھ، صرف، قواعد زبان
 گراموفون: GRAMOPHONE (انگ) مذکورہ ایک قسم کا
 باجاس پر ریکارڈ بجائے جاتے ہیں۔
 گرامی: (ف) بہت عزیز، بزرگ، محترم، معظ
 — قدر / منس بون، بزرگ، طبیعت والا
 — نامہ: مذکورہ بڑے کا خط
 گراں: (ف) ایش، وزنی، بھاری، بولہبل، ناگوار، اجیرن، ۳۱، بیش قیمت
 انمول مہنگا (۴) سخت، دیرخست، کرا، (۵) شکل، دشوار
 — بار: (ف) بوجھ سے دبا ہوا۔
 باری: (ف) موٹھ؛ بوجھل پن زیر باری
 — بہا: بیش قیمت
 — پایہ: (ف) بلند مرتبہ، بڑا آدمی
 — جان: (ف) سنت جان، سست، کابل، بوڑھا۔
 گراں خاطر: (ف) (۱) دوپہر، اجیرن، ناگوار طبع (۲) ناراض،
 آزرده، رنجیدہ، غمگین
 خواب: (ف) (۱) بہت سونے والا، (۲) غافل
 — سز: (ف) مغرور، گھمنڈی
 — شہرت: (ف) باوقار
 — سنج: (ف) بھاری، وزنی، بیش قیمت
 — قدر: (ف) عالی مرتبہ
 — گزرتا: ناگوار گزر، دل پر بوجھ ہونا۔
 — گوش: (ف) بہل

گوشی: (ف) موٹھ، بہل
 مایگی: (ف) موٹھ، بزرگی، سرداری، دولت مندی۔
 گرانماہیہ: (ف) نفیس، قیمتی چیز
 گرانی: (ف) موٹھ؛ (۱) مہنگائی (۲) بھاری پن (۳) ناگوار پن، بھڑکی
 (۵) توڑا، کمی، قلت
 — خاطر / طبع: موٹھ، بے زاری، ناگواری
 گرانا: (۱) نیچے ڈالنا، پھینکنا (۲) ڈھانا، مسامر کرنا (۳) منقلب
 کرنا، دے مارنا، پھینکا (۴) مرتبہ گھٹانا (۵) اسقاط کرنا۔
 (۶) بندھا کرنا (۷) قیمت کم کرنا (۸) کھونا۔
 گرانٹ: GRANT (انگ) موٹھ؛ امداد، عطیہ، بخشش
 گراؤنڈ: GROUND (انگ) مذکورہ زمین، بنیاد، میدان۔
 — فلور: FLOOR (انگ) کسی مکان کی نیچلی منزل۔
 گراہک / گاہک: (۵) مذکورہ خریدنے والا خریدار
 گزرب: (ف) موٹھ، بی
 — چشم: (ف) (۱) کرجنا، نیلی آنکھوں والا (۲) بے مروت
 — کشش: روز اول: (ف) (۱) ریش، بی پہلے ہی دن مارنی چاہئے
 (۲) رعب پہلے ہی دن خوب بیٹھنا ہے۔
 — سنکین: (اضافت کے ساتھ) (۱) باہر سے شریف اندر سے
 بد معاش (۲) مکاری، فریبی۔
 گروکھ: (اس) مذکورہ عمل
 گرپڑنا: (۱) زمین پر آ پڑنا، نیچے آ رہنا (۲) کرنا یا سائل ہو جانا،
 (۳) نہایت کمزور ٹھیک ہو جانا۔
 گرپڑنا: (۱) گرتے پڑتے ہوئے (۲) لڑکھڑاتے ہوئے (۳) اقتان خیزاں۔
 گرت: موٹھ (۱) کڑک، بجلی کی کواز، بادل کی آواز (۲) شیر کی آواز،
 ہاتھی کی چنگھاڑ (۳) زور کی آواز
 گرجا: مذکورہ عیسائیوں کا عبادت خانہ، کلیسا، چرچ۔
 گزرتا: مذکورہ (۱) موتی جس میں بال بڑا ہوا ہو، عیب دار موتی
 (۲) گرجنا کا نامی۔
 گزرتا: (۱) بادل کا آواز کرنا، کڑکنا (۲) شیر کا دھاڑنا، ہاتھی
 کا چنگھاڑنا (۳) چلانا، شور مچانا، کڑک کر بولنا (۴) موتی
 میں بال پڑ جانا۔

گردو اٹنا: (۱) کسی مصدر کے تمام صیغوں کو ترتیب سے پڑھنا
(۲) دہرانا، دور کرنا (۳) تسلیم کرنا (۴) پٹنا، ملانا، پھنسانا،
(۵) متوجہ کرنا (۶) کھلی ہوئی کتاب بند کرنا۔

گردوش: (۱) نمونہ، (۲) چکر، دورہ، پھیر (۳) انقلاب، تغیر
(۴) ادبار، بد نصیبی، بد اقبالی (۵) مصیبت، آفت، سختی
— دورانِ مضافت کے ساتھ (۶) نمونہ، زمانے کی گردش
برلے ہوئے حالات۔

گردہ: مصیبت کا مارا۔
— فلک (۱) مضافت کے ساتھ نمونہ آسمان کی گردش
انقلابِ زمانہ۔

لیل و نہار: (۱) مضافت کے ساتھ (۲) رات اور دن کی گردش
(۳) کنایتاً آفت و مصیبت۔

گردن: (۱) نمونہ، (۲) اٹکل، گھوڑا، شیشہ، صراحی، مینا۔
— اٹھانا: سر اٹھا کر دیکھنا۔

— پراحسان ہونا: احسان سے سر جھکا ہونا۔

گردن پر بوجھ لینا: احسان مند ہونا، ذمہ داری لینا۔

— پر جو رکھنا: (۱) بار ڈالنا، کوئی اہم کام کسی کے ذمہ کرنا،
(۲) کنایتاً شادی کرنا۔

— پر چھری پھیرنا: (۱) ذبح کرنا (۲) کنایتاً کھلی زیادتی کرنا،
صریح ظلم کرنا۔

— پر خط کھینچنا: جلاذکات قتل کرنے سے پہلے گردن پر نشان بنانا۔

— پھنسانا: (۱) مصیبت میں پڑنا، اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا
ذمہ لینا (۲) جواب دہ بننا۔

— جھکا لینا: گردن نیچی کرنا، شرمندہ ہو جانا۔

— چھڑانا: کنایتاً مصیبت سے نجات دلانا، آزاد کرنا

دباننا: مغلوب کرنا، دباؤ ڈالنا۔

— ڈالنا: (۱) گردن نیچی کرنا (۲) شرمندہ ہونا (۳) بڈھال ہونا۔

— ڈھلکانا: منکا ڈھلکانا، مرنے کے قریب ہونا۔

— زونی: قتل کئے جانے کے قابل

— زن (۱) رت، جلاؤ۔

— ستے جو آٹا رانا: کنایتاً آزاد ہونا۔

گردتے ہیں سو برستے نہیں: (شکل زبانی شیخی بگھارنے والوں سے
کچھ نہیں ہو سکتا۔

گرد جانا: (۱) بچھڑ جانا (۲) بچھے گرد پڑنا (۳) ذلیل ہو جانا۔

گردیج: نمونہ، ایک دو اکا پودا جو بیل کی طرح پھیلتا ہے۔

گردیجہ: اگر جے

گرد: (۱) مذکر، پہلوان بہاؤ۔

گرد: (۱) پھرنے والا (۲) نمونہ، وہ خاک یا غبار جس کو
جو اڑائے، خاک دھول (۳) کنایتاً رنج و ملال بحقیقت بیچ۔

گردا: مذکر، رجم، گرد، دھول، ریت، بالو۔

گرد آلود / آلودہ: (۱) دھول ملا ہوا، خاک جی ہوئی، غبار آلود۔

گرد بان: (۱) مذکر، ابلو، گول، جو اگر دھار والی ہو (۲) آندھی جھکڑ
گرد کو نہ پہنچنا: برابر نہ ہو سکتا، جیسے نہ جانا، ہم سہری نہ کر سکتا۔

گرد نہ پانا: برابری نہ کر سکتا، قریب تک بھی نہ پہنچنا

— وغبار: مذکر، خاک دھول

— ہونا: (۱) خاک ہونا (۲) ملت ہونا (۳) بیچ ہونا، بے رونق ہونا

بے حقیقت ہونا۔

— ہے: کچھ حقیقت نہیں رکھتا

گرد: (۱) نمونہ، آس پاس، ادھر ادھر

گرد آلود: (۱) نمونہ، اطراف میں، ارد گرد، آس پاس۔

گرد آور: مذکر، آفسر، حاکم، گشت کرنے والا۔

— آوری: نمونہ، (۱) دورہ گشت، نگرانی (۲) گرد آور کا عہدہ

گرداب: (۱) مذکر، بھنور، پانی کا چکر

گردو پاش: (۱) مذکر، گول اور چھوٹا سنگیہ، جو سوتے وقت
رخساروں کے نیچے رکھتے ہیں۔

— ویش: مذکر، گرد، آس پاس، چاروں طرف۔

— و نواج: (۱) مذکر، آس پاس کا علاقہ، قرب و جوار۔

گرداں: (۱) پھرنے والا گھومنے والا (۲) اٹھا ہوا، پٹنا ہوا۔

گردان: نمونہ، (۱) پھراؤ، دور، صیغوں کو ترتیب سے پڑھنا۔

(۲) صیغوں کی ترتیب: دہرانا (۳) قرآن شریف دہرانا۔

(۴) مذکر، اڑانے کا بوتل

گردان کرنا: صیغوں کو زمانہ واحد اور جمع کی ترتیب سے پڑھنا۔

— قواز: دکناٹیا، باغی، سرکش، گھنڈی

گردن کش: (د) سرکش، باغی، گھنڈی

— مارتا: (۱) قتل کرنا (۲) دکناٹیا، نقصان پہنچانا۔

تکلیف دینا۔

— میں ہاتھ دیکے مکانا: ذلیل کر کے نکال دینا۔

— میں ہاتھ دینا: دکناٹیا، ذلیل کرنا۔

— میں ہاتھ ڈالنا: پیار کرنا، محبت کرنا۔

— ناپنا: دکناٹیا، (۱) مار پیٹنا (۲) ذلیل کرنا (۳) سزا دینا۔

قتل کرنا۔

نہ اٹھانا: مارے شرمندگی کے سر نہ اٹھانا، ان نکرنا، دم نہ مارنا۔

گردنی: مونث، (۱) گھوڑے پر ڈالنے کا کپڑا (۲) گشتی کا ایک داؤں۔

— دینا: گردن میں ہاتھ دیکر دھکا دینا

— مارتا: گردن پر ہاتھ مارنا۔

گردوں: (د) مذکر، (۱) آسان (۲) چرخ (۳) چھکڑا، رتھ

بہلی (۴) گھومنے والا۔

— پناہ / کاب / سریر: (د) بادشاہوں کی صفات۔

گڑوہ: (د) مذکر، (مستوردوں کی اصطلاح) خاکہ۔

گروہ: (د) مذکر، (۱) گول چیز (۲) چھوٹی خمیری روٹی (۳) حلقہ،

دائرہ، گنڈلی، ٹروس (۳) احاطہ، دور (۴) پان دان کی تعالیٰ

کا گول کپڑا، حقہ رکھنے کا گول کپڑا (۶) ڈھول کا حول (۷) :

گول تکیہ۔

گروہ: (د) مذکر، (۱) جسم کا اندرونی عضو جس میں پیشاب بنتا ہے

(۲) ایک قسم کی چھوٹی توپ (۳) دکناٹیا، جرکت، حوصلہ دہری۔

— ہونا: حوصلہ ہونا

گروز: (د) مذکر، ایک بھاری ہتھیار کا نام جو ابر سے گول موٹا،

اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے اور بڑھن کے سر پر مارنے کے

کام آتا ہے۔

— برودار: (د) مذکر، گروز اٹھانے والا۔

گرونگی: (د) مونث، بھوک

گروسنہ: (د) بھوکا

گرفت: (د) مونث، (۱) پکڑ (۲) دستہ، موٹھ، قبضہ (۳) مواخذہ

اعتراض، سرزنش۔

کرنا: (۱) پکڑنا (۲) اعتراض کرنا، مزاحمت کرنا

— میں آنا: جنگل میں آنا، قابو میں آنا۔

گرفتار: (د) (۱) پکڑا ہوا، قیدی، اسیر (۲) پھنسا ہوا (۳) مبتلا

عاشق، فریفتہ۔

گرفتاری: (د) مونث، (۱) پکڑا، (۲) قید، نظر بندی، (۳) اُجھاؤ

جنجال۔

گرفتگی: (د) مونث، (۱) پکڑ (۲) آواز کا بھاری پن (۳) ملول

ہونا، مبتلا ہونا

گرفتہ: (د) (۱) پکڑا ہوا (۲) دکناٹیا، عاشق

— خاطر / دل: (د) رنجیدہ، خاطر، ملول، ناتواں۔

گزرگ: (د) مذکر، بھیڑ یا

— آشنائی: (د) ظاہر میں دوستی، باطن میں دشمنی

— باراں دیدہ: (د) مذکر، (اضافت کے ساتھ) تجربہ کار

گھاگ، ٹرینٹ، آزمودہ کار۔

گڑگا: مذکر، (۱) دہلی، چھوکر، چیلہ، شاگرد (۲) لکھنؤ، شریر، شیطان

بدکار، بد وضع (۳) (۵) اونا، ملازم۔

گڑگانی: مونث، ایک قسم کی جوتی جو صرف نیچے تک ہوتی ہے۔

گڑگٹ: مذکر، ایک قسم کی بڑی پھیل جوتی جو طرح سے رنگ بدلتی ہے۔

— کی طرح رنگ بدلتا: (۱) دکناٹیا، ایک حالت پر قائم نہ رہنا،

کبھ سے کبھ ہو جانا (۲) غصہ کے مارے کبھی لال کبھی پیلا

ہو جانا۔

گڑگڑانا: جال کی طرف بھڑوں کو پھینکانا۔

گزل: (GIRL) (انگ) مونث، لڑکی۔

— فرینڈ: (FRIEND) (انگ) مونث، دوست، لڑکی۔

گڑگڑس (GIRLS SCHOOL) (انگ) مذکر، لڑکیوں کا

مدرسہ، مدرسہ نسواں۔

گرم: (د) (۱) تپتا، جلتا ہوا (۲) تیز رفتار (۳) دکناٹیا، اختلاط

رکھنے والا (۴) مستعد، سرگرم (۵) لال، دکھتا ہوا (۶) خطا،

ناراض (۷) تیز، بااثر (۸) شوخ، شرارتی، چلبلا۔

— اختلاطی: مونث، گہری دوستی، بے تکلفی۔

گرماہٹ: موٹھ، (۱) گرمی، (۲) شوخی، شہرت۔
 گرمی: (۱) موٹھ، (۲) تپش، حرارت، (۳) موسم گرما، گرمی کی رت (۴)
 سرگرمی، تپاک، گرم جوشی، شوخی، طراری (۵) تیزی تندی رکنا پٹنا،
 آتشک کی بیماری، (۵) غصہ، (۶) شہوت خواہش نفسانی۔

بازار: (۱) موٹھ، (۲) اضافت کے ساتھ، موٹھ، گرم بازار۔
 رونق: چہل پہل، خریداروں کی کثرت۔

چرٹھ جانا: دلخ میں غفل آنا، پاگل ہو جانا۔
 دانے: مذکر، وہ چھوٹے چھوٹے دانے جو گرمی کے موسم میں
 بدن پر نکل آتے ہیں۔

نکالنا: (۱) حرارت دفع کرنا، (۲) نکالنا پٹنا، غصہ نکالنا، کسی کو
 مارنا، پیٹنا، (۳) جماع کی خواہش مٹانا۔
 نکلنا: (۱) آتشک کا مرض ہونا۔

ہونا: (۱) گرمی پڑنا، (۲) آتشک ہونا، (۳) حرارت بڑھنا
 گزنا: (۱) اوپر سے نیچے آنا، (۲) پھینا، (۳) لالچ کرنا، (۴) بھاگوں ہونا
 (۵) برسنا، پڑنا، (۶) قدر نہ رہنا، ذلیل ہونا، (۷) بیار پڑنا،
 (۸) مرتبہ کم ہو جانا، (۹) حمل ساقط ہونا، (۱۰) ہجوم کرنا، (۱۱) مارنا۔
 (۱۲) مکان یا تعمیر کا منہم ہونا۔

گرنٹھ: (۱) موٹھ، (۲) پٹنگ، (۳) پوتھی، کتاب، (۴) سکھوں کی
 مذہبی کتاب۔

گرو: مذکر، (۱) پیرو مشد، (۲) بزرگ، (۳) استاد، (۴) کامل فن، جگت استاد
 (۵) مجازاً، شہر، مفید، شہدا، (۶) ہوشیار، خزانہ۔

دوارہ: مذکر، (۱) گرو کے رہنے کا مکان، (۲) سکھوں کا عبادت
 خانہ، (۳) سکھوں کا درہم شالا۔

گڑھی لہے چلیے حکم ہو گئے: (۱) شاگرد نے اتنی ترقی کی
 کہ استاد سے بڑھ گیا۔

گھنٹال: مذکر، (۱) بہت بڑا استاد، سب کا پیرو مشد
 (۲) بد معاشوں کا سفند، بڑا چالاک، خزانہ، گھاگ

گرو: (۱) رہن کیا ہوا، (۲) مطلع، مقید، گرفتار، قبلا
 گرو نامہ: مذکر، رہن نامہ، رہن کا تحفہ

گروپ: (۱) گرو، (۲) مذکر، (۳) گروہ، جماعت، مجمع، مجموعہ
 بندی: پارٹی بازی

بازاری: (۱) موٹھ، (۲) بکثرت خرید و فروخت، لین دین
 اور بیوپاری چہل پہل، رونق

جوشی: (۱) موٹھ، (۲) تپاک، (۳) خفلاط، (۴) سرگرمی،
 جوش، شوق، (۵) کوشش۔

جولان: (۱) تیز دوڑنے والا
 خیر: موٹھ، عام خیر، افواہ، دھوم، تازہ خبر۔

خو: (۱) غضب ناک، تند خو۔
 خیز: (۱) تیز چلنے والا، چالاک

رقنار: (۱) تیز چلنے والا
 گرم سخن: (۱) اضافت کے ساتھ بات چیت میں مشغول۔

سفر: (۱) اضافت کے ساتھ سفر میں مشغول۔
 فحال: (۱) اضافت کے ساتھ رونے میں مصروف۔

کرنا: (۱) رکنا پٹنا، (۲) غصہ دلانا، (۳) جوش دلانا، شہوت پیدا کرنا،
 (۴) گھوڑے کے لئے تیز کرنا، دوڑانا۔

گرم: تازہ بتازہ
 مزاج: (۱) رکنا پٹنا، تند مزاج، غصیل

مسالہ: مذکر، زیرہ، سیاہ مریچ، لوگ، الائجی اور دال جینی کا مجموعہ۔
 و سرود: (۱) مذکر، رکنا پٹنا، رنج و راحت، حوادث زمانہ۔

وسرود آرنانا: (۱) اٹھانا / سہنا / چھیلنا: زمانے کی
 کی مصیبت سہنا، تجربہ کار ہونا۔

ہونا: (۱) پٹنا، جلنا، (۲) جوش ہونا، (۳) رکنا پٹنا، غصہ کرنا
 (۴) بارونق ہونا، (۵) آدمیوں کی زیادہ آمد و رفت ہونا

ہجوم ہونا: (۱) دل کے ساتھ خوش ہونا۔
 گرما: (۱) مذکر، گرمی کا موسم

گرماہ: (۱) مذکر، (۲) حمام، گرم فصل خانہ، (۳) اردو پانی گرم
 کرنے کا برتن۔

گرما گرم: (۱) جلتا ہوا، (۲) تازہ بہ تازہ، (۳) پرجوش، (۴) وقت خیز، (۵) چرب زبان
 (۶) تروق پزیر، (۷) جبینہ، (۸) شوخ، چلبلا۔

گرمی: (۱) موٹھ، (۲) شوخی، (۳) توو، (۴) میمن، (۵) جھگڑا۔
 گرمانا: (۱) گرم ہو جانا، (۲) گرم کرنا، (۳) خفا ہونا، (۴) غصہ کرنا، (۵) جوش
 میں آنا، (۶) مارہ چار پایہ کا جوش مستی میں آنا، شہوت پیدا کرنا۔

گرہن: سورج پر چاند کا یا چاند پر زمین کا سایہ پڑنے سے سیاہ ہو جانا۔ گھبن

گمراہی: موٹہ، ایک قسم کی چھوٹی مچھلی

گمتری: موٹہ، کنویں کی چرخ میں ڈول کی رسی لپٹی ہے۔

گرمی: موٹہ (۱) بیج، مغز، تخم (۲) ناریل کا مغز (۳) بیج کے اندر کا گودا (۴) صفی، گرمی ہوئی۔

_____ ہوئی آواز: پست آواز، کمزور آواز

گرایا: موٹہ (۱) پیٹھ کی ہڈیوں کا مجموعہ، ریڑھ کی ہڈیاں (۲)

سانپ کا بیجز

گرایاں: (ف) روتا ہوا، نالاں

گریبان / گریبان: (ف) مذکر کرتے یا قمیص کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے رہتا ہے۔

_____ کپڑا: دکھائی، سخت تقاضا کرنا

_____ چنگ کرنا: دکھائی، وحشت سے کپڑے پھاڑنا، دیوانہ ہونا۔

_____ گہر: (ف) روکنے والا، مزاحم، مقابلہ کرنے والا

_____ میں مٹھو ڈالنا: (۱) اپنے قصور اور عیب کو دیکھ کر شرم کے مارے گردن نیچی کر لینا (۲) گردن جھکا کر غور کرنا (۳) شرمندہ ہونا۔

گریٹ: (GREAT) (انگ) بڑا، عظیم، اعلیٰ، بلند، برتر، بزرگ، عالی منس۔

گریجویٹ (GRADUATE) (انگ) یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کیا ہوا۔

گریڈ: (انگ) مذکر، رتبہ، مرتبہ، درجہ، پایہ۔

گریز: (ف) موٹہ، مذکر (۱) بھاگنا (۲) فرار (۳) علاحدگی، اجتناب پر ہیز (۴) ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف متوجہ ہونا، تمہید سے مدعا کی طرف آنا۔

_____ پا: (ف) (۱) بھاگنے والا، متوحش (۲) (مجازاً) بے ثبات، ناپائیدار۔

_____ کرنا: بھاگنا، پرہیز کرنا، نفرت کرنا

_____ گریزیاں: (ف) بھاگنے والا، مُتَنَفِّر

گریس: (GREASE) (انگ) (۱) مذکر، موٹہ (۱) چربی، چکنائی روغن (۲) ایک بیماری جو گھوڑے کے پیروں میں ہوتی ہے۔

گروس: (GROSS) (انگ) مذکر: بارہ درجن کا مجموعہ

گروہ: (ف) مذکر، (۱) ٹولی، جماعت، جگہ، فرقہ (۲) غول، جھنڈ (۳) قسم، نوع، درجہ ذات۔

گروہ ہاگروہ: (ف) مذکر، جھنڈ کا جھنڈ، غول کا غول

گروہ بندی: (ف) مذکر، گروپ بندی، جماعت بندی

گروہی / گروہیں: موٹہ، (۱) بندھک رہن، گرو (۲) وہ چیز جو گرو رہی گئی ہو۔

_____ رکھنا: رہن رکھنا۔

گریویدگی: (ف) موٹہ، چاہت، رغبت، میلان، فریفتگی

گریویدہ: (ف) (۱) فریفتہ، نائل، راضی، (۲) معتقد، (۳) مطیع، مُرید

گریزہ: (۱) گانٹھ، گتھی (۲) جیب، پاکٹ (۳) گز کا سوہواں حصہ، تین اُنجل کی چوڑائی (۴) بند، چوڑھ، کدورت، رنج و ملال (۶) شدہ گتھی (۷) کسی کے مصرع پر لگایا مصرع (۸) رکنا، تباہ، تخریب، پاس (۹) برجی کا وہ حصہ جس میں سنان لگی ہوتی ہے، اُنجل

گریزہ باز: ایک قسم کا کلب جو پرواز میں قلابازیاں کھاتا ہے۔

_____ باندھنا: (۱) گرہ لگانا، (۲) خوبی یا رکھنا، دل پر نقش کر لینا۔

_____ سے: جیب سے، پاس سے

_____ سے جانا / کا جانا: اپنی جیب سے خرچ کرنا، ذاتی نقصان ہونا۔

_____ کاٹنا: جیب کاٹنا، پاکٹ مارنا۔

_____ کٹ: جیب کترا

_____ کھلنا: گتھی سلیمانا، آسان ہو جانا

_____ گہر: (ف) بل کھائے ہوئے، مڑا ہوا۔

_____ لگانا: (۱) گانٹھ باندھنا (۲) ایک مصرع پر دوسرا مصرع لگانا، تفصیل کرنا (۳) مضبوط کرنا

_____ میں باندھنا: یاد رکھنا

_____ گزہ: مذکر، (۱) سیاہ (۲) ہندو جوتش کے مطابق ذیل کے ستارے (۱) سونچ (۲) چاند (۳) مشکل (۴) بدھ (۵) برہمپت (۶) شکر

(۷) سنیچ (۸) لاجو (۹) کیت۔

_____ آنا: (نجومیوں کی اصطلاح) غومت آنا، بد نصیبی کا زمانہ آنا۔

_____ دیکھنا: جنم پتھی دیکھنا

_____ گرہستی: (۵) موٹہ، خانہ داری، گھرواری

گر گھیرو (GRAMMAR) (نگ، موٹھ، صرف و نحو، قواعد۔
 گر گریڈ (GRAND) (نگ) بڑا، عظیم، شاندار، خوبصورت، نفیس۔
 گر گرین روم: GREEN ROOM (نگ) مذکر، (۱) ڈرامے میں کام
 کرنے والوں کی خلوت گاہ جہاں لباس وغیرہ تبدیل کرتے ہیں
 (۲) وہ کمرہ جس میں ڈرامے کے کردار بیٹھے سنورٹے یا میکاپ
 کرتے ہیں۔

گر گریہ: (ف) مذکر، رونا، زاری۔

گر شادی: (ف) راضافت کے ساتھ) مذکر، خوشی کی حالت
 میں رونا، خوشی کے آنسو۔

گر کرنا: رونا، آنسو بہانا۔

گر کٹنا: (ف) مذکر، روتا، پٹیا ہوا، نالاں، گریاں۔

گر مند/ناک: (ف) رونے والا

گر وزاری: موٹھ، رونا، پٹینا، واویلا، گہرام، آہ و بکا۔

گ ر ط

گر گڑ: (مذکر) گنے کا جایا ہوا شیوہ، تند سیاہ (۲) کنایتاً، میٹھا، شیریں
 انبیا: (مذکر) صبح (ملفوظ) مذکر، (۱) گڑ یا شکر کے شیرے میں پکی

ہوئی کچے آم کی قاشیں (۲) کچے آم کا میٹھا اجار۔

گر دھانی: موٹھ (م) گڑ کے توڑ میں بچھے ہوئے چاولوں یا گہوں
 سے بنی ایک قسم کی مٹھائی

گر دیے مرے تو زہر کیوں (سیحیہ: (مثل) جو کام آسانی اور
 نرمی سے نکل سکے اُس میں سختی نہیں کرنا چاہیے۔

گر کھانا گلہ گلوں سے پر ہیز کرنا: (مثل) ایک ہی طرح کے دو
 کاموں میں سے ایک کرنا اور دوسرے سے بچنا۔

گر گڑا: مذکر، بگڑا ہوا۔

گر گڑا جانا: شرمندہ ہونا جانا۔

گر گڑ بڑ: موٹھ (۱) پیٹ بولنے کی آواز (۲) کنایتاً، جمیلا، بکھیرا،
 افزائگری (۳) گڑ بڑی، بے انتہائی، کھلی، بے ترتیبی،

پریشانی (۴) درہم برہم (۵) گڑ بڑ، بلا جلا۔

گر جھالا: مذکر، (۱) بڑا بڑا بوزا باندی (۲) کنایتاً، گڑ بڑی، بد نظمی

(۳) جھگڑا، بکھیرا۔

گر گڑا بڑا: گھبرانا۔

گر گڑ بڑی: موٹھ، کھلی، بیچینی، اضطراب۔

گر گڑ پ: موٹھ، (م) کسی نلام چیز میں جلدی سے گھس جانے کی
 آواز، غڑ پ (۲) جلد، جھٹ۔

گر گڑ جانا: (۱) دب جانا، دفن ہونا (۲) شرمندہ ہونا (۳) قائم ہونا،
 اڑ جانا (۴) بچھ جانا۔

گر گڑ ریا: مذکر، چرواہا، گولا، بیٹھ بکریوں کا چرانے والا۔

گر گڑ گڑ موٹھ: (۱) گڑ گڑا ہٹ، توپوں کے نکات چھوٹنے کی آواز (۲) بادلوں کی گڑ
 گڑ گڑا ہٹ: موٹھ، (۱) پیٹ بولنے کی آواز (۲) بادلوں کی گرج۔

گر گڑ گڑ: موٹھ، حقتہ پینے کی آواز۔

گر گڑ گڑا: مذکر، ایک قسم کا بڑا حقتہ۔

گر ہٹ: موٹھ، حقتہ پینے کی آواز۔

گر گڑ گڑی: موٹھ، ایک قسم کا چھوٹا حقتہ

گر گڑ گڑا نا: عاجزی کرنا، منت سماجت کرنا

گر گڑ م: مذکر (م) سر کی چوٹ کا درم کو مڑ۔

گر گڑ نا: (۱) دینا، تپنا (۲) دفن ہونا (۳) بچھنا (۴) جھنا، قائم ہونا،
 کھڑا ہونا (۵) شرمندہ ہونا۔

گر گڑ وانا: دفن کرنا، زمین میں دلوانا۔

گر گڑ وانا: زمین کھدانا، کھیت سے گھاس نکالنا

گر گڑ ونا: چھیدنا، جھوننا۔

گر گڑ یا: موٹھ، پڑے کی جی ہوئی تپتی جس سے دکھیاں کھیتی ہیں۔

گر گڑ یوں کا کھیل: (کنایتاً) آسان کام، معمولی بات۔

گر رینلا: مذکر، ہندوؤں کے ایک مشہور سیلے کا نام۔

گر گڑے مرنے آکھاڑنا: پڑا ہونے سے بچنا، (۱) دلی بات پھر سے نکالنا۔

گر گڑھ: (۵) مذکر، قلعہ

گر گڑھا: مذکر، (۱) غار (۲) کھڈ، گھائی (۳) قبر، گور (۴) لاٹری کی وچ
 سے آنکھوں کے طلعتے میں پیدا ہونے والا گڑھا۔

گر گڑھت: موٹھ، گڑھنا، گڑھنے کا انداز

گر گڑھل: (مذکر) ایک درخت اور اُس کا پھول۔

گر گڑھنا: (۱) گھڑنا (۲) لکڑی کو کاٹ کر ہموار کرنا (۳) زور بنانا (۴)

رسائی پہنچ، آمدورفت (۴) نباہ (۵) عبور، اترائی (۶) چارہ۔
 تدبیر (۷) موت، بسرواقت۔
 گزران: (۱) موت، بگزارا، اوقات بسری۔
 — دینا گزرا نلتا: پیش کرنا۔
 گزربستر: موت، بگزارا، نباہ، اوقات بسری
 گزرجانا، (۱) چلا جانا، راستے سے نکل جانا (۲) تمام ہو جانا
 (۳) (عوم) مر جانا، فوت ہو جانا۔
 — کرنا: (۱) اتفاق سے جانکھنا (۲) دن کاٹنا، اوقات بسر کرنا۔
 (۳) پورا کرنا، نباہنا (۴) جانا۔

گزرگاہ: (۱) راستہ، (۲) شارع عام
 گزر: (۱) بیتنا (۲) مرنا (۳) جانا (۴) بسر ہونا (۵) نباہ ہونا (۶) پار
 ہونا (۷) ختم ہونا، ہو چکا (۸) باز آنا (۹) دل میں سانا
 گزری (گزری: موت، (۱) راستے پر لگا ہوا بازار، فٹ پاتھ کا بازار،
 وہ بازار جو شام کو فٹ پاتھ پر لگتا ہے (۲) مستعمل نہیں ہے)
 گزشتہ آج گزشتہ: (۱) جو ہو سوا (۲) بڑا صد مہ ہوا، جو
 ناقابل بیان ہے (۳) اب تک جو کچھ ہوا ہو گیا آئندہ اعتبار ہونا چاہیے
 گزشتینی: (۱) گزرنے والی، نہ ٹھیرنے والی، ناپائے وار۔
 گزشتہ: (۱) پچھلا (۲) گزرا ہوا زمانہ۔

— راصلوۃ آئندہ راقتیاط: (۱) مثل بگزی باتوں کا
 خیال نہ کرو، آئندہ کے لیے احتیاط رکھو۔
 گزنگ: (۱) موت، (۲) ایک قسم کی مٹھالی (۳) واقعہ بدلنے کی چیز،
 (۴) شراب پینے کے دوران کھلنے کی کوئی چٹ ٹی چیز۔
 — وال: مذکر، گزنگ رکھنے کا برتن۔
 گزند: (۱) موت، (۲) بگزرنا، (۳) ایذا، دکھ، تکلیف، چوٹ (۴) صدمہ
 (۵) آسیب کا نکلنا۔

گزندہ: (۱) ڈنک مارنے والا ڈونٹے والا، سانپ، پتھر۔
 گزنی: موت، ایک قسم کا موٹا سونے کی پڑا۔
 گزیدہ: (۱) کاٹا ہوا، ڈنک مارا ہوا، ڈسا ہوا۔
 گزیدہ: (۱) چٹا ہوا، چھٹا ہوا، منتخب، پسندیدہ۔

گزیر: (۱) علاج، تدبیر، چارہ (۲) اردو میں تنہا مستعمل نہیں ہے (۳)
 گزیر: (۱) دھچک، پسندیدہ (۲) ترکیب میں پسند کرنے والا کے

دکناٹیا، کوئی بات بنانا، فرضی باتیں سنانا۔

گڑھنت: (۱) موت، (۲) شکل، بناوٹ، موت (۳) گڑھا، بات بنانا؛
 گڑھی: موت، چھوٹا قلم
 گڑھیا: (۱) کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ (۲) گڑھا کی تصغیر (۳) وہ
 گڑھا جس میں برسات کا پانی جمع ہو۔
 گڑھیا میں منہ دھور کھو: انکار کا کلمہ

گ ز

گزر: (۱) گذر (۲) سو گزرہ یا ۳۶۰، پنج کا پیمانہ (۳) ایک قسم کا تیر
 جس میں نوک اوپر نہیں ہوتی (۴) سازگی یا ستار بھانے کا
 آکر، مضرب۔

— بھوکا: دکناٹیا، بہت طول طویل۔

گزار: (۱) گزارنا کا امر (۲) ادا کرنے والا (۳) رسائی۔

گزارش: (۱) موت، عرض، بیان، درخواست

— نامہ: مذکر (۲) خط چھوٹے کی طرف سے بڑے کے نام۔

گزارنا: (۱) ادا کرنا، بجالانا (۲) چھوڑنا، جھلت دینا (۳) عمر بسر کرنا،
 (۴) پیش کرنا۔

گزارہ: (۱) مذکر، (۲) گزار بسر، نباہ، گزاراقت کے لیے ملنے والی
 رقم (۳) رسائی، دخل (۴) گنجائش، رسائی۔

— کرنا: بسر اوقات کرنا، دن کاٹنا، نباہنا، کام چلانا۔

گزارے دار: کسی وظیفے یا وثیقے پر گزراقت کرنے والا۔

گزارشتنی: (۱) چھوڑ دینے کے قابل

گزارف: مذکر، بڑنگ، بگ، بستی، بکواس، بیہودہ گفتگو، جھوٹ
 (تنہا نہیں بولتے۔ لاف کے ساتھ بولنے میں لاف گزاراقت)

گزٹ: GAZETTE: (۱) مذکر، اخبار، روزنامہ، عہدہ، سرکاری اخبار

گزٹیا: GAZETTED: (۱) مذکر، سرکاری عہدہ داروں کا ایک خاص درجہ۔

گزٹ ہو جانا: کسی خبر کا سرکاری طور پر چھپ کر مشہور ہونا، گزٹ
 میں درج ہونا۔

گزیر: (۱) موت، بگازر۔

گزر: (۱) مذکر، (۲) راستہ، راہ، سڑک (۳) گھاٹ (۴) ڈنک، باریلانی

معنی دیتا ہے جیسے خلوت گزریں۔

گ س

گنار : (۱) دور کرنے والا (جیسے غم گنار (۲) کھانے پینے والا (جیسے نئے گنار۔

گسائیں : مذکر، گوسائیں کا مخفف (۱) گاؤں کا مالک (۲) سوائی، مالک (۳) زاہد، جوگی (۴) جنت، سائیں، بزرگ۔

گستاخ : (دفع) شوخ، بے ادب، بے خرم، بے تیز، شریر، اٹھڑ۔
گستاخانہ : (دفع) بے ادبانہ، شوخی سے، دیرانہ۔

گستاخی : (دفع) موٹٹا، شوخی بے ادبی، بے شرمی (۲) تمقیر، حقارت (۳) شرارت۔

گستردہ : (دفع) کسی چیز کی افراط کرنے والا (مرکبات میں مستعمل ہے۔
جیسے گرم گستر، سکن گستر

گسٹ ہاؤس : (GUEST HOUSE) (انگ) مذکر، مہمان خانہ۔

گسل : (دفع) تباہ کرنے والا (مرکبات میں مستعمل ہے جیسے
جاں گسل

گ ش

گشت : (دفع) موٹٹا، پھرنا، سیر، دور، چکر (۲) دورہ

گشت کرنا / لگانا : دورہ کرنا، چکر لگانا (۲) سیر کرنا۔

گشتی : پھرنے والا، گشت کرنے والا۔

گشتی چٹھی : وہ حکم جو تمام افسروں کو بھیجا جائے، سرنگر۔

گشتا شہب : (دفع) قدیم ایران کا ایک بادشاہ

گ ف

گفت : موٹٹا، کاٹھا، خوب ٹھنک کرینا، ٹھنکا۔

گفتار : (دفع) موٹٹا، بات گفتگو، بول چال

گفتگو : (دفع) موٹٹا، بات چیت، بول چال، تقریر۔

گفتنی : (دفع) کہنے کے لائق۔
گفت و شنید : (دفع) موٹٹا، کہنا سنا، بات چیت۔

گ گ

گگرا : مذکر، پانی رکھنے کا، پتیل، تانبے یا لوہے کا گھڑا، گگرا۔

گگری : موٹٹا، چھوٹی گگرا

گگن : مذکر، (۱) آسمان (۲) موج، لہر، پانی کی اُچھال (۳) نہایت اونچا۔

گ ل

گل : (دفع) مذکر، (۱) گلاب کا پھول (۲) مطلق پھول (۳) گرم دھات

سے جسم پر لگایا جانے والا نشان (۴) چراغ کی شمع کا جلا ہوا یا
جلتا ہوا سہرا (۵) کرنایشا، معشوق، دلیر (۶) اٹھے کا جلا ہوا تمباکو

(۷) اجوتے کی ایڑی کا چھڑا (۸) آنکھ میں پڑ جانے والا دھتیر،
ناخونہ، بھٹلی۔

_____ آفتاب : (دفع) راضافت کے ساتھ مذکر، سورج کسی کا پھول۔

_____ گلاب : (دفع) مذکر، (۱) ایک خوشبودار پھول، گلاب کا پودا۔

(۲) گلاب کے پھول کا عرق۔

_____ پاش : (دفع) مذکر، عرق گلاب چھڑکنے کا برتن۔

_____ جاسن : ایک قسم کی سمٹائی

_____ کھنچوانا، گلاب کا عرق کھنچوانا۔

_____ گلابی : (دفع) مذکر، (۱) گلاب کے پھول جیسا رنگ، ہلکا سورج رنگ،

گہرا پیازی لگنوں (۲) شیشے کی رنگین پیالی، خراب کا گلاس،

سافر۔

_____ جاڑا : مذکر، موسم بہار کا شروع، ہلکا جاڑا۔

_____ گل آٹھر : (دفع) مذکر، (رضافت کے ساتھ) گلاب کا پھول۔

_____ اشرفی : (دفع) مذکر، (رضافت کے ساتھ) ایک قسم کا گول پھول۔

_____ گل افشاں : دیکھو گل افشاں

_____ افشائی کرنا : (۱) پھول کھیرنا، خوش بیانی (۲) طنز

طنز کی باتیں کرنا۔

- اندام: (د) مڈر، پھول جیسے بدن والا جسے معشوق۔
- بانگ: مونث؛ (۱) چھپا، لیلیوں کی چھکڑ (۲) خوشی کا شور۔
- غل: (۳) خوش خبری، بشارت (۴) جنگ کا نعرہ۔
- ردا، افواہ (۹) آواز، صدا۔
- بدن: (د) مڈر (۱) رکنائیا، خوبصورت، معشوق (۲) اُردو
- ایک قسم کا دھاری دار ریشمی کپڑا۔
- بزرگ: (د) مڈر، (۱) گلاب کی پتی، گلاب کی پنکڑی (۲) عجان
- نازک اندام معشوق۔
- لکافولی: مڈر، ایک سفید رنگ کا خوشبودار پھول۔
- بجن: مڈر، گلاب کا پودا۔
- بن: مڈر، پھولدار
- بولٹا: مڈر، (۱) پھول اور اس کا پودا (۲) بیل بولٹا (۳) رکنائیا، زینت۔
- بریکانہ: (د) مڈر، (اضافت کے ساتھ) خورد پھول، نیلا پھول
- پلاس: (د) مڈر، (اضافت کے ساتھ) ڈھاک کا پھول۔
- پوش: پھولوں سے چھپی ہوئی۔
- گل پھولنا: (د) (۱) پھول کھلنا (۲) کوئی عیب بات ظاہر ہونا (۳) کوئی نئی نکتہ۔
- پیرکن: (د) (۱) پھولوں جیسے لباس والا (۲) معشوق۔
- تر: (د) (اضافت کے ساتھ) (۱) تازہ پھول (۲) رکنائیا، حسینوں کا
- چہرہ، معشوق حسین۔
- تراش: (د) مڈر، چراغ کی پتی، ترش کی قبیبی، گل کیر۔
- جعفری: (د) (اضافت کے ساتھ) مڈر، ایک قسم کا
- زرد پھول جو گیندے جیسا ہوتا ہے۔
- جھڑنا: چراغ سے جلی ہوئی پتی کی رکھ گرنا۔
- چاندنی: مڈر، (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا سفید پھول
- جو چاندنی رات میں کھلتا ہے، گل ہنتاب،
- چشم: (د) (۱) وہ شخص جس کی آنکھ میں پھلنی ہو (۲) (اضافت کے ساتھ) وہ دارغ جو آنکھ کی پتلی میں ہو۔
- چہرہ: (د) (۱) پھولوں جیسے چہرے والا (۲) رکنائیا، معشوق،
- چھترے اڑانا: رکنائیا، خوب پیش کرنا، مزے اڑانا۔
- چھڑی: مونث، پھولوں کی چھڑی۔
- چین: (د) پھول توڑنے والا نالی، باغبان۔
- خطمی/خیرو: (اضافت کے ساتھ) مڈر، ایک نیلے رنگ کا
- پھول جو دوا کے کام آتا ہے۔
- گل خن: (د) مڈر، (۱) جھٹی، انگلیشی، چولہا، تنور، آتش فشاں،
- (۲) عجان، کوڑا کرکٹ۔
- خنداں: (د) (اضافت کے ساتھ) ہنسا ہوا پھول کھلا ہوا پھول۔
- دار: (د) (۱) داندرا (۲) پھول دار۔
- دان: (د) مڈر، پھول دان
- داؤڑی: (د) مڈر، (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا پھول۔
- دستہ: (۱) پھولوں کا گچھا (۲) شعری مجموعہ
- دُم: (د) مڈر، ایک شرح دُم کی چڑیا، کبیل
- دوپہری: مڈر، (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا پھول جو
- دوپہر کو کھلتا ہے۔
- دیگر شگفت: (د) (اضافت کے ساتھ) رکنائیا، دوسرا
- گل کھلا، نئی بات سامنے آئی۔
- رُخ/رخسار: (د) (۱) پھول جیسے گالوں والا (۲)
- رکنائیا، خوبصورت معشوق
- رعنا: (د) مڈر، (اضافت کے ساتھ) (۱) ایک قسم کا کُت
- اور زرد پھول (۲) رکنائیا، معشوق،
- رنگ: (د) شرح، لال، پھول جیسے رنگ والا۔
- رُو: (د) مڈر، رکنائیا، معشوق۔
- گل ریزہ: مڈر، (۱) پھول کڑھا کپڑا (۲) پت جھڑا خزاں۔
- (۳) مونث، پھال پھڑی۔
- ریزی: (د) مونث، (۱) پھولوں کا جھڑنا، پھول بکھیرنا
- (۲) رکنائیا، خوش بیانی (۳) پھل پھڑی
- زار: (د) مڈر، (۱) جمن، گلشن، پھولاری (۲) رونق
- (۳) ایک رنگ (۴) رکنائیا، چل پھل کی جگہ
- زار ابراہیم: (د) مڈر، (اضافت کے ساتھ) وہ آگ
- جس میں فرودنے حضرت ابراہیمؑ کو ڈال دیا تھا اور
- وہ خدا کے حکم سے سرد ہو کر باغ بن گئی تھی۔
- ستال: (د) مڈر، (۱) باغ، گلزار، جمن، پھولاری (۲)
- شیخ سعدیؒ کی ایک مشہور کتاب۔

سرخ: (د) (اضافت کے ساتھ) (۱) گلاب کا پھول (۲) جھانڈا آفتاب
سر سبز: (د) (اضافت کے ساتھ) (۱) سب سے عمدہ
پھول (۲) کنایتاً، اچھا، منتخب، ممتاز۔

سوسن: مذکر (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا آسانی رنگ کا پھول
شبنور: (د) (اضافت کے ساتھ) ایک پھول بورات میں کھلتا ہے۔
شمع: (د) مذکر (اضافت کے ساتھ) (۱) شمع کا عمل (۲) کنایتاً،
شمع کی نو۔

گلشن: (د) مذکر، گلستاں

آرا: (د) مذکر، مالی، مانن، باغبان۔

ایجاد: (د) مذکر (اضافت کے ساتھ) کنایتاً، دنیا

مسرا ہوت: موث، بلغ کے اندر کا مکان

شد لو: (اضافت کے ساتھ) شد اور کی جنت:

گل صد برگ: (د) (اضافت کے ساتھ) مذکر، گنبد کے پھول۔

عباسی: (د) (اضافت کے ساتھ) مذکر، ایک قسم کا پھول۔

گل عذار: (د) (۱) پھول جیسے گالوں (۲) کنایتاً، معشوق۔

گل عصاف: (د) مذکر، کسم کا پھول۔

گلغا: (د) (۱) پھول جیسے رنگ والا (۲) کنایتاً، حسین، معشوق۔

گلگشتاں: (د) (۱) پھول کھیرنے والا (۲) موث، شراب کی چھٹی بونڈ

(۳) کنایتاً، خوش بیان (۴) چراغ کا پھول جھاڑنے والا۔

گلگشتانی: (د) موث، کنایتاً، خوش بیانی۔

گلگشتند: مذکر، گلاب کے پھول اور شکر سے بنی ایک ذوا۔

گلگاری: (د) موث، نقاشی، بیل بولنے کا کام

گلگدہ: (د) مذکر، گلستاں، پھلواری

کرنا: چراغ یا شمع کا بجھانا۔

کھلانا: (۱) پھول کھلانا (۲) فساد کھڑا کرنا، آفت لانا

(۳) کوئی عجیب و غریب انوکھا کام کرنا۔

گلگشت: (د) موث (۱) پھولوں کی سیر (۲) سیر تفریح۔

گلگول: (د) موث (۱) سرخ، لال (۲) مذکر، عمدہ اور حلاک گھوڑا۔

گلگونہ: مذکر، غازہ، آجین

گلگپہ: (د) مذکر، موث، شمع یا چراغ کی جتنی تڑپنے کی تپنی، گلنرش

گل لالہ: مذکر (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا سرخ پھول۔

گلگنہندی: موث، ایک مشہور پھول

گلگنہتاب: مذکر، ایک پھول، گل چاندنی۔

گلگنار: (د) مذکر (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا انار کا درخت

جس میں صرف پھول آتے ہیں پھول نہیں آتا (۲) کنایتاً، سرخ،

شوخ رنگ والا پھول۔

گلگنہزارہ: (د) مذکر (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کا بہت سی پتھروں والا پھول

گلگنہ ہونا: چراغ بجھنا

گلگن: (د) موث، مٹی، حمار، اگیلی مٹی، ڈنڈل

گلگاہیہ / گلگاہ: (د) مذکر، (۱) گلارہ جس سے عمارت بنتے اور دیوار کے

تدوں میں لگاتے ہیں (۲) مٹی کا پیرا جو دیوار کے اوپر دیتے ہیں۔

گلگن اڑنی: موث، (اضافت کے ساتھ) ایک قسم کی سرخی بال سیاہ مٹی

حکمت: (د) (اضافت کے ساتھ) موث، کپڑوں کی مٹی کو کپڑے

پر لٹک کر کسی چیز کا منہ بند کرنا تاکہ بھاپ نہ پڑ سکے۔

گلگناسانی: (د) کھر باجی

گلگلاس: GLASS (تک) مذکر، (۱) شیشہ، کاغذ (۲) پیالہ، ساغر۔

پانی یا نرہت و شراب پینے کا ایک لمبا ظرف

گلگلد: GUILD (تک) مذکر، ہم پیشہ لوگوں کی انجمن یا برادری۔

گلگل: (د) (۱) گال کا ٹھنڈ (۲) گلا کا ٹھنڈ (۳) گال کا ٹھنڈ

(۴) پھانسی (قدیم)

گلگدہیاں ڈالنا: (م، ع) پیار سے گلے میں ہاتھ ڈال کر بنکیر ہونا۔

گلگدہڑا: مذکر، (۱) پھل کا جڑا (۲) پرند کا وہ گوشت جو چمک کے نیچے

ٹھکتا رہتا ہے (۳) انسان کے منہ کے دونوں گوشے۔

گلگن تکیہ: مذکر، چھوٹا اور گول تکیہ جو امراسوتے وقت رخصتوں کے

نیچے رکھتے ہیں۔

گلگنچ: موث (۱) نکر کا بچہ (۲) ہاتھ پائی (۳) خوش آمد گزشتگو

گلگنچے: مذکر، (د) (۱) مٹی کے وہ بال جو گالوں پر اس طرح چھوڑ دیے

جاتے ہیں کہ مونچھوں سے مل جاتے ہیں۔

گلگلا: (د) (۱) پیسے رکھنے کا کبس یا ڈبا (۲) پکا ہوا تیم کا پھل (۳) (د) (۱)

گھوڑے، اونٹ کا دیوڑ۔

گلگلا: مذکر، (۱) گردن، گھوڑا، حلق (۲) آواز، شرر (۳) گریبان، اچکن

کرتے وغیرہ کا وہ حصہ جو گلے پر بڑھتا ہے (۴) گھلا ہوا۔

- خوب پکا ہوا، بوسیدہ، بے جان، مٹرا ہوا، پھسلا ہوا۔
 آنا: بچوں کے خلق کے کوڑے کا بیجے لٹک آنا، گلے میں چھلے
 پڑ جانا یا دم آجانا۔
 پھاڑنا: رکنائیا، چلانا، آج کر بولنا
 گلے باز: خوش آواز، ایسی آواز والا (۲) گویا
 پرچھری پھیرنا/ چلانا: رکنائیا، بہت ظلم کرنا، حق تلفی کرنا۔
 پڑنا: رکنائیا، خواہش کے بغیر ملنا (۲) پیچھے پڑ جانا، سر ہوجانا۔
 پڑے کا سودا: مذکر، زبردستی کا سودا، مجبوری کا معاملہ۔
 کا ہار: مذکر (۵)، ایک زیور (۲) رکنائیا، وہ بچہ جو ہر وقت ہاں
 سے چرتا رہے، ہر وقت لگا رہنے والا (۳) گوارناطو،
 اجرن (۴) رکنائیا، نہایت عزیز، پیارا (۵) سر ہونے والا۔
 کی رگیں پھلانا: رکنائیا، غصہ کرنا
 گلے، گلے (گلے تک)
 لگانا: (۱) سینے سے لگانا، پیار کرنا، سز سنلانا، زبردستی
 حوالے کرنا۔
 گلے ٹرھنا/ منٹھنا: کوئی چیز زبردستی دینا۔
 گلال: مذکر، ایک قسم کا سٹرنڈ بورڈ
 گلانا: (۱) پھلانا، چاندی، سونے وغیرہ کا آگ سے (۲) مٹانا (۳) رکنائیا،
 صنل کرنا (۴) رکنائیا، بیماری اور غم سے جسم کا لاغر ہوجانا، (۵)
 گوشت تیز کاری کا اتنا پکنا کہ وہ نرم ہوجائے۔
 گلاوٹ: موتھ، گوشت وغیرہ کے گلانے کی چیز، کچا پیپتہ۔
 گلٹھی: موتھ (۱) آگے ہونے نرم پاؤں (۲) نرم، ملائم۔
 گلٹھی: موتھ، گرہ۔
 گلٹ: مذکر، ملین، کسی دھات پر سونا چاندی چڑھانا۔
 گلٹی: موتھ (۱) خند (۲) گھٹے کا تڈکا پھوڑا (۳) تیسرے گھر جو انسان کے
 اعضا دار چوڑوں میں کسی دوسرے عضو کے ردی وہ بھیدیا ہوجاتی ہے۔
 گلڈ آگ: مذکر، ایک قسم کا بڑا غنیللا اور مہار گنا بلڈاگ (مخلش کے
 بلڈاگ BULL DOG کا بگڑا ہوا۔
 گلگل: مذکر، ایک قسم کا بڑا اور لیا بیوں، ترنج۔
 گلگلا: مذکر، ایک قسم کا میٹھا پکوان۔
 گلگولہ: (۱) موٹا تندرت بچہ۔
- گھگم: (۱) مذکر، (۲) ہمیشگی یا سر پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوجانے والی
 سختی، جو مٹا زبڑ پٹا کے ساتھ
 گھگنا: (۱) گھگنا (۲) پھلنا (۳) پکنا (۴) بوسیدہ ہونا، مٹنا، (۵) دلگ گھگنا (۵)
 صنل ہونا (۶) بگڑنا (۷) زبردستی ہونا۔
 گھلو: موتھ، گرج، دایک پھیلنے والی ہیں، جس کو ذوا کے طور پر
 استعمال کرتے ہیں (۱)
 گھلو: مذکر، ہوسکی گھللی
 گھلو: (۱) موتھ، (۲) گلگن گرن (۳) رکنائیا، آواز
 بُربدہ: (۱) رت، گلگٹا ہوا۔
 گھنہ: (۱) رت، رکنائیا، خاموشی، ساکت
 بند بھنا: مذکر (۱) گلے میں بانٹھنے کا ادنی یا ریشمی جھکا (۲) گلے کا ایک بڑے
 خلاصی: موتھ، مجھٹھار ہائی، بیچھا چھوٹنا
 گپڑ: (۱) رت، (۲) گردن کیڑنے والا، (۳) لگانے والا (۴) وہ کسی چیز
 جو گلے کو بکیر لیتی ہے (۵) لاپچی، طاس۔
 گھوری: موتھ، بنا ہویا، مٹرا، جو خاص وقت پر لیشا جاتا ہے۔
 گلہولہ: (۱) مذکر، گولی، گولا، غلہ
 گلہ: (۱) مذکر، اُلانہ، شکوہ، شکایت۔
 گلہ شکوہ: مذکر، اُلانہ، شکوہ، شکایت۔
 گلہ: (۱) مذکر، مجھٹھ، غول (۲) روڑ، موتھیوں کی ڈار (۳)
 دوکان بکری رکھنے کا صندوقچہ یا ڈوبہ
 گلہ بان: (۱) مذکر، چرواہا، گڈریا
 بانی ہون: موتھ، ریوڑ کی رکھوالی کرنا، نگہبانی کرنا۔
 گلہرا: مذکر، گلہری کانر۔
 گلہری: (۱) ایک چرہ ہے جیسے جانور کا نام جس کی پیٹھ پر کالی کالی
 دھاریاں ہوتی ہیں (۲) انسان کے جسم کا وہ حصہ جو ران اور
 پیڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔
 گلہریا: موتھ، دھاری دار پتنگ
 گل: موتھ (۱) کئی کا بغیر دانوں والا جھٹھا (۲) کیوڑے کا بھول۔
 (۳) شہد کی کھمبوں کا چھتتا (۴) لکڑی کا پھوٹا ٹکڑا جس سے بچے
 کھیلتے ہیں (۵) چاندی سونے کا ڈالا (۶) صیقل کرنے کا آلہ (۷)
 گھوڑے کے ڈوم کی ہڈی۔

گلی: موتھ؛ کوچہ، علق کے اندک کائنگ راستہ، تنگ کوچہ
گلیارا: مذکر، دم، کوچہ، عام راستہ۔

گلی کوچہ: مذکر، دم، تنگ کوچہ، ہر ایک گلی، ہر ایک راستہ
گلی گلی: کوچے کوچے، ہر گلی کوچے میں۔

گلی ڈنڈا: مذکر، راکوں کا ایک کھیل جو دو چھوٹی بڑی لکڑیوں سے
کھیلے ہیں۔

گلیشیر: گلی۔ شی۔ اس: GLACIER، مذکر، برف کا چند جو بہت
آہستہ آہستہ بہتا ہے۔

گلیم: (د) موتھ؛ کبیل، اونی چادر، لوئی، دھنسا

گ م

گم: (د) گھو یا ہوا، مفقود، (۲) ضائع، رائیگاں، (۳) غائب
پوشیدہ، غیر حاضر، (۴) ناپید، (۵) مفقود، (۶) حواس باختہ،
حیران و پریشان۔

گمراہ: (۱) بھٹکنے والا، بھٹکا ہوا، راستہ بھولا ہوا، (۲) بے دین، منحرف۔
گمراہی: گمراہی، (د) موتھ، (۱) بکودی، ضلالت، (۲) بے دینی، لامذہبی
(۳) حشر و سرکشی۔

گم شدہ: (د) گم، بھولا، بھلا ہوا، بھلا ہوا، (۲) حواس باختہ۔
گم: (۱) گولنگا، (۲) خاموش، حیران، ششدر۔

گمشدہ: (د) گم شدہ

گمنا: (د) (۱) غیر مشہور، (۲) بے نام و نشان، (۳) موتھ، بھولوں
کی ایک بیماری۔

گمنا: (د) موتھ، بے نام و نشان ہونا۔

گم ہونا: (۱) ضائع ہونا، جا کر ہونا، (۲) کسی خیال میں غور ہونا، (۳)
بے خبر ہو جانا، بدحواس

گمنا: موتھ، ایک قسم کی موٹی اور بڑی اینٹ۔

گمشدہ: (د) مذکر، جس کے ذمہ کوئی کام سپرد کر دیا گیا ہو۔
کار بہ داز، کار بندہ۔

گمان: (د) مذکر، (۱) شک و شبہ، احتمال، (۲) وہم و گمانوں
(۳) گھٹ، مفرد، مجرب، شک پرانہ خیال۔

بھراہ: مذکر، مفرد۔

غالب: (د) اضافت کے ساتھ، مذکر، پکا خیال، یقین کامل۔

گمانا: (۱) اکھونا، گم کرنا، (۲) چرانا۔

گمبھیر: (۱) گہرا، عمیق، اندرونی، (۲) سنجیدہ، بزرگوار، متحمل، (۳) سوچنے
والا، دور اندیش، (۴) بھاری، بوجھل، (۵) وزنی، (۵) مذکر، ایک قسم کا
پھوٹا ہوا کڑا پیٹھ یا گردن پر نکلتا ہے جسے خانہ پر کہتے ہیں۔

گمٹی: موتھ، چھوٹا، گنبد، چھوٹا برج۔

گمگم: موتھ، (د) ڈھول، طبلہ یا باجے کی آواز، (۲) گج، کرک (۳)
صدمہ، تصادم، (۴) کوچ دار آواز جو گانے والوں کے گھسے
بھاری ہو کر نکلتی ہے۔

گملا: مذکر، پھولوں کے پودے لگانے کا برتن۔

گ ن

گن: (۱) گن، (۲) موتھ، بندوق۔

گن: (د) مذکر، (۱) عادت، خصلت، (۲) شہرت، اکوت، (۳) بچھن، (۴)
وصف، صفت، جو ہر اثر، تاثیر، (۵) ہنر، (۶) خون، (۷) ہنکا
نیکی، بھلائی، (۸) کشتی کھینچنے کی رسی۔

گانا: تعریف کرنا، خوبیاں بیان کرنا۔

گنی: (د) ہنر مند، صفات والا۔

گنا: چند مرتبہ بار درمیکت میں متعل ہے۔

گنا: مذکر، ایک، اونگھ، گندی، نیشکر، پونٹا۔

گنا گنا: مذکر، گنا ہوا۔

گنا نا: اشار کرنا، گنونا۔

گناہ: گنہ، (د) مذکر، (۱) باپ، دوش، عصیان، (۲) جرم
(۳) خطا، قصور

بے لذت: (د) اضافت کے ساتھ، مذکر، وہ گناہ جس کے کرنے
میں کوئی فائدہ نہ ہو۔

صغیرہ: (د) اضافت کے ساتھ، (د) مذکر، معمولی خطا چھوٹا گناہ

عظیم: (د) اضافت کے ساتھ، بھاری جرم
بڑا گناہ۔

بہت سے شہیدوں یا مقتولوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا ہو۔
(۲) مردوں کا ڈھیر (۳) کنائیاں، بہت سی ٹی ٹی چیزوں کا ڈھیر۔

گنجور: (ف) مذکر، خزانچی، خزانے والا

گنج: مذکر (۱) ایک مرفن جس سے سر پر بال نہیں جھتے (۲) ہاٹ مازار، منڈی۔

گنجا: مذکر، جس کے سر پر بال نہ ہوں، گنچے سر والا۔

گنچی: مؤنث، (عم) شکر قند

گنچی کو خدا ناخن نہیں دیتا: (مثل) نا اہل کو خدا با اختیار نہیں کرتا۔

گنجان: گھنا، متصل، پاس پاس۔

گنجا پش: (ف) مؤنث، (۱) سائی (۲) ٹھکانا (۳) جگہ (۴) وسعت

(۵) فائدہ، بچت، کفایت (۶) حوصلہ مقدور۔

گنچائی: مؤنث، کنبلائی، ایک برساتی پٹرا

گنچوہ: (ف) مذکر، (۱) ایک قسم کا تاش جیسا کھیل (۲) گنچوہ کے ورق۔

باز: مذکر، (۱) گنچوہ کھیلنے والا (۲) کنائیاں، مکار، چال باز، فریبی۔

کا ورق: گنچوہ کا پتہ، مؤنث، (۱) ننگن

گنچلک: (گن) سب سے گن جلک، مؤنث، (۱) ننگن، سلوٹ (۲) گانٹھ

گرہ، غنڈہ، پیچیدگی (۳) الجھن، جھگڑا، بکھیڑا،

گنجن: (۱) مؤنث، گونج، منہا پٹ

گنچیری: (عم) گانچا پینے والا

گنچینہ: (ف) مذکر، (۱) خزانہ، (۲) دھینہ، (۳) ذخیرہ (۴) مال گودام۔

گنڈ: مؤنث، (۱) بوباس (۲) سرخ صندل، گھسا ہوا صندل (۳) (ف)

بدبو، نجاست، ناپاکی (۴) کنائیاں، (عم) جھگڑا، بکھیڑا۔

گنڈک: رگندھک: مؤنث، (۱) کبریت، ایک معدنی آتش مادہ۔

گنڈگی: (ف) مؤنث، (۱) بدبو، بساند، عفونت (۲) غلاظت، نجاست

ناپاکی، میلہ پن۔

گنڈم: (ف) گہروں۔

نما: (ف) دھوکے باز، مکار

نما جو فروش: (ف) وہ شخص جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔

مکار، دغا باز، دھوکے باز

نمائی: (ف) بفریب، مکاری، دغا بازی

گنڈمی: گہروں کے رنگ کا سناٹا۔

گناہگار / گنہگار: (ف) پانی، موشی، ماسی، بکاری، ۲۰ خطا وار، مجرم۔

گناہگاری / گنہگاری: مؤنث، (۱) خطا، مجرم (۲) مجرمانہ، نادان

(۳) نقصان، خسارہ۔

گنبد: (ف) رکن، پیر، مذکر، برج، عمارت کی وہ چھت جو مدور

ہو اور جس میں آواز گونجتی ہو۔

آزرق: (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر، کنائیاں، آسمان۔

بے در: (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر، کنائیاں، آسمان

حضر: (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر، کنائیاں، (۱) آسمان (۲)

اسخرفت کے مزار کا گنبد

دولابی: (ف) (اضافہ کے ساتھ) کنائیاں، آسمان۔

فیروزہ رنگ: (ف) (اضافہ کے ساتھ) کنائیاں، آسمان۔

کی آواز: کی صدا: مؤنث، کنائیاں، جیسا کہنا ویسا سننا

گردال: مذکر، (اضافہ کے ساتھ) کنائیاں، آسمان

مینا / مینائی: (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر، کنائیاں، آسمان۔

گنبدی: (ف) مذکر، ایک ستون والا خیمہ

گنتی: مؤنث، شمار، اندازہ، تعداد، حساب

گنٹھا: مذکر، پیاز کی گرہ، گنٹھی۔

گنٹھنا: سیا جانا، جڑنا، ملنا

گنج: (ف) مذکر، (۱) خزانہ، (۲) دھینہ، مال و دولت (۳) ذخیرہ، گودام

(۴) انج کی منڈی، انبار، ڈھیر (۵) نیستی، کالونی

انگلش COLONY

باد آور: (ف) دیکھو خسو پرور کے ایک خزانے کا نام

بخش: (ف) (۱) بہت بڑا فیاض، (۲) حضرت مخدوم ملی چوہری کا لقب۔

ڈالنا / لگانا: (۱) انج کی منڈی قائم کرنا (۲) کنائیاں،

ڈھیر لگانا

روال: (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر، (۱) فارون کا خزانہ

(۲) ختم نہ ہونے والا خزانہ

شائینگال: (ف) (اضافہ کے ساتھ) (۱) خسو پرور کا خزانہ

باو آور و دکانام (۲) مذکر، بہت بڑا خزانہ (۳)

بادشاہوں کے قابل چیز۔

شہیداں: مذکر، (اضافہ کے ساتھ) (۱) وہ گڈھا جس میں

گنڈا ہٹ، مذکر، لمبے لمبے جیسی ایک نرکاری
گنڈھ (۱۵) موٹ، بو، چمک

گنڈھ (۱۱) دف، (۱۱) نم، ناپاک (۲) غلیظ (۲) بدبودار، سڑا ہوا، (۲)
بڑا بڑا چڑچڑا (۵) بیہودہ۔

بروزہ: مذکر، ایک سفید بدبودار مادہ جو چڑچڑ کے درخت سے
نکلتا ہے، ایک قسم کا گوگرد۔

گنڈہ دہکن / دہاں: وہ شخص جس کے منہ سے بدبو آئے۔
گنڈھار: موٹ، راگ میں تیسرے سڑکانام۔

گنڈھاوٹ: موٹ، بالوں کے گوندھنے کا آناز۔

گنڈھرب: مذکر، (۱) راجہ اند کے دربار کا گویا (۲) (مجازاً) عدا
سگانے والا شقی

بیاضہ: مذکر، راجہ اور مرد کا اپنی مرضی سے بغیر کسی
رسم کے بیاضہ کر لینا۔

گنڈھی: مذکر، جھل جھل، بیچے والا، خوش بو ساز

گنڈیری: موٹ، (۱) ناپاک، غلیظ (۲) فحش، غیر مہذب (۳) خراب
نکارہ، بھٹی۔

گنڈرا: مذکر، بچا، شہدا، برعاش۔

گنڈرا: مذکر، (۱) حلقہ، چھلا، کڑا، چوڑی (۲) چار عدد (۳) گھوڑے
کے گلے کا پٹا (۴) وہ بڑا ڈورا جس میں منتر یا کوئی نمل پڑھ کر
گردیتے ہیں اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کے گلے یا ہاتھ
میں باندھے ہیں (۵) سفید پر جو کہوتر کے گلے یا بازو پر
نکتے ہیں۔

گنڈے دار: (۱) حلقہ دار، بھاری دار (۲) بے سلسلے بے ترتیب

گنڈھاسا / گنڈھاسا: مذکر، چارہ کاٹنے کا ہتھیار

گنڈلا: مذکر، دائرہ، حلقہ، گنڈول

گنڈولی: موٹ، وہ دائرہ جو سانپ کے پیٹھ سے بنا ہے۔

گنڈیری: موٹ، (۱) چھلے ہوئے گلے کا چھوٹا سا گلہ (۲) گلے

کی بناوٹ میں لگی گریں

گنگ: موٹ، گنگی

گنگ: دف، گونگا، وہ شخص جو زبان سے ایل نہ سکے۔

گنگا: ہندوستان کے ایک شہر دریا کا نام۔

گنگا بھل: گنگا کا پانی۔

گنگا جلی: موٹ، گنگا کا پانی رکھنے کا برتن۔

گنگلی اٹھانا: دکان یا قسم کھانا۔

گنجی: (۱) بلا جلا، دھنگا، سونے چاندی یا پتیل تلنے کا ملامت

(۲) سنہرا رو پہلا (۳) موٹ، کان کا ایک زیور۔

گنگا دھار: (۱) موٹ، گنگا کا بہاؤ، گنگا کا پانی

گنگوڑی: موٹ، ہمالیہ کا وہ مقام جہاں سے گنگا نکلی ہے۔

گنگنا: مذکر، نیم گم

گنگناتا: چمکے چمکے پکانا، اس طرح گاناکہ آواز تو نکلے لیکن الفاظ سمجھ میں
نہ آئیں۔

گنگنا ہٹ: موٹ، گنگناتا۔

گنگن کر: (۱) ایک ایک کر کے (۲) سنبھال سنبھال کر کے (۳) جھانٹ

چھانٹ کر، چن چن کے (۴) جوں توں کہے۔

گنگنا: (۱) شکر کرنا، گنتی کرنا (۲) جانچنا، اندازہ کرنا۔

گنوار: مذکر، (۱) گانوکا، دیہاتی (۲) مورکھ، نادان، بیوقوف،
(۳) آن پڑھ جاہل۔

گنوار پن: مذکر، جہالت، اگھڑ پن۔

گنوار کا لٹھ: دکانیاشا، (۱) ناشائستہ، بدتیر، احمق، اُفند

گنوار گوں کا یار: (شیل، گنوار آدمی بھی اپنے مطلب کا یار ہوتا ہے۔

گنوارو: گنواروں کا سا، بڑا، بھدا، بدزیب۔

گنوان: (۱) قابل، عالم، نیک۔

گنوانا: گنتی کرنا، شمار کرنا۔

گنوانا ہٹا کرنا، برباد کرنا، بھونا۔

گنگی: GUNGA (گنگ) موٹ، سونے کا ایک رستہ جو اکیس (۲۱)

شنگ کے برابر ہوتا تھا، اشنی۔

گنگی: (۱) ہند (۲) لائق (۳) کامل، خدا رسیدہ (۴) سانپ کا
منتر جاننے والا، جادو ٹونا کرنے والا سیانا۔

گنگیا: مذکر، (۱) جس میں ضرب دیں، مضروب فیہ (۲) بڑھی کا

ٹیسری چیز کو سیدھا کرنے کا آلہ۔

گ۔ و

گواہی: دت، موتش، شہادت
 گوہر: مذکر، گائے، بیل، بھینس کا فضلہ، نیلا
 گوہری، موتش، بہت معمولی بھٹی جس میں گوہر ملا کر پائی گتے ہیں۔
 گوہر بلا: مذکر، گوہر کا کپڑا
 گوہر بند: کرشن جی کا لقب
 گوہر بھٹی: موتش، ایک مشہور زرکاری۔
 گوہر پال: دت، مذکر، (۱) گرز، (۲) لڑائی کا ایک ہتھیار (۱۵۵) گایوں کو پالنے والا، گولا، (۳) امری کرشن جی کا لقب۔
 گوہن / گوہین: موتش، مذکر، غلام، ایک قسم کاری کا بنایا ہوا ہتھیار جس میں چھوٹے گڑھوں کو گرز دے کر چلنے میں۔
 گوہنی: (۱) موتش، (۲) گائے چرانے والی (۲) دفعہ بیچنے والی (۳) کرشن جی کی سہیلیوں کا لقب۔
 گوٹ / گوٹرا: (۱) مذکر، (۲) خاندان، گھرانہ، نسل، حسب نسب (۲) قوم، فرقہ، قبیلہ، جماعت (۳) نسل کی اصل۔
 گوٹنی: ایک قوم یا ذات کا رشتہ دار، ایک داد کی اولاد۔
 گوٹم، مذکر: بدھ مذہب کا بانی
 گوٹھنا: (۱) بیڑا، لڑی بنانا، سینا (۲) موٹا موٹا سپہنا (۳) دل میں کسی بات کی تشویش کرنا۔
 گوٹھ: موتش، عاشق، کنارہ، لیس، گوٹھ پڑے کا قوت، پانچ چورواں شکر لباس کے گروہ کو گاتا ہے (۲) چورواں بھٹی کی زرور (۳) لکڑی کی گوٹھ۔
 گوٹھا، مذکر: (۱) کنارہ، چاندی سونے کے تاروں کا ہفتہ بہتلی لیس، (۲) پان کی جگہ کھانے والا مسالا، جوڑی، الاچی، کھوپڑا، پستہ دھنیا ملا کر بنایا جاتا ہے۔
 گوتاری، موتش، (۱) چاندی سونے کے تاروں کی لیس جو ریشم کے بانے سے تھی جاتی ہے (۲) کٹنا یا اوہ لباس جس میں گوٹا کناری لگا ہو۔
 گوترا، مذکر: گولا، اہیر، راجپوتوں کی ایک ذات
 گوہا، مذکر، (۱) ایک قسم کا میٹھا پکوان، میٹھا سموسا (۲) کٹنا یا حبیب پاکٹ
 گوچنا / گوچننا: کسی چیز کو ہوا کے تحت براس طرح ہاتھوں میں دھبنا لینا کہ نیچے ڈگرے پائے۔
 گوڈ، موتش، (۱) پہلو، کنار (۲) (۵) منگھل کرنا۔

گوڈ: گائے
 گوڈان: مذکر، گائے خیرات کرنا۔
 گوڈالا: مذکر، گایوں کے رہنے کی جگہ۔
 گھاٹ: مذکر، دریا تالاب کا وہ حصہ جو مویشیوں کے پانی پینے کے لئے بنایا جاتا ہے۔
 گھسی: موتش، (۱) مالا چینے کی تھیلی (۲) ہالیہ پہاڑی ایک چوٹی جس سے گنگا نکلتی ہے۔
 گو: مذکر، پافانہ، چرک۔
 گوٹ کرنا: بیچنے کی پرورش اور خدمت کرنا۔
 گوہر، مذکر، (۱) گفتن کا اسم فاعل (مرکبات میں مستعمل ہے جیسے دماغ، دنگو، (۲) گیند (۳) ہر چند، گرہ
 گوٹھو، دت، (۱) دکنا یا گھسی پوشیدہ، مخفی (۲) تذبذب، شک و شبہ (۳) مشفقہ، مشکوک۔
 گووار / گووار پھلی، موتش (مہ) ایک قسم کا غذا یا پھلی جو مویشیوں کو دودھ کی زیادتی کے لیے کھلاتے ہیں۔
 گووار: دت، لائق، مہضم کے لائق، مزاج کے موافق پسند (۲) اردو میں مرکبات میں مستعمل ہے جیسے خوش گووار، ناگوار وغیرہ
 گووارا، دت، پسندیدہ، محبوب، لطیف، خوش ذائقہ، زود مہضم۔
 گوارا، (۱) ہواشت کرنا، سرد کرنا (۲) مانتا، منگھو کرنا۔
 گوال / گوالا، مذکر، دودھ، دہی، گھی بیچنے والا، گوبر، گھوسی۔
 موٹش، گوہن۔
 گواہ، دت، مذکر، گواہی دینے والا، شاہر، شہرت پہنچانے والا۔
 گواہ ٹوٹنا، (۱) گواہ کا فرائض سے مل جانا، (۲) گواہ کا بیان بگڑنا۔
 عاشق، مذکر، راضف کے ساتھ وہ گواہ کسی تحریر کے عاشق پر اپنے دستخط یا نشان بتا رہا ہے۔
 رویت / رویت / شاہر۔ یعنی دت، مذکر، وہ گواہ جس نے اپنی آنکھ سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔
 سماجی / سمعی، دت، مذکر، سنی ہوئی بات کی گواہی دینے والا۔

گورکھ دھندا: مذکر بہ (۱) ایک قسم کا کالا جرمشکل سے کھلتا ہے (۲) کنایا
ہیچیدہ معاملہ، کبھیڑے کا کام، جھگڑا کبھیڑا۔

گورکھا: مذکر، (۱) ایک نیپالی قوم (۲) راجا، پستہ قدر آدمی

گورگان: (۱) تیمور بادشاہ کا لقب (۲) جلیل القدر بادشاہ۔

گورکھی/بھجانی: موت، پنجابی زبان کا رسم الخط۔

گورنر: GOVERNOR (انگ) مذکر، (۱) کسی صوبہ یا ریاست کا

حاکم اعلا راجپال (۲) انجمن کا ایک پُرزہ

جنرل: (GENERAL) (انگ) والسرے، بادشاہ کا

قلم مقام جو کسی صدر دارالحکومت پر مقرر کیا گیا ہو۔

گورنمنٹ: GOVERNMENT (انگ) موٹ، حکومت، سرکار

ہاؤس: (HOUSE) (انگ) مذکر، گورنر کی سرکاری

قیام گاہ۔ راج بھون۔

گورؤ: مذکر، کائے عینس۔

گورنیا: موٹ، (۱) چڑیا، جنگل، گرگیا (۲) مذکر، بیٹی کا چھوٹا حقہ۔

گورٹ: مذکر، (۱) جنگل کا قدیم دارالسلطنت (۲) برہمنوں کی ایک ذات۔

گورٹ: مذکر، (۱) پائو، پنڈلی، ٹھنڈا (۲) زمین کھودنا۔

دنیا: کے رکھ دینا، (۱) خراب کردینا، (۲) کنایا، پڑھا لکھا

بھلا دینا۔

گورٹا: (۱) اہل چلانا، زمین کھودنا (۲) نانج صاف کر کے بھس نکالنا۔

(۳) کام خراب کرنا۔

گورٹیرٹ: مذکر، (۱) گانو کا چوکیدار (۲) زمین گورٹنے والا۔

گورٹ: (د) مذکر، پاد، باؤ، راج، گندی ہوا، جو مقصد سے آواز کے

ساتھ خارج ہو۔

اڑانا/مارنا: (۱) پاونار (۲) کنایا، بے کاری میں وقت ضائع کرنا۔

ششرو: (د) کنایا، نفو، بیہودہ، بے بنیاد، بے وقوف، بے تکلی بات۔

بھگنا: غلطیوں سے نلانا، بیہوش، غرضیاں کرنا، بے وقوف بھگنا۔

گورٹن: (د) موٹ، ہارہ سنگھا۔

گوسالہ: (د) مذکر، کنایا، گائے کا بچہ، پھڑا

فلک: (د) مذکر، کنایا، بڑج ٹور

گوسپندرگوشفندر: (د) موٹ، مذکر، بیٹیر، بیٹری، ڈنڈبہ

مینڈھا، بکرا، بکری۔

بھرنہ: حمل کے سات چھینے گزر جانے پر شکون کے لئے حالہ کی گور
میں سات قسم کے سروے اور سات طرح کی ترکاریاں رکھنے کی ایک قسم

بھری: موٹ، بچہ والی صاحب اولاد

کا: مذکر، دو دھ پینا بچہ۔

لینا، لے پالک بنانا۔

گورڈ: مذکر، گودا، مغز، گری۔

گودا: مذکر، (۱) موٹی روٹی کا اندرونی حصہ (۲) گود، مغز، گری (۳) ہر ایک چیز کا پُرزہ۔

گودام: دیکھو گدام۔

گودوٹ: مذکر، (۱) پھٹا پڑا اور ناکارہ کپڑا پتھڑے (۲) لحاف وغیرہ سے

نکالی گئی پڑائی روٹی (۳) کنایا، غمزدگی، غمزدگی کا میل۔

کالعل: (۱) وہ حسین جو پھٹے پرانے لباس میں ہو (۲) وہ خریف

اور اعلیٰ خاندان کا آدمی جو غلطی کا شکار ہو گیا ہو (۳) وہ

صاحب کمال جس کا حال معلوم نہ ہو (۴) وہ جو چیز خوب لگے ہو۔

گادوٹ: مذکر، پھٹے پرانے پتھڑے۔

گودنا: (۱) چھوٹا، چھیدنا (۲) جسم پر سوئی سے نشان ڈال کے سرمیائیل بھرنہ

(۳) مذکر، جسم کے وہ نشان جو نشتر وغیرہ سے لگائے گئے ہوں۔

گودنا: (۱) بدن پر نشان ڈالنا (۲) کنایا، طعنے دینا

گودی: موٹ، (د) گود، آغوش، کنار (۲) بون، بندرگاہ کا ایک حصہ

گور: (د) موٹ، قبر، تربت، مزار

جھانک آنا: بیمار کا مرنے مرنے بچ جانا

خبر: (د) مذکر، جنگلی گدھا

گورستان: مذکر، قبرستان

گور غریباں: (د) مذکر، مسافروں کا قبرستان، وہ جگہ جہاں غریبوں

کی ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوں

گورگفن: مذکر، تجزیہ و تکفین

گورگن: (د) مذکر، قبر کھودنے والا

گورا: مذکر، (۱) مشرق و سفید رنگ والا، سفید، اجلا، موٹ، گدی

(۲) خوبصورت، حسین

پن: مذکر، اجلا پن۔

گورا چٹا: مذکر، خوبصورت، حسین، بہت سرخ و سفید۔

گورا گورا: حسین و صبیح۔

گوگل : مذکر، کرشن جی کی پیدائش کی جگہ۔
 گوگھا: مذکر، (۱۱) گائے کا چمڑا، (۲) اجسن، کوند
 گوگھرو: مذکر، (۱) ایک سہ گوشہ کناشا (۲) لہے کے کانٹے (۳) کان کا
 ایک زبور (۴) معیش وغیرہ کا گھونٹا موٹا ہوا گولٹا (۵) ایک قسم
 کا مرض جو جانوروں کے کھڑوں اور انسان کے ٹوٹے میں ہوتا ہے،
 (۶) ایک قسم کا خاردار بیج، خار خشک۔

گوگرو: (د) موت، گندھک
 گوگل: مذکر، ایک نخت کا گوند
 گول: (۱) سنگ، مذکر، (۱۱) فٹ بال یا ہاکی میں دو کھیلوں کے
 درمیان کا فاصلہ جس میں سے گیند گرنے پر بازی جیت جاتی ہے،
 (۲) تھوڑے بڑے کھانڈن (۳) فٹ بال یا ہاکی کے کھیل کی ہار
 جیت کی اصطلاح۔

_____ (۱) آندور، چکڑدار (۲) وہ بات جو بخوبی سمجھ میں نہ آسکے، سببم،
 مشکوک (۳) موت، بڑا مشکا۔

گولائی: موت، کسی چیز کا گول ہونا، دور، پکڑ
 گول بات: موت، وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے۔

_____ گول: (۱) چکڑدار (۲) کناٹیا، سببم
 _____ مال: مذکر، (۱) بلا جلا، غلط لفظ (۲) سازس (۳) ضمنیات

_____ (۴) اشتہ، مشکوک (۵) غائب۔
 _____ فریج، موت، کالی مریج، سیاہ مریج۔

_____ مول: پیچیدہ، سببم
 _____ ہو رہنا: خاموش ہو رہنا، جواب نہ دینا۔

_____ ہو جانا: خاموش ہو جانا (۲) غائب ہو جانا
 گولا: مذکر، (۱) تانوں کی گولی، بیجک (۲) گڑھ زمین (۳) پگڑی کا کلاب

(۴) ناریل کے اندر کی گری (۵) انج کی منڈی (۶) گول شہیر، لٹھا
 (۷) توپ کی گولی (۸) ایک قسم کی آتش بازی (۹) کناٹیا، پیٹ میں
 گھونٹنے والی رنج۔

_____ گولا لاشی: موت، (د) ہاتھ پاؤں سمیٹ کر لٹانا۔
 _____ گولڈ: (گنگ) مذکر، سونا (دھات)

_____ گولڈن جوبلی، GOLDEN (گنگ) موت، بچاس ہفتہ
 یا بچاس سال پورے ہونے کا جشن، جشن زریں۔

_____ گوش: (د) مذکر، کان
 _____ گوش برآواز: براہ: کسی بات کے سننے کا منتظر کسی خبر

_____ کا امیدوار
 _____ گوشال: (گوش - مال): (د) موت، تادیب، تنبیہ کے لیے
 کان آٹھنا۔

_____ گوشالی: موت، (۱) تنبیہ، تادیب (۲) کوئی مشکل کام شروع
 کرنے سے پہلے استاد کا نام لے کر کان پڑنا۔

_____ گوشوارہ: (د) مذکر، (۱) کان کا بالا، آویزہ (۲) حساب کا خلاصہ،
 میزان (۳) (دہلی) بڑا موتی (۴) کسی نقشہ یا جیٹری کی پیشانی

(۵) ایک قسم کی زرد دند کی بچی۔
 _____ گوش ہوش: (د) مذکر، (اضافت کے ساتھ) کناٹیا، ہوشیاری

_____ گوشالا: مذکر، گائے بیلوں کے بہنے کا گھر
 _____ گوشت: (د) مذکر، (۱) ماس، (۲) اُردو) بکا ہوا گوشت، سان،

_____ پوست، مذکر، کناٹیا، تمام اعضا،
 _____ خر: (د) (اضافت کے ساتھ) کناٹیا، بے کار چیز۔

_____ خوار: _____ (د) (۱) گوشت کھانے والا (۲) شکار کھانے
 والے لوگ یا وہ حیوان جن کی غذا گوشت ہے۔

_____ سے ناخن جھاگرتا، کناٹیا، اپنوں کو چھڑانا، قریبی رشتہ داروں
 یا گھر سے دوستوں میں تفرقہ ڈالنا۔

_____ سے ناخن جھاگرتا، کناٹیا، (۱) اپنوں کا چھوٹا (۲) کوئی
 دُشوار کام ہونا۔

_____ گوشت کا لوتھڑا، کناٹیا، مونا اور بیوقوف آدمی۔
 _____ گوشہ: (د) مذکر، (۱) زاویہ، کونا (۲) مکان کا سوراخ، تنہائی کا

_____ مقام (۳) طرف، جانب، پہلو۔
 _____ چشم: (اضافت کے ساتھ) آنکھ کا کونا

_____ دار: کونے رکھنے والا۔
 _____ زخمیر: (اضافت کے ساتھ) زخمیر کا حلقہ

_____ عافیت: مذکر، (اضافت کے ساتھ) امن کی جگہ
 _____ گیر: گوشہ نشینی

_____ نشین: (د) تنہائی میں رہنے والا۔ تارک الدنیا۔
 _____ نشینی: موت، (۱) حلاصگی (۲) موت، تنہائی۔

گونا گوں: (ف) رنگ برنگ کا، طرح طرح کا، رنگا رنگ۔
گونتھنا: (دہلی) اریشم کے تاروں کا آپس میں پشنا۔
گوئج: مونث؛ (۱) کسی بند مکان یا گنبد میں دریک پکڑنی پھرنے والی
آواز کا ارتعاش، جھجھنا ہٹ (۲) گج، شیر کی آواز (۳) ستھ
یا بالی کی ٹوک جوتے مڑ دیتے ہیں (۴) کبوتر یا قری کی آواز۔

— اٹھنا: آواز سے بھر جانا

گونجنا: (۱) آواز کا جھلانا، شور وغل ہونا (۲) شیر کا دھاڑنا (۳)
کبوتر یا قری کا مستی میں بولنا۔

گوند: مذکر؛ ایک قسم کا سدر مادہ جو درختوں سے نکلتا ہے۔

گوند: مذکر؛ (۱) بٹھے ہوئے جنوں کا گوندھا ہوا آٹا جو رینڈل کو کھلاتے
ہیں (۲) پانی میں خمیر کیا ہوا مٹی کا گوند (۳) گھنٹی۔

— دکھانا: (۱) بلبلوں کو باہم لڑنے کے لیے چارہ دکھا کر بھڑکانا،
(۲) درغلانا، اکسانا، لڑوانا۔

گوندنی: مونث؛ ایک درخت اور اس کے پھل کا نام جو سدر
اور پٹھا ہوتا ہے۔

گوندھنا: (۱) آٹے میں پانی ملا کر روٹی پکانے کے قابل کرنا (۲) جھنڈی
گھولنا (۳) سر کے بالوں کا باہم بننا، چوٹی کرنا (۴) پرونا۔

گوند: مذکر؛ ایک ہندو فرقہ۔

گوند ملار: مونث؛ ایک قسم کی راگنی

گوند کا: مذکر؛ (۱) وہ شخص جو زبان سے بول نہ سکے (۲) کنایتاً خاموش چپ۔
گوند: (ف) رنگ و رنگ (۲) کسی قدر (۳) طرح کا وضع کا۔

گونیا: (ف) مونث، عمارت کی سیدھ اور ٹیڑھ معلوم کرنے کا ایک
تکنوٹا اوزار۔

گو: مونث؛ چھبلی کی شکل کا ایک جانور، سونٹا

گو: (ف) مذکر؛ (۱) پاخانہ، فضلہ، میلا، نجاست، پیلیدی
(۲) چرک، میل، گو۔

گو مار / گہار: مونث (دم) (۱) واویلا، فریاد، استغاثہ (۲) شور و
(۳) گالی، جھجج، (۴) مدد

گو بانجھی: مونث؛ آنکھ کی پٹنسی جو پلک کے نیچے ہوتی ہے
گو بانی، ہنہیا۔

گوہر / گہر: (ف) مذکر؛ (۱) موتی، مروارید، (۲) جوہر، قیمتی پتھر

گولڈن چانس GOLDEN CHANCE (انگ) مذکر؛ بہتر موقع۔
گولڈر: مذکر؛ ایک درخت اور اس کا پھل۔

— کا پھول: (کنایتاً) نایاب، کم یاب، ناپیدا، عوام کا خیال ہے کہ
گولڈر کے پھول کو راتوں رات پریاں لے جاتی ہیں۔

— کا کیرا: (۱) وہ گرم جگہ گولڈر کے اندر ہوتی ہے (۲) کنایتاً وہ شخص
جو گھر سے باہر نکلتا ہو۔

— کباب: مذکر؛ ایک قسم کا لذیذ کباب جو گولڈر میں قبضہ پودینہ
سرخ مرچ بھر کر پکاتے ہیں۔

گولک: (ف) مونث؛ (۱) سورخ والا کبس یا ڈباجس میں پیسے جمع
کرتے ہیں، کٹا، نڈ (۲) حرامی بچہ۔

گول گنبد میں بند ہونا: انگ تھلگ رہنا، دوسروں سے قطع تعلق کر لینا۔
گول مال: (۱) گھپلا، ہیرا، پھیری، خیانت، غبن۔

گولنداز: (ف) مذکر؛ توپ چلانے والا، توپچی۔
گولندازی: مونث؛ توپ چلانا۔

گولہ: (ف) مذکر؛ (۱) گیند (۲) انشا (۳) بارود کا گولہ (۴) کوزہ
(۵) گڑھ گولہ۔

— باری: (ف) مسلسل توپ کے گولے برسانا۔

گولی: مونث؛ (۱) گولہ کی تصنیف (۲) ہندوؤں کی گولی (۳) مٹی کی پیالی
(۴) تھاک چھوٹی مٹی (۵) چھوٹی گولی جیز (۶) نیون کی گولی۔

— کے کباب: ایک قسم کے گول گول کباب، کوئنتہ۔

— مارو: دُور کرو، لعنت بھیجو، ایسے کام نہ لو، کچھ پروا نہ کرو۔

گوٹرا / گوٹرا: مذکر، سوچن، سر پر کسی چوٹ سے پیدا ہونے
والا اورم، پھوڑا، ڈنبل

گول: (ف) رنگ، طرز، روش (مرکبات میں مستعمل ہے۔)

گول: مونث؛ (۱) پسند (۲) مطلب، غرض، واسطہ، مجال، خواہش
ضرورت (۳) لائق، قابل۔

— کا: مطلب کا، غرض کا، لالچی۔

— کا بار: مطلب کا بار، خود غرض۔

— کا ٹھنڈا: مطلب نکالنا، چا پلوسی کر کے مطلب نکال لینا۔

گونا: مذکر؛ ہندوؤں میں شادی کے بعد بولنے کی خستی کی رسم
گونا: (ف) (۱) رنگ، طرح (۲) مذکر، سنہارا رنگ

(۳) مادہ، اصل نسل، ذات (۳) بیٹا، فرزند۔

(افشانی: دف) موت، موتی برسنا (ابر زبان اور قلم کے صفات)

بار / گہر بار: دف، موتی برسانے والا (ابر زبان اور قلم کے صفات)

تر: دف، مذکر، (اضافت کے ساتھ) آنسو

گوہر سنج: خوش بیان

شب تاب / شب چراغ: مذکر، (اضافت کے ساتھ)

ایک قسم کا اصل جوڑا کو روشنی دیتا ہے۔

مقصود / مقصود: مذکر، (اضافت کے ساتھ) اصل مقصد

بھگار: دف، جڑاؤ، مرض

گوہری: دف، (۱) جوہری، موتی والا (۲) گوہر کی آب و تاب

رکھنے والا۔

گوئی: موت، (۱) ایک ہل میں جیتے دو بیل (۲) روٹی کی وہ مقدار

جو ایک بار انگلیوں سے تومی جائے۔

گوے / گو: مذکر، گیند

باز: گیند کھیلنے والا۔

گوئیاں: موت، (۱) سہیلی، ہم عصر (۲) عزیز اپنی بہن اور ہم نشین

عورت کو یہ کلمہ کہہ کر بجاتی ہیں۔

گوٹیا: مذکر، گانے والا، مُغنی، نوال۔

گوٹیا: دف، (۱) بولنے والا خوش گفتار (۲) بولتا ہوا (۳) غالباً، ظاہراً،

مانند، مثل، ہو بہو (۴) کنایتاً، تسلیم کر لو۔

گوئیائی: دف، موت، (۱) لفظ گفتار بول جال، گفتگو، بات چیت،

بولنے کی طاقت (۲) فصاحت، بلاغت۔

گویم / مُشکل و گرنہ گویم / مُشکل: دف، بولنا مُشکل، نہ بولنا بھی مُشکل،

گوگو یا تذبذب کی کیفیت۔

گویند: مذکر، جاسوس، خبر دینے والا، خبر۔

گ

گہہ: دف، موت، (۱) مکہ یا مکان کی بلندی (۲) طبقہ، درجہ (۳) قبضہ

دستہ، ٹوٹھ (۴) دف، گاہ کا قنف، کبھی۔

بیٹھنا: جہر بیٹھنا۔

جانا: (۱) گہن میں آجانا (۲) کسی کڑی چیز کا گھس جانا۔

گہے: کبھی کبھی (گاہے کا مخفف)

گہر: دف، دیکھو گوہر

ریز / پاش: دف، موتی برسانے والا (۲) بانہیں

گہڑا: مذکر، (۱) عین، بے سقاہ، ڈباؤ (۲) گھنا، گاڑھا، غلیظ (۳)

نہایت تیز (۴) شوخ، گاڑھا (۵) مضبوط، پگلا (۶) ساھاب، ڈور کا۔

دوست: یکا دوست، سپا دوست بے تکلف دوست

رنگ: مذکر، گاڑھا رنگ، شوخ رنگ۔

زخم، کاری زخم

یار: یکا دوست

یارانہ: مذکر، گہری دوستی، پکا یارانہ۔

گہراؤ (مذکر) گہرائی (موتھ) گہرا بن، گہرا ہونا، ہنق

گہری: (موتھ) گہرا کا موتھ۔

بات: موتھ، باریک خیال، تہ کی بات، دقیق اور مشکل بات۔

چھٹنا: (۱) رکنا، تپنا، گاڑھی دوستی ہونا (۲) بے حد لڑائی ہونا۔

(۳) نہایت گاڑھی جھنگ چھٹنا

نمیند سونا: غافل ہو کر سونا، مسکھ کی نمیند سونا۔

گہاگہم / گہمی: موتھ، (دہلی، عمو، چہل پہل، آبادی، گرم بازاری،

روقی، دھم دھام، آدمیوں کی کثرت۔

گہن: مذکر (۱) گہن (۲) مجازاً، داغ، عیب۔

گہنا: مذکر، زبرد

پانا: مذکر، گہنا وغیرہ

گہنا: گہن، گھنا، کسوت یا خوف ہونا۔

گہنا: چاند یا سورج میں گہن، گھنا، روشنی ماند پر مٹا، داغ، گھنا،

ناقص ہو جانا

گہوارہ: دف، مذکر (۱) ہنڈلا (۲) بچوں کا جھولا، پالنا، پکھورا۔

(۳) عورتوں کا جنازہ اٹھانے کی چار پائی۔

گہواں رنگ: مذکر، گندی رنگ۔

گ

گئی: موت، گزری ہوئی۔

_____ گزری، مونث؛ (۱۱) حقیر ناکارہ، بدتر (۱۲) پرانی بات، گئے تھے نماز بخشنا نے روزے گلہ پڑے؛ (مثل) ایک آفت سے بچنے کی تدبیر میں دوسری بڑی آفت سرپڑی، لینے کے دینے پڑ گئے۔

_____ گئے گزرے وقت میں؛ اس بڑے وقت میں عا س جاتبالی کے زلزلے میں۔

گ

_____ پناہ؛ (ف) دکنایتا، بادشاہ

_____ آفریں؛ (ت) دکنایتا، خدا تعالیٰ، دنیا کا پیدا کرنے والا

_____ (فروز) عالم تاب، دنیا کو روشن کرنے والا (۲) مذکر، سورج۔

_____ (ت) دنیا کی سیر کرنے والا، جہاں گرد۔

_____ (گیت) (GATE) دروازہ، پھاٹک۔ بڑا دروازہ

_____ (گیت) (KERPER) دربان، کسی مال یا احاطہ میں قاعدہ کے مطابق داخلہ دینے والا۔

_____ گیدڑ، مذکر؛ (۱) ایک جانور جس سے چھوٹا ہوتا ہے، (۲) دکنایتا، بڑول

_____ بولنا، دکنایتا، اُجڑنا، دوران ہونا، غیر آباد ہونا۔

_____ پھسکی، موت؛ (۱) گیدڑ کی طرح غصا کر حملہ کرنے کی گھڑکی (۲) دکنایتا، خلی غولی دھمکی۔

_____ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے؛ (مثل) جب بڑے دن آتے ہیں تو تدبیریں بھی اُٹی سمجھتی ہیں

_____ گیدی؛ (ت) (۱) بے عزت، بے غیرت، لاپچی (۲) نامرد، بھڑا (۳) بڑول، نادان، بیوقوف (۴) عجازاً، دھوکا، بھڑوا۔

_____ (ت) بہت بڑا بے وقوف۔ نہایت بے غیرت۔

_____ گہر؛ (ت) اچکنے والا (دیکھنا میں مستقل ہے، جیسے جہا گہر، عالم گیرنا

_____ گہروار؛ (ت) دیکھو دارو گہر۔

_____ گہرائی؛ موت؛ (۱) پکر، رنگی (۲) غصیہ پولیس کا ٹکڑہ (۳) حکمہ، دیکھتی۔

_____ گہرو، مذکر؛ ایک قسم کی لال مٹی، گل، زین

_____ گیا؛ گزشتہ (۱) اگلا، رفتہ، ماضی، سابقہ (۲) جانا کا ماضی (۳) گزارا، جاننا (۴) تباہ ہونا، برباد ہونا (۵) بہار کا ایک مشہور تیرتہ استھان۔

_____ گزرا؛ مذکر؛ (۱) گزارا ہوا (۲) کٹا، بیکار، ناقص، خراب (۳) کم حوصلہ، کم زور (۴) ناچیز (۵) غلبہ، غریب (۶) نالائق۔

_____ وقت پھر ہاتھ آتا نہیں؛ گزارا ہوا وقت دوبارہ نہیں مل سکتا۔

_____ فرصت کو قیمت سمجھو۔

_____ گیارہ؛ دس اور ایک (۱۱)

_____ گیا رھواں؛ دس کے بعد کا، یازدہم

_____ گیارویں؛ موت؛ (۱) دس کے بعد (۲) حضرت غوث الاعظم کی نیا ز جو گیا ربویں ربیع الثانی کو ہوئی ہے۔

_____ گیان؛ مذکر (۱) علم، آگہی، دانش (۲) عقل، سمجھ، فہم (۳) علم، معرفت، عرفان۔

_____ گیان چوسر؛ موت؛ ایک قسم کا چوسر جو کافر پھچی ہوئی ہوتی ہے۔

_____ گیانی؛ (۱) عالم، مارت، عقلمند، جاننے والا (۲) سادھو، (۳) ہوشیار، ہوشیار، چالاک

_____ گیا ۵؛ (ت) موت، گھاس

_____ گپت؛ مذکر، ہندی کی نظم، بچھن، گانا۔

_____ گزری، مونث؛ (۱) حقیر ناکارہ، بدتر (۱۲) پرانی بات، گئے تھے نماز بخشنا نے روزے گلہ پڑے؛ (مثل) ایک آفت سے بچنے کی تدبیر میں دوسری بڑی آفت سرپڑی، لینے کے دینے پڑ گئے۔

_____ گئے گزرے وقت میں؛ اس بڑے وقت میں عا س جاتبالی کے زلزلے میں۔

_____ گزرا؛ مذکر؛ (۱) گزارا ہوا (۲) کٹا، بیکار، ناقص، خراب (۳) کم حوصلہ، کم زور (۴) ناچیز (۵) غلبہ، غریب (۶) نالائق۔

_____ وقت پھر ہاتھ آتا نہیں؛ گزارا ہوا وقت دوبارہ نہیں مل سکتا۔

_____ فرصت کو قیمت سمجھو۔

_____ گیارہ؛ دس اور ایک (۱۱)

_____ گیا رھواں؛ دس کے بعد کا، یازدہم

_____ گیارویں؛ موت؛ (۱) دس کے بعد (۲) حضرت غوث الاعظم کی نیا ز جو گیا ربویں ربیع الثانی کو ہوئی ہے۔

_____ گیان؛ مذکر (۱) علم، آگہی، دانش (۲) عقل، سمجھ، فہم (۳) علم، معرفت، عرفان۔

_____ گیان چوسر؛ موت؛ ایک قسم کا چوسر جو کافر پھچی ہوئی ہوتی ہے۔

_____ گیانی؛ (۱) عالم، مارت، عقلمند، جاننے والا (۲) سادھو، (۳) ہوشیار، ہوشیار، چالاک

_____ گیا ۵؛ (ت) موت، گھاس

_____ گپت؛ مذکر، ہندی کی نظم، بچھن، گانا۔

_____ گانا؛ دکنایتا، تعریف کرنا

_____ گیتا؛ موت؛ ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب جس میں سری کرشن جی نے سری ارجن کو مخاطب کر کے معرفت الہی کی تعلیم دی ہے۔

_____ گیتی؛ (ت) موت، دنیا عالم

_____ گپتلا؛ مذکر؛ قرآن، بھیجا ہوا۔

گھا

گھات: مونٹ (۱) تاک، دانو، موتی (۲) فریب، دھوکا، تدبیر
 چال (۳) انداز، ادا، (۴) ارادہ، مطلب (۵) شکار یا دشمن
 کی تاک میں بیٹھنے کی جگہ، (۶) جادو، ٹونہ۔
 — میں بیٹھنا، شکار یا دشمن کی تاک میں کسی جگہ چُپ کر بیٹھنا
 موتی ڈھونڈنا۔
 میں رہنا: تاک میں رہنا، موتی تاکنا۔
 گھاتی / گھاتیا: دم (۱) موتی تاکنے والا (۲) چال باز (۳) تامل
 (۴) خود غرض، مطلبی۔
 گھانا: مذکر، خریدی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ اور مفت میں لے لینا۔
 گھاٹے میں: مفت میں، خریدی ہوئی چیز سے زیادہ منافع میں۔
 گھاٹ: (۱) دریا کا کنارہ (۲) تلوار کا موڑ (۳) اگلیا کا گریبان (۴)
 دم، چھوٹا (۵) آگ، دغا۔
 — گھاٹ کا پانی پینا، دکنا پینا، جگہ جگہ پھر کر تجربہ حاصل کرنا،
 جانبداری اور تجربہ کار ہونا۔
 — مارنا: گھاٹ کا محصول نہ دینا، امتزائی کا محصول نہ ادا نہ کرنا،
 محصولی مال چھپالینا۔
 — ڈال / گھاٹیا، مذکر، گھاٹوں پر ایشٹان کرنے اور ٹیکا
 لگانے والا برہمن۔
 گھاٹا، مذکر، کمی، نقصان، خسار۔
 گھاتی: مونٹ (۱) دشوار راستہ، دو پہاڑیوں کے بیچ کا راستہ،
 درہ، پہاڑوں کا نشیب (۲) راہداری کا پروانہ، چالان۔
 گھاس: مونٹ (۱) کاہ (۲) تنکا، کوڑا، پھوس، چارا (۳) ساگ
 پات، سبزی۔
 — پات: مذکر، خس و خاشاک، سبزی۔
 گھاس پھوس، مذکر، کوڑا کرکٹ
 کاٹنا، (۱) گھاس کو تراشنا (۲) دکنا پینا، کوئی کام بیٹھنے پہ
 سے کرنا (۳) دکنا پینا، بے سببے بوجھے جلد جلد بولنا کہ
 سمجھ میں نہ آسکے۔

پن: مذکر، گیلا ہونا۔
 گیلان، (۱) ریلن کا ایک صوبہ (۲) بھلا کے قریب ایک گاؤ کا نام۔
 گیلری: (۱) GALLERY (انگ، مونٹ) (۲) بندہ (۳) کسی خاص
 جگہ پر نشستوں کا انتظام۔
 گیلن: (۱) GALLON (انگ، مذکر) پانی یا تیل ناپنے کا پیمانہ
 گیم: (۱) GAME (انگ، مذکر) کھیل، بازی۔
 گین: (۱) اسکا کے بعد سرکھات میں آتا ہے اور پُر بھرا ہوا کے معنی
 دیتا ہے (میسے غلین، سترگین)
 گینچنا: ہاتھ سے نل دل ٹھاننا، نل تل کے خراب کر دینا۔
 گیند: (۱) گھنڈا، (۲) دہلی موتی، چمڑے، کپڑے، باربر کا وہ گولہ جس سے
 راکے کھیلے ہیں۔
 — بلا، مذکر، کرکٹ۔
 گیندا، مذکر: ایک قسم کا زورنگ کا پھول اور اُس کا پودا
 گل صدر برگ۔
 گینڈا، مذکر، جینے کے برابر ایک سہ زور جانور جس کی کھال
 سے سپرناتے ہیں اور اس کی ناک پر ایک نہایت مضبوط
 چھوٹا سینگ بھی ہوتا ہے۔
 گینگ: (۱) GANG (انگ، مذکر) ٹولی، جھنڈا
 گینگنا: کیکڑا، سرطان۔
 گینبی: موتی، دم، چھوٹے قدر کی گائے۔
 گیہاں: (۱) مذکر، زمانہ، روزگار، جہاں، دنیا۔
 گیواں: گیہوں کے رنگ گلگندی
 گیہوں، مذکر، ایک مشہور غلہ، گندم
 کے ساتھ گھن پس گیا: (مثل) زبردست کے ساتھ
 کزور بھی مارا گیا۔

_____ کھا جانا، دکنا پٹا، بیوقوفی کی باتیں کرنا، صاف نہ کرنا۔
 _____ کھودنا، گھسیا کا کرنا (۲۱) عقل و شعور، علم و دانش کے خلاف کا کرنا۔

گھاسلیٹ: مٹی کا تیل (نگ) کیروسن۔

گھاگ: پیلانا اور چربہ کا آدمی۔ بوڑھا، خزانہ۔

گھاگھر/گھاگھس: موتھ؛ ایک قسم کی شیر، یا مرغ۔

گھاگرا/گھاگھرا: مذکر، لہنگا، پشتواڑ (۲۲)۔ پلے کے ایک نیاکانا (۱۳) ایک قسم کا کبوتر

گھال میل: (۱۱) مذکر؛ تال میل، میل ملاپ، ربط ضبط (۲) دم، اگڑ، مڈ، بلا جلا۔

گھام: موتھ (دم) (۱۱) دھوپ (۲) اُمس۔

گھاٹڑ: بیوقوف، ناتجربہ کار، رست، بدسلیقہ، کم عقل۔

گھان: مذکر، موتھ (۱۱) ایک بار میں چلے، کولہو یا اوکھل میں ڈالے

جلنے والے انج کی مقدار، ایک بار میں کڑا ہی میں ڈالے جلنے

والے پکان کی مقدار یا تعداد، ایک بار میں بھائیں ڈالے جلنے

والے چنے یا دوسرے انج کی مقدار (۲) اچانک ہاتھ آ جلنے

والی دولت۔

گھانی: (۱۱) آٹلوں یا سرسوں کی وہ مقدار جو ایک بار کھوس میں پیلنے کے واسطے

ڈالی جائے (۲) تیل پیلنے کی نشین، گئے کارس نکالنے کی مشین۔

گھاؤ: مذکر، بڑا گھرا زخم

_____ میں لون مرچ لگانا، دم، دکنا پٹا، ڈکھ پر دکھ پہنچانا۔

گھاتی: موتھ؛ (۱۱) دو آنکھوں کے بیچ کی جگہ (۲) جل، فریب

دھوکا، مغالطہ۔

گھائل: (۱۱) زخمی، مجروح (۲) دکنا پٹا، عشق کا مار، دل نکار (۳)

ایک قسم کی گہرے رنگ کی سُرخ پتنگ۔

گھ

گھبرانا: (۱۱) پریشان ہونا، ڈر جانا (۲) اُچاٹ ہونا، اکتانا،

بے کیفیت ہونا۔

گھبراہٹ: موتھ (۱۱) پریشانی، بے قراری، اضطراب، بزدلی

(۲) جلدی۔

گھ

گھپ: گھٹا ٹوپ، اندھیرا، نہایت تاریک (اندھیرا کے ساتھ)

گھپلا، مذکر، (۱۱) بوڑھا، جھگڑا (۲) حساب کی غلطی۔

گھپنا/گھپنا: گھٹا جانا۔

گھ

گھٹ: مذکر، (۱۱) دل من، رجب (۲) کم، تنھوڑا (۳) گھاٹ کا تختہ

_____ بوڑھا، کمی، بیشی

گھٹا: مذکر، (۱۱) ماتھے پر سجدوں کا نشان، پیر کی آنکھوں پر جوتے سے

گھنے کا نشان، جسم کے کسی حصے کا مسلسل گھنے یا رگڑ سے پڑنے

والا نشان (۲) سیدھ، نقب (۲) چھید، سوراخ، دروازہ، شگاف۔

گھٹا: موتھ، (۱۱) کالی دہلی، رابل، ابر (۱۳) جھار، غبار، کدورت، بھوم

_____ ٹوپ: مذکر، (۱۱) پانکی، رینس وغیرہ کا غلاف (۲) گہرے بادلوں

پیدا ہونے والا اندھیرا، گھپ اندھیرا۔

گھٹانا: کم کرنا۔

گھٹاؤ: مذکر، کمی، قلت، تفریق، اُتار۔

_____ بڑھاؤ: مذکر، کمی بیشی۔

گھٹا ہوا: (۱۱) موٹڑا ہوا سر (۲) دکنا پٹا، تجربہ کار، ہوشیار

گھٹھی: موتھ، (۱۱) کمی، تخفیف (۲) زوال، انحطاط،

گھٹس: موتھ، دم، تنگ و تاریک جگہ میں دم گھٹنا، گھٹس

گھٹ گھٹ کے: رگ رگ کے، تنگی سے، مشکل سے،

گھٹس: موتھ (۱۱) جیس (۲) دم گھٹنا

گھٹنا: (۱۱) پسنا، مل ہونا، کھل ہونا (۲) پالش ہونا، ایک مال ہونا

(۳) سہرا ستر پھیرنا (۳) دم رکھنا، بھڑنا، پڑ ہونا (۲)

دل ڈوبتا عسوس ہونا، اندر ہی اندر گڑھنا۔

گھٹنا: مذکر، ایک قسم کا تنگ موری کا پاجامہ۔

گھٹنا: (۱) کم ہونا، تنھوڑا ہونا (۲) اُترنا (۳) ڈبلا ہونا (۳)

بھاؤ اُترنا۔

_____ بڑھنا: کمی زیادتی ہونا

گھٹنا: مذکر، مان اور پنڈلی کا جوڑ، زانو، ٹخنہ۔

گھر بار چھوڑنا، مکان اور گرتی کے سب تعلقات ترک کرنا۔
گھر بار لٹانا؛ گھر تباہ کر دینا۔

— کی جوتا: شوہر والی ہونا، بیاہی جانا۔

— گھر بسانا؛ شادی کرنا۔

— بسنا؛ (۱) گھر آباد ہونا۔ (۲) دکنا یا شادی ہو جانا۔

گھر بنانا، (۱) مکان بنانا (۲) دکنا یا پاؤں جمانا۔

— بول اٹھنا؛ گھر میں رونے آجانا

— بھرا، ڈکڑا، تمام گھر، گھر کے تمام لوگ۔

گھر بھرنانا، مالا مال کرنا، دولت گھسیٹنا۔

گھر بھول جانا؛ بالکل بھول جانا، حلقہ کا خست ہو جانا۔

— بیٹھنا؛ (۱) تنہائی اختیار کرنا (۲) بے کار ہونا (۳) مکان کا گریانا

(۴) بازاری عورت کا پیشہ ترک کرنا۔

— بیٹھے؛ بے کوشش، بیہوشت کیے۔ بے فکر

— بے چرخ ہونا؛ دکنا یا گھر کا دیران ہونا

— پڑنا؛ کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ بطور داشتہ رہنا۔

— پہنچانا؛ دکنا یا، انجام تک پہنچانا، پورا پورا قائل معقول کرنا، کوئی

— حجت باقی نہ رکھنا۔

— پھونک تماشہ دیکھنا؛ نقصان کر کے تجربہ حاصل کرنا، گھر کی تباہی

— پر خوش ہونا خوب رویہ لٹانا

— پیچھے ہر ایک گھر کی گھر۔

— جانے کا راستہ نہ ملنا؛ دکنا یا، گھر جانا۔

— جنوائی؛ مذکر؛ (۱) گھر میں رکھا ہوا داماد (۲) موٹ، بیٹی کو

— بیاہ کر داما سمیت اپنے گھر میں رکھنا۔

— چلانا؛ خانہ داری کا انتظام کرنا۔

— گھر خاک میں ملانا، گھر تباہ کرنا۔

— گھر خالی ہونا؛ مکان کا غیر آباد ہونا۔

— گھر دیکھ لینا، گھر دیکھنا؛ (۱) گھر سے واقف ہو جانا (۲) دکنا یا، مانوس

— ہو جانا۔ بل جانا

— سر پھراٹھنا؛ دکنا یا، بہت شور وغل مچانا

— سنبھالنا، گھر کا ٹھیک ٹھیک انتظام کرنا، گھر کا خرچ چلانا۔

— سے باہر کرنا، گھر سے مکان، گھر میں نہ رکھنا۔

گھٹنوں چلنا/ کے بل چلنا؛ (۱) بچوں کا زانوؤں کے بل چلنا (۲)
دکنا یا، رنگ رنگ کر کوئی کام کرنا۔

— گھٹنوں؛ گھٹنوں تک۔

— میں سرد کیے بیٹھنا؛ دکنا یا، سوچ میں بیٹھنا، مایوس بیٹھنا
— غمگین بیٹھنا۔

— میں سرد کے لینا، دکنا یا، شرم جانا، شرم سے گردن
— نیچی کر لینا۔

— گھٹنے پیٹ کو جاتے ہیں، (۱) مثل، (۲) ہنسی، (۳) ہنسی کی طرف لڑی کرتا ہے۔

— ٹینگ دینا؛ دکنا یا، (۱) پورا ننگ لگانا، پوری قوت صرف کر دینا،

(۲) ہار مان لینا، برتری تسلیم کر لینا۔

— سے لگ کر بیٹھنا؛ دکنا یا، پاس سے جلا بیٹھنا (۳) دکنا یا، بڑا کالی ہونا۔

— گھٹیوں چلنا؛ (۱) پیچھے یا ابا بچ آدمی کا دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل

— چلنا (۲) دکنا یا، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا۔

— گھٹوانا؛ (۱) اکراتا، اکھول کرنا (۲) سر یا وارشی منڈوانا۔

— گھٹی؛ موٹ، (۱) ایک قسم کی دست آور دو اور دو اور نو زائید بچوں کے پیٹ

— صاف رکھنے کے لیے چلاتے ہیں (۲) جلا، عادت، طبیعت، خصلت

— میں پڑنا/ ہونا، فطرت میں داخل ہونا، کچھن سے کسی بات کا حامی بننا

— گھٹیا/ گھٹیل؛ (۱) ادنا، (۲) ستا، گھٹا ہوا (۳) کم قیمت، کم درجہ (۴) کمینہ

گھ — ج

گج بچ، دیکھو گج

گھ — ر

— گھر؛ مذکر (۱) مکان، خانہ (۲) مسکن (۳) جگہ، ٹھکانا (۴) وطن،

— دیں، جائے پیدائش (۵) خاندان، گھرا (۶) بطن، ان توہیک

— نقش کا خانہ (۷) (جماڑا، بیوی

— آباد کرنا (۱) گھر بسنا (۲) دکنا یا، شادی کرنا

— آنے کی لاج/ شرم، جہان کی خاطر قرض

— اُجڑنا (۱) گھر برباد ہونا، گھٹنا (۲) سماں چوری میں ناقصاتی ہونا۔

— بار، گھر (۱) خانہ داری کا سامان (۲) بال بچے (۳) خاندان، کنبہ

— بار بسا لینا، شادی کر لینا۔

— سے بے گھر کرنا، خانہ خراب کرنا۔

— سے دستا، اپنے پاس سے دینا نقصان اٹھانا

— کا: (۱) خانگی، گھریلو، (۲) اپنا ذاتی (۳) رشتہ دار کنبہ کا،

(۴) قدیمی جو ہمیشہ خدمت کرتا ہے۔

— کا آگن ہو جانا، دھو، گھر تباہ ہو جانا، خانہ ویرانی ہونا۔

— کا اٹھالا، نہایت سوز جس سے گھر کی رونق ہو، بیٹا، لڑکا

— کا بابا آدم نرالا ہے: اس گھر کا عجیب رنگ ہے۔

— گھر کا بوجھ اٹھانا، سنبھالنا: گھر کے خرچ کا قہقہہ ہونا۔

— گھر کا بھیدی، وہ شخص جو گھر کے گل راز جانتا ہو (راز دار)

— کا بھیدی لنگا ڈھالتے: ریش، اپنی کی دشمنی سخت خراب ہوتی ہے۔

— کاٹنے کو دوڑتا ہے / کاٹے کھاتا ہے: گھر میں جی گھڑتا ہے

— کا راستہ بتانا، دکھانا، ماننا، نصحت کرنا۔

— کا بھول جانا، کسی جگہ ایسا جی لگنا کہ پھر گھر جانے کا خیال بھی نہ آئے۔

— کا راستہ لو: چلتے پھرتے نظر آؤ، دور ہو۔

— کا گھرو، گھر کے تمام لوگ (۲) گھر کا تمام ماہل (۳) پورے گھر گھر

— کا نا اڈو ہونا: خانگی عزت بریلو کرنا، خاندان کے نام کو بٹا لگانا۔

— کا ہوانہ درکا: کہیں کا نہیں رہا۔ کھتا ہے۔

— کرنا (۱) جگہ کرنا، گنجائش پیدا کرنا (۲) گھر بھاگ کر رہنا، خاندان۔

— بیاہ کرنا (۳) چھید کرنا، سوراخ کرنا۔

— گھر کھائے جاتا ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتے، گھر میں آگن ہوتی ہے۔

— کی بات، موت، (۱) گھر کا بھید (۲) آپس کی بات، آسان کام

— کی راہ لینا، نصحت ہونا، واپس آنا، روانہ ہونا۔

— کی راہ نہ ملنا: بد محسوس ہو جانا، ذہنی آگن میں گرفتار ہو جانا۔

— کے گھر صاف ہو جانا، بہت سے گھروں کا تباہ ہو جانا۔

— گوستی، موت، گھر کا انتظام، خانہ داری۔

— گھاٹ، مذکر، چال، ڈھال، رنگ، ڈھنگ، طوطی، طرز،

وضع (۲) خصلت، سعادت، طبیعت (۳) نشان، پتا، مقام۔

— کی کھیتی: (۱) اپنا مال ذاتی چیز (۲) دکھانا، دارمی موچھ

— کی مرغی وال برابر، ریش، جو کچھ اپنے پاس ہے اس کی قدر نہیں ہوتی

— کھانا: (۱) کسی کا ہر روز (۲) (جائز) فریضہ کرنا۔

— گھر: ہر ایک گھر میں، خانہ بھانہ۔

— گھر بھرنے مارا، راجھرا

— گھر بھانکنا: ہر گھر میں جانا

— گھر چرائے چلنا، ہر گھر میں خوش ہونا۔

— گھستا: مذکر، ہر وقت زنان خانہ میں بیٹھا رہنے والا مرد، ڈرپوک

— بزدل، آرام پسند۔

— گھوڑا نخاس مول: (۱) ایش، اے دکھائے کسی چیز کی تعریف کرنا۔

— گھر لٹا، اے انتہا داد دہش کرنا، بیکار و بیہ خرچ کرنا۔

— گھر میں: موت، دکھانا، (بیوی)

— گھر میں آگ لگانا: گھر کو تباہ کرنا۔

— گھر میں بیٹھ رہنا، گوشہ نشین ہو جانا۔

— میں ڈالنا: بیوی کی طرح رکھنا

— میں شیر ہار کھینچ: ریش، گھر میں آگ لڑکھانے اور باہروں سے دب جانے والا

— گھر دار: مذکر، گھر کا رئیس۔

— والا، مذکر، (۱) مالک مکان (۲) شوہر

— والی، بیوی۔

— گھر ویران ہونا (۱) گھر بڑھنا، گھر تباہ اور برباد ہونا (۲) دکھانا، بیوی کا ہونا

— گھریلو: (۱) گھر کی، گھر کی بنی ہوئی چیز (۲) خانگی۔

گھ

— گھروندا: (۱) مٹی کا چھوٹا سا گھر جو لکیاں گڑیاں کھینچنے کے لئے بناتی ہیں

(۲) دکھانا، بچوں کا کھیل جو ناپائیدار ہوتا ہے۔

— گھرا: (۱) آنکھ کی ایک دوا (۲) کھانسی سے سانس لینے کی آواز (۳) نخر

— نزع میں سانس کے ٹک ٹک کر نکلنے کی آواز۔

— چلنا، مرتے وقت سانس کا ٹک ٹک کر نکلنا۔

— گھراٹا، مذکر، (۱) نخر (۲) گھر گھر کی آواز

— گھراٹا، مذکر، خاندان، کنبہ

— گھراٹا، امیٹا، چھا جانا، بھوم کر لینا۔

— جانا: (۱) دشمنوں کے زخموں میں پھنس جانا (۲) محصور ہو جانا۔

— کرنا، چھا کرنا، امیٹا کرنا، بھوم کر کے آنا

— گھرنج، موت، وہ کٹھنی یا ہاتھی دانت کا ٹکڑا جو ستار میں لگاتے

— ہیں، اور جس پر تار رکھتے ہیں۔

گھڑنا، گھسیڑنا کسی چیز میں اڑکانا دینا

گھڑکنا، گھڑکی، گھڑیا، ڈانٹنا، ڈپٹنا

گھڑکی، مونٹ، چھڑکی، دھکی، ڈانٹ، ڈپٹ

گھڑگر: مونٹ، گھڑگھاہٹ، گھڑگر کی آواز، چکی یا اور کسی قسم کی گاڑی یا مشین سے نکلے۔

گھڑگھاہٹ: / گھڑگھاہٹ، مونٹ، گھڑگر کی آواز، گھڑگر کی آواز۔

گھڑتا، ۱۷۱ حصہ ہونا، بند ہونا، دشمن کی فوج کے پکے میں تھانا (۲) جھومنا،

چھانا، آسنڈنا (۳) رکنا، تیا، رنج و الم میں مبتلا ہونا۔

گھڑیا، مونٹ، ۱۷۱ گھڑیا، گھڑیا کی بنی ہوئی گھسیڑ جس میں سونا چاندی

گھلتے ہیں (۲) گھسیڑی کا مٹی کا گھڑ۔

گھ — ط

گھڑچڑھا، بڈر، (م) (۱) گھڑے پر چڑھا ہوا سوار (۲) پکاسوار

عمدہ سواری جاننے والا۔

گھڑھی، مونٹ، (۱) شادی کے موقع پر دوٹھاکا گھڑے پر

سوار ہو کر دلہن کے گھرجانا (۲) ایک قسم کی چھوٹی سی

توپ جسے گھڑے کہتے ہیں (۳) رسالہ سواروں کی فوج۔

گھڑ، مونٹ، (۱) گھڑوں کی دوڑ (دنگ) (۲) ریس،

گھڑیا، مونٹ، (م) چھوٹے بڑے گھڑی

گھڑا، گھسیڑ، گھسیڑ، گھسیڑ۔

گھڑوں، پانی پڑھانا، (م) بھدر سمنہ ہونا۔

گھڑے لٹھانا، (۱) گھڑوں کا پانی پھانا (۲) رکنا، تیا، بہت زیادہ شرمندہ کرنا۔

گھڑائی، مونٹ، (۱) گھڑنے کی اجرت، بنانے کی مزدوری (۲) گھڑت

ساخت، بناوٹ۔

گھڑت، مونٹ، (۱) ساخت، بناوٹ (۲) بنائی ہوئی بات، جھوٹی

بات، ایسی بات جس کی کوئی اصلیت نہ ہو۔

گھڑنا، بنانا، وضع کرنا۔

گھڑوچی، مونٹ، گھڑی کا چوکھا جس پر پانی کے گھڑے رکھے جاتے ہیں۔

گھڑی، مونٹ، (۱) سات دن کا ساتواں حصہ (۲) پل، لمحہ، وقت

زمانہ، رساں (۳) وقت بتانے کا آلہ (دنگ) دلچ، کھلاک

بھرو ۱۷۱ ایک گھڑی، پل بھر (۲) بھر، گھڑے بھر، ذرا،

بھریں: دم بھریں سو فوراً، ذرا سی دیر میں۔

بہاڑ ہونا: وقت بڑی مشکل سے گزرنا، محسوس ہوتا ہے

تولہ گھڑی ماشہ: رکنا، تیا، غیر مستقل مزاج۔

دو گھڑی: تھوڑی دیر۔

ساز: گھڑی کی مرمت کرنے والا۔

ساعت ہونا: کوئی دم کا بہانہ ہونا، فریب مرگ ہونا، دم بدم۔

گھڑی: (۱) دم بدم، گھنٹہ بہ گھنٹہ، لمحہ بہ لمحہ (۲) بار بار

پہرے، متواتر، لگاتار۔

میں تولہ گھڑی میں ماشہ: رکنا، تیا، کبھی کبھی کچھ غیر مستقل مزاج۔

گھڑیاں: مذکر، مونٹ (۱) بڑی گھڑی، دیوار گیر گھڑی (۲)

مذکر، مگر مچھ، جنگ۔

گھڑیالی: مذکر، گھڑیاں بجانے والا، گھنٹہ بجانے والا۔

گھ — س

گھسا: مذکر، رگڑ، رگڑا۔

دینا: رگڑا دینا۔

گھنا: رگڑاتا، رگڑا گھنا، گھنے کا نشان پڑنا۔

گھسا، مذکر، گھسا ہوا، پڑانا، فرسودہ، استعمال کیا ہوا۔

گھسنا: (۱) کسی چیز کو رگڑنا (۲) کھل کرنا، پھوڑ پھوڑنا (۳) لباس کا

پڑانا ہونا (۴) وزن میں کم ہو جانا (۵) دم کسی کو بے وقوف بنانا،

کسی کی کھپائی کرنا

گھسانا، گھسیڑنا، داخل کرنا، بھرتا، سماتا

گھس پل جانا، کسی نہ کسی طرح گھس جانا۔

گھسیڑ، مونٹ، (۱) دخل، رسائی، باریابی (۲) دھوکا دے کر

کسی جگہ گھس جانا۔

گھس پٹھیا: بغیر اجازت داخل ہو جانے والا، دھوکا دے کر

گھس جانے والا۔

گھسنا: اندر جانا، داخل ہونا۔

گھسوانا: داخل کروانا۔

گھسنا، (۱) کھپنا، کھچکر آنا (۲) زمین سے رگڑنا، ہوا چلنا۔

گھسے گھسے پھرتا: (دہلی، جا بجا مارا مارا پھرتا)

گھلاوٹ: موٹھ (۱۰)، ملائم ہونا، نرمی لگنا، پلپٹا ہٹ (۲)، بجاؤ، وہ زیادہ جوجا جی کا بل لگانے سے ہوتی ہے۔

گھل جانا: (۱) پھل جانا، نرم ہونا، گداز ہونا، پتلا ہونا، پانی ہونا، نخل ہونا، بہ جانا، (۲) تھک جانا، نضیل ہونا، (۳) دُلا ہونا، لاغر ہونا، (۴) سوکھ جانا، (۵) پتلا پڑ جانا، (۶) گھل مل جانا۔

گھل گھل کر کے: تحلیل ہو کر، دُلا ہو کر، کمزور ہو کر کے کا نٹا ہونا، نکر و ترزدے انتہائی لاغر ہونا۔

گھل مل جانا: (۱) ایک جان ہونا، (۲) بے تکلف ہونا۔
گھل مل کر کے: مل جل کے، پیار محبت سے، بے تکلفی سے، میل جول سے۔
گھلنا: (۱) پھلنا، پتلا ہونا، (۲) گداز ہونا، ملائم ہونا، نرم ہونا، (۳) دُلا ہونا، لاغر ہونا، (۴) مل جانا، (۵) سرمہ اور کا بل خوب چھی مل جانا۔

— ملنا، اکٹھا ہونا، بے تکلف ہونا

گھ — م

گھما گھم: کنوس میں زور زور سے ڈول پٹنے کی آواز۔
گھانا: (۱) پھرانا، جکرو دینا، حیران کرنا، پریشان کرنا، گشت کرنا، (۲) سیر کرنا، گشت کرنا، (۳) دکھنا، دم چرانا
گھاؤ: نڈر، (۱) پھیرنے، (۲) زمین کی وہ مقدار جسے بیوں کی ایک جڑی دن بھر میں جوت دالتی ہے۔

گھم گھم: موٹھ، چمکی چلنے کی آواز
گھس: موٹھ، دم، مس، اُمس، سخت گرمی میں ہوا کا بند ہونا۔
گھسان: نڈر، زور دار لڑائی، رن، جنگ، نرم، قتل عام، خودریزی، (۳) لاشوں کے انبار، گشتوں کے پشے (۴) انبوہ، پھیٹ، بجم، (۵) تباہی، بربادی ویرانی۔
 — پڑنا، بہت گشت و خون ہونا۔

— کارن پڑنا، بڑی بھاری ہوائی ہونا، کشتوں کے پشے لگ جانا۔
گھنڈ: نڈر، (۱) بکتیر، غور، (۲) خوددانی، نخوت، نمود، خود بینی، خود پسندی، فخر، ناز، فحشی، بل زور، حمایت، بھروسا،

گھس گھس: (۱) دھل، موٹھ، گھس پھس
گھس گھس: نڈر، (۱) ایک کادو سرے کو زمین پر گرے دینا (۲) ایک پتنگ کی ٹھک کا وہ سرے پتنگ کی ڈور کو رگڑا دینا،

گھس گھس: (۱) گھسار، گھاس کھونے والا (۲) کٹنا، (۳) اہن، (۴) کارنہ آؤی۔

گھیل: (۱) گھاس کھونے والا (۲) گھاس بچنے والا۔
گھیل جانا: ہلکی ہلکی لکھ دینا۔

گھپتا: وہ گھپتا، زمین سے رگڑتے ہوئے لے جانا، (۲) جیسا قیاس لکھ دینا، (۳) نیام سے نکالنا، (۴) پکڑاؤ بلانا۔

گھپتا: نڈر، نڈر کرنا، گھسنا، بھونا، ٹھونسا، ایک چیز کو دوسری چیز میں زور سے ڈال کرنا

گھ — ک

گھمکنی: نڈر، نڈر چینی کے قسم کا ایک پودا جس کے پتے موٹے اور کھیلے ہوتے ہیں اور ان میں لسیا زیادہ بھرا ہوتا ہے
گھنڈ: نڈر، (۱) آؤ، بوم، (۲) موٹھ، دغانی کارخانوں کے انجن کی آواز۔

گھنڈی: موٹھ، نخوت یا گھم پھس سے سانس کا رگڑک کے نکلنا۔
 — بندھ جانا، (۱) روتے روتے سانس بند ہونے لگنا، (۲) ڈر کے مارے آواز نہ نکلنا۔

گھلیانا / گھسنا: عاجزی کرنا، ہمت ساجت کرنا، گڑگڑانا۔

گھ — ل

گھلا: نڈر، پھلنا، پلپٹا، ملائم، گداز
 — جانا، دُلا ہونا۔

— ملا (۱) بے تکلف (۲) خوب ملا ہوا، مل گیا ہوا۔
گھلانا: (۱) پھلنا، (۲) ملائم کرنا، (۳) دُلا کرنا، لاغر کرنا، (۴) ضلع کرنا، گرانہ، کوئی چیز پانی میں گھسا (۶) لگانا۔

گھسن: مذکر، (۱) ایک قسم کا کھڑا جوا کھڑکی اور غلہ میں لگ جانا ہے
(۲) رکنا یا شہ پیرانا مرض جو گھسن کی طرح اندر ہی اندر جسم کو
کھا جاتا ہے (۳) بھانزا، غم، فکر، دلی رنج۔

گھٹنا: مذکر، گنجا پن، پاس پاس۔
گھٹنا: مذکر، (۱) چپ خاموش (۲) گمراہ، دل میں بات رکھنے والا،
کینہ پرور۔
پن: مذکر، گمراہی۔

گھٹنا: مذکر، (۱) ساٹھ منٹ کا عرصہ (۲) مینا ریا اور میں لگائی جانے
والی گھڑی، ٹاور کلاک (۳) گھنٹی، جرس
گھنٹہ گھر: مذکر، وہ مینا جس میں بڑی گھڑی لگی ہو۔
ہلانا: گھنٹہ ہلا کر پوجا پاٹ کرنا۔

گھنٹی: مونث، (۱) چھوٹا گھٹا (۲) پتیل کا ایک چھوٹا سا خاص وضع کا
برتن جس سے حلوائی دودھ ناپ کر دیتے ہیں، دودھ ناپنے کا
ایک پیمانہ۔

گھنڈی: مونث، (۱) گر بیان بند کرنے کا پیرے کا پن، ٹکمر (۲) دھان
کی دو بارہ پھوٹی ہوئی جڑ (۳) پستان کا منہ۔
گھنکی: مونث، سرزئی، ایک قسم کا سرخ رنج جس کا منہ سیاہ ہوتا
ہے / پلا ماش۔

گھنگرالے: (دہلی) گھونگر والے بال، بل کھائے ہوئے بال۔
گھنگرو: مذکر، (۱) ایک قسم کا بچنے والا زور (۲) چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کا
چمچھا جو ناچتے وقت پانوں میں باندھتے ہیں (۳) رگو، گلے کی
خرخراہٹ، گلے کی وہ آواز جو جانکنی کے وقت نکلتی ہے۔

باندھنا: (۱) ناچنے کی تیاری کرنا (۲) رقصوں کی اصطلاح،
ناچنے میں شاگرد بنانا۔

گھنگرو: گھنگرا (رگو) (۱) گھنگرو بولنا (۲) مزے کی قریب ہونا۔
جانکنی کے عالم میں ہونا، گھرا جانا، خرخراہٹ ہونا۔
گھنگریا: مونث، ایک قسم کا چھوٹا لہنگا، جو بچے پہنتے ہیں۔

گھنگنیا: مونث، اُبلتا ہوا غلہ۔
گھنٹہ میں بھر کر بیٹھنا: رکنا یا خاموشی اختیار کرنا، چپ سا دھنا۔
گھنٹہ گھور (۵) گھرا بادل، گھٹا۔

گھنگولنا: (۱) کسی مرقین چیز یا پانی میں اتھ ڈال کر ہلانا، گھلانا۔

سہارا، آسرا، امید۔

پیر آنا: شیخی کرنا، شیخی کی لینے لگنا۔

کمال دینا: غور و فکر دینا، بل کمال دینا۔

نکل جانا: غور و فکر ہو جانا۔

گھنڈی: منکبہ، خود پسندی، شیخی خورا، اترانے والا۔

گھمنی: دم موٹ، سر کا گھومنا، گھومنی۔

گھمیر گھمیری: دم، چکر، دوران سر، دوسر۔

گھ — ن

گھن: مذکر، (۱) بہت بڑا ہتھوڑا (۲) آہرن، سدان (۳) گھنڈ،
گھڑیاں (۴) ایک قسم کا رقص (۵) موٹا گھاٹا، دبیز، بھاری،
ٹھوس، کڑا، بھرا ہوا، گھنٹا، گھنا (۶) بڑی رقم۔
پڑنا: (۱) کسی چیز پر لوہے کی چوٹ پڑنا (۲) رکنا یا سخت
منکلیف پہننا۔

چکر: مذکر، (۱) گردش (۲) آوارہ گرد (۳) بیوقوف (۴) ایک
قسم کی آتش بازی (۵) سورج کبھی کا پھول۔

چکر میں آنا: مصیبت میں پھنسنا، گردش میں آنا، گھرا جانا،
سٹپٹا جانا۔

ششیا م: مذکر، (۱) کالی گھٹا، (۲) سیاہ خام، کالے رنگ کا
(۳) کرشن جی کا لقب۔

کاسکھ: راج سکھ۔

مارنا: (۱) ضرب لگانا (۲) بڑی رقم کا مارنا

گرج: مونث، (۱) بجلی کی راک، زندگی کا آواز (۲) بھلی، ذنی

گھنگور (۱) گھرا بادل، ڈروانی اور نہایت گہری گھٹا

گھٹا: مونث، کالی، ڈروانی گھٹا، بہت برسنے والی گھٹا
گہری گھٹا۔

گھن: مونث، کراہت، نفرت۔

گھانا (۵) کراہت کرنا، نفرت کرنا

گھنا ونا گھنونا: مذکر، کمرہ، میلا، تھلے لانے والا۔

گھنیا: گھن، کراہت، نفرت کرنا، کراہت کرنا۔

(۲) گھونٹا: خوب ہلانا (۳) دکناٹیا، اٹ پٹ کرنا۔
گھنتی: موت؛ گھنٹا۔

— سا دھنا، جان پوچھ کر چپ رہنا، مکاری کرنا۔
گھینل گھیری: مذکر، گھنٹا۔

گھ

گھوٹا: مذکر، (۱) کاغذ گھوٹنے کا مہرہ (۲) اُسترے سے سر یا داڑھی کی صفائی، چارابرو کا صفایا۔

گھوٹنا: (۱) رگڑنا، جل کرنا، باریک کرنا، چکنا (۲) رٹنا، بار بار چھٹنا (۳) دبانا، (جیسے گلہ گھوٹنا (۴) مٹھو کر چکنا کرنا۔

گھور: مذکر (۱) پانخانہ، غلاظت، میل، چرک (۲) خوفناک، ڈراؤنا، ڈراؤنی گرج (۳) گہرا رنگ

گھورا: مذکر، (۱) اکوڑا کرکٹ پھینکنے کی رکھتا، گوبریا اپلوں کا ڈھیر۔ (۲) پانخانہ، غلاظت کا ڈھیر (۳) کوڑا۔

گھورا گھاری: موت؛ تاک جھانک، نظر بازی، ایک کا دوسرے کو بغور محبت کی نظر سے دیکھنا۔

گھورنا: تاکنا، کھٹکی باندھ کر دیکھنا، تیز نگاہ سے دیکھنا، دشمنی یا محبت کی نظر سے دیکھنا۔

گھوٹا: مذکر، (۱) اسپ (۲) شطرنج کا ایک مہرہ (۳) بندوق کی سبلی۔

تھہر جانا: (گھڑ سواروں کی اصطلاح) تھوڑے کا بند بند تھک کر بچل جانا۔

پڑھانا: بندوق کی سبلی کو فائر کرنے کے لیے اور پڑھانا۔
چمکانا: گھوڑے کو تیز رو کرنا۔

گھاس سے آشنائی کرے گا تو کھائے گا کیا: کہاوت،
معاذ کی جگہ موت برتنے سے نفع نہیں ہوتا۔

کوئی شخص اپنے کام کے نفع کی کچھ پروا کرے تو گزارہ نامکن ہے۔

— مارنا: گھوٹا بھگانا، گھوڑے کو اڑانگانا۔

گھور روٹ گھڑوٹ، گھوڑوں کی دوڑ۔

گھوڑی: موت؛ (۱) گھوڑا کی تائیت، گھوڑے کی مادہ، مادہ اسپ (۲) سونیاں بنانے کی کل (۳) وہ کلڑی جسے تارکش

گوٹے کے تارتنے رہنے کے لیے تار کے نیچے کھڑی کر دیتے ہیں (۴) کلڑی کی تپائی جس پر زردونکا چوب رکھتے ہیں۔

— چڑھنا: (دہلی-عمو) (۱) تندست ہو کر کسی مقدس جگہ پر دھوم دھام سے شکر یہ ادا کرنے جانا (۲) فتنے کی

رسم ادا ہونا (۳) دوہا بنا اور ذہن کے گھر جانا۔
— چڑھانا: (۱) فتنے کی رسم ادا کرنا (۲) چری ہوئی لکڑی سے پتے

عصر مخصوص کی کھال پر کھرنے کرنا۔
گھوڑے بیچ کر سونا، بے نکری سے سونا، کہری نیند سونا،

پاؤں پھیلا کر سونا۔
— جوڑے کی خیر: ایک قسم کی دعاء

دوڑنا، دکناٹیا، اتھالی کوشش کرنا،
— سوار: (۱) گھڑ سوار، گھڑ چڑھا، راکب (۲) دکناٹیا،

جلد باز۔
— گئے گدھوں کا راج آیا: کہاوت، شریف گئے

اُن کی جگہ امن آئے۔
گھوس: (۱) رشوت

گھوس: موت، ایک قسم کا بڑا چوہا
گھوس دان: مذکر، چمبے دان۔

گھوسی: مذکر، مسلمان گوالا، گھائے بھینس رکھنے چولنے اور ان کا دودھ بیچنے والا۔

گھوشنا: (۱) موت، ڈھونڈ ڈھول، ملان، گھول کے پلانا: (۱) تھوڑے گھول کر پلانا (۲) دکناٹیا، جلد اور آسانی سے

تعلیم دینا، کچھ سکھانا پڑھانا۔
— پی جانا، دکناٹیا، کسی کو بیچ دے وقت سمجھ کر نیت:

نابود کر دینا۔
گھولنا: حل کرنا، ملانا۔

گھولوا گھولنا: (عمو) (۱) گھول کر پتلا بنانا (۲) فیون کو پانی میں حل کرنا (۳) کسی معاملے میں درگھانا، طویل کرنا۔

کا اپنی گردن کو تیچے کی طرف منہ موڑنا (۳) فوج کا
پسپا ہونا۔

— کی دیوار: موٹھ، دروازے کے سامنے کی دیوار۔

پردے کی دیوار

گھونگر: مذکر: بالوں کا قدرتی پیچ و خم

— والے / یا لے بال: سر کے پیچ در پیچ ٹرے ہونے والے۔

گھونگھی: موٹھ (۱۱) مٹی کا پکایا ہوا گھونگھے کی شکل کا ٹکڑا جس سے کھیریل

کی رخنہ بندی کرتے ہیں (۲) ایک کیڑا۔

گھونٹیاں / گھنٹیاں: موٹھ، ایک قسم کی تزکاری، اروی۔

گھی: مذکر (۱۱) روشن زرد، تاپا ہوا مکھن (۲) نرم، ملائم۔

— داغ کرنا: گھی کر کر کرنا

گھی، کے چراغ جلاتا، دھو، کوئی مرد پوری ہونے پر خوب خوشیاں

منانا۔

گھیا: موٹھ، دم، کڈو، ایک قسم کی تزکاری کا نام

— تری: موٹھ، ایک قسم کی نرم و ملائم تری۔

گھینپنا: خوب ملانا، متھنا، آمیز کرنا

گھینٹلا: گھے۔ ت۔ لا۔ مذکر، بلی اور مڑی ہوئی ٹوک کا جوتا۔

گھیرا: مذکر (۱) حلقہ دائرہ، احاطہ (۲) کور، کنارہ، گلہ (۳)

نرخہ، محاصرہ (۴) پلنگ (۵) اکنٹیا، جنجال،

دشواری، دقت۔

گھیر: مذکر (۱) گھیرا، چکر، گھراؤ (۲) حلقہ، دائرہ، احاطہ،

دور، دوردار، کشادہ، ڈھیلا ڈھالا۔

— گھار کر: چاروں طرف سے اکٹھا کر کے، محصور و محبوس کر کے۔

— لینا / گھیرنا: (۱) راہ کرنا (۲) چار دیواری بنانا، باڑ لگانا۔

(۳) احاطہ کرنا، محاصرہ کرنا (۴) چکرنا، چکرنا (۵) محبوس کرنا، پیچھے پڑنا۔

گھینگا / گھینگھا: مذکر، گھے کا ایک مرض جس میں گلا پھول جاتا ہے۔

گھیورہ: مذکر، ایک قسم کی مٹھائی کا نام جو میدے اور گھی کی

آمیزش سے تل کر بنائی جاتی ہے۔

گھومنا گھامنا، مذکر، پھرتا پھرتا، سیر و تفریح کرنا۔

گھوم گھام: موٹھ، دم، آوارہ گردی

گھومنا: (۱) پھرتا، چکر لگانا، سیر کرنا (۲) چکر آنا (۳) مارا مارا پھرتا،

(۴) واپس پلٹنا۔

— گھامنا: چکر لگانا، دورہ کرنا

گھومنی: موٹھ، دیکھو گھمنی

گھومینا: (۱) بڑی طرح سینا (۲) گھسیڑنا

گھونٹ: مذکر، (۱) جھکی، جڑو، پانی یا کسی رقیق چیز کی وہ مقدار

جو ایک دفعہ حلق سے اترے (۲) جھکاؤ کا دم کش۔

— گھونٹ: تھوڑا تھوڑا پینا، جڑو جڑو پینا۔

— گھونٹ کر مارنا: (۱) تکلیف دے دے کر مارنا، جلا جلا کر

مارنا (۲) اندرونی مار دینا۔

— لگانا: جتنے کا دم لگانا۔

گھونٹنا: (۱) گلا دانا، سانس روکنا (۲) دھونگ کرنا، دھونگ کرنا، بند کرنا،

(۳) حلق سے نیچے اترانا، بھگانا۔

گھونٹنا: (۱) رگڑنا، مل کرنا، گھونٹنا، (۲) کسی چیز سے رگڑ کے کاغذ یا تختی

کو پسینا کرنا (۳) بار بار رشنا۔

گھونسا: مذکر (۱) کٹنا (۲) کٹنا (۳) اچانک صدمہ۔

گھونسم گھاسا: مذکر، بگڑے بازی، مار پیٹ۔

گھونسل: مذکر (۱) ہرندوں کا گھر، آشیانہ (۲) اکنٹیا

چھوٹا گھر، جھوپڑا

— نوچنا: آشیانہ کو دیران کرنا۔

گھونٹا / گھونٹھا: مذکر (۱) ایک دریائی لیڑا (۲) سکہ فرہو (۳)

کان کا وہ حصہ جو گھونگھے کے مشابہ ہوتا ہے۔

گھونگھٹ: مذکر (۱) نقاب، پردہ، چہرے کو ڈھکنے والا چل

چادر کا کنارہ جسے پردہ دار عورتیں اپنے چہرے پر ڈال لیتی

ہیں (۲) روک، حجاب (۳) دروازے کی اندرونی

دیوار (۴) اکنٹیا، شرم، لاج، حیا، لحاظ۔

— اٹھنا: (۱) موٹھن کا بے حجاب ہونا (۲) گھونگھٹ بٹا دینا۔

— کاڑھنا: دھو، گھونگھٹ کھانا، پردہ کرنا

— کرنا: (۱) پردہ کرنا، دوپٹے سے منہ چھپانا (۲) گھونٹے

لاؤسے لداؤسے لالنے والا ساتھ دے۔ رشل، انتہائی کا بن
آؤی کی صفت

لاؤ پھانڈ کے: اسباب ساتھ لیے جوتے، لڈے بھدے ہوئے۔

— نا، پوجھ رکھنا، بار کرنا، سر پوجھ رکھنا
لاؤی: مونٹ؛ بھلا بوجھ؛ بوجھ (۲) دھو بیوں کی گھسری۔

لاؤ: مذکر، لاؤ پیار، ناز، بخت

— پیار، مذکر، پیار، محبت، اخلاص۔

لاؤلا: مذکر، (۱) پیارا، جولاہا، ناز پروردہ (۲) مردوں اور عورتوں کے لقب

تجز (جیسے لاؤ لے مرزا، لاؤ لیگم)

لاؤو: مونٹ (۱) لاؤلی، پیاری (۲) دلکس، عروس (۳) نام خفیہ (۴) پیار

سے رکھیں کو (۵) عزیز، پیاری۔

لاؤری، (LORRY) (انگ) مونٹ گاڑی، نقل و حمل کے لیے استعمال کی جانے

والی گاڑی، بس BUS

لاؤرھیا: (۱) خراب چیزوں کی تعریف کر کے بکوانے والا طلال (۲) سکار، فریبی،

دھوکے باز۔

لاؤزم (رغ)؛ (۱) چٹا ہوا، وابستہ، ملحق، جو بھانڈ ہو سکے (۲) ضروری واجب،

فرض، سزاوار (۳) صرف و نحو میں وہ فعل جو صرف حاصل ہی پر ختم

ہو جائے اور مفعول کو نہ پائے

— آنا: ضروری ہونا، یقینی نتیجہ کھانا، بطور فرض ہونا۔

— ملزم: (۱) ایک دوسرے سے وابستہ، ایک دوسرے سے متعلق (۲)

واجب ضروری،

لاؤزمہ: مذکر، مجوز، سہل، سامان، ضروری اسباب۔

لاؤرتی: (رغ) (رغ) لازم) ضروری، لاؤی، واجب

لاؤسا: مذکر، (۱) درختوں سے نکالا جانے والا ایک سدر مانہ (۲) کناٹیا، چسکا،

عادت، جھگڑا (۳) وہ صاحب دہشتے جس سے چڑیاں پکڑتے ہیں۔

— لگا رہنا: کناٹیا، اشتیاق رہنا

— ہو جانا، کناٹیا، چپک جانا

لاؤسے پر لگانا: کناٹیا (۱) مانوس کرنا، لانا (۲) گروہ بنانا، پار بنانا،

(۲) حال میں پھنسا لینا۔ فریضہ کر لینا

لاؤسنگی: (رغ) (رغ) بے تار کی برقی رو جس سے ریڈیو وغیرہ چلتے ہیں۔

WIRELESS

لاؤت (رغ) مذکر، عرب کے عبد جاہلیت کا ایک بُت

لاؤت: مونٹ، ٹھوکر

— مارنا: (۱) لاؤت مارنا، ٹھوکر مارنا، ٹھکانا، (۲) ترک کر دینا، دست

بند کر دینا، کسی چیز سے بے انتہا بے ناز ہونا۔

— منجی: مونٹ، لاؤت ٹھونے کی رطبان، ماسپیٹ۔

لاؤتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا: رشل، کینہہ شخص جوتے

کھائے بغیر بیدھا نہیں ہوتا۔

لاؤتیں کھانا، بے عزتی سے پٹنا۔

لاؤٹ: (۱) انگریزی لاؤٹ (۲) مذکر، حاکم، اعلا، گورنر (۳) مونٹ؛ (۴) لاؤٹ

سے پگڑا ہوا، پتھر یا اینٹوں سے بنا ہوا بہت اونچا ستون (۴) مونٹ

(انگریزی LOT سے ماخوذ) ڈھیر نیلام کی بولی بیلیم کیا جانے والا مال۔

— پادری: مذکر، سب سے بڑا پادری

— (صاحب) (۱) مذکر، LORD (انگ) گورنر صوبے کا حاکم، عالم، ملا،

ملک (۲) کناٹیا، میش پسند، آرام پسند آؤی۔

لاؤٹری: LOTTERY (انگ) مونٹ؛ قرعہ اندازی، ناموں کی چٹھیاں

ڈال کر نام نکالنا، جوے کی ایک قسم۔

لاؤٹھ: مونٹ (۱) ستون کھبا، لاؤٹ (۲) کو بھوک موٹی اور لی لکڑی (۳) اوسل

دستہ، موگڑی (۴) ہجرت کی بچ کی کھوٹی۔

لاؤٹھی: عصا، جریب، ہاتھ کی لکڑی

— چارج، مذکر، غیر قانونی یا بے قابو ہجوم کو پولیس کا لاؤٹھی مذکر

منتشر کرنا۔

لاؤج: مونٹ (۱) شرمیلیا، لحاظ (۲) عورت، آبرو

لاؤج: LODGE (انگ) مذکر، مکان، قیام گاہ

لاؤجڑو، (۱) مذکر، نیلے رنگ کا ایک قسمی پتھر

لاؤجروی (رغ) (۱) لاجورد کے رنگ کا نیلا (۲) مذکر، نیلا رنگ

لاؤجوتی: مونٹ (۱) چھٹی موٹی کا روٹ (۲) خسرو والی، غیرت مند

(۳) پاکلاسی، باصعیت۔

لاؤجی (رغ) (۱) بلا ہوا (۲) بیوسہ، وابستہ (۳) کسی چیز کے نتیجے میں لگا ہوا۔

لاؤجھ، مونٹ؛ چھٹے لگا ہوا، بیوسہ، وابستہ، ملحق

لاؤ، مونٹ (۱) لادنا کا امر (۲) بار، بوجھ

— چٹکانا، کوچ کرنا، ہور یا بستر سمیٹ کر خست کرنا۔

لاش (ترکی، موت، ۱۱) مُوہ، مُردہ جسم (۲) جنازہ
لاشہ (فت، مذکر، لاش، نش)۔

لاشعاع: (دع، موت، ایکس رے) X-RAY

لاطینی: موت، (انگ) LATIN قدیم روما کی زبان، رومی زبان،
قدیم رسا سے مشتق۔

لاغر (دع، ڈبلا، پتلا، کمزور)۔

لاغری: (دع، موت، ڈبل، مکروبی، ناقوانی

لافت (دع، مذکر، شہنی، بڑائی، ٹونگ، خود ستائی، گھمنڈ۔

زَن (دع، شہنی باز، ڈینگلیا)۔

زنی کرنا: شہنی بھارنا، ڈینگ مارنا، اترانا۔

وگراف: (دع، مذکر، شہنی، فعلی، بیہوش سرائی)۔

لاک آپ LOCK UP (انگ) مذکر، جلاوت، وہ کوٹھی، ملازم کو
عارضی طور پر بند رکھا جاتا ہے۔

لاکٹ: LOCKET (انگ) مذکر، گمے کی زنجیر جس میں سینہ پر ایک
تعمیر یا تصویر یا پھول بنا ہوتا ہے۔

لاکھ: مذکر، (۱) سو ہزار (۲) بہت، بہتیرے، بہت سے (۳) موت، ایک

قسم کا گوند (۴) کتنا ہی، ہر چند، بہتیرا۔

بات کی ایک بات: مختصر گراہم بات

بسوے: دکناٹا، یقیناً، ضرور، شرطیہ۔

دو لاکھ میں ایک: چٹا ہوا، منتحب، بگناہ بخور۔

کا گھر خاک کر دینا: تمام دولت اور عزت برباد کر دینا۔

لاکھ کو خاک سمجھنا: ایسا نادر اور دیانت دار ہونا۔

کوئی کہے: کوئی کچھ بھی کہے۔

لاکھ: (۱) بے حد (۲) ہر چند

لاکھوں میں: (۱) ہزاروں میں، سیکڑوں میں، بہتیروں کے سامنے (۲)
ضرور، یقیناً، بے شک۔

لاکھا: مذکر (۱) بان کا سُرخ رنگ جسے عورتیں پہلے باب اسٹک کی جگہ استعمال
کرتی تھیں (۲) ایک قسم کا جھلی مُرغ

لاکھوں: لاکھ کی جمع، ہزاروں بہت

پر بھاری ہونا (۱) بے مثال اور بے نظیر ہونا (۲) انتہائی
بہاد ہونا۔

گھڑے پانی پڑنا: دکناٹا، نہایت شرمندہ ہونا۔

لاکھی: مذکر، (۱) لاکھ کے رنگ کا سرخ، گھوڑے کا ایک رنگ۔
(۲) لاکھ کا بنا ہوا۔

لاگ: موت، (۱) مدد، امداد (۲) لگاؤ، تعلق، علاوہ نسبت، وابستگی

(۳) انس، محبت، لگن (۴) مزاج کا شوق، رغبت (۵) عداوت،

موتمنی، بیروسازی (۶) کرتب، شعبدہ، طلسم (۷) جادو، ٹونا، منتر

(۸) توجہ (۹) چٹک، شکر رنجی۔

باندھنا: دشمنی بڑھانا، بھرا باندھنا۔

پیر: مقابلے پر، چوڑ پیر۔

پنید کرنا: (۱) تعلق پیدا کرنا (۲) عداوت پیدا کرنا۔

لاگ ڈانٹ: ۱. موت، دکناٹا، پیر، ان بن، عداوت۔

سے: مدد سے، سہارے سے، لگاؤ سے

لپیٹ: موت، (۱) طرف داری، حمایت، بچ (۲) دغا، کر،

فریب، دھوکا، چھل پٹا۔

لگنا: (۱) لگاؤ ہونا، محبت ہونا (۲) شوق ہونا، اُمتگ ہونا۔

لاگت: ۱. موت، صرف، خرچ، وہ رقم جو کسی چیز کی دُستی اور تیاری میں خرچ ہو۔

لاگو: (۱) سامتی، پیار (۲) دشمن جو کسی کے دل پہ ہر (۳) مطلبی (۴) آرزو مند،

مُشتاق (۵) دلپے، پیچھے پڑنے والا (۶) وہ جانور جس کو خون کا چسکا

پڑ گیا ہو۔

کرنا: لگانا، نافذ کرنا۔

لال: مذکر، (۱) سُرخ رنگ (۲) ایک قسم کا بیش قیمت پتھر، رسل (۳) لاڈلا

بٹیا، پیارا (۴) ایک چھوٹا خوش آواز بر بندہ (۵) موت (۶) دھما وال

(۷) دکناٹا، دکناٹا، غصے سے بھرا ہوا، غصیناک

(۸) لٹی، موت، ایک قسم کی لال گوندے والی اٹلی۔

انگارا: مذکر، (۱) سُرخ دکناٹا، انگارا (۲) غصے میں بھرا ہوا۔

بگھکڑ: پرلے درجے کا ہوتون، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا (۱) صحت۔

بھبھوکا: (۱) سُرخ سفید شدہ تازہ، نہایت سُرخ (۲) غصے میں

سُرخ چہرہ

لال بیگ: مذکر، بھگیوں وضع ہو، اسرار (۲) ایک بھرا کپڑا۔

بیگی / بیگیا: مذکر، خاکوب، بھگی

پانی: مذکر، (۱) دکناٹا، شراب (۲) حیض کا خون۔

— پری، موتھ، (۱۱) اندھساکے تھلنے کی ایک پری (۲) رکنائیٹا، شڑب۔
 — پٹکا، مڈر: ایک قسم کا کبوتر۔
 — پیلا ہونا، نہایت خفا ہونا، غصے پھرنا
 — سوداگر، مڈر: چھوٹی پونجی والا ہوباری
 — سی جان: چھوٹی سی جان، پیاری جان
 — کتاب: موتھ، بندوبست کی کتاب، پٹوری کی کتاب
 — کڑتی: موتھ، انگریزی فوجوں کی سرفروشی،
 — کروینا/کرنا: (۱) مال مال کر دینا، نہال کر دینا (۲) لوہے کو
 آگ میں ڈال کر سوج کرنا۔
 — گودڑ میں نہیں چھپتا: (دش) اچھی چیز چھپاے نہیں چھپتی
 لالا: (دش) (۱) غلام، غلام (۲) صفت، خوشحال، روشن (۳) (۵) سا ہونکار، بنیا،
 مہاجن (۳) (۴) کایتھوں کا خطاب (۵) عزیز، پیلا (۶) خسر،
 شسر (۷) (۸) والد کا خطاب، ابا، باوا۔
 لال میں: موتھ، شیشے کی قدیل، ایک قسم کا چینی والا چراغ
 LANTERN
 لالچ: مڈر، (۱) بوجھ، حرص، طمع (۲) ترغیب، پکلاوا
 — بڑی بلا ہے: (دش) حرص سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں۔
 لالچی: بوجھ، حرص، طامع۔
 لالگری: موتھ، (۱) جھوٹا لال باقت، (۲) تڑپا
 لالسا (لال): سا: (۱) موتھ، لالچ، خواہش
 لالسا: (۱) (لالسا) (۲) موتھ، سرفخی، شغف۔
 لالہ: (دش) مڈر، ایک قسم کا سرخ پھول،
 لالہ سُخ / رخسار / رُو / عذار: سُرخ چہرے والا مشرق
 دلیر، دلربا۔
 لالہ زار (دش) مڈر، رکھنا یا ہار، گلزار
 — فام / گول: (دش) لال، سُرخ، سرخ رنگ کا۔
 — بھائی: (۱) شریف آدمی، بھلا، ناس (۲) (مشرق) کفایت شعار
 (۳) احتیاط، کمزور، بڑا
 لالی: موتھ، (۱) سُرخ، (۲) لپ، لپ (۳) آہو، موتھ، سرفروشی
 (۴) پٹری، عزیز
 لالے پڑنا (۱) بے انتہا آرزو ہونا، ارمان ہونا (۲) نہایت نا اُمید ہونا

۳۱، مصیبت میں پھنسا (۳) دشوار ہونا، مشکل ہونا، رکاوٹیں آنا۔
 لام: مڈر (۱) فوج یا پیش کا مجموعہ، بریگیڈ، فوج کا دستہ (۲)
 جنگ کا نام (۳) (دش) مڈر، ایک حرف کا نام (دش)
 لام باندھنا: چاروں طرف سے شکر چھین کرنا، لڑائی کا سامن کرنا۔
 — کاف: (۱) ٹینگ، شیخی، بکوس، مکانی مقدار (۲) تقابلی، چرب زبانی۔
 — مڈی: موتھ، (۱) جگ کی تیاری (۲) فوجوں کی بھرتی۔
 — پرجانا: لڑائی پر جانا، محاذ پر جانا۔
 لانا: مڈر، تبت اور چین وغیرہ کے بھدھ مذہب کا پیشوا
 لاکر: (دش) جس کا کوئی مرکز نہ ہو، مرکز سے ہٹا ہوا۔
 لامس: (دش) چھوٹے والا
 لامسہ: (دش) چھوٹے یا س کرنے والی قوت
 لامش: (دش) مڈر، روشن
 لانا: (۱) لے آنا (۲) حاضر کرنا، پیش کرنا، سامنے کرنا (۳) اٹھانا، بہا کرنا
 (۴) دکھانا (۵) پیدا کرنا (۶) خریدنا
 لانا: مڈر، لمبا ہول، درازت
 لان ٹینس: (انگ) (انگ) مڈر، (۱) ایک قسم کا سفلی
 ٹنک کا کھیل جو میدان میں کھیند اور بٹے سے کھیلا جاتا ہے (۲) گھاس
 میں کھیل جانے والی ٹینس۔
 لانچ: (انگ) (انگ) موتھ، (۱) سمندری کشتی (۲) جنگی جہاز
 کی بڑی کشتی (۳) بڑی مسافر کشتی۔
 لانگ: موتھ، (۱) کہتے ہوتے آناج کا ڈھیر، کھلیان (۲) چکر، بھوسا (۳)
 نیل کی شاخیں۔ شاخیں اور پتیاں جن سے نیل کا رنگ بنایا جاتا ہے۔
 لانگ: (دش) موتھ، دھوئی کا وہ حصہ جو آگے نکلا رہتا ہے اور جسے
 پیچھے کی طرف گھسی لیتے ہیں
 لانگ جپ: (انگ) (انگ) موتھ، لمبی چھلانگ،
 لمبی جست جو کھیل کر کے مقابلے میں کی جاتے۔
 لانگنا / لانگھنا: (دش) (۱) پھانڈا، چھلانگ مارنا، کودنا (۲) پار کرنا، اوپر
 سے گزر جانا (۳) گھوڑے پر پہلے پہل سواری کرنا۔
 لاوا: مڈر، (۱) جیسے ہوتے آناج کی کھیل، کھنٹی ہوئی پھنڈکی (۲) کوہ آتش
 فشاں سے نکلنے والی لکھ، گندھک وغیرہ کا ملا جلا مادہ۔
 لاؤنی: (دش) ایک قسم کا گیت (۲) فصل کاٹنا (۳) فصل کاٹنے کی مزدوری یا

ل-ب

لب: (۱) ذرت، (۲) مڈر، (۳) ہونٹ، (۴) کفارہ، (۵) طرف بجانب، (۶) ساحل، (۷) ماشیہ
(۵) منڈیر، (۶) ہونٹوں کے اوپر کے بال، مونچھیں
— بام: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) مڈر، بالا غلے کا کنارہ،
جھت کا آخری سرا۔

لب بربٹ: (۱) ہونٹ سے ہونٹ ملائے ہوئے۔
لب بند ہونا: (۱) مٹھاس کی شدت سے ہونٹوں کا چپک جانا، (۲) منہ بند
ہونا، خاموش ہونا،

— پیر آنا، کچھ کہا جانا، کہنا
— پیر لا، کہنا، تذکرہ کرنا
— پیر چھڑگانا: کہنا، خاموش ہونا، مسکوت اختیار کرنا۔
— جو: (۱) مڈر، (۲) اضافت کے ساتھ، مذی یا نہر کا کنارہ۔

— دریا: (۱) مڈر، دریا کا کنارہ، ساحل
— گور پہنچنا / گور ہونا: مرنے کے قریب ہونا۔

لب لگانا: تنگ لگانا، تعاب دہن لگانا
— ولجہ: مڈر، لفظ، گفتگو کا لہزہ، بولنے کا انداز، الفاظ ادا کرنے کے انداز۔
لب ہلانا: بچھ کہنا، شکوہ کرنا، گلہ کرنا، مڈر کرنا
— بستگی: (۱) ہونٹوں کا بند ہونا کسی بیوی یا جبر یا
مٹھاس سے)

لب (۱) عقل، (۲) گود، (۳) خلاصہ، ست مسز
— لباب: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) مڈر، خلاصہ کا اصل، پتھر
لباؤہ: (۱) مڈر، (۲) برساتی پتھر، (۳) روٹی اور چغیر، (۴) فضل (۳)
(کہنا، نیشا، لباس۔

لباس: (۱) مڈر، (۲) پوشاک، پوشش، جامہ، کپڑے (۲)
لبڈ شکل، بھیس

لبا لب: (۱) اوپر تک بھرا ہوا۔ لہو، پتہ
لبان / لوبان: (۱) مڈر، ایک قسم کا خوشبودار گوند
لبدبی: (۱) موت، (۲) گلدی، (۳) ڈور پر بٹھانے کے لیے کچے ہوئے ہادوں میں
شیشہ وغیرہ ملا کر بنایا ہوا کاٹھا ماوہ۔

را جانے والا غلہ، (۳) خراج، مالگداری، محصول

لا: (۱) موت، (۲) انجیل کا بڑا اور کمزور پتا، (۳) ہر لگانے کی لاکھ
لا جوت: (۱) مڈر، (۲) تصوف کی اصطلاح، سلوک کا وہ مقام جہاں فن
فی اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے

لاہور: مڈر، پاکستان کا ایک مشہور شہر
لاہوری نمک: مڈر، ایک قسم کا مشہور نمک۔
لاہوی: (۱) موت، (۲) ایک قسم کا پورا (۳) ایک قسم کی مرسوں (۴) مڈر، ایک
قسم کا ریشمی کپڑا۔ سیاہی اہل سرخ رنگ
لائبریرین: LIBRARIAN (انگ) مڈر، محافظ کتب خانہ۔
ناظم کتب خانہ

لاؤٹنگ: (۱) فوجی بیٹھ جاؤ، (۲) لشکر اور اس کے پہلے، ہجوم۔

لائی: (۱) نصل کا مشا، (۲) ٹھوڑے جاول، جنگلی چاول، (۳) بٹنا ہوا تاج۔
لائے: (۱) موت، (۲) شراب وغیرہ کی کھٹ (۳) ایک قسم کا ریشمی کپڑا
(۴) بٹنے ہوئے بننے جوار وغیرہ کے دانے۔

لائبریری: LIBRARY (انگ) کتب خانہ، کتاب گھر
لائٹ: LIGHT (انگ) مزین، (۱) روشنی، نور، چمک، اُجالا
(۲) ہلکا، صبک (۳) آگ۔

لائٹر: LIGHTER (انگ) پٹروں سے گریٹ جلانے کی چوٹی سی مشین
لائٹ ہاؤس: LIGHT HOUSE (انگ) مڈر، جہازوں کی رہنمائی
کرنے والے مینار۔

لائسنس: LICENCE (انگ) مڈر، اجازت نامہ، پرواگی، اختیار
لائف انشورنس: LIFE INSURANCE (انگ) مڈر، زندگی کا بیمہ
لائف بوٹ: (انگ) موت، ڈوبنے والے جہاز کے مسافروں کی جان
بچانے والی کشتی

لائق: (۱) قابل، (۲) موزوں، (۳) زیریا، مناسب (۴) ہنرمند، ہوشیار
— فائق: بڑا لائق، نیت میں فوقیت رکھنے والا
لائن: LINE (انگ) موت، (۱) لکیر، خط، سطر، (۲) وضع، طرز، انداز
(۳) ریل کی لوہے کی سڑک۔

لائیننگ: (۱) جھانڈ ہونے والا، غیر تقسیم
لائلی ال-آلی: (۱) مڈر، جمع لاوا کی سیپ میں تنہا پیدا
ہونے والا موتی۔

پاٹ کر: باندھ کر، بیکر کے

لینا: (۱) نہ کر لینا (۲) اچھا لینا (۳) شامل کر لینا۔

پسینا: ذکر (۱) (۱) پینے کا کپڑا (۲) چرمی، بیلن جس پر کپڑے
مجھے واسے کپڑا پینتے ہیں۔

پیشنا: (۱) نہ کرنا، ہمیشنا (۲) چھاننا، شامل کرنا، گھیرنا (۳) اچھا کرنا، بننا
کرنا، گرفتار کرنا، موہ لینا (۴) بچھید کرنا (۵) الزام میں شامل کرنا،
الزام دینا۔

ل-ت

لت: (۱) موتی، (۲) بڑی عادت (۳) خور، خصلت، عادت، لہکا
کرنا، ہونکے ساتھ (۴) صفت، ملا، چلا

پرست: (۱) بھرا ہوا، آلودہ، لختا ہوا، بھینکا ہوا (۲) ایسا بھر چڑھنے کے
پر پڑنا: بڑی عادت پڑنا

لٹا: (۱) دف، ذکر، (۲) گورڈ (۳) چیتھڑا، حکم کپڑا۔

لٹا پٹا: (۱) کزور، ڈبلا پٹلا آدمی

لٹی / لٹیا: عادی

لٹی: موتی، (۱) لٹو کی ڈوری (۲) پٹو، دستار

لٹتے لینا: (۱) دھیمان اڑانا (۲) کھنا پینا اٹھے ہاتھوں لینا، لٹانا۔

لٹاڑ: موتی، (۱) ڈانٹ، ڈپٹ، ملامت، سزائش (۲) دھڑ دھوپ
(۳) محنت (۴) دباؤ

لٹرا: ذکر، ادھر کی ادھر لگانے والا، چھل خور، اوجھا۔

لٹھڑا ہونا: آلودہ ہونا۔

لٹھڑنا: ملنا، آمیز ہونا، ملوث ہونا، آلودہ ہونا

لٹھڑتا: (۱) ملانا، ناہونہ کرنا، سلنا (۲) موٹا موٹا لپٹ لگانا

لٹ: موتی، (۱) جبا، بالوں کی لٹھی (۲) لٹھی، ڈوری (۳) دھوئیں کا سلسلہ

لٹا پٹا: لوثا ہونا۔

لٹنا: (۱) پھیلاتا، پھارتا، فرش یا پار پائی پر ڈالنا (۲) بچوں کو سلا دینا،

(۳) مڑے کو قبر میں رکھنا (۴) پچھاڑنا، چت کرنا

لٹنا: (۱) اڑانا، مدھیہ بر باد کرنا، مال و سبب ضائع کرنا، غارت کرنا،

بر باد کرنا (۲) تڑپانا، بے قرار کرنا (۳) بانٹ دینا۔

لٹاؤ: فضول خرچ، اڑاؤ کھاؤ۔

لٹریچر: LITERATURE (لنگ) ذکر، ادب، کسی خاص موضوع

کی کتابیں، مطبوعات سمیچ ہونی چہڑ۔

لٹس، موٹ، (۱) ٹوٹ مار، ٹوٹ کھٹوٹ (۲) ٹوٹ، غنیمت،
چھینا چھپٹی۔

لٹک: موٹ، (۱) لٹکاؤ (۲) جھال (۳) ناز و داد، آن بان، زیبائش

(۴) بائگین کا اندازہ (۵) سایہ، بھت پریت وغیرہ کا اثر (۶)

عشق، محبت (۷) بے پردائی۔

لٹکا: ذکر، (۱) موٹی، سحر، جادو، منتر، ٹوٹا، گٹھا، تعویذ (۲) کرشمہ

کرتب، عیاری، چالاک (۳) چٹکلا (۴) طور طریقہ، تدبیر،

(۵) شغل، رول، مہلاؤ کو فریب، چلتا ہوا نسخہ

نا: (۱) آویزاں کرنا (۲) چھانسی دینا (۳) اچھا کرنا (۴) آمید میں رکھنا

انتظار میں رکھنا، معلق کرنا۔

لٹکن: ذکر، (۱) ناک کا ایک زبور (۲) گھڑی کا پنڈولم

لٹکنا: (۱) آویزاں ہونا، معلق ہونا (۲) لٹکنا، اٹکنا (۳) منتظر رہنا،

آمیدوار رہنا۔

لٹکا: ڈبلا ہونا، کزور ہونا

لٹنا / لٹ جانا: (۱) تباہ ہونا، برباد ہوجانا، لوثا جانا، خراب ہونا،

(۲) نقصان اٹھانا (۳) گھر آجڑنا، ویران ہونا (۴) عصمت۔

دری ہونا۔

لٹو: ذکر، (۱) ایک قسم کا گول کھلونا (۲) سیدھ معلوم کرنے کا گولا،

(۳) لٹکنا پٹا، ذریعہ، عاشق

ہونا، عاشق ہونا، فریبت ہونا۔

لٹو: (۱) اچھا کرنا، تباہ کرنا (۲) نقصان کرنا، صرت کرنا۔

لٹورا: (۱) لٹک، ایک قسم کا کٹاری پرندہ

لٹوری: موتی، آجھ حصے بالوں کی چھوٹی لٹ۔

لٹھر: ذکر، موٹی لٹھی، سونٹا، لٹھی۔

لٹا: ذکر، لٹھیوں سے لٹنے والا، لٹھی باندھنے والا۔

لٹیا: موتی، ذریعہ لٹھی کا لٹھا، چھوٹا لٹھا۔

لٹیا ڈلونا: لٹکنا، توہین کرنا، آبرو کھونا، نقصان اٹھانا

ڈوب جانا: (۱) نقصان ہوجانا (۲) ذلیل ہوجانا۔

لیٹرا: مذکر، لوٹ مار کرنے والا، رازن، قزاق، ڈاکو، چور۔
لیٹھ بازی: موتھ، اٹھیلوں کی لڑائی۔

بندر: (۱) لالھی باندھنے والا (۲) کنڈیا، آبد
— مار دینا: کنڈیا، نہایت درست جواب دینا، گنواروں کی طرح
بات چیت کرنا۔

لٹھا: مذکر، (۱) شہر سپہ (۲) ایک قسم کا سفید پڑا جو موٹا ہے، لنگٹ
لٹھیا: موتھ، لالھی کی تصنیف چھوٹی لکڑی، چھڑی۔
لٹھت: (۱) لٹھ باز (۲) کنڈیا، مندی، ہٹی (۳) لالھی سے لڑنے میں مشاق

ل-ز

لچا: (۱) موتھ، (۲) لاج کی تصنیف، شرم، حیا، غیرت۔

لچا جت: روح، موتھ، عاجزی، منت، مسرت، خوشامد

لچا لو: مذکر، (۱) چھوٹی موٹی کلاوا، لالھی (۲) کنڈیا، شرمیلا، باحیا۔

لچا م: (۱) موتھ، لگام کا موتھ، باگ، عنان۔

لچا نا: شرمنا، شرمندہ ہونا، زناست۔

لچا ہا: صفت، مذکر، پیللا، لچکدار، ملائم، اس دار، نرم

لچہ: (۱) مذکر، بھندھار، پانی کی گہری جگہ

لچا: مذکر، (۱) اوباش، بدعاش (۲) شریک فساد، جھگڑالو
اچکا، ٹھک

— پین، مذکر، اوباشی، بدعاشی، شرارت، اچکا پین

لچا نا: (۱) جھکا نا، دمہ کزدن کرنا، مغلوب کرنا۔

لچر: صفت، (۱) لغو، ہل، بے ہودہ (۲) بے لگی بات

لچک: موتھ، (۱) جھکا نا (۲) نرمی، ملائمت، جھک جانا (۳) جھکا

ضرب، بچکولہ

لچکدار: وہ چیز جس میں لچک ہو۔

لچکا: مذکر، (۱) جھکا، بچکولہ، موج، لچک (۲) نزاکت سے محبوب کے

کی جنبش (۳) ایک قسم کا گونا، تارنقہ، ملا کا چڑا فینہ

لچکا نا: کسی نرم چیز کو ملانا، جھکانا

لچکنا: (۱) جھکانا، شرنا، بل کھانا، نرم بننے کا جھکانا، نزاکت سے بل کھانا

لچا پچا: مذکر، عاب وارساں، لگی ہوئی تکراری یا ساں جس میں نہ تو

بہت زیادہ شور با ہو اور نہ بالکل خشک۔

لچنا / لچ جانا: (۱) جھکانا، ٹیڑھا ہونا (۲) مغلوب ہو۔

لچھا: مذکر، (۱) سوس کی انٹی (۲) پاؤں کے ایک زیر کا نام (۳) جھکانا

(۴) لگی ہوئی ٹھنڈ (۵) کنڈیا، لچک، لچک اور مسلسل تقریر یا لغز

— باندھنا، کنڈیا، مسلسل پونا

لچھے دار باتیں: موتھ، مسلسل اور مزے دار باتیں، لچک، لچک باتیں۔

لچھن: مذکر، سری رام چندر جی کے چھوٹے بھائی کا نام جنہوں نے وفاداری

اور رفاقت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔

لچھی / لکشھی: (۱) موتھ، دولت کی دیوی۔

لچھن: مذکر، (۱) علامت، نشان، آثار (۲) ظہور، ڈھنگ، خصلت

(۳) اکروت، فعل، کردار (۴) حال، کیفیت، حالت (۵) چال چلن

وضع، چال و حال۔

لحاظہ: مذکر، (۱) خیال، دھیان، توجہ (۲) شرم، حیا (۳) پاسداری، رعایت،

مرقت، ملاحظہ (۴) کنڈیا، پرہیز (۵) غیرت، محبت۔

— کرنا: (۱) پاس کرنا، ادب کرنا (۲) شرم کرنا، خیال کرنا، پاسداری

کرنا، رعایت کرنا۔

لحاف: مذکر، (۱) ایک قسم کی بڑی رضائی جس میں کافی روئی ہو،

(۲) کیمیادی اصطلاح، وہ دوا جو کسی دھات کے اوپر رکھی جائے۔

لحڈ / لحد: موتھ، قبر، مزار، تربت، گور

لحظہ: (۱) مذکر، پل، لمحہ، دم بھر۔

— بہ لحظہ: دم بدم، ہر دم، ہر گھڑی

— بھر: پل بھر، دم بھر، تھوڑی دیر۔

لحیم: (۱) مذکر، گوشت

لحن: (۱) مذکر، (۲) آواز، (۳) سرلی آواز، سرلی خوش آوازی، خوش خوانی

— داؤدی: (۱) مذکر، (۲) حضرت داؤد کی آواز (۳) کنڈیا

— ملا دسجے کی سرلی آواز

لحیم شحیم: (۱) موٹا تازہ، فرہ اندام، توانا

لخت: (۱) مذکر، جگہ، پارہ، حصہ

— جگہ: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) جگہ کا حصہ (۳) کنڈیا

— عزیز پیاری اولاد۔

— جگہ کھانا: (۱) اضافت کے ساتھ، (۲) کنڈیا، بے انتہا تکلیف برداشت کرنا۔

دل: (اضافت کے ساتھ) (ن) دل کا ٹکڑا۔

نُتَاحُ: (ن) (۱) لاغر، پتلا (۲) موٹا؛ جھوک پیاس کی شدت میں خشک گلے سے نکلنے والی آواز۔

کرتا، پرندوں کا گرمی و پیاس کی شدت سے گلے سے آواز کھانا۔

نُتَحْنَه: (ن) ذکر، چند خوشبودار چیزوں کا مجموعہ جو تعویذ و دماغ کے لیے مریض کو سنگھاتے ہیں، خوشبودار چیزیں رکھنے کا برتن

لد اچھندا: سان ساٹھ لیے ہوئے

لَدَا: موت، اونچائی سے کسی چیز کے سلسلے کرنے کی آواز۔

لَدَانَا: بار کرانا، لدوانا، بوجھ دھروانا۔

لد جانا: (۱) بوجھ رکھا جانا، (۲) بھر جانا، (۳) چلا جانا، گزر جانا،

(۳) دم، انتقال کرنا۔

لَدْنَا: بار ہونا، بوجھ رکھا جانا، پر ہونا۔

لَدِيَّ: (۱) وہ چیز جو بغیر کوشش کے حاصل ہو، وہ علم جو سیکھے بغیر

حاصل ہو، (۲) خدا داد قابلیت و صلاحیت

لَدَهْرٌ: (۱) موٹا اور بد وضع کاغیر یا کپڑا وغیرہ (۲) بھاری، موٹا، بھٹا،

بدنام (۳) کند ذہن

لَدُو: ذکر، (۱) ایک قسم کی گول گول مٹھائی (۲) کناٹیا، فائدہ نفع نعمت

لَدَائِدٌ: (ن) ذکر، لذت دار چیزیں (جمع لذت کی)

لَذَّتْ: موت، (۱) مزہ، ذائقہ، سواد (۲) لطف، حظ

لَذِيذٌ: (ن) خوش ذائقہ، مزیدار (۲) (مرد) خوشگوار، پُر لطف

لَزٌّ: ایک قسم کا زمین تانینے گاڑ جو ڈیڑھ فیٹ ہوتا ہے۔

لَزٌّ: (ن) احمق، گنوار

لَزِيْنَا: ذکر، حماقت، گنوار پن۔

لَزْزَا: (ن) خوف سے کانپ جانا۔

لَزْزَالٌ: (ن) کانپنا ہوا، کانپنے والا۔

لَزْزَانَا: بلا دینا، لپکا دینا۔

لَزْزِيشٌ: (ن) موت، بقتلہ، کبھی، تھوڑا بہت

لَزْزْنَا: (۱) کانپنا، تھوڑا، (۲) ڈرانا، (۳) ہنا، جنبش کرنا

لَزْزَه: (ن) ذکر، (۱) خوف یا بیماری کے باعث کبھی، تھوڑا بہت

لَزْزِشٌ، لغزش، (۲) زلزلہ، بھونچال

لَزْنَا: (۱) کانپنا، (۲) بھونچال، (۳) کناٹیا، خوف کھانا

لَزٌّ: موت، (۱) لڑی، ہار (۲) رسی یا ڈور کا ٹیل (۳) قطار، صف

(۴) کناٹیا، وسیلہ، تعلق، سلسلہ، (۵) لڑنا کا امر

لَزِيْنَا: چرنا، خواہ مخواہ لڑنے لگنا، لڑنا

لَزِيْنَا: لڑنا، لڑنا، مقابل ہونا۔

لَزِيْنَا: (۱) لڑکر مرانا، (۲) کناٹیا، جھگڑا، تکرار کرنا

لَزِيْنَا: (۱) کناٹیا، سلسلہ پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، میل جول پیدا کرنا

لَزِيْنَا: (۱) لڑی، سلک (جیسے ڈڈ لڑا، مچ لڑا)

لَزَاكَ/لَزَاكَو: جھگڑا، خیر، فساد کرنے والا، مفید

لَزَاتَا: (۱) جنگ کرنا، کشتی کرنا، پھڑانا، (۲) کناٹیا، مقابلہ کرنا، (۳) فساد

کرنا، (۴) لڑنا

لَزَاوُ: (۱) لڑنے کے قابل (۲) لڑنے والا

لَزَاوِيٌّ: موت، (۱) جھگڑا، فساد، مار پیٹ (۲) کناٹیا، مقابلہ، ملامت،

نیر، آن بن، بگاڑ (۳) جنگ۔

لَزَاوِيٌّ: موت، ذنگ، فساد، مار پیٹ

لَزَاكُهُ: (۱) فساد کی چیز، قند پر داز، فسادی، (۲) جھگڑا ڈالنے والا۔

فساد کرنے والا، لڑائی کرنے والا۔

لَزَاكِرَاتَا: (۱) زبان میں بلی سی سکت ہونا (۲) ہلکانا، ڈنگکانا، لڑکھانا۔

لَزَاكَا: ذکر، (۱) چھوڑا، کوک (۲) بیبا، بچہ (۳) کناٹیا، ناخوش کار نکلان

بالا، (ن) ذکر، بال بچہ، اولاد

لَزَاوِيْنَا: کسی کے لڑنے کو اپنا بیٹا بنانا، سببی کرنا

لَزَاكَايٌ: (ن) موت، لڑکپن

لَزَاكِيْنٌ/لَزَاكِيْنَا: ذکر، (۱) بچپن، طفولیت (۲) کسی کا زمانہ

کی باتیں، نا بھمی کی باتیں۔

لَزَاكُوْرِيٌّ: (ن) موت، (۱) بچے والی عورت (۲) زچہ

لَزَاكِيٌّ: موت، (۱) چھوڑی، (۲) بیبا، (۳) کنواری، (۴) شیرازہ، (۵) ناگھنا، بچہ بکار

لَزَاكِيْنَا: لڑھکانا۔

لَزَاكِرَاتَا: (۱) ڈنگکانا، پاؤں کانپنا، قدم اکھڑنا، (۲) بہکانا، لڑا ہونا۔

نشہ سے بہکانا، (۳) نیت پگوانا، ایمان میں فوق آنا۔

لَزَاتَا: (۱) جھگڑنا، تکرار کرنا، لڑائی کرنا، (۲) بھونا، لڑنا، (۳) مقابلہ کرنا،

(۴) زور آڑائی کرنا، کشتی کرنا۔

لَزَاكِرَاتَا/لَزَاكِرَاتَا: آپس میں جھگڑنا، فساد کرنا، بحث و تکرار کرنا۔

تَرْجُمہ، مذکر، لفظ بلفظ ترجمہ

معنی، لغوی معنی، اصل معنی

تَفْصِیلات، موش، رسائی اصطلاح، الفاظ کاف، الفاظ کا ذریعہ

تَفْصِیلاً، مکر، (۱) یعنی باز (۲) کہا، شکر، اگنا، بدعاش، برہمن۔

لَف و لَشْرَع، مکر، (۱) بکری ہونے چیزوں کا سمیٹا (۲) دہلیاں کی اصطلاح

وہ صفت جس میں پہلچند چیزوں کا ذکر کریں اور پھر چند اور چیزیں بیان

کریں یہ پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہوں اور ہر ایک کی نسبت دوسرے

سے ہو۔

ل ق

لِق و دِق، چٹیل میدان، بجر، ویرانہ، سنان، بیابان، جہاں آدمی ہونہ درخت۔

لَقَا، مکر، ایک قسم کا کبوتر جس کی گردن دم سے لگی ہوتی ہے۔

لَقَا، (۱) موش، (۲) دیدار، مفاہات (۳) چہرہ، صورت، شکل

لَقِب، (۱) مکر، وصفی نام، وہ نام جو کسی خاص معنی یا ہم کے سبب پڑھ گیا ہو۔

لَقِيق، سارس، ایک گت

لَقِيقَة، (۱) مکر، (۲) سارس کی آواز، (۳) گرفت آواز۔

لَقْمَان، (۱) مکر، (۲) ایک مشہور حکیم جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔

(۳) (مجازاً) بہت بڑا دانا

کو حکمت سکھانا، (۱) عقل منہ کو تیریتانا یا نصیحت کرنا، (۲) لفظ کرنا۔

کے پاس روانہ ہونا، کنایاً، مرضی کا علاج ہونا

لَقْمَة، (۱) مکر، نوالہ، کور، کھانے کی وہ مقدار جو ایک دفعہ منہ میں ڈالیں۔

لَقْمَة، اجل ہونا، امر جان، مارا جانہ، قتل کیا جانہ۔

لَقْمَة، دینا، (۱) اٹھانے، (۲) بیکار ہونا، بات لاشنا، دوسرے کی باتیں بولنا۔

لَقْوَة، (۱) مکر، ایک مرض جس میں موٹیرا ہوتا ہے اور بھوک بھرتا ہے۔

ل ک

لک : مکر، (۱) چنگاری، شعلہ، (۲) روض، والیش، چلا۔

لکنا، (۱) چھپانا، پوشیدہ کرنا

لکٹی / لکھی : موش، (۱) ساکھریدنے کی لکھی، (۲) ادھ جلی لکھی (۳)

کنایاً (۱) طلاق کرنا دینے والی عورت، چغلموڑ

لکچر : LECTURE (۱) مکر، مکر، تقریر، درس، لفظ، سبق، خطبہ

لکچر : LECTURER (۱) مکر، بکھر دینے والا، زبانی تقریر کرنے والا

اُستادہ مقرر

لکڑ : (۱) دف، موت، لات، ٹھوکر، دولتی

لکڑ / لکڑا، مکر، شمشیر، کڑی، بڑی کڑی، کٹھا

لکڑا بٹھا / بھگٹا، بھیرے کی قسم کا ایک جنگلی جانور

لکڑ مارا، (۱) کڑیاں پیسنے پھانٹنے والا، (۲) کڑیاں پیچنے والا

لکڑی : موش، (۱) کاٹھ، چوب، (۲) چھڑی، لاشی، سوٹا، (۳) کنایاً،

سخت کڑا، (۴) (مجازاً) سہیلہ، مد، آسرا

لکنا، (۱) مکر، چھپنا، ہنسی ہونا، پوشیدہ ہونا۔

لکنت : موش، مہکلا، (۱) ترک ترک کر بولنے کی عادت

لکھ : (۱) دف، مکر، بھولا، پارچہ

لکیر : موش، ہوا خط لائن، نشان، (۲) سلسلہ، قطار، (۳) (مجازاً) پرانا دستور

پہیٹا، (۱) پرانی رسم پر چلنا، (۲) خسوں کرنا۔

کافقیر، (۱) پرانی رسم کا پابند، (۲) کسی شخص پر فریفتہ

لکھ : مکر، لکھ کا تلفظ، سو ہزار کی تعداد (۱۰۰۰۰۰)

لکھتی : لاکھوں کی حیثیت والا، دولتمند

لکٹ : (۱) سنی، فیاض، لاکھوں لٹنے والا، (۲) بہت بڑا فضول خرچہ

(کھٹو، لٹاؤ)

لکھی، (۱) لاکھ لپٹے کا تخیر یا ہوا، (۲) لکھتی

لکھا، (۱) لکھنا، (۲) لکھنا، (۳) لکھا، (۴) مکر، حکم، تصلو، قدر

لکھی : (۱) موش، (۲) موش، (۳) موش، (۴) دستاویز

لکھانا، (۱) لکھنا، (۲) لکھنا، (۳) لکھنا، (۴) لکھنا، (۵) لکھنا

لکھائی، موش، (۱) لکھنا، (۲) لکھنا، (۳) لکھنا، (۴) لکھنا

لکھت، (۱) موش، لکھا، لکھتہ، تحریر۔

لکھ رکھو، یاد رکھو، یقین۔

لکھنا، (۱) لکھنا، (۲) لکھنا، (۳) لکھنا، (۴) لکھنا، (۵) لکھنا

لکھوٹ، مکر، لوکاٹ، ایک پھل کا نام

لکھوٹا، مکر، لکھا، ایک قسم کی سرمی جو پہلے کی عورتیں ہونٹوں پر جاتی تھیں

لگوا، مذکر (م ۱۱) یاد، آشنا (م) مطلق، خود غرض۔
لگی، سونٹ (۱) خواہش، اندازہ، لگی

_____ بگھانا، (۱) خواہش پوری کرنا (۲) غصت، زکرتا (۳) بھوک، شام، کھانا
دینا (۴) طلب، شام۔

_____ بُری ہوتی ہے: عشق بُری بلبے۔

_____ تو روزی نہیں تو روزہ: (مض) فلسفی اور بے روزگاری کا ناز

_____ لپٹی: سونٹ، رکنا، پٹا (۱) فطاری، رعایت، خوشامانہ بات (۲)
بچی ہوئی (۳) گول بات

_____ میں اور لگانا: مصیبت میں کچھ اور اضافہ کرنا

_____ نہ رکھنا: (۱) دھوکہ کھنا (۲) کسزہ رکھنا (۳) بگاڑ لینا

_____ ہونا: (۱) دھن، جہاد، محبت، ہونا (۲) ناجائز تعلق ہونا، آشنا ہونا۔

_____ لگی: سونٹ (۱) پھل پزیرنے کی کھل، چھڑی، جسی (۲) بانس کی لمبی چھڑی (۳)
ناؤ شہر لے کر لایا بانس

_____ لگے: (دہلی، ۱) قریب، پاس (۲) ساتھ، ہمراہ

_____ دم بیٹے غم: چرس پینے والوں کا لغو

_____ لگے: (۱) پاس پاس، ساتھ ساتھ (۲) جلد جلد (۳) نذر و کو بھگانے کا

_____ ہاتھ / ہاتھوں: ساتھ کے ساتھ، اسی وقت، اسی سلسلے میں

ل ل

للا / للا: مذکر (۱) سری کرشن جی کا لقب (۲) بچہ (۳) پیارا، لالام، اکسن
(۵) بے وقوف (۶) بیٹا۔

_____ لبت: (۱) پسنیدہ، مرغوب (۲) خوبصورت، حسینہ (۳) شوخ، چنبیل،
چٹیلی (۴) ولولہ، عشق، جذبہ، جیت (۵) ہنڈول، رنگ کی تیسری رنگی

_____ لپچانا: (۱) لالچ کرنا (۲) متاثر کرنا، مائل ہونا، طبع کرنا (۳) لہانا، ترسانا۔

_____ لپچاٹ، سونٹ، لالچ، خواہش، آرزو

_____ لنگ: سونٹ (۱) اُٹنگ، شوق، ولولہ (۲) لوری چوٹ (۳) لالچ

(۴) خیال، دُھمن، نو (۵) لہرو، موج

_____ لنگار، سونٹ، نوا، سمت، آواز، ڈپٹ، دھکی چولنج۔

_____ نا: (۱) لہو، تار (۲) دھکانا، کھوکھلا کر لینا، غصت سے دریافت کرنا (۳)
مقابلہ کے لیے کسی کو بلند آواز سے طلب کرنا، چیلنج کرنا۔

لٹن: اٹھانے، پھلانگ، پیارا لٹکا

_____ لٹو: سونٹ (۱) زبان، مجید (۲) بولی، بولی، مال، زبان، گفتگو (۳) چٹوہا، پاٹ۔

_____ پتو: سونٹ، خوشام، کھنی چھڑی، آئین

_____ بلتہ: (۱) خدا کے لیے برائے خدا۔

_____ فی اللہ: خدا کی راہ میں، اللہ کے واسطے۔

ل م

_____ لم: لمبا کٹفت

_____ لمبو: مذکر، لمبا

_____ لمبو تر: مذکر (۱) لمبا، بہت لمبا، بدنامی کی حد تک لمبا (۲) لمبے چہرے والا

_____ لم: (۱) نہ نہیں

_____ لیرل: (۱) عیش

_____ لم: (۱) سونٹ (۲) اصلیت، بات کی تہ (۳) وجہ، سبب، باعث

(۴) بہتان، الزام، تہمت

_____ دھڑنا / رکھنا: تہمت، دھڑنا، الزام لگانا۔

_____ کو پہنچ جانا: بات کی تہ میں، ترجمان، اصلیت جان لینا۔

_____ لگانا: الزام لگانا، تصور و ارشاد دینا، عیب لگانا۔

_____ لمبا: مذکر (۱) دراز، طویل (۲) بلند، اونچا (۳) دراز، قد رکنا، بیوقوف

(۴) (دہلی) بہت زیادہ

_____ لمبا چوڑا: مذکر، فراخ کشادہ، کھلا ہوا، وسیع، طویل، عریض۔

_____ لمبان، دم، مذکر، سونٹ، درازی، لمبائی، طول، طوالت۔

_____ لمبائی: سونٹ، درازی، طوالت، طول۔

_____ چوڑائی: سونٹ (۱) طول و عرض (۲) قد و قامت، جسامت

_____ لمبر: مذکر (۱) ہنڈسہ، عدد (۲) دجر، مرتبہ، منصب (۳) باری، نوبت

(۴) علامت (۵) شمار گنتی، تعداد (شمار کا گننا ہوا)

_____ وار: گانو کا چودھری، مالگنداری، وصول کر کے سرکاری خزانے میں

داخل کرنے والا زمیندار، نمبر دار۔

_____ لمبری: دم، صبح، رنگ، نمبر (۱) ترتیب وار (۲) نشان لگا ہوا (۳) کت پٹا

مشہور و معروف (جیسے لمبری برعاش)

_____ لمبو: لمبا دراز، قدر۔

لوز مات / لوز مات : مذکر، ضروری چیزیں، سامان، اسباب
 لواطت : (۱) عورت، (۲) غلام، (۳) لڑکا، (۴) لڑکی، (۵) لڑکیوں میں جنسی تعلق
 لواطت : (۱) عورت، (۲) مذکر، چمکنے والے، چمکنے والے، روشن، جمع لاسعک
 لوانا : (۱) خرید کر دانا، (۲) ملنے دینا، (۳) اٹھانا، (۴) لوانا
 لوبان : (۱) عورت، (۲) مذکر، ایک خوشبودار گوند۔
 لوبیا : (۱) مذکر، ماش کی قسم کا سفید رنگ کا فصل
 لوبکھ : (۱) مذکر، حرم، لالچ، طبع، کجوسی
 لوبھی : (۱) عورت، (۲) حرم، (۳) لالچ، (۴) خواہش مند، (۵) کجوسی، (۶) بخیل
 لوپ : (۱) عورت، (۲) لالچ، (۳) پوشیدہ، (۴) نیت و نالود، (۵) معدوم
 لوپ : LOOP (۱) مذکر، عمدتوں میں امتناع حاصل کا ایک
 طریقہ، (۲) ہینڈ۔
 لوتھ : (۱) عورت، (۲) لالچ، (۳) مردہ جسم، (۴) بائج، (۵) مغلوب، (۶) مضروب۔
 لوتھرا : (۱) مذکر، (۲) گوشت کا بڑا ٹکڑا جس میں ہڈی نہ ہو، (۳) ٹنڈھ
 خون کا ٹکڑا۔
 لوٹ : (۱) عورت، (۲) روکنی، (۳) بازی، (۴) دھڑلہ، (۵) دھکا، (۶) اکوٹ، (۷) پہلو
 (۸) کنائیٹا، عاشق، فریفتہ۔
 لوٹ : (۱) عورت، (۲) فریفتہ، (۳) مضروب، (۴) لے کر
 لوٹ : (۱) عورت، (۲) چھینا، (۳) چھٹی، (۴) راہزنی، (۵) عادت گری، (۶) تاراجی، (۷) وہ
 مال جو لوٹ میں ملے، (۸) کنائیٹا، علم، (۹) زنجیر۔
 کھوٹ / مار : (۱) عورت، (۲) عادت گری، (۳) راہزنی، (۴) بدعنوانی
 لوٹا : (۱) مذکر، ایک قسم کا لونی دار برتن، بڑی تیا
 لوٹا / لوٹا دینا : (۱) واپس کرنا، (۲) پھیرنا، (۳) اور پر تلے کرنا۔
 لوٹ پوٹ : (۱) عورت، (۲) بدعادت کی اصطلاح، (۳) دورخی، (۴) چھپائی، (۵) (۶)
 اٹ پٹ۔
 لوٹم لاٹ : (۱) عورت، (۲) ایک دوسرے کو لوٹنا۔
 لوٹنا : (۱) لوٹ کھسوٹ کرنا، (۲) زبردستی چھیننا، (۳) کنائیٹا، اپنا عاشق کر لینا
 (۴) تباہ کرنا، (۵) برباد کرنا، (۶) حاصل کرنا، (۷) نطف حاصل کرنا، (۸) مال
 مارنا، (۹) ضمن کرنا۔
 لوٹن : (۱) مذکر، (۲) لوٹنے والا، (۳) تلابازیاں کھانے والا، (۴) کبوتر، (۵) عورت،
 ایک قسم کا تیل
 لوٹنا : (۱) (دہلی) (۲) واپس جانا، (۳) چھیننا، (۴) اٹنا، (۵) ہٹنا، (۶) مرغ جانا۔

ستر چھانے کے لیے باندھتے ہیں (۲) کشتی کا ایک دائرہ، (۳) بچے بازی
 کے ایک ہاتھ کا نام۔
 بند : (۱) مذکر، (۲) لنگوٹ باندھے رہنے والا، (۳) کنائیٹا، (۴) عورت سے
 بچا رہنے والا، (۵) اکھنڈ، لنگوٹ دار
 کاسٹیا : (۱) مذکر، (۲) زمانے سے بچا رہنے والا، (۳) عورت، (۴) پارسا، (۵) بچہ بچہ
 کھولنا، (۶) کنائیٹا، (۷) جماعت کرنا، (۸) زنا کرنا۔
 لنگوٹا : (۱) مذکر، لنگوٹ
 لنگوٹی : (۱) عورت، (۲) چھوٹا لنگوٹ
 باندھنا : (۱) کنائیٹا، (۲) بغلس ہوجانا
 میں بھاگ کھیلنا : (۱) کنائیٹا، (۲) شکرستی میں مزے اڑانا، (۳) بے فکرگی کی
 زندگی بسر کرنا
 لنگوٹیا : (۱) لنگوٹ بند، (۲) پڑنا، (۳) مذکر، ایک قسم کی پتنگ۔
 یار : (۱) مذکر، (۲) بچپن کا دوست، (۳) پڑنا، (۴) یار
 لنگوڑ : (۱) مذکر، ایک قسم کا کالے منہ اور لمبی دم والا بندر۔
 لنگلی : (۱) عورت، (۲) تہ بند، (۳) دھوتی، (۴) سر سے باندھنے کی دھاری دار یا
 رنگین پٹی۔
 لنگھن : (۱) مذکر، (۲) فاقہ، (۳) روزہ، (۴) ہار، (۵) ترنا، (۶) عبور کرنا۔
 لٹیا : (۱) مذکر، (۲) دکھن، (۳) دروازے اٹھانے اور کتوں کھودنے کا کام کرنے والا
 معاملہ کا ایک طبقہ

ل و

لٹ : (۱) عورت، (۲) بچی کا شعلہ، (۳) ہٹ، (۴) دھیان، (۵) آگ، (۶) امید
 (۷) شوق، (۸) محبت، (۹) کان کے نیچے کے ٹرخ کی نوک، (۱۰) کچھیا
 لٹکانا : (۱) کنائیٹا، (۲) سر رکھنا، (۳) دل لگانا، (۴) دھیان جانا
 لٹا : (۱) مذکر، (۲) بچہ کی قسم کا ایک چھوٹا پر نہ
 لٹا : (۱) عورت، (۲) مذکر، (۳) فوج کا نشان، (۴) ٹھکانہ
 لٹا : (۱) عورت، (۲) مذکر، (۳) متعلقین، (۴) صفت دار، (۵) بھائی بند، (۶) نوکر چاکر
 (۷) جمع لٹا کی۔
 لٹا : (۱) عورت، (۲) مذکر، (۳) جمع لٹا کی متعلقین، (۴) گھر کے لوگ، (۵) حیاں و اطفال
 لٹا : (۱) عورت، (۲) مذکر، (۳) جمع لٹا کی، (۴) ضروری چیزیں، (۵) ضروری سامان

لوٹنا: (۱) لوٹکنیاں کھانا زمین پر پڑ چکا کہ زمین بدلنا (۲) چلنا، بچے کا
 منگنا (۳) کنیٹا، بے قرار ہونا، تھلانا۔

لوٹنیاں کھانا: چلنا، تھلنا، بے قرار ہونا، پھلنا۔
 لوٹھا، منڈر: (۱) جوان، ہلکا، موٹا، تازہ، مستطاب (۲) زیادہ تر کندہ نازش
 کی جگہ مستقل ہے

لوٹ: (۱) منڈر، (۲) لاٹ، (۳) آمیزش (۴) آلودگی (۵) داغ، دھبہ، عیب۔
 لویج: منڈر، (۱) چمک (۲) نرمی، نرکت،

دارو: (۱) لاطم، (۲) تازک، (۳) لکھڑا (۴) لطیف

لویج: مرثیہ (۱) تھمتی (۲) گلنے کی تھمتی (۳) مزار کی تھمتی، کتبہ (انگ)
 TITLE PAGE: ٹائٹل پیج، سرصفحہ (۳) کنایت، لویج محفوظ۔

لویج: ترمیم، (۱) کنایت، (۲) تربیت۔
 لویج: علم، (۱) مرثیہ، (۲) تھمتی، (۳) کسی کارا زکندہ جو، فرضی طلسم کھولنے
 کی روایتی تھمتی

محفوظ: (۱) اضافت کے ساتھ محفوظ، (۲) تھمتی جس میں شروع سے
 آخر تک کے تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی
 ممکن نہیں (۳) علم الہی۔

نویس: (۱) منڈر، نقاش، مصور، کتابوں کے سرورق بنانے والا۔
 وقلم: منڈر (۱) تھمتی اور قلم (۲) خدا کے احکام کی تھمتی اور اس کے
 لکھنے کا قلم قدرت۔

لوہا، منڈر: ہندوؤں کا ایک طبقہ جس کا پیشہ کاشتکاری ہے
 لودھی / لودی: منڈر، پھلانوں کا ایک گروہ جس میں بہلول لودی، سکند لودی
 اور ایبراہیم لودی ہندوستان کے مشہور بادشاہ گزے ہیں۔

لوزر: (۱) منڈر، جھکا، آنسو
 لوری: مرثیہ، بچوں کو سنانے یا بہلانے والا گیت جس کو لوریں دیکھے
 سون میں گاتی ہیں۔

لوریاں دیکھا: بچوں کو بہلانے یا سنانے کا گیت گانا۔
 لوز: (۱) مرثیہ، (۲) ایک قسم کی بادام لوز پتہ کی مٹائی
 لوزیات: جھٹلا منڈر، بادام کا طوطہ

لوز پتہ: مرثیہ، منڈر، بادام کا طوطہ، ایک قسم کی مٹائی جس میں بادام ڈالتے ہیں۔
 لوشن: (۱) منڈر، (۲) زخم دھونے کی دوا، جلدی امراض
 کے علاج کے لیے دیا۔

لوٹا: (۱) منڈر، ایک مشہور پھیر جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔
 لوٹی: (۱) حضرت لوطہ کی نسبت (۲) ابراہیموں کی اصطلاح، بانگا، چھبلا
 (۳) انعام باز

لوفر: (انگ) منڈر، لفظ، آوارہ، بے فکر۔
 لوگ: (۱) لوگ، (۲) اشخاص، بشر، انسان (۳) طبقہ، جموں، پرہ
 لوکا: منڈر، آگ کا شعلہ، آج۔

لوگانا: (۱) منڈر، (۲) جگ، لوگانا (۳) کنایت، کسی کو شرمندہ کرنا (۴)
 کنایت، ناس کرنا، خراب کرنا۔

لوکاٹ: منڈر، لکھوٹ، ایک زرد رنگ کا چھوٹا پھل۔
 لوکل: (انگ) مقامی، دیسی

LOCAL SELF GOVERNMENT
 لوکل سلیف گورنمنٹ (انگ) مرثیہ، خود اختیاری حکومت (۲) بجائاً، ڈسٹرکٹ بورڈ اور
 میونسپل کمیٹی وغیرہ۔

لوک ناچ: (۱) منڈر، (۲) لوک ناچ، (۳) منڈر، (۴) مقامی رقص۔
 لوکی: مرثیہ، لانا، کڑو، ایک مشہور ترکاری

لوکھری: (۱) منڈر، (۲) لوکھری، ایک جانور کا نام
 لوگ: منڈر، بہت سے آدمی، خلقت
 لوگا: منڈر، (۱) منڈر، (۲) عام لوگ، عوام

لوگانی: (۱) منڈر، (۲) عورت، بیوی
 لولا: منڈر، لٹھا، اپناج، پیوں سے معذور
 لولاسی: مرثیہ، پھولوں کی چھڑیاں جو سائیاں دودھا کے اس وقت مارتی ہیں
 جب وہ پہلی مرتبہ شادی کے بعد زنانے مکان میں جاتے ہیں۔

لولاک: (۱) منڈر، (۲) ایک حدیث قدسی کی روایت کا نام ہے۔
 لولو: (۱) منڈر، (۲) بچوں کو ڈرانے کا ایک فرضی نام (۳) کنایت، (۴) حق،
 پاگل، خبیث، ڈرا دانی شکل کا۔

لوٹو: (۱) منڈر، (۲) موٹی، بڑا موٹی
 لولی: (۱) منڈر، (۲) خوبصورت، عمدہ، نازک (۳) کسی، ہنونی، ہنچنے والی
 گلنے والی، بازاری عورت، فاختہ، زڈی

لوہری: (۱) منڈر، (۲) لوہری، (۳) روہا، (۴) بی کے ہمے کے برابر کا ایک رنگی جانہ
 (۵) کنایت، سدا بخیر، فرضی
 لون: (۱) منڈر، (۲) رنگ، (۳) چھبے کی رنگت (یعنی زردی، سرخی، سفیدی)

پوتی کرنا: بہانے کرنا، ہمدردی پرستی کرنا، بات بنانا

لیپنا: وہ ہوتا، کھینک کرنا (۲) سفیدی کرنا (۳) ہلست کرنا (۴) دکنا (۵) چھانا، مضمی کرنا۔

لیپنے کا نہ پوتتے کا: کسی کام کا نہیں، مرض نیک اور بیکار ہے۔

لیت و لعل: روح، منوث، بلال، مثل، بہانہ، غد، دھو، دھو۔

لیتھوگرافی LITHOGRAPHY (انگ) موٹا، پتھر پر جو جو قتل کر کے چھاپنے کا فن، سنگی طباعت۔

لیٹ: (انگ) (۱) دیر سے آئے (۲) دیر سے، وقت کے بعد

لیٹر LETTER (انگ) ڈکڑا، خط، چٹھی، مراسلہ (۴) حروف

بکس: (انگ) ڈکڑا، خط ڈالنے کا ڈبہ، پتھر پتھر۔

لیٹرین: (انگ) ڈکڑا، سٹول، پانا۔

لیٹنا (۱) اسیدھا جو کر پڑا، پسنا، سونا، آنا کرنا (۲) اراٹھا، مغلوب ہونا۔

لیجر: (انگ) ڈکڑا، روزنامہ، ابھی کاتا، روزانہ

حساب کی کتاب

لیجسلیٹو اسمبلی: LEGISLATIVE ASSEMBLY (انگ)

مونث: بریاست کے منتخب نمائندوں کی کانفرنس اور مجلس۔

کونسل: COUNCIL (انگ) مونث

مجلس قانون سازی میں مخصوص طبقوں کے نمائندے ہوتے ہیں،

وردھان پر مشد۔

لیجی: (مونث) (۱) ہان کی گھڑی کا عقوبت جس لیے کہ بعد بچنے والی چیز (۲)

رکنا پٹا، ہرنگی اور نرم شدہ چیز، ٹھنڈ

لیچر: بہت سست کام کرنے والا، بدعالم، نادہندہ، قرض لے کر

بشکل دینے والا

لیچر: ڈکڑا، بدعالمی کسی چیز کے دینے میں مستی کرنا۔

لیچی: (مونث) ایک کڑوے سے چھلکا والا پھل، لیچ

لیچر: (مونث) گھوڑے گدھے، ہاتھی وغیرہ کا ٹھنڈ

لیڈر: LEADER (انگ) رہنما

لیڈر: (انگ) ڈکڑا، رہنما، رہبر، سرگز، ہموار سرگ، رہنما

لیڈری: (انگ) مونث، ایسا پیشوائی مرکز دی، رہنمائی، قیادت

لیڈری: (انگ) مونث، بی بی، عورت، بی بی، عورت کی خاتون۔

لیڈر: (انگ) مونث، ایک قسم کا پتھر، کھان، جس کی آواز کی جگہ جگہ کی

زہری ہوتی ہے اور اسے بجاتے ہیں۔

لیس: (۱) اکیلے کانٹے سے ٹوٹا، تیار، مستعد، موجود (۲) گونا گوی، کلا تیرا

یا سکر کا بنا ہوا طوائف اور زعفرانی ٹوٹہ (۳) ایک قسم کا پتھر۔

لیسدار: (دہلی) صحت، آسدار

لیسٹا: (۱) پلاسٹر کا لپٹا پٹا (۲) پتھر

لیپک: موٹھ، (۱) راہ، پگڈنڈی، روش (۲) گاڑی کے پیچے کا نشان (۳) رسم و رواج، پڑنا، دستور

لیک: (دہلی) لیکن کا مخفف

لیکن: (دہلی) ڈکڑا، گڑا

لیکھ: (مونث) (۱) چھوٹی جلی، زکھ، جوں کا اٹھا (۲) آمدورفت کا نشان

جراہ میں ہوجاتا ہے۔

لیکھ: (دہلی) ڈکڑا، کھاجرا، جو جو مضمون

لیکھا: ڈکڑا، حساب، لین دین، جو (۲) پکا حساب، ابھی کاتا

لیوڑھا: (۱) پراہر کرنا، (۲) حساب کا صاف کرنا، ادا کرنا، چکاتا،

(۲) کئی بیٹی، شادینا۔

لیکھا: (دہلی) ڈکڑا، کھنے والا، صنعت

لیگ: LEAGUE (انگ) مونث، دستہ، جماعت، انجمن

لیسل: (دہلی) مونث، رات، شب۔

لیل و نہار ہونا، ڈکڑا، رات، دن، شب، صبح، زمانہ

لیتہ (۱) (۲) مونث، شب، صبح

لیتہ البدر ہونا، مونث، قری، چھینک، چھوڑ دینا

لیتہ القلم: (دہلی) (۱) (۲) (۳) ڈکڑا، خوشی کی رات، برکت والی رات

لیلی / لیلا: (دہلی) (۱) (۲) (۳) کالی سیاہ، نام (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

مشقور، حسین، جمیل

لیلا: (دہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لیلاوتی: (دہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لیمن: (انگ) ڈکڑا، نیو، نیو۔ (دیکھو لیمن)

لیمنو: (دہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لیمنو: (دہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لیمنو: (دہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لیمنو: (دہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لینن ازم: LENINISM (انگ) مذکر، روسی اشتراکی لیڈر
لینن کا انقلابی نظریہ۔

لینوٹائپ: LINOTYPE (انگ) مذکر، الفاظ کی پوری سطر
بیک وقت ڈھلنے والی مشین، بجائے ایک لفظ کے پوری سطر
ٹائپ کر کے والی مشین۔

لینے دینے میں نہ ہونا، بے تعلق اور بے غرض ہونا، واسطہ نہ ہونا۔

کو بڑھنا: استقبال کرنا

کے دینے پر جانا: (۱) فائدہ کی جگہ نقصان ہونا، دشواری میں پہنچنا،
اٹنا نقصان ہونا (۲) جان کے لالے پڑنا۔

میں نہ دینے میں، بڑے میں نہ بھلے میں، بے تعلق اور بے غرض

لیو: (صفت، ۷۱) لینے والا (جیسے جان لیوا) (۲) مذکر؛ گائے بھینس یا
بکری کا تھن (۳) مذکر؛ مٹی کا پلاستر جسے ہانڈی دیکھی وغیرہ کے
پینڈے میں لگاتے ہیں۔

لیول: LEVEL (انگ) مذکر؛ (۱) جو اسطے (۲) گتیا (۳) یکساں
برابر، ایک سطح پر۔

لیونڈر: LAVENDER (انگ) مذکر؛ (۱) ایک خوشبودار عرق
(۲) ایک قسم کی خوشبودار گھاس

لیٹی: مرثیہ؛ گلدی، آٹے یا میدے کا پانی میں پکا ہوا نس دار تہ
لیے (۱) واسطے اس غرض سے (۲) لیے ہوئے۔

دیے رہنا: آگ ٹھنک رہنا، خودداری برتنا۔

لین: LINE (انگ) مونث؛ مٹی، کوہ، سنگ راستہ۔

لین ۱ LINE (۱) لکیر، خط، سطر (۲) رسی (۳) میڈرہ (۴) کھار،
صفت (۵) لہجے کی پٹری، ریل کی سوک (۶) چھاؤنی ٹیکسٹ
ڈوری: مونث (۱) ڈھیر جو آگے جاتا ہے، پیش نمہ، وہ فوجی
سامان جو روانگی سے پہلے روانہ کیا جاتا ہے (۲) بکناٹا، کسی بات کی آمد
نشان کسی کام کے آغاز کی نشانی، ابتدا۔

کلیر: CLEAR ریل کی پٹری صاف ہونے اور ٹرین
کے آنے کی گھنٹی

لینا: (مذکر، ۱) حاصل کرنا (۲) سنبھالنا، سہارا، ٹھکانا (۳) خریدنا
(۴) عرض لینا (۵) جیتنا، وصول کرنا (۶) استقبال کرنا (۷) جملہ کرنا۔
(۸) مار ڈالنا (جان کے ساتھ) (۹) عرض میں حاصل کرنا (۱۰) سیکھنا،
طرز پڑانا (۱۱) گود میں لینا۔

ایک نہ دینا، دو حاصل نہ حصول، فائدہ نہ غرض، نہ کسی سے
ایک میں گے نہ دو میں گے۔

لین دین: (مذکر، ۱) لینا دینا (۲) حساب کتاب (۳) خرید و فروخت کا معاملہ
(۴) برتاؤ، بہ پارہ (۵) کاروبار تجارت

لینڈ: LAND (انگ) مونث (۱) زمین، خشکی (۲) سرزمین ملک
اسکیپ: (انگ) مذکر؛ قدرتی منظر

لارڈ: LORD (انگ) مذکر؛ مکان یا زمین کا مالک، مکان دار،
زمین دار۔

لینڈر: مذکر؛ سوکھا پاخانہ، فضلہ، مورتی لینڈری

لینڈی: مونث، سوکھا پاخانہ، فضلہ (۲) مذکر؛ بازار، گنا (۳) ڈرپوک

م

مہیم : (ع) مذکر؛ (۱۱) حرف تہجی کا ایک حرف (۱۲) حساب حمل (۱۳) بچہ
میں چالیس عدد کے برابر۔
مآب : (م۔آب) (ع) لوٹنے کی جگہ، ٹھکانا، چائے بازگشت
(تنہا مستقل نہیں ہے بلکہ رسالت مآب، عزت مآب وغیرہ
میں ترکیب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
مآت : (م۔آت) (ع) مذکر، کئی سو، صد، جمع مآت کی۔
مآثر : (م۔آثر) (ع) مذکر؛ (۱) اچھے آثار، اچھے کام (۲) یادگاری
(۳) قدیم مقام جس کے نشان باقی ہوں، کھنڈ۔
مآل : (م۔آل) (ع) مذکر؛ (۱) لوٹنے کی جگہ (۲) نتیجہ، انجام،
اخیر، خاتمہ۔
کار : (ف) مذکر؛ (۱) آخر کار، انجام کار (۲) نتیجہ۔
مانا : (ف) ہم۔
— بہ خیر نیتاً بہ سلامت : (۱) ہم خیریت سے تم سلامتی سے
(۲) ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔
بُعد الطبیعات : (ما۔لُج۔وَط۔طبی عات) (ع) فطرت
سے سوا غیر مادی حقیقت، مادی حقیقت)۔
— وُشما : (ف) ہر کس و ناکس، معمولی لوگ۔
— الاحتیاج : (ما۔بہل۔اح۔تیاج) (ع) مذکر؛ ضرورت
کی چیزیں، وہ چیزیں جن کی حاجت ہو۔
— الامتیاز : (ما۔بہل۔ام۔تیاز) (ع) مذکر؛ شناخت کی
چیز، نشان امتیاز۔
— التزیع : (ما۔بہل۔تزیع) (ع) مذکر؛ جگڑے کی بنا،
خاد کا باعث۔
مابین : (ع) مذکر، درمیان، بیچ، اثناء، دوران۔

ماخضت : (ع) (۱) زیر فرمان، زیر حکم (۲) تابع، نائب، مددگار
یا تھ بٹانے والا۔
ماقَدَّم : (ع) پہلے کا، وہ چیز جو پہلے گزر چکی ہو۔
ماجرا : (ع) مذکر؛ (۱) سرگذشت، (۲) واقعہ، واردات (۳) حالت،
کیفیت۔
ماحْضَل : (ع) مذکر؛ (۱) نتیجہ، ثمرہ، (۲) خلاصہ، بُ کباب (۳)
پیداوار، (۴) فائدہ، نفع۔
ماخْضَر : (ع) مذکر؛ جو کچھ حاضر ہو، جو کھانا موجود ہو، موجودہ۔
ماحوْل : (ع) مذکر، گرد و پیش۔
ماخْذ : (ع) مذکر؛ (۱) اخذ کرنے کی جگہ، وہ چیز جس سے اخذ کیا گیا
ہو، (۲) اصل، بنیاد، جڑ، (۳) مادہ، مدار۔
ماخُوْذ : (ع) مذکر؛ (۱) لوٹ، گرفتار، (۲) لیا گیا، اخذ کیا گیا۔
مبتلا، لپٹا ہوا۔

مادام : (ع) (۱) ہمیشہ، جب تک (۲) فرخ، بیگم، خاتون۔
مازراع : (ع) آیت مازراع البقر واطنے، نیکسی طرف آنکھ پھری
اور نہ حکم الہی کی نافرمانی کی۔
ماسْبِق : (ع) گزشتہ، اَوَّل الذِّکْر۔
ماسْئَلَف : (ع) گزرا ہوا، گزشتہ، بیتا ہوا۔
ماسوا : (ع) (۱) بجز، اس کے علاوہ، علاوہ میں (۲) صوفیوں کی
اصطلاح) خدا کے سوا جو کچھ ہے، تاسوا ہے۔
ماشاء اللہ : (ع) تمہیں و آفرین کا کلمہ (۱) خدا اوشم بد سے
محفوظ رکھے (۲) سبحان اللہ، کیا کہنا کی جگہ (۳) کسی خوبصورت
چیز کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں، تاکہ نظر نہ لگے۔ (۴) طنزاً بھی
مستعمل ہے۔

ما فوق : (ع) مذکر؛ اوپر، بالا، اعلیٰ، ممتاز، اونچا، بلند، برتر، نفعی۔
 مانی الضمیر : (ماضی فصیح ضمیر) (ع) مذکر؛ دل کی بات، نیت، غرض، مطلب، مدعا، مقصد۔

ما فیہا : (ع) مذکر؛ جو کچھ اس دنیا میں ہے۔

ما قبل : (ما قبل رقیب) (ع) مذکر؛ پہلے کا، جو پہلے ہے۔
 ۱۳ وہ حرف جو کسی دوسرے حرف کے پہلے ہو۔

مالا یطابق : (ع) کسی کی طاقت سے باہر کی چیز یا کام۔
 مالا یصل : (مالا یصل عن) (ع) جو مل نہ ہو سکے، مشکل مسئلہ جو ناقابل حل ہو۔

ماورا : (ع) بجز، سما، اس کے علاوہ، علاوہ ہیں۔

ماوراء النہر : (ماوراء النہر) (ع) بجز، اس کے علاوہ، دریا کے اس پار، ملک توران سے مراد ہے۔

ما یحتاج : (ع) ضرورت کی چیزیں، ضروریات۔

ما یرید : (ع) ۱۳ جو کچھ خدا چاہتا ہے ۱۴ خدا کی مرضی، نیت۔

ماہ : (طہ) موش؛ ۱۱ ناپ، پیمائش، ۱۲ پیمانہ، ۱۳ جانگ، اندازہ، پیمانہ؛ (دہلی) ناپنا، پیمائش کرنا، جانچنا، اندازہ کرنا۔

ماہ : (ع) موش؛ ۱۱ ہار، شکست، ہزیمت، زک، ۱۲ حاجز، پارا ہوا۔

دینا : ۱۳ شطرنج کی بازی میں ہرانا، حرین پر غالب آنا، بازی لے جانا ۱۴ بیت بازی میں ہرانا۔

کھانا : ہار جانا، شطرنج کی بازی میں حرین سے مغلوب ہونا۔
 ماہا : ۱۵ موش؛ ۱۱ ماں، والدہ ۱۲ چھک، سیتلا۔

۱۳ مذکر؛ مست۔

پتا : مذکر؛ ماں باپ، والدین۔

ماہرا : موش؛ ہندی حروف کا اعراب، حرف علت۔

ماہرہاشا : (ہ) موش؛ اداری زبان۔

ماہم : (ع) مذکر؛ مرنے کا غم، سوگ، گریہ و زاری، گہرا غم۔

مہرسی : (ف) موش؛ تفریت۔

دار : (ف) مانی، سوگوار۔

داری : (ف) موش؛ غم، سوگ۔

ماہتی : (ف) ماتم کرنے والا، سوگوار، غم زدہ۔

ما تھا : مذکر؛ ۱۱ پیشانی ۱۲ سر، ناف کے سامنے کا حصہ۔

تھنکا : خطرے کا احساس ہوا۔

تھکننا : ۱۱ خطرے کا احساس ہونا ۱۲ کسی کام کے بد انجامی کے متعلق پہلے سے باخبر ہونا۔

مانی : (ہ) موش؛ مست، غمور۔

ماٹ : مذکر؛ ۱۱ تیل کا بڑا حوض ۱۲ مٹی کا بڑا مشکا۔

کاماٹ بگڑا ہے : سب کی عقل جاتی رہی، سارے خاندان کو داغ لگا۔

مانی : (م) موش؛ ۱۱ مٹی، خاک، دھول، گرد، غبار ۱۲ زمین، دھرتی۔

میں زلینا : (م) بدن کامی میں ملنا، زمین کا پوند ہونا، گردنا، فنا ہونا، خراب ہونا، تباہ ہونا، بگڑ جانا۔

ماثور ر ماثورہ : (ع) موش؛ ۱۱ نقل کیا ہوا ۱۲ اثر قبول کیا ہوا۔
 ۱۳ جزا دیا گیا۔

ما جہا : (ہ) مذکر؛ سگا جہا۔

ما جہانی : (ہ) موش؛ سگی بہن۔

ما جہد : (ع) مذکر؛ بزرگ، قابل احترام۔

ما جہدہ : (ع) موش؛ بزرگ عورت، قابل تعظیم عورت۔

ما جہو : (ف) موش؛ مذکر؛ مازو، ایک دو اکا نام۔

ما جوج : (ع) مذکر؛ حضرت نوح کے بیٹے حضرت یافث کی اولاد کہی جانے والی ایک قوم (۱۳) تاتاری۔

ما جہوڑ : (ع) اجڑ دیا گیا، ثواب دیا گیا۔

ما جھی / ما جھی : مذکر؛ طغ، کشتی چلانے والا۔

ما چنس : MATCH (مگ) موش؛ دیا سلائی۔

ما جی : (ع) محو کرنے والا، نیت و نابود کرنے والا۔

ما خولیا : (ف) (رومانی) مذکر؛ مایخولیا کا مخفف، مرض جنون، ایک قسم کی دماغی بیماری۔

مادر : (ف) موش؛ ماں۔

انہ : (ف) ماں کی طرح، ماں کا، ماں کی طرف منسوب۔

بخظا : (ف) مذکر؛ ایک قسم کی گلی، حرامی، دلدار لڑنا۔

زاد : پیدائشی، جنم کا۔

گیتی : (اضافے کے ساتھ) (ف) اربائشا، زمین۔

مادری : (ف) ماں کی طرف منسوب۔ ماں کا پیدا آشی، فطری۔
 زبان : (ف) موٹھ؛ ماں کی زبان، گھر کی زبان، ذاتی زبان، اپنی بولی۔

مادہ : (ف) موٹھ؛ عورت، نر کی ضد۔
 مادہ : (ع) مذکر؛ ۱) اصل، وہ شے جس سے کوئی چیز بنائی جاتے۔
 ۲) قابلیت، صلاحیت، استعداد، ۳) مآخذ، اصل، جڑ، منبع، ۴) عقل، تمیز، ادراک ۵) جسم، وجود ۶) مواد، پیپ۔

مادری : (ع) مادے کا، ذاتی، اصل، قدرتی، طبعی۔
 مادیات : (ع) موٹھ؛ مادی چیزوں کا علم۔
 مادیان : (ف) موٹھ؛ گھوڑی۔

مادین : (ف) موٹھ؛ مادہ، ہر حیوان کی مادہ، نر کی ضد۔
 مادیات : موٹھ؛ مادہ ہونا۔

پسندی : موٹھ؛ ۱) حقیقت پسندی، ۲) اشتہالی تصور، جس کے مطابق جو کچھ ہے مادہ ہے، روح کی کوئی حقیقت نہیں۔
 مادھولوت : ۱) موٹھ؛ لاوارث مال کی بربادی، غیر محفوظ مال کا ٹٹ جانا۔

ماڈرن : MODERN (انگ) جدید، زمانہ حال کا۔
 ماڈل : MODEL (انگ) نمونہ، چوٹا مجسمہ، نمونے کا ڈھانچا۔

مار : (ف) مذکر؛ سانپ۔
 گزنیڈہ : (ف) سانپ کا ڈسا ہوا۔
 ماہی : (ف) موٹھ؛ پام پھل۔

مہرہ : (ف) مذکر؛ ۱) وہ مہرہ جو پرنے سانپ کے سر میں ہوتا ہے۔ ۲) تریاق، فاد نہر۔

مار : موٹھ؛ ۱) چوٹ، ضرب، زد و کوب، ۲) صدمہ، دھکا۔ ۳) دکھ، تکلیف، مصیبت، ۴) لعنت، پشکار، علامت۔ ۵) بکرت، بہتات، شدت۔

پشانی : (ع) مار پیٹ۔
 پیٹ : موٹھ؛ مار کھانی، زد و کوب، لڑائی جھگڑا۔
 دھاڑ : موٹھ؛ لڑائی جھگڑا، جگ و جھڈل۔

کے آگے بھڑت بھاگے : (ع) مار کے آگے سبھی دب

جاتے ہیں، ہر قسم کی کمرشی اور شرارت دور ہو جاتی ہے۔
 لینا : ۱) لوٹ لینا، تباہ کر دینا، ۲) فتح کرنا، ۳) غنم کرنا، ناجائز طور پر قبضہ کر لینا۔

مارا : ۱) مرا ہوا، مقتول، ۲) ڈسا ہوا، ۳) تباہ شدہ (۴) دکھی، ستایا ہوا، ۵) مارنا کا ماضی۔

مار : موٹھ؛ ۱) بیج، بے درپے، جلدی، ۲) افراط و زیادتی، ۳) مارنا : ۱) پیشنا، ۲) چوٹ لگانا، ۳) جڑنا، لگانا، حملہ کرنا، ۴) قتل کرنا، ۵) سزا دینا، جیتنا، زیر کرنا، ۶) خورد و بُرد کرنا، ۷) اکبوتربازوں کی اصطلاح، نیچے گرانا، پکڑنا، جال میں پھنسانا، ۸) دباننا، بڑا لینا، غضب کرنا۔

مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ : (ع) سوال کچھ جواب کچھ بے جھڈ بے محل بات۔

ماسے : ۱) وجہ، سبب، باعث، ۲) لیے، ۳) واسطے، خاطر، ۴) شدت، ۵) مارتے مارتے۔

بانڈھے : زبردستی مجبوری۔
 کاسودا : مجبوری کا معادلہ۔

مارقول : مذکر؛ بڑا ہتھوڑا، موگرا۔
 مارچن : MARCH (انگ) مذکر؛ حاشیہ۔

مارچ : MARCH (انگ) مذکر؛ ۱) عیسوی سال کا تیسرا مہینہ، ۲) کوچ، روانگی۔

مارچ پاسٹ : MARCH PAST (انگ) فوجی سلام۔
 مارشل : MARSHAL (انگ) فوجی سردار، سپہ سالار۔

لا : LAW (انگ) مذکر؛ جلی قانون، حربی حکومت۔
 مارک : MARK (انگ) مذکر؛ ۱) نشان، علامت، ۲) مارکا۔

مارکا : مذکر؛ ۱) نشان، علامت، پہچان، ۲) تجارتی نشان (انگ) ٹریڈ مارکا۔

مارکسی تنقید : موٹھ؛ اشتہالی نظریات کی روشنی میں کی جانے والی تنقید۔
 مارکیٹ : MARKET (انگ) مذکر؛ بازار، منڈی۔

مارگ : ۱) مذکر؛ علاج، تدبیر، چارہ، ۲) ٹوڑ، ۳) راستہ، طریقہ، طور۔
 مارف : مذکر؛ ۱) مارنے والا، قاتل، ۲) موٹھ؛ ایک ماہی، ۳) مذکر۔

ایک قسم کا بینگن۔

مال : موٹو، چرنے میں نکلنے کو ترک کرنے والی ڈور۔
 مال : (ع) مذکر، (۱) زمین، دولت، روپا، پیسا، (۲) ملکیت
 جاتداد، اسباب، (۳) مالگوزاری، محصول، (۴) جنس، چیز،
 (۵) پیداوار، آمدنی، زراعت، (۶) حقیقت، اصل، کائنات
 (۷) بیش قیمت شے۔

— مال : مذکر، روپا، پیسا۔

مالا : (۵) موٹو، (۱) سلسلہ، قطار، (۲) پھول کا ہار، گجر، (۳) تسبیح۔
 مالامال : (ف) (۱) بھرا ہوا، زرخیز، پیداوار کے قابل، (۲) خوش حال
 دولت مند۔

مال خانہ : (ف) مذکر، (۱) گودام، (۲) فزاد، (۳) گونگی۔

مالدار : (ف) دولت مند۔

مالداری : (ف) موٹو، دولت مندی۔

مال زلہ : (ف) مذکر، (۱) ہمیشہ و عورت کا بیڑ، حرامی، بھڑوا۔

— زاری : موٹو، (۱) نفاست، تہہ، (۲) گلشن، (۳) عورتوں کی ایک گالی۔

— سائر : مذکر، (قانونی اصطلاح) مال گزاری کے علاوہ سڑک

مدرسہ و غیرہ کا محصول۔

— عرب پیش عرب : (ف) مثل، اپنا مال اپنی آنکھوں کے

سامنے ہونا اچھا ہے۔

— عظمت : (ف) مذکر، (۱) لوٹ کا مال، (۲) اکنائشا، منفعت کا مال

(۳) دشمنوں کا مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے۔

— گاڑی : مال لے جانے والی ریل گاڑی۔

— گزار : (ف) مال گزاری ادا کرنے والا۔

— گزاری : (ف) موٹو، فراغ، زمین کا سرکاری محصول۔

— متاع : مذکر، دولت، اسباب، سرمایہ، روپا، پیسا۔

— مست : دولت پر مغرور، بے فکر۔

— مستی : موٹو، دولت کا نشہ، دولت پر مغرور۔

— منفعت دل بے رحم : (اضافت کے ساتھ) (مثل) پرایا

مال بے دریغ خرچ کرنا۔

— و متاع : دیکھو مال متاع۔

— مالٹی : موٹو، (۱) ایک بوٹی، ایک قسم کی بیل، (۲) ایک قسم کا پھول،

چنبیلی (۳) جوان عورت (۴) دریا (۵) چاندنی رات۔

ماروت : (ع) مذکر، ایک فرشتہ، ہاروت کا ساتھی جو بائبل کے ایک
 کنویں میں قید ہے۔

مازہ : (ف) مازہ، ایک مشہور دوکان نام۔

ماس : (۵) مذکر، (۱) گوشت، (۲) چاند، (۳) مہینا۔

ماسٹر : MASTER (انگ) مذکر، (۱) استاد، (۲) سردار، مالک، آقا

(۳) کاریگر، ماہر فن۔

— پیش : (انگ) صفت، شاہکار، بہترین۔

کاریگری، اطلاعیت

ماسک : (۵) مذکر، ماہر، خواہ ماہر۔

ماسک : (ع) مذکر، وہ قوت جو غذا کے حصے میں اہم کرنے کے لیے

رکتی ہے۔

ماس میڈیا : MASS MEDIA (انگ) مذکر، عوام سے رابطہ

قلام کرنے کے مختلف ذرائع

ماش : (اس) مذکر، اُردو، ایک قسم کا نانج۔

— ماشی : مذکر، ماش جیسا، ماش کے رنگ کا۔

— ماشہ : (ف) مذکر، آٹھ رتی کا وزن، ایک نم لے کا بارھواں حصہ

ماضی : (ع) مذکر، گزرا ہوا زمانہ، گزشتہ۔

— احتمالی / شکی : مذکر، وہ ماضی جس سے گزشتہ زمانے

میں کسی کام کے ہونے کا احتمال یا شک پایا جائے۔

— آخری / ناتمام : مذکر، وہ زمانہ جس کا زمانہ گزشتہ

حال پر اطلاق ہو سکے۔

— بعید : مذکر، وہ ماضی جس سے دور کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو۔

— تمنائی / شرطی : مذکر، وہ ماضی جس میں تمنا یا شرط

پائی جاتے۔

— قریب : مذکر، وہ ماضی جس سے قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو۔

— مطلق : مذکر، وہ ماضی جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو۔

— ماضیہ : (ع) مؤنث، پیتا ہوا، گزشتہ، پیشتر کا۔

— ماکولات : (ع) مذکر، کھانے کی چیزیں، جمع ماکول کی۔

— و مشروبات : مذکر، کھانے پینے کی چیزیں۔

— پاکیان : (ف) موٹو، مُرخی۔

— ماکھ : مذکر، سمیت کا گیا رہا ہوا مہینہ۔

ماقتا : موتھ؛ (۱) الفت، محبت، مٹتا، پیار (۲) ماں کی محبت۔
ماٹن (۱) ع، مذکر؛ (۲) امن کی جگہ (۳) ٹھکانا (۴) پناہ گاہ۔

مامور : (ع) (۱) مقرر، متعین (۲) حکم کیا گیا، اجازت دیا گیا۔

مامون : (ع) (۱) محفوظ، بے خوف (۲) مذکر؛ خلیفہ بغداد ہارون
رشید کے بیٹے کا نام۔

ماموں : مذکر؛ (۱) ماں کا بھائی (۲) (ہو) سانپ (۳) عورتیں رات کو
سانپ کا نام نہیں لیتی ہیں بلکہ ماموں کہتی ہیں۔

ماں : موتھ؛ والدہ۔

— باپ : والدین۔

— بہر، امرتا : گایاں بنا۔

مانجائی : (ماں - جانی) موتھ؛ سگی بہن۔

مانجایا : (ماں - جایا) مذکر، سگا بھائی۔

مامہران : (ا) مذکر؛ ایک قسم کی ہلدی جیسی جڑ جسے سرے میں
ڈالتے ہیں، میرا۔

مان نہ مان میں تیرا مہمان : (مش) (۱) بن بلایا مہماں (۲) خواہ
خواہ سر ہونے والا۔

مان : (۱) مذکر؛ (۲) عزت، قدر و منزلت (۳) خاطر، تواضع، ادب و محبت
(۴) گھنٹہ، عذوب (۵) تاز، نخرہ، چاؤ، آرزو۔

مانا : فرض کیا، تسلیم کیا، منظور کیا۔

ماننا : موتھ؛ (۱) منت (۲) اپنے اور کسی بات کا فرض کر لینا۔

(۳) اعتقاد (۴) تعظیم و تکریم، آؤ بھگت، قدر دانی، (۵)

نیت، عزم، عہد۔

مانجنا : (۱) مانجنا، جانی کرنا، برتن لٹنا، چمکانا، اُجانا، چلا کرنا
(۲) سوتنا۔

مانجھ : موتھ؛ (۱) ایک، لاگنی کا نام (۲) وسط، بیچ۔

مانجھا : مذکر؛ (۱) ڈور کو سوتنے کا ایک نُس دار سالہ (۲) ماتوں
کا جوڑا، زرد پوشاک۔

مانجھی : مذکر؛ کلاچ، ناخدا۔

ماند : موتھ؛ رونق، مدھم، ہلکا، پھیکا، وہ چیزیں جس کی
آب و تاب اور چمک جاتی رہی ہو۔

ماندا : مذکر؛ (۱) بیمار، مرعین، روگی (۲) تھکا ہوا۔

مالتی بسنت : موتھ؛ ایک شہ ترے سونے کے دونوں اور موتوں
سے تیار کیا جاتا ہے۔

مالٹا : مذکر؛ (۱) ایک قسم کا بڑا اور میٹھا سنگتر (۲) ایک جزیرہ کا نام۔

مالتسری : موتھ؛ دوپہر کے بعد گائی جانے والی ایک راگنی۔

مالش : (ف) موتھ؛ (۱) لٹنا، رگڑنا (۲) مثل، جی کا مٹانا۔

مالک : (ع) مذکر؛ (۱) صاحب، آقا (۲) شوہر (۳) اختیار والا، سردار
(۴) دوزخ کے فرشتے کا نام۔

— مکان : (۱) اصناف کے ساتھ، مذکر؛ گھر والا (انگ - لیٹلارڈ)

مالک کانا : (ف) (۱) مالک کے طور پر (۲) مذکر؛ زمینداری کا حق۔

مالکی : (ع) انا مالک کا بیرو۔

مالکیت : موتھ؛ ملکیت، مالک ہونا۔

مالکنگنی : (مال - کنگ - نی) موتھ؛ ایک خوشبودار دانہ۔

مالکوس : مذکر؛ ایک راگ کا نام۔

مالن : موتھ؛ ماں کا موتھ۔

مالوف : (ع) مانوس، عادی، خوگ عزیز، پیارا۔

مالی : مذکر؛ (۱) باغیاں (۲) ایک قوم جو باغبانی کرتی ہے۔

مالی : (ف) مال کا، (فنانشیل) FINANCIAL

مالیات : (ع) موتھ؛ (۱) مال سے نسبت رکھنے والی چیز، مالہ

FINANCE فنانس (۲) مال کی جمع، آمدنی کے ذرائع۔

مالیہ : (ع) محکمہ مال، فنانشیل ڈپارٹمنٹ۔

FINANCIAL DEPARTMENT

مالیت : (ع) موتھ؛ (۱) جمع، پونجی، سرمایہ، دولت (۲) قیمت، مل
(۳) مول، اہل (۴) جانج، نقشیں۔

مالچھولیا : مذکر؛ دیکھو ماٹولیا۔

مالپدہ : (ف) (۱) کلاہوا، ن کر (۲) مذکر؛ ایک قسم کا پشمینہ کا پتہ جو
نل کر لٹام کیا جاتا ہے، (۳) کلیدہ۔

مامی : (ا) موتھ؛ گھر میں کام کرنے والی، ملازمہ، داتی۔

ماما : (۱) ماموں، ماں کا بھائی۔

مامانی : موتھ؛ نمائی، ماموں کی بیوی۔

ماما اھیل : موتھ؛ ٹوٹی، باندی، کنپڑ۔

— گیری، موتھ؛ (۱) کھانا پکانے کی ملازمت (۲) خدمت گاری (۳) ملازمت۔

مانشا : (۱) تسلیم کرنا، قبول کرنا، (۲) فرض کرنا، (۳) پروا کرنا، (۴) چاہنا، ادب کرنا، بڑا ماننا، (۵) لحاظ کرنا، (۶) رضا مند ہوجانا، (۷) اعتقاد رکھنا، پرستش کرنا، (۸) مُنت مانشا، نذر مانشا، (۹) اقتدار کرنا، اقبال کرنا، (۱۰) حکم۔ بجالانا، کہا کرنا۔

مانو : (۱) تسلیم کرو، یقین کرو (۲) (۵) جیسا، گویا، مثلاً۔
— تو دیتا نہیں تو پتھر : (مثل) اعتقاد ہی سے کسی کی عزت و حرمت کی جاتی ہے، بلا اعتقاد کچھ بھی نہیں ہوتا۔

مانند : (ف) مذکر، جیسا، طرح، مطابق، نظیر، مثل، مشابہ۔
مانو : (۵) مذکر، منوں کی اولاد، آدمی۔

مانوس : (ع) ہلا ہوا، پسند، عادی، خوگر۔
مانویت : (۱) ناما۔ نوی۔ یت، (ف) موت، مشہور ایرانی مصو
مانی کا نظریہ نور و ظلمت۔

مانی : (ف) مذکر، ایک مشہور رومی مصو، ارژنگ مصنف
جو نبوت کا جھوٹا مدعی تھا۔

مانیتا : (۵) موت، منظوری، قبولیت، عزت۔
مانیٹر : MONITOR (انگ) (۱) نگاہ رکھنے والا، (۲) اسکول

یا مدرسے کی جماعت کا وہ منتخب طالب علم جو استاد کی
غیر موجودگی میں کلاس کا نظم و ضبط سنبھالتا ہے۔

ماوا : (ع) مذکر، جائے پناہ، گھر، ٹھکانا۔

ماوا : مذکر، (۱) مادہ، اصل، جوہر، (۲) بھٹنا ہوا دودھ، گھویا،
(۳) ماٹھی، کلف، کاغی، آہار، (۴) سرشت، خمیر، (۵) اٹلے
کی زردی، (۶) صندل کا مادہ۔

ماہ : (ف) مذکر، (۱) چاند، (۲) مہینہ۔

ماہانہ / ماہیانہ : (ف) مذکر، (۱) ماہواری، ہر مہینے، ماہ بہ ماہ
(۲) خواہ و وظیفہ۔

ماہ بارہ / مہ بارہ : (ف) چاند کا گڑھا، خوبصورت، معشوق۔
ماہتاب / مہتاب : (ف) مذکر، (۱) چاندنی، (۲) چاند،
(۳) گنجد کا وزیر۔

ماہتابی / مہتابی : (ف) (۱) ایک قسم کا تریوز (۲) چکوترہ (۳) ایک
قسم کا پٹرا (۴) ایک قسم کی آتش بازی۔

ماندگی : (ف) موٹ، (۱) تھکن، کسل، سستی، (۲) علات، بیماری، روگ۔

ماندہ : (ف) (۱) تھکا ہوا، خستہ (۲) بچا ہوا، بچے رہا ہوا۔
ماندہ : دیکھو۔ ماٹھی۔

مانڈا : مذکر، (۱) ایک قسم کی نہایت پتلی اور بڑی روٹی جو میدے
میں کمی ملا کر تنور میں پکائی جاتی ہے، (۲) پوری، (۳) آنکھ
کی پتلی پر آجانے والا سفید جالا۔

مانڈی : (۱) کاغی، بٹے ہوئے چادروں کا پانی، (۲) کلف، آہار
(۳) ایک قسم کا مارواڑی گیت۔

مانس : مذکر، آدمی، انسان۔

مان سرفور : (۵) موٹ، ہمالیہ کے شمال میں واقع ہندو
کی ایک مقدس جھیل۔

مانسون : NONSOON (انگ) مذکر، (۱) موسمی ہوا۔
(۲) برسات کا موسم۔

مانج : (ع) (۱) منگنے والا، روکنے والا، سدرہ (۲) خدا کا نام۔

مانجک : مذکر، (۱) نعل، یا قوت، (۲) جوہر، گوہر۔
— ٹیک : مذکر، ایک قسم کا ماتھے پر لٹکانے کا زیور، جس میں
مونی جڑے ہوتے ہیں۔

مانگ : موٹ، (۱) سرکے بالوں کے بچے کی سیدی لکیر (۲) (عو)
شہر، خاوند (۳) انگیا کی دونوں کٹوریوں کے بیچ کی سلائی۔

— اُچرنا : (کنایتاً) عورت کا بیوہ ہونا۔

— بھڑنا : بیاہ دینا، شادی کر دینا۔

— بھری : موٹ، (عو) سُہاگن، خاوند والی۔

— بچی : موٹ، بناؤ سنگار، سنگمی چوٹی۔

— دار : مذکر، ایک قسم کی تنگ۔

مانگ : موٹ، (۱) خواہش، چاہ، طلب، ضرورت، حاجت،
(۲) خریداری، (۳) مطالبہ، تقاضا۔

مانگشا : (۱) چاہنا، طلب کرنا، سوال کرنا، (۲) نسبت کی درخواست
کرنا، (۳) گویا یا التجا کرنا، (۴) ادھار چاہنا، قرض طلب
کرنا، (۵) تقاضا کرنا۔

مانگے کا : مستعار لیا ہوا، عاریتاً لیا ہوا۔

ماہ چیل / مہ چیل : ۱۱ چاندی پیرشالی والا، ۱۲ خوب صورت معشوق۔
 ماہ نرنگ / ماہ پرو : (ف) ۱۱ چاند سے چہرے والا، معشوق، ۱۲،
 شیرازی کوثر۔

صیام : (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ رمضان کا مہینہ۔

کابل : (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ پورا چاند خوردگوں
 سات کا چاند۔

کعبان : مذکر؛ (اضافہ کے ساتھ) حضرت یوسف علیہ السلام
 سے مراد ہے۔

منیر : (ف) (اضافہ کے ساتھ) ۱۱ چمکنے والا چاند،

نارنگہ ناز نغمہ قرم ۱۲ (کنایا) حسین، معشوق۔

نخشب : (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ حکیم ابن عطا
 عرف شفیع کا بنا یا ہوا مصنوعی چاند۔

نو : مذکر؛ (اضافہ کے ساتھ) نیا چاند، ہلال۔

نیم ماہ : (ف) (اضافہ کے ساتھ) چودھویں کا چاند۔

ماہوار / ماہوارہ : (ف) مذکر؛ ۱۱ ماہواری، ہر مہینے، ماہ بہ ماہ،
 ۱۲ مشاہرہ، تنخواہ۔

ماہواری : (ف) موٹھ؛ ۱۱ ماہانہ، وظیفہ ۱۲ حین۔

ماہ وسال : (ف) ۱۱ ہمیشہ، تمام ۱۲ زمانہ، وقت۔

ماہوش / مہوش : (ماہ۔ وش / مہ۔ وش) (ف) ۱۱ چاند سا،
 ۱۲ (کنایا) مجھوب۔

ماہر : (ع) پختہ، استاد، کابل فن۔

ماہو : موٹھ؛ کسلائی، برساتی تیزرا۔

ماہی : (ف) موٹھ؛ ۱۱ پھل ۱۲ ایک بُرج کا نام ۱۳ ہنسوس
 بہ ماہ قمری۔

پُشپ : (ف) تچے دار، بڑا میل ۱۲، ایک قوم کا کاروب۔

گیر : (ف) مذکر؛ پھلیاں پکڑنے والا، چھو، چھیرا

مراتب : (ف) مذکر؛ بادشاہوں کی سواری کے آگے
 ہاتھیوں پر چلنے والا اعزازی نشان۔

ماہیانہ : (ف) مذکر؛ ماہانہ، تنخواہ، مشاہرہ، ماہواری، مہینہ کا۔

ماہیت : (ماہی۔ بیت) (ع) موٹھ؛ حقیقت، اصلیت،
 اصل مادہ، جوہر۔

ماہیات : موٹھ؛ جمع ماہیت کی۔

ماہر : (ع) مذکر؛ ۱۱ پانی ۱۲ عرق۔

ماہر اللحم : (ع) مذکر؛ گوشت کا عرق۔

مانی : (ع) ماہ پانی سے نسبت رکھنے والا، آبی پانی کا۔

ماہیات : (ع) مذکر؛ پہنے والی چیزیں، سیال مادہ۔

ماہڈہ : (ع) مذکر؛ ۱۱ کھانا چننا ہوا دسترخوان، ۱۲ موٹھ؛
 قرآن کی ایک سورت کا نام۔

ماتع : (ع) پہنے والی چیزیں، سیال مادہ، رقیق شے۔

مائل : (ع) ۱۱ متوجہ، راعب، معروف ۱۲ میلان رکھنے والا، عاشق
 ۱۳ غمیدہ، جھکا ہوا ۱۴ دلوں ۱۵ تھوڑا سا۔

ماؤف : (ما۔ اؤف) (ع) ۱۱ صدمہ پہنچا ہوا، آفت رسیدہ
 ۱۲ انتہائی پریشان، ذہنی طور پر مفلوج۔

ماتی : ہم، موٹھ، مان، ۱۲ بڑھیا۔

مائیکرو اسکوپ : MICROSCOPES (انگ) مذکر؛

خوردبین۔

مائیکروفون / مائیک : MICROPHONE (انگ) مذکر؛

آواز بڑھانے اور نشر کرنے کا آلہ، آڈیو مکر الصوت، آڈیو نشر الصوت

ماتپس : موٹھ؛ ماڑو جیسا ایک پھل۔

ماتپوں بٹھانا : شادی کی ایک رسم، ماہجا بٹھانا۔

مایا : (ہ) موٹھ؛ فریب، دھوکا، دم۔

مایاؤس : (ع) ناامید ۱۵، نراش۔

مایاؤسی : موٹھ؛ ناامیدی، ناکامی۔

مایہ : (ف) مذکر؛ ۱۱ پونجی، جمع، سرمایہ ۱۲ اصل، راس المال،
 ۱۳ مادہ، جوہر، ۱۴ سامان ۱۵ مال، دولت۔

ماز : (ف) (اضافہ کے ساتھ) (کنایا) ۱۱ معشوق، ۱۲،
 شاندار، بے مثل ۱۳، فرو ناز کا سبب۔

م ب

مباح : (ع) جائز، روا، حلال، درست، پاک۔

مباحث : (ع) مذکر؛ ۱۱ بحثیں، بحث کے مقامات ۱۲ جمع بحث کی

مباحث : (ع) بحث کرنے والا۔

مبتلا: (ع) (۱) گرفتار، ماخوذ (۲) پھنسا ہوا، الجھا ہوا، بھرا ہوا (۳) رشید، عاشق، مفتون۔

مبخت: (ع) مذکر (۱) بحث، معاطہ (۲) بحث کی جگہ۔

مبدا: (ع) مذکر؛ شروع ہونے کی جگہ، ظاہر ہونے کی جگہ۔

مبتدل: (ع) بدلا ہوا، تبدیل شدہ، پلٹا ہوا، متغیر۔

مبتدول: (ع) (۱) طرح کیا گیا (۲) بخشا ہوا، عطا کیا ہوا (۳) منقطع
مبتر: (ع) پاک، بیزار، دُور، بڑی۔

مبترود: (ع) مذکر (۱) سرد کرنے والا (۲) ایک شہر ہونٹا نوحے ماہر کا نام۔

مبترود: (ع) سرد کیا ہوا۔

مبتروات: (ع) مذکر؛ سرد کرنے والی چیزیں، سرد تاثیر دہا میں۔

مبترز: (ع) مذکر؛ مقعد، پاخانہ نکلنے کی جگہ۔

مبترزم: (ع) (۱) مضبوط، مستحکم، استوار (۲) نٹنے والی شدنی۔

مبترود: (ع) (۱) نیلی کیا گیا، پاک، مقدس، گناہوں سے بڑی (۲) مقبول

مبترہن: (ع) مضبوط دلائل سے ثابت، واضح۔

مبسطوط: (ع) پھیلا ہوا، کشادہ، فراخ۔

مبشتر: (ع) بشارت دینے والا، خوش خبری سنانے والا۔

مبشتر: (ع) (۱) دیکھنے والا، بینا (۲) پرکھنے والا، صراف۔

مبجوات: (ع) بجایا گیا، پیدا کیا گیا، اٹھایا گیا۔

مبغوض: (ع) بغض کیا گیا، دشمن رکھا گیا، قابل نفرت۔

مببلیغ: (ع) تبلیغ کرنے والا۔

مببلیغ: (ع) پختہ، کامل، روپے کی تعداد، نقد رقم (۱) مبلغ۔

مببونی: (ع) جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی ہو، منحصر۔

مببہم: (ع) غرواض، مشتبہ، مشکوک، گول بات۔

مببہوت: (ع) (۱) بھونچکا، حیران، ہکا بکا (۲) دیوانہ، غمور، سرشار۔

مببہتی: (ع) (۱) (مبہہ - ہی) (ع) (۱) طب کی اصطلاح، قوت باہ ٹرھانے والا۔

مببین: (ع) ظاہر، صاف، کھلا ہوا، روشن، صریح، آشکارا۔

مببان: (ع) موت، (دہلی) ناپ، پتاش، نہان، مقدر، بریادہ۔

مببنا: (دہلی) ناپا جانا، پتاش ہونا۔

م ت

ممت: (ع) نئی کا کلمہ، نہ، نہیں۔

مباحثہ: (ع) مذکر؛ تکرار، بحث، مناظرہ، سوال و جواب۔

مبادا: (ع) ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، خدا نخواستہ۔

مبادرت: (ع) موت؛ (۱) جھپٹا، جلدی، تیزی، سرعت (۲) سبقت، چستی، (۳) دلیری، جرأت، چالاک، چستی۔

مبادلہ: (ع) مذکر؛ بدلہ، عوض، ادل بدل، ایکس چینج

مبادی: (ع) مذکر؛ جمع مبادی، ابتدائی امور، شروع میں

دیکھانے کی باتیں۔

مبارز: (ع) مذکر؛ جنگی بہادر، دل جلا، صف سے نکل کر لڑنے والا۔

مبارزت: (ع) موت؛ (۱) لڑائی کے لیے صف سے باہر آنا

(۲) لڑائی، جنگ۔

مبارک: (ع) (۱) برکت والا، برکت دیا گیا (۲) خوش قسمت (۳) نیک،

موفق، لائق (۴) خوش خبری (۵) (طنزاً) محسوس کی جگہ۔

مبارکباد: (ع) موت؛ (۱) خوش خبری، تہنیت، بدھائی، شادیاں،

(۲) دھاتے خیر (۳) خدا برکت دے، برکت نصیب ہو۔

مبارکبادی: (ع) موت؛ بدھائی، تہنیت، خوش خبری

شادیاں۔

مبارکی: (ع) موت؛ (۱) مبارک، باری، تہنیت (۲) نیکی، سعادت

(۳) دھاتے خیر۔

مباشرت: (ع) موت؛ ہم بستری، صحبت، جماع کرنا۔

مبالغہ: (ع) (۱) بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، (۲) حد سے زیادہ اور خلاف

واقعہ تعریف یا بُرائی کرنا (۳) زیادہ گوئی۔

مبانی: (ع) مذکر؛ جمع مبنی کی۔

مببات: (ع) موت؛ غم، بُرائی، شینی، شان و شوکت۔

مبالہ: (ع) ایک دوسرے کے حق میں دھاتے بد کرنا، ایک

دوسرے کو نفرتیں کرنا۔

مبتدأ: (ع) مذکر؛ (۱) آغاز، شروع، ابتداء (۲) جلد اسمیہ کا پہلا

جُز جس کی بابت کچھ کہا جاتے۔

مبتدع: (ع) بدعتی، دین میں نئی بات نکلانے والا۔

مبتدی: (ع) ابتداء کرنے والا، نو آموز۔

مبتذل: (ع) عام، روزمرہ کی چیز، ذلیل، کمینہ، حقیر۔

- مکت** : (۵) موٹھ ؛ (۱۱) ہوش ، بھڑوہ ، عقل (۲) طرز ، انداز
 وضع ، رائے ، ووٹ VOTE ، مذکر ، مذہب ،
 دھرم ، عقیدہ ۔
مکتی ہونا : عقل جاتی رہنا ۔
مکتی ماری جانا : (۱) عقل ماری جانا ، بے وقوف بنا ۔
مکتی لعت : (۱) موٹھ ؛ (۱۱) اطاعت ، تابعداری ، پیروی ، غلامی
مکتی کر : (۱) کارگر ، آئینہ (۲) دل پر اثر کرنے والا ، رقت انگیز ۔
مکتی خیر : (۱) پھلا ، پیچھے آنے والا ۔
مکتی خیرین : (۱) مذکر ؛ پچھلے زمانے کے لوگ ۔
مکتی شاع : (۱) موٹھ ؛ پونجی ، سرمایہ ، اثاثہ ، تجارت کا مال ۔
مکتی شاعی : موٹھ ؛ وہ عورت جس سے متعہ کیا گیا ہو ، نکاح سے
 کم درجہ کی عورت ۔
مکتی تیل : (۱) تال کیل کرنے والا ، سوچنے والا ، غور کرنے والا ۔
مکتی تانا : (۱) پونجے کو پیش کرنا ۔
مکتی نت : (۱) موٹھ ؛ (۱۱) سفیدی ، برد باری ، بھنگی (۲) خیال
 کی آراستگی اور درستی ۔
مکتی تپل : (۱) بیابا ہوا ، بیوی نہتے والا ، کنہ دار ۔
مکتی تاور : (۱) ذہن میں جلد آجانے والا ۔
مکتی تاول : (۱) بدلنے والا (۲) باری سے آنے یا کام کرنے والا ۔
مکتی تاولہ : (۱) مذکر ؛ (۱۱) بدلنے والا (۲) (جیومیٹری کی اصطلاح)
 دو متوازی خطوط پر تیسرے خط سے بننے والے داخلی زاویے ۔
مکتی تان : (۱) ایک حصے سے الگ ، ایک دوسرے کی ضد ۔
مکتی تپ : (۱) متبع ۔ جرہ ؛ بہت بڑا عالم ، فاضل ، علم کا دریا ۔
مکتی تیل : بدلا ہوا ، تبدیل شدہ ۔
مکتی تیل : (۱) تبدیل کرنے والا ، (۲) کسی چیز کا معاوضہ لینے والا ۔
مکتی تیرگ : (۱) برکت والا ، مقدس ، پاک ، صاف (۲) عزیز
 بزرگ ، قابلِ تعظیم ۔
مکتی تیرم : (۱) مسکرنے والا ، (۲) کھلا ہوا ، مگفتہ ۔
مکتی تیج : (۱) پیروی کرنے والا ، پیچھے چلنے والا ۔
مکتی تیجی : (۱) مذکر ؛ بے پالک ، گود لیا ہوا ، مگر بولا بیٹا ۔
مکتی تاور : (۱) اپنی حد سے گزر جانے والا ، تجاوز کرنے والا ۔
- مکتی سن** : (۱) تلاش کرنے والا ، جستجو کرنے والا ۔
مکتی جلی : (۱) چمک دار ، روشن ۔
مکتی خیر : (۱) سخت ، پتھر کی طرح ۔
مکتی خیر : (۱) اتحاد رکھنے والا ، متفق ۔
مکتی خیرک : (۱) حرکت کرنے والا ، چلتا ہوا ، رواں ، جاری
 (۲) زیر ، زبر یا پیش والا حرف ۔
مکتی خیر : (۱) صحیح اور درست کرنے والا ۔
مکتی خیر : (۱) تحقیق کیا ہوا ، درست ، ٹھیک اور صحیح خبر ۔
مکتی خیر : (۱) آراستہ ہونے والا ، زیور پہننے والا ۔
مکتی خیر : (۱) بردبار ، مستقل مزاج ، برداشت کرنے والا ۔
مکتی خیر : (۱) حیران ، حیرت زدہ ، ششدر ، ہکا بکا ، متعجب ۔
مکتی خیر : (۱) غلطی رکھنے والا ۔
مکتی خیر : (۱) خلل ڈالنے والا ، خلل انداز ۔
مکتی خیر : (۱) موٹھ ؛ خیال کی گئی ۔
مکتی خیر : مذکر ؛ ایک دائمی قوت جس کے ذریعے انسان غیر حاضر
 چیزوں کا نقش دل میں بناتا ہے ، وہم ، خیال ، قیاس ۔
مکتی ایک : (۱) کھوئی ہوئی چیز کو پلنے والا (۲) وضو کی نیک نماز ۔
مکتی اول : (۱) مروج ، رائج ۔
مکتی اولہ : (۱) موٹھ ؛ مروجہ ۔
مکتی مذہب : (۱) شک میں پڑنے والا ۔
مکتی مذکر : (۱) ذکر کیا ہوا ، مذکورہ ۔
مکتی مذکر : (۱) ذکر کرنے والا ، اور ذکر کیا گیا ، اور کہا گیا ، مندرجہ بالا ۔
مکتی مذکرہ : (۱) موٹھ ؛ مذکورہ ، ذکر کیا گیا ۔
مکتی مذکرہ بالا : مرقومہ بالا ، جس کا ذکر اور کیا گیا ہو ۔
مکتی مذکرین : (۱) (۱) مومن ، ایمان دار ، دیانت دار ، دیندار
 (۲) امین ، امانت دار ، معاملہ کا پورا ، بات کا سچا ۔
مکتی مذکر : (۱) مذکر ؛ (۱) دوست ، یار (۲) خیر خواہ ، ہی خواہ (۳) مددگار
 ساتھی ، (۴) مصاحب ، ہم نشین ۔
مکتی مذکر : (۱) ہم رو ، ہم معنی ، ایسے دو لفظ جس کے معنی ایک ہی ہوں ۔
مکتی ترتیب : (۱) ترتیب دیا ہوا ، درست کیا ہوا ۔
مکتی ترتیب : (۱) ترتیب دینے والا ۔

- مُتَصَرِّمٌ : (ع) ترجمہ کیا گیا۔
- مُتَصَرِّمٌ : (ع) ترجمہ کرنے والا، ترجمان۔
- مُتَصَرِّفٌ : (ع) مگر مند، متغیر، پس و پیش کرنے والا، مضطرب، پریشان۔
- مُتَصَرِّسٌ : (ع) بیچنے والا، خطیبیچے والا۔
- مُتَصَرِّحٌ : (ع) نپکنے والا، ظاہر، عیاں، آشکار۔
- مُتَصَرِّدٌ : (ع) امیدوار، منتظر، متوقع۔
- مُتَصَرِّبٌ : (ع) منتظر، امیدوار۔
- مُتَصَرِّبٌ : (ع) انتظار کیا گیا، امید کیا گیا۔
- مُتَصَرِّبَةٌ : (ع) موت؛ امید کی ہوتی چیز۔
- مُتَصَرِّمٌ : (ع) گانے والا۔
- مُتَصَرِّوْکٌ : (ع) مذکر؛ چھوڑا گیا، ترک کیا ہوا۔
- مُتَصَرِّوْکَاتٌ : (ع) مذکر؛ ترک کی ہوئی چیزیں، چھوڑی ہوئی چیزیں۔
- مُتَصَرِّزٌ : (ع) لرزے والا، کانپنے والا، جنبش کرنے والا، ڈمگانے والا، غیر مستقل۔
- مُتَسَاوٍیٌ : (ع) آپس میں برابر، ایک دوسرے کے برابر۔
- مُتَسَلِّطٌ : (ع) غلبہ پانے والا، قابو پانے والا، قبضہ کرنے والا۔
- مُتَسَاوٍہٌ : (ع) ہم شکل، ایک صورت کے، مشتبہ، مشکوک
- ۳۱، مذکر؛ بھول چوک، شبہ (۳) وہ حرف جو ایک شکل کے ہوں۔
- مُتَسَاوٍہَاتٌ : (ع) موت؛ وہ آیتیں جن کے معنی سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔
- مُتَسَاوٍرٌ : (ع) جو شاعر ہو مگر اپنے آپ کو شاعر ظاہر کرے، بناوٹی شاعر۔
- مُتَسَدِّدٌ : (ع) تشدد کرنے والا۔
- مُتَسَدِّرٌ : (ع) پابند شریعت، پارسا، پرہیزگار، پکا دین دار۔
- مُتَسَدِّرٌ : (ع) شکر گزار۔
- مُتَسَدِّکٌ : (ع) مذکر؛ شک کرنے والا۔
- مُتَسَدِّقٌ : (ع) شکل اختیار کرنے والا، کوئی صورت قبول کرنے والا۔
- مُتَسَدِّقٌ : (ع) شک میں پڑنے والا۔
- مُتَسَادِمٌ : (ع) ٹکرا جانے والا۔
- مُتَسَدِّدٌ : (ع) سر میں درد پیدا کرنے والا، تکلیف دینے والا۔
- مُتَسَدِّدٌ : (ع) مذکر؛ (۱) پیشکار (۲) ہتم، کوشش کرنے والا،
- (۲) کاتب، فخرز (۳) نائب، گماشتہ (۵) محاسب۔
- مُتَصَرِّفٌ : (ع) قابض، قبضہ کرنے والا، تصرف کرنے والا۔
- مُتَصَرِّفٌ : (ع) موت؛ مقبوضہ، جو چیز تصرف میں آگئی ہو۔
- مُتَصَرِّفٌ : (ع) تعریف کیا گیا، موصوف، جس کا تو کوئی وصف لگا ہو۔
- مُتَصَرِّفٌ : (ع) صفت رکھنے والا۔
- مُتَصَرِّفٌ : (ع) پاس، قریب، نزدیک، برابر، بلا ہوا، پہنچنے والا، (۳) متوازی، لگانا، پے دپے۔
- مُتَصَوِّرٌ : (ع) تھوڑا کیا گیا، خیال کیا گیا۔
- مُتَصَوِّرٌ : (ع) تھوڑا کرنے والا، صورت باندھنے والا۔
- مُتَصَادٌ : (ع) مذکر؛ منافی، برعکس، خلاف، اٹا، ضد۔
- مُتَصَرِّعٌ : (ع) رونے والا، گڑ گڑانے والا۔
- مُتَصَطِّبٌ : (ع) شامل، مشتمل، داخل، مشمولہ۔
- مُتَصَلِّمٌ : (ع) ظلم کی شکایت کرنے والا، فریادی، دادخواہ۔
- مُتَخَاَرِفٌ : (ع) ایک دوسرے کے خلاف۔
- مُتَخَاَرِفٌ : (ع) ایک دوسرے سے واقف، مشہور، معروف۔
- مُتَخَاَرِفٌ : (ع) موت؛ مشہور، معروف۔
- مُتَخَاَرِبٌ : (ع) تعاقب کرنے والا، پیچھے دوڑنے والا۔
- مُتَعَالٌ : (ع) عالی مرتبہ، بزرگ، برتر، خدا۔
- مُتَعَالٌ : (ع) (۱) برتر (۲) خدا تعالیٰ۔
- مُتَعَجِّبٌ : (ع) تعجب کرنے والا، حیران، تیر، دنگ، ششدر۔
- مُتَعَدِّدٌ : (ع) زیادہ گنے ہوئے، چند، تھوڑے، گنتی کے، (۳) بہت، کئی، بہتر سے (۳) متفرق، جدا جدا، مختلف۔
- مُتَعَدِّدٌ : (ع) (۱) پھیلنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، (۲) اُذکر گنے والی بیماری (۳) علم صرف کی اصطلاح (ع) مذکر؛ وہ فعل جو مفعول کو بھی جا ہے۔
- مُتَعَدِّدٌ : (ع) دُشوار، مشکل۔
- مُتَعَدِّدٌ : (ع) روکنے والا، مخالفت کرنے والا، مانع، مزاحم۔
- مُتَعَدِّبٌ : (ع) سخت دل، تنگ دل، تعصب کرنے والا۔
- اپنے مذہب کی طرفداری کرنے والا۔
- مُتَعَدِّقٌ : (ع) مٹا ہوا، بدبودار۔
- مُتَعَدِّقٌ : (ع) تعلق رکھنے والا، لگاؤ رکھنے والا (۳) شامل

- مُتَمَلِّک : (ع) ماتحت ، وابستہ ، تابع ۔
- مُتَعَلِّقَات : (ع) مذکر ؛ وہ چیزیں جو کسی دوسری چیز سے وابستہ ہوں۔
- مُتَعَلِّقین : (ع) مذکر ؛ وابستگان ، (۳۱) ہار ، گھر کے لوگ ہال بچے ، اہل و عیال ۔
- مُتَعَلِّم : (ع) تعلیم پانے والا ، طالب علم ۔
- مُتَعَف : (ع) مذکر ؛ شیعہ عقائد کے مطابق کسی عورت سے کچھ مدت کے لیے یہ کیا جانے والا نکاح ۔
- مُتَعَهِّد : (ع) ذمہ دار ، کام میں مشغول ، عہد کرنے والا ۔
- مُتَعَيِّن : (ع) مذکر ؛ کسی کام پر لگایا گیا ۔ مقرر کیا ہوا ، تعین کیا ہوا ۔
- مُتَعَاَبِر : (ع) الگ ، جدا ۔
- مُتَعَيِّر : (ع) بدلنے والا ، ایک حال سے دوسرے حال پر ہوجانے والا بے ثبات ، غیر مستقل ۔
- مُتَعَيِّر : (ع) بدلا ہوا ، تبدیل شدہ (۳) حیران ، گمراہ یا ہوا ۔
- مُتَعَاوِت : (ع) جدا ، مختلف ، دور ۔
- مُتَعَفِّس / مُتَعَفِّص : (ع) ڈھونڈنے والا ، تلاش کرنے والا ۔
- مُتَعَفِّر : (ع) تنہا ، لیگانہ ۔
- مُتَعَفِّرِع : (ع) کسی چیز سے اس کی شاع کی طرح نکلنے والا ۔
- مُتَعَفِّرِق : (ع) جدا جدا ، الگ الگ ، پراگندہ منتشر ۔
- مُتَعَفِّرِقَات : (ع) مذکر ؛ مختلف چیزیں (۳) حساب کی مختلف رقمیں (۳) زمین کے جدا جدا اور مختلف حصے ۔
- مُتَعَفِّق : (ع) اتفاق کرنے والا (۳) رضا مند ، موافق ، (۳) ہم خیال ، ہم مشورہ ۔
- مُتَعَفِّقُ الرَّاتِی : (ع) مُت - نَفِیْر - راتے) ہم راتے ، ہم خیال ، ہم مشورہ ۔
- مُتَعَفِّقُ عَلَیْہِ : (ع) جس پر اتفاق کیا گیا ہو ، سب کی راتے اور مرضی کے موافق ۔
- مُتَعَفِّق : (ع) موثق ، اتفاق کیا ہوا ۔
- مُتَعَفِّز : (ع) غلامند ، منموم ، اداس ۔
- مُتَعَفِّق : (ع) مکار ، فریبی ، عیار ، دھوکے باز (۲) فتنہ پیداکرنے والا ۔
- مُتَعَاَبِل : (ع) باہم مقابلہ کرنے والا (۳) حریت (۳) آمنے سامنے
- مُتَعَاَبِر : (ع) ایک دوسرے کے نزدیک (۳) عرض کی ایک گھر ۔
- مُتَقَاَضِی : (ع) تقاضا کرنے والا ، مانگنے والا ، طلب کرنے والا ۔
- مُتَقَدِّم : (ع) آگے بڑھنے والا ، اگلا ، پُرانا ۔
- مُتَقَدِّمِین : (ع) مذکر ؛ جمع متقدم کی ، پہلے زلنے کے لوگ ، پرانے لوگ ، پیش رو ۔
- مُتَقَرَّب : (ع) (۱) پہنچنا ، (۲) حد اشناس (۳) پہنچنا ، (۴) سے پہنچنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِر : (ع) (۱) تکبر کرنے والا ، مغرور ، گھٹڑی ، خود پسند (۲) بزرگ منش ، کمال بزرگی والا ، (اس معنی میں صرف خدا تعالیٰ کا نام ہے) ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) ضامن ، کیل ، ذمہ دار ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) تکلیف برداشت کرنے والا (۲) تکلف کرنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) (۱) بات کرنے والا ، (۲) علم کلام کا ماہر ۔
- مُتَقَرَّبِلِین : (ع) مذکر ؛ جمع متکلم کی ، علم کلام کے ماہر ، وہ لوگ جو مذہبی امور کو عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) اثر ڈالنے والا ، طلب کرنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) تلاش کرنے والا ، ڈھونڈنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) موجزن ، تھپڑے مارنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) تے کرنے کو جی چاہنا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) لذت اٹھانے والا ، ذائقہ چکھنے والا ، (۲) لطف اٹھانے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) غیر مستقل مزاج ، مختلف رنگ اختیار کرنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) طبیعت ماش کرنا ، اُکباتی ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) فائدہ اٹھانے والا ، مستفید ، (۳) حج کا عمرہ کرنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) مہذب ، بسنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) نافرمان ، کسرش ، باغی ، پھرا ہوا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) خوشامدی ، ہاں میں ہاں ملانے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) جگہ بگڑنے والا ، جاگزیں ، قرار بگڑنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) تمنا کرنے والا ، آرزو مند ، خواہش کرنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) موجزن ، لہریں مارنے والا ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) دولت مند ، مال دار ، امیر ۔
- مُتَقَرَّبِل : (ع) جدا ہونے والا ، الگ ، علاحدہ ۔

مستی : مذکر؛ حضرت صلی کے ایک خواری کا نام۔

مُتَبَقِّينَ : (ع) یقین کرنے والا یقین۔

مُتَبَقِّينَ : (ع) یقین، یقین کیا ہوا۔

مُتَبَقِّينَ : (ع) مضبوط، استوار، مستقل مزاج، سنجیدہ۔

مُتَبَقِّينَ : موت؛ دودھ مستحق لکڑی۔

مُتَبَقِّينَ : (ع) مذکر؛ متصفا، پلنا، گوندنا۔

مُتَبَقِّينَ : مذکر؛ آسان کے تیسرے بروج کا نام، جوزا۔

م م

مُتَابَا : مذکر؛ فرہی، ترمندی، جسامت۔

مُتَابَا : (ع) معدوم کرنا، نابود کرنا، بے نشان کرنا، کھرچنا،

چھیلنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، (ع) منسوخ کرنا، زد کرنا۔

مُتَابَا : موت؛ موٹاپا، فرہی، جسامت۔

مُتَابَا : موت؛ محو، محو، مقابل، آنا سامنا

دوبدو ہوجانا، (ع) اتقاہی طاقات۔

مُتَابَا : مذکر؛ ایک قسم کا خلد۔

مُتَابَا : مذکر؛ (ع) ہواخوری، سیر، (ع) آوارہ گردی۔

مُتَابَا : موت؛ چھوٹی گھڑی، گھڑی کے ساتھ متصل ہے۔

مُتَابَا : موت؛ ناد غرہ، چھلا۔

مُتَابَا : موت؛ (ع) سرد اور اتھ ایک خاص انداز

سے بلا ہلا کر باتیں کرنا۔

مُتَابَا : (ع) گھلانا، پھرانا، چمکانا، (ع) ہلانا، چمانا، (ع) کسی کے ساتھ

تسمیر، آمیز حرکتیں کرنا۔

مُتَابَا : (ع) سر یا اعضا کو حرکت دینا، (ع) زائد حرکتیں کرنا، (ع)

اٹھانا، مشوقانہ ادا دکھانا۔

مُتَابَا : موت؛ ناز غرے کرنے وال، شک شک کر پلنے والا حرکت۔

مُتَابَا : مذکر؛ ایک قسم کا بڑا گھڑا۔

مُتَابَا : موت؛ (ع) چھوٹا گھڑا، ٹھلیا، (ع) شراب کا گھڑا۔

مُتَابَا : مثلاً؛ مذکر؛ موٹے جسم کا بعد، ہے انتہا تومند۔

مُتَابَا : MUTTON (گ) مذکر؛ بکے یا بھرنے کا گوشت۔

مُتَابَا : CHOP (گ) مذکر؛ گوشت کے

تلیے ہوئے ٹکڑے۔

مُتَابَا : (ع) ناپید ہونا، معدوم ہونا، بے نشان ہونا، (ع) تباہ ہونا،

برباد ہونا، (ع) ختم ہونا، (ع) زائل ہونا، چھیلنا، (ع) چھین

ہونا، فریفتہ ہونا۔

مُتَابَا : موت؛ گرد، خارا، خاک، ڈھول، (ع) کچھ، زمین، (ع)

غیر، سرشت، (ع) میت، (ع) بے رونق بے کار۔

مُتَابَا : اکتیاش، مرجانا، میت کا اٹھایا جانا۔

مُتَابَا : ذلیل و رسوا کرنا، بُرا حال کرنا، دُرگت کرنا،

آہنی اڑانا۔

مُتَابَا : اچھی طرح کھن ڈھن کرنا۔

مُتَابَا : خراب رہنا، پریشان رہنا، سرگرداں رہنا، برباد رہنا۔

مُتَابَا : خراب کرنا؛ (ع) مُر دے کی چھپر ڈکھین اچھی طرح نہ کرنا،

(ع) رسوا کرنا، ذلیل کرنا، بدنام کرنا، (ع) اکتیاش، برباد کرنا۔

مُتَابَا : خراب ہونا؛ اکتیاش، تباہی، بربادی۔

مُتَابَا : خوار کرنا؛ ذلیل کرنا، رسوا کرنا، خوار کرنا۔

مُتَابَا : خوار ہونا؛ تباہ ہونا، ذلیل ہونا۔

مُتَابَا : قبریں دفن کرنا، دفنانا۔

مُتَابَا : (ع) چھپانا، پردہ پوشی کرنا، (ع) درگزر

کرنا، (ع) لعنت بھیجنا۔

مُتَابَا : (ع) کا تھوڑا / کا دھوندا؛ اکتیاش، کم عقل،

بعد آنا سمجھ۔

مُتَابَا : (ع) کیر و سن آتیل،

بیم و مریض میں جلیا جالے والا تیل۔

مُتَابَا : ایک مشہور عطر۔

مُتَابَا : (ع) خراب کر دینا، لگانا، خاک میں ملانا،

(ع) میلان کرنا، مٹی کے رنگ کا کرنا، (ع) برباد کرنا، لٹانا،

بے لطف کر دینا۔

مُتَابَا : مصلحت، نہایت ارزاں، نہایت سستا، کڑیوں کے ٹولے۔

مُتَابَا : (ع) خاک ہوجانا، خاک میں مل جانا، (ع) وسیعہ

ہوجانا، (ع) بے رونق ہوجانا، (ع) ملد ہوجانا، (ع) ہوجانا

مٹیاریں : موت؛ بھر ریت کی زمین، اطلاع کی زمین۔

مشاب : (ع) صلہ کے قابل، لائق، ثواب دیا گیا۔
مشال : (ع) مویشی؛ (۱) نظیر، مانند، مشابہت (۲) تمثیل، تصویر، صورت (۳) نمونہ، (۴) سسند، (۵) حکیمانہ، (۶) فرمان، (۷) مذکر (تعریف کی اصطلاح) اس ظاہری عالم کے نمونہ کا ایک اور عالم، عالم مشال۔

مشائیت : مویشی؛ (۱) مثالیں دے کر بات کہنے کا انداز (۲)

انگ، آئینہ، ازم، (۵) آدرش واد۔

مشانہ : (ع) مذکر؛ پھلکا، پیشاب کی تھیلی۔

مشیت : (ع) مذکر؛ (۱) جو معنی نہ ہو، جس میں فعل کا ہونا پایا جائے۔

(۲) مصدقہ، تصدیق کیا گیا، ثابت کیا ہوا۔

مشیت : (ع) (۱) ثابت کرنے والا، (۲) تصدیق کرنے والا (۳) مٹل۔

مشقال : (ع) مذکر؛ (۱) ساڑھے چار ماشہ کا وزنی (۲) سونے کا ایک لکڑ جو عرب میں رائج ہے۔

مشل : (ع) مویشی؛ (۱) کہاوٹ، مثال (۲) کہانی، داستان۔

مشل : (ع) (۱) مانند (۲) قسم، طرح، نظیر، مشابہ، یکساں

برابر، ملتا ہوا۔

مشلا : (ع) جیسے، گویا، یعنی، جس طرح۔

مشلت : (ع) مذکر؛ تین ضلعوں کی شکل (۲) تین تین مصرعوں کا بند

(۳) سد گوشہ، تھون (۴) علم عروض کا ایک وزن۔

مشاشی : مشلت، جیسا، تھون۔

مشجر : (ع) (۱) پہل دیے والا (۲) فائدہ مند۔

مشقن : (ع) (۱) ہشت پہلو، آٹھ کونیا، آٹھ ضلعوں کا، آٹھ ضلعوں

کی شکل (۲) مویشی؛ (اصطلاح علم عروض) وہ بیت جس

میں آٹھ وزن ہوں۔

مشقی : (م۔ ثن۔ نا) (ع) مذکر؛ دوسری نقل، نقل مطابق اصل

دوسرا پرت (۲) دو ٹکڑے کیا ہوا، دوہرا۔

مشقوی : (ع) مویشی؛ (۱) دوکامیبا (۲) مسلسل نظم

جس میں ہر شعر کا قافیہ الگ اور شعر کا ہر مصرع

ہم قافیہ ہوتا ہے، ہر مصرعہ نظم کا وزن ایک

ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر

نہیں ہوتی۔

مشیا سانپ : مذکر، بھورے رنگ کا سانپ۔

مشیالا : (۱) بھولا، مٹی کے رنگ کا، (۲) مذکر مٹی کا رنگ۔

مشیا میل کرنا : (ع) تباہ کرنا، برباد کرنا۔

مشھر : مذکر؛ (۱) خانقاہ، دھرم شالہ، بیت خانہ (۲) ہندو

فقیروں کی جو نیڑی، کٹی، (۳) پاٹ شالہ، مذہبی مدرسہ

(۴) نیل کا حوض۔

مشھا : مذکر؛ (۱) مٹکن نکلا ہوا دہی، چھاچھ، پتلا دہی، (۲)

سست، ڈھیلا، گند ذہن (۳) گند دھار کا،

(۴) سست رفتار گھوڑا۔

مشین : مذکر؛ (۱) سستی، کابلی (۲) کند ذہن ہونا۔

مشھا : مذکر؛ (۱) مشقی، پ (۲) بندل، گٹھا، (۳) قبضہ،

دستہ، مویشی، گرفت۔

مشھا مشھا کر باتیں کرنا : مزہ لے لے کر باتیں کرنا،

تمکنت کے ساتھ بولنا۔

مشھا رنا : (۱) گول کرنا، مدد بولنا (۲) کس پید کرنا، آٹے

کو ٹکی دینا، (۳) باتیں بتانا، (۴) مفصل بیان

کرنا، (۵) پھسلانا۔

مشھا س : مویشی؛ شہرینی، میٹھا پن، شیرینی کا مزا۔

مشھی : مویشی؛ بچوں کا پیار۔

مشھی : مویشی؛ (۱) ٹکی، سمیٹا ہوا ہاتھ کا پنجہ (۲) چکل قبضہ،

مشیت (۳) گرفت، پکڑ، (۴) بند ہاتھ کی مقدار جو

نانچے میں آتی ہے۔

مشھا : گرم کرنا؛ رشوت دینا۔

مشھا : مویشی؛ (۱) میٹھا پن، شیرینی۔

مشھو : مذکر؛ (۱) لوتنا، (۲) مجازاً، پیارا، (۳) پیاری پیاری

باتیں کرنے والا بچہ۔

مشھیما : مویشی؛ (۱) موٹھ، قبضہ، (۲) گڑ کی پتی (۳) عو،

ایک قسم کا زیور۔

مشھیانا : (۱) ہاتھ میں پکڑنا، (۲) قبضہ میں لانا۔

م ش

م ج

قاتل ہو، (۳۱) ٹیک اور عمدہ راستہ نکالنے والا (۵۱) شیخہ
مذہب کا نقیب، مذہب کا پیشوا۔

مُجَدِّد: (۱۷) مذکر؛ شرافت، بزرگی، عظمت، برتری۔

مُجَدِّد: (۱۷) (۱۱) پرانے کو نیا کرنے والا (۲) رفاہی، مُصلِح، دین
میں اصلاح کرنے والا (۳۱) دین کی بدعتوں کو دور کرنے والا،
(۳۱) ایجاد کرنے والا، کوئی کام از سر نو کرنے والا۔

مُجَدِّدِ اَوَّل: (۱۷) نئے سرے سے۔

مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِي: (۱۷) دوسرے ہزار برس کا مُجَدِّد، شیخ احمد
سرہندی سے مُراد ہے۔

مُجَدِّدِوَب: (۱۷) (۱۱) کھینچا گیا، جذب کیا گیا، (۱۱) مذکر، صاحب جذبہ،
خدا کی محبت میں جذب، عزق، (۲) ایک طرح کا خیر (۳) اُردو؛
پاگل، دیوانہ، بشری، سوداگی۔

_____ کی بڑ: موت، بے سرو پا باتیں۔

مُجَدِّدِوَم: (۱۷) مذکر؛ کوڑھی، اُجدامی۔

مُجَدِّدِوَم: (۱۷) مذکر؛ جاری ہونے کی جگہ۔

مُجَدِّدِوَم: (۱۷) مذکر؛ (۱۱) جاری کیا گیا (۳) کوئی، منہائی (۳) (اردو)

کوڑھی، ادب کے ساتھ کسی کو سلام کرنا (۳) شادی کی محفل میں
میراثوں کا گانا (۵۱) طوائفوں کا پیشوکر گانا (۱۱) ایک قسم کا مرثیہ
جو زبانی، قلم، قصیدہ یا غزل کے طرز پر کہا جاتا ہے، اور اس
کے مطلع یا پہلے شعر میں لفظ مُجَدِّدِوَم استعمال کیا جاتا
ہے۔ (۱۷) نایب رنگ، رقص۔

_____ کرانا: (۱۱) حساب میں لگانا، مسبب کرنا، منہا کرنا،

کاٹ دینا، (۲) آداب، بجالانا، تسلیات کرنا، (۳) طوائف
کا پیشوکر گانا۔

_____ ہونا، (۱۱) حساب میں لگایا جانا، وضع ہونا، وصول ہونا،
(۲) نایب گانا ہونا۔

مُجَدِّدِوَم: (۱۷) مذکر؛ سلامی، سلام کرنے والا، (۳) منصب دار وہ

لوگ جو صرف سلام کرنے کی خواہ پاتے ہیں، درباری (۳) نظم

میں سلام کہنے والا شاعر (۳) موت، (اردو) منہائی۔

مُجَدِّدِوَم: (۱۷) تخریب کیا ہوا، کاگر، تیر، مہدف، موثر، آزموہ۔

مُجَدِّدِوَم: (۱۷) تخریب کی ہوئی چیزیں، آزمائے ہوئے نئے۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ (۱۱) لڑائی، جنگ، ہنگامہ، باہمی جھگڑا (۳) دشمنی،
صلوات (۳) محنت، تکرار، مباحثہ۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ (۱۱) حقیقت کے برعکس، غیر حقیقی (۳) اختیار دینا
اہانت دیا گیا، مختار (۱) ہونے کے ساتھ۔

مُجَاوِل: (۱۷) (۱۱) غیر اصلی، غیر حقیقی (۳) فرض کیا ہوا، فرضی،
مُراد (۳) نقل، جعل، مصنوعی۔

مُجَاوِل: (۱۷) موت، قدرت، طاقت، بساط، حوصلہ، بس، مقدرہ۔
مُجَاوِل: (۱۷) (مختوم) مذکر؛ (دہلی) موت، جمع مجلس کی، مجلسین
انجمنیں، سبائیں۔

مُجَاوِل: (۱۷) ہم نشینی، مل جل کر بیٹھنا۔

مُجَاوِل: (۱۷) جمع: جمع کی۔

مُجَاوِل: (۱۷) موت، جمع، صحبت، ہم بستری، مباشرت۔

مُجَاوِل: (۱۷) موت، ہم جنس ہونا، ہم جنسی، ہم قوی۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ جمع مجنون کی، دیوانے، پاگل۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ (۱۱) پاس رہنے والا، پڑوسی، ہم سایہ (۲) دکھلا
اور تبرک مقامات کا خادم۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ کوشش کرنے والا، مذہب کی خاطر لڑنے والا
غازی، جہاد کرنے والا۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ جانفشانی، نفس کشی، محنت، شقت، ریاضت۔

مُجَاوِل: (۱۷) مذکر؛ جمع جہاد کی۔

مُجَاوِل: (۱۷) ناچار، بے بس، عاجز۔

مُجَاوِل: (۱۷) تنگ کر، جبر سے، تنگ کر، بے بس ہو کر۔

مُجَاوِل: (۱۷) عاجزی، بے بسی، ناچاری۔

مُجَاوِل: (۱۷) منتجب، چُنا ہوا، برگزیدہ، پسندیدہ، چھانٹا ہوا،
(۲) پیغمبر خدا کا لقب۔

مُجَاوِل: (۱۷) اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا۔

مُجَاوِل: (۱۷) علاحدگی اختیار کرنے والا، پرہیز کرنے والا، دور رہنے

مُجَاوِل: (۱۷) اجتہاد کرنے والا (۲) کوشش کرنے والا۔

مُجَاوِل: (۱۷) جہاد کرنے والا، (۳) جو دہلی کے ساتھ ایک بات کا

- مخبرو :** (ع) تنہا، ایلا، ۱۱، بن یاما، سنیاسی، تارک الدنیا ، آزاد، ۱۱، غیر مادی چیز۔
- مخبر دات :** (ع) مذکر، ۱۱، غیر موسوم، غیر مادی وجود، غیر جسمانی چیزیں، بے جسم وجود، ۱۱، فرشتے روحیں۔
- مخبر م :** (ع) مذکر؛ جرم کرنے والا، گنہگار، خطا دار۔
- مخبر فوج :** (ع) (۱) گھاس، زخمی (۲) وہ بیان جو ناقابل قبول ہو۔
- مخبرنی :** (ع) وہ ناپے گلنے والا جو تیرہ کر گاتے (۲) سلام کرنے والا۔
- مخبر شریٹ :** MAGISTRATE (انگ) مذکر، حاکم فوجداری۔
- مخبر شیطی :** (م) جس۔ (ط) موت؛ حکیم بطیموس کی مرتب کی ہوئی وہ کتاب جس کا ترجمہ مفتح طوسی نے کیا تھا
- مخبر شتم :** (ع) (۱) جسم والا، مشغ، (۲) سرا۔
- مخبر شہ :** (ع) مذکر؛ بت۔
- مخبراً / مخبراً :** (ع) جلایا گیا ہوا، چمکایا ہوا
- مخبراند :** (ع) جلد باندھا ہوا۔
- مخبرس :** (ع) موت؛ (۱) بیٹھے کی جگہ (۲) انجن (۳) جلسہ (۴) کربلا کے شہیدوں کے نام اور فاتحہ کا مجمع۔
- انتظامیہ / منتظمہ :** (اضافت کے ساتھ) انتظام کرنے والی جماعت (انگ) (ایگزیکٹو کمیٹی)۔
- شورسکی :** موت؛ (اضافت کے ساتھ) صلاح و مشورہ کی مجلس۔
- عالمہ :** (اضافت کے ساتھ) منتخب ارکان کی جماعت جو کارکردگی کی ذمہ دار ہوتی ہے، ورکنگ کمیٹی۔
- WORKING COMMITTEE.
- عامہ :** (اضافت کے ساتھ) عام اجلاس، جنرل میٹنگ۔
- قائمہ :** (اضافت کے ساتھ) مستقل کمیٹی جو مقرر کرنے والوں کی موجودگی تک قائم رہے، اسٹینڈنگ کمیٹی۔
- STAND-IN-
- DING-COMMITTEE
- مخبرہ :** (ع) مذکر؛ علمی رسالہ، میگزین۔
- مخبرتی :** (ع) روشن کرنے والا، جلادینے والا۔
- مخبر :** (ع) مذکر؛ جو شہر جلانے کا برتن، عودوان۔
- مجمع :** (ع) مذکر؛ مجمع ہونے کی جگہ، مجلس (۱) ہجوم، بھیڑ، ہنگامہ۔
- مجمع الجزائر :** (ع) مذکر؛ ناپوں کا ٹھکانہ، کئی اکتے جزیرے۔
- مجمعل :** (ع) خلاصہ، اختصار۔
- مجملاً :** (ع) سرسری، اجمالاً، مختصراً۔
- مجموع :** (ع) جمع، تمام، کل۔
- مجموعہ :** (ع) مذکر؛ (۱) اکٹھا کیا ہوا (۲) کلیات، ذخیرہ۔
- مجموعی :** (ع) اکتھی، کل، تمام۔
- مجنون :** (ع) (۱) پاگل (۲) عاشق (۳) ایلا (یلا) کے عاشق قیس کا لقب (۴) ڈبلا پتلا اور کمزور آدمی، (۵) ایک دوش، بید مجنون۔
- مجزر :** (ع) تجویز کرنے والا، رلے دینے والا۔
- مجزرہ :** (ع) موت؛ تجویز شدہ، مقررہ۔
- مجویس :** (ع) مذکر؛ جمع مجوسی کی۔
- مجویسی :** (ع) مذکر؛ آتش پرست، زردشت کا پیرو۔
- مجزوف :** (ع) کھوکھلا، پھولا۔
- مجزول :** (ع) (۱) نامعلوم (۲) وہ فعل جس کا قائل نہ معلوم ہو، (۳) اڑو، سست، کابل، نکتا۔
- مجزولیت :** موت؛ بے حرکتی، سستی، ناقابل مزاحمت، جمود، بے عملی، انفعالییت۔
- مجزولاً :** (ع) منغلا، درمیانی (۲) مذکر؛ بڑا دیگچہ، چھوٹی دیگ
- موت؛ مجزولی۔**
- مجھے :** مجھ کو، میری ذات کو۔
- مجھسی :** مجھ ہی۔
- مجیب :** (ع) (۱) جواب دینے والا (۲) قبول کرنے والا (۳) خودا کا نام، (۴) (طبی اصطلاح) اجابت لانے والی دوا۔
- الذخوات :** (ع) مذکر؛ دھاسیں قبول کرنے والا خدا تعالیٰ۔
- مجبٹھم :** موت؛ ایک قسم کی سرن لکڑی جس سے کپڑے لٹکے جاتے ہیں۔
- مجبید :** (ع) (۱) بزرگ، (۲) خدا کا نام۔
- مجبیرا :** مذکر؛ پیش کی چھوٹی چھوٹی کٹوریاں دھیلے کے ساتھ تال دینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے بجاتے ہیں۔

مخازات : (ع) مذکر، جمع مازکی، مقابلہ کرنا، آنے سے پہلے ہونا۔
مخاڑی : (ع) مقابل، دوبرو، مقابلہ کرنے والا، برابر ہونے والا۔
مخازبات : (ع) مذکر، جمع مہاربی کی۔

مخازبہ : (ع) مذکر، لڑائی، جنگ، معرکہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا۔

مخاسب : (ع) علم حساب سے واقف، حساب داں، (م) حساب کرنے والا۔ (انگ) اکاؤنٹنٹ

مخاسبہ : (ع) مذکر، (۱) حساب، شمار، پرتال، (۲) بازپرسی، (۳) پلاچہ گھم۔

مخاسن : (ع) مذکر؛ خوبیاں، نیکیاں، اچھائیاں۔
مخاضرہ : (ع) مذکر؛ گہرا، قلعہ بندی، چاروں طرف سے گھیر لینا۔

مخاصرن : (ع) مذکر؛ گہرا ڈونلے والے۔
مخاصل : (ع) مذکر، (۱) معمول، (۲) حاصل، آمدنی، نفع، نتیجہ۔

مخافظ : (ع) (۱) نگراں، چوکیدار، پاسبان، (۲) سرپرست، ولی۔
خانہ : مذکر؛ فیصلہ شدہ مسئلے اور کاغذات رکھنے کا دفتر۔

RECORD OFFICE

RECORD KEEPER

رکارڈ آفس
دفتر : ریکارڈ کیپر
 مسئلوں کی حفاظت کرنے والا۔

مخافظت : (ع) مؤنث، (۱) حفاظت، نگراںی، (۲) سرپرستی۔
مخافض : (ع) مؤنث؛ جمع محض کی، انجنیں، محفلیں۔

مخافہ : (ع) مذکر؛ پردے دار سواری جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں۔
مخاق : (ع) مذکر، (۱) چاند کا گھٹن، (۲) چاند کے گھٹنے

کے دن، (۳) چاند کی آخر تین راتیں جب ۵۵ چھپ جاتا ہے۔

مخاکات : (ع) مؤنث؛ (۱) آپس میں بات چیت کرنا، (۲) کسی چیز یا حالت کو اس طرح ادا کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ (۳) ایک دوسرے سے مشابہ ہونا۔

مخاکمہ : (ع) مذکر؛ (۱) کسی بات کے فیصلے کے لیے حاکم کے پاس جانا، (۲) انصاف طلبی، دعو، فیصلہ۔

مخال : (ع) مذکر، (۱) جمع محل کی، مکانات، مقدمات، (۲) آراضی کا وہ رقبہ جس میں متعدد پٹیاں ہوں اور جس پر مال گذاری ملاحہ

م ج

مچا : مذکر؛ گوشت کا بڑا ٹکڑا جس میں ہڈی نہ ہو۔

مچان : (۱) سامان وغیرہ رکھنے کے لیے دیوار سے لاکر لگائے گئے تختے، ٹائڈ، دیولگر، (۲) ہونٹ، چھت کے نیچے کی ایک عارضی چھت،

(۳) باغ یا کھیت کی ٹھکانی کرنے کے لیے زمین سے اونچائی پر باندھی گئی لکڑیاں، (۴) شیر کے شکار کے لیے بنائی گئی اونچی جگہ۔

مچانا : (۱) عمل میں لانا، برپا کرنا، (۲) گاڑی میں بیل یا گھوڑے جوڑنا۔
مچلکھ : (۱) مذکر، (۲) عہد نامہ، (۳) مجرم کا قہریری عہد۔

مچلنا : (۱) ضد پر آنا، (۲) رونا، بلکنا، (۳) ٹال مٹول کرنا، (۴) کسی چیز کے لینے یا دینے کی ہٹ کرنا۔

مچھانا : (۱) پڑھوت اور دست ہونا۔
مچھاپھٹ : (۱) مؤنث؛ شہوت یا سستی کا زور۔

مچھنا : مچانا کا لازم۔
مچھ : مذکر؛ (۱) بڑی مچھلی، (۲) دشو کا پانچواں اوتار۔

مچھنر : مذکر؛ ایک چھوٹا پردار زہر پلاکیٹرا جو ڈنک مارتا ہے، پشہ۔
مچھیل : مؤنث؛ (۱) ماہی، حوت، (۲) انسان کے بازو کا ابھرا ہوا

گوشت، (۳) عورت کے کان میں پہننے کا ایک زیور۔
مچھندر : مذکر؛ (۱) بڑی بڑی مونچھوں والا، (۲) چوہا، (۳) بے ہوش

آدمی، مسفرہ، ڈیوٹ۔
مچھوا : مذکر؛ چھلیاں پڑنے والا۔

مچھنی : مؤنث؛ چھلی۔
مچھون : مذکر؛ تالاب جس میں چھوٹی چھوٹی چھلیاں

پالتے ہیں۔
مچھیاں لینا : (۱) لکھتو، بوسے لینا، پیار لینا۔

مچھیل : بڑی بڑی مونچھوں والا۔

م ح

محابا : (ع) (۱) لحاظ، مروت، پاسداری، صلح، نگہداشت، (۲) مذکر؛ ڈر، خوف۔

مخاؤ : (ع) مذکر؛ مقابلے کی جگہ، میدان جنگ۔

- تخصیص ہو۔
- مُحال : (ع) ۱۱ غیر ممکن ۱۲ مثل، دشوار، کٹھن۔
- مُحالات : مذکر، جمع حال کی، وہ باتیں جن کا ہونا سخت مشکل ہو، مشکلات، دشواریاں۔
- مُحاجد : (ع) مذکر؛ اچھائیاں، نیک خصلتیں۔
- مُحاورات : (ع) مذکر، جمع معاودہ کی۔
- مُحاورہ : (ع) مذکر؛ ۱۱ ہم کلامی، باہمی گفتگو، بول چال، بات چیت
- سوال جواب، ۱۲۱ اصطلاح عام، وہ کلمہ یا کلام جسے اہل زبان نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص لہجہ میں کہیے مخصوص کر لیا ہو۔ ۱۳ مشتق، نہایت۔
- مُحب : (ع) مذکر؛ دوست، یار، مشفق، شفیق۔
- مُحبت : مؤنث؛ ۱۱ اُلفت، پیار، دوستی، ۱۲ محبت، لگن، نو۔
- نامہ : مذکر؛ دوست کا خط، ۱۵ برہم پتھر
- مُحبس : (ع) مذکر؛ قید خانہ، جیل، زندان۔
- مُحبوب : (ع) مذکر؛ ۱۱ دوست، عزیز، پیارا ۱۲ مشوق، دلدار، منظور۔
- _____ الہی : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ خدا کا پیارا، حضرت نظام الدین کا لقب۔
- _____ کبریا : (اضافت کے ساتھ) حضرت محمد کا لقب۔
- مُحبوبی / محبوبیت : مؤنث؛ محبوب ہونا۔
- مُحبوس : (ع) مذکر؛ قیدی۔
- مُحتاج : (ع) ۱۱ حاجت مند، غریب، مفلس، ۱۲ طلب گار، خواہاں، ۱۳ (اُردو) ٹکڑا، لالا، اندھا، ابلت۔
- مُحتاجی : مؤنث؛ ۱۱ عبوری، ۱۲ ضرورت، حاجت، ۱۳ افلاس، غریبی، ۱۴ تنگ دستی، ۱۵ دوسرے کا ہاتھ ٹکانا۔
- مُحتاط : (ع) احتیاط رکھنے والا، ہوشیار۔
- مُحتجب : (ع) پوشیدہ، پنہاں۔
- مُحترز : (ع) پرہیز کرنے والا، اپنے تئیں بچانے والا۔
- مُحترم : (ع) معزز، بزرگ۔
- مُعتصب : (ع) مذکر؛ ۱۱ حساب لینے والا، ۱۲ خلاف شرع باتوں کی مخالفت کرنے والا، حاکم شرع۔
- مُعتشم : (ع) احتشام والا، جاہ و جلال والا۔
- مُختل : (ع) مشکوک، گمان کیا گیا۔
- مُختوی : (ع) شامل، گمیر لینے والا۔
- مُختویات : (مخ - توی - یات) (ع) مذکر؛ کسی کتاب میں مضامین کی فہرست۔
- مُجوب : (ع) ۱۱ چمپا ہوا، پردہ میں ۱۲ میراث پانے سے محروم، ۱۳ (اُردو) شرمندہ۔
- مُجذِب : (ع) اُبھرا ہوا۔
- مُجذِب : (ع) حدیث کا علم جاننے والا۔
- مُجذِب : (ع) حد کیا گیا، گمیر ہوا، احاطہ کیا ہوا۔
- مُجذِبیت : مؤنث؛ ایک حد تک رہنے کی کیفیت، حد بند ہونا۔
- مُجذِب : (ع) ۱۱ حد کیا گیا، الگ کیا گیا، گرا گیا ۱۲ (علم عربی کی اصطلاح) مذکر؛ وہ رکن جس کے سبب تخفیف یعنی دو حرف گرا دیے جاتیں۔
- مُجرب : (ع) مؤنث؛ ۱۱ قوس نما طاق جو مسجد میں بناتے ہیں، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔
- مُجرب : (ع) لکھنے والا، کاتب۔
- مُجربہ : مؤنث؛ کتب، ...
- مُجربی : مؤنث؛ محض، تحریر کی اجرت۔
- مُجرب : (ع) ٹیڑھا، تخریف کیا گیا، مطلب سے بھرا ہوا۔
- مُجرب : (ع) مطلب سے پھرنے والا، تخریف کرنے والا۔
- مُجرب : (ع) مذکر، جلالتے والا۔
- مُجرب : (ع) مؤنث؛ ایک قسم کا بھار، (الگ) ٹانغا ٹانڈ۔
- مُجرب : (ع) صفت ۱۱ حرکت دینے والا، ہلانے والا ۱۲ اُبھارنے والا، اُکسانے والا، ۱۳ تحریک کرنے والا۔
- مُحرم : (ع) احرام باندھنے والا۔
- مُحرم : (ع) ۱۱ قریبی رشتہ دار جس سے نکاح جائز نہ ہو، ۱۲ رازدار، ۱۳ واقع، جان پہچان، ۱۴ مؤنث، اُگیا کی کٹوری (جمع محکم)
- مُحرم اسرار / محرم راز : (ف)؛ (اضافت کے ساتھ) بھید جاننے والا۔
- مُحرم کار : (اضافت کے ساتھ)؛ ۱۱ ماہر، تجسربہ کالا، کسی کام سے واقف۔

مُحْصُولُ : (ع) نذرا، (ح) حاصل، خراج، (ق) ٹیکس، (ج) خاک
خرچ، ریل کر ایہ۔

مُحْصُولِي : وہ زمین جس کی مال گزاری سرکار کو ادا کی جائے
مُحْصُولِ يِنْسِ كَے قائل۔

مُحْضَنُ : (ع) (ح) صرف، فقط، (ق) نرا، خالص، (ج) بالکل، تمام۔

مُحْضَرُ : (ع) (ح) حاضر ہونے کی جگہ، (ق) کسی حاکم کا تصدیق کیا ہوا
کاغذ، (ج) وہ نوشتہ جس پر کسی دعوے کے ثابت کرنے کے
لیے لوگ اپنی مہریں لگائیں یا دستخط کریں۔

نَاْمُهُ : (ف) نذرا، (ح) شہادتوں اور مہروں سے تصدیق
کیا ہوا کاغذ۔ (ع) عرض حال، عرض داشت، نوشتہ۔

مُحْظَوِّظٌ : (ع) خوش، لطف اندوز۔

مُخْفِلٌ : موت؛ مجلس، اجنبی، لوگوں کے اکتھا ہونے کی جگہ۔

مُحْفَوِّظٌ : (ع) (ح) حفاظت کیا ہوا، بچا ہوا، صحیح سلامت، (ق) یاد، حفظ۔

مُحْفَوِّظَةٌ : (ع) (ح) موت؛ حفاظت سے رکھی ہوئی چیز۔

مُخْفِرٌ : (ع) ذیل کیا گیا، حقیر سمجھا گیا۔

مُخْفِقٌ : (ع) نذرا، (ح) تحقیق کرنے والا، (ق) فلاسفر

مُخْفِقِي : (ع) تحقیق کیا ہوا۔

مُخْفِقَانَةٌ : (ف) تحقیق و صداقت کی زد سے۔

مُخْفِقِيْنٌ : (ع) نذرا، جمع محقق کی۔

مُخْكَ / مَخْكَ : (ع) موت؛ کسوٹی، سونے کے گھرا کھوٹا
جاڑے کا پتھر۔

مُخْكَمٌ : (ع) مضبوط، پگھا۔

مُخْكَمَاتٌ : (ع) موت؛ تسمیران کی وہ آیتیں جن کے معنی جان
اور واضح ہیں۔

مُخْكَمَةٌ : (ع) نذرا، (ح) حکم کرنے کی جگہ، (ق) عدالت، دربار، (ج) سرپرستہ
ڈپارٹمنٹ

مُخْلُوْمٌ : (ع) نذرا، (ح) حکم کیا ہوا، (ق) تابع، ماتحت، (ج) نذرا،
رہایا، نوکر چاکر۔

مُخْلٌ : (ع) نذرا، (ح) اترنے کی جگہ، مکان، جگہ، ٹھکانا، (ق)
(ف) موقع، وقت، (ج) عمارت، عالی شان مکان، (ج) ۳۱

(اردو) نذرا؛ بیوی، بیگم، ملکہ۔

مُحْرَمٌ : (ع) (ح) ہجری سال کا پہلا مہینہ، (ق) علم کا زمانہ (اسی ماہ کے
ابتدائی دنوں میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں حضرت
امام حسین کی شہادت ہوئی تھی)۔

مُحْرَمَاتٌ : (ع) موت؛ جمع محرم کی، حرام کی گئی چیزیں۔

مُحْرَوْرٌ : (ع) (ح) گرم، (ق) گرم مزاج۔

مُحْرَوْسَةٌ : (ع) موت؛ (ق) جس چیز کی نگہبانی کی جاتے (ج) وہ ملک
جو بادشاہ کی حفاظت میں ہوا (ج) محفوظ۔

مُحْرَوِّقٌ : (ع) جلا ہوا۔

مُحْرَوِّمٌ : (ع) (ح) حرام کیا گیا، باز رکھا گیا، (ق) ناکام، مایوس۔

مُحْرَوِّمِي : (ع) موت؛ نا اُمیدی، مایوسی، ناکامی۔

مُحْرَوِّقِي : (ع) اداس، غم گین۔

مُحْسِنٌ : (ع) نذرا، (ح) احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا،
سخی، فیاض، (ق) سرپرست، مددگار، معاون۔

مُحْسِنَاتٌ : (ع) موت؛ (ح) نیکیاں، (ق) نیک اور خوب صورت
عورتیں، (جمع محسنہ کی ہے)۔

مُحْسِنَةٌ : (ع) نیکی کرنے والی، احسان کرنے والی عورت۔

مُحْسَوْبٌ : (ع) (ح) حساب کیا ہوا، گناہوں، (ق) (اردو) وضع
کیا گیا، حساب میں لگایا گیا، مجرا یا گیا۔

مُحْسَوْدٌ : (ع) جس پر حسد کیا جاتے، حسد کیا گیا، رشک کیا گیا۔

مُحْسَوْسٌ : (ع) وہ چیز جو کسی جس کے ذریعہ معلوم ہو، ظاہر، آشکارا۔

مُحْسَوْسَاتٌ : (ع) محسوس ہونے والی چیز، جمع محسوسہ کی

مُحْشَرٌ : (ع) نذرا، (ح) حشر کا میدان، قیامت کے دن لوگوں کے
اکٹھا ہونے کی جگہ، (ق) اکٹھا، ہنگامہ۔

مُحْشَوْرٌ : حشر کیا گیا، قیامت کے میدان میں اٹھایا گیا۔

مُحْشَرِي : (م) - حش - شاع، (ع) حاشیہ چڑھایا ہوا، شرح کے ساتھ، مشہور۔

مُحْضَلٌ : (ع) نذرا، حاصل کرنے والا، محصول وصول کرنے والا،
تفصیل کا سپاہی۔

مُحْضَنَاتٌ : (ع) موت؛ نیک بیویاں۔ (جمع محسنہ کی)

مُحْضَنَةٌ : (ع) نیک بیوی، پارسا عورت۔

مُحْضَوْرٌ : (ع) گھبرا ہوا، قلعہ بند، مقید۔

_____ **مُحْضَرِي** : (ع) نذرا، گھر سے ہونے والے لوگ، قلعہ بند لوگ، (جمع محضری کی)

دوسرا کیل، مادہ وہ فرضی خط جس کا ایک سرا قطب شمالی

دوسرا قطب جنوبی سے ملا ہے۔

مُخَوَّل (ع) حوالہ کیا ہوا، سپرد کیا گیا۔

مُخَوَّلہ (ع) موٹھ؛ حملے کی ہوئی۔

مُخَوَّل (ع) زندہ کرنے والا، خدا۔

مُحِبُّ الدِّين (ع) دین کا زندہ کرنے والا، شیخ عبدالقادر جیلانی کا لقب۔

مُحِيط (ع) مذکورہ (۱) گھیرنے والا، (۲) سمندر دیا (۳) احاطہ (۴)

(ہیومنٹری کی اصطلاح) دائرہ، دائرے کا گول خط۔

مُخِيط (ع) مکار، جلدگر (۲) آسان کی صفت میں مستعمل ہے۔

م خ

مُخَارِج (ع) مذکورہ (۱) جمع خرچ کی، نکلنے کی جگہیں، خارج ہونے کے مقامات۔

مُخَارِز (ع) مذکورہ (۱) جمع خرچ کی، خزانے، ذخیرے۔

مُخِيب (ع) دشمنی کرنے والا، دشمنی رکھنے والا۔

مُخِيبَانَه (ع) دشمنی سے۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ دشمنی، مخالفت، بیر، لاگ۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ بات کرنے والا، متوجہ، خطاب کرنے والا۔

مُخِيبَانَه (ع) جس سے بات کی جاتے، جس سے خطاب کیا جاتے۔

مُخِيبَانَه / مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ آپس میں بات چیت کرنا،

آئے سنانے کچھ کہنا۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) دشمن، باغی، (۲) اٹھا، برخلاف، برعکس۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ دشمنی، (۳) اختلاف (۴) ضد (۵) کشیدگی۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) غمزدینے والا، (۲) اُتو، جاسوس، خفیہ پولیس۔

مُخِيبَانَه (ع) اصناف کے ساتھ، اکنائیا، حضرت محمد۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ جاسوس، خفیہ خبر رسائی۔

مُخِيبَانَه (ع) غلطی، بدعاس، سوداگی۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ جس کے ہوس قائم نہ ہیں، دیلندہ، پالک۔

مُخِيبَانَه (ع) اختیار والا، آزاد، جبار (۲) سرپرست، ولی (۳) گماشتہ، ایجنٹ، (۴) اختیار دیا گیا۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) جمع صل کی، جمع مملکی۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ، بادشاہوں نوابوں اور راجاؤں کے

زنان خانے، حرم سرا۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) مقام نگر، احترام کی جگہ۔

مُخِيبَانَه (ع) تحویل کرنے والا۔

مُخِيبَانَه (ع) حل کیا ہوا۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) اُترنے کی جگہ، ٹھکانا (۲) آبادی کا ایک

مخصوص حصہ، شہر کا کوئی علاقہ۔

مُخِيبَانَه (ع) (م۔ ع۔ ل) سجایا ہوا، زیاد سے آراستہ۔

مُخِيبَانَه (ع) خواجہ سرا۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) تعریف کیا ہوا، پیغمبر اسلام کا نام۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ تعریف، ستائش۔

مُخِيبَانَه (ع) محمد سے نسبت رکھنے والا، حضرت محمد کا پیرو۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ اونٹ کا ہودہ، کبادہ۔

مُخِيبَانَه (ع) (۱) تعریف کیا گیا (۲) مذکورہ (۳) غزنی کا ایک مشہور بادشاہ،

(۴) پیغمبر خدا کا صفاتی نام۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) پوجہ لادھا (۲) گمان کیا گیا، قیاس

کیا گیا۔ (۳) منطق کی اصطلاح، وہ خبر جو مبتدائے مقابل

واقع ہوتی ہے۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ لاد گیا، قیاس کیا گیا۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ جمع محنت کی، بلائیں، تکلیفیں۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ (۱) مشتقت (۲) مزدوری (۳) تکلیف۔

مُخِيبَانَه (ع) (۱) اضافت کے ساتھ، موٹھ؛ محنت، محنت۔

مُخِيبَانَه (ع) جفاکش۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ کام کاج۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ محنت کا صلہ، اجرت، وکیل کی فیس۔

مُخِيبَانَه (ع) محنت کرنے والا۔

مُخِيبَانَه (ع) (۱) مشاہدہ (۲) کسی خیال میں غرق، گھویا (۳) حیران، حاشی

مربوطہ (۴) تصوف کی اصطلاح، غلگی یا دین کم ہونا۔

مُخِيبَانَه (ع) موٹھ؛ محو ہونا، استغراق۔

مُخِيبَانَه (ع) مذکورہ (۱) جس پر کوئی چیز گھرے (۲) دلچسپی کی اصطلاح

مختار عالم : مذکر (انسان کے ساتھ) (افقون) اصطلاح ہے ہر شے کا اختیار دیا گیا ہو، وہ شخص جس کے نام مختار نامہ عام ہو۔
 کار : مذکر، کام کرنے کا جہاز، مہتمم، سربراہ۔
 گل / مطلق : مذکر، (انسان کے ساتھ) مکمل اختیار والا، مدار لیا گیا۔
 نامہ : مذکر، وہ توہم جس کے ذریعہ کسی کو مختار بنایا گیا ہو۔
 مختاری : (ع) موتھ، سربراہی، مختار کا پیشہ یا کام۔
 مختار : (ع) ختم کیا ہوا۔
 مختار : (ع) ختم کرنے والا۔
 مختار : (ع) مذکر، ایجاد کرنے والا۔
 مختار : (ع) مذکر، نئی ایجاد کی گئی چیزیں۔
 مختار : (ع) خاص کیا گیا، خصوص کیا گیا۔
 مختار : (ع) خلاصہ، چھوٹا۔
 مختار : (ع) اختصار کے ساتھ۔
 مختار : (ع) چھپا ہوا، پوشیدہ، خفیہ۔
 مختار : (ع) اگڑا ہوا، غلن پایا ہوا، دہم برہم۔
 مختار : (ع) اس : (ع) اس باختم، جس کے حواس قائم نہ ہوں۔
 مختار : (ع) الگ الگ، علاحدہ، جدا، طرح طرح کا۔
 مختار : (ع) وہ چیز جس میں اختلاف ہو۔
 مختار : (ع) دستخط کیا ہوا، مہر شدہ، بند کیا ہوا، مقفل۔
 مختار : (ع) اختہ کیا ہوا۔
 مختار : (ع) سن کرنے والی چیز، نیند لانے والی دوا۔
 مختار : (ع) مذکر، ہمدہ نصین عورتیں (۱۱) جمع مختارہ کی۔
 مختار : (ع) خطاک، نڈھے والا، مٹھوک۔
 مختار : (ع) مذکر، مالک۔
 مختار : (ع) موتھ، خندہ کی تائینٹ۔
 مختار / مختار : (ع) خراب کرنے والا۔
 مختار : (ع) مذکر، منج، مصدر، نکلنے کی جگہ، اصل، جز، مادہ۔
 مختار : (ع) گاؤم، گاجری وضع کا۔
 مختار : (ع) مذکر، خزانہ جمع کرنے کی جگہ، خزانہ، گودام۔
 مختار : (ع) مذکر، خزانہ میں رکھا گیا۔

مختار : (ع) موتھ، خزانے میں رکھی ہوئی چیز، گودام اور دہی ہوئی چیز۔
 مختار : (ع) خاص کیا ہوا، نامزد کیا گیا۔
 مختار : (ع) گیاروں والا، دھاری دار۔
 مختار : (ع) موتھ، وہ عورت جس کی عکسٹی ہو چکی ہو۔
 مختار : (ع) طو-طا (ع) مذکر، پرانی حسی کتاب، قلم کتاب۔
 مختار : (ع) تخفیف کیا ہوا، کم کیا ہوا، مختصر کیا ہوا (۱۱) وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا گیا ہو جیسے بڑ سے بڈ۔
 مختار : (ع) اچھا ہوا، پوشیدہ، خفیہ۔
 مختار : (ع) غلن ڈالنے والا، ٹھنڈ (۱۱) رخزدانے والا۔
 مختار : (ع) خالص، بے میں، سچا، خلوص والا، (۱۱) مذکر، سچا دوست، یا صادق۔
 مختار : (ع) موتھ، رہائی، نجات، چھٹکارا۔
 مختار : (ع) راجھا، گڈنڈ۔
 مختار : (ع) دوغلا، وہ شخص جو ایک ل سے نہ ہو۔
 مختار : (ع) پیدا کیا ہوا (۱۱) موتھ، دنیا، خلق، کائنات۔
 مختار : (ع) موتھ، دنیا اور دنیا کی چیزیں (جمع مخلوق کی) مخلوق : (ع) خالی کیا گیا، آزاد کیا گیا۔
 مختار : بے تکلف، وہ شخص جسے اس کی طبیعت پر آزاد چھوڑ دیا جاسکے۔
 مختار : (ع) سچ گوشتیا، پانچ ضلعوں والی شکل (۱۱) مذکر، وہ نظم جس میں پانچ پانچ مصرعوں کا ایک بند ہو۔
 مختار : (ع) مذکر، (۱۱) جھونک کی سوزش (۱۱) بے چینی، جھگڑا، بھینڑ، جھنجٹ۔
 مختار : (ع) موتھ : (۱۱) ایک قسم کا نہایت ملائم روٹیں دار پٹرا (۱۱) ایک قسم کا سٹریٹ اور ملائم پھول، (۱۱) کینٹیا، بہت نرم دھات۔
 مختار / مختار : (ع) غلن کا، غلن جیسا، بے حد نرم۔
 مختار : (ع) نٹے میں چور مست، متوالا، مدھوش۔
 مختار : (ع) تھرا، نامرد۔

مخول: موت؛ ششما، مذاق، چمیزخان۔

مخولیا: مذکر، مسز، ظریف، ہنسوز۔

مخیز: (ع) خیرات کرنے والا، فیاض، سخی۔

مخیلہ: (ع) مذکر، خیال کی قوت، دماغ کی ایک قوت کا نام۔

م - د، ڈ، ذ

مذ: (ع) مذکر: (۱) کھینچاؤ، چڑھاؤ، جوار (۲) لمبائی، زیادتی (۳)

موت؛ الف محدودہ کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت (د)

لکیر، نشان (۴) کسی مضمون یا حساب کے اوپر کھینچی ہوئی لمبی

سطر (۵) ایک مضمون ختم ہونے کے بعد اور دوسرا مضمون

شروع ہونے سے پہلے کھینچا گیا نشان (۶) اُردو، موت؛

عنوان، محکمہ، دختر، صیغہ۔

مذرفاضل: (اضافت کے ساتھ) (ع) (۱) بے کار، مذ (۲) اکتائیا

بے کار اور فضول چیز۔

مذرمقابل: (ع) (۱) اضافت کے ساتھ (۲) مخالف، برابر کا دعوے دار

(۳) برابر کی جوڑ، برابر کی جوڑ (۴) اکتائیا، مذکر؛ رقیب۔

مذرنظر: (اضافت کے ساتھ) (۱) نظر کے سامنے (۲) ارادہ، منصوبہ۔

مذرجوڑ: (ع) مذکر، جوار بھانا، سمندر کے پانی کا چرٹھاؤ اتار جو

جاندارکیشش کے سبب ہوتا ہے۔

مذا: مذکر؛ سستا، مندا۔

مذراح: (ع) (۱) تعریف کرنے والا (۲) پسند کرنے والا۔

مذراحی: موت؛ تعریف، مداح، سراہی۔

مذراجل: (ع) مذکر؛ (۱) آمدنی (۲) معاہدہ (۳) محصول۔

مذراسرج: مذکر؛ آمدنی، خرچ۔

مذراخلت: (ع) موت؛ (۱) دخل دینا، دست اندازی،

(۲) قابو، تصرف۔

مذداد: (ع) موت؛ روشنلا۔

مذدار: مذکر؛ آگ کا پودا۔

مذدار کی پڑھیا، آگ کے ڈونڈے سے نکلنے والے روئیں۔

مذدار: (ع) مذکر؛ (۱) دائرہ (۲) گردش کی جگہ، محمد، چول، دھری،

کلی، (۳) ٹھہرا ہوا، موقوف، انحصار (۴) ٹھہراؤ، قیام، (۵)

عورتوں کے مطابق جمادی الاول کا مہینہ۔

مذارالمہام: (ع) مذکر؛ وزیر اعظم، حاکم اعلا۔

مذارکار: (ف) مذکر؛ کسی کام کا انحصار، موقوف علیہ۔

مذارات: موت؛ مدارات کا مخفف، خاطر داری، تواضع۔

مذارات: (ع) موت؛ خاطر داری، آؤ بھگت۔

مذاربرج: (ع) مذکر؛ درجے، رتبے۔

مذاریس: (ع) مذکر؛ جمع مدرسہ کی۔

مذاری: مذکر؛ شہدہ بازی نٹ۔

مذاریا: مذکر؛ (۱) شاہ مدار کے سلسلے کے درویش (۲) ایک قسم کا

چھوٹا تختہ۔

مذاریغ: (ع) روکنے والا، ہٹانے والا۔

مذاریغ: (ع) موت؛ بچاؤ، تردید، روک۔

مذرام: (ع) پیشہ، متواتر، سدا، دائم۔

مذراوا: مذکر؛ مدارات کا مخفف، علاج، دوا دارو۔

مذراوات: (ع) مذکر؛ علاج، چارہ سازی، تہیز۔

مذراومت: (ع) موت؛ پیشگی، قیام، ثبات۔

مذراومت: (ع) موت؛ منافقت، خوشامد۔

مذراحی: (ع) مذکر؛ جمع بیوک کی، تفریقین، سلاطین، امراء اور

مشائخ وغیرہ کی۔

مذرتیر: (ع) (۱) تہیز کرنے والا، عقلمند (۲) سیاست دان۔

مذرت: (ع) موت؛ دیر، عرصہ، میعاد، مہلت۔

مذرتہ العجز: عمر بھر ساری عمر۔

مذرتہ مدید: (ف) (اضافت کے ساتھ) موت؛ عرصہ دراز، بہت دیر

مذرح: (ع) موت؛ (۱) تعریف، توصیف، ستائش (۲) شاعر کی

وہ نظم جس میں کسی کی تعریف کی گئی ہو۔

مذرت: (ع) موت؛ حمد، تعریف، ثنا، (۲) شاعر کی وہ نظم جس میں

کسی کی تعریف کی گئی ہو۔

مذخل: (ع) مذکر؛ داخل ہونے کی جگہ، آمدنی، محصول۔

مذخول: (ع) داخل کیا گیا۔

مذخولہ: (ع) موت؛ (۱) وہ عورت جس سے صحبت کی گئی ہو، (۲) وہ

عورت جس کو گھر میں ڈال لیا گیا ہو، داشتہ۔

مَدْرَا : (ع) مونث؛ «مک، امداد، سہارا، اعانت» ۱۱۱ رسد
 ۱۲) نوراک، راج، مزدور۔

مَدْرَاگَار : مذکر کنے والا، معاون۔

مَدْرَا مَعَاش : ۱۱) (اضافت کے ساتھ) «۱» کھانے پینے کا سہارا۔
 ۱۲) وظیفہ، پنشن، ۱۳) وہ جاگیر جو کسی خاص مصروف کے لیے
 وقف کر دی جاتے۔

مَدْرَا : (ع) پیشاب لانے والی دوا۔

مَدْرَات : (ع) مذکر؛ جمع مَدْرَاک، پیشاب لانے والی دوائیں۔

مَدْرَا : (ع) ۱) مونث؛ دارو، شراب، عرق۔

مَدْرَا س : (ع) مذکر؛ درس دینے والا، پڑھانے والا، معلم۔

مَدْرَا سہ : (ع) مذکر؛ پڑھانے کی جگہ، مکتب، اسکول۔

مَدْرَا سِی : مونث؛ پڑھنے کا پیشہ، مُعَلِّمِی۔

مَدْرَا ک : (ع) مذکر؛ سمجھنے والا، عقلمند، داناء، ذہین۔

مَدْرَا کِیہ : (ع) مذکر؛ وہ وقت جس سے انسان اشیاء کی حقیقت
 دریافت کر سکے، ذہن، عقل۔

مَدْرَا ظِلَّہ / مَدْرَا ظِلَّہُ الْعَالِی : (ع) خدا اس کا سایہ دراز کرے، وہ
 بہت دنوں تک جتے، بزرگوں کے نقاب میں لکھتے ہیں۔

مَدْرَا عَا : (ع) مذکر؛ مقصد، عرض، مطلب، مُرَاد۔

_____ عَلِیہ : مذکر؛ فریق ثانی، جس پر دعوا کیا گیا ہو۔

مَدْرَا عُو : (ع) دعوت دیا گیا، بُلایا گیا۔

مَدْرَا عِی : (ع) مذکر؛ «۱» دعو کرنے والا، نالاش کرنے والا (۲)
 رقیب غیر، ۱۳) دشمن۔

_____ سَمَسْت گواہ چَسْت : (مثل) عرض مند خاموش
 حمایتی سرگرم۔

مَدْرَا عَم : (ع) ایک دوسرے میں ملا ہوا، پیوست۔

مَدْرَا فَن : (ع) مذکر؛ دفن کی جگہ، قبر۔

مَدْرَا فُون : (ع) «۱» دفن کیا ہوا، گاڑا ہوا، ۲) پوشیدہ، مخفی۔

مَدْرَا فِیق : (ع) دلیل کے ساتھ ثابت کرنے والا، باہکٹائیں پیدا کرنے والا۔

مَدْرَا فِیق : (ع) وہ چیز جو تحقیقات کے بعد ثابت ہو گئی ہو۔

مَدْرَا فِیق : (ع) دق کا مریض۔

مَدْرَا ک : (ع) ایکنم کا نثر جو تہ کی طرح چم میں بھر کر پیا جاتا ہے۔

مَدْرَا ل : (ع) دلیل سے ثابت کیا ہوا، معقول، درست۔

مَدْرَا شِع : (ع) مغزور، حلیتر، گھمنڈی۔

مَدْرَا ن : (ع) بہت سے شہر، مجمع مدینہ کی۔

مَدْرَا نِی : (ع) مدینہ کا شہری، مدینہ کا باشندہ، شہری۔

مَدْرَا نِ الطَّیِّع : (ع) صفت؛ جو فطرتاً اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کا توکل کرے۔

مَدْرَا نِیَّت : (ع) موثق، تمہن، بل بل کر رہنے کا طریقہ، شہریت، انسانیت۔

مَدْرَا قَدْر : (ع) گول، دائرہ نما۔

مَدْرَا قُون : (ع) جمع کسے والا۔

مَدْرَا قُون : (ع) جمع کیا گیا۔

مَدْرَا قُوْش : (ع) ۱) حیران، متعجب، ۲) بدست، متوالا، نمود۔

مَدْرَا ج : (ع) مونث؛ تعریف، ستائش۔

مَدْرَا د : (ع) ۱) البساطین، ۲) مونث؛ عروض کی ایک عمر۔

مَدْرَا دِی : (ع) ۱) گھمنے والا، ۲) مہتمم، ۳) اخبار کا اڈیشنر۔

مَدْرَا سَا : (ع) ۱) مونث؛ «۱» ایک قسم کی شراب، ۲) ایک قسم کی مَرُضَاب۔

مَدْرَا سِیہ : (ع) مذکر؛ شہر (۲) عرب کا مشہور اور مُقَدَّس شہر۔

مَدْرَا سِیہُ الْعَالِم : (ع) مذکر؛ حضرت رسول خدا کا لقب۔

مَدْرَا یُون : (ع) ۱) مَدْرَا قَرَضِ دَار، مقرضین۔

مَدْرَا ہ : (ع) ۱) مذکر؛ درمیان، بیچ۔

_____ مَات : مونث؛ ایک ساکنی کا نام۔

_____ مَاتَا : مذکر؛ نشہ، بھوانی، شراب سے مست۔

مَدْرَا حَر : (ع) خوش گووار، میٹھا۔

مَدْرَا حَم : (ع) آہستہ، دھیمہ (۲) متوسط، ۳) نچا، کم (۴) ہلکا (۵)

پھیکا، ماند، گھٹا ہوا (۶) مَدْرَا گویوں کی اصطلاح، سات

سروں میں سے ایک سُر۔

مَدْرَا حُو : (ع) ۱) مذکر؛ شہید۔

مَدْرَا حُو کَمَسْتِی : (ع) ۱) مونث؛ شہد کی مکھی۔

مَدْرَا حُو مَن : (ع) ۱) مذکر؛ متحرکے پاس ایک جگل کا نام۔

مَدْرَا حِیہ : (ع) ۱) مذکر؛ بیچ، درمیان۔

مَدْرَا کلاس : MIDDLE CLASS (انگ) مذکر، متوسط

مَدْرَا حِہ۔

_____ اسکول؛ آٹھویں جماعت تک کا اسکول۔

مذہب و آفت : انگ، موٹھ، دان، جٹائی، قابلہ۔

مذہب : مذکر، ۱۱۱ بونھا آدمی، ۱۱۲ سردار، سرمنہ، سرگرد۔

مذہب کھیر : موٹھ، ۱۱۱ آسانا منا مقابلہ، ۱۱۲ اتفاقہ ملاقات۔

مذاق : مذکر، ۱۱۱ چکا، عادت، دلچسپی، سلیقہ، ۱۱۲ ہنسی، دل لگی۔

مذاقا : مذاق سے، ہنسی سے، دل لگی سے، چھیڑے۔

مذاقیہ : ۱۱۱ مذاق کے طور پر، ہنسی سے، مذاقا، ۱۱۲ مذاق کرنے والا۔

مذاکرہ : ۱۱۱ مذاق، کسی موضوع پر بات چیت، مباحثہ۔

مذہب : ۱۱۱ مذاق، ۱۱۲ جمع مذہب کی۔

مذبح : ۱۱۱ مذاق، ذبح کرنے کی جگہ، انگ، سلاٹھاوس

SLAUGHTER HOUSE

مذہب : ۱۱۱ ڈانوا ڈول، کمزور ادا سے والا، غیر مستقل مزاج، ۱۱۲ مشتبہ۔

مذہب لوج : ۱۱۱ ذبح کیا ہوا جانور۔

مذکر : ۱۱۱ موٹھ کی ضد، نر، مرد۔

مذکورہ : ۱۱۱ مذکر، ذکر کیا ہوا، ۱۱۲ ذکر، چرچا، شہرت۔

مذکورہ بالا / صدر : جس کا ذکر اوپر کی جہات میں آچکا ہو۔

مذکت : ۱۱۱ موٹھ، ذلت، رُسوائی۔

مذمت : ۱۱۱ بُرائی، بدی، جھو، لعنت، طامت۔

مذموم : ۱۱۱ مذکر، بُرا، خراب، قبیح۔

مذہب : ۱۱۱ گنہگار، گناہ کرنے والا۔

مذہبین : ۱۱۱ مذاق، جمع مذہب کی۔

مذہب : ۱۱۱ سونا پڑھی ہوئی چیز، سونے کا طبع کی ہوئی چیز۔

مذہب : ۱۱۱ مذاق، ۱۱۲ راستہ، طریقہ، ۱۱۳ اجازت، دین، آئین،

حقیقت، ۱۱۴ ہمت، کیش، بھرت۔

مذہبی : ۱۱۱ مذہب سے منسوب، مذہب کا، مذہب پسند۔

مذہبی : موٹھ، شہوت کے غلبہ سے نکلنے والی تپلی رطوبت۔

م

مرا : مرنا کا امر۔

مرا : مرنا، مر گیا، مرا ہوا، فوت ہوا۔

مرا : میرا کا مخفف۔

مراآت : مذکر، آئینہ، بشیشہ، آرسی۔

مرااتب : ۱۱۱ مذاق، جمع مرتبہ کی، درجے، رُتبے، مناسب۔

مرااق : ۱۱۱ مذاق، جمع مرتبہ کی۔

مراجاتا : بے تاب ہونا۔

مراجلت : ۱۱۱ موٹھ، داہپی، رُجوع، لوٹنا۔

مراجل : ۱۱۱ مذاق، جمع مرحلہ کی، منازل، درجے، منزلیں۔

مراجم : ۱۱۱ مذاق، جمع مرحمت کی، مہربانیاں، بخشش۔

مراوانہ : ۱۱۱ اضافت کے ساتھ، مذکر، بادشاہی بخشش، عیاش شاہی۔

مراو : ۱۱۱ موٹھ، ۱۱۲ مطلب، مقصد، ۱۱۳ تمنا، ۱۱۴ ہمت، ۱۱۵ مفہوم، منشا۔

مراآنا : مقصد پورا ہونا۔

مراآنا : کسی مقصد کو پورا کرنا۔

مراآنا : منشا، پورا ہونا۔

مراآنا : (مکھنور) ۱۱۱ کسی چیز کا کام کے لائق ہونا، ۱۱۲ بالغ ہونا۔

مراآنا : شباب کا زوروں پر آنا۔

مراآنا : مطلب پوری کرنا، کام نکالنا۔

مراآنا : نتیجہ نکالنا، قیاس کرنا، معنی نکالنا۔

مراآنا : منت ماننا۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، ہم معنی، مترادف۔

مراآنا : ۱۱۱ مراد کے مطابق، ۱۱۲ مجازی، اصطلاحی، فرضی۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، ۱۱۲ راکشش کا دشمن، ۱۱۳ کرشن جی کا لقب

۱۱۴ دشمن کا نام۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، ۱۱۲ مراد کے مطابق، ۱۱۳ چھٹیاں، خطوط، ۱۱۴ خط و کتابت۔

مراآنا : ۱۱۱ موٹھ، ۱۱۲ خط و کتابت۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، چھٹی، خط۔

مراآنا : اخبار یا رسالہ میں خط لکھنے والا۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، جمع مرحوم کی، ۱۱۲ میل، بھول، برتاؤ، تعلق، ۱۱۳ برس۔

مراآنا : ۱۱۱ موٹھ، لحاظ مروت، رعایت۔

مراآنا : ۱۱۱ موٹھ، ایک دوسرے سے مناسبت لکھنے والی

چیزیں، ۱۱۲ علم ہدایت کی ایک صنعت، صنعت تناسب، رعایت لفظی۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، اپیل۔

مراآنا : ۱۱۱ مذاق، ایک قسم کا جنون، مایوسیا، مالی خولیا۔

مراآنا : ۱۱۱ مخفی۔

مُرْتَبِعہ : (ع) مذکر، (۱۱) مرنے والے کی تعریف میں کہے گئے اشعار،
(۱۲) شاعر کی ایک صنف (۱۳) نام، رونا۔

مُرْجَاں : (ع) مذکر، (۱۱) چھوٹا موتی، (۱۲) مونگا۔

مُرْجَانَا : (۱۱) انتقال کر جانا، (۱۲) فریفتہ ہو جانا (۱۳) تباہ ہونا (۱۴)
خواہش نہ رہنا (۱۵) بھجانا، فرو ہو جانا۔

مُرْزُوق : (ع) تزیین دینے والا۔

مُرْزُوق : (ع) تزیین دیا ہوا، افضل، فائق۔

مُرْجَز : (ع) شریک تینوں قسموں (مرجز، مسبح، عاری) میں سے یقیناً
جس میں ہر دو فقروں کے کلمات ہم وزن اور ہم قافیہ ہو۔

مُرْجَح : (ع) مذکر؛ واپسی کی جگہ، ٹھکانا، جلے پناہ، مرکز۔

مُرْجَحِيَّت : (ع) موثقت، مرکزیت، مرکز ہونا، مرجع ہونا۔

مُرْجُوع / مَرْتَجِع : (ع) (۱) رجوع کیا گیا، لوٹا یا گیا (۲) واپس لایا
نالش کیا گیا۔

مُرْجَحَانَا : (۱) سوکنا، ٹھکانا، پڑمردہ ہونا، (۲) غم گین ہونا، اداس ہونا۔
مرجع : موثقت؛ بے حد تیز مزہ والا ایک پودا اور اس کا پھل ٹھنڈ

(۳) نہایت تیز۔

مُرْجَحْنَا : مرکز ختم ہو جانا۔

_____ چلنا : مرنے کے قریب آنا، مرنے لگنا۔

مُرْجَحِيَّت : MERCHANT (مگ) مذکر؛ بیوپاری، تاجر۔

مُرْجَحِيَّت : موثقت؛ ایک قسم کا باجا۔

مُرْجَحِيَّة : (ع) موثقت، (کلہ تمحیص) شہاش، آفرین، سبحان اللہ۔

مُرْجَحَلہ : (ع) مذکر، (۱) منزل، بارہ میل کی مسافت، (۲)
اہم کام، لمبا فاصلہ۔

مُرْجَحَمَت : (ع) موثقت؛ مہربانی، رحم، عنایت۔

_____ نامہ : مذکر؛ بڑے کا خط چھوٹے کے نام۔

مُرْجُوع : (ع) رحمت کیا گیا، مزا ہوا شخص۔

مُرْجُوع : (ع) رخصت کیا گیا، اجازت دیا گیا۔

مُرْجُوع : (ع) رخصت کرنے والا، اجازت دینے والا۔

مُرْجُوع : (ع) (۱) ملایم کیا گیا، وہ لفظ جس کا احسری
حرف گرا دیا گیا ہو۔

مُرْجُوع : (ع) مذکر، (۱) نر، (۲) آدمی (۳) اُردو شہر (۴) بہادر۔

مُرْجَحِيَّة : (ع) مذکر، (۱) سوچ، چار گیمان، (۲) خدا کا دھیان، متفرق
(۳) گردن جھکا کر فکر کرنا۔

مُرْجَام : (ع) مذکر، مُرَاد، مقصد، تمنا۔

مُرْجَاو / مُرْجَانِي : مذکر، کاہلی، ترکاری ہونے والا۔

مُرْجَانِي : (ع) مذکر؛ شکر کے قوام میں رکھا ہوا پھل۔

مُرْجَب : (ع) مذکر، (۱) چوکور، وہ سطح جس کے چاروں ضلع ایک دوسرے
کے برابر اور چاروں زاویے قائم ہوں (۲) چوکور چیز جو کلاویج
مرفق برابر ہوں (۳) پائنتی مار کو ٹھنڈا (۴) سولہ خانے کا تھوید۔

مُرْجُوط : (ع) بندھا ہوا، وابستہ، لگایا ہوا۔

مُرْجُوبِي : (ع) مذکر؛ پرورش کنے والا، سہ پرست۔

مُرْجُوحَا : مذکر؛ وہ شخص جو کھانے سے سیر نہ ہو، کھلنے پر ٹوٹ کر
مرنے والا، بہت بھوکا، فاقہ زدہ۔

مُرْتَا : مذکر؛ مرنے کے قریب، جاں بلب۔

_____ کیا نہ کرتا : (مث) مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔

مُرْتَاض : (ع) ریاضت کرنے والا، زاہد۔

مُرْتَب : (ع) ترتیب دیا ہوا، باقاعدہ، درست۔

مُرْتَب : (ع) ترتیب دینے والا۔

مُرْتَبَان : مذکر؛ (۱) چینی یا مٹی کا روعن کیا ہوا ایک قسم کا برتن،
(۲) ایک قسم کا کیلا۔

مُرْتَبَعَت : (ع) مذکر؛ مرتبہ، درجہ۔

مُرْتَبِعہ : (ع) مذکر؛ (۱) دبیر، رتبہ، عمدہ (۲) اُردو موثقتا بارہ دفعہ

مُرْتَبِعہ : (ع) مذکر؛ پھرا ہوا، اسلام سے پھرا ہوا۔

مُرْتَبِعہ : (ع) نشان کیا گیا، مہر لگا گیا۔

مُرْتَبِي : (ع) رشوت لینے والا (دیخو راشی)۔

مُرْتَبِي : (ع) مذکر؛ (۱) پسندیدہ (۲) حضرت علیؑ کا لقب۔

مُرْتَبِي : (ع) کانپنے والا، لرزاں، رعشے والا۔

مُرْتَبِعہ : (ع) اُبھرا ہوا، اونچا بلند (۲) دور کیا ہوا، رفع کیا ہوا۔

مُرْتَبِعہ : (ع) بلند، بلند ہونے والا۔

مُرْتَبِي : (ع) ارتکاب کرنے والا، کسی فعل کا کرنے والا۔

مُرْتَبِي : (ع) مذکر؛ گرو رکھنے والا۔

مُرْتَبِي : (ع) جس طرح ہوسکا، جوں توں کہے، بُری سہلی طرح۔

مُردنی : (۱۱) موت کی علامت جو کسی کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔
(۱۲) ہندو، مرنا، قضا، موت۔

مُردو : (۱) مذکر، (مقارنات)، (۲) مرد کی تصغیر، (۳) (جو) غیر مرد، (۴) شوہر، (۵) بہادر مرد۔

مُردود : (۱) مرد کی گتیا، بے عزت کیا گیا، (ملعون، ۲) نالائق، بزدلیب۔

مُردہ : (۱) مذکر، (۲) بے جان، لاش، میت، (۳) جنازہ، (۴) ڈبلا، کمزور، (۵) افسردہ۔

مُردست زندہ : (۱) اشل، کمزور طاقتور کے آگے بے بس۔
پُرسستی : (۱) زندہ الہی کمال کی ناقدری، (۲) مرنے والوں کی پرستش کرنے والا۔

دل : (۱) اُداس، افسردہ۔

دوزخ میں جانے کے بہشت میں اپنے حلویے مانڈے سے کام : اشل، خود غرض کو اپنے مطلب کام۔

شو : (۱) مذکر، مُردے کو غسل دینے والا، غسل۔

مُردوں سے شرط باندھ کر سُونا : بہت عظمت کی نیند سونا۔
مُردہنا : (کنایتاً) کسی کام میں دیر لگانا، جہاں جانا وہیں بیٹھ رہنا کی جگہ۔

مرزرا : (۱) مذکر، (۲) میرزا کا مُتقن، (۳) امیر زادہ، شہزادہ، (۴) مغلوں کا لقب، (۵) خاندان تیموریہ کے شہزادوں کا لقب۔

پُچھو یا : مذکر، (۱) کنایتاً نازک اندام، (۲) ڈبلا، پتلا آدمی، (۳) آرام طلب، سست، کاہل آدمی۔

مرزانی : (۱) موت، (۲) بزرگی، شہزادگی، (۳) اُدود، محمدؐ، (۴) حکومت، سرداری۔

مرزبان : (۱) مذکر، آتش پرستوں کا سردار۔
مُرد بوم : (۱) مذکر، پیدائش کی جگہ، جنم بوم۔

مرزنی : موت، (۱) ایک قسم کا آدمی آستین والا لباس، (۲) نیم آستین، مُدّری۔

مُرسِل : (۱) مذکر، (۲) بیجا ہوا، (۳) رسول، پیغمبر نبی، (۴) وہی جس کو خدا کی طرف سے کتاب ملی ہو۔

مُرسِل : (۱) مذکر، نامبر بیجے والا، ارسال کرنے والا۔

مُرد آدمی، شریف، بظلمائس، مُہذب۔
— پختہ، (۱) کنایتاً، دلیر، جوان مرد۔

مُرداد : (۱) مذکر، فارسی کا پانچواں شمس مہینہ

مُردار : (۱) ناپاک، نجس، حرام، (۲) مُردہ، بے جان، (۳) موت، فاحشہ، نالائق، نابکار۔

خوار : (۱) مُردہ کھانے والا۔
سنگ : (۱) مذکر، ایک قسم کی دوا جو پتھر کی مانند ہوتی ہے۔

مُرداگی : (۱) موت، بہادری، دلیری، جوان مردی۔
مُردانہ : (۱) مرد سے نسبت رکھنے والا، (۲) بہادرانہ، دلیری، (۳) مذکر، دیوان خانہ، وہ جگہ جہاں مرد بیٹھے ہیں۔

وار : (۱) مردوں کے مانند، بہادرانہ۔
مُردانی : موت، مردوں کے سے کام کرنے والی عورت۔

مُردک : (۱) مذکر، مرد کی تصغیر، حقیر آدمی، اذنا، ذلیل۔
مُردگان : (۱) مذکر، مرے ہوئے لوگ، مُردے، جمع مُردہ کی

مُردلنا : (۱) موت، نرمی، نزاکت۔

مُردوم : (۱) مذکر، (۲) عام لوگ، مرد، (۳) شاستہ آدمی، (۴) آنکھ کی پستلی۔

آزار : (۱) لوگوں کو ستانے والا، ظلم۔
خاکی : (اضافے کے ساتھ) انسان۔

خوار : آدم خور، آدمیوں کو کھا جانے والا دندہ۔
خیزر : لائق اور بہادر آدمیوں کو پیدا کرنے والی جگہ۔

دیدہ : (اضافے کے ساتھ) آنکھ کی پستلی۔
شاماری : آدمیوں کی گتھی، (۱) جن گڑنا

شناس : آدمی کو پہچاننے والا۔
شناسی : اچھے بُرے آدمی کی شناخت۔

مُردنگ : آنکھ کی پستلی۔

مُردومی : (۱) انسانیت، مروت، عُلق، رعایت، (۲) بہادری، شجاعت، دلیری، (۳) قوت، باہ۔

مُردون : (۱) مرنا، مُر جانا۔
مُردنگ : ایک قسم کی ڈھولک جو بیلے کی طرح بجائی جاتی ہے۔
مُردنگی : مُردنگ بجانے والا۔

مُرْسَلہ : (ع) صفت، بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا۔

مُرْسَلین : (ع) مذکر؛ جمع منزل کی؛ بہت سے رسول بہت سے پیغمبر۔

مُرْشِد : (ع) مذکر؛ (۱) ہدایت کرنے والا، پیر، (۲) اکنائشا، استاد، چالاک۔

زادہ : پیر کا بیٹا۔

مُرْضِع : (ع) (۱) جواہر بچا ہوا، آراستہ (۲) مناسب اور موزوں

الفاظ کی ترتیب والی نظم یا نثر۔

ساز / کار : زیور میں گھسنے یا جواہرات جڑنے والا۔

مُرْض : مذکر؛ (۱) بیماری، روگ (۲) نکت، عادت۔

مُرْضَا : (ع) مذکر؛ جمع مریض کی۔

مُرْضُ الْمَوْت : (ع) مذکر؛ وہ بیماری جس سے آدمی مرتا، مہلک۔

مُرْضُ لَاحِق : (ع) (۱) اضافت کے ساتھ موجودہ بیماری۔

مُشْحَذِي : (ع) (۱) اضافت کے ساتھ وہ بیماری جو لک کو دوسرے لک سے

پسندی، موٹ؛ (۲) ادب، مریضانہ جذبات کی پیروی۔

مُرْضِي : (ع) موٹ؛ (۱) رضا، خوشی (۲) اجازت (۳) خواہش۔

ضرورت پسند، مزاج۔

مُرْضِي مَوْلِي اَزْجَمِ اَوْلِي : (۱) اضافت کے ساتھ (مقولہ) محلطے

میں خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، خدا جو چاہے کرے

وہی سب سے بہتر ہے۔

مُرْطُوب : (ع) تر، گلا، سیلا ہوا۔

مُرْعُوب : (ع) رعب میں آیا ہوا، ڈرا ہوا۔

مُرْعِي : (ع) رعایت کیا گیا، لحاظ کیا گیا۔

مُرْع : (ع) مذکر؛ (۱) پرند، اڑنے والا جانور (۲) مرغا۔

آتش خوار : (ع) (۱) اضافت کے ساتھ مذکر؛ چکور۔

باز : (ع) مَرْع لڑانے والا۔

زَرِيں : (ع) مذکر؛ (۱) اضافت کے ساتھ ایک قسم کا

سنہری رنگ کا جنگلی مرغا۔

سَيْلَمَان : (ع) (۱) اضافت کے ساتھ مذکر؛ کھٹ بڑھی ہڈی۔

قَبْلَه نَمَا : (ع) (۱) اضافت کے ساتھ مذکر؛ قبلہ نما آلمہ میں بنا

ہوا پرندہ جس کا سر ہمیشہ قبلہ کی طرف رہتا ہے۔

مُرْع کی ایک ہی ٹانگ / مَرْعَع کی ایک ہی ٹانگ : مثل

اپنی بے جا بات پر اڑا دینے والا اور قاتل نہ ہونے والا۔

مُرْعَا : مذکر، مرعج کا نر، خروس۔

بانگ نہ دے گا تو کیا صبح نہ ہوگی : (مثل) کوئی کام

کسی کے بغیر نہ کرنا نہیں رہے گا۔

مُرْعَابِي : (ع) موٹ؛ قاز، ایک آبی پرندہ۔

مُرْعِي : موٹ؛ مرنے کی مادہ، مایان۔

اپنی جان سے گنتی کھانے والے کو مزانہ آیا : (مثل)

جان تو محنت کی بھی کوئی قدر نہ ہوتی۔

بٹھانا : مرعج کو انڈوں پر بٹھانا۔

مُرْعَزَار : (ع) مذکر؛ سبزہ زار، چراگاہ، ہری دُوب کا میدان

ہر ابھر جنگل۔

مُرْعِن : روعن والا، چربی والا۔

مُرْعُوب : (ع) (۱) پسندیدہ (۲) مزیدار (۳) خوبصورت۔

مُرْعُوبات : (ع) مرعوب چیزیں، جمع مرعوب کی۔

مُرْعُول / مَرْعُول : (ع) (۱) بیچ دار، غم دار، بل کھا ہوا (۲) نکلتا

ڈھکی دار مراب (۳) پیچیدہ آواز، گلگری۔

مُرْعُوع : (ع) (۱) اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، رفع کیا گیا، (۲) وہ حرف

جس پر پیش ہو (۳) موٹ؛ وہ حدیث جس کے راویوں کا سلسلہ

حضرت پیغمبر خدا تک پہنچے۔

اَقْلَم : (ع) (۱) جس کا جرم باز پرس کے قابل نہ ہو، معذور

یا گل (۲) ناقابل ذکر، بے محاسبہ۔

مُرْقَه : (ع) آسودہ، خوشحال، فارغ البال۔

الحال : (ع) خوش حال، دولت مند، امیر۔

مُرْقِيہ : (ع) مذکر؛ (۱) سونے کی جگہ، آرام گاہ (۲) مہمان، قریب

مُرْقِيہ : (ع) مذکر؛ (۱) تصویروں کی کتاب، اہم (۲) فقیروں کی گفتنی

(۳) اکنائشا، لاجواب۔

اُتْرَوَانَا : تصویر کھینچنا۔

اَلْت جَانَا / مَرْقَع برسم ہونا : عالم کاتہ و بالا ہونا۔

بِن جَانَا : تصویر بن جانا، تصویر ہو جانا۔

کھینچنا : تصویر کھینچنا۔

مُرْقُوم : (ع) لکھا ہوا، لکھا گیا۔

مُرْقُومہ : (ع) موٹ؛ تحریر کیا ہوا، لکھا ہوا۔

- مُرَوَّت** : (ع) موٹ، بلڈ، رعایت۔
مُرْوُوج : (ع) مذکر، (۱) راج کیا گیا (۲) راج الوقت، جاری مستعمل، رسمی، معمولی۔
مُرْوِج : (ع) راج کرنے والے۔
مُرْوَر : (ع) مذکر، گزرنا، منقضي ہونا (وقت کا)۔
مُرْوَر : موٹ : (۱) دشمن، بل (۲) تشنج (۳) ہیٹ کی دشمن۔
 (۴) پچھن کی بیماری۔
مُرْوَرَا : مذکر، پچھن، دشمن۔
مُرْوَرْنَا : (۱) بل دینا، موٹنا (۲) ایتھنا (۳) پوٹنا۔
مُرْوُوق : (ع) نتھارا ہوا، صاف کیا ہوا، خالص۔
مُرْوُوه : (ع) مذکر (۱) مکہ معظمہ کی ایک پہاڑی کا نام (۲) ف، مذکر، ایک توشہ بو دار گھاس۔
مُرْوُوی : (ع) روایت کیا گیا، بیان کیا گیا۔
مُرْوُوه : مذکر، مہاراشٹری ایک قوم۔
مُرْوُوه : موٹ (۱) مرہٹہ سے منسوب (۲) مرہٹی زبان۔ (۳) ایک قوم کا گیت۔
مُرْوُوه : (ع) (۱) زخم پر لگائی جانے والی دوا (۲) اکتا یا کسی قسم کے زخم کا علاج۔
مُرْوُوه : (ع) مذکر؛ گرد رکھا گیا، رہن کیا گیا۔
 — **منت** : (ف) (اضاف کے ساتھ) احسان مند، شکر گزار۔
مُرْوُوی : (ع) نظر آنے والی چیز۔
مُرْوُویات : (ع) مذکر؛ جمع مرئی کی، وہ چیزیں جو آنکھوں سے دیکھی جائیں اور خواہ مخواہ نظر اٹھائی کی گرفت میں آسکیں۔
مُرْوُوی : موٹ؛ (ع) (۱) گرہ، پھندا (۲) اکتا یا ہیچ، وقت۔
مُرْوُوی : میری کا مخفت۔
مُرْوُویا : (۵) موٹ؛ (۱) معمول، طریقہ (۲) عروت، شہرت، (۳) نیک چال چلن۔
مُرْوُویج : (ع) مذکر (۱) ایک آتش صفت سیارہ، منگل (۲) کبھی کبھی اصطلاح، لوہا، فولاد۔
مُرْوُوید : (ع) (۱) کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا (۲) مطیع، فری، بردار (۳) چھلا، دینی شاعر۔

م م م

- مُرْک** : موٹ؛ (ع) (۱) موج، ٹیڑھ، کچی، مروڑ، اینٹھ، اکڑ (۲) ساز باز، توڑ چوڑ، تدبیر، چال۔
مُرْکنا : (۱) ہاتھ یا پاؤں میں موج اُجانا (۲) ٹوٹنا، چٹ چٹ ٹوٹنا (جیسے چوڑیاں مرنا)۔
مُرْٹنا : (۱) گھوننا، ٹیڑھا ہوجانا، بل کھانا (۲) پھرنا، لوٹنا، واپس ہونا (جیسے پھر کر دیکھنا) (۳) پیچک کے دانوں کا مر جھانا۔
مُرْطھنا : (۱) منڈھنا، کھال چڑھانا (۲) زبردستی کسی کے حوالہ کرنا۔
مُرْٹھی : (۵) موٹ (۱) فقیر کی جھونپڑی، کٹی، (۲) معبد، مندر۔
مُرْزاج : (ع) مذکر؛ (۱) طبیعت، سرشت، خمیر (۲) عادت، خصلت (۳) گن، خاصیت، اثر، خاصہ (۴) مادہ، اصلیت، جوہر، حقیقت (۵) اکتا یا تکتیر، داغ، غرور (۶) ناز، نخرہ۔
 — **دار** : خود پسند، مغرور، داغ دار۔
 — **داں** : طبیعت سے واقف، مزاج سے آگاہ۔
 — **شریف** / — **مبارک** / — **عالی** : خیریت دریافت کرنے کے الفاظ۔ مزاج کیا ہے۔
 — **شناس** : (ف) طبیعت کی حالت جاننے والا۔
 — **کاتیز** : مذکر، عفتہ ور۔
 — **کرنا** : اترانا، غرور کرنا۔
 — **کیسا ہے** : (۱) مزاج پرسی کا کلمہ، خیریت معلوم کرنا۔
 — **کی لٹیا** : ڈینگ مارنا، اترانا، بے پروائی کرنا۔
 — **نہ طنا** : اترانا، مغرور ہونا۔
 — **والا** : مذکر؛ مغرور، گھنڈی۔
مُرْزاجا : (ع) طبیعت کی رو سے، از روئے مزاج، طبیعتاً۔
مُرْزاج : (ع) (۱) موٹ؛ ظرافت، مذاق، ہنسی، خوش طبعی۔

دار: (۱۱) لذیذ، خوش ذائقہ، (۱۲) خوش طبع، ظریف، (۱۳) لچکپن،
 میں: (۱) لطف کے ساتھ، بے تکلف (۲) اچھی حالت میں،
 غیریت سے۔

مزید: (ع) زیادہ، فالتو۔

برآں: (ف) اس کے ہوا، علاوہ ہوں۔

مُزین: (ع) سجا ہوا، آراستہ، مُکلف۔

مُزود: (ف) مذکر (۱) خوش خبری (۲) مبارک باد۔

باد: (ف) مذکر، مبارک ہو۔

مُزراں: (ف) موتھ؛ پلکین، جمع مڑھ کی۔

مڑھ: (ف) موتھ؛ پلک۔

م س

مَس: (ع) مذکر (۱) چھونا، ہاتھ لگانا (۲) لگاؤ، رغبت، دھکن۔

کرنا: چھونا، ہاتھ لگانا، ہاتھ سے چھونا۔

ہونا: رغبت ہونا، میل ہونا، لگاؤ ہونا۔

مِس: MISS (انگ) (۱) بی بی، کنواری لڑکی (۲) خال ہنڈا۔

مِس: (ف) مذکر؛ تانبہ۔

خام: (ف) مذکر؛ (اضافہ کے ساتھ) کچا تانبہ۔

مِسی: (ف) تانبے کا، تلبے سے بنا ہوا۔

مَسَا: (ع) موتھ، شام کا وقت، شام، (تنہا مستعمل نہیں ہے)

مَسَا/مَسَا: مذکر؛ گوشت کا ایک دانہ سا جو جسم پر پڑ جاتا ہے۔

مَسَاجِد: (ع) موتھ؛ جمع مسجد کی، بہت سی مسجدیں۔

مَسَاس: (ع) مذکر؛ عورت کے کسی حصہ پر جسم کو ہاتھ سے ٹنا۔

مَسَاجِد: (ع) مدگار، یاد، معاون، موافق۔

مَسَا عَدَّت: (ع) موتھ، مدد کرنا۔

مَسَاعِي: (ع) مذکر؛ گوششیں، جمع مسعات کی۔

جمیلہ: (ف) (اضافہ کے ساتھ) مذکر؛ نیک گوششیں۔

مَسَافَت: موتھ؛ دوری، بُد، عرصہ فاصلہ۔

مَسَافِر: مذکر؛ سفر کرنے والا، راہ گیر، پردہ سی۔

خانہ: مذکر؛ مسافروں کے شہر کے کی جگہ، سرائے۔

مَسَافِرَانہ: (ف) مسافروں کی طرح، پردہ سیوں کے مانند۔

مُزاحف: (ع) (۱) گری ہوئی چیز (۲) (عروض کی اصطلاح) دھکن
 جو سالم ذرا ہوا اور اس میں کچھ تغیر کیا گیا ہو۔

مُزاجم: (ع) روکنے والا، مزاحمت کرنے والا، مانع، حائل۔

مُزاحمت: موتھ؛ روک، مانع۔

مُزار: (ع) (۱) زیارت کرنے کی جگہ، درگاہ، آستانہ، (۲) قبر۔

مُزارع: (ع) کسان، کاشتکار، کھیتی کرنے والا (جمع مزارع کی)

مُزَامِير: (ع) مذکر؛ جمع مزار کی (۱) ہانسی، مُرلی (۲) مطربوں

کے ساز۔

مُزاولت: (ع) موتھ، مشق، مہارت۔

مُزَحْرَف: (ع) جھوٹی بات جو سچ معلوم ہو، بناوٹ کی بات

(جمع مُزَحْرَفَات)

مُزَوِد: (ف) موتھ؛ اجرت، مزدوری۔

مُزَوُور: مذکر؛ مزدوری کرنے والا، اجرت پر کام کرنے والا،

یوچا اٹھانے والا۔

مُزَوُورِي: موتھ (۱) اجرت، معاوضہ (۲) محنت، مشقت۔

مُزَوُوع/مُزَوُوعہ: (ع) موتھ؛ مذکر؛ (۱) کھیتی، کھیت (۲)

چھونا گاؤ، بستی۔

مُزَوُوعہ: (ع) موتھ؛ بویا ہوا۔

مُزَعْفَر: (ع) (۱) زعفرانی، زرد رنگ (۲) مذکر؛ ایک قسم کا

میں سفید پلاؤ، زردہ۔

مُزَكِّي: (ع) (۱) زکوٰۃ دیا گیا (۲) پاک کیا گیا۔

مُزَمَار: (ع) موتھ؛ (۱) ہانسی اٹے (۲) ہر ایک قسم کا باجا۔

مُزَمِين: (ع) مذکر؛ پُرانا۔

مُزَه: (ف) مذکر؛ (۱) لذت، سودا، ذائقہ (۲) چسکا، چاش،

(۳) (اردو) لُطف، رُحظ (۴) عیش، خوشی (۵) جون، شباب،

۱۲، لذت، عادت (۴) سیر، تماشا۔

پانا: (۱) لطف حاصل کرنا، لذت پانا (۲) کیے کی سزا پانا۔

چکھانا: (۱) ذائقہ چکھانا (۲) سزا دینا، بدلانا۔

چکھنا: (۱) لذت پانا (۲) خمیازہ بھگتنا، رنج اٹھانا۔

کرکر ہونا: بے لطف ہونا، رنگ میں ہونگ ہونا۔

مُزے اُڑانا: مزے حاصل ہونا، عیش کرنا۔

جے خود، مدہوش، (۲) مجذوب، دیوانہ (۵) خوش (۶) بے پرواہ۔
 اَلتَّوْبَةُ : (انفصاف کے ساتھ) (ف) مذکر؛ نپیدیشی مست،
 مست ازل۔

مُتَّجِرٌ : (ع) ۱۱ شیکہ دار، اجارہ دار، (۱۲) زمیندار پتی دار اسی۔

مُتَّجِلٌ : (ع) جسے اکھاڑ دینے والا، نریاد کر دینے والا۔

مُتَّضِلٌ : (ع) منہدم، جڑے، اکھڑا ہوا، تباہ۔

مُتَّانَا : مست ہو جانا، گرما جانا۔

مُتَّانٌ : (ف) مذکر؛ مست، دیوانہ۔

مُتَّانَةٌ : (ف) مست کی طرح، متوالے کی طرح۔

مُتَّجِدٌ : (ع) دُور، دشوار، بعید از قیاس۔

مُتَّشِّئٌ : (ع) ۱۱ الگ کیا گیا، چٹا گیا (۲) جُدا، ممتاز، منتخب، برگزیدہ۔

مُتَّشِّئَاتٌ : (ع) مذکر؛ الگ کیے ہوئے امور۔

مُتَّجَابٌ : (ع) (عجازاً) قبول کیا گیا، جواب دیا گیا۔

الدَّعْوَاتُ : حسنی کی دعا قبول ہو، جس کی دعا بارگاہ الہی

میں شرف قبولیت پاتے۔

مُتَّجِعٌ : (ع) جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔

مُتَّجِبٌ : (ع) دعا قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔

مُتَّجِبٌ : (ع) ۱۱ محبت کیا گیا، پسندیدہ (۲) عبادت جس کے

کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر کچھ عذاب نہ ہو۔

مُتَّحَسِّنٌ : (ع) ۱۱ نیک، پسندیدہ، بہتر (۲) (فحقی اصطلاح)

وہ عبادت جس کو جمہور اسلام نے بہتر فرمایا ہو۔

مُتَّحَضِرٌ : (ع) یاد رکھا ہوا، وہ بات جو یاد ہو۔

مُتَّحِقٌ : (ع) ۱۱ حق رکھنے والا، دعوے دار، (۲) لائق، قابل،

(۳) دُرُوش، مسکین، مفلس۔

مُتَّحَكِمٌ : (ع) پکا، مضبوط، پائدار، قائم رہنے والا، اٹل۔

مُتَّحِيلٌ : (ع) ایک حال سے دوسرے حال میں پھرنے والا۔

مُتَّشَدِّعٌ : (ع) چاہنے والا، خواہش مند، درخواست کرنے والا۔

مُتَّشَدِّيرٌ : (ع) گول، کُفْر۔

مُتَّشَرِّوٌ : (ع) رد کیا گیا، واپس کیا گیا۔

مُتَّشَرِّفٌ : (ع) ہدایت چاہنے والا، سیدھی راہ کا خواہاں، مُرَبِّد۔

مُتَّسَرِّیٌ : کارگر، میکینک۔

مُتَّافِرٌ : (ع) موٹ، سفر، سفر کی حالت، (۲) پردیس۔

مُتَّاسِرٌ : (ع) مذکر؛ جمع مسکن کی، مکانات، سکونت کی جگہ۔

مُتَّاسِرَةٌ : موٹ، (انضیاتی اصطلاح) ایڈاپنڈی، نوکولونیت

پہنچا کر مست موسوں کرنا۔ (اگ) MASOCHISM

مُتَّاسِبٌ : (ع) مذکر؛ جمع مسکین کی، غریب، مفلس، محتاج

کنکال، فقیر۔

مُتَّالَا : مذکر؛ ۱۱ کسی چیز کی تیاری کے لازم اور ضروریات (جیسے

سان کا مسالا، پان کا مسالا وغیرہ) (۲) گونا، چٹھا، کناری

وغیرہ، (۳) مذکر؛ چونا اور سرخی وغیرہ، (۴) لوگ، الائی،

زیرہ، موہ وغیرہ۔

مُتَّالَةٌ : (ع) مسالا ہوا، (۲) اکٹھا، چٹھا۔

مُتَّالِکٌ : (ع) مذکر؛ مسلک کی جمع، طریقے، راہیں، رستے۔

مُتَّامٌ : (ع) مذکر؛ جسم کے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جن میں سے

پسینہ نکلتا ہے۔ (جمع مساوات)

مُتَّانٌ : مذکر؛ (۱) مرگھٹ، وہ جگہ جہاں ہندوؤں کے مُردے

جلاتے جلتے ہیں (۲) بچوں کی ایک بیماری (۳) ہنتر منتر،

سغلی عمل، (۴) بھوت خبیث اور گندی روح۔

مُتَّاَوَاتٌ : (ع) موٹ؛ ۱۱ برابری، ہمسری (۲) علم حساب

کا ایک قاعدہ۔

مُتَّاَوِیٌ : (ع) برابر، یکساں، ہم وزن۔

الاصطلاح : (ع) (جویشی کی اصطلاح) وہ شکل جس کے

سب ضلعے برابر ہوں۔

مُتَّاَوِیَّتٌ : موٹ؛ برابری، مساوات۔

مُتَّاهِلَةٌ : (ع) موٹ؛ مستحق، تساہلی، تساہل کرنا۔

مُتَّابٌ : (ع) سبب کیا گیا، باعث، سبب۔

مُتَّابٌ : (ع) سبب بنانے والا۔

مُتَّاسِبَاتٌ : (ع) مذکر؛ سبب پیدا کرنے والا، خدا۔

مُتَّاسِعٌ : (ع) مذکر؛ سات جھے کیا گیا، سات برابر ضلعوں کی شکل،

سات معرعوں کے بندوانے شعر۔

مُتَّسَبِقٌ : (ع) گزشتہ، سابق، گزرا ہوا۔

مُتَّسِتٌ : (ف) (ع) متوالا، مُمَزَّو (۲) جوان سے بھرا ہوا (۳) سرشار

مستحق : (ع) فتوے کا جواب چاہنے والا۔
مستفسر : (ع) استفسار کرنے والا، پوچھنے والا۔
مستفید : (ع) فائدہ چاہنے والا، فائدہ اٹھانے والا۔
مستفیض : (ع) فیض چاہنے والا، فیض اٹھانے والا، فیض کا خواہاں۔

مستقبل : (ع) (۱) آگے آنے والا، آئندہ (۲) آئندہ زمانہ۔
مستقر : (ع) مذکر، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانا۔
مستقل : (ع) مضبوط، مستحکم، ثابت قدم۔
مستقیم : (ع) سیدھا، درست، مضبوط۔
مشک : (ع) مونث، (۱) ہاتھ، پیشانی (۲) ہاتھی کا ماتھا۔
مستزیم : (ع) (مُسْتَزِمٌ - زِمٌّ) کوئی کام اپنے آپ پر لازم کر لینے والا۔

مستبح : (ع) سنبھلنے والا۔
مستبح : (ع) سنا ہوا۔
مستمند : (ع) (۱) غلامین (۲) ہماڑا، حاجت مند
مستند : (ع) سند یافتہ، سند پایا ہوا، تصدیق کیا ہوا، معتبر، سند کے لائق۔

مستنبط : (ع) (مُسْتَبْطٌ - بَطٌّ) (ع) اخذ کیا گیا، نکال لیا گیا، چننا گیا۔

مستنیر : (ع) روشنی چاہنے والا، روشن۔
مستوجب : (ع) واجب، لائق، قابل۔

مستور : (ع) چھپا ہوا، پوشیدہ۔
مستورات : (ع) جمع مستورہ کی، مونث، پردہ نشین عورتیں۔

مستول : (ع) مذکر، جہاز یا کشتی کا ستون، بادبان۔
مستولی : (ع) غالب، قابض، زور آور۔

مستوی : (ع) برابر، ہموار۔
مستی : (ع) (۱) مونث، (۲) متوالا ہن، نشہ، (۳) بے ہوشی، مہوشی، (۴) خوشی کی حرکتیں۔

مشترک : (ع) (۱) مشترک، (۲) مشترک، (۳) مشترک، (۴) مشترک، (۵) مشترک، (۶) مشترک، (۷) مشترک، (۸) مشترک، (۹) مشترک، (۱۰) مشترک، (۱۱) مشترک، (۱۲) مشترک، (۱۳) مشترک، (۱۴) مشترک، (۱۵) مشترک، (۱۶) مشترک، (۱۷) مشترک، (۱۸) مشترک، (۱۹) مشترک، (۲۰) مشترک، (۲۱) مشترک، (۲۲) مشترک، (۲۳) مشترک، (۲۴) مشترک، (۲۵) مشترک، (۲۶) مشترک، (۲۷) مشترک، (۲۸) مشترک، (۲۹) مشترک، (۳۰) مشترک، (۳۱) مشترک، (۳۲) مشترک، (۳۳) مشترک، (۳۴) مشترک، (۳۵) مشترک، (۳۶) مشترک، (۳۷) مشترک، (۳۸) مشترک، (۳۹) مشترک، (۴۰) مشترک، (۴۱) مشترک، (۴۲) مشترک، (۴۳) مشترک، (۴۴) مشترک، (۴۵) مشترک، (۴۶) مشترک، (۴۷) مشترک، (۴۸) مشترک، (۴۹) مشترک، (۵۰) مشترک، (۵۱) مشترک، (۵۲) مشترک، (۵۳) مشترک، (۵۴) مشترک، (۵۵) مشترک، (۵۶) مشترک، (۵۷) مشترک، (۵۸) مشترک، (۵۹) مشترک، (۶۰) مشترک، (۶۱) مشترک، (۶۲) مشترک، (۶۳) مشترک، (۶۴) مشترک، (۶۵) مشترک، (۶۶) مشترک، (۶۷) مشترک، (۶۸) مشترک، (۶۹) مشترک، (۷۰) مشترک، (۷۱) مشترک، (۷۲) مشترک، (۷۳) مشترک، (۷۴) مشترک، (۷۵) مشترک، (۷۶) مشترک، (۷۷) مشترک، (۷۸) مشترک، (۷۹) مشترک، (۸۰) مشترک، (۸۱) مشترک، (۸۲) مشترک، (۸۳) مشترک، (۸۴) مشترک، (۸۵) مشترک، (۸۶) مشترک، (۸۷) مشترک، (۸۸) مشترک، (۸۹) مشترک، (۹۰) مشترک، (۹۱) مشترک، (۹۲) مشترک، (۹۳) مشترک، (۹۴) مشترک، (۹۵) مشترک، (۹۶) مشترک، (۹۷) مشترک، (۹۸) مشترک، (۹۹) مشترک، (۱۰۰) مشترک۔

مُشْتَرَاو : (ع) مذکر؛ (۱) زیادہ کیا ہوا، بڑھایا ہوا (۲) عروض میں ہر مصرع کے بعد ایسا ٹکڑا ہو جو اسی کے رکن اول الہد رکن آخر کے برابر ہو۔

مُشْتَقِي : (ع) مذکر؛ استفسار کی بیماری والا۔
مُشْتَرِق : (ع) مذکر؛ یورپ کا وہ باشندہ جو مشرقی علوم میں ماہر ہو۔

مُشْتَاب : (ع) (۱) اچھا، عمدہ، بامزمہ (۲) مبارک، سعید، نیک۔
مُشْتَبِع : (ع) استطاعت رکھنے والا، صاحب قدرت۔

مُشْتَبِل : (ع) مذکر؛ (۱) وہ شکل جس کی لمبائی چوڑائی برابر نہ ہو (۲) (جیومیٹری کی اصطلاح) چار ضلعوں کی شکل جس کے چاروں زاویہ قائمہ اور مقابل کے دو ضلع برابر ہوں۔

مُشْتَار : (ع) مانگا ہوا، ادھار لیا ہوا۔
مُشْتَعَان : (ع) (۱) جس سے مدد مانگی جلتے (۲) مذکر؛ خدا کا نام۔

مُشْتَعَجِل : (ع) جلد باز، جلدی کرنے والا۔
مُشْتَعِد : (ع) (۱) آمادہ، تیار، موجود، کمر بستہ (۲) چست، چالاک، ہوشیار، تیز، طرار۔

مُشْتَعَفِي : (ع) استعفا دینے والا، نوکری چھوڑنے والا۔
مُشْتَعْفَل : (ع) استعمال کیا ہوا، برتا ہوا، کام میں لایا ہوا، مروج۔

مُشْتَعِين : (ع) مدد چاہنے والا، اعانت طلب کرنے والا۔
مُشْتَعَاث : (ع) جس سے انصاف چاہا جائے، جس سے فریاد کی جائے۔

مُشْتَفِرَق : (ع) کسی کام میں نہایت معروف۔
مُشْتَفِيف : (ع) معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا۔

مُشْتَفِي : (ع) (۱) آزاد، بے پروا (۲) مالدار، دولت مند (۳) آسودہ حال، مطمئن (۴) غنی، بے نیاز۔

مُشْتَفِيث : (ع) مذکر؛ (۱) استغاثہ دائر کرنے والا، ناشی، فریادی، دادخواہ (۲) قانون، عدالت و عددراری میں دُعا دائر کرنے والا۔

مُشْتَفَاد : (ع) حاصل کیا ہوا، جو چیز فائدے میں حاصل ہو (۲) مذکر؛ فائدہ، حاصل۔

- مُسَجَّح : (ع) قافیہ بند، مُتَقَفَّی عبارت۔
 مُسَجَّجَل : (ع) حکم کا تصدیق کیا ہوا (۱۱) مجازاً، درست
 آلاستہ۔
 مُسَجَّجَل : رجسٹرار۔
 مُسَجَّجَل : (ع) سجدہ کیا ہوا، جسے سجدہ کیا جاتے۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، (۱۱) چھوٹا، ہاتھ سے لٹکا، ہاتھ پیرنا (۱۲) وغیرا منس
 کرتے وقت ہاتھ کو کسی خاص عضو پر پھیرنا۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، (۱۱) اسی صورت سے بڑھ کر بڑی صورت ہونا،
 ۱۲ بے مزگی، بے لطفی۔
 مُسَجَّج : (ع) تیسرے کی گلیا، فتح کیا گیا، مغلوب، مُطِیع۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، ظریف، (انگ) جو کرے، شیطانی باز۔
 پکن : مذکر، ہنسی، شٹھا، تسفر۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، (۱۱) (جو میٹری کی اصطلاح) چوہلوں
 کی شکل جس کے سب ضلع اور ناویے برابر ہوں (۱۲)
 چھ مصرعوں کے بند والی نظم۔
 مُسَجَّج : (ع) بند کیا گیا، بند، رُکا ہوا۔
 مُسَجَّج : (ع) مونث، خوشی، فرحت۔
 مُسَجَّج : (م) مُسَجَّجت۔ پٹن۔ (دی) (ع ف)
 ایک یونانی فلسفہ حیات جس کے مطابق زندگی کا مقصد
 مسرت ہے، مادی مسرتوں پر یقین کا فلسفہ۔
 مُسَجَّج : (ع) فضول خرچ، بیکار خرچ کرنے والا۔
 مُسَجَّج : (ع) خوش، شاد۔
 مُسَجَّج : (ع) مونث، چوری کا مال چورانی ہوتی چیز۔
 مُسَجَّج : (انگ) صاحبہ، شادی شدہ عورت۔
 مُسَجَّج : (ع) (۱) بچا ہوا، پھیلا ہوا، (۲) چوڑا، کھلا۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، (۱) سطریں بنانے کا آلہ، (۲) سطروں والا کاغذ۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، (۱) لکھا گیا، تحریر کیا گیا۔
 مُسَجَّج : (ع) نیک، مہارک، سعید۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، خلیج فارس کا ایک ساحلی شہر۔
 مُسَجَّج : (ع) چمت ڈالا ہوا، پانا ہوا، چمت بند۔
 مُسَجَّج : (ع) مذکر، مُسَجَّج۔
- مُسْک : مونث، کپڑے کا ذرا سا پھٹ جانا، ایسا پھٹ جانا کہ
 کپڑے کا تار الگ نہ ہو جائیں۔
 مُسْکَان : (ع) مونث؛ مسکراہٹ، تبسم۔
 مُسْکَانَا : کپڑے کو ایسا پھاڑنا کہ اس کے تار الگ نہ ہوں۔
 مُسْکَانَا : (ع) چپ کرانے والا۔
 مُسْکِر : (ع) نشہ پیدا کرنے والی چیز، مستی لانے والی چیز
 جمع مُسْکِرَات۔
 مُسْکِرَات : (ع) مذکر؛ جمع مُسْکِرِی؛ وہ چیزیں جو نشہ پیدا
 کریں، منشیات۔
 مُسْکِرَانَا : تبسم کرنا، اس طرح ہنسنا کہ آواز نہ ہو۔
 مُسْکِرَاہِٹ : مونث؛ ہونٹوں میں ہنسا، تبسم، وہ ہنسی جس
 میں دانت نہ کھلیں۔
 مُسْکِن : (ع) مذکر؛ رہنے کی جگہ، مکان، گھر، ٹھکانا۔
 مُسْکِنِی : (ع) تسکین دینے والا۔
 مُسْکِنَا : (۱) مسک جانا (۱۱) (ع) - ع) اپنی جگہ سے ہٹنا، جنبش کرنا۔
 مُسْکِنَات : (ع) مونث؛ مُطِعی، حاجزی۔
 مُسْکُوک : (ع) تھپا لگا ہوا، سرکاری بھاپ کا برکتہ۔
 مُسْکُہ : (ف) مذکر، (۱) تازہ نکلا ہوا، کچا گھی، مکھن (۲) دوائل
 سے جلیا ہوا پارہ۔
 مُسْکِنِی : (ع) (۱) عاجز، ناتواں، بیچارہ (۲) بھولا، سیدھا سادا
 علیم، بزدل (۳) نادار، مفلس، عزیز۔
 مُسْکِنِی : مونث؛ (۱) بھولا پن (۲) عاجزی (۳) ناداری، مفلسی،
 مسکین ہونا۔
 مُسْکِل : مونث؛ مقدمے کے کاغذات
 مُسْکِل ڈالنا : کچل ڈالنا، پیس ڈالنا۔
 مُسْکِل : (ع) ہتھیار بند، کمربند۔
 مُسْکِل : (ع) مذکر؛ جالوروں کی کھال کھینچنے کی جگہ کیلا۔
 مُسْکِل : (ع) سلسلہ وار، پے درپے، متواتر۔
 مُسْکِلَط : (ع) قبضہ کرنے والا، قابض، غالب، فاتح، طاقتور۔
 مُسْکِلَط : (ع) جس پر کسی کو مقرر کیا جائے، مغلوب، مفتوح
 مُسْکِلَط : (ع) مُسْکِلَط کیا ہوا۔

کے ناموں سے پہلے آتا ہے)۔
مُشَرِّف : (ع) ۱۱) بوڑھا، مُعَزَّز (۱۲) کنایا، تہذیب کار، فانا۔
مُشَفِّد : (ع) ۱) مونث، ۱۱) تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ، وہ فرش جس پر امراء بیٹھتے ہیں۔ ۱۲) تکیہ گاہ، گاد تکیہ، گدگی۔

مُشَفِّد : (ع) ۱) (علم نحو کی اصطلاح) خبر، ۱۲) زمانہ روزگار۔
مُشْفِی : (ع) ۱) مذکر، (نحو کی اصطلاح) شروع، اول، مبتداء۔
مُسْتَوْفٍ : (ع) ۱) روشن، ۱۲) وہ فعل جس کا کرنا شروع میں منت ہو اور جسے حضرت محمد نے خود کیا ہو۔

مُسْوَاک : (ع) ۱) مونث، دانت صاف کرنے کی ریشہ دار لکڑی، دُتُوک۔
مُسْوَدَّہ : (ع) ۱) مذکر، ۱۱) وہ قرعہ جو سرری لکھی جلتے اور جس کے صاف کرنے کی ضرورت پڑے، ۱۲) کنایا، منصوبہ۔

مُسْوَر : ایک قسم کی دال۔
مُسْوَرَّہَا : مذکر، دانتوں کے اوپر کا گوشت۔
مُسْوَس : مونث، مڑوڑ۔
مُسْوَسَا : مڑوڑنا، گڑھنا، دباننا، پھوڑنا۔
مُسْهَرِی : مونث، ۱۱) ایک قسم کا پلنگ، ۱۲) مکھیوں اور پھروں سے بچنے کے لیے جالی دار پترا جو پلنگ کے اوپر تانتے ہیں۔

مُسْتَهْل : (ع) ۱) مذکر، دست لانے والی دوا، دست آور۔
مُسْتَه : (ع) ۱) سوال، حل طلب سوال، ۱۲) شرعی سوال، ۱۳) بے حیدہ معاملہ، ۱۴) تجویز۔

مُسْتَوَل : (ع) ۱) مذکر، سوال کیا گیا، مانگا گیا۔
مُسْتَوِی : مونث، ۱) ایک قسم کا سنن جسے عزیزین دانتوں کو سیاہ چمک دار بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔

مُسْبِج : (ع) ۱) مذکر، حضرت عیسیٰ کا لقب۔
مُسْبِجَا : (ع) ۱) بیارکوشا عینے والا احیاء بخشنے والا (۱۲) حضرت عیسیٰ سے۔ ۱۳) کنایا، معشوق۔

مُسْبَی : (ع) ۱) مونث، مسیح کے معجزے والی طاقت، ۱۲) چتکار، حیات بخشی۔
مُسْبِی : عیسائی، نصرانی۔

مُسْبِی : (ع) ۱) جانا، چلنا، سیر کرنا، ۱۲) سیر کرنے کا مقام۔
مُسْبِی : (ع) ۱) مذکر، یہاں کے ایک کافر کا نام، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

مُسْتَلِک : (ع) ۱) مذکر، ۱) راستہ، ۱۲) طریقہ، دستور۔
مُسْتَلِم : (ع) ۱) مذکر، تسلیم کیا گیا، مانگا گیا، ۱۲) پورا، سب، کابلی، ۱۳) بحال، برقرار۔

مُسْتَلِمَات : (ع) ۱) مذکر، تسلیم کی ہوئی باتیں، (جمع مُسْتَلِمَات)۔
مُسْتَلِمَان : مذکر، مُسْلِم، مذہب اسلام کا پیرو۔

مُسْتَلَمَانِی : (ع) ۱) مونث، مسلمان ہونا، ۱۲) عم، بچوں کا آئینہ تامل، ۱۳) تختہ، تختہ کی تقریب۔

مُسْتَلَمَہ : (ع) ۱) مونث، مانگا گیا، تسلیم کیا گیا۔
مُسْتَلَمَات : ۱) ہاتھوں سے کھنا، رگڑنا، ۱۲) کھانا، روندنا، دباننا، ۱۳) آنا گوندھنا۔

مُسْتَلَوک : (ع) ۱) جاری کیا گیا، آمدورفت کیا گیا، ۱۲) سلوک کیا گیا، احسان کیا گیا۔
مُسْتَلَوَل : (ع) ۱) ہل یا دق کا مرین، ۱۲) باہر نکالا ہوا، کھینچا ہوا، تلوار جو نیام سے باہر ہو۔

مُسْتَمَات : (ع) ۱) مونث، ۱) نام رکھی گئی، نام والی، ۱۲) تائید کی طامت۔

مُسْتَمَار : (ع) ۱) دیران، تباہ، برباد، منہدم۔
مُسْتَمَرِّزِم : MESMERISM (۱) مذکر، ایک علم جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پرشیدہ اور آئندہ حالات پر چھ جلتے ہیں۔

مُسْتَمْسِی : مونث، ۱) (جو) گھٹی، دیکھنے میں سیدھی سادی مسکین صورت۔

مُسْتَمَط : (ع) ۱) موتیوں کی لڑی، پرہی ہوئی چیز، ۱۲) نظم کی ایک قسم۔

مُسْتَمِز : (ع) ۱) حٹا کرنے والا۔
مُسْتَمِز : (ع) ۱) موٹا کیا گیا۔
مُسْتَمِزِج : (ع) ۱) مذکر، شگایا، قبول کیا گیا۔

مُسْتَمِزِج : (ع) ۱) زہر دیا گیا، ۱۲) وہ جس نے زہر کھایا ہو۔
مُسْتَمِزِج : (ع) ۱) تام رکھا گیا، نام والا، موسوم، پکارا گیا (مردوں)

مُسَبِّح، مَوْت، مَوْنِجوں کے دُوبیں، سبزو خط۔
بھینگنا، مَوْنِجوں کا رویاں نکھانا۔

م ش

مُشَابِه : (ع) مانند، مثل، مطابق۔

مُشَابَهَت : (ع) موث؛ مطابقت، موافقت، باہمی یکسانیت، تشبیہ

مُشَار : (ع) اشدہ کیا گیا، بتایا گیا۔

مُشَارِئِیہ : (ع) وہ شخص یا چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔

مُشَارِب : (ع) مذکر؛ جمع مشرب کی، پانی پینے کی جگہیں (۲۱)۔

مُشَابِہ، طریقے۔

مُشَارِق : (ع) جمع مشرقی؛ طلوع ہونے کی جگہیں۔

مُشَارِکَت : (ع) موث؛ شرکت، باہم شرکت کرنا۔

مُشَاطِط : (ع) موث؛ عورتوں کو بناؤ سنگار کرنے والی عورت۔

مُشَاطِر : موث؛ شادی بیاہ کے رشتے کرانے والی عورت۔

مُشَاعِرہ : (ع) مذکر؛ باہی شعر خوانی، شوار، ایک جگہ جمع ہو کر اپنا اپنا کلام سنانا۔

مُشَاغِل : (ع) مذکر؛ جمع مشغلی؛ بہت سے شغل، بہت سے کام۔

مُشَاقِبَہ : (ع) مذکر؛ سامنے، رُوبرو۔

مُشَاق : (ع) ماہر، تجربہ کار، کمال مہارت رکھنے والا۔

مُشَاقِی : موث؛ مہارت، تجربہ۔

مُشَاکِل : (ع) موث؛ (۱) عروض کی ایک بحر کا نام، (۲) صفت، مانند۔

مُشَام : (ع) مذکر؛ دماغ، قوتِ شائستگی جگہ۔

مُشَاوَرَت : (ع) موث؛ باہمی صلاح و مشورہ۔

مُشَاوَدَہ : (ع) مذکر؛ (۱) دیکھنا، دید، (۲) معائنہ۔

مُشَاہِدَات : (ع) مذکر؛ جمع مشاہدہ۔

مُشَاہِرَہ : (ع) مذکر؛ سخاوت، ولایت، ماہوار، طلب۔

مُشَاہِرِی : (ع) جمع مشہوری؛ مذکر، اچھاڑ، نامور لوگ، مشہور لوگ۔

مُشَاخِخ : (ع) بزرگ لوگ، منتفی، پرہیزگار لوگ، اکابر ہیں، صوفیا۔

مُشَايِعَات : (ع) موث؛ (۱) رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دوز تک جانا، (۲) پروی، تعظیم، (۳) جنازہ کے ساتھ جانا۔

مُشَاطِیْن : (ع) مذکر؛ (۱) اشیاء کی تعقیقوں کی دریافت دلیلوں سے

کرنے والے دانشوروں کا گروہ، (۲) قدیم یونان کے فلسفین کا

ایک طبقہ جو ایک دوسرے کے پاس جا کر علم حاصل کرنے میں یقین رکھتا تھا۔

مُشَبِّک : (ع) جال دار، سوراخ دار۔

مُشَبِّہ : (ع) تشبیہ دیا ہوا۔

مُشَبِّتَہ : مذکر؛ جس سے مشابہ کیا جلتے۔

مُشْت : (ع) موث؛ مذکر؛ (۱) قسطنطنیہ، چوکی انگلیاں جب بند ہوں

(۲) وہ مقدار جو ایک مٹھی میں آئے، (۳) تھوڑی چیز۔

مُشْتَاق : (ع) طالب، خواہش مند۔

مُشْتَبِہ : (ع) مشکوک جس میں شبہ ہو۔

مُشْتَرِک : (ع) مذکر؛ (۱) سا جھے کا (۲) شریک کیا ہوا، (۳) کسی معنی دینے والا لفظ۔

مُشْتَرِکَا : (ع) شرکت میں، سا جھے کے طور پر۔

مُشْتَرِکَہ : (ع) موث؛ شرکت کی ہوتی، سا جھے کی۔

مُشْتَرِی : (ع) مذکر؛ (۱) گاہک، خریدار، (۲) ایک ستارہ، (۳) کیا

گروہ کی اصطلاح، (۴) رنگ، قلعی۔

مُشْتَعِل : (ع) بھڑکتا ہوا، شعلہ زن۔

مُشْتَق : (ع) (۱) پھاڑا گیا، بنایا گیا، (۲) ماخوذ، وہ لفظ جو کسی دوسرے

لفظ سے بنایا گیا ہو۔

مُشْتَعِل جمع، شامل ہونے والا، (۲) چھاجانے والا۔

مُشْتَهَر : (ع) (۱) شہرت دینے والا، اشتہار دینے والا، (۲) مشہور۔

مُشْتَهَر : (ع) اشتہار دیا ہوا، مشہور۔

مُشْتَهٰی : (ع) آرزو مند، خواہش کرنے والا۔

مُشْتَجِر : (ع) مذکر؛ (۱) درختوں کی شکل نقش کی ہوتی، (۲) پھول دار پتڑا۔

(۳) ایک قسم کا پتھر جس پر مختلف قسم کے نقش بنے ہوتے ہیں۔

مُشْتَقِص : (ع) تفضیل کیا ہوا، جانچا ہوا۔

مُشْتَدِد : (ع) (۱) تشدید دیا ہوا، (۲) سخت کیا ہوا، مضبوط کیا ہوا۔

مُشْتَرِب : (ع) مذکر؛ (۱) پانی پینے کی جگہ، چشمہ، (۲) میل، (۳) دین، مذہب، ملت، (۴) ڈھنگ، طریقہ، طور۔

مُشْتَرِح : (ع) تشریح کیا ہوا، صاف، مفصل، واضح۔

مُشْتَرِف : (ع) عزت دیا گیا، معزز۔

مُشْرِق : (ع) مذکر؛ سورج نکلنے کی جگہ، پورب۔

مشرقی : (ع) ۱۱ پہلی ۳۰ پر بکار ہونے والا۔

مشرقین : (ع) مذکر، مشرق کا تثنیہ۔

مشرک : (ع) شرک کرنے والا، شخص جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔

مشریح : (ع) کھل کر بیان کیا ہوا، تشریح کیا ہوا۔

مشروط : (ع) شرط کیا ہوا، کسی شرط پر موقوف۔

مشروحاً : (ع) تشریح کے ساتھ، مفصل۔

مشروع : (ع) جائز، ۱۱۱ شرع کے مطابق، موافق، ۱۱۱۱ اُردو، مذکورہ ایک قسم کا کپڑا۔

مشرع : (ع) خبر دینے والا، ظاہر کرنے والا۔

مشغل : (ع) ۱۱ چراغ دان، شمع ۱۱، پڑے کی بڑی جی ہو لکڑی کے ایک سرے پر بندھی ہوتی ہے، جسے تیل میں تر کر کے جلاتے ہیں۔

مشغلی : (ع) مشغل جلاتے والا، مشغل دکھانے والا، مشغل بردار۔

مشغلہ : (ع) مذکر، مشغل، کام، تفریح، کسی کام میں مصروف ہونے کا ذریعہ۔

مشغول : (ع) مصروف، کام میں لگا ہوا۔

مشفق : (ع) مذکر؛ شفقت کرنے والا، مہربان، شفیق، دوست۔

مشفقانہ : (ف) دوستانہ، ہمدردی سے۔

مشق : (ع) مونث؛ ۱۱ مہارت، عادت، ۱۱ کسی کام کو ہر روز کرنا؛ بار بار لکھنا یا کوئی کام کرنا۔

مشقت : (ع) مونث؛ ۱۱ محنت، دکھ، ۱۱ کام، کاج مزدوری۔

مشک : (ف) مونث؛ پانی بھرنے کی کھل۔

مشکیزہ : (ف) مذکر؛ چھوٹی مشک۔

مشک : (ف) مذکر؛ ۱۱ کستوری ۱۱، ۱۱ ایک قسم کی خوش بو، بوکستوریہ ہون کی نافع سے نکلتی ہے، (۳) کالا۔

آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطا ہوید : (ف) مش؛ ہنریا اچی چیز خود ہی ظاہر ہوتی ہے، تعریف کی ضرورت نہیں۔

بار : (ف) خوشبو برسانے والا۔

بلا : (ف) خوشبودار، معطر۔

بید : (ف) مذکر؛ ایک قسم کا بید جس کا قلم بنایا جاتا ہے۔

بیزر : (ف) خوشبودار، معطر۔

قام : (ف) مشک کے رنگ کا کالا۔

تاب : (ف) مذکر؛ ۱۱ سیاہی ۱۱، ۱۱ خالص مشک۔

مشکی : (ف) ۱۱ مشک کے رنگ کا کالا، ۱۱، ۱۱ مذکر؛ کالے رنگ کا گھوڑا۔

مشکین : (ف) ۱۱ مشک کی سی خوشبو، (۳) کالا۔

مشکتل : (ع) مجسم، شکل میں لایا ہوا۔

مشکل : (ع) ۱۱ محنت، دشوار، (۲) مونث؛ سختی، دشواری، مصیبت (۳) بے چیدہ، اُجھا ہوا۔

مشکشا : (ف) مشکل حل کرنے والا، مصیبت دور کرنے والا۔

مشکوٰۃ : (مثنیٰ - کات) (ع) مونث؛ حدیث کی ایک مشہور کتاب۔

مشکور : (ع) ۱۱ پسندیدہ، (۲) شکر کیا ہوا۔

مشکوک : (ع) شک کیا ہوا، گمان کیا گیا۔

مشکین : مونث؛ دونوں شانے، دونوں بازو۔

مشمول : (ع) مذکر، شامل کیا ہوا، سب طرف سے گھرا ہوا۔

مشورۃ : (ع) مونث؛ صلاح، مشورہ۔

مشورہ : (ف) صلاح، منصوبہ، باہمی تجویز۔

میشن : MISSION (انگ) مذکر؛ ۱۱ پادریوں کی جماعت، ۱۱۱ مقصد، منصوبہ، (۲) سفارت۔

میسکول : SCHOOL (انگ) مذکر؛ کسی مذہبی ادارے کا اسکول (عام طور سے مراد عیسائیوں کا اسکول ہے)

میشنری : MISSIONARY (انگ) ۱۱ عیسائیوں کی تبلیغی جماعت (۲) اپنے مذہب کی اشاعت کرنے والی جماعت۔

مشوش : (ع) پریشان، مضطرب، حیران۔

مشہد : (ع) مذکر؛ ۱۱ حاضر ہونے کی جگہ، (۲) شہادت گاہ، شہیدیں کا قبرستان (۳) ایران کے ایک شہر کا نام۔

مشہود : (ع) حاضر کیا گیا، موجودہ، ظاہر، ثابت کیا گیا۔

مشہور : (ع) شہرت دیا ہوا، نام ور، عام۔

مصرفوف : نامی گرامی۔

مشیت : (ع) مونث؛ ۱۱ خواہش، مرضی، ارادہ، (۲) خدا کی مرضی۔

مشیت : (ع) مونث؛ ۱۱ بزرگی، (۲) شیخی، گمبند۔

مشیر : (ع) صلاح کار، مشورہ دینے والا، صاحب۔

مشین : شاندار، زعب داب والا، خوب صورت۔

مشین : MACHINE (انگ) مونث؛ کل، آکر، مشین۔

مشینی : ۱۱ مشین کی طرح (۲) (مجازاً) پابند و سبے حس۔

مشینری : MACHINERY (انگ) موٹو؛ کل پرزے۔

م ص

مصایح : (ع) مذکر؛ جمع مصباح کی، (۱۱) چراغ، (۱۲) موٹو؛ علمِ حد کی ایک کتاب کا نام، مشکوٰۃ المصابیح۔

مصاحب : (ع) ساتھی، ہم نشین، خاص، دوست، رفیق، ندیم۔
مصاحبت : (ع) موٹو؛ ہم نشین، ساتھ رہنا، پاس آٹھنا، بیٹھا۔

مصاحف : (ع) مذکر؛ جمع مصحف کی۔
مصادر : مذکر؛ جمع مصدر کی؛ نکلنے کے مقامات۔

مصارف : مذکر؛ جمع مصرف کی، اخراجات، صرف کرنے کا نکل۔
مصاف : (ع) مذکر؛ لڑائی کا میدان، لڑائی، جنگ و پیکار۔

مصافحہ : (ع) مذکر؛ ملاقات کے وقت ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔
مصالح : (ع) مذکر؛ جمع مصلحت کی۔

مصالحات : (ع) موٹو؛ میل ملاپ، آپس میں صلح کرنا۔
مصائب : (جمع مصیبت کی) (ع) مذکر؛ موٹو؛

مصباح : (ع) مذکر؛ (۱۱) چراغ، (۱۲) صبح کے وقت، شراب پینے کا پیالہ۔
مصنبر : مذکر؛ ایک کڑوی دوا، ایوا۔

مصنوع : (ع) تصحیح کرنے والا، صحت کرنے والا۔
مصنوعات : (ع) مذکر؛ (۱) کتاب، (۲) جهاز، قرآن۔

مصدق : (ع) مذکر؛ وہ شے جس پر کسی معنی کا اطلاق ہو۔
مصدر : (ع) مذکر؛ (۱) صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، چشمہ،

جڑ، اصل، بنیاد، (۲) وہ جگہ جس سے فعل اور صیغے مشتق ہوں۔
مصدقہ : (ع) تصدیق کرنے والا، ثابت کرنے والا، (۱) سچی گواہی

مصدقہ : (ع) تصدیق کیا گیا، قبر بیکار کیا، آزمائش کیا گیا۔
مصدقہ : (ع) موٹو؛ (۱) تصدیق کیا ہوا، (۲) جس کی سرکاری طور پر

تصدیق ہوئی ہو۔
مضر : (ع) مذکر؛ (۱) شہر، (۲) افریقہ کے شمال مشرق میں ایک ملک کا نام۔

مضرب : (ع) اصل کرنے والا۔
مضرب : (ع) مذکر؛ (۱) آدھا شعر، (۲) کواڑ کا ایک پٹ۔

مضروب : (ع) مذکر؛ (۱) خرق، خرقہ کرنے کی جگہ، (۲) مطلب، کام خرق۔
مضروف : (ع) مشغول، کام میں لگا ہوا۔

مصری : مذکر؛ (۱) مصر کا باشندہ، (۲) موٹو، مصر کی زبان، (۳) نبات۔
مصطفیٰ : (ع) برگزیدہ، منتخب، پسندیدہ، پیغمبر اسلام کا لقب۔

مصطلح : (ع) موٹو؛ ایک قسم کا نادر لفظ۔
مصطلحات : جمع مصطلح کی؛ (ع) مذکر؛ اصطلاحیں، محاورے۔

مصفا : (ع) پاک، (۱) صاف، (۲) تھرا ہوا۔
مصفا : (ع) صاف کرنے والا۔

مضار : (ع) مضاربت، (ع) مضاربت کی جگہ، (۲) جاننا، پوری۔
مضارع : (ع) اصل لے کرنے والا، ریفارمر، (۲) ضرر سے

بچانے والا۔
مضارعت : (ع) موٹو؛ (۱) نیک صلاح، (۲) بہتری، مشورہ،

۱۳ مرضی مشیت۔
مضامین : (ع) مصلحت کے مطابق، بھلائی کی بنیاد پر۔

مصلوب : (ع) سولی پر چڑھایا گیا، پھانسی دیا ہوا۔
مضی : (ع) مذکر؛ نمازی، نماز پڑھنے والا۔

مصمم : (ع) پکا، مضبوط، استوار۔
مضیف : (ع) تصنیف کرنے والا، کتاب لکھنے والا۔

مضنفہ : (ع) لکھی ہوئی، تصنیف کی ہوئی۔
مصنوع : (ع) بنایا ہوا، صنعت کیا ہوا۔

مصنوعات : جمع مصنوع کی؛ (ع) موٹو؛ مخلوقات، بنائی ہوئی چیزیں۔

مصنوعی : (ع) بنائی ہوئی، غیر قدرتی، (۲) بناوٹی، جعلی۔
مضوور : (ع) (۱) تصویر بنانے والا، نقاش، (۲) رنگ بھرنے اور

پیل بوٹے بنانے والا، (۳) خدائے تعالیٰ کا نام۔
مضووری : (ع) موٹو؛ نقاشی، تصویر کشی۔

مصنوع / مصنونه : (ع) محفوظ، نگہبانی کیا گیا۔
مصیبت : (ع) موٹو؛ (۱) رنج، دکھ، تکلیف، (۲) حادثہ، صدمہ،

(۳) سختی، ادبار، (۴) دشواری، مشکل۔
مزد : آفت کا مارا، بد نصیب۔

م ض

مضارع : (ع) مذکر؛ (۱) مشاہیر، مانند، (۲) فعل جس میں حال اور

مُضْضِعِل : (ع) ٹھحال، سُست، اُداس۔
مُضْمَر : (ع) چھپا ہوا، پوشیدہ، پنہاں۔
مُضْمُوم : (ع) وہ حرف جس پر پیش ہو (و)
مُضْمُون : (ع) مذکر، (ع) مطلب، معنی، کسی خاص موضوع پر لکھی جانے والی تقریر یا عبارت، (انگ) ARTICLE آرٹیکل (۲۱) بات۔
مُضْمَنے : (ع) جو ہوا سو ہوا، گزرا سو گزرا۔

م ط

مطالِع : (ع) مذکر، جمع مطیع کی؛ چلنے والے (انگ) پریس۔
مطابِق : (ع) برابر، یکساں، مانند، مشابہ (۳۱) مناسب، موافق، بموجب (۳۱) مذکر، (اصطلاح اہل مطالعہ) وہ کاپی جو تصحیح کرنے کے بعد چھاپی جاتے۔

مطابقت : (ع) موافقت، مشابہت، برابری۔
مطاعین : (ع) مذکر، یعنی، عیب۔

مطالب : (ع) مذکر، جمع مطلب کی۔

مطالبہ : (ع) مذکر، اپنا حق چاہنا، دعو، درخواست، مانگ، تقاضا کرنا۔

مطالع : مذکر، جمع مطیع کی۔

مطالعہ : (ع) مذکر : کسی تقریر یا کتاب کو غور سے پڑھنا، (۲۱) استاد سے سبق پڑھنے سے پیشتر طالب علموں کا سبق کے معنی مطلب پر غور کرنا۔

مطب : (ع) مذکر، بیماروں کے علاج کرنے کی جگہ، شفاخانہ۔

مطبوع : (ع) مذکر، کھانا پکانے کی جگہ، باورچی خانہ۔

مطبوع : (ع) چھاپہ خانہ، پریس (Press)

مطبوعہ : (ع) مذکر، آگ پر لپکائی ہوتی، لپکی ہوئی۔

مطبوعہ : (ع) (۱) چھاپہ ہوا، طبع شدہ، (۲) پندیدہ، مرغوب۔

مطبوعہ : (ع) موٹ، چھاپا ہوا، طبع شدہ۔

مُطْرِب : (ع) مذکر، گانے والا، قوال، گونیا۔

مطروود : (ع) نکالا ہوا، دھتکا ہوا (۲۱) دور سے چھاپا ہوا شہر بند کیا ہوا۔

مطعون : (ع) طعنہ دیا ہوا، بدنام، رسوا، طاعت کیا گیا، عیب لگایا گیا۔

مستقبل دونوں زبانیں میں پاتے جاتیں، (۳۱) موٹ، عرض کی ایک محرک نام۔

مُضَاعَفَت : (ع) (۱) دُگنا، دُہرا، دُونا، (۲) مذکر، (ظلم صرف کی ایک اصطلاح) وہ لکڑی کے آخیں ایک جنس کے دو حرف آئیں۔

مُضَاف : (ع) اضافت کیا ہوا، نسبت کیا ہوا، طایا ہوا۔

مُضَاف الیہ : (ع) مذکر : وہ اسم جس کی طرف کوئی دوسرا اسم منسوب کیا جاتے۔

مُضَافَات : (ع) مذکر : جمع مُضَاف کی، (۱) ضمیر، بہتر (۲) تہربہ جوار، اطراف، شہر کے آس پاس کے قصبے گاؤ۔

مُضَامِن : (ع) مذکر، (جمع مضون کی) مطالب، معانی۔

مُضَالِغَة : (ع) مذکر، (۱) تہنگی، (۲) تہاحت، ہرج، ڈر، پروا۔

مُضْبُوط : (ع) (۱) پاتے وار، (۲) قوی، طاقت ور۔

مُضْبُوطِي : موٹ (۱) استقلال، پستے داری، طاقت، بہتت، جرات (۲) اطمینان، دل جمعی، تسلی۔

مُضْجِك : (ع) ہنسانے والا۔

مُضْجِکَات : (ع) مذکر، ہنسانے والی چیزیں۔

مُضْجِکَة : (ع) مذکر، ہنسی، ہنسا، تسنفر، مذاق۔

مُضْضِر : (ع) ضرر پہنچانے والا، نقصان دہ۔

مُضْرَاب : (ع) موٹ : خاص قسم کا بنا ہوا تار جسے انگلی میں پہن کر سار جاتے ہیں۔

مُضْضِرَات : (ع) موٹ : نقصان پہنچانے والی چیزیں۔

مُضْضِرَات : (ع) موٹ : ضرر، نقصان (جمع مضار)

مُضْضِرُوب : (ع) (۱) ضرب دیا گیا وہ جسے چوٹ آئی ہو۔

مُضْضِر : (ع) (۱) جس کو ضرر پہنچا ہوا، (۲) مجبور، محتاج، (۳) بے تاب، بے چین، پریشان۔

مُضْضِرِب : (ع) بے چین، بے قرار۔

مُضْضِعْف : (ع) کمزور کرنے والا، ضعیف کرنے والا۔

مُضْضِعْف : (ع) (۱) گوشت کا ٹکڑا، ٹکڑا، (۲) لہڑا، جین، (۳) جس میں ابھی جان نہ پڑی ہو۔

مُضْضِعِل : (ع) گمراہ کرنے والا۔

مُضْضَار : (ع) مذکر، میدان، ریس کا میدان۔

مُطَلَّأً : (ع) سنہرا، طلاق، تریں۔

مُطَلَب : (ع) نذر، (ع) عزیز، فائدہ، سودگار، (ع) مقصد، خواہش، ارادہ، (ع) مضمون۔

مُطَلَبِي : خود عزیز، مطلب کا یار، ابن الوقت۔

مُطَلَع : (ع) نذر، (ع) طوع ہونے کی جگہ، چاند یا سورج کے نکلنے کی جگہ، (ع) اصطلاح شعراء، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیے ہوں۔

مُطَلَّع : (ع) اطلاع دیا گیا، آگاہ، خبردار۔

مُطَلَّق : (ع) بالکل، قطعی، (ع) نذر؛ قرآن شریف کی وہ آیت جہاں شعرنا چاہیے۔

المعتاد : (ع) جس کی یاد چھوٹی ہوئی ہو، (ع) آزاد، مختار، خودمرا، بے باک۔

مُطَلَّقًا : (ع) بالکل، قطعی۔

مُطَلَّقًا : (ع) مونث؛ سلاق دی ہوئی، وہ عورت جسے شوہرنے طلاق دے دی ہو۔

مُطَلَّقِيَّةٌ : (ع) مقطوعہ (ع) ات، (ع) مونث؛ (صفت عملاندی) بے نیازی، بے قید اور عزیز یا بند خصوصیت۔

مُطْلُوب : (ع) نذر، (ع) طلب کیا ہوا، مانگا ہوا، جس چیز کی طلب ہو (ع) کنایا، معشوق۔

مُطْلِع : (ع) نذر، نظر پڑنے کی جگہ۔

مُطْلِعٌ : (ع) نذر، مرکز نگاہ، اصل مطلب۔

مُطْلِقٌ : (ع) آسودہ، بے فکر۔

مُطْلِقٌ : (ع) طول دیا ہوا، دراز۔

مُطْلِقٌ : (ع) نذر، پاک صاف، معصوم۔

مُطْلِقَاتٌ : (ع) جمع مکملہ کی؛ پاک عورتیں (جیسے ازواج مطہرات)۔

مُطْلِقٌ : (ع) پاک کرنے والا۔

مُطْلِقٌ : (ع) برسنے والا۔

مُطْلِعٌ : (ع) فرماں بردار، اطاعت کرنے والا، ماتحت۔

م م ط

مُطَالَمٌ : نذر، جمع مُطَالِمٌ؛ ظلم و ستم، سختیاں سبے انصافیاں۔

مُظَاهِرٌ : (ع) نذر، ظاہر ہونے کی جگہ، جمع منظر کی۔

مُظَاهِرَةٌ : (ع) مظاہرہ کرنے والا۔

مُظَاهِرَةٌ : (ع) نذر، (ع) مددینا، حمایت کرنا، (ع) کسی خاص صفت کے اظہار کے لیے جمع ہونا، جمع کے گشت کرنا۔

مُظَاهِرَةٌ : (ع) مونث؛ نظر آنے والی چیزوں کی پوجا، شایا بہت ہے۔

مُظَاهِرَةٌ : (ع) نذر؛ احتجاج کرنے والے، مظاہرہ کرنے والے۔

مُظْفَرٌ : (ع) فتح مند، کامیاب۔

مُظْلَمٌ : (ع) تاریک، سیاہ، (ع) مخفی، پوشیدہ۔

مُظْلَمَةٌ : (ع) ظلم۔

مُظْلَمَةٌ : (ع) داد خواہی۔

مُظْلَمٌ : (ع) نذر، جس پر ظلم کیا گیا، ستایا ہوا، ستم زدہ۔

مُظْلَمَةٌ : (ع) نذر؛ گمان کرنے کا موقع، شبہ کرنے کی جگہ (ع) گمان، خیال، قیاس، شک۔

مُظْهِرٌ : (ع) نذر؛ ظاہر ہونے کی جگہ، تماشا گاہ۔

مُظْهِرٌ : (ع) ظاہر کیا ہوا۔

مُظْهِرٌ : (ع) نذر؛ ظاہر کرنے والا، اظہار کرنے والا، گواہ، شاہد، مخبر، جاسوس۔

م م ع

مُع : (ع) ساتھ، ہمراہ۔

مُعًا : (ع) (ع) ساتھ ہی، ایک ساتھ، (ع) فوراً۔

مُعَاخِرٌ : (ع) خیریت سے، سلامتی سے، بخیر و عافیت۔

مُعَاخِرَةٌ : (ع) خیریت سے، سلامتی سے، ہمراہی، رفاقت، ساتھ۔

مُعَاوِدٌ : (ع) جمع معبد کی، عبادت گاہیں۔

مُعَاوِدٌ : (ع) نذر؛ (ع) لوٹ کر جانے کی جگہ (ع) اجازت، معینی، عالم آخرت۔

مُعَاوِدُ اللَّهِ : (ع) (ع) خدا کی پناہ (ع) توبہ توبہ کی جگہ، (ع) خداوند

کرے کی جگہ۔

مُعَارِضٌ : (ع) جھگڑا کرنے والا، مخالف، حریت۔

مُعَارِضَةٌ : (ع) نذر؛ جھگڑا، تنازعہ۔

مُعَارِفٌ : (ع) نذر؛ نامور لوگ، اہل علم و فضل۔

مُعَاش : (ع) مونٹ : (۱) روزی، وہ شے جس سے بسراوقات کی جلتے (۲) جائیز۔

مُعَاشِرَت : (ع) مونٹ : آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنا۔

مُعَاصِر : (ع) ہم عہد، ایک زمانے کا، ہم عصر۔

مُعَاصِرِی : (ع) مذکر، بیحیصیت کی، گناہ۔

مُعَاف : (ع) بخشا ہوا، آزاد، بڑی، چھوڑا ہوا۔

مُعَافِی : مونٹ : بخشش، نجات۔

مُعَافِی : (ع) جائیز دار، معاف شدہ زمین کا مالک۔

مُعَافِی : (ع) علاج کرنے والا، حکیم، ڈاکٹر۔

مُعَافِیَات : (ع) مذکر، جمع معاف کی، علاج۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، علاج کرنا، علاج۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، بندیاں، اونچائیاں۔

مُعَافِیَات : (ع) مذکر، جمع معاف کی، کاروبار، امور۔

مُعَافِیَات : (ع) مونٹ : (۱) لین دین، بیوپار، باہی معاملہ، (۲) برتاؤ۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، (۱) باہم مل کر کوئی کام کرنا، (۲) کاروبار، (۳) واہرہ، وہ باجوں میں آتے، (۴) جھگڑا، (۵) خاص بات، تصدیق۔

مُعَافِی : (ع) عناد کرنے والا، دشمن، مخالف۔

مُعَافِی : (ع) مونٹ : باہمی صداقت، دشمنی، جھگڑا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، گلے سے لگانا، بغل گیر ہونا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، جمع معنی کی، (۱) مطالب، مقاصد، مرادیں، (۲) وہ علم جس سے الفاظ کا صحیح موقع استعمال اور معنی کا صحیح یا غلط ہونا معلوم ہوتا ہے۔

مُعَافِی : (ع) مونٹ : واپسی، لوٹنا، لوٹ آنا، واپس آنا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، (۱) عوض، بدلہ، (۲) قیمت، نیشن، (۳) ہرجہ۔

مُعَافِی : (ع) (۱) مددگار، (۲) انگ، (۳) اسسٹنٹ، (۴) حمایت، (۵) مدد دینے والا۔

مُعَافِی : (ع) مونٹ : تعاون، مدد، تائید۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، قول و قرار، عہد و پیمانہ۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، محبوب، خرابیاں۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، (۱) پہنچانے سے دیکھنا، (۲) جانچ پڑتال۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، عبادت گاہ۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، گھاٹ، ٹہلی۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، جس کی عبادت کریں، جیسے پوجیں، خلتے تعالیٰ۔

مُعَافِی : (ع) (۱) اعتبار کیا ہوا، قابل اعتبار، (۲) درست، صحیح، سچی۔

مُعَافِی : (ع) (۱) معقول، (۲) زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں۔

مُعَافِی : (ع) اوسط، درمیانی، مناسب حال۔

مُعَافِی : (ع) اعتراض کرنے والا، مزاحم۔

مُعَافِی : (ع) امانتے والا، اعتراف کرنے والا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، مسلمانوں کا ایک فرقہ۔

مُعَافِی : (ع) فرقہ مستزاد کا پیرو۔

مُعَافِی : (ع) اعتقاد رکھنے والا، ماننے والا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، عقاید۔

مُعَافِی : (ع) اعتکاف میں بیٹھنے والا، گوشہ نشین۔

مُعَافِی : (ع) (۱) عقائد کیا ہوا، جس پر عقائد ہو، سکریٹری۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، معتبر آدمی، بھروسے کا۔

مُعَافِی : (ع) عتاب کیا ہوا، جس پر عتاب کیا گیا ہو۔

مُعَافِی : (ع) (۱) عاجز کرنے والا، (۲) معجزہ۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، جمع معجزہ کی۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، وہ خرق عادت جو نبی سے ظاہر ہو، (۲) وہ کام جو انسانی قوت سے باہر ہو، اعجاز۔

مُعَافِی : (ع) (۱) جلدی کیا ہوا، (۲) وہ مہر جس میں مہلت نہ ہو۔

مُعَافِی : (ع) جلدی کرنے والا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، حرف تہی میں سے نقطہ والا حرف منقوط۔

مُعَافِی : (ع) مونٹ : مرکب دوا، کئی دواؤں سے مل کر بنی ہوئی دوا۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، جمع معجون کی۔

مُعَافِی : (ع) مونٹ، صلہ، انصاف۔

مُعَافِی : (ع) مذکر، کان، چاندی، سونا، لوہا، تانبا، کونکر وغیرہ نکلنے کی جگہ۔

مُعَافِی : (ع) (۱) گن گیا، شمار کیا گیا، (۲) چند، گنتی کے تھوڑے۔

مُعَافِی : (ع) گنتی کے، قلیل تعداد میں۔

مُعَافِی : (ع) (۱) واؤ، (۲) جو کہنے میں آئے مگر پڑھنے میں نہ آتے، (جیسے، خود، خوش، خوشی کا واؤ)

مُحَدَّم / مَحْدَم : (ع) مٹایا گیا، ناپید، ناپید، ناپید ہونا۔
مَحْدَم : (ع) ذکر، بیٹ میں کھانا رکھنے اور ہم ہونے کی جگہ۔
مُحَدَّمَت : (ع) مونث، ۱۰ حد، ۱۱ حیلہ، بہانہ۔
مَحْدَمَة : ۱۱ مجبور، ناچار، ۱۲ قابلِ مافی (۱۳) پالاک۔
مَحْدَمِي : مونث، مجبوری۔
مُحَدَّمَا : (ع) ۱۱ خالی، ۱۲ غیر متعلق، ۱۳ کتاب جس پر حاشیہ نہ ہو،
 (۱۴) قرآن پاک جس کے ساتھ ترجمہ نہ ہو۔
مُحَدَّرَج : (ع) مونث، ۱۱ سیرت، ۱۲ زینہ، ۱۳ ہمارا، انتہائی عروج، انتہائی
 ترقی، ۱۴ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسانی پر تشریح لے جانے اور اہم حکمت
 کی سیر کرنے کا مجوزہ، خدا کی قربت۔
مُحَدَّرَب : (ع) وہ جو دراصل کس اور زبان کا ہو اور اس کو کسی قدر تبدیلی
 کے ساتھ عربی بنا لیا گیا ہو۔ (جیسے پل کو فیل)
مُحَدَّرَض : (ع) فکر، ظاہر ہونے کی جگہ، نانش گاہ، دوران۔
مُحَدَّرَف : (ع) تعریف کرنے والا، مَلَح۔
مُحَدَّرَفَات : (ع) مونث، ۱۱ شناخت، پہچان، ۱۲ علم الہی، خوشنما،
 ۱۳ ذریعہ، سبب، وسیلہ۔
مُحَدَّرَفِه : (ع) فکر، وہ اسم جو ایک شخص کے واسطے وضع کیا گیا ہو۔
مُحَدَّرَك : (ع) ۱۱ شکر کے جمع ہونے کی جگہ، ۱۲ ہمارا، جنگ، میدان
 جنگ، ۱۳ مقابلہ، ۱۴ بیڑ، ہنگامہ، حرم، حمام۔
أَرَا : (ف) ۱۱ صف آرا، جنگ آور، ۱۲ کتابت، زبردست،
 شاعرانہ، پُر زور۔
أَرَائِي : (ف) ۱۱ مونث، ۱۲ میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب،
 ۱۳ ایک کا دوسرے کے مقابل ہونا۔
مُحَدَّرَكَةُ الْأَرَا : دیکھو، سرکہ آرا۔
مُحَدَّرَعَض : (ع) عرض کیا گیا، پیش کیا گیا، عرض گزارش، درخواست۔
مُحَدَّرَعَضَة : (ف) ۱۱ فکر، ۱۲ عرض، ۱۳ گزارش، ۱۴ درخواستوں میں
 کاربندے پہلے معروفہ (یعنی مؤخر) لگتے ہیں۔
مُحَدَّرَعَضِي : (ع) عقل، حقیقی، غیر جذباتی، خارجی۔
مُحَدَّرَعَضِيَّت : مونث، حقیقت پسندی، غیر جذباتیت، خارجیت۔
مُحَدَّرَعَضِيَّت : (ع) ۱۱ ہمارا پہچانا ہوا، مشہور، ظاہر، ۱۲ نیکی اور اطاعت،
 ۱۳ فکر، عقل جس کا قائل معلوم ہو۔

مُحَدَّر : (ع) ۱۱ عزت دینے والا، ۱۲ خدا کا ایک نام۔
مُحَدَّرَة : (ع) ۱۱ عزت کیا ہوا، عزت دار، ۱۲ باوہت۔
مُحَدَّرَوْل : (ع) ۱۱ متحرف کیا گیا، برطرف کیا گیا، ۱۲ بے روزگار،
 بے کار، ۱۳ تخت یا گدی سے اتارا گیا۔
مُحَدَّرَكِر : (ع) ۱۱ ذکر، شکر کرنے کی جگہ، چھاؤنی، کیمپ، لشکر گاہ۔
مُحَدَّرَقَر : (ع) ۱۱ (جو میٹری کی اصطلاح) دس متعویں کی شکل، ۱۲
 وہ جس کے دس گوشے ہوں، ۱۳ ذکر، ایک قسم کی نظم۔
مُحَدَّرَشَوَق : (ع) ۱۱ ذکر، وہ جس پر کوئی عاشق ہو، محبوب۔
مُحَدَّرَشَوَقَانَة : (ف) ۱۱ عشوق کی مانند، دلغریب، دلکش۔
مُحَدَّرَشَوَقَة : (ع) ۱۱ مونث، وہ عورت جس پر کوئی عاشق ہو۔
مُحَدَّرَصَوَم : (ع) ۱۱ بے گناہ، بے قصور، پاک دامن، ۱۲ نتخابت،
 ۱۳ سیدھا سادا، بیٹولا بالابالا۔
مُحَدَّرَصَوَمِيَّت : مونث، لشکر، بولان، پچنا، ۱۲ بے گناہی۔
مُحَدَّرَصِيَّت : (ع) ۱۱ مونث، گناہ، نافرمانی۔
مُحَدَّرَعَطْر : (ع) خوشبو، حار، خوشبو میں لیسا ہوا۔
مُحَدَّرَعَطْل : (ع) ۱۱ بیکار دست، ٹھیکہ، ۱۲ کچھ دنوں کے لیے بیکار۔
مُحَدَّرَعَطُوف : (ع) ۱۱ پیرا گیا، اپنا ہوا، ۱۲ ذکر، علم غویں، وہ کلمہ
 جو حرفِ عطف کے بعد واقع ہو۔
مُحَدَّرَعَطُوفِ عَلِيَّه : وہ کلمہ یا کلام جو حرفِ عطف سے پہلے واقع ہو۔
مُحَدَّرَعَطُوبِي : (ع) ۱۱ عطا کرنے والا، ۱۲ خدا کا نام۔
مُحَدَّرَعَطُوم : (ع) ۱۱ ذکر، بزرگ، بڑا، شریف۔
مُحَدَّرَعَقْد : (م-ع-ق-د) ۱۱ مشکل، پچیدہ، دشوار، دقیق۔
مُحَدَّرَعَقُول : (ع) ۱۱ عقل کے مطابق، پسندیدہ، ۱۲ مناسب، بجا،
 درست، ۱۳ شائستہ، مہذب، سنجیدہ، ۱۴ قائل، لائق، ۱۵
 ۱۱ کافی، خاطر خواہ۔
مُحَدَّرَعَقُولَات : (ع) ۱۱ مونث، ۱۲ حکمت، فلسفہ اور منطق کی کتابیں،
 ۱۳ جمع معقول کی۔
مُحَدَّرَعَقُولِيَّت : مونث، انسانیت، سمجھ بوجھ، سنجیدگی۔
مُحَدَّرَعَقُولِيَّس : (ع) ۱۱ آٹا، اونٹ، ٹیڑھا، ۱۲ آسمان کی صفت،
 ۱۳ (مقتدے کے لیے) بڑا، غراب، مغوس۔
مُحَدَّرَعَطْلِي : (ع) ۱۱ آجڑا، لگا ہوا۔

مُخَلَّق : (ع) ۱۱۱ بند کیا ہوا دروازہ ، مقفل ، تالا لگایا ہوا ، (۲) اذق ، مشکل کلام ، دقیق بات ، ایسے الفاظ جس کے معنی

مشکل سے سمجھ میں آئیں۔
مُخَلِّم : (ع) ۱۱۱ غلام کسے والا۔

مُخَلَّب : (ع) ۱۱۱ غلبہ کیا ہوا ، ہارا ہوا ، بے بس ، ذبا ہوا۔

مُخَلَّبُ الْعَصَب : (ع) ۱۱۱ جلدِ عصب میں آجانے والا ، تند مزاج ، بڑبڑا۔

مُخَلَّبِيَّة : (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ عاجزی ، دباؤ ، اطاعت۔

مُخَلَّبِي : (ع) ۱۱۱ مَخَلَّبِي کا مخفف ، مثل سے منسوب ، (۲۱) مَخَلَّبِي کے طرز کا مَخَلَّبِي کے فیشن کا۔

مُخَلَّبِيَّة : (ع) ۱۱۱ مَخَلَّبِي کے خاندان سے منسوب ، (۲۲) مَخَلَّبِي سے متعلق ، (۳) مذکر ؛ مثل قوم کا آدمی۔

مُخَلَّبِيَّة : (ع) ۱۱۱ مَمْلُوكِي ، مَطْلُوكِي ، فَرَمَنْدِي۔

مُخَلَّبِي : (ع) ۱۱۱ بے نیاز کر دینے والا ، دولت مند بنا دینے والا ، ختمتے تعالیٰ۔

مُخَلَّبِي : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ گویا ، گلے والا ، ڈوم ، موسیقار ،

مُخَلَّبِيَّة : (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ گانے والی ، ڈونٹی۔

مُخَلَّبِي : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ بیکر ، بول۔

م ف

مُخَاَجَات : (ع) ۱۱۱ اچانک ، ناگاہ (جیسے مرگِ مَخَاَجَات)۔

مُخَاَجَرَت : (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ بڑائی ، ڈینگ ، فقر ، ناز ، بزرگی جتانانا۔

مُخَاَد : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ فائدہ۔

مُخَاَرَقَت : (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ جذباتی ، فرقت ، حلاصہ گی۔

مُخَاَصِل : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ ہڈی کے جوڑ ، بند۔

مُخَفَّت : (ع) ۱۱۱ بے قیمت ، بے داموں (۲) بے فائدہ ، لا حاصل

۱۱۱ اکارت ، رانینگاں (۳) بے سبب ، بے وجہ (۴) بے محنت ، بے مشقت (۵) کستا۔

مُخْتَاب : (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ کئی ، تھل کھولنے کا آؤ۔

مُخْتَبِع : (ع) ۱۱۱ کھولنے والا ، (۲) پتھری کو گھٹا دینے والی دوا ،

(۳) وہ دوا جو سوندوں کو خارج کرے۔

مُخْتَبِع : (ع) ۱۱۱ ڈینگیں ہلکنے والا ، فز کرنے والا۔

مُخْتَبِع : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ فضیلت ، فضیلت سمجھا ہوا ، موٹ ؛ معتقد۔
مُخْتَبِعَات : (ع) ۱۱۱ جمع معتقدہ۔

مُخْرَب : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ سورج چھنے کی جگہ ، (۲) ملک کے اس حصے کا نام جو مغرب میں ہے۔ (۳) موٹ ؛ شام کی نماز۔

مُخْرَبِي : (ع) ۱۱۱ پچم کا ، (۲) پچم کا ہاشندہ۔

مُخْرَبِي : (ع) ۱۱۱ پانی میں ڈوبا ہوا ، (۲) جلمگاتا ہوا ، چمکتا ہوا۔

مُخْرَبِي : (ع) ۱۱۱ خود پرست ، تکبر ، فحشٹی۔

مُخْرَبِي : (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ بیجا ، گری ، گودا ، (۲) مجازاً ، عقل بگڑا ، فہم ، فراست ، (۳) اصل ، خلاصہ ، انجام ، (۴) دماغ ، خیال ، ذہن ، (۵) تکبر ، غرور۔

پچی کرنا ؛ دیر تک دماغ لڑانا ، دیر تک سمجھانا ، بک بک کرنا۔

خالی کرنا ؛ کسی کو دیر تک سمجھاتے جانا ، سرازانا۔

مارنا ؛ اکتانیا ، کھنکی کو کشت کرنا۔

مُخْرَبِي : (ع) ۱۱۱ ایک قسم کا علوہ جس میں پتے بادام کے مغز ڈالتے ہیں (۲) موٹ ؛ ایک قسم کی گوٹ جو لباس کے کنارے پر چوٹوں

لگاتے ہیں۔

مُخْسُول ؛ دھویا ہوا۔

مُخْسُوْش ؛ (ع) ۱۱۱ کھٹا ، صیب دار۔

مُخْضُوْب ؛ (ع) ۱۱۱ زیر عتاب ، جس پر عقیدہ ہو۔

مُخْضَر ؛ (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ لوہے کا ٹوپ ، خود ، جولڑائی کے وقت پہناتا ہے۔

مُخْضَرَت ؛ (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ نہات ، چھٹکارا ، رہائی ، بخشش ، سعادت۔

مُخْضُوْر ؛ (ع) ۱۱۱ بخشا ہوا ، مرحوم ، جنتی۔

مُخْل ؛ (ع) ۱۱۱ مذکر ؛ آٹاری ، ترکوں کے ایک اطلاق کے نام۔

مُخْلَانِي ؛ (ع) ۱۱۱ مثل قوم کی عورت ، (۲) رئیسوں کے گھر کے

بیٹے والی ملازمہ۔

مُخْلَط ؛ (ع) ۱۱۱ گڑھا ، (۲) دیز ، (۳) مضبوط (جیسے مخلط قم ،

(۴) فحش ، ناپاک (جیسے مخلط گالی)

مُخْلَطَات ؛ (ع) ۱۱۱ موٹ ؛ مونی مونی گالی ، فحش باتیں ، بڑی باتیں۔

مُخْلَط ؛ (ع) ۱۱۱ غینا کرنے والا۔

مقدور: (ع) مذکر؛ (و) طاقت، مجال، جملہ، (ج) گناہ، بساط، حیثیت، (د) دولت، ثروت، (م) قابو، بس، اختیار۔

بھرا: شئی اوسج، جہاں تک ممکن ہو۔

مقرر: (ع) اقرار کرنے والا، تسلیم کرنے والا۔

مقرض: (ع) منٹ؛ قینچی۔

مقرب: (ع) "مقرب کیا ہوا، بزرگی دیا ہوا، (و) مذکر؛ ہم راز منڈ لگا معاصب۔

مقرر: (ع) تقریر کرنے والا۔

مقرر: (ع) اقرار کیا گیا، ٹھہرایا گیا، (د) تعینات، مامور متین، (و) آئندہ بے شبہ، ضرور،

مقررہ: (ع) موٹ، قرار دیا ہوا، ٹھہرایا ہوا، تجویز کیا ہوا، مجوزہ، حسب دستور، مروجہ۔

مقرض: (ع) قینچی سے کترا ہوا۔

مقروض: (ع) جس پر قرض ہو، قرض دار۔

مقرون: (ع) نزدیک کیا ہوا، پاس، قریب، ملا ہوا۔

مقسوم: (ع) مذکر؛ (و) تقسیم کیا ہوا، (د) حصہ بجز (د) قسمت نقد، (م) حساب میں وہ حد جس کو تقسیم کیا جلتے۔

مقتصر: (ع) چمکا آٹا ملا، چملا ہوا۔

مقصود: (ع) مذکر، ارادہ، مطلب، دعا۔

مقصودیت: مونث؛ معنویت، مطلب، دعا، غرض و غایت، افادیت۔

مقصود: (ع) مذکر؛ قصد کیا ہوا، غرض، دعا، مطلب۔

بالتات: (ع) وہ چیز جو خود مقصود ہو۔

مقصود: (ع) مذکر؛ (و) کم کیا گیا، چھوٹا کیا گیا، (د) وہ الف جس پر مد (د) نہ ہو۔

مقطر: (ع) ٹپکایا ہوا، قطرہ قطرہ کر کے ٹپکایا اور صاف کیا ہوا۔

مقطع: (ع) مذکر؛ (و) کاٹنے کی جگہ، (د) غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے۔

مقطع: (ع) (و) کاٹا ہوا، تراشا ہوا، (د) مہذب، شائستہ، سنجیدہ۔

مقطعات: (ع) مذکر؛ جمع مقطع کی، قرآن شریف کے وہ حرف و ذہن کی تفسیر حضرت پیر نے ہاشمی اختیار کی، (جیسے آگ، ٹپین، حیر)

مقطوع: (ع) مذکر؛ کاٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔

مصحف: (مق۔ عدا) (ع) مونث؛ (و) پاخانے کا مقام، (د) بیٹھنے کی جگہ۔

مقفل: (ع) قفل لگایا ہوا، بند۔

مقفلے: (ع) قافیہ کیا ہوا، قافیہ دار۔

مققلب: (ع) بدلنے والا، پھرنے والا۔

مقلد: (ع) (و) تقلید کرنے والا، پیرو، (د) چاروں اماموں کے ماننے والے مسلمان۔

مقلوب: (ع) (و) الٹا ہوا، پلٹا ہوا، اونٹھا، (د) مذکر؛ علم بیان کی ایک صفت کا نام جس کی عبارت الٹی سیدگی کہاں چڑھی جاتے۔

مقتناطس: (یونانی، مذکر؛ ایک قسم کا پتھر جو اپنی کشش سے لوہے کو کھینچ لیتا ہے، چمک۔

ممشع: (ع) مذکر؛ (و) باریک کپڑا جو ذہن کے سر سے کچھ باندھے ہیں، (د) اوڑھنے کی باریک چادر۔

ممنون: (ع) مذکر؛ قانون بنانے والا، قانون جاننے والا، وکیل۔

ممنولہ: (ع) مذکر؛ قول، بات، (د) کہا ہوا، کہادت، مثل۔

ممنوی: (ع) قوت دینے والا، طاقت بخشنے والا۔

ممنوعی: (و) مضبوط کیا ہوا، (د) مذکر؛ پٹھا، ذہنی کا بنا ہوا کس جس میں کاغذات رکھے جاتے ہیں۔

ممنوع: (ع) تہر کیا ہوا، جس پر تہر ہو، ممنوع۔

ممنویاس: (ع) مذکر؛ (و) ابتلاہ (د) وہ آل جس سے کسی چیز کا ابتلاہ کریں، پیمانہ گھڑی کی سوئی۔

محررات: مذکر؛ گرمی معلوم کرنے کا آلہ، تھرمامیٹر (آگ)

THEMETER

أهوا: (ع) مذکر؛ ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کا آلہ،

نیرومیٹر۔

مقید: (ع) (و) قید کیا ہوا، اسیر قیدی، پابند، (د) مشروط پابند کیا ہوا۔

مقش: (مق قیش / مقش / مقش / مقش) (ع) چاندی سونے کتار، بادل (د) سونے چاندی کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا، ندی۔

مقہم: (ع) اقامت کسے والا، شہر نے والا، قائم، قیام پذیر۔

مُرکا، مونٹ، بڑی ہار، کتی۔

مُرکا، بکتہ، گھونسا۔

مُرکا بڑھ : (ع) مذکر، (ف) گھنڈ، غور، شیخی، (ج) لڑائی، جھگڑا، (د) ہنر، زوری، (ہ) خواہ مخواہ جینے کے لیے بحث کرنا۔

مُرکارتب : (ع) جمع مکتبہ کی۔

مُرکارتبات : (ع) مذکر، جمع مکتبہ کی۔

مُرکارتبت : (ع) مونٹ؛ باہی خط و کتابت۔

مُرکارتبہ : (ف) مذکر؛ (ج) خط، نامہ۔

مُرکارتیب : (ع) مذکر؛ جمع کتب کی۔

مُرکار : (ع) دغا باز، دھوکہ بازی۔

مُرکاری : مونٹ؛ فریب۔ مکر کرنا۔

مُرکارم : (ع) مذکر؛ جمع حکومت کی۔

مُرکاشفہ : (ع) مذکر؛ کشف، کراہت۔

مُرکافات : (ع) مونٹ؛ بدلہ، عوض، تاوان، پاداش، سزا، انتقام۔

مُرکالہ : (ع) مذکر؛ گفتگو، زبان سوال و جواب، ہم کلامی، (انگ) ڈائالگ۔

DIALOGUE

مُرکالمت : مونٹ؛ بات چیت، گفتگو کا انداز۔

مُرکان : (ع) مذکر؛ رہنے کی جگہ، گھر، جمع مکانات۔

دار : مذکر؛ گھر والا، مالک مکان۔

مُرکابتد : (ع) مذکر؛ مکر و فریب۔

مُرکتیر : (ع) تکبیر کہنے والا۔

مُرکتیر : (ع) تکبیر کہنے کی جگہ۔

مُرکتی / کتی : مونٹ؛ نجات، بخشش، چھٹکارا۔

مُرکتب : (ع) مذکر؛ لکھنے پڑھنے کی جگہ، (د) مدرسہ، اسکول، وہ جگہ

جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتے۔

مُرکتپتی : (ع) (ادبی اصطلاح) کسی نظریے یا کتب (فکر) سے تعلق

رکھنے والا، (ضد) غیر مکتبی

مُرکتیب : (ع) کوئی چیز اپنی کوشش سے حاصل کرنے والا

نفع حاصل کرنے والا۔

مُرکتیفی : (ع) کافی، پورا۔

مُرکتوب : (ع) مذکر؛ لکھا ہوا، خط، نامہ۔

مُرکتوب الریہ : مذکر، جس کو خط لکھا جاتے۔

مُرکتوم : (ع) چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی۔

مُرکتیتی : (ع) مونٹ؛ (ا) چٹکارا، نجات، (ب) آزادی، (ج) مغزرت

مُرکتٹ : (ع) مذکر؛ (ا) دوپہا لکھ کر کا مہرا۔

مُرکتدر : (ع) (ا) گھنڈا، میلا، کدورت آمیز، (ب) اکنایشا، طول، غمگین،

نانوشس۔

مُرکتد : (ع) مذکر؛ (ا) دھوکا، فریب، جیلہ، (ب) چالاک، عیاری۔

چاندنی : مونٹ؛ (ا) پہلی رات کی دھندلی سی چاندنی جو صبح

کا دھوکا دیتی ہے۔ صبح کا ڈب، (ب) اکنایشا، وہ فصل یا چیز جو

دوسروں کو دھوکے میں ڈالے۔

مُرکتد جانا : انکار کر جانا، قول سے پھر جانا، مکر ہو جانا۔

مُرکتد : (ع) دوبارہ پھر۔

مُرکتد : (ع) عزت والا، بزرگ، محترم، معزز۔

بنندہ : (ا) اضافت کے ساتھ، جناب والا، جناب بین، بندہ نواز۔

مُرکتدی : میرے کرم، (خطوں کے القاب)۔

مُرکتد : (ع) مونٹ؛ (ا) بزرگی، (ب) مہربانی، نوازش۔

مُرکتد : اقرار کر کے انکار کرنا، قول سے پھرنا۔

مُرکتد : (ع) صفت (ا) کریم، بڑا، (ب) ناپسندیدہ بنا (ا) مذکر؛

نہ ہونا یا جاتے چیز۔

مُرکتد : (ع) مذکر؛ (ا) نفرت انگیز چیزیں، (ب) واہیات، بے ہوش

کام، (ج) دنیاوی غمھے۔

مُرکتی / مکرتی : مونٹ؛ (ا) پہلی، (ب) ایک قسم کی ہندی چومری

پہلی جس میں تین مہروں میں جوہیاں ہوتا ہے اور آخری مہرے میں

بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کے موجد امیر خسرو ہیں۔

مُرکتد : مذکر؛ بڑی کڑی، نر کڑی، کڑا۔

مُرکتد : (انگ) مذکر؛ دو آؤں کا مرکب

MIXTURE

مُرکتد : آمیزش۔

مُرکتد / مکرکتد : (ع) (ا) زیر دیا ہوا حرف، (ب) ٹوٹا ہوا۔

مُرکتد : (ع) کھولنا، واضح، ظاہر۔

مُرکتد : (ع) (ا) چار گوشے کیا ہوا، وہ شکل جس کی لمبائی چوڑائی برابر

ہو، (ب) مذکر، وہ عدد کو کسی عدد کو تین بار ضرب دینے سے حاصل ہوا۔

مکفوف : (ع) ۱۱) پٹشاہواپراہن ۱۳) مونث : عروف میں سات حرفی لگن جس کے آخر کا حرف گرا دیا گیا ہو۔

مکفوفال : (ع) ۱۱) گرو رکھا گیا، کفالت میں دیا گیا، جرحی شدہ، (۲۱) ضمانت کے طور پر لی ہوئی چیز۔

مکلف : (ع) ۱۱) تکلیف دیا ہوا، (۱۳) پر تکلف، آراستہ۔

مکلف : (ع) ۱۱) تکلیف دینے والا، (۲۱) دعوت دینے والا۔

مکمل : (ع) ۱۱) چمکیلا، مرضع، بڑا تو، آراستہ۔

مکمل : (ع) ۱۱) پورا، کامل، نکل، (۲۱) پورا کیا ہوا۔

مکنتون : (ع) ۱۱) پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا، (۱۳) مذکر، پوشیدہ، راز، (۳۱) ولی منشا، (۲۱) کنایت، بیش قیمت۔

مکئو : مونث : ایک بونی اور اس کے پھل کا نام، عنب الثعلب۔

مکئوٹرا : مذکر، بڑا کٹرا، بڑا چوہنٹا۔

مکھیاں مارنا : کنایتاً بے کار بیٹھنا، بے شغل رہنا۔

مکھییا : مذکر : (۱۱) سرگروہ، موہار، بڑا، بزرگ، (۲۱) گانو کا پوجری۔

مکھی : ایک قسم کا غنہ، مکھا، جوہار۔

مکھی : مونث : ہتھیل پر بند کی ہوئی انگلیاں، ہتھی۔

مکھین : (ع) مکان میں رہنے والا، مقیم، ساکن۔

مکھینکل انجینئر : MECHANICAL ENGINEER (انگ) مذکر :

کون کے علم کا ماہر، علم جبرئیل کی پوری پوری واقفیت رکھنے والا۔

ورکس : WORKS (انگ) مذکر :

کارخانہ جہاں کول (مشینوں) کا کام ہوتا ہے۔

مکھہ : مذکر، چھو، منہ۔

تال : مونث، وہ آواز جو گیتے منہ سے نکلتے ہیں۔

مکھہ : (ع) مذکر، عرب کا ایک مشہور شہر جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔

مکھھا : مذکر، نیلے رنگ کی بڑی کبھی۔

مکھھاتا : مذکر، کول کے بھول کا سوکھا ہوا بیج، تال کھانا۔

مکھھٹرا : (ع) مذکر : چہرا، گانے کے بنیادی بول۔

مکھھسن : مذکر، ایک قسم کا کھانسی، مسکا۔

مکھھٹا : مذکر : ایک قسم کا چھوٹے دانوں والا ہاتھی جو مجھوم

مجھوم کر جلتا ہے۔

مکھھتی : مونث : (۱۱) مکس (۱۳) بندوق کا وہ اہمرا ہوا نشانی جسے نظر کی مدد میں رکھ کر نشانہ لگاتے ہیں۔

چوس : کجوس۔

پر مکھی مارنا : بے سبھی بوجھے نقل کرنا۔

م گ

مگ : MUG (انگ) مذکر، ہینڈل والا گلاس، چائے یا پانی پینے کا خاص وضع کا برتن، مگکا، ڈونگا۔

مگ : MIG (انگ) مذکر : (۱۱) روسی ساخت کا ایک تیز رفتار ہوائی جہاز، (۲۱) جنگی طیارہ۔

مگدر : مذکر : ورزش کرنے والی گرز نا کلاڑی۔

مگدھ : مذکر : صوبہ بہار کا جنوبی حصہ۔

مگھاشا : مونث : مگدھ کی زبان، پالی زبان۔

مگدھی : مذکر : (۱۱) مگدھ کا رہنے والا، (۲۱) ایک قوم، (۳۱) مگدھ کی زبان۔

مگدھسیر : مذکر : (۱۱) لکڑی کا وہ مکان جس میں شاہان اور دھ سفر کیا کرتے تھے، (۲۱) ایک قسم کا بہت اونچا خیمہ، (۳۱) کاغذ کی آرائشی چیز۔

مگدر : (ف) حرف استثناء، (۱۱) مایوس، (۱۲) بجز، لیکن، (۳۱) غالباً (۱۳) کیا، کی کی جگہ۔

مگدر : مذکر : (۱۱) مگرچھ، گھڑیاں، (۲۱) کان کا ایک زیور، (۳۱) آویزہ۔

مگھ : مذکر : مگر، گھڑیاں۔

مگرا : مذکر : (۱۱) گنتا، مغرور، (۱۲) بے حس، (۳۱) کام چور، کابل ہست۔

مگھری : مونث : (۱۱) چھپر کا سب سے اوپر والا حصہ، (۲۱) چھت کی اسلامی کاسب سے بنایا جا رہ۔

مگھس : (ف) مونث : (۱۱) مگھی، (۱۲) شہد کی مگھی۔

راں : (ف) مذکر : (۱۱) ایک قسم کا مورچیل، (۲۱) مورچیل ہلانے والا۔

راتی : (ف) مونث : مگھیاں اڑانے کی خدمت۔

مگھسی : (ف) ۱۱) مگھی کے رنگ کا سیاہی مائل، (۲۱) ایک خاص قسم کے رنگ کا گھوڑا۔

مگن : (۱) ڈوبا ہوا، مغرق، (۲) مسرور، شاد، خوش، (۳) مت، بے خود۔
مگن : گول مول بات۔
مگسی / مگستی : مذکر؛ ایک قسم کا اعلیٰ درجہ کا پان۔ (۲)
 ایک قسم کا صحرائی کبوتر۔

م

مِل : MILL (مگ) : مونث؛ (۱) بچہ، مشین سے چلنے والی چکی، (۲) کارخانہ۔

میل : (۱) مونث؛ شراب، مے، دارو۔

ملا بر اعلیٰ : (۱) مذکر؛ عالم بالا کے کہنے والے، فرشتے۔

ملا : مذکر؛ (۱) مولوی، عالم، (۲) مسیحی نماز پڑھانے والا، (۳) مکتب میں پڑھانے والا۔

— **دو پیازہ** : مذکر؛ اکبر کے دربار کا ایک خوش طبع ظریف۔

— **کی دوڑ مسجد تک** : (ش) اپنی پہنچ سے زیادہ کوئی نہیں جاسکتا

ملائی : مونث؛ (۱) ملائی بوی، (۲) وہ عورت جو لڑکیوں کو سینا پروتا سکھاتی اور ابتدائی کتابیں پڑھاتی ہے۔

ملا پست : (۱) مونث؛ (۱) ہم لباس پہنا (۲) ایک دوسرے سے مشابہت کرنا

ملا پ : مذکر؛ (۱) میل جول، اتفاق، (۲) صلح صفائی، باہم رضامندی، (۳) موافقت، (۴) محبت، دوستی، ربط، ضبط۔

ملا جلا : مذکر؛ گڈنڈ، مخلوط۔

ملا ج : (۱) مذکر؛ ناؤ چلانے والا، کشتی بان۔

ملا آئی : مونث؛ (۱) ملاج کی اجرت، ملاج کا پیشہ اور کام، (۲) مہم کالی جس میں نام نہ لیا جاتے۔

ملا آجیاں سنانا : ہو، آواز سے کنا، گول مول طعنے تشنے دینا۔

ملاحت : (۱) مونث؛ (۱) ٹمکنی، (۲) سانولاپن۔

ملا جہد / ملا جہدہ : (۱) مذکر؛ جمع ملحدی، بے دین لوگ۔

ملا حظه : (۱) مذکر؛ (۱) دیکھنا، معائنہ، مشاہدہ، (۲) حوزہ، توجہ، (۳) جو لحاظ، پاسداری، مروت، (۴) سامنے، رویہ۔

ملا دینا : (۱) گڈنڈ کر دینا، (۲) یکساں کر دینا، مشابہ کر دینا، (۳) ملحق کر دینا، شامل کر دینا۔

ملا ر : مذکر؛ (۱) ایک قسم کے گیت جو برسات کے موسم میں گاتے جاتے

ہیں، (۲) مونث؛ ایک راگی کا نام، مہار۔

ملا زرم : (۱) مذکر؛ (۱) ہمیشہ پاس رہنے والا، کسی کے کام کو کرنے والا، (۲) (مجازاً) نوکر چاکر، خادم۔

ملا زہمت : (۱) (۱) ہمیشہ پاس رہنا، (۲) خدمت، نوکری، (۳) کسی بڑے آدمی سے ملاقات۔

ملا زہمت پیشہ : (۱) مذکر؛ وہ شخص جس کا پیشہ نوکری ہو۔

ملا طہقت : (۱) مونث؛ مہربانی کرنا، نرمی۔

ملا صین / ملا عینہ : (۱) مذکر؛ جمع طعون کی۔

ملا قات : (۱) مونث؛ (۱) ایک دوسرے سے ملنا، (۲) صاحب الامت، جان پہچان، (۳) میل، ملاپ، آنا جانا۔

ملا قاتی : مذکر؛ ملنے والا، درست، جان پہچان والا۔

ملا قاتی : (۱) مذکر؛ ملنے والا، ملاقاتی۔

ملا گیری : ایک خوشبودار رنگ جو صندلی رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔

ملا مال : (۱) مذکر؛ (۱) رنج و غم، کلفت، (۲) افسوس، (۳) زحمت۔

ملا لینا : (۱) شریک کر لینا، (۲) مخالفت کو گمانٹھ لینا، ہمارا بنالینا، اپنی طرف کر لینا، (۳) مرکب کر لینا، آمیز کر لینا۔

ملا امت : (۱) مونث؛ چھڑکی، پھٹکار، ڈھتکار، سرزوش، لعن لعن۔

ملا مان : مذکر؛ (۱) ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ کرنا۔

ملا نا : (۱) شامل کرنا، (۲) موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا، فرق نکالنا، (۳) میل کرنا، (۴) گڈنڈ کرنا، (۵) گناہنا، (۶) باہم دو شخصوں میں ملاقات کرنا۔

ملا وٹ : مونث؛ (۱) میل جول، (۲) آمیزش۔

ملا ننگ / ملا نگر : (۱) مذکر؛ (۱) جمع ننگ کی، فرشتے۔

ملا نئم : (۱) (۱) مناسب، موافق، (۲) (مجازاً) نرم۔

ملا نمت : (۱) مونث؛ (۱) موافقت، مناسبت، (۲) نرمی، (۳) نزاکت، لاغری۔

ملائی : مونث؛ (۱) دودھ کے اوپر کی پٹری، دودھ کا جوہر جو پکھلنے کے بعد ٹھنڈا کرنے سے اوپر چم جاتا ہے۔ پلائی، (۲) گھوڑے کا ملنا، گھوڑا طے کی اجرت۔

ملا ہیا : مذکر؛ (۱) کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، (۲) گرے ہوئے مکان کی بچی اٹیٹیں وغیرہ بڑانا مسا۔

- مَلِکِیَّت** : لباب البریز، منہ تک بھرا ہوا۔
- مَلِیْبُوس** : (ع) مذکر؛ لباس، پوشاک پہننے کے پڑے۔
- مَلِیْبُوسَات** : (ع) مذکر؛ جمع ملیبوس کی۔
- مِلَّت** : (ع) مؤنث؛ (۱) دین، مذہب، دھرم، شریعت، (۲) فرقہ، قوم، گروہ۔
- مِلَّتًا مِلَّتًا** : مذکر؛ مشابہ۔
- مِلَّتَانِی** : مؤنث؛ ایک قسم کی زرد رنگ کی کپڑی مٹی، (۱) ایک رائی، (۲) مٹکان کا سہنے والا، مٹکان کی بولی۔
- مِلَّتَبِیْس** : پوشیدہ کیا گیا، شک کیا گیا۔
- مِلَّتَبِیْجِی** : (ع) انتخاب کرنے والا، درخواست کرنے والا، منت سماجت کرنے والا۔
- مِلَّتَبِیْرَم** : (ع) اپنے اوپر کوئی بات لازم کیلئے والا۔
- مِلَّتَبِیْرَم** : (ع) (۱) لازم کیا ہوا، (۲) خانہ کعبہ میں رکن یمان کے سامنے ایک مقام جہاں حاجت مند دعائیں کرتے ہیں۔
- مِلَّتَبِیْعَت** : (ع) التفات کرنے والا، توجہ کرنے والا۔
- مِلَّتَبِیْحَس** : (ع) مذکر؛ التماس کرنے والا، توجہ کرنے والا۔
- مِلَّتَبِیْحَس** : (ع) مذکر؛ عرض معروضی۔
- مِلَّتَبِیْوِی** : (ع) (۱) التوا کرنے والا، دیر کرنے والا، ٹٹنے والا، (۲) ٹھہرنے والا۔
- توقف کرنے والا (۳) (طب کی اصطلاح) نبض کی ایک خاص حرکت کا نام۔
- مِلَّتَبِیْرَب** : بھڑکا ہوا، شعلہ زن۔
- مِلَّتَبِیْرِی** MILITARY (انگ) مؤنث؛ فوج، فوجی، لشکری۔
- مِلَّتَبِیْجَا** : (ع) مذکر؛ پناہ ملنے کی جگہ۔
- مِلَّتَبِیْجَا** : (۱) پناہ ملنے کی جگہ، مسکن، (۲) پشت پناہ۔
- مِلَّتَبِیْجَا** : (۱) گناہوں کے کام کرنے والا، ناپاک، (۲) وہ آدمی جو ایسے کام کرے جن سے لوگوں کو گم ہونے آئے۔
- مِلَّتَبِیْجِد** : (ع) مذکر؛ بے دین، بچی اور سیدی ماہ سے پھرا ہوا۔
- مِلَّتَبِیْجِی** : (ع) جڑا ہوا، پیوستہ، بلا ہوا، منسلک۔
- مِلَّتَبِیْجِی** : (ع) (۱) چیز جو کسی کے آخر میں ملادی جاتے، (۲) ملا ہوا، نزدیکی، پاس، (۳) ملنے والا۔
- مِلَّتَبِیْجَات** : (ع) مذکر؛ بعد میں ملانی ہوئی چیزیں۔
- مِلَّتَبِیْجَا** : (ع) لحاظ کیا گیا، خیال رکھا گیا۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) (اضافہ کے ساتھ) دلی خیال، دلی توجہ، خیال رکھنا
- مَلِیْطَاطِر** : (ف) مذکر؛ بڑی، میٹری۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ خلاصہ، اختصار۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) لذیذ، مزے دار، لذت بڑھانے والا۔
- مَلِیْطَاطِر** : مجرم، گنہگار، قصور وار۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) لازم کیا گیا، شریک حال۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) لعنت کیا ہوا، مردود۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) (۱) کوڑا کرکٹ، (۲) ٹوٹی ہوئی چیزوں کا ڈھیر، (۳) وہ چیز جو مختلف چیزوں سے مل کر کاڑھی ہو جاتے۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ (۱) پڑھا ہوا، جو پڑھنے میں آئے، (۲) منہ سے نکلی ہوئی بات، بزرگوں کے مقوسے، (۳) وہ کتاب جس میں کسی بزرگ کے حالات ان کی زبانی لکھے گئے ہوں۔ (جمع ملفوظات)
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) لپٹا ہوا، لٹا ہوا، سرنبد۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) لقب دیا ہوا، معروف۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) فرشتہ۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ موت کا فرشتہ، عزرائیل۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ دیس، سلطنت، ولایت، علاقہ۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ف) مؤنث؛ حکومت، حکمرانی، سیاست۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) گیری؛ مؤنث؛ ملک فتح کرنا، ملک پر تسلط قائم کرنا۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) ملک کا دیسی۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ بادشاہ۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ بہت بڑا تاجر۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ف) مذکر؛ شادہ۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ف) مذکر؛ شادہ۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ف) مذکر؛ سب سے بڑا شاعر، شایء خطاب۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مؤنث؛ ملکیت، جائداد، (انگ) پراپرٹی PROPERTY
- مَلِیْطَاطِر** : مؤنث؛ جائداد، زمین طری حقیقت۔
- مَلِیْطَاطِر** : مذکر؛ ایک نو مسلم قوم۔
- مَلِیْطَاطِر** : (انگ) مذکر؛ دودھ گھر
- مَلِیْطَاطِر** : (انگ) مذکر؛ دودھ کا اسٹال۔
- مَلِیْطَاطِر** : (ع) مذکر؛ (۱) بادشاہی، حکمرانی، قبضہ، (۲) فرشتوں کے

مَلُکُو : مذکر؛ دوسرے پرندوں کو پھانسنے کے لیے پر اور پاؤ باندھ کر جال میں چھوڑا جھانپندہ۔

مَلُکُو آنا : ملاقات کرنا، صلح کرنا، شریک کرنا۔

مَلُکُو آنا : مالش کرنا۔

مَلُکُو ت : (ع) صفت؛ آلودہ، استغزا ہوا۔

مَلُکُوک : (ع) مذکر؛ جمع مُلُک کی؛ بہت سے بادشاہ، سلاطین۔

مَلُکُو کار : (ف) شاہانہ۔

مَلُکُو ل : (ع) اداس، غم گین، رنجیدہ۔

مَلُکُو لا : (ع) مذکر؛ ملال، حسرت، پچھتاوا، ابران۔

مَلُکُم : (ع) دل میں کوئی بات ڈالنے والا، (ع) اہام کرنے والا، خدا تعالیٰ

مَلُکُم : (ع) اہام کیا ہوا، جس پر اہام ہو۔

مَلُکُی اہمیت : (ع) تباہ و برباد، کستاناس، فارت، ناپید۔

مَلُکُی بھگت : (ع) مونث؛ سازش۔

مَلُکُی ج : (ع) ساتواں، سلوٹا، خوب صورت، نکین۔

مَلُکُی دہ : مذکر؛ (ناپیدہ کا مخفف) (ع) ایک قسم کا ملامت پسینہ بول کر نرم

کیا جاتا ہے (ع) شکر اور گمی میں ملی ہوئی رونی (ع) ہر چیز جو

ٹکڑے ٹکڑے کر کے مل ڈالی جاتی ہو۔

مَلُکُی ریا : MALARIA (نگ) مذکر؛ لڑھ بھار۔

مَلُکُی ن : MILLION (نگ) دس لاکھ۔

مَلُکُی ت : (ع) تبض دور کرنے والا، نرم کرنے والا۔

مَلُکُی ن : (ع) صفت؛ (ع) میلا، ناپاک، گندہ (ع) اداس،

غم گین، پتھر دہ، (ع) مکتدہ، منغض۔

مَلُکُی نہ : مذکر؛ ایک قسم کا پتھرا۔

م م

مَم / **مَمّا** : مذکر؛ (دو دھپیتے بچوں کی زبان میں) پانی۔

مَمّا ت : (ع) مونث؛ موت، مرگ، مرنا۔

مَمّا شل : (ع) مانند، تشابہ، مثل۔

مَمّا شکت : (ع) مونث؛ مشابہت۔

مَمّا سست : (ع) مونث؛ مشق، تجزیہ۔

مَمّا لک : (ع) مذکر؛ جمع ملک کی، بہت سے ملک۔

رہنے کا مقام (ع) فرشتے، (ع) (موتیوں کی اصطلاح) عالم ارواح۔
مَلُکُو ت : (ع) فرشتوں جیسا۔

مَلُکُو ت : (ع) فرشتوں میں خوبیاں رکھنے والا۔

مَلُکُی گ : (ع) مذکر؛ تجزیہ، مہارت، قدرت۔

مَلُکُی گ : (ع) مونث؛ (ع) ملک کی تائید، بادشاہ کی بیوی، (ع) رانی، قیصو،

سلطانہ (ع) شہد کی مکھیوں کی رانی۔

مَلُکُی گ : مذکر؛ مٹی کے رنگ کا، مثیالہ، دھندلا، عبا آلود۔

مَلُکُی گ : (ع) مثیالہ۔

مَلُکُی ل : (ع) مذکر؛ جمع ملت کی، ذہیب۔

مَلُکُی ل : (ع) گلت کیا ہوا، سونا چاندی چڑھایا ہوا، (ع) مذکر؛ گلت،

سونے چاندی کا ورق، (ع) قلعی، دکھ وا، فہری

ٹیپ ٹاپ، بناوٹ۔

مَلُکُی ل : (ع) ساز، گر؛ ملتے کرنے والا۔

مَلُکُی ل : (ف) منافق، ظاہر کچھ اور باطن کچھ رکھنے والا۔

مَلُکُی ل : (ع) مونث؛ ایک قسم کا باریک سونی پتھرا۔

مَلُکُی ل : (ع) پچھتاوا، افسوس کرنا، تڑپنا، لوٹنا۔

مَلُکُی ل : (ع) میل، طاہ، ملاقات۔

مَلُکُی ل : (ع) جڑنا، ایک ہونا، دو چیزوں کا یکجا ہونا، (ع) گڈ بھونا،

(ع) ملاقات کرنا، اکٹھا ہونا، (ع) حاصل ہونا، (ع) مشابہ ہونا،

مطابق ہونا۔

مَلُکُی ل : (ع) جڑنا، (ع) میں بول رکھنا، رسم و راہ رکھنا، (ع) ملنا،

ملاقات کرنا۔

مَلُکُی ل : (ع) ملاقات کرنا، بغل گیر ہونا، (ع) کچھ وصول ہونا۔

مَلُکُی ل : (ع) رگڑنا، مسلنا، (ع) مالش کرنا (گھوڑے کی) (ع)

مانبخنا، (ع) مروڑنا۔

مَلُکُی ل : ہر ایک سے ملنے والا، مطلق، خوش اخلاق۔

مَلُکُی ل : (ع) مونث؛ خوش اخلاق، ملسار ہونا۔

مَلُکُی ل : (ف) مذکر؛ (ع) موٹا تازہ، جوان آدمی، (ع) بے پروا

آدمی جس کو تن بدن کی منکر نہ ہو، (ع) ایک قسم کے فقیر

(ع) ناؤ کی دیوار کا تختہ، (ع) مونث؛ ایک چھوٹی

چڑیا۔

مموالا: مذکر؛ ایک بھڑا پرندہ جس کے پیٹ پر کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔
میرا: (معی-را) مذکر؛ ایک دوکان نام جو آگھ کی بیانی کے لیے
منید ہے۔

مہینتر: تیز کرنے والا، جڈا کرنے والا، بُرے پھلے کو پہچاننے والا۔
مہینتر: (ع) تیز کیا ہوا، جدا کیا ہوا۔
مہینترہ: (ع) مونث؛ (۱) تیز کرنے والی، پہچاننے والی (۲) اچھے
بُرے کی تیز کرنے والی قوت۔

م ن

مسن: مذکر؛ (۱) ولی جی (۲) چالیس میر کا وزن، (۳) سانپ کے پیٹ
کا ٹھہرا قیمتی پتھر، جو اہر (۴) موتھ؛ کنوئیں کی میٹڑ۔
مھانا: مذکر؛ مریوب، پسنیدہ، خوش گووار۔

مھلا: مذکر؛ (۱) بہادر، دلیر، نڈر، بے خوف، (۲) شرخ،
خوش طبع، (۳) دل پھینک۔
مھنگا تو کھٹوتی میں گنگا: (مثل) اگر دل صاف اور عقیدہ
سلامت ہے تو ہر جگہ خدا ہے۔

مانی، مونث؛ (ع) دل کے مطابق، حسب منشا، خود مختار، صاف دل۔
مانے: بنا خیر خواہ۔

مست: زندہ دل، ہنس مکھ۔

موجی: زندہ دل، من چلا، آوارہ مزاج، خود مختار۔

مھن: (ع) وہ شخص، کوئی شخص۔

مھن: (ع) مذکر؛ (۱) ایک قسم کی میٹھ، رطوبت جو بعض درختوں کے پتوں پر
جم جاتی ہے، (۲) ایک قسم کی شہد جیسی شیرینی جو بنی اسرائیل کے لیے خدا
کی قدرت سے درختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی۔

وسلوی: (من شیرینی، سلوا ایک قسم کی چڑیا ہوشام کے
وقت بنی اسرائیل کی بستریوں میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتی
لوگ انہیں بکڑ لاتے اور کباب بنا کر من کے ساتھ کھاتے تھے،
مذکر؛ غنی نعمت، خوان نعمت۔

مھن: (ف) میں۔

مھنکھ: (ع) سب میں سے، لگی میں سے۔

مھن و مھن: حرف ہجرت، جوں کا توں، ہڈ ہڈ،

مکافعت: (ع) مونث؛ روک، منہا، بندش۔

مانی: مونث؛ ماموں کی بیوی۔

ممبر: MEMBER (۱) مذکر؛ (۲) کسی کمیٹی یا جلسہ کا رکن،
مقاتلین کا ایک رکن۔

ممنشا: (ع) مونث؛ محبت، پیار، مان کا پیار۔

ممتاز: (ع) عام لوگوں سے جدا کیا ہوا، آفتاب کیا ہوا، عزت
دیا ہوا، نام ور۔

ممنجن: (ع) امتحان لینے والا، جھانپنے والا۔

ممنوع: (ع) منع کرنے والا، روکنے والا، باز رکھنے والا۔

ممنوع: (ع) منع کیا گیا، روکا گیا، باز رکھا گیا۔

ممنزل: (ع) تمثیل پیش کرنے والا، اداکار، ایکٹر۔

ممد: (ع) مدد کرنے والا، ساتھی، مددگار۔

ممدوح: (ع) مذکر؛ مدد کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے۔

ممدود: (ع) مونث؛ مدد والا، لمبی آواز کا الف۔

ممدروج: (ع) ملا ہوا، آمیختہ۔

ممسک: (ع) (۱) کھوس، شوم، تنگ دل، بخیل، (۲) روکنے
والا، اساک بڑھانے والا۔

ممکن: (ع) (۱) ہو سکنے کی بات، (۲) طاقت، مجال، (۳) منطقی

اصطلاح، وہ شے جس کا نہ ہونا ضروری ہو، جو معرض زوال و فساد

میں ہو، (۴) اکتائیا مخلوق و انسان۔

المحصل: حاصل ہونے کے قابل۔

الوجود: (ع) جس کا ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہ ہوں، مخلوقات۔

الوقوع: (ع) ہونے والی بات، جس کے واقع ہونے کا امکان ہو۔

ممکنات: (ع) مذکر؛ (۱) جمع ممکن کی، وہ باتیں جن کا ہونا ممکن ہو۔

مملکت: (ع) مملکت، (ع) مونث؛ حکومت، بادشاہی،
فرمانروائی، سلطنت۔

مملوک: (ع) صفت؛ بھرا ہوا، لبریز۔

مملوک: (ع) مذکر؛ غلام، بندہ۔

مملوکہ: (ع) مقبوضہ، قبضہ کیا ہوا، خرید ہوا۔

ممنوع: (ع) (۱) منع کیا ہوا، (۲) ناجائز، ناروا، خلاف قانون۔

ممننون: (ع) احسان مند، شکر گزار۔

مَنَّا ، مذکرہ : (۱) چھٹا بچہ ، (۲) لاڈلا ، پیارا۔

مَنَات : (۱) مذکرہ ، عرب کے بعد جاہلیت کا ایک مشہور بت جس کی پرستش کی جاتی تھی۔

مَنَاجَات : (۱) مونث ، (۲) دعا ، التجا ، عرض ، (۳) دعا پر نظم۔

مَنَادِی : (۱) مذکرہ : (۲) بلایا گیا ، پکارا گیا ، (۳) جس کو پکارا جاتے۔

مَنَادِی : (۱) پکارنے والا ، اعلان کرنے والا ، (۲) حشر پٹی (۳) (ف) موت ؛ لوگوں کو کسی بات سے آگاہ کرنے کے لیے بھائے جانے

والے نقارے کی آواز ، (۳) وعظ ، اعلان ، دین کی تلقین۔

مَنَار / مَنَارہ : مذکرہ ، (۱) اونچا ، ستون ، لاٹھ ، مینار ، (۲) روشنی کی جگہ۔

مَنَارِ عَت : (۱) مونث ، جگڑا ، تھنہ ، تکرار ، بحث۔

مَنَارِی : (۱) مذکرہ ، موت ؛ جمع مناری ، آتشی کی جگہیں ، درجے۔

مَنَارِیْب : (۱) مونث ، (۲) موزوں ، لائق شایان ، نیما ، (۳) شیک ، دوست ، محفل۔

مَنَارِیْبَت : (۱) مونث ؛ باہمی گلاؤ ، حلقہ۔

مَنَارِیْسْک : (۱) مذکرہ ؛ (۲) حج کے ارکان ، (۳) حاجیوں کے عبادت کے مقامات۔

مَنَاصِب : (۱) جمع منصب کی ؛ رتبے ، عہدے۔

مَنَاطِر : (۱) مناظرہ کرنے والا ، محرف۔

مَنَاطِر : (۱) جمع منظر کی ؛ تماشا گاہیں ، جھروکے ، نظارے۔

مَنَاطِرہ : (۱) مذکرہ ؛ باہمی بحث ، جگڑا۔

مَنَافَات : (۱) مونث ، (۲) ایک عہدے کی نئی کرنا ، ایک عہدے کی جہیزنا۔

مَنَافِرَت : (۱) مونث ؛ باہم نفرت کرنا ، نفرت ، گھن ، پرہیز۔

مَنَافِیْع : (۱) مذکرہ ؛ جمع منفعت کی ؛ فائدے۔

مَنَافِیْق : (۱) مذکرہ ؛ جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہو ، بیا کار ، مکار جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔

مَنَافِیْقَت : (۱) مونث ؛ دور بینی ، دو نظریں ، بیا کاری ، مکاری ، ظاہر میں دوستی باطن میں دشمنی۔

مَنَافِی : (۱) جنہ ، خلاف۔

مَنَاقِیْب : مذکرہ ؛ جمع منقبت کی ؛ (۱) اوصاف حمیدہ ، (۲) اہلیت

اظہار اور اوصاف کبار کی مدح۔

مَنَاقِشہ : (۱) مذکرہ ؛ جگڑا ، قہقہہ ، نقد ، نزاع۔

مَنَاقِص : (۱) توڑنے والا ، مخالف ، ناموافق۔

مَنَاقِشَہ : (۱) مذکرہ ؛ ایک دوسرے کی بات کو توڑنا ، بحث ، مباحثہ ، جگڑا ، نزاع۔

مَنَاقِشَت : (۱) مونث ؛ نکار کرنا ، نقد۔

مَنَان : (۱) بہت احسان کرنے والا ، نیکی کرنے والا ، خدا کا نام۔

مَنَانَا : (۱) روٹھے کو راضی کرنا ، (۲) رضامند کرنا ، (۳) رچانا ، (جیسے خوشی منانا ، عید منانا ، ہفت منانا ، دعا کرنا۔

مَنَانِی : (۱) مونث ؛ (۲) منہ کی ہوتی چیزیں ، ناجائز کام ، خلاف شرع کام ، (۳) مونث ؛ روک ، ٹوک ، ممانعت۔

مَنَانِیْر : (جمع - بُر) (۱) اونچی جگہ ، (۲) مسجد میں وہ اونچا مقام جہاں خطیب مجہد اور عیدین کا خطبہ پڑھتا ہے۔

مَنَانِیْع : (جمع - کُ) (۱) مذکرہ ؛ (۲) پانی نکلنے کی جگہ پشیم ، سوتا ، (۳) پانی کا نل ، پانی کا ذخیرہ۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ عاجزی ، خوشامد۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ عاجزی ، خوشامد۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ عاجزی ، خوشامد۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ عاجزی ، خوشامد۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ عاجزی ، خوشامد۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد کے واسطے مانی ہوتی کوئی بات ، نیت ، عہد ، (۳) چڑھاوا ، نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مَنَانِیْت : (۱) مونث ؛ (۲) کسی مراد پوری ہونے کے لیے نذر نیا۔

مُنْخَرَف : (ع) پہرنے والا، برکتستہ ہونے والا (۲۱) کرش، باغی، خزار۔
مُنْخَصِر : (ع) گھرا ہوا، محفوظ، احاطہ کیا ہوا (۲۲) دکانیا، موقوف،
 مشروط، متعلق، وابستہ۔

مُنْخَنِي : (ع) ۱۱) تھمنا، جھکا ہوا، (۲۱) جازا، ڈبلا، کمزور، نحیف۔
مُنْخَوَس : (ع) ۱۱) بدبخت، بد نصیب (۲۱) بُرا، مکروہ (۳۱) نامبارک۔
مُنْخَد : (ف) ۱۱) صاحبِ والا، (۲) لاتخہ کلمات کے آخر میں آتا
 ہے جیسے عقند، سعادت مند۔

مُنْشَدَا : مذکر؛ (۱) سستا، (۲) بے رونق، (۳) سست۔

مُنْشَدِر : (۱) ہندوؤں کی عبادت گاہ (۲) شوالہ (۳) مگر عمل۔

مُنْشَدِرَا : مذکر (۱) جوگوں کے کان کا کٹڈل (۲) کان کا ایک زیور۔

مُنْشَدِرِج : (ع) شامل، داخل، درج کیا ہوا۔

مُنْشَدِرِج : مؤنث؛ درج ہونے والا۔

_____ ہالا : اوپر لکھا ہوا۔

_____ ذیل : نیچے لکھا ہوا۔

مُنْشَدَا : (م) ۱۱) بند ہونا، چینا، (۲) بھڑکانا، بند ہونا (درخانہ کا)
 (۳) غائب ہونا، چھینا۔

مُنْشَدِرِل : (ع) بھرنے والا گھاؤ، زم جو اگور لاتے۔

مُنْشَدَوِب : (ع) مذکر؛ ناندہ، ممبر، ڈیلی گیٹ۔

مُنْشَدَا : مذکر؛ (۱) سرمندا، ہوا، مضاہٹ، (۲) وہ درخت جس میں شاخیں

اور پتے نہ ہوں (۳) بیل یا بکریا جیسا جس کے سینگ نہ ہوں۔

مُنْشَدَانَا : امترابہرانا، سرکے بالوں یا دائرے کا مضاہٹ کرانا۔

مُنْشَدَا : (۱) مذکر؛ منڈوا، پھیر، وہ جگہ جہاں ہندوؤں کے
 بیاہ کا کام کاج ہو۔

مُنْشَدَل : مذکر؛ گھیرا، دائرہ، چکر، گولا۔

مُنْشَدَلَانَا : (۱) کسی پرندے کا کسی چیز کے اوپر پڑ لگانا (۲) کسی جگہ

کے آس پاس پھیر لگانا (۳) بادل کا گھر کر کے آنا۔

(۴) آدمیوں کا جو کم کرنا۔

مُنْشَدَلِي : مؤنث؛ (۱) ٹولی اگر وہ، جماعت (۲) بسا، بچھا۔

مُنْشَدَانَا : (۱) جماعت بننا، بال مونڈا جانا (۲) کٹا پوری جانا، (۳)

دھمکیوں اگر نقصان اٹھانا۔

مُنْشَدَا : مذکر؛ (۱) حاضی بھوپڑا یا مکان۔

مُنْشَقِل : (ع) جگہ بدلنے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔

_____ کرنا : (۱) تبدیل کرنا، بدلنا، (۲) ایک کے نام سے

دوسرے کے نام کرنا، بیع کرنا۔

مُنْشَقِم : (ع) بدل لینے والا، خدا کا نام۔

مُنْشَقِيَا : (ع) (۱) انتہا کو پہنچا ہوا، (۲) مذکر؛ حد، انجام۔

مُنْشَقِي : (ع) (۱) انتہا کو پہنچنے والا، (۲) وہ شخص جو علم کی تحصیل پوری کر چکا ہو۔

مُنْشَقِي : (۱) نگ، مذکر؛ گھنٹے کا ساٹھواں حصہ

ساتھ (۲) سکٹ۔

مُنْشَوْر : (ع) (۱) بے بند سامتی، (۲) پراگندہ، متفرق، بھرا ہوا،

(۳) غیر منظم کلام، نشر۔

مُنْشَا : مذکر؛ (۱) گڑا ہوا، صاف کیا ہوا، (۲) ماہر، تجربہ کار۔

مُنْشَا : مؤنث؛ رضامند ہو جانا، ناراضی کا دور ہو جانا۔

مُنْشَا : مؤنث؛ (۱) سمند یا دریا کے بچے کی دھار،

(۲) اکتانیا، مصیبت، عین، مصیبت کی جگہ۔

مُنْشَقِي : (ع) ظاہر، آشکارا، روشن۔

مُنْشَقِم : (ع) مذکر؛ بخوبی، جرتوشی، ستاروں کا علم رکھنے والا۔

مُنْشَقِم : (ع) جا ہوا، ٹھوس، سردی سے جا ہوا۔

مُنْشَقِم : مذکر؛ دانت صاف کرنے کا سفوف۔

مُنْشَقِي : مذکر؛ بڑے بڑے پتھر پھینکنے کا آلہ جس کی قلعہ کی دیوار کا

گراتے تھے بڑا ٹخن۔

مُنْشَقِي : مذکر؛ چلنے کے ساتھ بھائی جانے والی پتیل کی دو

کتوریاں، جھانچہ۔

مُنْشَقِيَا : مذکر؛ (۱) لکڑی کا تختہ، چکی (۲) چرنے کا درمیانی حصہ،

(۳) گفتو سوز خواتین کی اصطلاح، مدرس یا مریہ کا تیسرا

مصرعہ، (۴) ہم، مانھا۔

مُنْشَقِيَا : مذکر؛ درمیانی، بیچ کا۔

مُنْشَقِيَا : (دہلی) (۱) صاف ہونا، اُجلا ہونا، (۲) شائستہ ہونا، (۳)

تجربہ کار ہونا، ماہر ہونا، (۴) تفسی ہونا۔

مُنْشَقِيَا : مذکر؛ (۱) اوسط درجہ کا، درمیانی، (۲) اوسط

کا درجہ۔

مُنْشَقِيَا : (۱) مذکر؛ پنڈال، اسٹیج، ڈانس۔

مُنْشَى : (مُنْ - شَى) ، (ع) ، صاحب انشار ، (۱) مذکر ؛ یک عزت کا خطاب ، (۲) مَحْرَز ، لکھنے والا۔

— **گری** : موت ؛ محزری ، لکھنے کا کام۔

مُنْصَب : (ع) ، مذکر ؛ (۱) رتبتہ ، عہدہ ، (۲) حق ، موقع ، محل۔

مُنْصَرَم : (ع) ، منقلم ، بہتم۔

مُنْصِف : (ع) ، مذکر ؛ (۱) انصاف کرنے والا ، (۲) مفکر دیوانی کا ایک عہدیدار۔

— **مزاج** : انصاف پسند ؛ صاف گو ، کھرا۔

مُنْصِفِي : موت ؛ (۱) انصاف ، تصفیہ ، (۲) منصف کی عدالت منصف کا عہدہ۔

مُنْصُوب : مذکر ؛ (۱) قائم ، (۲) کھڑا کیا ہوا ، (۳) وہ حرف جس پر زبر ہو ، مفتوح۔

مُنْصُوبِي : (ع) ، مذکر ؛ تدبیر ، ارادہ ، نشان ، (انگ ، پلان

— **جانت** : موت ؛ پہلے سے سوچی سمجھی ہوئی ، طے شدہ ، منصوبہ بند۔

مُنْصُور : (ع) ، (۱) مدد دیا ہوا ، فتح یاب ، (۲) مذکر ؛ ایک ولی اللہ کا نام جنہیں اتنا الحق کہنے پر شرع کے مطابق سولی دی گئی۔

مُنْصُوص : (ع) ، (۱) تحقیق کیا ہوا ، کمال تحقیق کو پہنچا ہوا ، (۲) قرآن پاک کی وہ آیت جو قابل تاویل نہ ہو ، (۳) وہ حدیث جو کمال طور سے ثابت ہو گئی ہو۔

مُنْصُفَة : (ع) ، مذکر ؛ (۱) ظاہر ہونے کی جگہ ، جلوہ گاہ ، (۲) وہ تخت جس پر رؤس کو بٹھاتے ہیں۔

مُنْصُفَة شَرُوف : (اضافت کے ساتھ) وہ جگہ جہاں کسی چیز کا جلوہ دکھایا جاتے۔

مُنْصُط : (ع) ، (۱) اقاعدہ ، باضابطہ ، (۲) مضبوط کیا ہوا۔

مُنْصُطِي : (ع) ، مذکر ؛ مضبوط کرنے والا۔

مُنْصُج : (ع) ، مذکر ؛ جلاب سے پہلے پلائی جانے والی دوا۔

مُنْصُجِي : (ع) ، برابر ، موافق ، یکساں ، اوپر تلے شک آنے والا۔

مُنْصُطِي : (ع) ، موت ؛ (۱) نطق ، گویائی ، لہجہ ، گفتگو ، بات ، (۲) علم و لائق ، (۳) اکتائشا ، نجات ، دیں۔

— **بگھارنا / چھانٹنا** : بیکار جت کرنا ، باتیں بنانا۔

مُنْصَعَا : (۱) مرصنا ، پوشش کرنا ، پکڑا کا خند یا چڑا چڑھانا ، (۲) ڈھانپنا ، ڈھانکنا ، (۳) زتے ڈالنا ، کوئی چیز کسی کے گلے مڑھنا۔

مُنْصَرِي : موت ؛ بڑا بازار ، وہ بازار جس میں ہر شے افراط سے آگرمیج ہو ، اور بیچنے والے ان چیزوں کو خرید کر دوسرے

بازاروں میں لے جاتیں۔

مُنْصَرِي : موت ؛ ایک قسم کی بوٹی۔

مُنْصَرِي : موت ؛ (۱) دیوانہ لائی ڈھلوان حصہ ، (۲) پستہ مینڈ۔

مُنْصَرَل : (ع) ، موت ؛ (۱) اترنے کی جگہ ، ٹھہرنے کی جگہ ، بڑاؤ ، (۲) ایک دن کی مسافت ، (۳) مرحلہ ، اہم کام ، (۴) مکان کا

درجہ ، بالا ، منزلہ۔

— **مَقْصُود** : (ف) ، (اضافت کے ساتھ) موت ؛ اصل مطلب ، اصل مراد ، وہ جگہ جہاں پہنچنا ہو۔

مُنْصَرَل : (ع) ، آٹا گایا ، نازل کیا گیا۔

مُنْصَرَل : (۱) انزال ہونے والا ، (۲) نیچے اترنے والا۔

مُنْصَرَات : موت ؛ توقیر ، اعزاز ، عزت ، وقت۔

مُنْصَرَوِي : (ع) ، گوشہ نشین۔

مُنْصَرَه : (ع) ، جیوں سے پاک ، پاک صاف۔

مُنْصَرِي : MINISTER (انگ) ، مذکر ؛ وزیر ، منتری۔

مُنْصَرِيح : (ع) ، (۱) آسان ، آسان کیا ہوا ، (۲) موت ؛ عرض کی ایک عمر۔

مُنْصَرِيك : (ع) ، پرو دیا ہوا ، تھی کیا ہوا ، شامل ، مشمولہ ، وابستہ۔

مُنْصُوب : (ع) ، متعلق ، نسبت کیا ہوا ، منگنی کیا ہوا۔

مُنْصُوبِي : (ع) ، رد کیا ہوا ، متروک۔

مُنْصَرِيش : (ف) ، موت ؛ طبیعت ، مزاج ، خواہ ، عادت۔

مُنْصَرَا : (ع) ، مذکر ؛ (۱) پیدا ہونے کی جگہ ، ہونے کی جگہ ، (۲) جہاز ،

سبب ، باعث ، دہر ، (۳) ارادہ ، مقصد ، مطلب ، مراد۔

مُنْصَرَات : (مُنْ - رَش - آت) ، (ع) ، مذکر ؛ محسوسہ ، جہازیں ، تصنیفات۔

مُنْصُجِي : (ع) ، پیلا ہوا ، منقشر ، شاخ در شاخ ہونے والا۔

مُنْصُور : (ع) ، (۱) پیلا ہوا ، بکھرا ہوا ، (۲) مذکر ؛ پروانہ ، شاہی نزلن

(۳) اعلان نامہ ، (انگ) ، میوزیشنو۔

مُنْصَرِي : (مُنْش - شَى) ، (ع) ، نشہ والی چیز۔

۱۳) دھان، طرز، ڈھنگ، طور، طریق، دستور، رسم۔

مَنوَنانا تسلیم کرنا، منظر رکھنا، اقرار کرنا۔

مَنوَنور: ۱) روشن، چمکنے والا۔

مَنوَنون: ۱) اتنوں (۱) دیا ہوا، حرف ص پر تینوں ہوں۔

مَننہ: مذکر؛ ۱) سوراخ، موکھا، ۲) گم، ۳) دہن، ۴) دانہ (۳) چہرہ،

رُخ، ۵) شکل، صورت، ۶) لیاقت، حوصلہ، مقدرت، ۷) طرف، سمت، جانب، ۸) لحاظ، مُروت، خاطر، طرفداری۔

_____ آنا: ۱) منہ اور زبان میں جملے پڑنا (۱) رکنا، کسی پر طنز

کرنا، بُرا بھلا کہنا۔

_____ اُترنا / اُتر جانا: چہرہ ڈبلا اور بے رونق ہو جانا، چہرے

کا رنگ بوپ جاتا رہنا۔

_____ اتنا سا نکل آیا: چہرہ ڈبلا اور بے رونق ہو گیا۔

_____ اُٹھتے: (دہلی، ح) سویرے، تڑکے۔

_____ اُجالے: دن نکلے۔

_____ اشکِ ندامت سے دھوتا، دکھنا، کمان نام ہونا۔

_____ اشکوں سے دھوتا: ناز و قطار ہونا۔

_____ اندھیرے، سویرے۔

_____ بُرا بنانا: ۱) بُرش سے تیری چمھانا، ناراضی ظاہر کرنا،

_____ بُرا سا بنانا: ۲) ایسا منہ بنانا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ

_____ منہ کا مزہ خراب ہے۔

_____ بسورنا، رونے کی صورت بنانا۔

_____ بگاڑنا: منہ بنانا۔

_____ بنالینا: ناراض ہو جانا، خفا ہو جانا۔

_____ بند کر لینا: ۱) خاموش ہو جانا، ۲) مُنہ پر کپڑا یا

_____ ہاتھ رکھ لینا۔

_____ بند ہونا: ۱) دانہ بند ہونا، ۲) چُپ ہونا، ۳) کسی کی

_____ ہڈی یا چھلی سے رُکنا۔

_____ بولنا: منہ سے کہا ہوا، زبان سے بنایا ہوا، زبان سے پکارا ہوا۔

_____ بھڑکنا: منہ میں کوئی چیز بھر دینا، دشمنی دینا۔

_____ ہرے، ۱) ہونٹوں پر، چہرے پر، ۲) دکھنا، رڈ ہونے

_____ سامنے۔

_____ فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام جو قبر میں مُردوں سے سوال

_____ جواب کرتے ہیں، ۱) مونث، ۲) حدیث کی ایک قسم۔

_____ مُنکر: ۱) انکار کرنے والا، خدا کا نہ مٹنے والا، کافر۔

_____ مُنکر کبیر: مذکر؛ وہ دو فرشتے جو قبر میں مُردوں سے

_____ سوالات کرتے ہیں۔

_____ مُنکرین: ۱) مذکر؛ جمع منکر کی، انکار کرنے والے۔

_____ مُنکبیر: ۱) شکتہ، ٹوٹا ہوا، ۲) عاجز، مسکین، ۳) دکھنا،

_____ متواضع، انکسار کرنے والا۔

_____ مُنکشیف: ۱) گلنے والا، کھلا ہوا، ظاہر، آشکارا۔

_____ مُنکوحہ: ۱) مونث؛ نکاحی عورت، بیوی۔

_____ مُنکگانا: طلب کرنا، کسی جگہ سے کوئی چیز طلب کرنا۔

_____ مُنکشا: مذکر؛ فقیر، بھیکاری، بیک مانگنے والا۔

_____ مُنکشل: ۱) مُذکر؛ ۲) خوشی، ۳) خوشی کا گیت، ۴) مزہ، ۵) ایک ستارے کا نام،

_____ ۱) شہنشاہ، ۲) رونق، چہل پہل۔

_____ مُنکشی: ۱) مونث؛ ۲) سگائی، نسبت، ایک رسم کا نام، جس میں عورت

_____ کو مرد سے اور مرد کو عورت سے منسوب کر دیتے ہیں، ۳) ہانگی

_____ ہونے کوئی چیز۔

_____ مُنکوانا: منگنا۔

_____ مُنکوجی / مُنکوجھی: مونث؛ مونگی تلی ہوئی بُریاں۔

_____ مُنکوری: مونث؛ مونگ یا ماش کی پھلوری۔

_____ مُنکیشر: نکلے۔ ۱) مذکر؛ ۲) وہ لڑکا یا لڑکی جس کی ایک

_____ دھڑ سے منگنی ہو چکی ہو۔

_____ مُن من: ۱) مونث، ۲) آشگی سے، سچ، سچ۔

_____ مُنمنا: مذکر؛ ناک سے بولنے والا۔

_____ مُنمناٹا: ۱) ناک میں بولنا، صاف نہ بولنا، ۲) دکھنا، بڑبڑانا۔

_____ مُنمنا: مذکر؛ پست قدم چھوٹا۔

_____ مُن موہنی: ۱) مونث؛ دل ربا، خوبصورت۔

_____ مُننوا: مذکر؛ ہندو عقیدے کے مطابق، انسانوں کے جہاں ظاہر ہوا

_____ بیٹا۔ منورق کا مصنف جس نے دھرم شاستر بنایا۔

_____ مُنقرق: مونث؛ ہندو عقیدے کی ایک مذہبی کتاب۔

_____ مُنوال: ۱) مذکر؛ ۲) وہ لڑکی جس پر بھلا یا کپڑا بن کر لپٹا جاتا ہے،

منہ پر آتا ، (۱۱) زبان پر آتا ، (۱۲) ظاہر ہوتا ، (۱۳) مقابلہ پر آنا ، مقابل ہونا۔
 زور پر آنا۔
 — پر خاک آنا : چہرے کا بے رونق ہونا۔
 — پر رونق آجانا : چہرہ عرش ہو جانا۔
 — پر قفل لگانا : بولنے نہ دینا ، نہ بولنا۔
 — پر کچھ پیٹھ پر کچھ : ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔
 — پر مہر لگی ہونا : مزید ہونا ، کسی طرح نہ بولنا۔
 — پر ہوائی / ہوائیاں اڑنا / چھوٹنا : چہرے کا رنگ اٹھانا ،
 گھبرانا ، حواس باختہ ہو جانا۔
 — پٹھت : زباں دواز ، بدنہاں ، بدتمیسنہ ، مرتع بے رونق
 بول دینے والا۔
 — پھلانا : دکھانا ، ناراض ہونا ، خفا ہونا۔
 — پھیر لیتا : دکھانا ، بے مروتی کرنا۔
 — تک آنا : (۱) اب تک آنا ، زبان تک آنا ، (۲)
 کناوں تک لے کر ہونا۔
 — ٹکنا : (۱) صورت دیکھنا ، (۲) جواب کا منتظر رہنا ، (۳)
 عورت جبری نگاہوں سے دیکھنا۔
 — توڑ جواب دینا : صاف جواب دینا۔
 — چڑانا : بدنہائی کے ساتھ دوسرے کی تفل کرنا۔
 — چڑھا ، گستاخ ، بے ادب ، خندی۔
 — دکھانے کے قابل نہ رہنا ، نہایت شرمندگی سے سامنے
 آنے کے قابل نہ رہنا۔
 — دیکھا کرنا : حیرت سے مزہ لگانا اور کچھ دخل نہ دینا۔
 — دیکھا رہ جانا ، حیران ہونا ، تائب ہونا۔
 — بیسوال : زبان کو تھامیں کرنا ، سوچ سمجھ کر بات کرنا۔
 — سے آگٹا : (۱) منہ سے باہر نکالنا ، (۲) دکھانا ، ضمیر کا پھینکا
 ہل دیا ہوا کرنا۔
 — رسیا ہو کرنا : (۱) منہ کالا کرنا ، (۲) غصا بے لگانا ، (۳)
 کلک کا نیا لگانا۔
 — ہونا ، (۱) ذلت و خوار ہونا ، (۲) منہ کھانے کے قابل نہ ہونا
 سے بولنا ، (۳) خنز ، زبان سے بات کرنا ، جواب دینا۔

— سے پھول چھڑنا ، اگنا ، خوش گفتار ہونا ، شیریں کلام ہونا۔
 — رسی لینا : خاموشی اختیار کرنا۔
 — سے نکل جانا ، بے ساختہ کوئی بات زبان سے نکل جانا۔
 — فقی ہونا : چہرہ نرود ہو جانا ، حیران ہو جانا۔
 — کالا کرنا : (۱) زور کرنا ، (۲) ہتھام کرنا ، (۳) زنا کرنا۔
 — کو ہولگ جانا : (۱) شکار مار کر کھانے کا چسکا پڑ جانا ، (۲)
 کی ہاٹ لگنا ، (۳) اگنا ، حیران خوری یا شرت ستانی کا
 مزہ لگ جانا۔
 — کھٹنا : دین فراخ ہونا ، بدلگام ہو جانا ، بدنہاں ہونا۔
 — کھلوانا : بولنے پر مجبور کرنا ، نہاں کھلوانا ، گستاخ بنانا۔
 — کی بات : کسی کی کہی ہوئی بات۔
 — کی کھانا : (۱) منہ پر چوٹ لگنا ، اونٹ سے منہ گرنا ، (۲)
 طباخ کھانا ، (۳) سزا مانا ، مار پانا ، (۴) بے شرمندہ ہونا ، (۵) ہر
 جانا ، شکست کھانا۔
 — مالگا : حسب خواہش ، مطالبے کے مطابق۔
 — موڑنا : (۱) الٹ ہونا ، (۲) پیچھے ہٹنا ، (۳) بے زنجیر ہونا ، (۴)
 دکرنا ، (۵) باطنی ہونا ، (۶) پرہیز کرنا۔
 — مٹھنا : (صفت) تفریق ، مجرا ، وضع ، کم۔
 — مٹھنائی : مٹھ ، تفریق کرنا ، مجرا کرنا ، کمی۔
 — مٹھنا : نڈر ، کاٹھی چوڑیاں ، بنانے اور بیچنے والا ، شیشہ گر۔
 — مٹھناج : (۱) نڈر ، (۲) کشادہ راستہ ، (۳) راہ راست۔
 — مٹھندم : دغ ، گڑھا مکان ، مسار ، خواب ، دیوان ، بریلو۔
 — مٹھندی : مٹھ ، ایک قسم کی بیج جس کو بیس کر لگانے سے ہاتھ مرخ
 ہو جاتے ہیں ، (۱) شادی کی ایک رسم۔
 — مٹھنم : (۱) شکست کھانے والا ، جنگ سے ہماگ ہانے والا۔
 — مٹھنم : (۱) ہنم ہونے والا۔
 — مٹھنگا : نڈر ، گراں بیسحق ، زیادہ عام کا۔
 — مٹھنگائی : مٹھ ، گراں۔
 — مٹھنگ : (۱) کسی کام پر بہت کوشش کر کے والا ، (۲) ہنماگ والا ،
 بے مصروف۔
 — مٹھنیات : (۱) نڈر ، وہ جسے کام میں کمال اور شرف کے حکم سے منس ہے۔

(اُردو) سپ، رطوبت، غلاظت۔
موازینہ : (م۔ آ۔ کر۔) (ع) مذکر؛ باہم وزن کرنا، جانچنا،
 امانہ کرنا۔

موازی : (ع) م برابر، متقابل، ہم قیمت، (م) قیاساً،
 امانہ کر لینا۔

مواصلات : (ع) مذکر؛ آمدورفت کے ذرائع۔

مواصلاتی نظام : (ع) مذکر؛ ذرائع آمدورفت کا سلسلہ۔

مواصلت : (ع) مؤنث؛ ملاقات، (م) وصل پیوستگی۔

مواضع : (ع) مذکر؛ جمع موضع کی؛ بہت سے گاؤ۔

مواضعات : مذکر؛ جمع مواضع کی۔

موافق : (ع) م، مطابقت، مناسب، ٹھیک، (م) لائق سزاوار۔

موافقیت : (ع) مؤنث؛ مطابقت، ہمراہی، اتفاق، دوستی۔

مموالات : (ع) مؤنث؛ میل جول، باہمی اتحاد، آپس کی دوستی۔

مموالی : (ع) مذکر؛ (م) یادداشت، نوکر چاکر، مددگار، (م) جمع ممالک کی۔

مموالست : (ع) مؤنث؛ باہم آنس رکھنا، محبت رکھنا،
 آپس میں دوستی۔

مموافع : (ع) مذکر؛ جمع مانع کی، رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں۔

ممواہب : (ع) مذکر؛ بخششیں، مہربانیاں۔

مموابد : (ع) مذکر؛ حکیم، فلاسف، (م) آتش پرستوں کا
 پیشوا، پارسوں کا ملّا۔

مموات : مذکر؛ ہم، پیشاب، بول۔

ممووت : (ع) مؤنث؛ قضاء، مرگ، اجل، (م) شامت، خرابی۔

ممووتی : (ع) جمع میت کی؛ مُردے۔

ممووتی : مذکر؛ گھبر، دُڑ، مرطوب، لٹو، (م) صاف شفاف، آبِ دلہ۔

— **پاگ** : مذکر؛ ایک قسم کی مٹھائی۔

— **چوڑ** : (م) چمک دار، چمکیلا، (م) مؤنث؛ کابھی کبوتروں کی چمک دار
 آنکھیں، (م) کٹائی، چمکیل اور خوشنما آنکھ، (م) ایک قسم کی
 مٹھائی جس میں مٹی کے برابر دانے ہوتے ہیں۔

— **چوڑ کالڈو** : ایک قسم کی مٹھائی۔

— **رولنا** : (م) مٹی بھرتا، (م) کٹائی، فائدہ اٹھانا۔

مموتیا : (م) مٹی کی مانند، (م) مذکر؛ بیٹے کے پھول کی ایک عمدہ قسم،

مموٹیاری : مذکر؛ کاف کی چوڑیاں بنانے والا، شیشہ گر، منہار۔

مموٹی : (ع) م، احاطہ، نطق، (م) (ف) خود بینی، غرور،
 (م) ایک، یوسپہ، نقدی۔

مموٹی : مذکر؛ زاہد، ریشی، مرتاض۔

مموٹی : مؤنث؛ (م) چھوٹی پٹی، (م) چھوٹی چیز۔

مموٹی پوری : (ع) مذکر؛ آسام کا کلاسیکی رقص۔

مموٹی : (ع) روشن کرنے والا، روشن۔

مموٹی : (ع) روشن کرنے والا، روشن۔

مموٹی : مذکر؛ محاسب، محرر، اکاؤنٹنٹ

م و

ممو / مموئے : (ف) مذکر؛ بال۔

ممو باف : (ف) مذکر؛ (م) وہ دھجی پٹی یا فیتہ جسے موڑیں
 جوئی میں ڈال کر گوندھتی ہیں، (م) جوئی باندھنے کا پٹرا،

RIBBON . ربن

ممو بکمو : (ف) بال، ذرا ذرا حرف بحرف، سب کا سب، ٹل۔

— **تراش** : (ف) مذکر؛ (م) بال موڑنے کا آسترہ،
 (م) بال کٹنے والا، حجام۔

— **شنگاف** : (ف) باریک ہیں، نکتہ رس، بال کی کمال کھینچنے والا۔

— **شنگانی** : (ف) مؤنث؛ باریک بینی جھان بنی، نکتہ چینی۔

— **قلم** : (ف) مذکر؛ مصروف کا ہاتھ سے بنا ہوا باریک ریش۔

ممو : (م) مرگیا، فوت ہو گیا (متروک)، (م) (موتوں کی اصطلاح)
 بدبخت، بد نصیب، ٹکڑا، نامرد۔

ممواج : (ع) موچیں مارنے والا، لہریں مارنے والا۔

ممواچپ : (ع) مذکر؛ (م) جمع موجب کی، مقرر کیا گیا، لازم کیا گیا،
 (م) جانا، اجرت، مزدوری، تنخواہ، مشاہرہ۔

ممواچہ : (ع) مذکر؛ رجز، سامنے، مقابل۔

ممواخذہ : (م۔ آ۔ غنہ) (ع) مذکر؛ (م) جواب دہی، گرفت،
 باز پرس، (م) بلا، مکافات۔

— **دار** : جواب دہ، ذمہ دار۔

ممواد : (ع) مذکر؛ (م) جمع مادہ کی اسباب، مسالا، سامان، (م)

- مُورِحَمَل** : مذکر، موسکے پروں کا پتھر جس سے مکھیاں اُڑاتے ہیں۔
مُور : مذکر، آم کا پھول، پتھر، ایک قسم کی کھنی، تاج، نمک۔
مُورَت : مؤنث، بخت، پیکر، صورت۔
مُورِث : (ع) وارث کرنے والا، میراث پہنچانے والا، وہ شخص جس سے ورثہ یا ترکہ ملے، (ف) باعث، سبب۔
أَعْلَا : (ف) اخصاف کے ساتھ، مذکر؛ سب سے بڑا مورث، کسی ورثہ کا سب سے پہلا مالک، جِدِ اَعْلَا۔
فَارِس : مذکر، اخصاف کے ساتھ، (ف) کی اصطلاح، نانا۔
مُورِجَا : مذکر، (۱) حصار، (۲) کھائی، خندق، محاذ، (۳) وہ فوج جو موجب پر اڑنے کے واسطے رہتی ہے۔
مُورِخ : (ع) تاریخ لکھنے والا، جمع مُورِخِین۔
مُورِخَم : (ع) تاریخ ڈالنا، لکھا ہوا، مرقوم، محررہ۔
مُورِد : (ع) مذکر؛ اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔
مُورِکُھ : بے وقوف، جاہل، نادان، ناواقف۔
مُورُوفِی : (ع) باپ دادا کا جدی، آبائی، ورثہ میں ملی ہوئی چیز۔
مُورِی : مؤنث، (۱) نالی، (۲) آستین کا سرا، پاجامے کے پائے کا سرا۔
مُورِی : مذکر، (۱) گھاؤ، (۲) پیر، چکر، (۳) بل، نم، بیج۔
مُورِیْنَا : (۱) کسی چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا، خم کرنا، جھکانا، (۲) ترک کرنا، (۳) پھیرنا، گھمانا، (۴) بل دینا۔
مُورِیْہَا : مذکر، نم، سرکنڈے کی بنی ہوئی کرسی، موڈھا۔
مُورِوُل : (ع) خوش آئند، پسندیدہ، مناسب، بیشک، حساب۔
مُورِوُلِی : وہ معرعہ یا شعر جو عروض کے قاعدے سے درست ہو۔
مُوزُونِیْت : (ع) مؤنث؛ مناسبت، پسندیدگی، سنجیدگی۔
مُوزِیْش : بھین۔
مُوزِہ : (ف) مذکر؛ جراب۔
مُوسَا : (ع) مذکر؛ خالہ۔
مُوسَلِی : (ع) مذکر؛ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہودی۔
مُوسَل : مذکر؛ اناج وغیرہ کوٹنے کا آلہ۔
مُوسَلَا : مذکر، (۱) مول کی تصغیر، (۲) اصل، جڑ۔
مُوسَلِی : (ع) ذبح کرنے والی بارش۔
مُوسَلِی : مؤنث؛ اصل، جڑ۔
- مُوسَم** : (ع) مذکر؛ (۱) نرت، سان، (۲) وقت، موقع، زمانہ، فصل، (اردو) موسم۔
مُوسَمِکَل : (ف) اخصاف کے ساتھ، مذکر؛ بہار کا موسم۔
مُوسَمِی : موسم کا، وقت کا موقع کا، نرت کا۔
مُوسَمِی : سترے کی قسم کا ایک میٹھا پل۔
مُوسَمِیَات : (ع) مذکر؛ موسم کا حال معلوم کرنے کا علم۔
مُوشَا : (م) لوٹنا، ٹھگ لینا، دغا فریب سے روپیہ کھالینا۔
مُوسَمُوم : (ع) مذکر؛ (۱) نام رکھا گیا، خالِب، مُتَلَقِب، (۲) مؤنث؛ موسومہ۔
مُوسَمِوِی : (ع) (۱) حضرت موسیٰ سے منسوب، (۲) حضرت امام موسیٰ رضا کی اولاد۔
مُوسِی : مؤنث؛ خالہ، بچی۔
مُوسِی : (ع) ایک شہر یا قصبہ کا نام جن پر توریت نازل ہوئی۔
مُوسِیْقَار : مذکر؛ (۱) ایک خیالی پرندہ جس کی آواز سے فن موسیقی لکھنے کی روایت ہے، تَقْصِی، (۲) ایک قسم کا باجا، (۳) فن موسیقی جاننے والا۔ میوزیشن۔
MUSICIAN : موسیقی، مؤنث؛ (۱) گانے بجانے کا علم، (۲) گانا، راگ، (انگ) میوزک۔
MUSIC : موش؛ (ف) مذکر؛ چڑا۔
مُوشِک : (ف) مؤنث؛ گلہری۔
مُوصِل : (ع) ملنے کی جگہ۔
مُوصُوف : (ع) مذکر؛ وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو، مذکور۔
مُوصُول : (ع) مذکر؛ (۱) پل، (۲) ملایا گیا۔
مُوصِی : (ع) مذکر؛ وصیت کرنے والا۔
مُوصِیج : (ع) واضح کرنے والا، روشن کرنے والا۔
مُوصِیج : گاؤ۔
مُوصُوع : (ع) مذکر؛ (۱) وضع کیا ہوا، رکھا ہوا، (۲) عنوان، مضمون، وہ مقصد جس پر گفت گو ہو، (۳) (منطق کی اصطلاح) مبتدا۔
مُوصِیجِک : مقابل میں ہو۔
مُوطِن : (ع) مذکر، وطن، رہنے کی جگہ، جنم بوم، (جمع موطِن)۔
مُوعظَات : (ع) مؤنث؛ نصیحت کرنا، پسند و نصیحت۔

مول : مذکر، قیمت، دام، (۱۱) نرغ، بھاؤ۔
قول : مذکر، سودا، قیمت کا تعلق۔
لینا : (۱۰) خریدنا، (۱۱) اکتاٹنا، اپنے سر کوئی جھگڑالینا، اپنے پیچھے بلا لگانا۔
مولا : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) مالک، آقا، سردار، (۱۲) خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ (۱۳) آزاد کیا ہوا غلام۔
مولانا : (۱۰) مذکر؛ عالموں کا اعزازی خطاب، فاضل، اہل۔
مولائی : مؤنث؛ سرداری، امیری، امارت۔
مولید : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) پیدا ہونے کی جگہ، (۱۲) پیدا ہونے کا وقت (۱۳) پیدائش، (۱۴) وطن۔
مولسری : مؤنث؛ ایک قسم کا درخت، بھول اور پھل۔
مولیت : (۱۰) مذکر؛ تالیف کرنے والا، مستغرق مضامین کو جمع کرنے والا، مختلف کتابوں کی مدد سے کتاب ترقیب دینے والا۔
مولفات : (۱۰) مذکر؛ تالیف کی گئی کتابیں۔
مولف : (۱۰) مؤنث؛ تالیف کی ہوئی، جمع کی ہوئی۔
مولک : (۱۰) بجز، اصل، حقیقی، بنیادی (انگ، اور کنٹن ORIGINAL) مولود : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) جنا ہوا، پیدا ہونے والا، زائیدہ، (۱۲) پیدا ہونے کا وقت، پیدائش کا دن، (۱۳) بیٹا، (۱۴) ولادت کا بیان۔
شریف : مذکر؛ میلاد کا بیان، میلاد شریف۔
مولوی : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) شریع کے احکام جانتے والا، (۱۲) عالموں کا لقب، محکم، مدرس۔
مولی : (۱۰) مذکر؛ مالک، اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ۔
موی : مؤنث؛ ایک ترکیبی، تڑپ۔
موم : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) شہد کے تختے کا رومن، (۱۲) نرم، (۱۳) لٹم۔
بٹی : مؤنث؛ موم سے بنائی گئی تہی، مومی شمع۔
جامہ : (۱۰) موم چڑھایا ہوا پتھر، مومی پتھر۔
لوعن : مذکر؛ موم سے بنایا ہوا رخنہ جو بیٹے پنوں پر لٹا جاتا ہے۔
کی مریم : (۱۰) مؤنث؛ نہایت نازک صفت۔
کی ناک : اکتاٹنا، غیر مستقل مزاج، دوسروں کی مرضی پر چلنے والا شخص۔
مومی : (۱۰) موم کا بنا ہوا، (۱۲) نرم۔

موقود : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) دھندہ کیا گیا، اقرار کیا گیا، (۱۲) وہ شخص جس کا وہ کیا گیا ہو۔
موقور : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) دھندہ کیا گیا، بہت، بکثرت، بے انتہا۔
موقت : (۱۰) کسی خاص وقت پر ٹھہرایا ہوا، زمانہ کے ساتھ معین کیا گیا۔
موقی : (۱۰) موقی، موقی، موقی، کسی خاص وقت کے لیے مقرر کیا ہوا، موقی۔
موقر : (۱۰) موقر کیا گیا، عزت دار، محترم۔
موقع : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) واقع ہونے کی جگہ، (۱۲) خاص وقت، خاص مقام۔
بر موقع : جگہ جگہ۔
بے موقع : بے مکانے، بے موقع کی جگہ۔
واردات : (۱۰) اصناف کے ساتھ، مذکر؛ وہ جگہ جہاں کوئی حادثہ واقع ہوا ہو۔
موقوف : (۱۰) مذکر؛ (۱۱) کھڑے ہونے کی جگہ، (۱۲) ریویہ، پڑھنے۔
موقوف : (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱

- مہارانی : مونث؛ (۱۱) بڑی رانی، (۱۲) معزز خاتون۔
 راشٹر : مذکر : ہندستان کا ایک صوبہ۔
 سنگھ : مونث؛ گنتی کا سب سے بڑا ادا آخری درجہ۔
 شہر : مونث؛ ایک قسم کی بڑی جھلی۔
 عکلی : مونث؛ (۱) ایک درخت کی ٹکڑی، (۲) بڑی خوبصورت والا۔
 بہت زیادہ نوالہ۔
 مہابیت : (ع) مونث؛ شان و شوکت، جاہ و جلال۔
 مہاجر : (ع)؛ (۱) ہجرت کرنے والا، وہ شخص جو رسول مقبول کے ساتھ یا ان کے حکم سے مکہ سے مدینہ چلا گیا، (۲) تارک الوطن۔
 مہاجریت : (ع)؛ مونث؛ ہجرت، جدائی، ترک وطن، دوسرے ملک میں جا بسنا۔
 مہاجرین : (ع)؛ مذکر؛ جمع مہاجر کی، ہجرت کرنے والے، کسی اہم مقصد کے پیش نظر ترک وطن کرنے والے۔
 مہار : (ف)؛ مونث؛ اونٹ کی ٹیکل۔
 مہارت : (ع)؛ مونث؛ (۱) مشق، تجربہ، مشاقی، (۲) استعدا و لیاقت، (۳) استادی، ہنرمندی، (۴) چابک دستی، (۵) علم و شعور، قابلیت۔
 مہاسا : مذکر؛ نوجوانی میں چہرے پر نکلنے والی چھوٹی پٹھنسی۔
 مہاشے : (۱)؛ مذکر؛ بھلا آدمی۔
 مہال : مونث؛ شہد کی مکھٹیوں کا پتلا۔
 مہان : (۱)؛ بہت بڑا، عظیم۔
 مہان آتما : (۱)؛ مونث؛ بزرگ، عظیم انسان، مہاتما۔
 مہانانا : مذکر؛ دریا کا دبان، دریا کا منہ۔
 مہانوت : مذکر؛ فیضان۔
 مہاوٹ : مونث؛ ناگھ کے جینے کی بارش۔
 مہا اور : مذکر؛ ایک قسم کا سرخ رنگ بولا گھ سے تیار کیا جاتا ہے۔
 مہاپیٹ : (ع)؛ مذکر؛ آسنے کی جگہ۔
 مہبت : (۱)؛ (۱) بڑا جلیل القدر معزز، (۲) مونث؛ بڑی بڑی، (۳) لاد، بیارام، مہبت مہبتا : مذکر؛ سردار، محاکو کا مقدم۔
 مہتاب : (ف)؛ مونث؛ (۱) چاندنی، چاند کی روشنی، (۲) مذکر، چاند، (۳) مونث؛ ایک قسم کی آتش بازی۔
 مہتابی : (ف)؛ مونث؛ (۱) ایک قسم کی آتش بازی، (۲) زربفت، بادلوں کا
- (۳) کپڑے دار بڑا اونچا چوڑا، (۴) چاندنی کا نظارہ کرنے کے لیے عورتوں کے قریب بنایا جانے والا چھٹا سا مکان، (۵) ایک قسم کا بڑا سیمہ۔
 مہتدی : (ع)؛ ہدایت کرنے والا۔
 مہتدی : (ع)؛ ہدایت کیا گیا۔
 مہشتر : (ف)؛ (۱) تیس سرواٹھ، (۲) (۱) آرد، خاک رعب، بھٹی۔
 مہشتر : (ع)؛ شان سے اہتمام کیا ہوا، شان دار۔
 مہشتر : (ع)؛ اہتمام کرنے والا، منتظم، منیجر۔
 مہشتر : (ع)؛ جدا، چھوڑا گیا، فراق زدہ۔
 مہجوری : مونث؛ لڑائی، جدائی۔
 مہشد : (ع)؛ مذکر؛ (۱) پالنا، (۲) ہندو، (۳) گھوڑا۔
 مہشدی : (ع)؛ (۱) رہتا، پیشوا، (۲) ہادی، رہبر، (۳) بارہویں امام کا لقب جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرب تیاقت ظاہر ہوں گے۔
 مہشدی : (ع)؛ آراستہ، تہذیب یافتہ، خلیق، عیبوں سے پاک۔
 مہسر : (ع)؛ مذکر؛ وہ دریا جو شوہر نکاح کے بدلے میں بیوی کو ادا کرے، کابین، حق زوجیت۔
 مہسر : (ف)؛ مونث؛ (۱) محبت، دوستی، (۲) الفت، پیار، (۳) اہم مہربانی۔
 (۴) مذکر؛ سورج، آفتاب۔
 مہربان : (ف)؛ مہربان کرنے والا، دوست، شفقت کرنے والا۔
 مہربانی : (ف)؛ مونث؛ شفقت، نوازش۔
 مہر گیا گیا : (ف)؛ مونث؛ ایک قسم کی محاسن جس کی بڑ انسان کے چہرے سے مشابہت رکھتی ہے، اس بڑ کو کسیر کے واسطے لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں۔
 مہروش : (ک)؛ (۱) حسین، معشوق۔
 مہر : (ف)؛ مونث؛ (۱) انگوٹھی، (۲) کسی چیز پر کھدا ہونام یا نقش، (۳) سونے کے ایک سیکے کا نام، (۴) انگ، (۵) ریل۔
 مہوت : (ف)؛ (۱) اخافت کے ساتھ، مونث؛ وہ نقش جو جناب رسول اللہ کے دونوں منڈھروں کے درمیان تھا۔
 مہرا : (ع)؛ (۱) دم، مذکر؛ سامنا، آگ۔
 مہرا : مذکر؛ کہار۔
 مہرا : مذکر؛ زنانہ، زرخا۔
 مہرا : (ع)؛ مونث؛ (۱) عورت، بیوی۔

مہندس : (ع) ۱۱۱، علم ہندسہ کا علم، ۱۱۲، جوتشی، منجم۔
 مہنگا : (ع) ۵۱، مذکر؛ گران، قیمتی، (مونث) مہنگی۔
 مہنگائی بھتا : (ع) ۱۵۱، مذکر؛ مہنگائی کے حال سے دیکھنے والی اصنافی تخواہ۔
 مہنوا : مذکر؛ ایک درخت جس کا پھل کھاتے ہیں اور بچوں کو تیل نکالتے ہیں۔
 مہوزرت : (ع) مونث؛ ستاروں کی چال کے مطابق کسی کام کے شروع کرنے کا مناسب وقت۔ رسم افتتاح۔
 مہجوس : مذکر؛ کھیلا، سونا چاندی بنانے والا۔
 مہجوگ : مذکر؛ ایک پتندہ کا نام۔
 مہبتیا : (ع) تیار، موجود، حاضر، آمادہ۔
 مہیب : (ع) خوف ناک، خطرناک، بھیانک، ڈرانا۔
 مہیین : (ف) بڑا، بزرگ۔
 مہیین : (اردو) ۱۱۱، پارک، پتلا، ۱۱۲، نازک۔
 مہینا / مہینہ : مذکر؛ ۱۱، ماہ، تیس دن کا عرصہ، سال کا بارہواں حصہ۔
 ۱۲، ماہ واری تخواہ، مشاہیرہ، ۱۳، حیف، ماہ واری۔

م ر ی

مستی : MAY، مذکر؛ اگر میری سال کا پانچواں مہینہ جو اکتیس دن کا ہوتا۔
 مے : (ف) مونث؛ شراب۔
 پرست : (ف) شراب پینے والا۔
 خانہ : (ف) مذکر؛ شراب خانہ۔
 خواری : (ف) مونث؛ شراب نوشی۔
 فروش : (ف) شراب بیچنے والا، کمال۔
 کدہ : (ف) مذکر؛ شراب خانہ۔
 کش : (ف) شراب پینے والا۔
 کشی : (ف) مونث؛ شراب نوشی۔
 گسار : (ف) شراب پینے والا۔
 گواں : شراب کے نگ کا، مٹرخ۔
 ناپ : (ف) «منافقت کے ساتھ» مونث؛ خالص شراب۔
 نوش : (ف) شرابی، شراب پینے والا۔
 میخوش : (ف) ۱۱، کشا میٹھا مزہ، ۱۲، انار جو کھٹ بٹھا ہو۔

مہرہ : (ف) مذکر؛ «شترخ کی ٹوٹ»، ۱۱، کوڑی، ۱۲، سیب، ۱۳، سب کا زہر دور کرنے کا پتھر، سانپ کا من، ۱۴، پیشہ کی ہڈیوں کا ٹکڑا۔

مہری : مونث؛ کہلی، پانی بھرنے والی عورت۔
 مہری : موی، پانی کے نکاس کا راستہ۔
 مہنگ : مونث؛ یو، بڑا، باس، پھولوں کی تیر یو۔
 مہیلا : (ع) عورت، زن، استری۔
 مہلت : (ع) مونث؛ ڈھیل، موقع، فرصت، چھٹی۔
 مہنک : (ع) ہلاک کر ڈالنے والا، قاتل، ضرر رساں۔
 مہم : (ع) مونث؛ ۱۱، بڑا کام، ۱۲، اہم کام، خطرے سے بھرا ہوا کام۔
 ۱۳، جنگ، لڑائی۔
 باز : (ع) ف، خطرات پسند۔
 پسند : مشکل پسند، خطر پسند۔
 جز : مشکل کام کرنے والا۔

مہمات : (ع) مونث؛ جمع مہم کی۔
 مہمان : (ف) مذکر؛ کسی کے گھر آکر ٹھہرنے والا، ضیافت میں آنے والا۔
 خانہ : (ف) مذکر؛ مسافر خانہ، مہمان سرا۔
 داری : مونث؛ مہمان نوازی، دعوت، ضیافت۔
 سرا : (ف) مذکر؛ ۱۱، مسافر خانہ، سرائے، ۱۲، کناٹا، دنیا۔
 نواز : (ف) مہمان کی خاطر دلالت کرنے والا، میزبان۔
 مہکل : (ع) بے کار، بے معنی، بے ہودہ، لغو۔
 مہکلہ : (ع) خالی، وہ حرف جس پر نقطہ نہ ہو، غیر منقطع۔
 مہلیتیت : مونث؛ بے معنویت، بے ہودہ، لغویت۔
 مہموز : (ع) مذکر؛ ۱۱، جب، میوب، ۱۲، عربی کا وہ لفظ جس کے اصل حرفوں میں سے ایک پر تہ مزہ ہو۔
 مہمینر : (ع) مونث؛ سوار کے جو تے کی اڑی میں لگا ہوا لوہے کا کانا جس سے گھوڑے کا اثر لگاتے ہیں۔
 مہنتال : مونث؛ حقے کرنے کے آگے لگی کسی دھات کی ٹی۔
 مہنتامت : مونث؛ «ہو، رفا، پینا، اڑپنا، بلبلنا، شور مچانا۔
 مہنتت : مذکر؛ ۱۱، جوگی، تکیہ دار، پھیروں کا سردار، گسائیں، ۱۲، سونا آدی۔
 مہنتد : (ع) کسی دوسری زبان کا ہندستان کیا ہوا لفظ۔

کاشتوں۔ لائٹ ہاؤس (انگ) LIGHT HOUSE ، (۳۱)

ٹاور TOWER (۳۲) بلند ستون، مسم، کھمبا، (۳۳) مہسورن کے اونچے ستون۔

میں پھل : نکر، خربزے کی شکل کا ایک کڑوا پھل، امدلان۔

ہینڈ : مونٹ؛ (۳۴) ستار کا ایک پُرزہ، (۳۵) ستار کی سلسل آواز لے، مان۔

ہینڈ : مونٹ؛ (۳۶) (۳۷) کیفیت کی منڈیر، پُشتہ، حد، کنارہ، (۳۸) دریا کی اونچی موجیں۔

ہینڈک : نکر؛ اُبی جانور جو برسات میں ندی نالوں کے کنارے ٹرٹرا یا کرتل ہے۔

ہینڈھا : نکر؛ (۳۹) بیڑ، ڈنہ، (۴۰) آسمان کا باہواں برج، میکھ لاس۔

ہینڈھی / ہینڈھی : مونٹ؛ عورتوں کے سر کے گندھے ہوئے بال

ہینک : (۴۱) مونٹ؛ آنکھ کی پتلی۔

ہینکنی : مونٹ؛ بیڑ، بکری، اہرن، اونٹ، چوہے وغیرہ کا قفل۔

ہینہ : (۴۲) نکر؛ مزدور، سن، جنت۔

ہینہ : نکر؛ بارش۔

ہینچر : (۴۳) (انگ) نکر؛ مہتمم،

MANAGER

منتظم، کارندہ، سربراہ کار۔

ہینجمنٹ : (۴۴) (انگ) نکر؛

MANAGEMENT

انتظام، انتظام۔

ہینجنگ ڈائریکٹر : (۴۵) (انگ) نکر؛ کسی کاروبار یا تجارتی ادارے کا وہ مالک

MANAGING DIRECTOR

جو ناظم کی حیثیت سے کام کرے۔

ہینٹی فیسٹو : (۴۶) (انگ) نکر؛

MANIFESTO

اعلان نامہ، منشور، محضر۔

ہینو : نکر؛ مہوت کی ایک بہادر قوم۔

ہینو : نکر؛ راجپوتانہ کی ایک ریاست۔

ہینوزک : (۴۷) (انگ) مونٹ؛ موسیقی، رگ، نغمہ۔

MUSIC

ڈائریکٹر : (۴۸) (انگ) نکر؛

DIRECTOR

موسیقی اور وہیں ترتیب دینے والا، موسیقار، سنگیت کار۔

ہینوزی شین : (۴۹) (انگ) موسیقار

MUSICIAN

موسیقی کا ماہر۔

ہینلا : نکر؛ (۵۰) گندا، میل والا، ناپاک (۵۱) گدلا، غبار آلود، (۵۲)

بول، دہراز، پاخانہ، (۵۳) کوڑا کرکت۔

ہین : نکر؛ گندھان، نجاست، خلاکت۔

ہینلا : (۵۴) نکر؛ پیدائش کا وقت، پیدا ہونے کا زمانہ۔

ہینلان : (۵۵) نکر؛ توجہ، رجحان، خواہش۔

ہینلوڈراما : (۵۶) (انگ) مونٹ؛ جبکہ انگریز ڈراما، جس میں گیت ہوں۔

MELODRAMA

ہینم : مونٹ؛ بیگم، خاتون، انگریزی میڈم MADAM کی اردو شکل۔

ہیننا : نکر؛ بکری کا پتہ۔

ہیننت : (۵۷) مونٹ؛ برکت، سعادت۔

ہینہ : (۵۸) نکر؛ دائیں طرف، دائیں بازو کی فوج۔

ہینو : (۵۹) (انگ) نکر؛ یادداشت کا خط، بیجا، حکم نامہ،

رسید، وصول طلب رقم کا کاغذ۔

ہینونڈم : (۶۰) (انگ) نکر؛ (۶۱) یادداشت،

MEMORANDUM

روداد، (۶۲) غیر منظم خط، (۶۳) عرضداشت۔

ہینوہیل : (۶۴) (انگ) نکر؛ یادگار۔

MEMORIAL

ہینون : (۶۵) (۶۶) مبارک، نیک نعت، برکت والا، (۶۷) کامیاب۔

ہینون : (۶۸) نکر؛ بندر، بوزنہ۔

ہین : (۶۹) خود، آپ، اپنی ذات، (۷۰) مونٹ؛ غرور، خود ستائی، سہانا،

ہین : (۷۱) اندر، بیتر، (۷۲) بکری کی آواز۔

ہین : مونٹ؛ (۷۳) موت، پھل، (۷۴) آسمان کا بارہواں برج، شکل موت۔

ہین میکھ : مونٹ؛ نکتہ چینی، حیب۔

ہینا : (۷۵) نکر؛ (۷۶) شیشہ، (۷۷) ایک قسم کا پتھر، (۷۸) خرابی کی

بوتل، صراحی، (۷۹) مرتع کاری، نقش و نگار۔

ہینو : (۸۰) مونٹ؛ مرتع ساز، جزاؤ کا کام کرنے والا۔

ہینو : (۸۱) مونٹ؛ (۸۲) چاندی سونے کے زیور پر مرتع

سازی، (۸۳) گینے کا کام، (۸۴) باریکی۔

ہینو : نکر؛ (۸۵) بادشاہوں کے لیے سجایا جانے والا

بازار، (۸۶) عورتوں کا بازار۔

ہیننا : مونٹ؛ ایک قسم کی خوش الحان چڑیا کا نام۔

ہینار منارہ : (۸۷) چراغ و دل، (۸۸) بھری جہازوں کو روشنی دکھانے

MUNICIPAL COMMISSIONER

MUNICIPALITY

MUNICIPALITY

میونسپل کمیشنر:
 (انگ) میونسپلٹی کا ممبر
 میونسپلٹی:
 شہر کے انتظام کا محکمہ، محکمہ بلدیہ۔
 میونسپلٹی: (ف) مذکر، پبل، شہر۔
 — جات: مذکر: میونسپلٹی، جم میونسپلٹی۔
 — فروش: (ف) مذکر: پبل بیچنے والا۔
 میونسپلٹی: دیکھو مہاں۔

MUSICAL INSTRUMENT

میوزیکل انسٹرومنٹ:
 (انگ) مذکر: ساز، گانے بجانے کی چیز جیسے آرگن،
 ہارمونیم، طبلہ وغیرہ۔

میوزیم: (انگ) مذکر، عجمتہ مہر۔
 میونسپل بورڈ: (انگ) MUNICIPAL BOARD

مذکر: (۱) شہری انتظام کا ادارہ، (۲) شہر کے انتظام سے
 متعلق مجلس شورا، (۳) بلدیہ (۴) مگر پالیٹکا۔

MUNICIPAL CORPORATION

میونسپل کارپوریشن:
 (انگ) مذکر: (۱) شہر کے شہروں کا محکمہ بلدیہ، (۲) شہر کی
 صفائی اور دیگر انتظام سے متعلق نیم سرکاری ادارہ، (۳) مگر مہا
 پالیٹکا، مہا مگر پالیٹکا۔

ن

نؤن، مذکر؛ نؤن، حروف تہجی کا ایک حرف، حساب حمل
راجمہیں اس کے سپاس عدد ہیں

ن - ا

نا؛ مذکر؛ (۱) حرف نعی، نہیں، نہ (۲) تاکید کے لیے، ضرور،
(۳) نعی کی تاکید کے لیے۔

— آرزوہ کار؛ نا تجربہ کار، اناڑی۔

— آشنا؛ (۱) ناواقف، اجناب، اجنبی (۲) بے وفا،
بے مروت، بد اخلاق، تیز مزاج۔

— اتھانی؛ (۱) موٹ، پھوٹ، نفاق، بخیلیگی۔

— اہل؛ نالائق، ناشائستہ، ناموزوں، بے تہذیب، ناقابل۔

— بالغ؛ کم سن، سن بلوغ کو نہ پہنچا ہوا۔

— بکار؛ بد کردار، بد ذات، شریر۔

— بلد؛ اجناب، ناواقف، ناآشنا۔

— بود؛ نیست، معدوم، فانی، ناپید۔

— بیٹا؛ اندھا، کور۔

— پاک؛ (۱) پلید، جس، گندا، میلا (۲) وہ شخص جس پر
تہانا فرض ہو۔

— پمید؛ جو ظاہر نہ ہو، پوشیدہ، چھپا ہوا، غائب، مخفی۔

— پسید؛ (۱) معدوم، فنا، نیست (۲) فضا، نادر، موجود۔

— پیداکنار؛ (۱) ایسا بڑا سمندر یا دریا جس کا کنارہ

نہ دکھائی دے۔

— توواں؛ (۱) کمزور، نا طاقت، بودا، لاغر (۲) ضعیف۔

— جائز؛ ناروا، نادرست۔

— جنس؛ (۱) غیر جنس (۲) دکھائی، غیر مہذب، بے ادب۔

— چار؛ (۱) بے بس، مجبور، محض (۲) مفلس، مایوس،

ناچار، بے کس (۳) مجبوراً۔

— چائی؛ موٹ، بدمزگی، مان بن، بھارت، شکر

رنگی۔

نا چیز؛ بیج، جو کچھ نہ ہو، ناکام، نالائق، نکم، ناقابل۔

— حق؛ بے انصافی سے، حق کے خلاف بے جا نامناسب بے قاعدہ۔

— حق کوش؛ نا حق بات کی کوشش کرنے والا،

— خدا؛ مذکر؛ ملاح، جہاز ران۔

— خلیف؛ (۱) نالائق بیٹا، ناشائستہ، بد چلن، نااہل۔

— خوش؛ (۱) (۲) ناراض (۳) بے زار، لغت

کرنے والا، (۳) سیار، مریخ۔

— دار؛ (۱) (۲) غریب، محتاج، کنگال (۳) گنبد کی بازی

میں کوئی حکم کا پتہ نہ آنا۔

— دان؛ (۱) نامحج، بے وقوف، اجناب، جاہل (۲) چھوٹی

عمر کا، کم سن بچہ۔

— دان بات کرے؛ دان اقیاس کرے؛ (مقولہ) عقلمند

ہر ایک بات کو پرکھ لیتا ہے۔

— دان دوست سے؛ دان دشمن بھلا؛ (مقولہ) عقلمند

دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بے وقوف دوست پہنچاتا ہے۔

— دان کی دوستی جی کاریاں؛ (مقولہ) بے وقوف کی

دوستی میں سراسر خطر ہے۔

— دانستگی؛ موٹ، نادانی، ناواقفیت، جہالت،

بے خبری، لاعلمی۔

— دیدہ؛ بے دیکھے جسے دیکھنا نہ ہو۔

— راض؛ ناخوش، رنجیدہ۔

— رسا؛ (۱) نہ پہنچنے والا (۲) دکھائی، نامراد بے اثر۔

— رسائی؛ موٹ، پہنچ نہ ہونا، ہار پائی نہ ہونا۔

— رسیدہ؛ (۱) پھل جو خام ہو، (۲) نابالغ۔

— روا؛ (۱) ناجائز، بے جا، خلاف مذہب، دین کے برخلاف

منوع، غیر مشروع، نامناسب (۲) غیر مروج، وہ سک

جس کا چلن نہ ہو، (۳) ناپسند، نامقبول بات۔

— ساز؛ (۱) مخالفت، ناموافق (۲) پیار، ملیں۔

— سپاس؛ ناشکرا، کافر نعمت۔

— سزا / سزاوار؛ (۱) تازیبا، نامناسب بے جا، کمین

سفلہ، (۳) نامبارک، منحوس۔

نامشخص: (د) بے تحقیق، غیر معین۔

— مُلاکَم: (د) کڑا، سخت، نامناسب، نازیبا۔

— مہربان: (د) بے رحم، بے مہربانی، بے مروت (د) بیبری، دشمن، بدخواہ۔

— واجب: بے جا، نامناسب، نازیبا۔

— وقت: (د) بے وقت، بے جگہ (د) بے محل، بے موقع۔

— مہنچارہ: بدچلن، بدذات، کمینہ، نالائق۔

— یاب: کمیاب، نادر، کم میسر ہونے والی چیز۔

— ناب: خالص، صاف، بے آمیزش۔

— دان: مذکر، نجس پانی تکھن کی زمین (د) زنا۔

— نابغہ: (د) غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا مالک، جو ہر قابل، عبقری صلاحیتوں کا مالک (انگ) جینس۔

— نابجھ: (د) موٹ، ناف۔

— ناب: موٹ، پیانہ، آواز، پیانہ۔

— ناہتا: مذکر، (د) رشتہ، قربت، بھائی بندی (د) علاقہ، نسبت، واسطہ۔

— ناتے دار: اقربا، رشتہ دار۔

— ناتن / ناتن / ناتنی: دعو، بیٹی کی لڑکی، نواسی۔

— ناتنی: مذکر، (د) بیٹی کا بیٹا، نواسا۔

— ناتھ: (د) مذکر، (د) مالک، خداوند، آقا، ولی نعمت (د) جوگیوں کا لقب (د) موٹ، سیلوں کے ناک میں ڈالنے والی رسی۔

— ناتھنا: (د) سوراخ کرنا، چھیننا، (د) بیل کے نتھنے میں رسی ڈالنا، قابو کرنا، بس میں کرنا، مطیع کرنا (د) دکھانا، چھاننا، شامل کرنا۔

— ناٹ: KNOT (انگ) موٹ، (د) گانٹھ، گرہ، عقیدہ (د) سمندری راستہ کے فاصلے ناپنے کی اکائی۔

— ناٹا: مذکر، (د) پست قدم، ٹھنگنا، بولنا (د) شہریر۔

— ناٹک: (د) مذکر، سوانگ، نقل، ٹوپ، ڈھانچا، کھیل۔

— ناٹکیا: مذکر، سوانگی، بہرہ، سیا، ایکٹر (انگ)۔

— ناٹج: مذکر، (د) حو، اناج، غلہ، دانہ، ڈھنگا۔

— پانی: ساری گڑھستی

— نا سفتہ: (د) غیر سوراخ کا، ان بندھا، جوہر دیا نہ گیا ہو (د) دکھانا، کنواری عورت۔

— سبجہ: (د) کند ذہن، جہی، احمق، نادان، موکھ، بہت بولنا، سادہ لوح، (د) بچہ، کم سن، کم عمر۔

— شکرگی: موٹ، بے احسان، ٹکھڑا، ناپائسی، حق باسائی، خشکیب: بے صبر، بے قرار۔

— شناس: جو پہچانتا نہ ہو۔

— شنور / ناشنور: وہ جو کسی کے حال کا پیرسان نہ ہو۔

— صنوبر: بے صبر، مضطرب۔

— صواب: بُری بات، نادرست، غلط۔

— قرعہ: عاقبت نااندیش، بد انجام، بداصل۔

— قرمان: (د) کرشن حکم نلنے والا (د) اودھ، ٹک، چوڑی، فہم: نادان، بے عقل۔

— کارہ: (د) بھگنا، جو کام نہ ہو، بیکار چیز (د) اپناج، بست کرد خدا / ناکند، (د) بن، سیاہ، کنوارا۔

— کر دنی: جو بات کرنے کے لائق نہ ہو۔

— کس: کمینہ، نالائق، فرومایہ، سفلی، پاچی۔

— گاہ: اچانک، یکایک۔

— گزیر: ضرور، لازم، واجب۔

— گفتنی: (د) کہنے کے ناقابل بات، شرناک۔

— گفتہ پیر: (د) اس کا نہ کہنا ہی بہتر ہے (د) دکھانا، شرناک۔

— گوار: مکروہ، بُرا، بد مزہ، بے ذائقہ۔

— گہ / گاہ / گہاں: (د) دفعتاً، اچانک، یکایک (د) بے وقت، بے موقع (د) بے خبر۔

— لائق: (د) ناقابل، سفلی، کمینہ (د) نامناسب، بے جا۔

— محرم: (د) ناآشنا، ناواقف، اجنبی (د) مسلمانوں میں جس سے نکاح درست ہو اس سے عورت کو پرہیز واجب ہے۔

— مراد: (د) کام، محروم بے نصیب، بے مراد (د) کم بخت، نصیب مراد، (د) بھڑا، زنا، زخم (د) ڈرپوک، بزدل، بزدل، بے حوصلہ (د) سست، وہ شخص جو عورت پر قادر نہ ہو۔

— مساعہ: ناسازگار، ناموافق۔

ناجی : دغ، نجات پانے والا، گناہ معاف کیا ہوا، بیروز، مغفور۔
 نایح : مذکر، رقص، اچھلنا، کودنا، اہل نوحہ کا باقاعدہ پاتو
 کوزمین پر مارنا۔

رنگ / گانا : مذکر؛ گانا، بجانا، رقص و سرود۔

سچا نا : دکنائیا، حیران و پریشان کرنا، ستانا، قواعد
 کرانا، ابرے پھیرے کرانا۔

نہ جانے آتھن ٹیڑھا : دشل کسی کام میں دشل
 نہ رکھنے کی وجہ سے جیلہ ہارے کوڑوڑا ہونے کی وجہ سے کوئی
 کام نہ ہو سکتا اور دوسرے پر الزام رکھنا۔

ناچنے مکھے تو گھونگٹ کیسا : دشل جس کام کا کرنا منظور
 ہے پھر اس میں لحاظ کرنا عبت ہے جب عیب والا کام
 اختیار کیا تو پھر شرم کیسی۔

ناخن / ناخنوں : مذکر؛ انجلیوں کے سروں کی ہڈی۔
 پر لکھا ہونا / ناخنوں پر لکھا ہونا : دکنائیا
 خوب یاد ہونا۔

تدبیر : داضافت کے ساتھ تدبیر کا ناخن سے استعارہ کرنا۔
 تراش / گسر : مذکر؛ موٹھ؛ ناخن کٹنے کا اوزار۔

سے گوشتت جدا کرنا / گو گوشت سے جدا کرنا
 رشتہ داروں کو جدا کرنا، اپنوں کو چھٹانا۔

سے گوشتت جدا نہیں ہونا : دشل اپنے کسی حال میں
 غیر نہیں ہوتے، بیگانوں کا فساد اور بگاڑ جلد جا رہتا ہے۔

لینا : (۱) ناخن تراشنا (۲) گھوڑے کا ٹھوکہ لینا ٹھوکہ لیکر گریڑنا
 ناخنوں میں ہونا : دعو، دکنائیا، چالاکوں سے واقف ہونا،
 خوب واقف ہونا۔

ناختہ : (د) مذکر، (۱) سار بجانے کا سڑا ہوتا، مضراب،
 (۲) آنکھ کی ایک بیماری کا نام جس میں سفیدی مائل
 گوشت ناخن کے مشابہ آنکھ کے کوسے میں پیدا ہوجاتا ہے
 (۳) سرخ ریشے جو گھوڑے کی آنکھ میں پیدا ہوجاتے ہیں۔

نادر : دغ، مذکر؛ (۱) تھوڑی شے، کیاب، کم (۲) تحفہ، عمدہ، عجیب۔
 کازر : وہ جس سے عجیب و غریب کام سرزد ہوا، وہ جس پر
 عجیب و غریب کام بنا ہوا۔

نادرہ : دغ، موٹھ؛ عجیب، انوکھا، عجوبہ۔

نادر شاہ : (د) مذکر؛ ایک سخت گیر، ظالم بادشاہ کا نام
 جس نے دہلی میں قتل عام کیا تھا۔

نادرسی : موٹھ؛ (۱) نادر شاہ سے منسوب (۲) ایک قسم کی
 صدری (۳) گھنٹہ کا آتا۔

نادر حکم : مذکر؛ نادر شاہ کا حکم، سخت اور جابرانہ حکم۔

نادری : دغ، موٹھ؛ زہر مہرے یا چاندی کے پتھر پر کندہ
 کر کے بچوں کے گلے میں ڈالی جانے والی، ایک دغا کا نام اس
 تختی کا نام جس پر نادری، تحریر ہو۔

نادم : دغ، شرمندہ، خجل، شرمسار، پشیمان۔

نادھنا / نادھنا : (۱) جوتنا، جوڑنا، بیلوں کی گردن پر جوا
 رکھنا (۲) ابتدا کرنا، آغاز کرنا (۳) پابند کرنا، غلام بنانا۔

نار : دغ، موٹھ؛ آگ، آتش۔

نار خلیل : داضافت کے ساتھ موٹھ؛ آتش ابراہیم۔

سعیع : (د) موٹھ؛ دغ کی آگ۔

ناری : دغ، (۱) جن و پری کے واسطے مستعمل ہے (۲) دوزخی۔
 نار / ناری : (۳) موٹھ؛ عورت، جؤر۔

نار این : (د) مذکر؛ (۱) خدائے تعالیٰ، ایشور (۲) دشمن کا لقب۔
 نار جیل : (د) مذکر؛ ناریل، کھوپڑا، گری، دکنائیا، بہت زیادہ کھانے والا۔

ناریل : NORMAL (۱) آنگ، (۲) معمول کے مطابق (۳) باقاعدہ۔
 نار سنج : مذکر؛ رنگترہ، سنگترا، نارنگی۔

نار سنجی : (د) مذکر؛ (۱) زرد مائل بہ سترنی رنگ (۲) نار سنج کے
 رنگ کا۔

نارو / ناروا : (۳) مذکر؛ ایک مرض کا نام جس میں آدمی کے
 جسم سے ناگسا نکلا کرتا ہے، رشتہ۔

ناریل : مذکر؛ (۱) کھوپڑا، گری (۲) ناریل کے خول کا تحفہ۔
 نارٹا : (۳) مذکر؛ ازربند (۴) کچا گنڈے دار، زرد اور

سرخ رنگا ہواسوت۔

نارٹری : (۳) (۱) نبض (۲) بندوق کی نال۔

نار : (د) مذکر؛ (۱) معشوق کی ادا، غمزہ، شجرہ، لاڈ، پیار
 چوچلا (۲) گھنٹہ، غور، سخت (۳) فخر، بڑائی، عزت۔

ناسور: (دع) مذکر؛ ہمیشہ رہنے رہنے اور اچانہ ہونے والا زخم
دیرینہ زخم کانسوراجس میں مواد نکلتا رہے۔

ناش: (دع) مذکر؛ بربادی، تباہی، نقصان۔

ناشپاتی / ناشپاتی: (دع) مؤنث؛ ایک قسم کے پھل کا نام۔
ناشتا / ناشتہ: (دع) مذکر؛ صبح کا تھوڑا سا کھانا۔

ناصح: (دع) نصیحت کرنے والا، اصلاح کار، پندگو، داعظ۔
ناصر: (دع) مددگار، حامی، معاون۔

ناصریہ: (دع) مذکر؛ ماتھا، پیشانی، جبیں۔

سائی / فرسا: (دع) مؤنث؛ جیسے سائی، ماتھا، گڑھنا۔

ناطق: (دع) (د) بولنے والا، گویا (د) دکنایتا) دوسرے کو
ماجز اور خاموش کر دینے والا (د) مستحکم، قطعی، مضبوط۔

ناطقہ: (دع) مذکر؛ گویائی کی طاقت، توت ناطقہ، بات چیت
کا ملکہ۔

ناظرہ: (دع) (د) دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، (د) تخت
ملازموں کا نگران (د) میر سامان۔

ناظرہ: (دع) دیکھنے کی قوت، (د) دیکھ کر قرآن پڑھنا۔
ناظرین: (دع) مذکر؛ پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا،
قارئین، دیکھنے والے، حاضرین۔

ناظم: (دع) مذکر؛ (د) انتظام کرنے والا، منتظم، کارکن (د)
شاعر، شعر کہنے والا، نظم کہنے والا (د) سکرٹری۔

ناغہ: (دع) غیر حاضری، تعطیل، خالی، بے کار۔

ناف: (دع) مؤنث؛ (د) ٹونڈی (د) حجاز) وسط، درمیان،
بیچوں بیچ، مرکز، ہر چیز کا وسط۔

ٹلٹنا: (دع) ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔

نافذہ: (دع) جاری ہونے والا، نفوذ کرنے والا، جاری، موثر۔
نافع: (دع) مذکر؛ (د) نفع دینے والا، مفید، فائدہ مند

سود مند (د) خدا کا صفاتی نام۔

نافلہ: (دع) مذکر؛ وہ عبادت جو فرض یا واجب نہ ہو، نفل۔

نافہ: (دع) مذکر؛ مشک کی تھیلی، مشک نافہ را ہوئے

نا-تار کی ناف کا خون، کستوری کی تھیلی۔

ناقذہ: (دع) (د) پرکھنے والا (د) تنقید کرنے والا۔

نازاں: ناز کرنے والا، فخر کرنے والا، مغر۔

ناز بردار: عاشق، ناز اٹھانے والا۔

بؤہ مؤنث؛ ایک قسم کا خوشبودار پھول، چنبیلی۔

ناز نہیں: (دع) (د) پسندیدہ، نازک (د) مذکر دکنایتا)
معشوق۔

ناز و نیاز: (دع) مذکر؛ عاشق و معشوق کی حرکات و سکنات
ناز سن: (دع) مؤنث؛ فخر، بے پروائی، ناز، بے دماغی۔

نازک: (دع) (د) لطیف، نفیس (د) ہلکا پھلکا، ڈبلا
تپلا (د) کمزور، بودا (د) باریک، دقیق، دقت طلب

(د) تیز، تند، تنک (د) خطرناک، پیچیدہ۔

ادا / اندام / کمر / مزاج: محبوب کی تعریفیں۔

بات: (دع) نازک معاملہ (د) لطیف بات۔

بدن: (دع) (د) پتلے بدن کا (د) دکنایتا) معشوق (د) ہے
مذکر؛ ایک قسم کی بیری جس کا بیر نہایت شیریں چھلکا ہوتا ہے

جگرہ مؤنث؛ (د) وہ مقام جہاں جان کا اندیشہ ہو (د) وہ
عضو جس پر چوٹ لگنے سے آدمی مر جائے۔

خیال: (دع) مذکر؛ عمدہ خیالات والا، عالی خیال۔

ومناخ: (دع) (د) تیز مزاج، چڑچڑا، تنگ مزاج (د)
معشوق۔

نازکی: مؤنث؛ (د) نراکت، نرمی، ملائمت (د) تنگ مزاج
(د) لطافت، نفاست (د) خود پسندی، خود بینی۔

نازل: (دع) آنے والا، نیچے آنے والا، وارد ہونے والا، گزرنے والا۔
نازری: (دع) (د) نیشل سوشلسٹ پارٹی کا رکن۔

ناس: (دع) مؤنث؛ ہلاک، نسوار۔

ناس: (دع) مذکر؛ تباہی، بربادی، خراب، غارت، نابود، معدوم۔
ناستک: (دع) بے دین، لحد۔

نارسخ: (دع) مذکر؛ منسوخ کرنے والا، رد کرنے والا۔

ناسک: (دع) عبادت کرنے والا، خدا کی راہ میں قربانی
کرنے والا۔

ناسوت: (دع) مذکر؛ (د) دنیا (د) حجاز) شریعت ظاہری
عبادت۔

- ناقص: (دع)؛ (۱) ادھورا، غیر مکمل، ناتمام، کمی والا (۲) میٹھا
 میسی (۳) کھوٹا، غیر خالص (۴) خواب نکمٹا، ناکارہ۔
 الخلققت: (دناقص)۔ حلققت: سیدائشی ناقص عضو والا۔
 العقل: (دناقص)۔ عقل: کم عقل، کست مذہب،
 تواری عقل میں فتور والا۔
 ناقیل: (دع)؛ (۱) نقل کرنے والا، بیان کرنے والا، (۲)
 راوی، روایت کرنے والا۔
 ناقوس: (دع) مذکر؛ اونٹنی، سانڈنی۔
 ناقہ: (دع) مذکر؛ اونٹنی، سانڈنی۔
 سوار: مذکر؛ (۱) سانڈنی سوار (۲) بھانڈی قاصد۔
 ناک: (دھ) موٹ؛ (۱) بینی، ایک عضو کا نام (۲) دکناٹھا
 نمود کی چیز، متاثر انسان (۳) غیرت، شرم، لحاظ، لاج،
 (۴) عزت، آبرو، بزرگی، عظمت (۵) تریب، آرائش، زینت، باعث فخر
 اونچی ہونا؛ عزت بڑھنا، سُرخ رونی ہونا۔
 بھوں چڑھنا، سُکیر طنا: دکناٹھا، آزر دگی اور بتراری
 ظاہر کرنا، بد مزہ ہونا، ناگوار یا ناپسندیدہ چیز سے تریب رُو ہونا۔
 بدبڑھنا، ناک میں سوراخ کرنا، ناک چھیدنا۔
 پر غصہ ہونا، جلد غصہ ہونا، فدا اندازی بات پر لگھڑانا،
 بہت جلد خفا ہونا۔
 پیر مکتھی نہ بیٹھنے دینا: دکناٹھا کسی کے مولیٰ احسان
 کا بھی شرمندہ نہ ہونا۔
 پیر کی مکتھی تک نہ اُٹرانا: دکناٹھا کمال مچھل ہونا۔
 چوٹی کاٹنا، دکناٹھا بے آبرو کرنا، ذلیل و رسوا کرنا۔
 چھٹکنا، رستگنا: ناک کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کی طوالت
 صاف کرنا۔
 رکھ لینا: عزت رکھ لینا، ساکھ رکھ لینا۔
 رگر ٹنا: (۱) زمین پر ناک بگھنا (۲) دکناٹھا بے حد
 احماع و زاری، منت و سہمت کرنا۔
 سٹرا: مذکر؛ (۱) بڑی ناک (۲) ناک کی پسلی (۳)
 ناک کے ایک ہلکے مرض کا نام۔
 سکوڑنا: ناک پر شکن ڈالنا، غرور یا تنفر اکراہت سے۔
- ناک کا بال: دکناٹھا کسی کا نہایت مقرب شخص، کسی کے مزاج
 میں بہت دخل رکھنے والا۔
 کا بانسا، مذکر؛ دونوں ٹخنوں کے بیچ کی دیوار۔
 کا بانسا پھر جانا: (۱) دونوں ٹخنوں کے بیچ کی دیوار کا
 ٹیڑھا ہو جانا (۲) مرنے کی علامت ظاہر ہونا۔
 کاتینکا، ناک چھیدنے کے بعد ناک کا سوراخ بند نہ ہونے
 کی عرض سے ڈالا جانے والا تنکا۔
 کان کاٹنا، دکناٹھا، بے حد ذلیل کرنا۔
 کٹو انا، بنام ہونا، ذلیل ہونا۔
 کی سیدھ، ٹھیک سامنے، سیدھے خط میں۔
 میں بولنا، گنگنا، غنغنا نا۔
 میں دم آنا، تنگ ہونا۔
 نہ درسی جانا: کسی جگہ پر بدبو کے مارے ناک نہ دے سکتا،
 کسی چیز کو بدبو کے سبب سونگھ نہ سکتا۔
 والا، مذکر؛ غیرت والا، عزت والا، باعزت۔
 ناکوں ناک کھانا، سیر ہو کر کھانا۔
 ناکا، دھ، مذکر؛ (۱) چنگی کی چوکی، راہداری یا اور طرح کے محمول لینے
 کی جگہ (۲) گل کوچے کا دروازہ، شہر کا دروازہ (۳) راستہ کی حد،
 ٹھہرا (۴) سولی کا سوراخ (۵) ایک دریا کی جائید کا نام۔
 بندی، موٹ؛ حد بندی، راستہ روکنا، داخلے کی جگہ کسی
 کو اس طرح بٹھا دینا کہ وہ آنے جانے والوں کو روک سکے۔
 ناکج: (دع) نکاح کرنے والا شخص۔
 ناگ: (دھ) مذکر؛ ایک قسم کا زہریلا سیاہ رنگ کا سانپ۔
 ناچمی: (دھ) موٹ؛ ہندوؤں کا ایک تہوار، اُس روز
 سانپ کو بوجتے اور دودھ پلاتے ہیں۔
 پھنی، ہونٹ، ہانکے پین سے مشابہت بڑھانے والے کسی ایک قسم۔
 ناگا: (دھ) مذکر؛ (۱) جوگی، رنگے رہنے والے سنیاسی فقیر (۲) آسا
 کے جنوبی پہاڑوں میں رہنے والے ایک قوم۔
 ناگر، مذکر؛ (۱) بڑی آبادی، قصبہ داب بجائے ناگر کے منگر
 بولتے ہیں (۲) گجراتی برہمنوں کی ایک ذات۔
 پان، مذکر؛ عمدہ اور بڑا پان۔

ناگر موتھا: مذکر؛ ایک قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ۔

ناگرک: (دھ) مذکر؛ شہری۔

ناگرکتا: (دھ) موٹھ؛ شہرت۔

ناگری: (دس) موٹھ؛ (۱) سنسکرت کے حروف تہجی (۲)۔
— ہندی بھاشا، ہندی رسم خط۔

ناگن/ناگنی: موٹھ؛ (۱) ناگ کی مادہ، سانپن (۲) گردن کے بالوں کی بونٹری (۳) (دکنائیا) زلف سیاہ۔

— کاسونکھ جانا: دکنائیا، ناگن کا کٹنا۔

نال: (دھ) موٹھ؛ (۱) وہ سوٹ کی مانند ریشہ جو قلم تراشتے وقت نکلتا ہے (۲) نزل، نزلے، جو اندر سے خالی ہو۔

نال: (دھ) مذکر؛ موٹھ؛ (۱) بندوق یا پٹینوکی نالی (۲) بچے کی نالت سے شکتی لمبی جوت دار آنت۔

— کٹائی: موٹھ؛ نال کاٹنے کی اجرت، بچہ جنلے اور نال کاٹنے کی بابت دیا جانے والا دانی کا حق۔

— گرٹنا: (۱) بچے کی نال کا نال سے کاٹ کر زمین میں دیلا جانا (۲) دعو ہونا، تعلق ہونا، کسی جگہ استحقاق ہونا،

خصوصیت ہونا (۳) زاد بوم ہونا، مسکن ہونا۔

ناللا: مذکر؛ پانی نکلنے کا راستہ، پھوٹی ندی، یا برساتی نہر۔

ناللا: (۱) روتا ہوا (۲) دادیلا کرنے والا، فریادی، شاک کی تنگ، عاجز۔

نالیش: موٹھ؛ (۱) عدالت دیوانی میں کیا جانے والا حق طلبی کا دعوا (۲) فریاد (۳) کسی کے جبر و ظلم کی شکایت۔

نالہ: (دھ) مذکر؛ (۱) آہ و بکا، واویلا، فریاد و زاری۔ آہ، لہے (۲) شور، فغاں، فعل غبارا، اودھم۔

— سرد: (دھ) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ دکنائیا، آہ سرد۔

— سرد کرنا: آہ بھرنا، آہ کھینچنا۔

— شب گیر: (دھ) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ صبح ہونے سے پہلے کھیلے پہ پالہ۔

— گرم: (دھ) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ نہایت جوش کے ساتھ کھلا ہوا نالہ۔

— مرغ سحر: (دھ) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ صبح کے وقت بولنا۔

نالی: موٹھ؛ (۱) موری، بدرود پانی نکلنے کی راہ (۲) مرد کے

سینے کے بیج کا گہرا حصہ۔

نام: (دھ) مذکر؛ (۱) اسم، ذات (۲) لقب، کنیت، خطاب،

(۳) شہرت، ناموری، شہرہ (۴) عزت، آبرو، ساکھ

(۵) یاد، یادگار (۶) اولاد، نسل، خاندان (۷) تمہت،

الزام (۸) برائے نام، صرف کہنے کو (۹) ذمہ۔

— آسمان پر ہونا: دکنائیا، بلند نامی۔

— آور: (دھ) مشہور، معروف۔

— اٹھنا/اٹھ جانا: (۱) مہر کا نقش اچھی طرح کاغذ پر

یا کسی اور چیز پر آجانا (۲) نام نہ رہنا، نام مٹنا۔

— اچھا لٹا: شہرت حاصل کرنا، رسوائی کرنا،

بڑا اور روشن تھوڑے: (دھ) جس کا نام کسی کام یا

صفت میں بہت شہور ہو اور جانچ یا تجربہ کے بعد فقط ثابت ہو

— رکنا: نام کی شہرت سے چیز کتنا، نام کی قدر ہونا۔

— بنام: ہر ایک کو ہر ایک کے نام کے ساتھ۔

— پر حرف آنا: نام بد نام ہونا۔

— چپا کرنا/چینا: (۱) نام کی تسخیر کرنا، نام مٹنا، (۲)

برابر نام لینا، کسی کو بہت یاد کرنا۔

— جوا: دکنائیا، بہادر، شجاع، نام کا خواہاں، ناموری

چاہنے والا۔

— جھنڈے پر چڑھانا: بد نام کرنا

— خدا: (دھ) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ (۱) برکت کے لیے نظریہ

کے آسیب سے محفوظ رکھنے کے لیے اور حسین و آفرین کا

کلمہ (۲) کیا بات ہے کیا کہتے ہیں (۳) چشم بددعا، ماشاء اللہ۔

— وار: (دھ) مشہور، نامی۔

— دھرتا: (۱) نام تجویز کرنا، نام مقرر کرنا (۲) عیب لگانا،

براکتیا، نکتہ چینی کرنا (۳) الزام رکھنا (۴) نام لینا، معین

اور مخصوص کرنا، کسی کو یا کسی چیز کو۔

— ڈبونا: خود بتام ہونا، رسوا ہونا، اوروں کو بد نام کرنا

— رسوا کرنا۔

— رکھنا: (۱) نام دکرنا (۲) بچے کا نام معین کرنا (۳) عیب

گیری کرنا، برابھلا کرنا، قطعہ دینا (۴) بد نام کرنا، الزام لگانا۔

نامہ اعمال / عمل : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ وہ کا جذبہ جس میں فرشتے ہر ایک کے اعمال لکھتے ہیں (۲) دکناٹیا، اعمال نامہ۔
 برسرِ رَسَا؛ (دفعہ) مذکر؛ قاصد۔ ہرکارہ۔
 شوق؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ جہت آمیز خط۔
 نوکار؛ مذکر؛ (۱) خبر نویس، پریچہ نویس (۲) کسی اخبار کا مضمون نگار۔

نام و پیام؛ مذکر؛ خط و کتابت، سلام و پیام۔
 نامیہ؛ (رع) مونث؛ ہنوک قوت، بڑھانے والی قوت۔
 نان؛ (دفعہ) مونث؛ روٹی، بڑی اور موٹی تنور کی روٹی۔
 بانجی؛ مذکر؛ روٹی ٹاسن بیچنے والا، روٹی پکانے کا پیشہ کرنے والا۔

پاؤ؛ مذکر؛ ایک قسم کی موٹی خمیری روٹی۔
 جَوْنِس؛ (اضافت کے ساتھ) مونث؛ روکھی سوکھی روٹی عزیزانہ کھانا۔ جھوکی روٹی، دال دلیا۔
 خشک؛ (اضافت کے ساتھ) مونث؛ روکھی سوکھی روٹی۔
 خطائی؛ (دفعہ) مونث؛ ایک قسم کا بیٹھا بسکٹ۔ ایک قسم کی شکر میدے اور گھی سے بنائی ہوئی خستہ مٹھائی۔
 خورشید؛ (اضافت کے ساتھ) مونث؛ قرص خورشید کا نان سے استعارہ۔

گَزِیٹِیڈ؛ NON-GAZETTED (انگ) مذکر؛ نیچے دیے کے افسر۔ جن کا گزٹ میں نام نہ آتا ہو۔
 نعمت؛ (اضافت کے ساتھ) دکناٹیا بڑی لذیذ نعمت۔
 نفقہ؛ مذکر؛ روٹی، کپڑا، بال بچوں کا خرچہ سبھی کا خرچہ۔
 ونسک؛ مذکر؛ دکناٹیا معمولی غذا جس میں کوئی تکلف نہ ہو۔
 وِجِیٹِیْرِن؛ NON-VEGETARIAN (انگ) مذکر؛ گوشت خور جس کو گوشت چھلی کھانے سے پرہیز نہ ہو۔

نانا؛ مذکر؛ ماں کا باپ۔
 دادا؛ (۱) آباد اجداد، خاندان کے بزرگ (۲) (مجاازاً) گرو، استاد۔
 نائفہ؛ (دفعہ) مونث؛ ہنسی کا بڑا ہر تین تین میں گائے جھینسوں کو چارہ کھلاتے ہیں۔

(۵) دو کاندروں کی اصطلاح، مول کہنا قیمت لگانا۔
 نام روشن کرنا؛ (۱) دکناٹیا، عالم میں خود نیک نام ہونا، کسی کو نیک نام کرنا (۲) (دطنزاً) رسوا کرنا، بدنام کرنا۔
 رَہ جانا / رہنا؛ نام باقی رہ جانا، نام بستا رہنا، یادگار رہ جانا۔

زوکرنا؛ (۱) کسی کے نام کرنا، معنون کرنا، (۲) نام رکھنا، موسوم کرنا، کسی نام سے مشہور کرنا (۳) منسوب کرنا (۴) مقرر کرنا (۵) نسبت کر دینا۔
 سے کام پکڑنا؛ (دکنٹیا) استادی یا کمال کے قائل ہونا۔

لگانا؛ الزام دھرنا، قصور ڈالنا، تہمت دھرنا۔
 لینے والا / لیوا؛ (۱) دکناٹیا، یاد کرنے والا، دھوا کرنے والا، فخر کرنے والا (۲) یادگار۔
 لیوا سنا نہ پانی دیوا؛ (۱) سب مر گئے کوئی باقی نہ رہا (۲) دکناٹیا) نیست و نابود ہونا۔

مکانا؛ (۱) شہرت حاصل کرنا (۲) دکناٹیا) بدنامی (۳) کسی مقدس کتاب سے بچے کا نام تجویز کرنا (۴) کسی عمل کے ذریعے سے جوہر کا نام معلوم کرنا۔
 نمود / نام و نمود؛ مونث؛ ظاہری ٹھٹھا، عزت و نمائش، ٹیپ ٹاپ۔

سناو؛ موسوم، نامزد۔
 ونشان؛ مذکر؛ یادگار، آثار۔
 نامی؛ (دفعہ) (۱) مشہور و معروف نامور (۲) (رع) بڑھنے والا، نمود کرنے والا۔
 گرامی؛ مشہور و معروف۔

ناموس؛ مذکر؛ (۱) جبریل کا لقب (۲) حرم، اہل خانہ (۳) مونث آبرو، لاج، شرم، راز، پوشیدہ۔
 اکبر؛ (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) قاعدہ و دستور بزرگ شریعت (۲) حضرت جبریل کا لقب۔
 ناموسی؛ مونث؛ (اردو) بے عزتی، بدنامی، رسوائی، شرم، محلا۔
 نامہ؛ (دفعہ) مذکر؛ خط، چٹھی۔

نائندا: (دھ) مندر؛ گکلا۔

نائنگ: مندر؛ ایک مشہور خدا پرست درویش کا نام جو سکوں کے فرقے کے بانی تھے۔

پنتھی؛ مندر؛ سکھ، نائنگ پیرو۔

شائبی؛ مندر؛ (۱) فقیروں کا ایک گروہ، (۲) سکوں کے وقت کا ایک سکتہ۔

نائنگا: مندر؛ برہمنہ زندگی بسر کرنے والی ایک قوم (کناٹیا) برہمنہ زندگی بسر کرنے والا۔

نائنگھنا؛ پھاندنا، راہ گزریں حاصل کسی چیز پر سے گذرنا۔
نائی: موٹھ؛ ماں کی ماں۔

یاد آجانا؛ دکنائیا، محنت کے کام سے محنت پریشان ہو جانا
ناوک: (د) مندر؛ نیر، خدنگ۔

انداز / زن / فگن: نیر چلانے والا۔

ناول: (د) ایک تفصیلی کہانی۔

ناولسٹ: (د) ناول نگار، ناول لکھنے والا۔

ناولن: موٹھ؛ نائی کی جوڑو، نائین۔

ناھیال / تھیال: مندر؛ موٹھ؛ نانا کا گھر؛ نانا کا گھرانا۔

ناہار: (د) دیکھو نہار۔

ناہید: (د) موٹھ؛ زہرہ ستارہ، تیسرے آسمان پر چکنے والا ستارہ۔

نائب: (د) مندر؛ مددگار، ماسحت، قائم منقل، مختار؛
وکیل، سفیر

نائم: (د) سونے والا، سوتا ہوا۔

ناؤ: (د) موٹھ؛ کشتی، ڈونگی۔

خشکی میں نہیں چلتی؛ دکنائیا، داد درش کے بغیر کام نہیں چلتا، دولت مند کو سخاوت کے بغیر ناموری حاصل نہیں ہوتی۔

کنارے لگانا؛ دان، ناؤ، ساحل پر لگانا (د) مشکل آسان کرنا۔

منجد ہار میں پڑنا؛ دکنائیا، محلے کا بیچ دار اور مشکل ہو جانا۔

نوش: کھانا پینا، مجلس، پیش و طرب جانا، نغمہ و شراب کی محفل، رنگ ریاں۔

نائی: مندر؛ جام، مٹو تراش۔

نائے؛ (د) موٹھ؛ انگری، گلا، حلق۔

نائٹ اسکول: NIGHT SCHOOL (انگ) مندر؛ شبینہ

(انگلینڈ مدرسہ)، رات کا مدرسہ۔

کلب: CLUB (انگ) مندر؛ وہ کلب جہاں
ممبروں کے لیے رات میں کھانے اور تفریح وغیرہ کا انتظام

ہوتا ہے۔

نائیٹر موٹھن: NITROGEN (انگ) موٹھ؛ ایک گیس کا نام۔

نائیک؛ مندر؛ (۱) سوار (۲) قافلہ سالار (۳) وہ شخص جو

فن موسیقی میں استاد ہو۔

نائیک: (د) مندر؛ کسی ڈرامے یا قہصے کا ہیرو۔

نائیکا؛ (د) موٹھ؛ کسی ڈرامے یا قہصے کی ہیروئن۔

نائیکا؛ (د) موٹھ؛ طوائفوں کے گھر کی چودھرائں، کئی

نوجویوں کی مالک۔

ن - ب

نِب: NIB (انگ) موٹھ؛ ہولڈر یا فونٹین پن کی
لوہے کی ٹوک۔

نِبات: (د) موٹھ؛ (۱) بوٹی، گھاس، روئیدگی (۲)
(د) قند۔

نِباتات: (د) مندر؛ موٹھ؛ جمع نبات کی، روئیدگیاں۔

نِباتی؛ (د) گھاس پات کا، گھاس پات، ترکاریاں، جڑی

بوٹی کا، (د) مندر؛ ایک قسم کا رنگ۔

نِباض: (د) (۱) نبض شناسی میں مہارت رکھنے والا، (۲) حکیم

طیب (۳) ہوشیار، دانا۔

نِباہ: مندر؛ (د) کسی کام کو اس کی حد تک پہنچانا (۲) انجام

گزارا، وفاداری۔

نِبانان / نِشانان؛ فیصلہ کرنا، سبگتانا۔

نِبانان / نِشٹ جانا؛ (د) بے باق ہونا، پورا ہونا، ختم ہونا،

جھگڑاٹے ہونا، (د) فیصلہ ہو جانا، بحران باقی نہ رہنا۔

نِبرُد: (د) موٹھ؛ لڑائی، جنگ، زرم۔

پینا : (دھ) ناپاجانا، پینائش ہونا۔

ن-ت

نٹ : (دھ) (۱) ہمیشہ، سدا، ہتروک،

— نیا، مذکر؛ تازہ بہ تازہ، وہ بات جو ہمیشہ نئی ہو، انکھا
تجیب و غریب۔

نتیج : (دھ) مذکر؛ جمع نتیجہ کی۔

نتیجہ : (دھ) مذکر؛ (۱) حاصل، حاصل (۲) غرض، مطلب،
(۳) انجام، اخیر، خاتمہ، انتہا (۴) پھل، ثمرہ (۵) ایک
اصطلاح منطق۔

نتھہ : (دھ) موٹھ؛ (۱) ناک میں پیننے کے ایک زیور کا نام،
(۲) دکنایا، سہاگ کی علامت۔

نتھاروا : (۱) اونٹ، یا بیل جس کے ناک میں رستی پڑی ہو۔
(۲) دوسرے کے قابو میں رہنے والا شخص۔

نتھارنا : پانی کو صاف کرنا، رقیق چیز کا نیل دوز کرنا۔

نتھنا : رھ، مذکر؛ ناک کا سوراخ۔

نتھنے پھلانا / حرٹھانا : دکنایا، لال پہلا ہونا، تیوری چڑھانا
ناراض ہونا۔

نتھنی : (دھ) موٹھ؛ (۱) چوٹی، نتھ، (۲) تلوار کے قبضے کی
کڑی (۳) بیل کی ناک کی رستی، ناک میں ڈالنے کا زیور۔

— اتارنا، دکنایا، دھونکوں کی اصطلاح، ازالہ بجر
کرنا، کسی دوشینرہ کا کنوارا بن دوز کرنا۔

— اترنا : (۱) عورت کا بیوہ ہوجانا (۲) کسیوں کی اصطلاح
دکنایا، کسی پیشہ ورانہ کی کانوارا بن دوز ہونا۔

نتھی : (دھ) موٹھ؛ (۱) کاغذ ٹانگنے کی ڈور (۲) کاغذ کو اور
کاغذوں کے ساتھ شامل کر دینا (۳) شامل مثل۔

ن-ٹ

نٹ : مذکر؛ (۱) بازیگر، قلاباز، شہدہ باز، ڈھول بجا کر
باتس اور تپ پڑھ کر تماشا دکھانے والے (۲) ایک قوم کا نام

(۳) دکنایا، دغا باز۔

نبرو آزما : (دھ) جنگی آدمی، جنگ آزمودہ، دلاور، بہادر۔
نبرنا : (دھ) خرچ ہوجانا، بنٹ جانا، باقی نہ رہنا، انجام کو
پہنچ جانا۔

نبض : (دھ) موٹھ؛ کلائی کی وہ رگ جو حرکت کرتی رہتی ہے
جس سے انسان کی صحت اور مرض کا حال معلوم ہوتا ہے۔

— ابھرنا : نبض ڈوب کر پھر جلتی ہوئی محسوس ہونا۔

— ڈوبنا : نبض کی رفتار گم ہونا۔

— ساقط ہونا : نبض کا حرکت نہ کرنا، نبض بند ہوجانا۔

نبضیں چھوٹنا / چھٹنا : (۱) دکنایا، نبضوں کی حرکت ساقط
ہوجانا، نبضوں میں حرکت نہ رہنا (۲) گھبراجانا۔

رنیل : (۱) کزور، نا طاقت (۲) ناقص، خراب، (۳)
بے یار، بے کس، بے مددگار۔

نبوٹ : موٹھ؛ پیغمبری، رسالت، احکام الہی کا پہنچانا۔

نبول : موٹھ؛ نیم کا پھل۔ نیمکولی۔

نبوی : (دھ) منسوب نبی، نبی سے نسبت رکھنے والا۔

نبی : خبر پہنچانے والا، پیغمبر، خبر رساں، رسول۔

نبید / نبید : (دھ) موٹھ؛ جو یا کھجور کی شراب، کھجور یا
کشمش ڈال کر میٹھا کیا ہوا عرق۔

نبیرہ : (دھ) مذکر؛ (۱) پوتا، بیٹے کا بیٹا (۲) نواسا، بیٹی کا بیٹا۔
نبیرنا : (دھ) (دہلی) تمام کرنا، پورا کرنا، بسر کرنا، گزارنا،
ٹھکانا، خالی کرنا۔

نبیسہ : (دھ) مذکر؛ پڑنا، پڑ پڑنا۔

بجھ منڈل : (دھ) مذکر؛ نظام شمسی۔

رنہانا : (دھ) بنا ہونا، باہم بسر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا۔
رنہاوا : مذکر؛ گزارنا، باہم بسر کرنا، ثابت قدمی، استقلال۔

ن-پ

نپٹ : (دھ) (۱) محض، بالکل نہا، سراسر، تمام، سراسر
(۲) بہت پوری طرح سے۔

نپٹارا : (دھ) مذکر، فیصلہ۔

نپٹانا : مکمل کرنا، فیصلہ کرنا۔

بچھڑنا: (دھ) دانا، ٹیکنا، قطرہ قطرہ کرنا (۲) دابنے یا بچھینے سے
 عرق نکلنا (دس دکنائیاں) دُبلانا ہونا، لاغر ہونا۔
 بچھلا: مذکر؛ دانا خاموش، چپ چاپ، ساکت (۲) نیچے کا۔
 نہ بیٹھنا: ثمرات کرنا، سکون سے نہ بیٹھنا۔
 بچھشت: (۲) فارغ، بے فکر ہونے پر دانا، مطمئن۔
 بچھڑنا: (دھ) مذکر؛ (۱) رس، افسردہ، افسردہ (۲) دجانا
 لب لباب، سست، عطر، عطر، عطر، عطر، عطر، حاصل۔
 بچھڑنا: (۱) دبا کر عرق یا پانی نکالنا، دانا، سوتلہ (۲) بچھڑ
 لینا، خون پینا، ایندھا اور تکلیف دینا (۳) دکنائیاں
 لاغر کر دینا، خشک کر دینا، (۲) دکنائیاں کچھ باقی
 نہ چھوڑنا، منگس کر دینا، دبا کر ہونے کا لانا۔
 بچھا اور: مذکر؛ نثار، آسارا، کسی کے اوپر سے بطور
 صدقہ اتاری ہوئی نقدی یا جنس۔
 بچھتر: مذکر؛ دانا، (مجازاً) طالع (۲) راس کا حصہ۔

ن - ح - خ

نخ: (دھ) (۱) اونٹ کا زبک کرنا (۲) قربانی کرنا، ذبح کرنا۔
 نخس: (دھ) نخوس، کم بخت۔
 ستارے: نخوس ستارے زحل اور مریخ سے مراد۔
 نخو: (دھ) موٹھ؛ جلوں کا علم، وہ علم جس میں کلمات کو
 جوڑنا، کھولنا اور ان کا باہمی تعلق یعنی لگاؤ معلوم ہو۔
 نخوسست: / نخوسست: (دھ) موٹھ؛ بد نصیبی، کم بختی
 نخوس ہونا۔
 نخیف: (دھ) دُلا پتلا، لاغر، کمزور۔
 نخماس: (دھ) مذکر؛ چار پالیوں کی خرید و فروخت کی جگہ،
 بازار، گھوڑے بیچنے کا بازار۔
 نخمیر: (دھ) مذکر؛ (۱) شکار، صید (۲) مارا ہوا
 شکار، شکار کیا ہوا جانور۔
 نخرا / نخرہ: مذکر؛ (۱) عورتوں اور مشوقوں کے حرکات و
 سکنات (۲) چالاک، مکر، چیلے، بہانے اور
 بناوٹ والی حرکات۔

نٹ کھٹ: شریر، شوخ، فتنہ پرداز،
 نثار: (دھ) (۱) صدقے، قربان، عاشق، تصدق داری
 فریفتہ (۲) بچھا اور
 نثار: (دھ) مذکر؛ اچھی نظر لکھنے والا، معتق؛
 نثر: موٹھ؛ (۱) پر اگندہ، بکھرا ہوا، پھیلا ہوا (۲) وہ
 عبارت جو نظر نہ ہو، سادہ عبارت، مراد لفظی۔
 عاری: (دھ) اصناف کے ساتھ، موٹھ؛ سیدھی سادھی نثر۔
 مرجز: (دھ) اصناف کے ساتھ، موٹھ؛ تالیف والی نثر۔

ن - ح - ج

نخ: ذاتی، خاص، گھر کا، خانگی۔
 نجابت: (دھ) موٹھ؛ شرافت، عالی خاندان۔
 نجابت: (دھ) موٹھ؛ رہائی، چھٹکارا، بریت۔
 نجرار: (دھ) مذکر؛ بڑھی، لکڑی کا کام کرنے والا۔
 نجاست: (دھ) موٹھ؛ گندگی، ناپاکی، مٹلا۔
 نجیبا: (دھ) مذکر؛ جمع نجیب کی، شریف لوگ۔
 نجر: (دھ) مذکر؛ اونچی زمین، عرب کا ایک شہور علاقہ۔
 نجس: (دھ) گندہ، ناپاک، پلید۔
 پانی: دکنائیاں، شراب۔
 نعلین: (دھ) (نعلین - عین) (دھ) وہ چیز جس کا ہر جزو
 نجس ہو جس کا کھانا، پینا، چھونا گانا جائز ہو۔
 نجف: (دھ) مذکر؛ عرب کا ایک مشہور شہر جہاں حضرت علی کا مزار
 ہے۔
 نجم: (دھ) مذکر؛ ستارہ، ستیارہ، تارا۔
 نجوم: (دھ) مذکر؛ جمع نجوم (۱) ستارے، ستیارے
 (۲) جوتش، ستاروں کا علم۔
 نجومی: جوتشی، ستاروں کا علم جاننے والا۔
 نجیب: (دھ) مذکر؛ بزرگ، شریف، سہلا مانس۔
 الطرفین: (دھ) (نجم) طرفین، (دھ) جس کا نسب ماں
 باپ دونوں کی طرف سے اسی اور صحیح ہو (۲) خاندانی۔
 چچانا: (دھ) دانا، نانہ کرنا، رقص کرنا، گدوانا (۲) دکنائیاں
 ستانا، دق کرنا، ناک میں دم کرنا۔

بحری (۲) گستاخ، بد لحاظ۔
 ہڈی حال، سست، تھکا ماندہ، ناتواں، جسے حرکت۔
 نڈر: (دع) موٹ؛ (۱) مٹت، چڑھا وار (۲) نیاز، فاسق،
 (۳) بڑوں کو دیا جانے والا تحفہ، پیش کش۔
 نڈرو نیاز: موٹ؛ (۱) درودِ فاتحہ، (۲) کسی مذہبی بزرگ
 کے نام پر دی جانے والی جنس یا شیرینی۔
 نڈروینا / گزرا نا: (۱) تحفہ پیش کرنا (۲) دکان یا رشوت
 دینا۔
 نڈرانا: مذکر؛ (۱) بھینٹ، تحفہ، ہدیہ، پیش کش کے طور
 پر دی جانے والی چیز (۲) دکان یا رشوت۔
 نڈیر: (دع) مذکر؛ (۱) ڈرانے والا (۲) رسولِ خدا کا
 ایک صفاتی نام۔

ن - ر - ز - ث

نر: (دع) مذکر؛ مادہ کا مقابل۔
 گاؤ: مذکر؛ بیل، گائے کا نر۔
 میٹھ: مذکر؛ مینڈھا، ڈنبر۔
 نرینہ: مذکر؛ نر۔
 نرا: (دع) مذکر؛ (۱) صرف، محض، اکیلا، تنہا، (۲) خالص
 بے میل (۳) سراسر، بالکل، پورا۔
 نراجیت: موٹ؛ بلافاصلہ نریت؛
 نراس / نراس: (دع) موٹ، مایوسی، ناامیدی۔
 نراسا / نراسا: مذکر؛ مایوس۔
 نرالالا: (دع) مذکر؛ (۱) اڑکھا، سب سے الگ، سب سے
 جدا، (۲) جدا، علاحدہ۔
 نراننا: (دع) نرانی گنا، بارگ اور کھیت کا خورد و گھاس
 اور کاتوں وغیرہ سے پاک کرنا۔
 نرمل: (دع) کمزور، لاعز، ناتواں، کم طاقت۔
 نرنت / نرنتیہ: (دع) مذکر؛ نارج، رقص، ناچ میں
 قدموں کی پھرتی۔
 نرنیک: (دع) مذکر؛ ناچنے والا، رقص۔

نخرے پیٹی: (دع) موٹ؛ نخرے باز و درجور، ٹھٹھا دکھانے
 والی عورت۔
 نختب: (دع) مذکر؛ ترکستان کے ایک شہر کا نام جہاں حکیم
 مفتی نے چاہ نختب سے ایک چاند بنا کر نکالا تھا، چار
 فرسنگ تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔
 نخل: (دع) مذکر؛ درخت۔ کھجور کا درخت۔
 بند: مذکر؛ (۱) باغیان، مالی (۲) موم کے درخت بنانے والا۔
 نخلستان: (دع) مذکر؛ کھجور کے درختوں کا جھنڈ (۲) ریگستان
 میں سرسبز و شاداب درختوں کا قطعہ۔
 نخل طور: (دع) اضافت کے ساتھ وہ درخت جس پر حضرت
 موسیٰ کو انوارِ الہی نظر آئے تھے۔
 نخوت / نخوت: (دع) موٹ؛ گھمنڈ، غرور، خود بینی۔
 نخود: (دع) مذکر؛ چنا۔

ن - د - و - ذ

نیدا: (دع) موٹ؛ آواز، صدا۔
 نڈارو: (دع) کورا، خالی، نہیں، غیر حاضر۔
 نڈاف: (دع) مذکر؛ روٹی ڈھکنے والا، ڈھینا۔
 نڈامت: (دع) موٹ؛ شرمندگی، پشیمانی۔
 نڈارت: (دع) موٹ؛ کم بانی، کمی، عمدگی، اڑکھا پن۔
 نڈماع: (دع) مذکر؛ جمع ندیم کی، مصاحب لوگ، ساتھی
 ہم نشین۔
 نڈوہ: (دع) مذکر؛ مجلس، انجمن، سبھا۔
 نڈی / نڈی: (دع) موٹ؛ چھوٹا دریا۔
 نڈرنا: (دع) نڈی کا پانی کم ہوجانا۔
 نڈرہنا: (دع) نڈی کا پانی اپنی مدد سے بڑھ جانا۔
 نڈیدہ: (دع) (۱) بغیر دیکھا ہوا، (۲) لاپٹی، وہ شخص جس
 نے عمدہ کھانا یا کوئی عمدہ چیز نہ کھائی ہو اور کسی کو
 کھاتے دیکھ کر گھوڑے (۳) بے حد خواہش مند۔
 نڈیم: (دع) ہم نشین، ساتھی، دوست۔
 نڈر: (۱) بے خوف، جو نہ ڈرے، بے باک، بہادر، دلیر

- نرسنگی: (۱) موٹھ؛ ناچنے والی، رقاصہ۔
 نرسنگ: (۲) دفت، منڈکڑ؛ اناج وغیرہ کا بھاؤ، شرح۔
 نکھٹانا: بھاؤ کم کرنا۔
- تیز ہونا/ چڑھنا/ بڑھنا: بھاؤ بڑھ جانا۔
 نامہ: منڈکڑ؛ فہرست نرسنگ یا زار کے نرسنگ کی فہرست۔
 نرسنگ: (۱) دھن، منڈکڑ؛ ٹینٹو، معلقہ۔
 بولنا: مرتے وقت حلق سے آواز نکلنا، گھبراہٹ۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) جو سر کی گوٹ (۲) ایک بازی کا نام
 نرسنگ: منڈکڑ؛ موٹھ؛ سیڑھی۔ نرسنگ۔
 نرسنگ: (۱) بے قصور، بے گناہ۔
 نرسنگ: (۱) بے رحم، سخت دل، ظالم۔
- NURSE: (۱) موٹھ؛ (۲) تیمارداری کرنے
 والی عورت (۲) دودھ پلانے والی عورت۔ آیا۔
 NURSERY: (۱) موٹھ؛ کم عمر بچوں کی بالکل
 ابتدائی درس گاہ (۲) چھوٹے پودوں کی کیاری۔
 نرسنگ: منڈکڑ؛ نرسنگ، ایک قسم کا بیلنے کا سینک، گل تری۔
 NURSING HOME: (۱) تیمارخانہ، زچہ خانہ۔
 نرسنگ: (۱) شیر کے سر والا، دشنو کا چوتھا اونٹار
 (۲) شہزاد آدمی، بہادر آدمی (۳) موٹھ۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ پرسوں کے بعد کان، پرسوں کے قبل کان۔
 نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ (۲) شکار کے گھیرنے کے واسطے
 بنایا جانے والا آدمیوں کا حلقہ (۲) بھیڑ، انبوہ، ہجوم،
 (۳) مشکل وقت، دشواری۔
- نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ (۲) دوزخ۔
 نرسنگ: منڈکڑ؛ نرسنگ، نے، سیٹھا۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) ایک قسم کے پودے اور اس کے
 پھول کا نام (۲) آنکھ سے مشابہ پھول۔
 نرسنگ: (۱) بیلے ہوئے ہڈیوں کو کوفتوں میں رکھ کر بچایا ہوا بلاؤ
 نرسنگ: (۱) کباب/ کوفتہ؛ انڈے پر سپر معافیمہ لپیٹ کر سچایا ہوا
 کباب اور انڈے اندر بھرا کوفتہ۔
 نرسنگ: (۱) ملائم (۲) گدگدانا (۳) پیلپلا (۴) لودھار
- (۵) ڈھیلا (۶) سست، کاہل (۷) مدہم دھیمہ،
 (۸) آسان، سہل۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ ملائمت، نرمی۔
 نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ (۲) ملائم خوراک، جلدی ہضم ہونے والی
 غذا، (۳) دکھانا، عاجز، کمزور۔
 نرسنگ: (۱) دفت، (۲) بھلا، سست، سخت۔
 نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ (۲) بنانے والا (۳) (انگ) پودوں کو سیر، خالق۔
 نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ بناوٹ، تعمیر، تیاری۔
 نرسنگ: (۱) صاف، شفاف، بے گدورت۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) مہربانی (۳) نظر کم۔
 نرسنگ: (۱) نامہربان، سنگ دل۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) کان کی لودھار، ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) ملائمت، نازکی، (۳) دھیمہ،
 (۴) رحم دلی مہربانی (۵) آسانی (۶) پیلپلا۔
 نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ دنیا کی موہ مایا سے نجات، خدا کا قرب۔
 نرسنگ: (۱) بے شکل۔
 نرسنگ: (۱) منڈکڑ؛ روک، بندش، گھبرا۔
 نرسنگ: (۱) تندرست، بے بیروگ کے۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ بکری یا بھیڑ کا رنگا ہوا چمڑا۔
 نرسنگ: (۱) لاغر، دہلا، کمزور، مفلس، تلاش۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ جھگڑا، تکرار، تازا، فساد۔
 نرسنگ: (۱) اضافت کے ساتھ، موٹھ؛ لفظوں پر جھگڑا،
 زبانی بحث و تکرار۔
- نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) نازک ہونا، پاکیزگی، باریکی،
 نازک مزاجی، اظہارِ لطافت، نازکی (۲) خوب، لطف،
 نفاست۔
 نرسنگ: (۱) قریب، پاس، نزدیک۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ (۲) حساب کی اصطلاح، بقیہ، مطالبہ
 خزاہی کے پاس جو تھوڑی رقم رکھی جائے۔
 نرسنگ: (۱) قریب، پاس (۲) رلے میں، سمجھ میں۔
 نرسنگ: (۱) موٹھ؛ جان کنی، جان کھینچنا، دم ٹوٹنا۔

نزلہ: (رع) مذکر؛ نکام، ایک بیاری کا نام، سردی۔
 گرنا: (دا) نزلہ کسی خاص عضو پر حملہ کرنا (۲) (کنایتاً)
 آفت آنا، شامت آنا۔
 نزول: مذکر؛ (دا) آرتنا، فروکش ہونا (۲) قرآن کا نازل
 ہونا (۳) موث؛ سرکاری زمین۔

— آجلاں، (دا) اضافت کے ساتھ مذکر؛ بڑے مرتبے
 والے شخص کا آنا۔

نرہمت: (رع) موث؛ بے عیب ہونا یا کبھی ترقانہ ہونا۔
 — خاطر: (دا) اضافت کے ساتھ موث؛ خوش دلی یا نیکو نظر
 نژاد: (رف) موث؛ اصل، نسب، نسل۔

ن۔ س۔ ش۔ ص

نش: موث؛ رگ۔

— وار: بہت رگوں والا، گیلا۔

— کشا: مذکر؛ خواجہ سرا، چھرا، زرخا، زرخا۔

نساء: (رع) موث؛ عورتیں، بیویاں۔

نسب: (دا) مذکر؛ نسل، اصل، سلسلہ خاندان۔

— نامہ: (رف) مذکر؛ شجرہ خاندان، کرسی نامہ۔

نسبت: (رع) موث؛ (دا) لگاؤ، تعلق، علاقہ، واسطہ،

(۲) مناسبت، مطابقت، مشابہت (۳) ملگنی، ملگنی

کاپیاء، مذکر، بابت۔

نسبتی بھائی: مذکر؛ (دا) بھنوی، (دا) بھائی، (۲)

سالار، جوڑو کا بھائی۔

نشترن: (رف) موث؛ سیوتی، سیوتی کا پھول۔

نشتحلیق: مذکر؛ (دا) اُردو کا نہایت خوب صورت اور

صاف خط (۲) مہذب، متین، نشائستہ۔

نشخ: (رع) مذکر؛ (دا) ترموید، بطلان، منسوخ کرنا،

(۲) ایک مشہور خط (تھری) کا نام۔

نشخ: مذکر؛ نسخہ (یعنی کتاب) کی جمع۔

نشخ: (رع) مذکر؛ (دا) کتاب، جلد، رسالہ (۲) (اصطلاح

طب) بیمار کے لیے دوائیں اور ترکیب استعمال

نسل: (رع) موث؛ آل اولاد، مال بچے قبیلہ، اصل خاندان۔

نسلًا بعد نسل: (رع) پشت بہ پشت۔

نشوار: (رع) موث؛ ناس، ہلاس، شوٹھے کا پسا ہوا تباکو۔

نشواں: (رع) موث؛ ستورات، عورتیں۔

نشوت: (رع) (۱) صاف تھرا ہوا، (۲) پتلی بے میل چیز،

خالص (۳) بغیر بولی کا پتلا شوربہ۔

نشہارے: بغیر کسی سہارے کے، بے پار و مددگار۔

نشیا منسیا: (رف) نش۔ یم۔ من۔ سی۔ یا،: فراموش، بالکل

بھولا ہوا، از یاد رفتہ۔

نسیان: (رع) مذکر؛ بھول چوک، بھول جانا۔

نسیم: (رع) موث؛ (دا) ٹھنڈی ہوا، آہستہ چلنے والی

خوشبودار ہوا (۲) مطلق ہوا۔

— سحر سحری: (دا) اضافت کے ساتھ موث؛ باد صبا، صبح کی ہوا۔

نشائرتقی: (۲) موث؛ رات۔

نشائت ثانیہ: (رع) مذکر؛

(۱) دوسرا پیدا ہونا، دوسری زندگی (۲) پہلا دوشتم ہو کر نیا دور

پیدا ہونا (۳) قدیم کا خاتمے کی ابتدا کا زمانہ۔

نشاستہ: (رف) مذکر؛ (دا) گیہوں کا ست، مغز گندم،

(۲) ابار، ماٹھی، کلفت، بیج۔

نشاط: (رع) موث؛ خوشی، شادمانی، فرحت، مزاج پیش۔

— افزا: (رف) نشاط بڑھانے والا۔

— کار: (رف) (دا) اضافت کے ساتھ موث؛ کام کرنے کی انگ۔

نشان: (رف) (۱) آٹا (۲) کھوج، سماع (۳) علامت

(۴) پتا، نام و نشان (۵) یاگا و نشانی (۶) علم، جھنڈا، لشکر کا

جھنڈا (۷) داغ، دھبہ (۸) اثر (۹) بادشاہ کا فرمان (۱۰) دانا۔

نشانِ کدھی: موٹ، سرد، رسانی، ٹھکانا، پتانا، پتانا۔
 نشانہ: (د) مذکر، بدت، وہ علامت جو تیر مارنے کے واسطے
 بنا دیں، شہست، زد، گولی یا تیر مارنے کی جگہ۔
 اُڑا دینا / اُڑانا: شینگ نشانہ لگانا۔
 ہونا: تیر یا گولی سے مارا جانا، نشانہ بنا، شکار ہونا۔
 نشانی: (د) موٹ، (د) جو چیز اس غرض سے دی جائے کہ
 اس چیز کے دیکھنے سے دینے والے کی یاد آجائے یا دیگر (۲)
 وہ چیز جو تصدیق کے واسطے کسی کے ہمراہ کریں، شناخت کی
 علامت، پہچان، علامت (۲)، اولاد، نسل، خاندان کا جُز۔
 نشتر: (د) مذکر، فصد کھولنے یا زخم چیرنے کا اوزار۔
 نشٹ: (۲) برسا، پال، خراب۔
 نش چنٹ: (۲) سچنت، بے فکر، بے پروا۔
 نشر: (د) (۱) پراگندہ، پریشان، آوارہ (۲) شائع کرنا،
 تقریر، خبریں، ریڈیو سے سنانا (۳) زندہ کرنا، زندہ ہونا۔
 نشرہ: (د) مذکر، بچہ کے قرآن شریف ختم کرنے کی خوشی
 (۲) وہ - ا - ب - ت، جو زعفران اور شہوق سے اساطیلیم
 کی تختی پر کتب نشینی کے دن لکھا ہے۔
 نشریہ: (د) مذکر، دیکھو، ہر اڈ کا سٹ۔
 شہست: (د) موٹ، (۱) بیٹھک (۲) مؤذونیت،
 کرسی، (۳) صحبت، ہم نشینی (۴) پارے کا بیٹھ جانا،
 (۵) بیٹھنے کی جگہ۔
 برخواست: (د) موٹ، اٹھنا، بیٹھنا، آداب مجلس
 اُٹھنے بیٹھنے کی تمیز۔
 گا: (د) موٹ، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھک، دیوان خانہ۔
 نشو: (د) مذکر، نمود، بالیدگی، روئیدگی، پیداوار
 بڑھانا، پیدا ہونا، اُگنا۔
 نشوونما: مذکر، موٹ، (۱) بالیدگی، بڑھنا اور اُگنا
 پرورش پانا (۲) رونق، ظہور، ترقی۔
 نشور: (د) مذکر، مرنے کا قیامت کے دن اُٹھنا، شریعت۔
 نشہ / نشا / نشہ: مذکر، (۱) پی کر مست ہونا، سولہ ہونا،
 بے ہوشی ہونا (۲) دکنا یا تہا، گھنڈہ، فرد۔

نشہ اُٹارنا: (د) نشہ کا زائل کرنا، (۲) غرور مٹانا۔
 پانی کرنا: (د) نشہ کی چیز کھانا پینا (۲) دکنا یا تہا
 رشوت لینا۔
 کا دُورا / کے دُورے: مذکر، شراب کے نشے سے
 آنکھوں کی رگوں میں ٹپنے والی سُرمی۔
 میں چڑ رہونا: نشے میں بدست اور بدحواس ہونا۔
 میں ٹھین ہونا: نشے کی زیادتی سے بدحواس ہونا۔
 ہرن ہونا: (۱) دکنا یا تہا بے ہوشی اور غفلت سے ہوش
 میں آنا، نشہ کا اُترنا، ہوش آ جانا (۲) گھنڈہ، فرد ہونا۔
 نشیب: (د) مذکر، پستی، زمین پست۔
 وفراز: (د) مذکر، اونچ، نیچ، اُتار چڑھاؤ۔
 نشید: (د) مذکر، نغمہ، لے۔
 نشیلا: مذکر، نشہ میں بھرا ہوا، نشہ میں سرشار۔
 نشین / نشیمن: مذکر، مسکن، مکان، پرندوں کا گھونٹلا
 آشیانہ۔
 نقص: (د) موٹ، (۱) قرآن کی ان آیتوں پر اس کا اطلاق
 ہوتا ہے جن کے معنی ظاہر اور صریح ہوں (۲) وہ حکم
 الہی جو صاف اور صریح ہو۔
 ناطق: (د) اضافت کے ساتھ، موٹ، قطعی غیر مبہم
 اور واضح کلام۔
 نصاب: (د) مذکر، (۱) سرنامہ، پونجی (۲) اہم اہم مال
 جس پر زکاۃ دینا واجب ہے (۳) پڑھائی کا کورس
 (۴) جا، رخ، تول، اعزاز۔
 نصاریٰ: (د) جمع نصرانی کی، مذکر، عیسائی، مذہب مسیحی کے پیرو۔
 نصرانی، عیسائی، مذہب۔
 نصیح: (د) مذکر، موٹ، جمع نصیحت کی۔ نصیحتیں۔
 نصب: (د) (۱) مذکر، کھڑا کرنا، برپا کرنا، قائم کرنا (۲) زبردستی
 نصب العین (نص - جبل - عین) (د) مذکر، متعلقہ،
 دلی منشا، منظور، خاطر۔
 نصر: (د) موٹ، یاری، مدد، شہتی، فتح، ظفر۔
 نصرت، ہوت، (د) یاری، مدد، حمایت (۲) فتح، ظفر، جیت۔

نطق: (دع) مذکر؛ گویائی، بولنے کی طاقت، بات، گفتگو۔
نظارت: (دع) موش؛ (۱) نظر کرنا، کسی چیز کو دیکھنا، نگہبانی
(۲) ناظر کا دفتر، ناظر کا کام۔

نظاریگی: (دع) موش؛ (۱) نظارہ، دیدار بازی
(۲) دکھانا، نظر بازی۔

نظارہ: مذکر؛ (۱) دیکھنا، نظر ڈالنا، دیدار (۲) سبیر،
تماشا، لطفت (۳) نظر، نگاہ۔

نظاری: موش؛ نظر بازی، نگہ رانگاری۔

نظام: (دع) مذکر؛ (۱) سلسلہ، ترتیب، آراستگی (۲) روش
طریقہ، (۳) بندوبست، انتظام (۴) قول بولنے کا خطاب۔

بطلیموس: (دع) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ بطلیموس حکیم
کا نظام میں زمین کو مرکز عالم قرار دیا گیا ہے اور اس کے گرد

پنچ کوکب اور سورج چاند وغیرہ گردش کرتے مانے گئے ہیں۔
شمسی: (دع) اضافت کے ساتھ، فیشا غورث کا نظام جس

میں سورج مرکز عالم قرار دیا گیا ہے اور اس کے گرد زمین وغیرہ
کل ستارے، سیارے گردش کرتے ہوئے مانے گئے ہیں۔

نظائر: (دع) مذکر؛ موش؛ جمع نظیر کی (۱) مثالیں (۲) بانگوش
اور سپریم کورٹ کے فیصلے۔

نظر: (دع) موش؛ (۱) غور سے دیکھنا (۲) نگاہ، بصارت، آنکھ
کی روشنی (۳) غور، فکر، تامل، توجہ (۴) نگہ رانی، دیکھ بھال

(۵) تعلق، نسبت (۶) حمیزہ، جابج، پرکھ (۷) اندازہ، قیاس
(۸) امید، توقع (۹) نظر بردار (۱۰) چہرہ کی کاسیہ، بصوت پرینک

— اتارنا؛ مدد دینا، کسی عمل یا شے سے چشم بد کا اثر دور کرنا۔
— آجانا / نظر آیا جانا؛ نظر لگ جانا، چشم بد کا اثر مہو جانا۔

— انداز کرنا؛ (۱) ناپسند کرنا، نا منظور کرنا، نگاہ سے گرانہ،
(۲) کسی چیز یا معاملے پر امتیاز نہ کرنا۔

— باز، (دع) نیک اور بد کا پہچاننے والا، قیاموں کو فوراً
بھانپ لینے والا، کسی چیز کو دیکھ کر فوراً ناسخ کرنے والا۔

— باندھنا؛ نظر بند کرنا، جادو کے زور سے چلب کرب دکھانا۔
— بچا جانا / نظر بچانا؛ آنکھ بچانا، ٹالنا، کترانا،
بچ کر نکلنا۔

نصر، من النورح قریب: سفر پر نصرت کرتے وقت پہلی
جانے والی آیت قرآنی۔ دُعا۔

نصف: (دع) آدھا۔
نصف النہار: (دع) نصف نہار؛ مذکر؛ ایک قطب سے

دوسرے قطب تک کھنچا ہوا ایک فرضی خط (۲) دوپہر کا وقت۔
نصفانصف / نصفانصفی: آدھوں آدھ، ٹھیک آدھا۔

نصفت / نصفت: (دع) موش؛ انصاف، عدل، داد۔
نصوح: (دع) (۱) خالص، صاف (۲) سچی توبہ۔

نصوحا کی توبہ: دکھانا، ہمیشہ کے لیے کی جانے والی توبہ۔
نصوص: (دع) مذکر؛ جمع نص کی، قرآن مجید کی صاف اور

کھلے معنی رکھنے والی آیات۔
نصیب: (دع) مذکر؛ (۱) قسمت، تقدیر، خوش قسمتی (۲) حاصل

میسرہ (۳) حصے کے قسمت کے۔
— اعدا / دشمنان: (دع) اضافت کے ساتھ (۱) کلمہ دُعا،

کسی عزیز کی بیماری یا بُری خبر کا ذکر سن کر کہا جانے والا کلمہ۔
— کھل جانا / کھلنا؛ قسمت یا در ہونا۔

— ہونا؛ حاصل ہونا، میسر ہونا، دستیاب ہونا۔
نصیباً؛ مذکر؛ نصیب، قسمت۔

نصیبہ کا سکندر: بے مدغوش اقبال۔
نصیحت: (دع) موش؛ (۱) بند، اچھی صلاح، نیک مشورہ

(۲) درہلی تنبیہ، عبرت۔
نصیر: (دع) (۱) مددگار، مدد دینے والا، معاون (۲)

دوست (۳) خدا کا صفاتی نام۔
نصیری: (دع) حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے لوگ (۲) دکھانا،
فدائی، جان نثار۔

ن - ط - ظ

نظفہ: (دع) مذکر؛ (۱) منی (۲) اولاد۔
— بے تحقیق: (دع) اضافت کے ساتھ (۱) حرامی، ولد الزنا

(۲) بد ذات، فتنہ پرداز۔
— ٹھہرنا؛ محل قرار پانا، پیٹ میں بچہ ہونا۔

نظر بید : اضافت کے ساتھ مذکر؛ (۱) مبری نظر
(۲) مبری نظر کا اثر۔

بدلتا : (۱) نظر میں فرق آنا، تیسرے بدلتا (۲) ارادہ بدلتا، بد نیت ہونا۔

بند : وہ شخص جسے بغیر مقدمہ چلائے اور سزا دیئے قید میں رکھا جائے (۲) قیدی، بظاہر آزاد مگر نگرانی میں رہنے والا قیدی (۳) کچھ کچھ نظر آنے والا شہیدہ۔

بندی : (۱) موت، (۲) پاسانی، حراست (۲) شہیدہ بازی، جادوگری، جادو یا شہیدہ کے اثر سے دوسرے کی

بجگہ کو ایسا قابو میں کرنا کہ کچھ کچھ نظر آئے۔

پر چڑھنا / نظروں پر چڑھنا : دل کو بھانا (۱) کسی کا کسی کی بجگہ میں باوقفت مہونا (۲) اندازہ کیا جانا (۳) دشمنی کی نظر سے دیکھا جانا۔

پیدا کرنا : جانچ کی قوت اور ملک پیدا کرنا، صلاحیت پیدا کرنا۔

نیانی : (اضافت کے ساتھ) موت، (۱) دوسری بار دیکھنا (۲) مہارت کا ترمیم یا تیسیم کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

جلانا : مبری نظر دینے کے لیے خاص مقررہ ترکیب سے چیتھڑے جلانا۔

چرانا / نظریں چرانا : نظر بچانا (۲) آنکھ چرانا، کسی کام سے پہلو تہی کرنا (۳) چوری چوری دیکھنا۔

دوچار ہونا : بجگہ کا بجگہ سے سامنا ہونا۔

رکھنا : (۱) توجہ رکھنا، محبت کی نظر سے دیکھنا، عاشقانہ نگاہ ڈالنا، (۲) خبر رکھنا (۳) امید رکھنا، توقع رکھنا (۴) ارادہ رکھنا، نیت رکھنا (۵) شناخت رکھنا، تمیز رکھنا توجہ رکھنا، خیال رکھنا۔

غلط انداز : (اضافت کے ساتھ) (۱) موت، (۲) عاشقوں کو دھوکا دینے والی معشوق کی نظر۔

کیمیا اثر : (اضافت کے ساتھ) (۱) فیض پہنچانے والی نظر۔

گزر : (۱) موت، (۲) چشم بد کا اثر (۲) وہ چیز نظر کا اثر بد

دفعہ کرنے کے لیے الگ کر دیتے ہیں۔

گزر کا ٹیسکا : مذکر، بچوں کے ماتھے پر دفعہ نظر بد کے لیے

کابل کا ٹیسکا۔

نظر لڑنا : ایک کی بجگہ کا دوسرے کی بجگہ سے دو چار ہونا۔

میں سامنا بمر نظروں میں سما جانا : پیارا لگنا، مقبول نظر ہونا۔

میں کھینا / نظروں میں کھینا : مرحوب نظر ہونا، پسند ہونا۔

نظری : (۱) نا سطور چیز (۲) بدیہی کا مقابل (۳) ناقابل قبول، (۴) خیالی (۵) قیاسی۔

نظریات : (۱) مذکر؛ مسائل فکری، اصول، قاعدے، نظریہ : (۲) مذکر؛ وہ مسئلہ جس میں نظر اور فکر سے کام لیا جائے، اصول (انگ) تھیوری۔

نظم : (۱) موت، (۲) لڑی، سلگ (۲) شعر، موزوں کلام (۳) مذکر؛ بندوبست، انتظام۔

ولسق : مذکر؛ بندوبست، انتظام، حکمرانی کا قاعدہ۔

نظیر : (۱) مانند، مثل، (۲) مثال، تمثیل (۳) عدالت عالیہ کا فیصلہ۔

نظیف : (۱) حلال، پاک، پاکیزہ۔

ن - ع - غ

نعال : مذکر؛ جمع نعل کی، گھوڑے کے ٹوں میں ٹھوکے جانے والے نعل، جوتے۔

نعت : (۱) موت، (۲) وصف (۲) آں حضرت کی ستائش و ثنا کے لیے مخصوص لفظ۔

نعرہ : (۱) مذکر؛ (۱) للکار، زور کی آواز، شور (۲) آہ، ہائے، جڑ۔ درد کی آواز۔

زن : (۱) دف، (۲) نفرہ مارنے والا، للکارنے والا (۲) فریاد کتناں۔

جیدری : (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱) حضرت علیؑ کا نعرہ (۲) رکنائیا زور و شور کا نعرہ۔

نعلش : (۱) موت، (۲) تابوت، (۳) لاش، مرنے کا جنازہ، ہیبت۔

نعل : (۱) مذکر؛ (۱) جوتی، پانوش، جوتا (۲) دف، گھوڑے یا بیلوں کے پانوں میں لگانے کا آہنی حلقہ (۳) دائرہ جوتی

کی ایڑی میں مضبوطی کے لیے لگایا جانے والا لوبا۔
 نعل بندہ : (د) مذکر؛ (گھوڑوں بیلوں کے) نعل یا بندھنے والا۔
 نعلین : (د) موٹ؛ دونوں جوتیاں، جوتی کا جوڑا۔
 نعم : (د) کلمہ ایجاب یعنی ہاں (۲) چار پایہ۔
 نعم : (د) مذکر؛ جمع نعمت کی، نعمتیں۔
 نعم البدل (نعمل بدل) : (د) مذکر؛ اچھا بدلا، نیک عوض۔
 نعمت : (د) موٹ؛ (۱) مال، دولت، ثروت (۲) عطا بخشش
 عطیہ (۳) لذیذ چیزیں، مزیدار کھانا (۴) آسائش۔
 — خانہ : مذکر؛ کھانا رکھنے کی جالی لگی ہوئی الماری۔
 — غیر مشرقیہ : (د) اضافت کے ساتھ موٹ؛ وہ نعمت
 جس کے ملنے کا سان گمان نہ ہو۔
 نعت / نعت : (د) مذکر؛ پودینہ۔
 نعت زبانی : (د) پناہ مانگتے ہیں ہم خدا کی مدد سے) مذکر؛
 خدا کی پناہ، خدا پکائے (نعت ظاہر کرنے کے لیے)
 نعیمہ : (د) (۱) نعمت (۲) صاحب نعمت، نعمت والا۔
 عز : (د) خوب، عمدہ، اچھا، اعلا، افضل، عجیب۔
 نغمہ : (د) مذکر؛ راگ، گیت، ترانہ، سُربلی آواز (جمع نغمات)
 — ریز / زن / سر / سنج / طراز : (د) اچھا گانے والا،
 اچھا شعر کہنے والا۔

ن - ف

نفاختی : (د) موٹ؛ ذلیل، تھوڑی سی چیز بے وقعت۔
 نفاذ : (د) مذکر؛ صدور، حکم جاری ہونا، ایک چیز
 کا دوسری چیز سے نکلنا۔
 نفاس : (د) مذکر؛ عورت کے سوجھنے کے بعد چالیس روز
 تک چلتے رہنے والا ناپاک خون و رطوبت۔
 نفاست : (د) موٹ؛ صفائی، لطافت، خوبی، عمدگی، پاکیزگی۔
 نفاق : (د) مذکر؛ (۱) بیوٹ، بظاہر دوستی باطن
 دشمنی (۲) بگاڑ، نا اتفاق۔
 نفاس : (د) مذکر؛ جمع نفیس کی، نفیس چیزیں، عمدہ چیزیں۔
 نفث : (د) مذکر؛ (۱) زمین میں سے نکالا جانے والا ایک قسم کا سیاہ

د سفید روغن، مٹی کا تیل (۲) (مجازاً) باروت۔
 نفع : (د) مذکر؛ اچھا، پیٹ کا پھولنا۔

— صور / نفقہ / تصور : (د) اضافت کے ساتھ مذکر؛ وہ صور جو
 قیامت کے روز حضرت اسرافیل پھونکیں گے۔
 نقر : (د) آدمیوں کا گروہ (تین سے دس تک) (۲) نوکر یا نوکر
 ادنی ملازم (۳) کام کرنے والا، قلی، مزدور (۴) ایک
 آدمی، واحد شخص (۵) سائیس۔

نقرت : (د) موٹ؛ گھن، بیزاری، کراہت۔

— انگیز : نفرت بڑھانے والا، نفرت دینے والا۔

نفری : موٹ؛ (۱) روزانہ مزدوری، مزدوری، اجرت،
 (۲) ایک آدمی کا ایک دن کا کام۔

نفرین : (د) موٹ؛ کوسنا، ملامت، پھینکا، لعنت
 دعائے بد۔

نفس : (د) مذکر؛ (۱) جان، رُوح (۲) ذات وجود، ہستی
 (۳) حقیقت، اصلیت، اصل، ست، نت، لباب،
 (۴) خواہش نفسانی۔

— الامر : (نفسل امر) (د) مذکر؛ اصل مُدما، واقعی
 بات، درحقیقت۔

— آمارہ : (د) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ بُرے کاموں
 پر لے جانے والی خواہش۔

— نیمی : (د) مذکر؛ (۱) چھپا ہوا کی جان (۲) (مجازاً)
 حیوانی خواہش۔

— پرست / پرورد : (د) خود غرض، شہوت پرست،
 عیاش۔

— کشی : (د) موٹ؛ خواہش نفسانی کو روکنا، پارسائی
 پاک دامن۔

— توامہ : (د) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ گناہ سرزد ہونے
 پر اپنے آپ پر لعنت ملامت کرنے والا، نفس۔

— نارطہ : (د) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ (۱) (اصطلاح کلمہ
 انسانی رُوح (۲) (اصطلاح تعوت) بولنے والی رُوح۔

(۳) وہ شخص جو کسی دوسرے کی ناک کا ہال ہو۔

ن-ق

نقاب / نقاب : (رع) مذکر؛ موٹھ؛ منہ پر ڈالنے کا پردہ۔
نقاد : (رع) را، پرکھنے والا، کھونا کھرا دیکھنے والا۔ (۲) تنقید و تبصرہ کرنے والا۔

نقارچی : (دق) مذکر؛ نقارہ بجانے والا، نوبت بجانے والا۔
نقار خانہ : (دق) مذکر؛ نوبت خانہ۔

خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے : (دشل) بڑے آدمیوں کی رائے میں چھوٹے آدمی دخل نہیں پاسکتے بہت شور و غل میں خوش الحان کی بھی نہیں سنی جاتی۔

نقارہ / نقارہ : (دق) مذکر؛ نوبت، طبل۔

بجا کے / نقارے کی چوٹ : (دعلائیہ) کھلم کھلا، ڈنکے کی چوٹ۔

نقاشش : (دع) نقش و بھکار بنانے والے معصور۔

ازل : (داضافت کے ساتھ) مذکر؛ (دکنایتا) خدائے تعالیٰ۔
نقاط : (رع) مذکر؛ جمع نقطہ کی۔

نقال : (رع) مذکر؛ بھانڈ، تھلیں کرنے والا، مسخرا، بہرہ پیا۔
نقارست : (رع) موٹھ، مرکز، وری، صنعت، ناتوانی۔

نقالص : (رع) جمع نقص کی، مذکر؛ عیب، بُرائی، کھوٹ۔
نقب : (رع) موٹھ؛ سیندھ، سترنگ، شگاف۔

نقد : (رع) مذکر؛ (د) چاندی سونے کا سکہ (۲) فوراً ادا کی جانے والی رقم (۳) پونجی، سرمایہ۔

دوم : اکیلا، مجرد، تنہا۔

نقد و جنس : مذکر؛ دھن، دولت، مال و اسباب۔

نقدانقد : (د) ہاتھوں ہاتھ، دست بدست، فوراً ادا کر کے شکل۔
نقدی موٹھ؛ روپیا، مال، وزیر، دولت، زرقند۔

نقرس : (رع) مذکر؛ انگوٹھے کے درد کا نام ایک طرح کا گھٹیا۔
نقرہ : (دق) مذکر؛ (د) چاندی (۲) دکنایتا ہر سپید چیز۔ (۳) سفید رنگ کا گھوڑا۔

خام / سیم : (داضافت کے ساتھ) مذکر؛ خالص چاندی۔
نقش : (رع) مذکر؛ (د) تصویر، شبیہ (۲) سچول پتی کا کام۔

نفسِ نفیس : (داضافت کے ساتھ) مذکر؛ (د) خدا کی ذات پاک (۲) (د) مجازاً ذاتِ خاص، خود بدولت، اپنے آپ۔

نفس : عمدہ، خوبصورت۔

نفسا نفسی / نفسی نفسی : موٹھ؛ خود غرضی، آپادھانی۔

نفسانی : (رع) منسوب بہ نفس، نفس کا۔

نفسانیت : موٹھ؛ خود غرضی، غرور، نخوت۔

نفس : (رع) مذکر؛ (د) سانس، تنفس (۲) دم، گھڑی ساعت لمحہ، لحظہ، دقیقہ۔

بازئیں / بازپس / واپس : (داضافت کے ساتھ) (دق) حالتِ ترع میں آخری دم (دسان) جو جاگ بھرنے آئے۔

سرد : (داضافت کے ساتھ) (دکنایتا) آہ سرد، افسوس۔

شماری : (دق) موٹھ؛ (دکنایتا) حالتِ ترع؛

گرم : (داضافت کے ساتھ) مذکر؛ (دکنایتا) آہ گرم۔
نفسیات : (رع) مذکر؛ انسان کے تحت الشعور اور لاشعور کی تحقیق کا علم۔

نفع : (رع) مذکر؛ (د) فائدہ، حاصل، نتیجہ، ثمرہ (۲) سود، منافع۔
نقصان : مذکر؛ (د) فائدہ اور نڈا (۲) بُرائی، بھلائی

بُرا بھلا (۳) علم حساب کا ایک قاعدہ جس سے تجارت میں نفع نقصان معلوم کیا جاتا ہے۔

نفقہ : (رع) مذکر؛ بال سچوں کا خرچ، بیوی کا روٹی کپڑا۔

نقل : (رع) مذکر؛ موٹھ؛ وہ عبارت جو بندے پر واجب ہو، فرض، واجب، سنت کے علاوہ پڑھی جانے والی ناز۔

نقوذ : (رع) مذکر؛ سرائت کرنا، نقوذ کرنا، اندر گھنا

نفور : (رع) مذکر؛ (د) بھاگنا، نفرت کرنا (۲) نفرت کرنے والا۔
نفوس : (رع) مذکر؛ جمع نفس کی، رو میں۔

قدسیہ : (داضافت کے ساتھ) مذکر؛ پاک رو میں پیغمبر اور فرشتے اور نیک لوگ بندگانِ دین۔

نقوی : موٹھ؛ اہمکاری، اہمائی کی ضد۔
نقی : (رع) موٹھ؛ کسی چیز کے وجود سے انکار کرنا۔

نقیری : (دق) موٹھ؛ شہنائی، تری۔

نقیس : (رع) (د) عمدہ، قیمتی، بیش بہا (۲) پسندیدہ، لطیف، پاکیزہ، مستحرا۔

نقشہ جات، جمع نقشہ کی۔

نوٹس: (دفعہ) نقشہ بنانے والا، مصور، نقاش۔

نقص: (دفعہ) مذکورہ (۱) کمی، کوتاہی، کسر (۲) دجانا، برائی، کھوٹ، عیب۔

نقصان: (دفعہ) مذکورہ (۱) تباہی، ہرج، ضرر (۲) خسار، گھاٹا۔

مابہ و شامت ہمسایہ: (دفعہ) اضافت کے ساتھ (دفعہ)

مثلاً، خود اپنا نقصان ہو اور لوگوں کے لعنت ملامت

کرنے کا اندیشہ بھی۔

نقص: (دفعہ) مذکورہ، ٹوٹ پھوٹ، بگاڑنا، توڑنا۔

امن: (دفعہ) اضافت کے ساتھ، فساد، جھگڑا، امن شکنی۔

عہد: (دفعہ) مذکورہ، عہد شکنی، وعدہ خلافی۔

نقطہ: (دفعہ) مذکورہ، جمع نقطہ کی۔ نقطہ۔

نقطہ: (دفعہ) مذکورہ (۱) صفر، بندی (۲) شک ظاہر کرنے

کی علامت، (متروک)

پرکار: (دفعہ) اضافت کے ساتھ، دائرے کے بیچوں بیچ

کی جگہ۔

مقابل: (دفعہ) اضافت کے ساتھ، مذکورہ، ہم سر، حریف۔

نقل: (دفعہ) مذکورہ (۱) تبدیلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ

جانا، موٹ، (۲) اصل کا اتارا ہوا چرہ منقول، منقحی

(۳) مثل، نمونہ، نظیر (۴) چٹکلا، لطیفہ (۵) روایت

بیان، ذکر (۶) سوانح، روپ۔

راچہ عقل: (دفعہ) منقول، نقل کرنے کے لیے عقل

کی ضرورت نہیں۔

کفر کفر نہ باشد: (دفعہ) اضافت کے ساتھ (مثل) کفر کی

نقل کرنے سے ناقل کافر نہیں ہوتا، بُری بات کی نقل

بُری نہیں سمجھی جاتی۔

نوٹس: مذکورہ، نقل کرنے کے لیے والا، منقحی، مترجمت۔

نقلی: (دفعہ) مصنوعی، جعلی، گھوٹا (۲) روایتی، سماجی

زبانی۔

نقل: (دفعہ) مذکورہ (۱) وہ چیز جو کسی نشتہ دار چیز کھانے کے بعد

ذائقہ بدلنے کے لیے کھائیں (۲) ایک قسم کی شیرینی

بیل بوٹے کا کام، (۳) لکھا ہوا، کھدا ہوا، کندہ (۴) ابھرا

ہوا نشان (۵) نام و نشان (۶) مہر لگانے سے پڑنے

والا نشان، چھاپ، مہر، چھاپا، چھپا (۷) مہر میں کندہ نام یا عبارت

(۸) ہند سے یا اسمائے تبرک کا تعویذ (۹) اثر، مہر کی تحریر کی علامت۔

نقش آب / بر آب: (دفعہ) (دفعہ) اضافت کے ساتھ، مذکورہ (۱) پانی پر

کا نشان (۲) فانی، مٹ جانے والا، بے ثبات، باطل۔

اول: (دفعہ) اضافت کے ساتھ، مذکورہ، پہلی تحریر، پہلا کام۔

باطل: (دفعہ) اضافت کے ساتھ، نقش جو مٹانے کے قابل

ہو یا مٹ گیا ہو۔

بر دیوار / بردیوار: (دفعہ) حیران، متعجب، ہمت زدہ

ہسکا بکا، بے حس و حرکت۔

بند: (دفعہ) (۱) نقاش، مصور (۲) نقش کیا ہوا خوب

بہاء الدین کا لقب۔

بیٹھنا: (۱) اثر ہو جانا (۲) دکھانا، کسی کے دل میں کسی کا

جگہ کر لینا، نشان بن جانا۔

ثانی: (دفعہ) اضافت کے ساتھ، مذکورہ، دوسری بار کا نقش

پہلے سے بہتر نقش۔

قدم پر چلنا: کسی کی پوری پوری تقلید کرنا۔

کالچر: (دفعہ) کئی جہر، پتھر کی کبیر، پتھر کے نقش کی مانند۔

ونکار: (دفعہ) مذکورہ، پھول پتی کا کام، بیل بوٹے کا

کام، زیب و زینت۔

نقشی: (دفعہ) نقش دار، نقش کیا ہوا برتن۔

نقشہ / نقشا: مذکورہ (۱) تصویر، شبیہ، روپ (۲) صورت

چہرہ، شکل (۳) ڈول، ساخت، چہرے کی بناوٹ،

(۴) سج و سج وضع قطع، طرز و انداز (۵) حلیہ، خط و حال،

(۶) دنیا کی ہیئت۔ سطح زمین کی تصویر (۷) نمونہ، مثال،

خاکہ، چہرہ، عمارت، یا کسی اور چیز کی صورت (۸) سانچہ،

قالب (۹) حالت، عالم، کیفیت (۱۰) طور و طبع، ڈھنگ

(۱۱) فہرست فرد ناموں کا جھڑ، کم نوٹس (۱۲) پالان، مال کی خانہ

پری (۱۳) چہرے کی مجموعی ہیئت۔

اڑانا: طرز اڑانا۔

نک برک سے ٹھیک / سے درست سے پاؤٹیک خوش بنا۔

نکسل وادی: ایک تشدد پسند انقلابی جماعت، نکسل۔

نکسیر: موتی؛ ناک سے خون گرنا۔

نیکل: (انگ) موتی؛ ایک قسم کی سفید دھات۔

نیکل آنا: (۱) باہر آنا، ظاہر ہونا، (۲) پیدا ہونا، کھڑا ہونا (۳) زمین سے باہر آنا، پھوٹنا۔

بھاگنا: (۱) چلا جانا، چل دینا، فرار ہونا، (۲) قابو سے

چلا جانا، (۳) چھپتے ہو جانا، بچ کر نکل جانا، (۴) صاف بچ جانا۔

پڑنا: (۱) نکل آنا، کثرت سے (۲) ظاہر ہونا، پوشیدہ مقام

سے دفعتاً نمایاں ہونا، (۳) باہر آنا، (۴) گر جانا، کھل جانا،

(۵) ٹپک پڑنا، چوڑنے لگنا، (۶) اگل پڑنا، (۷) باہر چلا جانا۔

جانا: (۱) چلا جانا، گزر جانا، (۲) وعدہ خلافی کرنا، قول

سے پھر جانا، (۳) پھٹ جانا، (۴) بھاگ جانا، (۵) رفاقت

سے الگ ہو جانا، رفاقت چھوڑ دینا (۶) کسی قید

کے مقام سے باہر جانا، (۷) کسی شخص سے نجات پانا، (۸) آگے

چلا جانا، (۹) گزر جانا، ہو چلنا، (۱۰) اسبقیت لے جانا۔

چلنا: (۱) دکھانا، (۲) اترنا، (۳) متغیر ہونا، (۴) مستح

ہو جانا، (۵) بے باک ہو جانا۔

نکلنا: (۱) آگنا، پھوٹنا، اوپر آنا، (۲) بہنا، رشنا، جاری ہونا،

(۳) پیدا ہونا، (۴) نمودار ہونا، (۵) نمودار ہونا، جیسا ہونا، (۶) باہر

چلا جانا، رخصت ہونا، (۷) اٹھنا، بند ہونا، شروع ہونا، (۸) ثابت ہونا۔

(۹) اسبقیت لے جانا، بڑھ جانا، بڑا ہونا، (۱۰) بھاگنا، چلا جانا، فرار ہونا، (۱۱)

باہر ہونا، خارج ہونا، (۱۲) رائد ہونا، (۱۳) بات ظاہر ہونا، ایجاد ہونا، (۱۴)

پھٹ جانا، (۱۵) برسا، حاصل ہونا، (۱۶) کسی کے ذمہ کوئی فاضل رقم

نکلنا، (۱۷) باہر آنا، (۱۸) بھرنا، (۱۹) دوز ہونا، (۲۰) واضح ہونا، (۲۱) جو میں آنا،

(۲۲) ترجیح رکھنا، (۲۳) کسی کام کا وقت جاتا رہنا۔

نکنا: (۱) نیکار، ناکارہ، بے مصرف، (۲) خالی محفل،

بے شکل، (۳) بڑا، خراب، (۴) ناچیز، حقیر، (۵) کام سے

جی چلانے والا شخص۔

نکو: (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ناک والا، لمبی ناک والا۔

نکو، بنا نا: (۱) بدنام کرنا، رسوا کرنا، انگشت نامی کرنا۔

نکو: (۱) نیکو کا مخفف، نیک، عمدہ۔

نکو ہیش: (۱) موتی؛ طامت، سرزیش، دھمکی۔

نکوئی: (۱) موتی؛ نیکی۔

نکبت / نکبت: (۱) موتی؛ پھول کی بو، خوشبو، مہک۔

نکیر: (۱) مذکر؛ قبر میں سوال و جواب کرنے والا فرشتہ۔

نکیرین: (۱) مذکر؛ منکر، کبیر، قبر میں مُردے سے سوال و جواب

کرنے والے دو فرشتے۔

نیکیل: موتی؛ اڈنٹ کے ناک کی رسی، اڈنٹ کی مہار۔

نیکیل: (۱) مذکر؛ (۲) اُبھرا ہوا، نوک دار (۳) دکھایتا، خوش وضع بانک،

ترجما، وضع دار، طرح دار شخص۔

بن: (۱) مذکر؛ خوش وضعی، بانگین۔

نکھ: (۱) مذکر؛ (۲) ناخن، (۳) ایک خوش بو دار جزو کا نام، (۴) ابریشم

کپڑا، ابریشم۔

نکھار: (۱) مذکر؛ صفائی، اُجلا پن، زیب و زینب، آرائش۔

نکھو: (۱) ناکارہ، نکما، (۲) سُست، (۳) اتق، (۴) نہایت مفلس۔

نکھرنا: (۱) صاف ہونا، اُجلا ہونا، میل کٹنا، رونق آنا، بالوں کا

میل صاف ہونا، (۲) بننا، سنوٹنا، سسکا کرنا، نہادھو کر

صاف ستھرا ہونا۔

نکھری بزم / محفل / صحبت: صاف ستھری اور آراستہ

محفل۔

نگ: (۱) مذکر؛ گلینہ، انگوشی میں چڑنے کا پتھر۔

نگار: (۱) موتی؛ (۲) تصویر، نقش، میل بولٹا (۳) بت، صورت،

(۴) خوبصورت، معشوق، محبوب، (۵) عورتوں کے

ہاتھوں پر مہندی سے بنا ہوا نقش، (۶) زمینت،

آرائش، زیبائش۔

ارمنی: (۱) اضافت کے ساتھ موتی؛ فریاد کی مشوقہ شیریں۔

خانہ: (۱) مذکر؛ تصویر خانہ، تصویروں کا گھر، نقاشی کیا

ہوا گھر، بت خانہ۔

ستان: (۱) موتی؛ نقش و نگار سے آراستہ جگہ۔

بگارش: (د) موتھ؛ تحریر لکھنا۔

بگالی: (دھ) موتھ؛ حقے کی نئی کاوہ سیراجس میں منہال لگاتے ہیں۔

بگاہ/بگجہ: (د) موتھ؛ (د) نظر، چوون (۲) آنکھ (۳) تیمور (۴) شناخت، پرکھ، مداخلت (۵) توجہ/القیات عنایت (۶) نظارہ، دید (۷) نگرانی، چوکس، نظر بندی (۸) امید، بھروسہ، خیال۔

بگاہ بان/نگہ بان: (د) محافظ، چوکی دار۔

بگاہ بدلنا: دکنا یا بنا ناراض ہونا بے توجہی ہونا۔

بلند ہونا: عالی خیال ہونا، حوصلہ بلند ہونا۔

پروورش: (اضافت کے ساتھ) مہربانی اور عنایت کی بجاہ۔

پھرتا: (دکنا یا بنا) توجہ نہ رہنا، القیات نہ ہونا۔

نر چھی ہونا/ٹیرھی ہونا: بگاہ غصے سے بھری ہونا۔

چار ہونا: دو شخصوں کا آنا سامنا ہونا۔

دار/نگہ دار: (د) نگہبان۔

داشت/نگہداشت: (د) موتھ؛ حفاظت

نجرانی، چوکسی۔

روبرو: بادشاہ کے روبرو کسی شخص کو پیش کرتے وقت نقیب کے کہنے کا کلمہ۔

سے آترنا/سے گرنا: نظروں میں بے وقعت ہوجانا۔

غلط انداز: (اضافت کے ساتھ) اچھٹی ہوئی نظر۔

گرنا: (د) دیکھنا، ملاحظہ کرنا، نظر کرنا، آنکھ ڈالنا (۲) سوچنا

خیال کرنا (۳) اندازہ کرنا، جانچنا، پرکھنا (۴) توجہ کرنا۔

میلانا: (د) چار آنکھیں کرنا (۲) دکنا یا بنا، مقابل آنا، ہسری کرنا۔

نگر: (دھ) مذکر؛ شہر، قصبہ، بلدہ۔

نگری: موتھ؛ نگر کی تصنیف۔

نگراں: (د) دیکھنے والا، بگاہ بان، پاسبان، محافظ۔

بگالی: دیکھنا، زیر نظر رکھنا۔

نگلنا: (د) حلق سے نیچے آتا رہنا، کسی چیز کو دانتوں سے بغیر چبائے حلق سے نیچے آنا جانا، (۲) کھانا، ٹھونٹنا

(۳) دکنا یا بنا، غبن کرنا، تغلب کرنا۔

بگوڑا: (دھ) مذکر؛ (دھ) عورتوں کا کلمہ، بچھا، ناکار، کم نعت (دھ) موتھ؛ بگوڑی۔

ناٹھا: مذکر؛ (دھ) وہ شخص جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، بے زن و فرزند، بے اولاد، مجرد۔

نگوں: (د) تحمید، اوندھا، لٹکا ہوا، آٹھا۔

بگیس/نگیت: (دھ) مذکر؛ جواہر، نگ۔

بگھرا: (دھ) (دھ) بے گھر، خانہ بدوش، خانہ ویران۔

ن۔ ل

نل: (دھ) مذکر؛ (د) اندر سے کھوکھلی اور لمبی چیز زلی کی طرح، (۲) راجہ نل (۳) دُسن کا عاشق۔

دُسن: ● (دھ) ہندی لوک کہانی کے دو کردار۔

● نل، ایک عاشق راجا۔

● دُسن، ایک مشوق راجہ باری۔

نلا: مذکر؛ (د) پیشاب کی نالی (۲) نان کی مانند ایک پٹھے کا نام۔

نلاہٹ، موتھ؛ نیلا پن، نیلی رنگت۔

نلجا: (دھ) مذکر؛ بے شرم، بے عزت، بے حیا۔

نلوا: (دھ) مذکر؛ (د) نل کی تصنیف، چوٹا سا نل (۲) کاغذات وغیرہ کھنے کے لیے تین، پتیل یا کاغذ کا بنا ہوا نل۔

(۳) چوپایوں کے منہ میں ڈاڈالے کا نلا۔

نلوہ: (دھ) (د) بے لوث، خالص (۲) بے شقت، بے رحمت

(۳) وہ کام جو کسی کی مشرکت اور اعانت کے بغیر کیا جائے

(۴) صدے اور نقصان سے محفوظ۔

نلی: (دھ) (د) چھوٹی نال (۲) پنڈلی کی ہڈی (۳) بت دوق

کی نال (۴) کپڑا بننے میں کام آنے والی نال (۵) نرسل جو

بچ سے خالی ہو۔

ن۔ م

نم: (دھ) مذکر؛ (د) گیلا پن، مرطوب ہونا، سیل، تری (۲) بجانا، ترا، گیلا، مرطوب، (۳) طراوت۔

نم خوردہ / نم دیدہ : بٹر، وہ جس میں تری کا اثر پہنچا ہو۔

— گیرہ : مذکر، اوس کی تری سے بچنے کے لیے ایک قسم کا شایبنا (۲) دھمانا، شامیانہ۔

— ناک : تر، گیلا۔

— نخی : موتھ، تری۔

— نماز : (د) موتھ، اہل اسلام کی مخصوص عبادت کا نام۔

— استسقاء : (د) اضافت کے ساتھ موتھ، وہ نماز جس میں مینہ کے واسطے دعا مانگی جائے۔

— جنازہ : (د) اضافت کے ساتھ موتھ، مرنے کی لاش پر کھڑے کھڑے پڑھی جانے والی نماز۔

— چاشت : (د) اضافت کے ساتھ موتھ، چاشت کے وقت کی نماز۔

— خسوف : (د) اضافت کے ساتھ موتھ، چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز۔

— عید : (د) اضافت کے ساتھ موتھ، عید کے دن کی نماز۔

— قحط : (د) اضافت کے ساتھ موتھ، حالت سفر میں کم کے پڑھی جانے والی مختصر نماز۔

— قضا : (د) اضافت کے ساتھ، وہ نماز جو وقت پر نہ ادا کی جائے۔

— کسوف : (د) اضافت کے ساتھ، سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز۔

— نمازی : نماز پڑھنے والا، نماز کا پابند۔

— تمام : (د) ادھر کی ادھر کہنے والا، جہل خود، لٹرا۔

— تھاپاں : (د) داغ، داغ، آشکالا (۲) دراز، گہرا۔

— تہائیش : (د) موتھ، (د) دکھاوا، ظہور نمود، تزئین

(۲) زری پیداوار مختلف مصنوعات، یا دوسری مفید

دل چسپ اور عجیب چیزوں کو کسی خاص جگہ پر لوگوں کو دکھانا اور فروخت کرنا۔

— تھاپی : دکھاوا، ظاہر میں اچھا۔

— نمبر : NUMBER (انگ) مذکر، (د) تعداد، درجہ باری

— نوبت : (۲) گنتی، نشان، عدد، ہندسہ۔

— نمبر دار : مذکر، (د) (جیل کی اصطلاح) ساتھی قیدیوں کی نگرانی

— کرنے والا قیدی (۲) سکاٹو کا گھیا۔

— نمبری : (د) مہندہ نمبر دیا ہوا، چھٹا ہوا، نمبر ایک بلکہ معاش۔

— نمشا نا : (د) بھگتانا، چھکانا، بیانی نمنا، خالی کرنا،

— نمدا : مذکر، بیٹھ بیکری کے بالوں کا بنا ہوا اونی کپڑا۔

— بندھ جانا : دکنا یا، دیوالہ نکل جانا، مفاس ہو جانا۔

— نھروتا : (د) موتھ، زری خوش اخلاقی، انکسار۔

— نھرود : (د) مذکر، (د) ایک ظالم بادشاہ کا نام جس نے حضرت

ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا (۲) (د) مجازاً،

ظالم، کافر۔

— نمستے : (د) مذکر، سلام۔

— نمشکار : (د) مذکر، سلام، تسلیم۔

— نمش : موتھ، دودھ کا جھاگ جس میں معری ملاتے ہیں۔

— نسط : (د) مذکر، روش، وضع قطع، ڈھنگ، طور طریق۔

— ننگ : (د) مذکر، (د) فون (۲) کھاری پن (۳) ملاحت،

سائز لاپن (۳) (د) مجازاً، روزی، روزینہ، تنخواہ (د) ہلونی

چیز کا ذائقہ (۶) شوخی کلام، کلام کا لطفت۔

— افشال : (د) ننگ چھڑکنے والا۔

— پروردہ : خاندان، ننگ خوار، ملازم، نوکر، غلام۔

— پھوٹ پھوٹ کر نکلنا : سارا کھا یا پیا، پھوٹے پھینوں

کے ساتھ نکلنا، ننگ حرامی کی سزا ملنا۔

— چشمی : موتھ، (د) ننگ چکھنا، کھانے کا آب و

ننگ دیکھنا (۲) پہلے پہل بچے کو ننگ چٹانے کی رسم

(۳) ذائقہ، لذت، مزہ۔

— چھڑکنا : دکنا یا، تنگ کرنا، سٹانا، جلانا۔

— حرامی : (د) موتھ، ناشکری، بے وفائی، بے برتری

دُعا بازی، بغاوت، حرام خوردی۔

— حلال : (د) احسان مند، شکر گزار، حق شناس،

آقا کا غیر خواہ۔

— خوار : غلام، خاندان، ملازم، نوکر۔

— داں : (د) موتھ، مذکر، سپاہیوں کو کھنے کا ظرف۔

— زہر کر دینا : بہت ننگ ڈال دینا۔

نو خاستہ / نوخیز: (۱) نوجوان، خردسال، نوجم، (۲) نماز
نا تجربہ کار، نیا آ بھر ہوا۔

خط: (۱) وہ جس کی داڑھی حال میں بکلی ہو، نوخاستہ
(۲) دکنایتا، معشوق۔

دولت: وہ شخص جس کو مغلسی کے بعد نئی دولت ملی ہو۔
رَس: (۱) نیا پہل، تازہ میوہ (۲) نوخیز، نوجوان۔

روز: مذکر؛ (۱) نیا دن، نیا روز، نیا سال کا پہلا دن،
(۲) دکنایتا، خوشی کا دن، عیش کا دن (۳) ماہ فروردین
کا پہلا دن۔

سکھیا: نو آموز جس نے نیا نیا کام سیکھا ہو۔

شاہ / نوشتہ: مذکر؛ (۱) نوجوان بادشاہ (۲) دہا، بنا۔

عروسان چمن: مذکر؛ (۱) دکنایتا، تازہ کلیاں اور
تازے پھول۔

عمر: مذکر؛ نوجوان، نابالغ، کم سن۔

گرفتار: تازہ گرفتار، نا تربیت یافتہ، عاشق تازہ۔

مشق: نو آموز، نا تجربہ کار، آناڑی، مبتدی۔

نہال: مذکر؛ (۱) درخت کا نیا پودا (۲) دکنایتا، کم عمر بچے۔
وارد: اجنبی، مسافر۔

کوا: (دفع) موٹھ؛ (۱) نمہ، مُر (۲) آواز (۳) مذکر؛
سامان، توشہ۔

ہوا ز / زن / ساز / سنج / گز: (دفع) مطرب،
گانے والا، خوش آواز۔

نواب: (دفع) مذکر؛ (۱) نیابت کرنے والا (۲) حاکم، سردار
(۳) کسی ریاست کا مسلمان فرماں روا (۴) نائب سلطنت۔

نوابی: موٹھ؛ (۱) قائم مقامی، نظامت (۲) حکومت
ریاست (۳) امیری، دولت مندی (۴) فضول خرچی،

اسراف۔ (۵) بد نظمی، طوائف الملوک۔

ٹھاٹ: مذکر؛ امیر، ٹھاٹ، رئیسانہ ساز و سامان، مطراق۔
نواح: مذکر؛ اطراف، حجاب، مضافات۔

نواد: (دفع) مذکر؛ جمع نادری، عجائب غرائب، نادر چیزیں،
عجیب اشیا، جمع الجمع، نوادرات۔

کسی بات کی جرأت نہیں ہوتی، مغلس خراج کرنے کی
ہمت نہیں کر سکتا۔

نہنا: (۵) مذکر؛ چھوٹا، چھوٹا بچہ۔
زنیا نا: (دفع) منت کرنا، عاجزی کرنا، خوشامد کرنا۔

ن۔ و

نو: (دفع) ایک کم دس "۹" احہ۔
رُتن: (دفع) موٹھ؛ (۱) نوجواہر (۲) نونگ کے

ایک جڑ اور زیور کا نام، بازو بند، (۳) نودانش مند
بکریا جیت اور اکر کے درباری (۴) ایک خاص قسم کی چٹنی

(۵) ایک قسم کا سالن جس میں نوترکاریاں ڈال کر پکاتے ہیں۔
سو خوجے کھاکے پی حج کو چلی: (دفع) ساری عمر

گناہ کر کے آخر عمر میں پارسا بن بیٹھے، بہت سے گناہ
کر کے توبہ کرنا اور نیک اعمال برپا کرنا۔

لکھا ہار: مذکر؛ (۱) لکھو روپے کی قیمت کا ہار قیمتی اور انمول ہار۔
نقد: تیرہ ادھار: (دفع) بہت ملنے کی امید سے

سر دست تھوڑا مل جانا ہی بہتر ہے۔
نگا: (دفع) مذکر؛ فوٹینے جڑا ہوا عورتوں کے بازوؤں

کا ایک زیور۔
نو: (دفع) نیا، جدید، تازہ، ابھی کا۔

آباد کاری: (دفع) موٹھ؛ نئی آبادیاں قائم کرنا (۲)
سیاسی اصطلاح نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کا رجحان

آبادی: نیا آباد کیا ہوا علاقہ، رنگ، کالونی (جمع نوآبادیاں)
آموز: (دفع) نے ابھی سیکھنا شروع کیا ہو، ہندی (۲) آناڑی۔

آئین: (۱) زیبا، آراستہ (۲) نئی بات (۳) نئی
بات بھانسنے والا شخص۔

بہ نو: تازہ بتازہ، ابھی کا۔
بہار: (دفع) موٹھ؛ (۱) بسنت رت کا شروع، موسم

بہار (۲) رونق، تازہ ہتی بہار والی چیز۔
جوانی: موٹھ؛ عالم شباب، بلوغ شباب۔

چندی: موٹھ؛ چاند کی پہلی جمعرات۔

نوٹ : موتی، وہ موٹا اور چوڑا فیہ جس سے لنگ بنا جاتا ہے۔
نوٹرا : (دھ) مذکر؛ بڑا کھانے اور سیر کرنے کی چھوٹی ناؤ، بھرا۔

نوٹری : (دھ) موتی؛ (۱) ایک قسم کی چٹیلی (۲) چھوٹا بھرا۔

نوٹرش : (رت) موتی؛ عنایت، لطفت، مہربانی۔

نوٹازنا : عزت بخشنا، بخشش کرنا، مہربانی کرنا۔

نوٹاسہ / نوٹاسا : مذکر؛ بیٹی کا بیٹا۔

نوٹاسی : موتی؛ بیٹی کی بیٹی، دختر زادی۔

نوٹاسی : (۵) رہنے والا، ساکن۔

نوٹاسی : (دھ) ایک کم توے، ۸۹، لیس۔

نوٹاسیر : (ع) جمع ناسور کی، موتی؛ (۱) اچھانہ ہونے والا زخم (۲) مقعد کا ناسور۔

نوٹاصب : (ع) مذکر؛ خوارج، مسلمانوں کا ایک فرقہ جو حضرت علیؑ کو نہیں مانتا۔

نوٹافل : (ع) جمع ناکلی، مذکر؛ سنت اور فرض کے علاوہ زائد پڑھی جانے والی نماز۔

نوٹال : (ع) موتی بخشش، عطا، مہربانی، عنایت، احسان۔

نوٹالہ / مذکر؛ (۱) کھانے کی چیز کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ منہ میں رکھیں (۲) درسی چیز، رقم کے برابر (۳) دکنایشا،

آسان، سہل کام۔

نوٹارٹا : کسی کام کی ابتداء نہ کرنا۔

نوٹاہی : (ع) مذکر؛ جمع نہیں کی؛ ممنوعات، ناجائز اور غیر مباح۔

نوٹائب : (ع) مذکر؛ جمع نائیبہ کی؛ مصیبتیں، حادثے، تکلیفیں، زحمتیں۔

نوٹبت : (ع) موتی؛ (۱) باری، کسی چیز یا کام کا وقت، (۲) حالت، درجہ، کیفیت (۳) نقتارہ، ٹھیکہ (۴)

مہلت، فرصت، وقفہ، موقع، قابو (۵) وقت، عرصہ۔ مرتبہ، دفعہ، مدت۔

نوٹبت : باری باری سے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک۔

نوٹخانہ : مذکر؛ نقارخانہ، شاہی محل کے ساتھ وہ مکان

جہاں دماما اور دوہو سنا ہے۔

نوبت نشان : نقارخانہ اور عیبتنا، شاہی زمانے کی عزت افزائی کی علامت۔

نوبل پرائز : NOBEL PRIZE (انگ) مذکر؛ بین الاقوامی شہرت کا عالمی گران قدر انعام، جو سوئڈن سے دیا جاتا ہے جسے "نوبل" نامی ایک شخص نے جاری کیا تھا۔

نوٹاتن : (۵) نیا۔

نوٹ : NOTE (انگ) مذکر؛ (۱) کاغذی سکہ (۲) یادداشت (۳) اشارہ۔

نوٹس : NOTICE (انگ) موتی؛ خبر، اطلاع، اعلان، آگاہی، اشتہار۔

نوٹخ : (ع) (۱) خدا نہ کرے، ایسا نہ ہو (۲) نہ، نہیں۔

نوٹخ : موتی؛ خواش۔

نوٹسٹ : موتی؛ (۱) بدن کا نوچنا، کھسٹنا، (۲) لوٹ مار، سنہرا، غارتگری (۳) دکنایشا، زبردستی مال حاصل کرنا۔

نوٹسج : (ع) موتی؛ کسی چیز کو نوچنا اور ریشنا کرنا۔

نوٹاناجی : (ع) موتی؛ چھینا بھینٹی۔

نوٹخ کھانا : (۱) آڑے ہاتھوں لینا (۲) دکنایشا، بے انتہا دق کرنا، ایذا پہنچانا۔

نوچنا : (۱) کھسٹنا، بچھارنا، کھرچنا، چٹکی لینا، بال اکھاڑنا، دانت سے کھسٹنا (۲) شاخ سے پتیاں اکھاڑنا (۳) موٹا، ٹوٹنا (۴) آڑے ہاتھوں لینا (۵) پھاڑ کھانا، بچھوٹے سے گوشت اکھاڑنا، ناخن سے کھرچنا۔

نوٹسٹا : ٹوٹا، مارنا، بچھارنا، چھینا بھینٹی کرنا۔

نوٹخ : (ع) مذکر؛ ایک مشہور سینیر کا نام۔

نوٹخ : (ع) مذکر؛ (۱) ماتم (۲) جھانڈا، گرمیہ، وزاری، رونا، پینا (۳) بین کرنا، ہر دے پر چلا کر دینا۔

نوٹخ / گر : (ق) ماتم کرنے والا، رونے والا، ہر دے کا بیان کر کے رونے اور ملانے والا۔

نوٹوگیا : مہونا، غائب ہو جانا، چلا جانا، بھاگ جانا۔

نوٹو : (ع) مذکر؛ (۱) روشنی، چمک، تاب، جلوہ، جھلکی، ابلالا

نوش : (د) ، مذکر؛ (۱) ، پینا (۲) ، خوش مزاج ، خوش گوار چیز ،
ترباق (۳) ، پینے والا۔

نوشا نوش : (د) ، پے درپے پینا۔

نوش جاں : (د) ، اضافت کے ساتھ بہت مرغوب چیز ، رغبت
سے کھانی پل جانے والی چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ
نہ ہو۔

دارو (د) ، موت ؛ (۱) ، ترباق ، زہر مہرہ (۲) ، مچاڑا شراب
(۳) ، ایک قسم کی خوش ذائقہ اور صحت بخش میوے۔

نوشیں : (د) ، خوش مزاج اور خوش گوار۔

نوشا بہ : (د) ، مذکر ، ایک ملکہ کا نام جس کے پاس سکند
الہی بن کر گیا تھا۔

نوشت : (د) ، موت ؛ تحریر ، کتابت ، لکھنا ، عبارت۔

نوشت و خواند : (د) ، موت ؛ لکھنا پڑھنا۔

نوشتر : مذکر ؛ (۱) ، لکھا ہوا قلمی (۲) ، تحریری سند ،
تہنگ (۳) ، تقدیر ، سرنوشت۔

تقدیر : (د) ، اضافت کے ساتھ شہت یزدی خدا کی مرضی۔

نوشیر واں (د) ، مذکر ؛ فارس کے ایک مشہور عادل بادشاہ
کا نام ، کسرا۔

نوع : (د) ، موت ؛ (۱) ، قسم ، جنس ، (۲) ، وضع ، طرح ، طور ،
طریق ، ڈھنگ ، شکل ، صورت ، (۳) ، اصطلاح (منطق) ،
وہ کلیہ جو یکساں حقیقت رکھنے والے افراد کو شامل ہو۔

دگر : (۱) ، دوسری طرح کا بدلا ہوا (۲) ، گڑا ہوا ، خواب۔

نوعیت : (د) ، موت ؛ نوع ہونا ، قسم کی حالت۔

نوفلاطونیت : (د) ، موت ؛ (۱) ، فلسفیانہ اصطلاح ، تیسری صدی
عیسوی کا ایک یونانی فلسفہ جو افلاطون کے نظریات میں
مشرقی باطنیت کی آمیزش سے وجود میں آیا۔

نوگ : (د) ، موت ؛ (۱) ، آبی ، نیش ، ڈنگ ، چوچ ،
منقار ، سرا ، قلم ، چھری ، خنجر اور نیزہ وغیرہ کا سرا ،
(۲) ، وضع داری یا لکھن (۳) ، شینی ، ڈون ، ڈینگ ، چھری
چھانڈ ، نیش زنی (۴) ، عزت ، آبرو ، آؤ ، آغاز

پلک : (د) ، موت ؛ (۱) ، آنکھ کی موزونیت (۲) ، حرکت کی موزونیت۔

(۲) ، رونق ، سبب ، چہرہ کی جھک دمک۔

نور العین : (د) ، مذکر ؛ (۱) ، آنکھوں کی روشنی (۲) ، مچاڑا

بیٹا ، نسبت بگ۔

نور آگین : (د) ، نور سے بھرا ہوا۔

افشال / ریاش : منظور کرنے والا۔

نورانی : (د) ، منظور۔

نور بافت : (د) ، مذکر ، حمو لہا ، پارچہ بافت ، کپڑا بننے والا۔

بصر : (د) ، اضافت کے ساتھ ، مذکر ؛ (۱) ، بینائی کا قدر ، (۲) ،
دیکھنا ، اولاد۔

چشم : (د) ، مذکر ؛ (۱) ، مچاڑا ، بیٹا ، فرزند۔

دیدہ : (د) ، آنکھ کا نور (۲) ، دیکھنا ، دیدہ محبوب فرزند یا عزیز

ظہور کا وقت ؛ مذکر ؛ صبح صادق کا وقت ، علی الصبح ، پوچھے۔

نور علی نور : (د) ، نور پر نور ، ایک سے بڑھ کر ایک ، کیا کہنا

ہے ، سب سے بہتر اور اعلیٰ۔

نور عین : (د) ، اضافت کے ساتھ ، مذکر ؛ (۱) ، آنکھوں کی روشنی ،
(۲) ، دیکھنا ، بیٹا ، فرزند۔

نور نقشاں : (د) ، نور چھلکنے والا۔

کاجنجا : (د) ، دیکھنا ، حسین۔

کاجنجالا : (د) ، دیکھنا ، نورانی صورت ، بہت حسین۔

کاکثرطکا : (د) ، صبح صادق۔

کاکلا کی آواز : سُر ملی آواز بے مدد دل پسند آواز ،
خوش آواز۔

کی بزم : (د) ، دیکھنا ، خوب صورتوں کا مجمع۔

نظر : (د) ، اضافت کے ساتھ ، (۱) ، آنکھ کا نور ، (۲) ، دیکھنا ،
بے حد محبوب بیٹا۔

نور اثر کی : (د) ، موت ؛ دیوی پوجا کے نودن۔

نورس : (د) ، (۱) ، نوبذیات ، نوبذات (۲) ، علم و مرض
کے نوبذات۔

نورس : (د) ، (۱) ، نیا تازہ (میدہ) (۲) ، نوخیز ، نوجوان ،
(۳) ، نیا پنچا ہوا۔

نورسادر / نورسادر : (د) ، مذکر ؛ ایک قسم کا ننگ کھار۔

قوسن : (دھ) نیا ، تازہ ۔

لن - لا - ۶

نہ : (د) حرف لیاقت ، جیسے شہانہ بہرہ (۲) حرف نفی نہیں ، منت ، (۳) کیوں نہیں ۔

— آؤ دیکھانے ناؤ : بغیر موقع عمل دیکھے کوئی کام نہ کرنا ۔

— اللذی نہ اللذی : (دھ) ناکارہ ، بے معرفت ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا ۔

— ایک ہنستا بھلانا ایک رونا بھلانا : (مقولہ) تنہائی کسی مات میں بھی اچھی نہیں ۔

— چارے دھوپ نہ گرمی چھاؤ : (مثل) بے کار ، نیکمی چینے ۔

— جانے : (د) معلوم نہیں ، نہ جاننے (۲) ، جو شاید کی جگہ ۔

— چینے کی شادی نہ مرنے کا غم : کسی قسم کی آہنگ پائی نہیں چڑھے گا نہ گرے گا : ایسا کام کیوں کرے جس میں نقصان کا احتمال ہو ۔

— ندبل نہ ہانڈہ بل : نہ بدن میں قوت اور نہ دولت کا سہارا ۔

— سانہ مرے نہ لاشی ٹوٹے : (مثل) اس طرح کام بھلے کرتے تو نقصان نہ پہنچے ، نقصان کے بغیر کام نہ جائے ۔

— ساون سوکھے نہ بھادول ہرے : متوکل ، ہر وقت ، یکساں ۔

— صبر درول عاشق نہ آب درغریبال : (د) عاشق کے دل میں صبر اور جھپٹی میں پانی نہیں ہوتا دکنایت ، اضطراب اور بے چینی ۔

— منہ سے بولے اور نہ سر سے کھیلے : بالکل خاموش شخص ۔

— منہ میں دانٹ نہ پیٹ میں آنت : نہایت بڑھا آدمی ۔

— مہس کہوں تیری نہ تو کہہ میری : (مثل) نہ دھریں پراسرام لگاؤ نہ دوسرے تم پر اسرام دھریں گے ۔

— نام یو انہ پائی دیوا : تن تنہا ، لا وارث ، اکیلی جان ۔

نوگ بلک سے درست ، سب طرح ٹھیک ، موزوں ۔
— چوک / نوگ جھونک : موٹھ ؛ ملن موٹھ کی باتیں ، آٹن بان ، چھیڑ چھاڑ ۔

— ڈم بھانگ : ڈم دبا کر بھاگنا ، بے تمنا بھاگنا ۔

— زبان : (د) اضافت کے ساتھ موٹھ ؛ (د) زبان کی نوگ زبان کا میرا (۲) ، ازیر ، زبانی یاد ۔

— نوگ جھونکی : موٹھ ؛ چھیڑ چھاڑ ، ملن ، دشمنی ، شوخی ، شرارت ، نوکر ، دسترکی ، مذکر ؛ ملازم ، خدمت گار ، خادم ۔

— چاکر : مذکر ؛ ملازمان ، خدمت گار ۔

— نوکرئی / نوکرانی : موٹھ ؛ خادمہ ، ماما ، ملازم ۔

— نوکرئی : موٹھ ؛ خدمت گاری ، ملازمت ۔

— برطرف روزی ہر طرف : (مثل) ملازمت سے موقوف ہونے پر پریشان نہ ہونا چاہیے ، ایک در بند نہ ر بند کھلے ۔

— خالہ جی کا گھر نہیں : (مثل) نوکرئی میں آرام طلبی نہیں ہوتی ۔

— نوم : (د) موٹھ ؛ بئید ۔

— نومبر : (د) انگریزی سال کا گیارہواں مہینہ ۔

— نومید : (د) بایوس ، نا امید ۔

— فون : (د) (د) مذکر ؛ تنگ ، کھار ۔

— تیل : (د) کننا پتھا ، ضروریات زندگی ۔

— فونیا : (د) (د) تنگ بنانے والا (۲) ، ایک قسم کا ساگ ۔

— فون : (د) مذکر ؛ ایک حرف تہمتی (د) ۔

— غنہ : (د) مذکر ؛ فون غیر متحرک ، وہ فون جو ناک میں بٹا جائے اور خوب ظاہر نہ ہو ، جیسے ، ہوں ، کہاں ۔

— فون / فونی : (د) (د) مذکر ؛ کھار کے سبب دیواروں سے جھڑنے والی مٹی (دکھنؤ) ، لوانہ ، لونی ۔

— نوید : (د) موٹھ ؛ (د) خوشخبری ، مراد ، بشارت ، کسی تقریب کا بلاوا ، پیغام ۔

— نویدین : (د) مذکر ؛ عرضی ، گزارش ، درخواست ۔

— نویندہ : (د) لکھنے والا ، مخبر ۔

— نوپلا : (د) مذکر ؛ (د) نیا ، تازہ ، جدید ، ایجاد کیا ہوا (د) ، لوکا ، ایلا ، بانکا ، عجیب ، عجا ، نرالا ، سب سے الگ ، موٹھ ؛ فونلی ۔

نہتیا / نہتھا: (دھ) مذکر؛ عالی ہاتھ، وہ جو ڈنڈا، چھڑی یا کوئی لڑائی کا ہتھیار ہاتھ میں نہ رکھتا ہو۔

سُجج: (دع) (۱) راہ، طور، طرح، (۲) طریق، ڈھنگ، قاعدہ۔

نہر: (دع) موت؛ دریا کی شاخ، آب جو۔

نہرنا: (دھ) دعا۔ عو) جھکنا، جمید ہونا، متواضع ہونا۔

نہرنا: مذکر؛ ناخن گیری، جو بڑی ہو۔

نہرنی: موت؛ چھوٹی ناخن گیری۔

نہروا: (دھ) مذکر؛ رشتہ کی بیماری۔ وہ گول ناگاسا جو بدن میں سے نکلنا چلا آتا ہے۔

نہرنت: کو پچ، روانگی، رخصت، روانہ ہونا۔

نہرنتہ: (دع) پوشیدہ، خفیہ، چھپا ہوا، مخفی۔

نہہلا: (دھ) مذکر؛ نوزندیوں والا تاش یا گنچہ کاپتا۔

نہہلانا: (دھ) (۱) غسل دینا، (۲) ڈبو دینا (۳) مردے کو غسل دینا۔

نہنگ: (دع) مذکر؛ مگر، گھڑیاں۔

نہنگ: (دھ) (۱) ننگا، برہنہ، عریاں (۲) بے حیا

بے شرم، بے غیرت۔

نہوڑا / نہوڑا: (دھ) مذکر؛ (۱) منت، سماجت، عاجزی

خوشامد در آمد۔ (۲) احسان رکھنا، منت رکھنا۔

نہی: (دع) موت؛ (۱) مانفت، منع کرنا، روک (۲) کسی کام سے منع کرنے کا حکم۔

— عَنِ الْمُنْكَرِ: (عَنْ) مُنْكَرٌ) شرعاً منع کی گئی چیزوں سے روکنا۔

نہیب / نہیب: (دع) مذکر؛ ڈر، خوف، دہشت۔

نہیب: (دھ) موت؛ (۱) کلمہ نفی، انکار (۲) حرف شرط،

ورثہ، وگرنہ (۳) یقین کی تاکید کے لیے بلاشبہ۔

نہی: موت؛ نہری، جدید۔

— پودھ / پود: موت؛ (۱) دکنایتا، نہی وضع اختیار

کرنے والے نوجوان۔ نہی نسل

— جوانی ما بجا ڈھیلہ: (دع) قوت اور جوانی کے باوجود

سست اور کم ہمت شخص۔

نہ نکلنے بنتی ہے نہ اگلنے؛ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں میں دقت ہے۔

نہ نومن تیل ہو گا نہ رادھانا چے گی: (دع) نہ سامان خراب ہو گا نہ کام ہو گا، کسی کام میں ایسی شے لگائی جائے جن کا پورا ہونا ناممکن یا دشوار ہو۔

نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری رنگ جو کھا آئے: (دع) کچھ خرچ کرنا نہ پڑے اور فائدہ خوب ہو۔

نہ نہ (دع) مذکر؛ ناخن۔

نہ: (دع) نو، ایک کم دس۔

نہ بام / نہ سپہر / نہ طارم / نہ فلک / نہ درق: مذکر؛

نو آسمان۔

نہاد: (دع) موت؛ سرشت، خلقت (جیسے نیک نہاد)

نہار: (دع) مذکر؛ (۱) روز، دن (۲) صبح سے کچھ نہ کھائے ہو، بھوکا۔

— نہتہ: وہ شخص جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو، ناشتے کے بغیر۔

نہاری: موت؛ (۱) ایک قسم کا شور با اور سان جو خمیری روٹی

کے ساتھ موسم سرما میں صبح کو کھاتے ہیں، (۲) گھوڑے

کا مالیدہ جو صبح دیتے ہیں۔

نہارنا: (دع) دیکھنا، ماننا۔

نہال: (دع) مذکر؛ تازہ لگایا ہوا پودا (۲) درخت (۳) بھارا،

مالا مال، خوش حال، بامداد، کامیاب، خوش و خرم۔

نہالچہ: مذکر؛ بچوں کا بچھونا، بچوں کا گدا۔

نہالی: موت؛ روٹی دار بستر، توشک۔

نہان: (دھ) مذکر؛ دریا میں ایک معین روز غسل کرنا (۲)

چھٹی یا چھلے کو دیا جانے والا غسل۔

— کا مہلا: نہلنے کے واسطے دریا کے کنارے لگا ہوا جگہ۔

نہانا و ہونا: غسل کرنا۔

نہال: (دع) پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی۔

نہالی: (دھ) موت؛ وہ لوہا جس پر لوہا رکھ کر کہا چوٹ

لگاتا ہے، سندان۔

نہایت: (دع) موت؛ (۱) حد، انتہا، انجام، آخر (۲) بل انتہا

بہت، بکثرت۔

نیا حاصل : ملاقات کرنا، بزرگوں سے ملاقات کرنا ،
واقفیت بہم پہنچانا۔

_____ مندا : (۱) حاجت مند، خواہش مند، محتاج (۲) آرزو
مند، مشتاق (۳) وہ شخص جس کو کسی کی خدمت میں
باریابی کا شرف حاصل ہو، تو اضع اور فوٹی کرنے والا۔

_____ نیام : (۱) مندر، تلوار وغیرہ کا میان۔
نیا لیش : (۱) موتی، (۲) نہایت عاجزی کے ساتھ
خدا سے تعالیٰ کی تعریف دعا، تکریم و درود، (۳) آفرین متعین
رنیاؤ : (۱) مذکر، انصاف، عدل، داد، فیصلہ، تصفیہ۔

_____ نیائے : (۱) مذکر، انصاف۔
نیایائے : (۱) موتی، کچھری، عدالت۔
نییب : (۱) مذکر، ہنم کا درخت۔
نییبو : (۱) مذکر، ایک قسم کے شیش پھل اور اس کے درخت
سنانام۔

_____ پنچوڑ : (۱) پنچوڑ نے والا (۲) دکناٹیا، بن بلایا مہان
مفت خورا، طفیلی (۳) دکناٹیا، کنبوس۔

_____ رتیت : (۱) موتی، (۲) دلی ارادہ، دلی منشاء، اصل مقصد
(۳) میلان (۴) خیال، دھیان۔

_____ باندھنا : اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، نماز میں مشغول
ہو جانا (۲) ارادہ کرنا، منصوبہ کرنا

_____ بنجیر ہونا : کسی کا رنجیر کا دلی ارادہ ہونا، کوئی کام کرتے
دل میں برا خیال نہ ہونا۔

_____ بھر جانا : طبیعت کا سیر ہو جانا، جی بھر جانا، رغبت نہ
رہنا۔

_____ نیتا : (۱) مذکر، لیڈر۔
نیتی : (۱) مذکر، قاعدہ، علم سیاست، دستور و حکمت عملی
نیلچ : (۱) کینہ، ردیل، سفلہ۔

_____ اوجھ : (۱) موتی، (۲) اونچا، نیچا، بھلائی، بھلائی، نیکی، بدی
لشیب و فزار۔

_____ نیچا : (۱) مذکر، لشیب، عمیق، گہرا، اونچا، (۲) کم، ادنا،
(۳) مدد، دھیان۔

_____ نئی دنیا : (۱) (مراد) امریکہ، (۲) نئی آبادی (۳) نیا
عالم، انوکھی کیفیت۔

_____ روشنی : نئی تہذیب، زمانہ حال کی شناسائی۔
_____ فوٹی : (۱) چند رنگ کی بیابانی زمین (۲) انوکھی، نرالی۔
_____ نئے : انوکھے۔

_____ سر سے سرے سے : از سر نو، شروع سے،
پھر سے، دوبارہ۔

_____ سو اگ لانا : نئے نئے روپ بدل کر ظاہر ہونا۔

ن۔ی۔ے

_____ نئے : (۱) موتی، (۲) نرکل (۳) بانسری (۴) حقہ کی لنگائی
(۵) کلمہ نئی۔

_____ ستان : مذکر، بکثرت، نرکل کے درختوں کا جھنڈ۔
_____ نواز : بانسری بجانے والا۔

_____ نیا : (۱) مذکر، (۲) جدید، تازہ، ابھی کار، ہانڈا کھا، نرالا،
عجیب، طرف (۳) انجان، اجنبی۔

_____ شکوفہ کھلنا : عجیب و غریب امر کا ظاہر ہونا۔
_____ کرنا : نئی ترکاری، پھل، پان، یا غلہ کھانا، موسم کی چیز
پہلے پہل چکھنا۔

_____ گل کھلانا : تازہ فتنہ اٹھانا، نیا شکوفہ چھوڑنا، انوکھی
اور عجیب خبر اڑانا۔

_____ نیا : (۱) موتی، کشتی، ناؤ۔
_____ نیابت : موتی، قائم مقامی، نائب ہونا، سفارت۔

_____ نیارا : (۱) مذکر، ہمد، مختلف، الگ، بگھانہ، منفرد۔
_____ نیاریا : (۱) مذکر، (۲) وہ خاکروب جو سناہوں کی
ڈوسان کا کوڑا کرکٹ مول لے کر ان سے سونا اور

_____ پاندی کے ذرا تھکا تھکے (۲) دکناٹیا، چالاک،
مجرب، رس، کائیاں۔

_____ نیاز : (۱) مذکر، (۲) حاجت، احتیاج (۳) ملاقات، واقفیت،
روشناسی (۴) موتی، منت، انتہا، عاجزی (۵) فاجر،

_____ درود : (۱) چڑھاوا، چڑھاوے کی شیرینی۔

نیچا دیکھنا، شرمندگی اٹھانا، شکست کھانا، ذلیل ہونا۔
 نیچر: NATURE (انگ، مذکر؛ ۱) فطرت، خلقت،
 پیدائش (۲) دنیا، عالم وجودات (۳) قدرت، قدرت کا قانون۔
 نیچرل: قدرتی، فطری۔
 نیچرلزم: NATURALISM (انگ، فطرت پرستی، دہریت
 فطرت پسندی، آزاد روی۔

نیچرئی: (مہندر) فطرت پرست، دہریا۔
 نیچر: مذکر؛ (۱) حقے کی نئے حقے کی نلیاں، عرق کھینچنے کی نئے
 (۲) کنایتاً، بہت ڈبلا۔
 نیچر بند: نیچر بنائے والا، نیچر باندھنے والا۔
 نیچے (مائلے، (۲) نشیب میں، پستی میں (۳) ماتحت نائب
 مددگار (۴) مدہم، دھیما (۵) کم گھٹیل، ادنا۔
 کی سائنس نیچے اوپر کی سائنس اوپر رہ جانا: (دش)
 ہٹا بٹا رہ جانا۔

نیچر نظر: نیچر نگاہ، شرم و حیا کی نظر، نیچر کی طوت مائل نظر۔
 نظر ہونا: (۱) آنکھ اوپنی نہ ہونا، نظر اوپر نہ آٹھنا،
 (۲) شرمندہ ہونا (۳) ممنون ہونا، احسان مند ہونا۔
 نیتر: (دع) (۱) بہت تیز دینے والا (۲) مجازاً، آفتاب۔
 اصغر: (اضافت کے ساتھ) (ف) چاند، قمر۔
 اعظم: (اضافت کے ساتھ) مذکر، آفتاب، سورج۔
 نیترین: (دع) مذکر؛ نیتر کا شبنم، سورج، چاند۔
 نیتر: (دع) موت؛ پانی، رس، تازہ کے درخت کا پانی۔
 نیترنگ: (ف) مذکر؛ کمر، فریب، افسوں، سحر، شعبدہ۔

— زمانہ / نیترنگی: زمانہ: (اضافت کے ساتھ) مذکر؛ (۱)
 زمانہ کا افسوں اور شعبدہ (۲) (مجازاً) انقلاب روزگار۔
 سار: (دع) مذکر؛ شعبدہ باز، بازی گمر،
 دغا باز، فریبی۔

نیترنگی: موت؛ جادوگری، فریب، شعبدہ بازی، چالاکی،
 عیاری، تلون مزاجی، طلسمات، مجاہبات، تماشہ، آرائش۔
 نیز: (دع) (دع) حرف عطف، بھی، اور، دیگر۔
 نیزہ: (دع) مذکر؛ (۱) بھٹی (۲) قلم کی چوڑ (۳) غازی میاں

بہرائج کی دنگاہ پر لے جانے والی علم کی طرح ایک چیز۔
 نیسائ / ابر نیسائ: (دع) مذکر؛ وہ بارش جس کے متعلق
 ماضی میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی بوندیں سیپ میں
 پڑ جاتی ہیں تو موتی بن جاتے ہیں۔

نیست: (دع) نابود، فنا، معدوم۔
 — و نابود ہونا: خاک میں ملنا، فنا ہونا، ناپید ہونا، نام
 نشان نہ رہنا۔

نیستی: (دع) موت؛ (۱) ناپید ہونا، نیست ہونا (۲) مفلسی،
 افلاس، ناداری، تنگ حالی (۳) نحوست، بد نصیبی
 بد اقبالی۔

— کا مارا: (دع) مذکر؛ بد نصیب، منوس۔
 نیش: (دع) مذکر؛ (۱) کسی دھاردار آلہ کی نوک، (۲)
 ڈنگ، (۳) زہر۔

— رنی: (دع) موت؛ ڈنگ مارنا، کسی کے حق میں برائی کرنا۔
 — عقب: (اضافت کے ساتھ) (۱) بچھو کا ڈنگ (۲)
 (کنایتاً) دشمن کی شرارت کا کوئی فعل۔

— بیشتر: (دع) مذکر؛ فصد کھولنے کا اوزار، جراثیم کا آلہ۔
 نیشن: NATION (انگ) مذکر؛ قوم۔
 نیشنل: NATIONAL (انگ) قومی، ملی۔

— نیشنلسٹی: NATIONALITY (انگ) موت؛ قومیت۔
 نیشنلزم: NATIONALISM (انگ) موت؛ قومیت، وطن پرستی۔
 نیشنلسٹ: NATIONALIST (انگ) قوم پرست، وطن پرست۔

— نیشکر: (دع) مذکر؛ گتا، پونڈا، اؤکھ۔
 — نینقہ: (دع) مذکر؛ پیغام کے گمبے کا حصہ جس میں ازار بند رہتا
 ہے، ہندوستان کے شمالی پہاڑی علاقہ کا ایک مقام۔

— نیک: (دع) (۱) اچھا، عمدہ (۲) کثرت تعداد و مقدار ظاہر
 کرنے کے لیے (۳) سعید، سعادت مند، مسعود، سعد
 (۴) پارسا، پاکدامن (۵) رحمدل، خداترس (۶) خوش خصال، شریف
 خائستہ، مہذب، بھلا مانس، خوش چلن، خوش اطوار۔

— اختر: (دع) نیک، نخت، سعید۔
 — اندیش: خیر اندیش، بھلائی سوچنے والا۔

لوگ کہتے ہیں۔

واژگول: دت، آنا، اوندھا۔

واژگول: دت، (۱) اوندھا، سرنگوں (۲) برگشتنوں (۳) اٹا۔

واسطہ: دت، (۱) لگاؤ، ملاقات، ربط (۲) قضیبہ، وسیلہ (۳) کام

سروکار، فرض، مطلب (۴) صدقہ، طفیل (۵) رشتہ داری

سائق، کسی قسم کا خاص تعلق، درمیانی تعلق۔

پر پڑنا: کام پڑنا، سروکار ہونا۔

واسطے: پیسے، برائے (جمع واسطگی)

واسطی: دت، مذکر؛ (۱) شہر واسط سے تعلق رکھنے والا،

(۲) ایک قسم کا عمدہ قلم جو واسط سے آتا تھا، کلک۔

واسع: دت، پھیلنے والا۔

واسکٹ: WASHER COAT (انگ) مذکر، صدی جیکٹ۔

واسوخت: دت، موٹ؛ (۱) شاعری کی ایک صنف جس

میں محبوب سے بے زاری کا اظہار کرتے ہیں (۲) دل

بچے بن اور استقامی بڑے کا اظہار۔

واش بین: WASH BATH (انگ) مذکر؛ ہاتھ منہ دھونے کا

فاسد: دت، موٹ؛ بے تکلفی، خوشگی دور ہونا۔

واشینگ سٹوڈا: کپڑے وغیرہ دھونے کا سٹوڈا (سوزیم کارپوریشن)

واشینگ کمپنی: WASHINGTON COMPANY (انگ) موٹ؛

کپڑوں کے دھلانی کی دکان۔

وامعت: دت، تعریف کرنے والا۔

وامصل: دت، (۱) ملنے والا، ملاقات کرنے والا، شال ہونے

والا، پہنچنے والا، ملا ہوا۔

واہقی ہونا: دیکھنا، مر جانا، فوت ہونا،

بانی: موٹ؛ موصول شدہ اور باقی رقم، جمع اور بچایا

معلوم کرنے کا حساب۔

واصلات: دت، جمع واصلگی، موٹ، کسی جائیداد غیر منقولہ

کی آمدنی سے مناجح جو نامداد کے ناجازتاً بعض نے وصول کیا ہو۔

واضح: دت، (۱) ظاہر، عیاں، صریح (۲) مفصل، مشروح

(۳) ایسا صاف لکھا جس کے پڑھنے میں محکف نہ ہو (۴)

جلی قلم سے لکھا ہوا۔

واضع: دت، وضع کرنے والا، موجد، مخترع۔

قانون پر اضافت کے ساتھ، مذکر؛ قانون بنانے والا، معتقن۔

واعظ: دت، وعظ بیان کرنے والا۔

واقر: دت، (۱) بہت کثیر، بالقرط (۲) عروض کی ایک قسم کی

سجرا کا نام۔

واپی: دت، پیدا، کامل، خاطر خواہ۔

واقع: دت، ہونے والا، حادث ہونے والا۔

واقعات: دت، مذکر؛ (جمع واقعہ کی) حادثے۔

نفس الامری: (۱) منافات کے ساتھ، مذکر؛ پچ بچ ہونے

والی باتیں جن میں بناوٹ یا دروغ گوئی نہ ہو۔

واقعی: منسوب بہ واقع، پچ بچ، فی الحقیقت، دراصل۔

واقیعت: موٹ؛ (دراستی۔ یت) اصلیت، حقیقت

صداقت۔

واقِع: دت، مذکر؛ (۱) سانحہ، حادثہ (۲) حال، ماجرا، خبر

(۳) واردات (۴) جنگ، لڑائی، کارزار۔

واقف: دت، جاننے والا، ماہر، آگاہ۔

واقفیت: موٹ؛ (۱) جان پہچان، شناسائی (۲) علم، خبر

آگاہی، اطلاع (۳) مہارت، استعداد (۴) تجربہ

شناخت، واقف کاری۔

واگزاشت: دت، موٹ؛ چوڑ دینا، رہائی۔

والا: دت، بلند، اونچا، عالی، بزرگ۔

والا: دت، اور نہیں تو، دہنہ۔ نہیں تو۔

والد: دت، مذکر؛ باپ، پدر۔

والدہ: دت، موٹ؛ ماں۔

والدین: دت، مذکر؛ ماں باپ۔

والنیتیر: VOLUNTEER (انگ) رضا کار۔

والہ: دت، عاشق، شیدا، ذوقیہ۔

واللہ: دت، مذکر؛ خدا کی قسم۔

والقلم: خدا جانے، خدا معلوم بچے خبر نہیں۔

واعلم بالقصوب: دت، ٹھیک بات خدا جانتا ہے۔

بالتقدیر: تاکید کی قسم۔

نائب امیر البحر۔
 وائس پریسڈنٹ: VICE PRESIDENT (انگ) نائب صدر
 چانسلر: CHANCELLOR (انگ) چانسلر کا
 نائب، شیخ الجامعہ۔
 وائل: (انگ) مذکر؛ ایک قسم کا مہین کپڑا۔
 وائن: WINE (انگ) مونث؛ شراب، انگور کی شراب۔

و ب ت ث

و ب ا: (ع) مونث؛ (۱) ہوا خراب ہونے سے کثرت پھیلی ہوئی
 بیماری، (۲) دکنیا (تباہی) کسی روگ کا عالمگیر ہونا،
 (۳) (عوم) مہینہ۔
 و بال: (ع) (۱) بوجھ، سختی، گہرائی (۲) کئے، کی سزا عذاب،
 (۳) عذاب جاں، ناگوار طبع۔
 پڑنا: (ع) صبر پڑنا، ظلم کا بدلہ ملنا، قہر الہی نازل
 ہونا۔
 و ت د: (ع) مذکر؛ (۱) (اصطلاح علم عروض) سہ حرفی کلمہ
 (۲) لکڑی کی بیخ۔
 و ت ر: (ع) (۱) طاق عدد (۲) نماز عشا کے بعد پڑھی جانے والی
 تین رکعتیں۔
 و تیرہ: (ع) مذکر؛ عادت، دستور، شیوہ۔
 و تالیق: (ع) مذکر؛ جمع وثیقہ کی، سندیں۔
 و توفیق: (ع) مذکر؛ (۱) مضبوطی، (۲) بھروسہ، اعتماد۔
 و تھیقہ: (ع) مذکر؛ (۱) سند، معاہدہ، عہد و پیمان (۲) جہیز
 اقرار نامہ، دستاویز، تمسک۔

و ج ح

و ج اہت: (ع) مونث؛ (۱) خوب صورتی، خوب روئی،
 چہرے کا روشن ہونا، دکھاوا، چہرے کا رعب،
 (۲) عزت و حرمت۔
 و جب: (ع) مذکر؛ بالشت، ہاتھ کی چھوٹی آنکلی سے
 لے کر انگوٹھے تک کا پھیلاؤ۔

والی: (ع) (۱) حاکم، بادشاہ، مالک، سرتاج (۲) دوست
 مددگار حمایتی (۳) محافظ، نگہبان۔
 وارث: مذکر؛ سرپرست، حربی، حمایتی، پشت پناہ۔
 واماندگان: مذکر؛ (جمع واماندہ کی)
 واماندہ: (د) (۱) پیچھے رہ جانے والا، تھکا ہوا، باقی رہا ہوا
 (۲) عاجز۔
 وامق: مذکر؛ عذرا کے عاشق کا نام۔
 وال: وہاں کا مخفت۔

واوچر: VOUCHER (انگ) مذکر؛ بیجک، فر حساب
 رسید۔ تصدیق ادائیگی۔
 واویلا: (ع) مونث؛ فریاد، ڈہائی، گریہ وزاری۔
 واہ: (ع) مونث؛ (۱) کلمہ حسین و آفریں، ماشا اللہ سبحان اللہ
 (۲) شاباش بھر جا (۳) (طسٹرا) چہ خوب،
 چہ خوش۔
 وا / واہ: مونث؛ فرط لذت، یا خوشی کا اظہار
 مرجا، سبحان اللہ، ماشا اللہ۔
 گرو: (پنجابی) مذکر؛ (۱) راہنما، بتانے والا، خدائی
 صفات رکھنے والا، رہنما (۲) دکنیا (گرو نانک)۔
 واہمہ: (ع) مذکر؛ وہم کی قوت۔
 واہسی: (ع) بے ہودہ، لغو، آوارہ، ناکارہ۔
 تہامی: (۱) پوچھ، بے معنی بات (۲) خراب، آوارہ
 (۳) نکتا، اوباش، بیچار۔
 واہیات: (۱) بے ہودہ اور لغو باتیں، مزخرفات، رنجی،
 (۲) اوباش، خرافات۔
 وائے: (ع) مونث؛ کلمہ افسوس، تاسف۔

وائرلیس: WIRELESS (انگ) مذکر؛ بے تار کا لاسلی۔
 ٹیلی گرافی: TELEGRAPHY (انگ)
 لاسلی، برقیہ۔
 وائر مین: WIREMAN (انگ) مذکر؛ (کھلی) کام
 انجام دینے والا۔
 وائس ایڈمرل: VICE ADMIRAL (انگ) مذکر؛

وَجَدَ: (۲) مذکر؛ (۱) وہ بے خودی کی حالت جو انتہائی ذوق و شوق میں تقوٰلی سننے والے صوفیا کو سمجھتی ہے، (۲) بے خودی کی حالت، حال، جذبہ۔

وَجِدَان: (۲) مذکر؛ جانا، دریافت کرنا، دریافت کرنے اور چلنے کی قوت۔

وَجِيح: (۲) مذکر؛ برد، ٹیس۔

مُفَاصِل: (۱) اضافت کے ساتھ جوڑوں کا درد، گھٹیا کا درد۔
وَجُوب: (۲) مذکر؛ (۱) واجب ہونا، لازم ہونا، واجبیت لزوم (۲) تصوف کی اصطلاح، اللہ کی ذات۔

وَجُود: (۲) مذکر؛ (۱) ظاہر ہونا، نمائش، ہستی، حیات، (۲) مجازاً، بدن، جسم۔

پانا/پیکلنا: ہستی میں آنا، ہستی میں ہونا، ظہور ہونا، پیدا ہونا۔

وَجُودِيَّت: موش؛ (۱) ذات کے ادراک کا فلسفہ، ایک مغربی فلسفہ ذات (۲) احساس نفس کا فلسفہ۔

وَجُوه: (۲) مذکر؛ جمع وجہ کی، اسباب و دلائل۔

وَجُوهَات: مذکر؛ جمع وجوہ کی، اسباب، سبب، دلیلیں۔
وَجْه: (۲) موش؛ (۱) صورت، شکل، چہرہ، (۲) سبب، باعث

موجب، (۳) طرف، جانب، رخ۔

وَجَّي: (۲) موش؛ جیت، فتح۔

وَجِيه: (۲) (۱) خوش نما، خوب صورت، خوش وضع (۲) موزوں، زیبا۔

وَجَار: (۲) مذکر؛ سوچ، فکر، خیال۔

وَجِيتر: (۲) عجیب، تعجب خیز۔

وَجِيح بَزِيحِي: (۲) مذکر؛ وعدہ، عہد، قسم۔

وَعْدَانِي: (۲) ایک کی طرف منسوب۔

وَعْدَانِيَّت: موش؛ ایک ہونا، خدا کی یکتائی۔

وَعْدَت: (۲) موش؛ یکتائی، یگانگی، توحید، انفرادیت۔

تاشیر: (۱) اضافت کے ساتھ موش؛ کسی شے، مضمون یا کتاب کے مختلف پہلوؤں کا مجموعی تاثر لینا۔

خیال: (۱) اضافت کے ساتھ خیال کی جگہ نگہ،

خیال کی یکسانیت۔

وَعْدَت و وجود: (۱) اضافت کے ساتھ موش، موشوں کی اصطلاح، تمام مخلوقات اور موجودات کو خدا ہی کا ایک وجود ماننا۔

وَعْدَةُ لا شَرِيكَ لَهُ: خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔

وَعَش: (۲) مذکر؛ جمع وحش کی، جنگلی جانور۔

وَعَشْت: (۲) موش؛ (۱) نامانوسیت، نفرت (۲) سوادِ خفقان، گھبراہٹ، جنون، دیوانگی (۳) جہالت، جنگلی

ہن، (۴) اداسی، حیرانی، دہ، ڈر، خوف، ہیبت۔

زود: (۲) گھبرایا ہوا، اداس، خبیثی، سودائی، حواس باختہ۔

نَاك: (۲) گھبرانے والی خوفناک، بھیانک۔

وَعَشِي: (۲) (۱) جنگلی جانور، جنگلی جانور، بھڑکنے والا۔

گھبرانے والا (۲) نامانوس (۳) غیر مہذب۔

وَعُوش: (۲) مذکر؛ جمع وحش کی، جنگلی جانور۔

وَعُوجِي: (۲) موش؛ (۱) پیغامِ الہی، خدا کا حکم جو پیغمبروں پر

اترنا تھا، کتابِ الہی (۲) یکنوازی، وہ کلام جس سے

انکار کرنے کی تمغہ پائش نہ ہو۔

وَعِيْد: (۲) اکیلا، الگ، یکتا۔

العصر: یکتائے زمانہ، جو اپنے زمانے میں نالانی نہ

رکھتا ہو۔

و - و

وَدَاد: موش؛ دوستی، الفت، اُنس۔

وَدَاع / وُدَاع: (۲) موش؛ (۱) رخصت، ردا لگی، (۲) دلہن کی اپنے گھر سے رخصتی (۳) بیاہ، وِدا۔

وَدَرُوه: (۲) مذکر؛ بغاوت۔

وَدَرُوهِي: (۲) مذکر؛ باغی۔

وَدُوَانِ وِدْوَان: (۲) آن (۲) مذکر؛ پڑھا لکھا، عالم۔

وَدُوود: (۲) دوست (۲) مجلس (۳) خدا کا نام۔

وَدُووَنگ: (۲) مذکر؛ بھانڈ، نقال، بدوشک۔

وَدُوِيَا: (۲) موش؛ علم، فن، ہنر۔

ورق: (دع) (۱) بُرگ، پتہ، (۲) کاغذ کا ٹکڑا، کاغذ کا پرچہ
 (۳) پھول کی پتھڑی (۴) چاندی یا سونے کا باریک
 کٹا ہوا ٹکڑا (۵) باریک اور چوڑی تراشی ہوئی چیز۔
 — آترنا: (دا) ورق کے برابر باریک اور پتلا تراشا ہوا۔
 (۲) دکھنا، (۳) ورق کے برابر بدن کا لاغری سے گھٹ جانا۔
 — اُلٹنا: (دا) کاغذ کی ورق کا رخ سے دوسرے رخ کرنا،
 (۲) دکھنا، (۳) طبقہ اُلٹ جانا، انقلاب عظیم ہو جانا۔
 — ساز: چاندی اور سونے کے ورق بنانے والا۔
 — کائنات: (دا) اضافت کے ساتھ (دکھنا، دنیا، عالم۔
 — گردانی کرنا: کتاب کے ورق اُلٹنا اور کچھ نہ کچھ پھینچنا
 عبت فعل کرنا۔
 — گل: (دع) اضافت کے ساتھ مذکر؛ پنکھڑی۔

ورقی: (دع) ورق سے منسوب، بہت دار۔
 ورک: (دع) ناگ، مذکر؛ کام، کارکردگی۔
 ورکشاپ: (دع) ناگ، مذکر؛ (۱) کارخانہ
 (۲) تخلیقی کارخانہ۔
 ورلا: (دع) (۱) دھرا، اس طرف کا، اس طرف والا۔
 ورم: (دع) مذکر؛ سوجن، آماس۔
 وڑمالا: (دع) موتی؛ شادی کا ہار (ہندوؤں میں) وہ
 ہار جو شادی کے موقع پر دلہن اپنے دو لہا کے گلے
 میں ڈالتی ہے۔
 ورنہ: (دع) نہیں تو، پھر، وگرنہ۔
 ورناکلر: (دع) ناگ، موتی؛ (۱) ویسی زبان مقامی
 بول چال کی بھاشا۔

ورود: (دع) مذکر؛ وارد ہونا، اترنا، پہنچنا
 وروودھ: (دع) مذکر؛ مخالفت، دشمنی۔
 وروودھی: (دع) مذکر؛ دشمن، مخالف۔
 ورے: (دع) (۱) اس طرف، ادھر، پاس، نزدیک۔

و-ر

وزارت: (دع) موتی؛ وزیر کا عہدہ، وزیر کا کام وزیر ہونا۔

ور: (دع) (۱) آؤر کا مخفف، جیسے دانش ور (۲) اُردو وغالب
 فائق رہنا ہونے کے ساتھ،
 ورا/ وراسے: (دع) (۱) پس، پیچھے عقب (۲) پیچھے کی طرف
 پس پشت (۳) سوا، علاوہ، ماسوا، فالتو۔
 وراث (دع) بہت بڑا۔
 وراثت: (دع) موتی؛ ترکہ، ورثہ، میراث۔
 وراثت/ورثہ: مذکر؛ خریدنے کے مال، ترکہ، میراث۔
 وراثت: جمع وارث کی، میراث پانے والے۔
 ورد: (دع) مذکر؛ (۱) ہر روز کا کام، معمول، روزمرہ، بلاناغہ
 کیا جانے والا کام (۲) وظیفہ۔
 وردان: (دع) مذکر؛ دعا دینا، دلی خواہش پوری کرنا۔
 وردی: (دع) سپاہ کی پوشاک فوج کا نشان پادہ لباس جس سے
 کسی خاص گروہ کے لوگ پہنانے جاتے۔
 (۲) لشکر میں رات کے چار بجے صبح جاگ اٹھنے کے لیے بجایا
 جانے والا جا۔
 ورزش: (دع) موتی؛ (۱) کمال حاصل کرنے کے لیے
 بار بار کیا جانے والا کام، (۲) کسرت، ریاضت۔
 ورزشا: (دع) موتی؛ بارش۔
 ورطہ: (دع) مذکر؛ (۱) ہلاکت کا مقام (۲) دھانا، مہنور،
 گرداب، پانی کا پتھر۔
 ورع: (دع) موتی؛ پرہیزگاری، پارسائی، تقوا۔
 ورغلانا/ورغلانا: (دع) کسی کو کام پر آگے لگانا، بھڑکانا (۲)
 اغوا کرنا۔

وزیر اعلیٰ: (ر) مذکر؛ جمع وزیر کی۔
 وزیرت: VIZIT (ر) لگ، (ا) ملاقات، تشریف آوری (۲) ملاقات کرنا، کسی جگہ کو دیکھنے یا کسی شخص سے ملنے جانا۔
 وزن: (ر) مذکر؛ (ا) بوجھ، اگرانی (۲) اندازہ، قول، جانچ، (۳) مقدار، پیمانہ (۴) عزت، قدر، وقعت، (۵) (اصطلاح علم عروض) شعر کے مترک اور ساکن حرفوں کا ارکان سے ملانا، اور تابع کرنا (۶) سنجیدگی، قنانت۔
 وزیر: (ر) مذکر؛ (ا) مدارا، ملہام (۲) شطرنج کے ایک ٹھہرے کا نام۔

و۔ ض۔ ض۔
 وصال: (ر) بہت تعریف کرنے والا۔

وصال: (ر) مذکر؛ (ا) ملاقات (۲) وصل، ہم بستری (۳) موت، انتقال، وفات (۴) ہزرگان دین کا انتقال (۵) (اصطلاح تعارف) وحدت میں فنا ہوجانا۔
 وصایا: (ر) مذکر؛ (ج) وصیت کی، سفر یا موت کے وقت کی نصیحتیں اور ہدایتیں۔

وصفت: (ر) مذکر؛ (ا) بھلائی، خوبی، تعریف (۲) خوبصورتی (۳) ہنر، سلیقہ، جوہر (۴) پہچان۔
 وصل: (ر) مذکر؛ (ا) ملاقات، معشوق سے ملنا، ہم بستری (۲) چسپاں ہونا، پوست ہونا۔ جوڑے جوڑ مل جانا۔

وصلت: (ر) مؤنث؛ وصل، معشوق سے ملنا، ملاقات۔
 وصلی: مؤنث؛ وہ باہم وصل کیے ہوئے کاغذ کا ورق جس پر خوش نویس قلم وغیرہ کی مشق کرتے ہیں، مشق کرنے کا موٹا کاغذ۔

وصول: (ر) مذکر؛ پہنچنا، حاصل، آمد، پہنچا ہوا، بیباق۔
 وصی: (ر) مذکر؛ (ا) وہ شخص جس کو وصیت کی گئی ہو، وصیت پر عمل کرنے والا، سربراہ کار، (۲) اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے کنایہ ہے۔

وصیت: (ر) مؤنث؛ (دیکھو وصایم)

و۔ عظم: (ر) اضافت کے ساتھ، سب سے بڑا وزیر (۵) پر دھان منتری (ر) لگ، پرانم منسٹر۔

اعلا: (ر) اضافت کے ساتھ، ریاست کا سب سے بڑا وزیر (۴) مکینہ منتری (ر) لگ، چیف منسٹر۔
 وزیر: (ر) جنس شہر یا رے جنال: (ر) (ر) جیسے افسر ویسے ہی ملحق، دولوں کا اہتمام۔
 وزیر بے قلمدان: (ر) وہ وزیر جس کے ذمے کوئی محکمہ نہ ہو۔

وژن: VISION (ر) لگ، مذکر؛ نظارہ، منظر، دیکھنے کی قوت۔

و۔ س۔ ش۔

وساطت: (ر) مؤنث؛ وسیلہ، ذریعہ، واسطہ۔
 وسائیں: (ر) مذکر؛ (ج) وسوسا کی، وسوسے۔
 وسائل: (ر) مذکر؛ (ج) وسیلہ کی، ذریعہ، واسطے، وسیلے۔
 وسط / وسطی: (ر) مذکر؛ (ا) کسی چیز کا ٹھیک بیچوں بیچ، (۲) کسی چیز کا درمیانی حصہ۔

وسطی: (ر) میانہ، وسط درجہ کا، بیچ بیچ کی، اٹلی۔
 وسیع: (ر) مؤنث؛ کشادگی، فراخی۔
 وسعت: (ر) مؤنث؛ پھیلاؤ، فراخی۔
 وسعہ: (ر) مذکر؛ خضاب، نیل۔

وسواس: (ر) مذکر؛ برا خیال، تردد، وہم، خوف۔

و۔ ع۔ غ

وعدہ: (ع) مذکر؛ اقرار، قول وقرار۔
 ایفا کرنا: وعدہ پورا کرنا، قول پورا کرنا۔
 خلاف / شکن: وہ شخص جو اپنے وعدے کا پورا نہ ہو۔
 اقرار کا جھوٹا، قول کا جھوٹا۔
 فراموش: (ع) اقرار کو قبول جانے والا، وعدہ یاد نہ رکھنے والا۔
 وعید: مذکر؛ بیت و لعل، ٹال مٹول، جیلہ حوالہ آج کل۔

وفا: بات کا پورا، قول کا سچا، وعدہ کا سچا۔
 وعظ: (ع) مذکر؛ کچھ نثری کی جانے والی مذہبی نصیحت۔
 وعلیکم السلام / وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: (ع) سلام کا جواب، اور سلامتی ہو تم پر بھی اور اللہ کی رحمت و برکت۔
 وعید: (ع) مذکر؛ سزا دینے کی دھمکی، سزا دینے کا وعدہ، دھمکی۔
 وخوا: (ع) مؤنث؛ لڑائی، جنگ۔
 وغیرہ: اور، اس کے ماسوا، اور بھی، مزید۔ اور۔

و۔ ف۔ ق

وفا: (ع) مؤنث؛ (۱) ایٹائے وعدہ، عہد کا پورا کرنا، (۲) تکمیل، تعمیل (۳) نباہ کرنا، ساتھ دینا (۴) عقیدت مندی، خیر خواہی۔
 وفات: موت، مرجانا۔
 وفاق: (ع) مذکر؛ محبت، اتفاق۔
 وفدہ: (ع) (۱) کسی کا پیغام لے کر کسی کے پاس جانے والے لوگ (۲) ایلی۔
 وفورہ: (ع) (جمع وفد کی) بڑا بہت وفد، پیغام لے جانے والے۔
 وفور: (ع) مذکر؛ کثرت، افراط، زیادتی، بہتات۔
 وقارہ: (ع) مذکر؛ (۱) بر وباری، علم (۲) قدر و منزلت جاہ و جلال۔

وضاحت: مؤنث؛ واضح کرنا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، صاف صاف سمجھانا۔

وضع: (ع) مؤنث؛ (۱) رکھنا، ترتیب کرنا (۲) بنانا، بناوٹ، ساخت (۳) طرز، روش، دستور، طور طریق، رنگ ڈھنگ، چال چلن، صورت شکل، (۴) جننا، بیسے وضع عمل (۵) مجرا، منہا، تفریق۔
 حمل: (دائیات کے ساتھ) مذکر؛ بچہ پیدا ہونا۔
 دار: (۱) خوش وضع، طرصار، خوب صورت، حسین، دل پسند (۲) پابند وضع، اپنی چال اور روش پر قائم رہنے والا۔

وضو: (ع) مذکر؛ شریعت کے مطابق نماز کے واسطے ہاتھ، منہ، پاؤں وغیرہ دھونا۔
 توڑنا: (۱) وضو، ناپاک کرنا (۲) زہد و تقوا قائم نہ رہنے دینا۔
 ٹوٹنا: (۱) وضو جاتا رہنا، طہارت قائم نہ رہنا (۲) رکنا، نیت میں فرق آنا (۳) رکنا، نیت، ایسا فعل سزا ہونا جس سے توبہ ٹوٹ جائے۔
 خطا ہونا: کسی باعث وضو ٹوٹ جانا۔

و۔ ط۔ ظ

وطن: (ع) مذکر؛ اپنا دیس، پیدائش کی جگہ۔
 مالوف: (دائیات کے ساتھ) مذکر؛ پیارا وطن۔
 وطنی: ہم وطن، ایک ملک کا، ایک جگہ کا رہنے والا ایسی۔
 وطنیت: (ع) مؤنث؛ وطن پرستی کا جذبہ۔
 وطنی: (ع) مؤنث؛ صورت سے صحبت کرنا۔
 وظائف: (ع) مذکر؛ (جمع وظیفہ کی) امداد۔
 وظیفہ: (ع) مذکر؛ (۱) ہر روز کے لیے مقرر چیز (۲) تنخواہ، روزیہ دریاہ (۳) پیش، (۴) کسی دہایا اسم متبرک کا ہر روز وقت معین پر فورہ کرنا، روز مزہ پڑھنے کی دعا، (۵) جاگیر، مدد معاش (۶) زمانہ طالب علمی کی امدادی رقم (۷) کسی بات کی رٹ (دکرا)۔

وقنار: تینا عذاب النار: (دع) اولے ہمارے رب ہم کو دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا۔

وقوع: (دع) نڈکڑ: واقع ہونا، ظاہر ہونا، صادر ہونا۔
 وقوعہ: مذکر: حادثہ، سانحہ، واردات، صدرہ، ہنگامہ، فساد۔
 وقوف: (دع) نڈکڑ: (۱) کھڑا ہونا، ٹھہرنا (۲) سلیقہ، علم، شعور، تجربہ، مشق۔

وقیع: (دع) (۱) بلند (۲) مجازاً، ذی عزت و ذی اعتبار۔

و-ک-گ

وکالت: (دع) مویش: (۱) قائم مقامی، نیابت (۲) وکیل کا پیشہ (۳) کسی دوسرے کا کام کرنا، دوسرے شخص کی طرف سے پیروی کرنا۔

وکٹ: WICKET (انگ) نڈکڑ: کرکٹ کے کھیل میں تین لکڑی کے ڈنڈے۔

وکیٹری: VICTORY (انگ) فتح، کامیابی، نصرت، فخر۔
 وکٹوریا: VICTORIA (انگ) مویش: ایک گھوڑے کی گاڑی۔ فین۔

وکٹوریہ کراس: VICTORIA CROSS (انگ) نڈکڑ: ملکہ وکٹوریہ کا جاری کردہ ایک فوجی اعزازی تمغہ۔

وکیل: (دع) نڈکڑ: ممتاز، قائم مقام، نائب، وکالت کرنے والا۔
 سرکار: اضافت کے ساتھ حکومت کی طرف سے

مقدمے کی پیروی کرنے والا، وکیل۔

وگر: (دع) نہیں تو، وگرنہ (اور جو)

وگیان: (دع) نڈکڑ: سائیس۔

و-ل-م

ولا: (دع) مویش: محبت، دوستی، اتحاد، ارتباط۔

ولادت: (دع) مویش: (۱) بچہ جنما (۲) پیدائش۔

ولایت: (دع) مویش: (۱) ایک بادشاہ کا ملک، اعلیٰ، درس،

(۲) کسی کام کی ذمہ داری، کفالت (۳) تقرب بندہ نیک کا

خدا کے ساتھ (۴) ولی ہونا، سرپرست ہونا۔

وقائع: (دع) جمع واقعہ کی نڈکڑ: حالات و واقعات، خبریں، لڑائی کے واقعات۔
 ویکار/وہنوس: (دع) نڈکڑ: اخبار نویس، نامہ نگار، مخبر۔

وقت: (دع) نڈکڑ: (۱) زمانہ، عرصہ، ہنگام (۲) موسم، فصل (۳) فرصت، مہلت، موقع، داؤں، گھات (۴) ہمد زمانہ (۵) عمر، زندگی، حیات (۶) باری، نوبت، بار۔
 دفعہ: (دع) حالت، گت، (۸) مدت، میعاد (۹) مجازاً موت کا وقت، مرگ، موت (۱۰) گھڑی، ساعت، دم، (۱۱) بُرا وقت، مصیبت (۱۲) دشواری، وقت۔

بے وقت: ہر وقت، ہمیشہ، برابر، پلے در پلے۔

پرگدھے کو باپ بناتے ہیں: (مثل) مصیبت یا ضرورت کے وقت اذنا سے ادنا کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔

پڑنا: (دع) ضرورت پیش آنا، ضرورت ہونا (۲) مصیبت پڑنا (۳) مشکل پڑنا، وقت پیش آنا۔

کے وقت: عین وقت پر، بروقت، عین ضرورت پر۔
 گزر گیا بات رہ گئی: (مثل) کام نکل گیا، شکایت رہ گئی۔

نکل جاتا ہے بات رہ جاتی ہے/وقت نہیں رہتا بات رہ جاتی ہے: (مثل) کسی کام میں رکتا، البتہ

مصیبت کے وقت جو کام نہ آئے اس کی بدسلوکی یا درہ جلتی ہے۔
 وقت کا لاگ چھتا ہوتا ہے: (مقولہ) ہر چیز اپنے موقع اور کل پر ہی ملام ہوئی

وقتاً فوقتاً: کبھی کبھی، جب موقع، اپنے اپنے موقع پر۔

وقتی: موجودہ زمانے کی، معمولی دیر کے لیے۔

وقر: (دع) نڈکڑ: بڑائی، عزت، آبرو، عظمت، قدر و منزلت۔

وقس علیٰ بندہ: (دع) اور اسی پر اور باتوں کو بھی قیاس کرو۔

وقف: (دع) مویش: (مجازاً) ساکھ، عزت، اعتبار۔

وقت: (دع) نڈکڑ: خدا کے نام پر چھوڑی چیز جس کا کوئی خاص

مالک نہ ہو (۲) رفاہ عام کی چیز جس کا استعمال ہر شخص کے لیے مباح

ہو اور جس سے ہر شخص نام نہ اٹھاسکے (۳) نہ ہیک، کسی کام میں

مصرف، مشغول (۴) حرف ساکن کے بعد حرف غیر متحرک آتے ہوتا۔

اولاد/علی الاولاد: نڈکڑ: اصطلاح فقہ، وٹھے جو

اپنی اولاد کے لیے وقف کریں اور جس میں دوسرے کو دخل نہ ہو۔

وقفہ: (دع) نڈکڑ: (۱) ٹھہراؤ (۲) معمولی سی دیر، ٹھیل، مہلت۔

ولایتی ہوا، ولایت کا رہنے والا، پردیسی، اجنبی (۲) یورپین
انگھستانی۔

بیگن : مذکر؛ سفید بیگن۔

کولڈ : (۲) مذکر؛ لڑکا، بیٹا، پسر، فرزند۔

المحرام : (۲) ذوالحرام، (۲) مذکر؛ حرامی، ناجائز بچہ۔

الزنا (۲) : (۲) ذر۔ زنا، (۲) مذکر؛ حرام زادہ۔

ولدیت : (۲) موتی، باپ کا نام، خاندان، گھرانہ، اصل
نسل۔

ولی : (۲) مذکر؛ (۱) صاحب (۲) ولی نعمت، (۳)

مما فظ، نابالغ کی ذات اور جائیداد کا نگران (۴) بزرگ

محبوب الہی، مقرب خدا۔

اللہ : مذکر؛ خدا، سیدہ، مقرب خدا، عابد، زاہد۔

عہدہ : (۲) (۱) متصرف، حاکم وقت (۲) (اصطلاحی)

جس کو بادشاہ اپنے بعد تخت نشین کرنا چاہے۔

کو ولی ہی پہچانتا ہے/ ولی ز اولیٰ می شناسد؛

(دخل) ہر قسم کے آدمی کو اسی قسم کا آدمی پہچان سکتا ہے۔

کے گھر شیطان : (دخل) نیک کے گھر میں بد، لائق

کی اولاد نالائق، اچھوں کے برے۔

نعمت : خلاف نعمت، ہر ورش کرنے والا۔

وئے / ولیکن : لیکن، مگر دائروں میں بہت کم مستعمل ہے،

ولیمہ : (۲) مذکر؛ بیاہ کی دعوت، ضیافت، دولہا کی

جانپ سے نکاح کے بعد دی جانے والی دعوت۔

ولین : (۲) (انگ) مذکر؛ ہیر و کا مخالف اداکار

رڈ رائے کی اصطلاح، بد معاش، رقیب

ویمان : (۲) مذکر؛ ہوائی رتھ، ہوائی جہاز۔

و ن ، و

و ن اش : (۲) مذکر؛ تباہی، بربادی۔

و ن تی : (۲) موتی، ماجزی، التماس، عرض۔

و ن س پی : (۲) موتی، تباہات۔

و ن ش : (۲) مذکر؛ نسل، خاندان۔

و و : (متروک) وہ۔

و و ہی : (متروک) وہی۔

و و ا ہ : (۲) مذکر؛ بیاہ، شادی۔

و و ا ہ ت : (۲) شادی شدہ۔

و و ٹ : (انگ) (۲) (۱) تجویز، رائے، اظہار

رائے (۲) حق رائے دہندگی۔

و و ٹ ر : (انگ) رائے دینے والا، ووٹ

ڈالنے والا، رائے دہندہ۔

و و ش : (۲) بے بس، مجبور۔

و و ٹ ل : اُس طرح، ویسا۔

و و ہ ی / و و ہ ی : (متروک) فوراً، اسی وقت، فی الفور۔

و - ہ - ہ

و ہ : (۱) ضمیر غائب، اشارہ بعبید، ایسا، اس قدر اتنا (۲) زاید

حسن کلام کے لیے (۳) عورتوں کا شوہر کی طرف اشارہ کرنے

کا کلمہ (۴) (کنایا) پوشیدہ بات کی طرف اشارہ۔

و ہ ابی : (۲) مذکر؛ مسلمانوں کا ایک فرقہ۔

و ہ ا ر : (۲) مذکر؛ تفریح۔

و ہ ب : (۲) عطا، بخشش، سخاوت۔

و ہ بی : (۲) سخت ہوا، عطا شدہ، دیا ہوا، خدا کی طرف سے

دیا ہوا۔

و ہ س کی : (انگ) موتی؛ ایک قسم کی شراب - WINKY

و ہ س ل : (انگ) موتی؛ بیٹی، سیٹی کی آواز۔

و ہ م : (۲) (۱) وسواس، گمان، شک، احتمال (۲)

افساد خیالات پیدا کرنے والی دماغ کی باطنی قوت۔

— کی دار و قلمان کے پاس بھی نہیں؛ (مقولہ) وہم کی

قد قلمان جیسا حکیم بھی نہیں کر سکتا، وہم کا کچھ علاج نہیں

وہمی : (۲) (۱) وہم سے مشوب بات، خیالی، تخیلی، موہوم

(۲) وسواسی، وہ شخص جس کو وہم ہو۔

وہی / وہ ہی : (۱) اُس ہی، خاص کر وہ (۲) اُسی طرح

شکل سابق۔

وہی اپنا جو اپنے کام آئے، (مثل) جس سے مطلب نکلے
وہ بچانے کے برابر ہے۔

— راگ گانا، کبھی ہوئی بات بار بار کہنا۔

وِھیل : WHALE (انگ) موٹھ؛ ایک بڑی سمندری
پھلی جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔

وہیں : (۱) اسی جگہ، اسی مقام پر (۲) اسی وقت، فوراً۔

و۔ی

و۔ی۔ پی۔ (انگ) موٹھ، ویلیو پی ایبل
VALUE PAYABLE کا مخفف، وہ مال جو قیمت دیکر ڈاکخانے میں بھرا ہو۔

ویا پیار : (۱) مندرک؛ میوپار، کاروبار، تجارت۔

ویا پاری : (۲) مندرک؛ میوپاری، تاجر۔

ویا بیج : (۳) مندرک؛ بیاج، سود۔

ویا پیام : (۴) مندرک؛ ویزٹ، دستکرت

وینین : (۵) مندرک؛ اجرت، معاوضہ، خواہ۔

ویٹرز : WAITER (انگ) مندرک؛ ہوٹل میں گاہکوں کو
کھانا کھلانے والا ملازم، ہوٹل کا ملازم، میرا۔

ویجی ٹیبیل : VEGETABLE (انگ) موٹھ؛ سبزی، تھکاری۔

ویجیٹین : (۱) وے۔ جی۔ ٹے۔ ری۔ آن : (انگ)
سبزی خور، گوشت نہ کھانے والا۔

ویڈ : مندرک؛ بید، حکیم، طبیب، ہندی طریق پر علاج
معالجہ کرنے والا۔

ویڈ : مندرک؛ ہندوں کی مقدس کتاب کا نام، ہندوؤں کی
چار مذہبی کتابیں۔

ویڈانت : (۵) مندرک، (۱) ویاس دیو جی کا بنایا ہوا شاستر
جو علم توحید سے بھرا ہوا ہے (۲) برہما کے علاوہ تمام

موجودات کو فریب محض سمجھنے کا نظریہ، ہستی کو شراہ اس سے
نجات کو نصیب العین قرار دینے کا مسلک۔

ویر : (۱) مندرک؛ بہادر۔

— تا : (۱) موٹھ؛ بہادر۔

ویراگ : مندرک؛ بیراگ، سنیاں، دنیا کا ترک کر دینا۔

ویراگی : بیراگی، سنیاں، تارک الدنیا، عابد، زاہد۔

ویران : (۱) تباہ، خراب، آجڑا ہوا، غیر آباد، جنگل، بجز
آفتادہ۔

ویرانی : موٹھ؛ آجاڑ پن، بربادی، تباہی، خرابی، پریشانی
پراگندگی، آداسی، استری۔

ویراگتنھا : (۱) موٹھ؛ زردیہ لقم میں بہادروں کے کارنامے
بیان کیے گئے ہوں۔

ویرن : (۱) مندرک؛ بیرن، پیارا، پیارا بھائی۔

ویزا : VISA (انگ) مندرک؛ (۱) وہ اجازت نامہ جو کسی غیر
ملک میں داخل ہونے کے لیے وہاں کی حکومت سے لیا

جاتا ہے، (۲) پروانہ، راہ داری کی تصدیق۔

ویسا : اسی طرح کا، اسی کی مانند۔

— کا ویسا / ویسے کا ویسا : دعویٰ (۱) جوں کا توں (۲)
ہو سبھو، بکنسہ۔

— ہی، اسی کی مانند، اسی طرح کا جوں کا توں، بکنسہ۔

ویسے ہی : ویسے ہی، بے قیمت، مفت، یوں ہی۔

ولیش : مندرک؛ سوداگری کا پیشہ کرنے والا، تجارت کرنے والا۔
فرقہ۔

ولیشیا : (۱) موٹھ؛ طوائف۔

ولیکتی : (۱) مندرک؛ شخص، فرد۔

ولیکسی نیش : VACCINATION (انگ) مندرک؛ چھک کا ٹیکہ۔
ولیکلی : WEEKLY (انگ) ہفتہ وار، ہفتہ میں ایک بار۔

ویلڈنگ : WELDING (انگ) موٹھ؛ لوہے کو جوڑنے
یا مٹا کر لگانے کا فن۔

ویلفیئر : WELFARE (انگ) مندرک؛ بھلائی، خیریت،
خیر و عافیت، فلاح، بہبودی۔

اور لومڑی بولا ہے گا گر سبھیلا اور گالی گلوچ نہیں سنے گا۔
— پانچ پڑنا: منت، سماجت کرنا۔

— پانچ پھول جانا (۱) ہاتھ پانچ سوچ جانا، چلنے پھرنے کی
— لائق نہ رہنا (۲) مضطر ہونا، حواس باختہ ہونا گھبرا جانا،
ہسکا بکا رہ جانا۔

— ہاتھ پانچ پھیلا نا: (۱) کام کا بڑھانا، کام کو طویل دینا، (۲) ترقی
— کرنا (۳) غلبہ حاصل کرنا۔

— پانچ پھینا: (۱) دیکھنا، بے فائدہ کوشش کرنا۔
— پانچ پھیندے ہونا: ہاتھ پانچوں گری نہ رہنا، مرنے کا
— وقت قریب ہونا۔

— پانچ چومنا: نہایت تعظیم و تکریم کرنا، ہاتھوں اور پانچوں
— کو روبرو دینا۔

— پانچ مارنا: (۱) ہاتھ پانچ چلانا، (۲) دیکھنا، بے وقار
— ہونا، تڑپنا (۳) جان کنی کے عالم میں ہونا (۴) جانفشانی

— کرنا، جان توڑ کر کوئی کام کرنا (۵) دیکھنا، کسی امر میں
— بہت سہی کرنا، بہت کوشش کرنا، دھڑ دھوپ کرنا۔

— پانچ کھلنا: (۱) دیکھنا، نمودار ہونا، حواں اور موٹا
— ہونا (۲) حد سے بڑھ جانا (۳) شرارت شروع کرنا۔

— پتھر تلے آنا/ ہاتھ پتھر تلے دینا: نہایت مشکل اور
— مصیبت میں پھنسا، بے بس ہونا، مجبور و ناپاچار ہونا۔

— پتھر پر نہ رکھنے دینا: دیکھنا، نہایت چالاک و شوخ
— ہونا، کسی طرح قابو میں نہ آنا۔

— پرتوٹا یا لٹا: (۱) ہاتھ بیزختم یا چھوڑے ٹھنسی کے سبب
— کام کاج چھوڑ دینا، زخم اچھانہ ہونے دینا (۲) اپنا ہاتھ
— زخمی کر لینا۔

— پسارنا: ہاتھ پھیلا نا: مانگنے کے واسطے ہاتھ پھیلا نا
— مانگنا، گدائی کرنا۔

— کپڑا دینا: (۱) کسی کو کسی کی حفاظت میں دے دینا (۲)
— کسی عورت کی شادی کر دینا۔

— پھیرنا: (۱) چمکانا، پیار کرنا، سچوں کے سر پر ہاتھ
— پھیرنا (۲) لومٹنا، ٹھکانا۔

، موتی، اردو حروف تہجی کا ایک حرف، اے
— مختصی۔ اے ہوز، حساب جمل (ایجد) میں
— پانچ عدد (۵) ہیں۔

۵۔ ا

— (۱) افسوس، حیف، دریغ۔
— پاپیل: (۱) ع، مذکر؛ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے
— قابیل نے مار ڈالا تھا۔

— باقیق: (۱) مذکر؛ غیب کی آواز دینے والا، سروش فرشتہ۔
— ہاتھ: مذکر؛ (۱) دست، پنجہ، (۲) متصلی، کت (۳)

— آدھ گر کی مقدار۔ انگلی کے سرے سے لے کر کہنی تک
— کا حصہ (۴) بس، قابو، قبضہ (۵) باعث، طفیل، وسیلہ

— (۶) حریر، جلد، چوٹ، دار، تلوار، لاشی، پاپٹے اور بانک کا۔
— (۷) داؤں (۸) قدرت، طاقت، دیکھنے کی قدرت۔

— آنا: (۱) بیستر ہونا، دستیاں ہونا، ملنا۔
— آڑ جانا: ہاتھ کے جوڑ کا اپنی جگہ سے بے جگہ ہونا۔

— آٹھا بیٹھنا: مار بیٹھنا، دست درازی کرنا۔
— آٹھا لینا: (۱) کوئی کام چھوڑ دینا، دست بردار ہونا

— کسی کی حمایت، سرپرستی سے کنارہ کرنا (۲) دست
— بردار ہونا۔

— باندھے کھڑے رہنا: کلمہ کا منتظر اور اطاعت کے
— واسطے تیار رہنا۔

— بٹا لینا: کسی کام میں شریک ہونا، مل کر کام کرنا، مدد دینا
— سہارا لگانا۔

— اونچا رہنا: دیکھنا، (۱) بلند رہنا، بول بالا رہنا (۲)
— آسودہ حال ہونا، سخی ہونا (۳) دینے کے قابل رہنا۔

— بندھ جانا: دیکھنا، مجبور ہونا کسی کام کے کرنے سے)
— بھر کا دل ہو جانا/ ہاتھ بھر کا کلیجہ ہو جانا: خوشی سے
— دل بڑھ جانا، بہت بڑھ جانا۔

— بھری زبان: دعو، زبان دراز، گستاخ۔
— پیچھے ہیں ذات نہیں بیچی: (دش) ملازم خدمت

— کاٹنا : (۱) ہاتھ قلم کرنا (۲) افسوس کرنا، چھٹانا (۳) نہایت غصے میں اپنے ہاتھ کو دانتوں میں پکڑنا۔

ہاتھ کھینچنا : مذکر؛ دیانت دار، معتبر، اعتبار والا، ساکھ والا، سچا، یمن دین والا۔

— کا میل : مذکر؛ (۱) دکھنا، بے اصل چیز، بے حقیقت چیز، ناچیز (۲) دھمکانا، روپیہ پیسہ، مال، زور۔

— کا ٹول پر رکھنا : (۱) بالکل لاعلمی ظاہر کرنا، نا آشنائی اور نا واقفیت ظاہر کرنا، کسی کام کے نہ کرنے کا عہد کرنا (۲) چٹنا، مانگنا۔

— کنگن کو آرسی کیا : (دش) جو کچھ ظاہر ہو گیا ہے اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت، جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کے دریافت کرنے کی کیا ضرورت۔

— کو ہاتھ سچا تہا ہے : (مقولہ) جس سے کچھ لیتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔

— کو ہاتھ نہیں سوچتا / ہاتھ کو ہاتھ نہیں سمجھائی دیتا : (۱) اندھیرا گھپ، بے اتہا تارکی۔

— کھجلا نا : (۱) ہاتھ میں غارش ہونا (۲) کسی کے مارنے پٹینے کی خواہش ہونا (۳) کچھ ملنے کی امید ہونا۔

— کھینچنا : (۱) باز آنا، دست بردار ہونا، ترک کر دینا، کسی کام سے ہاتھ روک لینا۔

— لگانا : (۱) چھوٹا (۲) چھیننا، دست درازی کرنا (۳) مدد کرنا، سہارا لگانا (۴) کام شروع کرنا (۵) ہاتھ مارنا، ضرب لگانا، وار کرنا (۶) بازی لگانا، شرط بنانا (۷) پیر نہیں ہٹانا،

— لگنا : (۱) چھو جانا، ہاتھ پھرنا (۲) ملنا، حاصل ہونا، ہاتھ آنا دستیاب ہونا (۳) قابو چھٹنا، بس میں آنا۔

— مارنا : (۱) جلد جلد ٹولنے کھانا (۲) غصن کرنا، مال اڑانا، کسی کامال چڑا لینا (۳) شرط لگانا (۴) رشوت لینا (۵) قبضہ کر لینا، قابض ہونا (۶) قتل کرنا، فرج کرنا (۷) اقرار کرنا، قول دینا (۸) دعوازہ کھٹھٹانا (۹) تیرنا، شناساوری کرنا۔

— ملانا : (۱) مصافحہ کرنا (۲) نیچہ کشی کرنا (۳) ہاتھ سے

— پیلے کرنا : دکھنا، غریبوں کی طرح سیاہ کرنا، اپنی گرتی سنوار دینا۔

— تنھا مٹنا : (۱) گرتے ہوئے کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ پکڑنا، (۲) ہاتھ پکڑنا، ہاتھ میں ہاتھ لینا۔

— ہاتھ ٹھٹری میں ڈالنا : خوشامد کرنا۔

— جوڑنا : (۱) منت و سماجت کرنا، خوشامد کرنا (۲) معافی مانگنا، توبہ کرنا (۳) تعظیم کرنا، سلام کرنا (۴) پناہ مانگنا،

— جھوٹا پڑنا : وار خالی بنانا، نشانے پر نہ بیٹنا۔

— جھوٹا ہو جانا : ہاتھ سن ہو کر کام کے لائق نہ رہنا۔

— چالاک : (۱) تیز دست، پھرتیلا، چالاک دست، (۲) چور آچکا، دست چالاک، ہاتھ مارنے والا۔

— دھو بیٹھا : (۱) نا اُمید ہو جانا، مایوس ہو جانا، (۲) کھو بیٹھا، چھوڑ بیٹھا، صبر کر بیٹھا۔

— دھو کر پیچھے پڑنا : (۱) سارے کام چھوڑ کر ایک کام کے سر ہو جانا (۲) درپے آزار ہونا۔

— ڈالنا : (۱) کسی چیز میں ہاتھ ڈالنا، ہاتھ داخل کرنا، (۲) دخل دینا، کام میں پڑنا، کوئی کام اپنے ذمے لینا، (۳) دست درازی کرنا، چھیڑنا، بے آبرو کرنا (۴) لڑنا،

— غارت کرنا : (۵) ہاتھ لگانا، بس کرنا (۶) کسی کام کو شروع کرنا۔

— رنگنا : (۱) ہاتھوں میں مہندی لگانا (۲) دکھنا، مال مارنا، رشوت لینا، سٹی گرم کرنا۔

— روکنا : (۱) کفایت شعاری کرنا، خرچ کم کرنا (۲) باز رہنا (۳) وار روکنا، وار بچانا۔

— سر پر رکھنا : (۱) حمایت کرنا، کسی کا مرقی بننا، مددگار ہونا، حمایتی بننا (۲) پیار کرنا (۳) کسی کے سر کی قسم کھانا، (۴) سلام کرنا، ماتھے پر ہاتھ رکھنا۔

— کے طوطے اڑنا : دکھنا، بے خبر ہونا، بدعاس ہونا۔

— صاف کرنا : (۱) مشق کرنا (۲) خط سنوارنا (۳) ہاتھ پاک کرنا، ہاتھ مارنا، قتل کرنا، ملک کرنا (۴) غارت کرنا، لڑنا، مال مارنا (۵) وار کرنا، لڑائی کرنا (۶) خرچ کرنا، اٹھانا۔

— قلم کرنا : ہاتھ کاٹنا، ہاتھ اڑانا۔

— حجیت: موثق؛ شکست و فتح، نفع و نقصان۔

— ڈالنا: بھولوں کی مالا گلے میں ڈالنا، ہار پہنانا۔

— کرنا: تھک کر، مجبور ہو کر، آخر کار۔

ہار ماننا: شکست تسلیم کرنا۔

ہار بربر: HARBOUR (انگ) منکر؛ (۱) بندرگاہ (۲) گودی۔

ہارٹ ایکٹ: HEART ATTACK (انگ) منکر؛ دل کا دورہ۔

ہارٹ فیمل ہونٹا: چانک حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے

موت واقع ہونا۔

ہارس پاور: HORSE-POWER (انگ) منکر؛ میکانیکی

طاقت کی پیمائشی اکائی۔

ہارسنگکار: (۴) منکر؛ ایک درخت اور اس کے بھولوں کا نام

ہارمونیم: HARMONIUM (انگ) منکر؛ ایک قسم کا پی کی باجا۔

ہاروت: (۲) منکر؛ جادوگر فرشتہ جو بائبل کے نبیوں میں قید ہے۔

— ماروت: دو جادوگر فرشتے جو چاہے بائبل میں قید ہیں۔

ہارون: (عبرانی) منکر؛ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی کا نام

(۲) خلیفہ بغداد ہارون رشید۔

ہارٹ: (۴) منکر؛ ہڈی، استخوان، ڈھانچا۔

ہاشم: (ع) منکر؛ آنحضرت کے پردادا کا نام۔

ہاشمی: (ع) ہاشم کی طرف نسبت رکھنے والا۔

ہاضم: (ع) ہضم کرنے والا۔

ہاضمہ: (ع) منکر؛ ہضم کرنے کی قوت۔

ہاکی: HOCKEY (انگ) منکر؛ ایک مشہور کھیل جو

اسٹک اور سخت گیند سے کھیلا جاتا ہے۔

ہال: (۴) موثق؛ (۱) حرکت، جنبش، جھٹکا، گردش،

(۲) منکر؛ گاڑی کے سپینے کے گرداگرد چڑھایا جانے والا لکڑی کا چکر۔

ہال: HALL (انگ) (۱) بڑا کمرہ (۲) بڑا دالان۔

ہالہ: (د) منکر؛ وہ دائرہ جو کبھی کسی چاند کے گرد ظاہر ہوتا ہے۔

— ڈولا: (۴) منکر؛ بھونچال، زلزلہ۔

ہالی موالی: منکر؛ (۱) طرف دار، اپنے گروہ کے لوگ گھومنے والے لوگ

ہامان: (عبرانی) منکر؛ فرعون کے وزیر کا نام۔

ہارمی: (۴) موثق؛ ہاں، اقرار۔

ہاتھ پکڑ کر زور کرنا (۳) ہمسری کرنا (۵) کشتی سے

پہلے لٹنے والے پہلوانوں کا ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔

ہاتھ ملنا: (۱) دنیا، رشک و حسد سے افسوس کرنا (۲)

افسوس کرنا، پچھتانا۔

— میں ہاتھ دینا: (۱) کسی کے سپرد کرنا (۲) کسی کو سیاہ

دینا، عورت کی شادی کر دینا (۳) میل جول رکھنے اور

ساتھ ساتھ رہنے کا کنایہ۔

ہاتھ پائی / ہاتھ پائی: موثق؛ دونوں ہاتھوں اور دونوں

پاؤں سے لڑی جانے والی لڑائی، ایک دوسرے کے

ساتھ دست درازی کرنا۔

ہاتھوں: منکر؛ (جمع ہاتھ کی) (۱) سبب باعث (۲) ہم

دست، دست بہ دست (۳) وسیلہ سے، ذریعہ سے

توسط سے۔

— ہاتھ: (۱) دست بہ دست (۲) ایک ہاتھ سے دوسرے

ہاتھ میں اور بری اور (۳) جلد، فوراً۔

ہاتھی: منکر؛ بڑے ڈیل ڈول والا شہور جانور، نیل، سیل۔

— پھیرے گاؤ گاؤ جس کا ہاتھی اس کا نام؛ (دش) جس کی

چیز جو اسی کا نام ہوتا ہے، اصل شے مالک ہی کی ہوا کرتی ہے۔

— کے دانت دکھانے کے اور میں کھانے کے اور: (دش)

دکھانے کی چیز اور ہوتی ہے اور کام میں لانے کی اور دنیا

کے لوگ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ۔

— ہزار لٹے تو بھی سو لاکھ ٹکے کا: (دش) امیر آدمی کیسا

ہی غریب کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کی قدر و قیمت

باتی رہتی ہے۔

ہاٹ: موثق؛ (د) دم، دکان، سودا بیچنے کی جگہ، بینڈ، بازار،

سودا بیچنے کی منڈی۔

ہاجرہ: موثق؛ حضرت اسمیل کی والدہ کا نام۔

ہاجی: (د) جو کرنے والا۔

ہادی: (د) رہنا، پیشوا، ہدایت کرنے والا۔

ہار، موثق؛ شکست، ہزیمت، مات (۲) ہکان، ماندگی

(۳) گلے کا ایک زلیور (۴) موتیوں اور بھولوں کی مللا۔

بھڑنا: اقرار کرنا، زبان دینا، کسی قدر دشوار کام کا وعدہ کرنا۔
 ہان: (۳) موٹ؛ (۱) نقصان، قوتا، زیاں، (۲) مصیبت
 (۳) گشت و خون، خونریزی

ہاں: (ت) موٹ؛ (ا) کلمہ تنبیہ، کلمہ ایجاب، (۲) ضروری ٹھیک
 کسی امر کے اقرار و اقبال کا کلمہ (۳) حکم کا اشارہ (۵) الجنۃ
 (۶) خبردار ہوشیار (۷) (ظنن) بے شک ضرور (۸) تاکید کے لیے
 — میں ہاں ملانا: (۱) بغیر کچھ بوجھ اقرار کر دینا، کورا نہ
 تقلید کرنا (۲) اضافہ کرنا۔

— ہاں کرنا: قبول کرنا، ماننا، اقرار کرنا، اقبال کرنا
 منظور کرنا۔

ہا پینا: جلد جلد سانس لینا، سانس اکھڑنا۔

ہانڈی: (۱) موٹ؛ (۱) دال، ترکاری پکانے کا مٹی کا برتن
 (۲) لیپ کا گلوب۔

— اُبلنا: (۱) ہانڈی کا جوش کھا کر پانی باہر نکل پڑنا (۲)
 (کنٹینا) بساط سے بڑھ کر کام ہونا۔

— پکنا: (۱) دال یا سالن پکنا، کھانا پکنا (۲) کنٹینا چپکے
 چپکے صلاح و مشورہ کرنا (۳) کسی کے خلاف سازش کرنا۔

ہانگ: (۵) موٹ؛ (۱) آواز، پکار (۲) ہلکا، چلاہٹ، شور و غل
 ہانکا: (۱) مذکر، شکاری جانوروں کے ہانکنے کا فعل۔

ہانگ پکار: موٹ؛ آدمیوں کا شور و غل، ہنگامہ۔

ہانگنا: (۱) چلانا (۲) تیز رفتار کرنا، جانوروں کا (۳) زبان
 سے بے سمجھے بوجھے کوئی بات کہنا، لہن ترائی کرنا (۴) بڑھا کے
 قیمت کہنا (۵) دستی پکھا چلانا، کمیوں دور کرنا۔

ہانگے پکارے: علانیہ، سب کے روبرو، ڈنکے کی چوٹ پر
 کھلم کھلا۔

ہا قبھاؤ: (۱) مذکر؛ ناز و انداز۔

ہاؤس فل: (۱) کسی تھیٹر یا جلسہ گاہ
 میں نشستوں کا چر ہو جانا۔

ہاؤن: (ت) مذکر؛ ایک قسم کی لوبھی اوکھلی۔

— دستہ: مذکر؛ ایک طرف اور دستہ کا نام جس میں
 دو ایس کوٹتے ہیں۔

ہاویہ: (ت) مذکر؛ دھنخ کا سب سے نیچے کا طبقہ۔
 ہاوا: (۱) موٹ؛ (۱) ہی ہی، ہنسی، ٹھٹھے کی آواز، ہنسنے کا (۲) آہ
 افسوس، حیف، ہلے، ہا، آہ، افسوس کا کلمہ۔

ہاوا کار: (۱) موٹ؛ ہلے ہلے کی آواز، ہنسنے کا (۲) آہ، ہنسنے کا
 — ہنسنے/ ہی ہی: موٹ؛ بے ہودہ ہنسی اور مذاق،
 ہنسی، ٹھٹھا۔

ہاؤ باؤ: (۱) موٹ؛ (۱) جلدی، گھبراہٹ (۲) طلب تقاضا
 (۳) کمی، توڑا۔

ہائی اسکول: HIGH SCHOOL (انگ) مذکر؛ ثانوی تعلیم کا مرکز
 — جھپ: JUMP (انگ) موٹ؛ اونچی چھلانگ۔

ہائے: موٹ؛ (۱) افسوس (۲) دکھ کی حالت کی آواز، ماتم
 (۳) آہ، فریاد۔

— ہائے پڑنا: (۱) شہ شہ ہونا، واہیلا چمنا (۲) نہایت
 تاسف اور غم ہونا، غم یا درد کے صدمہ سے بے تاب ہونا۔

ہائیس: کلر، تنبیہ و تہدید۔

ہائیڈروجن: HYDROGEN (انگ) موٹ؛ ایک
 گیس کا نام جو پانی کا اہم جز ہے۔

ہائیڈروکلورک ایسڈ: HYDROCHLORIC ACID (انگ)
 مذکر؛ ایک قسم کا تیراب۔

ہائی کورٹ: HIGH COURT (انگ) مذکر؛
 بڑی عدالت، عدالت العالیہ

۵۔ ب، پ

ہنپڑا: مذکر؛ بڑے بڑے دانتوں والا، بد شکل۔

ہنپیل: (ت) مذکر؛ ایک مشہور ٹ کا نام جو ایام جہالت میں
 بکھڑا تھا۔

ہنپیش: (ت) چھوٹے قد کا، احمق، مٹھی، باہلا، جا بھگو
 دیکھو۔ ہنپیش۔

ہنپوٹ: (ت) مذکر؛ نیچے اترا، کسی شہر میں آنا، پتی نشینی میں
 رہنا: (ت) مذکر؛ بخشش، انعام۔

— نامہ: (ت) مذکر؛ وہ کاغذ یا دستاویز جس میں عطا
 کرنے یا مرحمت فرمانے کا اقرار لکھا جائے۔

روپيا ہاتھ آنے کا شنگون (۳) تھپڑ مارنے کو جی چاہنا۔
ہتھ پھیری : موتھ؛ (۱) دست مالی، ستاس، مشوق کے بدن
پر ہاتھ پھیرنا (۲) شہدہ بازی، ہاتھ کی چالاکي، چابک
دستی۔

— کڑی / مٹھڑی : (۵) موتھ؛ مجرم کے ہاتھ میں ڈال
جانے والی زنجیر یا آہنی کڑا۔

ہتھکنڈے : (۵) مذکر؛ داؤں، بیچ، ستاریاں، چالاکي
ہاتھ کی صفائی۔

ہتھنی : موتھ؛ (۱) ہاتھی کی مادہ (۲) دکناٹا، بہت موٹی
فریہ اندام عورت۔

ہتھوں سے اکھڑ جانا : (۱) پتنگ کی ڈور کا ہاتھ سے ٹوٹ جانا
(۲) دھماکا، شغل ہو جانا، یکبارگی غصہ ہو جانا۔

ہتھیا : موسم برسات میں شدید بارش کے چند دن۔

ہتھیار / ہتیار : مذکر؛ اسلحہ، سامان جنگ، اوزار جنگ
تتوا، پتھری، پیش قبض و غیرہ۔

— بند : مذکر؛ ہتھیار لگائے ہوئے اسلحہ۔

— ڈال دینا : (۱) ہتھیار رکھ دینا (۲) دکناٹا، اپنے آپ کو
دشمن کے حوالے کر دینا، ہار ماننا، شکست تسلیم کرنا۔

ہتھیالینا : ہاتھ میں لینا، قبضہ کرنا، مال کو دبا رکھنا۔

ہتھے پر چڑھنا : ہاتھ لگنا، دائرہ چڑھنا، کسی کے قابو میں آ جانا۔
— پر سے اکھڑنا / سے اکھڑنا : دکناٹا، ابتداء میں
قابو سے باہر ہو جانا۔

۵ - ط

ہٹ : موتھ؛ ضد، اصرار، اڑ۔

— دھرم : حق ناشناس، نامنصف، بے ایمان، سخن پرور
بد معاملہ۔

ہٹا کٹا : مذکر؛ موٹا نازہ، تندرست، مضبوط، جوان۔

ہٹتال / ہٹتال : موتھ؛ تمام ڈکانوں کا بند کر دینا، بازار بند کرنا۔

ہٹنا : (۱) سر کٹنا، کھسکا، ٹٹل جانا، (۲) شکست کھانا، پسپا
ہونا (۳) لوٹنا، پھرننا (۴) مٹوئی ہونا۔

ہٹی : موتھ؛ ڈکان، ہاٹ، بازار۔

ہٹپ : موتھ؛ (۱) ہٹنے کی آواز، ٹرپ، کوئی چیز یکایک ٹہنہ
نیم ڈال لینا، (۲) بچوں کی زبان، کھانا۔

ہٹپ کر جانا : (۱) کوئی چیز کھا جانا، نکل جانا، رقم سا آنا جانا،
(۲) کسی کا مال مہضم کر جانا۔

ہٹپٹا : مذکر؛ (۱) بچوں کا کھانا (۲) دکناٹا، لقمہ، لڑا۔

ہٹپٹہ پٹپٹہ : دم، فدا یا کسی اور چیز کا جلد جلد کھانا، لقمے پر لقمے کھانا۔
ہٹپو کر لسی : HYPOCRISY (انگ) موتھ؛ ریا کاری، منافقت۔

ہٹپی : HIFFY (انگ) مذکر؛ زندگی کے مسلمات سے
گریز کرنے والا، تہذیب کے تقاضے سے بیزار۔

۵ - ت

ہتا / ہتھا : مذکر؛ (۱) دست، موٹھ، قبضہ، گرفت (۲) ہاتھ
مٹھی (۳) دائرہ بازی۔

ہتنگ : (۱) موتھ؛ پردہ دری، بے عزتی، بے عزتی۔

ہتنگٹا / ہتھکنڈا : مذکر؛ (۱) ہاتھ کا کرب، ہاتھ کی چالاکي
(۲) دکناٹا، چالاکي، عیاری، بیدی کرنے کی عادت (۳)
داؤں، بیچ، گھات۔

ہتوٹرا / ہتھوٹرا : مذکر؛ ہاروں کے ایک اوزار کا نام،
بارتول (موتھ) ہتھوٹری۔

ہتیا : (۵) موتھ؛ (۱) قتل، قتل کرنے یا مار ڈالنے کا گناہ
(۲) دکھ، عذاب۔

ہتیار : (۵) مذکر؛ فتال، خوبی، ہتیا کرنے والا،
خالم۔

ہتیلی / ہتھیلی : موتھ؛ کف، دست، ہاتھ کے پنجے کا اندرنی
حصہ۔

— پر سرسوں جمانا : دکناٹا، کوئی کام اس طرح آنا فانا کر دینا
جس سے قتل جبران ہو جائے، بے حد چالاکي رکھنا، نہایت

مشکل کام، بے حد عیاری اور پھرتی سے کر دینا۔

— میں چور پڑنا : دعو، مہندی کے رنگ میں سفید ہتھیا
رہ جانا، ہتھیلی میں سفیدی رہ جانا، اور مہندی کی سفید
رنگ لگنا، (درد و جینا)

— کھچانا / ہتھیلی کھچلانا : (۱) ہتھیلی میں کھلی ہونا (۲) دکناٹا،

ہٹیللا: مذکر؛ مندی اڑیل بات کی پچ کرنے والا موٹک؛ ہٹیل۔

ح - ۵

ہجا / ہجا: (ع) مذکر؛ حروف کا اعراب سے ظاہر کرنا۔

ہجر / ہجرال: موٹھ؛ جدائی، مفارقت۔
ہجرال نصیب: فراق زدہ، وہ شخص جس کی قسمت میں دوست سے جدا رہنا لکھا ہو۔

ہجرت: (ع) موٹھ؛ (۱) وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا (۲) پیغمبر خدا صلعم کا مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانا۔

ہجری: (ع) ہجرت نبوی سے شمار کیا جانے والا اسلامی سنہ۔
ہجرا: زنانہ، زنگنا۔

ہجو: موٹھ؛ برائی کرنا، کسی کو برا کہنا۔

ملج: (ع) موٹھ؛ (اضافہ کے ساتھ) وہ ہجو میں بظاہر تعریف ہو۔

ہجووم: (ع) مذکر؛ کبیر بھانڑ، انبوه، کثیر، مجمع ہجاؤ۔

ہججے: مذکر؛ حرف کو حرف سے اعراب کے اندر ملا کر لفظ بنانا۔

کرنا / لگانا: (۱) حرفوں کو جوڑنا، اعراب سے لفظ ادا کرنا (۲) دکھنا، ٹرک ٹرک بولنا۔

ح - ۵

ہچھر مچر: موٹھ؛ ٹال مٹول، بہانہ، پس و پیش۔

ہچکچانا: پس و پیش کرنا، کسی کام میں تاثر کرنا، شک کرنا، ڈرنا، خوف کھانا۔

ہچکولا، مذکر؛ (۱) دھچکا، دھکا، ہچکا (۲) وہ صدر جو کسی سواری کی جنبش سے ہوتا ہے۔

ہچکی: موٹھ؛ (۱) وہ ہوا جو آواز کے ساتھ گلے سے ٹرک ٹرک نکلتی ہے، (۲) نزع کے وقت کبھی کبھی سانس کے ساتھ ٹرک ٹرک آواز نکلنے کی کیفیت (۳) ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

ہچکیاں آٹانا: (۱) آواز کے ساتھ سانس کا ٹرک ٹرک کر بھلنا، (۲) ہجانا، کسی عزیز یا دوست کا یاد کرنا، (۳) دم لوٹنا، جا بھی گا وقت ہونا۔

ہچنا / ہچ جانا: (ع) نشانہ صبح نہ بیٹھنا۔

د - ۵

ہڈا / ہڈی: (ع) ہدایت، سیدھا راستہ۔

ہڈایا: (ع) ہڈی کی، نڈریں، تحفے، پیش کش۔

ہڈایت: (ع) موٹھ؛ (۱) رہنمائی، راہ دکھانا (۲) فہمائش، حکم، ارشاد۔

ہڈانا: سیدھے راستے پر آنا۔

ہڈانہ: مذکر؛ دستور العمل، قانون، وہ رسالہ یا کتاب، جس میں کسی امر کی بابت تمام طریقے لکھے ہوئے ہوں۔

ہڈا کار: (ع) مذکر؛ رہنما، ڈائریکٹر۔

ہڈت: (ع) مذکر؛ تیر یا بندوبست کا نشانہ، مطلق نشانہ۔

ہڈامت: (ع) اضافت کے تشابہ، وہ شخص جس پر ہر طرف سے لعنت لگتی ہو۔

ہڈبند: (ع) مذکر؛ مرغ سلیمان، ایک مشہور خوب صورت پرندہ کا نام جس کے سر پر تاج سا ہوتا ہے۔

ہڈبیر: مذکر؛ (۱) تحفہ، ہڈانہ، ہڈا (۲) کلام اللہ کی قیمت۔

د - ۵

ہڈا: مذکر؛ (۱) بڑی ہڈی (۲) گودے کا ہڈا۔

ہڈی: موٹھ؛ (۱) استخوان (۲) گاجر کے اندر کی سخت چیز، (۳) دکھنا، اصل، نسل۔

ہڈلنا: تپ کبھہ وغیرہ امراض مہلک میں ہڈی کا چھلنا۔

ہڈیاں ٹوڑنا: خوب بیٹنا، مار کر بھج کر کس نکال دینا۔

ہڈیوں کا مالا ہوجانا: بے مدد اعز اور ناتواں ہوجانا۔

ہڈیا: (ع) اسم اشارہ، یہ۔

ہڈیاں: (ع) مذکر؛ بڑے بے ہودہ باتیں بے معنی کلام، بخار کی شدت میں بے معنی باتیں۔

د - ۵

ہڈر: مذکر؛ (۱) دشمن بکھرنا، مہا دیود (۲) دُعا، حُدا، (۳) (۴) دم، ہڈی۔

ہڈر: (ع) ایک، ایک، ایک، فی کس۔

ہر واما، مذکر؛ (۱) چرواہا (۲) وہ شخص جو زمین کو کھیتی باڑی کے لیے تیار کرے۔

ہری (۴) مذکر؛ خدا، پریشور، سبگوان۔

ہری جن (۱) ہندوؤں کی ایک پھڑی ذات (۲) دشمن کو ملنے والا، پہلا۔

ہریالی، دم ہونٹ؛ سبز و تانہ گھاس، دُوب (۳) سبز زار۔

ہریالے؛ مذکر؛ شادی میں گائے جانے والے ایک قسم کے گیت۔

ہریاول؛ دم ہونٹ؛ ہریالی۔

ہریسہ؛ دم، مذکر؛ (۱) ایک قسم کا کھانا (۲) دکنائیتا، بہت گلا ہوا، گھلا ہوا۔

ہرنیل؛ مذکر؛ جنگلی کبوتر کے برابر ایک قسم کا ہریا پرنہ۔

ط
۵ - ر

ہڑ؛ ہونٹ؛ (۱) بلبلیہ، ایک قسم کے کیلے پھل کا نام (۲) ایک قسم کی

ہڑ سے مشابہ لمبی گھنٹی، جو گوتے کے باروں اور انار بندوں

وغیرہ میں بنا کر لگاتے ہیں (۳) دہڑ کا مخفف، استخوان۔

ہڑ بڑانا؛ مذکر؛ بوکھلانا، گھبرانا، مضطرب ہونا۔

ہڑ بڑی؛ ہونٹ؛ (۱) جلدی، گجرا ہٹ، (۲) بیقراری۔

ہڑ پ؛ ہونٹ؛ بغیر جوائے نکل جانا، ایک ہی دفعہ میں نوالہ آتا جانا۔

ہڑ پٹنا؛ (۱) ٹنگنا (۲) دکنائیتا، بین کرنا۔

ہڑ تال / ہڑ تال؛ ہونٹ؛ ایک قسم کی زندقہ ہری دعوات،

(۲) بازار بند ہو جانا۔

ہڑ جھڑا؛ مذکر؛ ایک ہڈی جو ٹٹنے والے پودے کا نام۔

ہڑو جھکا؛ دم، مذکر؛ (۱) آوارہ، مارا مارا پھرنے والا، (۲) مذکر؛ لڑکوں کا اچھلنا، کودنا۔

ہڑک؛ مذکر؛ ہونٹ؛ (۱) بولے کتے کا زہر اثر کر جانا اور

کٹے کی طرح بولنا، کاٹنے کو دھڑنا (۲) دکنائیتا، امنگ، ولولہ۔

ہڑکا؛ بچے کا کسی کی جلدائی کے علم میں بیار پڑ جانا۔

ہڑکانا؛ (۱) ترسانا، بھڑکانا، (۲) کسی کی جلدائی سے رنج دینا۔

ہڑ ہو جانا؛ (۱) دکنائیتا، غائب ہو جانا، اڑ جانا (۲) سب خرب ہو جانا۔

ہڑو بھر کے؛ (۱) پھر بھر کے، مجبور ہو کر، آخر کار (۲) بار بار، ہر دفعہ۔

ہڑ تال / ہڑ تال؛ دم، ہونٹ؛ ایک قسم کی زندقہ دعوات۔

ہڑنے پھرتے؛ آتے جاتے، چلتے پھرتے، کبھی کسی، ہر حصے اور

یا اور سے اور

ہڑتی پھرتی چھاؤ؛ ہونٹ؛ (۱) آتی جاتی چھاؤ، ملتی پھرتی چھاؤ

(۲) دکنائیتا، ایک جگہ یا ایک کے پاس نہ رہنے والی چیز، دولت۔

ہڑج / ہڑج؛ مذکر؛ (۱) شور، شہنشاہ، دھکا، گڑ بڑی،

نفتہ (۲) ظل، نقصان، خسارہ (۳) وقفہ، ٹھل، دیر۔

ہڑج خرچ؛ دم، مذکر؛ شور، بلوہ، نقصان، غل،

گڑ بڑ، بد نظمی، مانع، رکاوٹ۔

ہڑخانہ؛ مذکر؛ ہڑج کرنے کا معاوضہ، زبرد نقصان۔

ہڑجہ؛ مذکر؛ نقصان، خسارہ، تاوان۔

ہڑوا / ہڑوے؛ (۱) مذکر؛ (۲) دل، ضمیر (۳) قلب۔

ہڑوہ؛ دم، بے ہودہ، لغو، نامعقول۔

ہڑوہ گو؛ (۱) بے ہودہ گو۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہڑوہ گور؛ (۱) بے ہودہ گور۔

ہزارہ ہزار عالم، تمام مخلوقات جو اٹھارہ ہزار قسم کی ہے۔

۵-س

ہسپتال HOSPITAL (انگ) مذکر؛ شفا خانہ۔

ہستی؛ (ف) موت؛ زندگی، ہستی، وجود ہے۔

— نیست؛ ہاں نہیں۔

ہستی؛ (ف) (۱) وجود، قیام، موجودگی (۲) موجودات، مخلوقات

(۳) زندگی، دنیا کی زندگی (۴) حقیقت، اصل، بساط

(۵) جمال، تاب، طاقت (۶) دولت، ثروت (۷) دنیا (۸)

اصطلاح، خود بینی، خود پسندی، انہار، انا نیت۔

— جاوداں؛ (ف) (اضافت کے ساتھ) موت؛ ہمیشہ

کی زندگی، حیات ابدی۔

— فانی / موبہوم / دورورہ؛ (ف) (اضافت کے ساتھ)

دوران کی زندگی، چند روزہ زندگی، خیالی زندگی۔

ہسٹری؛ HISTORY (انگ) مذکر؛ تاریخ، حالات۔

— شیٹ؛ SHEET (انگ) مذکر؛ وہ کاغذ جس

میں کسی کی زندگی کے حالات کی تفصیل درج ہو۔

ہسٹیریا؛ HYSTERIA (انگ) مذکر؛ (۱) وہ مرض جس میں

شدت جنابت کے سبب اعصابی نظام میں خلل واقع ہوتا

ہے اور مریض پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں،

(۲) ایک اعصابی مرض جو عام طور سے عورتوں میں پایا جاتا ہے۔

ہنسیا / ہنسیا؛ مذکر؛ گھاس اور کھیتی وغیرہ کاٹنے کا اوزار۔

۵-ش

ہشاش؛ (ع) ہنس، ہنک، خوش، شادیں۔

— ہشاش؛ نہایت خوش، ہانغ ہانغ۔

ہشت؛ نفرت ظاہر کرنے کا لہجہ، کسی امر سے روکنے اور جبر کے کا لہجہ۔

ہشت؛ (ف) آٹھ ۸۔

— بہشت؛ (ف) مذکر؛ فاص، آٹھ بہشت۔

— پہلو؛ (ف) آٹھ گونے کا۔

— شجج؛ (ف) مذکر؛ خسرو پرویز کے آٹھ خزانے۔

ہرکنا؛ (ع) یاد کرنا، بچوں کا ماں، دایہ یا اور کسی کو جس سے

مانوس ہو، یاد کرنا، اعلان سے نکلنے کا رواج ہونا۔

ہڑواڑ؛ موت؛ خاندان کا قبرستان۔

۵-ز

ہزارہ (ف) (۱) دس سو (۲) ہر چند، کتنا ہی، بہتیرا (۳)

کثرت تعداد ظاہر کرنے کے لیے (۴) موت؛ بلبلسل،

ایک مشہور ہرند۔

— پایا؛ (ف) مذکر؛ کھنکھورا۔

— داستان؛ (ف) مذکر؛ کناٹا، بیل کی ایک قسم جو

شدد بولیاں بولتا ہے اور انتہائی خوش الحان ہوتا ہے۔

— دانہ؛ (ف) ہزار دانے کی تصحیح۔

— مہتر ہزار باہیں؛ (ش) ہر ایک شخص اپنی سمجھ کے

موافق کہتا ہے جتنے ہنراتنی باہیں۔

ہزاروں؛ (ع) ہزار کی کثرت ظاہر کرنے کے لیے۔

— باہیں سنانا / ہزاروں سنانا؛ آواز سے کھٹنا

جرا بھلا کہنا۔

ہزارہ؛ (ف) مذکر؛ (۱) ایک حسری پہاڑی قوم اور جگہ کا

نام، (۲) ایک قسم کا بڑے پھول والا گیندا، (۳) ایک

قسم کا قرار۔

ہزارہا؛ (ف) ہزار کی جمع۔ بے شمار۔

ہزاری؛ (۱) ہزار سے نسبت رکھنے والا ہزار آدمیوں کا نسر۔

— ہزاری؛ (۱) ہزاروں قسم کے آدمیوں سے ملنے والا اور

بازار میں بیٹھے والا (۲) دکانیتا، سفر، کمینہ، ناقابل اعتبار۔

— روزہ؛ (ع) مذکر؛ ماہ جب کی شایبوں تاریخ کا روزہ

منصب؛ مذکر؛ زمانہ شاہی میں ایک قسم کا عہدہ۔

— ہرج؛ (ع) موت، غرض کی ایک بھرا نام۔

ہزل؛ (ع) موت (۱) بیہودہ باتیں، مذاق، تشویر،

(۲) سفر سے پن کے مضامین والی نظم۔

ہزیمت؛ (ع) موت، شکست، ہار۔

ہزوزہ؛ (ف) اٹھارہ۔

ہفتہ عشرہ: مذکر؛ آٹھ دس روز کا زمانہ۔
 ہفتے کا ٹھنکا: دیہلو انوں کی اصطلاح، حریت کی دونوں نظموں
 میں سے اپنے ہاتھ کمال کمراس کی گردن دونوں ہاتھوں کو بڑھانا۔
 ہفت نظر: (ع) چشم بدورد۔
 ہفتوات: (ع) موت؛ بے ہودہ باتیں۔

ہ۔ ک

ہک HOOK (انگ) مذکر: (۱) آنکھ، کانٹا، تکرہ (۲) ۵۵
 خمدار کیل جو دیوار میں نصب کرتے ہیں، (۳) کوٹ اور
 شیوانی میں لگائے جانے والے آنکڑے۔
 ہسکا بکا: متحیر، گھبرایا ہوا، جو اس باختہ، متعجب۔
 ہک ڈک: موت، پس و پیش (۲) ہتھیاب، حیران کتے کے عالم میں۔
 — رہ جانا: سکتے کے عالم میں رہ جانا، حیرت میں رہ جانا۔
 لکڑا: اسی طرح، ایسا۔
 ہسکلا: مذکر؛ نکلت کرنے والا۔
 ہسکلانا: نکلت کرنا، زبان کا لڑکھڑانا، کسی لفظ کو کہتے وقت
 اس کے ہر حرف میں تکرار واقع ہونا۔

ہ۔ ل

ہل: مذکر؛ زمین جوتنے کا آہ، زمین گھومنے کا اوزار۔
 ہلا: (ع) مذکر؛ (۱) دھاوا، چڑھائی، حملہ (۲) شور و غل۔
 ہلا دیریا: (۱) جنبش دینا (۲) کنایتاً، دہلا دینا۔
 — مارنا، ہلکان کرنا، پریشان کرنا۔
 — ہلا: مذکر؛ مانوس۔
 — ہونا: مانوس ہونا۔
 ہلاس: موت؛ ناس، ہاک میں سو گئے کا پسا ہوا سوکا تباہ کو۔
 ہلاک: (۱) قتل، فنا، تباہی، ہرادی، خرابی (۲) مضمحل، مانعہ۔
 ہلاکت: (ع) موت؛ (۱) نیست ہونا، موت، مرنا (۲) کنایتاً
 محنت، مشقت، تھکاوٹ۔
 ہلا کو: (ع) مذکر؛ (۱) ایک ظالم بادشاہ کا خطاب (۲) کنایتاً،
 ظالم، جلا، سفاک۔

ہشکار: (۱) کتے کو کسی طرف بھونکنے کی ترغیب دینا (۲) کنایتاً،
 آدمی کو کسی امر کے لیے مشتعل کر کے راضی کرنا۔
 ہشیار: ہوشیار کا معنی (۱) باہوش (۲) چالاک (۳)
 عقل مند، دانش مند (۴) آٹھ، چوکس، خبردار (۵)
 لائق، قابل، مستعد (۶) بیدار، جاگتا ہوا۔

ہ۔ ض، ف

ہضم: (ع) مذکر؛ (۱) تحلیل، معدے میں غذا کا اس قابل ہونا
 کہ اس سے خون بن سکے (۲) فین، چھری، خیانت۔
 ہفت: (ع) سات (۴)
 — اختر: (ع) مذکر؛ سبع سیارہ، مہرور سات سیارے۔
 — اقلیم: (ع) موت؛ سات ولاتیں مراد ساری دنیا۔
 — الوان: (ع) مذکر؛ کنایتاً، مصلحت قسم کے لذیذ طعام۔
 — اورنگ ہون: مذکر؛ (۱) سبع سیارہ و نباتات انعش۔
 (۲) سات رنگ۔
 — پیکر: (ع) مذکر؛ سات ستارے، ساتوں آسمان۔
 — خوان: (ع) مذکر؛ (۱) کنایتاً، نہایت دشوار اور مشکل کام
 (۲) کمشن راستہ جسے رستم نے صرف سات دن میں طے کیا۔
 — طبع: (ع) مذکر؛ کنایتاً، آسمان کے ساتوں طبقے۔
 — قرأت: (ع) موت؛ قرآن کی ساتوں قراتیں۔
 — قلم: (ع) مذکر؛ ہفت دریا، مشہور سات سمندر۔
 — قلم: (ع) مذکر؛ (۱) سات مشہور خط (۲) وہ شخص جو سات
 طرح کے خط لکھتا ہو، اعلیٰ درجہ کا خوش نویس۔
 — گنج: (ع) مذکر؛ خسرو پرویز کے خزانے کا نام۔
 — منزل: (ع) موت؛ کنایتاً قرآن کی ساتوں منزلیں۔
 — ہزاری: (ع) مذکر؛ شاہانِ مہدی کے ایک بڑے ضلع کا نام۔
 ہفتاد: (ع) ستر، کثرت کے لیے۔
 ہفتاد و ملت / ہفتاد و سہ ملت: (ع) موت؛
 — اسلام کے بہتر چہرے۔
 ہفتم: (ع) ساتواں۔
 ہفتہ: (ع) مذکر؛ سات دن کا زمانہ، سات دن (۲) سچر۔

ہلال: (دع) مذکر؛ (۱) نیا چاند مہینہ کی پہلی رات کا چاند، ماہ نو۔
ہلالی: (دع) ۱۰ منسوب بہ ہلال، ہلال کی طرح کا (۲) توی نے چاندک مانند
ہلانا: (۱) حرکت دینا، جنبش دینا، چلانا (۲) ماقوس کرنا،
پرچانا، سدھانا۔

ہلالی: (دع) مذکر؛ (۱) زہر قاتل جس کا علاج نہ ہو سکے (۲) قاتل
ٹہلک (۳) (دع) کڑوا، تلخ۔

ہلبیلی: موٹھ، جلدی، گھبراہٹ، ہر ہڑی۔

ہلبھیل: موٹھ، بھاگڑ، کھلبلی، بے قراری، گھبراہٹ۔

ہلدوا: موٹھ، ایک قسم کی زندگی لکڑی، جس سے تخت
اور صندوق بناتے ہیں۔

ہلدی: موٹھ، ایک قسم کی زرد جڑ یا گڑ، زرد چوبہ۔

کی گڑھ لے کر پتیا رری بن بیٹھنا، بن جانا: دکھنا، تھوڑی
سی پونجی پر نازاں ہونا، ذرا سا جان کر کامل ہونے کا دھوا کرنا۔

لگا کے بیٹھنا: چوٹ لگنے کا بہانہ کر کے چُپ رہنا، بہانہ
کرنا، جلد ڈھونڈنا۔

لگے نہ پھسکری رنگ بھی جو کھا آئے، (شل) بغیر کچھ
مشقت یا خرچ کے خاطر خواہ کام نکل آنا۔

لہدیا: مذکر؛ (۱) ایک قسم کا زہر جلدی میں پایا جاتا ہے (۲)
یرقان ایک بیماری جس میں تمام جسم زرد پڑ جاتا ہے،

(۳) زرد، سیلا، بسنتی۔
لہڑ: مذکر؛ شور و غل، غل غباڑا، آدمیوں کی کثرت، بغیر غلغلہ۔

لہکا: مذکر؛ (۱) سبک، خفیت، نازک، لطیف، کم وزن (۲) ادھی
کم ظرف، (۳) کم قیمت گھٹیا (۴) نہایت لطیف، جلد اثر

قبول کرنے والا (۵) سبک فوج (۶) پھیکا۔
پن: مذکر؛ (۱) سبکی، خفیت، (۲) کمینگی، زلالا پن،

(۳) کم ظرفی، ادھیلا پن، چھوڑا پن۔
چھلکا: مذکر؛ (۱) نازک، لاغر، کمزور بہت ہلکا (۲)

(کھانا) آسانی اور راحت۔
پھول: پھول کی طرح ہلکا۔

جوڑا: مذکر؛ کم قیمت پوشاک۔
خون / لہو: (دع) (۱) جس کو نظر بد جلد اثر کرے (۲) دھ

شخص جو دوسرے کا خون نہ دیکھ سکے۔

ہلکارنگ: مذکر؛ پھیکا رنگ، کپڑے وغیرہ کا ہلکا رنگ، خوشبو نہ ہو۔
کرنا: (۱) بوجھ اتارنا، بوجھ کم کرنا (۲) سبک دوش کرنا (۳)

خفیت کرنا، ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا۔
گلابی جاڑا: خفیت سردی کا موسم۔

ہونا: (۱) بوجھ اتارنا، وزن کم ہونا، (۲) بے فکر ہونا،
(۳) گرانی جانی رہنا (۴) ذلیل ہونا، خفیت ہونا۔

ہلکارنا: (۱) کتے کو شکار پر دوڑانا، (۲) دکھنا (بتا) کسی کو
جنگ و فساد پر آمادہ کرنا۔

ہلکان: ہٹکا ماندہ، مضعل، پریشان۔
کرنا: (دع) تھکا دینا، پریشان کرنا۔

ہونا: (۱) تھکنا، مضعل ہونا (۲) حیران اور پریشان ہونا۔
ہلکم: موٹھ، (دع) ہل پھل، تھلک، کھلبلی۔

ہلکورا: مذکر؛ لہر، موج۔
ہلکورنا: ہلانا، جھنجھوڑنا۔

ہلکورے لینا / ہلکورے مارنا: پانی کا لہریں مارنا، ہوجڑ
ہونا، لہرانا۔

ہلکی: موٹھ؛ (۱) سبک، کم وزن، ادھی (۲) دھمی (۳)
لطیف (۴) گھٹیا، ادنا۔

بات: آسان بات، خراب بات، گھٹیا بات۔
ہلگانا: (دع) (۱) لٹکانا، آویزاں کرنا، متعلق کرنا، آگھانا (۲) کسی

کام میں اشکادینا، کسی شے میں لگا دینا۔
ہل مل جانا: (۱) گھٹل مل جانا، (۲) آپس میں مانوس ہوجانا

(۳) آدمی کا آدمی سے مانوس ہوجانا (۴) بچوں کا کسی سے
مانوس ہوجانا۔

کر رہنا: میل جول کے ساتھ رہنا۔
ہلنا: (۱) مانوس ہونا، (بچوں یا وحشی جانوروں کا) (۲) ہتھیار ہونا،

لڑنا، کانپنا، خھر خھرنا (۳) ہتھیار ہونا (۴) اپنی جگہ سے
جنبش کرنا (۵) کام کرنے کے لیے آمادہ ہونا۔

ڈلنا: (دع) حرکت کرنا۔
ہلہلا: مذکر؛ (۱) شگوفہ کوئی عجیب، انوکھی بات، فتنہ انگیز بات،

یا ہمارے مثل دوسرا نہیں ہے (خود ستانی کا فقرہ)
ہم خرما و ہم نواب : (مثل) وہ فعل جس میں لذت ہو اور
کار غیر بھی ہو۔

— درو : (د) درو کا ساتھی، درو مند، غم خوار۔
— دم : (د) رفیق، یار، دوست۔

— راز : (د) راز دار، محرم امرار، راز جاننے والا۔
— راہ : (د) رفیق، سفر میں ساتھی، ساتھ۔

— رکاب : (د) سواری کے پہرہ۔
— رنگ : (د) ایک طرح کا۔ یکساں، یک رنگ۔

— زاد : (د) جو ساتھ پیدا ہوا ہو (۲) مذکر؛ وہ جن
یا فرشتہ جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا اور ہمیشہ ساتھ
رہتا ہے (۳) وہ سایہ انسان کا جو غلی غلی سے تابع ہو کر کام لے سکتا ہے۔
— زبان : (د) ہم قول، مشتق۔

— زلف : (د) مذکر؛ ساز و موسیقی کا خاوند۔
— ساز : ہدم، ساز و گار، موافق۔

— سایہ : (د) مذکر؛ (۱) پڑوسی (۲) پاس کا مکان۔
— صنفیر : (د) (۱) وہ پرند جو ایک قسم کی بولی بولتے ہیں،
(۲) ہمارا، ہدم، ہم رنگ۔

— عصر / عہد : (د) ایک زمانے کا، ایک وقت کا۔
— عنال : (د) ہم راہ، برابر ساتھی، رفیق۔

— و س م : (د) ساتھی، رفیق، ہم راہ، ہم سفر۔
— قرآن / قول : یار، مصاحب۔

— کلامی : (د) موافق؛ یا ہم بات چیت کرنا۔
— کنار : (د) ہم آغوش، بغل گیر۔

— مذہب / مشرب : (د) ایک ہی مذہب، ہم ملت۔
— معنی : (د) وہ لفظ جو مراد ایک دوسرے کے ہوں۔
— فہرہ : (د) مقابل، حریف۔

— بخشش : (د) مصاحب، پاس، بٹھینے والا، ہم صحبت۔
— نفس : (د) رفیق، ہم کلام۔

— نوا : (د) ہم صنفیر۔
— وار : (د) برابر یکساں، موافق، ہمیشہ۔

(۲) شوق، اُمنگ (۳) بہتان، بے سرو پات،
(۴) تھر تھرا ہٹ، کپکپی۔
پہلا کر بخار چڑھنا : (۱) زور سے بخار چڑھنا، ایسا بخار جو
بیمار کو کپکپانے والا ہو (۲) لکھنؤ، پہلا کر بخار چڑھنا۔

۵ - م

— ہم : (۱) ضمیر جمع متکلم، یعنی میں، میرے ساتھ اور دوسرے
لوگ، (۲) میں کی جگہ بھی مستقل ہے (۳) اپنی ذات کے
واسطے کلمہ تعظیم۔

— بھی ہیں یا تجویں سواروں میں : اپنے آپ کو بڑوں
میں شمار کرنا۔

— خوش ہمارا خدا بھی خوش : (مقولہ) بے حد رضامندی
ظاہر کرنے کے لیے۔

— ہم : (د) (۱) نیز، بھی، بلکہ، ماسوا، اور اس کے علاوہ
(۲) آپس میں، باہم، دگر۔

— آغوشی : (د) موافق، بغل گیری، ہم کناری۔
— آواز / ہم آہنگ : (د) (۱) وہ جن کی ایک آواز
ہو، شریک یا شریک (۲) دکھنا یا متفق ہونے، رفیق، ساتھی۔

— بستری : (د) موافق؛ کسی عورت کے ساتھ سونا، چہار۔
— پایہ : ہم مرتبہ، ایک ہی درجہ رکھنے والا۔

— پتہ : (۱) برابر کی جگہ کا۔ برابر کی جگہ (۲) برابر کی مار کا
برابر قافلہ کا۔ ہم مرتبہ، ہم ذراں۔

— پیالہ و ہم نوالہ : (د) (۱) ساتھ کھانے پینے والا (۲)
(دکھنا یا) گہرا دوست۔

— رشتہ : (د) ہم ذات، یکساں، ہم مرتبہ، ہم پیشہ۔
— جولی : (۱) وہ کم سن جو ساتھ کھیلنے میں اکثر شریک
رہے، (۲) ہم عمر جو ساتھ کھیلا ہو، وہ جن کو سال ہی

دوسرے کے برابر ہو۔
— چشم : (د) برابر والا، ہم مرتبہ، برابر کی جگہ۔

— چو : مانند، مثل۔
— چو ماو گئے نیست، چو سن دگر نے نیست : (مقولہ) میرے

کانام (۲) عدد کی شکل۔ رقم۔

ہندو (د)؛ مذکر، ہندو دھرم کا ماننے والا

ہندوستان / ہندوستان (د)؛ مذکر ملک ہندوستان (انڈیا)

ہندوستانی (د)؛ (۱) ہند سے منسوب (۲) ہندوستان

کا باشندہ (۳) ہندوستانی زبان۔

ہندی (د)؛ (۱) ہند سے منسوب (۲) ہندوستان کا رہنے

والا (۳) موث؛ ہندوستان کی سکاوی زبان (۴) ہندوستان کی چیز

کی چندی (۱)؛ تفصیل سے تشریح کرنا، نکتہ چینی، چھان

بین (۲)؛ دیکھنا، فضول کام، حجت۔

ہنڈا؛ مذکر؛ (۱) بڑی ہانڈی، تھی کا بڑا بہن (۲) گیس کا بڑا لیمپ۔

ہنڈ کلیا / ہنڈ کھلیا؛ موث؛ بچوں کے کھیل کی ہانڈی۔

ہنڈول؛ مذکر؛ صبح کا ایک راگ۔

ہنڈولا؛ مذکر؛ (۱) بکر لگانے والا جھولا، میلے ٹھیلے میں لگایا ہوا

اور سے نیچے گردش کرنے والا، جھولا، پالنا، گہوارہ (۲) برسات

کا گیت جو جموں پر لگایا جاتا ہے۔

ہنڈوی / ہنڈی؛ موث؛ جگ وہ رقعہ جو ساہوکار ایک جگہ

سے دوسری جگہ رو پیا دینے کے واسطے دیتے ہیں۔

ہنڈ پینا؛ ہنڈی کا روپیا وصول ہونا۔

سکھارنا؛ ہنڈی کا روپیا دینا۔

ہنڈیا؛ موث؛ (۱) ہانڈی کی تصغیر (۲) دیکھنا یا تہکاری سالن۔

پکانا؛ (۱) سالن پکانا، تہکاری پکانا (۲) چھو پکانا۔

ہنڈر؛ (د)؛ مذکر؛ (۱) فن (۲) جوہر (۳) لیاقت۔

ہنڈر / ہنڈر؛ (د)؛ صاحب ہنڈر، باکمال، دستکار۔

ہنڈی / وری؛ (د)؛ موث؛ (۱) سلیقہ، قابلیت

(۲) دست کاری۔

ہنس؛ مذکر؛ ایک قسم کی بڑی بیل۔

ہنس بول کر بسر کرنا؛ خوش دلی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔

ہنسا؛ (۲)؛ مذکر؛ جبر و تشدد، قتل، زخمی ریزی کا ارمان۔

ہنستے ہی گھرتے ہیں؛ (د)؛ ہنسی ہنسی میں کام بن جاتے ہیں،

باتوں باتوں میں مطلب نکل آیا کرتا ہے۔

ہنس زاج؛ موث؛ (۱) ایک قسم کی گھاس جو پانی کے کنارے

ہوتی ہے (۲)؛ مذکر، ایک قسم کی آبی بیل، قاز (۳)؛ مذکر، ایک قسم

کا خوش بو دار چاول۔

ہنسل؛ موث؛ (۱) وہ بڑی جو گردن کے نیچے اور سینے کے اوپر

ہے (۲)؛ ایک قسم کا گلے میں پہننے کا زور۔

اُتر جانا؛ (۲)؛ شیر خوار بچے کے گلے کی بڑی کا اپنی جگہ

سے کھسک کر تلے اوپر چو جانا۔

ہنس مکھ؛ خندہ پیشانی، شگفتہ زب۔

ہنسا؛ (۱) خندہ کرنا، کھلکھلانا، کھلنا (۲) مذاق کرنا، دل لگی

کرنا، چھٹی خانی کرنا، کسی کو بنا نا، خندہ زنی کرنا (۳) ہنسی

اُٹرانا، فصیح کرنا۔

بولنا؛ (۱)؛ طرفت سے دل بہلانا، دل لگی کرنا، مذاق

کرنا، (۲) خوش دلی سے بات چیت کرنا۔

ہنسور؛ ظریف، خوش طبع۔

ہنس ہنس کھائے پھو ہنر کا مال؛ (د)؛ بے وقوفت کا مال

کھانے میں کچھ شکر گزاری اور احسان ملتے کی ضرورت نہیں۔

ہنسی؛ موث؛ (۱) خندہ، قہقہہ، (۲) مزاح، خوش طبعی (۳)؛

دیکھنا، کھیل، آسان کام۔

اُٹرانا؛ لازم، ذلت ہونا، معذکہ ہونا۔

ٹھٹھا؛ مذکر؛ (۱)؛ ہنسی، مذاق، دل لگی (۲)؛ ذرا سی

بات، کھیل، تہاشا، آسان کام۔

خوشی؛ (۱)؛ خوشی سے، رضا مندی سے (۲) خوش خوش

خیریت کے ساتھ، خیریت تمام۔

کھیل؛ ذرا سی بات، آسان کام۔

منسیا؛ مذکر؛ (د)؛ گھاس کاٹنے کا اوزار۔

ہنکار / ہنکار؛ موث؛ (۱)؛ (د)؛ ہل کی آواز (۲)؛ ہنسی

ہنکانا؛ (۱)؛ پاس سے فہر کرنا، احسان یا حیوان کو (۲)؛ کھد پینا

(۳)؛ کھینوں کو فہر کر دینا۔

ہنکوا / ہانکا؛ مذکر؛ مقررہ لوگوں کا شور و غل کر کے شکاری جانوروں

کو ہنکانے کے اس مقام پر لانا، یہیں شکاری تاک میں بیٹھا ہوا۔

ہنگام؛ (د)؛ مذکر؛ وقت، نصاب، موقع۔

ہنگامہ (د)؛ مذکر، (۱)؛ مجمع، بیڑ، جہاز (۲)؛ شور و غل (۳)؛ پہل۔

ہے (۵) سانسِ نفس، دم (۶) مجازاً، روح، بھوت پریت،
(۷) قبا، ہیضہ (۸) دکھائیا، یاد رتھ (۹) فنا نیست، مضم نظر
سے غائب۔

ہوا آنا: (۱) ہوا کی رسائی ہونا (۲) مجازاً، اثر ہونا۔
— اُڑ جانا / اُڑنا: کھڑ جانا، بھرم کھل جانا، ساکھ جانی رہنا۔
— باندھنا: (۱) جھوٹ موٹ، نام بیاعت قائم کرنا، جھوٹی
عزت قائم کرنا (۲) عیب جانا (۳) مرنے حاصل کرنا، زور پکڑنا (۴) غور
کرنا، ڈینگ مارنا۔
— بتانا: (۱) دکھائنا، مثال دینا۔

— بدلنا: (۱) ہوا کا رخ بدلنا (۲) زمانہ کا رخ بدلنا، حالت بدلنا، ڈھنگ
بدلنا، (۳) زمانہ کا موافق یا ناموافق ہونا (۴) رت پھرنے، موسم پلٹنا۔
— بگڑنا: (۱) ہوا میں خرابی آ جانا، ہوا میں فساد پیدا ہونا، ہوا کا
زہر ملا ہونا (۲) زمانہ کا ناموافق ہو جانا، زمانہ پھر جانا،
(۳) ساکھ جانی رہنا۔

— بھر جانا: (۱) ہوا سے پھول جانا، کسی چیز میں ہوا کا سنا
جانا (۲) مغرور ہو جانا، اتر جانا (۳) موٹا ہو جانا، پھینس
ہو جانا (۴) دھن سا جانا۔

— کھی نہ دینا: ذرا بھی نہ دکھانا، خبر تک نہ دینا، بالکل پتہ نہ دینا۔
— پُر اُڑنا: مغرور ہونا، اترنا۔
— پُر دماغ ہونا: شک ہونا، مغرور ہونا۔

— پرست: (۱) عیاشی، بے ہودہ، ظاہر پرست، اپنے مطلب کے
پُر سوار ہونا، جلد باز ہونا، نہایت جلدی کرنا۔
— تیس گریہ لگانا: بے حد چالاکی کرنا، عیاشی دکھانا، ناممکن
کام کرنا۔

— پلٹ جانا / پلٹنا: (۱) انقلاب ہونا، رنگ و رنگ و گروں ہونا
(۲) موسم بدل جانا (۳) نصیب کا برگشت نہ ہونا۔

— چھوڑنا: گور چھوڑنا۔
— خوری: موت، آبادی سے باہر جا کر تفریح حاصل کرنا۔
— وار: مذکر، امیروں کی ایک قسم کی سواری کا نام۔

— دیکھنا: (۱) زمانے کا نشیب و فراز دیکھنا (۲)
انداز اور وضع کی جانچ کرنا۔

ہنگامہ آرا / پرواز: (۱) صفت آرا، جنگ برپا کرنے
والا، (۲) فتنہ برپا کرنے والا۔

ہنگامی: (۱) چند روز کا، خاص وقت تک کا۔
— منور: (۱) منور، دھج مندو کی،
— ہنوز: (۱) اب تک، ابھی تک، اس وقت تک۔

— دلی دُور آست: (۱) دُش، ابھی مطلب پورا ہونے
میں بہت دیر ہے۔
— روزِ اوّل ہے: (۱) دُش، ابھی تک کچھ ترقی نہیں کی ہے۔

— ہنومان: مذکر، (۱) ہندووں کا دیتا (۲) بندر۔
— ہنہنا نا: گھوڑے کا بولنا۔
— ہنہنا ہٹ: موت، گھوڑے کی آواز۔

— ہنی مون: HONEY MOON (انگ) موت، (۱) شادی
کے بعد ابتدائی دن جو دو تہا دلہن کسی نئی جگہ گزارتے ہیں
(۲) ماؤنٹن (۳) کسی مقام پر ماہِ عروس گزارنا۔

۵ - ۹

— ہنو: (۱) مذکر، غائب، (۲) —
— الشافی: خدا تعالیٰ شفا دینے والا ہے (طیب نسوئی کی
ابتدا میں لکھا کرتے ہیں)

— ہنو: (۱) خدا تعالیٰ اشارہ خدا تعالیٰ ذات مطلق کی طرف۔
— ہنو: (۱) موت، (۲) غل ہنگامہ (۳) آہ جو حالتِ شوق اور
مستی اور لولہ میں منہ سے نکلے (۴) دکھائیا، خوف، ڈر۔
— ہنو: (۱) بیعت کسی چیز سے بالکل مشابہ۔

— حق: (۱) موت، (۲) وجد، حال یا سرور کی حالت میں
نعرہ مستانہ (۳) شور و غوغا۔

— حق ہو جانا: فنا ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا۔
— کا عالم / کا مقام / کا مکان / کا میدان: مذکر، عالم

— لاہوت (۲) خوفناک اور وحشت بھری سنسان جگہ۔
— کرنا، ڈر کر چھنا، بیخ کر سجا کرنا۔

— ہوا: (۱) موت، (۲) باد (۳) آرزو، ارمان، تمنا، شوق (۴) نفس، تہا
— کا کسی طرف، آئی ہونا، ہوا کا تہا جو آسمان و زمین کے درمیان

ہوت کی جوت : ساری رونق روپے کی ہے۔
 ہوتی آنا : قدیم رسم ہونا، پہلے سے ایسی بات چلی آنا۔
 ہوٹل : HOTEL (انگ) مذکر، وہ جگہ جہاں مسافروں کے
 کھانے پینے اور رہنے کا استعمال ہو۔

ہوجانا : (۱) کام بن جانا، کام پورا ہوجانا (۲) آکر چلا جانا، مل جانا
 (۳) لڑائی ہوجانا (۴) ختم ہوجانا، تمام ہوجانا (۵) دکھنا
 انزال ہوجانا (۶) چاند کا طلوع ہونا۔

ہوڈج : مذکر، (۱) عماری (۲) اونٹن کا کجاوہ، حمل۔
 ہوڈہ : مذکر، اٹھی کی ٹیڑھ پر بیٹھنے کے واسطے رکھی جانے والی ہماری۔
 ہوس : (د) خواہش، نفس کی آرزو (۲) ادھورا اور چھوٹا
 عشق، ناقص محبت، (۳) لالچ، حرص (۴) شہوت (۵)
 حوصلہ، آئنگ، (۶) ہرچہنہ کوئی چاہنا۔

پرور / پیتھ : (د) بڑا، عرص، بڑا ہوس رکھنے والا۔
 پکانا : کسی ناقص بات کی دل ہی دل میں خواہش کرنا،
 خیال قائم پکانا۔

ناک : خواہش مند، آرزو مند۔
 ہوٹل : HOTEL (انگ) مذکر، طلبہ کے رہنے کی جگہ
 اقامت گاہ، بورڈنگ ہاوس۔

ہوش : ادیت سے خارج شخص، وحشی، کم عقل۔
 ہوش : (د) مذکر، (۱) سمجھ، عقل، واقفیت، آگاہی، (۲)
 مدح دل، جان (۳) حواس، قوت، مدد کہ جس حافظہ، یاد۔
 اڑ جانا / باختہ ہونا : عقل جاتی رہنا، گھبرا جانا۔

اڑنا : (د) ہوش لے جانے والا، ہوش اڑانے والا۔
 کا فور ہونا : ہوش جاتے رہنا۔
 گوش : مذکر، ہوشیاری۔

مند : ہوش والا، عقل مند، جھوٹا۔
 ہوشیار : (د) عقل مند، جالاک، جھوٹا۔
 ہوک : ہوش، درد پر شہ پر کر گئے (۲) اٹوٹی آواز۔

ہوکا : مذکر، (۱) کسی چیز کے کھانے کی بے انتہا حرص (۲)
 مطلق حرص، کسی چیز کی بے انتہا خواہش (۳) کھانے کی
 وہ حرص جو باریا بچے کو ہوتی ہے۔

ہونا دینا : (۱) نیکے بادام وغیرہ سے ہوا پہنچانا (۲) آگ کو ہوا
 سے شلگانا، آگ کو ٹھیکر کرنا، (۳) دکھنا، استعمال
 دلانا، فساد کرنا،

سرمیں ہونا / سما نا : دُمن ہونا، سودا ہونا۔
 سے بائیں کرنا : (۱) نہایت جلد باز ہونا، نہایت پھرتلا
 ہونا (۲) بے حد غیار اور جالاک ہونا (۳) غرور کرنا (۴)
 دکھنا، بہت ادب چاہنا۔

سے لڑنا : دکھنا، کسی کلبے کے مدد بزم اور غنہ ور
 ہونا، خواہ مخواہ کسی کے سر ہونا۔
 کا تھپیرا / کھجکتل : مذکر، ہوا کا زور کا جھونکا۔

کا جھونکا : ہوا کی زور سے جنبش، جو دفعہ محسوس ہو۔
 کا رخ بتانا : ٹالنا، چلتا کرنا، رخصت کرنا۔

کارخ و کھتا : زمانے کے موافق کام کرنا، زمانہ کی رفتار کھینا
 میں گره دینا / میں گره لگانا : نامکن اور مشکل کام
 کرنا، کار دشوار کا ارادہ کرنا، لغو حرکت کرنا۔

ہونا : (۱) تیز رفتار ہونا، کانور ہونا، ہوا کے مانند تیز
 رفتار ہونا (۲) دکھنا، فنا ہونا، نابود ہونا۔
 ہوا : مذکر، بچوں کے ڈرنے کی ایک فرضی صورت (۲)
 مہیب صوب (۳) بچوں کو ڈرانے کا کلمہ۔

ہوا و ہوس : (د) ہوش، حرص اور لالچ، عیاشی، شہوت پرستی۔
 ہوائی : (د) (۱) لغو اور بے ہودہ کلام (۲) پریشان (۳) ہوا
 شوب آسانی (۴) ایک قسم کی آتشیازی (۵) پتے امداد کے پتلے پتلے۔

اڑنا : افواہ اڑانا، جھوٹی خبر پھیلانا۔
 خبر ہوش : بازاری گپ، افواہ، بے سرو پا بات۔
 چھوٹا / ہوائیاں چھٹنا / اڑنا : دکھنا، بھاس
 ہونا، پھیرے کا رنگ اڑنا، پھیرے کا رنگ فق ہوجانا۔

دیدہ : (د) (۱) شوخ چشم بے معرفت، بیدرد (۲) دکھنا
 ڈھیٹ، گستاخ، آوارہ۔

ہوت : ہوش، (د) (۱) مقدور، پوری، فراخ بالی، خروت، حیثیت
 (۲) دم، مذکر، برابر ہونے کو پکارنے کا کلمہ۔
 حمت والا : (د) مذکر، صاحب ثروت، صاحب مقدر۔

ہوں کرنا: (۱) زبان سے ہاں کہنا، رضامندی ظاہر کرنا (۲) ٹوکنا۔
 — ہاں کرنا: (۱) جواب دینا (۲) اقرار یا انکار (۳) بچے کا پہلے پہل بولنے لگانا۔

— ہاں نہ کرنا: دم نہ ماننا، چُپ رہنا۔
 ہونا: (۱) پیش آنا، بنتا، (۲) حاصل ہونا، بہم پہنچنا، ملنا (۳) نتیجہ ظاہر ہونا، (۴) ٹھہرنا، قرار پانا، (۵) گزرتا، بیتنا، (۶) موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، (۷) پیدا ہونا، جنم لینا، (۸) ظاہر ہونا، وجود میں آنا۔

ہوٹ: مذکر، منہ کے باہر کا اوپر اور نیچے کا حصہ۔
 — چائنا: (۱) مزید چیز کھانے کے بعد ہونٹوں پر زبان پھیرنا، (۲) دکھانا، کسی مزید چیز کا ذائقہ یاد کرنا۔
 — چباننا: (۱) ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنا، (۲) بھجانا، غصہ ہونا۔

— خشک ہونا: (۱) ہونٹ سوکھنا (۲) پیاس کی شدت ہونا (۳) تدمت ہونا۔

— سی لینا: دکھانا، خاموش ہو جانا۔

— پر زبان پھیرنا: دکھانا، ذائقہ لینا۔

ہونٹس: مونث؛ دمن نظرید، ٹوک، رشک، حسد، بدخواہی۔
 ہونٹنا: (۱) نظر لگانا، ٹوکنا (۲) کسی کی خوش حالی پر حسد کرنا (۳) برائی چاہنا، جلنا۔

ہونٹکار: ہونٹکار، ہونٹ کی آواز۔

ہونٹکا: (۱) ہانپنا، سانس پھونکا، (۲) شیر کا بولنا۔

ہونٹق: احمق، بے وقوف، جاگلو، وحشی، (دیکھو: بیتق)

ہونٹہار: (۱) ہونے والا، شدتی، وہ بات جن کا ہونا ضروری ہو (۲) ہوشیار، صاحب اقبال، باایاقت، ہونے کے آثار، اپنے والا شخص۔

— بروا کے گلنے گلنے بات: (مثل) ہونٹہارے کے آثار پہلے ہی اچھے نظر آنے لگتے ہیں۔

ہونی: مونث؛ ہونتی بات، پیش آنے والی بات، شدنی۔

ہونا: مونث؛ (۱) فعل و شور (۲) سہی شٹے کی آواز۔

ہوندا: دت (ظاہر، مجال، نمودار۔

ہول: مذکر؛ موت؛ (۱) خوف، دہشت، ڈر (۲) اضطراب، گھبراہٹ۔
 — ہول: دمن؛ موت؛ گھبراہٹ، اضطراب، جلدی۔

— دل: دمن؛ موت؛ (۱) اضافت کے ساتھ ہول کی دھڑکن، اختلاج قلب، اخفقان۔

— کھانا، ڈرنا، دہشت میں رہنا، کسی اندیشے کے سبب آپ ہی آپ خوف کھانا۔

— ناک: دمن؛ دل میں خوف و ہراس پیدا کرنے والا، بھانک، ڈراونا۔
 ہولا: دمن؛ گھبراہٹ، ہول کھلایا ہوا۔

— خطا: دمن؛ بدخواہی۔

ہولا: بچنے ہوئے سبز چنے۔ ہونٹ بھنا ہوا۔

ہولڈال: HOLDALL (انگ) مذکر؛ بہتر بند۔

ہولڈر: HOLDER (انگ) مذکر؛ (۱) ایک قسم کا قلم (۲) قلم کا دستہ جو بکوپلٹ سے رہتا ہے۔

ہول سیل: WHOLE SALE (انگ) (۱) تھوک فروش، (۲) تھوک کے حسابے بڑے پیمانے پر بیچنا۔

ہولنا: (۱) ڈھکیلا، ریلنا، دھکا دینا (۲) آنکس لگانا، نیل، کا ہاتھی کو چلانا۔

ہولی: مونث؛ ہندوؤں کے ایک تہوار کا نام جس میں ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں، ایک قسم کے گیت جو ہولی کے موسم میں گاتے ہیں۔

ہولے: سچ سے، بہت مدد، آہستہ۔

ہوم / ہون: مذکر؛ آگ کی پوجا، ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم جس میں منتر پڑھتے ہوئے آگ میں گھی ڈالتے ہیں۔

ہوم ڈپارٹمنٹ: HOME DEPARTMENT (انگ) مذکر؛
 محکمہ داخلہ، امور داخلہ کا شعبہ۔

ہوم رول: HOMEROLL (انگ) سوراخ؛ حکومت خود مختار

ہوم منسٹر: HOME MINISTER (انگ) وزیر داخلہ۔

ہوم ورک: HOME WORK (انگ) مذکر؛ وہ کام جو طلبہ کو گھر پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔

ہومیوپیتھک: HOMIOPATHIS (انگ) مونث؛ اطلاع، باش، ڈاکٹر ہومی پیتھک کا ایسا ذکرہ اصول علاج۔

ہول: مونث، ہاں۔

۵ - ی

ہی : (۱) فقط، حرف، محض (۲) بالکل (۳) ضرور، لامحالہ
(۴) خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے۔
ہے : (۱) حرف ربط، فعل ناقص (۲) موجودگی (۳) دعو، فہوس
ہائے، حسرت اور افسوس، رنج ملال کا کلمہ۔

— ہے : کلمہ تاسف۔
— بنے کر کے پینٹنا، (دہلی) نو حکمر کے پینٹنا، کسی کے مرنے
کی آرزو کرنا۔
— ہے کرنا : ماتم کرنا، کسی کو مہر اہوا دیکھنا۔

رہیا : (۵) مذکر (۵) دل، جگر، ہوش حواس (۲) حوصلہ جرات
رہیا و / ہوا و : (۵) مذکر (۵) حوصلہ، ہمت، جرأت۔
ہیبت : موت، بدہشت، رعب، گھبراہٹ، جلدی۔
ہیٹ : HAT (انگ) انگریزی ٹوپی، ٹوپ۔
ہیٹا : مذکر (۵) رتبہ، گھٹیا، ناقص، موت، ہیٹ۔

ہیٹر : HEATER (انگ) مذکر (۵) گرم کرنے کا برتن، گرم کرنے کا آلہ۔
ہیجان : (۵) مذکر (۱) جوش، ابال (۲) تیزی، شدت، زور، غلبہ۔
ہیچر : مذکر (۵) نامزد، نانا، زرخا، لودا۔
ہیچرے کے گھر بیٹا ہونا، (مثل) ناممکن بات کا واقع ہونا۔
ہیچ : (۵) معدوم (۲) بھگتا، ناکارہ (۳) کوئی، کچھ۔
— آفت نہ رسد گوشہ تر تہائی را : (۵) مقولہ، جو سب
انگ رہا وہ رنج و غم سے بچ گیا۔

— مدال : (۵) (۱) ناداں، بے علم، (۲) کچھ بھی نہ جاننے والا
(۳) (اشارے کے ساتھ) باتیں کرنے والا، عاجزی سے اپنی
نسبت یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔

— و پوچ : (۵) (کنناٹیا، لغو، بے ہودہ، بقول بے وقت۔
ہیڈ فون : HEAD PHONE (انگ) مذکر (۵) آواز سننے کا آلہ
یا رسیور جو کانوں پر لگایا جاتا ہے۔

ہیپر : (۵) موت، (۱) جو ہر دست، مغز (۲) تکل کے نیچے کا مغز
(۳) راجھا کی مشوقہ کا نام (۴) کنناٹیا، صاف، شفاف
خالص۔

ہیرا : (۱) الماس، (۲) کنناٹیا، عمدہ، نفیس۔

— کھانا / ہیرے کی کٹی کھانا : خود کٹی کٹی سے ریزہ
الماس کھانا، رشک سے جان دینا۔
— من : مذکر (۵) طوطا۔

— ہیٹنگ : موت، عمدہ قسم کی ہیٹنگ۔

ہیرا پھیری : موت، (۱) دھوکا دھری، فریب، ہیر پھیر (۲) گردش،
دورہ، چکر، انقلاب، بیچ و تم (۳) راہ کا بیچ و تم (۴) خریدنا اور اپس
کرنا، کوئی چیز لینا اور اپس کرنا (۵) کئی کوتاہی (۶) آڈل بدلہ، بیچ و تم۔
ہیرو : HERO (انگ) مذکر (۵) بہادر، سہرا (۲) فلم ڈولی،
کہانی یا قصے کا مرکزی کردار۔

— ورشپ : WORSHIP (انگ) مشاہیر پرستی۔

ہیروئن : HEROINE (انگ) موت، فلم، ڈراما، ناول،
کہانی یا قصے کا مرکزی ہنر وائی کردار (اداکارہ، ایکٹریس۔
ہیرے کی پرکھ جو ہری جانے : (۵) اہل ہنر کو قدر وال
ہی پہچانتا ہے۔

ہینر : (۵) (۱) ہجر، زرخا، زبرد، لودا، ڈر لوک، ناکارہ
ہیزم : (۵) موت، جلانے کی لکڑی، سوکھی لکڑی، ایندھن۔

ہیضہ : (۵) مذکر (۱) ایک متعدی اور جہلک بیماری کا نام۔

ہیک : موت، ایک سخت قسم کی بہت خراب اور ناگوار بو۔

ہیکر : زبردست، خود سر، شیخی مارنے والا۔

ہیکری : موت، (۱) زبردستی، سرکشی (۲) شیخی، ڈینگ۔

— جتنا : دھمکی دینا۔

— سے : زبردستی سے۔

— کرنا : زبردستی کرنا، زور دیکھنا۔

ہیکل : (۵) موت، وہ بت جو کسی سیرے کے نام پر بنایا جائے

(۲) بڑا جتہ والا (۳) بت خانہ (۴) گلے میں ڈالا جانے والا

حائل یا تعویذ، (۵) صورت، شکل، نقشہ، ڈیل ڈول

(۶) روپے یا اشرفی کا پار۔

ہیلپر : HELPER (انگ) (۱) مددگار، معاون (۲) حاجت۔

ہیلتھ آفیسر : HEALTH OFFICER (انگ) جگر، حفظان صحت کا افسر۔

ہیل میل : (۵) مذکر (۵) ربط، ضبط، میل جول۔

ی کے

ے : حروف تہجی کا ایک حرف، یائے معروف (ی) یا یائے مجهول (ے)، جمل ابجد کے حساب سے (س) کے عدد دس ہیں۔

ی۔۱

یا : (۱) حرف تہجی، ی (۲) دو حروف کے جمع ہونے کو روکنے اور دونوں سے ایک کو خاص کرنے کے معنی دینے والا کلمہ (۳) روکے علاوہ سب کچھ کی۔

— اللہ : (۱) اے خدا، خدا یا (۲) دعا مانگنے کے واسطے بھی استعمال ہے (۳) حیرت اور تعجب ظاہر کرنے کا کلمہ۔

— علی / یا علی مدد : مشکل میں مدد مانگنے کا کلمہ۔

— قسمت / بخت / نصیب / مقدر : (۱) حسرت اور افسوس کا کلمہ (۲) بد قسمتی کا لفظ (۳) قسمت آزمائی۔

— کسی کو کر رہے یا کسی کا ہو رہے : (مقولہ) یا کسی کا طبع ہو جائے یا کسی کو اپنا طبع کر لے۔

— وحشت : کسی شخص کی بے مکی باتوں یا بے مکی فعل سے ظہار بنیاری۔

— بندہ : (۱) پانے والا، حاصل کرنے والا۔

— یا بو : (۱) مذکر؛ چھوٹے قد کا گھوڑا۔

— یا ترا : (۱) موت؛ سفر۔

— یا تری : (۱) مذکر؛ مسافر۔

— یا جوڑج : (۱) مذکر؛ حضرت نوح کے پوتے کا نام نیز اس کی قوم اور اولاد۔

— یا د : (۱) موت؛ (۲) قوت؛ حافظ (۳) یادداشت (۴) نام رُتبا، شیخ (۵) خیال (۶) ازبر، حفظ، لوگ زبان۔

— اللہ : (۱) موت؛ (۲) آزاد فقیروں کا سلام (۳) خدا کی عبادت کرنا، یا خدا (۴) جان پہچان، واقفیت، صاحب، سلامت۔

— یاد آیام : (۱) اضافت کے ساتھ ہوتی، گزشتہ زمانے کی حالت یاد کرنا۔

— داشت : (۱) موت؛ (۲) یاد رکھنے کا نشان، یاد، (۳) روزنامہ، کبھی ہوتی پائیس (۴) حافظ۔

— وبائی : (۱) موت؛ کسی بات کو یاد دلانا۔

— کرنا : (۱) برابر دوسرا، رُتبا (۲) خیال میں لانا، بھولی ہوئی بات کو حافظے میں لانا (۳) ازبر کرنا، حفظ کرنا (۴) بدترین کرنا (۵) بڑے کا چھوٹے کو بلا بھیجنا (۶) دکھانا کسی کی محبت، رفاقت، وفاداری یا دکھانا (۷) بھگتنا۔

— یاد دہش بخیر : (۱) کسی غائب دوست یا عزیز کا ذکر کرتے ہوئے بطور دعا کہا جانے والا کلمہ۔

— یادگار : (۱) موت؛ (۲) نشان خیر (۳) نشانی، آثار، علامت، (۴) پیرانی عمارت (۵) بھاننا، بیٹا، فرزند (۶) کسی کی یاد تازہ کرنے والی چیز۔

— زمانہ : (۱) اضافت کے ساتھ (۲) وقت، مذکر؛ زمانے میں یا درہنہ والی چیز، لاجواب، بے مثال۔

— یار : (۱) وقت، مذکر؛ (۲) مددگار، حمایتی (۳) دوست ساتھی (۴) معشوق، محبوب، (۵) زین فاحشہ اور بھلی عورت کا آشنا۔ (جمع یاروں)۔

— باش : (۱) ہر ایک سے یارانہ اور ربط و اتحاد رکھنے والا آدمی (۲) خوش طبع (۳) عیاش، تماش بین۔

— زندہ صحبت باقی : (۱) دہش (۲) اب نہیں تو پھر کبھی زندگی ہے تو پھر ملاقات ہوگی۔

— شاطر : (۱) اضافت کے ساتھ اتحاد دوست۔

— غار : (۱) اضافت کے ساتھ، مذکر؛ گہرا دوست، نیک دوست۔

— کی یاری سے کام اس کے فعلوں سے کیا کام : (۱) مقولہ، دوست کی دوستی سے غرض ہے اس کے افعال سے کیا مطلب، دوست کے ہیوں کا خیال نہ کرنا چاہیے۔

— لوگ : (۱) عیار دوست، چالاک یار، دوست آشنا (۲) ہم لوگ، یارا : (۱) مذکر؛ جرات، جبارت، قدرت۔

— یاران رفتہ / عدم : (۱) مذکر؛ مرنے، مرنے ہوئے لوگ۔

— یارانہ : (۱) مذکر؛ دوستی، آشنائی، اتحاد۔

— یاروں کا یار : (۱) مذکر؛ دو میں شریک (۲) دوستوں کا شریک حال۔

— یاری : (۱) وقت، موت؛ (۲) مدد (۳) دوستی، آشنائی، محبت، اتحاد، اخلاص۔

— یارڈ : (۱) YARD (۲) صحن، احاطہ (۳) تین فٹ کا گز۔

— رُخنی : (د) ، ایک طرف ۔
 — رنگ : (د) ، (۱) سچا دوست ، بے ریا دوست ،
 (۲) ظاہر و باطن کا یکساں انسان ۔
 — رُو : (د) ، سچا دوست ۔
 — زبان : (د) ، بات کا سچا متفق ثابت قدم ۔
 — سان : (د) ، برابر ، ایک سا ۔
 — سُر : (د) ، تمام ، بالکل ۔
 — سر ہزار سووا : (د) ، (مثل) شدید مصروفیت ، بہت
 سے کاموں میں مشغول آدمی اپنی کم فرصتی جتانے کے لیے کہتا ہے ۔
 — سُو : (د) ، ایک طرف ، ایک جانب ۔
 — سُوئی : (د) ، موٹھ ؛ قیام ، استقلال ، دل جمعی ، فرصت ۔
 — شنبہ : (د) ، منڈکڑ ؛ اتوار کا دن ۔
 — قلم : بالکل ، تمام ، یک لخت ، فوراً ۔
 — گو نہ : (د) ، کسی قدر ۔
 — لخت : (د) ، بالکل ، سارا ، سب ، فوراً ، معاً ۔
 — لقمہ صباحتی ، بہتر زمرغ و باہمی : (د) ، (ضرب مثل)
 صبح کے وقت کا تھوڑا معمولی کھانا جسے ہر قسم کی عمدہ غذا سے بہتر ہے ۔
 — شست : (د) ، ایک دفعہ ، اکٹھا ۔
 — سن علم راہہ من عقل می باید : (د) ، (مثل) ، ایک حقہ
 علم کے لیے جس حقہ عقل کی ضرورت ہے ۔
 — نہ شدہ دوشدہ : (د) ، مثل ؛ ایک بلا تو تھی ہی دوسری
 اور پیچھے پڑی ۔
 — یکا یک : (د) ، ناگہاں ، دفعتاً ، اکبارگی ۔
 — یکبارگی : (د) ، (۱) دفعتاً ، یکا یک (۲) عمل ۔
 — نکنتا : (د) ، (کھنٹا) ، (۱) خدائے تعالیٰ (۲) اکیلا ، بے نظیر ، نرالا ۔
 — یک تارا : منڈکڑ ؛ (۱) ایک تار کا ستار (۲) موٹھ ، ایک قسم کی باریکٹل
 کھنٹائی ؛ (د) ، محض ؛ اکیلا ہونا ، بے نظیر ہونا ۔
 — یکم : (د) ، موٹھ ، (۱) مہینے کی پہلی تاریخ (۲) پہلا نمبر ۔
 — یکتہ : (د) ، (۱) اکیلا تھا (۲) لاثانی ، یکتا بے نظیر (۳) دم ،
 منڈکڑ ؛ اکٹھا ، ایک سواری کا نام ۔
 — تازہ : (د) ، (۱) تہا رویت پر حملہ کرنے والا سپاہ (۲) کھلتا ،

یسیر ؛ (د) ، (۱) سہل ، آسان (۲) تھوڑا ، قلیل ، جموٹا ،
 (۳) بے مائل کا پتہ ۔
 — یشب : (د) ، منڈکڑ ؛ سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ۔
 — یعقوبیہ : (د) ، منڈکڑ ؛ ایک مشہور پیغمبر کا نام جو حضرت
 یوسف کے باپ تھے ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا ۔
 — یعنی : (د) ، (۱) مراد یہ ہے ، مطلب یہ ہے (۲) کیونکہ اس لیے کہ ۔
 — یغما : (د) ، موٹھ ؛ لوٹ ، مالِ غنیمت ۔
 — یقین : (د) ، منڈکڑ ؛ (۱) وہ اعتبار و اعتماد جو کسی کے شک ڈالنے
 سے نازل نہ ہو (۲) کامل اطمینان ، بھروسہ ۔
 — یقینی : گمان و شک سے مبرا ہے شبہ ۔

ی - ک

— یکا : (د) ، ایک ، اکیلا ۔
 — انا صد بیمار : (د) ، چیز ایک اور خواہشمند کیڑوں ۔
 — پر یک : (د) ، دفعتاً ۔
 — پیری و صد عیب : (د) ، مثل ؛ بڑھا پوسیا رول کے برابر ۔
 — تہی : (د) ، موٹھ ؛ وہ کپڑا جو ڈھرانہ ہو ، اکہرا کپڑا ۔
 — تازہ / یکہ تازہ : بے مثل ، لاجواب ۔
 — جان : (د) ، یک دل ، خوب ملا ہوا ۔
 — جان و قلوب : (د) ، گہرے دوست ، پناہ یار ۔
 — جدی : ایک دادا کی اولاد ۔
 — جہتی : (د) ، موٹھ ؛ (۱) اتحاد ، دوستی ، اتفاق (۲) ہم
 آہنگی (۳) مختلف جماعتوں کا میل ملاپ ۔
 — چشم : (د) ، (۱) کانٹا ، (۲) دکھنا ، منافق ۔
 — چشمی : (د) ، موٹھ ؛ (۱) نیک و بد کو ایک نظر سے
 دیکھنا (۲) کیڈنی تصویر ۔
 — دانہ : (د) ، منڈکڑ ؛ ایک قسم کا موتیوں کا لہروہ موتی جو
 نہایت سڈول اور موزوں ہو ۔
 — یک درگیر و محکم گیر : (د) ، (مثل) ، ایک ہی جگہ استقلال
 سے کام کرنا چاہیے ۔
 — دست : (د) ، یک سال ، برابر ۔

یونیٹ لٹی : UNLITY (انگ، موٹ)؛ فائدہ، افادیت
یو جٹا : (۴) موٹ، منصوبہ۔

یورپ : (انگ) منکر؛ ایک براعظم کا نام جو مغرب کی طرف
واقع ہے۔

یوریشس : (ترکی، موٹ)؛ (۱) حملہ، دھاوا، چڑھائی، غلبہ
(۲) فساد، ہنگامہ، بلوہ۔

یورپین : EUROPEAN (انگ) منکر؛ یورپ کا رہنے
والا، یورپی، مغربی۔

یوریشین (یورپ سے) - شی - یں :
(انگ) (۱) وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے ایک یورپ
اور ایک ایشیا کا ہے (۲) وہ انگریز جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہو۔

یوسف : (عبرانی، سریانی، منکر)؛ ایک بے مثال حسین بھیل
پیغمبر کا نام، (۲) دکن یا تاج بے انتہا حسین (۳) موٹ؛
قرآن شریف کی ایک سورت کا نام۔

یوکلپٹس : EUCALYPTUS (انگ) ایک قسم کا درخت جس
کاتیل دوا میں استعمال ہوتا ہے۔

یوگ / یوگا : (۴) منکر؛ (۱) میل ملاپ (۲) دھیان، عبادت،
ریاضت، معرفت، مراقبہ (۳) نفس پر قابو پانے کا علم، اشراق۔

یونم : (ع) منکر؛ دن، روز۔
— الحساب : دیونمل حساب (ع) منکر؛ روز قیامت،
روز حشر، یوم النشور، قیامت کا دن۔

یومافیوما : (ع) روز بروز۔
یومیہ : منکر؛ روز کی مزدوری، روزانہ خوراک، دن بھر کی اجرت،
روزمرہ کا خرچ۔

یول / یول : (۵) (۱) اس طرح، ایسا، اس طرز سے، اس ڈھنگ
سے، (۲) بے کار، فضول (۳) اشارہ کے واسطے۔

— وول : (د) اس طرح، اس طرح، کسی طرح۔
یونان : (د) یورپ کے ایک شہور ملک کا نام۔

یونانی : (۱) یونان کا رہنے والا، یونان سے نسبت رکھنے والا (۲)
موٹ؛ ملک یونان کی زبان (۳) طب یونانی۔

یونٹ : UNIT (انگ) منکر؛ ایک ٹاپ، وہ چیز جو ناپ یا

بہادر، جری۔
یکے بعد دیگرے : (د) ایک دوسرے کے بعد۔

— نقصان مایہ و دیگر شہادت ہمسایہ : (د) مثل کسی
کام میں اپنا نقصان اور مطلق غلک ملامت کے احتمال ہونے کے
موتیہ ہے۔

گی - گ، ل، م، ن

گیگ : (۴) منکر؛ وقت، دور، زمانہ، عہد۔
بجگالت، موٹ؛ اپنائیت، قربت۔

گیگانہ : (د) (۱) رشتہ دار، ایک گھرانے اور ایک کنبے کا (۲)
اکیلا، واحد فرد (۳) بے نظیر، بے مثل۔

گیل : (د) منکر؛ (۱) پہلوان، بہادر (۲) فریہ، موٹا۔
گیلڈا : (د) موٹ؛ سب سے بڑی اندھیری رات۔

گیلغار : منکر؛ دشمن کی فوج پر حملہ کرنا، حملہ، دھاوا۔
گیم : (ع) منکر؛ دیا۔

— دوت : (۴) منکر؛ موت کا فرشتہ، ملک الموت۔
گیمن : منکر؛ عرب کے ایک شہور ملک کا نام۔

گیمن : (ع) منکر؛ اقبال مندی، برکت۔
گیمین : (ع) موٹ؛ (۱) قسم، سوگند، طع (۲) منکر؛ سید ہاتھ
(۳) دائیں طرف۔

— ویسار : منکر؛ (۱) دائیں بائیں، چپ و راست (۲)
فوج کا دایاں اور بائیاں بازو۔

ینگ : YOUNG (انگ) جوان، نوجوان، نوجوہز۔

گی - و، ہ

یوتھ : YOUTH (انگ) منکر؛ (۱) نوجوان، نوجوان لڑکے
لڑکیاں (۲) نوجوانی، عفتوان، شباب۔

یوٹوپیا : UTOPIA (انگ) منکر؛ (۱) سرٹاس مور کی ایک
تصنیف جس میں ایک فرضی جزیرے کی کہانی ہے، جہاں
ایک مثالی معاشرتی نظام قائم تھا (۲) خوشگوار زندگی
کو حقیقی روپ میں دیکھنے کا تصور، مثال معاشرت، خواب خوش۔

ہماتے کا کام دے، مجموعہ، اکلن۔
یونس : (دہرائی) ایک شہورینمبر کا نام۔

یونہیں / نہیں / یونہی : (۱) اسی طرح (۲) بے سوچے
کھے، بلا قیمت، (۳) بے فائدہ، نا حق (۴)
بھٹا، محضول (۵) بلا وقت، آسانی سے، بے ارادہ
(۶) بیفر کسی تدبیر کے۔

یونسکو : UNESCO (انگ) مندرک؛ اقوام متحدہ کا
ادارہ تعلیم و سائنس و ثقافت۔

یونیفارم : UNIFORM (انگ) مندرک؛ (۱) ایک ہی قسم کا
سابلناس، وردی (۲) اسکول کے بچوں یا فوجیوں
کا مخصوص لباس۔

یونین : UNION (انگ) موٹ؛ (۱) انجمن، اتحاد،
(۲) اتحاد، اتفاق۔

یونیورسٹی : UNIVERSITY (انگ) موٹ؛ (۱)
جامعہ، مدرسہ، علوم (۲) ہائر سکڈری اسکول کے بعد
کے امتحانات پر ڈگریاں دینے والا تعلیمی ادارہ۔

یونیورسل : UNIVERSAL (انگ) کائناتی، آفاقی۔

یہ : (۱) کلہ اشارہ قریب کے واسطے، (۲) ایسا، اسی طرح
(۳) اس قدر (۴) یہ لوگ۔

— بھی میرا وہ بھی میرا : ناالغاضبی سے ہر ایک چیز پر
ہاتھ مارنا۔

— یہ جا وہ جا : فوراً بھاگ جانے والا۔

— منہ اور منہور کی وال : (دش) اسی لائق نہیں،
اس منصب اور کام کے لائق نہیں۔

یہاں : (۱) اسی جگہ، ادھر، اس طرف (۲) اسی دنیا میں
(۳) خاندان، گھر، گھرانا۔

یہودی : (د) مندرک؛ جمع یہودی کی، حضرت موسیٰ کی اُمت۔

یہودی : (د) مندرک؛ حضرت موسیٰ کی اُمت کا آدمی۔

یہی : (۱) یہ ہی کا منفق، (۲) خصوصاً یہ (۳) اسی
قسم کا، (۴) صرف۔

یہیں : (۱) اسی جگہ، اسی مقام پر (۲) اسی طرف، یہاں،
ادھر ہی، (۳) اسی دنیا میں، اسی جہان میں۔

